


# فروز اللغات اردو جامع

نیا ایڈیشن

جدید ترتیب اور اضافوں کے ساتھ

ایک لاکھ پچیس ہزار قدیم و جدید الفاظ، مرکبات، محاورات، ضرب الامثال اور علمی، ادبی، فنی اصطلاحات

اندازاً ایک ہزار الفاظ کے تفصیلی بک مارک کے ساتھ



# فیروز اللغات

اُردو جامع

نیا ڈیشن

نئی ترتیب اور جدید اضافوں کے ساتھ

اندازاً ایک ہزار الفاظ کے تفصیلی بک مارک کے ساتھ

مرتبہ  
الحاج مولوی فیروز الدین رحمہ اللہ

فہرست کنندہ  
فیض احمد اکرمی بھٹکلی ندوی

فیروز سنٹر

لاہور۔ راولپنڈی۔ کراچی

## کتب خانہ

طلبہ علماء اور دانشوران کو جن کتابوں سے رجوع کی عموماً ضرورت پیش آتی ہے، ان میں کتب لغت، ڈکشنریاں، اشارئے اور انسائیکلو پیڈیا کی طرز کی کتابیں سرفہرست ہیں، ان میں بہت ساری انٹرنٹ پر پی ڈی ایف کی شکل میں دستیاب ہے۔ چونکہ کمپیوٹر اور انٹرنٹ کا ایک اہم مقصد مطلوبہ مواد کی تلاش اور بحث میں وقت کی بچت ہے اور اسکین کی ہوئی کتابوں سے تفصیلی بک مارک سے خالی ہونے کی وجہ سے ان کتابوں سے مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، لہذا ہٹکلکس ڈاٹ کام نے اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اردو مراجع خصوصاً مذکورہ بالا موضوعات پر اسکین شدہ کتابوں کے تفصیلی بک مارک یا فہرست سازی کا پروجیکٹ ﴿یادگار محی الدین منیری﴾ کے اشتراک سے شروع کیا ہے اور اس سلسلے کی کئی ایک اہم کتابیں ہٹکلکس کے کتب خانے میں شائع ہو چکی ہیں۔

فی الوقت ہم نے یہ کام دستیاب کتابوں سے شروع کیا ہے، ہمیں احساس ہے کہ ان میں سے بعض کتابوں کی اسکیننگ فنی لحاظ سے معیاری نہیں ہے اور ان کا سائز بھی غیر مناسب ہے۔ توفیق یزدی ساتھ رہی تو ان شاء اللہ آئندہ انہیں زیادہ معیاری انداز میں پیش کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔


احباب سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں اپنی آراء اور مشوروں سے نوازیں اور جن کتابوں کے بک مارک کی ضرورت محسوس ہوتی ہو ان سے آگاہ فرماتے رہیں۔ شکر یہ

عبدالمتین منیری۔ بھٹکل

ammuniri@gmail.com

Whatsapp: 00919008175269

اردو آڈیو urduaudio کے نام سے ہمارا ایپ اندرونیڈ اور ایپل سٹور پر استعمال کرنے کے لئے گوگل پلے اور ایپل اسٹور پر دستیاب ہے۔ اپنے موبائل اور ٹیب پر اسے انسٹال کر کے ہمارے جملہ آڈیوز اور ویڈیوز سے مستفید ہوں



مجلد: 3 02278 969 0 978

بار اول \_\_\_\_\_ ۲۰۱۰ء

## فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ

ہیڈ آفس و شوروم: 60- شاہراہ قائد اعظم، لاہور۔

راولپنڈی آفس: 277- پشاور روڈ، راولپنڈی۔

کراچی آفس: فرسٹ فلور، مہران ہائٹس، مین کلشن روڈ، کراچی۔

Moulvi Feroz ud Din (Late)

مولوی فیروز الدین مرحوم

Feroz ul Lughat Jamay

فیروز اللغات اردو جامع

© 2010 جملہ حقوق فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ محفوظ ہیں۔

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل کرنے یا کسی بھی طریقے سے محفوظ کرنے،  
فوٹو کاپی کرنے یا ترسیل کرنے کی اجازت نہیں۔

مطبوعہ فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور۔ باہتمام ظہیر سلام پرنٹرز و پبلشر

Printed by Ferozsons (Pvt.) Ltd. Lahore. Pakistan

email:support@ferozsons.com.pk

www.ferozsons.com.pk

## پیش لفظ

- فیروز اللغات اردو جامع کے اس نئے ایڈیشن میں تقریباً پچیس ہزار جدید الفاظ اور اصطلاحات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جس کے باعث مناسبت بھی بڑھ گئی ہے۔ لغت کی نظر ثانی میں اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ قدیم و جدید تمام مروجہ الفاظ آجائیں۔ اس کی ترتیب و تدوین میں مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھا گیا ہے نہ
- حتی الامکان اردو زبان کے تمام متداول الفاظ، محاورات، ضرب الامثال اور جدید علمی، ادبی، سائنسی اور تکنیکی اصطلاحات درج کر دی گئی ہیں۔
  - صرف وہ متروک الفاظ و محاورات شامل کیے گئے ہیں جن کا اگرچہ چلن نہیں، مگر قدیم کتابوں میں پائے جاتے ہیں انہیں "ق" کی علامت سے واضح کیا گیا ہے۔
  - انگریزی اور دوسری غیر ملکی زبانوں کے وہ الفاظ بھی درج کر دیے گئے ہیں جو اردو ادب میں رواج پائے ہیں۔ اس بارے میں دفتری اصطلاحات اور سائنسی، فنی اور تکنیکی الفاظ کی جو فہرستیں مرتب ہو چکی ہیں ان سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ نیز اس ادارے نے اپنے طور پر بہت سی آسان اصطلاحات ہتیا کی ہیں۔
  - کتابت کے اعتبار سے الفاظ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بنیادی لفظ، دوسرے ضمنی۔ بنیادی لفظ جس کے مکملے نہ ہو سکیں یا جس کے اجزا باہمی نہ ہوں جیسے مادہ، سادہ وغیرہ۔ ضمنی الفاظ درہل مرکبات ہیں۔ جیسے مادہ پیمانہ اور سادہ لوح وغیرہ۔ ہر بنیادی لفظ کو حاشیے سے ملا کر لکھا گیا ہے اور ضمنی الفاظ کو بنیادی لفظ کے تحت حاشیہ چھوڑ کر لکھا گیا ہے۔ البتہ مشتقات کو بنیادی الفاظ کے تحت نہیں لکھا گیا، بلکہ انہیں بنیادی الفاظ قرار دیا گیا ہے۔
  - ہر بنیادی لفظ کے ارکان کو توہین میں اعراب کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے تاکہ صحیح تلفظ ادا ہو سکے۔
  - ہر لفظ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کس زبان سے اردو میں آیا ہے۔
  - اسماء کی تذکیر و تانیث کی وضاحت ( مذ و مثن ) سے کر دی گئی ہے۔ جس الفاظ کی تذکیر و تانیث میں اختلاف ہے ان کے ساتھ ( مذ و مثن ) لکھ دیا گیا ہے۔
  - ہر لفظ کی صرفی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اسم، ضمیر اور صفت وغیرہ کی علامتیں درج کر دی گئی ہیں۔
  - امر کو مرکبات کی بنیاد قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ اکثر مرکبات میں امر کا مفہوم باقی نہیں رہتا جیسے جا۔ پھینچا۔ اٹھ بیٹھ کر وغیرہ میں۔ اس قسم کے مرکبات کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔
  - جو الفاظ اردو زبان میں، اپنی آزاد حیثیت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی کسی شہر یا شخصیت کا نام، لقب یا تخلص بھی ہیں۔ ان کی

وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ لیکن کسی ایسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو بقید حیات ہے۔

○ انگریزی الفاظ اردو کے علاوہ انگریزی حروف میں بھی لکھ دیے گئے ہیں اور اردو میں ان کا وہی تلفظ دیا گیا ہے جس طرح وہ رائج ہیں۔

○ قدیم و کئی اردو کے الفاظ و محاورات مدت سے متروک ہو کر غیر مانوس ہو چکے ہیں جن کے باعث اردو لغت میں انہیں جگہ نہیں مل سکی لیکن چونکہ اب بہت سے کئی مخطوطات شائع ہو گئے ہیں، لہذا ایک تجربہ کار ماہر سے الفاظ مدون کرا کے لغت میں شامل کیے گئے ہیں۔

○ عربی اسماء کی جمع کو اور فارسی میں ان کی جمع جو اردو میں مستعمل ہیں انہیں مفرد الفاظ کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔

○ اشتیاق کے معنی اور مفہوم جدید تحقیقات کے مطابق درج کیے گئے ہیں۔

○ الفاظ و محاورات کے معانی لکھنے میں زبان کی صحت و پاکیزگی کا خاص رکھا گیا ہے۔

○ کسی ایسے محاورے یا ضرب الامثال کو درج نہیں کیا گیا جو سماج کے کسی فرقے یا طبقے کے احترام کے منافی ہو یا جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

○ بھ، پھ، تھ، ٹھ وغیرہ ہندی حروف ہیں۔ سب سے پہلے فیروز اللغات میں ہی ان ہندی الفاظ کو ہائے ہوز سے الگ کیا گیا تھا اب یہ الفاظ آپ کو الگ ہندی حروف کے تحت مل سکیں گے۔

○ نون کی تینوں قسموں میں علامات کے ذریعے ان کے نون کو واضح کیا گیا ہے۔ نون ساکن کے علاوہ نون کی دو قسمیں ہیں جن میں نون کا اعلان نہیں کیا جاتا اور وزن میں شمار نہیں ہوتا اسے (ن) کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ الا یہ کہ وہ لفظ کے آخر میں ہو جس میں نقطہ نہیں ہوتا مثلاً ہنسی، اندھیرا وغیرہ۔ جس نون کا اعلان نہ ہو لیکن وزن میں شمار ہوتا ہو اسے (ن) سے ظاہر کیا گیا ہے جیسے رنگ، جنگ وغیرہ۔

○ اگرچہ تصعیص و درستی پر خاص توجہ دی گئی ہے لیکن پھر بھی اَلْاِنْسَانُ مُرْكَبٌ عَنِ الْخَطَايَا وَالْاِنْسَانُ كَالْحَدِيدِ وَالْحَدِيدُ يَنْجَسُ بِالْحَدِيدِ کے مطابق اغلاط کا رہ جانا ممکنات سے ہے۔ ہم نے آخر میں ایک صحت نامہ درج کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطی یا خامی نظر آئے تو ازراہ کرم اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصعیص ہو سکے۔

# صحت نامہ

## فیروز اللغات اردو جامع

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ		
عجب طرح کا انداز ہے	پیشتر کا انداز نہیں	۳۲	۱	۱۵۶	۶	۱	۲
دریائے جیوں کے	دریائے کے	۹۸	۱	۱۳۳	۲۳	۲	۶
قل	ملی	۹	۱	۱۶۵	۲	۲	۷
پڑتا ہے	ہوتا ہے	۱	۲	۱۶۶	۱۸	۲	۱۲
فن	من	۳	۱	۱۷۰	۲	۲	۱۵
عاشق	ممشوق	۱۱	۱	۱۷۸	۱۵	۲	۱۶
انگلیوں میں	انگلیوں پر	۳۹	۲	۱۸۳	۱۱	۲	۲۳
شکایت نہ کرنا	شکایت کرنا	۲۳	۱	۱۹۲	۱۲	۲	۲۶
جھانسا	جھان	۲۵	۲	۱۹۳	۱	۲	۲۷
قیامت تک رومیں	قیامت رومیں	۲۹	۱	۱۹۵	۱۹	۰	۰
لطف ہو	لطف	۲۷	۲	۱۹۹	۲۱	۱	۳۸
موتا آدمی	موتا	۱۳	۲۰	۲۰۹	۱۵	۱	۳۲
اجت عورت	اجت بے وقوفی	۱۹	۱	۲۱۳	۳۱	۲	۲۷
خاص کاغذات کی کتاب	خاص کاغذات	۳۲	۲	۰	۹	۱	۲۸
دروازوں پر لٹکتے	دروازوں لٹکتے	۱۰	۱	۲۱۹	۲۶	۱	۵۵
بندھی کلی	بندگی	۲۸	۱	۰	۱۷	۲	۰
سُن گن لینا	سُن گن جانا	۱۲	۱	۳۲۱	۲	۲	۶۷
بونے	بونے	۱۲	۲	۰	۹	۲	۷۷
ایک نصیبت	کے نصیبت	۱	۱	۳۳۰	۱۹	۰	۰
کھانا	کھا	۱	۱	۰	۳۶	۲	۸۱
تھننا	تھننا	۳۲	۱	۳۳۸	۱۸	۲	۱۱
جس کی کمائی	جس کا کمائی	۲۷	۱	۳۴۷	۱۷	۱	۱۶
بیت المعمور	—	۳۵	۲	۳۵۱	۳۲	۲	۱۲۶
خواہ اس میں غائدہ کم ہو	اس میں غائدہ کم ہے	۳۲	۲	۳۵۳	۱۲	۲	۱۲۹
بینگن	بینگن	۳۳	۱	۳۵۸	۱۵	۲	۱۳۷
کودن	گودن	۳۹	۲	۳۶۵	۲	۱	۱۳۸
PUBLISHER	—	۲	۲۷۲	۳۷۲	۱۷	۱	۰
مسائل کو تمثیل	مسائل تمثیل	۲۷	۲	۳۸۵	۱۶	۱	۰
اسم مجتہد	رسم ار	۱	۱	۳۰۱	۲۱	۱	۰
میدہ	مانڈی	۸	۲	۳۰۲	۲۵	۲	۰
گدال	کھال	۱	۳۱۳	۳۱۳	۲۰	۲	۱۵۱
گوز	پتی سلر گود	۲	۳۱۶	۳۱۶	۱۲	۲	۱۵۲
دزنہ	وزن	۱۷	۱	۳۲۳	۱	۲	۱۵۳

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ		
ایٹیل - ع	ایٹیل - ع	۶	۱	۲	۶	۱	۲
کرنا پڑتا ہے	کرنا پڑتا ہے	۲۳	۲	۰	۲۳	۲	۰
ہاتھ سے گئی	ہاتھ گئی	۲	۲	۷	۲	۲	۷
دوسرے نمبر پر کیا جانے	دوسرے نمبر پر کیا جانے	۱۸	۲	۱۲	۱۸	۲	۱۲
زر مکتھی	زر مکتھی	۲	۲	۱۵	۲	۲	۱۵
حکم	—	۱۵	۲	۱۶	—	—	—
بنگلی	بنگلی	۱۱	۲	۲۳	۱۱	۲	۲۳
آگ پتلا	آگ پتلا	۱۲	۲	۲۶	۱۲	۲	۲۶
آنکھوں	آنکھیں	۱	۲	۲۷	۱	۲	۲۷
ہوجاتی ہیں	ہوجاتی ہے	۱۹	۰	۰	۱۹	۰	۰
اغماض برتنا	اغماض	۲۱	۱	۳۸	۲۱	۱	۳۸
شوخی دیدہ	شوخی دیدہ	۱۵	۱	۳۲	۱۵	۱	۳۲
جانے پر کہتے	جانے کو کہتے	۳۱	۲	۲۷	۳۱	۲	۲۷
دوڑ دھوپ	دوڑ دھوپ	۹	۱	۲۸	۹	۱	۲۸
زر خیز زمین	زر خیز	۲۶	۱	۵۵	۲۶	۱	۵۵
کنڈے	ٹرے	۱۷	۲	۰	۱۷	۲	۰
شوت	موت	۲	۲	۶۷	۲	۲	۶۷
کسی کی بزرگی	کسی بزرگی	۹	۲	۷۷	۹	۲	۷۷
لفظی جدت پیدا	لفظی پیدا	۱۹	۰	۰	۱۹	۰	۰
چالیس وعیشیں	چار وعیشیں	۳۶	۲	۸۱	۳۶	۲	۸۱
HONORARIUM	HONORARY	۱۸	۲	۱۱	۱۸	۲	۱۱
فصح	تصحیح	۱۷	۱	۱۶	۱۷	۱	۱۶
لپ بھر	لپ بھر	۳۲	۲	۱۲۶	۳۲	۲	۱۲۶
لائی ہیں	لائی ہے	۱۲	۲	۱۲۹	۱۲	۲	۱۲۹
افسوس ہوتا ہے دوسرے	افسوس - دوسرے	۱۵	۲	۱۳۷	۱۵	۲	۱۳۷
ایک پتپ سے لاکھ	ایک پتپ لاکھ	۲	۱	۱۳۸	۲	۱	۱۳۸
بمقتضائے	بمقتضائے	۱۷	۱	۰	۱۷	۱	۰
زندگی مختصر ہے	—	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۰
آخر مرتے	—	۲۱	۱	۰	۲۱	۱	۰
دیکھیے ایک چنا	ایک چنا	۲۵	۲	۰	۲۵	۲	۰
اہم کام کے	اہم کام کے	۲۰	۲	۱۵۱	۲۰	۲	۱۵۱
ہندستان میں پیدا ہونے والا	ہندستان میں پیدائے والا	۱۲	۲	۱۵۲	۱۲	۲	۱۵۲
(عدالتی اصطلاح) نام پر	نام پر	۱	۲	۱۵۳	۱	۲	۱۵۳

صحیح	ص غلط	صفحہ	کالم	سطر
(ف-۱-ند)	(۵-۱-ند)	۶۹۹	۲	۳۲
فدوخال	خطوخال	۷۳۱	۲	۳۳
زنگ بنانے والا	رنگنے بنانے	۷۳۲	۱	۷
گیس	بائیں	۷۳۳	۱	۳۹
سیبل۔ گومیٹاں	سیبل	۷۵۱	۱	آخری سطر
دوشاخوں والا	دوشالے والا	۷۵۳	۲	۲۵
موسیقارانہ	موسیقانہ	۷۶۰	۷	۲۶
دیر تک زندہ رہنے	دیر تک رہنے	۷۶۶	۱	۳۰
بھسی بھسی	بھسی بھسی	۷۶۱	۲	۳۱
ورزش سے	دورزش میں	۷۶۹	۲	۲
گھڑی بھری کی تو	گھڑی بھری ہو	۷۷۰	۲	۱۵
SUB	—	۷۷۲	۲	۳۸
مترکان بہتر مھول	—	۷۷۸	۲	۳۸
معاہدہ بننا	معاہدہ دینا	۸۱۹	۱	۷
شامیں نکالنا	شامیں لگانا	۸۳۲	۲	۱۳
عام راستہ	علم راستہ	۸۳۳	۱	۲۰
استعارہ	استعار	۸۳۹	۲	۱۸
نرخ نامہ	سرخ	۷	۲	۲۹
خرارج	خرج	۷	۲	۳۳
آرزو	آرز	۷	۲	۳۴
اڑھانے والا	آخری سطر اڑھانے پر	۷	۷	—
کسی اور شریک	کسی اور شریک	۸۲۰	۲	۱۴
دونوں کی طرف سے	دونوں	۸۲۱	۲	۸
اتنی چالوں	اسی	۸۲۲	۲	۱۱
کھری کھری کنسا	کھری کھری ہونا	۸۲۳	۲	۱۱
بیان کی جائیں	بیان کی جائے	۸۲۴	۱	۱۱
شخص جو جھگڑے	شخص جھگڑے	۷	۲	۳۹
بیچنے والا	بیچنے والا	۸۲۵	۲	۱۷
نااہل	نااہل	۸۲۶	۲	۱۲
سوالی	سوال	۷	۲	۲۳
جرام کے انسداد	جرام انسداد	۸۲۸	۱	۱۴
زلف کا کل	زلف کا کل	۸۷۷	۲	۲۶
غری	(عنوان)	۹۱۲	۲	۲۶
ذخیرہ کرنا	غلہ کرنا	۹۱۶	۲	۲۷
گندھے ہونے والوں	گندھے ہونے والوں	۹۲۳	۱	۱۴
جو کسی فتح کی یادگار	جو کسی کی یادگار	۷	۱	۱۷
چالی دینا	چالی دینا	۱۰۳۴	۲	۳۰

صحیح	ص غلط	صفحہ	کالم	سطر
دل لپانے والی	دل چلانے والی	۳۲۵	۱	۲۰
آگے بڑھنا	آگے بڑھنا	۳۳۰	۱	۲۹
گرد	گرد	۳۳۱	۱	۱۱
اس کے متعلق	اس کی تیز میں	۳۳۵	۲	۳۰
بجارات کو سرپوش	سرپوش	۳۶۲	۲	۲۳
بیان	ادا	۳۶۸	۲	۳۹
تولا	تولا دار	۳۷۸	۱	۱۵
ایسی باتوں سے	ایسی سے	۳۸۶	۲	۳۶.۳۵
عبارت یا نام بن جانا	عبارت بن جانا	۳۹۱	۱	۱۰
راستے پر آنا	راستے آنا	۴۲۱	۲	پہلی سطر
JOURNAL	—	۴۵۶	۲	۲۷
JOURNALIST	—	۷	۲	۳۱
(ATOM)	—	۲۵۸	۲	۶
شکلیں پڑ جانا	چرمیں پڑ جانا	۲۶۲	۱	۳۶
محفوظ رکھے	محفوظ رکھ	۲۶۲	۲	۷
ٹوٹل	ٹوٹل	۲۸۳	۲	۲۲
آبادہ ہونا	آبادہ ہو	۵۰۲	۷	۷
ضلع اٹھانے	شکل اٹھانے	۵۰۶	۲	۳۲
چاندی کا گونا ہوا	چاندی کا گونا ہوا	۵۱۵	۱	۳۵
تھکان۔ تھکا ہوا	تھکان	۵۳۲	۱	۵
بمیر کاروانی	بمیر کاروانی	۷	۲	۹
مقابلے سے	تواری سے	۵۳۷	۱	۳۷
دبا	دبنا	۵۷۷	۲	۷
خارج	خارج	۵۹۸	۱	۳
خوش طینت	خوش نصیب	۶۰۰	۲	۲۲
پھنسیوں کے چتے	پھنسیوں کا دھتے	۶۰۶	۱	۲۴
دال رنی کھاتے ٹونا	دال رنی کھاتے ٹونا	۶۰۹	۱	۳۶
پرٹے تو بھڑبھڑ جائے	بھڑبھڑ میں پرٹے	۶۳۸	۱	۳۷
تسلی	لیکی	۶۵۷	۱	۱۸
پھاڑ کی تہی	پھاڑ کی تہی	۷	۱	۱۸
دھاڑنا	دھاڑنا	۷	۱	۳۴
دھاگے پر ملنا	دھاگے پڑنا	۶۸۲	۱	۴
برتن	برتن	۷	۱	۳۵
DEMY	—	۶۸۸	۲	۲
DEAN	DEMY	۷	۷	۵
ذات	کشم	۶۸۹	۱	۲۳
عورت جو فادند کے مر جانے	عورت جو مر جانے	۶۹۶	۲	۳۷



صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۶۸۹	۲	۴	_____	پھراؤ	۱۳۱۳	۲	۲۱	صفحہ	صحیح
۱۰۹۰	۱	۲۶	کسی ذتے	کسی کے ذتے	۱۳۱۵	۲	۳۴	ذخیرہ رہنے کی	کسی کے ذتے
۱۱۰۹	۱	۳۹	_____	گڑوں کا راج (افلا تریب)	۱۳۱۷	۲	۱۱	(اضافہ)	گڑوں کا راج (افلا تریب)
۱۱۳۷	۲	_____	آخری سطر	گیلا (گی۔ لا)	۱۳۲۳	۱	۲۵	بنایا جاتا تھا	گیلا (گی۔ لا)
۱۱۴۱	۱	۳۹	جوا تھ	جوا تھیں ہو	۱۳۲۹	۱	۲۳	لوہاروں	جوا تھیں ہو
۱۱۴۳	۱	۱۹	رتوانے	بڑھانے	۱۳۳۷	۲	۱۸	میرا نہ مانے	بڑھانے
۱۱۶۵	۲	۲۳	پاؤں	پاں	۱۳۷۶	۱	۳۷	کسی ہو جاتی	پاں
۱۱۷۸	۲	۲۳	مادام الجہات	مادام الحیات	۱۴۰۴	۱	_____	نگاہ میں کھینا	مادام الحیات
۱۱۸۷	۱	۲۰	سوکے	سوکھے	_____	۲	_____	طنز اور تو میف	سوکھے
۱۲۴۴	۱	۱۶	_____	CONFIRMATION	۱۴۰۷	۲	۱۲	VITAMIN	CONFIRMATION
۱۲۶۸	۱	۸	فعل کا	فعل کی	۱۴۲۴	۱	۲۱	چلنے کا ذقت	فعل کی
۱۲۷۲	۲	۲	_____	چاہا گیا	۱۴۲۹	۱	۱۵	عطا کرنا	چاہا گیا
۱۲۷۸	۲	۱۶	_____	مصطوت	۱۴۳۸	۲	۳۰	HALL	مصطوت
۱۲۷۹	۲	۱۲	بند ہوتا ہے	بند ہو جاتا ہے	۱۴۳۹	۱	۲۴	شدت کی دھوپ	بند ہو جاتا ہے
۱۲۹۷	۲	۱۲	ہٹی	ہٹیا	۱۴۴۶	۱	۱۶	جب تک ہری فصل پک	ہٹی
۱۲۹۷	۲	۴	نیلی چھول	پیلے چھول	۱۴۴۸	۲	۱۵	شکوہ نہ چھوڑنا	پیلے چھول
۱۲۹۹	۲	۲۲	(اضافہ)	شرمنہ ہونا	۱۴۵۹	۲	۲۱۳	عورتوں	شرمنہ ہونا
۱۳۱۱	۲	۳۰	کن	ہٹا کٹا	۱۴۶۱	۲	۲۰	رہتے ہیں	ہٹا کٹا
								HEALTH	

# علامات و اشارات

اس نُذت میں الفاظ کے مآخذ اور صرفی حیثیت کی توضیح و وضاحت کے لیے حسب ذیل اشارات و علامات اختیار کی گئی ہیں :

پر	پرتگالی	ع	عربی
لاط	لاطینی	ف	فارسی
ق	قدیم	ہ	ہندی
ا	اسم	س	سنسکرت
صف	صفت	ت	ترکی
ض	ضمیر	اُ	اُردو
مصر	مصدر	پ	پنجابی
مذ	مذکر	سندھ	سندھی
مرث	مؤنث	گ	گجراتی
	دیگر اشارات، مصدر	بنگ	بنگالی
{	(مذکر و مؤنث) مآخذ	پا	پالی
{	وغیرہ کے لیے	پش	پشتو
،	وقفہ خفیف	انگ	انگریزی
-	وقفہ کامل	فر	فرانسیسی

# الف

۱۔ الف، ا، ع، ا، غ، ا، ذ، ا، ر، د، و، فارسی، عربی، پنجابی، سندھی، پشتو اور بوجی حروف تہجی کا پہلا حرف۔ ہندی میں بطور حرف علت استعمال ہوتا ہے۔ مصر کے ہیردغلیفی خط میں "ا" بیل کے سر سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ قدیم مصری زبان میں بیل کو آدا کہتے تھے۔ اس لیے پنجابی رسم تحریر کے وقت فیثقی زبان میں اس کا نام الف ہوا۔ الف کی دو قسمیں ہیں؛ ممدودہ اور مقصورہ۔ الف ممدودہ کو پینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر مد ہوتا ہے۔ جیسے آپ، آگ، آمد الف مقصورہ کو الف ممدودہ کی مانند پینچ کر نہیں پڑھتے۔ جیسے اگر، اٹل۔

علامتی اعتبار سے الف کے معنی ہیں؛ خدماتے واحد۔ حقیقت کی لکیر۔ راستی۔ راست بازی۔ مفرد، اکیلا۔ ایک۔ مجزؤ، تنگ۔ دلیر، بہادر۔ حساب، بجد میں اس کا عدد ایک ہے۔

الف کلمے کے شروع میں متحرک ہوتا ہے۔ ساکن نہیں ہوتا۔ کلمے کے وسط میں الف مندرجہ ذیل حالتوں میں ان علامات کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

- ۱۰۔ حرف نداء جیسے ناہما، خدایا۔
  - ۱۱۔ حرف نداء جیسے حسرتا، دردا۔
  - ۱۲۔ حرف فاعلی جیسے دانا، بیٹا، شنوا
  - ۱۳۔ حرف کثرت جیسے خوشا، بہت اچھا،
- أ (الف مفتوح)
- ۱۔ حرف نفی کے طور پر جیسے اٹل، اچھوت، اٹل، اٹل۔
  - ۲۔ حرف نداء جیسے اٹلی، اٹلی۔
  - ۳۔ سابقہ بمعنی کثرت جیسے اٹلی۔
  - ۴۔ حرف تفضیل کے طور پر جیسے اشرف، اکبر۔
- أ (الف مضموم)
- ۱۔ دُور کا اشارہ جیسے ادھر، اُس
  - ۲۔ سابقہ بمعنی اوپر جیسے اٹھنا، اٹھنا، اٹھنا۔
  - ۳۔ سابقہ بمعنی نیچے، دوسری طرف جیسے اٹل۔
- ا (الف کمسور)
- ۱۔ قریب کا اشارہ جیسے ادھر، اتنا۔
  - ۲۔ بدل جیسے ابنِ راصل میں "بنو" تھا،
  - ۳۔ علامت مصدر جیسے انتظار (عربی)

- ۱۔ حرف اتصال۔ عطف کے لیے جیسے تنگ پو، تنگ اور پو، شبار روز (شب و روز)۔
  - ۲۔ انحصار و استیعاب کے موقع پر جیسے سراپا، سر سے ہانک، مونہا منہ۔
  - ۳۔ متجانسین کے مابین جیسے مارا مارا، رنگا رنگ، چھا چھم، گرما گرم۔
  - ۴۔ اضافت جیسے سوتیا ڈا، بھیریا چال، موتیا بند، موسلا دھار۔
  - ۵۔ علامت فاعل جیسے قائل، عالم۔
  - ۶۔ علامت جمع جیسے مساجد، ندر، سب۔
- کلمے کے آخر میں الف مندرجہ ذیل حالتوں پر ان علامات کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
- ۱۔ علامت تعدید جیسے جلانا، جلانا، جلانا۔ جلانا، نکلنا، نکلنا۔
  - ۲۔ علامت ماضی مطلق جیسے چلا، اٹھا، سنا۔
  - ۳۔ علامت حالیہ تمام جیسے کھلا، کھلا ہوا،
  - ۴۔ علامت تذکیر جیسے بھیسا، مرغا، بڑا۔
  - ۵۔ علامت تانیث جیسے مالا، بیوا، رادھا، صفری، کبریٰ، علیا، سلہا۔
  - ۶۔ علامت صفت جیسے اونچا، چھوٹا، نیچا۔
  - ۷۔ علامت اسم و حاصل مصدر جیسے جھگڑا، بلاوا۔
  - ۸۔ علامت تکریر جیسے لوگرا، ٹسکا۔
  - ۹۔ حرف الحاق جیسے ڈورا، بلما، جوڑا۔

مشراب (۶) شوربا (۶) بھوںوں کافر ترقی رس (۸) رونق (۹) چمک (۱۰) عزت قدر (۱۱) سحر (۱۲) سحر اب آب کرم کرمے کرمے سحر ہانے دھرا ہا پانی (۱۱) مثل (۱۲) مادری زبان پر دوسری زبان کو تزیج دینے کی تخرابی۔

آب آب کرنا (۱۱) محاورہ (۱۲) ستر مذہب کرنا۔ سترم دلانا (۳) نرم کرنا۔

آب آب ہونا (۱۱) محاورہ (۱۲) پانی پانی ہونا۔ پسینہ پسینہ ہونا (۱۲) ہلکا ہلکا (۳) ستر مذہب ہونا۔ نام ہونا۔ ہلکا ہونا (۳) لاجا ہونا۔ بے بس ہونا (۵) امنڈ آنا۔

آب آتش رنگ۔ آتش مزاج۔ آتشک۔ آتشبیں (ف) شراب سترخ (۲) خون کے آسنو۔

آب آجانا (۱۱) محاورہ (۱۲) اوزار یا ہتھیار کی تیز دھار ہونا۔ بارہ چھڑا (۲) چمک اور جلا کا آنا۔ صفائی پیدا ہونا۔ رونق آجانا۔

آب آخرت۔ غسل میت جو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔

آب آمد، یتیم خواست اف۔ مثل (۱) اصل چیز آنے کے بعد فرع کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے پانی ملنے کے بعد نیم بے کار ہو جاتا ہے۔

آب آنا (۱۱) محاورہ (۱۲) چمک آنا۔ پتھار کی دھار تیز ہونا۔

آب آہن اف۔ ارمتا لوبے کی چمک۔

آب آہن تاب اف۔ مذ (۱) آہن پانی جس میں لوہا گرم کر کے بچھایا جاتا ہو۔

آب آہنہ اف۔ مذ (۱۱) آہنہ کی صفائی (۱۲) قلعی چمک تیزی۔

آب (آترتا) (آترجانا) محاورہ (۱۱) چمک جاتی رہتا (۱۲) بے عزت ہونا۔ عزت پر محنت آنا۔ عزت دو کوڑی کی رہ جانا۔

آب (احمر) الرغوانی اف۔ مذ (۱) سترخ پانی یعنی شراب۔

آب اژنا (۱۱) محاورہ (۱۲) چمک جاتی رہتا (۱۲) دھار کندہ ہونا۔

آب از سرگزشت اف۔ مثل (۱) پانی سر سے گزر گیا مصیبت حد سے بڑھ گیا۔

آب استادہ اف۔ مذ (۱) چھڑا جو پانی۔ کھڑا ہوا پانی۔

آب آسیا۔ وہ پانی جس کے ذرے سے پتہ چمک جاتی ہے۔

آب اژنار۔ برافض جو فلوں میں پانی کا ذخیرہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔

آب انکور اف۔ مذ (۱) انکور کا پانی۔ انکور کا عرق (۳) مراد شراب

آب بارال اف۔ مذ (۱) بادش کا پانی۔

آب باز۔ پانی میں تیرنے والا۔

آب بازی اف۔ مذ (۱) پانی سے کھیلنا۔ پانی سے ایک دوسرے پر چھینے اڑانا۔

آب برآہنہ ریختن اف۔ مثل (۱) ایران کی رسم سے کہ جب کوئی سفر کو جانا ہے تو آہن پر سبز پتے لکھ کر پانی ڈالنے میں اور خیریت سے واپس آنے کا شگون لیتے ہیں۔

آب بردن اف۔ محاورہ (۱۲) بے رونق کرنا۔ خراب کرنا۔

آب بستہ اف۔ مذ (۱) مچا ہوا پانی۔ بوت (۱۲) اسے (۳) بیخ (۳) بلور کا بیار۔

آب (۱۱) آگے بڑھنے کا حکم۔ جہاں کی خمد (۱۲) کمر تے والے کو بلانے کی آواز۔

آب (۱۲) کبوتروں کو بلانے کی آواز (۳) ستر یا تان لیتنے کی آواز (۵) مصدر آنا کا صیغہ امر واحد حاضر (۱۲) بازی گردوں یا مدار یوں کے کسی خاص چیز کو بلانے کی آواز۔

آب آلتوں پر نمدوں کو بلانے کی آواز۔

آب آبلانے پر، تہیں پر پنی تو بھی پڑ (۱) مثل (۱) خواہ مجاہد لڑائی مول لینے کی نسبت کہتے ہیں۔

آبنا (۱۱) محاورہ (۱۲) مثل (۱) بلاناٹل ہونا۔ مصیبت پڑنا

آب (لڑیں) لڑے ہماری بلا (۱) مثل (۱) جو خواہ مجاہد مول لڑائی مول لے۔

آب (لڑیں) اس کی نسبت کہتے ہیں۔

آبے سوئے تیری باری۔ کان چھوڑ گیتی ماری (مثل) کسی کام میں لگانا۔

آب (لڑیں) کراختی تدبیر کرنا۔

آب (لڑیں) مجھے مار (مثل) خواہ مجاہد جھکڑے میں پڑنا۔ لڑائی مول لینا۔

آبے نوٹے جالبے نوٹے کرنا (۱) مثل (۱) پھرنا پھرنا، دوڑانا، ہلکا پھیر کرنا۔ وقت گزارنا۔

آب (لڑیں) آمو جو ہونا، ٹیک پڑنا (۱) ٹوٹ پڑنا۔ حملہ آور ہونا (۳) کسی کے گھر آ رہنا، غیر متوقع مصیبت یا آفت نازل ہونا۔

آب (لڑیں) لڑ، لڑیں (۱) مثل (۱) خواہ مجاہد لڑائی مول لینے کے وقت کہتے ہیں۔

آب (لڑیں) لڑیں۔ بے سبب زبردستی کی چھوڑ چھا کرنا۔

آب (لڑیں) مجھ سے ہو۔ اپنے ساتھ دوسروں کو گھمے برابر کرنا۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) منزل طے کرنا۔ پہنچ جانا۔

آب (لڑیں) (۱) محاورہ (۱) پھنس جانا (۲) فریب میں آنا۔

آب (لڑیں) کی بات ہے یا پھنسی کا معاملہ ہے (۱) مثل (۱) مجبور آسب کچھ کرنا، بڑھتا ہے۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) سیکر لینا۔ پہنچ جانا۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) چوڑ لینا۔ دلہن لینا۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) بے دھڑک چلے آنا۔ اچانک آجانا۔

آب (لڑیں) ڈیرہ جم لینا۔ آمو جو ہونا۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) سکونت اختیار کرنا۔ رگر پڑنا۔ کھٹر جانا۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) آجانا۔ پہنچنا۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) پکڑ لینا۔ قریب پہنچ جانا۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) آمو جو ہونا (تختہ) آجانا۔

آب (لڑیں) محاورہ (۱) بے ارادہ پہنچ جانا۔ اتفاقاً چلے آنا۔

## آب

آب (ف) مذ (۱) پانی (۲) پسینہ (۳) آنسو (۳) عرق (۵) خالص

(۱۵) شیشہ (۶) تلوار۔

آب بقاوت۔ (ع۔ ۱۰۔ مذ) آب حیات (۱۲) امرت جل۔

آب بکھڑا (۱) محاورہ (چمک جانی رہنا، مامد ہو جانا (۲) دھار کند ہو جانا۔ (۳) عزت میں کمی آجاتا۔

آب بلی۔ ناک کی رطوبت۔ رینٹھ۔

آب پاش (۱) درختوں اور پودوں کو پانی دینے کا برتن (۲) سقا۔ بہشتی۔

آب پاشاں۔ ایران کا ایک تنواری جس میں ایک دوسرے پر گلاب بھرتے ہیں

آب پاشی (۱) سینینا۔ کھیتی کو پانی دینا (۲) پانی کا پھر کا ڈگرنا۔

آب پشتت (ف۔ ۱۔ مذ)۔ نطفہ۔ مٹی۔

آب پیکان (ف۔ ۱۔ ص) تیر کی نوک کی تیزی۔

آب پیما (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) مقیاس الماء۔ ماثقات کی کثافت اضافی

معلوم کرنے کا آلہ۔ جس سے ماثقات کے خالص، تھما لیں ہونے کا پتہ

چلتا ہے۔ (Hydrometer)

آب تاب (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) بھرک۔ چمک دمک (۲) آرائش۔ رونق۔

روپ۔ زیبائش۔

آب تری (ف۔ ۱۔ مٹ) جنوں سگ گزیدگی۔ ہرک۔ پاگل کتے کے کھٹنے

کے باعث پانی سے ڈرنا۔

آب تیخ (ف۔ ۱۔ ص) (۱) شراب (۲) تیزاب (۳) کھاری پانی (۴) آنسو۔

آب تیخ۔ تلوار کی کاٹ۔ تیزی۔ چمک۔ صفائی۔

آب جاری۔ بہتا ہوا پانی۔ رواں پانی۔

آب جانا (۱) چمک ڈور ہونا (۲) دھار کند ہونا۔

آب جوت۔ (۱) مٹ) چشمہ۔ ندی نالہ۔ نہر۔

آب جوش (۱) بجی۔ گوشت کا عرق (۲) سوڈا وارٹ۔

آب چڑھانا (۱) صیقل کرنا۔ صاف کرنا۔ جلا دینا (۲) بارٹھ رکھنا۔ بھڑھانا

آب چڑھینا۔ صیقل ہونا۔ صاف ہونا۔ جلا ہونا۔ بارٹھ ہونا۔

آب چشمہ۔ آنکھ کا پانی۔ آنسو۔ اشک۔

آب چمک۔ پانی پینے کی جگہ۔

آب چواڑ سرگزشت، چریک نیزہ چریک دست (۱) آب

پانی سر سے اڑنا ہو گیا تو پھر کچھ بھی ہو۔ مصیبت یا بدنامی حد سے بڑھ جانے

تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے۔

آب حرام (۱) ناپاک پانی جس کا پینا درست نہیں (۲) شراب وغیرہ۔

آب حیات (۱) امرت۔ جس کے پینے سے موت نہیں آتی کہتے ہیں

حضرت خضرنے آب حیات پیا ہوئے۔ آب حیوان۔ مولانا محمد حسین آزاد

کے کتاب کا نام ہے جس میں شعرائے اردو کا ذکر کیا گیا ہے۔

آب خاصہ۔ امیروں یا بادشاہوں کے پینے کا پانی۔

آب رحمت (۱) جمالت۔ شرم سے پانی پانی ہو جانا۔

آب خضر۔ آب حیات۔ وہ پانی جسے پی کر حضرت خضر نے ہمیشہ کی عمر پائی

آب خیر۔ خیر کی تیزی۔ کاٹ۔

آب خور۔ پانی پینے کا چھوٹا سامی کا برتن۔ کوڑہ۔

آب بخور سے بھرتا۔ آب بخوروں میں شربت یا دودھ بھر کر نیاز دلوانا۔

آب خیر (۱) نہر۔ موج۔ پانی کا بہاؤ (۲) وہ زمین جہاں پر کھوڑا سا کھوڑے

پر پانی نکل آئے۔

آب آرزو (۱) تازہ و سیراب (۲) وہ شخص جو امیروں کے ہاں پانی پلانے پر

مقرر ہوا (۳) چمکیلا، صاف (۴) تیز دھار کا ہتھیار (۵) میلا۔ خوبصورت

(۶) لطیف و نفیس۔

آب آرزو (ف۔ ۱۔ مذ) پانی رکھنے کا کمرہ۔

آب آری (ف۔ ۱۔ ص) (۱) بارٹھ تیزی (۲) چمک دمک۔ جلا (۳) اطروت

لطف، خوبی (۴) آبدار خانہ کی خدمت۔

آب آری دینا (۱) چمکانا۔ پاش کرنا (۲) اوزار پر پانی چڑھانا۔ اوزار

تیز کرنا۔

آب دان (ف۔ ۱۔ مذ) تالاب۔ حوض (۲) پانی کا برتن۔

آب دانہ (ف۔ ۱۔ مذ) دانہ پانی۔ آن بجل۔ روزی۔ رزق۔

آب ڈر (۱) موتی کی چمک (۲) جلا (۳) آب ذتاب۔

آب دست (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) استیجا۔ طہارت (۲) پاکیزگی جو پانی سے کھائے۔

آب دست (کرنا) لینا۔ استیجا کرنا۔ طہارت کرنا۔

آب دندان (ف۔ ۱۔ ص) صفت دانتوں کی چمک۔

آب دور (ف۔ ۱۔ مٹ) (Submarine) (۱) ڈبکشی کشتی۔ تخت البحر

کشتی۔ وہ جگہ کشتی جو سطح آب کے نیچے بھی چل سکتی ہے اور ادر بھی۔

آب دہن (۱) مٹھنے کا لعاب (۲) کلی کا پانی۔

آب دیدہ۔ آنکھوں کا پانی۔ آنسو۔

آب دیدہ۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہوں۔

آب دیدہ پر آمادہ۔ روانہ۔

آب دیدہ (رہنا) ہونا (۱) محاورہ (۲) آنکھوں میں آنسو بھرے رہنا۔ نگین

آب دینا (۱) محاورہ (۲) کسی دھار والی چیز کو سان پر لگانا یا پتھر پر تیز

کرنا (۲) سینینا (۳) چمکانا۔ جلا دینا۔

آب رحمت (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) بارش۔ مینہ (۲) بخشش۔ معافی۔

آب (رکھنا) رکھوانا (۱) محاورہ (۲) سان چڑھانا۔ دھار تیز کرنا۔ بارٹھ رکھنا

آب رواں (ف۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا باریک کپڑا جو نہایت باریک

ہوتا ہے (۲) بہتا ہوا پانی۔

آب ریزہ (۱) پانی گرنے کی جگہ (۲) دوات میں پانی ڈالنے کی جگہ۔

آب زر (ف۔ ۱۔ مذ) سونے کا پانی جو فاضلی یا کتا بت میں کام آتا ہے۔

آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ (۱) صفت) نہایت احترام اور عزت

کے قابل بات۔

آب زلال (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) صاف شفاف پانی (۲) تھرا ہوا پانی (۳)

بھیگی ہوئی دوا کا پانی۔

آب زمزم (ف۔ ۱۔ مذ) زمزم کا پانی۔ مکہ معظمہ کا ایک خاص چشمہ جو

حضرت اسماعیل کے لیے جاری ہوا تھا۔

آب زن۔ وہ ظرف جس میں دواؤں کا جوش کیا ہوا پانی بھر کر مریض کو

اس میں بٹھاتے ہیں۔

آب زن کرنا۔ دوا کے پانی میں بٹھانا (۲) اٹھانا۔

بتلا ہونے سے پہلے شور چمانا۔

آبِ نَفْرَةِ اف - ۱۔ مذ ۱۱۱ پارہ ۲۰ چاندی کا پانی، چاندی کا ملمع، چاندی کا گلٹ۔

آبِ نَرْمَنَ (۱) محاورہ (۱) ہے رونق ہو جانا (۲) ہتھیار کی دھار گند ہو جانا یا چمک کر ہو جانا (۳) بے عزت ہو جانا (۴) قلعی آتر جانا۔

آبِ نَے اف - ۱۰۔ مٹا احقر میں نیچے کا وہ حصہ جو پانی میں رہتا ہے۔

آبِ نِیْسَاں اِنِیْسَاں رومی ساتویں مینے کا نام موسم بہار یعنی مارچ اپریل کی بارش۔ مشورے کے اس کے قطروں سے سیب میں موٹی، بانس میں بنسلیوں اور گائے کے کان میں گٹھوچن بنتا ہے۔

آبِ وَنَابِ (۱) چمک دیک، روشنی (۲) رونق، تیزی (۳) لطافت، حسن و خوبی، آرائش، زیبائش۔

آبِ وَخَوْر - دانہ پانی۔ رزق، کھانا پینا۔ اُن جُل - خوراک۔

آبِ وَدَانِہ - دانہ پانی۔ اُن جُل - رزق، خوراک۔

آبِ وَدَانِہ خَمَّ ہونا (۱) محاورہ (۲) رزق ختم ہونا، سفر درمیش آنا۔ موت آنا۔

آبِ وَرَنَگِ (۱) آب۔ رونق۔ رنگ۔ خطی (۲) صفائی۔ بہار۔ چمک۔

رُوبِ خَوْبِصُورِی، صفائی (۳) دینا کا مزہ۔ کیفیت۔ سیر نماشا۔

آبِ وَرَکْ (۱) پانی اور مٹی (۲) لغات۔ سرشت۔ خیر (۳) کالبد۔ جسم۔ قالب۔

آبِ وَرَبَان - کھانا پانی۔ رزق۔

آبِ وَرَمَکِ (۱) ذائقہ۔ مزہ۔ سواد (۲) ماحضر۔ دال دیا۔ کھانا۔ طعام۔

آبِ وَہَوَا (۱) پانی اور ہوا (۲) پانی اور ہوا کی کیفیت (۳) موسم۔ رُت۔

آبِ وَہَوَا بَدَلْنَا محاورہ، صحت و تندرستی کی بحالی کے لیے کسی بہتر جگہ جانا

آبِ وَہَوَا کا رَاسِ آنا (۱) محاورہ (۲) کسی جگہ کا موسم طبیعت کے موافق ہونا۔

آبِ وَہَوَا کا جِگَرُ (۱) محاورہ (۲) موسم کی خرابی۔

آبِ ہِنْد - درہائے سندھ۔

آبِ ہَوْنَا (۱) رقیق ہونا، چلا ہونا پانی ہو جانا، گھل جانا (۲) شرمندہ ہونا۔

خفیت ہونا بھینینا (۳) بر باد ہونا۔ ضائع ہونا (۴) چمک ہونا۔ جلا ہونا۔

باڑھ ہونا۔ تیزی ہونا (۵) آسان ہو جانا (۶) دھار تیز ہونا۔

آبِ ہِیَارِی (۱) مٹا، مٹا، باغوں اور کھیتوں کو سیچنا۔ پانی دینا۔

آبِ ہِیَاہ - پانی کا محصول۔

آبِیَا (آ - با) (ع - ا - ۱) مذ [ آب کی جمع، باپ دادا، اگلی پڑھیاں۔

آبِیَا وَ اِحْدَاو - باپ دادا، مورث۔

آبِیَاہے غُلُو - نواسمان۔ سات ستارے۔

آبِیَا د (آباد) (۱) (صفت) [ پھر ہونا پانی۔ معمور۔ آدمیوں سے بسا ہوا۔

(۲) بسنے والا۔ رہنے والا (۳) پھر رونق۔ چہل چل کی جگہ (۴) پھلا پھولا۔

سر سزا داب۔

آبِیَا د رکھنا (۱) بسا رکھنا۔ معمور رکھنا (۲) سلامت رکھنا۔ برقرار رکھنا خوش۔

خرم رکھنا (۳) رونق پھر رکھنا۔

آبِیَا د کا ر - وہ شخص جو کسی غیر آباد علاقے میں سکونت اختیار کرے غیر آباد۔

علاقے کو بسنے والا، جمع، آباد کاروں۔

آبِیَا د کا ر - غیر آباد علاقوں کا آباد کرنے والی کسی علاقے کے باشندوں کا معاش

آبِ زَندِگَانِی (زندگی) آبِ بقا۔ آبِ حیات

آبِ زَہِی (۱) مٹا، چھوڑا۔ پانی ڈالنا۔

آبِ زَہِی کا ہوا (۱) پانی جو گھاس کے نیچے چھپا ہوا ہو (۲) مکار آدمی۔

آبِ سَبِیْلِ - وہ پانی جو پیاسوں کے لیے سرراہ رکھتے ہیں اور مہنت بلاتے ہیں

آبِ سَہِجِ (۱) مذ (۲) شراب (۳) اشک خونیں (۴) وہ پانی جس کا

رنگ سرخ ہو۔

آبِ سِیَاہِ (۱) مذ (۲) شراب (۳) گہرا پانی۔ بھنور کا پانی (۴) دولت

کی سیاہی (۵) مونیانہ۔ آنکھ کی بیماری۔

آبِ شَارِ (۱) مذ بھرتا۔ اونچی جگہ سے گرنے والا قدرتی پانی۔

آبِ شَرْمِ (۱) مذ (۲) شرمندگی کا پانی۔ وہ پسینہ جو ندامت کی وجہ سے آئے۔

آبِ شَمِشِ (۱) مذ (۲) آفتاب کی چمک یا دھار۔

آبِ شَمَاسِ (۱) مذ (۲) حقیقت دان۔ ماہر۔ بلاج۔

آبِ شَوْرِ (۱) مذ (۲) کھاری پانی۔ سمندر کا پانی۔ نمکین پانی۔

آبِ شَوْرِہ (۱) مذ (۲) شور سے میں ٹھنڈا کیا ہوا پانی (۳) بیمو کا شربت

آبِ شِیرِ (۱) صفت (۲) میٹھا پانی۔

آبِ عَیْبِ (۱) مذ (۲) انگوری شراب

آبِ کَارِ (۱) مذ (۲) شراب فروش۔ کلال۔

آبِ کَارِی (۱) شراب کھینچنے اور کھینچنے کا کارخانہ یا جگہ (۲) وہ محلہ جس میں

مسرکات کا محصول لیا جاتا ہے۔

آبِ کَش - کنویں سے پانی نکلنے والا۔ سقا۔

آبِ کَوَثر - جوفض کوثر کا پانی۔

آبِ کَوَثر سے دھلی ہوئی زبان۔ بڑی صاف ستھری شستہ اور پاکیزہ زبان

آبِ کَلِ (۱) مذ (۲) گلاب کا عرق۔ پھولوں کا پانی۔

آبِ کَلْزَنَگِ، کَلْکَلوں، گلاب کے پھول کے رنگ کا پانی، مزہ مریح شراب

آبِ کَوَثر - گوشت کا پانی، نیچنی۔ شوربا۔

آبِ کَوَں (۱) پانی کے رنگ کا (۲) آسانی رنگ کا، ہلکا سیلا (۳) شیشہ (۴)

برق (۵) چمکیلی تلوار (۶) گندم کا نشاستہ (۷) آسمان۔

آبِ کَوَہِ (۱) صفت (۲) موٹی کی چمک۔

آبِ کَوَہِ (۱) حوض۔ تالاب (۲) وہ جگہ جہاں پانی جمع ہوا (۳) جولا ہوں کا ایک

روز اور جس سے نئے ہوئے سوت پر پانی پھرتے ہیں۔

آبِ کَوَہِ (۱) مذ (۲) شیشہ۔ کالج۔ بلور۔ آئینہ (۳) الماس (۴) انگوری

آبِ کَوَہِ (۱) مذ (۲) لائٹن کا شیشہ

آبِ مِٹِ جانا آبِ و نَابِ جاتی رہنا۔ رونق جاتی رہنا۔

آبِ مِروَہِ (۱) مونی کی چمک (۲) مونیانہ۔ آنکھ کی بیماری۔

آبِ مِروَہِ (۱) صاف پانی۔ پختہ ہوا پانی۔

آبِ مِجْمَدِ (۱) ڈالہ۔ اوسے (۲) بلور کا پیالہ (۳) برف۔ یخ۔

آبِ نَکَلِ (۱) مذ (۲) پانی کا وہ تنگ راستہ جو خشکی کے دو بڑے حصوں

کو الگ کرے اور پانی کے دو حصوں کو ملائے۔

آبِ نَدَامَتِ (۱) ع۔ ع۔ ع۔ (۲) مذ (۳) شرمندگی کے آفسو۔

آبِ نَدِیْدِ (۱) موزہ کشیدہ (۲) پانی دیکھنے پر مزے آنا۔ خطرے میں

مقاصد کے تحت کسی دوسرے علاقے میں جانا۔

آباد کرنا (۱۱) رونق دینا۔ بسانا۔ سمور کرنا (۲) کاشت کرنا۔

آباد دان (۱)۔ آبا۔ دان (۱)۔ صفت [ساہوا۔ جلیج فارس پیرایران کا ایک شہر آبادانی (۱)۔ آبا۔ دان (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ آبا۔ دان (۱)۔ آراستی۔ رونق۔ چہل پہل (۲)۔ بھی خوابی۔ خیر جلیبی۔

آبادی (۱)۔ با۔ دی (۱)۔ صفت [امت] (۱)۔ بستی۔ باشندوں کی گنتی (۲)۔ آرام۔ چین سکھ (۳)۔ رونق۔ زیبا نش۔ روشنی۔ اجالا۔ گماگمی۔ چہل پہل۔ جمع۔ آبادیات آبادان (۱)۔ بان (۱)۔ مذ (۱)۔ فارسی کا آٹھواں مہینہ (۲)۔ اس فرشتے کا نام جو بے پروا مکل ہے۔ (۳)۔ ہر شمس میں سے کادوسوں دن۔

آبانگاہ (۱)۔ مذ۔ مٹا (۱)۔ ماہ فروردین کا دوسواں دن (۲)۔ پانی کا موکل فرشتہ آبائی (۱)۔ با۔ ای (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو (۱)۔ آب۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت (۱)۔ قدر و منزلت۔ عرق۔ نیوی۔ (۲)۔ مارت و جاہت (۳)۔ ساکھ۔ اعتبار بات (۵)۔ شرم۔ لاج (۶)۔ حیثیت (۷)۔ ناموس عزت (۸)۔ اردو زبان کے بھلے دود کے شاعر شاہ مبارک کا مخلص جمع۔ آبرو۔ بے کرنا۔ آبرو (۱)۔ مذ (۱)۔ ذیل کرنا۔ بے حرمت کرنا۔ عصمت میں دھبہ لگانا بے عزتی۔

آبرو (۱)۔ مذ (۱)۔ ذیل کرنا۔ بے حرمت ہونا۔ ناموس میں دھبہ لگانا۔ آبرو بچانا (مجاورہ) عزت بچانا۔ عصمت و ناموس محفوظ رکھنا۔ آبرو بخشنا (۱)۔ مجاورہ مرتبہ برھانا۔ بزرگی دینا۔ توقیر بڑھانا۔

آبرو برباد ہونا (۱)۔ مجاورہ۔ بدنام کرنا۔ آبرو بڑھانا (۱)۔ مجاورہ عزت میں اضافہ کرنا۔ توقیر زیادہ کرنا۔ مرتبہ بڑھانا۔

آبرو بڑی دولت ہے (۱)۔ مجاورہ عزت بڑی چیز ہے۔ آبرو بڑھانا (۱)۔ مجاورہ۔ ذیل ہونا بے حیثیت ہونا بے عزت ہونا۔

آبرو بنانا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو نہی ہونا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ حیثیت درست کرنا۔ حیثیت ٹھیک کرنا (۲)۔ عزت پیدا کرنا۔ ساکھ پیدا کرنا (۳)۔ مرتبہ بڑھانا۔ جاہل و پدید کرنا۔

آبرو نہی ہونا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ حیثیت درست ہونا۔ عزت سلامت ہونا۔ (۲)۔ ساکھ قائم رہنا۔ اعتبار قائم رہنا۔

آبرو نہی ہونا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت گنونا۔ ذیل ہونا۔ آبرو بنانا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ شرف حاصل کرنا۔ عزت حاصل کرنا۔ مرتبہ بڑھانا۔

آبرو بانی ہونا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت برباد ہونا۔ غوار ہونا۔ آبرو بڑی بانی پھر جانا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت جانی رہنا۔ قدر جانی رہنا (۲)۔ بے عصمت ہونا۔

آبرو بربانی پھر دینا۔ عزت کھو دینا۔ بے عزت کر دینا۔ بدنام کر دینا۔ رسوا کر دینا۔ بے عصمت کر دینا۔

آبرو بمرحرف آنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت میں فرق آنا۔ مرتبہ میں فرق آنا۔ ذیل ہونا (۲)۔ عصمت ملل آنا۔

آبرو پیدا کرنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ ناموس پیدا کرنا۔ عزت حاصل کرنا (۲)۔ ساکھ جانا۔ آبرو بچھانا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت محفوظ رکھنا۔ قدر و منزلت قائم رکھنا۔

آبرو محفوظ رکھنی (۱)۔ ذرا سی (۱)۔ ہے (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بہت معمولی عزت ہے۔ آبرو تیرے ہاتھ ہے (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت بچانا تیرے اختیار میں ہے۔

آبرو دیکھنے کی ہوجانا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت مٹ جانا۔ ساکھ جانی رہنا۔ آبرو دیکھنے نہیں آتی (۱)۔ مثل (۱)۔ عزت ضائع ہو کر پھر حاصل نہیں ہوتی۔ آبرو جوان سے زیادہ عزیز ہے (۱)۔ مقولہ (۱)۔ عزت کا خیال جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔

آبرو جگ میں رہے تو بادشاہی جانیے (۱)۔ مثل (۱)۔ عزت بڑی نعمت ہے جو بادشاہت کے برابر ہے۔

آبرو جانا۔ عزت کا خواہش مند ہونا۔ عزت برقرار رکھنے کی کوشش کرنا۔ آبرو خاک میں مل جانا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت ختم ہوجانا۔ بالکل عزت نہ رہنا۔ آبرو خدا کے ہاتھ ہے۔ عزت کا رکھنا خدا کے اختیار میں ہے۔

آبرو خراب کرنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت بگاڑنا۔ بے عزت کرنا۔ شان کے خلاف کوئی کام کرنا۔

آبرو وار ات۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو وکوٹری کی ہوجانا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ آبرو دیکھنے کی ہوجانا۔ عزت ختم ہوجانا۔ آبرو دینا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت بخشنا (۲)۔ ہے عصمت ہونا۔ عزت گنونا (۳)۔ دکار کھونا۔

آبرو ڈبو دینا (ڈبونہ) (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت کھونا۔ آبرو ڈوب جانا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ عزت جانی رہنا۔ قدر و منزلت ختم ہوجانا۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

آبرو رکھنا (۱)۔ مجاورہ (۱)۔ بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲)۔ ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا۔ آبرو رہ جانا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ راوادی۔ خاندانی۔ پشتینی۔ آبتین (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت]۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹا (۱)۔ صفت [مردن۔ باپ کا نام]۔

سخت، وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔  
 آبِ نمونس کا گندہ (۱۱۔ مذ) آبِ نمونس کا ٹھنڈا۔ موٹا اور کالا آدمی۔  
 آبِ نمونسی (آب۔ لورسی) (۱۲۔ صفت) سیاہ رنگ کا کالا۔ آبِ نمونس سے بنا ہوا۔  
 آبِ نمونسی شامخ۔ آبِ نمونس کی شامخ۔ آبِ نمونس کی لکڑی کی بانسری۔  
 آبِ نمونسی سے لپٹے چھوٹے پرائی آس (۱۳۔ مثل) مصیبت پڑ جانے پر دوسروں سے امید نہ رکھنی چاہیے۔  
 آبی (آبی) (۱۴۔ صفت) پانی سے منسوب (۱۵۔ پانی میں رہنے والا) (۱۶۔ خمیری روٹی کی ایک قسم) (۱۷۔ ہلکا ہلکا نیلا رنگ) (۱۸۔ وہ زمین جس میں پانی ہوتی ہے) (۱۹۔ سرکش، سرکشی، انکار کرنے والا) (۲۰۔ نمی، گیلاپن۔  
 آبی بروج۔ آسمان کے وہ بروج جن کی صفت آبی ہے۔ یعنی سرطان، عقرب۔ اور حوت۔  
 آبی حرف۔ ابجد کے حساب سے سات حرف جن کی صفت آبی بیان کی گئی ہے۔ یعنی۔ ح۔ ذک۔ س۔ ق۔ ث اور ظ۔

## آب

آب [ع۔ جن] (۱۱۔ خود۔ اپنی ذات سے (۱۲۔ ذاتِ خفا (۱۳۔ روح۔ آتما (۱۴۔ غائب اور حاضر کے لیے تعظیفاً مستعمل ہوتا ہے۔  
 آبِ آب (گرمنا کہتا) (۱۵۔ محاورہ) خوشامد کرنا۔  
 آبِ آب کو (۱۶۔ متعلق فعل) اپنے اپنے نفس کو، اپنی اپنی ذات کو اپنی اپنی تہا۔ اپنی اپنی طرف۔  
 آبِ آب میں (۱۷۔ متعلق فعل) آپس میں۔  
 آبِ آب ہی میں اور وہ وہی (۱۸۔ مثل) آپ میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔  
 آبِ آئے بھاگ آئے (۱۹۔ مثل) آپ کا آنا باعثِ برکت ہے۔  
 آبِ اپنی مہر کھودنا (۲۰۔ محاورہ) اپنی بربادی کا آپ سامان کرنا۔  
 آبِ اپنی ہی گانے میں (۲۱۔ مثل) آپ اپنی ہی کہتے جاتے ہیں۔  
 آبِ اپنے حال میں اگر قرار ہونا خود اپنی مصیبت یا فکر میں مبتلا ہونا۔  
 آبِ اپنے حق میں کانسنے ہونا، آپ اپنے پاؤں پر کھلاڑی مارنا) (۲۲۔ اپنے ہاتھوں آپ مصیبت پیدا کرنا۔  
 آبِ اپنے سے۔ خود اپنی ذات سے۔  
 آبِ اپنے کو۔ خود اپنی ذات کو۔  
 آبِ اپنے آب ویسے۔ خوشامد کی باتیں۔  
 آبِ بھلے تو جگ بھلا (۲۳۔ مثل) انسان خود اچھا ہو تو دنیا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے۔  
 آبِ بھی اسطو سے کم نہیں (۲۴۔ مثل) آپ بھی بڑے عقل مند ہیں (۲۵۔ طنز) (۲۶۔ آپ بڑے بے وقوف ہیں۔  
 آبِ بیٹی۔ اپنی کہانی۔ اپنا حال خود نوشت حالات زندگی۔  
 آبِ بیٹی کہوں یا جگ بیٹی (۲۷۔ مثل) اپنی کہانی سناؤں یا دنیا کی۔  
 آبِ نو عید کا چاند ہو گئے (۲۸۔ محاورہ) اہمیت کم نظر آتے ہیں۔ درست سے بطور شکایت کہا جاتا ہے۔

آبِ بڑی چیز (۲۹۔ مٹ) وہ چیز جس میں عزت ہو۔  
 آبِ بڑے پیچھے پڑنا (۳۰۔ محاورہ) عزت کا لاگو ہونا۔  
 آبِ بڑے دیر پہنچے ہونا (۳۱۔ محاورہ) آبِ بڑے کا لاگو ہونا۔ عزت کے پیچھے پڑنا۔  
 آبِ بڑے گھر میں باندھنا (۳۲۔ محاورہ) عزت کو بہت عزیز رکھنا۔  
 آبِ بڑے سناواتا (۳۳۔ محاورہ) (۳۴۔ عزت کھونا) (۳۵۔ عصمت میں داغ لگانا۔  
 آبِ بڑے کھانا (۳۶۔ محاورہ) (۳۷۔ عزت کم کرنا۔ یہ قدری کرنا) (۳۸۔ پہلی سی عزت کھانا۔  
 آبِ بڑے کھانا (۳۹۔ محاورہ) عزت اور مرتبہ کا برباد ہونا (۴۰۔ بے آبِ بڑے ہونا۔  
 آبِ بڑے لوٹ لینا۔ بے عصمت کر دینا۔  
 آبِ بڑے مٹا دینا۔ عزت کھو دینا۔  
 آبِ بڑے مٹ جانا (۴۱۔ محاورہ) عزت پر پانی پھر جانا (۴۲۔ آبِ بڑے مٹنا (۴۳۔ محاورہ) عزت حاصل ہونا۔  
 آبِ بڑے موتی کی آب سے (۴۴۔ مثل) عزت بہت نازک چیز ہے۔  
 آبِ بڑے میں ٹٹا لگ جانا (۴۵۔ محاورہ) عزت میں خلل پڑ جانا۔  
 آبِ بڑے (داغ، دھبہ لگ جانا۔ (۴۶۔ محاورہ) عزت میں خلل پڑ جانا۔  
 آبِ بڑے ہونا۔ قدر ہونا۔ عزت ہونا۔ رتبہ بڑھنا۔  
 آبِ بستی (۴۷۔ بس۔ ت۔ نی) (۴۸۔ صفت) حاملہ عورت۔  
 آبِ بلوغ اف۔ مٹا۔ مصری۔ قند۔ مٹھائی۔  
 آبِ بلہ (آب۔ ل) (۴۹۔ مذ) پھپھولہ۔ چھالہ۔  
 آبِ بلہ ہنا۔ چھالے سے پانی کا جاری ہونا۔  
 آبِ بلہ یا۔ وہ شخص جس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں۔  
 آبِ بلہ پانی۔ پاؤں میں چھالے پڑنا۔  
 آبِ بلہ پڑنا۔ چھالے کا پیدا ہونا۔ چھالانودار ہونا۔  
 آبِ بلہ بچنا۔ چھالے میں پیپ پڑنا۔  
 آبِ بلہ بھوٹ ہنا۔ چھالے کا پھوٹ کر طرقت جاری ہونا۔  
 آبِ بلہ بھوٹنا (۵۰۔ چھال ٹوٹنا) (۵۱۔ حسرت نکالنا۔ دل کا غبار نکالنا۔  
 آبِ بلہ بھوٹنا (۵۲۔ چھال ٹوٹنا) (۵۳۔ حسرت نکالنا۔ دل کا غبار نکالنا۔  
 آبِ بلہ پیدا ہونا۔ چھال نکالنا۔ پھپھولا نمودار ہونا۔  
 آبِ بلہ نکینا۔ چھالے میں جلن پیدا ہونا۔  
 آبِ بلہ ٹوٹنا۔ آبِ بلہ بھوٹنا۔  
 آبِ بلہ ٹوٹنا۔ چھال ٹوٹنا۔  
 آبِ بلہ چھلنا۔ چھالے میں خراش ہونا۔  
 آبِ بلہ دار۔ چیچک درد چیچک کے داغوں والا۔  
 آبِ بلہ دل۔ وہ سوزش جو رشک و حسد سے دل میں پیدا ہو۔ اسے دل کا چھال قرار دیتے ہیں۔  
 آبِ بلہ ڈالنا چھال پیدا کرنا۔ تکلیف دینا۔  
 آبِ بلہ کو۔ مند پر چیچک داغ رکھنے والا۔  
 آبِ بلہ فرنگ۔ آتشک۔  
 آبِ بلہ مر جانا۔ چھالے کا خشک ہونا۔  
 آبِ بلے بھرنا۔ چھالے میں رطوبت کا بھر جانا۔  
 آبِ نمونس (آب۔ نمونس) [ع۔ ۱۰۔ مذ] ایک مشہور درخت کا نام جس کی لکڑی



آپ سے کیا جگ سے گیا ۱۱۔ مثل آپ سے گیا جہاں سے گیا۔ جو چیز اپنے ہاتھ گئی وہ گویا دنیا ہی میں نہیں رہی۔  
آپ فصیحیت اور کو نصیحت ۱۱۔ مثل) دوسرے کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا۔

آپ کا باپاں قدم لےجئے (آپ بہت چالاک ہیں۔ کسی کی عیاری اور چالائی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

آپ کا پاس سے ۱۱۔ محاورہ) آپ کے لحاظ سے مجبور ہوں  
آپ کا ج ما کا ج ۱۱۔ مثل) اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی اچھا ہوتا ہے۔  
آپ کا سر۔ بد فیضی اور کسی کے کم سمجھنے کے موقع بولتے ہیں ہم غلط کہتے ہیں۔ بیکار لے ہو رہے ہوتے ہیں۔

آپ کا قطع کلام (سخن) ہوتا ہے ۱۱۔ محاورہ) کسی کے بات کرنے وقت درمیان میں بولنے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ آپ کی بات کاٹتا ہوں۔

آپ کا کیا بگڑتا ہے ۱۱۔ محاورہ) آپ کا کیا جاتا ہے۔ آپ کا کیا نقصان۔  
آپ کا کیا لیتا ہے ۱۱۔ محاورہ) آپ کا کیا نقصان کرتا ہے۔

آپ کا گھر ہے۔ تواضع اور خاطر کے موقع پر بولتے ہیں یعنی آپ اپنا ہی گھر سمجھیے۔ خانہ بے تکلف ہے۔

آپ کا منہ ملاحظہ ۱۱۔ روزمرہ) آپ کا لحاظ ہے ۱۲۔ آپ کی مجال ہے۔  
آپ کا نام ہوگا ہمارا کا نام ہوگا ۱۱۔ مثل) آپ کی شہرت ہوگی ہمارا مطلب حاصل ہو جائے گا۔

آپ کا کوگرہوں بیکنوں کا نوگر نہیں ہوں ۱۱۔ مثل) آپ کی باں میں ہاں ملانا ہوں۔ آپ جو کہہ گئے ہیں اس کی تائید کرتا ہوں۔ مجھے جھوٹ و سچ سے کوئی مطلب نہیں۔

آپ کو آسمان پر بھیجنا ۱۱۔ محاورہ) غرور و تکبر کرنا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔  
آپ کو کھولنا۔ اپنی حیثیت کو کھولنا۔ بے خود ہونا۔ اترانا۔

آپ کو بانا (پہنچنا) اپنی حقیقت کو سمجھنا۔  
آپ کو خاک میں ملانا ۱۱۔ محاورہ) اپنا آپ تنہا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنا۔  
اچھو دور جانا سمجھنا۔ غرور و تکبر کرنا۔ تمام لوگوں سے الگ تھلگ رہنا۔

آپ کو ڈبونا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنا۔  
آپ کو زد کرنا۔ اپنے آپ کو قتل میں رکھنا۔ کسی کام کے کرنے سے باز رہنا۔  
آپ کو شاخ زعفران (جاننا) سمجھنا یا لگنا۔ اپنی ذات کو سب سے نرالا سمجھنا۔ زیاد مغرور ہونا۔

آپ کو عرش پر پہنچانا ۱۱۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلند سمجھنا ۱۲۔ اپنی بے حد تعریف کرنا۔

آپ کو مٹا دینا ۱۱۔ اپنے آپ کو برباد کر دینا۔ فنا کر دینا ۱۲۔ سخت محنت کرنا۔  
آپ کھائے گی کو مٹائے۔ ۱۱۔ مثل) اپنی عقلی دوسروں کے سر لگائے۔  
آپ کی بلے سے۔ آپ کو کبڑا۔ آپ سے کیا مطلب۔ آپ سے واسطہ نہیں۔

آپ کی دال یہاں نہ لگے گی ۱۱۔ مثل) آپ کا داڑھیہاں نہ چلے گا۔  
آپ کی شکایت میرے سر آکھوں پر ۱۱۔ مثل) آپ کا شکوہ یا اعتراض نہاتا ہوں۔

آپ کی کیا بات ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں۔ آپ نہایت قابل تعریف

آپ تو گرم کر کے شہرت پلاتے ہیں ۱۱۔ مثل) آپ کو بھار کر دھما کرنا خوب آتا ہے۔

آپ تو ہوا کے کھوڑے پر سوار ہیں ۱۱۔ مثل) آپ بہت جلدی میں ہیں۔  
آپ بہت نصی میں ہیں۔

آپ چائیں اور آپ کا ایمان ۱۱۔ مثل) صحیح فیصلہ کرنا آپ کی دیانت پر موقوف ہے۔  
آپ جانے اور آپ کا کام ۱۱۔ محاورہ) آپ اپنے نیک و بد کے خود ذمے ڈالنا

آپ خود اے آپ مرادے ۱۱۔ مثل) اٹھل کھرا۔ اپنی غفل کو بہتر سمجھنے والا ۱۲۔ غریب میں امیرانہ ٹھاکھ سے رہنے والا۔

آپ خودی۔ خود سری۔ ضد۔ سرکشی۔ (اق)  
آپ دھاب۔ اپنی اپنی فکر۔ اپنے اپنے کام کا دھیان۔  
آپ ڈال ڈال میں تو میں پات پات ۱۱۔ مثل) میں تم سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہوں۔

آپ ڈوبے تو جگ ڈرہا ۱۱۔ مثل) آپ مر گئے تو گو باساری دنیا ختم ہوگئی  
آپ ڈوبے تو ڈوبے اور کو بھی لے ڈوبے ۱۱۔ مثل) اپنے ساتھ دوسرے کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا۔ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی برباد کر دیا۔

آپ راہ راہ، دم کھیت کھیت ۱۱۔ مثل) اظہار میں نیک اور باطن میں مکر  
آپ روپ۔ اپنی شکل۔ اپنا ظہور۔ خدا اور اس کی کھلی۔

آپ روپ ہمارو ۱۱۔ مثل) خدا کا جلوہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ۱۲۔  
کسی کامل فیکر کو کہتے ہیں یعنی آپ کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے۔

آپ زندہ جہاں زندہ، آپ مر رہ جہاں مر رہ ۱۱۔ مثل) جی ہے تو جہاں ہے۔  
اپنے دم کا سب کا رخا نہ ہے۔ اپنی آنکھ بند ہوگئی تو ہوا نہ ہوا برابر ہے۔

آپ سنیں اپنا گم نہ سنئے ۱۱۔ مثل) بہت آہستہ سے بات کرنے والا۔  
آپ سے ۱۱۔ بغیر مانگے۔ از خود۔ خود ہی۔ بلا سبب ۱۲۔ بے طلب بے بلائے

آپ کی مانند۔  
آپ سے آپ۔ خود بخود۔ بلا سبب۔  
آپ سے لے لے تو آنے دے۔ کسی کا مال بغیر کوشش کے ہاتھ لگے تو لے لو۔

آپ سے اچھا خدا ۱۱۔ مثل) اپنی ذات سے زیادہ عزیز سولے خدا کے کوئی نہیں ۱۲۔ آپ سے برتر خدا کی ذات ہے۔

آپ سے بے آپ ہونا ۱۱۔ محاورہ) بے خود ہونا۔ بہت بے چین ہونا۔  
آپ سے جانا۔ ۱۱۔ بے ہوش ہونا بے خود ہونا۔ ۱۲۔ بن بلائے جانا۔  
آپ سے چار برس سا میں میں نے زیادہ دیکھی ہیں ۱۱۔ مثل) ۱۱۔ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں ۱۲۔ میں آپ سے زیادہ تجربہ کار ہوں۔

آپ سے چلنا ۱۱۔ مثل) بے خود ہو جانا۔  
آپ سے دور۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مخاطب کی نسبت بڑی بات

کہنا بے جا سمجھا جاتا ہے۔  
آپ سے دور آپ کی جان سے دور ۱۱۔ مثل) آپ کو نقصان نہ پہنچے  
آپ کو خدا کیلئے۔

آپ سے گزرتا ۱۱۔ محاورہ) ۱۱۔ بے خود ہو جانا ۱۲۔ انسانیت سے گزرتا  
آدمیت سے گزرتا ۱۲۔ اپنی حیثیت کو کھول جانا ۱۲۔ مغرور ہو جانا۔

ہیں آپ تو بہت قابل تعریف کام کرتے ہیں۔ طنزاً بھی کہا جاتا ہے۔  
آپ کی یہاں کچھ نہ چلے گی۔ آپ کا یہاں زور نہیں چلے گا۔  
آپ کے دشمن اس وقت کہتے ہیں جب مخاطب کو کسی بُری بات سے  
نمسوب کرنا نہیں چاہتے۔ جیسے کوڑا لیا جائے تیرے دشمن۔  
آپ کے منہ کا اُکال ہمارے پیرٹ کا ادھار ۱۱۔ مثل آپ کے لگے  
کا بچا ہوا ہمارے لیے کافی ہے۔ مالدار کی ادنیٰ توجہ سے غریب کا بھلا  
ہو جاتا ہے۔

آپ کیا گانتے ہیں ۱۱۔ محاورہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔  
آپ مرے جگ (جہان) پر لو ۱۱۔ مثل اخو دم گئے تو دنیا ہی ختم ہو گئی۔  
آپ میاں صوبے دار گھر میں ہوی جھونکے بھلا ۱۱۔ مثل (مفسس  
میں بیٹے پختے رہنا۔ ظاہر ہیں دولت مند اصل میں مفلس۔  
آپ میں۔ اپنے ہوش میں۔  
آپ میں آنا۔ ہوش میں آنا۔

آپ میں پانا۔ اپنے نفس میں پانا۔ اپنی ذات میں حاصل ہو جانا۔  
آپ میں کیا شاخ زعفران لگی ہے ۱۱۔ مثل آپ میں ایسی کیا خصوصیت  
آپ میں نہ رہنا ۱۱۔ محاورہ ہوش و حواس کھو دینا۔  
آپ میں نہ سمانا بے خود ہو جانا۔ بہت خوش ہونا۔  
آپ میں نہ ہونا بے خود ہونا۔ ہوش میں نہ ہونا۔

آپ نے مجھے مولے لیا ہے ۱۱۔ مثل آپ نے مجھ پر اتنی زیادہ مہربانی  
کی ہے گویا خرید لیا ہے۔ آپ نے مجھ پر بے حد احسان کیا ہے۔  
آپ ہارے ہو گویا مارے ۱۱۔ محاورہ اپنی خفت دوسرے پر اتارنا۔

آپ ہر فن مولیٰ ہیں ۱۱۔ محاورہ آپ بہت ہوشیار ہیں۔  
آپ ہی آپ۔ اپنی آپ۔ خود بخود۔ بلا وجہ۔ بلا سبب  
آپ ہی آپ نہیں کرنا ۱۱۔ محاورہ خود سے باتیں کرنا۔ پاگلوں کی طرح  
خود بخود بولے جانا۔

آپ ہی آپ جلینا۔ خود بخود رنج سے گھٹا جانا۔ رشک کرنا۔  
آپ ہی اپنی قبر کھودنا۔ اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کے سامان کرنا۔  
آپ ہی بی بی آپ ہی باندی ۱۱۔ مثل وہ خاتون جو سارے گھر کے کام  
خود ہی کرتی ہو۔ مراد اکیلی گھر میں تنہا۔

آپ ہی کا کھاتا ہوں ۱۱۔ مثل آپ ہی کے دیے ہوئے سے سیر کرتا ہوں۔  
آپ ہی کی جوتیوں کا حد قہر ہے ۱۱۔ مثل آپ ہی کی بدولت ہے۔  
آپ ہی ماسے آپ ہی چلائے ۱۱۔ مثل خود ہی ظلم کرے اور خود  
ہی مظلومان فریاد کرے۔

آپ ہی ناک چوٹی میں گرفتار ہیں ۱۱۔ مثل گھر کے دھندوں میں  
مصر دلت ہیں۔ دنیا کے بھٹیوں میں مبتلا ہیں ۱۱۔ طے نازک مزاج ہیں  
آپ ہیں۔ کلمہ تعجب۔ کسی شناسا کو یگانگ یا شک کے بعد پہچانتے پر  
بولتے ہیں۔

آپا (آپا) ۱۰۔ مٹ [۱۱] اپنی اصلیت۔ ہستی خودی ۱۱۔ ہوش و حواس  
سُٹھ بڑھ (۱۱) بڑی بہن باجی  
آپا اماں۔ بڑی بہن کو ادب سے کہتے ہیں۔

آپا (جان) اجانی۔ بڑی بہن کو ادب سے بیکارنے کا اندازہ۔  
آپا تجھے سو نہر کو بھجے ۱۱۔ مثل اپنے آپ کو مٹا کر ہی خد ملتا ہے۔  
آپا دھپالی۔ اپنی اپنی نگر۔ اپنی اپنی لگن۔ خود مرضی۔  
آپٹروفون (Optophone) آپ۔ ٹو۔ فون [انگ۔ ۱۔ نڈ] آکر صدانا  
ایک آدھوروشی کو آواز میں بدل دیتا ہے۔ اس کی مدد سے اندھے کان  
سے ذریعے سے بڑھ سکے ہیں

آپریٹور (Operator) آپ۔ رے۔ ٹر [انگ۔ ۱۰۔ نڈ] مشین چلانے والا  
آپس۔ آپس [۱۰۔ مٹ] ایک دیگر۔ باہم (۱۱) رشتہ داری۔  
قربت۔ ناتا۔ میل جول۔ یک جہتی۔

آپس داری۔ رشتہ داری۔ قربت۔ ناتا۔  
آپس کا معاملہ۔ باہمی معاملہ۔  
آپس کا واسطہ ۱۱۔ مذ [قربت کا تعلق]۔ واہ درہم کا علاقہ۔ میل جول کی  
خصوصیت۔

آپس کی بات چیت۔ باہمی گفتگو۔ گھر کا معاملہ۔  
آپس کی بھڑک۔ باہمی نا اتفاق۔  
آپس کی گفتگو۔ باہمی بات چیت۔

آپس میں ۱۱۔ متعلق مثل ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری میں  
آپس میں رہنا ۱۱۔ محاورہ دل چل کر رہنا۔ اتفاق کے ساتھ رہنا۔  
آپس میں یک دل ہونا۔ باہم متفق ہونا۔

آپس میں (تا) (ق)۔ صفت [خود دار۔  
آپسینا (آپ۔ پتچ۔ نا) (ہ)۔ مص [پتچ جانا پکڑ لینا۔ منزل طے کرنا۔  
آپسنسا (آپ۔ پتچ۔ نا) (مص) [فرب میں آنا۔ دھوکا کھانا۔ گرفتار ہونا۔  
اتفاق سے گرفتار ہونا۔ اجانگ گھر جانا۔

آپس (ق)۔ ص) آپ خود۔ خود ہی۔  
آپس سے باہر ہو جانا ۱۱۔ محاورہ بے خود ہو جانا۔ غصہ میں بے خود ہو جانا۔  
آپس سے جانا ۱۱۔ محاورہ قابو میں نہ رہنا۔ حواس کھو دینا۔  
آپس سے گزر جانا ۱۱۔ محاورہ بے حد غصہ آنا۔

آپس سے نکلنا ۱۱۔ محاورہ آپس سے باہر ہو جانا۔  
آپس میں (آنا) (اجانا) ۱۱۔ محاورہ ہوش میں آ جانا۔  
آپس میں نہ رہنا ۱۱۔ محاورہ آپ میں نہ رہنا۔ زیادہ غور کرنا۔  
آپس میں نہ ہونا ۱۱۔ محاورہ (۱۱) آپ میں نہ ہونا (۱۱) سخت غصہ آنا۔

## آت

آت : بعض کلمات میں بطور لاحقے کے استعمال ہو کر مصدری فائدہ  
دیتا ہے جیسے ہنات۔ برسات۔

آتا (آتا) ۱۰۔ نڈ [ماضی تہائی] آنے والا (۱۱) قرض  
آتا جانا (۱۱) ہمارت۔ مشتق (۱۱) آنے جانے والا۔ مسافر۔  
آتا نہ چھوڑے جانا نہ موڑے۔ جو چیز آ رہی ہو اسے چھوڑنا نہ چاہیئے۔  
ادگئی ہوئی چیز کا علم نہ کرنا چاہیئے۔

آتے آتے متعلق فعل پہنچنے پہنچنے چلتے چلتے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آتے آتے پھر جانا (۱) محاورہ (۱) راستے سے لوٹ جانا۔ راہ سے واپس ہو جانا (۲) آزاد بدل جانا۔  
 آتے بھلے نہ جلتے (۱) مثل) آنا جانا برابر ہے۔  
 آتے جاتے اسم حالیہ آئے جانے میں۔ چلتے پھرتے۔ راہ چلتے۔ راہ لگی میں آتے کا منہ دیکھتی گئی جاتے کی پلٹھ (۱) مثل) آجے جینی سے انتظار کرتی تھی آتھس (۱) آتش (۱) مٹ (۱) آگ (۱) نار۔ جلن۔ سوزش (۲) اُردو کے مشہور شاعر خواجہ حیدر علی لکھنوی کا تخلص۔  
 آتش افزو رات۔ صف) آگ بھڑکانے والا۔  
 آتش اندر وہ رات۔ صف) وہ آگ جس میں شعلہ نہ ہو۔ مرجحائی ہوئی آگ۔  
 آتش انجیز رات۔ صف) آگ بھڑکانے والا۔  
 آتش بار رات۔ صف) آگ برسانے والا۔  
 آتش بازی رات۔ صف) آتش بازی بنانے والا۔  
 آتش بازی رات۔ مٹ) آگ کا کھیل (۲) پھل پھلوی۔ مہنگائی وغیرہ جو گندھک اور کوئلے وغیرہ سے بنتی ہیں اور آگ لگا کر تماشہ دیکھتے ہیں۔  
 آتش بیان رات۔ صف) آتش۔ شعلہ بیان۔ وہ مفرح جس کی تفریح سے سامعین کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہو۔  
 آتش۔ یا رُو رات۔ صف) (۱) شراب (۲) سورج (۳) غصہ (۴) بلا دھوئیں کی آگ۔  
 آتش پاؤں رات۔ صف) بے قرار۔ مضطرب۔ تیز رفتار۔  
 آتش پرست رات۔ صف) آگ پوجنے والا۔ پارسی۔ زرتشت کو ماننے والا۔  
 آتش پیچر۔ جن۔ آفتاب۔ بھوت۔ شیطان۔  
 آتش تیراں رات۔ مٹ) اشتراک۔  
 آتش جاں سوز رات۔ مٹ) عشق کی گرمی۔ جان کو جلانے والی آگ۔  
 آتش خاموش۔ بجھی ہوئی آگ (۲) خاموش گرمی مراد محبت۔  
 آتش خانہ رات۔ مٹ) آتش پرستوں کا عبادت خانہ جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔  
 آتش خوات۔ صف) غصہ در۔ تیز مزاج۔ غصے والا۔  
 آتش خوار رات۔ صف) (۱) آگ کھانے والا (۲) ایک جانور کا نام جو روایتاً آگ کھاتا ہے (۳) ظالم۔ رشوت خور۔  
 آتش دان رات (۱) مٹ) آگ جلانے کی جگہ۔ چوٹھا۔ انگلیٹھی۔  
 آتش دروں رات (۱) مٹ) اندر کی آگ۔ محبت۔ سوز و گداز۔  
 آتش دل رات (۱) مٹ) دل کی آگ۔ سوز و گداز۔  
 آتش لبخ رات۔ صف) سرخ چہرے والا۔ لال رنگ والا معشوق (۲) غصہ در۔  
 آتش رنگ۔ آگ کے رنگ کا۔ سرخ بھھوکا۔  
 آتش زبان رات۔ صف) شعلہ بیان۔ اپنے بیان سے طبیعتوں کو گرم کرنے والا۔ بمرجوش تفریح کرنے والا۔  
 آتش زبانی رات (۱) مٹ) آگ لگانا۔ نیز بیان دینا۔  
 آتش زردی رات (۱) مٹ) آگ لگانا۔  
 آتش زرتشت۔ وہ آگ جو آتش پرستوں کے رہنما زرتشت کے آتش کدے

میں تھی۔

آتش زنی (۱) آگ لگانا۔ (۲) فساد کرنا۔  
 آتش زیر پا رات۔ صف) بے قرار۔ بے چین۔ مضطرب۔  
 آتش نیک رات (۱) مٹ) چنگاری جو پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اور کسی چیز کے ٹکرانے سے ظاہر ہوتی ہے۔  
 آتش نیال رات (۱) مٹ) ابھتی ہوئی آگ (۲) شراب (۳) حمال کھلی کا لاد  
 آتش سیدہ۔ سینے کی آگ۔ دل کی آگ۔ اندر کی آگ۔ اندر کا دکھ۔  
 آتش طبع رات۔ صف) غصہ در۔ تیز مزاج۔  
 آتش طور رات (۱) مٹ) وہ آگ جو طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو نظر آئی تھی۔  
 آتش عنان رات۔ صف) تیز چلنے والا۔ تیز رو۔  
 آتش فارسی۔ آتشک کی بیماری۔  
 آتش نشان رات۔ صف) آگ برسانے والا۔ شعلے اور جگاریاں چھڑانے والا۔  
 آتش نشان پہاڑ رات (۱) مٹ) آگ برسانے والا۔ وہ پہاڑ جس کے دہانے سے آگ نکلے۔  
 آتش قدم رات۔ صف) (۱) آگ جیسے قدم والا (۲) گرم رو۔ تیز قدم تیز چلنے والا۔  
 آتش کا پیر کالہ رات (۱) مٹ) آگ کا ٹھکانا (۲) چالاک۔ ہوشیار۔ تیز شوخ (۳) شریر۔ مفسد۔ (۴) اذہن۔  
 آتش کبریت (۱) گندھک کی آگ (۲) دیاسلٹی۔  
 آتش کدہ رات (۱) مٹ) وہ عمارت جہاں آگ کی پرستش ہوتی ہے آتش پرستوں کا معبد۔  
 آتش گیر رات۔ صف) جلدی آگ پکڑنے والی۔ جلد بھڑک اٹھنے والی چیز (۲) چٹا۔ دست پناہ۔  
 آتش گیر مادہ رات (۱) مٹ) جھک سے اڑ جانے والا مادہ۔ جلدی آگ پکڑنے والا مادہ۔  
 آتش مزاج رات۔ صف) آگ جیسے مزاج والا۔ جھگڑا۔ تیز مزاج۔ تند خو۔  
 آتش ناگ رات۔ صف) آگ سے بھرا ہوا۔ نہایت گرم۔  
 آتش نمرود رات (۱) مٹ) وہ آگ جو نمرود نے حضرت ابراہیم کو زندہ جلانے کے لیے روشن کی تھی اور جو خدا کے حکم سے چمن بن گئی۔  
 آتشک (آت۔ نیک) رات (۱) مٹ) ایک جنسی بیماری۔ گرمی۔  
 آتشک لگنا۔ ایک سے دوسرے کو آتشک کی بیماری لگانا۔  
 آتشک آت۔ نیک) شک (یا) اُڑ۔ صف) وہ شخص جس کو آتشک کی تفریح ہوتی ہو۔  
 آتش آت۔ نیک) (آت۔ نیک) رات (۱) مٹ) آگ سے نسبت رکھنے والا۔ آگ سے بنا ہوا (۲) گرم مزاج۔  
 آتش اینٹ رات (۱) مٹ) ایسی اینٹ جو آگ کی انتہائی تپش سے بھی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ اینٹ کیمیائی مرکبات سے بنائی جاتی ہے۔  
 آتش شیشہ رات (۱) مٹ) تختہ شیشہ جس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی دکھائی دیتی ہیں (۲) اس کو سورج کے سامنے رکھنے سے سورج کی کرنیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اور نیچے رکھے ہوئے کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے۔

آرتی شیشی (ن) ۱۔ مٹ [ ایک خاص قسم کی شیشی جس کے ذریعہ روغن کھینچتے اور جوہر اڑتے ہیں۔  
 آرتیں (آرت) شیش [ن]۔ صاف آگ جیسا۔ آگ کی طرح گرم۔ آگ کی طرح سرخ  
 آرتیں (رُخ) رخسار آگ کی طرح دکھتا چہرہ۔ آگ کی طرح دیکھنے سے کال  
 آرتما (آرت)۔ ما (اس)۔ مٹ [ (۱) دل۔ روح۔ وجود (۲) پیٹ۔ معدہ۔  
 (۳) جھوک (۴) مانتا۔ محبت۔  
 آرتما کھنڈی کرنا ۱۱۔ محاورہ اہی خوش کرنا۔ بھوکے کا بیٹ بھرنے کا۔ مسکھ بھرنے کا۔  
 آرتما ستانا ۱۱۔ محاورہ اہی دکھانا۔ دل آزادی کرنا۔  
 آرتما کا کوسنا۔ دل سے بددعا کا کلنا۔  
 آرتما کا کلنا ۱۱۔ محاورہ اہی دکھانا۔  
 آرتما کلنا ۱۱۔ محاورہ اہی دکھانا۔  
 آرتما کی آویج (۱)۔ مٹ [ ماں باپ کی محبت۔  
 آرتما مسوسن (۱)۔ محاورہ) مانتا اور محبت کو ضبط کرنا۔  
 آرتما میں آگ لگی ہے (۱)۔ محاورہ (۱) بہت جھوک لگی ہے (۲) محبت کی آگ بہت تیز ہے۔  
 آرتما میں بڑے کو پر ماتمی سوچھے ۱۱۔ مثل اپیٹ میں روٹی پڑتی ہے تو خدا بھی یاد آتا ہے۔  
 آرتوں (آرتوں)۔ توتہ آرتوں [مٹ]۔ آرتما۔ لڑکیوں کو پرستنا لکھنا سکھانے والی۔  
 آرتی پاتی (آرتی)۔ پاتی [ (۱)۔ مٹ] ایک کھیل جس میں بہت سے لڑکے جمع ہو کر ایک لڑکے کو چور بنا سکتے ہیں۔ اسے کسی بیڑ کی پتی لینے بیچنے میں اس کے چلے جانے پر سب لڑکے چھپ جاتے ہیں۔ پتی لے کر لوٹ آتے پر وہ لڑکا جس کو ڈھونڈ کر کھڑ لیتا ہے وہ چور کہلاتا ہے۔ اس لڑکے کو بھی اسی طرح پتی لینے جانا پڑتا ہے۔ یہ کھیل عام طور پر چاندنی راتوں میں کھیلا جاتا ہے۔  
 آرتی ہے ہاتھی کے پاؤں اور جاتی ہے چیونٹی کے پاؤں [۱]۔ مثل بڑی تیزی سے آتی ہے اور دھیرے دھیرے جاتی ہے۔ عموماً بھولی کے متعلق کہتے ہیں۔

## آرٹ

آرٹا دل اٹو بھی ہے (۱)۔ مثل (۱) اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہیں (۲) بے جوڑ بات کہتے وقت یہی بولتے ہیں (۳) بڑی چیز سے لے کر معمولی چیز تک موجود ہے۔  
 آرٹا کر دینا۔ بہت باریک پس ڈالنا۔  
 آرٹا کیلا ہوتا (۱)۔ آٹے میں پانی زیادہ پڑ جانا (۲) وقت پڑنا۔ کام بگڑنا۔ مشکل میں پڑنا۔ حیران ہونا۔  
 آرٹا مانی ہونا۔ خراب ہونا۔ ستیا ناس ہونا۔ زن۔  
 آرٹا نڈرا بوجا رٹکا [۱]۔ مثل [ مالدار غریب ہو گیا تو محنت خوردے غائب ہو گئے۔  
 آرٹا نہیں تو دل یا جب بھی ہو جائے گا۔ (۱)۔ مثل اٹھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوگا۔  
 آرٹا ہو جانا (۱)۔ باریک ہو جانا (۲) ٹوٹ پھوٹ جانا (۳) گھن گگ مانا۔ سڑ جانا۔  
 آٹے وال کا بھاؤ تننا (۱)۔ محاورہ (۱) تنبیہ کرنا۔ خوب خیر لینا۔ دھمکانا۔  
 آٹے وال کا بھاؤ کھلنا (۱)۔ آٹے وال کا رخ معلوم ہونا (۲) ذلیکے نشیب و فراز معلوم ہونا۔ حقیقت معلوم ہونا۔  
 آٹے وال کا بھاؤ معلوم ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) قدر عایت معلوم ہونا۔ اونچ نیچ کا پتہ چلنا۔  
 آٹے دل کی فکر۔ روزی کی فکر۔  
 آٹے کا چراغ، گھر رکھوں تو چوہا کھائے، ہاں رکھوں تو گوڑے چلے [۱]۔ مثل [ ایسی بات جس میں ہر صورت میں نقصان ہو۔  
 آٹے کی آیا (۱)۔ مثل بھولی بھالی عورت، بے وقوف عورت۔  
 آٹے کی ملی سہم (۱)۔ مثل (۱) بہ ظاہر خوف ناک ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں۔  
 آٹے کے سا فھر کھن پسنا (۱)۔ محاورہ (۱) گناہ گار کے ساتھ بے گناہ کو سزا ملنا۔  
 آٹے میں نمک (۱)۔ مثل (۱) بہت نظروں۔ ذرا سا۔ واہبی سا۔ معمولی سا۔  
 آٹم یا ٹم (آٹم، باٹم) [۱] ہر جگہ۔ اوپر نیچے۔  
 آٹما (آٹ)۔ نا [ (۱)۔ مص ] دبانا۔ بند کرنا۔ بھرنے۔ بند کرنا۔  
 آٹوگراف (Autograph) (آ)۔ ٹو۔ گراف [ (۱)۔ نگ۔ (۱)۔ ند ] اپنے ہاتھ کی تحریر۔ خصوصی دستخط۔  
 آٹوٹیک (Automatic) (آ)۔ ٹو۔ سے ٹیک [ (۱)۔ نگ۔ صف ] دیکھیے خود کار۔  
 آٹھ (۱)۔ صف (سات اور ایک)۔ چار کا ڈگنا۔  
 آٹھ آنسو رونا (۱)۔ محاورہ (۱) پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ بہت رونا۔  
 آٹھ اٹھارہ کرنا (۱)۔ محاورہ (۱) پریشان کرنا۔ تتر بتر کرنا۔ متفرق کرنا۔ پرانگہ کرنا۔  
 آٹھ بار تو توبہ مار (۱)۔ مثل (۱) عیش پروری کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ آٹھ دن میں نویسے مناتے ہیں۔  
 آٹھ پھر (۱)۔ روزمرہ (۱)۔ جو میں گھنٹے، ایک دن رات (۲) ہر وقت ہر لمحہ  
 آٹھ پھر جو نسطھ گھڑی (۱)۔ مثل (۱) رات دن جو میں گھنٹے۔ ہر وقت۔  
 آٹھ پھر سوسنی ہے (۱)۔ مثل (۱) ہر وقت بلا کا سامنا ہے۔  
 آٹھ پھر میان سے باہر رہنا (۱)۔ مثل (۱) ہر وقت لڑنے پر مستعد رہنا۔  
 آٹھ جولی ہے لوستے، برس پر بھی دھکم دھکے (۱)۔ مثل (۱) ضرورت سے زیادہ سامان ہونے پر بھی جھگڑنا۔

آٹم (ع۔ صف) عاصی۔ گناہ گار۔

## آج

آج ۵۱۔ صف (۱۱) جودن گزرتا ہو۔ (مروز (۱۲) ان دنوں۔ اس وقت (۳۱)

میں حیات۔ موجودہ زمانہ (۴) وقت حاضر۔

آج آٹھ کل چلے ۱۱۔ مثل جلدی جانا۔ ممان کام ٹھہرنا۔

آج برس کے پھر نہ برسوں کا ۱۱۔ مثل بہت زور کی بارش ہونا۔

آج تک (متعلق فعل) اب تک۔ اس وقت تک۔ آج کے دن تک۔

آج تک پڑے ہینک ہگ رہے ہیں ۱۱۔ مثل اس وقت کہتے ہیں

جب کوئی اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگت رہا ہو۔ یعنی اب تک مصیبت

میں مبتلا ہے۔

آج جو کرنا ہے کر لے، کل کی کل کے ہاتھ ہے ۱۱۔ مثل آج عمل خیر

کر لے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔

آج زمان نکلی ہے کل بند ۱۱۔ مثل زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔

آج سے (متعلق فعل) اب سے۔ اس وقت سے۔

آج سے کل نزدیک ہے ۱۱۔ مثل جب کوئی آنے والے زمانے کو دیکھ کر

کام میں سستی کرے تو کہتے ہیں کہ آنے والا وقت بہت جلد آجائے۔

آج صبح کس کا منہ دیکھا ہے ۱۱۔ مثل سارا دن پریشانی آنے کے

موقع پر کہتے ہیں کہ صبح کس منہ کو دیکھ لیا ہے۔

آج کا دن۔ موجودہ دن۔

آج کا کام آج ہی کرنا چاہئے ۱۱۔ مقولہ کام دوسرے وقت پر ملانا غلط ہے۔

آج کا کام کل پر (اٹھارہ گھنٹا) ملانا یا چھوڑنا۔ کام کرنے میں سستی کرنا۔

مثال مٹول کرنا۔ ملتی کرنا۔

آج کدھر بھول پڑے ۱۱۔ محاورہ اچانک کس طرح آگے ۶

آج کدھر جانہ نکلا ۱۱۔ محاورہ آج کس طرح آنے کا موقع مل گیا۔

آج کیسے کا گل پائے گا ۱۱۔ مثل کیسے کا پھل ضرور ملتا ہے۔

آج کل ۱۱۔ محاورہ (۱۱) ان دنوں۔ اس وقت۔ عن قریب۔ بہت جلدی (۲)

جیلہ حوالہ۔ مثال مٹول۔

آج کل ان کے دور دورے ہیں ۱۱۔ مثل آج کل ان کا بڑا عروج ہے یا

عزت خوب بنی ہوئی ہے۔

آج کل بارہ برس کی بیٹیاں ہر ملنے سے ۱۱۔ مثل آج کل زمانے سے شرم و جیا

اٹھتی ہے۔ بارہ برس کی بچی بھی خاندان جاہلی ہے۔

آج کل تبتانا ۱۱۔ محاورہ اٹھنا۔ نیت و عمل کرنا۔ وعدہ و عہد کرنا۔

آج کل تمہا سے نام کی کمان پڑھتی ہے ۱۱۔ مثل تیری کارنامہ ہے۔

اقبال مندی کا دوسرے۔

آج کل کرنا۔ جھوٹے وعدے کرنا۔ ملانا۔

آج کل میں (تابع فعل) بہت جلد۔ عن قریب۔

آج کل نہ جانا ۱۱۔ محاورہ مکر و فریب سے باز نہ آنا۔

آج کے بیٹے کل کے سیٹھ ۱۱۔ مثل زمانہ کا انقلاب جو غریب تھا وہ

آٹھ گاؤں کا چودھری، بارہ گاؤں کا راؤ ۱۱۔ مثل کوئی آدمی خواہ

اپنے کام نہ آؤ، نوایسی تیسری میں جاؤ ۱۱۔ مثل کتنا ہی بڑا اور صاحب

دساک ہوا اگر کسی کے کام نہیں آتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

آٹھواں (آٹھ۔ داں) (۱۱۔ صف) (۱۱) ساتویں کے بعد (۲۱) کسی چیز کا

آٹھواں حصہ (۳) محل کا آٹھواں مہینہ۔

آٹھوں (آ۔ ٹھوں) (۱۱۔ صف) (۱۱) ہولی کا آٹھواں دن۔ آٹھ کے آٹھ۔

آٹھوں پہر۔ چوبیس گھنٹے رات دن۔ ہر وقت۔

آٹھوں کا میلہ۔ ہولی کے آٹھویں دن ہندوؤں کا میلہ۔

آٹھوں کا ٹھہر کیمت ۱۱۔ مثل (۱۱) وہ کیمت کھوٹا جس کے آٹھوں جوڑ

بہت مضبوط ہوں۔ (۲۱) شہریر۔ چالاک۔ عیبی۔ جرم زادہ۔ عیار۔ ہوشیار۔ مضبوط

آٹھوں (آٹھ۔ ویں) (۱۱۔ صف) (۱۱) مینے کی آٹھویں تاریخ۔ کتنی میں سات

کے بعد کا بند ہے۔

آٹھویں ساتویں ۱۱۔ محاورہ کبھی کبھی۔ گاہے گاہے۔

## آٹ

آٹار (آ۔ شمار) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱۱) اثر کی جمع (۲۱) سنت رسول (۳) صحابہ کرام

کے اقوال و افعال (۲) نیو۔ بنیاد (۱۵) دیوار کی چوڑائی (۶) سیر کے معنی میں

(وزن کے لیے) (۱۱) اطوار، طور طریقے (۸) علامات (۹) انداز۔ (۱۰)

رہ چھن (۱۱) نقوش۔ نشان۔

آٹار اچھے یا بُرے ہونا ۱۱۔ محاورہ ڈھنگ اور علامتیں اچھی یا بُری ہونا۔

آٹار بانی ہونا ۱۱۔ محاورہ نشان نہ جانا۔

آٹار بد ع۔ ف۔ مذ۔ بُرے مسکون بُری فال۔

آٹار بندھ جانا ۱۱۔ محاورہ علامتیں ظاہر ہونا۔ نشانیاں ظاہر ہونا۔

آٹار ہائے جانا ۱۱۔ محاورہ علامتیں دکھائی دینا۔

آٹار بڑھنا ۱۱۔ محاورہ نیوڑنا۔ بنیاد قائم کرنا۔

آٹار بھلا ہونا ۱۱۔ محاورہ علامت ظاہر ہونا۔

آٹار چھا جانا ۱۱۔ محاورہ علامت کا کثرت سے ظاہر ہونا۔

آٹار خشر۔ آٹار قیامت۔ آٹار محشر (ع۔ ۱۰۔ مذ) قیامت کی نشانیاں۔

آٹار خیر (ع۔ ۱۰۔ مذ) اچھی علامتیں۔ نیکی کی نشانیاں۔

آٹار دکھائی دینا۔ آٹار نظر آنا۔ ڈھنگ گھلنا۔ چھن ظاہر ہونا۔ علامتیں

ظاہر ہونا۔

آٹار ڈالنا (رکھنا) نیو رکھنا۔ کام کا آغاز کرنا۔

آٹار شریف (ع۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) اولیاء اور انبیاء کے مزار نشانیاں اور تبرکات۔

آٹار صناید (ع۔ ۱۰۔ مذ) بزرگوں اور بادشاہوں کی نشانیاں۔ قدیم آثار۔

آٹار ظاہر (عیاں) ہونا ۱۱۔ محاورہ آثار دکھائی دینا۔ نشان پانا جانا۔

علامت بانی جانا۔

آٹار (عقینقا) قدیمہ۔ پرانے نشانیاں۔ کھنڈرات۔ ہولی تابہ نجی علامتیں

آٹار منبر (ع۔ ۱۰۔ مذ) مقدس نشانیاں۔ بزرگوں کی یادگار ہیں۔

آٹار نیک۔ اچھے شکون۔ نیک فال۔ اچھی علامتیں۔

امیر ہو گیا۔  
 آج کے تجھے آج ہی نہیں چلتے (۱)۔ مثل (کام ایک دم نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ ہوتا ہے)  
 آج کیا جانی دنیا دیکھی (۱)۔ مثل [بعد مدت کسی کے آنے پر کہتے ہیں یعنی آپ کو کیا خیال آگیا۔]  
 آج کے دن۔ موجودہ دن۔ موجودہ زمانہ۔  
 آج مرے کل دوسرا دن (۱)۔ مثل [زندگی بالکل ناپائدار ہے۔]  
 آج میں، کل تو (۱)۔ مثل [سب کو مرنا ہے۔ موت سب کو آتی ہے۔]  
 آج میں ہوں اور وہ ہے (۱)۔ مثل [کسی سے لڑنے کے لیے غصے اور لڑائی کا ارادہ کرنا۔]  
 آج غصیبوں سے پانچ لگے ہو۔ اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے۔  
 آج ہمارے لیے کل تمہارے لیے (۱)۔ مثل [کسی کی خصوصیت نہیں۔ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔]  
 آج بے سر کل نہیں (۱)۔ مثل [روز بروز حالت خراب ہے (۲) جو آج زندہ ہے کل مردوں میں ہوگا۔]  
 آجبر (آج، آج)۔ (۱)۔ مذ [کام پر لگانے والا۔ اجرت پر کام لینے والا۔]  
 آجئون (آج، جنون) [ق] اب تک۔

## آج

آجیا۔ (آج) [ت] (۱)۔ مذ [باپ۔ دادا۔ نانا۔ بزرگ (۲) پڑانا ملازم پورٹھی خادمہ۔ دائی۔ آیا۔ تدبیری مانا۔]  
 آجیا (آج)۔ (۱)۔ مذ [پھل یا ترکاری کا مرکب جو سرکہ تیل یا پانی میں مزج مصالح ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ آجیا۔]  
 آجیا بنانا۔ آجیا تیار کرنا۔ آجیا ڈالنا۔ کسی پھل کو ترش کرنا۔  
 آجیا ڈالنا (۱)۔ آجیا بنانا (۲)۔ کلانا (۳)۔ سمرٹنا (۴)۔ پڑا رکھنا۔ بہت دن تک ڈال رکھنا۔  
 آجیا کرنا (نکالنا) (۱)۔ محاورہ، بہت ہیٹنا۔ بگت بنانا۔  
 آجیا یہ اس۔ مذ [استاد۔ معلم۔ گورو (۲)۔ برہمن (۳) کسی فرقے کا بانی (۴) ایک خطاب جو لائق آدمیوں کو دیا جاتا (۵) پانڈوؤں کے استاد درمن۔]  
 آجیا کا لقب۔  
 آجیا (۱)۔ صوت [چھینکے کی آواز۔]

## آج

آج (آج)۔ (۱)۔ ص [اصد کی جمع۔ ایک سے نو تک گنتی۔ اکابیاں۔]

## آج

آج (ار۔ ص) [کھا لسنے کی آواز کھانا (۲) نفرت کرنے کے لیے بولنے]

والا لفظ۔

آج (۱)۔ ص [کھنا کر کھونکے کی آواز۔ کلمہ حنارت۔ لعنت ملامت پھینکا۔ کلمہ است۔]

آج (آج)۔ (۱)۔ ص [وہ جانور جس کے فوطے نکال دیئے گئے ہوں۔ جھسی۔]

آج کرنا (اص مرکب) خبیثے لگانا۔ نامرد کرنا۔ بھجڑا بنانا۔

آج (آج)۔ (۱)۔ ص [لینے والا۔ پکڑنے والا۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ اور۔ ایک اور۔ دوسرا۔

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [وہیچے۔ پچھلا۔ حد۔ انجام۔ انتہا۔ ختم۔ تمام۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [وقت انتقال۔ موت۔ انجام کار۔ جمع آواز۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [کار۔ انجام کار۔ سب سے پچھلا۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ سہو اور خطا انسان کی فطرت میں ہے۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ تیج توہم کا آدمی مرتبہ پانے پر بھی ذلیل حرکتوں سے باز نہیں آتا۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آج (ار۔ ص)۔ (۱)۔ ص [مثل (۱)۔ انجام کار۔ انجام کار۔]

آخری اشاعت (ع۔ ف۔ مٹ) آخری مرتبہ شائع ہونا۔ مکرر۔  
 آخری بہار (ع۔ ف۔ مٹ) اخیر فصل۔ آخری موسم حسن یا موسم کا آخری زمانہ  
 آخری پوشاک۔ لکھن۔

آخری چہار شنبہ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱۱) آخری بدھ۔ (۲۱) عربی کے دومرے  
 بیسے صفحہ کے آخری بدھ کو حضرت رسول مہینوں نے غسل صحت فرمایا  
 تھا۔ اس کی رسم۔

آخری دم۔ زندگی کا آخری سانس نزع کا عالم۔  
 آخری دُور (۱۱) اخیر زمانہ (۲۱) آخری گشت۔ جام شراب کی آخری گردش  
 آخری دیدار (ع۔ ف۔ مذ) وقت نزع کا دیدار۔ جنازہ اٹھتے وقت کا دیدار  
 مریے کا چہرہ قبر میں رکھنے کے بعد دیکھنا۔

آخری ڈگری (ع۔ ا۔ مٹ) وہ ڈگری جو عدالت سے آخری دفعہ دی چلتے  
 آخری زمانہ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱۱) اخیر وقت۔ بڑھاپے کے دن (۲) قرب  
 قیامت کا زمانہ۔

آخری سواری (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) سواری پر آخری مرتبہ چڑھنا (۲۱)  
 جنازہ سے مراد ہے۔

آخری صحبت (ع۔ ا۔ مٹ) آخری ملاقات۔  
 آخری فہمائش (ع۔ ف۔ مٹ) وہ نوٹس جو آخری دفعہ جاری کیا جاتے۔  
 آخری اطلاع نامہ۔

آخری قیمت (ع۔ ا۔ مٹ) وہ زیادہ سے زیادہ دام جو آخر میں لگیں۔  
 وہ قیمت جس پر سودا طے ہو جائے۔  
 آخری معلومہ سکونت۔ وہ جگہ جہاں کسی کا آخری قیام معلوم ہو۔

آخری ملاقات۔ وہ ملاقات جس کے بعد طے کا اتفاق نہ ہو۔  
 آخریں (آخر۔ بریں) [ف۔ صغ] آخر کا سب سے بعد کا۔  
 آخریں دم۔ آخری سانس۔ نزع کا وقت۔ سب سے اخیر وقت۔

آخر (آ۔ خور) [ف۔ ا۔ مٹ] (۱۱) چوپایوں کے گھاس چارے کی جگہ۔  
 (۲۱) طویلہ۔ اھطیل (۳) وہ گھاس جو مویشیوں سے نچ رہتی ہے (۳۱)  
 نکما۔ خواب۔ ناکارہ۔ بے کار (۴) کوڑا کرکٹ۔ رومی۔

آخر سالار۔ طویلہ کا سردار۔ متمم یا نگاہ۔ اھطیل کا افسر  
 آخر سنسلیں۔ بیخبر مقام۔ چٹیل میدان۔  
 آخر کی بھرتی (ف۔ ا۔ مٹ) ایسے کامضامین کی کثرت، نیکے اور نالائق  
 آدمی کو جمع کرنا۔ ناکارہ چیزوں کا ڈھیر۔

احون۔ اخوند (آ۔ خون) (آ۔ خوند) [ف۔ ا۔ مذ] استاد معلم بیابانی۔  
 اخون زادہ۔ استاد کا بیٹا۔

## آ۔ د

آد (د۔ صف) [۱۱] اول۔ ابتداء۔ آغاز (۲۱) سدا۔ ہمیشہ۔  
 آداب (آ۔ داب) [آ۔ ر۔ مذ۔ ج] (۱۱) ادب کی جمع (۲۱) مرتبے کا پاس لحاظ  
 (۳) قواعد (۴) تعظیم سے سلام کرنا (۲) تعظیمی الفاظ (۵) تہذیب۔  
 اخلاق (۶) طنز کے شکر یہ اور کرنے کا نماز۔

آداب بجالانا (۱۱) محاورہ (۱۱) بجز وانگسار سے سلام کرنا (۲) شکر یہ ادا  
 کرنا۔ (۳) رخصت ہونا۔ فائل ہوجانے والے کو طنزاً سلام کرنا۔  
 آداب اشا ہائے شاہی (ع۔ ف۔ مذ) (۱۱) بادشاہوں سے بات چیت  
 کرنے اور درباری حاضر کی کے طریقے (۲) بادشاہوں کا سلام۔

آداب صحبت (ف۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) محفل کے انداز اور طور و طریقے۔  
 آداب عرض کرنا (۱۱) محاورہ (۱۱) ادب سے سلام کرنا (۲) آداب بجالانا۔  
 آداب عرض ہے (۱۔ محاورہ) (۱۱) تسلیم عرض ہے (۲) مشکل کام دینے  
 سے پرہیز اور کسی کے ناکام رہنے پر طنزاً سلام کرنے کے وقت کہتے ہیں۔

آداب فن (ع۔ ف۔ مذ) کسی تہذیب اور اصول کے قاعدے۔  
 آداب کرنا (۱۱) محاورہ (۱) ادب سے سلام کرنا۔

آداب محفل (ع۔ ف۔ مذ) مجلس کے قاعدے اور طریقے۔  
 آداب والقباب (ع۔ ف۔ مذ) خطر کے آغاز میں مکتوب الیہ کے  
 مرتبے کے موافق جو الفاظ اور فقرے لکھے جاتے ہیں۔

آداب و تسلیمات (ع۔ ف۔ مذ) نہایت عاجزی سے سلام کرنا کوئی شجر  
 آداب ہے (۱۔ محاورہ) (۱۱) سلام عرض ہے (۲) رخصت چاہتا ہوں۔  
 آدرش (اس۔ ا۔ مذ) آئینہ (۲) اصل نمونہ (۳) اصول (۴) سیرت (۵)  
 معیار (۶) کسی گھرنے کے روایتی اخلاق۔

آدم (آ۔ دم) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) آدمی۔ انسان (۲) حضرت آدم جو پہلے  
 انسان تھے۔

آدم آبی۔ ایک چوپایہ جو آدمی سے مشابہ ہونا سے اور بانی میں رہتا ہے  
 آدم بے سایہ (ع۔ ف۔ لقب) (۱) کتابیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی طرف۔

آدم ثانی (ع۔ ف۔ لقب) حضرت نوح کا لقب۔ کیونکہ طوفان نوح  
 کے بعد دنیا آپ کے ساتھیوں اور آپ کی نسل سے آباد ہوئی۔  
 آدم خالی (ع۔ ف۔ مذ) (۱) خاک کا پتلا۔ انسان۔ آدمی۔ مٹی کا بنا ہوا۔  
 آدم خور (ع۔ ف۔ صغ) آدمی کو کھا جانے والا درندہ یا وحشی لوگ۔  
 آدم راگندم بہشت نہ سالو (ف۔ نیش) انسان کو بہشت کے گیہوں  
 سے موافق نہیں۔ انسان کو اچھا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔

آدم زاد، آدمی زاد (ع۔ ف۔ مذ) آدمی کی اولاد۔ انسان۔  
 آدم شناس (ع۔ ف۔ صغ) اچھے بُرے آدمی کا پہچاننے والا۔  
 آدم صحابی (ع۔ ف۔ مذ) جنگی آدمی۔ وحشی آدمی۔  
 آدمی کی اولاد (۱۔ مذ) انسان۔ نسل آدم۔

آدم گیری (ع۔ ف۔ صغ) انسانیت۔ شرافت۔ آدمیت۔  
 آدم نہ آدم زاد (۱۔ مٹ) (مٹ) ویرانہ۔ بیابان۔ وہ جگہ جہاں پر روزنک آبادی  
 نہ ہو۔

آدمی (آ۔ می) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) انسان۔ (۲) انسانی اخلاق والا  
 سمجھ دار۔ تجزیہ دار۔ (۳) ملازم۔ نوکر۔ خادم (۴) قاصد (۵) خاندان۔ آشنا۔  
 آدمی آدمی انتہز کوئی ہیل کوئی لنگر (۱۔ مٹ) سب آدمی ایک جیسے نہیں  
 ہوتے۔ کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی بُرا۔

آدمی اپنے مطلب میں ادا ہوا ہوتا ہے۔ (۱۔ مٹ) انسان اپنی غرض حاصل  
 نہ کرے۔

آدمی (آ۔ می) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) انسان۔ (۲) انسانی اخلاق والا  
 سمجھ دار۔ تجزیہ دار۔ (۳) ملازم۔ نوکر۔ خادم (۴) قاصد (۵) خاندان۔ آشنا۔  
 آدمی آدمی انتہز کوئی ہیل کوئی لنگر (۱۔ مٹ) سب آدمی ایک جیسے نہیں  
 ہوتے۔ کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی بُرا۔

آدمی اپنے مطلب میں ادا ہوا ہوتا ہے۔ (۱۔ مٹ) انسان اپنی غرض حاصل  
 نہ کرے۔

آدمی اپنے مطلب میں ادا ہوا ہوتا ہے۔ (۱۔ مٹ) انسان اپنی غرض حاصل  
 نہ کرے۔

آدمیت سیکھنا۔ شعور سیکھنا۔ عقل و تیز حاصل کرنا۔  
 آدمیت سے گزر جانا (۱۔ محاورہ) انسانیت کی باتیں چھوڑ دینا۔ متراف  
 چھوڑ دینا۔ بد نظری اختیار کرنا۔  
 آدمیت کے حملے میں آنا (۱۔ محاورہ) شریف بن جانا۔ غصہ کم ہو جانا۔  
 آدمیت میں لانا (محاورہ) متراف سیکھنا۔ انسان بنانا۔  
 آنا (ق۔ مص) شروع کرنا۔ ابتدا کرنا۔ آغاز کرنا۔  
 آدھ (۱۔ صفت) آدھا کا مخفف۔ نصف۔ دو برابر حصوں میں ایک حصہ  
 آدھ سیر (۱۔ محاورہ) بیٹ بھر کا آٹا۔ رزق۔ روزی۔ گزراوقات کا ذریعہ  
 آدھ سیر کے سے لگ جاتا (۱۔ محاورہ) روزی کمانے لگتا۔  
 آدھا (۱۔ صفت) کسی چیز کے دو برابر حصوں میں سے ایک نصف  
 آدھا آب گھر۔ آدھا سب گھر (مثلاً) اسیل اسیل آدمی جو زیادہ حصہ خود  
 رکھ لیتا ہو۔  
 آدھا آدھا۔ نصف۔ نصف۔ ایک چیز کے دو برابر حصے۔  
 آدھا آدھا ہونا۔ ٹھنڈا۔ شرمندہ ہونا  
 آدھا پاؤ (۱) نصف پاؤ (۲) کھوڑا بہت۔ قدرے کچھ۔ کسی قدر۔  
 آدھا تیر، آدھا بیٹر (۱) (مثلاً) ان میل۔ بے جوڑ (۲) بد انتظامی اور  
 بد سلیقگی۔  
 آدھا رہ جانا (۱) محاورہ) بہت ڈبلا ہو جانا۔  
 آدھا سا بھیا (۱) مذ) برابر کی شریک۔  
 آدھل سی سی (۱) مذ) آدھے سر کا درد  
 آدھا کر دینا (۱) محاورہ) بہت کم کر دینا۔ بہت ڈبلا کر دینا (۲)  
 شرمندہ کر دینا۔  
 آدھا نام لینا (۱) محاورہ) حقارت یا محبت سے ادھر و ادھر نام لینا۔  
 آدھا ہو جانا (۱) محاورہ) بہت ڈبلا ہو جانا۔  
 آدھے پیٹے۔ نصف خوراک۔ جتنی بھوک ہو اس کا آدھا۔  
 آدھے دھڑ کا دم نکلنا (۱) محاورہ) آدھے بدن کی جان نکلنا۔ بیماری کا  
 کوئی حملہ جس میں آدھا بدن بے کار ہو جائے۔  
 آدھے فاضی قدوہ، آدھے باوا آدم (۱) (مثلاً) کثیر اولاد زیادہ عیالدار  
 آدھے کا سا بھیا۔ برابر کا شریک۔  
 آدھے کا سا بھیا، برابر کی چوٹی (۱) (مثلاً) آدھے حصے کا شریک برابر کی  
 جنیت رکھتا ہے۔  
 آدھے گاؤں روالی، آدھے گاؤں ہوئی (۱) (مثلاً) اپنی اپنی اگلے  
 ہونا۔ نا اتفاق۔  
 آدھے میاں محمدی، آدھے میں سارا کاؤں (۱) (مثلاً) آدھا خود لینا  
 آدھے میاں موج، آدھے میں ساری فوج (۱) اور باقی آدھا گھر کے سب  
 لوگوں کو دینا۔  
 آدھا (ق۔ ۱) مذ) بھروسہ، سہارا۔  
 آدھا ہونا (۱) محاورہ) بیٹ بھرنا۔ کاتی ہونا۔  
 آدھوں آدھ (آ۔ دھوں۔ آدھا) (۱) صفت) نصف نصف۔ برابر کے حصے۔  
 آدھی (آ۔ دھی) (۱) صفت) نصف۔ آدھا کی تائید۔

کرنے کے لیے اچھا برا سب کچھ کر گزرتا ہے۔  
 آدمی اناج کا کبیرا ہے (۱) (مثلاً) آدمی کی زندگی کا مدار کھانے پر ہے۔  
 آدمی بنانا (۱) محاورہ) (۱) عدم سے وجود میں لانا (۲) مذ) بنا نا نا شائستہ بنانا  
 آدمی بنانا (۱) محاورہ) آدمیت سیکھنا۔ شائستہ ہونا۔ آدمی کی شکل و صورت  
 اختیار کرنا۔ وحشت دور کرنا (۲) جنیت درست کرنا۔  
 آدمی پانی کا بلبلہ ہے (۱) (مثلاً) زندگی عارضی ہے۔ کوئی دم کی زندگی ہے۔  
 آدمی پر آدمی کرتا ہے (۱) محاورہ) بہت بھڑھے۔ مخلوق کوئی پڑتی ہے۔  
 آدمی پیٹ کا کتابے (۱) (مثلاً) رزق کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے۔  
 آدمی کھو کر کھا کر سنبھلتا ہے (۱) (مقولہ) انسان غلطی کرنے یا نقصان  
 کسے جی کچھ تجربہ حاصل کرتا ہے۔  
 آدمی جانے لے، سوزنا جانے لے (۱) (مثلاً) آدمی کے عیب و مہر ساتھ  
 رہتے ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ سونے کا کتنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔  
 آدمی سا کوئی پکھیر وہیں (۱) (مثلاً) آدمی ایک جگہ نہیں رہتا۔ جگہ جگہ  
 پھرتا رہتا ہے۔  
 آدمی کا شیطان آدمی سے (۱) (مثلاً) آدمی آدمی ہی کی صحبت سے تڑپ  
 پڑتا ہے۔  
 آدمی کچھ کھو کر ہی سیکھتا ہے (۱) (مثلاً) نقصان اٹھانے کے بعد ہی آدمی  
 کو عقل آتی ہے۔  
 آدمی کیا جو آدمی کو نہ پہچانے (۱) (مثلاً) جو اچھے بُرے میں تیز نہ کر سکے  
 انسان نہیں کہنا چاہیے۔  
 آدمی کی دوا آدمی ہے (۱) (مثلاً) انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔  
 آدمی کی قدر مرے بہ بڑی ہے (۱) (مثلاً) مرنے کے بعد ہی کسی آدمی  
 کی کم محسوس ہوتی ہے اور قدر ہوتی ہے۔  
 آدمی کی کسوٹی معاملہ ہے (۱) محاورہ) معاملہ پڑنے سے ہی آدمی کی  
 حقیقت معلوم ہوتی ہے۔  
 آدمی کے حملے میں آنا (۱) محاورہ) شریف بننا۔ اچھا طریقہ اختیار کرنا۔  
 آدمی نے پکا دودھ پیایا ہے (۱) (مثلاً) انسان سے ہی خطا ہوتی ہے۔  
 آدمی ہویا لے وال کے بودم (۱) (مثلاً) بالکل ہی بے وقوف ہو بودم کی  
 دال انگ کریں تو بودم بن جاتا ہے یعنی نرے اور ہو۔  
 آدمی ہویا جانور (۱) (مثلاً) بالکل تیز نہیں۔ نرے اچھن ہو۔  
 آدمی ہویا گھن جگہ (۱) (مثلاً) بہت زیادہ گھونٹے پھرنے والے آدمی کو  
 کہتے ہیں۔ (۲) اچھن اور بے وقوف آدمی۔  
 آدمی ہونا (۱) محاورہ) انسان ہونا۔ شریف ہونا (۲) معمولی شکل و صورت  
 آدمیت (آ۔ دمی۔ یت) (ف۔ ۱) (مٹ) (۱) اخلاق۔ مروت۔ لہناری  
 سلیقہ (۲) عقل و شعور۔ سمجھ۔ انسانیت۔  
 آدمیت آنا (۱) محاورہ) تیز اور سلیقہ حاصل ہونا۔ انسانی خیریاں برپا ہونا  
 آدمیت اٹھ جانا (۱) محاورہ) اچھی عادتوں کا ختم ہو جانا۔ انسانیت جاتی  
 رہنا۔ بد نظری ہو جانا۔ بے عقل ہو جانا۔  
 آدمیت اختیار کرنا (۱) محاورہ) اچھی عادتیں سیکھنا۔ شریف بن جانا۔  
 آدمیت سکھانا (۱) سکھانا۔ شائستہ بنانا۔ تہذیب سکھانا۔



آذر فشاں (ن. صف) آگ بکھرنے والا شعلہ، جگر  
آذوقہ - دیکھیے آذوقہ -

## آ

آر (ہ - 1 - مٹ) لوہے کی نوکدار کیل جو کاغذ وغیرہ میں سوراخ کرنے اور چھوڑ بیٹھنے کے کام آتی (۲) بچھو، بچھڑ یا بڑھی کا ڈنگ (۳) پھل پھینڈنے کا سویا یا تھاری (۴) کھاتے کے آخر میں مصدری اور کبھی فاعلیت کے معنی دیتا ہے۔ پھنکار، سنار

آر لگانا (۱) محاورہ) آ رہی ہونا سست آدمی کو ابھارنا۔  
آراء اع - مٹ (۱) رائے کی جمع - مشورے - خیالات -  
آراف - لاحقہ) آراستن مصدر سے حینہ امر - جو کسی اسم کے ساتھ آکر اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے۔ معنی سجانے والا - جیسے چمن آرا، جہاں آرا وغیرہ -

آرا (آ - را) [آر - ہ] مذ] لوہے کا ایک دندانہ دار اوزار جس سے کٹری چیری جاتی ہے۔

آرا جلانا (۱) آرے سے چیرنا (۲) بہت ظلم کر کرنا۔ زیادتی کرنا۔  
آرا چلنا - ظلم ہونا۔ دکھ پہنچنا۔

آرا کھینچنا - آرے سے کٹری چیرنے کا پیشہ کرنے والا۔  
آرا کھینچ کرنا - آرا جلانا۔ آرا کھینچ کرنا۔

آرا سے چلانا (۱) آرے سے چیرنا (۲) ظلم کرنا۔  
آرا سے چلنا - ظلم ہونا۔ دکھ پہنچنا۔

آرا سے چیرنا (۱) آرے سے کٹ کرنا۔ (۲) سخت سزا دینا۔  
آرا سنگی (آرا سنگی - کٹ - کی) [آ - مٹ] مذ] آریائش - سجادت، تکلف،

ذیب و زینت -

آرا ستمہ (آ - راس - تہ) [آ - صف] مذ] سجا ہوا - سنوارا ہوا - گناہنا ہوا ہوا۔ سنگار کیا ہوا۔ فرش فروش سے درست (۲) تیار آمادہ کیل کانٹے سے لیس -

آرا ستمہ پیراستہ (ف - صف) مذ] سجا سجا یا ترشترشیا - بنا سنوارا (۲) مسلح - ہتھیار بند - لیس -

آرا ستمہ پیراستہ ہونا (۱) محاورہ) سجا سجا کر درست ہونا۔ مزین ہونا۔ مسلح ہونا۔ کراہت مند ہونا۔

آرا ستمہ کرنا (۱) محاورہ) سجانا، بنانا۔ سنوارنا۔ سنگار کرنا۔ سنگار کرنا (۲) تزیین دینا۔ موقع سے لگانا۔ ٹھیک کرنا۔ درست کرنا۔

آرا صغی - دیکھیے اراغی -

آرا م (آ - رام) [آ - ف - ہ] مذ] قرار - تسکین - بھڑاؤ - اطمینان (۲) چین - سکھ - راحت - (۳) آسائش - (۴) استراحت - نیند - سکھ نیند - خواب راحت (۵) صحت - شفا - تندرستی - تخفیف مرض - آفا (۶) فرصت - فراغت - چھٹی

واقفہ (۶) فائدہ - نفع - حاصل - شفقت -

آرا م پانا (مرکب مصدر) چین پانا - سکھ پانا - خوش ہونا - راحت پانا - تکلیف

آدھی بات - ناتمام بات - ادھوری بات -  
آدھی بات نہ اٹھنا - ذرا سی ناگواریات برداشت نہ ہونا۔  
آدھی بات نہ پوچھنا - ذرا قدر نہ کرنا - دھیان نہ دینا۔ توجہ نہ کرنا۔  
بے عزت سمجھنا۔

آدھی بات نہ سنانا بے توجہی برتنا۔ شان کے خلاف ذرا سی بھی بات نہ سنانا۔

آدھی چھوڑ ساری کو دھلے (۱) - مثل) زیادہ کالا بچ کرنے سے آدھی رہے نہ ساری پائے (۲) کھڑکی سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں (۳) قناعت نہ کرنے والا تہا ہو جاتا ہے۔

آدھی دنیا آباد آدھی ویران (۱) - مثل) ایک چشم آدمی پر بھینگی کے طور پر کہتے ہیں۔

آدھی ڈھولی (۱) - مٹ) پانوں کی ایک ڈھولی جس میں دو سو پان ہوتے ہیں۔ اُن میں سے آدھے یعنی سو پان۔

آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر (۱) - مثل) آدھی رات کا وقت - آدھی رات ڈھلنا - آدھی رات بیت جانا۔

آدھی رات جھامبی آئے (۱) - مثل) وقت سے پہلے منصوبے سوچنے شام ہی سے منہ پھیلائے لگ جانا۔ پیش از مرگ واویلا۔

آدھین (ہ - ۱ - مذ) فرمان بردار - مطیع - عاجز - مسکین -  
آدھی باسی (ہ - ۱ - مذ) ہندوستان کے قدیم باشندے جنہیں ہندوؤں نے

بھوت بنا رکھا ہے۔  
آدیش - آدیش (آ - دیس، آ - دیش) [آ - ۱ - مذ] حکم ہدایت - ارشاد -

آدینہ (آ - وی - نہ) [آ - ۲ - مذ] جمع -

## آ

آڈٹ (Audit) (آ - ڈٹ) [آ - ۱ - مذ] محاسبہ کرنا۔ جانچ بھرکاری حساب کی تفتیح کرنا۔

آڈٹنا (آ - ڈٹ - نا) [ہ - معنی] آسمو جو ہونا۔ آدھلنا۔ آدھلنا۔  
آڈیٹر (Auditor) (آ - ڈی - ٹر) [آ - ۱ - مذ] محاسب، محنت حساب کی جانچ پڑتال کرنے والا۔

آڈیٹوریم (Auditorium) (آ - ڈٹ - ریم) [آ - ۱ - مذ] وہ کمرہ جہاں تقریر کی جاتی تھی۔ اور سامعین کی نشستوں کا انتظام ہوتا ہے اور سامعین تک آواز مناسب انداز میں پہنچانے کا انتظام ہوتا ہے۔

## آ

آڈار (آ - ڈار) [آ - ۲ - مذ] چھٹا رومی میڈر۔ چیت یا مارنچ کا مہینہ۔  
آڈر (آ - ڈر) [آ - ۱ - مذ] (۱) سنسی سال کا نواں مہینہ پوس یا جنوری کے مطابق (۲) آگ۔

آڈر پرست (ف - صف) آگ کی پوجا کرنے والا۔ پارسی - مجوسی۔

آرٹ (Art) رنگ - ۱۔ مذ (۱) ہنر، فن (۲) صفائی (۳) سلیقہ - ۴۔ مصمم - (۴) عیاری، مکاری، حکمت عملی (۵) شاعری - مصوری۔  
 آرٹسٹ (Artist) (آر۔ آرٹسٹ) [آر۔ ۱۔ مذ] صنوع - مصور تصویریں بنانے والا - کاریگر - فن کار - نقاش۔  
 آرٹیکل (Article) (آر۔ آر۔ ٹی) کل [آرٹیکل - ۱۔ مذ] (۱) مضمون (۲) قانون کی دفعہ - (۳) بشرط (۴) دفعہ عائد کرنا (۵) باند بنانا۔  
 آرٹیکل آف وار (Articles of War) وہ مجموعہ قوانین جو افواج کے انتظام اور سزاؤں وغیرہ سے متعلق ہو۔ ضابطہ سینگ - آئین لشکری۔  
 آرچ بشپ (Archbishop) (آر۔ ب۔ شپ) [آرٹیکل - ۱۔ مذ] لاٹ پادری - پادریوں کا اعلیٰ افسر۔  
 آرڈر (Order) (آر۔ آرڈر) [آرٹیکل - ۱۔ مذ] (۱) حکم - ارشاد - فرمان فرمائش۔ (۲) تمغہ (۳) طرز (۴) درجہ (۵) صنف (۶) آداب - ضابطہ (۷) امن وامان - (۸) ہندسی (۹) پاس - داخلہ۔  
 آرڈر بک Order Book حکم لکھنے کی کتاب (۲) وہ کتاب جس میں خریدار وہ چیزیں تحریر کر دے جو وہ مول لینا چاہتا ہے۔  
 آرڈر دینا (کرننا) کسی چیز کے خریدنے کی فرمائش کرنا۔  
 آرڈر لینا (۱) کسی چیز کے خریدنے کی فرمائش لینا۔ حکم حاصل کرنا۔ (آرڈر ٹری) (Ordinary) [آرٹیکل - معمولی - سہری - عام۔  
 آرڈیننس (Ordinance) (آر۔ ڈی - نینس) [آرٹیکل - ۱۔ مذ] وہ ضابطہ جو حکومت فوری ضرورت کے پیش نظر وقتی طور پر ملک میں نافذ کر دیتی ہے۔  
 آرڈو (آر۔ زد) [آرٹیکل - ۱۔ منٹ] (۱) خواہش - تمنا - چاہ (۲) مراد - مقصد - مطلب - جمع - آرزو با۔  
 آرڈو بر آنا (۱) مجاوردہ مراد پوری ہونا - امید حاصل ہونا۔  
 آرڈو ٹیکنا (۱) مجاوردہ دلی خواہش کا نہ چھیننا - تمنا کے آثار نظر آنا۔  
 آرڈو خاک میں مل جانا (۱) مجاوردہ مایوس ہوجانا - ناکام ہوجانا - خواہش پوری نہ ہونا۔  
 آرڈو عیب نہیں (۱) بمقولہ کسی چیز کی خواہش کرنے میں برائی نہیں۔  
 آرڈو کا خون ہونا (۱) مجاوردہ خواہش کا پورا نہ ہونا۔  
 آرڈو کرنا (۱) امید خواہش کرنا - منت اور (۲) بچ کرنا۔  
 آرڈو گاہ (ف - ۱) - منت (۱) امید پوری ہونے کی جگہ (۲) دنیا۔  
 آرڈو گور میں لے جانا (۱) مجاوردہ زندگی میں تمنا پوری نہ ہونا۔  
 آرڈو مٹانا (۱) مجاوردہ امید کے خلاف کرنا۔ شوق کو خاک میں ملانا۔  
 آرڈو مہر جانا (۱) مجاوردہ خواہش ختم ہوجانا - امید مٹ جانا۔  
 آرڈو مند - خواہش مند - متنا - متنا - متنا -  
 آرڈو مند ہونا (۱) مجاوردہ خواہش مند ہونا - ملتی ہونا۔  
 آرڈو مندی (ف - ۱) - منت (۱) امید واری - خواہش۔  
 آرڈو ٹکنا (۱) مجاوردہ مراد پوری ہونا - مطلب برآنا - خواہش پوری ہونا۔  
 آرڈو ٹے خام - وہ آرڈو جس کا برآنا ممکن نہ ہو - خیال خام۔  
 آرڈو سی (آر۔ سی) [آرٹیکل - ۱۔ منٹ] (۱) امید (۲) ایک زیور جو عورتیں ہاتھ کے

مذا ٹھانا (۲) صحت پانا۔ تندرست ہونا۔ شفا پانا (۳) فرصت پانا - فراغت پانا - آرام پانی - ایک قسم کی جوتی۔  
 آرام پسند اف - صفت - سست - کابل۔  
 آرام بخ ہونا (۱) مجاوردہ عیش میں غلغل پڑنا۔  
 آرام جاں (۱) جان راحت (۲) معشوق - محبوب - دل آرام۔  
 آرام چاہنا (۱) مجاوردہ سکھ دھونڈنا - راحت تلاش کرنا - چین کا طاری ہونا۔  
 آرام چوکی ات - منت (۱) آرام کرنے کے لیے لکڑی کا چھوٹا تخت۔  
 آرام چھوڑ دینا (۱) مجاوردہ راحت سے ہاتھ اٹھانا۔  
 آرام دینا (۱) آرام پہنچانا - سکھ دینا (۲) شفا دینا - چنگا کرنا - تندرست کرنا - صحت بخشنا۔  
 آرام رساں (ف - صفت) چین دینے والا - آسائش پہنچانے والا۔  
 آرام روح - روح کے لیے باعث آرام - معشوق - اولاد۔  
 آرام سے پاؤں پھیلانا (۱) مجاوردہ (۱) چین سے سونا - سکھ کی نیند سونا۔ (۲) بے فکر ہونا - بے غم ہونا - بے فکری سے بسر کرنا۔  
 آرام سے گذرنا (۱) مجاوردہ چین سے بسر ہونا - فراغت سے گزرنے۔  
 آرام طلب (ف - صفت) (۱) آرام چاہنے والا (۲) کابل - سست۔  
 آرام کرسی (ف - ۱) - منت (۱) ایک قسم کی بڑی بکیر دار کرسی۔  
 آرام کرنا (۱) بھڑنا - قرار پانا (۲) چپ رہنا - خاموش رہنا (۳) استنا - دم لینا (۴) سونا - لینا - استراحت کرنا (۵) چین کرنا۔  
 آرام گاہ (ف - ۱) - منت (۱) آرام کرنے کی جگہ - سونے کی جگہ - خواب گاہ۔  
 آرام لینا (۱) مجاوردہ بھڑنا - سکون حاصل کرنا۔  
 آرام میں ہیں (۱) بمقولہ (۱) سوتے ہیں (۲) سکھ کرتے ہیں۔  
 آرام ہو جانا (۱) سکھ ہو جانا - چین ہونا (۲) صحت پانا - شفا پانا - تکلیف کا دور دورہ ہونا۔  
 آرام کش (آر۔ را - اش) [آرٹیکل - ۱۔ منٹ] (۱) زیبائش - آرائشی - زیب و زینت سجاوٹ - بناؤ سنگ (۲) درستی مکان و فرش (۳) کاغذ کی چھولہ لادھیاں۔  
 بھول - لبرق کنول جھاڑو فانس وغیرہ - جو مالدار بات کے ساتھ لے جاتے ہیں۔  
 آرٹسٹ پسند (ف - صفت) (۱) بناؤ سنگدار کا شوقین (۲) زیب و زینت کا دلدار۔  
 آرٹسٹ کرنا (۱) مجاوردہ سیمانا - آراستہ کرنا۔  
 آرٹسٹ محفل (ف - ۱) - منت (۱) مجلس کی سجاوٹ (۲) اردو کی مشہور کتاب جس میں حاتم طائی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔  
 آراستہ (آر۔ آر۔ ان - وہ) [آرٹیکل - صفت] سجانے والا۔  
 آر۔ پار (آر۔ پار) [ف - صفت] ایرکنا لادہ کرنا - یہ ہرا لادہ ہرا۔  
 اردوں رخ۔  
 آرٹیکل (۱) - مذ (۲) صدقہ - بھینٹ - نذر - قربانی - خیرات۔  
 آرٹھوگرافی (Arthrography) (آر۔ ٹی) [آرٹیکل - ۱۔ مذ] (۱) علم حروف میں گرامر کا وہ حصہ جو الفاظ کا تلفظ بتائے (۲) عمارت کا ایسا نقشہ۔  
 آرٹی (آر۔ ٹی) [آرٹیکل - ۱۔ منٹ] پوجا کی ایک قسم جس میں دیوتاؤں کے سامنے بیج ٹھیکھا دیا جاتا ہے۔

آرٹھ میں پستی ہیں۔ اس میں شیشہ جڑتا ہوتا ہے۔  
 آرٹھی تو دیکھو (۱- محاورہ) اپنی اصل تو ذرا دیکھو۔  
 آرٹھی ٹوٹ گئی (۱- محاورہ) بد صورتی جو تیرے حسن کا دعویٰ کرے تو ایسے  
 موزع پر اسے اپنی اصلیت سمجھانے کے لیے بولتے ہیں یعنی ذرا شکل دیکھو۔  
 آرٹھی مصحف دکھانا (۱- محاورہ) عقد کے بعد دو لہا اور دہن کو آمینہ اور  
 قرآن دکھانے کی رسم دو لہا دہن کو ایک دوسرے کا منہ دکھانا۔  
 آرکیالوجی (Archaeology) (آر۔ ک۔ یا۔ لو۔ جی) [انگ۔ ۱۰-منشا]  
 علم آثار قدیمہ۔ قدیم عمارتوں کا علم۔  
 آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ (Archaeological Department)  
 محکمہ آثار قدیمہ۔

آرکیسٹرا (Orchestra) (آر۔ کیسٹ۔ را) [انگ۔ ۱۰-منشا] سازندوں  
 کا طائفہ۔

آرٹھ ہونا (۱- محاورہ) حجاب ہونا اور ہونا۔ پردہ ہونا۔  
 آرٹھے (آجانا) آنا (۱- محاورہ) درمیان میں آنا۔ بیچ میں پڑنا۔ حاکم ہونا۔  
 (۲) پشت پینا ہونا۔ کام آنا۔ حمایت لینا۔ مددگار ہونا۔  
 آرٹھے ہاتھوں لینا (۱- محاورہ) تڑپنا۔ تراس و معقول کرنا۔ بڑا بھلا کہنا۔  
 آرٹھا (آرٹھا) [۲- صفت] (۱) تریچھا۔ ٹیڑھا۔ کج۔ اُمریوں (۲) ایک دھاری  
 کیسٹرا۔  
 آرٹھا تارنا (۱- محاورہ) (۱) کپڑے کو تریچھا پھاڑنا (۲) زور دار پینک کو ہوا  
 کے رخ سے پکا کر تارنا۔

آرگن (Organ) (آر۔ گن) [انگ۔ ۱۰-منشا] (۱) ارگن باجا (۲) آکر  
 اوزار (۳) واسطہ۔ رابطہ۔ ترجمان۔  
 آرمیڈا (Armada) (آر۔ مے۔ ڈا) [انگ۔ ۱۰-منشا] جنگی جہازوں کا  
 بیڑا جو ۱۵۸۸ء میں فلپ دوم شاہ ہسپانیہ نے انگلستان پر حملہ کرنے  
 کے لیے روانہ کیا تھا۔

آرٹھا یا کچھ (۱- منشا) ایک قسم کا چوڑی دار پانچجامہ۔  
 آرٹھا تریچھا (۱- منشا) ٹیڑھا بانکا۔  
 آرٹھا تریچھا ہونا (۱- محاورہ) (۱) ٹیڑھا بانکا ہونا (۲) تڑپ رو ہونا۔ بگڑنا۔  
 ناراض ہونا۔

آرٹھا (آر۔ ن۔ ڈہ) [ف۔ صفت] لانے والا۔ جمع۔ ارندگان۔  
 آرٹھ۔ آرمیڈا (۱- منشا) ہمد۔ دیباچہ۔ مقدمہ۔ آغاز۔ شروع۔  
 آرٹھ کرنا۔ شروع کرنا۔ آغاز کرنا۔ ابتدا کرنا۔  
 آروغ (آ۔ روغ) [ف۔ ۱- منشا] ڈکار

آرٹھا (آر۔ نہ نا) [آر۔ مص] (۱) آپہنچنا۔ چلے آنا (۲) گھر پڑنا (۳)  
 آہنا۔ آباد ہونا۔  
 آرٹھی (آر۔ ری) [۲- منشا] (۱) لکڑی چیرنے کا ایک ادھار  
 (۲) لکڑی (۳) لکڑی چیرنے کے ایک ادھار  
 آرٹھی (آر۔ رے) [ف] لکڑی ایجاب۔ بے شک۔ بان۔  
 آرٹھی (۱- محاورہ) ہاں ہاں کرنا۔ ٹاننا۔ ٹانے ہاں کرنا۔  
 آرٹھی چلنا (۱- محاورہ) جان پر ہنا۔ مصیبت اٹھانا۔

آرٹھی (آر۔ ری) [۳- منشا] (۱) بزرگ۔ معزز قوم جس کی نسل  
 آریہ لوگ پاکستان، ہندوستان، ایران اور یورپ میں آباد ہیں (۲)  
 کاشت کار۔ کھیتی کرنے والا۔ ڈھور چرانے والا (۳) آریہ قوم کی زبان۔

آرٹھی سماج (۱۰-۱۰-منشا) (۱) آریہ مذہب یا آریہ لوگوں کے اعتقاد پر  
 چلنے والی ہندو جماعت (۲) پنڈت دیانند سوسنی کی پیرو جماعت۔  
 آریہ ورت۔ آریوں کے رہنے کی جگہ۔ دریائے جہنا اور گنگا کا وسطی علاقہ

آرٹھی (آر۔ ٹھی) [۲- منشا] (۱) ہمتی۔ مددگار (۲) ٹیڑھی۔ کج۔ تریچھی۔  
 (۲) جب لڑکے دو جماعتیں بن کر کھیلتے ہیں تو ہر جماعت کا ایک سردار  
 ہوتا ہے۔ باقی اس کے آٹھی کہلاتے ہیں۔

آرٹھی سبیل (۱- منشا) (۱) تریچھی سبیل جو عورتیں اپنے کپڑوں میں لگاتی یا  
 لٹکتی ہیں۔  
 آرٹھی تریچھی سنانا (۱- محاورہ) بڑا بھلا کہنا۔  
 آرٹھی تریچھی سنانا (۱- محاورہ) بڑا بھلا کہنا۔

آرٹھی (۱۰-۱۰-منشا) (۱) اوٹ۔ پچاؤ۔ پینا (۲) مددگار۔ ضامن (۳) ٹیکن۔  
 سارا (۴) اٹکاؤ۔ باڑھ (۵) نیدی۔ ممانعت۔ مناجی۔ روک  
 آرٹھ بند۔ آرٹھ بندن۔ ایک کپڑا جو دھوئی کی طرح پیٹ کر آگ پچھا دکھانے  
 کو باندھتے ہیں۔ ایک قسم کا لنگوٹ کا پچھا۔ لنگر۔

آزادی کرنا (۱) - محاورہ (۱) - آزادی کی اصطلاح میں طولا درق کوٹ کر  
عصا کوٹنا (۲) - کھیل میں دوست بنانا۔  
آزادی کوٹ - تڑپھی تڑپاش کی کوٹ۔  
آزادی بیگل (۱) - مٹا (۱) - ایک زیور کا نام جو گلے میں بدھی کی طرح پہنا  
جاتا ہے۔

## آز

آزاد - ۱۔ مٹا احوص - طبع - لایح۔

آزاد (آزاد) (ف) - صف (۱) - بری - رستگار (۲) - خود مختار - فارغ (۳) - بے غم  
بے قید - جو کسی کا پابند نہ ہو - غلام کی ضد - جمع - آزادگان (۴) - ستر کی ایک  
تیسر - سرد آزاد (۵) - مولانا محمد حسین مصنف آجیات اور مولانا ابوالکلام  
کا مخلص۔

آزاد رو - آزادہ رو (۱) - آزاد طبیعت والا (۲) - وہ شخص جو کسی بات کا  
پابند نہ ہو - خود مختار - بے تقصیب (۳) - فقیر (۴) - نڈر - بے خوف -  
آزاد طبع (۱) - وہ شخص جس کی طبیعت میں آزادی ہو - (۲) - بے خوف طبیعت  
کھنے والا - صاف گو۔

آزاد کا سوٹا (۱) - مذ (آزاد فقیر کا ڈنڈا) (۲) - منہ بھٹ - اکھڑے بے باک -  
آزاد کا قشقہ (۱) - مذ (مٹا کھنے پر آزاد فقیر ہونے کی نشانی - آزاد فقیر یا تھے  
پیر الٹ بنا لینے ہیں -

آزاد کرنا (۱) - محاورہ (۱) - رہا کرنا - چھٹکارا دینا - خلاصی دینا (۲) - نوکری سے  
جواب دینا - موقوف کرنا - رخصت کرنا - نکال دینا -  
آزاد لوگ (۱) - مذ (آزاد فقیروں کا گروہ) (۲) - کسی قید کی پابندی نہ  
کرنے والے۔

آزاد مرد (ف) - ۱۔ مذ (نڈر - بے خوف - کھرا اور صاف گو آدمی -  
آزاد منہش (ف) - ۱۔ مذ (وہ شخص جو کسی بات کا پابند نہ ہو - وہ شخص جو  
کسی سے لاگ پیٹ نہ رکھے - صاف گو۔

آزاد نامہ (ف) - مذ (وہ نوشتہ یا دستاویز جو غلام کی آزادی کے لیے  
لکھی جائے۔

آزاد ہونا (۱) - محاورہ (۱) - چھوٹنا - رہا ہونا - بری ہونا (۲) - خود مختار ہونا  
(۳) - بے پروا ہونا بے شرم ہونا - بے ادب ہونا -

آزادانہ (آ۔ ذ۔ د۔ ن۔) (ف) - صف (۱) - آزادی کی طرح (۲) - آزادی کے  
ساتھ کسی روک ٹوک کے بغیر بے باکانہ۔

آزادانہ راستے - وہ راستے جس میں کسی کی طرف داری یا دباؤ نہ ہو -  
بے نصب راستے۔

آزادانہ وضع (۱) - آزاد فقیروں کا طور طریق (۲) - ادبائوں کی وضع -  
آزادی (آ۔ ذ۔ گ۔) (ف) - ۱۔ مٹا آزادی - رہائی -

آزادہ (آ۔ ذ۔ د۔) (ف) - صف (۱) - آزاد - قید سے چھوٹا ہوا -  
آزادہ مزاجی - طبیعت کی سادگی - بے تکلفی - بے پروائی -

آزادی (آ۔ ذ۔ د۔) (ف) - مٹا (۱) - رہائی - چھٹکارا (۲) - خود مختاری

باختاری - بے پروائی -

آزادی کا (خط) کاغذ (۱) - مذ (رہائی کا پروانہ -

آزار (آ۔ زار) (ف) - ۱۔ مذ (۱) - بیماری - دکھ - مرض (۲) - تکلیف - سختی  
پینا - جنجال - بکھیر -

آزار اٹھانا (۱) - محاورہ (۱) - صدمہ برداشت کرنا - درد دکھ چھیلنا -

آزار پہنچانا (۱) - محاورہ (۱) - دکھ دینا - تکلیف پہنچانا - ستانا -

آزار پہنچنا (۱) - محاورہ (۱) - تکلیف پہنچنا - ستا یا جانا -

آزار پھیلنا (۱) - محاورہ (۱) - کسی بیماری کا بڑھنا -

آزار پیدا ہونا (۱) - محاورہ (۱) - روگ لگنا -

آزار دینا (۱) - محاورہ (۱) - دکھ دینا - تکلیف دینا -

آزار لگنا (۱) - محاورہ (۱) - بیماری لگنا - عذاب لگنا - جنجال لگنا -

آزار (آ۔ ذ۔ ع۔) (ف) - ۱۔ مذ (حضرت ابراہیم کے چچا کا نام جو بہت پرست اور  
مہتر تڑپاش تھے -

آزادگی (آ۔ ذ۔ د۔ گ۔) (ف) - ۱۔ مٹا (۱) - تنگی - ناخوشی - ناراضگی (۲) -  
بگاڑ - رجحش - ملال (۳) - اداسی - غمگینی -

آزادہ (آ۔ ذ۔ د۔) (ف) - صف (۱) - ناراض - ناخوش - خفا - رنجیدہ  
جمع - آزادگان -

آزادہ خاطر (ف) - ۱۔ مذ (آزادہ دل - اداس - غمگین - خفا - رنجیدہ -

آزادہ کرنا (۱) - محاورہ (۱) - رنجیدہ کرنا - خفا کرنا - ناراض کرنا - دل دکھانا -

آزادہ ہونا (۱) - محاورہ (۱) - ناخوش ہونا - رنجیدہ ہونا - خفا ہونا (۲) -  
باپوس ہونا -

آزیریم (آ۔ زرم) (ف) - ۱۔ مٹا (۱) - شرم دہیا - نرمی -

آزرقہ (آ۔ زرقہ) (ف) - ۱۔ مذ (آ۔ زرقہ) (ع۔) (۱) - مذ (۱) - تھوڑی سی غذا  
(۲) - کم تنخواہ (۳) - پرند کا چوگا -

آزما (آ۔ زما) (ف) - صف (۱) - امتحان لینے والا - تجربہ کرنے والا - جمع - آزماہاں -

آزما لینا (۱) - محاورہ (۱) - جانچ لینا - امتحان کر لینا - خوب دیکھ بھال لینا -

آزما لینا (آ۔ زما - نا) (آ۔ زما - مص) [جانچنا - امتحان کرنا - پرکھنا -

آزما لینش (آ۔ زما - اش) (ف) - ۱۔ مٹا (۱) - جانچ پڑتال - امتحان - تجربہ -

آزما لینش کرنا - آزما نا - پرکھنا - جانچنا -

آزما لیشی (آ۔ زما - اش) (ف) - صف (۱) - امتحانی -

آزمودہ (آ۔ زمو۔ دہ) (ف) - صف (۱) - تجربہ - دیکھا بھالا - جانچا ہوا -

آزما ہوا - تجربہ کیا ہوا - امتحان کیا ہوا - پرکھا ہوا (۲) - عنبرہ - منشاہ -

آزمودہ را آزمودن (جمل اسست) (ف) - مٹا (۱) - آزمائے ہوئے کو آزمانا -  
غلطی ہے -

آزمودہ کار (ف) - صف (۱) - تجربہ کار - ہوشیار - ہنرمند - چستہ کار - خزانہ (۳) -  
غفلت - چالاک - مستعد -

آزمودہ لینا (۱) - عنبرہ یا منشاہ دریافت کرنا - ٹوہ لینا - بھید لینا (۲) - امتحان  
لینا - جانچنا -

آزوبازو (ق) (آ۔ س پاس - دھر - ادھر -

## آس

آس پاس (آس پاس) [۱] آس پاس (۱) ارد گرد۔ قرب و جوار۔ پاس پڑوس

گرو پیش۔ اعلیٰ نعل۔  
آس پاس برسے، دلی پڑوسی ترسے [۱] مثل، اخبار فائدہ اٹھائیں  
اور حقدار محروم رہیں۔

آس پاس پھرنا۔ چکر گرد پھرنا۔ طواف کرنا۔ صدقہ ہونا۔

آس پاس ہونا۔ ارد گرد ہونا۔ نزدیک ہونا۔

آستا (آ-۱- مذ) آسرا۔

آستان۔ آستانہ (آس تان، آس-تا-تہ) [ف-۱- مذ] [۱] چوکھٹ  
ڈیڑھ ٹھکی۔ دروازہ (۲) بزرگوں کے مزار۔ روضہ کا دروازہ۔

آستان بوس (۱) چوکھٹ چومنے والا (۲) معتقد۔ عقیدتمند۔ خادم۔  
آستان بوسی (۱) چوکھٹ چومنا (۲) غلامی۔ خدمت گاری (۳) کسی بزدلی  
سے بنا زحاصل کرنا۔

آستانی (آس-تا-ای) [۱-۱- مذ] [۱] کسی گیت کا ابتدائی ٹکڑا۔  
(۲) خیال کو بھی آستانی کہتے ہیں۔

آستین (آس-تین) [ف-۱- مذ] [۱] شیر دانی کوٹ۔ کپڑے یا قمیص وغیرہ  
کی بانہ۔

آستین چڑھانا (۱) محاورہ) آستین اوپر کھینچنا (۲) کام کے لیے مستعد ہونا۔  
(۳) لڑنے مرنے کو تیار ہونا (۴) ذبح کرنے پر آمادہ ہونا۔

آستین کا سانپ (۱- مذ) اچھا بھڑا دشمن۔ دوستی کے پردے میں دشمنی  
کرنے والا۔

آستین میں سانپ پالنا (۱) مثل) دشمن کی پرورش کرنا۔ اپنے بڑوہ کو  
اپنے پاس رکھنا۔

آسرا (آس-را) [۱-۱- مذ] [۱] سہارا۔ بھروسہ۔ آس۔ امید (۲) وسیلہ۔  
توقع۔

آسرا کھڑنا (۱) محاورہ) سہارا دینا۔ بھروسہ کرنا۔ امید کرنا۔

آسرا کھٹنا (۱) محاورہ) (۱) سہارا ڈھونڈنا۔ پناہ چاہنا

آسرا ٹوٹنا (۱) محاورہ) امید ختم ہونا۔ سہارا نہ رہنا۔

آسرا دینا (۱) محاورہ) سہارا دینا۔ امید دلانا۔

آسرا ڈھونڈنا (۱) محاورہ) سہارا تلاش کرنا۔

آسرا کرنا (۱) محاورہ) امید کرنا۔ توقع کرنا۔

آسرا کھانا (۱) محاورہ) امید ہاندھنا۔

آسرا لینا (۱) محاورہ) پناہ لینا۔ حمایت چاہنا۔ مدد ڈھونڈنا۔

آسرا ہونا (۱) محاورہ) امید ہونا۔ بھروسہ ہونا۔ سہارا ہونا۔

آسمان (آس-مان) [ف-۱- مذ] [۱] جلی کی مانند (۲) فلک۔ چرخ۔ گردوں۔  
آکاش۔ پرانے زمانے میں زمین کو ساکن اور آسمان کو متحرک مانتے  
تھے۔ اس لیے آسمان نام ہو گیا۔ جیسے چمکی کے اوپر کا پاٹ کھوتا ہے۔

نیچے کا ساکن ہوتا ہے۔

آسمان برائیاں (۱) محاورہ) (۱) ترانا۔ غرور کرنا۔ شجخی ماننا (۲) بلند پروازی کرنا۔

آسمان پر کھوگیا (۱) محاورہ) ایسی حرکت کرنا جس سے (پنی ہی ذلت ظاہر  
ہو رہے ہو وہ) اور بے فائدہ کام کرنا۔ (۲) بٹوں کا منہ چڑھانا۔

آس [۱-۱- مذ] [۱] آستا۔ امید (۲) خواہش۔ آرزو۔ آسرا۔ بھروسہ۔  
سہارا۔

آس اولاد (۱-۱- مذ) [۱] بال بچے۔ بیٹا بیٹی۔

آس اولاد والی۔ صاحب اولاد عورت۔

آس باندھنا (۱) محاورہ) امید کرنا۔ آسرا لگانا۔

آس بندھنا (۱) محاورہ) امید بندھنا۔ توقع ہونا۔

آس بیکانی جوتکے وہ حیوت ہی مرحلے۔ [۱] مثل) پرانے بھروسہ  
پر زندہ رہنے سے مرجانا بہتر ہے۔

آس بی بی کی ٹھکیاں۔ وہ ٹھکی ٹھکیاں جن پر حضرت عائشہؓ کی نیاز دلوائی  
جاتی ہے۔

آس بچنا (۱) محاورہ) امید برآنا۔ مراد حاصل ہونا۔

آس پوزی ہونا (۱) محاورہ) امید پوری ہوجانا۔ کام بن جانا۔

آس بچنا (۱) محاورہ) امید چھوڑ دینا۔ آرزو سے ہاتھ دھولینا۔

آس تگنا (۱) محاورہ) (۱) انتظار کرنا۔ امید وار ہونا (۲) راہ دیکھنا۔

آس ٹوٹنا (۱) محاورہ) نا امید کرنا۔ مایوس کرنا۔

آس ٹوٹنا (۱) محاورہ) نا امید ہونا۔ مایوس ہونا۔

آس چھوٹنا (۱) محاورہ) نا امید ہونا۔ مایوس ہونا۔

آس چھوٹنا (۱) محاورہ) مایوس ہونا۔ امید سے ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ دھو بیٹھنا۔

آس دینا (۱) محاورہ) امید بندھوانا۔ ڈھارس بندھوانا۔

آس رکھنا (۱) کرنا (۱) محاورہ) بھروسہ رکھنا۔ امید رکھنا۔

آس لگانا (۱) محاورہ) امید باندھنا۔

آس مراد (۱-۱- مذ) [۱] آل اولاد (۲) دھن دولت۔

آس مراد والی (۱-۱- مذ) [۱] آل اولاد والی (۲) دھن دولت والی (۳)  
صاحب نصیب عورت۔

آس ہونا (۱) محاورہ) (۱) امید ہونا۔ بھروسہ ہونا۔ اطمینان ہونا (۲) گل ہونا۔

آسا (آ-سا) [۱-۱- مذ] [۱] امید۔ بھروسہ۔ (۲) امید وار۔

آسا جیسے بڑا سا مرے (۱- مثل) انسان امید کے سہارے جیتا ہے۔

ر اور مایوسی سے مرجاتا ہے۔

آسا (آ-سا) [ف-۱- مذ] [۱] مانند۔ مثل۔

آساہ۔ مذ) ایک راگ جو صبح کے وقت گایا جاتا ہے۔

آسان (آ-سان) [ف-۱- مذ] [۱] سہل۔ سہج۔

آسان (کر دینا) کرنا (۱) محاورہ) سہل کر دینا۔ مشکل دور کر دینا۔

آسان ہونا۔ سہل ہونا۔ سہج ہونا۔ مشکل رفع ہونا۔

آسانی (آ-سانی) [ف-۱- مذ] [۱] سہولت۔ سہج پن۔ بلا وقت۔

آسا آس (۲) آرام۔ آسائش۔ راحت۔ جمع۔ آسانیاں۔

آسا آس (آ-سا) [ف-۱- مذ] [۱] [۱] آسائش۔ راحت۔ آرام۔ سکھ۔ چین۔ جمع۔  
آسانیاں۔

آسمان پر بڑھنے کے (تارنا) (۱) مثل) عزت بڑھانے کے گھٹانا۔  
 آسمان پر بڑھنا (۱) محاورہ) سر بلند کرنا۔ مرتبہ بٹھا (۲) حد سے زیادہ عزت  
 و توصیف کرنا (۳) خوشامد کرنا۔ چالیسویں کرنا۔  
 آسمان پر دماغ کھینچنا (۱) محاورہ) غرور کرنا۔ اپنے کو بہت بڑا سمجھنا۔  
 آسمان پر قدم رکھنا (۱) محاورہ) دُور کی لینیا چلی مارنا (۲) غرور کرنا۔  
 آسمان پر ہونا (۱) محاورہ) بلند مرتبہ ہونا (۲) خود پسند ہونا۔ مغرور ہونا۔  
 آسمان پھٹ پڑنا (۱) محاورہ) تھرائی نازل ہونا۔ سخت مصیبت پڑنا۔  
 آسمان ٹھنڈا ہونا (۱) محاورہ) ٹھنڈے بد نظم ہونا (۲) واقعہ غلط ہونا۔  
 آسمان مل جانا (۱) محاورہ) (۱) آسمان کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ مراد امر محال  
 سے (۲) ناممکن انقلاب ہو جانا۔  
 آسمان لوٹ پڑنا (لوٹنا) (۱) محاورہ) (۱) آسمان گر پڑنا (۲) سخت آفت آنا۔  
 سخت مصیبت پڑنا۔ غضب الہی نازل ہونا۔  
 آسمان جاہ (ف) صفت) (۱) آسمان کی طرح بلندی والا۔ آسمان کی اونچائی والا۔  
 (۲) بہت عزت والا۔ بڑے رتبے والا۔  
 آسمان جھانکنا (۱) محاورہ) (۱) آسمان دیکھنا (۲) اُڑنے کا ارادہ کرنا (۳) مرغ کا  
 مستحق میں تیار ہونا۔  
 آسمان دیکھنا (۱) محاورہ) (۱) نا امید کی عالم میں نظر بند ہونا۔ جیوسی کی  
 حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا (۲) منتی کی حالت میں عورتیں اوپر  
 دیکھنے کو کتنی میں تنا کر طبیعت دوسری طرف منوجہ ہوجائے۔  
 آسمان زمین ایک (گردینا) (گردانا) (۱) مثل) (۱) بل جل ڈال دینا۔ ہلڑ  
 مچا دینا (۲) بے حد کوشش کرنا۔ بہت دوڑ دھوپ کرنا۔  
 آسمان زمین ایک ہونا (۱) محاورہ) بڑا تغیر ہونا۔ زمانہ الٹ پلٹ ہوجانا۔  
 سخت مصیبت پڑنا  
 آسمان زمین کا فرق (۱) محاورہ) بہت بڑا فرق۔  
 آسمان زمین کے تلابے ملانا (۱) محاورہ) (۱) انتہا درجے کی کوشش کرنا۔  
 (۲) بہت بھروسہ ہونا۔ گب مارنا۔  
 آسمان زمین متفق کیوں نہیں ہوجاتے (۱) نذر مرہ) قیامت کیوں نہیں  
 آجاتی جب کو کرا کام کرے تو اس وقت کہتے ہیں۔  
 آسمان زمین میں دھوم مچانا (۱) محاورہ) عام شہرت ہونا۔ دنیا بھر میں  
 مشہور ہونا۔  
 زمین آسمان میں سنا مچا جانا۔ ہوجانا۔ (۱) محاورہ) ہر طرف خاموشی چھا جانا۔  
 ہمہ تن گونج ہوجانا۔  
 آسمان زمین بلا دینا (۱) محاورہ) بل جل ڈال دینا۔ طوفان برپا کر دینا۔  
 آسمان سر پر اٹھانا (۱) محاورہ) بہت مل جانا۔ سفور مٹر کرنا۔ اودھم مچانا۔  
 آسمان سے آگ برستا (۱) محاورہ) سخت گرمی پڑنا۔  
 آسمان سے اُترنا (۱) محاورہ) کسی چیز کا نہایت عمدہ ہونا (۲) کوئی نیا  
 مضمون ذہن میں آنا۔  
 آسمان سے ناپیں کرنا (۱) نہایت بلند ہونا۔ (۲) بہت مغرور ہونا۔  
 آسمان سے ٹھکر کھانا (۱) بہت اونچا ہونا۔  
 آسمان سے ٹھکر لیتا (۱) محاورہ) ازبردست کا مقابلہ کرنا۔ بہت بلند ہونا۔

آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا (۱) مثل) (۱) اونچی سرکار سے کام نکل گیا۔ مگر  
 معمولی اہل کار کی مخالفت سے رک گیا۔ (۲) ایک مصیبت سے چھوٹنا  
 دوسری میں بچا بیٹھا۔  
 آسمان سے گرتا (۱) محاورہ) آسمان سے نیچے آنا (۲) اونچے مرتبے سے گرتا۔  
 (۳) مفت ہاتھ آنا۔ بے وقعت ہونا۔  
 آسمان قدر (ف) صفت) نہایت بلند مرتبہ۔ عالی جاہ۔ عالی پایہ۔ عالی شان۔  
 آسمان کا کھنکا اپنے منہ پر آتا ہے (۱) مثل) کسی نیک آدمی پر بردگی لگانے  
 سے پہلے ہی اوپر بدنامی آتی ہے۔  
 آسمان کا رکھنا نہ زمین کا (۱) مثل) غارت کر دیا۔ بریا کر دیا۔ کہیں کا نہ رکھا۔  
 آسمان کا رنگ بدلنا (۱) محاورہ) انقلاب آنا۔ حالات تبدیل ہونا۔  
 آسمان کھونچا (۱) اونچی چیز (مزاحا) لبا آدمی (۲) ایک طرح کا حقہ جس کی نئے  
 کوٹھنک پیپتی ہے۔  
 آسمان کھا گیا یا زمین (مثل) (۱) مثل) اخلا جانے کہاں غائب ہو گئی بہت  
 تلاش کے بعد چیز کے نہ ملنے پر کہا جاتا ہے۔  
 آسمان کی ناپیں (۱) امت سمجھ میں نہ آنے والی باتیں۔  
 آسمان کی چیل زمین کی چیل (۱) مثل) بہت چالاک عورت۔ جو ایک جگہ  
 دیکھے اور دُور دُور کر کے کام کرے۔  
 آسمان کی خیر لانا (۱) محاورہ) بہت اونچا ہونا۔ بہت بلند پروازی کرنا۔  
 آسمان کی سونچنا (۱) محاورہ) دُور کی سونچنا۔  
 آسمان کی سر کرنا (۱) محاورہ) خیالات کا دُور پہنچنا۔ عموماً اس وقت کہا  
 جاتا ہے جب کوئی شخص نشتے کی حالت میں ہو۔  
 آسمان کے تارے توڑنا (۱) محاورہ) (۱) ناممکن اور دشوار کام کرنا۔ نہایت  
 سخت اور مشکل بات میں کھسب ہونا۔  
 آسمان میں ٹھکنے لگانا (۱) محاورہ) آسمان میں بیوزد لگانا جہاں کوئی نہ پہنچے  
 وہاں پہنچنا (۲) عیاری کرنا۔ چالاک کرنا۔  
 آسمان میں چھید کرنا (۱) محاورہ) نہایت عیاری اور چالاک کرنا۔  
 آسمان میں چھید ہوجانا (۱) محاورہ) لگانا مینہ برستا۔ دھواں دھار مینہ برستا۔  
 بھابھوں میں بڑھنا۔ موسلا دھار بارش ہونا۔  
 آسمان پھٹ پڑے (۱) محاورہ) قیامت نہ آجائے۔ عذاب نازل نہ ہو جائے  
 بہت ظلم اور گناہ ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔  
 آسمان و زمین سیاہ ہوجانا (۱) محاورہ) حد سے زیادہ پریشانی اور غم ہونا۔  
 آسمان و زمین کے پردے میں نہیں (۱) مثل) نایاب ہے۔ عقاب ہے۔ کہیں  
 پتہ نشان نہیں ہے۔  
 آسمان بلا دینا (۱) محاورہ) آہ وزاری کا اثر ہونا۔ بہت زور سے چینا چلانا۔  
 آسمانی (آس۔ آس۔ نی) (ف) صفت) (۱) آسمان کا۔ آسمان کی طرف منسوب  
 (۲) مثل آسمان نیلیوں۔ آبی۔ نیلا۔ ہلکا نیلا (۳) ادب۔ بالائی (۴)  
 ناگمانی۔ اچانک۔ انفذیہ (۵) امت) جھنگ۔ شراب۔ تاثری۔ (۶)  
 بلندی (ق)  
 آسمانی آفت (ع) ۱۔ صفت) آسمانی بلا۔ ناگمانی بلا۔ نذر خدا۔ وہ مصیبت  
 جو خدا کی طرف سے ہو۔

کسی جگہ جم کر بیٹھا (۲) ایک ہی بیٹھک سے بیٹھا (۳) آلتی پالتی مار کر بیٹھا چار زانو بیٹھا (۴) گھوڑے پر جم کر بیٹھا۔  
 آسنی (آسن - نی) [۱۰-۵] مٹ [گھاس کی جینی ہوئی چھوٹی چٹائی (۲) لٹنی یا ادنی کپڑا جس پر بیٹھ کر عبادت کی جاتی ہے (۳) فقیروں کے بیٹھنے کا ستر۔

آسودگان خاک (آ-سو-د-گ-ن-خاک) [ف-۱-ند] خاک میں آرام کرنے والے۔ مال قبور۔ مرحومین۔

آسودی (آ-سو-د-گی) [ف-۱-مٹ] [اسن و امان چین-آلام] راحت (۲) دولت مندی۔ مرزا محالی۔ فاسخ الہالی۔

آسودہ (آ-سو-د-ہ) [ف-صف] [۱] آرام کرنے والا (۲) مطمئن (۳) خوشحال۔ دولت مند (۴) مدون۔ مرحوم۔ جمع۔ آسودگان۔

آسودہ حال (ف-صف) خوش حال۔ مالدار۔ امیر۔

آسودہ خاطر۔ آسودہ حال (ف-صف) فارغ الیال۔ بے فکر۔ بے غم۔ آسودہ ہو جانا (۱-محاورہ) پیٹ بھر جانا۔ سیر ہو جانا۔

آسودہ ہونا۔ دولت مند ہونا۔ فارغ الیال ہونا۔ آسیا (آ-س-یا) [ف-۱-مٹ] علی۔ آٹا پینے کی کل۔

آسیاب (ف-۱-مٹ) پانی سے چلنے والی چکی۔ پن چکی۔ آسبائے باد (ف-مٹ) ہوا سے چلنے والی چکی۔ بڑی چکی۔ آسبائندہ (۱-مذ) وہ پتھر جس پر پتھار کی دھارا تیز کی جاتی ہے۔

فسان۔ رسان۔

آسیب (آ-سیب) [ف-۱-مذ] [۱] صدمہ (۲) نقصان (۳) خوف۔

آسیب (۲) دکھ۔ آزار۔ تکلیف۔ الم۔ مصیبت (۵) جن۔ پری۔ دوپہریت۔ سیاہ۔ آسیب آنا (۱-محاورہ) [۱] صدمہ پہنچنا۔ آفت آنا۔ ضرر پہنچنا۔ چوٹ لگنا۔

آسیب بھوت کا ستانا۔

آسیب آنا پرنا (۱-محاورہ) اجن آنا۔ بھوت بھگانا۔ منتر یا علم کے نذر سے جن کو دفع کرنا۔

آسیب پہنچانا (۱-محاورہ) صدمہ دینا۔ نقصان پہنچانا۔ دکھ یا تکلیف دینا۔

آسیب پہنچنا۔ (۱-محاورہ) صدمہ پہنچنا۔ نقصان پہنچنا۔ تکلیف پہنچنا۔ آسیب زدہ (ف-صف) آسیب کا مالا ہوا بھوت پریت۔ جن پری کا ستنا ہوا۔

آسیب سر پر چڑھنا (۱-محاورہ) کسی سر جن بھوت کا اثر ہونا۔

آسیب سر سے اتارنا (۱-محاورہ) جن بھوت کا اثر زائل کرنا۔

آسیب کا اثر۔ آسیب کا غفل۔ آسیب کا دخل۔ جن بھوت کا اثر۔ پری کا سایہ۔

آسیب کا سر پر کھیلنا۔ عوام میں فاعل ہے کہ جب آسیب کسی کا پہنچا نہیں چھوڑتا تو آسیب زدہ کے سامنے چھوٹی اور خوشبو رکھ کر اور بخور سنا کر گانا سنواتے ہیں۔ اس وقت آسیب زدہ خوب سر نہ بلانا ہے اور کھیلتا اچھلتا ہے۔

آسیبی (آ-سے - بی) [ف-صف] وہ شخص جس پر آسیب ہو۔

آسیب زدہ۔

آسمانی پلانا۔ بھنگ یا ناٹری بلانا۔ نشتر پلانا۔

آسمانی نیز (۱) ہوائی تیز۔ وہ تیز جو آسمان کی طرف چھوڑتے ہیں (۲) بے فائدہ اور بے ہودہ کام۔ وہ کام جس کا نتیجہ کچھ اچھا نہ ہو۔

آسمانی دھکا۔ غیبی صدمہ۔ بلائے ناگہانی۔

آسمانی رنگ۔ آسمان کے رنگ کا۔ بیلارنگ۔ آبی رنگ۔ بیلانیلارنگ۔ آسمانی کتاب۔ کتاب الہی۔ وہ کتاب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہو۔ مراد توریت۔ زبور۔ انجیل اور قرآن۔

آسمانی کولا (۱) وہ صدمہ جس کا وقت معلوم نہ ہو۔ قہر الہی (۲) برف، اولے وغیرہ جن سے اچانک صدمہ پہنچے۔

آسن (آ-سن) [۱-۵] [مذ] [۱] بیٹھک (۲) بیٹھنے کی حالت (۳) ران کے نیچے کا حصہ (۴) ران جھانکھ (۵) ڈبھہ یا اون کی جینی ہوئی چیز مثل کبیل یا ستر جس پر بند لوگ پوجا باٹ کرنے کے وقت بیٹھتے ہیں۔ جیسے جاننا۔ گدی۔

مسند (۶) جوگیوں کے بیٹھنے کا ڈھنگ۔ جوگیوں کی جو راسی بیٹھکیں (۷) سادھ اور وہ جگہ جہاں جوگی رہتے ہیں اور جوگ دانتے ہیں (۸) مباشرت کرنے کا طریقہ۔ جملہ کی بیٹھک۔ وہ چھتیس طریقے جو کوک شاستر میں لکھے ہیں (۹) سوار کے بیٹھنے کا طریقہ۔ گھوڑے پر چڑھنے کا ڈھنگ (۱۰) بائگی کی وہ جگہ جہاں سوار بیٹھتا ہے۔

آسن کھڑا (۱-محاورہ) سوار کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ گھوڑے پر چڑھنا۔ رہنا ران نہ جھٹا۔

آسن باندھنا (۱-محاورہ) رانیں جکڑنا۔ رانوں میں کسنا۔ دونوں زانوؤں کے بیچ میں دبا لینا۔ زانوؤں میں پھینچنا۔ آسن لینا۔

آسن پائی (۱-مٹ) بیٹھنے کا پھوٹنا۔ جو ران اور گھاس کا بنا ہوتا ہے۔

آسن پاتی لے کر پڑنا (۱-محاورہ) روکھ کر پڑ جانا۔ اٹوئی کھٹوئی لے کر پڑ جانا۔

آسن تلے آنا (۱-محاورہ) [۱] ران تلے آنا۔ سواری کے تلے آنا۔ سواری دینا (۲) جسم کا بوجھ اٹھانا (۳) اطاعت میں آنا۔ تابع ہونا۔ فرمانبرداری کرنا بس میں آنا۔ جا بوا میں آنا۔

آسن جلنا (۱-محاورہ) ایک طرح بیٹھے بیٹھے ران یا زانو میں گرمی پیدا ہونا۔ آسن جھٹا (۱-محاورہ) گھوڑے پر جم کر بیٹھا (۲) کسی جگہ قیام کرنا۔ رہنے لگنا (۳) نا بول کرنا۔ قہصے میں لانا (۴) دیر تک ہم بستر رہنا۔

آسن جینا (۱-محاورہ) ران جینا۔ گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔

آسن جھٹنا۔ آسن سے آسن جھٹنا (۱-محاورہ) رانوں کے بل بیٹھنا۔ ران سے ران ملا کر بیٹھنا۔

آسن ڈگانا (۱-محاورہ) [۱] عبادت کی بیٹھک سے اٹھا دینا (۲) پیاسے دل اچاٹ کر دینا۔ نیت میں فرق ڈالنا۔

آسن رگانا (۱) جوگیوں کا ڈھکر بیٹھنا (۲) بسترا جمانا۔ بسرام کرنا۔ رات گزارنا۔ رہنا۔ بھڑنا۔

آسن لینا (۱-محاورہ) ٹانگیں اٹھانا۔ جماع کرنے پر مستعد ہونا۔ رانوں میں دبانا۔

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱-محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسیبی مکان۔ وہ مکان جس میں بھوت بریت وغیرہ کا گزر ہو۔  
آسیبہ آس۔ یہ (ع۔ ا۔ ۱) مذ [ فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ پر  
ایمان لے آئی تھیں۔

## آش

آش [ ۱۔ مٹ ] حریرہ۔ شوربا۔ چلی غذا۔  
آش پکانا (۱۔ محاورہ) (۱) شوربا پکانا (۲) کسی کے خلاف سازش کرنا۔  
۱۳۱ ٹھیک بنانا۔ درست کرنا۔ بلیغ نکلانا۔  
آش پلاؤ (۱۔ مذ) ایک قسم کا جو کھاؤ جو مریض کو دیا جاتا ہے۔  
آش بچو (۱۔ مذ) جو کھاؤ جو بچوں کو دیا جاتا ہے۔  
آشا (آ۔ ش) (۱۔ مٹ) امید۔ آرزو۔ تمنا۔ خواہش۔  
آشام (آ۔ شام) (۱۔ ص) [ پیئے والا۔ امرکات میں بطور لاشخ استعمال

ہوتا ہے جیسے خون آشام  
آشینی (آش۔ نی) (۱۔ مٹ) [ ص۔ دوستی۔ اتفاق۔ میل۔ ملاپ۔  
آشتم (آش۔ تم) (۱۔ مذ) (۱) ریشیوں اور سادھوؤں کے رہنے کی جگہ  
مٹھی۔ مٹھ۔ مکان (۲) بھونیرہ جو کسی خوشی کے موقع پر بنائی جاتی ہے (۳)  
مدیر۔ سکول۔ کالج (۴) جنگل۔ دیتوں کا جھنڈ ۱۵۱ برہمن کی زندگی  
کا ایک حصہ۔

آشفتگی (آ۔ شفت۔ ت۔ گی) (۱۔ مٹ) [ پریشانی۔ پرانگندگی (۲)  
جیرانی (۳) دیوانہ پن۔  
آشفتہ (آ۔ شفت۔ تہ) (۱۔ ص) [ پریشان۔ سراسیمہ۔ پرانگندہ۔ بدحواس  
جمع۔ آشفتگان۔  
آشفتہ بیان (۱۔ ص) [ یادہ گو۔ فضول باتیں کرنے والا۔  
آشفتہ بیانیہ (۱۔ یادہ گوئی۔ گواس۔  
آشفتہ حال۔ آشفتہ دل۔ آشفتہ خاطر (۱۔ مذ) پریشان حال  
خیراب۔ حسرت۔ کنایتہ (عاشق۔

آشفتہ حالی (۱۔ مٹ) [ پریشان حالی۔ پرانگندگی۔  
آشفتہ سمر (۱۔ ص) [ سوری۔ سوداگی۔ دیوانہ۔ پاگل۔  
آشفتہ سمری (۱۔ مٹ) [ دیوانگی۔ جنون۔ پاگل پن۔  
آشفتہ طبع۔ آشفتہ مزاج (۱۔ ص) [ پریشان خاطر۔  
آشفتہ مواف (۱۔ ص) [ جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں (۲)  
غلیظ۔ پریشان حال۔  
آشفتہ نوا (۱۔ ص) [ جس کی آواز سے پریشانی کا اظہار

ہوتا ہو۔  
آشفتہ نوازی (۱۔ مٹ) [ پریشان کر دینے والا۔ نالہ و فریاد پریشانی  
کا اظہار۔  
آشکار۔ آشکارا (آش۔ کار) (آش۔ کا۔ سا) (۱۔ ص) [ ظاہر بنایا  
کھلا ہوا۔ واضح۔ فاش۔  
آشکارا کرنا (۱) ظاہر کرنا۔ پردہ اٹھانا۔ بے حجاب کرنا۔

آشکارا ہونا۔ کھلنا۔ ظاہر ہونا۔ فاش ہونا۔  
آشمال (آش۔ مال) (۱۔ مذ) [ (۱) نوکر چاکر۔ خدمت کار۔ ملازم  
(۲) کینہ۔ نالائی۔ (۳)

آشمتا (آش۔ متا) (۱۔ ص) [ ص۔ صفت۔ وا۔ مذ۔ مٹ ] (۱) واقف کار۔  
شناسا (۲) جان پہچان والا۔ ملاقاتی (۳) غیر مرد یا عورت جو  
ایک دوسرے سے ناجائز تعلق رکھے۔ جمع۔ آشنایان۔  
آشنا پرست (۱۔ ص) [ ص۔ صفت۔ وا۔ ص] (۱) دوست کو بوجھنے والا (۲) یار کی  
قدر کرنے والا۔ سچا دوست۔  
آشنا ہو جانا (۱) محاورہ (۱) واقف ہو جانا۔ مایوس ہو جانا۔ دوست

بن جانا۔  
آشنائی (آش۔ نائی) (۱۔ مٹ) [ (۱) شناسائی۔ ملاقات (۲)  
دوستی۔ محبت (۳) مرد و عورت کا ناجائز تعلق۔  
آشنائی پھوٹنا (۱۔ محاورہ) ملاقات ترک ہونا۔  
آشنائی کا جھوٹا (۱۔ ص) [ جھوٹی دوستی کرنے والا۔ بناہ نہ کر سکنے والا  
لے وفا۔  
آشنائی کا سچا (۱۔ ص) [ دوستی میں پورا۔ وہ شخص جو دوستی بناہ سکے۔  
آشنائی کرنا (۱۔ محاورہ) (۱) دوستی کرنا (۲) آنکھ لڑانا۔  
آشنائی ملانا (۱) سبق (۱) (۱) ملنا (۲) دوستی سبب تک ہے۔ مطلب پرست  
اور خود عرض کے متعلق کہتے ہیں۔

آشنائی بنانا (۱۔ محاورہ) دوستی اور محبت میں وفادار رہنا۔  
آشنائی بھٹنا (۱۔ محاورہ) محبت قائم رہنا۔  
آشوب (آ۔ شوب) (۱۔ مذ) [ (۱) جل۔ فتنہ۔ و فساد۔ پریشانی  
شور۔ غوغا (۲) کھیڑ۔ طوفان۔ عذر۔ بلوہ (۳) آنکھ دکھنا۔  
آشوب الہی (۱۔ مذ) [ دنیا کی فکریں۔  
آشوب اٹھانا (۱۔ محاورہ) فتنہ و فساد برپا کرنا۔  
آشوب چیتھم۔ (۱۔ مذ) [ آنکھ دکھنا۔  
آشوب زمانہ (۱۔ روزگار، زمانہ، عالم، ریلے کی پہل۔ زمانے کا فتنہ۔  
خورد۔ خرد۔ چنگا مرد، دکنیہ، مستوق۔

آشوب گاہ (۱۔ مٹ) [ فتنہ و فساد کا مقام۔  
آشوب مختصر (۱۔ ص) [ (۱) ہنگامہ مختصر (۲) بہت زیادہ شور و مہنگا۔  
آشوبیدہ (آ۔ شوبی۔ ۱۔ ص) [ (۱) پریشان۔ حیران۔  
آشوبان (آش۔ یان) (۱۔ مذ) [ گھونسل۔ شین۔  
آشیاں اٹھانا (۱۔ محاورہ) گھونسل پھوڑنا۔ (۲) جگہ تبدیل کرنا۔  
آشیاں ماندھنا (۱۔ محاورہ) (۱) آشیاں بنانا۔ آشیاں چھانا۔ آشیاں کرنا۔  
آشیاں گھونسل بنانا۔  
آشیاں (آش۔ یا۔ نہ) (۱۔ مذ) [ (۱) آشیاں۔ گھونسل۔  
آشیر باد (آ۔ شیر۔ باد) (۱۔ مٹ) [ دعائے خیر۔

## آص



آصف (آ-صف) (عربی) - ۱۔ مذ [۱۱] حضرت سلیمان کے ذریعہ کانام  
 (۱۲) مجازاً (۱) سہ لائق وزیر (۳) جمع کرنا۔ ضبط کرنا۔  
 آصف الدولہ (ع-آ-۱۔ مذ) اودھ کے ایک ادب نواز اور فیاض  
 حکمران کا نام۔  
 آصف جاہ [ن-۱۰۔ مذ] آصف کے مرتبے والا (۲) بعض امراء کا لقب۔  
 آصف خانی۔ ایک قسم کا شلو کہ یاد اسگٹ۔  
 آصفی۔ آصفیہ (آ-ص-آئی) (آ-ص-فی۔ پیر) [ف-صف] آصف  
 کی طرف منسوب۔

آغوش پھیلی ہوئی گود۔  
 آغوش کشائی۔ گود پھیلنا۔ گود پھیلانا۔  
 آغوش رکھونا (۱) محاورہ) گود پھیلانا۔  
 آغوش گرم کرنا (۱) محاورہ) (۱) گود میں آنا (۲) پیار سے گود میں لینا۔  
 آغوش لبریز ہونا (۱) محاورہ) گود کا بھرا ہونا۔  
 آغوش لحد میں ہونا (۱) محاورہ) مرجانا۔ قبر میں دفن ہونا۔  
 آغوش مادر میں سونا (۱) محاورہ) (۱) مال کی گود میں سونا (۲) آرام اورد  
 چین کی حالت میں سونا۔  
 آغوش میں آنا (۱) محاورہ) گود میں آنا۔ ہم کنار ہونا۔  
 آغوش میں رہنا (۱) محاورہ) پہلو میں رہنا (۲) پاس رہنا۔  
 آغوش میں لینا (۱) محاورہ) محبت سے بغل میں لینا۔ شوق سے بغیر ہونا۔  
 آغوش وا ہونا (۱) محاورہ) گود کھلنا۔  
 آغوش (آ-غوش) (ف-ا-مشت) دودھ پینے بچے کی آواز۔  
 آغوش غلط، دودھ پی کر میاں ہونے سے (۱) محاورہ) دودھ پلانے  
 والی اناجوں کو یہ کلمہ گنہ گنہ کھلاتی بھلاتی اور دودھ پلاتی ہیں۔  
 آغوش کرنا۔ دودھ پینے بچے کا آواز نکالنا۔

## آ-ع

آغا (آ-غا) [ن-۱۔ مذ] (۱) آقا۔ صاحب۔ مالک۔ خداوند (۲)  
 بڑا بھائی (۳) کالیوں اور مغلوں کا خطاب۔  
 آغامیری دانی سب سے کھی سگھائی (۱) مثل) اس عورت کے متعلق  
 کہتے ہیں جو سب گنوں پوری ہو۔ نہایت چالاک اور عیار۔  
 آغامینا (۱) مثل) بنگالہ کی مینا جس کے منہ سے آغا بہت صاف  
 نکلتا ہے (۲) اودھ لڑکی جو بیاری بیاری بانہیں کرے۔ (۳) خوش آواز  
 خوش گلو۔

## آ-ف

آغاز (آ-غا) (ز-ف-ا-مذ) شروع۔ ابتدا۔ عنوان۔  
 آغاز انجام جاننا (۱) محاورہ) اول و آخر کا علم ہونا۔  
 آغاز انجام نہ سوچنا (۱) محاورہ) آگ کا پتھرا نہ دیکھنا۔ بے سوچے سمجھے کام  
 کر بیٹھنا۔ نتیجہ کا خیال نہ رکھنا۔  
 آغاز بد کا انجام بد ہے (۱) مثل) جس کام کی ابتدا بُری ہو اس کی انتہا  
 بھی بُری ہوتی ہے۔  
 آغاز کار (ف-ا-مذ) کسی کام کی ابتداء۔ شروع۔  
 آغاز کرنا۔ شروع کرنا۔ ابتدا کرنا۔ پہل کرنا۔  
 آغائی (آ-غا-ئی) (ع-ا-مذ) وہ بابا جو باپ سے بچایا جائے۔ مثلاً  
 سہ چنگ و باب وغیرہ۔  
 آغشتہ (آ-غش-نہ) [ف-صف] نصف ترکیب ہوا۔ آگودہ۔  
 آغشتہ خون [ف-صف] خون میں گھول ہوا۔ خون میں ڈوبا ہوا۔ ناکام  
 آغوش (آ-غوش) [ف-ا-مذ] (۱) گود میں لینا۔ بغل۔ کنار۔  
 آغوش آباد کرنا (۱) محاورہ) گود میں آنا۔ گود گرم کرنا۔  
 آغوش آباد ہونا (۱) محاورہ) گود گرم ہونا۔ محبوب بغل میں ہونا۔  
 آغوش بھرنا (۱) محاورہ) گود میں بھر پور آنا۔ عورت کا اولاد والی ہونا۔  
 آغوش پھیلانا (۱) محاورہ) گود میں لینے کو پھیلنا۔  
 آغوش خانی کرنا (۱) محاورہ) (۱) گود سے نکل جانا (۲) کنارہ کشی کرنا۔  
 آغوش خالی ہونا (۱) محاورہ) کسی کا گود سے نکل جانا (۲) بچہ مرجانا۔  
 آغوش کا پروردہ۔ گود کا پالا۔ گودوں میں پرورش کیا ہوا۔ اولاد۔ ذت  
 آغوش (کشاہ) (کشورہ) [بغیر اضافت] گود پھیلانے ہوئے (۲) (باضاً)

آفات (آ-فات) (ع-ا-مذ) آفت کی جمع۔ مصیبتیں۔  
 آفات (آسمانی) سماوی۔ آسمانی حادثات۔ غضب کی آمدھی۔ طوفانی  
 بارش۔ بجلی۔ اوسے۔ پالا۔ برفباری وغیرہ۔  
 آفات ارضی (ع-ف-مذ) زمین سے پیدا ہونے والی مصیبتیں۔ مثلاً  
 سیلاب۔ آتش فشاں وغیرہ۔  
 آفاق (آ-فا-ق) (ع-ا-مذ) (۱) آفت کی جمع۔ آسمان کے کنارے (۲) عالم  
 سنا۔ راجگ۔ دنیا جہاں اردو میں داخل استعمال ہے)۔  
 آفاق گیر (ع-ف-صف) (ع-ا-مذ) عالمگیر۔ دنیا کو فتح کرنے والا  
 (۲) دنیا پر پھیل جانے والا۔  
 آفاتی (آ-فا-ئی) (ع-صف) ساری دنیا کا عالمگیر۔  
 آفت (آ-فت) (ع-ا-مذ) (۱) مہلکہ مصیبت۔ بلا۔ (۲) فتنہ۔ ظلم۔  
 ستم (۳) مشکل (۴) غضب الہی۔ دبا۔ فحظ وغیرہ (۵) ناکامی۔ نبردستی۔  
 (۶) ناگوار طبع (۷) شور و غوغا۔ فتنہ (۸) شوب (۹) عتاب۔ غصہ (۱۰) (صف)  
 شوخ۔ چالاک۔ عیار۔ فتنہ انگیز۔ جمع۔ آفات۔  
 آفت آنا (۱) محاورہ) (۱) مصیبت پڑنا (۲) وباء پھیلنا۔ فحظ آنا۔  
 آفت اٹھانا (۱) محاورہ) (۱) مصیبت جھیلنا۔ تکلیف برداشت کرنا (۲) نکل  
 کرنا۔ فساد برپا کرنا۔  
 آفت پڑنا (۱) محاورہ) (۱) فتنہ زل ہونا۔ مصیبت آنا۔ (۲) صدمہ پہنچنا۔  
 آفت توڑنا (۱) محاورہ) (۱) غصے ہونا۔ (۲) ظلم کرنا۔ غضب ڈھانا  
 آفت ٹالنا (۱) محاورہ) مصیبت سے بچانا۔ مشکل آسان کرنا۔  
 آفت ٹھننا (۱) محاورہ) مصیبت دور ہونا۔

آفت ٹوٹنا (۱) محاورہ مصیبت پڑنا۔ صدمہ یا بلا نازل ہونا (۲) جھگڑنا ہونا۔  
 آفت جان (ع۔ ف۔ ص) جان کا روگ۔ بلا سے جان (۲) مجازاً معشوق۔  
 آفت جان پر لینا (۱) محاورہ گوکہ سہنا۔ مصیبت اٹھانا۔  
 آفت جھیلنا (۱) محاورہ مصیبت برداشت کرنا۔ صدمہ سہنا۔  
 آفت خیزان (ع۔ ص) آفت برپا کرنے والا۔ فساد اٹھانے والا۔  
 آفت ڈالنا (۱) محاورہ بلا نازل کرنا۔ مصیبت ڈالنا۔  
 آفت ڈھکانا (۱) محاورہ (۱) قیامت برپا کرنا (۲) ستم توڑنا (۳) ہنگامہ کرنا۔ شور کرنا۔  
 آفت رسیدہ (ع۔ ف۔ ص) مصیبت زدہ۔ دکھیا۔  
 آفت سمر پر لینا (۱) محاورہ مصیبت اپنے ذمے لینا۔ جھگڑا مول لینا۔  
 آفت سہنا۔ مصیبت سہانا۔ دکھ برداشت کرنا۔  
 آفت کا پرکالا (ع۔ ف۔ ص) ستورخ و شنگار۔ طرار (۳) شہر پر عیاں۔  
 آفت کا ٹھکڑا (۱) محاورہ غضب کا پٹلا۔ بد ذات۔ شہر پر۔ عیار  
 آفت کا مارا (۱) محاورہ ستم زدہ۔ مصیبت کا شکار۔  
 آفت کی اتباع (فعل) انتہا درجہ کی۔ بہت زیادہ۔ بے حد۔  
 آفت کی (پڑیا) پلوٹ (۱) مٹ (۱) عیار و فغا باز۔ شہر پر۔ چالاک  
 آفت چمکانا (۱) محاورہ نل چمکانا (۲) غضب ڈھکانا۔ (۳) ڈانگ کرنا۔  
 آفت میں پھنسا (۱) محاورہ غضب میں آنا۔ مصیبت میں پھنسا۔  
 آفت میں جان آنا (۱) محاورہ اہمیت مشکل درپیش آنا۔ بہت مصیبت ہونا  
 آفت میں مبتلا ہونا (۱) محاورہ ارج و غم میں مبتلا ہونا۔ بلاؤں میں گھبرنا۔  
 آفت سے (۱) محاورہ غضب ہے۔ قیامت ہے۔ بڑا چالاک اور عیار  
 ہے۔ نہایت شہر اور فتنہ انگیز ہے۔ بڑا ذہین ہے۔  
 آفتاب (آفتاب) (ع۔ ف۔ مذ) (۱) سورج (۲) دھوپ (۳) شراب کا  
 پیالہ (۴) نجف کا ایک پتہ (۵) کتا بترہ [یکتا سے زمانہ لا جواب جس کا  
 تثنائی نہ ہو۔ معشوق۔  
 آفتاب آمد دلیل آفتاب (ع۔ ف) مثل اظہار بات کے ثبوت کی ضرورت نہیں  
 آفتاب برآمد ہونا (۱) محاورہ سورج کا نکلنا۔ صبح ہونا۔  
 آفتاب برسر دیوار (ع۔ ف) محاورہ زوال کے ٹھہرایا۔  
 آفتاب بنا دیتا (۱) محاورہ درجہ بلند کرنا۔ مرتبہ اونچا کرنا۔  
 آفتاب پرست (ع۔ ف) (۱) آفتاب کی پرستش کرنے والا (۲) نیلوفر کا  
 پھول (۳) سرگرم (۴) سورج مکھی۔  
 آفتاب ڈھلنا (۱) محاورہ سورج کا وسط آسمان سے مغرب کی طرف  
 ٹھکانا۔ دن کا زوال شروع ہونا۔  
 آفتاب سمر بر آنا (۱) محاورہ دوپہر ہونا۔ بارہ بجے کا وقت ہونا۔  
 آفتاب سر کوٹہ (۱) ڈوبنے کے قریب آفتاب (۲) کتا بترہ [مرنے کے  
 قریب۔  
 آفتاب سوا نبرے پر آنا (۱) محاورہ (۱) قیامت آنا۔ دھوپ کی تیزی

بہت بڑھ جانا۔  
 آفتاب غروب ہونا (۱) محاورہ سورج ڈوبنا۔ شام ہونا۔  
 آفتاب کا مغرب سے نکلنا (۱) محاورہ مسلمانوں کا امتقاد ہونے کے  
 قیامت کے قریب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ قرب قیامت۔  
 قیامت آنا۔  
 آفتاب کو (چرخ) دیا دکھانا (۱) محاورہ تجزیہ کار آدمی کو کام کے  
 ڈھنگ بتانا۔ قابل کے سامنے ناقابل کا سختی بکھارنا۔  
 آفتاب لب باہم (۱) قریب غریب آفتاب (۲) نہایت بڑھنا۔  
 آفتاب محشر (۱) قیامت کے دن کا سورج۔ وہ سورج جو اہل اسلام  
 کے اعتقاد میں قیامت کے دن سوا نبرہ پر ہوگا (۲) نہایت گرم۔  
 نیز سورج (۳) معشوق۔ نہایت حسین بخوبی صورت۔  
 آفتاب نصف النہار پر ہونا (۱) محاورہ دوپہر ہونا (۲) اوج کمال  
 پر ہونا۔  
 آفتابہ (آفتابہ) (ع۔ ف۔ مذ) ڈھکنے دار اور دستہ لگا ہوا ٹوٹا۔  
 آفتابہ لے کر کھڑے ہونا (۱) محاورہ منہ ماتھ دھلانے کے واسطے پانی  
 لے کر کھڑا ہونا (۲) غلام بنا کر خدمت گزار بننا۔  
 آفتابی (آفتاب) (ع۔ ف) (۱) آفتاب سے منسوب (۲) وہ چیز  
 جو دھوپ میں خشک ہوتی ہو۔ (۳) گول۔ مدور (۴) چمک دار (۵) امت  
 ایک قسم کی آتش بازی۔  
 آفتابی چہرہ (ع۔ ف) (۱) گول چہرہ۔  
 آفتابی دائرہ۔ بالکل گول دائرہ (دائری) کی دو قسمیں ہیں۔ آفتابی اور رضوی  
 رضوی دائرہ انڈے کی شکل کا ہوتا ہے۔  
 آفتابی گلقدار (ع۔ ف) (۱) وہ گلقدار جسے دھوپ میں رکھ کر تیار کیا گیا ہو۔  
 آفریدہ کار (آف۔ رید۔ کار) (ع۔ ف) صفا [پیدا کرنے والا خان۔  
 آفریدہ گان (آف۔ رید۔ گان) (ع۔ ف) صفا [آفریدہ کی جمع۔ پیدا کیے ہوئے  
 مخلوق۔  
 آفریدہ (آف۔ ری۔ وہ) (ع۔ ف) صفا [پیدا کیا ہوا مخلوق۔  
 آفریدی (آف۔ ری۔ دی) (ع۔ ف) (۱) مذ [پٹھانوں کی ایک قوم۔  
 آفریں (آف۔ ریں) (ع۔ ف) (۱) مٹ [شاباش۔ کلمہ تحسین و مبارک باد۔  
 واہ وا۔ مرجا۔ کیا کہنا۔  
 آفریں باد برس ہمت مراد نہ تو (ع۔ ف) (مقولہ) تیری مردانہ ہمت پر  
 شاباش ہے۔  
 آفریں صد آفریں (کلمہ تحسین) واہ وا پر واہ وا۔ صد رحمت مدح و ذم  
 دونوں کے لیے۔  
 آفریں کرنا (۱) محاورہ شاباش دینا۔ واہ وا کرنا۔ تحسین متا نش کرنا۔ ہر لہنا  
 آفریں سے کیا کہنا ہے۔ شاباش ہے۔ طنزاً بھی کہتے ہیں۔  
 آفریش (آف۔ ری۔ نش) (ع۔ ف) (۱) مٹ [پیدا نش۔ مخلوق۔ دنیا۔  
 آفریندہ (آف۔ ری۔ زن۔ وہ) (ع۔ ف) صفا [پیدا کرنے والا (مراد  
 خداوند تعالیٰ)  
 آفس (Office) (آف۔ فس) (۱) (۱) مذ (۲) دفتر (۳) فرض منصبی

سر اور بے ذائقگیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔  
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع ۱۔ آگلیں۔  
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع ۱۔ آگلیں۔  
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع ۱۔ آگلیں۔  
 آگ (آگ) [ع. صفت] کھلنے والا۔ جمع ۱۔ آگلیں۔

مخصوص کام یا خدمت (۳) عہدہ۔ منصب۔  
 آفندی (آ۔ فن۔ دی) [ت. ۱۰۔ مذ] صاحب بزرگ۔ محترم۔ مالک عثمانی  
 دور میں ترکی میں چھوٹے افسروں کا لقب۔  
 آفیسر (Officer) [آ۔ فی۔ سی] [ت. ۱۰۔ مذ] (۱) افسر۔ حاکم۔  
 سرحدہ دار (۲) اہل کار۔ عامل۔  
 آفیشل (Official) [آ۔ فی۔ شل] [ت. ۱۱] [ع. صفت] (۱) سرکاری۔ دفتری  
 عملہ (۲) اہل کار (۳) باضابطہ۔ مستند [مذ] عہدیدار۔ منصب دار

# آگ

# آق

آقا (آ۔ ق) [ت. ۱۰۔ مذ] (۱) مالک۔ خداوند۔ صاحب (۲) خاوند۔  
 شوہر (۳) حاکم۔ افسر جمع۔ آقباں۔  
 آقائے ولی نعمت۔ خداوند نعمت۔ سرکار۔  
 آقاسی (آ۔ ق۔ سی) [ت. ۱۰۔ مذ] دیوان خانہ کا دروغ۔

# آگ

آگ (آ۔ گ) [ت. ۱۰۔ مذ] ایک پردے کا نام جسے مدار اور اکوا بھی کہتے ہیں۔  
 آگ کی بڑھیا (۱) [مذ] (۱) وہ روئی جو آگ کے ڈوڈل میں سے  
 نکلتی ہے (۲) بہت بوڑھی عورت۔  
 آگ (آ۔ گ) [ت. ۱۰۔ مذ] (۱) بڑا بھائی (۲) کلمہ خطاب۔ میاں صاحب  
 وغیرہ کی جگہ۔  
 آگ کا بھائی۔ ادب اور پیار سے بڑے بھائی کو کہتے ہیں۔  
 آگ کار (آ۔ گ) [ت. ۱۰۔ مذ] (۱) روپ۔ صورت (۲) ڈیل ڈول۔  
 آگاس۔ آگاس (س) [ت. ۱۰۔ مذ] آسمان۔ خلا۔ حدنگاہ۔  
 آگاس بیل (۱) [مذ] (۱) ایک زرد رنگ کی دھاکے کی طرح بیل جو  
 درختوں سے چمٹ جاتی ہے اور اپنی خودک حاصل کرتی ہے۔ اس کی  
 جڑ نہیں ہوتی۔ امر بیل۔ اقبیوں۔  
 آگاش آگاش (س) [ت. ۱۰۔ مذ] شہاب ثاقب۔ ٹوٹنے والا تارہ۔  
 آگاش بانی (س) [ت. ۱۰۔ مذ] غیبی آواز۔ خدا کی طرف کی آواز۔ امام۔ مکاشفہ  
 انعام (۲) ریڈیو۔  
 آگاش پھیل۔ اولاد۔ بیٹا۔ بیٹی۔  
 آگاش چوٹی۔ سمت ابراس۔ سر کی میدہ۔  
 آگاش دریا۔ وہ چراغ جو لاک میں بندھ کر تیل میں رکھ کر اور اچھے پائش  
 کے سرے پر باندھ کر جلاتے ہیں۔  
 آگس فورڈ (Oxford) [آگ] انگلستان کا ایک شہر جس میں اسی نام  
 کی ایک یونیورسٹی ہے۔  
 آگسن (Oxon) [آگ۔ س] [ت. ۱۰۔ مذ] آگس فورڈ یونیورسٹی سے نسبت رکھنے  
 والا۔ آگس فورڈ کا طالب علم۔  
 آگسجن (Oxygen) [آگ۔ سی۔ جن] [ت. ۱۰۔ مذ] ایک بے  
 رنگ

آگ (۱) [ت. ۱۰۔ مذ] (۱) آتش (۲) جلن۔ تپ۔ گرمی (۳) کام کا شوق یا  
 جذبہ (۴) پریم۔ محبت (۵) دشمنی (۶) شہوت (۷) آتشک۔ پیاس (۸) دشمن  
 شوق۔ اشتیاق (۹) آفت۔ مصیبت۔ بھونچل۔ خشکی (۱۰) کھولتا ہوا گرم  
 جلتا ہوا (۱۱) مزاج گرم (۱۲) سرخ۔ دہکتا ہوا۔ انگارا۔ نہایت گرم (۱۳)  
 تیز مزاج (۱۴) نہایت گراں۔ جبروت ہوا۔ (۱۵) حسد۔ عداوت۔  
 آگ اکھٹا (۱) [مذ] (۱) اکٹھا کرنا۔ لٹکانا۔ لٹکانا۔ لٹکانا۔ لٹکانا۔  
 آگ اور بیری کو کم نہ سمجھے (۱) [مذ] (۱) آگ اور کڑو دشمن کو بھی  
 حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔  
 آگ اور چھوس میں بھرے (۱) [مذ] (۱) آگ اور چھوس اکٹھے ہوں تو جلے  
 بغیر نہیں رہتے۔ اس طرح جوان عورت اور مرد ایک جگہ رہ کر پناہ نہیں  
 نہیں رہ سکتے۔  
 آگ اور روئی کی کیا دوستی (۱) [مذ] (۱) دو جانی دشمنوں کا ملاپ نہیں  
 ہو سکتا۔  
 آگ بولا (۱) [ت. ۱۰۔ صفت] (۱) دیکھنا۔ آگ بگولا۔  
 آگ بھٹا (۱) [ت. ۱۰۔ صفت] (۱) آگ بھٹا کرنا۔ آگ پیر پانی ڈالنا (۲) نسا دیا جھگڑا مٹانا۔  
 (۳) خواہش پوری کرنا (۴) رشک۔ جین۔ حسد نکالنا۔ دشمنی نکالنا (۵)  
 تشنگی رفع کرنا۔ پیاس بجھانا (۶) بھوک مٹانا۔ سیر ہونا۔ پیٹ بھرنا۔  
 آگ بھٹا (۱) [ت. ۱۰۔ صفت] (۱) آگ بھٹا کرنا۔ نسا دیا جھگڑے کا مٹانا۔ غصہ اتارنا  
 (۲) جھل مٹنا۔ شہوت مٹانا (۳) رشک یا حسد کا پورا ہونا (۴) پیاس بجھنا  
 بھوک رفع ہونا (۶) سیر ہونا۔ پیٹ بھرنا (۷) رسوائی مٹانا۔ بدنامی دور  
 ہونا (۸) سوزش اور جلن کا مٹانا۔  
 آگ بنانا (۱) [مذ] (۱) آگ دکھانا۔ توپ بندوق داغنا۔  
 آگ برسانا (۱) [ت. ۱۰۔ صفت] (۱) آتش بازی چھوڑنا (۲) شدت کی گرمی پہنچانا (۳) گولہ باری  
 کرنا۔ گولے اور گولیوں کی ٹوچھاڑ کرنا۔ گولے بارنا (۴) باہم نفاق ڈالنا۔  
 آگ برستا (۱) [ت. ۱۰۔ صفت] (۱) نہایت تیز گرمی پڑنا۔ (۲) سخت گولہ باری ہونا۔  
 آگ بگولا (۱) [ت. ۱۰۔ صفت] (۱) جلنا۔ بھٹنا۔ دہکتا ہوا۔ لال سرخ۔ غصہ میں بھرا۔  
 آگ بگولا (۱) [ت. ۱۰۔ صفت] (۱) جلنا۔ بھٹنا۔ دہکتا ہوا۔ لال سرخ۔ غصہ میں بھرا۔  
 آگ بگولا (۱) [ت. ۱۰۔ صفت] (۱) جلنا۔ بھٹنا۔ دہکتا ہوا۔ لال سرخ۔ غصہ میں بھرا۔  
 آگ بنانا (۱) [مذ] (۱) آگ جلنا۔ آگ سلگانا (۲) غصہ دلانا۔ برا فروختہ  
 کرنا۔ بھڑکانا۔  
 آگ بن دھواں کہاں (۱) [مذ] (۱) ہر بات کی کوئی نہ کوئی دجہر ہوتی ہے  
 آگ (ہن جانا) بننا۔ غصے میں لال ہو جانا۔ بھڑک اٹھنا۔

آگ (دبانا) دبانا (۱) محاورہ) سوز و گداز ہونا (۲) جلن ہونا (۳) دشمنی ہونا۔  
 آگ بھڑکنا۔ غصہ دو کرنا۔  
 آگ دکھانا (۱) محاورہ) آگ لگانا۔ قلیقہ دینا۔ شتابا لگانا۔  
 آگ دوڑنا (۱) محاورہ) آگ کا پھیلنا (۲) شورش پھیلنا۔  
 آگ دھونا (۱) محاورہ) آگ سے راکھ دودھ کرنا۔  
 آگ دینا (۱) محاورہ) (۱) جلانا۔ آگ لگانا (۲) مٹانا (۳) چننا میں آگ دینا۔  
 آگ سرد ہونا (۱) محاورہ) آگ بجھنا (۲) فساد مٹنا (۳) شوق نہ رہنا۔  
 آگ سلگانا (۱) محاورہ) آگ روشن کرنا (۲) لگائی بجھائی کرنا۔  
 آگ سلگانا (۱) آگ جلنا۔ آگ سے دھواں نکلنا۔ سوز بھٹن ہونا۔ جلن ہونا۔  
 آگ سے بانی ہو جانا (۱) محاورہ) غصہ دودھ ہو جانا۔ خفگی جاتی رہنا۔  
 آگ کا باغ (۱) (۱) سناڑ کا آتش دان (۲) آتش بازی (۳) آتش فرود جو حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن گئی تھی۔  
 آگ کا بنا ہونا (۱) محاورہ) نہایت تند خو۔ بہت گرم مزاج۔  
 آگ سٹلا (۱) (۱) آگ کا بنا ہونا۔ گرم مزاج۔ آتش کا پر کالہ۔  
 آگ کا تپنا آگ کو دھائے (۱) مثل) ہر چیز اپنی اصل کو جاتی ہے۔  
 آگ کا پتنگا (۱) (۱) سناڑہ چنگاری۔ جلنا ہوا کوئلہ۔  
 آگ کا پر کالہ (۱) آگ کا پتلا۔ لگانا (۲) (کنایتاً) معشوق۔  
 آگ کا جلا آگ ہی سے اچھا ہوتا ہے (۱) مثل) آگ کے جلے کو سینکا۔  
 آگ سفید ہونا ہے۔ علاج بائٹل (۲) جس نے دکھ دیا اسی سے آرام ملتا ہے۔  
 آگ کا کھیل (۱) آتش بازی (۲) بچانے رینڈھنے کا کام (۳) اکیا گری۔  
 آگ جلانا (۱) محاورہ) آگ کا ٹھنڈا جانا۔  
 آگ کرنا (۱) محاورہ) آگ سلگانا۔ غصہ دلانا۔  
 آگ کھانا (۱) محاورہ) آگ سے جلنا (۱) مثل) جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا بنا دینا۔  
 آگ کاٹنا۔ غرض بدی نکلنا۔  
 آگ کھائے منہ جلے، ادھار کھائے پیٹ جلے (۱) مثل) فرض سے پیٹ بھر کر سخت تکلیف ہوتی ہے۔  
 آگ کتنے منہ نہیں جلتا (۱) مثل) کسی چیز کا نام لینے سے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ زہر کا نام لینے سے آدمی مرنا نہیں۔  
 آگ کے لوگے اٹھنا (۱) محاورہ) آگ کے شعلے بلند ہونا (۲) جی جلنا۔  
 آگ گرم زمین سے پانی پھرنے کے وقت پھیلے اٹھنا۔  
 آگ کے مول۔ بہت قیمتی۔ کراں۔  
 آگ کاڑنا۔ آگ دبانا۔  
 آگ لگا (کے) (پانی) کو دوڑنا (۱) محاورہ) لڑائی کروا کر صلح کے درپے ہونا۔  
 آگ لگانا (۱) آگ دینا۔ جلانا۔ پھونکنا۔ باننا (۲) سوزش پیدا کرنا (۳) لو لگانا۔ شوق بڑھانا۔ سوز بھٹنا۔ جھوٹا جوش پیدا کرنا۔ رخ دینا۔  
 آگ پھونکنا۔ (۵) رشک دلانا (۶) غصہ دلانا۔ بھڑکانا (۷) جھگڑنا اٹھنا۔  
 آگ دشمنی پھیلانا (۸) آفت برپا کرنا۔ سناڑت کرنا (۹) کراں سودا خریدنا (۱۰) نقصان دینا۔ غلبن کرنا (۱۱) تڑک کرنا (۱۲) ضائع کرنا۔ غارت کرنا۔ تباہ کرنا۔  
 آگ (۱۳) خوب دھوم دھام کرنا (۱۴) کاٹنا۔ خراب کرنا (۱۵) لگائی بجھائی کرنا۔

آگ بھڑکنا۔ دیکھیے آگ بگولنا۔  
 آگ بھری ہونا (۱) محاورہ) (۱) سوز و گداز ہونا (۲) جلن ہونا (۳) دشمنی ہونا۔  
 آگ گرم مزاج ہونا (۵) پھر شہوت ہونا (۶) آتشک ہونا۔  
 آگ بھڑکنا (۱) محاورہ) آگ کو ہوا دے کر مشتعل کرنا (۲) فساد بڑھانا (۳) غصہ دلانا (۴) شوق اور بھمت بڑھانا۔  
 آگ (بھڑکنا) بھڑک اٹھنا (۱) محاورہ) (۱) شعلہ اٹھنا۔ آگ دکھانا (۲) برا فروخت ہونا (۳) عشق کا دلدار اٹھنا۔ آتش شوق کا بھڑکنا (۴) لڑائی پھیلنا (۵) گرمی اور جلن زیادہ ہونا۔  
 آگ بھی نہ گاؤں (۱) (روز مرہ) (۶) کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرنے وقت غور میں کہتی ہیں۔  
 آگ بانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے (۱) مثل) دو مخالف چیز ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔  
 آگ پانی کا بیر (۱) (۱) آگ اور پانی کی طبیعت میں ضد ہے۔ فطری منافقت۔  
 آگ پانی کا کھیل (۱) (۱) (۱) جب کوئی چیز بچانے میں بھڑک جائے تو کہتے ہیں۔ کہ یہ تو آگ پانی کا کھیل ہے (۲) آگ پانی سے جلنے والی نہیں۔  
 آگ پانی میں لگانا (۱) جہاں لڑائی نہ ہوتی ہو وہاں لڑائی کر دینا (۲) عیاری و چالابی میں کمال دکھانا (۳) ناممکن بات کرنا۔  
 آگ ہر پانی ڈالنا (۱) محاورہ) آگ بجھانا جھگڑنا۔ فساد ختم کرنا۔  
 آگ بتر میل (بھگانا) ڈالنا (۱) مثل) آگ کو بھڑکانا (۲) جھگڑنے کو اور زیادہ کرنا۔ غصے کو تیز کرنا۔  
 آگ پر لٹانا (۱) محاورہ) بے حد بے قرار کرنا۔ بہت جلانا۔ تڑپانا۔  
 آگ پر کوشنا (۱) محاورہ) بہت بے قرار ہونا۔ تڑپنا (۲) رشک و حسد سے جلنا۔  
 آگ پڑنا (۱) دھوپ میں تیزی ہونا۔ گرمی ہونا۔  
 آگ بجھانا (۱) محاورہ) جھوٹ بولنا۔ جھپٹی کرنا۔ بہتان لگانا۔  
 آگ پھونکنا (۱) محاورہ) آگ سلگانا۔ آگ جلانا (۲) سوزش پیدا کرنا (۳) گرمنا۔ بھڑکانا (۴) عشق بھڑکانا (۵) لگائی بجھائی کرنا۔  
 آگ پھیلنا (۱) محاورہ) فساد برپا کرنا۔ فتنہ اٹھانا۔ رخ بڑھانا۔  
 آگ پھیلنا (۱) محاورہ) فساد بھڑکانا ہونا۔ فتنہ برپا ہونا۔  
 آگ کھنڈی کرنا (۱) محاورہ) آگ کھنڈنا۔ (۲) فساد مٹانا۔ غصہ ٹھنڈا کرنا۔  
 آگ جاگ اٹھنا (۱) محاورہ) بھی بھئی ہوئی آگ بھڑک اٹھنا (۲) دوبارہ جھگڑنا۔ شورش ہو جانا (۳) شوق بڑھ جانا (۴) دشمن ہونا۔  
 آگ جاگنا (۱) محاورہ) بھلائی ہوئی آگ کا دھب اٹھنا (۲) عشق بھڑکنا۔ آگ جانے، لوہا رجانے، دھونکنے والے کی ملاح جانے (۱) مثل) حکم دینے والا فرما دار سے تعبیر کرنے والے کا قصور نہیں۔  
 آگ تلگوں سے لگانا (۱) محاورہ) نہایت غصے ہونا۔  
 آگ جگانا (۱) محاورہ) آگ جلانا۔ شوق بڑھانا۔ خواہش تیز کرنا۔  
 آگ جوڑنا (۱) محاورہ) ایلے یا لکڑی آپس میں ملا کر آگ سلگانا۔  
 آگ جھاڑنا (۱) محاورہ) آگ سے راکھ دودھ کرنا۔ (۲) چھاتی سے آگ نکلنا۔



آگے دیکھنا (۶) سانسے دیکھنا۔ آنکھیں کھولنا (۲) ہوشیار ہونا۔ آگے کی خبر رکھنا۔  
 آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے (۱)۔ (مثل) نہیں معلوم آئندہ کیا ہونے والا ہے۔  
 آگے دے کے (تابع فعل) (۱) سانسے کہو۔ پیش کر کے (۲) جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ (۳) دھیل کر۔ زبردستی۔  
 آگے ڈالنا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے رکھ دینا۔ درپردہ ڈال دینا (۲) گزارہ کے واسطے بیوہ عورت کی روپیہ سے مدد کرنا۔  
 آگے ڈولنا (۱) سانسے پھرنا (۲) بال بچے ہونا۔ صاحب اولاد ہونا۔  
 آگے رکھ لینا (۱)۔ محاورہ (۱) نشانہ بنا لینا۔ (۲) ڈھال بنا لینا (۲) قابو کر لینا۔  
 آگے رکھنا (۱) سانسے رکھنا (۲) نذر کرنا۔ شہینہ رکھنا۔ آست دینا۔  
 آگے رنگ لانا (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ گل کھلانا۔ آئندہ کو خرابی لانا۔  
 آگے سے (۱) سانسے سے (۲) پہلے سے۔ ابتدا سے۔  
 آگے سے ٹھاننا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے ارادہ کرنا (۲) پہلے سے نتیجہ نکالنا۔  
 آگے سے روکنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے روک دینا۔ پیش بندی کرنا۔  
 آگے سے سوچنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے فکر کرنا۔  
 آگے سے کانٹھنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے راضی کر لینا۔ پہلے سے یاد بنانا۔  
 آگے سے بٹانا۔ سانسے سے دور کرنا۔ ایک طرف کرنا۔  
 آگے سے تہی آئی ہے (۱)۔ (مثل) قدیم سے دستور ہے۔ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے ہرانی زخم ہے۔  
 آگے قدم اڑھنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہل کرنا۔ پیش قدمی کرنا۔ ترقی کرنا۔  
 آگے قسمت (۱)۔ روز مرہ (۱) آئندہ جو نصیب میں ہو۔  
 آگے کا اٹھنا۔ جھوٹا۔ پس خوردہ۔ بچا کھا کھانا۔  
 آگے کا قدم پیچھے پڑنا (۱)۔ محاورہ (۱) پیچھے ہٹنا (۲) تنزل کرنا۔ گھٹنا (۳) رعب چھانچانا۔ ڈر جانا۔ گھرجانا۔ پچھ نہ سوچنا۔  
 آگے کرنا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے کرنا (۲) پیش کرنا  
 آگے کتوں پیچھے کھائی (۱)۔ (مثل) دونوں طرف سے خطرہ۔ کام کرنے میں بھی خرابی ہے اور نہ کرنے میں بھی۔  
 آگے نافرمان (۱)۔ روز مرہ (۱) آگے قسمت۔ آئندہ جو قسمت میں ہو۔  
 آگے ناخن نہ پیچھے کھینا۔ سب سے اچھا کہاں کا گدھا (۱)۔ (مثل) جس کا دالی وارث کوئی نہ ہو۔ ناٹھا۔ بھگوتا۔  
 آگے نکل جانا (بچلنا) (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھ جانا۔ سبقت لے جانا۔  
 آگے ہاتھ پیچھے پات (۱)۔ (مثل) اس قدر تنگ اور غریب ہے کہ تن پر کپڑا بھی نہیں۔ ایک ہاتھ آگے اور ایک پتیا پیچھے لگا ہوا ہے۔  
 آگے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھنا۔ پیش قدمی کرنا (۲) پروردہ ہونا (۳) درپردہ آنا (۴) مقابلہ کرنا۔  
 آگے ہی۔ پہلے ہی۔ اول ہی۔ اول ہی سے۔  
 آگیا (آگ۔ یک۔ یا) (۱)۔ (مثل) [۱] فرمان (۲) ہدایت (۳) اجازت۔ حکم۔ برخصت۔ رضنا۔  
 آگیا پالنا (۱)۔ محاورہ (۱) حکم بجالانا۔ فرماں برداری کرنا۔  
 آگیا ویسا (۱)۔ محاورہ (۱) حکم دینا (۲) اجازت دے دینا۔ ہدایت کرنا۔

پاس۔ قریب۔ پیشی میں۔  
 آگے آگے، پیچھے لاہور (۱)۔ (مثل) غلط راستے پر پڑے ہیں۔  
 آگے آگے (قریب تا کبریٰ) آگے کی تاکید صورت (۲) آئندہ کو زمانہ مستقبل میں۔ رفتہ رفتہ۔ چند روز میں۔  
 آگے آگے جلنا۔ کسی کے آگے بڑھ کر قدم رکھنا۔ خدمت میں آگے جلنا۔  
 آگے آگے رنگ لانا (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ زیادہ شورش برپا کرنا۔ آگے کو خرابی لانا۔ آئندہ سرٹھانا۔  
 آگے آگے گردو، پیچھے پیچھے چیلنا (۱)۔ (مثل) جس لیانت کا آستانہ ہوتا ہے۔ شاگرد بھی ویسی ہی قابلیت حاصل کرتا ہے۔  
 آگے آگے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) پیش پیش ہونا۔ برسر ہونا۔  
 آگے آنا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے آنا (۲) نزدیک آنا (۳) سامنا کرنا (۴) اپنٹ ہونا۔ (۵) واقع ہونا۔ پاداش پانا  
 آگے آیت (۱)۔ روز مرہ (۱) بات ختم ہوئی۔ مطلب تمام ہوا۔ فقرہ پورا ہوا۔ بس آگے بڑھانا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے جلنا۔  
 آگے بڑھنا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے جانا۔ آگے چلنا (۲) لڑنے کے واسطے سانسے ہونا (۳) بڑھ جانا۔ دور نکل جانا (۴) سبقت سے جانا (۵) پیشوا بن کرنا (۶) چلا جانا۔  
 آگے پانا (۱)۔ محاورہ (۱) کیے کی سزا پانا۔ تکلیف اٹھانا۔  
 آگے پیچھے (تابع فعل) (۱) سانسے اور عقب میں (۲) یکے بعد دیگرے لگاتار۔ (۳) دیر سویر (۴) خلاف قاعدہ۔  
 آگے پیچھے چلنا (۱)۔ محاورہ (۱) ایک کے پیچھے دوسرے کا چلنا (۲) بے ترتیبی سے چلنا۔  
 آگے پیچھے سب چل بسیں گے (۱)۔ (مثل) سب کو موت کا مہرہ چکھنا ہے۔  
 آگے پیچھے نہ ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) حق تنہا ہونا۔ بے دارنا ہونا  
 آگے پیچھے ہاتھ دھرتے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) ننگ ہونا۔ نہایت مفلس ہونا۔  
 آگے جاتے گھٹنے لوٹیں، پیچھے دیکھتے آنکھیں پھوٹیں (۱)۔ (مثل) جہاں پر کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں میں خرابی ہو وہاں بولتے ہیں (۲) مجبوری و معذوری۔ نہ ہائے رفتن نہ جائے مامدن۔  
 آگے جانا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھنا (۲) راستہ بنانا۔ رہنمائی کرنا (۳) سبقت لے جانا۔  
 آگے جلنا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھ کر چلنا۔ سبقت لے جانا۔ غالب آنا۔  
 آگے خدلا کا نام (۱)۔ محاورہ (۱) خدلا کے نام کے سوا کچھ نہیں (۲) بس خاتمہ ہے (۳) اس کے آگے کچھ نہیں۔  
 آگے خیر نہیں ہے (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ کچھ نہیں ہے۔  
 آگے دور پیچھے چوڑا (۱)۔ (مثل) ایک کام نام نہیں ہوا کہ دوسرا شروع کر دیا۔  
 آگے دھرا ہے (۱)۔ (مثل) سانسے رکھنا ہے۔ پیش آنا ہے۔  
 آگے دھر لینا، آگے رکھ لینا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے رکھ لینا۔ آگے کر لینا۔ (۲) آنکھ سے اٹھل نہ ہونے دینا (۳) گرفتار کر لینا۔  
 آگے دھرنا (۱)۔ محاورہ (۱) سانسے رکھنا۔ زور دے رکھنا۔  
 آگے دیکھ کے (تابع فعل) (۱) سانسے نظر کر کے (۲) سنبھل کر۔ دیکھ بھال کر۔



آم کھائے پال کا خبر بوزہ کھائے ڈال کا پانی پئے تال کا۔  
 ۱۱۔ مثل ان چیزوں کے استعمال کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ یہ اسی صورت میں لہذا ہوتی ہیں۔

آم کے آم کھلی کے دام (۱۔ مثل آم کھائے کھلیوں کو بیچ کر دام وصول کیے۔ کسی کام میں برصورت سے نفع ہونا۔ دوسرا فائدہ ہونا۔ آم کھاس۔ الم علم۔ بھلا بڑا۔ عام خاص کی بگڑی ہوئی صورت۔ آم کبھی (پورا) مور آنا۔ آم کے درخت میں پھول آنا۔ آمال (آماج) (۱۔ منہ نشانہ بدت۔ آمالگاہ (۱۔ امت) نشانہ کی جگہ۔

آماڈگی (آ۔ ما۔ وگی) (۱۔ امتشا رضامندی۔ مستعدی۔ تیاری۔ آمادہ (آ۔ ما۔ وہ) (۱۔ صفت) رضامند۔ مستعد تیار۔ آماس (آ۔ ما۔ س) (۱۔ ۱۰۔ منہ) سوچن۔ درم۔

آمال (آ۔ مال) (۱۔ مع) (۱۔ منہ) امل کی جمع۔ امیدیں۔ آمد (آ۔ مد) (۱۔ منہ) (۱۱) آنا۔ تشریف لانا۔ آن خود خیال آنا۔ بلا تکلف مضمون ذہن میں آنا۔ (۲) آمدنی (۳) حاصل۔ یافت۔ آمد آمد (۱۔ منہ) آنے کا چرچا۔ آنے کا ذکر۔ جلد آنے کا توقع۔ آمد برآمد کے دن (۱۔ محاورہ) امت پھرنے کا زمانہ۔ فصل تبدیل ہونے کا وقت۔ موسم بدلنے کے دن۔

آمد سخن۔ کلام کا بلا تکلف ذہن میں آنا۔ آمد بہر مطلب (۱۔ منہ) اب میں اصل مطلب بیان کرنا ہوں۔ آمد و خرچ۔ آمدنی اور خرچ۔ آنا اور نکلنا۔ حاصل اور صرف۔

آمد و رفت (۱) آنا جانا (۲) میل ملاپ۔ تعلق۔ واسطہ (۳) ٹریفک۔ آمد و رفت ہونا (۱۔ محاورہ) راہ و رسم رہنا۔ آتے جاتے رہنا۔ آمد و رفت لگانا (۱۔ محاورہ) آنا جانا۔ جاری رکھنا۔

آمد و رفت کی رہنا (۱۔ محاورہ) آنے جانے کا تار بندھا رہنا۔ آمد و شد (۱۔ منہ) (۱۱) آنا جانا۔ آمد و رفت (۲) رہگذر (۳) راہ و رسم۔ آمدن (آ۔ م۔ دن) (۱۔ منہ) (۲) آنا (۳) آمدنی۔ یافت۔

آمدن بہ ارادت رفتن بہ اجازت (۱۔ منہ) اپنی خوشی سے آنا دوسرے کی خوشی سے جانا۔ آمدنی (آ۔ م۔ و۔ نی) (۱۔ منہ) (۱۰۔ منہ) حاصل۔ یافت۔ فائدہ۔ بچیت۔ نفع۔

آمدنی کا موسم (۱) وہ دن جن میں غلہ یا سوداگری کا مال آتا ہے۔ دسارہ آنے کا دن۔ (۲) یافت کا زمانہ۔ آمدنی کے سمر سہرا ہے (۱۔ منہ) آمدنی ہی سے سارا ٹھانڈ درست ہوتا ہے۔

آمر (آ۔ م۔ ر) (۱۔ منہ) (۱۰۔ منہ) حکم دینے والا۔ مطلق العنان۔ ڈکٹیٹر (Dictator)

آمرانہ (آ۔ م۔ را۔ نہ) (۱۔ منہ) (۱۰۔ منہ) منسوب بہ امر۔ حاکمانہ۔ آمرزش (آ۔ م۔ ر۔ ز۔ ش) (۱۔ منہ) (۱۰۔ منہ) بخشش۔ آمرزگار (آ۔ م۔ ر۔ ز۔ گار) (۱۔ منہ) (۱۰۔ منہ) بخشنے والا۔ معاف کرنے والا۔ مراد

عورت کا مستننا (۲) جوان ہونا۔

آلو (۱۔ ۱۔ منہ) ایک مشہور ترکاری۔ آلو بھارا (۱۔ ۱۰۔ منہ) ایک قسم کا شیریں وترش پھل۔ جو بخار سے منسوب آلو بھارات (۱۔ ۱۰۔ منہ) آلو بخار سے لے لٹا جتنا ایک ترش میوہ۔ آلود (آ۔ لو۔ د) (۱۔ منہ) (۱۰۔ منہ) بظہر ہوا۔ مرکبات میں بطور لافحے کے استعمال ہوتا ہے جیسے خون آلود۔

آلودگی (آ۔ لو۔ دگی) (۱۔ ۱۰۔ منہ) (۱۱) ناپاکی۔ آلائش۔ دنیادی تعلقات آلودہ (آ۔ لو۔ دہ) (۱۔ ۱۰۔ منہ) (۱۱) بظہر ہوا۔ بھرا ہوا۔ ناپاک بجنس (۲) پھینسا ہوا (۳) گناہ گار۔ پاپی۔ جمع آلودگان۔

آلودہ دامن۔ آلودہ عصیاں۔ آلودہ گناہ اف۔ صفت گناہ گار۔ آلودہ کرنا۔ بھرنا۔ بظہر ہونا۔ تہائی میں شامل کرنا۔

آلو شفا لو (آ۔ لو۔ شف۔ نا۔ لو) (۱۔ ۱۰۔ منہ) (۱۰۔ منہ) لوگوں کا ایک کھیل جس میں ایک لڑکا دوسرے لڑکے کی چڑھی پر سوار ہو کر اس کی دونوں آنکھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے اور باقی لوگوں میں سے ایک لڑکا اس سوار کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی جتنی جاہے انگلیاں بلا کر گھوڑی سے پوچھتا ہے کہ کتنی آنکھیاں کر اس نے انگلیوں کی تعداد اتنا صحیح بتا دی تو گھوڑی سوار بن جاتی ہے اور پوچھنے والا گھوڑی دڑ کھیل اسی طرح جاری رہتا ہے۔

آلہ (آ۔ لہ) (۱۔ ۱۰۔ منہ) (۱۰۔ منہ) اوزار۔ ہتھیار۔ راجھ۔ جمع۔ آلات آلہ تیناسل (۱۱) نسل برہانے کا اوزار (۲) ذکر۔ عضو تناسل۔ تفضیب۔

آلہ ترفنس (ع۔ ف۔ ت۔ ۱۔ ۱۰۔ منہ) (۱۱) وہ عضو جس کے ذریعے سانس لی جاتی ہے۔ آلہ کار (ع۔ ف۔ ۱۔ ۱۰۔ منہ) کام کا آلہ۔ ذریعہ۔ وسیلہ۔ آئے بالے (آ۔ لے۔ با۔ لے) (۱۔ ۱۰۔ منہ) (۱۰۔ منہ) جیلے۔ حوالے۔ بہانے۔

آمال مثول۔

# آ۔م

آم (۱۔ ۱۰۔ ۵۔ منہ) منطقہ حارہ کا ایک مشہور اور لذیذ پھل۔ انبہ اس کی بے شمار اقسام ہیں۔ آم بوڑھا آم کھاؤ املی بوڑھا املی کھاؤ (۱۔ منہ) جیسا کر دگے ویسا بھوڑے آم پال (راکھنا) ڈالنا۔ ایک خاص طریقے سے کدوائے ہوتے آموں کا کرم چیز میں دہانا تاکہ یک جاس۔

آم ٹیکن۔ آم کا پختہ ہو کر ڈال سے گرنا۔ آم کھوٹنا۔ پختہ آم کا نرم کر کے اس کا رس چوسنا۔ آم ڈھل جانا۔ آم کا زیادہ ملائم ہو کر بے مزا ہو جانا۔ آم کا پکا لکنا (۱۔ محاورہ) درختوں سے پک کر آم پکنا شروع ہونا۔ آم کھانے سے کام۔ بابا بیٹے گھنٹے سے (۱۰۔ منہ) اپنے مطلب سے مطلب ہے۔ حجت سے عرض نہیں۔



خدا نفاے ۔

آمریت (آ۔م۔ ری بہت (ع۔ ۱۔ مٹ) [ آمرا ڈکٹیٹر کا منصب مطلق العنانی کلی اختیار و اقتدار۔

آبلہ (آ۔م۔ لہ (ف۔ ۱۔ مذ) [ آبلہ ۔ ایک ترش پھل۔

آملیٹ (Omelette) (آ۔م۔ بیٹ) [ انک (۱۔ مذ) [ انڈوں کا چلا۔ بیازے ہوتے ہیں انڈے۔

آمناسامنا (آ۔م۔ نا۔ سام۔ نا) [ مذ (۱۔ ۱) [ مقابلہ۔ مٹھ بھیر (۲) [ لڑائی۔ باہم سخت دست باتیں۔

آمننا وصدقنا (آ۔م۔ نا۔ صدق۔ وق) [ نا (ع) [ ۱) ہم ایمان لائے۔ اور ہم نے تصدیق کی (۲) بچا ہے۔ درست ہے۔ ٹھیک ہے۔

آمنے سامنے (۱۔ مذ) [ آ۔م۔ نے (۱۔ ۱) [ ایک دوسرے کے آگے۔ ایک دوسرے کے مقابل۔

آمنے سامنے ہونا (۱۔ محاورہ) [ دربرو ہونا۔ مقابل ہونا۔

آموختہ (آ۔م۔ وخت) [ مذ (۱۔ ۱) [ پڑھا ہوا سبق پیکھلا سبق۔

آموختہ (پڑھنا) [ پھیرنا۔ پڑھے ہوئے کو دہرانا۔

آموختنی (آ۔م۔ وخت۔ نی) [ ف (۱) [ صف [ سیکھنے کے لائق۔ سکھانے کے قابل۔

آموز (آ۔م۔ وز) [ ف (۱) [ صف [ آموختن کا بیغہ امر سکھانے والا۔ سیکھنے والا۔ (مرکبات میں متعل ہے جیسے سبق آموز)

آموزش (آ۔م۔ وزش) [ ف (۱۔ مٹ) [ سیکھائی۔

آموزش گاہ (ف۔ ۱۔ مٹ) [ درس گاہ۔ مکتب۔ مدرسہ۔

آموزگار (آ۔م۔ وز۔ گار) [ ف (۱) [ صف۔ وا۔ [ مذ [ سکھانے والا۔ استاد۔ معلم۔ جمع : آموزگان۔

آمیختہ (آ۔م۔ یخت) [ ف (۱) [ صف [ ملایا ہوا۔ مرکب۔

آمیز (آ۔م۔ یز) [ ف (۱) [ صف [ ملنے والا۔ ملانے والا (مرکبات میں متعل ہے جیسے آمیز)

آمیزش (آ۔م۔ یزش) [ ف (۱۔ مٹ) [ ملاوٹ۔ ملوثی۔

آمیزش ہونا (۱) [ ایک ذات ہونا (۲) [ کھل مل جانا۔

آمیزہ (آ۔م۔ یزہ) [ ف (۱۔ مٹ) [ مذ [ مرکب مخلول ادواؤں (دویارو سے نائد چیزوں کا اس طرح ملنا کہ وہ ایک ذات ہو جائیں۔ کیمچر۔

آمین (آ۔م۔ یمن) [ ع (۱) [ اے خدا ایسا ہی ہو۔ خدا دعا قبول کرے۔ (۲) [ حق قرآن شریف کی تفسیر۔

آمین۔ آمین۔ آمین کا تاکیدی فقرہ۔

آمین آمین ہونا (۱۔ محاورہ) [ (۱) [ امن چین ہونا (۲) [ خوشیاں مننا۔ مراد برآما۔ آمین اللہ (۱) [ خدا یوں ہی کرے۔ خدا قبول کرے۔ خدا کی پناہ۔ دُر پناہ۔ خدا نہ کرے۔ نوح۔ نغوذ باللہ۔

آمین پڑھنا (۱۔ محاورہ) [ حق قرآن کے بعد جو کچھ دعا ٹیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں انھیں آمین پڑھنا کہتے ہیں۔

آمین کہنا (۱۔ محاورہ) [ دعا مانگنے کے بعد لفظ آمین زبان پر لانا یعنی خدا نفاے قبول کرے۔ خدا یوں ہی کرے (۲) [ قبول کرنا۔ ماننا۔

آمین کہنے والے (۱۔ مذ) [ ایس ہاں ملانے والے خوشامدی۔

# آ۔ن

آن (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) [ قسم۔ عمد (۲) [ بڑوں کی رسم۔ رواج (۳) [ ضد۔ ہٹ (۴) [ عادت خصلت (۵) [ آرزو۔ خواہش (۶) [ لاج (۷) [ شرم۔ جیا عزت حرمت۔

آن توڑنا (۱۔ محاورہ) [ (۱) [ قول قرار توڑنا۔ قسم توڑ دینا (۲) [ رسم کے خلاف کرنا۔

آن جانا (۱۔ محاورہ) [ بات خراب ہونا۔ آبرو جانا۔

آن رہ جانا (۱۔ محاورہ) [ بات رہ جانا۔ آبرو رہ جانا۔

آن کھانا ہو گیا (۱۔ مثل) [ تنہا ہو گیا۔ برباد ہو گیا۔ عزت جاتی رہی۔

آن (ف۔ ۱۔ مٹ) [ (۱) [ شان و شوکت (۲) [ ارا۔ معشوقانہ چھب (۳) [ وضع۔ ڈھنگ (۴) [ غور۔ کھنڈ۔

آن بان۔ شان و شوکت۔ وضع۔ ٹھاٹ۔ بانگین۔

آن بان سے رہنا (۱۔ محاورہ) [ شان و شوکت سے بسر کرنا۔ ٹھاٹھ سے رہنا۔ وضع بنائے رہنا۔

آن بان والا (۱) [ شان و شوکت والا۔ ناز و ادا والا۔ (۲) [ وضع دار۔ غیرت دار۔

آن تان میں پورا ہونا (۱۔ محاورہ) [ شان و شوکت میں کامل ہونا۔ وضع کا پابند ہونا۔

آن نکلتا (۱۔ محاورہ) [ معشوقانہ انداز پیدا ہونا۔ حسن و خوبی کا چمکنا۔ آن (ع۔ ۱۔ مٹ) [ وقت۔ لمحہ۔ لحظہ۔ ساعت۔

آن کا ہمان۔ کوئی دم کا ہمان جلد دینا سے جانے والا۔

آن کی آن میں (تابع فعل) [ آنا نا۔ ایک لمحہ میں۔ ذرا سی دیر میں۔

آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے (۱۔ مثل) [ متلون مزاج ہے۔ گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ۔

آن واحد میں (تابع فعل) [ ایک آن میں لمحے بھر میں۔

آن (۱) [ آنا کا مخفف۔

آن پٹنا (۱۔ محاورہ) [ مصیبت پڑنا۔ بلانا نزل ہونا۔ آپھنسنا۔

آن پٹنا (۱۔ محاورہ) [ یکایک آگنا۔ دفعتاً نازل ہونا۔ ایک ایک وارد ہونا۔ (۲) [ بے کوشش یا بظہر لگنا۔ (۳) [ ٹوٹ پڑنا۔ جملہ کرنا (۴) [ مصیبت پڑنا۔ (۵) [ گرفتار ہونا۔ (۶) [ کسی کے سر پر بوجھ پڑنا (۷) [ پناہ میں آنا۔

آن پینچنا (۱۔ محاورہ) [ داخل ہونا۔ کنارے لگنا۔ آجانا۔

آن لیتنا (۱۔ محاورہ) [ آلیٹنا۔ آکر مل جانا۔

آن لیتنا (۱۔ محاورہ) [ آجانا۔ مل جانا۔

آن (ف۔ ۱) [ ض و اشارہ (نون غنہ) [ وہ۔

آنجناب (کلمہ تنظیم) [ جناب والا۔ عالی قدر۔ مخاطب کو بجا مے آپ کے تعظیماً اس جناب کہتے ہیں۔

آنحضرت۔ آل سردر (کلمہ تنظیم) [ دہ بزرگ۔ وہ سردار۔ تعظیماً

آنتیں منہ کو آنا (۱- محاورہ) ناک میں دم آنا۔ بیزار ہونا۔ جی اگنا۔ نہایت  
سختی سے ناگوار گزرتا۔

آنتیں مٹوسنا۔ بھوکا رہنا۔ بھوک کی برداشت نہنا۔

آنٹ (۵۱-۱- مٹ) (۱۱) انتہیلی میں اٹکھٹے اور انکلی کے درمیان کی

جگہ (۲) داؤس۔ قبضہ پیچ (۳) دشمنی (۴) گرہ۔ گانٹھ (۵) بولا۔ ٹکٹھا۔

آنٹ پڑنا (۱- محاورہ) گرہ پڑنا (۲) دل میں فرق آنا۔ دشمنی ہونا۔

آنٹ سناٹ (۱- مٹ) سازش۔ توڑ جوڑ۔ باہمی صلاح مشورے۔

آنٹ لگانا (۱) روک پیدا کرنا (۲) چاندی کو تپا کر کھوٹا کھرا پھانچانا

آنٹ نکلنا۔ دل کا فرق نکلنا۔ دل صاف ہونا۔

آنٹ (اک۔ ٹی) (۵۱-۱- مٹ) (۱۱) گٹھا۔ بولا (۲) سوت یا ریشم کی لکھی۔

(۳) لڑکوں کے کھیلنے کی لگی۔ (۴) کشتی کا ایک بیج جس میں تھانگ اڑا کر

حریت کو جیت کرتے ہیں۔

آنٹ دینا (۱) اڑنا مارنا حریت کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر اسے گرا دینا۔

آنٹ کاٹنا۔ کشتی میں آنٹ لگنے پر اس کی کاٹ کرنا۔

آنٹ (گانا مارنا) (۱) مخالفت کی ٹانگ میں ٹانگ اڑانے کا داؤس چلانا۔

(۲) گرہ باندھنا۔

آنٹے چھوٹے [ق] جھوڑے میں آسنے سامنے بیٹھ کر ایک کا دوسرے کی

سب کو دوسری پاؤں رکھنا۔

آنٹ (۵۱-۱- مٹ) (۱۱) گرمی (۲) آگ کی پیرٹ۔ شعلہ (۳) آگ (۴) تازہ۔

جوش (۵) مادری جوش۔ ماتا (۶) صدمہ (۷) نقصان۔ ضرر (۸) آبدلی۔

دھار۔ چمک (۹) شہوت۔ جوش (۱۰) مصیبت (۱۱) بھوک کی آگ سہا

آنٹ (۱- محاورہ) (۱۱) صدمہ پہنچنا۔ چوٹ لگنا (۲) نقصان ہونا (۳) مصیبت۔

آنٹ دکھانا (۱- محاورہ) گرم کرنا۔ جلانا۔ آگ دکھانا۔

آنٹ کا کھیل ہے (۱- مذ) آگ کا کام ہے۔

آنٹ کڑی ہونا (۱- محاورہ) تیز آگ ہونا۔

آنٹ رکھنا (۱- محاورہ) (۱) تازہ رکھنا (۲) گرم ہونا (۳) لگھلنا۔ گنا۔

آنٹ نہ آنا (۱) صدمہ نہ پہنچنا (۲) نقصان نہ ہونا۔

آنٹ نہ آنے دینا (۱- محاورہ) (۱) آسیب یا صدمہ نہ پہنچنے دینا (۲) نقصان

یا ضرر نہ ہونے دینا۔

آنٹیں نکلنا (۱- محاورہ) شعلے اٹھنا۔

آنٹ (آں۔ چل) (۵۱-۱- مذ) دوپٹے کا سرا۔ اورٹھنی کا پلو۔ دامن کا

پلو۔ دامن کا کنارہ۔ کھونٹ (۲) پستان۔ چوچی۔

آنٹ پڑنا۔ آنٹ پھلنا۔ کسی چیز پر آنٹ پڑنا۔

آنٹ پلو (۱- مذ) مفیش کی جھار جو بھاری جوڑوں کے دوپٹے اورٹھنی

پر وغیرہ کے کناروں پر لٹکتی ہیں۔

آنٹ پھاڑنا (۱- محاورہ) (۱) آنٹ کھڑا کرنا (۲) ٹوٹا کرنا۔ جادو کرنا۔ جس

عورت کے بچے جیتے نہ ہوں وہ بچوں والی عورت کا آنٹ کھڑا کرتی ہے

اور اس کو جلا کر کھا لیتی ہے۔ جس سے حسب اعتقاد مسنورات اُس

کے بچے تو مرنے جاتے ہیں اور کھانے والی کے زندہ رہتے ہیں (۳) دلن

کا بے ہالی سے باتیں کرنا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام کی جگہ بولتے ہیں۔

اُس دفتر کا ڈو خوردان۔ مثل اُس دفتر کو بیل کھا گیا۔ ایسے چیز کے متعلق

کہتے ہیں جس کا نام دشنام بھی باقی نہ رہا ہو۔

اُس راکر حساب پاک است از محاسبہ حیر پاک (ف۔ مثل) جس

کا حساب صاف ہو اسے پڑنا یا کا خوف نہیں۔

اُس قدر شکست و اُس سانی نما ندان۔ مثل (۱) وہ پیار ٹوٹ گیا

اور وہ پلانے والا نہ رہا۔ وہ مزہ اور لطف جاتا رہا۔ وہ زمانہ ہی نہ

رہا، وہ صحیح ہی نہ رہا۔

آنا (آنا) (۵- مص) (۱) آجانا کی ضد۔ آپہنچنا۔ نازل ہونا۔ حاضر ہونا۔ نمودار

ہونا۔ داخل ہونا (۲) واقف ہونا۔ جانا۔ سیکھ لینا (۳) مانگ ہونا۔ رغب

ہونا۔ (۴) دکھنا۔ پڑنا شوب ہونا (۵) دکھ کے لیے مستعمل ہے (۱)

آنا۔ وقت۔

آنا جانا (۱) آمد و رفت (۲) میل ملاپ۔ میل جول۔ ربط ضبط۔

آنا نہ پانی تری پاؤ گھسانی (۱) مثل ایسے کار دوڑ دھوپ بھقت کی محنت۔

آنا قانا (آ۔ ن۔ قان۔ ن) (۲) تابع فعل (۱) ایسی جھٹ پٹ۔

آنا کافی (آ۔ نا۔ کا۔ فی) (۱- مٹ) (۱) سنی ان سنی کرنے کی حالت۔

نہ دھیان دینے کی حالت (۲) مثال مٹوں۔ جلد حوالہ۔

آنا کافی (دینا) کرنا (۱- محاورہ) سنی ان سنی کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔ درگزر کرنا۔

آنٹ (۱- مذ) آسم۔

آنا نلدی (آں۔ یا۔ بل۔ دی) (۱- مٹ) (۱) ایک قسم کی سرخ ہلدی۔

آنا ہلدی۔

آنت (۵۱-۱- مٹ) (۱) انتڑی (۲) کنیرہ (۳) لمبی چیز۔

آنت (انتڑا) بڑھانا (مص۔ مرکب) ایک بیماری جس میں آنت فوٹ

میں آنت آتی ہے اور اس سے آنتی کے خضیوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔

آنت بھاری تو مات بھاری (۱) مثل انتور ہضم سے درد سر ہوتا

ہے۔ پیرٹ کے بگاڑ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔

آنت کی آنت (۱- محاورہ) بہت لمبی چیز۔ طول طویل بات۔

آنتوں کا بل کھلنا۔ بہت سی بھوک کے بعد خوب ڈٹ کر کھانا۔

آنتوں کا کل ہوا اللہ پھلنا (۱- محاورہ) سخت بھوکا ہونا۔

آنتوں میں بل پڑنا (۱- محاورہ) پیٹ میں بل پڑنا۔ پیٹ میں درد شروع

ہونا۔

آنتیں الٹ جانا (۱- محاورہ) تپے ہونا۔ بہت اُبکائیاں آنے سے جی

اور ہتلی ہونا۔

آنتیں شمتنا (۱- محاورہ) بھوکا رہنا۔ بھوک کی برداشت کرنا۔

آنتیں سٹو کھنا (۱- محاورہ) بھوک کے مارے انتڑیوں کا سوکھ جانا۔

نہ نافرستی کرنا۔

آنتیں کوشی میں (۱) مثل بھوک سے آنتیں فریاد کرتی ہیں۔ بہت زیادہ

بھوک لگی ہے۔ آنتیں گلے میں آنا (۱- محاورہ) مصیبت میں پڑنا۔ بلا

میں مبتلا ہونا۔

آپنچل دبانہ۔ بچے کا دودھ پینا۔ چھاتی منہ میں لینا۔  
 آپنچل دسنا۔ بچے کے منہ میں چھاتی دینا۔ بچے کو دودھ پلانا۔  
 آپنچل ڈالنا۔ غورتوں میں ایک رسم ہے۔ جب دودھ نکاح کے بعد ذہن  
 کے گھر اولئے رسوم کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کی ہنسی  
 دروازے سے اسے بھائی کے سر پر اپنچل ڈال کر صدر مقام تک لے  
 جاتی ہیں اور اس اپنچل ڈالنے کا نیک ان کو دیا جاتا ہے۔  
 آپنچل سر پر ڈالنا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) دوپٹہ سر پر ڈالنا (۱۲) آرٹھی مصحف کی  
 رسم کے وقت دودھ دسینے کے سر پر سرج کپڑا ڈالنا۔  
 آپنچل سنبھالنا (۱۱۔ محاورہ) آپنچل اٹھانا۔ آپنچل درست کرنا۔  
 آپنچل لینا (۱۱۔ محاورہ) ہان آنے والی عورت کا استقبال کرنا اور اس  
 کے دوپٹہ کا کنارہ تعظیم چھونا۔  
 آپنچل میں بات باندھ رکھو (۱۱۔ مثل) خوب یاد رکھو۔ ہرگز نہ جھگڑو۔  
 آپنچل میں بات باندھنا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) بات پتے باندھنا (۱۲) کسی کی  
 نصیحت یا قول کو یاد رکھنا۔  
 آپنچل میں باندھنا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) پتے میں باندھنا۔ دوپٹہ میں گروہ لگانا۔  
 (۱۲) کسی چیز کو دینے کے لیے ہر وقت اپنے پاس رکھنا (۱۳) یاد رکھنے کے  
 لئے آپنچل میں گروہ دے لینا۔ یاد رکھنا۔  
 آپنچل میں سات بائیں باندھنا (۱۱۔ محاورہ) ٹونا ٹونا کرنا۔ جادو کرنا۔  
 آندرو (آن۔ ڈو۔ اس۔) (۱۰۔ منٹ) انگریز جسے نامی ہونوں کشتی جیتنے کے بعد  
 پاؤں میں پھتنے ہیں۔  
 آندوسن (۱۰۔ ۵) (۱۰۔ منٹ) مخربک۔ مہم چلانا۔  
 آندو صل جھپٹ (آن۔ دھن۔ جھ۔ پٹ۔ ۱۰) (تابع فعل) اندھا دھند۔  
 جلد جلد (صفت) بے ہودہ۔ فضول۔  
 آندھی (آن۔ دھی۔ ۱۰۔ ۵) (منٹ) (۱۱) تیز ہوا کا طوفان۔ جھکڑ۔ گرد غبار  
 (۱۲) (صفت) بہت تیز چلنے والا۔ چالاک۔  
 آندھی آنا (۱۱۔ محاورہ) جھکڑ چلنا۔ اندھا پھلنا۔  
 آندھی آئے بیٹھ جائے، مینہ آئے بھاگ جائے (۱۱۔ مثل) اٹھوٹی  
 سی مصیبت جس کو جھیل سکے، جھیل لے زیاد ہو تو الگ ہو جائے۔  
 آندھی آئے یا مینہ بڑھیا پانیچھ (۱۱۔ مثل) اس سے سزا ہے (۱۱۔ مثل) کوئی  
 شخص اپنی عادت یا اپنے کام سے کسی حالت میں باز نہ رہے تو کہتے ہیں  
 آندھی اٹھنا (۱۱۔ محاورہ) طوفان اٹھنا۔  
 آندھی چلے مینہ چلے (۱۱۔ مثل) اچھا ہے کچھ بھی ہو۔ ہر حالت میں۔  
 آندھی چھانا (۱۱۔ محاورہ) آندھی کا غبار چھانا۔  
 آندھی حضرت بی بی کے دامن میں بدھی (۱۱۔ مثل) آندھی آنے کے  
 وقت جاہل غور میں یہ کہہ کر جلتی ہیں۔ ان کے عقیدے سے اس طرح  
 آندھی چلی جاتی ہے۔  
 آندھی روک (۱۱۔ مذ) مصیبت۔ آنت چلتے چلتے تھک جانے کی جگہ  
 بولنے ہیں۔  
 آندھی کاٹنا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) ٹھونڈ پڑھنے کے انگلی سے آندھی روکنا۔  
 آندھی کا کوا (۱۱۔ صفت) کوا آندھی کی حالت میں نہ کہیں بیٹھ سکتا ہے

نہ اڑ سکتا ہے۔ مصیبت کا مارا۔ نہایت پریشان حال۔  
 آندھی کی طرح آیا بگڑنے کی طرح گیا (۱۱۔ محاورہ) (۱۰) آنے ہی جلدی سے نصیحت  
 ہو گیا۔  
 آندھی کی طرح طبیعت آنا (۱۱۔ محاورہ) (۱۰) اپنے اختیار کسی چیز پر مائل ہونا۔  
 آندھی کے آسم (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) آندھی کے گمے ہوئے آسم (۱۲) بہت سستی  
 بجز (۱۳) چند روزہ۔ تھوڑے دن کے۔  
 آندھی ہونا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) کسی کام میں نہایت سرگرمی سے مصروف ہونا۔  
 (۲) بہت تیز اور چالاک ہونا۔  
 آندرو (آن۔ ڈو۔ ۱۰۔ ۵) (مذ) (۱۱) وہ شخص یا جانور جس کے بڑے بڑے  
 خبیثے ہوں (۱۲) ساٹھ (۱۳) (صفت) پر شہوت۔ شہوٹی۔  
 آندرو بیل (۱۰۔ ۵) (۱۰۔ مذ) وہ بیل جو کسی نہ کیا گیا ہو (۱۲) بڑے فوٹوں کا آدمی یا  
 جانور جو فوٹوں کے بوجھ سے نہیں چل سکے۔ سست۔ سست کا ہل۔  
 آندھی (آن۔ ڈی۔ ۱۰۔ ۵) (منٹ) (۱۱) پیاز کی کھٹی۔  
 آندھے بانڈھے کھانا (آن۔ ڈھے۔ بانڈھے۔ کھا۔ نا) (۵۔ منٹ) (۱۱)  
 ادھر ادھر گھومنا۔ مارے مارے پھرنا۔  
 آندھی (Honour) آندھی (آنک۔ ۱۔ منٹ) عزت۔ بڑائی۔ مرتبہ۔  
 آندھی (Honourable) (آنک۔ ۱۔ منٹ) (صفت) ذاتی عزت۔ صاحب تجربہ۔  
 آندھی (Honorary) (آن۔ رے۔ ری) (آنک۔ ۱۱) (صفت) (۱۱)  
 اعزازی۔ امتیازی۔ (۱۲) بلا تنخواہ کام کرنے والا۔ اعزازی خدمت انجام  
 دینے والا۔  
 آندھی (Honorary Judge) اعزازی جج۔ تنخواہ کے بغیر  
 کام کرنے والا جج۔  
 آندھی (Honorary Secretary) اعزازی (صفت) معتمد اعزازی  
 وہ سیکرٹری جو تنخواہ نہ لے۔  
 آندھی (Honorary Magistrate) اعزازی مجسٹریٹ  
 تنخواہ کے بغیر کام کرنے والا مجسٹریٹ۔  
 آندھی (آن۔ ۱۰۔ ۵) (منٹ) (۱۱) شب۔ وہ پانی جو زیادہ تکلیف دہ ہو  
 حوی میں آنکھوں سے جاری ہوتا ہے۔  
 آندھی آنا (۱۱۔ محاورہ) آندھی میں پانی بھرنا۔  
 آندھی (آنکھوں سے جاری ہوتا ہے) (۱۱۔ مثل) بظاہر رنج و غم ظاہر کرنا۔  
 لیکن دل میں مکاری بھری ہونا۔  
 آندھی ہانا (۱۱۔ محاورہ) روزنا۔ شو سے ہانا۔ گریہ زاری کرنا۔  
 آندھی بھرا آنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں میں پانی بھرنا۔ آندھی ہونا۔  
 آندھی بھرا لانا (۱۱۔ محاورہ) آندھی سے پانی بھرنا۔  
 آندھی ہانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں سے پانی جانا۔ ڈھلکا لگنا۔ روزنا۔  
 آندھی بھرا (۱۱۔ محاورہ) روزنا۔ آندھی سے پانی بھرنا۔  
 آندھی بھرا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) آنکھوں کا پانی خشک کرنا (۲) نسلی دینا۔  
 آندھی بھرا (۱۱۔ محاورہ) ڈھارس بندھانا۔  
 آندھی (بائی جانا) پینا (۱۱۔ محاورہ) ضبط کرنا۔ صبر کرنا۔ دکھ درد کے وقت

خاموش رہنا۔ نہ رونا۔

آنسو توڑ (۱) مذ غیر موسمی کی بارش۔ بن رت کا بیٹہ۔

آنسو ٹھکانا (۱) محاورہ) رونا موقوف ہونا۔ رونا بند ہونا۔

آنسو ٹھکانا (۱) محاورہ) رونا۔

آنسو ٹھیک پڑنا (۱) محاورہ) آنسو گہ پڑنا۔ کسی صدمہ کے اثر سے رو پڑنا۔

آنسو چلنا (۱) محاورہ) اشک رواں ہونا۔ آنکھوں سے پانی جاری ہونا۔

آنسو خشک ہونا (۱) محاورہ) آنسو سوکھنا۔

آنسو ڈالنا (۱) محاورہ) آنسو گرانا۔ رونا۔

آنسو ڈیٹا ہانا (۱) محاورہ) آنکھوں میں آنسو بھر آنا۔

آنسو ڈھال (۱) مٹھ گھوڑوں کی ایک بیماری جس سے ان کی آنکھوں

سے ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے۔

آنسو کی دھار (۱) آنسوؤں کا تار۔ بے درے آنسو نکلنا۔

آنسو کی لڑی (۱) آنسوؤں کا تار (۲) مسلسل آنسو بہنا۔

آنسو گرانا (۱) محاورہ) قائم کرنا۔ برسا دینا۔ رونا (۲) تعزیت کرنا۔

آنسو (گہ پڑنا) کرنا (۱) محاورہ) آنسو ٹھیکے لگنا۔

آنسو گیس (Tear Gas) ایک قسم کی گیس جس سے آنکھ میں جھپ

سی لگتی ہیں اور پانی بننے لگتا ہے۔ غیر قانونی ہجوم کے مظاہرہ کو منتشر

کرنے کے لیے پولیس استعمال کرتی ہے۔

آنسو نکل (آنا) پڑنا (۱) محاورہ) آنسو ٹھیک پڑنا۔ بے اختیار آنسو گرنا

آنسو نکلنا (۱) محاورہ) آنسو بہنا۔

آنسوؤں سے پیاس نہیں بھتی (۱) مثل) رونے سے دل کی حسرت نہیں

نکلتی۔ غم دور نہیں ہوتا۔

آنسوؤں سے منہ دھونا (۱) محاورہ) زار زار رونا۔ بہت رونا۔

آنسوؤں کا تار (بندھنا) چلنا (۱) محاورہ) زار زار رونا۔ زار و قطار رونا۔

آنسوؤں کا تار نہ ٹوٹنا (۱) محاورہ) مسلسل رونا۔

آنسوؤں کا چھالا (۱) مذ) دھچکا لہو آنسوؤں کی گرمی سے بڑ جائے۔

آنسوؤں کی جھڑی لگنا (۱) محاورہ) مسلسل رونے رہنا۔

آنسوؤں کی پسی۔ آنسوؤں کا تار۔ آنسوؤں کی لڑی۔

آنسوؤں کے تار باندھنا (۱) محاورہ) برابر آنسو بہائے جانا۔

آنسوؤں کے دریا میں نہانا (۱) محاورہ) بہت زیادہ رونا۔ اتنا رونا

گر آنسوؤں سے منہ بھیگ جائے۔

آنسو (آ۔ن۔سہ) [ص۔ع] صفت [مجتب کرنے والی۔ گزاری۔ مٹکی۔ مس

آنک (س۔۱۔ مٹ) (۱) نشان (۲) حرف (۳) بات (۳) حصہ۔ (۸)

چھلکے سے یا بیل گاڑی کی بلیوں کے نیچے دیا ہوا لکڑی کا مضبوط ڈھانچہ

جس میں پیچے کی دھری ڈالی جاتی ہے (۱) عدد۔ بندسہ۔ رقم۔ نمبر (۱۱)

سکہ۔ حروف سک۔ ضرب سک (۱) جانچ۔ اندازہ۔ مشکل۔

آنکڑا (آنک۔) [آ۔ن۔] [مذ] (۱) عدد۔ کتنی کا نشان (۲) بیج (۳) ہوشیار

کی ایک بیماری (۴) کاٹا۔ کب۔ لوہے کا کاٹا۔ آڑھی لکڑی۔

آنکس (آن۔ تمس) [ص۔ع] مذ [آنک۔] بانک۔ آنکھ۔ بانکھی کو بانکنے کا آکر۔

آنکٹا (آنک۔ نا) [ص۔ع] (۱) انسان کرنا۔ جھینڈ کرنا (۲) جھاڑنا۔ دم کرنا۔

منتر بڑھ کر پھونکنا۔ عمل یا منتر سے ذہریلے جانور کے کاٹے کا انتر

منتر دُور کرنا۔

آنکھ (آن۔ کو) [ص۔ع] [صفت] آنکھنے والا۔ اندازہ لگانے والا۔

آنکھ (۵) (۱) مٹ) (۱) نین۔ دیدہ۔ سیتھم۔ نظر۔ نگاہ۔ بینائی۔ بصارت۔

(۳) اشارہ۔ ایما۔ عنشوہ۔ غمزہ (۴) توجہ۔ نظر (تفات) (۵) اینٹا زینت

ہوجان (۶) حمارت۔ واقفیت (۷) اولاد۔ بیٹا بیٹی (۸) انسانہ۔ تخمینہ

(۹) امید۔ توقع۔ آسرا (۱۰) پاس۔ مرورت (۱۱) چشم حقیقت۔ باغ نظری۔

(۱۲) گنے اور بانس کی گانڈھ میں جو کوئیل یا شاخ پھوٹی ہے (۱۳) کھٹنے

کی جینی پاپی کے پاس گڑھے (۱۴) آسیب۔ سایا۔ صورت۔ دہمی۔

آنکھ آشنا ہونا (۱) محاورہ) واقف ہونا۔ روشناس ہونا۔

آنکھ آنا (۱) محاورہ) آشوب چشم ہونا۔ آنکھ میں جھونکنا۔

آنکھ ابل آنا (۱) محاورہ) آنکھ کے آشوب کا زور کرنا۔

آنکھ اٹک جانا (۱) محاورہ) آنکھ لگ جانا۔ محبت ہوجانا۔

آنکھ اٹھا کر دیکھنا (۱) محاورہ) (۱) نظر بھر کر دیکھنا (۲) نظر ملا کر دیکھنا۔

(۳) اتفات کی نظر سے دیکھنا۔ توجہ کرنا۔

آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا (۱) محاورہ) متفرق کر نہ دیکھنا (۲) نہایت بے پردگی

کرنا۔ خاطر میں نہ لانا۔ کھینڈ ہونا (۳) نام ہونا۔ شرمنا۔

آنکھ اٹھانا (۱) محاورہ) نظر اونچی کرنا۔ آنکھ سامنے کرنا (۲) باز رہنا۔ درگزر

کرنا۔ دست بردار ہونا۔

آنکھ اٹھ جانا (۱) محاورہ) نگاہ اونچی ہوجانا۔ دیکھ لینا۔

آنکھ اٹھ نہ سکتا (۱) محاورہ) شرم کے مارے آنکھ اونچی نہ ہونا۔ نہایت

شرمندہ ہونا۔

آنکھ اچھٹ جانا (۱) محاورہ) جاگ پڑنا۔ نیند میں آنکھ کھل جانا۔

آنکھ اچھٹا (۱) محاورہ) آنکھ کھلنا۔ محبت ہونا۔

آنکھ او کھل پھاڑ او کھل، آنکھ اوٹ پھاڑ اوٹ (۱) مثل) جو چیز آنکھ

سے پرستیدہ ہو کر پھاڑا کی اوٹ میں ہے۔ جو چیز آنکھ کے سامنے

نہیں وہ اگر قریب بھی ہو پھر بھی دُور ہے۔

آنکھ اونچی نہ ہونا (۱) محاورہ) شرم سے آنکھ نہ اٹھنا۔

آنکھ ایک نہیں کھلوتیاں تو تو (۱) مثل) آنکھ ایک نہیں۔ سرمرہ دانیان

تو تو موجود ہیں۔ بد صورتی میں سادٹ سجاوٹ کا شوق ہونا۔

آنکھ بجا جانا (۱) محاورہ) کتر جانا۔ اغماض کرنا۔ آنکھ جرا لینا۔

آنکھ بچا کر کچھ کرنا (۱) محاورہ) نظر بجا کر کوئی کام کرنا۔ چھپا کر کوئی کام کرنا۔

آنکھ بچا کے آنا (۱) محاورہ) چھپ کر آنا۔ چوری چھپے آنا۔

آنکھ پچانا (۱) محاورہ) کسی کی نظر سے اپنے کو چھپانا (۲) کترنا۔ نہ دکھائی دینے

کا بہانہ کرنا۔ آنکھ پھرانا۔

آنکھ پچنا (۱) نگاہ بچو کرنا (۲) نہال ہٹنا۔ دھیان ہٹنا۔

آنکھ پچی مال دوستوں کا (۱) مثل) ذرا سی نظر چوکی اور چیز غائب ہوتی۔

آنکھ چمکے کا چاشا۔ لڑکوں میں ایک قسم کی منتر بڑی جاتی ہے کہ جو ہے دُعا

بے خرد لیجے اسی کے چاشا جڑوے

آنکھ بدل جانا (۱) محاورہ) پہلی سی نظر نہ رہنا۔ اگلی سی بات نہ رہنا (۲)

سے مروتی اور بے رخی کرنا۔ بے وفائی کرنا۔  
 آنکھ بڑھ کر کرنا (۱) محاورہ آنکھ ملانا۔ آنکھ سامنے کرنا۔ آنکھ رو برو کرنا۔  
 آنکھ برابر نہ کر سکتا (۱) محاورہ آنکھ نہ ملا سکتا۔ شرمندہ ہونا۔ مجل ہونا (۲)  
 جھانکنا۔ شرم کرنا۔ لاج کرنا۔  
 آنکھ بگڑنا (۱) محاورہ آنکھ میں پانی اترنا۔ جلا پڑ جانا۔ بینائی میں فرق آنا۔  
 آنکھ بند کر کے پھر دے دینا (۱) محاورہ بے دیکھے بھالے دے دینا (۲)  
 پوشیدہ سلوک کرنا (۳) محاورہ آنکھ کے پھر دے دینا۔  
 آنکھ بند کر کے پھر کرنا (۱) محاورہ آنکھ میخ کے کوئی کام کرنا (۲) بے پردائی  
 سے پھر کام کرنا بے سوچے سمجھے کام کرنا۔  
 آنکھ بند کر لینا کرنا (۱) محاورہ (۱) آنکھ موند لینا۔ سو جانا (۲) بے خبر ہو  
 جانا۔ توجہ اٹھنا لینا (۳) مر جانا۔ دینا سے گزر جانا (۴) عند درپہان سے پھر  
 جانا بے وفا ہونا (کنایتاً) تصدق ہانا دھنا۔  
 آنکھ بند کیے چلے جاؤ (۱) مثل بے دھڑک چلے جاؤ بے خوف اور بے  
 کھٹکے چلے جاؤ (۲) سیدھے چلے جاؤ۔  
 آنکھ بند کی سال گزرا (۱) مثل بہت جلد ایک سال گزر گیا۔  
 آنکھ بند ہو جانا ہونا (۱) محاورہ (۱) سو جانا (۲) مر جانا (۳) خوف چھانا  
 آنکھ (۱) آنکھیں نبوانا (۱) محاورہ (۱) آنکھ یا آنکھیں درست کرنا۔ آنکھ کی  
 تیلی کو صاف کرنا (۲) شیشے یا پتھر کی آنکھ بنوانا۔  
 آنکھ بھڑانا (۱) محاورہ آنکھوں میں آسنو آجانا۔  
 آنکھ بھر کر (کے) دیکھنا (۱) محاورہ پوری طرح دیکھنا۔ گہری نگاہ سے دیکھنا۔  
 آنکھ بھر لانا (۱) محاورہ آب دیدہ ہونا۔  
 آنکھ بھوس ٹیڑھی کرنا (۱) تیوری پر بل ڈال کر تھر کی نظر سے دیکھنا (۲)  
 غصہ ہونا۔ خفا ہونا (۳) ناچیز سمجھنا جھینر جانا۔  
 آنکھ بھوس پڑھانا (۱) محاورہ (۱) ترش رو ہونا۔ تیوری پڑھانا۔ خفا ہونا۔  
 (۲) جھگانا۔ نفرت کرنا۔  
 آنکھ بھڑھانا (۱) محاورہ آنکھ پھوٹ جانا۔ اندھا ہو جانا۔  
 آنکھ بپڑھنا (۱) محاورہ (۱) غافل ہونا۔ دھوکا کھانا۔ فریب میں جانا۔  
 آنکھ بڑھانا (۱) محاورہ (۱) گرفت کرنا۔ قابل اختیار اور لفظ کو فوراً دیکھ لینا  
 (۲) بڑھانا (۳) شوقیہ نگاہ بڑھانا (۴) قطع اور رعیت کی نگاہ بڑھانا۔ لاج  
 سے دیکھنا (۵) حسد کی نگاہ بڑھانا۔ رشک سے دیکھنا (۶) توجہ کی نظر بڑھانا  
 بھل ہونا (۷) اتفاقیہ نظر بڑھانا (۸) ذلت اور حقارت کی نگاہ بڑھانا [ ۵ ]  
 شوقی ہونا۔  
 آنکھ بھڑانا (۱) محاورہ آنکھیں بھڑانا (۲) درد اندیش ہونا۔  
 آنکھ بھینچنا (۱) محاورہ (۱) آنکھ نم ہونا۔ آسنو آنا (۲) شرمانا۔ لجانا  
 آنکھ بھینٹنا (۱) محاورہ نظر بھیننا۔ نگاہ بدلنا۔  
 آنکھ (۱) آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا (۱) محاورہ (۱) بڑے غور سے دیکھنا  
 (۲) حیرت کی نگاہ سے دیکھنا (۳) محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھنا۔  
 آنکھ بے بی بی ہونا یا دھنا (۱) محاورہ آنکھ بند کر لینا۔ نہ دیکھنا۔  
 آنکھ (بچھر جانا) پھیرنا (۱) محاورہ (۱) نگاہ پھیرنا۔ رخ پھیرنا (۲) دشمن ہونا۔  
 بیزار ہو جانا۔ خفا و ناراض ہونا۔

آنکھ پھرنے لگنا۔ خود بخود پلک یا پوٹے میں حرکت ہونا۔ پوٹوں کا جنبش  
 کرنا۔ شگون لینا۔  
 آنکھ پھڑکے بائیں پیر ملے یا سائیں (۱) مثل عورت کی بائیں آنکھ  
 آنکھ پھڑکے دہنی ماں ملے یا بہنی (۱) پھڑکے نوکتے میں کہ بھائی یا  
 خاندان سے ملاقات ہوگی۔ مرد کی دائیں آنکھ پھڑکے نوکتے میں کہ ماں یا  
 بہن سے ملاقات ہوگی۔  
 آنکھ (۱) آنکھیں پھوٹ جانا (۱) محاورہ آنکھ کا کسی ضرب یا حد مر سے جانا  
 رہنا۔ اندھا ہو جانا۔  
 آنکھ پھوٹی پھوٹی (۱) مثل ابلا سے ایک دفعہ نقصان ہوا تو ہوا مگر  
 آتے دن کا جھکڑا تو مٹ گیا۔  
 آنکھ پھوٹے کی تو کیا بھوس سے دیکھیں گے (۱) مثل اجویز جس کام کی  
 سہ سے وہ کام اسی سے نکلتا ہے۔  
 آنکھ پھوٹا (۱) مذابے مروت۔ احسان فرموش۔ حاسد (۲) ایک  
 قسم کا بڑا جوڑناک مار کر آنکھ پھوٹ دیتا ہے۔  
 آنکھ (۱) آنکھیں پھوٹ لینا (۱) محاورہ اپنے آپ کو اندھا کر دینا  
 (۲) آنکھیں پھوٹنا (۱) محاورہ (۱) اندھا کرنا۔  
 آنکھ (۱) آنکھیں پھیرنا پھیر لینا (۱) محاورہ (۱) بے مروت ہو جانا۔  
 (۲) مرنا۔ دینا سے زحمت ہونا۔  
 آنکھ پھیلانا۔ دیکھنے آنکھ بھارنا۔  
 آنکھ سیدھا کرنا (۱) محاورہ دیکھنے یا پرکھنے کی یاقوت پیدا کرنا۔  
 آنکھ تان پھاننا (۱) محاورہ تیور سے عندیہ دریافت کر لینا۔  
 آنکھ (۱) آنکھیں طوطے کی طرح بدل لینا (۱) محاورہ بے مروتی کرتے  
 دیر نہ لگنا۔  
 آنکھ (۱) آنکھیں اٹھنڈی کرنا (۱) محاورہ تسلی و تسفی دینا۔ دل خوش کرنا۔  
 آنکھ ٹیڑھی کرنا (۱) محاورہ بے وفائی کرنا۔ ترش روی سے پیش آنا۔  
 آنکھ ٹیڑھی ہونا (۱) محاورہ برہم ہونا۔ ترش رو ہونا۔  
 آنکھ جھینڈنا (۱) محاورہ شرماتا۔ نظر نیچی ہونا۔  
 آنکھ جھرا جانا (۱) محاورہ آنکھ بچا جانا۔ گنہ جانا۔  
 آنکھ جھرا کر دیکھنا (۱) محاورہ دوسرے کی نگاہ بچا کر دیکھنا۔ کن آنکھیں  
 سے دیکھنا۔  
 آنکھ جھرا کرنا (۱) محاورہ نظر بچا کر کوئی کام کرنا۔ چوری چھپے کام کرنا۔  
 آنکھ جھرا کرنا (۱) محاورہ (۱) غماض کرنا (۲) غرور۔ شرم یا کراہیت کی وجہ  
 سے نہ دیکھنا۔  
 آنکھ جھکانا (۱) محاورہ آنکھ مٹکانا۔ دیدے مٹکانا۔  
 آنکھ (۱) آنکھیں جھنڈی ہونا (۱) محاورہ بیماری کے سبب آنکھ پوری نہ  
 کھلنا۔ استو بہ پیشتم ہونا۔  
 آنکھ جھونکا (۱) محاورہ نظر بچانا۔ غافل ہونا۔  
 آنکھ جھینا لینا (۱) آنکھ جھینا (۱) محاورہ (۱) نہ دیکھنا۔ شرم کرنا (۲) پرانی  
 واقفیت کو فراموش کرنا (۳) مغرور ہونا۔  
 آنکھ (۱) آنکھیں آویز جیر کر دیکھنا (۱) محاورہ (۱) آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔

آنکھ کا پانی (دھسلنا) مرنے (۱) - محاورہ) بے شرم ہونا۔ بے حیا ہونا لاج رہنا۔  
 آنکھ کا پردہ (۱) - محاورہ) ۱) آنکھ کی جھلکی (۲) آنکھ کا لحاظ۔ آنکھ کی لاج  
 آنکھ کا تارا (۱) - محاورہ) ۱) آنکھ کا تار (۲) آنکھ کی پٹی (۳) آنکھ کی روشنی۔ آنکھ  
 کی جوت۔ نور۔ اجالا (۳) نہایت پیارا۔ نہایت عزیز (۴) مجازاً بیٹا۔

آنکھ کا تارا ہونا (۱) - محاورہ) بہت عزیز اور پیارا ہونا۔  
 آنکھ کا جالا (۱) - مذ۔ جھلکی جو آنکھ کی پٹی پر آجاتی ہے۔  
 آنکھ کا حجاب - آنکھ کی شرم۔ حیا۔  
 آنکھ کا ڈورا (۱) - مذ۔ جھلکی جو آنکھ کی پٹی پر آجاتی ہے۔  
 آنے والی سُرُخ رکیں۔

آنکھ کا دھسکا (۱) - مذ۔ ایک بیماری جس میں آنکھ سے پانی بہتا رہتا ہے۔  
 آنکھ کا دھسلا (۱) - مذ۔ آنکھ کے اندر کا گول حصہ جس میں پٹی ہوتی ہے۔  
 آنکھ کا خیار (۱) - مذ۔ آنکھ کا دھسلا پن۔ آنکھ سے صاف نظر نہ آنا۔  
 آنکھ کا کامل چرانا (۱) - محاورہ) چوری کے فن میں یتنا ہونا۔ کمال عیار ہونا۔  
 آنکھ کا لہو کی پٹی ہوجانا (۱) - محاورہ) آنکھ کا سُرخ ہوجانا۔  
 آنکھ کا کان سے درست ہے (۱) - مثل) بالکل درست ہونا۔ جس جانور  
 میں کوئی عیب نہ ہو اس کی نسبت بولا جاتا ہے۔

آنکھ (کھل جانا) کھلنا (۱) - محاورہ) جاگ اٹھنا۔ نیند سے بیدار ہونا (۲)  
 عورت حاصل کرنا (۳) حقیقت حال معلوم ہونا۔  
 آنکھ کھولنا (۱) - محاورہ) ۱) جاننا۔ بیدار ہونا (۲) ہوش سنبھالنا (۳) بید ہونا۔  
 آنکھ کی بدی (برائی) بھروسے کے آگے (۱) - مثل) کسی شخص کا عیب یا  
 قصور اس کے عزیز یا دوست کے آگے بیان کرنا۔

آنکھ کی پٹی (۱) - مٹا (۲) مٹا (۳) چشم (۴) نہایت پیار۔  
 آنکھ کی پٹی (پھر جانا) پھرنا (۱) - محاورہ) علامت مرگ کا ظاہر ہونا۔  
 آنکھ (آنکھوں) کی کھڈک (۱) - مٹا (۲) عزیز دوست یا پیارے کو دیکھ  
 کر نہ بھییں ٹھنڈی ہوں۔

آنکھ کی حسا (۱) - مٹا (۲) آنکھ کا لحاظ  
 آنکھ کی سیل (۱) - مٹا (۲) آنکھ سے بننے والا پانی۔  
 آنکھ کی سیر (۱) - مٹا (۲) وہ گفت جو آنکھ کے کونوں میں جمع ہوجاتی ہے۔  
 بیجا بیگنہ۔

آنکھ کی مروت (۱) - مٹا (۲) شرم حیا۔ عورت کا فطری حجاب۔  
 آنکھ کے آگے (۱) - مٹا (۲) آنکھ کے سامنے (۳) آنکھ کے دربرو (۴) موجودگی میں۔  
 آنکھ کے بل جلنا (۱) - محاورہ) اتھارے مشوق کا اظہار کرنا  
 آنکھ کا ٹٹنا (۱) - محاورہ) گڑونا (۲) - محاورہ) گہری نگاہ سے دیکھنا۔ نظر جا کر دیکھنا۔  
 آنکھ گرم کرنا (۱) - محاورہ) نظارہ بازی کرنا

آنکھ گڑنا (۱) - محاورہ) نظر جتنا۔  
 آنکھ لال کرنا (۱) - محاورہ) آنکھ سُرخ کرنا۔ غضب ہونا۔ خفا ہونا۔ خشمگین  
 ہونا۔ خفہ ہونا۔  
 آنکھ لجانا (۱) - محاورہ) شرم دجھا سے آنکھ بچی کرنا۔ لحاظ کرنا۔ مروت کرنا۔  
 آنکھ لانی (۱) - محاورہ) ہوتی پڑتی (۲) - مثل) بڑکی کے عزیز و اقارب پیغام پہنچنے  
 پر بڑکے کے عزیزوں سے آنکھیں پچی کر لیتے ہیں تو اس سے معلوم ہو

آنکھ (آنکھیں) نشیر ہونا (۱) - محاورہ) آنکھ میں چکا چوند ہوجانا۔  
 آنکھ (واب) دیا کر دیکھنا (۱) - محاورہ) آنکھ سے بچ کر دیکھنا۔  
 آنکھ (دیکھنا) دیکھنا (۱) - محاورہ) ۱) آنکھ سے دیکھنا (۲) آنکھ کی نظر سے  
 دیکھنا۔ چشم نمائی کرنا۔ گھر کی دینا (۳) اشارہ و کنایہ کرنا۔ آنکھوں ہی آنکھوں  
 میں بائیں کرنا (۴) علاج کی غرض سے معالج کو آنکھوں کا معاہدہ کرنا۔  
 آنکھ دھونی (دھلانی) ہے (۱) - مثل) آنکھ بالکل صاف ہے (۲) ذرا بھی حیا  
 نہیں ہے۔ مروت نہیں ہے۔ ڈھلانی ہے۔

آنکھ دیکھنے جانا (۱) - محاورہ) منشا معلوم کرتے رہنا۔ اندازہ لگاتے جانا۔  
 آنکھ دیکھ کے کچھ کرنا (۱) - محاورہ) منشا سمجھ کر کام کرنا۔  
 آنکھ دیکھنا (۱) - محاورہ) صحبت بڑھانا۔ تعلیم پانا۔ تربیت پانا۔  
 آنکھ ڈالنا (۱) - محاورہ) ۱) منظر کرنا۔ سرسری نظر سے دیکھنا (۲) راغب ہونا  
 آنکھ لگانا۔ توجہ کرنا (۳) نیت رکھنا۔

آنکھ (آنکھیں) ڈبڈبانا (۱) - محاورہ) آنسو بھرا آنا۔ آبدیدہ ہونا۔  
 آنکھ ڈھسکا (۱) - محاورہ) آنکھ بند کرنا۔ آنکھ موندنا۔  
 آنکھ رکھنا (۱) - محاورہ) ۱) پیار کی نظر سے دیکھنا۔ محبت رکھنا (۲) اس کرنا۔  
 امید رکھنا۔

آنکھ (آنکھیں) روشن ہونا (۱) - محاورہ) کسی کو دیکھ کر خوش ہونا۔ دیکھ کر مسرت ہونا۔  
 آنکھ سامنے نہ کرنا (۱) - محاورہ) نظر سامنے نہ کرنا۔ شرمانا۔  
 آنکھ سامنے نہ ہونا (۱) - محاورہ) ۱) رد کرنا ہونا (۲) کسی چیز کے دیکھنے کی  
 برداشت نہ کرنا (۳) شرم کے مارے آنکھ نہ اٹھانا۔

آنکھ (آنکھیں) سرخ ہونا (۱) - محاورہ) غصہ کرنا۔ خفا ہونا۔ لال پیلا ہونا۔  
 آنکھ سیدھی (رکھنا) ہونا (۱) - محاورہ) مہربانی کی نظر ہونا۔ اچھا بڑناؤ ہونا۔  
 آنکھ سے آنکھ ملانا (۱) - محاورہ) آنکھ چار ہونا (۲) براہری کرنا (۳) محبت کرنا۔  
 آنکھ سے آنکھ ملنا (۱) - محاورہ) چور نظر اہوجانا۔ رد ہونا۔ محبت ہونا۔  
 آنکھ سے اوچھل ہونا (۱) - محاورہ) آنکھ کے سامنے نہ ہونا۔ نظر سے دور ہونا۔  
 آنکھ سے شب آنسو کرنا (۱) - محاورہ) آنکھ سے متواتر آنسو کرنا۔  
 آنکھ سے دیکھنے کے کچھ کرنا (۱) - محاورہ) سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا۔ دیکھ  
 بھال کر کوئی کام کرنا۔

آنکھ سے دیکھنا (۱) - محاورہ) اپنی نظروں سے دیکھنا  
 آنکھ سے سلام لینا (۱) - محاورہ) آنکھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔  
 آنکھ سے کرنا (۱) - محاورہ) نظر سے کرنا۔ بے قدر ہونا۔ ذلیل و خوار ہونا عزت  
 باقی نہ رہنا۔

آنکھ سے لہو ٹپکنا (۱) - محاورہ) آنکھ سے خون جاری ہونا۔ رونے میں مبالغہ  
 کے لیے بولنے میں۔  
 آنکھ سے نکل جانا (۱) - محاورہ) دیکھنے میں آنا۔ نگاہ سے گزر جانا۔  
 آنکھ (سینکنا) سینکا (۱) - محاورہ) ۱) آنکھ گرم کرنا (۲) حسینوں کو دیکھنا۔  
 نظارہ بازی کرنا۔

آنکھ سے نہ دیکھنا (۱) - محاورہ) نظر نہ کرنا۔ خیال میں نہ لانا۔ حقیقت سمجھنا۔  
 آنکھ شرمانا (۱) - محاورہ) جبا کرنا۔ لاج کرنا۔  
 آنکھ کا اندھا کاٹھ کا پورا (۱) - مثل) اسے وقت مالدار نادان۔ فضول خرچ

جانا ہے کہ انہیں ناتا منظور ہے۔

آنکھ (آنکھیں) لڑانا (۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ ملانا (۲) گھورتا - تاکنا - نگاہ سے دیکھنا (۳) عاشق ہونا (۴) مقابلہ کرنا۔

آنکھ لڑ جانا (لڑنا) (۱- محاورہ) شدیدتہ ہونا۔ فریضتہ ہونا۔ عاشق ہو جانا۔  
آنکھ لگانا (۱- محاورہ) (۱) محبت کرنا۔ (۲) آشنائی کرنا (۳) سونا (۴) ناک میں  
آنکھ لگ جانا (لگنا) (۱- محاورہ) (۱) نیند آنا (۲) عاشق ہو جانا۔ محبت

ہو جانا۔

آنکھ لگی (۱- مرث) آشناء عورت۔ ناجائز تعلق رکھنے والی عورت۔

آنکھ لگی جانا (۱- محاورہ) جی لگانا۔ خواہش مند ہونا۔

آنکھ لگی جانی ہوئی لڑنا (۱) نہایت محبت سے دیکھنا۔ پیار اور بے تابی سے دیکھنا

(۲) شخص یا لڑائی کی نظر سے دیکھنا۔

آنکھ مارنا (۱- محاورہ) (۱) آنکھ سے اشارہ کرنا۔ پلک مارنا۔ چشمک زنی کرنا۔

(۲) کسی کام کے کرنے کو آنکھ سے منع کرنا (۳) غمزہ کرنا۔

آنکھ مچ جانا (۱- محاورہ) (۱) آنکھ بند ہو جانا (۲) مرجانا۔ جہان سے کوچ کرنا۔

آنکھ مچوگانا (۱- محاورہ) بار بار آنکھ کو کھولنا اور بند کرنا۔ آنکھ مٹکانا۔ پلکیں پانا

آنکھ مچولی (۱- مذ) بچوں کا ایک کھیل جس میں ایک لڑکے کی آنکھیں بند

کر کے باقی لڑکے چھپ جاتے ہیں۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر ڈھونڈنا پھرتا

ہے اور جسے پا کر چھپ لیتا ہے اسے آنکھ بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔

آنکھ ملانا (۱- محاورہ) (۱) منسوب ہونا۔ آنکھ لڑانا۔ ٹھنکی باندھ کر دیکھنا

(۲) سامنے ہونا۔ ملاقات کرنا۔

آنکھ ملنا (۱- محاورہ) (۱) مقابل ہونا (۲) نگاہ لڑنا۔ محبت ہو جانا۔

آنکھ منڈنا (۱- محاورہ) آنکھ بند ہونا (۲) سونا۔ آنکھ لگنا۔ نیند آ جانا۔ (۳)

مر جانا (۴) بے خبر ہونا۔

آنکھ مندی اندھیرا پاک (۱- مثل) آنکھ بند ہونے کے بعد اندھیرا ہی

اندھرا ہے۔

آنکھ موچی دھب بچوں کا ایک کھیل۔ ایک بچہ کی آنکھیں بند کر کے اس

کے سر پر دھب لگاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کس نے مارا۔ اگر وہ

بھٹک بتا دے تو لو لگانے والا چور بن جاتا ہے اور سب اس کے دھب

لگاتے ہیں۔ اسے دھول دھبا بھی کہتے ہیں۔

آنکھ موڑنے کے کام کرنا (۱- محاورہ) بے دیکھے جملے کوئی کام اختیار کرنا۔

بے سمجھے بوجھے کسی کام کو کر بیٹھنا۔

آنکھ موڑنا (بچھنا) (۱) آنکھ بند کرنا۔ آنکھ مچھنا (۲) سونا۔ آرام کرنا (۳)

بے خبر ہونا (۴) مرجانا۔

آنکھ میلی کرنا (۱- محاورہ) (۱) بے مروت ہو جانا (۲) تیوری پر بل لانا۔

آنکھ میلی نہ کرنا۔ رنج نہ کرنا۔ کسی حد سے متاثر نہ ہونا۔

آنکھ میں آنکھ (ڈالنا) ڈال کر دیکھنا (۱- محاورہ) دھسانی سے دیکھنا گھڑ

کر دیکھنا۔ بے جاتی دے باکی سے دیکھنا۔

آنکھ میں بسنا (۱- محاورہ) نظر میں سمانا۔ بسنا آنا۔

آنکھ میں یعنی شرم دل کی کھلی شرم (۱- مثل) عورتیں ایسی حکم بولتی ہیں

جہاں کوئی عورت مروت سے نہ ماننے والی کوئی بات بھی مان لے۔

آنکھ (آنکھیں) میں چھینا (۱- محاورہ) آنکھوں میں سمانا آنکھوں میں سمنا۔

آنکھ میں خار ہونا (۱- محاورہ) ناگوار ہونا۔ آنکھوں کو برلا لگنا۔

آنکھ میں ذرا (آنسو) میل نہیں (۱- مثل) ذرا مروت اور رحم نہیں بے جا

اور بے شرم ہے۔

آنکھ میں خاک (دھول) جھونکنا (۱- محاورہ) دھوکا دینا۔ قریب دینا۔

آنکھ میں ذرا بانی نہیں۔ دل میں بالکل رحم نہیں۔ بالکل شرم نہیں۔

آنکھ میں سنے کی خبر مچھینا (۱- محاورہ) آنکھوں میں ہلکا سا سر مرگانا۔

آنکھ میں سمانا (۱- محاورہ) آنکھ میں جھٹا۔ آنکھ میں بسنا۔

آنکھ میں شرم ہو تو جہاز سے بھاری ہے (۱- مثل) شرم و حیا بہت

قابل عزت چیز ہے۔

آنکھ میں (کھٹ جانا) کھینا (۱- محاورہ) نظر پہ چڑھنا۔ پسند آ جانا۔

آنکھ میں کھٹنا (۱- محاورہ) آنکھ میں چھیننا۔ ناگوار ہونا۔

آنکھ میں مروت نہ ہونا (۱- محاورہ) اے مروت ہونا۔ طوطا چشم ہونا۔

آنکھ میں آنکھوں میں موی کوٹ کوٹ کر بھرے ہونا (۱- محاورہ) آنکھوں

کا بہت خوبصورت ہونا۔

آنکھ میں میل ہے اور اس میں میل نہیں (۱- مثل) کسی چیز کی صفائی

اور دھبے بن کے متعلق مبالغہ کے طور پر کہتے ہیں۔

آنکھ میں نیل کی سلانی پھیرنا (۱- محاورہ) اندھا کرنا (نیل کی سلانی پھیر

سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔

آنکھ ناک سے درست ہونا (۱- محاورہ) بے عیب ہونا۔ تندرست ہونا

شکل و صورت میں کوئی خرابی نہ ہونا۔

آنکھ ناک سے ڈرنا (۱- محاورہ) کسی کے بھوٹ بوسنے پر عورتیں کہتی ہیں

کہ خدا سے ڈر۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی سزایں خدا تعالیٰ اندھا یا ذلیل کرنے

کی آنکھ نم کرنا (صن۔ سرب۔ رونا۔ آبدیدہ ہونا۔

آنکھ نہ بیڑنا (۱- محاورہ) نظر نہ پڑنا۔ توجہ نہ کرنا۔ خیال نہ کرنا۔ نظر نہ ٹھہرنا

آنکھ نہ بیچھنا (۱- محاورہ) آنسو نہ لگنا (۲) رحم نہ کرنا۔

آنکھ نہ پھرننا (۱- محاورہ) بے مروت نہ ہونا۔ بے ناز نہ ہونا۔ تیوری پر بل

نہ ڈالنا۔

آنکھ نہ کھٹنا (۱- محاورہ) نظر نہ جتنا۔ تاب نہ لانا۔ چکا چندی لگنا۔

آنکھ نہ کھٹنا (۱- محاورہ) نظر قائم نہ رہ سکا۔ روشنی یا چمک کی تاب نہ لانا۔

آنکھ نہ بھینکنا (۱- محاورہ) (۱) پلک سے پلک نہ لگنا۔ نیند نہ آنا (۲) شرمندہ

نہ ہونا۔ احسان نہ اٹھانا (۳) بے باک ہونا۔ دلیرانہ مقابلہ کرنا۔

آنکھ نہ دیدہ کاڑھے کشیدہ (۱- مثل) ایات کچھ نہیں دعوے بڑے بڑے

آنکھ نہ ڈالنا (۱- محاورہ) توجہ نہ کرنا۔ پروا نہ کرنا۔

آنکھ نہ ناک ہو جانا (۱- مثل) بد صورتی کی حالت میں سنگار کرنے

کی دھن۔ آنکھ ناک نہ ہوتے ہوتے سنگار کے ذریعہ خوبصورت بننے

کی کوشش۔

آنکھ سچی (کرنا) ہونا (۱- محاورہ) (۱) آنکھ سامنے نہ کرنا (۲) الجانا۔ شرمندہ

آنکھ والا (۱- مذ) آنکھ رکھنے والا (۲) پھلنے رکھنے والا جو ہر شمس۔

(۳) صاحب بصیرت۔

آنکھوں سے کھینچ کر کلچے ٹھنڈک ۱۱۔ مثل اہر طرح عیش و آرام سہرا برا راحت  
و موجب آرام۔

آنکھوں سے (۱۔ محاورہ) نہایت خوشی سے۔ کمال رضا و رغبت سے۔ دل و  
جان سے۔

آنکھوں سے آنکھیں ملانا (۱۔ محاورہ) منظر رو برو کرنا۔ چار آنکھیں کرنا۔

آنکھوں سے اترنا (۱۔ محاورہ) دل سے اترنا۔ حقیقہ و ذلیل ہونا۔

آنکھوں سے اٹھانا (۱۔ محاورہ) کمال اعزاز و اکرام سے کسی چیز کو اٹھانا  
نہایت شرف سے اٹھانا۔

آنکھوں سے اوجھل ہونا (۱۔ محاورہ) منظر سے چھپ جانا۔ سامنے سے کیس  
ہلے جانا۔

آنکھوں سے بجالانا (۱۔ محاورہ) کسی حکم کی تعمیل خوشی سے کرنا۔

آنکھوں سے بلانا (۱۔ محاورہ) اشاروں سے بلانا۔

آنکھوں سے باؤں لگانا (۱۔ محاورہ) حسن عقیدت اور فطری محبت سے  
کسی کے باؤں کو اپنی آنکھوں سے رکھنا۔

آنکھوں سے پردہ اٹھ جانا (۱۔ محاورہ) غفلت دور ہو جانا (۲۱) لاعلمی دور  
ہو جانا۔

آنکھوں سے تلوے سلانا (۱۔ محاورہ) تموں سے آنکھیں ملنا۔ انتہائی  
محبت کا اظہار کرنا۔

آنکھوں سے جان (دم) نکلنا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کے رستے سے دم  
نکلنا (۲) راہ نکلے سکتے ہو جانا۔

آنکھوں سے چگاریاں اٹھنا (۱۔ محاورہ) بہت جی جلنا۔ بہت دکھ ہونا۔

آنکھوں سے خون برسا (۱۔ محاورہ) بہت غصے میں ہونا۔ خون کے آنسو ڈونا۔

آنکھوں سے دریا بہنا (۱۔ محاورہ) بہت زیادہ رونا۔

آنکھوں سے دیکھنا کبھی کانوں سے (۱۔ مثل) عجیب و غریب یا خلاف  
ریق اس واقعہ کا ظہور پذیر ہونا۔

آنکھوں سے شعلے نکلنا (۱۔ محاورہ) بہت زیادہ غصہ آنا۔ آنکھوں میں  
جلن ہونا۔

آنکھوں سے صورت نہ جانا (۱۔ محاورہ) ہر وقت تصور میں نقشہ قائم رہنا  
خیال میں صورت سامنے پھرتی رہنا۔

آنکھوں سے کام (کرنا) بجالانا۔ عین اطاعت سے کوئی خدمت ادا کرنا۔

آنکھوں سے کرنا (۱۔ محاورہ) ذلیل و خقیقہ سمجھنا۔

آنکھوں سے (کر جانا) کرنا (۱۔ محاورہ) نظروں سے اترنا۔ بے قدر ہونا۔

آنکھوں سے (لگا رکھنا) لگا کر رکھنا (۱۔ محاورہ) بہت عزیز رکھنا۔

سینت کر رکھنا۔ حفاظت سے رکھنا۔

آنکھوں سے لگانا (۱۔ محاورہ) بہت قدر کرنا۔ آنکھوں پر رکھنا۔ تعظیم  
اور ادب سے لینا۔

آنکھوں سے نور جاتا رہنا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کی روشنی کا جاتا رہنا۔ اندھا  
ہو جانا۔

آنکھوں سے نیل ڈھلنا (۱۔ محاورہ) مرنے لگنا۔ مرنے کی علامت کا  
ظاہر ہونا۔

آنکھ سے پھوٹی تو بھوٹوں سے کیا کام ۱۱۔ مثل اجب اصل تعلق ہی  
نہیں رہا تو پھر آنا جانا کیسا۔

آنکھ سے منظر سے نیت سے ارادہ ہے۔ خواہش ہے۔ پسند ہے۔  
آنکھوں سے آنکھوں میں (۱۔ تابع فعل آنکھوں نظروں میں۔ اشاروں ہی  
اشاروں میں۔

آنکھوں سے آنکھوں میں پھر لینا (۱۔ محاورہ) چکلے سے اڑ لینا۔ کسی چیز کو  
اس طرح بچانا کہ پتہ نہ چل سکے۔

آنکھوں سے آنکھوں میں سحر ہو جانا (۱۔ محاورہ) ساری رات جاگتے کٹنا۔

آنکھوں پر (آؤ) آئیے { تشریف لایے۔

آنکھوں پر (بٹیکھو) بیٹھیے { جم جم آئیے۔

آنکھوں پر بیٹھانا (۱۔ محاورہ) نہایت عزت اور احترام کرنا۔ بے حد  
مدارات کرنا۔

آنکھوں پر بیٹی باندھنا (۱۔ محاورہ) احسان فرموش ہونا۔ جان بوجھ کر  
یہے خیر ہونا (۲) اندھا لینا۔ غافل اور بے خبر ہونا (۳) بے درد اور بے مروت  
ہو جانا۔

آنکھوں پر پردے (پر پردہ) پر پڑنا (۱۔ محاورہ) غفلت کرنا۔ خیال نہ  
رہنا (۲) بے وقت بن جانا۔ دھوکا کھا جانا (۳) بکھڑ نہ سوجھنا۔

آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ نہیں ہوتا (۱۔ مثل) اپنا پیارا لکھی ناگوار  
نہیں کرتا۔

آنکھوں پر چٹکری (رکھ لینا) رکھنا (۱۔ محاورہ) ۱۱ بے مروتی کرنا۔ دیہانہ  
و غماض (۲) بے جانتا۔

آنکھوں پر جگر دینا (۱۔ محاورہ) کمال محبت اور حسن عقیدت سے بیٹھنا۔

نہایت اعزاز و اکرام کرنا۔

آنکھوں پر چینی چھنا جانا (۱۔ محاورہ) اندھا ہو جانا۔ بے مروتی کرنا۔ خیر  
ہو جانا۔ مغرور ہو جانا۔

آنکھوں پر دیوار اٹھانا (۱۔ محاورہ) مکر جانا۔ جان بوجھ کر آکار کرنا۔

آنکھوں پر رکھنا (۱۔ محاورہ) محبت کرنا۔ پیار کرنا۔

آنکھوں پر قدم رکھیں (۱۔ محاورہ) شوق سے آئیں۔ آپ کے قدم سر  
آنکھوں پر۔

آنکھوں پر قدم لینا (۱۔ محاورہ) نہایت عزت سے استقبال کرنا۔  
خاطر کے مارے کچھ جانا۔

آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا (۱۔ محاورہ) چھینپ جانا۔ شرمندہ ہو جانا۔

آنکھوں پر بھرتا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں لینا۔ خیال میں پھرتا۔

آنکھوں پر نلے آنا (۱۔ محاورہ) غصے کے مارے آنکھوں کا شمرخ ہو جانا۔  
غیظ و غضب میں پھرتا۔

آنکھوں (دیکھنا) دیکھی۔ چشم دید۔ دیکھا ہوا۔

آنکھوں دیکھتے (۱) جان بوجھ کر (۲) دیکھتے دیکھتے (۳) اپنے نطنے میں  
آنکھوں دیکھتے مکی نہیں نکلی جاتی (۱۔ مثل) جانتے بوجھے کوئی مشکل میں  
نہیں پڑتا۔

آنکھوں دیکھیں گے (۱۔ مثل) کوئی خوشی دیکھنے کی امید یا خواہش۔



ہونے دیتا۔ نظروں میں رکھنا۔ نگاہوں میں رکھنا۔  
 آنکھوں کے آگے سے سر گنا (۱۱۔ محاورہ) نظر سے غائب ہونا۔ پاس سے ہٹنا۔  
 آنکھوں کے آگے ناک، سوجھے گیاناک (۱۱۔ محاورہ) چیز سامنے ہوتے  
 ہوتے نظر نہ آنا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا عیب دکھائی نہ دینا۔ بیوقوفی  
 کے اظہار کے لئے غلط ٹکایا جاتا ہے۔  
 آنکھوں کے اشارے۔ گرٹھے۔ غنٹھے۔ غمڑے۔  
 آنکھوں کے اندھے نام (سرخ روشن) نہیں سکھ (۱۱۔ مثل) غلط نام یا غلط  
 تعریف۔ برعکس ہند نام زنجی کا فو۔ اس نادان کی نسبت کہتے ہیں جو  
 دانہ بنے۔

آنکھوں کے بل چلنا (۱۱۔ محاورہ) نہایت تعظیم اور ادب سے جانا۔  
 آنکھوں کے تارے چمکنا (۱۱۔ محاورہ) منظر یا دماغ کی کمزوری کے باعث  
 آنکھوں کے تارے نظر آنا۔

آنکھوں کے تر مڑے۔ وہ تارے جو جگر، ضعف یا حد سے کے باعث  
 آنکھوں کے آگے نظر آتے ہیں۔  
 آنکھوں کے آگے اندھیرا (۱۱۔ محاورہ) کچھ نہ سوجھنا۔ چمکنا۔  
 آنکھوں کے تلے لہوا اترنا (۱۱۔ محاورہ) پھنکے کے مارے آنکھوں کا مخرج

سبک ہو جانا۔  
 آنکھوں کے حلقے (۱۱۔ بند) آنکھوں کے گرد پڑ جانے والے دائرے۔  
 آنکھوں کے ڈورے۔ آنکھوں کی لال لال رگیں، جو نشتے یا خمار سے  
 پیدا ہو جاتی ہیں۔

آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا جانا (۱۱۔ محاورہ) ضعف یا کمزوری سے  
 آنکھوں میں تاریکی چھایا جانا۔  
 آنکھوں کے سامنے رہنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں سے دور نہ ہونا ہر وقت  
 رو بہ رہنا۔

آنکھوں کے ناخون (ناخن) لو (۱۱۔ مثل) غفلت دودھ کدو کچھ پرکھ پیدا  
 کر دو۔ آنکھیں بڑو۔  
 آنکھوں میں (۱۱۔ تابع فعل) نظروں میں نگاہوں میں۔

آنکھوں میں آنا (۱۱۔ محاورہ) نظروں میں سانا۔ نظر پر چڑھنا۔  
 آنکھوں میں بائیں کرنا (۱۱۔ محاورہ) اشاروں میں بائیں کرنا۔  
 آنکھوں میں بچھنا ہونا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں میں غول و قرار ہونا۔

آنکھوں میں بٹنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھ میں سانا۔ بھانا۔ پسینا۔  
 آنکھوں میں بہا کرنا۔ آنکھوں میں بہا کر پھیلنا۔ آنکھوں میں بہا  
 چھانا (۱۱۔ محاورہ) نگاہوں میں خوشی چمکنا۔ دل شکفتہ ہونا۔

آنکھوں میں جھنگ گھٹنا (۱۱۔ محاورہ) گمراہ نشہ ہونا۔ جھنگ کے نشہ میں  
 سرشار ہونا۔  
 آنکھوں میں بیٹھنا (۱۱۔ محاورہ) نظروں میں سمانا۔ نظروں میں بھلا لگنا پسند  
 آنا۔ بھانا۔

آنکھوں میں یا لٹا (۱۱۔ محاورہ) نہایت پیار اور محبت سے رودش کرنا۔  
 آنکھوں میں (پھر جانا) پھرنا (۱۱۔ محاورہ) نقشہ سامنے آنا۔ کسی چیز کا  
 سامن یاد آ جانا۔

آنکھوں سے نیند اُترنا (۱۱۔ محاورہ) نیند اچھٹ جانا۔ بے قراری سے  
 نیند نہ آنا۔

آنکھوں کا برستا (۱۱۔ محاورہ) زرار زار رونا۔

آنکھوں کا پانی ڈھلنا (۱۱۔ محاورہ) بے جیا ہونا بے شرم دے لحاظ ہونا۔

آنکھوں کا تارا (۱۱۔ محاورہ) آنکھ کا تار (۱۲) نہایت پیارا۔ نہایت عزیز  
 آنکھوں کا تیل نکالنا (۱۱۔ محاورہ) دیدہ ریزی کرنا۔ باریک کام کرنا۔

نگاہ پر زور ڈالنا۔

آنکھوں کو بدل کر دیکھنا (۱۱۔ محاورہ) تیور بدل کر دیکھنا۔ ناک بھون  
 چڑھا کر دیکھنا۔

آنکھوں کو تنوں سے ملنا (۱۱۔ محاورہ) کسی دشمن کی آنکھوں کو اپنے  
 پیروں سے مسلنا۔ دشمن کی حسرت نکالنا (۱۲) بچہ خوشامد کرنا۔

آنکھوں کو کھو (رو) بیٹھنا (۱۱۔ محاورہ) اندھا ہو جانا۔ آنکھوں کی  
 روشنی کھو دینا۔

آنکھوں کی پٹی (۱۱۔ مثل) آنکھ کا تارا (۱۲) بہت پیارا۔

آنکھوں کی پتلیاں پھر جانا (۱۱۔ محاورہ) مرنے کے وقت پتلیاں آنکھوں  
 کے گوشوں میں جھپ جانا۔

آنکھوں کی سوٹیاں رہ گئی ہیں۔ آنکھوں کی سوٹیاں نکالنی رہ  
 گئی ہیں (۱۱۔ مثل) نفوذی تکلیف دور ہونی باقی رہ گئی ہے۔

آنکھوں کی سیاہی سفید ہونا (۱۱۔ محاورہ) موت کی علامتیں ظاہر ہونا۔  
 بے دلف ہو جانا۔

آنکھوں کی صفائی (۱۱۔ محاورہ) بھلا کر۔ ڈھٹائی۔ بے مروتی۔  
 آنکھوں کی فصیر کھلو او (۱۱۔ محاورہ) دیکھنے کی لیاقت پیدا کر دو۔

آنکھوں کی قسم۔ کوڑتیں ان الفاظ سے قسم کھاتی ہیں۔  
 آنکھوں کے آگے (تابع فعل) رو برو۔ منظر کے سامنے۔

آنکھوں کے آگے ابد دعا تیری یا اپنے پیاروں کی بری حالت  
 آنکھوں کے سامنے آئے۔

آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا جانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں میں تاریکی  
 پھانا۔ ضعف یا غم کے باعث کچھ نہ چھائی دینا۔

آنکھوں کے آگے پلکوں کی برائی کرنا (۱۱۔ محاورہ) عزیز یا دوست کی  
 برائی دوست یا عزیز کے رو برو کرنا۔

آنکھوں کے آگے پھر جانا۔ آنکھوں کے تلے پھر جانا (۱۱۔ محاورہ)  
 آنکھوں کے پیچھے پھر جانا۔ آنکھوں کے پیچھے پھرنا یا نصور میں  
 کسی بات کا ہو ہو سامنے آ جانا۔

آنکھوں کے آگے تارے (چمکنا) چھوٹنا (۱۱۔ محاورہ) حد سے یضعف  
 سے چکر آ جانا۔ تر مڑے نظر آنا۔

آنکھوں کے آگے (جہان) عالم تاریک ہونا (۱۱۔ محاورہ) غم کے مارے  
 کچھ نہ دکھائی دینا۔

آنکھوں کے آگے چاندنا ہونا (۱۱۔ محاورہ) تیور جانا تارے نظر آ جانا  
 شدت ضعف کے باعث آنکھوں کے سامنے جھکتے ڈرے نظر آنا۔

آنکھوں کے آگے سامنے رکھنا (۱۱۔ محاورہ) نظروں سے دور نہ

آنکھوں میں پھیکا لگنا، (مجاورہ) نظروں میں اچھا معلوم نہ ہونا۔  
آنکھوں میں پی جانا (مجاورہ) ضبط کرنا۔ خاموش رہنا۔  
آنکھوں میں تلکے چھبونا (مجاورہ) آنکھیں چھوڑنا۔ نہایت تکلیف  
دینا۔ دشمن سے بدلہ لینا۔

آنکھوں میں ٹٹلنا (مجاورہ) نظروں میں چمکا نہایت ہلکا ہونا۔ اندازہ ہونا۔  
آنکھوں میں نیل لگانا (مجاورہ) آنکھ کی خرابی کا بہانہ بنانا (نیل لگانے  
سے آنکھیں آشوب کی ہوتی معلوم ہوتی ہیں)

آنکھوں میں ٹھنڈک پڑنا (مجاورہ) دل خوش ہونا۔ تسکین ہونا۔ تسلی ہونا۔  
آنکھوں میں کھڑنا۔ نظروں میں چمکا۔ قدر پانا۔ اچھا معلوم ہونا۔

آنکھوں کے آگے میں طیسو کھولنا (مجاورہ) آنکھوں میں سرسوں بھولنا۔  
ہر چیز زرد ہی زرد نظر آنا۔ آنکھوں میں زردی چھا جانا۔

آنکھوں میں (جان) اچی آنا (مجاورہ) اسارے جسم سے روح کا کچھ کر  
آنکھوں میں آجانا۔ مرنے کے قریب پہنچنا (۲) آنکھوں کو بھلا معلوم ہونا۔

آنکھوں میں چھینا (مجاورہ) آنکھوں میں ٹٹنا۔ نظر پر چڑھنا (۲) بھلا  
لگنا۔ پسند آنا (۳) سمجھ میں آجانا۔ اناک جانا۔

آنکھوں میں جھٹے پڑنا (مجاورہ) کچھ کا کچھ دکھائی دینا۔ آنکھوں میں  
فرق آنا۔ بینائی میں فرق آنا۔

آنکھوں میں جگہ دینا (مجاورہ) آنکھوں پر بٹھانا۔ تعظیم کرنا۔ عزیز سمجھنا۔  
قدر کرنا۔

آنکھوں میں جہان دنیا اندھیر ہونا۔ (مجاورہ) غم بارش کے  
آنکھوں میں جہان ازمانہ عالم سیاہ ہونا (مارے کچھ نہ دکھائی  
دینا۔ شدت غم کے باعث ہر طرف اندھیرا دکھائی دینا۔

آنکھوں میں چرانا (مجاورہ) سب کے سامنے سے چور لینا۔ چوری میں  
کمال کرنا۔ چالاکی دکھانا۔

آنکھوں میں چربی چھانا (مجاورہ) آنکھوں پر پردہ پڑنا (۲) مفرد ہونا (۳)  
اچھے ترے میں عزیز نہ کرنا (۴) مستی میں اندھا ہونا۔

آنکھوں میں چڑھنا (مجاورہ) آنکھوں میں چھینا۔ نظر پر چڑھنا (۳) قدر پانا۔  
منظور نظر ہونا۔ بھانا۔ پسند آنا۔ بھلا لگنا۔

آنکھوں میں چکا چوند ہونا (مجاورہ) تیز روشنی میں نظر قائم نہ رہنا۔  
آنکھوں میں چھانا۔ نظروں میں سمانا۔ آنکھوں میں بسنا۔ آنکھوں میں

سمان بندھنا  
آنکھوں میں خار (گزنہ) لگنا ہونا (مجاورہ) ناگوار گزنہ۔ طبیعت  
پتہ گراں معلوم ہونا۔ برا لگنا۔ باعث تکلیف ہونا۔

آنکھوں میں خماک (مجاورہ) (۱) چشم بدور۔ خدا نظر بد سے بچائے۔  
(۲) کچھ نہیں۔ بالکل نہیں۔

آنکھوں میں خاک جلی نہ دوں، آنکھوں میں خاک کی چٹکی بھی  
نہ ڈالوں (۱)۔ (مثل) کچھ بھی نہ دوں۔ ذرا کسی چیز بھی نہ دوں۔

آنکھوں میں خاک ڈالنا (مجاورہ) (۱) ظاہرات کو چھینا  
کی کوشش کرنا (۲) دھوکا دینا۔ فریب دینا (۲) غائب کر دینا۔ چر لینا  
آنکھوں میں خون (اترنا) اُترانا (مجاورہ) بہت غصہ آنا۔ آنکھیں

سرخ ہو جانا۔

آنکھوں میں دم اٹکا ہونا۔ آنکھوں میں دم (آنا) ہونا (مجاورہ)  
دم آنکھوں میں باقی رہنا۔ نزع میں ہونا۔ موت کا وقت قریب آجانا۔

آنکھوں میں دنیا تاریک (سیاہ) ہونا (مجاورہ) شدت غم سے کچھ  
دکھائی نہ دینا۔

آنکھوں میں رات کا ٹٹنا (مجاورہ) ساری رات جاگتے گزارنا۔ نیند  
بالکل نہ آنا۔

آنکھوں میں رات گٹنا (مجاورہ) ایک سے ایک نہ گٹنا۔ بالکل نہ  
سونانے قرار رہنا۔ بے گل رہنا۔ رات بھر نہ سونا۔

آنکھوں میں رسیلا بن ہونا (مجاورہ) آنکھوں کا خوبصورت ہونا۔  
آنکھوں میں رکھنا (مجاورہ) نظروں میں رکھنا۔ نظر بندی میں رکھنا۔

آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ ناز اور لا ڈھیں پالنا۔  
آنکھوں میں رہنا (مجاورہ) سامنے رہنا۔ نگاہوں میں رہنا۔ نہایت عزیز

اور پیارا ہونا۔  
آنکھوں میں (سبک) ہلکا ہونا (مجاورہ) نظروں میں حقیر ہونا۔ آنکھوں

سے گرنا۔ بے قدر اور بے قدر ہونا۔  
آنکھوں میں سرسوں بھولنا (مجاورہ) زرد ہی زرد دکھائی دینا (۲) ہر

چیز بھلی معلوم ہونا۔ خوش ہونا۔  
آنکھوں میں سرمہ (دینا) کھلانا (مجاورہ) سرمہ لگانا۔

آنکھوں میں سرمہ کھلنا (مجاورہ) آنکھوں میں اچھی طرح سرمہ لگانا۔ آنکھوں  
میں سرمہ پڑنا۔

آنکھوں میں سفیدی چھا جانا (مجاورہ) (۱) اندھا ہو جانا (۲) نہایت پتہ آنا۔  
آنکھوں میں سمانا (مجاورہ) آنکھوں میں بسنا۔ نظروں میں چڑھنا

آنکھوں میں سوال و جواب ہونا (مجاورہ) اشاروں میں بات چیت ہونا۔  
آنکھوں میں شرم نہ ہونا۔ ڈھیلے اچھے (۱)۔ (مثل) جن آنکھوں میں حیاء نہ ہو

آنکھوں کے ڈھیلوں سے مٹی کے ڈھیلے اچھے۔  
آنکھوں میں صورت اچھ جانا، پھر جانا (مجاورہ) آنکھوں کے سامنے نقشہ

پھر جانا  
آنکھوں میں صبح کرنا (مجاورہ) جاگتے جاگتے صبح کر دینا۔

آنکھوں میں طراوت آنا (مجاورہ) آنکھوں میں ٹھنڈک آنا۔  
آنکھوں میں غبار آجانا۔ آنکھوں میں غبار چھا جانا۔ آنکھوں میں

غبار ہو جانا۔ (مجاورہ) دھندلا نظر آنا۔  
آنکھوں میں کاجل بن کر پھرنا (مجاورہ) آنکھوں میں سمانا۔ آنکھوں میں بسنا۔

آنکھوں میں کوٹ کوٹ کر مومنی بھرے ہیں (۱)۔ (مثل) نہایت خوبصورت  
آنکھیں ہیں۔

آنکھوں میں کھائے جانا (مجاورہ) پُر اثر نگاہ ڈالنا۔ رغبت یا غصہ کی نگاہ  
سے دیکھنا۔

آنکھوں میں کھٹنا (مجاورہ) نظروں میں سمانا۔ بھلا لگنا۔  
آنکھوں میں کھٹنا (مجاورہ) نظروں میں برا لگنا۔  
آنکھوں میں کھٹک ہونا (مجاورہ) آنکھوں میں درد ہونا۔ چھین ہونا۔

آنکھوں میں کہنا (۱) محاورہ اشارے سے بات کرنا۔  
 آنکھوں میں گھر کرنا (۱) محاورہ آنکھوں میں بسنا۔ نظروں میں سما نا غریب  
 آنکھوں میں لے جانا (۱) محاورہ سامنے سے چہرہ دھو کا دے کر چرایینا۔  
 آنکھوں میں نقشہ پھر جانا (۱) محاورہ کسی شے کی ہو ہو تصویر نگاہوں  
 میں آجانا۔  
 آنکھوں میں انگ (۱) دن ڈالنا (۱) محاورہ آنکھیں پھوڑنا۔ اندھا کرنا۔  
 آنکھوں میں نون رانی۔ نظر بد دور کرنا۔  
 آنکھوں میں نہ آنا (۱) محاورہ نظروں میں نہ چھنا۔ آنکھوں میں نہ سما نا۔  
 آنکھوں میں نیند (آجانا) بھرنا (سما نا) (۱) محاورہ نیند سے آنکھیں بند  
 ہونے لگنا۔ اُدکھنا۔  
 آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا (۱) محاورہ کوئی عجیب یا خلاب  
 قیاس واقع ہونا۔  
 آنکھوں والو! آنکھیں بڑی نعمت میں (۱) مفورہ) اندھے فقیر صدا  
 لگتے وقت کہتے ہیں کہ آنکھیں قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہیں۔ ان کی  
 قدر کرو۔  
 آنکھوں ہی آنکھوں میں (۱) محاورہ اشاروں ہی اشاروں میں۔  
 آنکھوں ہی آنکھوں میں چرایینا (۱) محاورہ سب کے سامنے چرایینا۔  
 کمال چلا کی کرنا۔  
 آنکھیں آسمان سے لگی (رہتی) ہیں (۱) (مثلاً) (۱) نظر ہر وقت اوپر رہتی  
 ہے۔ بچے دیکھتے ہی نہیں (۲) حسرت و یاس کا اظہار۔  
 آنکھیں اٹھنا۔ (۱) محاورہ، آنکھیں مڑکھنے آنا۔ آشوب چہم ہونا۔  
 آنکھیں ادھر ادھر ہونا (۱) محاورہ نگاہیں پریشان ہونا۔  
 آنکھیں اٹلی پڑنا (۱) محاورہ دیدوں کا بہت ا بھرنا۔ سخت بیماری کی حالت ہونا  
 آنکھیں اٹک جانا (۱) محاورہ) آنکھیں سوخ جانا (۲) پتلیاں چڑھ جانا۔  
 (۳) زیادہ نشہ ہونا (۴) مرنے کے قریب ہونا۔  
 آنکھیں آسنڈنا (۱) محاورہ رونے کا جوش ہونا۔  
 آنکھیں اندر دھنس جانا (۱) محاورہ) آنکھوں کے ڈھیلوں کا حلقے میں  
 بیٹھ جانا۔  
 آنکھیں انگارایں جانا (۱) محاورہ غصے یا بیماری سے آنکھیں بہت  
 سرخ ہو جانا۔  
 آنکھیں اویرنہ اٹھانا (۱) محاورہ) خوف یا شرم سے آنکھیں اوجھی نہ کرنا۔  
 بہ لحاظ یا جیٹا سے اویرنہ دیکھنا۔  
 آنکھیں بچھانا (۱) محاورہ) بڑی خاطر مدارات کرنا۔ نہایت تعظیم و تکریم کرنا  
 آنکھیں بدلنا (۱) محاورہ) نگاہیں پھیر لینا۔ بے توجهی اور بے مردی کرنا۔  
 (۲) جان کنی کے وقت پتلیاں بدلنا۔  
 آنکھیں بند کر کے کوئی کام کرنا (۱) محاورہ) اندھے پن سے کام کرنا۔  
 بے تامل حسی بات کو کہ بیٹھنا۔  
 آنکھیں بند کرنا (۱) محاورہ) آنکھیں موندنا (۲) سونا آرام کرنا (۳) مرنا۔  
 انتقال کرنا۔  
 آنکھیں بند ہونا (۱) (۱) آنکھیں چھنا (۲) نیند آنا۔ غافل ہو جانا (۳) مر جانا۔

نہ نکھیں تلے اوپر ہو جانا ۱۱۔ محاورہ انزع کے وقت پتلیاں پھر جانا۔  
 نہ نکھیں تنک جانا ۱۰۔ محاورہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں کا گھبرا جانا۔ انتظار  
 کی زیادتی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں۔  
 نہ نکھیں تنورا جانا ۱۰۔ محاورہ آنکھیں خیرہ ہو جانا۔ آنکھوں میں اندھیرا آجانا  
 نہ نکھیں ٹپٹانا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں کا نڈا ذرا کھلنا۔  
 نہ نکھیں لوٹ آنا ۱۱۔ محاورہ آنکھیں آجانا۔ آنکھیں دکھنے آنا۔ آنکھیں جھکنا  
 آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھو اور ان کے دیدار سے  
 ہمیشہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں (دعا)  
 نہ نکھیں جاتی رہنا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں کی روشنی کا جانا رہنا۔ اندھا ہو جانا۔  
 نہ نکھیں جلنا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں میں سوزش ہونا۔ آنکھوں میں جلن ہونا۔  
 نہ نکھیں چھینکا ۱۱۔ محاورہ آنکھیں کھلنا اور بند ہونا۔ روشنی کی تاب نہ  
 لانا۔ آنکھیں سامنے نہ ہوسکتا۔ آنکھیں سچی ہوں۔ شرمندہ ہونا۔ ۱۱۔ نیند نہ آنا۔  
 نہ نکھیں جھکنا ۱۱۔ شرمسار ہونا۔ شرم سے سچی نگاہ رکھنا۔ ۱۲۔ آنکھیں دکھنے آنا  
 نہ نکھیں چار طرف چکر مگر چلی جاتی ہیں ۱۱۔ مثل شرمی سے نگاہ ایک  
 طرف نہیں ٹھہرتی۔ نہایت شوخی دیدہ ہے۔  
 نہ نکھیں چار طرف رکھنا ۱۱۔ محاورہ چاروں طرف دیکھتے رہنا۔  
 ٹھکانی رکھنا۔  
 نہ نکھیں چار نہ کرنا ۱۱۔ محاورہ آنکھ سے آنکھ نہ ملانا۔ شرمانا۔  
 نہ نکھیں چار ہونا ۱۱۔ محاورہ ایک دوسرے کے سامنے ہونا۔ مقابل ہونا۔  
 نہ رو رو ہونا۔ دوچار ہونا۔ ملائی کوڑا۔ محبت ہونا۔  
 نہ نکھیں چراتا ۱۱۔ محاورہ چشم روشنی کرنا۔ تجاہل عرفانہ کرنا۔ کتراتا۔  
 نہ نکھیں چرنے لگی ہیں۔ کیا آنکھیں غر حاضر ہیں۔ کیا دکھائی نہیں دے رہا۔  
 نہ جب کوئی شخص اپنے سامنے کی چیز کو نہ دیکھتے تو اس سے یہ گلہ کہتے ہیں۔  
 نہ نکھیں چڑھانا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۔ تیوری چڑھانا۔ خفا ہونا۔ خاطر میں نہ لانا۔  
 نہ نکھیں چڑھنا ۱۱۔ آنکھیں چڑھی ہوئی ہونا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں میں شراب  
 یا نیند کا شمار ہونا۔  
 نہ نکھیں چمکانا ۱۱۔ محاورہ دیدے مشکاتنا۔ تازہ خمر سے آنکھیں گھمانا۔  
 نہ نکھیں چندھیا جانا ۱۱۔ چندھیا نہ ۱۱۔ محاورہ اچکا چونہ ہونا۔ آنکھیں  
 بڑھک جانا۔  
 نہ نکھیں چندھی ہونا ۱۱۔ محاورہ آنکھیں چھوٹی ہونا اور پوری نہ کھلنا۔  
 نہ نکھیں چھت (سے) کو لگ جانا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۔ آنکھیں اوپر چڑھ جانا  
 نہ نکھوں کی پتلی پھر جانا۔ علامت مرگ ظاہر ہونا ۱۲۔ نہایت انتظار کرنا۔  
 نہایت متفکر ہو کر چھت سے آنکھیں لگانا ۱۳۔ مشکلی بندھ جانا۔ کسی چیز کو  
 گھروں تکنے رہنا۔  
 نہ نکھیں چیر کے نیک بھرنا ۱۱۔ محاورہ نیند مٹانے کی تدبیر کرنا۔  
 نہ نکھیں خزان میں ڈوبنا ۱۱۔ محاورہ مارے غصے کے آنکھیں لال ہونا۔  
 نہ نکھیں در پر تکی ہونا۔ انتظار میں ہونا۔ راہ دیکھنا  
 نہ نکھیں (دکھانا) دکھلانا ۱۱۔ غضب کی نگاہ سے دیکھنا۔ ڈرانا۔ دھکی دینا  
 نہ غصہ کرنا ۱۲۔ سامنے ہونا۔ مقابلہ کرنا۔  
 نہ نکھیں دکھنا۔ آنکھیں دکھنے آنا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔

نہ نکھوں میں آسٹوب آنا۔  
 نہ نکھیں دوڑانا ۱۱۔ محاورہ نظر ڈالنا۔ سب طرف دیکھنا۔ چاروں طرف  
 دیکھنا۔ چاروں طرف نظر ڈالنا۔  
 نہ نکھیں (دیکھا کرنا) دیکھنے رہنا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۔ لطف و عنایت کا امیڈوار  
 رہنا ۱۲۔ اطاعت پر اس طرح آمادہ رہنا کہ اشارہ ہوا اور تعمیل کرے۔  
 نہ نکھیں دیکھتی ہیں ۱۱۔ مثل آنکھیں منظر میں۔ آنکھیں مشتاق ہیں۔  
 نہ نکھیں دیکھی ہیں ۱۱۔ محاورہ صحبت اٹھاتی ہے۔ نہایت پائی ہے۔  
 نہ نکھیں دیوار ہو جانا ۱۱۔ محاورہ کچھ نہ سوچنا۔ کچھ دکھائی نہ دینا۔  
 نہ نکھیں ڈبٹانا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں میں آسٹوب آنا۔  
 نہ نکھیں ڈگر ڈگر کرنا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں سے ناتوازی ظاہر ہونا۔ ضعف تقا  
 اور کمزوری کا اظہار۔  
 نہ نکھیں ڈھلنا ۱۱۔ محاورہ مائل نظارہ ہونا۔ نظارہ کرنا۔  
 نہ نکھیں ڈھونڈتی ہیں ۱۱۔ محاورہ آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ دیکھنے کا  
 بے حد اشتیاق ہے۔  
 نہ نکھیں رکھنا ۱۱۔ محاورہ تیز رکھنا۔ تجر بہ کار ہونا۔ جاوہ اور پرکھ رکھنا۔  
 نہ نکھیں لگ کرنا۔ کسی چیز پر آنکھیں زور زور سے ملنا۔  
 نہ نکھیں رو رو کے (لال) خون کبوتر کرنا ۱۱۔ محاورہ بہت رونا جس  
 سے آنکھیں سرخ ہو جائیں۔  
 نہ نکھیں رو رو کرنا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۔ کسی چیز، عزیز یا ترنگ کے دیدار سے  
 نہ نکھوں کو تازگی دینا ۱۲۔ اندھے کی آنکھوں کو علاج سے بنا کرنا۔  
 نہ نکھیں رو رو کرنا ۱۱۔ مثل آنکھیں کھلنا۔ آنکھوں میں روشنی ہونا۔ آنکھوں  
 میں بینائی ہونا۔ آنکھوں میں تازگی و طراوت آنا۔  
 نہ نکھیں زمین سے لگ جانا ۱۱۔ محاورہ نہایت ندامت حاصل ہونا۔  
 نہ شرم کے مارے آنکھ اٹھ نہ سکتا۔  
 نہ نکھیں سفید ہونا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۔ حد درجہ انتظار کرنا ۱۲۔ آنکھیں پٹم  
 ہونا۔ اندھا ہونا۔  
 نہ نکھیں سی کھل گئیں ۱۱۔ مثل آنکھوں میں طراوت اور تازگی آگئی۔  
 کسی عمدہ چیز کے مل جانے یا نظر آنے پر حیرانی ظاہر کرنے کے لیے یا کسی  
 چیز کی حقیقت معلوم ہو جانے کی جگہ۔  
 نہ نکھیں سینا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۔ پلک سے پلک سی دینا ۱۲۔ کسی چیز پر ہر وقت  
 لگتے رہنا۔  
 نہ نکھیں سیننا۔ پوٹلی یا کر آنکھوں پر لگانا ۱۳۔ حسبنوں کی دید بازی کرنا۔  
 نہ نکھیں فرس راہ کرنا۔ قدموں کے نیچے آنکھیں بچھا۔ نظم و تواضع سے  
 نہ پیش آنا۔  
 نہ نکھیں قدموں پر ملنا۔ آنکھیں قدموں تلے پھجانا ۱۱۔ محاورہ کمال  
 نہ اخلاص و محبت سے پیش آنا۔ بہت تواضع اور تذکرہ کرنا۔  
 نہ نکھیں کڑوانا ۱۱۔ محاورہ آنکھوں میں نیند بھرنا۔ نیند کا شمار ہونا ۱۳۔ آنکھیں  
 نہ کھلنا ۱۳۔ دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں میں مٹی خارش ہونا۔  
 نہ نکھیں کور ہو جانا ۱۱۔ محاورہ اندھا ہو جانا۔  
 نہ نکھیں کھل جانا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۔ جاگ اٹھنا ۱۲۔ منہبہ ہونا۔ ہوشیار ہو جانا۔

آنکھیں نہ کھولنا (۱۔ محاورہ) (۱) چشم ڈاکرنا۔ شرم حجاب یا نفرت کے باعث آنکھیں کھول کر کسی چیز کو نہ دیکھنا (۲) ہوش میں نہ آنا (۳) ایسا کرنے کے سبب غفلت میں پڑا رہنا۔

آنکھیں نہ ملانا (۱۔ محاورہ) (۱) شرمانا۔ آنکھ سامنے نہ کرنا (۲) متوجہ نہ ہونا۔ بات نہ بوجھنا۔

آنکھیں نیلی پیلی کرنا (۱۔ محاورہ) غصہ کرنا۔ چین جھین ہونا۔ توری چڑھنا۔ آنکھیں ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) سبق حاصل ہونا (۲) حواس درست ہونا۔ سچھ آنا۔ ہوش آنا۔ عقل آنا۔

آنکھیں ہونٹیں چار دل میں آیا پیار۔ آنکھیں ہونٹیں اوٹ دل میں آئی کھوٹ (۱)۔ مثل اسانے محبت کرنا اور بچھے بالکل کھول جانا۔ آنکھیں ہونٹیں یا بھینس کے چوڑے (۱)۔ مثل (دیکھ کر کام نہ کرنا۔ بے توجہی سے کام کرنا۔

آنکھیں (آن۔ سن) (۱)۔ اندا گھر کے اندر کا حصن۔ اگھٹائی۔ آنکھی (آن۔ گھی) (س۔ ا۔ مٹ) (۱)۔ مہین کپڑے کی منڈھی ہوتی جھلی جس سے میدا بھانتے ہیں۔ آنکی (آن۔ گی) (۱)۔ مٹ (انگلیا۔ چولی۔

آنند (۱۔ نند) (۱)۔ صفت (شادمانی۔ روحانی خوشی۔ راحت۔ آرام۔ چین۔ آنند بڑھاوا (۱۔ ۵)۔ مذ) مبارک یادی۔ خوشی کا لبت۔ خوشی کا نیک۔ بدھائی۔ شادیا نہ۔

آنند رہتا (مص۔ مرکب) خوش رہنا۔ مگن رہنا۔ آنند کرنا (مص۔ مرکب) خوشی منانا۔ چین کرنا۔ آنند کے تازہ بجانا (۱۔ محاورہ) بے ٹکری سے اذقات بسر کرنا۔ عیش و عشرت سے گزارنا۔

آنند منگل (۱۔ مذ) (۱) خوشی۔ عیش و عشرت۔ ہنسی مذاق (۲) آرام۔ راحت۔

آنند ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) خوش ہونا۔ مگن ہونا (۲) سیر ہونا۔ آنندی (آن۔ نن۔ دی) (۱۔ ۵)۔ مذ) خوشی۔ سکھی۔ شادمانی۔ آنندی پریش (۱۔ ۵)۔ مذ) ہنس بکھ۔ خوش مزاج۔ ظریف۔ آنو (آن۔ او) (۱۔ ۵)۔ مٹ (۱) ایک قسم کا چمنا سفید لیس دار مادہ۔ جو پیش میں پانخانہ کے ساتھ آتا ہے۔

آنو آنا (۱۔ محاورہ) آنو کا اجابت میں لکھنا۔ آنو بڑھنا (۱۔ محاورہ) پیٹ میں آنو کا بڑا ہونا پیش ہونا۔ آنو کے پھے نکلے۔ آنو نکلے میں اٹھی (۱)۔ مثل (بے محل قراوت چھانٹنے یا اچھو ہوجانے پر کہتے ہیں۔ آنول (آن۔ دل) (۱۔ ۵)۔ مٹ (۱) وہ جھلی جو بچکے کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔

آنول نال۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف انٹری کی طرح بڑھی ہوتی ہوتی ہے۔ وانی اُسے اسی وقت کاٹ ڈالتی ہے۔ اس کے اخیر میں ایک غلیا بھی لگی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کل ہیئت مجموعی کا نام آنول نال ہے۔

حقیقت کھلنا۔ عبرت ہونا۔ (۳) حیران ہوجانا۔

آنکھیں کھلنا (۱۔ محاورہ) جاگن۔ بیدار ہونا (۲) حقیقت واضح ہونا (۳) اہم لینا۔ ہوش سنبھالنا۔ (۴) بگا بگا جانا۔

آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا (۱۔ محاورہ) (۱) سکتے کی حالت میں دم نکل جانا۔ (۲) حیران ہوجانا۔ دم بخود ہوجانا۔

آنکھیں کھلی ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) پوری آنکھیں بند نہ ہونا (۲) زندہ ہونا۔ صبح سلامت ہونا (۳) ہوشیار ہونا۔ چوکس ہونا۔

آنکھیں کھولنا (۱۔ محاورہ) چشم ڈاکرنا۔ جاگن۔ ہوشیار ہونا (۲) عبرت پکڑنا (۳) پیدا ہونا۔

آنکھیں کھولنا (۱۔ محاورہ) اندھا ہونا۔ بے بصر ہونا۔ بینائی زائل کرنا۔ آنکھیں کیا کھوٹ گئی ہیں؟ نظر نہیں آتا؟ غفلت یا بے پروائی سے کام کرنے سے کہا جاتا ہے۔

آنکھیں گدی میں ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) گدی کے پیچھے آنکھیں ہونا۔ سامنے کی چیز دکھائی نہ دینا۔ (۲) خود بینی کے نشہ میں اندھا ہونا۔ اچھا برتا نہ دیکھنا۔ بچھے بچھے بغیر کوئی کام کر بھٹنا۔ عالم شباب کے باعث حرکات ناشائستہ میں اندھا ہونا۔ مستی کے سبب نیک و بد کا دھیان نہ کرنا۔

آنکھیں گرم کرنا (۱۔ محاورہ) غصے سے دیکھنا۔ گھورنا۔ دید بازی کرنا۔ آنکھیں گر جانا (۱۔ محاورہ) کسی چیز پر نظر گر جانا۔ کسی چیز کو برابر تک جانا۔ گھونٹ

بیدوں کی طرح دیکھنا۔ آنکھیں گلابی ہونا (۱۔ محاورہ) آنکھیں سرخ ہونا۔ آنکھوں میں سرور آنا۔ آنکھوں میں نشہ ظاہر ہونا۔

آنکھیں لال کرنا (۱۔ محاورہ) غصے سے نیلا پلا ہونا۔ رو رو کر آنکھیں سرخ کرنا۔ آنکھیں لگائے رہنا (۱۔ محاورہ) برابر دیکھتے رہنا۔ نظر جمی ہونا۔ آنکھیں لگنا (۱)۔ منگی بندھنا۔ انتظار کرنا۔ راہ دیکھنا (۲) عشق ہونا۔

محبت ہونا۔ آنکھیں مانگنا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کی روشنی چاہنا۔ بینائی مانگنا۔ بصارت

کا طالب ہونا۔ آنکھیں مٹکانا (۱۔ محاورہ) آنکھیں گھٹانا۔ خنزے کرنا۔ آنکھیں پچھانا۔ آنکھیں ملنا (۱) آنکھوں کو ہاتھ سے دگڑنا۔ آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر نیند کا خمار دور کرنا۔ آنکھیں کھولنے کی تدبیر کرنا (۲) حسن عقیدت یا فرط محبت کے باعث کسی چیز سے آنکھیں گھسنا۔

آنکھیں منرتے کیا دیر ہے (۱)۔ مثل (آنکھ بند ہوتے یعنی مرنے دیر نہیں لگتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ آنکھیں موہ لینا (موہنا) (۱۔ محاورہ) آنکھیں بند کر لینا (۲) مرجانا (۳) بے خبر ہونا۔

آنکھیں مٹکانا (۱۔ محاورہ) انا راض ہونا۔ غصے ہونا۔ لال پلا ہونا۔ ڈرانا۔

آنکھیں نہ اٹھانا (۲) خیر یا پھری کی ٹوک سے آنکھوں کو باہر نکال ڈالنا۔ اندھا کرنا۔ آنکھیں نہ اٹھانا (۱۔ محاورہ) آنکھیں سامنے نہ کرنا۔ شرم یا جیسا سے آنکھیں اور چنی نہ کرنا۔ شرمانا۔

آٹول پتی (آں۔ دل۔ بیت۔ تی) [۱-۵-۱] منٹ [ ایک قسم کی سلائی جس میں پتی کی طرح دونوں طرف ترچھے ٹانگے مارے جاتے ہیں۔  
 آٹول گنا (آں۔ دل۔ بکٹ۔ جگا۔ ۱-۵-۱] مذ [ آنولے کا سوکھا ہوا پھل۔  
 آنولے کا ڈال میں سوکھا ہوا پھل۔  
 آنولہ (آں۔ دل۔ ۱-۵-۱] مذ [ ایک کیسلا پھل۔ دیکھئے آلد۔  
 آنولہ سار گندھک (۱-۵-۱] منٹ [ اصاف کی ہوتی گندھک جس کا رنگ آنولے کے رنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔  
 آنولے کا کھایا بڑے کا کھایا پیچھے مزہ آیا (۱-۵-۱] منٹ [ ناگوار نصیحت کا نتیجہ بعد میں معلوم ہوتا ہے۔  
 آسہ (آ۔ نذ) [ ۱-۵-۱] مذ [ پرانے روپے کا سوکھا حصہ پرانے چار پیسے پرانا سکہ چار پیسوں کے برابر ہوتا تھا۔ آنا۔  
 آسہ بانی (۱-۵-۱] مذ [ کوڑی کوڑی۔ پورا پورا  
 آسہ پانی کا حساب کرنا۔ (۱-۵-۱] محاورہ [ کفایت شعاری کرنا۔ گنجوسی کرنا۔  
 آئی (آ۔ تی) [ ۱-۵-۱] منٹ [ دودھ سے مکھن بچانے کا آلہ۔ تمھانی۔  
 آئی بانی (۱-۵-۱] منٹ [ چھیر چھاڑ۔ ہنسی مذاق۔  
 آئی جانی (۱-۵-۱] منٹ [ آجے تبات ناپا تمار۔ خانی۔

## آ۔ و۔

آوا (آ۔ و) [ ۱-۵-۱] مذ [ کمار کی بھٹی۔ کماروں کے برتن پکانے کا گڑھا۔  
 پزراہ۔ بھٹا۔  
 آوا ترنا۔ برتنوں کا ایک کربھی سے نکلتا۔  
 آوا بگڑنا۔ اوے کا آوا بگڑنا (۱) تمام برتنوں کا بگڑنا (۲) خاندان کا خاندان بگڑنا۔ سارے خاندان کا برائیوں میں مبتلا ہوجانا۔  
 آوا چرٹھنا۔ بھٹی میں برتنوں کا پینے کے واسطے رکھا جانا۔  
 آوے کا آوا خراب ہے (۱-۵-۱] منٹ [ سارا خاندان خراب سے  
 آوے میں نانہ گھوگھی (۱-۵-۱] منٹ [ بددیانتی کر کے معصوم بننے کی کوشش۔  
 آواجانی (۱-۵-۱] منٹ [ آمدورفت۔ آنا جانا۔  
 آواجانی لگا رکھی ہے (۱-۵-۱] منٹ [ بے موقع اور بلا ضرورت آمدورفت۔  
 آوادانی (۱-۵-۱] منٹ [ آستی۔ آبادی (۲) رفت۔ کھامی چل پل (۳) بونی جوئی زمین۔  
 آوار جہ (آ۔ وار۔ جہ) [ ۱-۵-۱] مذ [ روزنامہ جمع خرچ۔  
 آوارگی (آ۔ وار۔ رگی) [ ۱-۵-۱] منٹ [ اجزائی۔ پریشانی۔ پراندگی۔  
 خرابی (۲) بد معاشی۔ شہدین۔ گمراہی۔  
 آوارہ (آ۔ وا۔ رہ) [ ۱-۵-۱] منٹ [ صفت [ ابلے ہودہ۔ پریشان خراب خستہ  
 (۲) اوباش۔ بدچلن۔ شہدا۔  
 آوارہ پھرنا (۱-۵-۱] محاورہ [ خراب خستہ پھرنا۔ بھگتا پھرنا۔ مارا مارا پھرنا۔  
 آوارہ کرنا (۱-۵-۱] محاورہ [ بدچلن بنانا۔ لگاڑنا۔ اوباش بنانا۔ خراب کرنا۔

آوارہ گرو (۱-۵-۱] مذ [ مارا مارا پھرنے والا۔ بدچلن۔  
 آوارہ گروی (۱-۵-۱] منٹ [ بدچلنی۔ سرگردانی۔ مارا مارا پھرنا۔  
 آوارہ مزاج (۱-۵-۱] مذ [ لا بانی۔ بدچلن۔  
 آوارہ وطن (۱-۵-۱] مذ [ مسافر۔ پردیسی۔  
 آوارہ ہوتا (۱-۵-۱] محاورہ [ پریشان ہونا۔ پراگندہ ہونا۔ سرگرداں ہونا۔ بدچلن ہونا۔ بدراہ ہونا۔  
 آواز (آ۔ وار) [ ۱-۵-۱] منٹ [ لفظ۔ بول۔ الاپ۔ ہانک۔ پکار۔ صدا (۲) غل۔ شور۔ چیخ (۳) نغیر کی صدا۔ پکار کر نیچنے کی صدا (۴) اکھڑکا۔ آہٹ دھماکا۔ (۵) راک۔ نغیر۔ آہٹنگ (۶) شہر۔ چیخ۔ نیک نامی کا آوازہ۔  
 آواز آنا (۱-۵-۱] محاورہ [ لفظ سنا دینا۔ کان میں بول پڑنا۔ کان میں جھک آنا۔  
 آواز اٹھانا (۱-۵-۱] محاورہ [ کانے میں آواز کا اوجھار کرنا۔ آواز اٹھنا۔  
 آواز بدل جانا (۱-۵-۱] محاورہ [ آواز بے سہی ہوجانا۔  
 آواز بدلنا (۱-۵-۱] محاورہ [ کسی وجہ سے آواز میں فرق آنا۔ لہجہ تبدیل ہوجانا۔  
 آواز بڑھانا (۱-۵-۱] محاورہ [ آواز بلند کرنا۔  
 آواز بگڑ جانا (۱-۵-۱] محاورہ [ اچھی آواز کا برا ہوجانا۔  
 آواز بلند کرنا (۱-۵-۱] محاورہ [ چلا کے بولنا۔ اونچی آواز سے پڑھنا۔  
 آواز بند کر دینا (مص مرکب) خاموش کر دینا۔ چپ کر دینا۔  
 آواز بند ہونا۔ آواز بھاری ہونا۔ آواز بھرا آنا۔ آواز بٹھنا۔ (۱-۵-۱] محاورہ [ آواز بڑھنا۔ کلا جگر جانا۔ آواز نہ ٹھکانا۔ کانے یا چلانے سے آواز کا پھٹ جانا۔  
 آواز پیا (۱-۵-۱] منٹ [ پاؤں کی آہٹ۔ پاؤں کی آواز۔  
 آواز پر آنا (۱-۵-۱] محاورہ [ پکارنے کے ساتھ ہی آنا۔ سدھائے ہوئے پرند کا آواز سننے ہی آجانا۔  
 آواز پرکان (دھرتا رکھنا) لگانا (۱-۵-۱] محاورہ [ نہایت غور سے سنا۔  
 آواز پرکونی لگانا (۱-۵-۱] محاورہ [ دیکھے بغیر آواز پر نشا نہ لگانا (۲) قادر اندازی۔  
 آواز پر لگانا (۱-۵-۱] محاورہ [ جانوروں کو ایسا سدھانا کہ وہ آواز سننے ہی پاس چلے آتے یا جاکم کسے کو کہا جائے کرنے لگیں۔  
 آواز پر (پہ) لگنا (۱-۵-۱] محاورہ [ آواز نہ پھاننا۔ آواز پر بولنا۔ آواز پر آنا۔ بل جانا۔ مایوس ہوجانا۔ بولی بھگانا۔  
 آواز پر پڑنا (۱-۵-۱] محاورہ [ لگا بیٹھنا۔ آواز بھاری ہونا۔ (۲) بلانے کے لیے نام لے کر کسی کو پکارا جانا۔ علامت میں کسی کے نام کی آواز بلند ہونا۔  
 آواز بیٹھنا (۱-۵-۱] محاورہ [ آواز بھاری ہونا۔ آواز کا آہٹنگ خراب ہوجانا۔  
 آواز پھولنا (۱-۵-۱] محاورہ [ آواز کا بھاری ہوتا اور صاف نہ ٹھکانا۔  
 آواز سیدھا ہوتا (مص مرکب) آواز ٹھکانا۔  
 آواز ٹھکانا (مص مرکب) آواز کا پھاننا۔ آواز بھرا آنا۔ آواز میں لرزش ہونا۔  
 آواز جانا (مص مرکب) آواز کا پھیننا۔

آواز جرس۔ آواز در اف۔ ا۔ مرث اگھنے کی آواز قافلے کے پیچھے  
 پیچھے گھسنے کی آواز۔  
 آواز زنجیر جھاننا (۱) محاورہ انزل کی وجہ سے آواز بیٹھ جانا۔  
 آواز زوب جانا (۱) محاورہ آواز کا بست ہو جانا۔  
 آواز دہندہ (۱) مذ (۱۱) آواز دینے والا۔ (۱۲) بولی بولنے والا۔ نیلام پکانے  
 والا۔ نیلام کنندہ۔  
 آواز دینا (۱) محاورہ پکارنا۔ طلب کرنا۔ بلانا (۲) صدا کرنا۔  
 آواز ڈوگ میں آنا (۱) محاورہ زمانہ بلوغ میں گنٹھ چھوٹنے سے آواز  
 بھاری ہو جانا۔  
 آواز سگاں کم نہ کند رزق گذارا اف۔ مثل اکتوں کے بھونکنے سے  
 گذار کر کی خیرات بند نہیں ہوتی۔ یعنی بدباطن لوگوں کے باعث کسی  
 کی روزی کم نہیں ہوتی۔  
 آواز سنانا (۱) محاورہ اپنی آواز دوسرے کے کان تک پہنچانا۔  
 آواز سننا۔ آواز سنائی پڑنا (۱) دینا (۱) محاورہ کانوں میں آواز پہنچنا۔  
 آواز سے آواز ملنا (۱) محاورہ (۱) شمر سے شمر ملنا (۲) ایک آواز کا دوسری  
 آواز سے مشابہ ہو جانا۔  
 آواز سے سگون لینا (۱) محاورہ عورتیں اور عوام بعض جانوروں کی آوازوں  
 سے قال لیتے ہیں۔  
 آواز صاف (ہو جانا) ہونا (۱) محاورہ اگلا صاف ہو جانا۔ آواز کا بھاری پن  
 نازل ہو جانا۔ درست آواز ٹھکانا۔  
 آواز صوف۔ صوف کی آواز۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق صوف ایک بابے  
 یا بچل کی مانند ہے۔ خدائے تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل (فرشتہ)  
 جس وقت اس میں پھونک لگا تیس گئے، ہر چیز فنا ہو جیسے گی اور قیمت  
 آجلنے گی۔  
 آواز غیب (ف۔ ع۔ مٹ) اہام کی آواز۔ باقت کی آواز۔ آواز جو عالم  
 غیب سے آئے۔  
 آواز قدیم (ف۔ مٹ) پاؤں کی آہٹ۔  
 آواز کا آواز چڑھاؤ۔ آواز کا بیجا آواز۔  
 آواز کا بارط۔ آواز کی رسائی۔ آواز کی حد۔  
 آواز کا باط نہ ملنا۔ (۱) محاورہ آواز کا بہت بلند ہونا۔  
 آواز کرنا (۱) محاورہ (۱) پکارنا۔ آواز دینا (۲) بندوق چھوڑنا۔ توپ داغنا  
 (۳) جینا (۴) فیکر صدا دینا۔  
 آواز کستا (۱) محاورہ آواز کی آواز لگانا۔  
 آواز (کھلنا) کھل جانا (۱) محاورہ آواز صاف ہونا۔ آواز میں سے خشونت  
 کا دور ہونا۔  
 آواز کی اٹھان (۱) مٹ) آواز کی ابتدا۔ گاتے وقت شعر کا بلند آواز سے  
 شروع کرنا اور پچھے سڑ میں آواز ہونا۔  
 آواز گہرا (۱) محاورہ آواز کا ہلکا ہونا۔ نیچے سرون میں آواز ہونا۔  
 آواز گریب۔ رونے کی آواز۔  
 آواز گوش آشنا ہونا (۱) محاورہ آواز کا پہلے سے سنا ہونا ہونا۔ آواز کی

پہچان ہونا۔  
 آواز گوش زد ہونا (۱) محاورہ آواز سنائی پڑنا۔  
 آواز گوبچا (مص مرکب) دیر تک کسی بند مکان یا گنبد میں آواز کا اثر  
 باقی رہنا۔  
 آواز لڑنا (۱) محاورہ آواز ملنا۔ آواز کا ٹپکھانا۔ آواز میں آواز ملنا۔ ہم آہنگ  
 ہو جانا۔ ایک سر پر پہنچنا۔  
 آواز لگانا (۱) محاورہ (۱) آواز دینا۔ پکارنا (۲) پکار کے جینا۔ (۳) صدا دینا۔  
 مانگنا۔ بھیک مانگنا (۴) اگانا۔ تان لگانا۔  
 آواز ملنا (۱) محاورہ باہم آواز ملا کر لگانا۔  
 آواز میں آواز ملنا (۱) محاورہ بول سے بول ملنا ہم آہنگ ہونا۔ سرون  
 میں برابر آ جانا۔ سڑ سے سڑ ملنا۔  
 آواز میں پتی لگ جانا (۱) محاورہ کسی سبب سے آواز کھر کھرانے لگانا۔  
 آواز میں پیچ دینا (۱) محاورہ آواز دینے وقت خوبصورتی کے ساتھ آواز لگانا۔  
 آواز میں پھریاں اگسریاں (بھری ہیں) (۱) مثل بہت موثر اور درناک  
 آواز ہے۔  
 آواز میں گھٹکا ہونا (۱) محاورہ آواز میں بہت ہی پر اثر اور پسندیدہ  
 کیفیت ہونا۔  
 آواز میں لہوچ ہونا (۱) محاورہ آواز میں نرمی اور نزاکت ہونا۔  
 آواز میں نمک ہونا۔ آواز میں درد ہونا۔ سوز ہونا۔  
 آواز نکلنا (۱) محاورہ (۱) بولنا۔ منہ سے بات نکلنا (۲) رونا۔ جینا (۳) گانا  
 شروع کرنا۔  
 آواز نکلنا (۱) محاورہ (۱) صدا آنا (۲) منہ سے بات نکلنا۔  
 آواز نہیں چلتی۔ آواز کام نہیں دیتی۔  
 آواز ہونا (۱) محاورہ کسی چیز سے آواز نکلنا۔  
 آوازہ (آ۔ وارزہ) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) شہرہ۔ ناموری۔ غنغلہ۔ افراہ۔ ہونما  
 (۲) غل۔ شور (۳) طعنے (۴) کسی چیز کے گھسنے کی آواز۔ صدا۔ نثر اقا۔  
 (۵) گوز۔ باد۔ بھڑکا۔  
 آوازہ بلند ہونا (۱) محاورہ (۱) مشہور ہونا۔ بڑا نام ہونا۔ ناموری ہونا۔ دھوم  
 مچنا۔ (۲) شور پیدا ہونا۔  
 آوازہ پہنچنا (۱) محاورہ شہرت پہنچنا۔  
 آوازہ پھیلنا (۱) محاورہ شہرت ہونا۔  
 آوازہ پھینکنا۔ آواز کے پھینکنا (۱) محاورہ فقرہ کستا۔ طعنے دینا۔ آوازہ کستا۔  
 آوازہ توڑنا۔ بولی ٹھوٹی۔ طعنے جھنڈ۔ طعن تشنیع۔  
 آوازہ ستانا (۱) محاورہ طعنے دینا۔ بولی ٹھوٹی مارتا (۲) پاوانا۔  
 آوازہ کرنا (۱) محاورہ (۱) پھسکارنا۔ جھٹکارنا (۲) بندوق یا توپ چھوڑنا  
 داغنا (۳) کسی چیز کو توڑنا۔ اوپر سے دے مارنا۔ پٹک دینا (۴) طعنے دینا  
 (۵) طنز کرنا۔ ٹھٹھا مارنا۔  
 آوازہ کستا (۱) محاورہ طنز کرنا۔ جھٹلانا۔ فقرہ جھست کرنا۔  
 آوازہ مارتا (۱) محاورہ (۱) طعنے دینا۔ پھینچانی کرنا (۲) آواز ستانا۔  
 آواز سے ستنا (۱) محاورہ طعن و تشنیع ستنا۔

آہ نکلنا (۱)۔ محاورہ، ہائے نکھنا۔  
 آہ نہ آئے (۱)۔ محاورہ درد نہ آئے۔ ذرا افسوس نہ آئے۔ ذرا رحم نہ آئے۔  
 آہ بھر شنب (ف)۔ ۱۔ مٹ (مٹ) آدھی رات کو کی جانے والی فریاد۔  
 آہ نیم کلاش (ف)۔ ۱۔ مٹ ادھ آہ جو پوری نہ ہو۔ آدھی کھینچی ہوئی آہ۔  
 آہ و بکا، آہ و فغاں، آہ و زاری (ف)۔ ۱۔ مٹ ارونا۔ پینا۔ وایدلا کرنا۔  
 ہائے وائے۔ نالہ و فریاد۔  
 آہا (کلمہ تحسین) تعجب اور خوشی کا کلمہ۔  
 آہار (آ۔ ہار) (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] امانڈی۔ لیٹی۔ کلفت (۲) غذا۔ کھانا۔  
 آہار کرنا (مض مرکب) [۱] کھانا۔ بھوجن کرنا (۲) کلفت دینا۔ ماوا چڑھانا۔  
 آہار و ہار۔ کھانا پینا۔ سونا۔ رہن سہن۔  
 آہٹ (آ۔ ہٹ) [۱]۔ ۱۔ مٹ [۱] پاؤں کی آواز۔ کشکا۔  
 آہٹ یا تا (۱)۔ محاورہ چلنے کی آواز سن لینا۔ کھٹکا محسوس کر لینا۔  
 آہٹ پر کان ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) پاؤں کی آواز کا منتظر ہونا۔  
 آہٹ لینا (۱)۔ محاورہ آواز پر کان رکھنا۔ کھڑکے پر دھیان رکھنا ہوشیار ہونا۔  
 آہٹ ہونا (۱)۔ مٹ کھڑکا ہونا۔ کھٹکا ہونا۔  
 آہرن (آہ۔ رن) [۱]۔ ۱۔ مذ [۱] سندان۔ نہانی جس پر لوہا لپٹتے ہیں۔  
 آہننگی (آہ۔ ہس۔ ت۔ گ) (ف)۔ ۱۔ مٹ [۱] دھیان۔ نرمی۔ سہولت۔ آسانی۔  
 آہستہ (آہ۔ ہس۔ ت۔ ا) (ف)۔ ۱۔ ص [۱] دھیان۔ نرم۔ نرمی۔ سچ سے۔ ملائمت سے۔  
 آہستہ آہستہ (تابع فعل) ہولے ہولے۔ دھیرے دھیرے۔ رفتہ رفتہ۔  
 آہک (آ۔ ہک) (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] چوننا۔ تلخی۔  
 آہن (آ۔ ہن) (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] لوہا۔  
 آہن ربا (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] جگ پتھر۔ مقنا طیس۔  
 آہنگر (ف)۔ ۱۔ فاعل (لوہار۔ لوہے کا کام کرنے والا۔ جمع آہن گران۔  
 آہنگری (ف)۔ ۱۔ مٹ (لوہار کا پیشہ۔  
 آہنی (۱) نہیں (آہ۔ نی، آہ۔ ہیں) (ف)۔ ص [۱] لوہے کی۔ لوہے کی بنی ہوئی۔  
 آہنیں جگر (ف)۔ ۱۔ ص [۱] لوہے کے جگر والا۔ دلیر۔ ہمار۔  
 آہنی کارخانے (۱)۔ مذ [۱] کارخانے جہاں لوہے کا کام کیا جاتا ہے۔  
 آہنگ (آ۔ ہنگ) (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] منغر۔ زرمز۔ آواز (۲) قصد۔ ارادہ (۳) دقت۔  
 آہو (آ۔ ہو) (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] ہرن۔ مرگ (۲) عیب۔ نقص۔  
 آہو ہرن (ف)۔ مذ [۱] ہرن کا بچہ۔  
 آہو چشم (ف)۔ ۱۔ ص [۱] ہرن جیسی آنکھ والا مرگ۔ بین خوبصورت آنکھوں والا۔ معلق۔  
 آہو گیر (ف)۔ ۱۔ عیب جو (۲) ہرن کا شکار کرنے والا۔  
 آہونے حرم (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] مکر معطر کی ایک مقررہ حد میں رہنے والا۔  
 ہرن جہاں شکار ممنوع ہے (۲) [کناٹا] معلق۔  
 آہونے خٹا (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] مقام خٹا کا ہرن جو منگ کے لیے مشہور ہے۔  
 آہونے زریں (ف)۔ ۱۔ ہونے فلک (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] سنہرا ہرن۔ آسمان کا ہرن۔  
 آکناٹا (سورج۔ آفتاب)۔

آواز سے کرنا (۱)۔ محاورہ طنز سے کچھ کہنا۔  
 آواز سے کہنا (۱)۔ محاورہ اطمینان سے کہنا۔ پھٹنا۔  
 آواگون (آ۔ واگ۔ ون) [۱]۔ ۱۔ مذ [۱] آنا۔ آنا۔ آمدورفت۔ ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ۔ تباخ۔  
 آور (آ۔ ور) (ف)۔ ص [۱] لانے والا۔ مرکبات میں مستعمل ہے جیسے خواب آور۔  
 آورد (آ۔ ورد) (ف)۔ ۱۔ مٹ [۱] تکلف اور بناوٹ۔ ۲۔ تکلف سے شعر کہنا۔ کوشش سے بات پیدا کرنا۔  
 آوردہ (آ۔ ور۔ وہ) (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] لایا ہوا۔ متوسل۔ طفیل۔  
 آویختہ (آ۔ ویخ۔ ت) [ف]۔ ص [۱] پینا ہوا۔ ٹکا ہوا۔  
 آویز (آ۔ وی۔ ز) (ف)۔ ص [۱] معلق۔  
 آویز کرنا۔ لٹکانا۔  
 آویزش (آ۔ وی۔ ز) (ف)۔ ۱۔ مٹ [۱] چپقلش۔ لڑائی۔ فساد۔  
 آویزہ (آ۔ وی۔ ز) (ف)۔ ۱۔ مذ [۱] کان کا زیور۔ بندہ۔ بالہ۔

## ۵۔ ۱

آہ (ف)۔ ۱۔ مٹ [۱] کلمہ افسوس۔ ہائے۔ ولے۔ افسوس۔ آہ (۲) سانس۔ دم۔ نفس۔  
 آہ آہ اکھٹا۔ دل سے آہ نکھنا۔  
 آہ آہ کرنا۔ ہائے کرنا۔ کراہنا۔  
 آہ اللہ۔ ہائے افسوس۔ حالت رنج و غم میں خدا کا نام زبان پر آنا۔  
 آہ بھر کر رہ جانا (۱)۔ محاورہ (یکجہ ختم کے رہ جانا۔ افسوس کے رہ جانا۔  
 صد پر صبر کر کے چپ ہو رہنا۔  
 آہ بھرنا۔ ہائے ہائے کرنا۔ کراہنا۔ افسوس کرنا۔  
 آہ پینا (۱)۔ محاورہ کسی کی آہ سے تکلیف پہنچنا۔ بد دعا کا اثر ہونا۔  
 آہ چکر (ف)۔ ۱۔ مٹ (دل سے نکلی ہوئی ہائے۔  
 آہ خالی نہ جانا (۱)۔ محاورہ فریاد کا با اثر ہونا۔  
 آہ روگنا (۱)۔ محاورہ آہ کا ضبط کرنا۔  
 آہ سرد بھرنا (۱)۔ محاورہ کھٹے سانس بھرنا۔ اوپر کے سانس لینا۔  
 آہ سرد کرنا۔ دھیرے آہ بھرنا۔  
 آہ سوڑاں (ف)۔ ۱۔ مٹ (آہ گرم۔ جلانے والی آہ۔ آگ لگا دینے والی آہ۔  
 وہ آہ جو آگ کا کام کرے۔  
 آہ شب (ف)۔ ۱۔ مٹ (وہ آہ جو مظلوم کے دل سے رات کو نکلے۔  
 آہ صد آہ (ف)۔ ۱۔ مٹ (سیکڑوں آہیں۔ افسوس صد افسوس۔  
 آہ کا منغر (۱)۔ محاورہ زور سے آہ کرنا۔ آہ کھینچنا۔  
 آہ کر کے رہ جانا (۱)۔ محاورہ (یکجہ ختم کے رہ جانا۔ کسی صدمہ پر صبر کرنا۔  
 آہ کرنا۔ آہ کھینچنا (۱)۔ محاورہ (کراہنا۔ نالہ و فریاد کرنا۔  
 آہ لکنا۔ آہ پڑنا۔  
 آہ لینا (۱)۔ محاورہ کسی کا صبر لینا۔ کسی کو شکار اس کی آہ سننا۔ بد دعا لینا۔



آؤٹ (Out) (آؤٹ، [انگ صنف] باہر، خارج [۲] ظاہر، افشاں) آؤٹ ڈور (Out Door) بیرونی، خارجی، گھر کی چار دیواری سے باہر کا، کھلی ہوا کا۔

آئی (آئی، ای [۵-۱-۵] مٹ [۱۱] موت، نقضا، آئی ہوئی چیز [۲] آنا مصدر سے ماضی [مٹ] کا صغیر) آئی بات کارو کنا ذہن گند کرنا ہے [۱] (مثل) بات منہ پر آکر اسے روکنا ذہن کو خراب کرنے کے برابر ہے۔

آئی بلا ملنا (۱) محاورہ) مصیبت دور ہوجانا۔ آئی بلا ٹال دینا (۱) محاورہ) آنت کو دور کرنا۔

آئی پر نہ چوکے (۱) (مثل) جس بات کا عمل ہو اسے گزر دے، یا کہ ڈالے۔ آئی پر نہیں چوکتے ہیں (۱) (مثل) موقع ملنے پر خاموش نہیں رہتے۔

آئی تو رمانی نہیں تو خالی چار پائی (۱) (مثل) روزی ملی تو کام میں ہے ورنہ ٹیر سلا۔

آئی تو روزی نہیں تو روزہ (۱) (مثل) ملا تو کھایا نہیں تو فاقہ سٹے پڑے ہے۔ آئی تو خوش نہیں تو خاموش (۱) (مثل) روٹی ملی تو ہنسی تو ہنسی ورنہ کچھ نہیں۔

آئی کھٹی آگ کو رہ کھی رات کو (۱) (مثل) ابے جیسا عورت کو کہتے ہیں۔ کہ اسے بچپنی کے لئے ذرا ساجھلہ کافی ہوتا ہے۔

آئی تل جانا (۱) محاورہ) آنت کا آکر دور ہوجانا۔ آئی تلے بھر ساسوں جیسے (۱) (مثل) مصیبت تل جاسے تو آدمی بہت دیر تک زندہ رہتا ہے۔

آئی عقل جانا (۱) محاورہ) بدحواس ہوجانا، ہوش جلنے رہنا۔ آئی کسی میرے ملتے (۱) (مثل) سارا الزام میرے ہی سر ہو گیا۔

آئی سوچ تھیری، دی چھوٹی بیٹی چھوک (۱) (مثل) ایسے پروا اور آزاد منش کا اپنی چیز ضائع کر دینا۔

آئی نہ کھی، کون؟ تاکتے ہن (۱) (مثل) جان نہ پہچان بڑی خار سلام۔ زبردستی واقفیت نکالنا۔

آئی ہوئی تل جانا (۱) محاورہ) موت یا مصیبت آنے آنے دور ہوجانا۔ آئی ہوئی نہیں طلعتی (۱) (مثل) آپنے والی موت یا مصیبت آکر رہتی ہے۔

آئی سے جان کے ساتھ جانے کی جنانے کے ساتھ (۱) (مثل) پیدائشی عادت مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے۔

آئی بی عاقل سب کاموں میں داخکہ (۱) (مثل) ناواقف گدگد کام میں دخل دینے والی عورت۔ ہر کام میں خواہ مخواہ دخل دینے والی۔

آئے (آئے، اے [۵] فعل ماضی) آگئے آئے آسم کے لئے لبیدا (۱) (مثل) کسی نہ کسی طرح مطلب حاصل ہونا چاہئے۔

آئے ہلے کھاٹ کے پائے (۱) (مثل) بے معنی باتیں (درست) آئیں باتیں شائیں۔

آئے بھی تو کیا آئے (۱) (مثل) کسی کے ذرا سی دیر آکر جانے کو کہتے ہیں۔ آئے پیر بھانگے میر (۱) (مثل) ابد لوگ نیکوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔

آہوئے (مشلی) مشکیں (ف-۱) مذ) مشک کے نانے والا ہرن۔ آہے (آہے، [آہ]، [۱-۱] مٹ) آہ ہے۔

۶-۱

آئیڈیا (Idea) آئے۔ ڈیا [انگ]۔ ۱۔ مذ) خیال، تصور، فکر۔ آئرش (Irish) (آہ۔ رش) [انگ صنف] [۱۱] آئر لینڈ کا (۲) آئر لینڈ کا باشندہ (۳) آئر لینڈ کی زبان۔

آئرش فری اسٹیٹ (Irish Free State) آئر لینڈ کا آزاد حصہ۔ آئل (Oil) (آئل) [انگ]۔ ۱۔ مذ) تیل، روغن۔ آئل پیپر (Oil Paper) روغنی کا غز جو پینٹنگ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔

آئل پینٹنگ (Oil Painting) (۱) روغنی رنگوں کی مصوری (۲) روغنی تصویر۔

آئل کلا تھ (Oil Cloth) روغنی کپڑا۔ موم جامہ۔ آئل کلمر (Oil Colour) روغنی رنگ جو پینٹنگ میں کام آتا ہے۔ آئینتی یا منتقی (آئی، ان، تی، پان، ان، تی) [۵-۱-۵] مٹ) سرمانے اور پاک کرنے کے لیے کی جگہ۔

آئندہ (آئی، ان، وہ) [۵] مٹ) صف [۱۱] آنے والا (۲) دوسری بار۔ پھر۔ آگے۔ پھر کبھی۔ اب۔

آئندہ اختیار بدست مختار (ف) (مثل) مانو نہ مانو جو چاہو کرو۔ مختار ہو نصیحت کرنے کے بعد کہا جاتا ہے۔

آئندہ کو کان ہو گئے (۱) (مثل) آئندہ کے لیے احتیاط ہو گئی۔ آئندہ کو کیا ہوتا ہے (۱) (مقولہ) آگے کیا ہونے والا ہے۔ آئندہ ورنہ۔ آنا جانا۔ آنے جانے والا۔

آؤ (آؤ، او [۵] [۱۱] پیار اور محبت سے بلانے کا طریقہ [۲] آنا مصدر سے جمع امر حاضر۔

آؤ اور۔ تعظیم و تکریم۔ آؤ بھگت، خاطر و تواضع۔ آؤ بھگت (۱) (مثل) خاطر داری، خاطر تواضع، خیر مقدم آؤ بھگت کرنا (۱) محاورہ) تواضع کرنا، خاطر مدارت کرنا۔

آؤ پر ڈوسن گھر کا بھی لے جاؤ (۱) (مثل) کسی نفع کی امید پر اپنی گروہ سے بھی کچھ کھو بیٹھنے کے موقع پر غور نہیں ہوتی ہیں۔ آؤ پر ڈوسن لڑیں (۱) (مثل) دیکھیے آؤ پر ڈوسن لڑیں۔

آؤ شاؤ (۱) (مذ) رنگ، ڈھنگ۔ آؤ تو جاؤ کہاں (۱) (مثل) کسی کے بگڑنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں آؤ چھانے دو۔ چلوڑانی دور کرو۔ بخشو۔ چھوڑو۔ غصہ تھوک دو۔

آؤ جاؤ (۱) (جنت) پھرت (۲) آمد و رفت۔ آنا جانا۔ آؤ جاؤ کھرتھارا کھانا مانگے دشمن ہمارا (۱) (مثل) کجس آدمی جو کھانا

نہ سے اور زبانی آؤ بھگت کرے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ (۱) (مثل) بغیر سمجھے بوجھے کام کرنا۔



آیا سمجھو (جانو) ۱۱۔ محاورہ) ابھی آیا۔ آیا کر آیا۔ دیر نہیں کروں گا۔  
آیا کتا کھا گیا تو بیکھی ڈھول بجا ۱۱۔ مثل) بے ٹکرا در غافل عورت  
کے متعلق کہتے ہیں۔

آیاگری ۱۱۔ مثل) آیا کا پیشہ۔ دانی پنا۔

آیا گیا ۱۱۔ مذ) آنے جلنے والا۔ ۲۱۔ مہمان۔ مسافر۔ ۳۱۔ بھولا۔ بسرا۔

آیا گیا ہونا ۱۱۔ محاورہ) بھول جانا۔ فراموش ہو جانا۔

آیات ۱۱۔ آیات ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) آیت کی جمع ۱۲۱۔ اوقات۔ قرآن میں  
سے ایک وقفے کا نام جو دائرے کی شکل کا ہوتا ہے۔ ۳۱۔ نشانیاں۔

آیاتِ متشابہات ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) قرآن کی وہ آیتیں جن کے معنی صاف  
اور واضح نہ ہو۔

آیاتِ محکمات ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) وہ قرآنی آیات جن میں تاویل کی ضرورت نہیں۔

آیت ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) ۱۱۔ نشان ۱۲۱۔ لقرہ قرآن یا قریت یا  
انجیل ۳۱۔ حجت ظاہری۔

آیت آنا۔ آسمان سے آیت نازل ہونا۔

آیت اتزنا ۱۱۔ محاورہ) آیت نازل ہونا۔

آیت سجدہ۔ قرآن پاک کی وہ آیت جسے پڑھنے اور سننے سے سجد کرنا  
لازم ہو جاتا ہے۔

آیت لا ۱۱۔ مثل) وہ آیت جس پر لاکھا ہوتا ہے۔ قاریوں نے ایسی آیت پر

نہ ٹھہرنا بہتر خیال کیا ہے۔

آیت مطلق ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) وہ آیت جس پر قطعی ٹھہرنا پڑے جس کے آگے کج  
دائرے کے سوا کوئی علامت نہ ہو۔

آیت الکرسی ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورہ البقرہ  
پارہ تمسیر۔

آیت نازل ہونا۔ خدا کی طرف سے اس کے رسول پر آیت آنا۔

آیت وحدیث ہے ۱۱۔ مثل) قرآن پاک کی آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم کا ارشاد ۲۱۔ وہ بات جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ بالکل حق۔

ایوڈو فارم (Iodoform) ۱۰۔ آ۔ یو۔ ڈو۔ فارم ۱۰۔ مثل) اندر  
رنگ کی ایک بدبودار مرکب دو اجوز خم پر پھڑکی جاتی ہے۔

ایوڈین (Iodine) ۱۰۔ آ۔ یو۔ ڈین ۱۰۔ مثل) ایک کییمیادی  
عنصر جو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

ایورویڈک ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) ہندی طریقہ علاج۔

آیہ ۱۰۔ ع۔ ۱۰۔ مثل) آیت۔

آیہ رحمت۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں خدا کی رحمتوں کا ذکر ہے۔

# اب

آب - [ع-۱-۱] مذ - باپ - والد - جمع : آباء۔

جمع : آباؤ

آبٌ وَجَدَ - باپ دادا - خاندان کے بزرگ پرکھے - جمع : آباؤ اجدادُ  
جمع : آباؤ اجداد۔

آبٍ - [ہ] (۱) اس وقت - اس گھڑی - آج کل (۲) اس دم - اس زمانہ میں  
(۳) اسی وقت - فوراً جھٹ بیٹ (۴) آئندہ - آگے کو - پھر - پھر بھی (۵)  
فقوڑی دیر پہلے (۶) اس حالت میں - اس مرحلے پر (۷) اس وقت - تب -  
اب آئے - ابھی آتے ہیں - ذرا سی دیر میں آنے والے ہیں -

اب اب کر کے - تھوڑے دنوں سے چند روز سے - حال میں -  
اب اب کرنا (معاورہ) مثال مثول کرنا - وعدہ خدائی کرنا - آج کل کرنا -  
اب ادھر یا اُدھر (معاورہ) اب نصیب ہو جانا چاہئے بات کو ختم کرنا چاہئے  
اب اللہ ہی اللہ ہے - سب سہلے ٹوٹ گئے - اب کوئی امید نہیں -  
اب ایسا بھی کیا - یہ بات نہیں ہوسکتی - یہ ناممکن ہے -

اب بتاؤ (بتائیے) اب بولو - اب کہو - (معاورہ) (قابل کرنے کے لیے)  
اب کوئی راہ نہیں - مان جاؤ - اب کیا کریں (۲) حیرت و بے چارگی  
کے اظہار کے لیے) اب کیا کیا جائے - کوئی چارہ نہیں رہا -

اب بھی (۱) اس وقت بھی - اس حال یا اس صورت میں بھی (۲) نس پر بھی  
پھیر بھی - تاہم -

اب بھی پھیر نہیں گیا - (معاورہ) اب بھی وقت ہے - اس وقت بھی اصلاح  
و درستی ہوسکتی ہے -

اب بھی میرا مردہ تیرے زندہ پر بھاری ہے [مثل] باوجود گی گزری  
حالت کے میں تم سے طاقتور ہوں - تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں -

اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں جگ گئیں کھیت [مثل] موقع  
ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتائے تے کیا حاصل - نقصان ہو جانے کے  
بعد پشیمان ہونے کا کیا فائدہ -

اب تب - چند ہانہ مثال مثول - اس وقت - اس وقت - بہت جلد -

اب تب لگنا (ہونا) مرنے کا وقت قریب آنا - جان بلب ہونا -

اب تک - اب تک - اس گھڑی تک - اس وقت تک - ابھی

تک - ہنوز -

اب تو - (۱) اس کے بعد آئندہ - (۲) ان حالات میں - اس صورت میں -

(۳) آج کل - اس وقت - اس دفعہ (۴) آخر کار - بدجہ مجبوری -

اب جا کے (جا کر) اتنے دن پیچھے بہت دیر بعد -

اب جب میں - آن کی ان میں - کوئی دن میں - امروز و فردا میں - بہت جلد -

اب رنگ لائی گلہری [مثل] اب اصل حقیقت ظاہر ہوئی - اب  
کزنوت ظاہر ہوئے -

اب سے - اس وقت سے - آئندہ سے -

اب ستونتی ہو کر مٹی ٹھیک ٹھیک لوٹ کھانا مسنار [مثل] تمام دنیا کو لوٹ کر  
پرہیز گار بن جانا - نوسو چوہے کھانے کی جگہ کو چلی -

اب سے آگے گھر سے آئے - [مثل] جو کچھ نا دانستی میں کرچکے  
وہ کرچکے - اب ایسا کر سکتے ہیں - تو یہ ہے -

اب سے دور (دور پار) خدانہ کرے - خدا پھر ایسا موقع نہ دکھائے -

اب کا - اس وقت کا - اس زمانے کا - موجودہ حال کا - اس مرتبہ کا -

اب کہاں جانا ہے - قابو میں آجائے پرکتے ہیں - پکڑ لیا ہے -

جانے نہیں پاتے گا -

اب کھاتی تو کھاتی - اب کھاؤں تو راہ دہانی [مثل] اب جو کچھ

ہوا سو ہوا - آئندہ ایسا نہیں ہوگا - اس داغہ چوک ہوگئی - آئندہ نہ ہوگی -

اب کی بات اب کے ساتھ جب کی بات جب کے ساتھ - [مثل]

پیسے جو پھر تھا - وہ گزر گیا - اب جو رنگ زمانے کا ہے - اس کے ملحق  
کرنا چاہئے -

اب کی نیچے تو گھر گھر بنے - [مثل] قمار بازوں کی اصطلاح میں جب

چوسری کوٹ زد میں ہوتی ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں پانسہ

جاتا ہے تو کہتے ہیں - اب کی منہ زج جائے تو پھر ہر خانے میں جائے گی

کوئی مزاحمت نہ کر سکے - جی ہو جائے -

اب کے - اس دفعہ - اس مرتبہ - آئندہ زمانہ میں - 'اب کا' کی جمع -

اب کیا پوچھنا ہے (معاورہ) اب نہ سے ہیں - اب پوری آزادی ہے -

اب کیا تھا - دیر ہی کیا تھی - ذرا -

اب کیا ہوتا ہے - وقت اور نکل گیا - اب کوئی چارہ کار نہیں -

اب نہ تب - نہ اس وقت - نہ کبھی - کبھی نہیں -

اب وہ پانی ملتا نہ رہ گیا - جب کوئی موقع ہاتھ سے جانا ہے یا کسی کام

کا وقت گزر جانے کو یہ کہتے ہیں - موقع جا چکا ہے -

آب - [ع-۱-۱] مذ - سبزہ - گھاس -

آبا - (آ-با) [ع-۱-۱] مذ - باپ

آبا عن جد - باپ دادا سے - تدریم سے -

آبا (اب - با) [أ-ب-۱] مذ - باپ - جنم دینے والا - خاندان کے بزرگ (۲)

تعمیر کے لیے جسے چھایا آبا - خاوا آبا -

آبا جان - آبا جانی - آبا جی - آبا حضور - آبا میاں - بچے اپنے باپ کو

ان لفظوں سے پکارتے ہیں -

آبا - (آ-با) [ع-۱-۱] مذ - انکار - نفرت - پرہیز - اختلاف - نافرمانی -

آبا کرنا - انکار کرنا -

آبا بیل - (آ-با - بیل) [ع-۱-۱] مذ - ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بزندہ جن کا

سینہ سفید ہوتا ہے - اندھیری جھکوں پر ہوتی ہے -

آبا بیلیا - (آ-با - بیل - یا) [أ-ب-۱] مذ - آبا بیل سے ملتا جلتا ایک قسم کا گبوتر

جس کا رنگ ایاہیل سے مشابہ ہے۔  
 ایاحت (۱- یا بحت) [ع-۱-مٹ] اجازت۔ جائز کرنا۔ جواز۔  
 مباح ہونا۔ شروع میں جائز ہونا۔  
 ایاحتی (۱- یا-ح-تی) [ع-ف-۱-مڈ] حرام کو مباح اور جائز سمجھنے والا۔  
 ایاچی (۱- یا-جی) [ع-ف-۱-مڈ] ایاحتی۔ ایاچیہ فرقہ کا بیرو۔  
 ایاحیت (۱- یا-جی-یت) [ع-ف-۱-صفت] فرقہ ایاچیہ کا ظرفی و عمل۔  
 ایاحیتہ (۱- یا-جی-یتہ) [ع-ف-۱-مڈ] ایک فرقہ ہے جن کا عقیدہ ہے  
 کہ انسان میں گناہوں سے اجتناب اور قرائض کو بجالانے کی قدرت  
 نہیں۔ دنیاوی لذائذ کا قائل۔  
 ایاہارنا (۱- یا-ہارنا) [م-ص-۱۱] رہائی دینا۔ بچانا (۲) باقی رکھنا۔ جمع کرنا۔  
 ایاہاس (۱- یا-ہاس) [۱۱-۱-مٹ] بونہ۔ بدبو۔  
 ایاہاسی (۱- یا-ہاسی) [۱۱-۱-صفت] شہزادہ۔ خیمہ اٹھانا ہوا۔ بدبو دار۔  
 ایاہطیل (۱- یا-ہطیل) [ع-۱-مڈ] بے عمل۔ ناجوش یا غلط بات۔  
 ایاہتی (۱- یا-ہتی) [ع-۱-مڈ] باغ غلام یا لونڈی کا فرار۔ بھاگ جانا۔  
 ایاہک (۱- یا-ہک) [ع-۱-صفت] خاموش۔ مہموت۔ گونگا۔  
 ایاہکنا (۱- یا-ہکنا) [ع-۱-مڈ] ایاہکنا لینا۔ تے کرنا۔ اٹھی کرنا۔  
 ایاہال (۱- یا-ہال) [ع-۱-مڈ] جوش۔ پھید پھید ہاٹ۔ صک (۲) جوش۔  
 غصہ (۳) کف۔ پھین (۳) خون وغیرہ کا جوش۔ گرمی کا جوش۔ حرار۔  
 ایاہال (آنا) اٹھنا۔ اچھٹنا۔ جوش آنا۔ پھید پھید آنا۔  
 ایاہالا (۱- یا-ہالا) [ع-۱-صفت] جوش دیا ہوا (۲) بے گلی کا سالن۔  
 (۳) بے مزہ کھانا۔  
 ایاہالسا (۱- یا-ہالسا) [ع-۱-مڈ] اور بے مصلے کا بے مزار صرف اُبلنا ہوا۔ غریبانہ کھانا۔  
 ایاہالنا (۱- یا-ہالنا) [ع-۱-مڈ] جوش دینا۔ اومٹنا۔ کھولانا (۲) غصہ دلانا۔  
 پھیرنا۔  
 ایاہالی (۱- یا-ہالی) [ع-۱-صفت] جوش دی ہوئی۔  
 ایاہالی بھاتی ہے۔ یہی ہمت ہے۔ آہی میں خوش ہے۔  
 ایاہالی وال ملنا۔ معمولی خوراک ملنا۔  
 ایاہالی سبالی۔ معمولی غذا۔ سادہ کھانا۔  
 ایاہانا (۱- یا-ہانا) [ع-۱-مڈ] اگا نا۔ بونا (۲) بے لطف بنانا۔ اجیرن کرنا۔  
 ایاہالی (۱- یا-ہالی) [ع-۱-مڈ] اگانے کی اجیرت۔ ابرائی۔  
 ایاہت (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] عربی حروف ہجا جو یہ ہیں۔ ا۔ ب۔  
 ت۔ ث۔ ج۔ ح۔ خ۔ د۔ ذ۔ ر۔ ز۔ س۔ ش۔ ص۔ ض۔ ظ۔ ف۔  
 ق۔ ک۔ ل۔ م۔ ن۔ و۔ ہ۔ ع۔ ی۔ ع۔  
 ابتدا (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] (۱) آغاز۔ شروع۔ انتہا کی ضد۔  
 اول۔ اول (۲) نکاس۔ نکلنے کی جگہ۔ سرا۔ بچپن۔  
 ابتدا ابتدا میں۔ اول اول۔ شروع شروع میں۔  
 ابتدا بکڑنا۔ آغاز خواب ہو جانا۔ بچپن کی ترتیب کا خواب ہونا۔  
 ابتدا بڑنا۔ بنیاد قائم ہونا۔  
 ابتدا کرنا۔ شروع کرنا۔ پہل کرنا۔  
 ابتدا ع (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] شروع شروع میں۔

پہلے پہل۔ اول اول۔  
 ابتدا (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] (۱) شروع کا پہلا۔ سرسری۔  
 تعلیم۔ اصولی (۳) اصولی۔ بنیادی۔ تبدیلی۔  
 ابتدائی تعلیم۔ شروع کی تعلیم۔ پہلی پانچ جماعتوں کی تعلیم۔  
 ابتدائی رسوم۔ پہلا سرکاری حق۔ پہلا محنت۔ زمینداری کا حق۔ شکرانہ۔ نذرانہ۔  
 فیس کورٹ کا حق۔ شروع کی رسمیں۔  
 ابتدائی عدالت۔ ماتحت عدالت۔ پہلی پجری۔  
 ابتدائی مدارس۔ مدرسے جن میں شروع کی چار پانچ جماعتیں ہوتی ہیں۔  
 ابتدائیر۔ وہ مضمون جو کسی کتاب کے شروع میں ہو۔ افتتاحیہ۔ مقدمہ۔  
 دیباچہ۔ شروع کا۔ آغاز کا۔  
 ابتدا (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] اخلاقی پستی۔ کمینہ پن۔  
 بے قدری۔ ہلکاپن۔ شاعری کا رفیق۔ آغاز۔  
 ابترا (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] بد حال۔ تتر بتر۔ برائے منہ منتہر بے ربط۔  
 (۲) لٹریچر (۳) نثر (۴) علم عروض کے ایک صنف کا  
 نام (۵) گنجد میں بے سرئی بازی (۶) بد چلن۔ آوارہ (۷) سب  
 کی ایک قسم۔  
 ابترا کرنا۔ بگاڑنا۔ خراب کرنا۔  
 ابترا ہونا۔ بگاڑنا۔ بد چلن ہونا۔ آوارہ ہونا۔  
 ابترا (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] (۱) خرابی۔ بد حالی۔ بے ترتیبی۔  
 (۲) گنجد۔ سرسری (۳) گنجد باتا ش کے تیوں کی تقسیم میں غلطی۔  
 ابترا بڑنا۔ بے ترتیبی پر جانا۔ گنجد بڑنا۔  
 ابترا ڈالنا۔ خرابی ڈالنا۔ گنجد بڑنا۔  
 ابتسام (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] مسکراہٹ۔ شگفتگی۔ تبسم۔  
 ابتغا (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] طلب۔ خواہش۔  
 ابتلا (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] آزمائش۔ امتحان۔ جانچ (۲) مصیبت۔ بلا۔  
 ابتماج (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] خوشی۔ مسرت۔  
 ابتجن (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] (۱) ابتجن۔ (۲) ابتجن۔ (۳) ابتجن۔ (۴) ابتجن۔ (۵) ابتجن۔  
 خوشبودار مسالہ جو حکیم کو صاف اور ملائم بنانے کے لیے ملا جاتا ہے۔  
 ابلن (۱) کھیننا۔ شادی میں جب دو لہاؤں کے ابلنا ملا جاتا ہے تو  
 ہجولیاں دل لگی میں ایک دوسرے کے منہ یا بدن پر ابلنا مل دیتی ہیں۔  
 ابلجہ (۱- یا-ہت) [ع-۱-مڈ] (۱) حروف تہجی جو عربی میں اٹھائیں فارسی میں  
 تیس اور اردو میں پینتیس ہیں (۲) کسی علم یا فن کی مبادیات ابتدائی باتیں۔  
 ابلجہ خواں۔ الف بے تے پڑھنے والا ابتدائی۔ نو آموز۔  
 ابلجہ کا فضل۔ ایک قسم کا قفل جو بغیر کئی کے کھلتا اور بند ہوتا ہے اس پر  
 کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں۔ قفل کے کڑے کھانے سے جب حرف  
 خاص ترتیب پر آجاتے ہیں قفل کھل جاتا ہے۔  
 ابلجہ کے اعداد۔ عربی حروف ہجا کی عددی قیمتیں :-  
 ا ب ج د - ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	ذ
۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰
ص ن ط ع									

اُبھٹنا۔ اُبھٹنا۔ گھٹا کا کھل جانا۔ مطلع صاف ہونا۔  
 اُبھڑنا۔ اُبھڑنا۔ بہت برسنے والا بادل۔  
 اُبھڑت۔ بھٹت کا بادل۔ وہ بادل جس کی بارش سے مخلوق کا بھلا ہوا۔  
 اُبھڑتا۔ کالی گھٹا۔  
 اُبھڑت۔ گھرا بادل۔ کالی گھٹا۔  
 اُبھڑت۔ وہ بادل جو بچھم کی طرف سے اُٹھے۔  
 اُبھڑت۔ اُبھڑت۔ اُبھڑت۔  
 اُبھڑت۔ (۱)۔ بھٹشش کا بادل (۲)۔ بادل کی طرح سخاوت۔ دنیاؤں۔ سخی۔  
 اُبھڑت۔ کھڑے پھوڑنا [ش]۔ موسم اُمید پر موجودہ چیز بھی کھڑے پھوڑنا۔  
 اُبھڑت۔ اُبھڑت۔ وہ بادل جو بہاؤ کی طرف سے اُٹھے۔  
 اُبھڑت۔ مار۔ موٹی برسائے والا بادل۔ اُبھڑت۔  
 اُبھڑت۔ بادل کا اُٹھنا۔ گھٹا چھانا۔  
 اُبھڑت۔ چاروں طرف چھایا ہوا بادل۔ بہر طرف پھیلے ہوئے گھٹا۔  
 اُبھڑت۔ اسفنج یا اسپنج  
 اُبھڑت۔ شمسی پینے نیساں میں (جو کہ ستمبر کے مطابق ہوتا ہے) اپنے  
 والا بادل مٹھوئے کہ اس سے سپی میں موٹی۔ کیلے میں کافر۔ بانس  
 میں منبوج اور سانپ میں زہر بنتا ہے۔  
 اُبھڑت۔ آندھی اور پانی۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ را۔ آب۔ رہ)۔ [ف۔ ا۔ مذ]۔ دو برسے کڑے کی اُدھری برت۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ رار)۔ [ع۔ ا۔ مذ]۔ برکی جمع۔ نیوکا۔ ر۔ برین کار نوک۔ اونٹنا۔ اُنٹ۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ رام)۔ [ع۔ ا۔ مذ]۔ شگ کرتا۔ طول کرتا۔ رنجیدگی۔ اتھاس بکیدگی۔  
 کسی کام کا مضبوط کرنا۔  
 اُبھڑت۔ [ع۔ صفت۔ مذ]۔ چکرا۔ سیاہ و سفید۔ ابلت۔ وہ گھوڑا جس میں سُرخ  
 اور سفید رنگ ہوں۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ رض)۔ [ع۔ ا۔ صفت]۔ سفید کوڑھو کا بیماری۔ کوڑھی۔  
 اُبھڑت۔ اُبھڑت۔ (آب۔ رتی)۔ (آب۔ رکت)۔ [پہلا عربی۔ دوسرا ہندی  
 ا۔ مٹ]۔ ایک قسم کی چھپیل دھات۔  
 اُبھڑت۔ اُبھڑت۔ (آب۔ رن)۔ (آب۔ ر۔ ہن)۔ [۵۔ ا۔ مذ]۔ گنا۔  
 سکھار۔ لباس۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ رو)۔ [ف۔ ا۔ مٹ]۔ آنکھوں کے اوپر لے ہلائی شکل کے  
 بال۔ بھول پر جمع۔ ابرو۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا (آنا)۔ (معاورہ)۔ خضا ہونا۔ تیوری چڑھانا۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ غصے میں بھنوں اور چڑھانا۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ وہ شخص جس کے ابرو پر لٹھنا کی طرح ہوں۔ خوبصورت عورت۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔  
 ابرو کے خم گھٹنا۔ غصہ اتر جانا۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔  
 ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔ ابرو پر لٹھنا۔

اُبھڑت۔ (آب۔ حار)۔ [ع۔ ا۔ مذ]۔ بحر کی جمع۔ بہت سے سمندر۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ خ۔ رات)۔ [ع۔ ا۔ مذ]۔ اجڑے کی جمع۔ بیماریاں۔ بھاپیں۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ رخ۔ رہ)۔ [ع۔ ا۔ مذ]۔ بجار۔ بجار کی جمع۔ بیماریاں۔  
 ڈھونپیں۔ جمع۔ بیماریاں۔  
 اُبھڑت۔ بھاپیں اُٹھنا۔ ڈھونپ اُٹھنا۔  
 اُبھڑت۔ بھاپ کا اُبھڑنا۔ ڈھونپ اُبھڑنا۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ خل)۔ [ع۔ صفت]۔ بہت بھیل۔ نہایت کھوس۔ ہمایچ۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ مذ)۔ [ع۔ ا۔ مٹ]۔ ہمیشگی۔ وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو۔  
 اُبھڑت۔ دوام۔ ہمیشہ۔ دوام۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ دن)۔ [ع۔ ا۔ مٹ]۔ قطعاً۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ دا)۔ [ع۔ ا۔ مذ]۔ پیدا کرنا۔ وجود میں لانا۔ ظاہر کرنا۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ دا۔ ا۔ مذ)۔ [ع۔ ا۔ مٹ]۔ قیامت تک۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ دا۔ ع)۔ [ع۔ ا۔ مٹ]۔ اختراع۔ ایجاد۔ نئی چیز نکالنا۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ دا۔ ع)۔ [ع۔ ا۔ مذ]۔ اہل تصوف کے نزدیک اولیاء اللہ کا  
 وہ گروہ جس کے پیروؤں کا انتظام ہے۔ اولیاء اللہ کے دس طبقات میں  
 سے پانچواں طبقہ (۲)۔ افغانوں کے ایک گروہ کا مورث اعلیٰ۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ دا۔ بی)۔ [ف۔ ا۔ مذ]۔ افغانوں کے ایک قبیلے سے منسوب۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ دن)۔ [ع۔ ا۔ مذ]۔ بدن کی جمع۔ بہت سے جسم۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ دھوت)۔ [۵۔ ا۔ مذ]۔ سدھ جوگی ہندوؤں کا ایک  
 گروہ جو واجب الوجود کے سوا کسی کو نہیں مانتا اور نہ کسی خاص ذات کے  
 سے خدا کی پرستش کرتا ہے۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ بی)۔ [ع۔ صفت]۔ دائمی۔ جاودانی۔ غیر خانی۔ سردی۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ بی)۔ [ع۔ ا۔ مٹ]۔ (ع۔ ا۔ مٹ)۔ نقلے دوام۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ مذ)۔ (۱)۔ بادل۔ گھٹا۔ بدلی (۲)۔ جو ہر شے اور وہ نشان جو اچھا یا  
 وغیرہ پر نصاب کے ذریعہ ڈالتے ہیں۔  
 اُبھڑت۔ بادل آنا۔ آسمان پر بادل چھانا۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ مذ)۔ بادل کا بادل جو برسات کم ہے اور گر جتا زیادہ ہے۔  
 اُبھڑت۔ (آب۔ مذ)۔ برسنے والا بادل۔  
 اُبھڑت۔ موسم بہار کا بادل۔  
 اُبھڑت۔ شمسی عینے میں کا بادل۔  
 اُبھڑت۔ بادلوں کا گروہ ہے جو کہ مندرجہ ہو جانا۔  
 اُبھڑت۔ کاغذ پر ابر کی شکل۔  
 اُبھڑت۔ ہلکا سا ابر۔  
 اُبھڑت۔ کالی گھٹا۔ سیاہ بادل۔  
 اُبھڑت۔ تلوار میں جوہروں کے مثل زرنکاری خطوط کا سلسلہ۔

اُبڑے فلک - بلال - پہلی رات کا چاند۔

اُبڑہ - (ع۔ مذ) یمن کا حبشی گورنر جس نے چھٹی صدی عیسوی کے نصف اول میں باقبولوں سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ کن ابا بیلوں کے کنکر بھینکنے سے اس کی ساری فوج ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ہوا۔

اُبڑی - (اُب۔ ری) [ف۔ ۱۔ مٹ] ایک قسم کا رنگدار کاغذ جس پر ابر سے نشان بنے ہوتے ہیں اور اسے کتابوں کی جلدوں پر لگاتے ہیں۔

اُبڑی تلوار - تلوار جس میں ابر کی صورت کے جوہر ہوں۔

اُبڑیشم - (اُب۔ ری شیم) [ف۔ ۱۔ مذ] کچا ریشم۔

اُبڑیشینہ - (اُب۔ ریش۔ می۔ مہ) [ف۔ صفت] ریشم کی چیز۔

اُبڑی - (اُب۔ ری) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) چھالک بصریحی - پانی پینے کا ٹوا۔ پانی کا ایک ٹوٹی اور دستہ دار برتن (۲) چھلکی تلوار - جمع : ابا ریق۔

اُبسنہ - (اُب۔ س۔ نا) [ہ۔ موص] گنا مرٹا - کھانے کی چیزیں مرٹنے کے آثار پیدا ہوجانا۔ واسقے میں فرق آجانا۔

اُبصار - (اُب۔ ص۔ ص) [ع۔ ۱۔ مذ] بصر کی صبح - آنکھیں - نظریں

اُبصار - (اُب۔ ص۔ ص) [ع۔ ۱۔ مذ] بصریت - دانائی۔

اُبطال - (اُب۔ ط۔ ط) [ع۔ ۱۔ مذ] بطل کی جمع - بہادر لوگ - بڑے انسان - سیر۔

اُببال - (اُب۔ ط۔ ط) [ع۔ ۱۔ مذ] باطل کرنا - جھوٹا کرنا - غلط قرار دینا۔

اُبغاو - (اُب۔ ع۔ ع) [ع۔ ۱۔ مذ] بعد کی جمع - دُوریاں - فاصلے کسی چیز کی پہچان یا وزن کی حد یعنی لمبائی - چوڑائی - موٹائی - گہرائی - حجم - زقبہ وغیرہ۔

اُبعا و ثلاثہ - تین بُد یعنی لمبائی و چوڑائی اور گہرائی۔

اُبکار - (اُب۔ ک۔ ک) [ع۔ ۱۔ مٹ] جمع بکر کی کنواری لڑکیاں - چھوٹے اور نادر مضامین۔

اُبکار - (اُب۔ ک۔ ک) [ع۔ ۱۔ مٹ] مہربانی عنایت - نوبہ کرم - احسان

اُبکانی - (اُب۔ ک۔ ک) [ع۔ ۱۔ مٹ] تھکی - طبیعت کا مالش کرنا۔

اُبکانی آنا - منٹی ہونا - جی مالش کرنا - تھکے آنا۔

اُبکانی گنا - بار بار تھکے آنا - منٹی ہونا۔

اُبکنا - (اُب۔ ک۔ نا) [ع۔ ۱۔ مٹ] اُبھرنا - اُبھنا - اُبڑنا - غوطہ کھا کر اُبڑنا۔

اُبل آنا - (اُب۔ ب۔ نا) [ع۔ ۱۔ مٹ] کسی سیال چیز کا جو ش کھانا - جوش مارنا۔

(۲) سو جانا - آشوب ہوجانا۔

اُبل پڑنا - (ع۔ ۱۔ مٹ) اُبھلا کھنا - خفا ہونا (۲) باہر نکل آنا (۳) بھڑک پڑنا

ظاہر ہوجانا۔

اُبلا - (اُب۔ لا) [ع۔ ۱۔ مٹ] کمزور عورت - نازک عورت - کاسنی۔

اُبلا بری - نازک اندام - خوبصورت عورت۔

اُبلا بلی - (اُب۔ لا۔ ب۔ لی) [ع۔ ۱۔ مٹ] بہت طاقتور - نہایت فوری۔

(۲) دُشمنی یا دشواہ علی عادل شاہ کا لقب۔

اُبلاغ - (اُب۔ لا۔ ع) [ع۔ ۱۔ مذ] پہنچانا - بھیجنا (۲) تبلیغ - اشاعت

اُبلا پڑنا - چلنا - (ع۔ ۱۔ مٹ) ہمت پھنپھنا ہونا (۲) کم ظرفی سے کچھ کہہ

بلیجی - اوچھے پن سے بھید نہ چھپا سکتا (۳) کبروت سے ہونا - (۴) کسی سیال شے کا اُبل جانا۔

اُبلا جانا - (اُب۔ ل۔ جانا) [ہ۔ موص] جوش کھا جانا - جھلک پڑنا۔

اُبلق - (اُب۔ ل۔ ق) [ع۔ صفت] (۱) دورنگا چنگبر - خصوصاً سیاہ و سفید۔ (۲) دورنگا گھوڑا (۳) کوڑھی۔

اُبلق آیام - اُبلق بیل و نہار - رات دن۔

اُبلق چشتم - خوبصورت آنکھوں والا۔

اُبلق روزگار - رات دن۔

اُبلقا - (اُب۔ ل۔ ق) [ع۔ ۱۔ مذ] مینا سے ملتا جلتا

ایک پرنس جس کے پر سیاہ اور پوٹا سفید ہوتا ہے۔

اُبلنا - (اُب۔ ل۔ نا) [ہ۔ موص] (۱) گھوٹنا - جوش کھانا - جوش کھا کر باہر نکل

آنا (۲) دولت یا اولاد پر مغرور ہونا - جھلک پڑنا - کناروں سے باہر

نکل جانا (۳) ظاہر ہونا عیاں ہونا (۴) کم ظرفی دکھانا (۵) غصہ میں

آنا (۶) سو جانا - چھوٹنا۔

اُبلیکہ - (اُب۔ ل۔ ک) [ع۔ صفت] نادان - بیوقوف - احمق - جمع ابلہاں

اُبلفریب (صفت) دھوکا باز - مکار - بے وقوف کو دھوکا دینے والا۔

اُبلفریبی - ابلہ طرازی - دغا - مکر - عیاری (۲) ہلکانا - سبز باغ دکھانا

(۳) بے وقوف بنانا۔

اُبلمٹی - (اُب۔ ل۔ می) [ع۔ ۱۔ مٹ] حماقت - سامانگ - بیوقوفی - احمق پن۔

اُبلمیس - (اُب۔ ل۔ میس) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) خُدا کی رحمت سے نا امید۔

(۲) شیطان (۳) حشمت - ہیلہ (۴) شر - سرکش - فساد - جھگڑا اور

اُبلمیس کا پیشاب - اُبلمیس کا جانشینان کا لفظ - بد ذات

اُبلمیسیت - (ع۔ مٹ - صفت) سرکشی - شیطنت - غنہ - انگریزی۔

اُبلم - (ع۔ ۱۔ مذ) بیٹا - فرزند - پسر - پتر - جمع : اُبلمار

اُبلمار - (ع۔ ۱۔ مذ) بھائی کا بیٹا - بھتیجا۔

اِبْنُ الْأَخْتِ - (اِب۔ ن۔ ل۔ اُخت) بہن کا بیٹا - بھانجا۔

اِبْنُ الْأَسْبَلِ - مسافر - راہی (فہرہ) جو شخص مال تو رکھتا ہو مگر اس پر بعض سبب

اِبْنُ الْأَوْتِ - زمانہ ساز - قابوچی - وہ شخص جو مقتضائے وقت کام کرنا ہو۔

اِبْنُ الْغَرَضِ - (اِب۔ ن۔ ل۔ غرض) غرض کا بندہ - مطلق۔

اِبْنُ مَریم - بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اِبْنُ بُلعم - (ع۔ کینت) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاتل۔

اِبْناع - (اِب۔ ناع) [ع۔ ۱۔ مذ] ابن کی جمع - بیٹے۔

اِبْنائے جنس - ہم جنس - ایک ہی جنس کے۔

اِبْنائے جہاں - اولادِ انسانی - اولادِ آدم جو ارضے انسان بھائی بھائی ہیں۔

اِبْنائے زمانہ - اِبْنائے وقت - زمانے کے لوگ - زمانہ ساز لوگ۔

اِبْنائے وطن - اِبل وطن - دیس کے لوگ۔

اِبْنفہ - (اِب۔ ن۔ فہ) [ع۔ مٹ] ایک مرض جس میں اغلام کرنے کی خواہش ہوتی ہے

اِبْنیت (اِب۔ نیت) [ع۔ مٹ] بیٹا ہونا - فرزند - بیٹا ہونے کی

ابھی تم (بیچتے) صاحبزادے ہو۔ (ہجاء ۵) ابھی تم نا تجربہ کار ہو۔ ابھی عقل نہیں آئی۔

ابھی چھٹی کا دودھ نہیں سوکھا۔ [لائشل] کسی کے لڑکپن۔ نادانی اور نا تجربہ کاری ظاہر کرنے پر کہتے ہیں۔ ابھی نادان نہ گئے ہو۔

ابھی دلی دُور ہے۔ [لائشل] ابھی مقصد پورا ہونا نظر نہیں آتا۔ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اس مقام پر بولتے ہیں جہاں کسی بات کو بہت زمانہ باقی ہو۔ (بیز دیکھیے ہنوز دلی دُور است)

ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے [لائشل] ابھی بچے ہونا نا تجربہ کار ہو۔ ابھی دیکھا گیا ہے۔ (ہجاء ۵) نا تجربہ کار ہیں۔ دُنیا کا تجربہ نہیں۔

ابھی سویرا ہے [مشل] ابھی کچھ حرج نہیں ہوا ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا ہے۔ ابھی سے۔ (۱) اسی وقت سے (۲) پیشتر سے قبل از وقت (۳) اس عمر میں۔

ابھی میر میں سے پُوئی بھی نہیں گئی۔ [مشل] ابھی کام شروع ہی ہو آ ہے۔ ابھی بہت غلط کام ہو رہا ہے۔ بہت کام باقی ہے۔

ابھی کچا برتن ہے۔ ابھی کچی لکڑی ہے۔ کس اور نا تجربہ کار ہے۔ ابھی تجربہ نہیں ہے۔

ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے (گیا ہے) ابھی وقت ہے۔ اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔

ابھی کچے کھڑے پانی بھرا ہے [لائشل] ابھی بہت مشکل کام باقی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے۔ تھوڑے زمانہ کا واقعہ ہے۔ تھوڑی مدت گزری۔

ابھی کیا ہے (ہجاء ۵) ابھی کیا ہو گیا ہے۔ مماثلت محرم نہیں ہو گیا۔ اگلا اس سے زیادہ ہو گا۔

ابھی کے دن ٹہرے (ہجاء ۵) ابھی وقت ہے۔ اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی مُنہ سے دودھ پھینکنا ہے۔ [لائشل] ابھی لڑکپن ہے۔

ابھی منہ کی رال نہیں چھڑی۔ ابھی نا تجربہ کاری کا عالم ہے۔

ابھی ہونٹوں کا دودھ نہیں سوکھا۔ ابھی بالکل نیچے ہو۔ نادان اور نا کچھ ہو۔

ابھیاس۔ (س۔ مذ) کام کو بار بار کرنا (۲) روحانی ریاضت (۳) عادت یا مہارت پیدا کرنا۔

ابھی دیتی۔ (اب۔ بی۔ دب۔ نی) [۵-۱-مٹ] گلی ڈنڈا کھیلنے میں جب گلی کو اچھالتے ہیں اور ڈنڈے پر روکتے ہیں تو ضرب اول کو ابھی اور دوسری کو دیتی کہتے ہیں۔

اَبے (ا۔ بے) [د] ارے۔ او۔ اپنے سے بہت چھوٹی عمر یا کم دے والے کو مخاطب کرنے کا ایک طریقہ۔

اَبے تیسے کرنا۔ بدنہیزی سے پیش آنا۔ بیوقوفی کرنا۔ بازاری بول چال۔

اَبیات۔ (ا۔ ب۔ بات) [ع۔ ف۔ ۱-مذ]۔ بیت کی جمع۔ اشعار (۲) بہت سے گھر۔

اَبیر۔ (ا۔ بیر) [۵-۱-مذ] ابرک کا برادہ جو ہولی میں خوشی کے وقت ہندو آپس میں ایک دوسرے پر چھڑکتے ہیں۔

اَبیض۔ (ا۔ ب۔ بیض) [ع۔ صف] اُجلا۔ سفید۔

امام۔ (۴) حضرت آدم۔

ابوالانبیا۔ (ا۔ ب۔ ا۔ ن۔ با) [ع۔ کنیت] حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر۔ انسان کا باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔

ابوالحسن۔ (ا۔ ب۔ ل۔ حسن) [ع۔ کنیت] حضرت علیؓ کی کنیت ابوالخیر۔ (ا۔ ب۔ ل۔ خیر) [ع۔ کنیت] مشہور فارسی شاعر ابوسعید ابوالخیر۔

ابوالقاسم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔

ابوالہول۔ ایک خیالی جانور جس کا چہرہ مثل عورت کے اور جسم شیر کی مانند ہے ابوبکرؓ مسلمانوں کے خلیفہ اول کی کنیت۔

ابوتراب۔ مٹی کا باپ۔ حضرت علیؓ کی کنیت۔

ابوجہل۔ (ع۔ کنیت) ابوجہم عمر بن ہشام مخزومی کی کنیت۔ اسلام شہمی کی پناہ مسلمانوں نے اسے ابوجہل کہا شروع کیا۔

ابوصغیفہ۔ (ع۔ کنیت) امام اعظم حضرت تقی بن ثابت علیہ الرحمۃ کی کنیت۔

ابوذر۔ (ع۔ کنیت) جناب بن محمد بن العفاری۔ مشہور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔

ابوطالب۔ (ع۔ کنیت) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنھوں نے حضورؐ کی پرورش کی حضرت علیؓ کے والد محترم۔

ابولہب۔ (ع۔ کنیت) حضورؐ کے چچا بکر اسلام کے بدترین دشمن۔

ابوعلی سینا۔ مشہور طبیب حسین بن عبداللہ کی کنیت۔ کتاب شفا کا مصنف۔

ابواب۔ (ا۔ ب۔ و۔ اب) [ع۔ ۱-مذ] (۱) باب کی جمع۔ کتاب کے حصے (۲) دروازے۔

اَبھار۔ (ا۔ بھار) [۵-۱-مذ] (۱) اونچائی جو کسی چیز کے پھولنے یا اُبھرنے سے ظاہر ہو۔ اٹھان۔ غمو (۲) ظہور (۳) بڑھنے کا عمل۔ پستان

اَبھارنا۔ (ا۔ بھارنا) [۵-۱-مص] (۱) اُکسانا۔ تحریک کرنا (۲) سہارا دینا۔ اونچائی اٹھانا۔ اونچائی کرنا (۳) بگالے جانا (۴) بہکانا۔ درغلانا (۵) نرانا۔ ڈوبنے کو سنبھالنا (۶) فروغ دینا (۷) باہر کرنا۔ اوپر لانا۔

اَبھاگ۔ (صف) بد قسمت۔ بد نصیب۔

اَبھاگن۔ بد نصیب عورت۔

اَبھام۔ (ا۔ ب۔ م) [ع۔ ۱-مذ] (۱) اگھٹھا (۲) صاف میان نہ کرنا۔ گول کرنا بات کرنا (۳) ادب میں ایک صفت کا نام

اَبھران۔ (ا۔ بھران) [ق] (۱) زبور (۲) لباس (۳) آرائش۔

اَبھرتا۔ (ا۔ بھرتا) [۵-۱-مص] (۱) اونچا ہونا۔ اوپر آنا (۲) پھوٹنا۔ پودا پھلنا (۳) جوان ہونا۔ قد نکالنا۔ بڑھنا (۴) ترنا غوط کھنا کر پھلنا (۵) چلتا بننا۔ رنوج کرنا۔ جوان ہونا (۶) ظاہر ہونا (۷) اُگ ہونا۔ جیدا ہونا۔

اَبھروان۔ (۵-۱-صف) اُبھرتا ہوا۔ اُبھرا ہوا۔

اَبھلاک۔ (ا۔ بھلاک) [ق۔ ۱-مذ] خواہش۔ آرزو (۲) فرض (۳) لذت۔ مزا

اَبھمان۔ (ا۔ بھمان) [۵-۱-مذ] غرور۔ گھمنڈ۔ تکبر (۲) نموداری۔

اَبھی۔ (ا۔ بھئی) [۵-۱-مذ] (۱) فی الحال (۲) فوراً۔ اس وقت (۳) تھوڑی دیر پہلے (۴) فوراً دیر بعد (۵) اتنی جلدی (۶) ہنوز۔ اب تک۔

اَبھی ابھی۔ اسی وقت۔ فوراً۔ اسی دم (۲) دراز دیر پہلے۔





شخص کی قسمت الگ الگ ہے۔

اپنا اپنا ہی ہے پر اپنا پر اپنا ہی ہے۔ [مثلاً] عزیز عزیز ہی ہے۔ غیر  
میر ہے۔ (۲) اپنی چیز پر پورا اختیار ہوتا ہے چیز کی چیز پر کیا اختیار۔  
اپنا آٹو سیدھا کرنا۔ اپنا مطلب نکالنا۔ اپنا کام بنا کر اپنا کام نکالنا  
اپنا آٹو کہیں نہیں گیا۔ ہمارا مطلب ہر حال میں نکل ہی آئے گا۔ (۲) کوئی نفع اٹھانے  
یا نقصان ہم اپنے شکے سیدھے کو ہی لیں گے (۳) ہمارا کام تو ہو کر ہے گا۔  
اپنا بالالو اور پراپا ڈھینگر۔ اپنا پوت پراپا ڈھینگر۔ ایک ہی بات پر اپنے بچے  
کو نادان کہہ کر پھوڑ دینا مگر دوسرے کے بچے کو برا بھلا کہنا۔

اپنا بس چلنا۔ اپنا قابو ہونا۔

اپنا بنا لینا۔ موافق کر لینا۔ اپنے ساتھ ملا لینا۔ دوست بنا لینا۔  
اپنا بنا کر لینا۔ (محاورہ) طرف دار بنانا۔ دوست بنانا (۲) رشتہ جوڑنا کسی  
چیز کو اپنی ملکیت قرار دینا (۳) فریضہ بنانا۔ دلدادہ بنانا۔

اپنا بوجھ ڈالنا۔ اپنا بار دوسرے کے سر ڈالنا۔

اپنا پھلنا چاہنا۔ اپنے ہی فائدے کا خواہاں ہونا۔

اپنا بھی خدایا ہے۔ جب کسی طرف سے مایوسی ہو تو کہتے ہیں یعنی اگر ظالم نے  
یا تم نے مدد نہیں کی تو خیر خدا ہمارا کام کر دے گا۔

اپنا (بیکانہ) پر اپنا۔ بیکانہ دیکھنا۔ عزیز وغیرہ۔

اپنا پین۔ اپنا پیت۔ بیکانہ۔

اپنا پیٹ تو کتا بھی یا لکڑی ہے۔ [مثلاً] اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو اپنی  
تن پروری کرنے اور دوسروں کی خیر نہ لے۔

اپنا پیٹ کاٹ کر قرض آنا۔ [مثلاً] بھوکا رہ کر اور پیسہ بچا کر  
قرض ادا کرنا۔

اپنا پیٹ مارنا۔ (محاورہ) اپنی خواہش کو مٹانا۔ اپنے نفس کو با دینا۔  
(۲) ایشا کرنا۔

اپنا پیسہ (سونا) کھوٹا رکھنے والے کا کیا دوش۔ [مثلاً] اپنی ہی اولاد  
لاق نہیں تو دوسرے کی کیا خطا۔

اپنا تن پہلے دھاگوں دوسرے کو نہ لگا چھپے کہنا۔ [مثلاً] اپنی برائیاں  
تو پہلے دور کر لو پھر دوسرے کو برا کہنا۔

اپنا تو شہ پہلے بھروسہ۔ [مثلاً] اپنا بند و بست خود کرنا۔ دوسرے کے  
بھروسے پر نہ رہنا چاہیے۔

اپنا ٹھکانہ (کرنا) کر لینا۔ اپنے گزارے کی تدبیر کرنا۔ اپنے لئے کوئی  
جگہ تلاش کرنا۔ اپنے رہنے کی جگہ پیدا کرنا۔

اپنا ٹھیک نہیں اور کا نیک نہیں۔ [مثلاً] بیوقوف اور نا سچ شخص کے  
متعلق کہتے ہیں کہ نہ اپنی عقل ہے نہ دوسرے کی رائے پسند آتی ہے۔

اپنا ٹینٹ نہ ہمارے اور کی بھلی دیکھے۔ [مثلاً] اپنے بڑے بڑے بیوقوفوں  
کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کی ذرا سی خطا کو بھی معاف نہیں کرتے۔

اپنا (اپنے) جو ہر دکھانا۔ (محاورہ) (۱) اپنا ہنر ظاہر کرنا (۲) اپنے  
عیبوں کو ظاہر کرنا۔

اپنا سچی۔ اپنی طبیعت یا خواہش۔

اپنا حساب کر لو۔ (محاورہ) اپنا معاملہ صاف کر لو۔ اپنا لین دین چکا لو۔

(۲) نوکری چھوڑ دو۔

اپنا خون پینلہ (محاورہ) رنج و غم سہنا۔ بیچ ڈنا بکھانا۔ ناگوار بات چیر  
کھانا۔ تاؤ کھانا مگر پچھ نہ کہنا۔

اپنا دل۔ اپنی خواہش یا نیت یا مرضی۔

اپنا دیکھے پر اپنا کیجئے۔ [مثلاً] قرض دے کر شرمی مول لو۔

اپنا رکھ پر اپنا چھو۔ [مثلاً] اپنی چیز حفاظت سے رکھنا اور دوسرے کی ہڑپ کر جانا۔  
اپنا راستہ لو۔ اپنے کام سے لگو۔ جاؤ چلے جاؤ۔

اپنا (ہی) رونا رونا۔ اپنا دکھ درد بیان کرنا۔ دل کا رنج ظاہر کرنا۔ اپنا  
ہی درد بیان کرتے رہنا۔

اپنا سا۔ مقابل۔ خود جیسا۔

اپنا سا جانا ہے۔ دوسرے کو اپنا جیسا خیال کرنا۔

اپنا سا حال دوسروں کا بھی جانو۔ (مقولہ) دوسروں کی تکلیف کا بھی خیال رکھو۔

اپنا سامنے لے کر لے کے رہ جانا۔ (محاورہ) نحیف و نادام ہونا۔

سوال پورا نہ ہونے کی شرم سے چپ رہ جانا۔ شرمندگی اٹھانا۔

باہت کا جواب نہ بن کر پانا۔

اپنا سیتا دیکھ کے۔ (محاورہ) اپنی فکر کر کے۔ اپنا انتظام کر کے۔

اپنا سیتا کرنا۔ اپنے لیے کوئی ٹکریا تدبیر کرنا۔ اپنے لیے آرام کی صورت پیدا کرنا۔

اپنا سر۔ (مدوزہ) کچھ نہیں۔ خاک نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔

اپنا سر بیٹو۔ (محاورہ) اپنے کیے کا عیازہ بھگتو۔ اپنی کوئی پریشیاں ہو۔

اپنا سر کھاؤ۔ (محاورہ) جو مٹی ہو کر ہو۔ بات نہیں سنتے تو تم جانو اور تمہارا کام۔

اپنا سلام ہے۔ (محاورہ) ہم تو وہ بھگتے ہیں جلتے ہیں۔ پرہیز کرتے ہیں معاف رکھو۔

اپنا سمجھو۔ (محاورہ) تکلف نہ کرو۔ معاف کر دو۔

اپنا سوپ مجھے دے تو ہاتھوں پھوڑو۔ [مثلاً] اپنا چھاج مجھے دے

دے اور تو اپنا غلہ اپنے ہاتھوں سے پھٹک لے۔ اپنی چیز دے کر

خود محتاج ہونا۔

اپنا سوکھنا کرنا۔ (محاورہ) اپنی فکر کرنا۔ عاقبت اندیشی کرنا۔

اپنا قندہ نشجرہ رکھ چھوڑ بیٹے۔ اپنا قندہ نشجرہ سنبھالو۔ اپنا کام خود سنبھالو۔

اب آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔

اپنا کام کرو۔ (محاورہ) اپنے کام میں لگو۔ ہٹو۔ سرکو۔ پرے ہو۔

اپنا کتا باندھو ہم بھیک سے باز آئے۔ [مثلاً] ہم فائدے سے

در گزارے۔ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ نفع نہ پہنچاؤ تو دکھ بھی نہ دو۔

اپنا کر لینا۔ (۱) قبضہ میں لے آنا۔ مال مال لینا (۲) دوست بنا لینا۔ موافق بنا لینا۔

اپنا کرنا اپنا بھرننا۔ (محاورہ) انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اس کی سزا یا جسنا

پاتا ہے۔

اپنا کہا کرنا۔ (محاورہ) اپنی رائے پر چلنا۔ کسی کی سنانا۔

اپنا کھانا اپنا بھننا۔ (محاورہ) کسی کا دست مگر نہ ہونا۔

اپنا کیا آئے آیا۔ [مثلاً] بڑے فعل کا عیازہ بھگتو پڑا۔

اپنا کیا پانا۔ (محاورہ) اپنے فعل کی سزا بھگتو۔ کیسے کردار کو پہنچنا۔

اپنا کوشت کھانا۔ (محاورہ) مجبوری کے عالم میں غصہ آنا۔

اپنا کھنا کھو لیے آپ ہی لاجوں مرے۔ (کماوت) اپنا عیب ظاہر کیجئے

اور آپ ہی شرمندگی اٹھائیے۔

اپنا گھر بھڑا۔ (محاورہ) کسی کی دولت کو دستہ رفتہ اپنے قبضہ میں لانا۔

اپنا گھر جانتا (محاورہ) مغائرت کو دودھ کر کے اپنا گھر بھڑا۔ غیر متوجہ۔

اپنا گھر بگ بھر، پر اپنا گھر تھوک کا ڈر۔ [مثلاً] اپنے گھر میں آدمی کو جو اختیار

اور آزادی ہوتی ہے وہ غیر کے گھر میں کہاں۔

اپنا گھر دوسرے سے سوجھتا ہے۔ [مثلاً] اپنے مطلب پر سب سے پہلے نظر

جاتی ہے۔

اپنا گھر دیکھنا۔ (محاورہ) اپنے فائدے پر نظر رکھنا۔

اپنا لال گنوا کے در در مانگے بھیگ۔ [مثلاً] اپنی دولت لٹا کر دوسروں

کا محتاج ہونا۔

اپنا لہو پینا۔ (محاورہ) رنج و غم سہنا۔ بیچ و ذاب کھانا۔

اپنا لینا کیا پر اپنا دینا کیا۔ [مثلاً] نہ اپنا قرض لینا نہ دوسرے کا قرض دینا۔

اپنا مارے گا تو بھر چھاؤں میں بٹھائے گا۔ [مثلاً] عزیز لاکھ دکھ سے پھر بھی

اُس کو رحم آ ہی جاتا ہے۔

اپنا مال اپنی پھیلتی تے۔ اپنی چیز کی خود ہی پوری پوری حفاظت ہو سکتی

ہے۔ مال عرب پیش عرب۔

اپنا مال جائے آپ ہی چور کھائے۔ [مثلاً] نقصان بھی اپنا ہو اور

الزام بھی اپنے پر آئے۔

اپنا من جگت کی ہنسی۔ [مثلاً] خود برباد ہونا اور دوسروں کو اپنے آپ پر

ہنسانا۔

اپنا مطلب نکالنا۔ اپنی غرض حاصل کرنا۔ اپنا کام بنانا۔

اپنا مکان کوٹ سمان۔ [مثلاً] اپنا گھر تلے کی طرح ہزتا ہے۔ شخص

اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔

اپنا منہ بنواؤ۔ بنو اپنے۔ قابلیت پیدا کرو۔ مرتبہ حاصل کرو۔

اپنا منہ دھو رکھو۔ تم اس چیز کے لائق نہیں۔ یہ کام تمہارے بس کا نہیں

اس خیال سے درگزر نہ کرو۔ ہر کام تم سے نہ ہوگا۔

اپنا منہ لے کے رہ جانا (محاورہ) دیکھئے اپنا سامنے لے کے رہ جانا شرمندہ ہونا

اپنا نام بدل ڈالیں۔ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم اپنا نام بدل

ڈالیں۔ شرط اور دعویٰ کے موقع پر کہتے ہیں۔

اپنا منیگر پر اپنا ڈھینگر۔ [مثلاً] دیکھیے اپنا بالا اور کا ڈھینگر۔

اپنا ہاتھ اپنے سر پر۔ کوئی والی وارث نہیں جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا ہے۔

اپنا ہاتھ کشا ڈالوں۔ کہتا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا۔

اپنا رارا اور مرنی کا مارا کون کہتا ہے۔ [مثلاً] جواری اپنا نقصان اور جوڑ

سے مار کھائے والا کسی کو نہیں بتاتا۔ اپنی خواری اور ذلت پر پردہ ڈالتا ہے

اپنا ہونا۔ دوست ہونا۔ یگانہ بننا۔

اپنا ٹا۔ (آپ۔ ٹانا) [ہ۔ رص] اپنا کرنا۔ اپنی ملکیت بنانا۔ اپنی طرف کرنا۔

اپنا ٹیٹ۔ (آپ۔ ٹا۔ ر۔ بیت) [ہ۔ صفت] (۱) بچا بگت۔ عزیز داری۔

قرابت (۲) و عدم معاملہ (۳) کتبہ۔

اپنے سے ساٹس (Appendicitis) [ہنگ۔ ۱۔ نڈا] دیکھیے

انتہاب زائدہ۔

آپنڈیکس۔ (آپ۔ ن۔ شد) [ہ۔ ۱۔ مٹ] ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں جن میں

ویدوں کا انتخاب درج ہے۔

انہوں پر لکھا۔ (محاورہ) ہرگز نہ ماننا۔ ضد چڑھ گئی ہے۔

آپنی۔ (آپ۔ نی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] اپنا کی تائید۔ ذاتی۔

آپنی آبرو اپنے ہاتھ۔ [مثلاً] انسان وہ کام ہی نہ کرے جس سے عزت

میں فرق آئے۔

آپنی آگ میں آپ جلنا۔ رشک و حسد اور غصے سے آپ ہی بھینکنا۔

کسی کو خوشحال دیکھ کر بوجھ ہونا۔

آپنی آنکھ میں۔ اپنی نظر میں۔

آپنی آنکھ کا شہ تر نظر نہیں آتا دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔

[مثلاً] اپنے بڑے عیبوں پر نظر نہیں جاتی اور دوسرے کا معمولی

نقص و عیب نظر میں آ جاتا ہے۔

آپنی اپنی بولیاں بولنا۔ ہر ایک کا الگ رائے ظاہر کرنا۔ اپنے اپنے

مطلب کی کہنا۔

آپنی اپنی بڑنا۔ نفسی نفسی ہونا۔ اپنا ہی اپنا خیال ہونا۔ آبادھانی ہونا۔

آپنی اپنی ذلتی اپنا اپنا راگ۔ [مثلاً] ہر شخص الگ الگ راہ پر ہے۔

آپنی اپنی سب بھگت میں گئے جس پر جیسی بڑے کی وہ نباہ لے گا۔

آپنی اپنی (سمجھ ہے) طبیعت ہے۔ اپنی اپنی عقل ہے۔ جس کی سمجھ میں

ہے وہ بھی آ جاتے اپنی اپنی مرضی ہے۔

آپنی اپنی قسمت۔ اپنا اپنا نصیب۔

آپنی اپنی کھال میں مسرت ہونا۔ [مثلاً] دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر

اپنا ٹھانڈا تم کھنا۔ سبے علیحدہ رہنا جماعت سے تفران کرنا۔ خود رائی۔

آپنی اپنی (کہنا) گا۔ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ اپنا مطلب ظاہر کرنا۔

آپنی اپنی گور اپنی اپنی منزل۔ [مثلاً] کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہر ایک

کے بہک و بد اعمال اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔

آپنی اڑھانی اڑھنٹ کی مسجد الگ بنانا۔ [مثلاً] دوسروں سے الگ تھلگ

ہو کر اپنا ٹھانڈا تم کھنا۔ سبے علیحدہ رہنا۔ جماعت سے تفران کرنا۔ خود رائی۔

آپنی اصل (اصالت) پر آ جانا۔ اپنی ذات کے موافق کوئی کام کرنا۔ بیچ

قوم کا کوئی بڑا کام کرنا۔

آپنی اور تیری جان ایک کر دوں گا۔ نہایت غصہ میں کہنا کہ مجھے مار ڈالو گا

اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لوں گا۔

آپنی او لاد سے پائے۔ (حو۔ محاورہ) بددعا۔ کوسنا۔ ظالم کو اس کے

ظلم کا بدلہ اس کا اولاد سے لے۔

آپنی اٹری ڈیکھو۔ (محاورہ) نظر نہ لگاؤ۔ ٹوک نہیں جب کوئی بے سامتہ کسی

کے حسن کی تعریف کرے تو اس خیال سے کہ نظر لگ نہ جائے۔ عجز میں

یہ فقرہ کہتی ہیں۔

آپنی ایسی تسی کر لینا۔ (محاورہ) اپنا ہی کچھ بگاڑ لینا۔ کسی کو نقصان پہنچانے

کے بدلے میں اپنا نقصان کر لینا۔

آپنی ایسی تسی میں جلنے۔ اپنا سر کھانے۔ بھاڑ میں جلنے۔ کچھ بھی ہو

ہمیں کیا غرض۔

اپنی چھابھ کو کوئی کھٹا نہیں کتا۔ [مثلاً] اپنی چیز کو سب اچھا بتاتے ہیں۔  
 اپنے کام میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔  
 اپنی خبر لینا۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا۔ اپنے حال کو دیکھنا۔  
 اپنی خبر نہیں۔ بالکل بے خود ہیں۔  
 اپنی خوشی کا۔ خود رائے۔ جنتی۔  
 اپنی دفعہ۔ اپنا گھر آنے پر۔ اپنی بار۔  
 اپنی ڈاڑھی کٹنے کے پیشاب سے منڈوا ڈالیں۔ [مثلاً] کام نہ ہوتو جو چاہے کر لینا۔ شرط اور دعویٰ کے طور پر کہتے ہیں۔  
 اپنی ڈیڑھا اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔ [مثلاً] سب سے الگ ہو کر رہنا کسی کی رائے نہ ماننا۔ اپنی ہی رائے پر قائم رہنا۔  
 اپنی ذات سے اچھے ہیں۔ (محاورہ) اپنے دم لے اچھے ہیں۔  
 اپنی مادھا کو یاد کرو۔ (محاورہ) اپنا کام کرو۔ جاؤ ہم سے تم سے کچھ واسطہ نہیں۔ اپنا راستہ بیکرو۔  
 اپنی ران کھولنا۔ (محاورہ) اپنا پوشیدہ عیب ظاہر کرنا۔  
 اپنی راہ (دیکھنا) لگنا۔ اپنی راہ لینا۔ اپنے کام میں مصروف رہنا۔  
 اپنی راہ (لو) لے۔ اپنا کام کرو۔ دوسرے کے معاملے میں دخل نہ دو۔  
 اپنی سُدھ نہ رہنا۔ (محاورہ) بے خبری کے عالم میں رہنا۔  
 اپنی سی۔ مقدمہ۔ تاجروں کا مکان۔ اپنی مرضی کے مطابق۔  
 اپنی سی بہت (کرنی) کی۔ تا بمقدور کوشش کرنی۔ اپنی طرف سے پوری سعی کرنی۔  
 اپنی سی کر جینا۔ اپنی سی کر دیکھنا۔ اپنی سی کر گزرنے۔ اپنا کام کر جانا۔ جیسی ہو سکے بسر کر جانا۔ سختی المقدور کوشش کرنا۔  
 اپنی سی نہا ہنا۔ اپنے امکان بھر و صنعاداری کا برتاؤ کرنا۔  
 اپنی طرف خیال کرنا۔ دھیان کرنا۔ دیکھنا۔ اپنے مرتبے عزت اور بڑائی کا لحاظ رکھنا۔  
 اپنی طرف سے۔ آپ ہی۔ اپنے ذہن سے۔ اپنی طبیعت سے۔  
 اپنی طرف کھینچنا۔ اپنی طرف مائل کرنا۔  
 اپنی عقل اور پرانی دولت بہت بڑی معلوم ہوتی ہے [مثلاً] شخص اپنی عقل اور دوسرے کی دولت کو بہت زیادہ خیال کرتا ہے۔  
 اپنی عمر سے مرنا۔ (محاورہ) عمر طبع کو پہنچ کر مرنا۔  
 اپنی عرض کا آشنا ہونا۔ (محاورہ) خود غرض ہونا۔ اپنا مطلب نکالنے تک یاد ہونا۔  
 اپنی غرض کو۔ (محاورہ) اپنے مطلب کی خاطر۔  
 اپنی غرض کو گدھے چراتے ہیں۔ [مثلاً] غرض مند کو ذیل سے ذلیل کام بھی کرنا پڑتا ہے۔  
 اپنی غرض کو گدھے کو بھی باب بناتے ہیں۔ [مثلاً] غرض مند آدمی کو ذیل سے ذیل انسان کی تہی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔  
 اپنی قدر آپ ہی نہ جانی۔ (۱) خود ہی اپنے آپ کو ذیل کر لیا (۲) اپنی حیثیت کا خیال نہ کیا۔  
 اپنی قسمت کا لے اترنا۔ اپنی روزی اپنے ساتھ لانا۔

اپنی بات (عزت) اپنے ہاتھ [مثلاً] اپنا ذوق اپنے ہاتھ میں ہے۔  
 اپنی بات اپنے ہاتھوں کھونا۔ (محاورہ) خود کوئی ایسا فعل کرنا جس سے اپنی عزت اور توفیق میں فرق آجائے۔  
 اپنی بات پر (آجانا) آنا۔ اپنے کے پر اڑ جانا۔ ضد کرنا۔  
 اپنی بات کا ایک ہے۔ پکتا ہے۔ پورا ہے۔ (محاورہ) بات کا پکا ہے۔  
 راجح القول ہے۔ عود کا بنا ہونے والا ہے۔  
 اپنی باقی نہ چھوڑنا۔ اپنے ہنٹھکنڈے نہ چھوڑنا۔ [مثلاً] اپنی حرکت سے باز آنا۔  
 اپنی بساط کو دیکھو۔ (محاورہ) اپنی حیثیت دیکھو۔ اس قابلیت پر یہ دعویٰ کرنا درست نہیں۔  
 اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرنا۔ (محاورہ) اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنا۔  
 اپنی بکنا اور کسی کی نہ سمنا۔ (محاورہ) اپنی بات کے جانا اور دوسرے کی نہ سننا۔  
 اپنی بلا اور کے سردھرننا۔ اپنی مصیبت دوسرے کے سر ڈالنا۔  
 اپنی بلا سے۔ ہم کو کچھ پرواہ نہیں۔  
 اپنی بھوک کھانا اپنی بیند سونا۔ [مثلاً] آزادی سے زندگی بسر کرنا۔ کسی کا میٹھ نہ ہونا۔  
 اپنی بڑی ہے۔ (محاورہ) اپنی ہی فکر ہے۔  
 اپنی بڑی اپنے ہاتھ ہے۔ [مثلاً] اپنی عزت لینے ہاتھ میں ہوتی ہے۔  
 اپنی پیٹھ نہیں دکھائی دیتی۔ [مثلاً] اپنا عیب لینے آپ کو نظر نہیں آتا۔  
 اپنی بیڑ پرانی باتیں۔ [مثلاً] اپنی مصیبت تو مصیبت ہے دوسرے کی مصیبت نہیں۔  
 اپنی تقدیر کو رونا۔ اپنے قسمت کی شکایت کرنا۔  
 اپنی ٹانگ (ران) کھولے آپ ہی لاجوں مرے۔ [مثلاً] اپنی بڑائی یا تکلیف بیان کرنے سے اپنی ہی بے عزتی ہوتی ہے (بزرگیے اپنا کھٹا کھولنے) اپنی مٹی لگائے جانا۔ اپنے ہی مطلب کی کے جانا۔  
 اپنی جان پر کھیلنا۔ (محاورہ) جان جو کھولن کا کام کرنا۔ جان دینے کو تیار رہنا۔  
 اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اپنی جان بچانے کی سب کوشش کرنے ہیں۔ خود کے کام سے ہر ایک جان چراتا ہے۔  
 اپنی جان کو رونا۔ (محاورہ) شکوے، شکایتیں کرنا۔  
 اپنی جگہ۔ اپنے عوض۔ اپنے برے ہیں۔  
 اپنی جمانا۔ (محاورہ) اپنا اثر بٹھانے کی کوشش کرنا۔  
 اپنی جوانی سے پائے۔ (بدوعل) جوانی میں مرجائے۔  
 اپنی چال سے نہ چوگنا۔ اپنے کڑوت سے باز نہ آنا۔  
 اپنی چلم بھرنے کو میرا جھونٹا جلاتے ہو۔ [مثلاً] اپنے تھوڑے سے ناندے کے لئے بھر غریب کا اتنا بڑا نقصان کتنے ہیں۔  
 اپنی چھاتی پر ہاتھ دھر کے دیکھو۔ اپنا سال دوسروں کو بھی جاؤ دوسرے کے دکھ کو بھی دکھ گھو۔ انصاف کرو۔

تو برائی نکالنے والے بریکیا الزام۔  
اپنے دل پر ہاتھ (دھرو) دھڑکھجھو۔ اپنی حالت کا اندازہ کرو۔ پھر کسی سے کچھ کہنا۔

اپنے دل کے (بادشا) مختار ہیں۔ جو جہاں سوکریں کسی کے پابند نہیں۔  
اپنے دم سے اچھے ہیں۔ اپنی ذات سے بھلے ہیں خود اچھے ہیں۔  
اپنے دنوں کو پورا کرنا۔ تنگی ترستی سے بسر کرنا۔ سوت کا انتہا کرنا۔  
اپنے دنوں کو زودنا۔ (۱) اپنی قسمت اور مصیبت پر اسفوس کرنا۔ (۲) اپنی بد نصیبی کا بیان کرنا۔

اپنے ذہنی کو کون کھٹا کہتا ہے۔ [مثل] اپنی چیز کو کوئی بھی بُرا نہیں بناتا۔  
اپنے ڈھائی جانول الگ گھانا یا ڈھائی چاولوں کی گھٹیڑی الگ بیکانا۔  
سب کی رائے سے الگ رائے رکھنا۔ کسی کے کئے پر عمل نہ کرنا۔ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔

اپنے ڈھب کا۔ (محاورہ) اپنے رنگ کا، اپنی روش کا۔ اپنے مطلب کے موافق۔  
اپنے رنگ میں رنگنا۔ اپنے جیسا کر لینا۔ اپنا ہم مشرب بنانا۔  
اپنے زور میں آپ آ رہنا۔ (محاورہ) ایسی بے موقع زور آزمائی کرنا کہ آدمی خود ہی گر پڑے (۲) کوئی ایسا کام کرنا جو نقصان پہنچائے۔  
اپنے ساتھ لیٹنا۔ (محاورہ) اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرنا۔  
اپنے ساتھ لے ڈھبنا۔ (محاورہ) اپنے ساتھ تباہی میں ڈالنا۔ اپنے ساتھ دوسرے کو نقصان پہنچانا۔

اپنے سائے سے وحشت کرنا۔ (محاورہ) حد سے زیادہ وہی ہونا۔  
اپنے سائے سے وحشت ہونا۔ (محاورہ) اپنے آپ سے بھی خوف کے مارے گھیر لے لگن۔ بہت زیادہ وہی ہونا۔

اپنے سایہ سے بچنا۔ (محاورہ) ملنے سے بچ کر ہونا۔ دوسروں سے بہت بدگنا۔  
بے مدد احتیاط کرنا۔

اپنے سر آفت (بلا) لینا۔ اپنے سر مصیبت لینا۔ اپنے اوپر تکلیف گوارا کرنا  
کوئی مشکل کام کو اپنے سر لینا۔

اپنے سر اوڑھ لینا۔ (محاورہ) بُرائی یا فصور کو اپنے ذمہ لینا۔

اپنے سر پر کھینا۔ (محاورہ) ہر قسم کی تکلیف کھینا۔ جان بھینسی پر رکھنا۔

اپنے سر (سے) لینا۔ (محاورہ) اپنے ذمے لینا۔

اپنے سے بہتر خُدا۔ [مثل] اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو اپنے برابر کسی کو نہ سمجھے۔

اپنے فرض سے ادا ہونا۔ (محاورہ) جو بات اپنے ذمے واجب ہوا ہے پورا کرنا۔ بیٹی کی شادی سے فارغ ہونا۔

اپنے کام سے کام۔ (محاورہ) اپنے مطلب سے مطلب۔ اپنی غرض سے غرض ہے۔  
اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ (محاورہ) اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔  
کسی طرف توجہ نہیں ہوتے۔ اپنے مطلب سے مطلب رکھتے ہیں۔

اپنے کام کا نہیں۔ (محاورہ) ہمارے مطلب کا نہیں۔

اپنے کو۔ (محاورہ) اپنی ذات کو، اپنے نہیں

اپنے کو اپنے کا یا س ہونا۔ (محاورہ) دوستوں اور عزیزوں کو ایک دوسرے کا خیال ہونا۔

اپنے اُپرے لینا۔ اپنے اُپر اوڑھ لینا۔ کسی کی بُرائی یا فصور کو اپنے ذمے لینا۔

اپنے بچھڑے کے دانت سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ [مثل] والدین یا عزیز اپنی اولاد یا اپنے عزیز کی عمر اور اخلاق و عادات کو خوب جانتے ہیں۔  
اپنے بچے کو ایسا ماروں کہ پڑوسن کی چھاتی پھٹے۔ [مثل] کسی کے دکھانے کو اپنا نقصان کرنا۔

اپنے بس۔ اپنے اختیار۔

اپنے بھاویں۔ اپنے نزدیک۔ اپنے حسابوں۔

اپنے بیروں کو کبھرا کھٹے نہیں بنانا۔ [مثل] اپنی چیز کو کوئی خراب نہیں کرتا۔

اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا۔ کسی امداد کے بغیر اپنا کام خود چلانا خود کفیل ہونا۔

اپنے پاؤں چلانا۔ اپنے پاؤں سے چلنا۔ بغیر ہمارے کے بدل چلنا۔

اپنے پاؤں میں آب کھٹاڑی مارنا۔ [مثل] اپنا بُرا آپ کرنا۔ خود ہی اپنا نقصان کر لینا۔

اپنے پر۔ اپنی ذات پر۔

اپنے پرانے کی کھڑکیں کھانا۔ عزیزوں اور غیروں سے ڈکھا اٹھانا۔

بچاؤں اور بیچاؤں میں ذلیل ہونا۔

اپنے پرانے کی سمجھ۔ بگانے بگانے کی بھوک۔

اپنے پُرت کھوارے پھرے۔ پُرت دس کے پھرے۔ [مثل] اپنے کھواروں کی تو نکر نہیں۔ پُرتوں کے بچوں کی شادی کی نکر ہے (۲) عزیز محروم وہیں اور دوسرے خانوے آٹھا ہیں۔

اپنے بریکو بان۔ واسطہ لانے کی جگہ کہتے ہیں۔ تجھے اپنے مرشد یا بڑے کی

اپنے بنگ رکھنا۔ (محاورہ) راز رکھنا۔ پردہ فاش نہ کرنا۔ کسی سے نہ کہنا۔

اپنے تینیں۔ آپ کو۔ اپنی ذات کو۔ اپنے کو۔

اپنے تینیں لیے دیتے رہنا۔ خود داری کا لحاظ رکھنا۔ منانت سے کام لینا۔

اپنے جانے سے باہر ہونا۔ پھولانہ سمانا۔ نہایت خوش ہونا۔ خوشی یا فحشے میں قابو سے باہر ہونا۔ آپے میں نہ رہنا۔

اپنے جلمے سے (باہر) نکل جانا۔ بے خود ہوجانا۔

اپنے جھو بیڑے کی جبر مانگو۔ اپنے قرح کی جبر مانگو۔ [مثل] تعین دوسروں کی کیا پڑی ہے۔ اپنی بہتری کی کو شمش کر دو۔

اپنے چلتے۔ مخدہ رجر۔ حتی الوسع۔

اپنے حال پر رہنا۔ پتھر سابق رہنا۔ اپنی حالت تبدیل نہ کرنا۔

اپنے حال میں مست ہیں۔ (محاورہ) جس طرح بھی گزر رہی ہے اس میں خوش ہیں

اپنے حال میں نہ رہنا۔ (محاورہ) اپنی حیثیت میں نہ رہنا۔ بے خود ہوجانا۔

اپنے حساب (حسابوں) اپنی دانست میں۔ اپنے نزدیک۔

اپنے حق میں کانٹے لونا۔ اپنے حق میں نہ کرنا۔ اپنے لیے بُرائی کرنا مدد کام کرنا جس سے خود کو نقصان پہنچے۔

اپنے خدا کو مان۔ خدا کا خیال کر کے بات کر۔ خدا کا واسطہ دینے کو کہتے ہیں۔

اپنے دام کھوٹے پر کھنے والے کا کیا دوس۔ [مثل] اپنی چیز میں بُرائی ہو

اپنی قسمت (تقدیر) کو رونا۔ (معاورہ) اپنی بد نصیبی کی شکایت کرنا۔  
 بے بسی کی حالت میں بسر کرنا۔  
 اپنی کر کے نہ رکھنا۔ (۱) حفاظت سے نہ رکھنا (۲) عورت کو اپنا موافق نہ لینا (۳) احتیاط سے نہ برتنا۔  
 اپنی کرنی۔ اپنی حرکت۔ اپنی مرضی کا کام۔ اپنے کرتوت۔  
 اپنی کرنی اپنی بھرنی۔ [مثلاً] جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔  
 اپنی کرنی پارا زنی۔ [مثلاً] اپنے ہی اعمال اپنے کام آتے ہیں۔ اپنی ہی محنت سے پورا پڑتا ہے۔  
 اپنی کرنی پروان کیا ہندو کیا مسلمان۔ [اپنے اعمال اپنے کام آتے ہیں گے چلے کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو۔  
 اپنی کرنی کرنا۔ اپنی ضد پر اڑا رہنا۔ جو ٹھان لینا وہی کر گزرنے۔  
 اپنی کھلی میں مست ہونا۔ اپنی کھال میں مست ہونا۔ اپنے حال میں خوش ہونا غریب میں گمن رہنا۔  
 اپنی کھال میں مست ہونا۔ گمن ہونا۔ (معاورہ) اپنی تھوڑی حیثیت میں بھی خوش رہنا۔  
 اپنی کہنا اور کی نہ سننا۔ خود ہی کہے جانا۔ دوسرے کی بات کی طرف خیال نہ کرنا۔  
 اپنی کہو نہ اور کی سنو۔ اپنا خیال نہ ظاہر کرنا اور نہ دوسرے کی بات سننا۔  
 اپنی کسی کرنا۔ (معاورہ) اپنی ضد پر اڑے رہنا۔  
 اپنی کہی، نہ اور کی سنی۔ جٹ پٹ مر گئے کچھ کئے سننے بھی نہ پائے۔  
 اپنی پھڑھی الگ پکانا۔ (معاورہ) بھجھٹ سے بچنا۔ الگ ہو جانا۔  
 اپنی گانا۔ صرف اپنی کہنا۔ اپنی ہی بات کا گیت گانا۔  
 اپنی گانٹھ نہ ہو بیسہ تو پرایا آسرا کیسا۔ [مثلاً] وقت پر اپنی جیب کا پیسہ ہی کام آتا ہے دوسرے کی گرہ کا کام نہیں آتا۔  
 اپنی گرہ کا۔ اپنی جیب کا۔ اپنی ذات کا۔ اپنے بچے کا۔  
 اپنی گرہ کا (سے) کہا جاتا ہے۔ ہمارا کیا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے۔  
 اپنی گرہ (گانٹھ) نہ ہو بیسہ، پرایا آسرا کیسا [مثلاً] اپنے بھروسے پر ہی کام ہو سکتا ہے دوسرے کے بھروسے پر نہیں۔  
 اپنی گڑیا سوار دینا۔ اپنے مقدور کے مطابق بیٹی کا بیاہ کر دینا۔  
 اپنی گلی میں کتابھی شیر ہونا ہے۔ [مثلاً] اپنے گھر پر کچھ اور کچھ جو صلہ ہونا ہے حایت کے بھروسے پر بزدل بھی بہادر بن جاتا ہے۔  
 اپنی گول کا بار۔ اپنی غرض کا بار مطلبی دوست مطلب برست۔  
 اپنی گول کو (معاورہ) اپنے طلب کے لیے۔ اپنی غرض کے لیے۔  
 اپنی گول کا ٹھنڈا۔ چالوسی سے اپنا کام نکالنا۔  
 اپنی لینا۔ (معاورہ) تغافل برتنا۔ من مانی کرنا۔  
 اپنی مانی سوانا۔ (معاورہ) فاعل کرنا۔ اپنی بات، دوسروں سے سوانا۔  
 اپنی مراد کو پہنچ جانا۔ مقصد پورا ہو جانا۔  
 اپنی مصلحت پر شخص خوب جانتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ضرورت اور توقع کو خود ہی ٹھیک سمجھ سکتا ہے۔

اپنی موت مرنا۔ (معاورہ) طبعی موت مرنا۔  
 اپنی موچھ منڈا ڈالیں۔ اگر ایسا نہ ہو گا تو ہم اپنی موچھیں منڈا دیں گے جو چھوٹی پھوڑوں گے۔  
 اپنی ناک جوئی میں گرفتار۔ اپنے بناؤ سنگار میں مصروف۔  
 اپنی ناک کٹی نوکٹی پرائی بدشگونئی تو ہو گئی۔ [مثلاً] اپنی بدنامی اور ذلت ہو گئی دوسرے کو اترتھوڑا نقصان پہنچ جائے تو خوش ہونا۔  
 اپنی ٹپڑنا۔ (معاورہ) اپنی فکر کرنا۔ اپنی دھن میں رہنا۔  
 اپنی نظر میں۔ اپنی جانچ میں۔ اپنے اندازے میں۔  
 اپنی نوبت بجانا۔ (معاورہ) علم بسر کرنا۔ وقت گزارنا۔  
 اپنی نیند سونا اپنی بھوک کھانا۔ اپنی نیند سونا اپنی نیند اٹھنا۔ آزادی سے زندگی بسر کرنا جب بھی چاہتے سوتے رہنا۔ جب دل میں آئے کھا لینا۔ چین سے عکاشا۔ بے فکر اور بے غم رہنا۔  
 اپنی والی۔ جہاں تک ہو سکے حتی المقدور (۲) ہٹ۔ ضد۔  
 اپنی والی پرا آنا۔ (۱) کسی بات پر اڑ جانا۔ اپنی بات کی طرح کرنا (۲) اپنی قیامت اور خبیثیت کا اظہار کرنا۔  
 اپنی مانگنا۔ (معاورہ) اپنی بات ہی کہے جانا دوسرے کی نہ سننا۔  
 اپنی مانی اور دل پر (چھائی) گنوائی۔ [مثلاً] اپنی سبکی اور خفت دوسروں پر ڈال دینا۔ اپنا الزام دوسروں پر پھونچنا۔  
 اپنے۔ (آپ سے) (نے) (ہ۔ ض) (۱) عزیز۔ پگانے (۲) ملوک (۳) خاص۔ خود (۴) اپنے دم کے۔ اپنے تعلق کے۔  
 اپنے آب۔ خود ہی۔ اپنی ذات سے۔  
 اپنے آپ سے گزر جانا۔ بے حد مغرور ہونا۔ غصے یا غرور میں بدعوا اس ہو جانا۔  
 اپنے آپ کو۔ آپ کو۔ اپنی ذات سے۔  
 اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ (معاورہ) اپنے آپ کو لائق فائق سمجھنا (۲) خوش فہمی کا شکار ہونا۔ خود کو بڑا سمجھنا۔  
 اپنے آپ کو کھینچنا۔ الگ تھلگ رہنا غرور کرنا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔  
 اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، اپنی کس بات پر نازاں ہو کس بات پر مغرور ہو اپنے آپ میں آنا۔ (معاورہ) ہوش میں آنا سواس میں آنا عتدہ دور کرنا۔  
 اپنے اپنے سے گزرنے (نکل جانا) اعتدال سے بڑھنا۔ حد سے نکل جانا۔  
 اپنے سے باہر ہونا۔ اپنی ہستی کو بھول جانا۔  
 اپنے آگے پائے۔ (معاورہ) (بددعا۔ خدا رکھے۔  
 اپنے آگے کسی کو نہیں گنتے۔ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے خود پسند اور مغرور بن جانا۔  
 اپنے اپنے حال میں مست ہیں۔ کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ شخص اپنے حال میں گمن ہے۔  
 اپنے اپنے گھر سب بادشاہ ہیں۔ اپنے اپنے گھر کا شخص کو اختیار ہے اپنے اپنے گھر کے سب مالک ہیں۔ اپنے گھر جوئی بھی شیر ہے۔  
 اپنے اختیار میں نہ ہونا۔ مجبور ہونا۔ اپنے جس میں نہ ہونا۔  
 اپنے اللہ سے پائے۔ (بددعا) خدا رکھے۔ خدا اس کی سزا دے۔

اپنے منہ سے دھتانا۔ [مثل] اپنی تعریف آپ کرنا۔ اپنی امارت اور فضل و کمال کا دعویٰ کرنا۔ اپنے منہ میں مٹھو۔ اپنے منہ سے کہنا۔ (محاورہ) خود کہنا۔ نثر م کو بالائے طاق رکھ کر کہنا (۲) منہ پھوڑ کر کہنا۔

اپنے منہ میں مٹھو مٹھا [مثل] اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنی بڑائی آپ کرنا۔ اپنے فوٹی سوڑوں کے آگے نہ پھینکو۔ (محاورہ) بے قدروں کو اپنا ہنر نہ سکھاؤ۔

اپنے میں۔ اپنے بدن میں۔ اپنے جسم میں۔

اپنے میں آنا۔ (محاورہ) ہوش میں آنا۔

اپنے نام کا ایک ہی ٹکنا۔ بے مثل ہونا۔

اپنے نام کا ایک ہے۔ (محاورہ) آفت کا رکا ہے۔ بڑا جندی ہے۔

اپنے نام کا پاس ہے۔ (محاورہ) اپنی عزت کا لحاظ ہے۔

اپنے نزدیک۔ (محاورہ) اپنے حساب میں۔ اپنی دانست میں۔

اپنے نصیبوں کو رونا۔ (محاورہ) اپنی بد نصیبی کی شکایت کرنا۔ بُری تقدیر کا ٹھٹھہ کرنا۔

اپنے نین گنوا کے در در مانگے ٹھیک۔ [مثل] اپنی دولت برباد کر کے دوسروں کے آگے لاٹھ پھیلانا۔ اپنی چیز کھد کر دوسروں کے ٹھٹھے مانگتے پھرنا۔

اپنے نینا مجھے دے تو گھوم پھر کر دیکھ۔ [مثل] اپنی آنکھیں میرے حوالے کر اور دیکھیں مازنا پھر (۲) دوسرے کا نقصان کر کے اپنے فائدے چاہنا۔

اپنے وقت کا (ارسطو) انڈاطون ہے۔ بڑا دانہ ہے۔ بہت عقلمند ہے۔ اپنے وقت کا حاکم ہے۔

اپنے وقت کا لال کھڑا۔ [مثل] بے وقوف مگر عقل کا دعویٰ۔

اپنے ہاتھ کا۔ (۱) اپنے آپ کو نہنے کا (۲) اپنے ہاتھ کا لکھا، بنایا یا کیا ہوا۔

اپنے ہاتھ کٹا لینا۔ (محاورہ) قول یا تحریر دے کر بے بس ہو جانا۔

اپنے ہاتھ کرنا۔ (محاورہ) قبضے میں کرنا۔ موہ لینا۔

اپنے ہاتھ کے بل بل جالیئے جیسا من ہو دیا کھائیئے۔ [مثل] جب کوئی کام اپنے ہاتھ سے بن رہے تو اس وقت غمزہ کہتے ہیں۔

اپنے ہاتھ ہے۔ اپنے اختیار میں ہے۔ اپنے اختیار سے ہے۔

اپنے ہاتھوں۔ اپنے آپ۔ بالا راہ۔ اپنے ہی فھلوں سے۔ آپ سے۔

دیرہ ددانستہ۔

اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنا۔ کنواں کھودنا۔ کانٹے بونا۔ (محاورہ) اپنی موت کا آپ سامان کرنا۔ خود مصیبت میں پھینسا۔ خود برباد ہونا خود بلا میں گرفتار ہونا۔

اپنے ہاتھوں خراب ہونا۔ اپنی تباہی خود لانا۔

اپنے ہاتھوں کانٹے بونا۔ اپنی بربادی کے سامان خود پیدا کرنا۔

اپنے ہی ٹنگ رکھنا۔ دوسرے سے نہ کہنا۔ اپنے ہی میں رکھنا۔

اپنے کو گھاٹ لکھو لا اور کی بار کو ٹال مٹولا۔ [مثل] اپنی غرض کا بہت خیال رکھنا اور کھل مل جانا اور دوسرے کے کام کے وقت ٹال مٹول کرنا۔

اپنے کے کا ہے (محاورہ) بڑا ضدی ہے جو جی میں آتا ہے وہی کرنا ہے۔

اپنے کیے پر چھٹانا۔ (محاورہ) خود وہی کوئی فعل کر کے پشیمان ہونا۔

اپنے کیے کا علاج نہیں۔ اپنے کئے کا کیا علاج۔ (محاورہ) اپنی کی ہوئی غلطی یا بُرائی کا نتیجہ ٹھیکتا پڑتا ہے۔

اپنے کئے کو پانا۔ اپنے کئے کا مزہ چکھنا۔ (محاورہ) جیسا کرنا ویسا بھرا

جزا و سزا حسبِ اعمال ملنا۔

اپنے کئے کو رونا۔ (محاورہ) غلطی کر کے پشیمان ہونا۔

اپنے کئے کی سزا پانا۔ (محاورہ) جیسا کیا ہے اس کے بدلے میں سزا پانا۔ بد فعلی کی سزا پانا۔

اپنے کئے کی لاج ہونا۔ (محاورہ) اپنے قول کا لحاظ ہونا۔

اپنے گریبان میں منہ ڈالنا) ڈال کر دیکھنا۔ (محاورہ) اپنے عیب دیکھنا

اپنے کئے پر گردن بھی کرنا

اپنے گھرائے ہوئے کئے کو نہیں دھنکار تے۔ [مثل] مہمان کیسا ہی کم

جنتیت ہو اس سے بُرا بڑا ذہن نہیں کرنا چاہیے۔

اپنے گھر بار کا ہونا۔ (محاورہ) شادی شدہ ہونا۔ بوی بچوں والا ہونا۔

اپنے گھر پر جوئی بھی شیر ہوتی ہے۔ [مثل] اپنے مکان میں ہر ایک لیر

ہونا ہے۔ اپنے دروازے پر کتا بھی شیر ہوتا ہے۔

اپنے گھر خوش رہو۔ (محاورہ) ہم سے کچھ تعلق نہیں۔ اپنا کام کرو۔

اپنے گھر سے خوش۔ بے نیاز و خوش حال۔ یعنی۔

اپنے گھر کو آس کس کو بُرا لگتا ہے۔ (محاورہ) آنا ہوا مال سب کو اچھا معلوم

ہوتا ہے۔ اپنا نفع کسی کو بُرا معلوم نہیں ہوتا۔

اپنے گھر کی راہ لو۔ (محاورہ) چلے جاؤ۔ جاؤ۔ بے ہو جاؤ۔

اپنے لکھے کو رونا۔ (محاورہ) اپنی قسمت کا ٹھٹھہ کرنا۔

اپنے لکھے تو بیٹھ میں اور کے لکھے تو بیٹھ میں۔ [مثل] اپنی تکلیف کو

تکلیف سمجھنا مگر دوسرے کے دکھ کی پروا نہ کرنا۔

اپنے مے بن سو رنگ نہیں ملتا۔ [مثل] اپنی کوشش کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی۔

اپنے منہ کے آگے کچھ نہیں سوجھنا۔ [مثل] اپنے فائدے اپنی اہلیاتی

خواہش اور اپنی زبان کے ذائقے کے آگے ٹیک اور بھلاؤ جاؤ

نا جانز کی تیز نہیں رہتی۔

اپنے مطلب کا۔ خود غرض۔ مطلبی۔

اپنے مطلب کی کہتا۔ اپنے فائدے کی بات کہنا۔

اپنے مطلب کے ہیں۔ خود غرض ہیں۔ اپنی غرض کے آشنا ہیں۔

اپنے مطلب کے بار۔ غرض آشنا (دیکھیے اپنے گوں کے بار)

اپنے من سے جانتے پرانے من کی بات۔ [مثل] اپنی تکلیف اور دکھ

سے دوسرے کی تکلیف اور دکھ کو سمجھنا چاہئے۔

اپنے من پر پلاپٹے مارنا۔ (محاورہ) اپنے کیے پر پشیمان ہونا۔

اپنے من پر جاؤ۔ (محاورہ) اپنی طرف دیکھو۔ اپنی شرافت کا خیال کرو۔





آتا و لادھنا مَوج کی تانشت۔ [مشل] بہت ہی جلدی کرنے والا (انا ٹاڈی آدمی۔  
 آتا و لاسا باولا۔ [مشل] بے سوچے سمجھے جلدی سے کام کرنے والا دیوانہ بہنہ باز ہے  
 اُتا و لائی۔ (اُت۔ تا۔ و۔ لائی) [ہ۔ ا۔ مٹھ] (۱) جلدی بگلت۔ لگبد بازی (۲) چیخاں پن۔  
 (۳) آتا و لائی تانشت۔

اُتائی۔ (ا۔ تا۔ ائی) [ہ۔ مٹھ] بے اُستاد جس نے کسی فن یا علم کو باقاعدہ حاصل  
 نہ کیا ہو یا وہ اس کا آبائی پیشہ نہ ہو۔  
 اُتباغ۔ (ا۔ ت۔ باغ) [ع۔ ا۔ ہذ] پیروی کرنا، تقلید (۲) اطاعت فرمانبرداری۔  
 اُتچین۔ (اُت۔ چین) (۱) پیدا نش۔ نسل۔ کنبہ (۲) پیداوار۔ جومل  
 شدہ معاملہ۔

اُتخاد۔ (ا۔ ت۔ حاد) [ع۔ ا۔ ہذ] (۱) بیگانگت۔ ملاپ۔ دوستی۔ ایک۔  
 (۲) محبت۔ اخلاص (۳) میل جول (۴) باہمی موافقت  
 اُتخادی۔ (ا۔ ت۔ خدی) [ع۔ صفت و ا۔ ہذ] (۱) اتحاد سے متعلق (۲) سنی  
 رفیق۔ دوست جلیف (۳) باہمی معاہدہ سے وابستہ بیعہ معاہدہ بین۔  
 اُتخاف۔ (ا۔ ت۔ خاف) [ع۔ ا۔ ہذ] تخفہ دینا۔ ارمان۔ سوغات۔  
 اُتر۔ (اُت۔ تر) [س۔ ا۔ ہذ] (۱) شمال (۲) جواب (۳) ایک ویدک گیت۔  
 اُترجاؤ کہ دھن، وہی کرم کے پھن۔ [مشل] جہاں بھی جاؤ قسمت پلنے  
 ساتھ ہے۔

اُتر میا نسا۔ ویدانت فلسفے کی ایک مشہور کتاب  
 اُترما۔ (اُت۔ ما) [ہ۔ صفت] (۱) اُتر ہوا۔ معزول (۲) بہن کرنا ہوا لباس۔  
 اُتر اسٹخنہ مردک نام [مشل] عمدے سے علیحدہ ہونے پر عزت نہیں رہتی۔  
 اُتر گھائی ہوا مائی۔ [مشل] جو چیز کھا کر صحت سے اتاری جائے وہ مٹی کے  
 برابر ہے۔

اُتر ہوا۔ بٹھا ہوا (۲) باسی۔ زوال پذیر۔ بوسیدہ۔  
 اُتر آنا۔ (اُتر۔ آنا) [ہ۔ مٹھ] (۱) آمادہ ہونا (۲) اوپر سے نیچے آنا۔  
 اُترانا۔ (اُت۔ رانا) [ہ۔ مٹھ] گھنڈ کرنا۔ غرور کرنا۔ نازاں ہونا۔  
 اُترانا۔ (اُت۔ رانا) [ہ۔ مٹھ] پانی کے اوپر آنا۔ پانی کی سطح پر تیرنا۔  
 اُتر اہٹ۔ (اُت۔ ر۔ ہٹ) [ہ۔ ا۔ مٹھ] گھنڈ۔ غرور۔ زنجیر۔  
 اُتر او۔ (اُت۔ وا۔ او۔ واؤ جمول) [ہ۔ ا۔ ہذ] اُتار۔ ڈھال۔  
 اُترائی۔ (اُت۔ را۔ ای) [ہ۔ ا۔ مٹھ] (۱) نشیب (۲) دریا سے پار چلنے  
 کا حصول (۳) پہاڑ سے اُترنے کا کرایہ (۴) بدلہ۔ احسان کا بدلہ (ق)  
 اُتر لائے پھرنا۔ (اُت۔ رالے۔ پھرنا) [ہ۔ مٹھ] اٹھنا۔ ناز کرتے پھرنا۔ گھنڈ کرنا۔  
 اُتر پڑنا۔ (ہ۔ مٹھ) (۱) کسی کام یا کسی صیبت پر آمادہ ہو جانا (۲) ٹھہرنا  
 ٹھہر جانا۔

اُتر تابیانی۔ دریا یا ندی کا پانی کم ہو جانا۔  
 اُترتا چاند [ہ۔ صفت] آخر ماہ۔ زوال ماہ۔ اندھیرا باکھ۔ مینے کا آخری  
 حصہ۔

اُترتی۔ (اُت۔ تری) [ہ۔ صفت] نیچے آتی ہوئی۔ گرتی ہوئی۔ ڈھلنی ہوئی۔  
 اُترتی برسات۔ نکلتی برسات۔ برسات کا آخری زمانہ۔  
 اُترتی ندی کنارے ڈھائے۔ [مشل] انسان کا جب کوئی بس نہیں  
 چلتا تو غریب کو ستاتا ہے۔

اُتر جانا۔ (اُت۔ تر۔ جانا) [ہ۔ مٹھ] (۱) اوپر سے نیچے آ جانا۔ ڈھل جانا (۲) ڈبلا  
 ہو جانا (۳) ناپسند ہو جانا (۴) خراب ہو جانا۔  
 اُتر سوسوں۔ (اُت۔ تر۔ سوں) [ہ۔ ا۔ ہذ] (۱) آنے والے پرسوں کے آگے کا دن (۲)  
 (۳) گزرتے ہوئے پرسوں کی پیلے کا دن۔

اُتر کے۔ (اُت۔ کے) [ہ۔ مٹھ] کے۔ کم نیچے۔  
 اُتر کئی لوئی پھیر کیا کرے گا کوئی۔ [مشل] جب لے شرمی اغتیا گئی تو پھر  
 کسی کا کیا ڈر ہے۔ بے لحاظ آدمی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔  
 اُترن۔ (اُت۔ رن) [ہ۔ ا۔ ہذ] (۱) پھننے ہوئے پڑنے پر ٹرے۔ پُرانا لباس۔  
 (۲) کلڑی یا پیچڑی پڑی جو دروازے میں لگائی جاتی ہے۔

اُترن پترن۔ اُتر سے ہونے پڑنے پر ٹرے۔ پُرانا لباس۔  
 اُترنا۔ (اُت۔ ترنا) [ہ۔ مٹھ] (۱) اوپر سے نیچے آنا (۲) گھٹنا۔ متزلزل ہونا۔ گھٹاؤ پر  
 ہونا (۳) بدن میں جوڑ، نس یا ڈی کا پتی جگہ سے ہٹ جانا (۴) آواز کا جھپا  
 پڑنا یا بگڑنا (۵) کسی اثر کو دُور کرنا مثلاً غصہ اُترنا۔ نشہ اُترنا۔ بیمار اُترنا۔  
 (۶) کسی سال، ماہ یا موسم کا ختم ہونا (۷) موت سے تیار ہونے والی کوئی  
 چیز مکمل ہونا مثلاً عمرزہ اُترنا۔ عُقان اُترنا۔ بلیان اُترنا (۸) ایسی چیز کا تیار  
 ہونا جو خرد وغیرہ پر تیار کی جائے (۹) نرخ کا کم ہونا (۱۰) ڈیرہ کرنا۔ ٹھہرنا  
 (۱۱) گھسنا۔ داخل ہونا (۱۲) بچوں کا مرجانا (۱۳) ٹھہر آنا۔ غصہ نکالنا (۱۴)  
 پھلوں کا پھننے پر توڑا جانا (۱۵) گرم پانی یا بھکے میں کسی چیز کا تیار کرنا۔  
 (۱۶) گلی یا بیجی چیز کا اُتک ہونا۔ صفائی کے ساتھ گھٹا اُدھرتا (۱۷) سلی ہوئی  
 چیز کا اُتک ہونا (۱۸) نول میں ٹھہرنا (۱۹) کسی ساز کی کسی کا ڈھبلا ہو  
 جانا جس سے اس کی آواز ڈھیلی ہونے لگے (۲۰) جھم لینا (۲۱) سانس  
 آنا ظاہر ہونا (۲۲) کشتی یا لڑائی کے لیے اُٹھنا یا میدان میں آنا (۲۳)  
 پار ہونا (۲۴) مشط ج میں کسی پیادے کا کوئی بڑا حصہ بن جانا (۲۵)  
 وصول ہونا (۲۶) جماعت سے فارغ ہونا (۲۷) آگ پر چڑھائی جانے  
 والی چیز کا پک کر تیار ہونا (معاذہ) اُتر کر من سے اُترنا۔ چہرہ اُترنا (۲۸)  
 سوار ہونا اور چڑھنا کی ضد (۲۹) بد رنگ ہونا۔ ماند پڑنا (۳۰) پورا ہونا۔  
 بیباق ہونا (۳۱) عکس کھینچنا۔ نقل آنا۔

اُترنگ۔ (اُت۔ رنگ) [ہ۔ ا۔ ہذ] وہ لکڑی جو درد اڑنے کی اُپر کی طرف  
 چوکھٹ میں لگائی جاتی ہے۔ اُترنگا بیس ہے۔

اُتر وانا۔ (اُت۔ تر۔ وانا) [ہ۔ مٹھ] کسی دوسرے سے کوئی چیز اُتارنے  
 میں مدد دینا۔

اُتروائی۔ [ہ۔ مٹھ] اُتارنے کی اجرت (۲) استقبال۔

اُتری پھیل۔ (اُت۔ ری۔ پھیل) [ہ۔ ا۔ ہذ] زرخشا۔ بڑ۔ بہیرا اور اُتک  
 ٹرکت۔

اُتری جوانی۔ (۱) مٹھ] ڈھلا ہوا شباب۔

اُتری کجان۔ وہ مکان جس کا چڑچڑھا جھانڈ ہو۔

اُتری ہوئی۔ (اُت۔ ری۔ ہوئی) [ہ۔ صفت] چھوٹی ہوئی۔ استغمال کی ہوئی۔

اُتری ہوئی یا پوش۔ (۱) پُرانا ہوتا (۲) بے عزت۔ حقیر آدمی یا محورت

(۳) نظروں سے گری ہوئی بے تدابور بے حقیقت چیز (۴) چھوٹی  
 ہوئی محورت۔

افضل ہے۔ اس کے بعد تجارت اور نوکری تو جھیک مانگئے کے برابر ہے۔

اتم گانا مدظم بجانا۔ گانے کا درجہ اصل ہے اس کے بعد بجانے کا۔  
اتمام۔ (اٹ۔ ت۔ صاف) [ع۔ ا۔ مذ] [ع۔ ا۔ مذ] (۱) تمام کرنا۔ انجام کو پہنچانا (۲) کمال تکمیل  
اتمامِ محنت۔ (۱) محنت کا پورا ہونا۔ فیصلہ کن بات۔ آخری دلیل معاط  
طے کرنا۔ جھگڑا مٹانا (۲) انتہائی کوشش کرنا۔

انتا۔ (اٹ۔ نا) [و۔ صف] (۱) اس قدر۔ اس ختم کا۔ آنا (۲) اس درجہ  
مہاں تک۔ اس قابل (۳) بہت زیادہ (۴) بہت کم۔

انتا بھرنا کہ جھیک گیا۔ (ایش) (۱) زیادہ جانت کرنا۔ بہت رشوت کھانا بھرنا  
چھبنا شکل ہو (۲) آنا زیادہ مذاق کرنا جو برداشت سے باہر ہو (۳) آنا  
کھانا جو ہضم نہ ہو سکے (۴) آنا نفع لینا جس سے بدنامی ہو۔  
انتا پکا کہ باسی تھکا۔ (مش) (۱) کھانا آنا زیادہ پکایا کہ باسی ہو کر خراب ہو گیا  
(۲) بات اتنی بڑھی کہ بڑی فصاحت ہوئی۔

انتا جھوٹ بولو جتنا آٹے میں نمک [ایش] جھوٹ آنا بولو کہ نہ بھسکے  
انتا سا۔ (اصف) فقور سا۔ ذرا سا (۲) چھوٹا سا۔ ننھا سا۔  
انتا سارا۔ (اصف) بہت سا۔ بہت سارا۔

انتا سا فتنہ۔ اتنی سی فتنی (۱) مکار بچہ یا بچی (۲) چھوٹی سی یا معمولی سی بات  
جس کے باعث کوئی جھگڑا ہو۔

انتا سا کام۔ فقور سا کام۔  
انتا سا منہ نکل آیا۔ (۱) چہرہ اتر گیا۔ نہایت بولا ہو گیا (۲) شرمندہ ہو گیا  
انتا کھائے جتنا پیچھے۔ [ایش] [لوٹ نہ چمانی چاہیے۔ خیانت یا رشوت  
اتنی نہ ہو جس کا چھبانا مشکل ہو۔

انتا ہے۔ (معاورہ) اتنی بات ہے۔ یہ پیش نظر ہے۔  
انتے سے آنا کر دینا۔ (۵) چھوٹے سے بڑا کر دینا۔ بڑھانا۔ بڑا کرانا۔  
انتے سے آنا ہونا (۱) چھوٹے سے بڑا ہونا (۲) غریب سے مال دار ہونا۔  
انتے کی بڑھیا نہیں جتنے کا لنگا چھٹ گیا۔ [مش] [آنا فائدہ نہ ہونا  
جتنا نقصان ہو گیا۔

انتے میں۔ اس حد میں۔ اس مقدار میں۔ ناگاہ۔ اتفاق سے۔  
انتا۔ (اٹ۔ تا) [و۔ صف] [اس قدر۔ اس درجہ۔ اس حد تک۔  
انتی۔ (اٹ۔ نی) [و۔ صف] [اس قدر۔

انتی سی جان گز بھری زبان۔ [ایش] [چھوٹا منہ بڑی بات۔ چھوٹی عمر میں  
زبان درازی۔

انتی عقل بھی اجیرن ہوتی ہے۔ [ایش] [زیادہ عقل بھی بعض اوقات  
نقصان کا باعث ہوتی ہے۔

انتی ہی تھی۔ اسی قدر تھی۔  
انتی ہی لکھی تھی۔ اتنی ہی عمر تھی۔

انتی۔ (اٹ۔ نی) [و۔ صف] [اس قدر۔  
اٹو۔ (اٹ۔ ٹو) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) وہ آکر جس پر نقش کرتے اور پیل بوٹے  
بناتے ہیں (۲) کشیدہ کاری۔ پیل بوٹے۔

اٹو اٹو کرنا۔ مارنے مارنے کھال اوھیر دینا۔ ہرزے اڑانا۔

اٹسو۔ (اٹ۔ سو) [س۔ ا۔ مذ] (۱) خوشی کا جام مظاہرہ۔ (۲) تموار جشن۔ (۳)  
غصہ۔ ناراضی۔ بے مہربانی۔

اٹصاف۔ (اٹ۔ ت۔ صاف) [ع۔ ا۔ مذ] [صفت رکھنا تعریف کیا جانا۔  
اٹصال۔ (اٹ۔ ت۔ صال) [ع۔ ا۔ مذ] [طلب میل۔ قرب۔ نزدیکی۔ کسی کام کا  
لگانا ہونا۔ (۲) اصول حدیث کسی حدیث یا روایت کا سلسلہ غیر منقطع  
ہونا یا سلسلہ سند کے راویوں کا نام بنام ذکر کرنا۔

اٹصالِ حقیقی۔ بالکل ایک جان ہونا۔ دوئی مٹا۔ ٹوٹ کر لینا (نصوف) [اصل  
باللہ ہونا۔

اٹفاق۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ ا۔ مذ] [موافقت۔ میل جول۔ اتحاد۔ محبت  
دوستی (۲) اچانک۔ دفعہ۔ اچانکی۔ جمع: اٹفاقات۔

اٹفاق بڑھنا۔ اتحاد زیادہ ہونا۔ ایکا بڑھنا۔ محبت زیادہ ہونا۔  
اٹفاق بڑنا۔ (معاورہ) موقع بڑنا۔ موقع ملنا۔

اٹفاق ختمہ۔ اچھا موقع۔ مبارک موقع۔  
اٹفاق رلنے۔ رلنے کا متوقع ہونا۔ باہمی ہم خیالی۔ رضامندی۔

اٹفاق سے۔ (۱) گاہے گاہے کسی موقع پر کبھی بھی (۲) بالائے اتفاق (۳) اچانک  
اٹفاق کرنا۔ ایک ہو جانا۔ شریک رلنے ہونا متفق اٹنے ہونا۔ مال لینا۔

اٹفاق کی بات۔ اٹفاقیہ الفاظ۔  
اٹفاق ہونا۔ (معاورہ) ایک ہونا متفق اٹنے ہونا (۲) موقع بڑنا۔ موقع ملنا۔

اٹفاقا۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ ت۔ فاق] [اچانک۔ ناگاہ۔ یکایک۔  
اٹفاقات۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ ا۔ مذ] [اتفاق کی جمع۔ واقعات۔  
حوادث۔ مسامحت (۲) غیر متوقع۔ ناگہانی۔

اٹفاقی۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ صف] [ایک دم۔ اچانک۔ وہ بات جو  
اتفاق سے ہو جائے۔

اٹفاقی رخصت۔ (۱) غیر متوقع ضرورت پر لی جانے والی چھٹی  
(ایٹم) (Casual Leave)

اٹفاقی شگورہ۔ (۱) وہ چھپدیا شگورہ جو خود بخود زمین سے اُٹتا ہے (۲)  
خود رو کھاس کی مانند۔

اٹفاقیہ۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ صف] [اچانک۔ اتفاق سے۔  
اٹفاقی۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ ا۔ مذ] [پرہیزگاری۔ گناہ سے بچنا۔ پرہیزگاری  
تقویٰ زہد۔

اٹفیا۔ (اٹ۔ نی) [ع۔ ا۔ مذ] [تقی کی جمع۔ پرہیزگار لوگ۔  
اٹکا۔ (اٹ۔ ت۔ کا) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) تیکہ۔ (۲) بھروسہ کرنا۔  
اٹکھ۔ (اٹ۔ ٹک) [ت۔ ا۔ مذ] [آنا یا دانی کا شوہر۔

اٹکلاف۔ (اٹ۔ لاف) [ع۔ ا۔ مذ] [برابری۔ صلح کرنا۔ تلف کرنا۔  
اتم۔ (اٹ۔ تم) [س۔ صف] [سب سے اچھا۔ سب سے بڑا۔  
سب سے بھلا (۲) کامل۔ پورا۔ تمام تر۔

اتم سے اتم لے اور طے نہج سے نیج۔ پانی سے پانی ملے اور طے کچ سے  
کچ۔ [مش] [شریف ترفیت سے اور ذلیل رذیلوں سے ملنے ہیں جو جیسا ہوتا  
اتم کھینچے ویسوں سے ہی ملتا ہے۔

اتم کھینچنی مدظم بیو یا رکھدیا کر ہی بھیک دوار۔ [مش] [کاشتکاری سے  
بے

اُتوساز - اُتو کرنے والا۔ کپڑے پر نقش دیکھ بنانے والا۔  
 اُتو کرنے جیلنا۔ گن گن کر قدم رکھنا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔ جیسے کپڑے پر سبیل ہونے  
 بنانے کی سُوئی چل رہی ہے۔  
 اُتو کرنا۔ کپڑے پر پھول کا ڈھنسا۔ (۲) کھال اور پیرینا۔ زخمی کرنا (۳) نقش و نگار بنانا۔  
 اُتو کش۔ اُتو کر۔ اُتو کا کام کرنے والا۔  
 اُتواری (ات۔ وار) (۵-۱) سڈ) ہلکتے اور پیریکے درمیان کا دن۔ ایک شنبہ۔  
 اُتواس (ات۔ واس) (س-۱) سڈ) (۱) تاریخ حکایت سعادت (۲) بیان  
 نقتہ (۳) تاویجی نظم۔  
 اُتہام (ات۔ ت۔ ہام) (۷-۱) سڈ) (۱) قیمت۔ الزام۔ بہتان۔ شک و شبہ۔  
 دوش (۲) قیمت لگانا۔ الزام لگانا۔ جمع اہتہامات۔  
 اُتہام دینا۔ اُتہام رکھنا۔ اُتہام لگانا۔ قیمت لگانا عجیب و غریب بہتان لگانا۔  
 اُتھاہ (ا۔ ا۔ اٹھاہ) (س۔ صفت) جس کی تھاہ نہ ہو۔ جس کی گہرائی کا پتہ نہ چلے  
 بہت ہی گہرا۔  
 اُتھکت (ا۔ ا۔ اٹھکت) (۵-صفت) نہ تھکنے والا۔ بڑا محنتی۔  
 اُتھل۔ اُتھل۔ اُتھلا۔ اُتھل۔ اُتھل۔ اُتھل۔ اُتھل۔ (۵-صفت) (۱) کم گہرا  
 (۲) چھوڑا (۳) چل خور پیٹ کا ہلکا (۴) [۱-سڈ] کم گہرا برتن۔  
 اُتھل پھیل۔ اُت پٹ۔ اُت پر نیچے (۲) متلائی ہوئی طبیعت۔  
 اُتھل پھل کرنا۔ اُت پر نیچے کرنا۔ اُت پٹ کرنا۔ بے ترتیب کرنا۔  
 اُتھل پھیل ہونا۔ اُت پٹ ہونا۔  
 اُتھلا۔ (ا۔ ا۔ اٹھلا) (۵-صفت) (۱) ڈنگانا۔ ڈانواں ڈول ہونا (۲) اُت پٹ  
 ہونا۔ نیچے اور ہونا (۳) پانی کا کم ہونا۔  
 اُتھوا۔ (اُتھ۔ وا) (س) یعنی۔ یا۔ علاوہ۔ سوا۔ بھی۔  
 اُتے۔ (ق) [ت] اتنے ہی۔ اس قدر۔  
 اُتیا چار۔ (اُت۔ تیا۔ چار) (س۔ سڈ) (۱) مقررہ فرائض کی عدم پابندی (۲)  
 خدشی اور اخلاقی باتوں کی حقیر (۳) نظم۔ زیادتی۔

ا-ب

اُٹ (۱) سڈ) میل چیکٹ رنگ (۲) جھگٹا (۳) گرد و غبار  
 اُٹ جانا۔ (۱) بھر جانا (۲) جمع جانا (۳) مٹی گوا اور دھوئیں کا کسی چیز پر بیٹھ جانا  
 (۴) بند ہو جانا۔  
 اُٹ سڈ) (۱) سڈ) بے تکی۔ اُلٹی سیدھی (۲) سازش۔ جوڑ توڑ۔  
 اُٹا۔ (اٹ۔ ٹا) (س۔ ۱-سڈ) (۱) اُٹا۔ بالافانہ۔ کوٹھا۔ گھر کے اوپر کی کوٹھری  
 یا چھت (۲) اُٹا۔ ڈھیر۔  
 اُٹا اُٹ۔ اُٹا اُٹ۔ (اٹ۔ اٹ) (۱) صفت) اور تک بھرا ہوا۔ بھر توڑ۔  
 اُٹا ٹوٹ۔ (اٹا۔ ٹوٹ) (س) صفت) [۱] اٹھل۔ ایک دم۔ تمام کا تمام۔  
 اُٹاچی۔ (اٹاچی) (Attache) (اٹا۔ چی) [انگ۔ ۱-سڈ] (۱) شامل  
 ملا ہوا۔ (۲) سفارت خانے کا عہدہ دار۔ جو سفیر سے وابستہ ہو۔  
 اُٹاچی کیس۔ (Attache Case) (انگ۔ سڈ) ڈاکھیں کپڑے کا  
 چھوٹا سا صندوق۔

اُٹا رابٹا را۔ (۱-سڈ) ساز و سامان۔ اسباب۔  
 اُٹا رنی۔ (اٹا۔ ری) (۵-۱) سڈ) (۱) بالافانہ بھیت کے اوپر کا مکان  
 (۲) بلند مکان۔  
 اُٹا لالا۔ (اٹا۔ لالا) (۵-۱) سڈ) (۱) ڈھیر۔ انبار۔ اُٹم (۲) سامان۔ اُٹا۔  
 (۳) فضول اسباب۔ نیکھا اور ناکارہ اسباب (۴) کاٹھ کباڑ۔  
 اُٹرنی۔ اُٹارنی۔ (Attorney) (اٹ۔ ٹرنی) [انگ۔ ۱-سڈ] ایسا  
 وکیل جو صرف مقدمہ مرتب کر کے برسرِ ٹریڈ یا وکیل کو لے اور خود بحث نہ کرے۔  
 اُٹامک انرجی (Atomic Energy) (انگ) اٹمی توانائی۔  
 وہ قوت جو اٹم سے حاصل کی جاتی ہے۔  
 اُٹامک۔ (اٹ۔ انک) (۵-۱) سڈ) (۱) روک۔ رکاوٹ۔ اُٹس۔ اٹھن۔ جھجک  
 اٹکاؤ (۲) دریائے سندھ پر ایک مقام۔  
 اٹک کر رہ جانا۔ رکاوٹ سے آگے نہ بڑھنا۔ ٹھہر جانا۔ رک جانا۔  
 اٹک مٹک ۱۱۔ (سڈ) ناز و نخرا۔ غرور و تکبر۔  
 اٹکا بیاں سودا کرے۔ (شل) جب بیک کوئی غرض نہ ہو۔ انسان کا نہیں  
 کرتا۔ انسان مجبور ہو کر کام کرتا ہے۔  
 اٹکا کھنا۔ (مادہ) لٹکانے رکھنا۔ لیت و دل میں ڈالنا۔  
 اٹکانا۔ (اٹ۔ کانا) (۵-صفت) (۱) روکنا۔ ٹھہرانا (۲) پھینکانا۔ اُٹھکانا۔  
 ڈال رکھنا (۳) ٹھوڑی دیر کے لیے بہت۔ ذمائی ذرا لگنے میں ڈالنا۔ اُٹھکانا۔  
 (۴) لگانا۔ بھروسہ کرنا۔ مشغول کرنا۔  
 اٹکاؤ۔ (اٹ۔ کاؤ) (۵-۱) سڈ) (۱) روک۔ رکاوٹ۔ مزاحمت۔ دیر۔ التوا  
 (۲) تعلق۔ وابستگی۔  
 اٹکاؤ ہونا۔ رکاوٹ یا مزاحمت کرنا۔  
 اٹکل۔ (اٹ۔ کل) (۵-۱) سڈ) (۱) اندازہ۔ قیاس تخمینہ (۲) سلیقہ  
 مشورہ قدرتی صلاحیت۔ تمیز (۳) پرکھ۔ شناخت۔  
 اٹکل باز۔ نازنے والا۔ قیاس کرنے والا۔ اندازہ کرنے والا۔ جھانپنے والا۔  
 اٹکل بچو۔ خیالی قیاسی۔ اوٹ پٹانگ۔ لہذا اندازے کے لیے خزنہ۔  
 اٹکل چوڑی (مقرر) مقام۔ اوٹ پٹانگ۔ بے سوچی بات۔ سادہ جہوائی  
 اٹکل سے۔ اندازے۔  
 اٹکلا کرنا۔ اندازہ کرنا۔ تخمینہ کرنا۔  
 اٹکلنا۔ (اٹ۔ کلنا) (۵-صفت) (۱) اندازہ کرنا۔ پرکھنا۔ اٹکلنا۔  
 اٹکلنا۔ (انگ۔ ۱-سڈ) (۱) روکنا۔ ٹھہرنا (۲) پھینکانا۔ اٹکلنا۔  
 کرنا (۳) لٹکانا۔ اٹکلنا۔ اٹکلنا۔  
 اٹکلن۔ (اٹ۔ کلن) (۵-۱) سڈ) (۱) چھوٹے بچوں کا ایک کھیل  
 میں کئی لڑکے اپنے دو (۲) ہاتھوں کی انگلیوں کو زمین پر ٹیک کر بیٹھ جاتے  
 ہیں۔ ایک لڑکا سب کے بچوں پر اٹکل رکھتا ہوا یہ کہتا جاتا ہے۔  
 تمس۔ جھٹی۔ وہی چیلن۔ اٹکل بھولنے۔ بھلا بھولنے۔ سادہی ماس کرنا  
 بھولنے۔ بھول بھول کی باتیں۔ باہلگے گنگا۔ لائے سات۔ پاباں۔  
 یا۔ پانی بھوٹ گئی۔ نیولے کی ٹانگ ڈوٹ گئی۔ جس لڑکے پر آخری  
 لفظ پڑتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے تو کھنڈلے کا یا بھری۔ اگر وہ  
 کھنا ہے کھنڈا۔ تو اس کا اٹکل اٹکل کر اس کے منہ پر رکھتا ہے اور



اُٹھانوںے (۱- اٹھان جوے) [۵- صف] توے اور آٹھ۔ سنا توے کے بعد کا عدد۔  
 اُٹھانوں (اٹھ۔ ٹھا۔ ون) [۵- صف] پیاس اور آٹھ۔ سنا دن کے بعد کا عدد۔  
 اُٹھاؤ۔ اٹھاؤ (داؤ بھول) [۵- ۱- مذ] اٹھان۔ ترقی اٹھانا مصدر کا امر  
 اُٹھاؤ چڑھا۔ (مخاورہ) (۱۱) وہ چوٹھے ہرگیے کے جاسکیں (۳) آدمی جو ایک جگہ  
 جم کر نہ رہے۔ خانہ بدوش۔  
 اٹھاؤ میرا ممکنا میں گھر سنبھالوں اپنا۔ [منش] اے شرم عورت کو کہتے ہیں جو سیاہ  
 ہوتے ہی شوہر کے گھر کا انتظام کرنے لگے اور میاں کو لے کر  
 ایک ہو جائے۔  
 اُٹھاؤنی۔ (اٹھاؤ۔ نی) [۵- ۱- مٹ] (۱۱) تیرا۔ سوم چھول۔ ہندوؤں کی ایک رسم  
 جب مردے کی بڑیاں لگنا میں دلنے کے لیے بچاتے ہیں۔  
 اُٹھانیں۔ (اٹھانیں) [۵- صف] میں اور آٹھ۔ سنا میں کے بعد کا عدد۔  
 اٹھانی جائے نہ دھری جائے۔ [منش] مشکل مصیبت (۲) ایسی بات جو  
 برداشت نہ کی جائے اور اس کا جواب بھی نہ دیا جاسکے۔  
 اُٹھانی گیرا۔ (اٹھانہ۔ ای۔ گرا) [۵- صف] (۱۱) اچکا۔ آٹھ بچا کھچوٹی چھوٹی  
 چیزیں پیر لینے والا۔ جیب کتا (۲) بد معاش۔ لچکا۔  
 اُٹھانہ۔ (اٹھ۔ ٹھ) [۵- ۱- مٹ] (۱۱) اٹھانہ۔ بار بار اٹھنا بیٹھنا (۲) ایک  
 قسم کی سزا جو سنا دش گروں کو دیا کرتے ہیں۔  
 اُٹھانہ بیٹھنا۔ (اٹھ۔ ٹھ) [۵- صف] (۱) جاک اٹھنا۔ بیدار ہو جانا (۲) بیٹھے  
 سے کھڑا ہو جانا (۲) تند دست ہو جانا۔ جھنگا ہو جانا۔  
 اُٹھنا بیٹھنا۔ (اٹھ۔ تا۔ بیٹھنا) [۵- صف] گرتا پڑتا۔ درجہ بہ درجہ  
 اُٹھنا جو بن۔ (اٹھ۔ اٹھ) [۵- ۱- مٹ] آغاز شباب۔ سینے کے اٹھارہ کا زمانہ۔  
 اُٹھتہ۔ (اٹھت۔ تہ) [۵- صف] ستر اور آٹھ۔ ستر کے بعد کا عدد۔  
 اُٹھتی۔ (اٹھتی۔ تی) [۵- صف] (۱) اُٹھتی ہوئی۔ کھڑی ہوئی ہوئی (۲) اُٹھتی ہوئی  
 (۳) خم ہوئی ہوئی (۴) شروع ہوئی ہوئی۔  
 اُٹھتی پلینڈ۔ (اٹھت۔ اٹھت) بازار یا باٹ جو بند ہونے کے قریب ہو (۲) اُٹھنے  
 والا میلہ (۳) چل چلاؤ۔ شخصیت کا وقت۔  
 اُٹھتی پلینڈ اُٹھوں دن۔ [منش] وقت کے ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔ ورنہ  
 پھر بوقت ہاتھ نہ آئے گا۔  
 اُٹھتی جوانی۔ آغاز جوانی۔ شباب کے دن۔  
 اُٹھتی جوانی میں اُٹھ گیا۔ زوجان مر گیا۔  
 اُٹھتی کوئیل۔ (۱) نئی اور بھتی ہوئی شئی (۲) جوانی۔ نوز۔ نوزیر۔ شروع شباب۔  
 اُٹھنے۔ (اٹھ۔ ٹھ) [۵- صف] کھڑے ہوتے ہوئے۔  
 اُٹھتے اُٹھتے۔ جمع حوائج ضرور سے فایز بھتے ہوئے (۲) خرچ ہو ہوا کر۔  
 اُٹھتے بیٹھتے۔ (۱) گرتے پڑتے اٹان خیراں (۲) ٹھہر ٹھہر کر۔ بڑی وقت سے  
 (۳) پروت۔ اکثر و بیشتر۔  
 اُٹھتے جوتی بیٹھتے لات۔ [منش] ہر وقت بے عزتی۔ نہایت ذلت و  
 خواری کا برتاؤ۔  
 اُٹھ جانا۔ (اٹھ۔ جانا) [۵- صف] (۱) چلا جانا۔ خصمت ہو جانا (۲) مر جانا۔  
 (۳) خرچ ہو جانا۔ (۴) جانا رہنا۔ عمل یا حکومت بدل جانا۔  
 اُٹھ رہنا۔ [۵- صف] ملتوی رہنا۔

اُٹھ سکتا۔ [۵- صف] لیٹے سے بیٹھ سکتا۔ کھڑا ہو سکتا۔ بڑا اشت ہو سکتا۔ ٹھہل ہو سکتا  
 اُٹھ کو پانی نہیں بیا جاتا۔ [منش] بے حد کاہلی یا نہایت ضعف اور ناتوانی  
 کے متعلق پرہیز ہے۔  
 اُٹھ کھڑا ہونا۔ (۱) چیلنے کو تیار ہونا (۲) قائم ہونا۔ برپا ہونا (۳)  
 اُٹھنا۔ دفعہ کسی مرض کا پیدا ہونا (۴) لڑنے کو تیار ہونا۔ (۵)  
 بیماری سے صحت پانا۔  
 اُٹھ کھیل۔ (اٹھ۔ کھیل) [۵- ۱- مٹ] [منش] دل لگی۔ مذاق۔  
 اُٹھلانا۔ (اٹھ۔ لانا) [۵- صف] (۱) اترانا (۲) چونکنا۔ کھڑے ہونا (۳) مستی  
 دکھانا (۴) چھیلنے کے لیے جان بوجھ کر اٹھان بننا۔ اغاض کرنا۔  
 اُٹھلا ہٹ۔ (اٹھ۔ لا۔ ہٹ) [۵- ۱- مٹ] (۱) ناز۔ نخزہ۔ غمزہ (۲)  
 ٹھسک۔ ٹھسکا۔  
 اُٹھلو۔ (اٹھلو۔ ٹو) [۵- صف] ایک جگہ پر نہ رہنے والا۔ جم کر کام نہ کرنے والا۔  
 اُٹھنا۔ (اٹھنا۔ ٹا) [۵- صف] (۱) کھڑا ہونا۔ ایستا ہونا (۲) اُٹھنا ہونا۔  
 اُٹھنا۔ (۳) جاگنا۔ بیدار ہونا (۴) آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا (۵) چلنا۔ نکلنا۔  
 روانہ ہونا (۶) برپا ہونا (۷) دکان یا مکان چھوڑنا۔ خالی کرنا شروع  
 کرنا (۸) نشوونما پانا (۹) حاصل ہونا (۱۰) اٹھنا۔ پرواز کرنا۔  
 (۱۱) گھوڑی وغیرہ کا مسٹ ہونا (۱۲) خرچ ہونا (۱۳) موقوف ہونا۔  
 (۱۴) پڑھا جانا (۱۵) لغزش ہونا۔ ٹھیک ہونا (۱۶) زمین کا اجارہ پر ہونا۔  
 ٹھیک ہونا (۱۷) تربیت یافتہ ہونا (۱۸) اجارہ کا ترستی برآ جانا۔ کھٹا  
 ہونا (۱۹) مرنا۔ فوت ہونا (۲۰) سوار ہونا (۲۱) تمام ہونا۔ تیار ہونا۔  
 کام سمٹنا (۲۲) جیسے درد وغیرہ اٹھنا۔  
 اُٹھنا بیٹھنا۔ نشست و برخاست رکھنا صحبت رکھنا۔  
 اُٹھ نہ سکتا۔ (۱) کھڑا نہ ہو سکتا (۲) برداشت نہ ہو سکتا (۳) جواب نہ دینا  
 اُٹھتی۔ (اٹھتی۔ تی) [۵- ۱- مٹ] آٹھ آنے کا چاندی کا رسک۔ آدھار پتہ  
 پیاس پیسے کا رسک۔  
 اُٹھنے آنا۔ (اٹھ۔ نے۔ آنا) [۵- صف] آشوب کر آنا۔  
 اُٹھو آنا۔ (اٹھ۔ وانا) [۵- صف] (۱) کھڑا کر دانا۔ کسی جگہ سے نکلوانا۔  
 (۲) تعمیر کر دانا۔ (۳) خرچ کر دانا۔  
 اُٹھو آڑا۔ اُٹھو آڑا۔ (۵- ۵) ایک بھتہ۔ آٹھ دن۔  
 اُٹھو آں۔ (۵- صف) اُٹھا ہوا۔ اُٹھا ہوا۔  
 اُٹھی۔ (اٹھی۔ ٹی) [۵- ۱- مٹ] اٹھانوں کی بے گناہی اور نیا سوت۔ لچکا۔  
 (۲) بولا۔ کھٹا۔ کیموں کی بالوں کا ٹھٹھا۔ (۳) بگڑی۔  
 اُٹھنا۔ (اٹھ۔ ٹھ) [۵- ۱- مٹ] (۱) سوت کی انٹی بنانے کا آلہ (۲) دھلاسن  
 (۳) پہلوانوں کی اصطلاح میں ایک پیچ کا نام (۴) گھوڑا پھرنے کا ایک طریقہ  
 اٹھنا پھیرنا۔ گھوڑے کو کاوا دینے کا ایک طریقہ۔ ڈہرا کاوا۔ ریچکر اس ٹھٹھے  
 سے مشابہ ہوتا ہے جو اٹھنا سے اُٹھتا ہے۔  
 اٹھنا کر دینا کشتی میں داؤ پیچ جس سے آدمی کھرا جلتے (۲) دم نہ لینے دینا۔  
 اٹھنا ہونا۔ (۱) بڑی نکل آنا۔ بہت دُبلنا ہو جانا (۲) گھوڑے کو چابک مار کر  
 جکڑ دینے کی ایک شکل۔  
 اٹھنا۔ (اٹھنا۔ ٹا) [۵- صف] اٹھنا سے موت کی انٹی بنانا۔ سوت لپٹنا۔

## ا-ث

ہے۔ امامیہ۔  
**اثبات** - (اث. ث. نان) [ع. ص. صف] دو کا عدد۔ دوسرا۔  
**اشتیاق** - (اش. ث. نین) [ع. ص. صف] دو۔  
**اٹھیر** - (ا. ث. ثیر) [ع. ص. صف] (۱) عالی۔ بلند۔ آسمان (۲) اٹھیر  
**اٹھیم** - (ا. ث. ثیم) [ع. ص. صف] گنگنار۔ عاصی۔ مجرم۔ غامبی۔

## ج-ا

**اجابت** - (ا. ج. ا. بت) [ع. ا. م. ث] (۱) جواب دینا۔ قبول کرنا۔ منقولیت  
 (۲) رفع حاجت (۳) پاخانہ۔ براز۔

**اجابت ہونا** - (م. ح. و. ہ) فضل خارج ہونا۔ پاخانہ آنا۔

**اجابی** - (ا. ج. ابی) [ع. ص. صف] قوم سے باہر قوم سے نکلا ہوا۔

**اجارہ** - (ا. ج. ارہ) [ع. ا. م. ث] (۱) کسی چیز کی تجارت پر بلا شرکت غیرے

قبضہ (۲) اجرت پر دینا (۳) کرایہ۔ ٹھیکہ (۴) دعویٰ حکومت قبضہ

قاپور۔ اختیار۔ جمع اجارات۔

**اجارہ اُجاڑا** - ٹھیکے کا کام خراب ہونا ہے۔

**اجارہ باز ہونا** - قبضے میں لانا۔ قبضہ کرنا۔ (۲) ٹھیکے پر لینا (۳) اجرت پر

مزدوروں کی خدمات حاصل کرنا۔

**اجارہ دار** - (۱) وہ شخص یا ادارہ جس کو کسی چیز کی تجارت کا بلا شرکت غیرے

حق حاصل ہو (۲) ٹھیکہ دار (۳) کرایہ پر لینے والا۔

**اجارہ داری** - کسی تجارت پر بلا شرکت غیرے قبضہ۔ مکمل قبضہ۔ ٹھیکیداری۔

**اجارہ کار** - زمین یا مکان وغیرہ کو کرایہ پر دینے والا۔

**اجارہ کرنا** - (م. ح. و. ہ) (۱) ٹھیکے پر کوئی کام ٹھکانا (۲) دینے لینا (۳) ٹھیکہ لینا۔

**اجارہ کیا ہے** - (م. ح. و. ہ) قاپور نہیں ہے۔ کچھ دعویٰ نہیں ہے۔

**اجارے لینا** - ٹھیکے پر لینا۔

**اُجاڑا** - (ا. ج. ا. ڈ) [ع. ص. صف] ویران۔ غیر آباد۔ جنگل۔ آباد کی ضد۔

**اُجاڑ صورت** - بد صورت۔ بد نما۔

**اُجاڑ کا** - دیر لسنے کا۔

**اُجاڑنا** - (ا. ج. ا. ڈ) [ع. ص. صف] (۱) ویران کرنا۔ برباد کرنا (۲) سمار کرنا۔ ڈھکانا۔

اینٹ سے اینٹ بجانا (۳) اکھاڑنا (۴) ضائع کر دینا۔

**اُجاڑو** - (ا. ج. ا. ڈ) [ع. ص. صف] برباد کرنے والا۔ کھاڑو۔ لٹاؤ۔

**اجازت** (ا. ج. ا. ز) [ع. ا. م. ث] [ع. ص. صف] حکم۔ ارشاد۔ پروردگی منظور۔ کسی پر

کا اپنے مُرد کو وظیفہ پڑھنے کا اختیار دینا۔

**اجازت طلب** - اجازت چاہنے والا۔

**اجازت نامہ** - وہ تحریر جس کے ذریعے کسی بات کی اجازت دی گئی ہو۔ سند۔

پیشہ۔

**اُجاڑہ** - (ا. ج. ا. ڈ) [ع. ا. م. ث] (۱) پروانہ ریلداری۔

**اُجاڑ** - (ا. ج. ا. ج) [ع. ا. م. ث] (۱) چوہا۔ وگدان۔

**اُجاگر** - (ا. ج. ا. گر) [ع. ص. صف] (۱) روشن۔ تابان۔ (۲) ظاہر۔ حیاں

**اُجالا** - (ا. ج. ا. ل) [ع. ا. م. ث] (۱) نور۔ روشنی۔ چمک۔

**اثاث** - (ع. م. ذ) اثاثہ کی جمع۔ سامان۔ سرمایہ۔ زیور (۲) زیادہ ہونا۔  
**اثاث البیت** - (ا. ث. ا. ث) [ع. ا. م. ث] (ع. ا. م. ث) اسباب خانہ داری۔ گھر  
 کا سامان۔ منقولہ جائداد۔

**اثاثہ** - (ا. ث. ا. ث) [ع. ا. م. ث] (۱) جمع کیا ہوا۔ جوڑا ہوا (۲) سرمایہ۔ اسباب

کپڑا۔ اثاثہ وغیرہ۔ سامان جو جمع کیا ہوا ہو۔ جمع: اثاث

**اثارت** - (ا. ث. ا. ر. ث) [ع. م. ث] کسی کیفیت کا بقیہ نشان۔

**اثالبت** - (ا. ث. ا. ل. ب) [ع. م. ث] غلب کی جمع۔ وہ مکان جو عربوں نے پہاڑوں

کو کھود کر بنائے تھے اور ان میں نفش دنگا رکھے جلتے تھے۔

**اثبات** - (ا. ث. ا. ب) [ع. ا. م. ث] (۱) البطل کی ضد۔ ثبوت۔ دلیل۔ تصدیق

(۲) نقض بنانا (۳) قیام۔ بجال (۴) استقامت

اثبات مجرم۔ مجرم ثابت ہونا۔

**اثبات کو پھینچنا** - (م. ح. و. ہ) ثبوت فراہم کرنا۔ ثابت ہوجانا۔

**اثر** - (ع. ا. م. ث) (۱) سنت نبوی۔ حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم (۲) تاثیر

(۳) نشان۔ زخم کا داغ (۴) کھنڈر (۵) کھوج (۶) نتیجہ۔ ناکہ۔ جمع: اثاث

اثرات (۷) آسیب کا سایہ۔

**اثر آنا** - (م. ح. و. ہ) تاثیر پیدا ہونا۔

**اثر آنے لگنا** - تاثیر ہونا۔ شروع ہوجانا۔

**اثر آنا رنا** - (م. ح. و. ہ) نشہ آنا رنا۔ آسیب ڈور کرنا۔

**اثر بخشنا** - تاثیر پیدا کرنا۔

**اثر پڑنا** - اثر ہونا۔ منشا ہونا۔

**اثر پڑنا (پڑ پڑ)** اثر قبول کرنے والا۔

**اثر دکھانا** - تاثیر پیدا کرنا۔

**اثر ڈالنا** - (م. ح. و. ہ) (۱) تاثیر پیدا کرنا (۲) زور ڈالنا۔ منشا کرنا۔

**اثر رکھنا** - (م. ح. و. ہ) اپنی ذات میں کسی طرح کی خاصیت رکھنا (۲) بااثر ہونا۔

تاثیر رکھنا (۳) قاپور رکھنا۔

**اثر کرنا** - (م. ح. و. ہ) خاصیت کا فعل صادر ہونا۔ تاثیر ہونا (۲) سرایت کرنا۔

پیٹھنا۔ گھسنا (۲) رنگ جمانا۔

**اثر کھلنا** - (م. ح. و. ہ) تاثیر ظاہر ہونا۔

**اثر ہونا** - (م. ح. و. ہ) تاثیر ہونا۔ رنگ جمانا (۲) سمجھ میں آنا۔ ذہن نشین ہونا۔

**اثری** - (ع. ص. صف) آنا قدریر سے متعلق۔ تاریخی۔

**انقال** - (ا. ث. ا. ق) [ع. ا. م. ث] نقل کی جمع۔ بوجھ۔ وزن۔

**رائع** - (ع. م. ذ) بھراؤ۔ سکون نانی و نالت۔ گناہ۔ مصیبت۔ اخلاق یا مذہبی جرم۔

**اٹھار** - (ا. ث. ا. ر) [ع. ا. م. ث] مڑکی جمع۔ پھل۔ خوشے۔ میوے۔

**اٹھ** - (ا. ث. ا. ہ) [ع. ا. م. ث] ستر مرکا پتھر۔

**اٹنا** - (ا. ث. ا. نا) [ع. ا. م. ث] وقفہ۔ درمیان۔ بیچ۔ دوران۔

اٹنلے تجویز۔ تحقیقات کے دوران میں۔

**اشاعشر** (ا. ث. ا. ع. ش) [ع. ص. صف] بارہ۔ اصطلاحاً بارہ امام علیہ السلام

اشاعشری۔ اشاعشریہ۔ شیعوں کے ایک فرقہ جو بارہ اماموں کو ماننا

اُجالا ہونا۔ (۱) روشنی ہونا۔ دن ٹھکانا (۲) لٹ جانا۔ صفحہ یا ہوجانا۔ کچھ باقی نہ رہنا۔ اُجالے کا پہلا کچھل رات کا پہرہ جو صبح کو شروع ہوتا ہے۔ اُجالے کا شمار۔ صبح کا شمار۔ زہرہ۔ اُجالنا۔ (اُ۔ جال۔ نا) [ع۔ مص] چمکانا جھکانا۔ صاف کرنا۔ بھکانا۔ زیور کا میل نکالنا۔ معینل کرنا۔ اُجان۔ (ا۔ جان) [ع۔ صفت] (۱) اُن جان۔ نہ جلنے والا۔ نا بھج (۲) نہ جانا ہوا۔ اُجا نبت۔ (اُجا۔ نبت) [ع۔ ا۔ مذ] اجنب کی جمع۔ بیگانے۔ اجنبی لوگ اُجبار۔ (اُج۔ بار) [ع۔ مذ] جبر۔ زبردستی (۲) مجبوری۔ اُجکت۔ (اُج۔ بکت) [ت۔ ا۔ مذ] اُردو میں بگڑا ہوا اصل از بک ہے (۱) ترکوں کی ایک قوم (۲) اُجڑے بے وقوف۔ اناڑی۔ اجتماع۔ (اُج۔ نت۔ ناع) [ع۔ ا۔ مذ] جمع۔ بھیر۔ اکٹھا ہونا۔ ملنا۔ جمع ہونا۔ اجتماع۔ دو مخالف چیزوں کی یک جاتی۔ اجتماع۔ (اُج۔ نت۔ ما۔ جی) [ع۔ صفت] منسوب بہ اجتماع۔ پورے طور پر۔ مجموعی طور پر۔ اجتماعیت۔ (اُج۔ نت۔ ما۔ جی۔ نیت) [ع۔ ا۔ مست] (۱) ایک جگہ اکٹھا ہونا (۲) ایک نظر میں کسی فرد سے ملکیت انفرادی نہیں اجتماعی ہوتی چاہئے۔ اُجتنا ب۔ (اُج۔ نت۔ ناب) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) پہلو۔ سجانا۔ پرہیز کرنا (۲) بچاؤ گزارہ۔ بلیغی۔ پرہیز۔ خوشہ گیری۔ اُجتنا و۔ (اُج۔ نت۔ ہاد) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) جدوجہد۔ کوشش کرنا۔ ٹھیک راہ ڈھونڈنا (۲) بہت سوچنا۔ غور و خوض سے کسی مسئلہ کا حل کرنا (۳) ایجاد۔ نئی بات پیدا کرنا (۴) فقرا اسلامی کی اصطلاح میں قرآن و حدیث اور اجماع پر بنیاس کرنے کے شرعی مسائل کا اخذ کرنا۔ جمع : اجتماعات۔ اُجداد۔ (اُج۔ داد) [ع۔ ا۔ مذ] جد کی جمع۔ باپ۔ دادا۔ بڑے۔ اُجد۔ (اُج۔ د) [ع۔ صفت] (۱) گنوار۔ بے وقوف (۲) جاہل مطلق۔ بندی اُجدین۔ بے پردہ پن۔ گنوار پن۔ اُجڑ۔ (ع۔ ا۔ مذ) نیک کام کا عوض۔ ثواب۔ بدلہ۔ پھل۔ اُجرت۔ مزدوری اجر جائز۔ قانوناً جائز۔ مٹانا۔ اجر غیر ممنون۔ بے نقصان ثواب۔ ایسا بدلہ جس پر احسان نہ جتایا جائے۔ اجرا۔ (اُج۔ سا) [ع۔ ا۔ مذ] ہماری کردہ مشروع کرنا۔ کام چلانا۔ اجرائے مڈگری۔ ڈگری کا جاری کرنا۔ اجوائے سمن۔ گواہ کے ناظر طبی کے واسطے سمن جاری کرنا۔ اجرام۔ (اُج۔ رام) [ع۔ ا۔ مذ] نجوم کی جمع جسم۔ ستاروں اور جواہرات کے جسم۔ اجرام فلکی۔ سورج۔ چاند۔ ستارے اور سیارے وغیرہ۔ اجرت۔ (اُج۔ رت) [ع۔ ا۔ مست] مزدوری۔ کام کا عوض۔ حق الخدمت۔ اُجرتِ خالص۔ نقد مزدوری کسی کام کا عوض نقدی کی صورت میں۔ اُجرتی۔ (اُج۔ رتی) [ع۔ صفت] اُجرت پر کام کرنے والا۔ مزدوری کا کام۔ اُجڑا۔ (اُج۔ ڈا) [ع۔ صفت] (۱) دیران۔ برباد۔ (۲) لٹا پٹا (۳) خانہ خراب۔ اجڑا پھڑا۔ لٹا پٹا۔ برباد شدہ۔ دیران۔

اُجڑا گھر بسا دینا۔ (۱) غیر آباد اور پریشان حال کو آباد اور مطمئن کر دینا (۲) زینے کا نکاح کر دینا۔ اُجڑا گھر بس گیا۔ (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چیل ہل ہو گئی (۲) زندہ کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔ اُجڑھانا۔ (اُجڑ۔ جانا) [ع۔ مص] لٹ جانا۔ برباد ہوجانا۔ دیران ہوجانا۔ اُجڑ گیا۔ (اُجڑ۔ گیا) [ع۔ مص] اُجڑا۔ تباہ ہو گیا۔ اُجڑنا۔ (اُجڑ۔ نا) [ع۔ مص] (۱) دیران ہونا۔ (۲) تباہ ہونا (۳) اکھڑنا۔ پامال ہونا (۴) مٹ جانا۔ غارت ہونا۔ اُجڑی۔ (اُج۔ ڈی) [ع۔ صفت] (۱) تباہ۔ برباد (۲) تباہ ہو گئی۔ برباد ہو گئی۔ اُجڑی مات۔ کسی بات کی بابت بزرگی اور تحقیر سے کہتے ہیں۔ اُجڑی ٹھری سونڈا لیس۔ (مثل) دیران۔ تباہ شدہ جگہ۔ اُجڑے گاؤں سے کیا جاتا۔ (مثل) جس جگہ رہنا چھوڑ دیا پھر وہاں سے کیا واسطہ اُجڑے گھر کا بلینڈا۔ (مثل) جہاں سارا گھر تباہ ہو جائے اور ایک نکتا آدی رہ جائے اس کی نسبت کہتے ہیں۔ اُجڑا۔ (اُج۔ ڈا) [ع۔ ا۔ مذ] جز کی جمع۔ حصے۔ ٹکڑے۔ اجڑائے ترکیبی۔ جن سے مل کر کوئی چیز بنی ہو۔ اجڑائے فنا سیر۔ وہ اجزا جو اجتماعی صورت میں تناسل کے لحاظ سے نوزل ہوں اور اُن میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہ پائی جائے۔ اُجھا و۔ (اُج۔ ساد) [ع۔ ا۔ مذ] اجس کی جمع۔ بہت سے جسم۔ اُجھام۔ (اُج۔ سام) [ع۔ ا۔ مذ] جسم کی جمع۔ بہت سے جسم۔ تن۔ اُجھکا۔ (اُج۔ گر) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) اُڑنا۔ بہت بڑا سانپ۔ بھاری ہاتھ۔ وزنی سانپ (۲) بڑی بھاری چیز۔ اُجھکے داتا رام۔ [مثل] جو چیلے بھرنے اور کام کرنے سے مجبور ہیں انہیں خدا دیا چاہے۔ کابل کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ اُجھل۔ (اُجھل۔ ع) [ع۔ ا۔ مست] (۱) وقت (۲) موت مرگ۔ نقصان۔ جمع اُجال۔ اجل تو کہیں سر پر سوار نہیں ہے۔ موت لے تو کہیں نہیں گھیرا ہے۔ اجل رسیدہ (مگر دفتر) وہ شخص جس کی موت آئی ہو جان مار۔ موت کے پھندے میں پھنسا ہوا۔ اجل سر پر سوار ہے۔ خطرناک کام کرنے لگا ہے۔ موت کو دعوت دے رہا ہے۔ اجل سر پر کھڑی ہے۔ موت کا وقت بہت قریب ہے۔ اجل سر پر کھیلنا۔ موت کا آپہنچنا۔ ایسا کام کرنا جس میں موت کا اندیشہ ہو۔ اجل طبعی۔ طبی یا فطری موت۔ حادثے کی موت کی ضد۔ اجل کا پیغام آنا۔ مرنے کا وقت قریب آجانا۔ مرنے کے آثار ظاہر ہونا۔ اجل کا تپا پتھر۔ اجل کا قہقہہ۔ ہلکے ضرب۔ ہلکے ضرب۔ اجل کے منہ سے پھرنا۔ ہلکے ضرب سے نجات پانا۔ کسی بلنے نامگان سے بچ جانا۔ اُجل۔ (اُجل۔ ع) [ع۔ صفت] بہت بزرگ۔ بڑا ذی شان۔ جلیل القند۔ اُجلا۔ (اُج۔ لا) [ع۔ صفت] (۱) صاف ستھرا۔ سفید۔ میلانی ضد (۲) دھولی۔

















ادا کرنا - (محاورہ) ناز و انداز کرنا۔

ادا نکالنا - (محاورہ) ناز و انداز پیدا کرنا۔

ادا نکلنا - (محاورہ) معشوقانہ شان پیدا کرنا۔ بائیں پیدا ہونا۔

ادا - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) پورا کرنا (۲) بیباق (۳) دینا۔ (۴) امانت کرنا (۵)

بیان۔

ادا شدہ حصے۔ کسی لمبیدہ مکین کے وہ حصے جن کی رقم ادا کر دی گئی ہو۔

ادا شدہ سرمایہ۔ کسی لمبیدہ مکین کے اعلان شدہ سرمائے کا وہ حصہ جو جمع ہو چکا ہو۔

ادا کرنا۔ (۱) بے باق کرنا۔ چچکانا (۲) بجالانا (۳) عمل میں لانا (۴) لکھنا

(۵) کہنا (۶) بھانڈنا (۷) قاعدے سے گانا (۸) پڑھنا (۹) ناملہ

اور فرات کے مطابق پڑھنا (۱۰) معشوقانہ حرکات کرنا (فقہ)

مقررہ وقت پر عبادت کرنا۔

ادا کنندہ۔ رقم یا محصول ادا کرنے والا

اولے دین۔ مرض کی ادائیگی

اولے شہادت۔ گواہی دینا۔

اولے لگان۔ لگان ادا کرنا۔

اولے مال گزارا۔ لگان ادا کرنا۔

ادارات - (۱) ادارہ (۲) دفتر (۳) محکمہ (۴) نظام منیجمنٹ سروسز

ادارات قانونی۔ کسی قانون کے تحت قائم کی ہوئی مجلسیں۔

ادارت - (۱) ادارت (۲) [ع۔ا۔مشت] (۱) ایڈیٹری۔ جریدہ نگاری (۲)

رسالہ۔ اخبار۔ کتاب وغیرہ مرتب کرنا۔

ادارہ - (۱) ادارہ (۲) دفتر (۳) محکمہ (۴) نظام منیجمنٹ سروسز

ادارہ جلدیہ۔ دفتر پوسٹل بورڈ۔ سٹی کارپوریشن۔

اداریہ - (۱) ادارہ (۲) [ع۔ا۔مشت] (۱) اخبار کے ایڈیٹر کا اپنا خاص مضمون۔

مقالہ افتتاحیہ۔ ایڈیٹریل۔ ایڈنگ آرٹیکل (۱) (Editorial)

اداس - (۱) اداس (۲) [ع۔ا۔مشت] (۱) معزوم۔ غمگین۔ رنجیدہ۔ سوگوار (۲) دیران

سونا (۳) بے رونق۔ پھیکا پھیکا۔

اداس کرنا۔ افسردہ کرنا۔ رنجیدہ کرنا۔

اداس ہونا۔ (۱) رنجیدہ اور غمگین ہونا (۲) بے رونق ہونا۔

اداسا - (۱) اداس (۲) [ع۔ا۔مشت] (۱) آزاد و فقرا اپنی اصطلاح میں

انہیں بسترے اور اوڑھنے بچھانے کو کہتے ہیں (۲) تیار (۳)

اوڑھنا بچھونا۔

اداسا کتنا۔ سامان سحر باندھنا۔ بوری بستر باندھنا۔ مادہ سفر کرنا۔

اداسا کھینچنا۔ ہر طرف سے قطع تعلق کر کے ایک طرف دھیان لگانا۔

یک سو ہونا۔

اداسی - (۱) اداسی (۲) [ع۔ا۔مشت] (۱) غمگینی (۲) دیرانی۔ بے رونقی۔

(۳) فقروں کا ایک فرقہ جو گورڈنا تک صاحب کے بیٹے کا پیر و جی

(۴) فقیر۔ جوگی۔

اداسی پریشان۔ پریشانی ظاہر ہونا۔ بے رونق معلوم ہونا۔

اداسی پھیلنا۔ سناٹا ہو جانا۔ بے رونق ہونا۔

اداسی چھانا۔ اداسی کی حالت طاری ہونا۔

ادام - (ع۔ا۔مشت) (۱) شوریہ۔ سالن

ادام - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہمیشہ رکھے۔ ہمیشہ زندہ رکھے

ادام اللہ فیہم۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ہمیشہ رکھے۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔

ادا ہٹ - (ا۔وا) [ع۔ا۔مشت] (۱) ہٹا ہٹا۔ ہٹا ہٹا۔





اُدھر ہونا یا اُدھر ہونا۔ (۱) ایک طرف ہونا۔ کسی ایک کی طرف ندری کرنا۔  
 (۲) مرجانا یا جی جانا۔  
 اُدھر۔ (اُدھر) [ہ] اُس طرف۔ اُس جانب۔ پڑے۔  
 اُدھر سے۔ (۱) اُس طرف سے۔ اُن کی جانب سے (۲) غیب سے۔  
 خدا کی طرف سے۔  
 اُدھر لاج۔ اُدھر لاج۔ (ا۔ دھ۔ راج۔ آ۔ دھ۔ نی۔ راج) [س۔ ا۔ مذ] ہمارا چکر ورتی راجہ۔ بادشاہ۔ شہنشاہ۔  
 اُدھر م۔ (اُدھر م) [ا۔ ہ۔ مذ] پاپ۔ فکرم۔ بُرا کام۔  
 اُدھرنا۔ (اُدھرنا) [ہ۔ مص] (۱) بیوں کھنا یا کھا ٹوٹنا (۲) کھل جانا  
 (۳) کھال اڈنا (۴) تباہ اور زیر بار ہونا (۵) چھت یا پوشش کھنا  
 اُلگ ہونا۔ بھمت مانکھانا۔  
 اُدھک۔ (اُدھک) [ہ۔ صف] (۱) بہت زیادہ (۲) سوا۔ فالنژ۔  
 اُدھکاڑ۔ (اُدھکاڑ) [س۔ مذ] قبضہ۔ اغتیار (۲) ورشد۔ ترکہ۔ مکان۔  
 اُدھکاری۔ (۱) دھ۔ کار۔ سی۔ حق دار۔ مستحسن۔  
 اُدھل جانا۔ (اُدھل۔ جا۔ نا) [ہ۔ مص] (۱) آوارہ اور خراب ہونا۔  
 جوش سستی میں آپسے سے باہر ہونا (۲) محورت کا غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا۔  
 اُدھم۔ (اُدھم) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) مشکلی گھوٹا۔ سیاہ رنگ کا گھوٹا (۲) بیخ کے ایک شہورادشاہ کا لقب جو تخت سلطنت چھوڑ کر تفریق بن گئے تھے۔ ابراہیم ادھم۔  
 اُدھم۔ (اُدھم۔ دھم) [ہ۔ ا۔ مذ] اُدھروصل۔ جنگا۔ مسیح۔ بیکار۔  
 اُدھم اٹھانا۔ اُدھم جوتنا۔ اُدھم مچانا۔ (معاورہ) اُدھم مچانا۔ شور مچانا۔  
 اُدھمی۔ (اُدھمی۔ دھمی) [ہ۔ صف] اُدھم مچانے والا۔  
 اُدھن۔ (اُدھن) [ا۔ ہ۔ مذ] (۱) وہ پانی جو کھوپڑی یا چاول پکانے کے واسطے جوش کیا جاتا ہے (۲) [صف] گرم۔ گھولنا۔ ہوا۔  
 اُدھواڑ۔ (اُدھ۔ واڑ) [ا۔ مٹ] بیوں بیج جہاں سے کوئی چیز اُدھل اُدھ ہو۔ درمیان۔ اوسط۔ نصف۔ نصف (۲) دین۔ ٹوٹا چاول۔  
 اُدھوت۔ (اُدھوت) [ق۔ صف] بہادر۔ طاقت ور۔  
 اُدھوتڑ۔ (اُدھوتڑ) [ا۔ ہ۔ مذ] ایک قسم کا دیسی سوتی کپڑا۔ دھوتڑ۔  
 اُدھوتی۔ (اُدھوتی) [ق۔ ا۔ مٹ] دھوتی۔  
 اُدھورا۔ (اُدھورا) [ہ۔ صف] (۱) اُدھا۔ ناتمام۔ ناقص۔ ناگمل۔ پورا کی ضد۔ (۲) کچا بچہ۔ اسقاط کا بچہ۔  
 اُدھورا پڑنا۔ پورا نہ پڑنا۔ پورا نہ ہونا۔  
 اُدھوڑی۔ (اُدھوڑی) [ا۔ ہ۔ مٹ] کچا مٹا چمڑا۔ کاسے۔ بھینس کا چمڑا۔  
 اُدھوڑی استر۔ دو جوتاجس کے استر میں اُدھوڑی اور اوزیری لگی ہوتی ہے۔  
 اُدھوڑی تاننا۔ (معاورہ) خوب پیٹ بھڑانا۔ اُنکھانا کہ پیٹ خوب تن جلتے۔  
 اُدھی۔ (اُدھی) [ہ۔ مٹ] (۱) دھڑی کا نصف پینے کا اُٹھواں حصہ (۲) ایک قسم کا نہایت نفیس باریک اور سفید سوتی کپڑا۔  
 اُدھی اُدھی پر جان جاتی ہے۔ [مٹ] بڑا تین ہے۔

اُدھار کی کیا ماں مری ہے۔ قرض مناشکل نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔  
 اُدھار لینا۔ (معاورہ) قرض لینا۔  
 اُدھار ہونا۔ (معاورہ) قرض ہونا۔ قرض چڑھنا۔  
 اُدھار رکٹ۔ (اُدھار رکٹ) [ہ۔ صف] (۱) لڈزب (۲) پانی بجے کا کھنڈے والا اُدھر۔ (اُدھر) [ہ۔ صف] (۱) مُتعلق۔ وہ چیز جو کسی پر لگی ہوئی نہ ہو۔ زمین سے الگ۔ (۲) اُدھینج۔ بے سہارا۔  
 اُدھر اُٹھالینا۔ (معاورہ) بے لاگ اُٹھالینا۔ زمین سے اُدینچا کر لینا۔  
 اُدھر کر لینا۔ مُتعلق کر لینا۔  
 اُدھر میں پڑے ہیں۔ (معاورہ) بیچ میں لٹکے ہیں۔ کسی طرف کے نہیں۔  
 نیتوئی نہیں ہے۔  
 اُدھر میں چھوڑنا۔ (معاورہ) اُدھ بیچ میں چھوڑنا۔ اُدھر کا کھنا نہ اُدھر کا بے سہارے چھوڑ دینا۔  
 اُدھر میں لکھنا۔ (معاورہ) ایک سوئی کی حالت نہ ہونا۔ نہ مرنا نہ جینا۔ بیچ میں لٹکا ہوا ہونا۔  
 اُدھر۔ (اُدھر) [ہ] اِس جانب۔ اِس طرف۔ دوسے مقرب۔ پاس۔ نزدیک۔  
 اُدھر اُدھر۔ جہاں نہاں۔ ایسی دیسی جگہ۔ یہاں دیاں۔ اِس پاس۔  
 اُدھر آیا اُدھر گیا۔ (معاورہ) ہتھوڑی دیر بھڑنا۔ ذرا قیام کرنا۔ آتے ہی چلے جانا۔ خرچ ہو جانا۔  
 اُدھر اُدھر کی باتیں۔ لغو اور بے ہودہ باتیں۔ معمولی باتیں۔  
 اُدھر سے اُدھر کرنا۔ (۱) کسی چیز کو غائب کر دینا۔ چھپا لینا (۲) ایک جگہ سے اُٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ بے ٹرتیب کر دینا۔  
 اُدھر سے اُدھر ہونا۔ (۱) کسی چیز کا بے موقع یا بے ٹھکانے ہو جانا۔  
 سرک جانا (۲) پلٹ جانا۔ غائب ہو جانا۔  
 اُدھر قبلہ اُدھر فقیر، خدیجہ سوئے کدھر۔ [مٹل] کوئی بات کرتے نہیں۔  
 بٹنی۔ یوں ہی مشکل دون ہی مشکل۔  
 اُدھر کا نہ اُدھر کا۔ (معاورہ) کسی شے میں نہیں کسی کی طرف نہیں۔  
 اُدھر کی اُدھر کرنا۔ (معاورہ) چھل کرنا۔ لگان بھائی کرنا۔  
 اُدھر کاتے اُدھر (الٹ) پلٹ جانے۔ [مٹل] آپ ہی سنائے اور آپ ہی سکر جائے۔ تکلیف پہنچائے اور کانوں پر ہاتھ رکھنے لگے۔  
 اُدھر کتوں اُدھر گھائی۔ [مٹل] ہر طرح نقصان۔ ہر صورت میں مشکل۔ کچھ کرنے میں نہیں پڑتی۔  
 اُدھر کی دُنیا اُدھر ہونا۔ (معاورہ) انقلاب عظیم ہونا۔ دُنیا پلٹ جانا۔  
 اُدھر کی نہ اُدھر کی یہ بلا کدھر سی۔ [مٹل] اِس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو کسی قابل نہ ہو۔  
 اُدھر کے نہ اُدھر کے۔ (معاورہ) دین کے نہ دُنیا کے۔ دوست کے نہ دشمن کے۔ مرد و مغلان۔  
 اُدھر ہاتھ (دینا) لانا۔ (معاورہ) جب کسی بات کی داد لینی منظور ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کرنے کے لئے ہاتھ اُدھر کرنے وقت کہتے ہیں۔

بنائی جاتی ہے (۲) جالی کاڑھنے اور کارچوبی بنانے کا مستطیل پوکھا  
(۳) جوئی جازوں۔ بسوں اور ناگوں وغیرہ کے ٹھہرنے کی جگہ (۴) کسبیا  
اور طوائفوں کے رہنے کا مقام۔ جگلا (۵) وہ جگہ جہاں کوئی شخص اکثر  
بیٹھا کرے (۶) چوکی۔ آئین (۷) جوئی کا کھڑا اور کھلا حصہ۔ ایڑی۔  
(۸) چڑیوں کے پخڑے کے اندر لکڑی یا بوسے کی بھڑ جو بیٹھنے کے لیے  
لگائی جاتی ہے (۹) بنے ہوئے کپڑے یا ٹکڑے کناری کا تھان (۱۰)  
نواڑنے کا لکڑی کا بنا ہوا ایک خاص قسم کا چوکھا۔

اُڈو اُڈو۔ (اُڈو۔ ڈو۔ ڈو) (۱۰۔ ایشٹ) ادارہ پھرنے والی عورت۔  
اُڈو اُڈو کرنا (ہونا) رسوا کرنا۔ بدنام کرنا یا ہونا۔ عجیب لگانا۔ نظروں سے  
گروانا یا گروانا۔

اُڈھنگا۔ (اُڈھ۔ ن۔ گ) (ن۔ صفت) بے ڈھنگا۔ بد وضع۔  
اُڈھی۔ (اُڈ۔ ڈی) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) جوئی کے کھلا حصہ ایڑی (۱۲) کپڑے کی وہ کٹی  
جو عورتوں کے شلو کے میں کٹوری اور آستین کے بیچ ہوتی ہے۔

اُڈیٹر (Editor) (۱۔ ڈی۔ ٹی) (۱۰۔ انگ۔ ۱۔ مذ) اخبار یا رسالے  
کو مرتب کرنے والا۔ مدیر۔

اُڈیٹوریل (Editorial) (۱۔ ڈی۔ ٹی۔ ٹی) (۱۰۔ انگ۔ ۱۔ مذ)  
مقالہ۔ اقتضاجہ۔ ادارہ۔

اُڈیشن (Edition) (۱۰۔ ڈی۔ ٹی۔ ٹی) (۱۰۔ انگ۔ ۱۔ مذ) (۱۱)  
طب۔ چھاپا (۱۲) جوڑ۔ بیج

اُڈیشنل (Additional) (۱۔ ڈی۔ ٹی۔ ٹی) (۱۰۔ انگ۔ صفت)  
بڑھا ہوا۔ اضافہ کیا گیا۔ زائد۔ نیا۔ نئے۔

ا-د

اُذآن۔ (اُذ۔ آن) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) کان میں خبر یا آواز پہنچانا (۱۲) نماز کے واسطے  
بلائے کی صدا (۱۳) مڑے کا بولنا۔ بانگ۔

اُذآن دینا۔ اُذآن کنا۔ (عامہ) بانگ دینا۔ نماز کے لیے بلانا۔

اُذغان۔ (اُذ۔ غان) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) فرمان برداری۔ طاعت (۱۲) یقین کرنا  
اعتبار۔ بھروسہ۔

اُذفر۔ (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) خالص (۱۲) تیز نور رکھنے والی چیز

اُذقان۔ (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) ذوق کی جمع۔ ٹھوڑیاں۔

اُذکار۔ (اُذ۔ کار) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) ذکر کی جمع (۱۲) بیانات (۱۳) قصے کہانیاں (۱۴)  
وعظ (۱۵) درد۔ دہلیے۔

اُذکر گیا۔ (اُذ۔ ک۔ یا) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) ذکر کی جمع۔ ذہن اور ہوشیار ہوگ

اُذلق۔ (اُذ۔ ل) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) سب سے زیادہ ذلیل۔ ذلیل ترین۔

اُذون۔ (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) حکم۔ اجازت۔ پرواگی۔ آنگہ۔

اُذون عام۔ (۱۱) اجازت (۱۲) وہ اجازت جو میت کا دارت جنازہ کی نماز کے  
بعد ضروری کام والوں کو جیلے جاسفہ کے لیے دیتا ہے۔

اُذبان۔ (اُذ۔ بان) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) ذہن کی جمع۔ عقل۔ سمجھ۔ ادراک۔

اُذیت۔ (اُذ۔ ی۔ ٹی) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) ایذا۔ دکھ۔ تکلیف۔

اُدھی اُدھی کا حساب۔ (عامہ) ذرا ذرا سی چیز کا حساب۔  
اُدھی کی چوٹیوں۔ (۱) نہایت ہتھورا کم قیمت چیز (۲) بچوں کا ایک کھلونا۔  
اُدھی کی ہانڈی بھی ہتھونک سجا کر لیتے ہیں۔ (ایشٹ) معمولی سا کام ہی  
سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔

اُدھی کے ٹون کو جاؤں لاؤ میری پانکی۔ (ایشٹ) اس شیئی خیرے کی بہت  
ہوتے ہیں جسے نئی نئی دولت ملی ہو اور وہ اپنا پھیرا بن دکھائے۔  
اُدھی کے واسطے پیسے کا تیل جلاتا۔ (ایشٹ) ٹھوڑے ٹھوڑے ٹانے کے لیے  
بہت نقصان اُٹھانا۔

اُدھیانک۔ (اُدھ۔ یا۔ پکت) (س۔ ۱۰۔ مذ) گرد۔ اُستاد۔ معلم۔

اُدھیانین۔ (اُدھ۔ یا۔ پن) (س۔ صفت) پڑھانے کا کام۔

اُدھیار۔ (اُدھ۔ یار) (۱۰۔ مذ) (۱۱) کسی جاندار میں آدھا حصہ (۱۲) آدھے  
کا مالک۔ وہ زمیندار یا کاشت کار جو گاؤں یا زمین میں آدھے مالک ہو۔

اُدھیاری۔ (اُدھ۔ یاری) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) کسی جاندار میں اُدھی حصہ داری۔

اُدھیانا۔ (اُدھ۔ یا۔ نا) آدھا کرنا۔ دو برابر حصوں میں بانٹنا۔

اُدھیائے۔ (اُدھ۔ پائے) (س۔ ۱۰۔ مذ) پانچ۔ حصہ۔ سبق۔ باب۔

اُدھیڑ۔ (اُدھ۔ ہیز) (۱۰۔ صفت) بڑھاپے اور جوانی کے درمیان متوسط عمر کا  
نوجوان اور نوجوڑھا۔

اُدھیڑ ہونا۔ متوسط عمر کا ہونا۔ ڈھلی ہوئی عمر کا ہونا۔

اُدھیڑ بن۔ (اُدھیڑ۔ بن) (۱۰۔ صفت) (۱۱) اُدھیڑنا اور بننا۔ سچ بچار  
خود فکر۔ تردد۔

اُدھیڑینا۔ (اُدھیڑ۔ دے۔ نا) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) ٹانگے توڑ دینا۔ سلائی توڑ دینا۔

چھڑی اُتار دینا۔ بہت زیادہ مارنا۔

اُدھیڑنا۔ (اُدھیڑ۔ نا) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) سیون کھولنا۔ ٹانگے الگ کرنا (۱۲) بی ہونی  
چیز کی چھٹ کھاڑنا (۱۳) پر نوجوا (۱۴) مارنا۔ پینا۔ کھال اُتارنا۔

چھڑا الگ کرنا (۱۵) لانا۔ ٹانگے کرنا (۱۶) بی ہونی چیز کھولنا۔

اُدھیلا۔ (اُدھ۔ لا) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) آدھا پیسہ۔ دھلا۔ ایک پیسے کا ۱/۲ حصہ۔

اُدھیٹی۔ (اُدھ۔ ٹی) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) آدھا دوپہ۔ ڈھیلی۔ اٹھنی۔

اُدھیٹین۔ (اُدھیٹین۔ ٹی) (س۔ صفت) (۱۱) بعد از۔ فرماں بردار۔ مطیع۔

اُدھیٹیا۔ (اُدھیٹیا۔ ٹیا) (س۔ ۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) لاجاری۔ بے بسی غریبی

اُدیان۔ (اُدیان۔ ڈی) (س۔ ۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) دین کی جمع۔ مذہب۔

اُدیب۔ (اُدیب۔ ڈی) (س۔ ۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) ادب کھلانے والا۔ انالیتی (۱۲)  
علم ادب جاننے والا۔ زبان دان۔

اُدیبانہ۔ (اُدیبانہ۔ ڈی) (س۔ ۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) ادیب سے منسوب۔

اُدیبہ۔ (اُدیبہ۔ ڈی) (س۔ ۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) علم ادب جاننے والی۔ زبان دان عورت۔

اُدیبھا۔ (اُدیبھا۔ ڈی) (س۔ ۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) کم بین۔ حاسد۔

اُدیم۔ (اُدیم۔ ڈی) (س۔ ۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) اُدھیڑی چھڑا (۱۲) سطح زمین۔

ا-ڈ

اُڈا۔ (اُڈ۔ ڈا) (۱۰۔ ایشٹ) (۱۱) وہ بیٹھا جو بالترتیب بڑوں کے بیٹھنے کو



تعلق - اشتقاق - محبت -

ارتجان - (ارت - ت - جان) (۱) جلدی کرنا (۲) بستر سوچے جلدی کرنا۔  
 ارتجالا - بے ساختہ - فی البدیہہ بے سوچے سمجھے ہونا۔  
 ارتجالان - (ارت - ت - حال) (ع - ا - نڈ) سلطت کرنا - مر جانا۔  
 ارتداد - (ارت - ت - داد) (ع - ا - نڈ) پھر جانا - مژد ہونا - اسلام چھوڑ دینا۔  
 ارتسام - (ارت - ت - سام) (ع - ا - نڈ) نقش دنگا کرنا - نقاشی کرنا۔  
 ارتعاش - (ارت - ت - عا ش) (ع - ا - نڈ) کانپنا - بخشہ - کپکپی۔  
 ارتفاح - (ارت - ت - فاح) (ع - ا - نڈ) اُد چنان - بلندی - اُبھار۔  
 ارتفاع پیمانہ - بلندی ناپنے والا۔

ارتقا - (ارت - ت - تا) (ع - صفت) (۱) اُپر چڑھنا (۲) تندرست ترقی کرنا - تندرست  
 نشوونما ہونا - بالیدگی - عروج۔  
 ارتقا کا نظریہ - وہ نظریہ جس کے مطابق مادے میں نشوونما اور تبدیلی ہوتی رہتی  
 ہے اور مادی اشیا ترقی کرتی رہتی ہیں۔ یہ نظریہ ڈارون کے نام سے  
 منسوب ہے۔

ارتقائی - (ارت - ت - تا - ای) (ع - صفت) ترقی پذیر - نشوونما - ارتقا سے تعلق۔  
 ارتکاب - (ارت - ت - کاب) (ع - ا - نڈ) (۱) اختیار کرنا - عمل کرنا - (۲) گناہ  
 کرنا - جرم کرنا۔  
 ارتکاب مجرم - جرم کرنا۔

ارتکاز - (ارت - ت - کاز) (ع - ا - نڈ) اجتماع - ایک جگہ اکٹھا ہونا - ایک مرکز  
 پر جمع ہونا

ارتقا - (ارت - ت - ا - نڈ) (۱) معنی - بیان - ترجمہ (۲) نیت - مراد - مطلب - ارادہ۔  
 ارتھ میٹک - (Arithmetic) (ارت - ت - مے - ٹیک) (انگ - ا - نڈ)  
 علم حساب - علم حساب کی کتاب۔

ارتھی - (ارت - تھی) (ارت - تھی) (۱) ہندوؤں کا جنازہ۔  
 ارتھی نکلے - (بدھما) مرجائے جنازہ نکلے۔

ارتھ - (ارت - ا - مٹھ) میراث - ترکہ - وہ مال جو کسی کے مرنے کے بعد  
 اُس کے وارث کو ملے۔

ارتج - (ارت - ج - مٹھ) (۱) قدر و قیمت (۲) جوہر - لیاقت (۳) شان و شوکت  
 ارتجاع - (ارت - جاع) (ع - ا - نڈ) (۱) دائر گنا (۲) رجوع کرنا - رجعت۔  
 ارتجاع نالین - نالین دائر کرنا۔

ارتجل - (ارت - جل) (ع - ا - نڈ) بڑے پاؤں کا آدمی (۲) وہ گھوڑا جس کا ایک پاؤں سفید ہو  
 بین اور رنگ کے ہوں۔ ایسا گھوڑا انھوں میں خیال کیا جاتا ہے۔

ارتجند - قدر و قیمت والا - ذی شان - ذی رتبہ۔  
 ارتجیٹ - (Urgent) (ارت - جیٹ) (انگ - صفت) نہایت ضروری۔

ارتکیدی - فوری - تعمیل طلب۔  
 ارتحام - (ارت - حام) (ع - ا - نڈ) زخم کی جمع ہونے والا - کوکھ۔

ارتجم - (ارت - جم) (ع - صفت) زیادہ دیر گزرنے والا - بہت دیرانی کرنے والا۔  
 ارتجم الریحین - مریضوں کا مہربان - مراد اللہ تعالیٰ۔

ارتد - (ارت - د) (ع - ا - نڈ) اُردو - ماش - ایک فطرہ۔  
 اُردو پر سفیدی - بہت نپیل مقدار میں۔

اُردو پر پڑھ کر مارنا - (محاورہ) جا دو کر کا ماش کے دانوں پر کچھ پڑھ کر کسی طرف  
 پھینکنا تاکہ جا دو کا اس پر اثر ہو جائے۔

اُردو کے آئے کی طرح اینٹھا - (مشل) بہت کڑوا ہوا خواہ کڑوا۔  
 اُردو کینٹی - (اُرد - دا - بیگ - نی) (ارت - ا - مٹھ) وہ بادری اور پتھیا ربند عورت

جو شاہی حرم سرا کے دروازے پر مہر دیتی تھی - سپاہی عورت۔  
 اُردو اس - (اُرد - واس) (ع - ا - مٹھ) (۱) اُس - امید - توقع - (۲) اُس (۳) عرض مرد  
 اللہ تعالیٰ - التبتہ التماس۔

اُردو ادا - (اُرد - دا - دا) (ع - ا - نڈ) جو ادا ہو گیا وہ کھو گیا یا ہوا اُٹا جو پانی میں  
 گونہ گونہ گھوڑے کو دیا جاتا ہے۔

اُردو ب - (اُرد - ب) (ف - ا - نڈ) (۱) دریاں میں آنے والا (۲) شطرنج کی اصطلاح  
 میں شاہ کو شکست سے بچانے کے لیے بیچ میں آنے والا مہر۔

اُردو گروڈ - (اُرد - گروڈ) (ع - ا - نڈ) چاروں طرف بچو گروڈ - گرد گرد - آس پاس۔  
 اُردو گرو پھینا - چاروں طرف گھومنا۔

اُردو لی - (انگریزی لفظ Orderly) کی اُردو شکل [ع - ا - نڈ] (۱) سپاہیہ -  
 ساتھ دہنے والا سپاہی (۲) اطلاع لانے اور لے جانے والا ہر کارہ۔

اُردو لی اُتارنا - بہت سے آدمیوں کا کسی عورت کے ساتھ باری باری جماع کرنا۔  
 اُردو لی بازار - بادشاہ اور حکام کے دوسے میں ساتھ دہنے والا بازار۔

اُردو لی ساڑھنٹ - حوالہ دہ جمدار - وار و فر۔  
 اُردو لی میں چلنا - حاکم کی سواری کے ساتھ چلنا۔

اُردو لی میں رہنا - حاکم کی سواری کے ساتھ رہنا۔  
 اُردو ڈو - (اُرد - دو) (ت - ا - نڈ) (۱) لشکر - لشکر گاہ (۲) (مٹھ) پاک دہندگی

وہ زبان جو مختلف زبانوں سے مل کر بنتی ہے۔  
 اُردو بازار - لشکر کا بازار - چھاؤنی کا بازار - صدر بازار۔

اُردو کئے مٹھلی - دلی کی اعلیٰ زبان جو قطعہ شاہی میں بولی جاتی تھی - فصیح اور  
 مستند اُردو۔

اُردو بہشت - (اُرد - وی - ب - ہشت) (ف - ا - نڈ) ایرانیوں کا دوسرا  
 میند جو ہندی میٹھ کے مطابق ہوتا ہے۔

اُردو ڈل - (اُرد - ڈل) (ع - صفت) بہت ذلیل - نہایت کمین۔  
 اُردو ڈو - (اُرد - ڈو) (ع - ا - مٹھ) تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے بگڑا استعجاب

(اُردو یہ کیا ہوا؟)  
 اُردو اُٹانا - (اُٹوٹانا) (محاورہ) چیخنا - چلانا - گرجنا۔

اُردو ڈو - (ف - ا - مٹھ) (۱) مول قیمت (ع - ح) (۲) عرت - قدر و قیمت - بزرگہ  
 ارتزاق - (اُرد - زاق) (ع - ا - نڈ) رزق کی جمع - روزیاں۔

اُردو ڈاں - (اُرد - ڈاں) (ف - صفت) سستا کم قیمت - گراں کی ضد۔  
 اُردو ڈاں جلکت گراں حکمت - (مشل) کم قیمت میں کوئی نہ کوئی عیب اُڈ

پیش قیمت میں کوئی نہ کوئی وصف ضرور ہوتا ہے۔  
 اُردو ڈاں - (اُرد - ڈاں) (ف - ا - مٹھ) (۱) سستا پن (۲) کثرت - بہتات۔

اُردو ڈاں (۳) کم تصدی - بے توقیری۔  
 اُردو ڈق - (اُرد - ڈق) غلط ہے - دیکھئے اُردو ڈق۔

اُردو ڈن - (اُرد - ڈن) (ف - ا - نڈ) ایک غلہ کا نام چینا۔



۱-۱

اُڑھ - (۱-۱-۱) [ ۱-۱-۱ ] (۱) جندہ ہنٹ۔ پیچ (۲) سدا ثقالت۔

اُڑھ بیٹھنا - (معاورہ) جند کرنا۔ صر کرنا۔ ہنٹ کرنا۔

اُڑھ جانا - (معاورہ) سب کرنا۔ جند کرنا (۲) جم جانا۔ رقم جانا۔ رک جانا۔

اُڑھ کر لینا - (معاورہ) دھرنے کے کہنا۔ بے وسول کیے نہ چھوڑنا۔ پکڑ کر لینا۔

اُڑھ کرنا - (معاورہ) سدا رہنا۔ راستہ رک کر کھڑا ہونا۔

اُڑھ کے بیٹھنا - (معاورہ) جم کر بیٹھنا۔ اس قصد سے بیٹھنا کہ جب تک کام پورا نہ ہو اُنھیں گے نہیں۔ دھرنے۔

اُڑا اُڑا - (اُڑا۔ اُڑا) [ ۱-۱-۱ ] (۱) مکان با دو بار کرنے کی آواز (۲) دریا کا کواڑا۔ اُڑا اُڑا دم۔ اُڑا اُڑا دھرم۔ اُڑا اُڑا دھرم۔ اُڑا اُڑا دھوں۔ کسی چیز کے بے تحاشا کرنے کی آواز۔

اُڑا اُڑا کر کے کرنا۔ دھماکے سے کرنا۔ مکان کا بلند آواز سے کرنا۔

اُڑا - (اُڑا) [ ۱-۱-۱ ] (۱) اُڑا اُڑا (۲) نایاب۔ کم باب۔

اُڑا آنا - (معاورہ) بہت جلد آنا تیز روی سے آنا۔

اُڑا اُڑا جانا - (معاورہ) ناپید ہو جانا۔ نایاب ہو جانا۔

اُڑا اُڑا پھرنا - (معاورہ) جملہ کشت لگانا۔ ہوا میں اُڑھ اُڑھ گشت کرنا۔

اُڑا اُڑا جانا (معاورہ) (۱) تیز تیز جانا (۲) اُڑتے ہوئے جانا (۳) مال جانا (۴) کھا جانا

اُڑا اُڑنا - (معاورہ) (۱) مشہور کر دینا (۲) موتوف کر دینا۔ بند کر دینا (۳) چوٹی کر لینا

قائب کر دینا (۴) خراج کر ڈالنا (۵) اُڑھنا۔

اُڑا لانا - (معاورہ) (۱) ہوا کی مدد سے کسی چیز کو بالا بلالانا۔ چالاک سے کوئی چیز حاصل کرنا۔

اُڑا لینا - (معاورہ) (۱) چھو لینا (۲) اس طرح لے جانا کہ معلوم نہ ہو (۳) بغیر

تسلے کوئی چیز دیکھ کر کچھ لینا۔ ہیرہ ہونقل کر لینا۔

اُڑان - (اُڑان) [ ۱-۱-۱ ] (۱) اُڑان۔ (۲) اُڑان۔ (۳) اُڑان۔ (۴) اُڑان۔ (۵) اُڑان۔ (۶) اُڑان۔ (۷) اُڑان۔ (۸) اُڑان۔ (۹) اُڑان۔ (۱۰) اُڑان۔ (۱۱) اُڑان۔ (۱۲) اُڑان۔ (۱۳) اُڑان۔ (۱۴) اُڑان۔ (۱۵) اُڑان۔ (۱۶) اُڑان۔ (۱۷) اُڑان۔ (۱۸) اُڑان۔ (۱۹) اُڑان۔ (۲۰) اُڑان۔ (۲۱) اُڑان۔ (۲۲) اُڑان۔ (۲۳) اُڑان۔ (۲۴) اُڑان۔ (۲۵) اُڑان۔ (۲۶) اُڑان۔ (۲۷) اُڑان۔ (۲۸) اُڑان۔ (۲۹) اُڑان۔ (۳۰) اُڑان۔ (۳۱) اُڑان۔ (۳۲) اُڑان۔ (۳۳) اُڑان۔ (۳۴) اُڑان۔ (۳۵) اُڑان۔ (۳۶) اُڑان۔ (۳۷) اُڑان۔ (۳۸) اُڑان۔ (۳۹) اُڑان۔ (۴۰) اُڑان۔ (۴۱) اُڑان۔ (۴۲) اُڑان۔ (۴۳) اُڑان۔ (۴۴) اُڑان۔ (۴۵) اُڑان۔ (۴۶) اُڑان۔ (۴۷) اُڑان۔ (۴۸) اُڑان۔ (۴۹) اُڑان۔ (۵۰) اُڑان۔ (۵۱) اُڑان۔ (۵۲) اُڑان۔ (۵۳) اُڑان۔ (۵۴) اُڑان۔ (۵۵) اُڑان۔ (۵۶) اُڑان۔ (۵۷) اُڑان۔ (۵۸) اُڑان۔ (۵۹) اُڑان۔ (۶۰) اُڑان۔ (۶۱) اُڑان۔ (۶۲) اُڑان۔ (۶۳) اُڑان۔ (۶۴) اُڑان۔ (۶۵) اُڑان۔ (۶۶) اُڑان۔ (۶۷) اُڑان۔ (۶۸) اُڑان۔ (۶۹) اُڑان۔ (۷۰) اُڑان۔ (۷۱) اُڑان۔ (۷۲) اُڑان۔ (۷۳) اُڑان۔ (۷۴) اُڑان۔ (۷۵) اُڑان۔ (۷۶) اُڑان۔ (۷۷) اُڑان۔ (۷۸) اُڑان۔ (۷۹) اُڑان۔ (۸۰) اُڑان۔ (۸۱) اُڑان۔ (۸۲) اُڑان۔ (۸۳) اُڑان۔ (۸۴) اُڑان۔ (۸۵) اُڑان۔ (۸۶) اُڑان۔ (۸۷) اُڑان۔ (۸۸) اُڑان۔ (۸۹) اُڑان۔ (۹۰) اُڑان۔ (۹۱) اُڑان۔ (۹۲) اُڑان۔ (۹۳) اُڑان۔ (۹۴) اُڑان۔ (۹۵) اُڑان۔ (۹۶) اُڑان۔ (۹۷) اُڑان۔ (۹۸) اُڑان۔ (۹۹) اُڑان۔ (۱۰۰) اُڑان۔

دیوار یا چھت کو سہارا دینے کے لیے۔

اُڑان - (اُڑان) [ ۱-۱-۱ ] (۱) اُڑان۔ (۲) اُڑان۔ (۳) اُڑان۔ (۴) اُڑان۔ (۵) اُڑان۔ (۶) اُڑان۔ (۷) اُڑان۔ (۸) اُڑان۔ (۹) اُڑان۔ (۱۰) اُڑان۔ (۱۱) اُڑان۔ (۱۲) اُڑان۔ (۱۳) اُڑان۔ (۱۴) اُڑان۔ (۱۵) اُڑان۔ (۱۶) اُڑان۔ (۱۷) اُڑان۔ (۱۸) اُڑان۔ (۱۹) اُڑان۔ (۲۰) اُڑان۔ (۲۱) اُڑان۔ (۲۲) اُڑان۔ (۲۳) اُڑان۔ (۲۴) اُڑان۔ (۲۵) اُڑان۔ (۲۶) اُڑان۔ (۲۷) اُڑان۔ (۲۸) اُڑان۔ (۲۹) اُڑان۔ (۳۰) اُڑان۔ (۳۱) اُڑان۔ (۳۲) اُڑان۔ (۳۳) اُڑان۔ (۳۴) اُڑان۔ (۳۵) اُڑان۔ (۳۶) اُڑان۔ (۳۷) اُڑان۔ (۳۸) اُڑان۔ (۳۹) اُڑان۔ (۴۰) اُڑان۔ (۴۱) اُڑان۔ (۴۲) اُڑان۔ (۴۳) اُڑان۔ (۴۴) اُڑان۔ (۴۵) اُڑان۔ (۴۶) اُڑان۔ (۴۷) اُڑان۔ (۴۸) اُڑان۔ (۴۹) اُڑان۔ (۵۰) اُڑان۔ (۵۱) اُڑان۔ (۵۲) اُڑان۔ (۵۳) اُڑان۔ (۵۴) اُڑان۔ (۵۵) اُڑان۔ (۵۶) اُڑان۔ (۵۷) اُڑان۔ (۵۸) اُڑان۔ (۵۹) اُڑان۔ (۶۰) اُڑان۔ (۶۱) اُڑان۔ (۶۲) اُڑان۔ (۶۳) اُڑان۔ (۶۴) اُڑان۔ (۶۵) اُڑان۔ (۶۶) اُڑان۔ (۶۷) اُڑان۔ (۶۸) اُڑان۔ (۶۹) اُڑان۔ (۷۰) اُڑان۔ (۷۱) اُڑان۔ (۷۲) اُڑان۔ (۷۳) اُڑان۔ (۷۴) اُڑان۔ (۷۵) اُڑان۔ (۷۶) اُڑان۔ (۷۷) اُڑان۔ (۷۸) اُڑان۔ (۷۹) اُڑان۔ (۸۰) اُڑان۔ (۸۱) اُڑان۔ (۸۲) اُڑان۔ (۸۳) اُڑان۔ (۸۴) اُڑان۔ (۸۵) اُڑان۔ (۸۶) اُڑان۔ (۸۷) اُڑان۔ (۸۸) اُڑان۔ (۸۹) اُڑان۔ (۹۰) اُڑان۔ (۹۱) اُڑان۔ (۹۲) اُڑان۔ (۹۳) اُڑان۔ (۹۴) اُڑان۔ (۹۵) اُڑان۔ (۹۶) اُڑان۔ (۹۷) اُڑان۔ (۹۸) اُڑان۔ (۹۹) اُڑان۔ (۱۰۰) اُڑان۔

اُڑان کھائی - (معاورہ) (۱) بندھی ہوئی چوٹیں (۲) انگلیوں کی جڑ کا حصہ (۳) شہباز

چالاک - ہوشیاری - فریب دہی۔

اُڑان کھائی تیا ناسل (معاورہ) انہی مارنا۔ غاینا۔ دھوکہ دینا۔ فریب دینا۔ بہکانا۔

اُڑانا - (اُڑانا) [ ۱-۱-۱ ] (۱) اُڑانا۔ (۲) اُڑانا۔ (۳) اُڑانا۔ (۴) اُڑانا۔ (۵) اُڑانا۔ (۶) اُڑانا۔ (۷) اُڑانا۔ (۸) اُڑانا۔ (۹) اُڑانا۔ (۱۰) اُڑانا۔ (۱۱) اُڑانا۔ (۱۲) اُڑانا۔ (۱۳) اُڑانا۔ (۱۴) اُڑانا۔ (۱۵) اُڑانا۔ (۱۶) اُڑانا۔ (۱۷) اُڑانا۔ (۱۸) اُڑانا۔ (۱۹) اُڑانا۔ (۲۰) اُڑانا۔ (۲۱) اُڑانا۔ (۲۲) اُڑانا۔ (۲۳) اُڑانا۔ (۲۴) اُڑانا۔ (۲۵) اُڑانا۔ (۲۶) اُڑانا۔ (۲۷) اُڑانا۔ (۲۸) اُڑانا۔ (۲۹) اُڑانا۔ (۳۰) اُڑانا۔ (۳۱) اُڑانا۔ (۳۲) اُڑانا۔ (۳۳) اُڑانا۔ (۳۴) اُڑانا۔ (۳۵) اُڑانا۔ (۳۶) اُڑانا۔ (۳۷) اُڑانا۔ (۳۸) اُڑانا۔ (۳۹) اُڑانا۔ (۴۰) اُڑانا۔ (۴۱) اُڑانا۔ (۴۲) اُڑانا۔ (۴۳) اُڑانا۔ (۴۴) اُڑانا۔ (۴۵) اُڑانا۔ (۴۶) اُڑانا۔ (۴۷) اُڑانا۔ (۴۸) اُڑانا۔ (۴۹) اُڑانا۔ (۵۰) اُڑانا۔ (۵۱) اُڑانا۔ (۵۲) اُڑانا۔ (۵۳) اُڑانا۔ (۵۴) اُڑانا۔ (۵۵) اُڑانا۔ (۵۶) اُڑانا۔ (۵۷) اُڑانا۔ (۵۸) اُڑانا۔ (۵۹) اُڑانا۔ (۶۰) اُڑانا۔ (۶۱) اُڑانا۔ (۶۲) اُڑانا۔ (۶۳) اُڑانا۔ (۶۴) اُڑانا۔ (۶۵) اُڑانا۔ (۶۶) اُڑانا۔ (۶۷) اُڑانا۔ (۶۸) اُڑانا۔ (۶۹) اُڑانا۔ (۷۰) اُڑانا۔ (۷۱) اُڑانا۔ (۷۲) اُڑانا۔ (۷۳) اُڑانا۔ (۷۴) اُڑانا۔ (۷۵) اُڑانا۔ (۷۶) اُڑانا۔ (۷۷) اُڑانا۔ (۷۸) اُڑانا۔ (۷۹) اُڑانا۔ (۸۰) اُڑانا۔ (۸۱) اُڑانا۔ (۸۲) اُڑانا۔ (۸۳) اُڑانا۔ (۸۴) اُڑانا۔ (۸۵) اُڑانا۔ (۸۶) اُڑانا۔ (۸۷) اُڑانا۔ (۸۸) اُڑانا۔ (۸۹) اُڑانا۔ (۹۰) اُڑانا۔ (۹۱) اُڑانا۔ (۹۲) اُڑانا۔ (۹۳) اُڑانا۔ (۹۴) اُڑانا۔ (۹۵) اُڑانا۔ (۹۶) اُڑانا۔ (۹۷) اُڑانا۔ (۹۸) اُڑانا۔ (۹۹) اُڑانا۔ (۱۰۰) اُڑانا۔

(۳) شامل کرنا۔ ملانا۔ شریک کرنا (۴) [ ۱-۱-۱ ] اُڑانا اور مٹا اُڑان۔ رقم ستون۔

وہ مضبوط لکڑی جو دیوار یا چھت کے سنبھالنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔

اُڑانا - (اُڑانا) [ ۱-۱-۱ ] (۱) اُڑانا۔ (۲) اُڑانا۔ (۳) اُڑانا۔ (۴) اُڑانا۔ (۵) اُڑانا۔ (۶) اُڑانا۔ (۷) اُڑانا۔ (۸) اُڑانا۔ (۹) اُڑانا۔ (۱۰) اُڑانا۔ (۱۱) اُڑانا۔ (۱۲) اُڑانا۔ (۱۳) اُڑانا۔ (۱۴) اُڑانا۔ (۱۵) اُڑانا۔ (۱۶) اُڑانا۔ (۱۷) اُڑانا۔ (۱۸) اُڑانا۔ (۱۹) اُڑانا۔ (۲۰) اُڑانا۔ (۲۱) اُڑانا۔ (۲۲) اُڑانا۔ (۲۳) اُڑانا۔ (۲۴) اُڑانا۔ (۲۵) اُڑانا۔ (۲۶) اُڑانا۔ (۲۷) اُڑانا۔ (۲۸) اُڑانا۔ (۲۹) اُڑانا۔ (۳۰) اُڑانا۔ (۳۱) اُڑانا۔ (۳۲) اُڑانا۔ (۳۳) اُڑانا۔ (۳۴) اُڑانا۔ (۳۵) اُڑانا۔ (۳۶) اُڑانا۔ (۳۷) اُڑانا۔ (۳۸) اُڑانا۔ (۳۹) اُڑانا۔ (۴۰) اُڑانا۔ (۴۱) اُڑانا۔ (۴۲) اُڑانا۔ (۴۳) اُڑانا۔ (۴۴) اُڑانا۔ (۴۵) اُڑانا۔ (۴۶) اُڑانا۔ (۴۷) اُڑانا۔ (۴۸) اُڑانا۔ (۴۹) اُڑانا۔ (۵۰) اُڑانا۔ (۵۱) اُڑانا۔ (۵۲) اُڑانا۔ (۵۳) اُڑانا۔ (۵۴) اُڑانا۔ (۵۵) اُڑانا۔ (۵۶) اُڑانا۔ (۵۷) اُڑانا۔ (۵۸) اُڑانا۔ (۵۹) اُڑانا۔ (۶۰) اُڑانا۔ (۶۱) اُڑانا۔ (۶۲) اُڑانا۔ (۶۳) اُڑانا۔ (۶۴) اُڑانا۔ (۶۵) اُڑانا۔ (۶۶) اُڑانا۔ (۶۷) اُڑانا۔ (۶۸) اُڑانا۔ (۶۹) اُڑانا۔ (۷۰) اُڑانا۔ (۷۱) اُڑانا۔ (۷۲) اُڑانا۔ (۷۳) اُڑانا۔ (۷۴) اُڑانا۔ (۷۵) اُڑانا۔ (۷۶) اُڑانا۔ (۷۷) اُڑانا۔ (۷۸) اُڑانا۔ (۷۹) اُڑانا۔ (۸۰) اُڑانا۔ (۸۱) اُڑانا۔ (۸۲) اُڑانا۔ (۸۳) اُڑانا۔ (۸۴) اُڑانا۔ (۸۵) اُڑانا۔ (۸۶) اُڑانا۔ (۸۷) اُڑانا۔ (۸۸) اُڑانا۔ (۸۹) اُڑانا۔ (۹۰) اُڑانا۔ (۹۱) اُڑانا۔ (۹۲) اُڑانا۔ (۹۳) اُڑانا۔ (۹۴) اُڑانا۔ (۹۵) اُڑانا۔ (۹۶) اُڑانا۔ (۹۷) اُڑانا۔ (۹۸) اُڑانا۔ (۹۹) اُڑانا۔ (۱۰۰) اُڑانا۔

کرنا ہونا۔ (۲) سخت آواز سے ہونا۔

اُڑانا - (اُڑانا) [ ۱-۱-۱ ] (۱) اُڑانا۔ (۲) اُڑانا۔ (۳) اُڑانا۔ (۴) اُڑانا۔ (۵) اُڑانا۔ (۶) اُڑانا۔ (۷) اُڑانا۔ (۸) اُڑانا۔ (۹) اُڑانا۔ (۱۰) اُڑانا۔ (۱۱) اُڑانا۔ (۱۲) اُڑانا۔ (۱۳) اُڑانا۔ (۱۴) اُڑانا۔ (۱۵) اُڑانا۔ (۱۶) اُڑانا۔ (۱۷) اُڑانا۔ (۱۸) اُڑانا۔ (۱۹) اُڑانا۔ (۲۰) اُڑانا۔ (۲۱) اُڑانا۔ (۲۲) اُڑانا۔ (۲۳) اُڑانا۔ (۲۴) اُڑانا۔ (۲۵) اُڑانا۔ (۲۶) اُڑانا۔ (۲۷) اُڑانا۔ (۲۸) اُڑانا۔ (۲۹) اُڑانا۔ (۳۰) اُڑانا۔ (۳۱) اُڑانا۔ (۳۲) اُڑانا۔ (۳۳) اُڑانا۔ (۳۴) اُڑانا۔ (۳۵) اُڑانا۔ (۳۶) اُڑانا۔ (۳۷) اُڑانا۔ (۳۸) اُڑانا۔ (۳۹) اُڑانا۔ (۴۰) اُڑانا۔ (۴۱) اُڑانا۔ (۴۲) اُڑانا۔ (۴۳) اُڑانا۔ (۴۴) اُڑانا۔ (۴۵) اُڑانا۔ (۴۶) اُڑانا۔ (۴۷) اُڑانا۔ (۴۸) اُڑانا۔ (۴۹) اُڑانا۔ (۵۰) اُڑانا۔ (۵۱) اُڑانا۔ (۵۲) اُڑانا۔ (۵۳) اُڑانا۔ (۵۴) اُڑانا۔ (۵۵) اُڑانا۔ (۵۶) اُڑانا۔ (۵۷) اُڑانا۔ (۵۸) اُڑانا۔ (۵۹) اُڑانا۔ (۶۰) اُڑانا۔ (۶۱) اُڑانا۔ (۶۲) اُڑانا۔ (۶۳) اُڑانا۔ (۶۴) اُڑانا۔ (۶۵) اُڑانا۔ (۶۶) اُڑانا۔ (۶۷) اُڑانا۔ (۶۸) اُڑانا۔ (۶۹) اُڑانا۔ (۷۰) اُڑانا۔ (۷۱) اُڑانا۔ (۷۲) اُڑانا۔ (۷۳) اُڑانا۔ (۷۴) اُڑانا۔ (۷۵) اُڑانا۔ (۷۶) اُڑانا۔ (۷۷) اُڑانا۔ (۷۸) اُڑانا۔ (۷۹) اُڑانا۔ (۸۰) اُڑانا۔ (۸۱) اُڑانا۔ (۸۲) اُڑانا۔ (۸۳) اُڑانا۔ (۸۴) اُڑانا۔ (۸۵) اُڑانا۔ (۸۶) اُڑانا۔ (۸۷) اُڑانا۔ (۸۸) اُڑانا۔ (۸۹) اُڑانا۔ (۹۰) اُڑانا۔ (۹۱) اُڑانا۔ (۹۲) اُڑانا۔ (۹۳) اُڑانا۔ (۹۴) اُڑانا۔ (۹۵) اُڑانا۔ (۹۶) اُڑانا۔ (۹۷) اُڑانا۔ (۹۸) اُڑانا۔ (۹۹) اُڑانا۔ (۱۰۰) اُڑانا۔

دُغیرہ کو فضا میں پہنچانا (۲) کاٹنا۔ تراشنا۔ کترنا۔ جدا کرنا (۳) بغیر تیلے کوئی

کام دیکھ کر سیکھ لینا۔ ہیرہ ہونقل کرنا (۴) چمرا کر لانا۔ محنت حاصل کرنا۔

چھپانا (۵) اکھاڑنا۔ خراب کرنا۔ جھمنے نہ دینا۔ نکالنا۔ موتوف کرنا (۶) اُڑانا

اُن سنی کرنا۔ بھلا دینا (۷) دُور کرنا۔ پوسے کرنا۔ ہٹانا۔ صانع کرنا (۸)

اُڑاج لگی رہنا۔ (معاورہ) نیت لگی رہنا۔

اُڑاج نہ شرتائے۔ (معاورہ) عورتیں کسی مرنے کے بُرائی کرتی ہیں تو یہ لکڑی بُرائی پڑتی ہیں۔

اُڑوپت - (اُڑوپت) [ ۱-۱-۱ ] (۱) بھدراپن۔ بد معاشی (۲) [صفت] بد شکل۔

اُڑوپا - (اُڑوپا) [ انگریزی یورپ (Europe) کا مغرب حصہ ] - اُڑوپا۔

اُڑوپائی - (اُڑوپائی) [ صفت ] یورپی۔ یورپ والا۔ یورپ سے متعلق۔

اُڑوپڑا - (اُڑوپڑا) [ صفت ] پنجابی ہندوؤں کی ایک ذات۔

اُڑوگی - (اُڑوگی) [ صفت ] جسے کوئی سیاری نہ ہو۔ بھلا جیگا۔

اُڑول - (اُڑول) [ صفت ] اُدھوڑی جو گھوڑے کے کان کی جڑ میں گرن

کی طرف ہوتی ہے اور دونوں طرف مبارک اور ایک طرف بُری خیال

کی جاتی ہے۔

اُڑولی - (اُڑولی) [ صفت ] ایک قسم کا سفید اور مٹا کاغذ۔

اُڑول گھڑوں - (اُڑول گھڑوں) [ صفت ] بچوں کا ایک کھیل۔ چھوٹے نیچے پاؤں پھیل کر ڈالنے پھیرنے

جانتے ہیں اور یہ اناٹا کھتے جاتے ہیں

اُڑوی - (اُڑوی) [ صفت ] ایک قسم کی دار ترکاری جو جڑ کی قسم سے ہوتی ہے

گھیاں۔

اُڑوہ - (اُڑوہ) [ صفت ] لکڑی چیرنے کا اوزار۔ اُڑوہ۔

اُڑو کش - (اُڑو کش) [ صفت ] لکڑی چیرنے والا۔

اُڑوسر - (اُڑوسر) [ صفت ] ایک غلہ جس کی مال پکا کر کھاتے ہیں۔

اُڑوسر کی مٹی گرائی نالا۔ [ مٹی ] ناموزوں کام۔ خوب مناسب چیزوں کا میل۔

اُڑوی - (اُڑوی) [ صفت ] بیل یا نیکے کی پٹھری جس کے سرے پر لوہے

کی نیچکی لگی ہوتی ہے۔

اُڑوی - (اُڑوی) [ صفت ] کم ڈبیر عورت کے لیے۔

اُڑوسے - (اُڑوسے) [ صفت ] (۱) اُڑوسے۔ (۲) اُڑوسے۔ (۳) اُڑوسے۔ (۴) اُڑوسے۔ (۵) اُڑوسے۔ (۶) اُڑوسے۔ (۷) اُڑوسے۔ (۸) اُڑوسے۔ (۹) اُڑوسے۔ (۱۰) اُڑوسے۔ (۱۱) اُڑوسے۔ (۱۲) اُڑوسے۔ (۱۳) اُڑوسے۔ (۱۴) اُڑوسے۔ (۱۵) اُڑوسے۔ (۱۶) اُڑوسے۔ (۱۷) اُڑوسے۔ (۱۸) اُڑوسے۔ (۱۹) اُڑوسے۔ (۲۰) اُڑوسے۔ (۲۱) اُڑوسے۔ (۲۲) اُڑوسے۔ (۲۳) اُڑوسے۔ (۲۴) اُڑوسے۔ (۲۵) اُڑوسے۔ (۲۶) اُڑوسے۔ (۲۷) اُڑوسے۔ (۲۸) اُڑوسے۔ (۲۹) اُڑوسے۔ (۳۰) اُڑوسے۔ (۳۱) اُڑوسے۔ (۳۲) اُڑوسے۔ (۳۳) اُڑوسے۔ (۳۴) اُڑوسے۔ (۳۵) اُڑوسے۔ (۳۶) اُڑوسے۔ (۳۷) اُڑوسے۔ (۳۸) اُڑوسے۔ (۳۹) اُڑوسے۔ (۴۰) اُڑوسے۔ (۴۱) اُڑوسے۔ (۴۲) اُڑوسے۔ (۴۳) اُڑوسے۔ (۴۴) اُڑوسے۔ (۴۵) اُڑوسے۔ (۴۶) اُڑوسے۔ (۴۷) اُڑوسے۔ (۴۸) اُڑوسے۔ (۴۹) اُڑوسے۔ (۵۰) اُڑوسے۔ (۵۱) اُڑوسے۔ (۵۲) اُڑوسے۔ (۵۳) اُڑوسے۔ (۵۴) اُڑوسے۔ (۵۵) اُڑوسے۔ (۵۶) اُڑوسے۔ (۵۷) اُڑوسے۔ (۵۸) اُڑوسے۔ (۵۹) اُڑوسے۔ (۶۰) اُڑوسے۔ (۶۱) اُڑوسے۔ (۶۲) اُڑوسے۔ (۶۳) اُڑوسے۔ (۶۴) اُڑوسے۔ (۶۵) اُڑوسے۔ (۶۶) اُڑوسے۔ (۶۷) اُڑوسے۔ (۶۸) اُڑوسے۔ (۶۹) اُڑوسے۔ (۷۰) اُڑوسے۔ (۷۱) اُڑوسے۔ (۷۲) اُڑوسے۔ (۷۳) اُڑوسے۔ (۷۴) اُڑوسے۔ (۷۵) اُڑوسے۔ (۷۶) اُڑوسے۔ (۷۷) اُڑوسے۔ (۷۸) اُڑوسے۔ (۷۹) اُڑوسے۔ (۸۰) اُڑوسے۔ (۸۱) اُڑوسے۔ (۸۲) اُڑوسے۔ (۸۳) اُڑوسے۔ (۸۴) اُڑوسے۔ (۸۵) اُڑوسے۔ (۸۶) اُڑوسے۔ (۸۷) اُڑوسے۔ (۸۸) اُڑوسے۔ (۸۹) اُڑوسے۔ (۹۰) اُڑوسے۔ (۹۱) اُڑوسے۔ (۹۲) اُڑوسے۔ (۹۳) اُڑوسے۔ (۹۴) اُڑوسے۔ (۹۵) اُڑوسے۔ (۹۶) اُڑوسے۔ (۹۷) اُڑوسے۔ (۹۸) اُڑوسے۔ (۹۹) اُڑوسے۔ (۱۰۰) اُڑوسے۔

اُسے ترے کرنا۔ (معاورہ) بے ادبی سے بولنا۔ اُسے تیرے کرنا۔ گستاخی سے

پیش آنا۔

اُسے رے رے۔ (معاورہ) نہایت جیرانی اور تعجب ظاہر کرنے کے

موتوغ پر بولتے ہیں۔

اُسے لوگو۔ اُسے اُڑوسے۔ اُسے اُڑوسے!

اُڑوسے - (اُڑوسے) [ صفت ] اُڑوسے۔ ترجمہ۔

اُڑوسے دار پا جا مہ۔ اُڑوسے دار پا جا مہ کی متری اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پٹنڈی سے

چپک جاتی ہے۔

اُڑوسے کی باتیں۔ پیچیدہ باتیں۔ پیسواں باتیں۔ فریب کی باتیں۔ دھوکے

کا گفتگو۔

اُڑوسے کی چال۔ دغا و فریب کی بات۔ ڈبھی چال۔

اُڑوسے - (اُڑوسے) [ صفت ] اُڑوسے۔ ترجمہ۔

اُڑوسے - (صفت) عضلندہ۔ دانا۔



بڑھا ہوا ہے۔

اڑھنا۔ [ق۔ مص] اڑنا۔ ٹرکنا۔ ٹھہرنا۔

اڑھتیا۔ (اڑھی۔ یا) [ہ۔ امت] (۱) ڈھائی سیر کا وزن ۲ اڑھائی گنے کا پھاڑا۔

(۳) بچوں کی اصطلاح میں سنجہ (زمنل تارے) کا ایک مقام۔

اڑھی۔ (اڑھی۔ امت) [ہ۔ امت] (۱) مشکل یعنی مصیبت۔ (۲) ضرورت جہاں

(۳) تمار بازوں کی اصطلاح میں شکل داؤں۔

اڑھی مار۔ (۱) بار بار (۲) فریبی۔ رغا باز

اڑھی مشکل۔ مشکل میں مشکل۔

اڑھی اڑھی طاق پوٹھی۔ [مثل] زور زور مشور ہو گئی

اڑھی بڑھی بانٹ۔ [ہ۔ امت] افزا۔ یک ناقابل اختیار۔

اڑھی ڈالی ناضی کے سر ٹری۔ [مثل] بھال بھال اپنے سر آدے۔ دوسرے کی مصیبت اپنے سر پر بنا۔

اڑھے تھڑے ہیں۔ (اڑھے۔ تھ۔ ٹے۔ میں) [ہ] ضرورت کے وقت۔ مصیبت کے وقت۔

اڑھے وقت۔ (محاورہ) (اڑھے۔ وقت) [ہ۔ امت] مصیبت کے وقت اڑھے وقت کا گھنٹا [مثل] اس چیز کے متعلق کتنے ہیں جو سخت ضرورت سے وقت کام آنے کے قابل ہو۔

اڑھے ہڑھائے (اڑھے۔ ہڑے۔ اڑے۔ جائے) [ہ] تباہ ہو۔ برباد ہو جائے۔

پند ہو جائے۔ (بددعا)

اڑھے اڑھے پھرتے ہو۔ [ہ] (محاورہ) دکھائی نہیں دیتے ملتے نہیں۔

قابو میں نہیں آتے۔

اڑھل۔ (اڑھل۔ ہ) [ہ۔ صفت] اڑھلنے والا۔ صندی۔ ہٹیل۔ سرکش۔

اڑھیج۔ (اڑھیج۔ امت) [ہ۔ امت] کبھت۔ بید۔ عداوت۔ دشمنی

اڑھیج رکھنا۔ دشمنی رکھنا۔ بغض رکھنا۔

اڑھیج کھانا۔ دشمنی کا بدلہ لینا۔

## از۔

از۔ [ف۔ حرف جر سے

ازا بند اتانا انتہا۔ (ف) شروع سے آخر تک۔

ازاں۔ (ازاں) [ف] س سے۔

ازاں بعد۔ [ف] اس کے بعد۔ اس وقت تک۔

ازاں جملہ۔ سب میں سے۔ ان میں سے۔

ازاں کر۔ لوگ بابی۔ زبانی یاد کر لینا۔ حفظ کر لینا۔

ازاں کر۔ لوگ لینا۔ زبانی یاد کر لینا۔ حفظ کر لینا۔

ازاں سائے خدا۔ خدا کے لیے خدا کے واسطے۔

ازاںس۔ (۱) ہمت زیادہ۔ نہایت۔ (۲) تہمیر غرض نہایت۔

ازاںس کہ۔ [ف۔ حرف شرط] جو کہ۔

ازاںس نہایت۔ بے حد۔ حد سے زیادہ۔

ازاںس خرداں خطا داں بزرگان عطا۔ [مثل] چھوڑوں سے غلطی ہوتی ہے بڑوں

(۲۳) جلنا۔ شعلہ دینا (۲۵) پھیلنا۔ مشہور ہونا (۲۶) رنگ پھیکا پڑنا

(۲۷) پریشان دیر آگندہ ہونا (۲۸) عیش و عشرت کرنا (۲۹) تیز چلنا۔

(۳۰) ہنسی مذاق ہونا۔

اڑ (ناگن) ناگنی۔ (اڑ۔ ناگنی۔ ناگ۔ فی) [ہ۔ امت] (۱) سابقین جو اڑ کے

کاٹی ہے (۲) مجازاً غصے والی عورت جھگڑا اور عورت

اڑ کھو۔ (اڑ۔ کھو) [ہ۔ صفت] اڑنے والا۔ اڑنے کی صلاحیت رکھنے والا جو اڑ سکے۔

اڑنگ۔ (اڑنگ۔ امت) [ہ۔ امت] ڈھیر۔ انبار۔

اڑنگ بڑنگ۔ (۱) بھول اوجھے سرو یا بامیں بے تکی باتیں (۲) بیچ دار محمد مار

ٹپڑھا (۳) لوگوں کا کھیل۔

اڑنگ بڑنگ ہو جانا۔ (محاورہ) جگہ سے ہٹ جانا بے ترتیب ہو جانا۔

اڑنگا۔ (اڑنگ۔ گ) [ہ۔ امت] (۱) کشتی کا ایک بیچ جس سے حریف کو اڑس کی

ٹانگ میں اپنی اڑی ٹانگ اڑی کی طرح مار کر گرا دیتے ہیں (۲) روک۔ اڑ۔

مزاحمت۔ وقت۔ رخنہ۔

اڑنگا لگانا۔ (محاورہ) ہوتے ہوئے کام کو روک دینا۔ رخنہ ڈالنا۔ خارج ہونا۔

اڑنگا مارنا۔ (محاورہ) (۱) اڑنگے کا بیچ کرنا (۲) خارج ہونا۔ سدراہ ہونا

رخنہ انداز ہونا۔

اڑنگے پر (پڑھانا) مارنا۔ اڑنگے پر چڑھا کر مارنا۔ (محاورہ) داؤں پر

چڑھانا۔ فریب دے کر قابو میں لانا۔

اڑواڑ۔ (اڑ۔ واڑ) [ہ۔ امت] ٹیک۔ ٹھوٹی۔ ستون۔ کھم۔ اڑان۔ اڑانا

وہ کڑی جو ہجرت وغیرہ کے بیچے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ گزے نہیں۔

اڑوس پڑوس۔ (اڑوس۔ پ۔ پڑوس) [ہ۔ امت] قرب و حوار۔ آس پاس۔

اڑوسی پڑوسی۔ (اڑوسی۔ پ۔ پڑوسی) [ہ۔ امت] آس پاس کا رہنے والا

ہم سارے۔

اڑھانا۔ (اڑھانا) [ہ۔ مص] اڑھنا کا متعدی المتعدی۔

اڑھائی۔ (اڑھائی) [ہ۔ صفت] دوا اور آدھا۔ ڈھائی۔

اڑھائی اچھر۔ مختصر سخن نہایت پُر تاثر باتیں۔

اڑھائی اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔ اڑھائی چاول الگ گلانا۔ (محاورہ)

سب سے الگ رائے رکھنا۔

اڑھائی بکائن میاں باغ میں کافی حرم محل خانہ میں۔ [مثل] جب کوئی

بے حقیقت آدمی نئی بات سے توجہ پھیل گئے ہیں۔ کم ظرف ہے۔ اوجھل ہے۔

اڑھائی جیلو لہو (پینا) پی لینا۔ مار ڈالنا۔ (محاورہ) نہایت غصہ کی حالت میں

کتنی ہیں)۔

اڑھائی دن سقے نے بھی بادشاہت کی ہے [مثل] انقلاب زمانہ

سے کبھی اڑھائی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے (نظام سقے کی طرف اشارہ

ہے جس سے ہمایوں کی جان بچائی گئی اور اس کے عوض ہمایوں نے اسے

ڈھائی دن کے لیے بادشاہ بنا یا تھا)

اڑھائی دن کی بادشاہت۔ [مثل] ناپائدار یا تھوڑے دنوں کی حکومت

اڑھائی گھڑی کی موت آئے۔ (بددعا) فرما مر جائے۔

اڑھائی ہانڈھی کی گڈھی نو ہانڈھی کا بیج۔ [مثل] بچہ شرارت میں ماں سے بھی





اس-1

اس- [اشارہ قریب اور ضمیر حاضر] یہ- یہی-  
 اس بارنگ کی ادبھی ہوا ہے۔ [مثل] یہاں کے طور طریقے انک ہیں۔  
 یہاں ضرورت حال مختلف ہے۔  
 اس برتنے پر تنستا بانی۔ [مثل] ناقابلیت پر یافت کا دعویٰ نامردی پر  
 مردی کا اظہار۔  
 اس مہول کا خدا حافظ۔ [مثل] اس مہول کا کوئی علاج نہیں (ہست مہولنے  
 واسے سے کہتے ہیں)  
 اس بارہ دریا کا قریب کنارہ۔  
 اس پر بھی۔ باوجود اس کے۔ اتنا کچھ ہو لینے کے بعد۔  
 اس پر نہ بھولو۔ بھولو۔ اس بات پر بھٹ نہ کرو۔ اس پر نہ بھولو۔  
 اس پر نہ جاؤ۔ بر خیال نہ کرو۔ اس پر توجہ نہ کرو۔  
 اس پھر میں نہ پڑو۔ (معاورہ) اس جگر میں نہ چھسو۔ دھوکا نہ کھاؤ۔  
 اس جا۔ اس موقع پر۔ اس مقام پر۔  
 اس دم۔ اس وقت۔ فرما۔  
 اس سوا۔ بجز اس کے۔ اس کو چھوڑ کے۔  
 اس سے۔ اس سبب سے۔ اس وجہ سے۔  
 اس سے اچھا تو خدا کا نام ہے۔ (مثل) بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے  
 بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں۔  
 اس سے تو کھٹے کی ناک بھی نہیں کھٹی۔ [مثل] بہت گندہ ہے چھری  
 یا چاقو کے متعلق کہتے ہیں۔  
 اس سے کیا پورا پڑے گا۔ یہ کافی نہیں بیٹھیں اچھی طرح کام نہ کر سکے گا۔  
 اس سے ہاتھ دھولو۔ (معاورہ) اس کا خیال چھوڑ دو۔ اس سے صبر کرو۔  
 اس طرح۔ اس طریقے سے۔ یوں۔  
 اس قدر۔ اس مقدار میں۔  
 اس قدر کا۔ اتنا زیادہ۔ بہت زیادہ۔  
 اس کا ندھے چڑھ اس کا ندھے اتر۔ [مثل] ہم کوئی بات ہی عذر نہیں ہے  
 آپ کی خاطر امد عایت ہر طرح منظور ہے۔  
 اس کا ان سُن کے اس کا ان اُڑا دینا۔ بات خیال میں نہ رکھنا۔ بات پر کوئی  
 توجہ نہ کرنا۔ کتنا نہ ماننا۔  
 اس کو بھٹی کے دھان اس کو بھٹی میں کرنا۔ [مثل] بیکاری میں چیزوں کی  
 اُلٹ پھیر کرتے رہنا۔ بے فائدہ کام کرنا۔  
 اس کو چیل کوڑوں کو دوں۔ (معاورہ) بوئی بوئی چیل کوڑوں کو دے دوں غصے  
 میں عورتیں کو سنے کے طور پر کہتی ہیں۔  
 اس کو کیا کہتے ہیں نوجب اور حیرت کے کو بیخ پر بعد سوال کے ستم ہے۔  
 اس کو وہاں ماریں جہاں پانی نہ ہو۔ [مثل] بددعا۔ اس پر ہرگز نرس نہ  
 کیا جانا چاہیے۔ یہ تو اس سزا کا ستم ہے کہ مر جائے تو اس کے ستم میں  
 پانی شیلنے والا کوئی نہ ہو۔  
 اس کی چھائی دیکھ کر سراسیمہ۔ [مثل] اس کے حوصلے اور جرأت کی تعریف کیجیے۔

اس کے دل گڑھے کو دیکھو اس کے حکم کو دیکھو۔ [مثل] اس کی جرأت  
 دلیری۔ ہمت اور حوصلہ کی داد دیکھئے۔  
 اس گھر کا باوا آدم نرالا ہے۔ [مثل] یہاں کا دستور سب سے جملہ ہے یہاں  
 کا طریقہ سب سے الگ ہے۔  
 اس مرض کا تونہ میں نہیں پالنا۔ میں اس کچھڑے میں نہیں پڑتا۔  
 اس میں کچھنی ہے۔ اس میں کوئی چال ہے۔ دال میں کچھ کا لالہ ہے۔  
 اس وقت تم کہاں ہو۔ (معاورہ) تم کس سوچ میں ہو۔ اس وقت ہوش  
 میں نہیں ہو۔  
 اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے۔ ہر کام کا بدلہ فوراً ملتا ہے  
 اس۔ [اشارہ بعید] ڈہ۔ ڈہی  
 اس بار۔ (۱) دریا کے دوسرے کنارے پر  
 اس پر بھی۔ اس کے باوجود۔  
 اس کا فنی منہ جھلس دو۔ اس کو بھی کچھڑے دلا کر ٹالو۔  
 اس کا منہ کالا۔ (معاورہ) بددعا۔ رؤساء۔ منہ کالا۔  
 اس کا منہ کالا ہو گیا۔ (معاورہ) سخت جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اب وہ منہ بھی نہ کھا سکے  
 اس کی جان کو صبر۔ (معاورہ) کسی کے ہاتھوں تکلیف پہنچنے پر۔  
 اس کی جوتی کو۔ (معاورہ) اس کو کیا غرض پڑی ہے۔  
 اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے۔ [مثل] ہر کام کا فوراً بدلہ ملتا ہے جو جیسا  
 کرے گا دیا جائے گا۔  
 اس کی ذررت کے (کارخانے) کھیل ہیں۔ خدا کی شان کے جلوسے میں [اسی  
 تعجب اور حیرت کی بات پر کہتے ہیں جو خلاف قیاس و امیہ ہو]  
 اس کی لاشی میں آواز نہیں۔ خدا کا ترانہ گمانی ہوتا ہے۔  
 اس کے چھپ تو چھپوس بھی نہیں۔ [مثل] نادر ہے۔ تلاش ہے۔ کنگال ہے۔  
 اس کے دینے کے ہزاروں ہاتھ ہیں۔ بندوں کو دینے کے لیے خدا کے  
 پاس لے شمار ذرائع ہیں۔  
 اس کے منہ کی کسی کی زبان سے نکلی ہوئی بات۔  
 اس کے نام کا تو کتا بھی نہیں پالنے۔ [مثل] کسی سے انتہائی نفرت کے  
 اظہار کے لیے کہتے ہیں۔  
 اس نے رکھا اس نے اٹھایا۔ [مثل] جب دو آدمیوں میں ایک جیادت  
 ہو تو کہتے ہیں۔  
 اسی کی جوتی اسی کے سمر پر۔ [مثل] جب کسی کے ہاں سے کچھ لے اور اسے  
 اس کی کسی ضرورت یا کام پر صرف کر دیا جائے تو کہتے ہیں۔  
 اسی اٹھائیں۔ اسی وقت۔ اسی اٹھائیں  
 اسی برتنے پر۔ اسی حوصلے پر۔ اسی توت پر۔ جب کوئی کسی کام کا دعویٰ کرے  
 لیکن نہ کر پائے تو کہتے ہیں۔  
 اسی دن کو پالا تھا۔ پال کر بڑا آیا تھا۔ [مثل] اپنی اولاد یا پروردہ سے رنج  
 اور تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں۔  
 اسی میں بہتری ہے (خیریت ہے) [مثل] سھاتے ہوئے یا دھمکانے  
 ہوئے کہتے ہیں۔  
 اسی وقت۔ ابھی۔ نوراً۔ اب۔

اُسے چھپاؤ اُسے دکھاؤ۔ [مثل] دو شخصوں یا دو چیزوں میں گہری مشابہت ہوتی ہو سکتی ہے۔  
 اسانڈہ۔ (ا۔ اسات۔ ذة) [ع۔ ا۔ مذ] اُسٹاڈ کی جمع۔ اسٹاڈ کالان فن معلم اُسارا۔ (ا۔ سارا۔ ا) [ع۔ ا۔ مذ] رشیم کا ڈور جس پر کلابتوں کا نارجھٹلنے ہیں۔  
 اُسارا۔ (ا۔ سارا۔ ا) [ع۔ ا۔ مذ] پھیر۔ سائبان۔ برآمدہ۔ سد۔ دلیز۔ ابلال بھگونی ہوتی دواؤں کا مختصر ہوا پانی۔  
 اُسارنت۔ [ع۔ مٹ] تہ۔ اسیری  
 اُسارنا۔ [انحص] پانی نکالنا۔ دوا بھگو کر اس کا پانی نھرانا۔ [ا۔ پ] عمارت بنانا (۲) [ع۔ ا۔ مذ] حتم کرنا۔ چٹانا۔ علیحدہ کرنا۔  
 اُسارٹھ۔ (ا۔ سارٹھ) [ع۔ ا۔ مذ] ہندی کا چوتھا مہینہ۔ برسات کا پہلا مہینہ۔ یہ عموماً نصف جون سے نصف جولائی تک رہتا ہے۔  
 اُسارٹھ جوڑے برکھا ہووے۔ [ع۔ مثل] اسٹھ میں گرمی پڑے تو بارش ہو۔  
 اُسارٹھ کے درزی۔ اس کوکتے ہیں جو بیکار مارا مارا پھرے۔ اداس کو کوئی نہ پوچھے۔  
 اُسارٹھیا۔ (ا۔ سارٹھا) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) باریک بیٹے ہوئے رشیم کا ناکا (۲) ایک قسم کی کھانڈ کچی مینی۔  
 اُسارٹھی۔ (ا۔ سارٹھی) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) فصل ریح۔ گیہوں جو۔ چنا وغیرہ (۲) ہندوؤں کا ایک یوگا۔  
 اُساس۔ (ا۔ ساس) [ع۔ ا۔ مٹ] بنیاد۔ نیو۔ جڑ۔  
 اُساسی۔ (ا۔ ساسی) [ع۔ صفت] بنیادی  
 اُساطیر۔ (ا۔ ساطیر) [ع۔ ا۔ مٹ] اسٹارہ اور اسٹورہ کی جمع۔ قصے کہانیاں۔ اساطیر الاؤٹین۔ اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔  
 اُساطین۔ (ا۔ ساطین) [ع۔ ا۔ مذ] اسٹورانی جمع۔ بہت سے ستون۔  
 اُسافل۔ (ا۔ سافل) [ع۔ ا۔ مذ] اٹھل کی جمع۔ کینے لوگ۔  
 اُسالیب۔ (ا۔ سالیب) [ع۔ ا۔ مذ] اسلوب کی جمع۔ طریقے۔ طریزیں۔ انداز ڈھنگ۔ وضع۔  
 اُسامی۔ (ا۔ سامی) [ع۔ ا۔ مٹ] اسم کی جمع اجمع (۱) نام (۲) لوگ (۳) آدمی شخص (۴) کسان۔ کاشت کار (۵) بس دین رکھنے والا۔ گاہک خریدار (۶) عمدہ۔ فوکری (۷) مالدار۔ امیر۔ رپے والا (اردو میں بطور واحد استعمال ہے)۔  
 اسامی بلا حق و خیل کاری۔ وہ اسامی جو دل یا بی کا حق نہ رکھتی ہو۔  
 اسامی (سنانا) ٹھکانا ہے وقت بنا کر ناندہ اٹھانا۔ اپنا مطلب نکالنا۔  
 اسامی شکمی۔ ماتحت کاشت کار جھیتزی سا جھی۔ چھوٹا کسان۔ وہ شخص جسے اپنی طرف سے سامجھی کریں۔  
 اسامی غیر موروثی۔ غیر موروثی کاشت کار۔ وہ کسان جس کا دوا می حق نہ سمجھا جائے۔  
 اسامی مستقل۔ وہ کاشت کار جو زمین پر دخل پانے کا مستحق ہو۔  
 اسامی موروثی۔ دوا می کاشت کار۔ وہ کاشت کار جو کاشت کاری کے باعث وراثت کا حق پیدا کرے۔

اسامی وار۔ اسامیوں کی ترتیب ناموں کے لحاظ سے۔  
 اُسانا۔ (ا۔ سانا) [ع۔ مٹ] برسانا چھیننا۔ غٹے کو بھوسے سے جدا کرنا  
 اُسائید۔ (ا۔ سائید) [ع۔ ا۔ مٹ] اسٹاڈ کی جمع۔ وہ کتابیں جن میں حدیثیں جمع راویوں کے ناموں کی لکھی گئی ہیں مثلاً بخاری۔ مسلم وغیرہ۔  
 اُساوری۔ (ا۔ ساور) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) ایک راگنی (۲) ایک قسم کا باریک ریشی کیرا۔  
 اُساول۔ [ع۔ مٹ] قاصد۔ پیامبر۔  
 اُسب۔ [ع۔ ا۔ مذ] (۱) گھوٹا۔ اسپ (۲) شطرنج کا ایک مہرہ۔  
 اُسباب۔ (ا۔ سب) [ع۔ ا۔ مذ] سبب کی جمع (۱) وہ چیزیں جو وسیلے باعث (۲) ضرورت کا سامان۔ آناٹہ (معنی مٹا میں بطور واحد استعمال ہے) اسباب مانع ارث۔ ایسے سبب جو وراثت سے روک دیں۔  
 اُسباب طراس۔ (ا۔ سب) [ع۔ ا۔ مٹ] سبب کی جمع۔ پتے پتیاں۔ دوہتے دوہنیاں وغیرہ۔  
 اُسباق۔ (ا۔ سب) [ع۔ ا۔ مذ] سبب کی جمع۔  
 اُسبغول۔ (ا۔ سبغول) [ع۔ ا۔ مذ] ایک قسم کا دوا جس سے لعاب نکلتا ہے۔  
 اُسبق۔ (ا۔ سب) [ع۔ صفت] سب سے اول۔ زیادہ آگے۔  
 اُسب۔ [ع۔ ا۔ مذ] (۱) گھوٹا (۲) شطرنج کا مہرہ۔ جمع۔ اسپان۔  
 اُسبات۔ (ا۔ سب) [ع۔ ا۔ مذ] ایک قسم کا سخت لہا۔ فولاد۔  
 اُسبتال۔ (ا۔ سب) [ع۔ ا۔ مذ] (انگریزی لفظ) (Hospital) کامورڈ۔  
 [ع۔ ا۔ مذ] شفاخانہ۔ ہسپتال۔ بیمارستان۔  
 اُسپرٹ۔ (Spirit) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) ایک۔ (۲) حوصلہ۔ بہت۔  
 نفس (۲) جو مہر جڑ۔ جو مہر محض۔ سنت (۳) شراب (۴) حوصلہ۔ بہت۔  
 دل گڑب۔ سرگزی۔  
 اُسپرٹو۔ (Esperanto) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) ایک۔ (۲) ایک زبان جو ڈاکٹر زین بان نے اہل یورپ کے مشترک استعمال کے لیے بنائی تھی۔  
 اُسپرنگ۔ (Spring) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) ایک۔ (۲) ایک۔ (۳) ایک۔  
 اُسپیناخ۔ (ا۔ سپیناخ) [ع۔ ا۔ مذ] پالک۔ پنچوا۔  
 اُسپیند۔ (ا۔ سپیند) [ع۔ ا۔ مذ] کالادانہ۔ ایک قسم کا تخم جو عورتیں نظر بد دفع کرنے کی غرض سے جلاتی ہیں۔ (پن) ہرٹل۔  
 اُسپی۔ (ا۔ سپی) [ع۔ صفت] گھوڑے سے متعلق۔  
 اُسپی طاقت (۱) گھوڑے کی طاقت (۲) علم سکون و حرکت (۳) اتنی طاقت جس سے 550 پونڈ وزن ایک سیکڑ میں ایک فٹ اٹھایا جاسکے  
 ہارس پاور (Horse Power)  
 اُسپی عرض البلد۔ کرہ زمین کا وہ حصہ جو عرض البلد شمالی ۳۰ درجہ اور ۳۵ درجہ کے درمیان ہے۔  
 اُسپنج۔ (Speech) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) ایک۔ (۲) تقریر۔ بیان۔ لکچر۔  
 اُسپید۔ (Speed) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) ایک۔ (۲) رفتار۔ (۳) توت کار۔  
 اُسپیشل۔ (Special) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) ایک۔ (۲) مخصوص۔ (۳) غیر معمولی (جیسے اسپیشل ٹرین وغیرہ)



چاہنا۔ طلب۔

استدلال - (اس۔ تہ۔ لال) [ع۔ ۱۔ مذ] دلیل۔ برہان۔ ثبوت (۲) دلیل چاہنا۔ دلیل لانا۔

آستر - (اُس۔ ستر) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) دوسرے کپڑے کے بیچے کی تہ۔ ابرہ کے خلاف مطلق تہ جیسے چونے وغیرہ کا آستر (۲) پتھر۔ استرکاری۔ چونے کی پائی۔

استراحت - (اس۔ نت۔ را۔ حت) [ع۔ ۱۔ ممت] آرام چاہنا۔ راحت طلب کرنا۔ سکھ۔ چین۔

استرخا - (اس۔ بتر۔ خا) [ع۔ ۱۔ مذ] ڈھیلا ہو کر ٹک پڑنا۔ ڈھیلا پن۔

استرداو - (اس۔ تر۔ داو) [ع۔ ۱۔ مذ] ڈر کرنا۔ واپس لینا۔ واپسی چاہنا۔ استرداؤنیلام۔ نیلام کا ٹروٹینا۔

استرخنا - (اس۔ تر۔ خنا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) خوشنودی (۲) رضامندی پوچھنا۔ آسترہ - (اُس۔ ت۔ رَہ) [ف۔ ۱۔ مذ] بال موندنے کا اذکار۔

استرو لینا - ناف کے بیچے کے بالوں کا سونڈنا۔ پانکی لینا۔

استری - (اس۔ ت۔ ری) [ہ۔ ۱۔ ممت] (۱) لوسے یا پینیل کا اوزار جسے گرم کر کے پڑوں کی سلومیں مٹانے یا سیون بھانٹنے میں (۲) عورت زوجہ۔ بیوی۔

استری دھن - جو بیغزوہ لہا جا جو عورت کو ماں باپ سے ملے۔ زیور وغیرہ جو شادی کے وقت خاوند سے ملے۔ بیوی کا مال۔

استسقا - (اس۔ تس۔ نا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) پانی مانگنا۔ نشنگی (۲) ایک بیماری جس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے۔ جلندز کا روگ۔

استشہاد - (اس۔ نش۔ ہاد) [ع۔ ۱۔ مذ] طلب شہادت۔ گواہی چاہنا۔ شہادت طلب کرنا۔

استشہاد نامہ۔ سند۔ ڈپلوما۔

استصلاح - [ع۔ ممت] اصلاح پوچھنا۔ مشورہ لینا۔

استصواب - (اس۔ تص۔ داب) [ع۔ ۱۔ مذ] مشورہ لینا۔ رائے پوچھنا۔ تجویز چاہنا۔ جمع : استصوابات

استصواب رائے (عامہ) شوراے عام کسی خاص مسئلے کے بارے میں عوام سے بلا واسطہ رائے لینا۔ (Referendum Plebiscite)

استطاعت - (اس۔ ت۔ طا۔ عت) [ع۔ ۱۔ ممت] قدرت۔ طاقت۔ بقدرت۔ بساطہ۔ دسترس۔ جمع : استطاعات۔

استعارات - (اس۔ ت۔ عا۔ رات) [ع۔ ۱۔ مذ] استعارہ کی جمع۔

استعارہ - (اس۔ ت۔ عا۔ رَہ) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) مانگ لینا (۲) علمیاں کی اصطلاح میں مجاز کی ایک قسم جس میں کسی لفظ کے مجازی اور حقیقی معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے اور بغیر حروف تشبیہ کے تصنیفی معنی کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

استعارہ بالتصريح - اگر تشبیہ کا ذکر کریں اور تشبیہ کو چھوڑ دیں یا مضاف تشبیہ موجود ہو اور مضاف الیہ غیر موجود تو اس صورت میں استعارہ بالتصريح ہوگا۔

استعارہ بالکنایہ - اگر تشبیہ کو چھوڑ کر تشبیہ کا ذکر کریں تو اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں۔

استعانت - (اس۔ ت۔ عانت) [ع۔ ۱۔ ممت] (۱) مدد و معاونت (۲) مدد مانگنا۔

استعجاب - (اس۔ تع۔ جاب) [ع۔ ۱۔ مذ] تعجب۔ حیرانی۔ اچرج۔

استعجال - (اس۔ تع۔ جال) [ع۔ ۱۔ مذ] جلدی کرنا۔ جلدی چاہنا۔ عجلت۔ حجت۔ استعجالد۔ (اس۔ تع۔ داد) [ع۔ ۱۔ ممت] (۱) بیاقت۔ قابلیت۔ فطری صلاح (۲) آمادگی۔ آمادہ ہونا۔

استعفا - (اس۔ سف۔ فا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) عفو چاہنا۔ معافی مانگنا (۲) نوکری کو رخصت سے معافی مانگنا۔ نوکری چھوڑنے کی درخواست دینا۔ جمع : استعفاجات۔

استعفا دینا۔ نوکری چھوڑ دینا۔ ترک ملازمت کرنا۔ نوکری چھوڑنے کی درخواست کرنا۔ استعجل - (اس۔ ت۔ لا) [ع۔ ۱۔ مذ] جلدی طلب کرنا۔ بززری چاہنا۔

استعلاج - (ع۔ سف۔ علاج چاہنا۔ مداوا ہونی۔

استعلا - (اس۔ تع۔ لام) [ع۔ ۱۔ مذ] دریافت حال۔ آگاہی چاہنا۔ خبر کرنا۔ جتلا مانجانے کی خواہش کرنا۔

استعما - (اس۔ تع۔ مار) [ع۔ ۱۔ مذ] نوآبادی قائم کرنا۔ کسی مقام پر قابض ہو کر اس کی آبادی بڑھانا (۲) کسی آزاد ملک کو غلام بنا لینا۔

استعماریت - (ع۔ ممت) زبردستی کسی قریبی ملک کو اپنے ساتھ لاینا یا دوسری ممکن آبادیوں پر قابض ہو جانا۔ (انگ) (Imperialism)

استعمال - (اس۔ تع۔ مال) [ع۔ ۱۔ مذ] کام میں لانا۔ بزنس۔

استعمالی - (اس۔ تع۔ جلی) [ف۔ صفت] (۱) بڑنا ہوا۔ کام میں آیا ہوا۔ مستعمل۔ پڑانا۔ (۲) کام میں لانے کی چیز (۳) ایک قسم کا علمہ اور باریک چاول۔

استغاثہ - (اس۔ ت۔ غاثہ) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) داد۔ فریاد۔ دعویٰ (۲) انصاف چاہنا۔ دعویٰ کرنا۔ جمع : استغاثات۔ استغاثے۔

استغراق - (اس۔ تغ۔ راق) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) قوت کسی خیال میں ڈوب جانا (۲) خدا کی یاد میں غور چاہنا (۳) جاننا کو اولتے فرض کے لیے ذمہ دار کر دینا۔

استغراق فصل۔ فصل کا قرض دیکھو میں صرف ہو جانا۔

استغفار - (اس۔ تغ۔ فار) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) بخشش چاہنا۔ توبہ۔

استغفار کرنا۔ توبہ کرنا۔ بخشش چاہنا۔

استغفر اللہ - (اس۔ تغ۔ ف۔ لہ۔ لاہ) [ع] (۱) میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں (۲) توبہ۔ نفرت یا کسی فعل سے انکار کی جگہ بولتے ہیں۔

استغنا - (اس۔ تغ۔ نا) [ع۔ ۱۔ مذ] بے پروائی۔ بے نیازی۔ تنہا نگری۔

استفادہ - (اس۔ ت۔ فا۔ دہ) [ع۔ ۱۔ مذ] فائدہ حاصل کرنا۔ نفع اٹھانا۔

استفادہ مند - (اس۔ ت۔ فا۔ مند) [ع۔ ۱۔ مذ] فیض پانا۔ فائدہ اٹھانا۔

استفقا - (اس۔ تفت۔ تا) [ع۔ ۱۔ مذ] مسئلہ پوچھنا۔ شرعی حکم دریافت کرنا۔ فتویٰ چاہنا۔

استفراغ - (اس۔ تفت۔ راغ) [ع۔ ۱۔ مذ] فراغت چاہنا۔ روانے۔ المٹی استفسار - (اس۔ تفت۔ سار) [ع۔ ۱۔ مذ] دریافت کرنا۔ پوچھنا۔ پوچھنا۔ جمع : استفسانات

استفہام - (اس۔ تفت۔ فام) [ع۔ ۱۔ مذ] دریافت کرنا۔ سمجھنے کی خواہش کرنا۔ پوچھنا۔

استفہامیہ - (ع۔ صفت) سوالیہ جس میں سوال پایا جائے (۶) علامت استفہامت - (اس۔ تفت۔ فامت) [ع۔ ۱۔ ممت] استفہال۔ تیام۔



ایسٹیشنری - (Stationery) (اس ٹیشن - ن. ری) [انگ - ۱۔ مذ] سامان تحریر کاغذ قلم و دوات وغیرہ۔  
اسٹیل - (Steel) (اس ٹیل) [انگ - ۱۔ مذ] اسپات۔ فولاد۔  
اسٹیٹیم (Steam) (اس ٹیم) [انگ - ۱۔ مذ] بھاپ ڈھان۔  
اسٹیٹیم اینجن (Steam Engine) [انگ - ۱۔ مذ] ڈھانی کشتی یا  
ایسٹیم (Steamer) (اس ٹی - مر) [انگ - ۱۔ مذ] ڈھانی کشتی یا  
چھوٹا جہاز۔

ایسٹیمٹ - (Estimate) (اس ٹی - میٹ) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) تخمینہ تخمینہ مقدار۔ اندازہ۔ جانچ۔  
ایسٹینڈ - (Stand) (اس ٹینڈ) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) منہام محل۔ جگہ۔  
(۲) میز۔ چوکے ٹکڑے (۳) گاڑیوں کا ڈاڑھا۔  
ایسٹینسل - (Stencil) (اس ٹین - سل) [انگ - ۱۔ مذ] دھات کی  
پتی سی تختی جس میں کاٹ کر حروف یا نقش وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کے  
ذریعے کسی سطح پر نقاشی کی جاتی ہے۔ نقش ساز تختی۔

ایسٹینوگراف - (Stenographer) (اس ٹے - نوگ - رافر) [انگ - ۱۔ مذ] مختصر نویس۔  
ایسٹینوگرافی - (Stenography) (اس ٹے - نوگ - رانی) [انگ - ۱۔ مذ] مختصر نویسی۔

اسحاق - (اس - حاق) [انگ - ۱۔ مذ] ایک پیغمبر کا نام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام  
کے بیٹے تھے۔

اسنجیا - (اس - نج - یا) [انگ - ۱۔ مذ] جمع - فیاض لوگ۔  
اسد - (آس - د) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) شیر۔ (۲) ایک آسمانی بُرج کا نام۔  
اسد اللہ - خدا کا شیر۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب۔ اڑو کے  
مشہور شاعر مرزا غالب کا اصل نام۔

اسرار - (اس - رار) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) ہسر کی جمع۔ (۲) مجید پوشیدہ باتیں۔  
اسراف - (اس - راف) [انگ - ۱۔ مذ] فضول خرچی۔ بے جا خرچ۔  
اسرافیل - (اس - رافیل) [انگ - ۱۔ مذ] ایک مقرب فرشتے کا نام جس کو قیامت  
کے دن صور بھرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔

اسرائیل - (اس - ریل) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) مانت کو آنے والا (۲) حضرت عیسیٰ  
علیہ السلام کا دوسرا نام کیونکہ آپ رات کو پیدا ہوئے تھے۔  
اسرائیلی - (اس - ای - لی) [انگ - ۱۔ مذ] اسرائیل سے منسوب حضرت اسرائیل  
کی اولاد۔ فرقہ بنی اسرائیل۔ یہودی۔

اسسٹنٹ - (Assistant) (آس - سٹنٹ) [انگ - ۱۔ مذ] مددگار  
معاون۔

اسٹبل - (اس - ٹبل) [انگ - ۱۔ مذ] دیکھے اسٹبل۔  
اسٹریٹ لائٹ - (اس - ٹریٹ - لائٹ) [انگ - ۱۔ مذ] دیکھے اصغر لائٹ۔  
اسٹروانہ - (اس - ٹروانہ) [انگ - ۱۔ مذ] ستون۔ تم۔ کھبا۔ لاشہ۔ پایہ۔  
اسٹروٹووس - (اس - ٹروٹووس) [انگ - ۱۔ مذ] ایک دوکان کا نام۔  
اسٹور - (اس - ٹور) [انگ - ۱۔ مذ] قصہ۔ کہانی۔ افسانہ۔ بات۔  
اشعد - (آس - ڈ) [انگ - ۱۔ مذ] جمع - نہایت خوش نصیب۔ بہت مبارک۔

اشال - (Stall) (اس ٹال) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) سیٹلے یا بازاریں  
عارضی دوکان (۲) سودا بیچنے کی میز (۳) قیصر میں سامنے کی نشستیں۔  
بینامیں سب سے چھپی نشستیں۔

اشامپ - (Stamp) (اس ٹامپ) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) ہر چھاپ  
کا ٹروڈ۔ (۲) ہر چھاپ (۳) دستاویز لکھنے کا سرکاری کاغذ  
جس پر سرکہ قیمت چھاپا ہوتا ہے۔

اشائل - (Style) (اس ٹا - ال) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) طرز۔ اسلوب  
(۲) اسلوب بیان طرز ادا (۳) وضع۔ انداز۔ رسم (۴) شکل۔ ساخت۔ نمونہ۔  
اسٹپل - (Stipple) (اس ٹپ - پل) [انگ - ۱۔ مذ] لفظوں سے  
تصویر بنانا۔ لفظوں کی نقاشی یا کندہ کاری۔

اسٹرلنگ - (Sterling) (اس ٹر - نگ) [انگ - ۱۔ مذ] برطانوی  
کرنسی سکے۔

اسٹریٹ - (Street) (اس ٹریٹ) [انگ - ۱۔ مذ] گھر بچے کی  
سڑک۔ گلی۔ سڑک۔

اسٹنٹ - (Stunt) (اس ٹنٹ) [انگ - ۱۔ مذ] کمال کارنمایا  
وہ کام جس سے اپنا کام دکھانا مقصود ہو۔

اسٹو - (Stew) (اس ٹو) [انگ - ۱۔ مذ] گوشت۔ آلو اور پیاز وغیرہ  
کا ذم پخت سالن۔

اسٹوو - (Stove) (اس ٹوو) [انگ - ۱۔ مذ] ولایتی چولہا۔  
اسٹوڈینٹ - (Student) (اس ٹو - ڈینٹ) [انگ - ۱۔ مذ]  
طالب علم۔

اسٹوڈیو - (Studio) (اس ٹو - ڈیو) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) فوٹوگرافی  
کا محو یا دکان (۲) فلم کیپنی کا کارخانہ (۳) ریڈیو اسٹیشن کا کوئی کمرہ  
جہاں سے تقریریں۔ لکھنے وغیرہ نشر کیے جاتے ہیں۔

اسٹور - (Store) (اس ٹور) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) ذخیرہ (۲) بڑی  
دکان جس میں ہر قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔

اسٹوری - (Story) (اس ٹوری) [انگ - ۱۔ مذ] قصہ۔ کہانی  
افسانہ۔ داستان۔ حکایت۔

اسٹیٹ - (State) (اس ٹیٹ) [انگ - ۱۔ مذ] ریاست  
ملک۔ سلطنت۔

اسٹیج - (Stage) (اس ٹیج) [انگ - ۱۔ مذ] (۱) چھوٹا نمایاں جگہ  
نمائندہ جگہ۔ (۲) تماشگاہ کا وہ چھوٹا جہاں ڈرامہ کھیلا جاتا ہے (۳)  
مرحلہ۔ دور۔ نوبت۔

اسٹیچو - (Statue) (اس ٹے - چو) [انگ - ۱۔ مذ] مجسمہ۔ عورت۔  
اسٹیڈیم - (Stadium) (اس ٹے - ڈیم) [انگ - ۱۔ مذ] ورزشی  
کھیلوں کا میدان۔

اسٹیشن - (Station) (اس ٹے - شن) [انگ - ۱۔ مذ] مستقر۔ مقام  
قیام گاہ۔ پھرنے کی جگہ۔ ٹھکانا۔ چوکی۔ اٹھا۔

اسٹیشنر - (Stationer) (اس ٹیشن - ز) [انگ - ۱۔ مذ]  
تاجر سامان تحریر۔ قلم۔ کاغذ۔ دوات وغیرہ بیچنے والا۔

اسفنداج - (اس - فنا - ناج) (ف - امش) [پالک -

اسفل - (اس - نفل) (ع - صفت) نہایت نیچا - انتہا کا ذیل - ادنیٰ - نیچے کیں  
جمع :- اسفلین - اسافل -

اسفل السافلین - دوزخ کا سب سے نیچا یعنی ساتواں طبقہ - ہادیہ -  
اسفنج - (اس - ننج) (ع - ا - مذ) ابر مردہ - ایک سمندری مخلوق - اس کی بناؤ  
ایسی جوت دار ہوتی ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے اور پورے پر  
فرا خشک ہو جاتا ہے -

اسفند - اسفندار - (اس - نند - اس - فن - وار) (ف - ا - مذ) فارسی کا  
ساتواں مہینہ -

اسفندبار - (اس - فن - و - بار) (ف - ا - مذ) (۱) قدرتِ حق - لطفِ خدا (۲)  
ایران کے ایک بادشاہ کا نام -

استفاط - (اس - سفاط) (ع - ا - مذ) گرانا - حمل کرنا -  
استفاط - حمل کا ضائع ہونا حمل کا گرنا -

استقام - (اس - قام) (ع - ا - مذ) سقر کی جمع عیوب - برائیاں - نقصان  
استفرط - (اس - نر - بوط) (ع - ا - مذ) ایک مرض جو فسادِ خون سے پیدا  
ہوتا ہے - فسادِ خون -

استقف - (اس - نقت) (ع - ا - مذ) لاث پادری - پادریوں کا سردار -  
لارڈ بشپ -

اسکاٹ - (اس - کاٹ) (ا - ننگ - ا - مذ) اسکچ - اسکاٹ  
لینڈ کا باشندہ -

اسکاٹ لینڈ یارڈ - (Scotland Yard) لندن کی خفیہ پولیس -

خفیہ پولیس کا صدر مقام -  
اسکاٹچ - (Scotch) (اس - کچ) [انگ - ا - صفت] (۱) اسکاٹ  
یادوں کے باشندوں کے متعلق (۲) اسکاٹ لینڈ کی انگریزی  
بولی (۳) اسکاٹ لینڈ کا باشندہ -

اسکالر - (Scholar) (اس - کار - ل) [انگ - ا - مذ] (۱)  
متعلم - تلمیذ - طالب علم (۲) عالم - ناضل - ادیب -

اسکاؤٹ - (Scout) (اس - کاؤ - ٹ) [انگ - ا - مذ] (۱) ایک  
حاملیہ جماعت جس کا مقصد لڑکوں میں خدمتِ خلق کا جذبہ پیدا کرنا ہے - اس  
جماعت کے رکن لڑکے کے ایک خاص وردی پہنتے ہیں (۲) وہ سپاہی  
جو دشمن کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات تمبا کرنے کی خاطر پیچھے  
جاتے ہیں -

اسکرپٹ - (Script) (اس - ک - رپٹ) [انگ - ا - مذ] تحریر مسودہ  
اسکرٹ - (Skirt) (اس - کرٹ) [انگ - ا - مذ] لنگا - سیاہ  
(یورپی عورتوں کا)

اسکرو - (Screw) [انگ - مذ] بوتل کا کارک کھولنے کا پیچ -  
پیچ جو لکڑی وغیرہ میں کسا جاتا ہے -

اسکرین - (Screen) (اس - کریں) [انگ - ا - مذ] (۱) پردہ  
(۲) ٹی - آڈ - اوٹ -

اسکندر - (اس - کن - در) (ع - ا - مذ) یونان کے مشہور بادشاہ کا نام

اسکندریہ - بحیرہ روم کے کنارے مصر کی مشہور بندرگاہ -

اسکوائر - (Esquire) (اس - ک - و - ا - بر) [انگ - ا - مذ] صاحب  
عموماً شرف کے نام کے ساتھ آتا ہے -

اسکور - (Score) (اس - کور) [انگ - ا - مذ] (۱) وہ نمبر جو کوئی  
کھلاڑی کسی کھیل میں حاصل کرے (۲) بیسی - کوٹی -

اسکول - (School) (اس - کول) [انگ - ا - مذ] مدرسہ - مکتبہ -  
پاٹھ شالا -

اسکول ٹیچر - (School Teacher) اُستاد یا اُستانی مُعلم یا مُعلّمہ  
اسکول ماسٹر - (School Master) اُستاد مُعلم

اسکول ماسٹرس - (School Mistress) اُستانی مُعلمہ  
اسکویتش - (Squash) (اس - ک - ویش) [انگ - ا - مذ] (۱) حق شربت  
(۲) ایک کھیل جو ریکٹ اور نرم گیند سے مخصوص کورٹ میں کھیلا جاتا ہے -

اسکیچ - (Sketch) (اس - کیچ) [انگ - ا - مذ] (۱) تصویر کا خاکہ  
(۲) ڈھانچہ - خاکہ (۳) خلاصہ - مسودہ - مختصر مضمون -

اسکیم - (Scheme) (اس - کیم) [انگ - ا - مذ] (۱) تجویز - ترکیب  
منصوبہ (۲) چال - خفیہ ریشہ - دوانی - سازش -

اسکیمنڈل - (Scandal) (اس - کین - ڈل) رسوائی - تمہت - نصیبت  
بنیادی شرمناک واقعہ -

اسگند - اسگندھ - (ہ - مذ) (آشور یعنی گھوٹا - گند یعنی بو) ایک سفید جڑ  
جس سے گھوڑے کے پینے کی بو آتی ہے اور دواؤں میں استعمال ہوتی ہے -

اسلاف - (اس - لاف) (ع - ا - مذ) سلف کی جمع - اگلے وقتوں کے لوگ -  
بزرگ - پُرکھے -

اسلام - (اس - لام) (ع - ا - مذ) (۱) گردن جھکانا - اطاعت کرنا (۲) مسلمانوں کا دین -  
اسلام قبول کرنا - اسلام لانا - دین محمدی میں آنا -

اسلامی - (اس - لای) (ع - صفت) [اسلام کا - اسلام سے متعلق (مذکر) مسلم - مسلمان -  
اسلحہ - (اس - ل - ح) (ع - ا - مذ) سلاح کی جمع - لڑائی کے ہتھیار - آلات جنگ -

اسلحہ خانہ - ہتھیار خانہ - سلاح خانہ -  
اسٹلم - (اس - لم) (ع - صفت) (۱) نہایت محفوظ جگہ (۲) مارگدہ -

اسٹولب - (اس - لوب) (ع - ا - مذ) طرِ بقیہ - طرز - روش - جمع : اسٹالیب  
اسٹم - (ع - ا - مذ) نام - وہ کلمہ جس سے کسی شخص - جانور - جگر یا چیز کو پہچانا جائے  
جمع : اسٹام

اسٹم آلہ - وہ اہم جو اوزار یا ہتھیار کے معنی دے (قلم - جاقو - بندوق وغیرہ)  
اسٹم استفہام - وہ اسم جس کے ذریعہ کوئی بات پوچھی جاتی ہے جیسے کیا - کون کہاں ؟  
اسٹم اشارہ - وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے وہ - یہ - ان

اسٹم اعظم - خداوند تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بزرگ تر نام -  
اسٹم باہمی - جیسا نام ویسا کن - وہ شخص جس کا نام اس کے اوصاف کو ٹھیک  
ٹھیک ثابت کرے -

اسٹم نصغیر - وہ اسم جس میں چٹھانی کے معنی پائے جائیں جیسے پھاڑی ٹھیاہ -  
کھول لاکھولیدہ - بچی وغیرہ -

اسٹم جامدہ - وہ اسم جو خود کسی سے بنا ہوں اس سے کچھ نہ جیسے کٹورا - گوبھی



اسماعیلی - اسمعیلی - حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام جو حضرت  
باجرہ کے لطن سے تھے۔ لقب ذبیح اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کے جدِ امجد۔

اسماعیلی - (اس-ما-عی-لی) (ع-صفت-و-ند) (۱) امام جعفر صادق کے فرزند  
حضرت اسمعیل کے فرزند سے متعلق (۲) امام اسمعیل کا بیرو۔  
اسماعیلیہ - اسمعیلیہ - (اس-ما-عی-لی-یہ) (ع-اس-اس) اہل تشیع کے فرقہ امامیہ  
کا ایک گروہ جو امام جعفر صادق کے چھوٹے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم  
کے سجدے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو آپ کا چاشنی  
مانتا ہے (صفت) حضرت امام اسمعیل سے متعلق۔

آسمبلی - (Assembly) (آ-سمب-لی) (انگ-۱-ند) جرگہ۔ عجمی مجلس  
(خصوصاً) (مجلس شوریٰ یا مجلس قانون ساز)  
اسمگلر (Smuggler) (اس-مگ-نر) (انگ-۱-ند) خلافِ قانون  
درآمد یا برآمد کرنے والا۔

اسمگل کرنا - (Smuggle) (اس-مگل-کرنا) (انگ-۱-ند) خلافِ قانون  
درآمد یا برآمد کرنا۔ چپکلی ادا کیے بغیر مال لے جانا۔  
اسمگلنگ - (Smuggling) (اس-مگ-نگ) (انگ-۱-ند) (صفت)  
خلافِ قانون درآمد یا برآمد۔

آسمی - (اس-می) (ع-صفت) (۱) اسم کے متعلق۔ نام کے متعلق (۲) اسم دار  
نام بنام۔  
آسوار - (اس-وار) (ع-۱-ند) سدا کی جمع۔ سدا۔ سدا ویزس۔ سترٹیٹیٹ۔  
آسوار - (اس-وار) (ف-۱-ند) سوار سوار پر چڑھنے والا۔ جمع، آسواران۔  
آسوارمی - (اس-وار-می) (ع-۱-ند) (صفت) سوارمی۔  
آسوانشی - (اس-واں-سی) (ع-۱-ند) زمین ناپنے کا پیمانہ جو کچھ پانی کا پیمانہ  
جستہ ہوتا ہے۔

آسوج - (آ-سوج) (ع-۱-ند) ہندی سانواں مینہ۔ آسن۔ کنوا کا مینہ۔  
آسود - (آ-س-ود) (ع-صفت) کالا سیاہ۔ رنگ کا۔  
آسود و آسود - (۱) سیاہ اور سرخ (۲) بھیرو آسود اور بھیرو نلزم (۳) عرب و عجم۔  
آسودہ - (آ-س-ودہ) (ع-صفت) (۱) نمونہ۔ شمال (۲) چال ڈھال۔ ڈھنگ۔  
آسودہ حسنہ۔ بہت اچھا نمونہ۔ نیک مثال۔

آسمال - (اس-مال) (ع-۱-ند) (۱) ٹیلا یا خانہ۔ دست (۲) پیٹ چلنا۔  
آسمام - (اس-ہام) (ع-۱-ند) تیزوں کے ورہ سے قرعہ ٹکانا۔  
آسمل - (آ-س-مل) (ع-صفت) نہایت سہل۔ بہت آسان۔  
آستی - (آ-س-سی) (ع-صفت) آٹھ دو ہائیاں۔ مقرر اور دس۔  
آستی برس کی عمر نام میاں معصوم۔ (مثلاً) بڑھاپے میں چھلانہ حرکتیں کرنا جان  
بوجھ کر کھولنا لکھانا۔

آصیر - (آ-صیر) (ع-۱-ند) قیدی۔ بندی۔ جمع، آصیران۔  
آصیر سلطان - شاہی قیدی۔ نظر بند۔  
آصیس - (آ-صیس) (ع-۱-ند) ڈھلے خیر۔ اچھی دُعا۔  
آصیسر (Assessor) (آ-ص-سر) (انگ-۱-ند) (۱) تشخیص کرنے والا۔  
آصیسر (۲) ثالث حکم۔ بیچ۔ (۳) وہ شخص جو قتل کے مرتکب میں کاروائی مقدر

اسم جلالی - اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس میں شانِ جلالی کا اظہار ہو جیسے قہار و جبار۔  
اسم جہالی - اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس میں شانِ رحمت کا اظہار ہو جیسے رحیم۔ رحیم۔  
اسم جنس - وہ اسم جو کسی پوری جنس کے لیے بولا جائے جیسے برن۔ ناخن۔  
اسم حالیہ - وہ اسم جس سے ناعل یا مفعول کی حالت معلوم ہو جیسے دوڑنا۔ مڑنا۔ مازنا۔ ہڑنا۔  
اسم ذات - وہ اسم جس سے ایک چیز کی حقیقت و ذی چیزوں سے ایک سمجھی جائے  
اور اس سے کوئی وصف مندرم نہ ہو جیسے ادب۔ ہاتھی۔ گھوڑا۔  
اسم صفت - وہ اسم جس سے کسی چیز یا شخص کی خصوصیت خوبی یا بُرائی ظاہر ہو  
جیسے سچا۔ چھوٹا۔ کالا۔ گورا۔

اسم ضمیر - وہ اسم جو جملے کے استعمال کیا جائے جیسے ہم۔ تم۔ وہ۔  
اسم ظرف - وہ اسم جس میں زمانہ یا جگہ کے معنی پائے جائیں۔ اگر لڑنے کے معنی  
ہوں تو ظرفِ زمانہ اور اگر جگہ کے معنی ہوں تو ظرفِ مکان کہیں گے۔  
(صبح۔ شام۔ دن۔ رات۔ گھر۔ مدرسہ وغیرہ)

اسم عدد - وہ اسم جس سے تعداد یا گنتی ظاہر ہو جیسے دس بارہ۔  
اسم علم - وہ اسم جو کسی خاص شخص یا چیز کا نام ہو۔ (صدیق۔ یاروں۔  
رادے۔ جانور وغیرہ)

اسم ناعل - وہ اسم جو مصدر سے بنے اور ناعل کے معنی پائے جیسے آنے والا۔ جانے والا۔  
اسم فرضی - فرض کیا ہوا نام۔ کسی کوئی نام کے کردار کا نام۔

اسم معترضہ - وہ اسم مشتق جو کسی کام کی اجرت کے معنی دے (وصلاتی  
کھائی۔ رنگائی وغیرہ)  
اسم معرفہ - وہ اسم جو کسی خاص شخص۔ مقام یا چیز کا نام ہو جیسے حامد۔ لاہور  
تخت طاوس۔

اسم مفعول - وہ اسم جو مصدر سے بنے اور مفعول کے معنی دے جیسے  
گھرا ہوا۔ مہرا ہوا۔  
اسم مکبر - وہ اسم جس میں بُرائی کے معنی پائے جائیں (بگڑی سے بگڑ چھڑی  
سے چھتر۔ بات سے سنگڑ)

اسم موصول - وہ اسم نام تک جو جب تک اس کے ساتھ ایک جملہ نہ ذکر نہ ہو۔  
کسی جملے کا جزو نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی ایک لفظ ناعل ہو سکتا ہے  
نہ مفعول نہ مبنی نہ خبر جیسے جو جس۔ اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ  
کہتے ہیں جیسے جو جی ہیں اعتبار بیش و کم رکھتے نہیں۔

اسم نکرہ - وہ اسم جو ایک ہی قسم کی تمام چیزوں پر بولا جائے جیسے آدمی  
آدم۔ کتاب۔

اسم نوسمی - (۱) ناموں کی فرست (۲) وہ کا فذ جو نسبت کے رتھے سے پہلے  
لکھا جاتا ہے (۳) جبر میں درج کرنا (۴) نام درج کرنے کا جبر۔

اسم نویسی گواہان - (۱) گواہوں کی فرست (۲) گواہوں کو حاضر کرنے کی درخواست۔  
اسم دار - نام بنام۔ گوشوارہ میں ناموں کے مطابق اندراج۔

آسما - (اس-ما) (ع-۱-ند) اسم کی جمع۔ بہت سے نام۔  
اسما آلرجال - (اس-ما-آ-رجال) (ع-۱-ند) لوگوں کے نام (۲)

اصطلاح معنی میں احادیث کے راویوں کے نام (۳) علم حدیث کا مشابہ  
جس میں راویان حدیث کے نام اور حالات سے بحث کی جاتی ہے۔  
اسلئے حسنی - (ع-صفت) اچھے نام۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔

(۲) [۱- مذ] اشتراکیت کا پیروسوشلسٹ (Socialist)

اشتراکیت - (اش - ت - دا - کی - یت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) اجتماعیت (۲) سماج - شرکت (۲) ایک اعتدال پسند فلسفہ یا نظریہ حیات جس کے مطابق ذرائع پیداوار پر عوام کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے - (انگس)

(Communism)

اشْتِعَال - (اش - ت - عال) [ع - ۱ - مذ] (۱) شعلہ اٹھانا - آگ لگانا بھڑکانا - (۲) کرنا بترہ جوش - غصہ -

اشْتِعَال دینا - دلانا - بھڑکانا - جوش دلانا - غصہ دلانا -

اشْتِعَال طبع - طبیعت میں جوش اور غصے کی بھڑک -

اشْتِعَالِک - (اش - ت - عا - تک) [ف - ۱ - مٹ] (۱) نچھا سا شعلہ چمکنا (۲) جوش غصہ (۳) تحریک - انگسٹ (۴) چراغ کی سبکی اگلنے کا ننگا -

اشْتِعَالِک دینا - بھڑکانا - آگ مانا - جوش دلانا -

اشْتِعَال - (اش - ت - عال) [ع - ۱ - مذ] اشْتِعَال ہونا - مصروف ہونا - مصروفیت -

اشْتِقاق - (اش - ت - فاق) [ع - ۱ - مذ] (۱) کسی شے کو بھرا ڈگر کچھ نکلنا (۲) اصطلاح - علم صرف میں ایک نکتے سے دوسرا نکتہ بنانا -

اشْتِمَال - (اش - ت - مال) [ع - ۱ - مذ] شامل کرنا یا ملانا - جمع - اشتمالات اشْتِمَالِ اراضی - زمین کے بچرے ہوئے ٹکڑوں کو بچھا کر کرنا یا کاشت میں آسانی ہو -

اشْتِمَالی - (اش - ت - مالی) [ع - ۱ - مٹ] اشْتِمَالیت سے منسوب (مذ) اشْتِمَالیت کا پیرو - سٹیڈنسٹ -

اشْتِمَالِیَّت - (اش - ت - لی - یت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) مساوی ہونا برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو محلی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے غلات ہے - اس کی رُو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر برابر (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے - اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے - سٹیڈنسٹ (Communism)

اشْتِمَال - (اش - ت - ل) [ع - ۱ - مٹ] (۱) خواہش - (۲) بھوک -

اشْتِمَار - (اش - ت - مار) [ع - ۱ - مذ] (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا (۲) نوٹس - اعلان (۲) وہ چھاپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے - جمع - اشتمارات -

اشْتِمَار دینا - مشہور کرنا - اشتمار کے ذریعے عوام کو مطلع کرنا -

اشْتِمَار لگانا - عوام کی نگاہی کے لیے کسی مقام پر اشتمار چسپان کرنا -

اشْتِمَارِی - (اش - ت - ہدی) [ف - ۱ - مٹ] (۱) اشتمار سے منسوب (۲) وہ مجرم جس کے پھانسنے کے لیے اشتمار دیا گیا ہو -

اشْتِمَاتِی - (اش - ت - یاق) [ع - ۱ - مذ] شوق - آرزو - تمنا -

اشْتِمَاتِی - (اش - ت - بی) [س - ۱ - مٹ] ہر بندی جیسے کی ٹھوس تمارتخ -

اشْتِمَار - (اش - ت - جار) [ع - ۱ - مذ] شجر کی بیج - بہت سے درخت -

اشْتِمَار - (اش - ت - بیج) [ع - ۱ - مٹ] بہت بہادر -

اشْتِمَاتِی - (اش - ت - خاص) [ع - ۱ - مذ] شخص کی جمع - لوگ -

اشْتِمَار - (اش - ت - صفت) [ع - ۱ - مٹ] اشْتِمَارِی سے منسوب -

اشْتِمَار - (اش - ت - صفت) [ع - ۱ - مٹ] اشْتِمَارِی سے منسوب -

سننے کے بعد سمیشن نچ کورائے دیتے ہیں - یہ لوگ عوام میں سے مفرد کے جلتے ہیں (۳) بدلیات میں کسی لگانے کے لئے لوگوں کی ملکیت اور جائیداد کا اندازہ کرنے والے حکام -

## ۱-ش

اش - [ت] اُن -

اشا - (۱-شا) [س - ۱- مٹ] (۱) طلوع صبح صادق کی روشنی صبح - پورے پھلنے کا وقت (۲) کام دیو کے بیٹے انیردھ کی بیوی -

اشارات - (۱-شا-رات) [ع - ۱- مذ] اشارہ کی جمع (۱) ریزیں - کناٹے (۲) بولے سینا کی کتاب کا نام -

اشارت - (۱-شا-رت) [ف - ۱- مٹ] ایما - رمز اشارہ (اصل عربی اشارۃ) اشارہ - (۱-شا-رہ) [ع - ۱- مذ] رمز - کتابہ - ایما -

اشاہہ مانا - منشا معلوم کرنا - عندیہ بھانپ جانا -

اشاہہ چلانا - آنکھ سے اشارہ ہونا - رمز دکھانا - ہونا -

اشاہہ قوم - اشارے سے مطلب سمجھنے والا - فریب سے بات سمجھ جانے والا - اشارہ کرنا - (۱) ایما کرنا - آنکھ بھونوں یا کسی اور عضو کے وسیلے سے دل کی بات ظاہر کرنا (۲) جملہ یا کتابتہ کسی بات کو تحریر و تقریر میں ظاہر کرنا (۳) بھڑکانا - بھگانا -

اشاہوں میں ٹورا ہونا - اس طرح اقرار ہونا کہ دوسرا نہ سمجھ سکے -

اشاہے پر چلنا - کسی کے حسب منشا کام کرنا کسی کے ایما پر چلنا -

اشاہے پر لگانا - ایسی تربیت دینا کہ اشارہ پا کر حکم بجالائے -

اشا ریزہ - (اشا - ریزہ) [ع - ۱- مذ] کسی کتاب کے مضامین کی تفصیلی فہرست حدود ہی کے اعتبار سے (کتاب میں کوئی مضمون موضوع یا ناما کے زیادہ مقام پر آئے تو تمام متعلقہ صفحات کے نمبر ایک ہی عنوان کے تحت دے دیئے جاتے ہیں)

اشاعت - (۱-اشاعت) [ع - ۱- مٹ] (۱) شائع کرنا پھیلانا شہرت پانا (۲) جمع ایڈیشن (Edition)

اشاہہ - دیکھیے اشتریبہ -

اشْبَلَع - (اش - باع) [ع - ۱- مذ] (۱) حرکت کو اس طرح کھینچنا کہ زبرد سے لہ زبرد سے اور پیش سے داؤ کی آواز پیدا ہو جائے (۲) علم عروض میں

حرف و ذیل کی حرکت کا نام -

اشاہہ - (ع - مذ) شبہ کی جمع شبہوں کی تشکیل صورتیں -

اشاہہ - (ع - مذ) مشابہ ہونا کسی جی مانند ہونا -

اشْتِبَاہ - (اش - ت - باہ) [ع - ۱- مذ] (۱) مشابہ ہونا - دو چیزوں کا اس طرح ہم شکل ہونا کہ دھوکا ہو جائے (۲) گمان - شبہ - شک -

اشْتِمَاد - (اش - ت - م - اد) [ع - ۱- مذ] شدت - زیادتی -

اشْتِمَار - (اش - ت - تر) [ف - ۱- مذ] اُدٹ -

اشْتِمَارِک - (اش - ت - راک) [ع - ۱- مذ] شرکت - سماجی جھنڈواری -

اشْتِمَارِک - (اش - ت - سا - کی) [ع - ۱- مٹ] اشْتِمَارِک سے منسوب -

اشْتِمَارِک - (اش - ت - صفت) [ع - ۱- مٹ] اشْتِمَارِک سے منسوب -

اشْتِمَارِک - (اش - ت - صفت) [ع - ۱- مٹ] اشْتِمَارِک سے منسوب -

اشْتِمَارِک - (اش - ت - صفت) [ع - ۱- مٹ] اشْتِمَارِک سے منسوب -

اشدھ - (اُشُدھ) (س صدف) (۱) ناپاک ۴ غلیظ۔

اشتر - (اُشتر) (ع صدف) بہت شہر۔

اشترار - (اُش - ماد) (ع - ۱) شہر کی جمع۔ بڑے لوگ۔ شرارتی لوگ۔

اشرف - (اُش - رات) (ع - ۱) شہر کی جمع۔ بھلے مانس لوگ (۲)

عالی خاندان۔ عالی نسب۔ ذی شرف۔ ذی عزت لوگ (۳) معتدب اور شائستہ لوگ (اُردو میں واحد ہی مستعمل ہے)

اشرف یا دس پڑے کیلئے سر چڑھے۔ [مثلاً] شریف تو اپنی شرافت کی وجہ سے نرمی کرتا ہے اور کیلئے سر چڑھتا ہے۔

اشرف وہ ہے جس کے پاس اشرفی ہے۔ اس زبان میں اشرف مالدار کو بھی سمجھا جاتا ہے۔

اشرفیہ - (اش - رادف - نی) (ع - ۱) حکومت امر اجس میں چند مخصوص ادارے بااثر لوگ ہی اقتدار والے کے مالک ہوتے ہیں جو اس کی حکومت۔

اشراق - (اش - راق) (ع - ۱) آفتاب طلوع ہونا۔ آفتاب نکلنے کا وقت یا اس وقت کی نماز (۳) محنت۔ روشن ضمیری۔ تصفیہ یافتہ۔

اشراقیہ - (اش - راق - نی) (ع - ۱) عہدہ کا وہ مہا من گروہ جو تصفیہ قلب اور کشف کے ذریعے شاگردوں کو دُور دیکھنے کی تعلیم دیا کرتا ہے۔

اشرف - (اُش - ردف) (ع صدف) بہت شریف۔ بزرگ ترین۔ اشرف الاشرف۔ شریفوں کا شریف۔ نہایت شریف۔

اشرف المخلوقات - (۱) ساری مخلوق سے بزرگ تر (۲) آدمی۔ انسان۔ اشرف الناس۔ سب سے شریف۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

اشرفی - (اش - رنی) (ف - ۱) (ع - ۱) سونے کا ایک سکہ۔ ہر دینار۔ پونڈر سونے کی ایک بوٹی کا نام جس کا پھول گول اور زرد ہوتا ہے۔

اشرفی بوٹی - اشرفی کی تعداد مستند بوٹیاں جو مخلوق یا دوسری قسم کے پھولوں سے برتر ہوتی ہیں (۲) ایک بوٹی کا نام جس کا پھول اشرفی کی مانند زرد اور گول ہوتا ہے۔

اشرفیالیہ - کوئیوں پر جو شرف۔ [مثلاً] فضول مصارف پر تو لاکھوں اڑیں مگر ضروری اخراجات میں بچل گیا جائے۔

اشعار - (اُش - عار) شعر کی جمع۔ ابیات۔ اشعر - (اش - ع) (ع صدف) (۱) زیادہ شعر کہنے والا (۲) بہت اور لمبے بالوں والا۔

اشعری - (اُش - ع - ری) (ع صدف) بہت لمبے بالوں والا [مثلاً] ایک آدمی تھا جب پیدا ہوا تو اس کے سارے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔

اشعریہ - (اُش - ع - ری) (ع - ۱) (ع - ۱) حکمائے اسلام کا ایک طبقہ۔ جمع اشعریہ۔ ابو الحسن اشعری کے پیروکار۔

اشغال - (اُش - غال) (ع - ۱) (ع - ۱) مشغل کی جمع۔ مشغلہ۔ کام۔ اشغلا - (اُش - غ - لا) (ع - ۱) (ع - ۱) غنیمت و فائدہ کی بات۔

اشغلا اٹھانا۔ طوفان اٹھانا۔ فتنہ برپا کرنا۔ ہنسان لگانا۔ اشغلا چھوڑنا۔ اونچی بات کرنا۔ چٹکلا چھوڑنا۔ کوئی بات بنا کر دوا دینا۔ لڑو اور دینا۔

اشفاق - (اُش - فان) (ع - ۱) (ع - ۱) شفقت کی جمع۔ مہربانیاں۔ معنائیں۔ اشفاق - (اُش - فان) (ع - ۱) (ع - ۱) نرمی کرنا۔ مہربانی کرنا۔

اشقیہ - (اُش - ق - ی) (ع - ۱) (ع - ۱) شقی کی جمع۔ بد بخت۔ سنگدل۔ بے رحم خاندان۔

اشک - (ف - ۱) (ع - ۱) آنسو۔ ٹسو۔

اشکبار - اشک فشان - آنسو برسانے والا۔ رونے والا۔

اشکباری - آنسو برسانا۔ رونا۔

اشک بھرا نا۔ آنکھوں میں آنسو آجانا۔

اشک جگر سوز۔ جگر کو جلانے والا آنسو۔ گرم آنسو۔

اشک سوکھی۔ صبح کا رونا۔

اشک شادی۔ وہ آنسو جو فرط مسرت سے آنکھوں میں آجائیں۔

اشک شفق گوں۔ خون کے آنسو۔ شام کی شہری جیسے شہر آسو۔

اشک شمع - (ف صدف) جلتی ہوئی موم تپ کے گرتے ہوئے مومی قطرے۔

اشک سنوئی (۱) آنسو پونچھنا۔ رونے کی آنکھ پونچھنا (۲) تسلی دینا۔ دلاسا دینا۔

اشک فشانی۔ آنسو بہانا۔ رونا۔

اشک کباب۔ وہ پانی جو آگ پر رکھنے سے کباب میں سے نکلتا ہے۔

اشک ندامت - (ف صدف) نشتر مندی اور پشیمانی کے باعث نکلنے والا آنسو۔

اشکال - (اُش - کال) (ع - ۱) (ع - ۱) مشکل۔ دشواری۔

اشکال پیش آنا۔ دشواری پیش آنا۔

اشک - (اُش - ک) (ت - ۱) (ع - ۱) تہمت۔ بہتان۔

اشک لگانا۔ تہمت لگانا۔ بہتان لگانا۔

اشکوک - (اُش - لوک) (ع - ۱) (ع - ۱) نظر بصر بیت۔ دوہا (۲) حمد و نعت

اشنان - (اُش - نان) (ع - ۱) (ع - ۱) غسل۔ نہلانا۔

اشوک - (اُشوک) (س - ۱) (ع - ۱) ایک درخت کا نام (۲) تعلیم ہندوستان کے ایک مشہور راجہ کا نام۔

اشوک مخری۔ داگ کا ایک قسم جس میں ۲۸ حروف ہوتے ہیں۔

اشہاد - (اُش - اد) (ع - ۱) (ع - ۱) شاہد کی جمع۔ گواہ۔

اشہاد - (اُش - اد) (ع - ۱) (ع - ۱) شہادت دینا۔ ثبوت پیش کرنا۔

اشہب - (اُش - سب) (ع - ۱) (ع - ۱) سیاہ رنگ کا گھوڑا جس میں سفیدی غالب ہو۔ سبز گھوڑا (۲) مطلق گھوڑا۔

اشہر - (اُش - ہر) (ع - ۱) (ع - ۱) زیادہ مشہور و معروف۔

اشتیاء - (اُش - یا) (ع - ۱) (ع - ۱) شے کی جمع۔ چیزیں۔

اشیائے صرف۔ روزمرہ استعمال کی چیزیں (Consumer Goods)

اشیر باد (س مٹ) دُعائے خیر۔ آمیس۔ دُعائے برکت۔

۱-ص

اصابت - (اصاب - بت) (ع - ۱) (ع - ۱) رسائی۔ پہنچ (۲) ٹھیک بات کہنا صیغہ یعنی پہنچنا۔

اصالیح - (ع - مٹ) فاضل کی انگلیاں۔

اصناع - (ع - تصغیر) اصغر کی جمع۔ چھوٹے۔ سب سے چھوٹے۔

اصالت - (اصال - لت) (ع - ۱) (ع - ۱) اصلیت۔ اصل میں پیدا ہونے کی کیفیت۔

پچھلی عادت۔ قوی اثر نقطہ کا اثر۔

اصالت پر آجانا (جانا، تفریق یا نمائندگی، شکرانہ پر اُترنا، شکرانہ پر اُترنا، شکرانہ پر اُترنا، شکرانہ پر اُترنا)  
 اصالتاً (ا۔ ضا۔ ل۔ ن۔ ن) (ع۔ تابع مہمل) بذات خود۔ بلا وسیلہ خود آپ  
 یہ نفس نفیس (دکالتا کی صفت)  
 اصالتاً حاضر (کسی دلیل کے بغیر) خود حاضر ہونا۔  
 اصباح (ع۔ صبح) صبح کی جمع۔  
 اصباح (ا۔ ص۔ باح) (ع۔ ا۔ صبح) صبح کرنا۔  
 اصح (ع۔ تفعیل) درست ترین۔ بہت صحیح۔  
 اصحاح (ع۔ مذ۔ صحو) ہوشیاری، ہوشیاری سے ہوشیاری میں آنا۔  
 اصحاب (ا۔ ص۔ حاب) (ع۔ ا۔ مذ) صاحب کی جمع (۱) ہم نشین۔ دوست۔  
 (۲) بزرگ جنھوں نے ہمالیہ ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھا  
 اور ایمان پر فخر کرتے۔  
 اصحاب الأعدو و الخندق ولے یمن کا اڈا، ذونواس اور اس کے سپرد کا جھڑپ  
 نے اپنے ملک کے عیسائیوں کو خندق میں زندہ دفن کر دیا تھا۔  
 اصحاب الرائے (ع۔ مذ) وہ فقہاء جو مسائل کے استنباط میں قیاس اور  
 رائے سے کام لیں۔  
 اصحاب الشمال۔ بائیں طرف ولے جن کی صفیں تخت رب العالمین کے بائیں  
 طرف ہوں گی۔ روزِ محرمی لوگ۔  
 اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفروض۔ (فقد) ہیں وہ وارث جن کے  
 حصے قرآن مجید سے منعیں کر دیئے ہیں۔ ان کی تفصیل سورۃ النساء میں  
 درج ہے۔  
 اصحاب المیراث۔ صحنی فقر کی رو سے وہ وارث جن کو اصحاب الفرائض  
 کے بعد حصہ ملتا ہے۔  
 اصحاب العین۔ داہنی طرف ولے لوگ۔ ہشت ولے لوگ۔  
 اصحاب صفۃ۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ جو وقتِ عبادت الہی میں مصروف  
 رہتا تھا حضرت بلالؓ حضرت سلمانؓ حضرت ابوذر غفاریؓ اور حضرت  
 زید ابن الخطابؓ اسی گروہ میں سے تھے۔  
 اصحاب ظاہر (ظواہر) وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے ظاہری یا ظنی پر چھوڑ  
 کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی معنی سننے دوست نہیں سمجھتے۔  
 اصحاب قبیل۔ باطنی ولے۔ امیر شاہ میں اور اس کا لشکر جو باطنیوں پر چھوڑ  
 خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا اور جن کو خدا کے حکم سے پرندوں نے نکر مار مار کر  
 تباہ و بھاد کر دیا تھا۔  
 اصحاب کعب (۱) صحابہ غار (۲) مسلمانوں کے عقیدے میں بائیں راست  
 یا نوآدمی جو ہزاروں سال کعب یعنی غار میں سو رہے ہیں اور قیامت کے دن  
 اُٹھائے جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک کتاب بھی ہے۔  
 اصرار (ا۔ ص۔ رار) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ہٹ۔ صند۔ اڑ۔ (۲) تاکید۔  
 اصراف (ا۔ ص۔ راف) (ع۔ ا۔ مذ) صرف کی جمع۔ بہت سے خرچ۔  
 اصراف (ا۔ ص۔ راف) (ع۔ ا۔ مذ) صرف۔ خرچ۔ خرچ کرنا۔  
 اصطیاع (ا۔ ص۔ ط۔ باغ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) رنگ چڑھانا۔ رنگ نڈب  
 میں ملانا (۲) عیسائی مذہب اختیار کرتے وقت سر پر پانی پھیرنے کی  
 رسم ادا کرنا۔ بپتسمہ۔

اصطیاع دینا۔ (۱) رنگنا (۲) عیسائی مذہب میں لانا۔ بپتسمہ دینا۔  
 اصطیاع لینا۔ عیسائی مذہب اختیار کرنا۔ بپتسمہ لینا۔  
 اصطیل (ا۔ ص۔ طیل) (ع۔ ا۔ مذ) گھڑوں کے باندھنے کی جگہ۔ طویلہ۔  
 اصطرلاب (ا۔ ص۔ طر۔ لاب) (یو۔ ا۔ مذ) ایک آلہ جس سے ستاروں کی  
 بلندی و مقام اور وقت اور ریاضت کرتے ہیں۔  
 اصطفیٰ (ع۔ مذ) برگزیدگی۔ انتخاب (۲) چننا۔ منتخب کرنا۔  
 اصطلاح (ا۔ ص۔ لا۔ ح) (ع۔ ا۔ صحت) کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے  
 عام معنیوں کے علاوہ کوئی خاص معنی مقرر کر لینا۔ مرادی معنی۔  
 اصطلاحات (ا۔ ص۔ ط۔ لا۔ ح) (ع۔ ا۔ صحت) اصطلاح کی جمع۔  
 اصطلاحی (ا۔ ص۔ ط۔ لا۔ ح) (ع۔ صفت) منسوب بہ اصطلاح کسی خاص مفہوم  
 اور محاورے کے متعلق۔  
 اصغر (ا۔ ص۔ غ) (ع۔ صفت) نہایت چھوٹا۔ جمع: اصغیر  
 اصغمان نصف جہان۔ (ف۔ نیش) ایران کا شہر اصغمان آدمی دُنیا کے  
 برابر ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر بہت آباد تھا۔  
 اصغیا (ا۔ ص۔ ف۔ یا) (ع۔ ا۔ مذ) صحنی کی جگہ۔ بزرگ لوگ چھتے ہوئے  
 لوگ۔ پاک باطن لوگ۔  
 اصل (ع۔ ا۔ صحت) (۱) بیخ۔ بنیاد۔ جڑ (۲) منبع۔ سرچشمہ۔ نکاس۔ مادہ (۳)  
 تخم۔ بیج (۴) سمت۔ جہت۔ خلاصہ (۵) سرشت۔ طینت۔ جبلت (۶) حقیقت  
 ماہینت۔ کائنات (۷) نسب۔ نطفہ کا اثر۔ خاندانی اثر (۸) سبب (۹)  
 سربراہ۔ پونجی۔ بیول۔ خلاف۔ سود مال (۱۰) ذات (۱۱) شریف۔ خاندانی  
 (۱۲) کتاب کی عبارت۔ حق۔ قول (۱۳) اول۔ مقدم (۱۴) ٹھیک۔ سداہی  
 (۱۵) خالص۔ بچ کھا۔ بے کھوٹ۔ کھرا۔ جمع: اصول۔  
 اصل لأصول (ع۔ مذ) خلاصہ۔ لب لباب۔ علت۔ غائی۔  
 اصل الشیوے۔ ایک قسم کی جڑ جو دوام میں کام آتی ہے۔ لمبھی۔  
 اصل اصل سے نقل نقل۔ (ا۔ نیش) جو عملی اصل میں ہو سکتی ہے نقل میں  
 نہیں ہو سکتی۔  
 اصل اصول۔ جڑوں کی جڑ۔ اصلی بابت۔ جڑ کی بابت۔ حقیقی اور بنیادی  
 شے۔ علت۔ غائی۔  
 اصل بداز بدی خطا نہ کند۔ [شش] بد ضرور بدی کرتا ہے۔ کیفیت بدی  
 کو چھوڑ نہیں سکتا۔  
 اصل پر آجانا۔ (مماورہ) اپنے کاموں سے نسیلی یا فطری پستی میں آجانا۔  
 اصل خیر سے۔ خیریت سے۔ بخیر۔ سلامتی سے۔  
 اصل سے خطا نہیں کم اصل سے وفا نہیں۔ [ایشش] شریف بڑائی  
 نہیں کر سکتا اور ذلیل سے بھلائی نہیں ہوتی۔  
 اصلا (ا۔ ص۔ لا) (ع۔ مطلقاً) ہرگز کبھی کسی حالت میں۔ بالکل۔ مطلق۔  
 اصلاً (ا۔ ص۔ ل۔ ن) (ع۔ تابع فعل) اصل کے اعتبار سے۔  
 اصلاص (ا۔ ص۔ لا۔ ص) (ع۔ ا۔ صحت) (۱) صحت۔ دوستی۔ برکت (۲) تزییم  
 قیاسی نظریاتی (۳) طب کی اصطلاح اور یہ کو سبب مزاج پر لانا (۴)  
 (ا۔ صحت) حجامت۔ درستی۔ خط۔ جمع: اصطلاحات۔  
 اصلاص بنوانا۔ حجامت بنوانا۔ خط بنوانا۔

اصلاح پذیر۔ (ع۔ ف) اصلاح قبول کرنے والا۔  
 اصلاح لینا۔ (مادہ) اپنی تخریب یا ایسا کلام درست کرنے کے لیے استاد کو دکھانا۔  
 اصلاحات۔ (اص۔ لا۔ عات) (ع۔ ۱۔ مٹ) اصلاح کی جمع (۱) درستیاں  
 ترمیمیں (۲) سیاسی اصطلاح میں حکومت کی وہ اصلاحیں جو نظریہ حکومت  
 کی خوبیاں دور کرنے کے لیے رعا یا کی فلاح و بہبود کے لیے کی جائیں (Reforms)  
 اصولوں۔ (اص۔ لوں) [ا۔ ر] بالکل مطلق۔ اصل میں۔  
 اصلی۔ (اص۔ لی) (ع۔ صف) (۱) حقیقی۔ غلطی۔ ذاتی۔ حقیقی۔ پیدائشی۔ جب تک۔ فطری۔  
 (۲) مقدم۔ اول (۳) عمدہ۔ ٹھیک۔ سچ۔ دائمی۔ نقلی کی ضد۔  
 اصلیت۔ (اص۔ لی۔ میت) (ع۔ ۱۔ مٹ) حقیقت۔ اصل بات۔ واقعیت۔  
 اَصْم۔ (ا۔ صم) (ع۔ صف) ہرا۔ کانوں سے بٹ۔  
 اصناف (اص۔ صاف) (ع۔ ۱۔ مٹ) صنف کی جمع۔ انواع۔ قسمیں۔ طرحیں۔  
 اصنام (اص۔ نام) (ع۔ ۱۔ مذ) صنم کی جمع (۱) بتوں وغیرہ کے بت (۲) مجازاً معشوق۔  
 اصوات۔ (اص۔ وات) (ع۔ ۱۔ مذ) صوت کی جمع۔ آوازیں۔  
 اصول۔ (ا۔ صول) (ع۔ ۱۔ مذ) اصل کی جمع (۱) جڑیں۔ بنیادیں (۲) قواعد  
 ڈھنگ۔ طور طریقہ۔ دستور (۳) اصولوں میں آرد میں بطور واحد  
 مستقل ہے)  
 اصول بانڈھنا۔ قاعدہ مقرر کرنا۔  
 اصول کلام۔ علم کلام میں مسائل کو دلائل عقلی سے ثابت کرنا۔  
 اصولی موضوعہ۔ قائم کیے ہوئے قاعدے مقرر کیے ہوئے اصول۔  
 اصولی۔ (ا۔ صول) (ع۔ صف) (۱) اصول کے مطابق۔ کسی قاعدے قانون کے  
 تحت (۲) مسلمانوں کا ایک فرقہ جو تقلید مجتہد کا قائل ہے۔  
 اَصْهَار۔ (ع۔ مذ) وہ رشتہ دار جن سے از روئے شریعت شادی ناجائز ہے۔  
 اَصیل۔ (ا۔ صیل) (ع۔ صف) (۱) خالص نسل کا۔ شریف۔ نجیب۔ عالی خاندان  
 (۲) [مٹ] ماما۔ خادم۔  
 اصیل کھوڑے کو چابک کی حاجت نہیں۔ [مث] (۱) اصیل کھوڑا مار  
 کھائے بغیر سیدھا اور اچھا چلتا ہے (۲) شریف آدمی سے کام لینے  
 کے لیے سختی کی ضرورت نہیں۔  
 اصیل مرغ کھئے ٹھکے۔ [مث] خاندانی لوگوں کی بے نداری۔ شریف کی  
 قدر نہ ہونا۔

## ۱-ض

اضافت۔ (ا۔ ضا۔ فنت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) نسبت۔ لگاؤ۔ جمیل۔ ایک  
 کلمے کا دوسرے کلمے سے لگاؤ جو فارسی اور عربی الفاظ میں مضاف کے لیے  
 زیر لگانے اور اردو میں مضاف الیہ کے آگے، کا، کی، کے لگانے سے  
 ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے غلام زید کا غلام۔  
 اضافت الہی۔ (ع۔ صف) اولاد اور والدین کا تعلق جیسے اکبر کا لڑکا۔  
 اضافت استعارہ۔ جب استعارہ تشبیہ استعارہ بالکنایہ کی طرف مضاف  
 ہوتا ہے تو اس اضافت کو اضافت استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے  
 "پائے نکر۔"

اضحلال - (اض-ح-لال) [ع-ا-ند] پڑھو گی کھل سستی - کاہلی - انسرگی -

اظہار - (اظ-ہ-ار) [ع-ا-ند] ظاہر کی جمع - پاک لوگ -

اظہر - (اظ-ہ-ر) [ع-صف] بہت پاک -

اظہیب - (اظ-یب) [ع-صف] نہایت پاک - نہایت خوشبودار بہت اچھا -

## ا-ط

اطاعت - (ا-ط-اعت) [ع-ا-مشت] تابع داری - بندگی - فرماں برداری -  
تغییل حکم - جمع - اطاعات -

اطاعت گزار - اطاعت کرنے والا - فرماں بردار -

اطاق - (ا-ط-اق) [ت-ا-ند] مکہ - حجرہ والا -

اطال - (ا-ط-ال) [ع-فعل ماضی] لمبا کرے - بڑھائے -

اطال اللہ عمرہ - خدا اس کی عمر بڑھائے - دعا نبیہ انقاب جو چھوٹوں کو  
لکھا جاتا ہے -

اطالوی - (ا-ط-ال-وی) [ع-صف] اطالیہ (اٹلی) سے منسوب - اٹلی کا باشندہ -

اطالیہ - یورپ کا ایک مشہور ملک (اٹلی)

اطبآ - (ا-ط-ب) [ع-ا-ند] طبیب کی جمع - ویدیک حکیم ڈاکٹر دادا دارو  
کرنے والے -

اطراف - (ا-ط-راف) [ع-ا-مشت] طرف کی جمع - سمتیں - طرفیں - کنارے -

اطریض - (ا-ط-ری-ض) [فعل] اتری پھیل کا معرب - دیکھیے اتری پھیل -

اطعمہ - (ا-ط-ع-م) [ع-ا-ند] طعام کی جمع - کھانے - غذا - بھو جن -

اطفان - (ا-ط-ف-ان) [ع-ا-ند] آگ بھگانا -

اطفال - (ا-ط-ف-ال) [ع-ا-ند] طفل کی جمع - لڑکے - بال بچے -

اطلوع - (ا-ط-ل-وع) [ع-ا-مشت] (۱) آگاہی - خبر - رپورٹ (۲) نوٹس  
اعلان - اشتہار - جمع : اطلاعات -

اطلاع نامہ - وہ چٹھی جو خبر دینے کے لیے بھیجی جائے - سمن - نوٹس - پڑان  
حکم نامہ -

اطلاعاً - (ا-ط-ل-اع) [ع-تابع فعل] برائے اطلاع - آگاہی کے لیے  
باخبر کرنے کے لیے -

اطلاع یابی - (ع-ف-مشت) خبر پانا - آگاہ ہونا - باخبری -

اطلاعی - (ا-ط-ل-اع) [ع-ف-مشت] خبر دینے والی - آگاہ کرنے والے  
(چٹھی) نوٹس یا خبر دینے والے چیز جو کسی کے متعلق اطلاع دے -

اطلاق - (ا-ط-لاق) [ع-ا-ند] رواں کرنا جاری کرنا - بولا جانا - استعمال ہونا  
منطقی ہونا - عائد ہونا کسی چیز کا دوسری پر محمول کرنا -

اطلاق نویسی - سمن کے اجراء اور خراج کا حساب کتاب رکھنے والا انسر -

اطلس - (ا-ط-لس) [ع-ا-ند] ایک نغمہ کا پیشی کڑوا -

اطمینان - (ا-ط-م-ان) [ع-ا-ند] دل جمعی - ڈھارس - خاطر جمع - تسلی  
دلاسا - صبر - ظاہر -

اطناب - (ا-ط-ناب) [ع-ا-مشت] طنب کی جمع - رطنا میں تینوں کی رسیاں

اطناب - (ا-ط-ناب) [ع-ا-ند] بات کو طویل لینا -

اطوار - (ا-ط-وار) [ع-ا-ند] طور کی جمع - وضع - ڈھنگ - طریقے - چال چلن  
روش -

اطول - (ا-ط-ول) [ع-صف] بہت طویل - بہت لمبا -

## ا-ظ

اظلال - (ا-ظ-لال) [ع-ا-ند] ظلم کی جمع - سلائے -

اظلال - (ا-ظ-لال) [ع-ا-ند] سایہ ڈالنا -

اظلام - [ع-ا-ند] تاریک کرنا -

اظلم - [ا-ظ-لم] [ع-صف] بہت بڑا ظالم - نہایت تکلیف دینے والا -  
اظہار - (ا-ظ-ہ-ار) [ع-ا-ند] (۱) کھولنا - ظاہر کرنا - ظاہر ہونا (۲) بیان  
کیفیت حقیقت (۳) وہ بیان جو عدالت میں دیا جائے -

اظہار حلفی - قسمی گواہی -

اظہار دینا - عدالت میں گواہی دینا - بیان لکھوانا -

اظہار قانونی - قانون کی رو سے درست گواہی -

اظہار کرنا - (مجاددہ) بیان کرنا - ظاہر کرنا -

اظہار لیبنا - (مجاددہ) بیان لینا - گواہی لینا - اہل مقدمہ سے مقدمہ کے حالات  
سننا -

اظہار نامہ - عدالت کا سمن - اطلاع نامہ -

اظہار نویسی - وہ محرر جو بیان اور دہنات لکھتا ہے -

اظہر - (ا-ظ-ہ-ر) [ع-صف] خوب ظاہر - نہایت صریح اور واضح -

اظہر من الشمس - سورج سے زیادہ ظاہر - سورج کی طرح ظاہر اور عیاں -

## ا-ع

اعادہ - (ا-ع-ادہ) [ع-ا-ند] لوٹانا پھیر کر لوٹانا - دوہرانا - بار بار کرنا -

اعادۂ شباب - (ع-ا-ند) بڑھاپے میں جوانی کی دوبارہ طاقت - آہنگ پیدا کرنا -

اعظم - (ا-ع-ظ-م) [ع-ا-ند] اعظم کی جمع - بہت بڑے لوگ -

اعانت - (ا-ع-انت) [ع-ا-مشت] مدد - سہارا - جمع : اعانتات -

اعانت مجرمانہ - جرم میں مدد دینا -

اعتناق - (ا-ع-ت-اق) [ع-ا-ند] غلام یا باندی کو آزاد کرنا -

اعتبار - (ا-ع-ت-ار) [ع-ا-ند] (۱) تکیہ - بھروسا - ساکھ - اتماد (۲) یقین  
(۳) لحاظ (اس اعتبار سے وہ تم سے اچھا ہے) جمع : اعتبارات -

اعتبار آنا - یقین آنا -

اعتبار اٹھانا - اعتبار جانا - اتماد میں ٹہرنا - ساکھ نہ رہنا -

اعتبار کرنا - بھروسہ کرنا - یقین کرنا -

اعتبار نامہ - سند - سرٹیفیکٹ -

اعتباری - (ا-ع-ت-ار) [ع-صف] قابل اعتبار معتبر - بھروسے کے لائق -

اعتدال - (ا-ع-ت-ال) [ع-ا-ند] (۱) نیچے نہ زیادتی - درمیانی درجہ - میانہ روی -

اعتدال پر رہنا - (مجاددہ) میانہ روی رکھنا - ہر کام مناسب طریق پر کرنا -

اعتدال پسند - میانہ روی پسند کرنے والا -

اعداد متوافق - وہ ہند سے جو دوسرے ہندسوں کو پورا تقسیم کر سکیں۔  
 اعداد و شمار - شماریات کسی ملک کے باشندوں کی تعداد اور ان کے پیشوں  
 وغیرہ کے متعلق معلومات کسی ملک کی صنعتی ترقی اور تعلیمی اور سماجی  
 سرگرمیوں کے متعلق محل اطلاعات (Statistics)  
 اعدل - (اے۔ ذل) [ع۔ صفت] بہت عدل کرنے والا۔ بہت بڑا منصف۔  
 اعراب - (اے۔ راب) [ع۔ ۱۔ مذ] بدو عرب کے صحرائی باشندے۔  
 اعراب - (اے۔ راب) [ع۔ ۱۔ مذ] زبر زیر پیش کی علامتیں۔ حرکت کی  
 حرکات ظاہر کرنے والی حرکات۔  
 اعرابی - (اے۔ رابی) [ع۔ ۱۔ مذ] عرب کا بدو صحرائی باشندے عرب کنواری  
 اجد۔  
 اعراض - (اے۔ ضا) [ع۔ ۱۔ مذ] منہ پھیرنا۔ بھینا۔ روگردانی۔  
 اعزاز - (اے۔ زاف) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) دو روز اور بہشت کے درمیان کا  
 مقام۔ (۲) قرآن کی ایک سورت کا نام۔  
 اعزاز - (اے۔ زاف) [ع۔ ۱۔ مذ] عزت۔ رتیبہ۔ مرتبہ۔ جمع: اعزازات  
 اعزازی - (اے۔ زافی) [ع۔ صفت] (۱) تعریفی۔ ستائشی (۲) عزت بڑھانے  
 والا۔ (۳) تحفہ۔ ہدیہ  
 اعزازیہ - (ع۔ مذ) وہ نذرانہ جو کسی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر پیش کیا  
 جائے۔ (انگ) (Honorary)  
 اعزہ - (اے۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] عرب کی جمع۔ بھائی بندہ رشتے دار  
 اعصاب - (اے۔ صاب) [ع۔ ۱۔ مذ] عصب کی جمع۔ پیٹھے۔  
 اعصابی - (اے۔ صابی) [ع۔ صفت] اعصاب سے متعلق۔  
 اعصابی جنگ - سرد جنگ۔ ایسی جنگ جس میں دو مخالف ملک یا ملک  
 سیاسی میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔  
 (Coldwar)  
 اعضا - (اے۔ ضا) [ع۔ ۱۔ مذ] عضو کی جمع۔ بدن کے اعضا۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ۔  
 اعضا شکنی - جوڑوں میں درد ہونا۔ بدن ٹوٹنا۔  
 اعضائے ریلیدہ - دل۔ دماغ۔ جگر وغیرہ۔  
 اعطا - (اے۔ طا) [ع۔ ۱۔ مذ] بخشش کرنا۔ عطا کرنا۔ دینا۔  
 اعظم - (اے۔ ظم) [ع۔ صفت] نہایت بڑا۔ بزرگ۔ جمع: اعظام۔  
 اعقاب - (اے۔ قاب) [ع۔ ۱۔ مذ] عقب کی جمع۔ پس ماندگان۔ آل و اولاد  
 جو باپ کے مر جانے کے بعد باقی رہے۔ پچھلی نسل۔  
 اعلا - (اے۔ لا) [ع۔ ۱۔ مذ] بلند کرنا۔ غالب کرنا۔  
 اعلام - (اے۔ لام) [ع۔ ۱۔ مذ] علم کی جمع۔ چھندڑے۔  
 اعلام - (اے۔ لام) [ع۔ ۱۔ مذ] اخیر دینا۔ آگاہ کرنا۔ جتلا نا۔ ظاہر کرنا۔ کھلنا  
 (۲) پروانہ۔ نوٹس۔  
 اعلامیہ - (اے۔ لامیہ) [ع۔ ۱۔ مذ] اعلان سرکاری اعلان۔  
 اعلان - (اے۔ لان) [ع۔ ۱۔ مذ] ظاہر کرنا۔ شہرت دینا۔ مشہور کرنا۔ ہٹھکنا  
 پھیلنا۔ جمع: اعلانات۔  
 اعلم - (اے۔ لم) [ع۔ صفت] بہت جانتے والا۔ بہت بڑا عالم۔  
 اعلمی - (اے۔ لم) [ع۔ صفت] بہت بلند۔ بہت اونچا۔ بلند مرتبہ۔

اعتذار - (اے۔ ت۔ ذار) [ع۔ ۱۔ مذ] عذر کرنا۔ عذر خواہی۔  
 اعتراض - (اے۔ ت۔ راض) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) نکتہ چینی۔ غیب گوئی۔ گنت  
 (۲) جھگڑت۔ مخالفت۔ جمع: اعتراضات۔  
 اعتراض اٹھانا - (۱) نکتہ چینی کرنا (۲) نکتہ چینی کا جواب دینا۔  
 اعتراض جڑنا - اعتراض جمانا۔ اعتراض کرنا (بے عقلی کے موقع پر بولتے ہیں)  
 اعتراض کرنا - ٹوٹنا۔ گرفت کرنا۔ نکتہ چینی کرنا۔ غیب لگانا۔  
 اعتراضی - (ت۔ ا۔ مرث) ناراضی خفگی [صفت] اعتراض کرنے والا۔  
 اعتراف - (ع۔ مذ) اثر۔ خوبی۔ پھیلاؤ۔ جوہر۔  
 اعتراف - (اے۔ ت۔ راف) [ع۔ ۱۔ مذ] اقرار کرنا۔ تسلیم کرنا۔ مان لینا۔  
 اعتراف - (اے۔ ت۔ راف) [ع۔ ۱۔ مذ] عزت نشینی۔ گوشے میں بیٹھنا۔  
 ایک ہونچھٹا۔ علیحدگی سخت چھوڑ دینا۔ دست بردار ہونا۔  
 اعتصام - (اے۔ ت۔ صام) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) مضبوطی سے پکڑنا (۲) پرہیزگار  
 ہونا۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔  
 اعتقاد - (اے۔ ت۔ قاد) [ع۔ ۱۔ مذ] عقیدہ۔ یقین۔ بھروسہ۔ ایمان۔  
 دھرم۔ جمع: اعتقادات  
 اعتقاد اٹھ جانا - یقین نہ رہنا۔ عقیدہ جاتا رہنا۔  
 اعتقاد رکھنا - یقین رکھنا۔ معتقد ہونا۔  
 اعتقادی - (اے۔ ت۔ قادی) [ع۔ صفت] (۱) اعتقاد سے متعلق [ق]  
 اعتقاد رکھنے والا۔ معتقد۔  
 اعتکاف - (اے۔ ت۔ کاف) [ع۔ ۱۔ مذ] نفس کو دنیاوی لذت سے باز  
 رکھنا۔ مسجد میں معینہ مدت کے لیے گوشہ نشین ہونا۔  
 اعتکاف سے ملنا - اعتکاف سے باہر آنا۔ معینہ گوشہ نشینی کو ختم کرنا۔  
 اعتلا - (اے۔ ت۔ لا) [ع۔ ۱۔ مذ] بلندی۔ اونچائی۔  
 اعتناء - (اے۔ ت۔ نا) [ع۔ ۱۔ مذ] اعتبار۔ بھروسہ۔ یقین۔  
 اعتناء - (اے۔ ت۔ نا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) غم خواری کرنا۔ ہمدردی کرنا (۲) پروا کرنا  
 غور و پروا نہت کرنا۔  
 اعجاز - (اے۔ ت۔ جاز) [ع۔ ۱۔ مذ] معجزہ۔ خارق عادت۔ کرامت۔ کرشمہ  
 اعجاز بیان - (۱) بغیر اساتذت جادو بیان۔ نہایت فصیح البیان (۲) (بہ اساتذت)  
 کلام کا معجزہ۔ تقریر کا جادو۔  
 اعجاز دکھانا - (مجاورہ) حیرت انگیز کام کرنا۔ معجزہ کرنا۔  
 اعجاز (عیسوی) مسیحائی۔ (۱) حضرت عیسیٰ کا معجزہ جن کے دم سے بیمار  
 تندرست اور مرنے سے زندہ ہونے لفظ (۲) بیمار کا تندرست ہونا  
 ماد زرد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنا۔  
 اعجازیہ - (اے۔ جزیہ) [ع۔ ۱۔ مذ] عجیب شے۔ اونٹنی چیز۔ طرفہ تماشا۔  
 اعدا - (اے۔ دا) [ع۔ ۱۔ مذ] عدد کی جمع۔ دشمن۔ بری۔ مخالف۔  
 اعداد - (اے۔ داد) [ع۔ ۱۔ مذ] عدد کی جمع۔ گنتی۔ ہندسہ۔ رقم جیسے (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴)  
 اعداد قیام - وہ طاق ہندسے جنہیں کوئی ہندسہ پورا تقسیم کر کے جیسے (۱۱، ۱۳، ۱۴)  
 اعداد متداول - وہ ہندسے جنہیں کوئی عدد پورا تقسیم کر کے جھگڑت اعداد  
 اعداد متداول - ۲۵، ۲۱، ۲۰، ۲۰ وغیرہ۔  
 اعداد متداول - ایک دوسرے سے مشابہ عدد (۲-۳ وغیرہ)

ا-ف

**اُف** [ع] (۱) آہ - اودہ (حیرت) درد یا رنج کے اظہار کے لیے (۲) افسوس (تاسف کے لیے) (۳) کسی چیز کی زیادتی ظاہر کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔  
**اُف** نہ کرنا - کراہنا - آہ آہ کرنا۔  
**اُف** تیرا کاٹنا نہ جئے - سخت ظالم - مردم آزار یا فزہی و مہندہ پر از کی نسبت کہتے ہیں۔  
**اُف** رے - (کلمہ حیرت) آہ سے - اور رے - اللہ رے - بٹے رے۔  
**اُف** کر دینا - (مجاددہ) جلا کر خاکستر کر دینا (۲) اجاڑ دینا - تباہ کر دینا۔  
**اُف** نہ کرنا - (مجاددہ) (۱) سانس نہ لگانا - صدمہ کے باوجود مزے سے آہ نہ لگانا (۲) کچھ نہ لونا - شکایت زبان پر نہ لانا (۳) ضبط کرنا۔  
**اُف** ہو جانا - (مجاددہ) خاک اُڑھانا - کچھ باقی نہ رہنا - صفیا ہو جانا جل کر راکھ ہو جانا - مٹ جانا - فنا ہو جانا۔  
**افادہ** - (افا - وہ) [ف - ا - مذ] فائدہ پہنچانا (۲) نفع - یافت (۳) تعیم تلقین تربیت - جمع : افادات  
**افادۂ عام** - سب کو فائدہ پہنچانا۔

**افاضل** - (۱) فاضل [ع - ا - مذ] افضل کی جمع - عالم و فضیل لوگ - بزرگ لوگ۔  
**افاضلہ** - (۱) فاضلہ [ع - ا - مذ] فیض پہنچانا - فائدہ پہنچانا - جمع : افاضلت  
**افاعیل** - (۱) فاعیل [ع - ا - مذ] علم غرض کے ارکان جن سے بحیر بنائی جاتی ہیں  
**افاغندہ** - (۱) فاعنہ [ع - ا - مذ] افغان کی جمع - افغانستان کے لوگ - پھان -  
**افاقہ** - (۱) فاقہ [ع - ا - مذ] (۱) ہوش میں آنا (۲) تندرستی آرام مرض میں کمی صحت - آرام - شفا  
**افیا** - (۱) فیا [ع - ا - مذ] فتویٰ دینا -  
**افقاد** - (۱) فاد [ع - ا - مذ] (۱) کچھ مصیبت (۲) اتفاقیہ اور اچانک سانحہ (۳) بنیاد - ابتدا شروع (۴) فطرت طبیعت -  
**افقاد پڑنا** - حادثہ پیش آنا - مصیبت آنا۔  
**افقادگی** - (۱) فادگی [ع - ا - مذ] (۱) عاجزی - انکسار - خاکساری - تنگدستی - افلاس۔  
**افقادہ** - (۱) فادہ [ع - ا - مذ] (۱) گرا پڑنا - در ماندہ (۲) بغیر حوتی ہوئی ناکارہ زمین بغیر مزد و عزمین - جمع : افقادگان  
**افقان و خیراں** - (۱) فقان [ع - ا - مذ] (۱) فاقہ - تاج فاعل [۱] گرتے پڑتے بدحواسی کی حالت میں (۲) ہمت مشکل سے۔  
**افتتاح** - (۱) فتاح [ع - ا - مذ] شروع کرنا - کھولنا - ظاہر کرنا۔  
**افتتاحیہ** - (۱) فتاحیہ [ع - ا - مذ] (۱) اخبار کا ادارہ - ایڈیٹریل (۲) کتاب کا دیباچہ (صفحہ) افتتاح سے منسوب۔  
**افتخار** - (۱) فخر [ع - ا - مذ] فخر - بزرگی - عزت - ناز گھنڈ۔  
**افترا** - (۱) فتر [ع - ا - مذ] (۱) تمہت - بہتان بھجوانا الزام - افترا باندھنا - تمہت لگانا - بہتان باندھنا۔  
**افترا پرداز** - تمہت لگانے والا - الزام لگانے والا۔

**اعلیٰ علیین** - بزد ہشت - بہشت کا سب سے بڑا درجہ۔  
**اعمالی** - (۱) اع - (۲) ما [ع - ا - مذ] (۱) عمل کی جمع - گمبیاں۔  
**اعمال** - (۱) اع - (۲) مال [ع - ا - مذ] (۱) کام - افعال - کرنی (۲) ورد - وظائف۔  
**اعمال نامہ** - (۱) وہ رجسٹر جس میں کرانہ کا تین انسان کے برے چلے کام لکھتے ہیں - (۲) وہ رجسٹر جس میں سرکاری ملازموں کی کارکردگی لکھی جاتی ہیں - (انگس) (Service Book)  
**اعمام** - (۱) اع - (۲) ام [ع - ا - مذ] (۱) عم کی جگہ - چچا اور چھوپچھا۔  
**اعلیٰ** - (۱) اع - (۲) ما [ع - ا - مذ] (۱) اندھا - نابینا - جمع : علیان۔  
**اعنی** - (۱) اع - (۲) نی [ع - ا - مذ] (۱) میں مراد رکھتا ہوں - میری مراد ہے (مشکل کا حل) (۲) احوال - (۱) اع - (۲) وان [ع - ا - مذ] (۱) جمع - ہمت سے حامی اور مددگار۔  
**اعیان** - (۱) اع - (۲) یان [ع - ا - مذ] (۱) عین کی جمع (۲) چہشتے (۳) آراء و ذرا سر کردہ لوگ۔

ا-غ

**اغذیہ** - (۱) اغ - (۲) ذیہ [ع - ا - مذ] (۱) غذا کی جمع - غذائیں خوراکیں کھانے۔  
**اغراض** - (۱) اغ - (۲) راض [ع - ا - مذ] (۱) غرض کی جمع - مطالب - مفاسد نتیجے اور اسے - حاجتیں۔  
**اغراق** - (۱) اغ - (۲) راق [ع - ا - مذ] (۱) بہت مبالغہ کرنا - بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا (۲) ڈبو دینا۔  
**اغلاط** - (۱) اغ - (۲) لاط [ع - ا - مذ] (۱) غلطی کی جمع - جھول چوک خطائیں۔  
**اغلاقی** - (۱) اغ - (۲) لاق [ع - ا - مذ] (۱) کلام کو مشکل کرنا پیچیدہ کرنا۔  
**اغلام** - (۱) اغ - (۲) لام [ع - ا - مذ] (۱) لوگوں کے ساتھ برقی کرنا - لواطت - ٹیٹھے بازی خلاف وضع نظری۔  
**اغلامی** - (۱) اغ - (۲) لامی [ع - ا - مذ] (۱) لواطت سے باز - اغلام کرنے والا۔ (۲) اغلام کرانے والا۔  
**اغلب** - (۱) اغ - (۲) لب [ع - ا - مذ] (۱) غالب تر - زیادہ غالب یقین کے تریب - ضرور یقینی۔  
**اغلی** - (۱) اغ - (۲) لی [ع - ا - مذ] (۱) ادھر ادھر - اس پاس۔  
**اغلط** - (۱) اغ - (۲) لظ [ع - ا - مذ] (۱) غلطی - غلطی۔  
**اغزاز** - (۱) اغ - (۲) زاز [ع - ا - مذ] (۱) ناز کرنا - غزہ - ناز و ادا (۲) غرور - گھنڈ - اترانا۔  
**اغراض** - (۱) اغ - (۲) راض [ع - ا - مذ] (۱) روگردانی کرنا - درگزر - چشم پوشی۔  
**اغنیبا** - (۱) اغ - (۲) نیا [ع - ا - مذ] (۱) غنی کی جمع - دولت مند لوگ۔  
**اغوا** - (۱) اغ - (۲) وا [ع - ا - مذ] (۱) واصل نہ - ہلکانا (۲) ہلکا کر بھگانے جانا۔  
**اغوا کرنا** - (۱) اغوا کرنا - کھینچنا - اکسانا۔  
**اغوا کرنا** - (۱) اغوا کرنا - واصل نہ (۲) کسی کو ہلکا کرے بھگانا۔  
**اغیار** - (۱) اغ - (۲) یار [ع - ا - مذ] (۱) غیر کی جمع (۱) اجنبی - بیگانے جن سے رشتہ داری نہ ہو (۲) عدد و شمار - رقیب۔





انشاں کرنا - رنگ چھرکنا -

انشائی - (اُن - ثنائی) (ف - صفت) انشاں سے منسوب [مٹ] پھرنے کا بھینا  
انشائی کا غند - وہ کاغذ جس پر رنگ یا انشاں چھڑکی ہوتی ہو۔انشروہ - (اُن - بشر - وہ) (ف - صفت) پچڑا ہوا (مذ) دہ شربت جو پھل وغیرہ  
پچڑا کر بنایا جائےافصح - (اُن - صبح) (ع - صفت) بہت فصیح - نہایت خوش کلام - نہایت خوش بیا۔  
افضال - (اُن - ضال) (ع - صفت) فضل کی جمع - کرم - مہربانیاں -

افضالی - (اُن - ضالی) (ع - ا - مذ) مہربانی کرنا - کرم کرنا -

افضل - (اُن - ضل) (ع - صفت) بزرگ ترین - بہترین - عمدہ ترین - نہایت اچھا  
جمع : افاضل

افضلیت - (اُن - ضلی - بی - بیت) (ع - ا - مٹ) بزرگی - بڑائی - فضیلت

افطار - (اُن - طار) (ع - ا - مذ) روزہ کھولنا -

انطاری - (اُن - طاری) (ا - مٹ) (۱) وہ چیز جس سے روزہ  
کھولیں (۲) روزہ کھولنا -افعال - (اُن - عال) (ع - ا - مذ) فعل کی جمع (۱) کام - اعمال (۲) مشتقاتِ مصدر  
جن میں زمانہ پایا جائے (۳) تاثیریں - خواص -افعی - (اُن - عی) (ع - ا - مذ) ناک - ایک قسم کا نہایت زہریلا سانپ - کالا سانپ  
افعی سیرت - سانپ کی خصلت والا میوزی اور ضرر رساں شخصافغان - (اُن - فان) (ف - ا - مذ) (۱) فریاد و فغان (۲) پھغان - افغانستان  
اور سابق صورت پر سرحد کا رہنے والا - جمع : افغاناںافق - (اُن - ق) (ع - ا - مذ) (۱) وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے  
ہیں - آسمان کا کنارہ - جمع : افاقی -

افقر - (اُن - قر) (ع - صفت) بہت غریب - نہایت محتاج -

افقی - (اُن - قی) (ع - صفت) (۱) افق سے متعلق - افق کے قریب (۲) افق کے  
متوازی (۳) چپٹا - مسطح -افکار - (اُن - کار) (ع - ا - مذ) فکر کی جمع (۱) فکریں - تردوات - پریشانیوں  
(۲) شعر کا کلام - اشعار -

افکار عالیہ (۱) بلند خیالات (۲) بلند رتبہ اشعار -

افکار - (اُن - کار) (ف - صفت) زخمی - مجروح - گھائل -

افکن - (اُن - کن) (ف - صفت) ڈالنے والا - گرا دینے والا - پھلانے والا -  
(مرکبات میں آتا ہے) جیسے شیر افکن -

افکندہ - (اُن - کندہ) (ف - صفت) (۱) گرا ہوا (۲) عاجز - منکسر -

افلاس - (اُن - لاس) (ع - ا - مذ) غفلتی - تنگ دستی - غریبی - ناداری - فلاکت -  
افلاطون - (اُن - لاطون) (ی - مذ) (۱) نہایت چوڑے چپکے سینہ والا شخص  
(۲) یونان کے ایک بہت بڑے حکیم کا نام جو بقراط کا شاگرد اور ارسطو کا  
شاگرد تھا -

افلاطون کا سالہ - زور آور کار رشہ دار - مغرور گھمنڈی جنگلہ -

افلاطون کا سالہا بنا پھرنے سے [مٹیل] خواہ مخواہ گھڑوں کو ڈرانا پھرنے سے  
بڑا منکر ہے - اپنی عقل پر بڑا مغرور ہے -

افلاک - (اُن - لاک) (ع - ا - مذ) فلک کی جمع - آسمان - گرووں - چرخ -

افواج - (اُن - واج) (ف - امٹ) فوج کی جمع - فوجیں - بہت سے لشکر -

افواہ - (اُن - واہ) (ع - ا - مذ) بازاری خبر - بے اصل بات - آڑی خبر - شنبہ  
خبریں - گپ (عربی میں مذکر ہے اردو میں مؤنث مستعمل ہے)افواہ اڑانا - بے اصل بات شہور کرنا - جھوٹی خبر شہور کرنا -  
افوہ - (اُن - فوہ) (ا - مٹ) تعجب - تاسف یا کثرت درد کے اظہار کے لیے  
زبان سے نکلنے والی آواز -

افوہ سے نہری فیصل بازی - (مماورہ) تو تو بڑا مکا رہے -

افواہ - افواہ کے طور پر -

افہام - (اُن - ہام) (ف - امٹ) فہم کی جمع - عقلیں سمجھیں -

افہام - (اُن - ہام) (ع - ا - مذ) سمجھانا -

افہم - (اُن - فہم) (ا - مٹ) افیون مسنونہ زہری اور شیشلی چیز جو پوست کے  
رس کو منجمد کر کے بنائی جاتی ہے -افہم کھانے امیر باکھانے فیغز [مٹیل] افیمی آدمی از خود رفتہ اور بے کا  
ہو جاتا ہے - اس لیے افیم امیر یا فیغزی کہا سکتا ہے -

افیمی - (اُن - فیمی) (جی) [ا - مٹ] (۱) افیون کا عادی -

افیمین - (اُن - فین) (ا - مٹ) (۱) افیون کا نشہ کرے -

افیمی نہیں منزل سے پہچانا جاتا ہے - [مٹیل] افیمی کی پہچان بہت دور سے  
ہو جاتی ہے - فہمی کی صورت ہی الگ ہوتی ہے -

افیون - (اُن - یون) (ع - ا - مٹ) افیم - تریاک -

افیون مینا - افیون کو پانی میں گھول کر پینا -

افیون چڑھنا - افیم کے نشے کا زور ہونا -

افیون دینا - نسخے چرن کو افیون کھلانا -

افیون کا چوکا - افیون کا میل اور فشنہ جو گھولنے کے بعد رہ جاتا ہے -

افیون کا گھولا - پانی میں کھلی ہوئی افیون -

افیون کی بینک - افیون کا نشہ -

افیون کھلنا (گھولنا) گھولنا - افیون گھول کر پینے کے لیے تیار کرنا -

افیونی - (اُن - یونی) (ع - ف - ا - مذ) افیمی - افیون کا عادی -

افیونی جنونی - افیونی پاگل سا ہونا ہے -

## ا - ق

اقادیمہ - (اُن - دی - مہ) (انگریزی لفظ اکیڈمی (Academy) کا عرب  
امٹ) علم و ادب کو ترقی دینے والی اکہم - اکا دی -

اقارب - (اُن - قارب) (ع - ا - مذ) اقرب کی جمع - رشتہ دار - اقربا - اقربا -

اقالہ - (اُن - قالہ) (ع - ا - مذ) (۱) بیج کو مسترد کرنا - معافی چاہنا -

اقایم - (اُن - قایم) (ع - ا - مٹ) اقیم کی جمع - مامک - سلطنتیں -

اقامسک - (اُن - قاسک) (ع - ا - مٹ) (۱) اقیام - خزار - سکون (۲) وطن - مسکن  
(۳) تنجیر نماز باجماعت -

اقامت کرنا - ٹھہرنے والا - قیام کرنے والا -

اقایم - (اُن - قایم) (ع - ا - مذ) اقیوم کی جمع (۱) اصل - بنیادیں (۲) مقدس

تشلیٹ کے افراد۔

انفائیم ثلاثہ - تشلیٹ کے افراد (خدا عیسیٰ - روح القدس)

اقبال - (اقن - بال) (ع - ا - ند) (۱) خوش شمتی عروج - خوشحالی - ادبار کی ضد (۲) زمانے کا موافق ہونا (۳) اقرار - اعتراف - تسلیم (۴) عالم اسلام کے مشہور مفکر و شاعر علامہ اقبال کا نام اور تخلص۔

اقبال بلند ہونا - (معاورہ) اقبال کا ارجح ہونا خوش نصیبی ترقی پر ہونا۔

اقبال مجرم - مجرم کا اقرار مجرم ہونے کا اعتراف۔

اقبال چمکانا - دولت اور مرتبے میں ترقی ہونا۔ دولت اور مرتبہ حاصل ہونا نصیب ہونا اور ہونا۔

اقبال دعویٰ - مخالف کے دعوے کو تسلیم کرنا۔

اقبال دعویٰ داخل کرنا - حاکم کے رو برو کسی کے دعویٰ کا تحریری اقرار کرنا۔

اقبال کرنا - قبول کرنا۔ اقرار کرنا۔ اعتراف کرنا۔

اقبال مند - خوش شمت - صاحب نصیب۔ بھاگوان۔

اقبال مندی - خوش نصیبی - طالع دہری۔

اقبالی - (اقن - با - لی) (ع - صفت) اقبال کرنے والا۔ ماں لینے والا جس نے اپنے کثرت کا اعتراف کر لیا ہو۔

اقبالیات - (اقن - با - ل - یات) (ا - امث) حکیم الامت علامہ اقبال کے نظریات اور ان سے متعلق لٹریچر۔

اقبباس - (اقن - بت - باس) (ع - ا - ند) (۱) چھانٹنا۔ چھننا۔ انڈ کرنا (۲) چھننا ہوا کلام (۳) روشنی لینا - جمع : اقباسات۔

اقتداء - (اقن - بت - دا) (ع - ا - ند) (۱) پیروی کرنا (۲) امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔

اقتدار - (اقن - بت - دار) (ع - ا - ند) (۱) زور و نفرت - طاقت - بڑائی - شان و شوکت (۲) اختیار و حکومت - مرتبہ۔

اقتدار اعلیٰ - ملک کا سب سے بڑا اختیار۔

اقتدار و جائزہ - وہ اختیار جو قانوناً درست ہو۔

اقتضائے ان - (اقن - بت - ان) (ع - ا - ند) [نزدیک ہونا - پاس ہونا۔ نزدیکی۔

اقتضا و - (اقن - بت - صا) (ع - ا - ند) [میانہ روی - کفایت شغری - جتنی دل سے کام لینا۔

اقتصادی - (اقن - بت - صا - دی) (ع - صفت) اقتصاد سے متعلق - مالی معاشی۔

اقتصادیات - (اقن - بت - صا - دیات) (ع - ا - امث) معاشیات - وہ علم جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم سے بحث کی جاتی ہے۔

اقتضا - (اقن - بت - ضا) (ع - ا - ند) (۱) خواہش کرنا - چاہنا (۲) تقاضا۔

لازمہ ضرورت۔

اقدار - (اقن - دار) (ع - ا - امث) قدر کی جمع - قدریں۔

اقدام - (اقن - دام) (ع - ا - ند) قدم کی جمع۔

اقدام - (اقن - دام) (ع - ا - ند) (۱) قدم بڑھانا - آگے جانا۔ پیش قدمی کرنا (۲) ایجاب عمل (۳) ارادہ - قصد - جمع : اقدامات

اقدام خود نشینی - اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرنا۔

اقدام قتل - کسی کے مار ڈالنے کا قصد کرنا۔

اقدام قتل عمد - جان بوجھ کر کسی کے قتل کرنے کا ارادہ کرنا۔

اقدس - (اقن - وس) (ع - صفت) بہت پاک۔ اطہر۔

اقرار - (اقن - رار) (ع - اسن) [ان - ہامی - قبول منظور - قول قرار - عمدہ و پیا وعدہ کرنا۔

اقرار مجرم - اصل مجرم (پیش) مجرم کا مان لینا اس کی سخی کو کم کرنا ہے۔

اقرار سے پھرتا۔ وعدہ کر کے اٹکا کرنا۔

اقرار صالح - (۱) صحیح اقرار (۲) حلفی بیان - عدالت میں وہ بیان جو یہ کہہ کر کہ ”سچ کہوں گا“ دیا جاتا ہے۔

اقرار کا سچا۔ قول کا پورا۔ وعدہ وفا کرنے والا۔

اقرار کرنا۔ قبول کرنا۔ ماننا۔ منظور کرنا۔ وعدہ کرنا۔

اقرار لینا۔ وعدہ لینا۔ عہد لینا۔

اقرار مدار۔ عہد و پیمانہ - قول و قرار۔

اقرار نامہ۔ (۱) اقرار کی تحریر (۲) وہ دستاویز جس میں کسی بات کا وعدہ لکھا ہو۔

اقراری - (اقن - ری) (ع - صفت) اقبالی - اعتراف کرنے والا۔

اقرآن - (اقن - ران) (ع - ا - ند) (۱) قرآن کی جمع - پاس کے لوگ - ہم عصر لوگ معاصرین (۲) قرآن کی جمع - زمانے

اقریب - (اقن - رب) (ع - صفت) بہت نزدیک۔ جمع : اقرباب۔

اقرباب - (اقن - ربا) (ع - ا - ند) [قریب کی جمع - قریب کے رشتہ دار - بھائی بند۔

انارباب۔ اپنے - بچنے - اعزہ۔

اقتساط - (اقن - ساط) (ع - ا - ند) [مٹ - قسط کی جمع - قسطیں - بکڑے حصے - اجزا۔

اقسام - (اقن - سام) (ع - ا - امث) قسم کی جمع - قسمیں - طرحیں - انواع۔

اقتسوس - (اقن - سوس) [بڑا - اند] ایک خاردار درخت - ایک بوٹی۔

اقتضی - (اقن - صا) (ع - صفت) بہت دور - بیت المقدس۔

اقطاب - (اقن - طاب) (ع - ا - ند) قطب کی جمع۔

اقطار - (اقن - طار) (ع - ا - ند) قطر کی جمع - کنارے۔

اقطاع - (اقن - طاع) (ع - ا - ند) قطع کی جمع - بکڑے - قطعے۔

اقل - (اقن - قل) (ع - صفت) بہت گھٹوٹا۔

اقل درجہ - کم سے کم۔

اقل قبیل - گھٹوٹے کا بھی بہت گھٹوٹا۔ قبیل ترین۔

اقلیت - (اقن - قل - لی - بیت) (ع - ا - امث) (۱) کمی - گھٹوٹا ہونا (۲) کم تعداد (۳) کسی ملک میں کوئی خاص گروہ جس کی تعداد دوسروں سے کم ہو۔

اقلیدس - (اقن - لی - وس) (اقن - لی - وس) (۱) گلیڈ بند سہ میخ غواض ہندسہ کا کھولنے والا (۲) ایک یونانی حکیم کا نام جس کے نام سے علم جیو میٹری کی بنیاد پڑی (۳) اشکال ریاضی اور کیند سے کا علم۔

اقلیم - (اقن - لیم) (ع - ا - امث) [لاہیت - ملک - جمع : اقلیم - اقلیمات] (اقن - مار) (ع - ا - ند) [قرم کی جمع (۱) بہت سے چاند (۲) بکر اول چاندنی میں سیر کرنا۔ روشن کرنا۔

اقلمشہ - (اقن - شم - شد) (ع - ا - ند) [تماش کی جمع - یونیاں - پیشینے کے پیرے۔

اقلنوم - (اقن - نوم) (ع - ا - ند) (۱) ہر چیز کی اصل بنیاد (۲) دین میں جسی خدا کا ہر چیز (باب - بیٹے اور روح القدس میں سے ہر ایک کو اقلنوم کہتے ہیں،



اکٹا نا۔ (اک۔ ٹا۔ نا) [ہ۔ مص] دل برداشتہ ہونا۔ اچاٹ ہونا۔ بیزار ہونا۔  
 ننگ آنا۔  
 اگنائی کھماری ناخن سے ہٹتی کھوٹے۔ [پیش] سبے دلی سے کام کرنا۔  
 طبیعت سے کام نہ کرنا۔  
 اکتساب (اک۔ ت۔ ساب) [ع۔ ۱۔ مذ] کمانا۔ ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔  
 اکتشاف (اک۔ ت۔ شاف) [ع۔ ۱۔ مذ] کسی نامعلوم بات کا دریافت کرنا۔  
 اکتشافات (اک۔ ت۔ شاف۔ ت) [ع۔ ۱۔ مذ] اکتشاف کی جمع۔ ایجادات  
 معلومات۔ تحقیقات۔  
 اکتشافات جدیدہ۔ جدید معلومات۔ نئی تحقیقات۔  
 اکتفا (اک۔ ت۔ فا) [ع۔ ۱۔ مذ] کفایت کرنا۔ کافی سمجھنا۔  
 اکتفا کرنا۔ کافی ہونا۔ کفایت کرنا۔ بس کرنا۔ قناعت کرنا۔  
 اکتوبر۔ (October) (اک۔ تو۔ بر) [انگ۔ ۱۔ مذ] سن عیسوی کے  
 دسویں مہینے کا نام۔  
 اکتیس۔ (اک۔ تیس) [ہ۔ صفت] تیس اور ایک تیس کے بعد کا عدد۔  
 اکتھ۔ (۱۔ کٹ) [ہ۔ صفت] (۱) مضبوط اور سخت چیز جو کٹنے کٹے نہ توڑے  
 ٹوٹے (۲) یکن۔ کامل۔  
 اکٹھا۔ (۱۔ کٹھ۔ ٹھا) [ہ۔ صفت] جمع کیا ہوا۔ ایک جگہ۔ فراہم۔ ایک ساتھ  
 اکٹھا کرنا۔ ایک جگہ کرنا۔ جمع کرنا۔  
 اکثر۔ (اک۔ ثر) [ع۔ صفت] بہت زیادہ [تابع فعل] زیادہ تر۔ بار بار۔  
 عموماً۔ عام طور پر۔ کبھی کبھی۔  
 اکثر اوقات۔ بار بار۔ بیشتر۔ ہمیشہ۔  
 اکثر کر کے۔ (عماد) بیشتر۔ بار بار۔  
 اکثریت (اک۔ ت۔ ری۔ بیت) [ع۔ ۱۔ صفت] (۱) زیادتی۔ کثرت (۲)  
 کسی ملک میں وہ گروہ جو تعداد میں دوسروں سے زیادہ ہو۔  
 اکرا۔ (اک۔ را) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) ایک ادنیٰ قسم کا قلعہ جو جانوروں کو کھلا یا جانا  
 ہے۔ [صفت] (۲) گراں مہنگا۔  
 اکرام۔ (اک۔ رام) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) گرم بخشش۔ عطا (۲) عزت۔ بزرگی  
 تنظیم و تحریک۔  
 اکراہ۔ (اک۔ راہ) [ع۔ ۱۔ مذ] گھن۔ نفرت۔ کراہت۔ ناخوشی۔  
 اکرم۔ (اک۔ ریم) [ع۔ صفت] بہت کریم۔ بہت مہربان۔ بہت سخی۔  
 بہت بخشنے والا۔  
 اکروڑا۔ (اک۔ روڑا) [ہ۔ ۱۔ مذ] وہ سیلی دوا جو زچہ کو انقطاعِ حمل میں پلاتے  
 یا جس سے آمدت کرتے ہیں۔  
 اکری۔ (اک۔ ری) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) بلیں بیچ گرانے کے لیے جو نرم بالٹس  
 لگا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کاجو تنکا جس میں بیج ڈالتے ہیں (۲) [صفت]  
 ایک قسم کا پودا یا جھاڑی۔  
 اکڑ۔ (اک۔ ڈ) [ہ۔ ۱۔ صفت] (۱) اینٹھ۔ مروڑ۔ بل (۲) گھنڈ۔ غرور (۲) کڑھی  
 خود سری۔ ہمزاجی۔  
 اکڑ باز۔ مغرور۔ گھنڈی۔ شیخی خورا۔  
 اکڑ بازی۔ شیخی۔ غرور۔

اکڑائی۔ اینٹھ۔ بدن کی نسون کا درد کی وجہ سے ایک دم کھینچ جانا۔  
 اکڑ گھنڈ۔ اینٹھ تیزی بناؤ۔ گھنڈ۔ آن بان۔  
 اکڑ جانا۔ (۱) اینٹھ جانا سخت ہو جانا (۲) کشیدہ خاطر ہو جانا۔ بگڑ بیٹھنا۔  
 اکڑ فوں۔ بائگین۔ غرور۔ گھنڈ۔ شیخی۔  
 اکڑ کے چلنا۔ اینٹھ کر چلنا۔ اتر کر چلنا۔ سیدھا بھا کر چلنا۔  
 اکڑھکاٹنا۔ شیخی نکالنا۔ مار پیٹ کر سیدھا کر دینا۔  
 اکڑا۔ (اک۔ ڈا) [ہ۔ ۱۔ صفت] موٹھیوں کی ایک بیماری۔  
 اکڑاؤ۔ (اک۔ ڈاؤ) [ہ۔ ۱۔ مذ] اینٹھ۔ کھینچاؤ۔  
 اکڑنا۔ (اک۔ ڈنا) [ہ۔ ۱۔ صفت] (۱) سولہ کر سولہ کرنا اور کڑا ہونا (۲) ٹھہرنا۔  
 (۳) خفا۔ جھاتی کو ابھارنا (۴) شیخی کرنا۔ گھنڈ دکھانا (۵) ڈھسانی کرنا۔  
 (۶) ہٹ کرنا۔ ضد کرنا۔ اڑنا۔  
 اکڑنت۔ (اک۔ ڈنت) [ہ۔ ۱۔ صفت] اکڑ۔ غرور۔  
 اکڑو (اک۔ ڈو) [ہ۔ صفت] اکڑ دکھانے والا۔ اکڑ باز۔  
 اکڑوں (اک۔ ڈوں) [ہ۔ صفت] ایک بھنگ۔ پاؤں کے تلوے زہین  
 پر اور پوجھ پاؤں پر۔  
 اکڑوں بیٹھنا۔ تلووں کے بل اس طرح بیٹھنا کہ کھٹنے کھڑے رہیں۔  
 اکڑیت (اک۔ ڈیت) [ہ۔ صفت] اکڑ باز۔ اینٹھ بڑھے خاں۔  
 اکڑا نا۔ (اک۔ ڈا نا) [ہ۔ ۱۔ صفت] (۱) ابھارنا۔ آمادہ کرنا۔ ہشغال دینا (۲)  
 ہلکانا۔ روشنی تیز کرنے کے لیے چراغ کی مٹی آگے بڑھانا۔  
 اکسائز (Excise) (اک۔ سائز) [انگ۔ ۱۔ مذ] چنگی وغیرہ کا محصول  
 اکسائز ڈپارٹمنٹ (Excise Department) آبکاری کا محکمہ۔  
 اکیپٹ (Expert) (اکس۔ پٹ) [انگ۔ صفت] ماہر۔ مشاق۔  
 اکیپورٹ (Export) (اکس۔ پورٹ) [انگ۔ ۱۔ مذ] ملک کا تجارتی  
 مال جو باہر بھیجا جائے۔ مال برآمد۔ برآمد۔  
 اکسٹرا (Extra) (اکس۔ ٹا) [انگ۔ صفت] فائز۔ ضرورت سے نامزد۔  
 اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر (Extra Assistant Commissioner)  
 زائد مددگار کمشنر۔  
 اکسٹھ (اک۔ ٹھ) [ہ۔ صفت] ساٹھ کے بعد کا عدد۔ ساٹھ اور ایک۔  
 اکستا۔ (اک۔ کن۔ ٹا) [ہ۔ ۱۔ صفت] ابھرتا۔ اٹھنا۔ نمودار ہونا۔ ہٹنا۔ جنبش کرنا۔  
 اکسنے نہ دینا۔ (اکس۔ نئے۔ نہ۔ دے۔ نا) [ہ۔ ۱۔ صفت] پلنے نہ دینا۔ ابھرنے نہ  
 دینا۔ بہتر حالت میں نہ ہونے دینا۔  
 اکیسبر۔ (اک۔ سیبر) [ع۔ ۱۔ صفت] (۱) کیمیا۔ وہ شے جو تانے کو سونا اور  
 رائے کو چاندی بنا دے۔ رسائن (۲) نہایت ٹوٹا۔ لا زمی اثر  
 کرنے والی دوا (۳) نہایت مخفید۔  
 اکیسبرگر۔ کیمیا گر۔ موس۔ اکیسبرناتے والا۔  
 اکشتر۔ (اک۔ شتر) [س۔ ۱۔ مذ] حوت۔ مگر کن تہی۔ لفظ کا وہ کلڑ جو ایک  
 بار میں ادا ہو سکے۔ (Syllable)  
 اکفا۔ (اک۔ فا) [ع۔ ۱۔ مذ] عیوب تانیہ میں سے ایک عیب۔ فلسفے کا  
 حوت روی بدل جانا۔  
 اکفر۔ (اک۔ فر) [ع۔ صفت] نہایت کافر۔ سخت کافر۔



آدمی نہ دکھ سہارکتا ہے نہ عیش و آرام کا مزہ پاسکتا ہے۔

اگیلے اگیلے - تنہا - اگ - اگ -

اگیلے اگیلے - ایک دو آدمی - بیکر و تنہا -

اگیلے اگیلے کا اللہ بلی - [مثل] تنہا آدمی کا خدا ہی مددگار ہوتا ہے۔

اگیلے چلیے نہ باٹ جھاڑ بیٹھے کھاٹ - [مثل] اگیلے سفر نہ کرنا چاہئے

اور چار پائی کو جھاڑ کر بیٹھنا چاہئے۔

اگیلنا - (ا - کیل - نا) [ہ - مصل] (۱) اُدھیڑنا چھیننا یعنی سفر سے پوست اگ کرنا

(۲) بٹے ہونے دھاگے کا بل نکالنا۔

اگیلی - (ا - کے - لی) [ہ - مصل] تنہا - اگیلا کی تائینٹ

اگیلی تو لکڑی بھی نہیں جلتی - [مثل] تنہا آدمی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

اگیلی جان - تنہا جس کا کوئی شریک اور ساتھی نہ ہو۔

## اگ

اگار - (ا - گار - ر) [ہ - ا - مذ] (۱) اگال (۲) آہستہ آہستہ پختہ کر اگھا ہونے والا

پانی (۲) کپڑا رنگنے پر بچا ہوا پانی جو پھینک دیا جاتا ہے۔

اگارنا - (ا - گار - نا) [ہ - مصل] کنوؤں صاف کرنا - کنوؤں کی مٹی نکالنا۔

اگاڑ - (ا - گا - ڈ) [ہ - ا - مصل] حقہ کی لنگائی، مہتابی - ڈھنگلی کے سر سے پر

مکی ہوتی تیلی لکڑی۔

اگاڑا - (ا - گا - ڈا) [ہ - ا - مذ] (۱) کچھار - ترانی (۲) مسافر کا وہ سامان جو

پہلے سے آگے کے پڑا اور پھر بھیج دیا جاتا ہے - پیش خیمہ -

اگاڑی - (ا - گا - ڈی) [ہ - ا - مصل] (۱) آگے کا حصہ (۲) اگڑھے یا گڑھے

کا سامنے کا حصہ - گھوڑے کے اگلے بڑوں کی دو رساں جو دائیں بائیں دو

کھنڈیوں سے باندھی جاتی ہیں (۳) [تایق فعل] آگے آگے سامنے۔

اگال - (ا - گال) [ہ - ا - مذ] (۱) نیک - بان کا چھوک (۲) اگلی ہوتی چیز۔

اگالداں - بیک دان خٹو کئے کا ترنن -

اگانا - (ا - گانا) [ہ - مصل] (۱) جانا - بد کرنا (۲) روشن کرنا - ظاہر کرنا۔

اگاہنا - (ا - گاہ - نا) [ہ - مصل] وصول کرنا - حاصل کرنا - لوگوں سے ان کے

وعدے کے مطابق غلہ یا روپیہ اگھا کرنا۔

اگاہی - (ا - گاہی) [ہ - ا - مصل] (۱) سخت لوگوں سے ان کے وعدے کے

مطابق غلہ یا روپیہ کی وصولی - روپیہ وصول کرنے کا کام (۲) وصول کیا ہوا

روپیہ بیسہ (۳) زمین کا لگان (۴) ایک قسم کے ڈیے کا لین دین جس میں

ساہوکار روپیہ دے کر سمنہ واریا ماہوار اس وقت تک وصول کرتا ہے

جب تک سود و سود رقم وصول نہ ہو جائے۔

اگت - (ا - گت) [ق - ا - مصل] حالت -

اگتا بچی - (اگ - تاپے - بچی) [ہ - ا - مصل] غصے کی حالت میں طعنے دینا

اور اپنے احسانات جتاننا۔

اگٹنا - (ا - گٹ - نا) [ہ - مصل] (۱) غصے کی حالت میں طعنے دینا اور اپنے

اگھل - (ا - گھل) [ہ - ا - مذ] دیکھیے اگھلی۔

اگھلی - (اگھ - لی) [ہ - ا - مصل] لکڑی کا ایک برتن جس میں دھان وغیرہ ڈال کر

کونٹے ہیں تاکہ جھلکا اگھ ہو جائے۔

اگھلی میں سرد یا تو دھمکوں (موسلوں) کا کپڑا [مثل] جب کوئی خطرے

کا کام اپنے ذمے لے لیا تو کسی کے ڈرانے دھمکانے کا کیا ڈر۔

اگھلی میں سردینا - (عمادہ) کوئی مشکل کام خود اپنے ذمے لینا - اپنے آپ کو

خطرے میں ڈالنا۔

اگھنڈ - (ا - گھنڈ) [س - مصل] جس کے ٹکڑے نہ ہوں - سالم پورا (۲) نوکر بھرا

اگھوٹ - اگھوٹا - (ا - گھوٹ - ا - گھوٹا) [ہ - ا - مصل] (۱) چینی کی کچی چر

اور پکا پاٹ گھومتا ہے (۲) لکڑی یا لوسے کا ڈنڈا جس پر چرچی یا

گرازی گھومتی ہے۔

اگھولا - (ا - گھو - لا) [ہ - ا - مذ] گنے کی چوٹی - اگولا - گنے کا وہ حصہ جو

پھیکا ہوتا ہے۔

اگھو مکھو - (اگھ - مکھو - مکھو) [ہ - ا - مصل] چراغ کی ٹونک یا تھلے لے کر

بچے کے تر پھیرنا - ہندو لوگوں پر بچا کے وقت چھوٹے بچوں کے چہرے

پر اس طرح اگھ پھیرتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں - اگھو مکھو دیا برکھو جو کوئی

میرے بچے کو کئے اس کی پھوپھوں دونوں آنکھیں۔

اگھیر - (ا - گھیر) [ہ - ا - مصل] پہلو اڑان کی اصطلاح میں زمین سے اٹھانا۔

اگھیرانا - (ا - گھیرنا) [ہ - مصل] مارنا پیچ کرنا (۲) مخالفت کرنا۔

اگھیرنا - (ا - گھیرنا) [ہ - مصل] دیکھیے اگھاڑنا۔

اگلی - (ا - گلی) [ہ - ا - مصل] آناش کا وہ پتہ جس میں ایک بوٹی ہو - اگلا -

اگے دگے - (ا - گے - دگے) [ہ - مصل] اگیلے اگیلے - تنہا تنہا۔

اگید - (ا - گید) [ع - مصل] محکم - مضبوط - مستوار - محکم - پائیدار (تائید کے

ساتھ بولتے ہیں)

اکیڈمی - Academy (ا - کے - ڈی) [ا - مصل] علم و ادب

کو ترقی دینے والی انجمن - اکادمی - انا دیمہ -

اکیس - (ا - ک - یس) [ہ - مصل] بیس کے بعد کا عدد - بیس اور ایک -

اکیس پان کا پترا - شادی میں آری مصحف دکھانے کے بعد اکیس پان کا پترا

دولہا کو تھلاتے ہیں۔

اکیس (ہونا) رہنا - غالب ہونا - غالب رہنا۔

اگیلا - (ا - کے - لا) [ہ - مصل] (۱) تنہا - (۲) بیکتا - لائانی -

اگیلا پن - اگیلا کی کم کیفیت۔

اگیلا جینا بھاڑ نہیں چھوڑ سکتا - [مثل] تنہا آدمی سے بہت سے لوگوں

کے مل کر کرنے کا کام انجام پانا غیر ممکن ہوتا ہے۔

اگیلا حسنور شے کے تر کھوڑے [مثل] مصیبت اور پریشانی کی حالت

میں کام کثرت سے اور کام کرنے والا تنہا ہو - تو اس جگہ

بوستے ہیں۔

اگیلا وگیلا - تنہا - بغیر ساتھی کے۔

اگیلا دم - (ا - مذ) اگیلی جان - تنہا - اگیلا۔

اگیلا ہنستا بھلا نہ رونا - [مثل] اگیلے آدمی سے کوئی بات نہیں بن پتی۔

یانا مناسب بات کو بار بار کہنا۔

اگلہ۔ (ا۔ گلد) [ا۔ امث] باقی کو تیز چلانے اور آگے بڑھانے کی آواز۔  
اگر۔ (ا۔ گر) [ا۔ امث] عود ہندی۔ ایک قسم کی لکڑی جو جھانے سے خوشبو دیتی ہے۔

اگر تہی۔ وہ تہی جو اگر کی لکڑی میں کرنائی جاتی ہے۔

اگردان۔ اگر سوز، وہ طرف جس میں اگر کی بنیاں لگا کر جلاتے ہیں۔  
اگر۔ (ا۔ گس) [ف۔ حرف شرط] جو جبب، بشرطیکہ، مبادا، بالقرض۔

اگر حیر۔ ہر چند، باوجودیکہ، گوکہ

اگر ناند شبے ماند شبے دیگر کے ماند۔ [مث] (ا) اگر یہی تو ایک رات دوسری رات تک نہ رہے گی (۲) تھوڑی دیر کی رونق۔

اگر نگر۔ لین و وصل۔ جید و اول۔

اگر نگر کرنا۔ (۱) حجت کرنا، جھگڑا کرنا (۲) آکا پچھا کرنا، پس پیش کرنا۔

اگر۔ (ا۔ گس) [س۔ صفت] (۱) سلتے۔ آگے (۲) پہلا، اولین (۲) [مذ] آگے کا حصہ۔ سامنے کا حصہ۔

اگر سوچ۔ دُور اندیشی۔ احنیا ط۔

اگر دھول دھول۔ (ا۔ گر۔ دھول۔ دھول) [ا۔ امث] (۱) دھولے کی

کی سی آواز (۲) اصف [مونا آدمی، بدن کا بھاری اور پھینس آدمی۔

اگرنا۔ (اگرنا) [ا۔ امث] کنوئیں کا صاف ہو جانا، کنوئیں سے مٹی وغیرہ کا نکالا جانا۔

اگر وال۔ (اگر۔ وال) [ا۔ امث] بنوں کی ایک ذات۔

اگرئی۔ (اگر۔ ری) [ا۔ امث] (۱) سیاہی مائل، صندلی رنگ کا (۲)

[مث] ایک قوم کا نام جو چاروں سے ملتی جلتی ہے (۳) شانیاں جہلی کی ایک قبیلہ کی نام جس کی وردی اگرئی تھی۔

اگر۔ (اگر۔ ری) [ا۔ امث] (۱) ایک قسم کی کھاس (۲) لکڑی یا لوہے کا چھوٹا ڈنڈا جو کڑکے پلے میں گنڈا لگا کر ڈال دیتے ہیں، اس کے ادھر ادھر کھینچنے پر کواڑ کھینٹے اور بند ہو جاتے ہیں (۳) بڑی بات۔

اگر۔ (اگر۔ ڈا) [ا۔ امث] جوار باجر سے وغیرہ کی بال جس میں دانہ چھاڑ لیا گیا ہو، کھڑی۔ اکھرا۔

اگر پلٹ۔ (اگر۔ پلٹ) [ا۔ امث] انڈینڈ بے سر پیر کا، اول جدول۔

اگر پھنڈا۔ (اگر۔ پھنڈا) [ا۔ امث] (۱) لمبا زنگا (۲) اڈیا (۳) پٹھا چھلدا

اگر م پگرم۔ (اگر۔ م پگرم) [ا۔ امث] (۱) بیکار، عمل بے معنی (تباہ) (۲) بالی ملی، گڑ بڑ (۳) [مذ] فضول چیزیں۔ بیکاراشیا۔

اگر امینیشن (Examination) (اگر۔ امینیشن) [اگر۔ امینیشن] امتحان۔

اگر کٹو۔ (Executive) (اگر۔ کٹو) [اگر۔ کٹو] انتظامی

اگر میٹیشن (Exhibition) (اگر۔ میٹیشن) [اگر۔ میٹیشن] نمائش۔

اگر مینر (Examiner) (اگر۔ مینر) [اگر۔ مینر] امتحان

لینے والا۔ ممتحن۔

اگست (August) (اگست) [اگست] سن عیسوی کا

آٹھواں مہینہ۔

اگل آنا۔ اگل پڑنا۔ (ا۔ گل۔ آنا، ا۔ گل۔ پڑنا) [ا۔ امث] (۱) اگل ہوئی چیز کا منہ سے باہر آنا (۲) تلوار کا میدان سے باہر نکل پڑنا (۳) دل کی بات کا ظاہر کرنا۔

اگل دینا۔ (۱) کسی چیز کا منہ سے نکال دینا (۲) سچ سچ کہہ دینا (۳) برا بھلا کہنا اگل نکل کے کھانا۔ (معاذ) بڑی بے ضابطی سے کوئی چیز کھانا۔

اگلا۔ (اگل۔ لا) [ا۔ امث] (۱) آگے کا (۲) پہلے کا۔ مہلا (۳) پُرانہ گزشتہ اگلا پچھلا۔ پہلا اور آخری۔ آئندہ اور گزرا ہوا۔ استناد۔

اگلا جنم۔ ہندوؤں کے عقیدے میں اعلیٰ پیدا نش۔

اگلا زمانہ۔ گزرا ہوا زمانہ۔ پُرانا زمانہ۔

اگلا کرے کھیلے بر آئے۔ [مث] (۱) فسر رٹے کریں اور سزا چھوٹے یا نہیں اگلا کتنا ہونو آپ چپ رہیں۔ [مث] (۲) بات کاٹ کر نہ کہنی چاہیئے

پہلا بات کئے والا جب تک ختم نہ کرے چپ رہو۔

اگلا لپا دے بہا۔ اب کا لپا آگے لا۔ [مث] (۱) پہلے احسانوں کا ناشکری کر کے نئے احسان کی امید کرنا (۲) پہلے کیے کام کو مٹا کر

نئے سرے سے دوبارہ کرنا (۳) فضول محنت کرنا، کام کا بڑھانا۔ اگلے دفتر کھولنا۔ گزری ہوئی باتیں کرنا، پچھلی شکایتیں کرنا۔

اگلے زمانے والے۔ اگلے لوگ۔ (۱) پہلے وقتوں کے لوگ، متقدمین (۲) (مجازاً) بھولے بھالے، سادہ لوح، بے وقوف۔

اگلے کو گھاس نہ پھیلے کو پانی۔ [مث] (۱) نہایت بد انتظامی ہے یہ بہت گور بڑھے، پچھ بندوبست نہیں۔

اگلے نے کیا پھیلے پر آئی۔ [مث] (۱) بڑے نے قصور کیا چھوٹے نے سزا پائی۔ افسر نے خطا کی ماحنت ملزم ٹھہرا۔ بزرگوں نے فعلی کی

اولاد کو سزا کھنکھتی پڑی۔ اگلے ہوئے کھیلے، پھیلے ہوئے پر دھان [مث] (۱) آئے ہوئے لوگوں کو غیر آئے ہوئے لوگوں پر ترجیح دینا، معزز آدمی کو معززوں کے غیر معزز کو عزت بخشنا۔

اگل کھیل۔ (اگل۔ کھیل) [ا۔ امث] (۱) آگے پیچھے (۲) پس پیش۔ (۳) گھوڑے کی جوڑی بجائے برابر جوڑنے کے آگے پیچھے جوڑنا۔

اگلی تلوار اور بیسوا لگائی خصم کو مار رکھتی ہے [مث] (۱) تلوار اور بدکا بیوی سے ہر وقت جان غم سے میں ہتی ہے۔

اگلنا۔ (اگل۔ نا) [ا۔ امث] (۱) منہ سے باہر نکالنا (۲) نکلنا (۳) ہضم کیا ہوا مال بے بس ہو کر داپس کرنا (۴) کسی بات کو پیشیا میں نہ

رکھنا (۵) بھید کھول دینا۔ اگلوانا۔ اگلوانا۔ (اگل۔ وان۔ اگل۔ وان) [ا۔ امث] (۱) منہ سے نکلوانا (۲) انبیا کرنا، جرم کو اتار کرنا (۳) ہضم کئے ہوئے مال کو نکلوانا۔

اگلے تو اندھا کھائے تو کوڑھی۔ [مث] (۱) مشورہ ہے کہ اگر سناپ چھوڑ دے تو اندھا اور کھائے تو کوڑھی ہو جاتا ہے نہ چھوڑ دے تو کھائے جتنے۔ کرنا نہ کرنا دونوں صورتوں کا نام ممکن ہونا۔

اگم۔ (اگم۔ اگم) [ا۔ امث] (۱) عاقبت (۲) آئندہ زمانے کی باتیں جو جو ہم سے معلوم کی جائیں۔ علم غیب۔





نہیں دکھاتے۔

کا اگلا حصہ اوپر کو اٹھ جانا۔

الارسی - (ا۔ ل۔ ر۔ سی) [و۔ صفت] بے پروا بے نگر۔ لا ابالی -  
الارسی کا کارخانہ۔ بے پروائی کا کام سب سے نوجوبی کا کارخانہ۔

الارم (Alarm) (ا۔ ل۔ ر۔ م) [ا۔ ن۔ گ۔ ا۔ م۔ ن۔ د] (۱) خطرے سے آگاہی  
(۲) گھنٹی۔ گھڑی کی جھگانے والی گھنٹی۔

الارنا - (ا۔ ل۔ ر۔ نا) [و۔ صفت] ٹاڈینا۔ پہلو بدلنا۔ سلا بدلنا (۲) اچکنا  
الاس - (ا۔ ل۔ اس) [س۔ ا۔ م۔ ن۔ د] جوش۔ آہنگ۔ دولہ (۲) پھرتی۔ چالاک۔

الاسا - (ا۔ ل۔ سا) [ق۔ ا۔ ن۔ د] اولاسا۔ نسلی۔ نسلی۔ نسلی۔  
الاسٹک (Elastic) (ا۔ ل۔ اس۔ ٹ۔ ک) [ا۔ ن۔ گ۔ ا۔ م۔ ن۔ د] چمک والی

چیز۔ ربڑ کا بنا ہوا جینٹ۔

الاسنا - (ا۔ ل۔ اس۔ نا) [ق۔ م۔ ص] جوش میں آنا۔ آہنگ پیدا ہونا۔  
الارغ - (ا۔ ل۔ ر۔ غ) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ ت] (۱) چھوٹی کشتی (۲) ڈاک گاڑھوڑا۔  
خرباکش۔

الاقارب کا تعقیریب - [ع۔ م۔ ش] عربیز چھوکی طرح نیش زنی کرتے ہیں۔  
عربیزوں سے ہی زیادہ تر تکلیف پہنچتی ہے۔

الالا - (ا۔ ل۔ لا) [ق۔ ا۔ م۔ ن۔ ت] دولہ جوڑن۔  
الالی - (ا۔ ل۔ لی) [ق۔ ا۔ م۔ ن۔ ت] ناز۔ نخو۔ ادا

الامان - (ا۔ ل۔ ا۔ مان) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ ت] چاہنا۔ (۱) پناہ بخانا (۲) [م۔ ن۔ ت] ا۔ م۔ ن۔  
پناہ۔ روم۔

الایان کہنا - (ع۔ ا۔ م۔ ن۔ ت) پناہ مانگنا۔  
الامر فوق الادب - [ع۔ م۔ ق۔ و۔ ل۔ د] حکم ادب پر فوقیت رکھنا ہے۔

الانار - (ا۔ ل۔ نا۔ ر) [و۔ م۔ ص] چلانا۔ کراہنا۔ گلابھا ڈکربولنا۔  
الانتظار اشد من الموت - [ع۔ م۔ ش] انتظار کی تکلیف موت سے بھی

زیادہ ہوتی ہے۔  
الانگنا - (ا۔ ل۔ ان۔ گ۔ نا) [ا۔ ل۔ گ۔ نا] (۱) پھلانگنا (۲)

کسی چیز کے اوپر سے اس طرح کو دھبانا کہ اس پر پاؤں نہ پڑے (۳)  
چابک سواروں کی اصطلاح میں گھوڑے پر ادا ہونے پر تیز چڑھنا۔

الاجہنا - (ا۔ ل۔ ا۔ ہ۔ نا) [ا۔ م۔ ن۔ د] (۱) گلہ شکوہ کرنا (۲) بدنامی۔ بُرائی۔ دوش۔  
الاجہنا دینا - (۱) گلہ کرنا۔ شکوہ کرنا (۲) الزام دینا۔

الاول - (ا۔ ل۔ لا۔ و) [ا۔ م۔ ن۔ د] آگ کا ڈھیر۔  
الاولس (Allowance) (ا۔ ل۔ لا۔ و۔ ل۔ س) [ا۔ ن۔ گ۔ ا۔ م۔ ن۔ د] (۱) پھینکا۔ نام نہ خرچ

الباب - (ا۔ ل۔ باب) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ ت] لب کی جمع۔ عقلمیں (مرکبات  
میں استعمال ہے)

البنتہ (ا۔ ل۔ ب۔ ن۔ تہ) [ع۔ ت۔ م۔ ن۔ ت] (۱) نافع نعل (۲) بے شک۔ ضرور نطعی بے شبہ  
بالبیقین (۲) ہاں۔ بہت خوب بہت بتر (۳) مگر۔ الا۔ لیکن۔

البرز - (ب۔ م۔ ن۔ د) ایران کا ایک مشہور پہاڑ۔  
البل - (ا۔ ل۔ ب۔ ل) [ا۔ م۔ ن۔ د] (۱) خورد۔ گھنڈ (۲) فرق کی پیشی (۳) صدقے

قربان۔  
الجاؤں بل جاؤں جلو سے کے وقت مل جاؤں - [م۔ ش] یوں تو  
صدقے زبان جاتے ہیں۔ جان دیتے ہیں لیکن وقت پڑنے پر شکل بھی

الجم (Album) (ا۔ ل۔ جم) [ا۔ ن۔ گ۔ ا۔ م۔ ن۔ د] تصویریں رکھنے کی بیاض۔ مرقع۔  
البیٹ - (ا۔ ل۔ بیٹ) [و۔ ا۔ م۔ ن۔ ت] ا۔ ب۔ ل۔ م۔ ر۔ و۔ ل۔ پ۔ بیٹ۔ گرہ۔ بیچ۔

البیلا - (ا۔ ل۔ بے۔ لا) [و۔ صفت] (۱) جوان رعنا۔ بانگ تازچھا (۲) بے پڑا۔ آزلوٹین۔  
(۳) انوکھا (۴) سیدھا سادا (۵) مصوم (۶) خوبو۔ دلربا۔

البیلا پن - پھیلنا پن۔ بانگین۔ اٹھ پن۔  
البیلی - (ا۔ ل۔ بے۔ لی) [و۔ صفت] البیلا کی تائینت۔

البیلی چال - مستانہ چال۔ بانگ تازچھی چال۔  
البیسی نے پکائی کھیر دو دھکی جگہ ڈالا پینیر [پنل] بے ڈھنگے پن نے کلم

بگاڑ دیا۔ کچھ کا کچھ کر دینا۔  
البیسی وضع - بانگ تازچھی وضع۔

الپاکا (Alpaka) (ا۔ ل۔ پاکا) [ا۔ ن۔ گ۔ ا۔ م۔ ن۔ د] (۱) امریکا کا ایک جانور۔  
جس کے بال جینے اور اون کی طرح ملامت ہوتے ہیں (۲) اپکا کا اون۔

(۳) ایک کپڑا جو ریشم یا سوت کے ساتھ الپاکا کے اون سے ملا کر بنایا  
جاتا ہے اور اسے الپکا بھی کہتے ہیں۔

الپین - (ا۔ م۔ ن۔ ت] گھنڈی والی سوتی (پین) (Pin)  
القباس - (ا۔ ل۔ ب۔ س) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ د] (۱) ایک تائینت کے سبب شہ پڑنا (۲)

ہم شکل ہونا (۳) مشکوک ہونا (۴) ابھام و شبہیں۔  
الجبنا - (ا۔ ل۔ ب۔ نا) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ ت] (۱) آرزو۔ تمنا (۲) منت سماجت۔ عاجزی

(۳) عرض۔ گزارش۔ درخواست۔  
الجبنا کرنا - منت کرنا۔ بخوشا مد کرنا۔ گڑ گڑانا۔ درخواست کرنا۔

الجبنا لے جانا۔ عرض لے جانا۔ آرزو پیش کرنا۔  
الترام - (ا۔ ل۔ ت۔ رام) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ د] کسی بات کو لازم کر لینا۔ ضروری قرار

دے لینا۔ جمع : التزامات۔  
التمنات - (ا۔ ل۔ ت۔ نات) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ ت] (۱) تمنوہ ہونا (۲) توجہ پڑنی

دعیت۔ خیال۔ وہ جان۔  
التماس - (ا۔ ل۔ ت۔ ماس) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ د] درخواست۔ عرض۔ گزارش۔ التجا

جمع : التماسات  
التماسی - (ا۔ ل۔ ت۔ ماسی) [ق۔ ا۔ م۔ ن۔ د] عرضی گزار۔ متمس۔ ملتی۔

التمش - (ا۔ ل۔ ت۔ مش) [ت۔ ا۔ م۔ ن۔ د] (۱) آگے کی فوج۔ پرول (۲) خاندان  
غلان کے بادشاہ شمس الدین کا لقب (جمع - التمش)

التمغنا - (ا۔ ل۔ تم۔ غنا) [ت۔ ا۔ م۔ ن۔ د] (۱) سرخ تھمر (۲) مجازاً) فرمان شاہی۔  
(۳) معافی یا جاگیر کی بند۔

النتی - (ا۔ ل۔ ت۔ نی) [ا۔ م۔ ن۔ ت] ہاتھی کی گردن میں باندھنے کی رسی جس پر  
فیل بان رکاب کی طرح پاؤں رکھتا ہے۔

النتوا - (ا۔ ل۔ ت۔ وا) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ د] آئینہ پر اٹھا رکھنا۔ مثال دینا (۲)  
ملتی کرنا۔

النتباب - (ا۔ ل۔ ت۔ باب) [ع۔ ا۔ م۔ ن۔ د] شکر پھر کرنا۔ آگ مشتعل ہونا۔  
النتباب زائدہ۔ ایک مرض جس میں اندھی آنت سوج جاتی ہے اور اس میں

سوزش ہوتی ہے۔ (Appendicitis)

التیام (ال - ت - یام) [ع - ۱ - ہند] (۱) زخم بھرنا۔ تندہست ہونا (۲) دو چیزوں کا باہم مل جانا (۳) میل ملاپ۔ میل جول۔  
 التیام پانا۔ التیام دینا۔ زخم بھرنا۔  
 اُلٹ (ا - لٹ) [ہ - صفت] اُلٹا کا امر (۱) جھکس مخالف (۲) ٹیڑھا (۳) پٹا ہوا اوندھا (۴) برگشتہ (۵) خلاف قاعدہ (۶) واپس (۷) تفتیش۔ خند۔  
 اُلٹ آنا (محاورہ) پلٹ آنا۔ جہاں سے چلے وہیں آکر کرنا یا واپس آنا۔  
 اُلٹ پڑنا (محاورہ) واپس ہونا (۲) پلٹ کر حملہ کرنا (۳) بگڑنا۔ غصے ہونا۔ برہم ہونا (۴) مخالف ہو جانا (۵) اوندھا ہو جانا (۶) خلاف امید نتیجہ برآمد ہونا۔  
 اُلٹ پلٹ (محاورہ) درہم برہم۔ اُلٹ سیدھا۔ اُلٹا پلٹا۔ بے ترتیب۔ گڈمڈ۔  
 اُلٹ پلٹ دینا (محاورہ) بے ترتیب کر دینا۔ تلے اور پوک دینا۔ ادھر کا ادھر کر دینا۔  
 اُلٹ پلٹ کرنا (محاورہ) تلے اور پوک کرنا۔ درہم برہم کرنا۔ بے ترتیب کرنا۔ گڈمڈ کرنا۔  
 اُلٹ پلٹ ہونا (محاورہ) بے ترتیب ہونا۔ گڈمڈ ہونا۔  
 اُلٹ پیچ۔ اُلٹی سیھی بات۔ جھکی بات (۲) گردش (۳) پھیل۔ داؤ پیچ۔  
 اُلٹ پھیر (۱) اول بدل۔ پھر پھیر (۲) کمر فریب (۳) دودھ۔ گالی گلوچ۔ تنکار۔  
 اُلٹ پھیریں آجانا (محاورہ) فریب میں آجانا۔ دھوکا کھا جانا۔  
 اُلٹ جانا (۱) پلٹ جانا (۲) مدہوش ہو جانا۔ شرمندہ ہو جانا (۳) موٹا ہو جانا (۴) اوندھا ہو جانا۔  
 اوندھا ہو جانا۔ پیچھے کے رخ پر جانا (۵) مفلس ہو جانا (۶) محروم ہو جانا۔  
 پھر جانا (۷) گر پڑنا۔ آ رہنا (۸) بدل جانا۔ خلاف ہونا۔ نکر جانا۔  
 اُلٹ دینا (۱) ادھر سے ادھر کر دینا (۲) اٹھا دینا۔ (۳) چت کو پٹ کر دینا۔ (۴) تباہ کر دینا۔  
 اُلٹ کے جواب دینا (۱) پیام کا جواب لادینا (۲) ترکی بر ترکی جواب دینا۔  
 اُلٹ کے خبر نہ لینا۔ کسی کی طرف سے بے خبر ہو جانا۔ انتہا کی عظمت برتنا۔  
 اُلٹ کے کروٹ نہ لینا۔ خبر نہ لینا۔ انتہا کی عظمت کرنا۔  
 اُلٹا۔ (اُل - ٹا) [ہ - صفت] (۱) پٹا ہوا۔ اوندھا (۲) برعکس (۳) واپس۔  
 سیدھا کی ضد۔  
 اُلٹا پانسیا پڑنا۔ (۱) جوئے میں پانسہ غلط پڑنا۔ مار جانا (۲) معاملہ اپنے خلاف ہونا۔ کوشش نہایت کاٹا جانا۔  
 اُلٹا پلٹا (۱) بے ترتیب۔ تلے اور پوک (۲) اُلٹا سیدھا (۳) بے ڈھنگا۔ اوندھا برعکس۔  
 اُلٹا پیلٹی۔ اول بدل۔ ادھر کا ادھر کرنا۔  
 اُلٹا پھرتا (محاورہ) لوٹ آنا۔ جاتے جاتے پلٹ پڑنا۔ بہت جلد مراجعت کرنا۔  
 اُلٹا پھرتا۔ (محاورہ) واپس آجانا۔ ناکام پلٹ آنا۔ جاتے ہی واپس چلے آنا۔  
 اُلٹا پھیرنا۔ (محاورہ) ٹوٹا دینا۔ واپس کر دینا۔ فوراً واپس کر دینا۔  
 اُلٹا توڑا۔ (محاورہ) نہایت کالا۔ کالا کو کو۔ کالا گلوٹا۔ کالا بھونگا۔  
 اُلٹا ٹانگنا۔ (محاورہ) ٹانگیں باندھ کے سر کے بل ٹانگنا۔ سخت سزا دینا۔  
 اُلٹا جھٹا (محاورہ) پیچھے کا اس طرح جھٹکا کہ پہلے پیر نیلیں اور پھر سر۔  
 اُلٹا جواب دینا۔ (محاورہ) خلاف توقع جواب دینا۔ ٹیڑھا جواب دینا۔  
 اُلٹا چور کو توڑا۔ (محاورہ) [میشل] اپنے کو زوت پرترہانے کے بجائے  
 ٹوکنے والے کو آنکھیں دکھانا۔  
 اُلٹا دریا بہنا۔ (محاورہ) خلاف دستور کوئی بات ہونا۔ ناممکن کام ہونا۔  
 اُلٹا (اُلٹے) دم لینا۔ (محاورہ) نزع کے وقت سانس کا اکھڑ جانا۔

اُلٹا دھڑا باندھنا۔ (محاورہ) برعکس کرنا۔ خلاف کرنا۔ اپنی خطا دوسروں کے سر چھوینا۔  
 اُلٹا زمانہ۔ (محاورہ) ایسا زمانہ جس میں سیدھی بات دیر طعی اور بُری بات جلدی سمجھی جائے۔ بُرا زمانہ۔ کجکج۔  
 اُلٹا زمانہ آنا ہے۔ اُلٹا زمانہ لگا ہے۔ اُلٹا زمانہ ہے۔ (محاورہ) بُرا وقت آ گیا ہے۔  
 اُلٹا سبق پڑھانا۔ (محاورہ) خلاف بات سکھانا۔ بہکانا۔ ورغلانا۔  
 اُلٹا سیدھا۔ بے قاعدہ۔ بے ترتیب۔ جا بیجا۔  
 اُلٹا سیدھا جواب دینا۔ (محاورہ) خلاف جواب دینا۔ تلے ملامت جواب دینا۔ نامعقول جواب دینا۔  
 اُلٹا لٹکانا۔ (محاورہ) اُلٹا مانگنا۔  
 اُلٹا لیا جھٹنے نہ سیدھا۔ جہاں کسی بھی طرح کوئی شخص تا بو میں نہ آئے اور نہ قابل ہو تو اس موقع پر بوتے ہیں۔  
 اُلٹا مزاج۔ وہ جس پر بات کا اُلٹا اثر پڑے۔  
 اُلٹا نصیبیا۔ بُری قسمت۔ بد نصیبی۔  
 اُلٹا لائقہ مارنا۔ حسرت و افسوس ظاہر کرنا۔  
 اُلٹے اُمتیرے سے سرمٹا لانا [میشل] بڑی ذلت کی سزا دینا۔  
 اُلٹے بانس بریلی کو [میشل] برعکس بات۔ مخالفت کا کام۔ بے فائدہ کام۔  
 اُلٹے بل کی چوٹی۔ وہ چوٹی جس کے گوندھنے میں بال پیچھے سے اُپر لائے جاتے ہیں۔  
 اُلٹے پاؤں پڑنا۔ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا۔  
 اُلٹے پاؤں پھرتا۔ فوراً واپس ہونا۔ جلد پلٹ جانا۔ تڑت لوٹنا۔  
 اُلٹے پاؤں چلنا۔ پشت کی طرف چلنا۔  
 اُلٹے پھرتا۔ فوراً پلٹ آنا۔  
 اُلٹے سر ہو جانا۔ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو جانا۔ مفت میں پیچھے پڑ جانا۔  
 اُلٹے سیدھے۔ حق نا حق۔ جا بے جا۔  
 اُلٹے کانٹے تولنا۔ کم تولنا۔ ڈنڈی مارنا۔  
 اُلٹے گدھے پر چڑھنا۔ پڑنے زلنے میں سزا دینے کا طریقہ۔ ملزم کا سرمٹا ڈاکر اور گدھے کی دم کی طرف گڑے کے سارے شہر میں گھلتے تھے۔ نہایت ذلیل دسوا کرنا۔  
 اُلٹے ملک کے ہو۔ احمق ہو۔ بے وقوف ہو۔  
 اُلٹے لائقہ کا داؤں کھیل (کرتب) بہت آسان۔ نہایت سہل۔  
 اُلٹا نا۔ (اُل - ٹا نا) [ہ - مص] ملا پٹا نا۔ ٹوٹا نا۔ پیچھے پھرتا (۲) اور کا اور کرنا یا کھنا (۳) پھرتا۔ دوسری حالت میں رکھنا۔  
 اُلٹا نا۔ (اُل - لٹ نا) [ہ - مص] پلٹنا۔ اوندھا کرنا (۲) اٹھانا۔ بٹانا (۳) پھرتا (۴) مدہوش کرنا (۵) نہ دالا کرنا (۶) بدل دینا (۷) گرانہ پچھا ڈنا (۸) آجانا (۹) بار بار کھنا (۱۰) اُنڈ پلٹنا (۱۱) مفلس کر دینا (۱۲) سیدھا کرنا (۱۳) رو کرنا (۱۴) چڑھانا لٹھانا (۱۵) پیچھے سے اُپر کرنا۔



اَلَسْتُ - (اَلَسْتُ) [ع - حرف استفهام - نَسْتُ - واحد تَكْمَل] کیا نہیں  
ہوں میں۔ یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی آیت اَلَسْتُ بِرَبِّكَھِمْ کی طرف۔  
اَلَسَّلَامُ عَلَیْكُمْ - (اَس - س - لا - م - ع - نے - کم) [ع] سلامتی ہونے پر  
مشکلوں کا سلام۔

اَلَسْبَبُ - (اَل - سب - ن) [ع - ا - مِث] لسان کی جمع - زبانیں۔  
اَلَسْبَبُ - (اَل - سب) [ع - ا - مِث] ایک پودا اور اُس کے بیج کا نام۔ اس کا  
تیل جلانے وغیرہ کے کام آتا ہے۔  
اَلَسْبَبُ - (اَل - سب) [ع - ا - مِث] کسی کا چھوڑا نہ دکھا کھائے نہ کھوڑا۔ [امثل] کسی کام کا نہیں۔  
کسی مصروف کا نہیں۔ عمر رسیدہ شخص اکثر اپنے متعلق کفر نفسی کے طور  
پر کہتے ہیں۔

اَلَسْبِیْطُ - اَلَسْبِیْطُ - (اَل - سبِیْط - اَل - سبِیْطُ) [ع - ا - مِث] دھاندلی غریب  
وغنا بازی۔ بڑھا مگلی (۲) اُلجھاؤ - رکاوٹ - اڑنگا۔

اَلَسْبِیْطِیَا - (اَل - سے - ب - یَا) [ع - صفت] (۱) دھاندلی کرنے والا۔ وغنا بازی  
(۲) جھگڑاو - (۳) نادبند۔

اَلَشَّ - (اَل - ش) [ع - ا - مِث] پس خودہ - چوٹھا کھانا - بچا ہوا کھانا۔  
اَلصَّاقُ - (اَل - صاق) [ع - ا - مِث] ملانا جیسا کرنا۔ چپکانا۔

اَلطَّافُ - (اَل - طاف) [ع - ا - مِث] لطف کی جمع۔ مہربانیاں - نوازشیں۔  
اَلطَّافُ نامہ - مہربانی کا خط۔ نوازش نامہ۔

اَلْعَاقِلُ مَن كَفَّ عَنِ اَلشَّارِہِ [ع] عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔  
اَلْعَبْدُ - (اَل - عَبْد) [ع - ا - مِث] بندہ - فدی - ناجیز (عام طور پر مشاوری اور  
رسیدوں کے پیچھے دستخط کرنے سے پہلے لکھتے ہیں۔ جمع : اَلْعِبَادُ

اَلْعَطَشُ - (اَل - عَطَش) [ع - ا - مِث] (۱) پیاس (۲) پیاس کی شدت کے  
موجز پر بولتے ہیں۔ بہت پیاس لگی ہے

اَلْعَظْمَةُ اَللَّہُ - (ع - اَل - بَرَدُ) اَللَّہُ کے لیے ہے۔ قدرت الہی کی عظمت پر بیعت  
ظاہر کر کے یا کسی مہیب اور خوفناک چیز سے پناہ مانگنے کے طور پر  
کہتے ہیں۔

اَلْعَارُ - (اَل - عَار) [ع - ا - مِث] بیخار۔  
اَلْعَارُونَ - (اَل - عَار - رُونَ) [ع - ا - مِث] بہت۔ بافراط۔ کثرت سے۔  
اَلْعَرَضُ - (اَل - عَرَض - رَض) [ع - ا - مِث] حاصل مطلب۔ قصہ مختصر۔ الحاصل۔  
اَلْعَوْرَةُ - (اَل - عَوْرَةُ - رَةُ) [ع - ا - مِث] ایک قسم کی دوسری بانسری۔  
العوزہ بلعوزہ۔ پیٹ کی آٹریاں اور فضلہ وغیرہ۔

اَلْعِيَاثُ - (اَل - عِيَاث) [ع - ا - مِث] (۱) فریاد (۲) فریاد ہے۔ دُیَاثِیْہِ  
کوئی بچاؤ۔

اَلْفُ - (ع - صفت) ہزار۔ دس سو۔ جمع :- اَلْاَوْت - اَلآت  
اَلْف لیلہ (۱) ہزار آیتیں (۲) عربی کی ایک مشہور انسان۔  
اَلْف - (اَل - ف) [ع - ا - مِث] عربی نازی - اردو کے حروف تہجی کا پہلا حرف  
دیکھیے "ا"

اَلْف اَزَادَا - آزاد فیر جو اپنے ہاتھ پر ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں۔ اس لکیر  
کو آزاد کا الف کہتے ہیں۔

اَلْف اَللَّہُ - (اَل - بے ناگ (۲) تنہا۔ اکیلا (۳) مفلس غریب اور محتاج (۴) آزاد

اَلحَال - (اَل - حَال) [ع - تالیف فعل] ابھی۔ اسی وقت۔ فی الحال۔  
اَلحَان - (اَل - حَان) [ع - ا - مِث] (۱) اچھی آواز سے گانا یا پڑھنا (۲) نئے  
سُر - (۳) بیعت اول - سخن کی جمع - گیت۔

اَلحَدْر - (اَل - ح - ذَر) [ع - ا - مِث] اللہ کی پناہ خیر وار۔  
اَلحَفِیْظُ - (اَل - ح - فِیْظ) [ع - ا - مِث] (۱) حفاظت کرنے والا (۲) الہی  
پناہ۔ خدا بچائے۔

اَلحَقُّ - (اَل - حَق) [ع - تالیف فعل] (۱) فی الحقیقت۔ واقع میں (۲) شک  
کو درست۔ سچا۔

اَلحَکْمُ اَللَّہُ - اللہ کی حکم ہے۔

اَلحَمْدُ (اَل - حَمْد) [ع - ا - مِث] (۱) سب تعریفیں (۲) قرآن کی پہلی صورت۔ سورۃ فاتحہ  
اَلحَمْدُ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ خدا کی عنایت ہے۔

اَلحَمْرُ - (ع - حَمْر) [ع - ا - مِث] (۱) مسلمانوں کا خوبصورت سُرخ پتھر کا محل۔  
اَلحَمْرُ - (ع - ا - مِث) (۲) اَلحَمْرُ کا مخفف۔ آختر تک تمام سب نکل (جب کسی عمارت کا کھنڈا  
جستہ لکھ کر باقی کو خوف طوالت نہیں لکھتے تو اُلجھ دیتے ہیں)

اَلحَالِقُ - (اَل - حَالِق) [ع - ا - مِث] (۱) رُوئی دار قبا جس کا سینہ اور آستینوں  
کے جاک کھلے ہوتے ہیں)

اَلحَامُو شِیْءٍ نِیْمَ فِضَا - [مِث] چپ ہونے میں بھی ایک قسم کی رضامندی پائی  
جاتی ہے۔

اَلرَّجِی (Allergy) (اَل - رَجِی) [اَل - مِث] [ع - ا - مِث]  
حساسیت۔ کسی چیز کے کالے، پیسے، اوٹھنے اور کیشے کے کاٹنے سے  
جسم میں کسی رد عمل کا ظہور پذیر ہونا۔ حساسیت مرض میں نہیں پائی جاتی۔ اس بیماری  
کا مریض بعض چیزوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ جاتا  
ہے کہ وہ اس سے کیلے ضرر رساں ہیں۔

اَلرَّجِی - بچوں کی کسی حرکتیں۔ بے وقوفی۔  
اَلرَّامُ - (اَل - رَام) [ع - ا - مِث] اِتہام - تہمت - جہتان۔ جمع : اَلرَّامَاتُ  
اَلرَّامُ اَنَا - (محاورہ) قصور وار ٹھہرنا یا خطا دار ثابت ہونا۔ تہمت لگانا۔  
اَلرَّامُ اَٹھانا۔ (محاورہ) اپنے سر پر بدنامی لینا۔ مورد ملامت بننا۔  
اَلرَّامُ پانا۔ (محاورہ) قابل ملامت ٹھہرنا۔ بدنام ہونا۔  
اَلرَّامُ دھونیا۔ دینا۔ عیب لگانا۔ قصور وار ٹھہرانا۔ تہمت دھرننا۔  
اَلرَّامُ دھرننا۔ رکھنا۔ (محاورہ) (۱) قصور وار ٹھہرانا۔ لم لگانا (۲) تہمت  
لگانا۔ بہتان جوڑنا۔  
اَلرَّامُ کا کام۔ اَلرَّامُ کی بات۔ اَلرَّامُ کی چیز۔ (محاورہ) ایسی بات جس سے  
اپنے سر پر بدنامی آئے۔  
اَلرَّامُ کے رحم سے رکھنا۔ (محاورہ) اَلرَّامُ پر اَلرَّامُ لگانا۔  
اَلرَّامُ لگانا۔ (محاورہ) تہمت دھرننا۔ مجرم ٹھہرانا۔  
اَلرَّامُ لگانا۔ (محاورہ) ملامت فرار دیا جانا۔ اَلرَّامُ نہ لینا۔  
اَلرَّامُ لینا۔ (محاورہ) اپنے اوپر بدنامی لینا۔  
اَلرَّامُ ملنا۔ (محاورہ) اَلرَّامُ پانا۔ خطا دار ٹھہرایا جانا۔  
اَلرَّامَاتُ - (اَل - رَامَات) [ع - ا - مِث] اَلرَّامُ کی جمع۔  
اَلسَّانَا - (اَل - سَا - نَا) [ع - مِث] سُنَّت ہونا یا سُنَّت میں پڑنا۔ اُدگھنا۔

غرضیکہ - خلاصہ یعنی -

القط - (أل نطق) [ع] (۱) الگ - بے کار غلط بے موقع (۲) کاٹ دینا -  
 الگ کر دینا - موقوف کر دینا -  
 اللفظ (کرتا) ہو جاتا - ترک تعلق ہو جانا - امر مسموم ہو جانا - نکال دینا - الگ کرنا -  
 الکحل - (أل - ک - حل) [ع - ا - مٹ] شرب - اسپرٹ  
 الکیم (ذو وعدہ فا) - [ع] کہیم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے -  
 الکتا - (أل - ک - سانا) [ہ - لکھ] کاہلی آنا - لکھن یا سستی محسوس کرنا نیند  
 آنا - اُدکھ آنا -

الکسی - الکتس - (أل - ک - سی - ال - کس) [ہ - ا - مٹ] کاہلی - سستی -  
 الکتسی آنا - سستی محسوس کرنا - کاہلی سے کسی کام کو جی نہ چاہنا -  
 الکتکن - (أل - کن) [ع - صفت] جھگلا -

الکھ - (أل - کھ) [ہ - ا - مذ] (۱) جو دیکھنے میں نہ آئے - بے پتا اور بے نشان -  
 پور شدہ - انوپ - غائب - مراد خدا تعالیٰ (۲) جو کبھی کا سلام -  
 الکھ پریش کی مایا کہیں دھوپ کہیں سایا - (ہ - شل) خدا کی قدرت ہے کہ  
 کہیں دھوپ ہے اور کہیں سایا - کسی کو امر کیا کسی کو غریب کہیں  
 شادی ہے کہیں نمی -

الکھ جلاگے - جو کبھی کے مانگنے کی صدا -  
 الکھ جگانا - (مجاورہ) خدا کا نام لینا - خدا کے نام کی منادی کرنا - مناجات  
 کرنا (۲) خدا کا نام لے کر مانگنا -

الکھدھاری - ایک قسم کے ہندو فقیر جو خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتے  
 الگ - (أل - گ) [ہ - صفت] (۱) جدا - علیحدہ (۲) پرے - دور (۳) بے سہارا  
 متعلق (۴) تنہا - ایسلا (۵) مستثنیٰ - خارج (۶) آزاد بے تعلق (۷)  
 اچھوٹا - غیر مستعمل (۸) محفوظ - بچا ہوا (۹) صاف - بے لاگ (۱۰)  
 [فعل] پرے ہٹ - پرے مرگ چل - رستہ لے (۱۱) چھپنے سے  
 بے آہٹ - کھٹنے سے بچا کر - آہستہ -

الگ الگ - جدا جدا - دور دور - پرے پرے - پراگندہ - متفرق -  
 الگ الگ پھرنا - (مجاورہ) دور دور رہنا -

الگ الگ رہنا - (مجاورہ) دور دور رہنا - خفا رہنا - چکھے رہنا -  
 الگ بٹھانا - (مجاورہ) علیحدہ رہنا - فاصلے پر بٹھانا -

الگ بچاگے رکھنا - (مجاورہ) کسی کا حصہ نکال کر محفوظ رکھ دینا -  
 الگ بڑنا - (مجاورہ) جدا سو رہنا -

الگ بھٹکنا (۱) کنارہ کش - جدا - علیحدہ - تنہا (۲) محفوظ - اچھوٹا -  
 الگ رہنا - (مجاورہ) جدا رہنا - بے تعلق رہنا -

الگ کرنا - (۱) جدا کرنا - علیحدہ کرنا (۲) اتارنا - تراشنا - کاٹنا (۳) کھولنا - سلجھانا -  
 (۴) موقوف کرنا - نوکر کو چھوڑنا (۵) چھیننا - انتخاب کرنا (۶) نکالنا - باہر کرنا  
 خارج کرنا (۷) فروخت کرنا (۸) ٹھکانا - ختم کرنا (۹) توڑنا - جگڑے  
 بے جگہ کرنا (۱۰) چھپانا - غائب کرنا (۱۱) بچا لینا (۱۲) غبن کرنا (۱۳) بٹھانا  
 سرکانا (۱۴) ترک کرنا (۱۵) موقوف کرنا - چھوڑنا -

الگ کھسکتا - (مجاورہ) علیحدہ ہٹ جانا - دور رہنا -  
 الگ ہونا - (مجاورہ) (۱) جدا ہونا (۲) ٹوٹنا (۳) موقوف ہونا (۴) ہٹنا - سرکانا -

فیروز کا ٹیکر جو تاک کی نوک سے سر کے بالوں تک سیدھا لہینگا دیتے ہیں  
 الف بے - الف بے تے - حروف تہجی - الف سے تک حروف -  
 الف بے تے پڑھانا - (مجاورہ) (۱) بچے کو ابتدائی قاعدہ پڑھانا (۲)  
 ناسمجھ اور بے وقوف کو کوئی بات سمجھانا یا سکھانا -  
 الف سے بے نہ سننا (مجاورہ) اپنی نسبت ذرا بھی بُری بات نہ سننا -  
 الف سے بے نہ کنا - (مجاورہ) کسی کو ذرا بھی بُرا نہ کنا - نالام تم کلمہ زبان  
 پر نہ لانا -

الف کھینچنا - (مجاورہ) آزاد پھرینا - فقیر ہی لینا -  
 الف کے نام بے نہیں جانتے (مجاورہ) بالکل ان پڑھ ہیں - جاہل آدمی -

الف مقصورہ - وہ الف جس پر مد نہ ہو -  
 الف ممدودہ - مدوالا الف - لمبی آزادوالا الف - وہ الف جسے کھینچ کر  
 پڑھا جائے -

الف ہونا - (۱) چراغ پا ہونا - گھوڑے کا پھیل ٹانگوں پر کھڑا ہونا -  
 برہنہ ہونا -

الف - (ع - ا - مٹ) (۱) دوستی - یاری (۲) عادی ہونا -  
 الفبا بیت (Alphabet) (ال - فبا بیت) (الگ - مذ) حروف تہجی  
 الفاظ - (أل - فبا - ظ) [ع - ا - مذ] لفظ کی جمع - لفظیں -

الفقت (أل - فقت) [ع - ا - مٹ] پیار - محبت - دوستی -  
 الفقت جتنا - (مجاورہ) محبت کا اظہار کرنا -  
 الفقت کا بندہ - (صفت) محبت کا غلام -  
 الفقت کرنا - (مجاورہ) محبت کرنا -

الفقتہ - (أل - فقتہ) [ع - ا - مٹ] (۱) پریشان - مفلس - فلاش - صفت - خورہ -  
 (۲) غیر - بیگانہ - (۳) بد معاشر - آوارہ - بدچلن -

الفراق - (أل - ف - راق) [ع] جدائی کے وقت حسرت و افسوس کا کلمہ -  
 الفریقہ - عوام خواہ مرد و آدمی [مٹل] موٹے آدمی کو مذاق سے کہتے ہیں -  
 الفریقہ - (أل - ف - ق - ر - ع - ج - ب - ن) [ع] تقریب سے بے باہت فخر ہے پیغمبر اسلام  
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث (۲) (مجازاً) فقیر ہی میں خوش رہنا -

الفن - (أل - فن) [ع - ا - مٹ] ایک قسم کی نکل - بڑا رنگ -  
 الفنی - (أل - فن) [ع - ا - مٹ] (۱) اقلیداسی لکیریں جو کپڑے - برتن یا پھری لکھی  
 ہوں - (۲) رنگ جس کے ہڈے پر دوسرے رنگ کے کاغذ کی سٹی لگی ہو  
 (۳) بیزار آئینوں کا گونا - کفن - فقیر نہ لباس -

الفنی قاب - وہ تاب جس پر چھوٹے چھوٹے سیدھے خط پڑے ہوتے ہیں -  
 الفنی کتنا - وہ کتنا جس میں اوپر سے نیچے تک دوسرے رنگ کے کاغذ کی  
 چوڑی لگی ہو -

القبا - (أل - قبا) [ع - ا - مذ] ڈالنا - غیب سے دل میں ڈالنا - وہ بات جو خدا  
 دل میں ڈال دے -

القبا ہونا - (۱) دل میں کوئی بات بڑنا (۲) غیب سے دل میں کوئی بات آنا -  
 القبا - (أل - قبا) [ع - ا - مذ] لقب کی جمع - وہ خطاب جو محترم الیہ  
 کے لیے خط کے عنوان میں لکھے جاتے ہیں -

القصہ - (أل - قصہ) [ع] الحاصل - حاصل کلام - مطلب - قصہ مختصر

اللہ جانے۔ خدا کو علم ہے۔ کسی امر سے واقف نہ ہونے، بات کے سمجھنے میں نہ آنے پر کہتے ہیں۔

اللہ جھوٹ نہ بلو اسے (مجادرہ) جب کسی بات کے متعلق یقینی طور پر نہ کہا جاسکے اس وقت بولتے ہیں۔

اللہ جانظہ۔ خدا نگہبان۔ اللہ بلی۔

اللہ خیر کرے (مجادرہ) خطرے اور اندیشے کے مقام پر بولتے ہیں۔

اللہ دے اور بندوے۔ (مجادرہ) کسی بات کی کثرت خصوصاً کسی بے اتنا غصہ ہونے پر کہتے ہیں۔

اللہ رکھے۔ (کلمہ دعا) خدا سلامت رکھے۔ دکھ درد سے محفوظ رکھے

زندہ رکھے۔ قائم رکھے۔ (۲) سلامتی سے۔ بجزیرہ۔ ماشاء اللہ شترم بد

رُدر۔ نام خدا۔

اللہ رکھے تو کون چکھے۔ [امثال] جسے اللہ صحیح سالم رکھنا چاہے۔ اسے

کون مار سکتا ہے۔

اللہ رے۔ واہ واہ۔ کلمہ تعجب۔ جو کسی چیز کی زیادتی یا خوبی پر دلالت کرے۔

اللہ رے تیرے دیدے کی صفائی۔ [امثال] اتنی تیری بے حیائی تیری

ڈھائی کی حد نہیں۔

اللہ رے میں۔ (مجادرہ) واہ رے میں۔ میرا کیا کہنا۔

اللہ سلامت رکھے۔ (مجادرہ) خداوند نہ رکھے۔ خدا برقرار رکھے۔

اللہ سے ڈرو۔ اللہ کو نا۔ (مجادرہ) خدا کا خوف کرو۔

اللہ سے کام پڑا ہے۔ (مجادرہ) جان کے لالے پڑے ہیں مصیبت اور آفت میں گرفتار ہے۔

اللہ سے لو لگی ہے۔ خدا کی طرف دھیان ہے۔ اللہ سے امید ہے۔

اللہ شاہد ہے۔ خدا گواہ ہے۔ فتور کی جگہ کہتے ہیں۔

اللہ غنی۔ اظہار غلظت میں مبالغہ پر کسی صدر یا تکلیف کے وقت یا

تعجب کے موقع پر بولتے ہیں۔

اللہ غنی تو کلا ہے کی کمی۔ خدا کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر وہ چاہے

تو ایک دم میں امیر کر دے۔

اللہ کا الف۔ وہ الف جو آزاد فقیر یا غنی پر کہتے ہیں۔

اللہ کا بندہ (۱) خدا کا غلام (۲) اللہ کی بندگی کرنے والا (۳) آدمی انسان

(۴) [طنزاً] بیوقوف۔ سیدھا آدمی۔

اللہ کا پیارا۔ خدا کا محبوب (۲) بزرگ۔

اللہ کا دیا سہریہ۔ [امثال] کوئی بات یا معاملہ فابوسے باہر ہو جائے تو

اور اسے حورا کرنا پڑے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے

اسے گوارا کرنا ہی پڑتا ہے۔

اللہ کا دیا تو کبھی نہ ہووے دور۔ [امثال] اللہ کی دی ہوئی چیز کو نہ مال

تہیں (۲) حصاب لگانے ہوئے اگر کچھ مال سفید رہ جائے تو مزاحاً

کہا جاتا ہے۔

اللہ کا کلام۔ قرآن شریف۔

اللہ کا گھر (۱) خانہ کعبہ۔ (۲) مسجد (۳) دل

اللہ کا گھر بڑا ہے۔ خدا کے گھر میں کمی نہیں ہے۔ وہ بڑا کارساز بندہ نواز ہے۔

الگ ہی الگ۔ دور ہی دور۔ دور سے۔ ایکلے ایکلے۔ اوپر ہی اوپر۔

الگنی۔ (ال۔ گ۔ نی۔) [ع۔ ا۔ ح۔ م۔ ت۔] اٹھن کپڑے لٹکانے کی ڈوری یا رسی۔

الگنی پر ڈالنا۔ (مجادرہ) سکھانے یا ہوا دینے کے لیے ڈوری پر ڈالنا۔

الگنی پر ڈالنے کے قابل ہوگئے۔ (مجادرہ) بہت ہی لاغر ہو گئے۔

الہل پھیلا۔ صبح اہل پھیلا۔ گھوڑے کا نوخیز بچہ جس پر ابھی سواری نہ کی گئی ہو۔

(۲) ناخبرہ کار۔ بے کار۔ بے پروا جوان۔

الہل ٹپ۔ الہل ٹپو۔ [صفت] خیالی۔ انکل بچو۔

الہل جھپ۔ [صفت] منز لزل۔ ایک جگہ قرار نہ پھرنا (۲) بے پروا۔ غیر

مستقل مزاج۔

اللہ۔ (ال۔ لاہ) [ع۔ ا۔ ح۔ م۔ ت۔] خدا۔ موجود۔ خدا کا اسم ذات (۲) اے خدا۔ الہی۔

(۳) واہ۔ آہ۔ آہ۔ آہ۔

اللہ آمین سے پالنا۔ (مجادرہ) دعا میں مانگ مانگ کر پرورش کرنا۔ کمال

محنت اور شفقت سے پالنا۔ لاڈلپا رے سے پالنا۔

اللہ آمین کا۔ (مجادرہ) دعاؤں اور التجاؤں کا سنا زبردورہ۔ سنا زوں کا پالنا ہوا۔

اللہ آمین کرنا (مجادرہ) غور پر دعا خست کرنا۔ خیر خوبی کی دعا مانگنا۔

اللہ آمین ہونا (مجادرہ) غور پر دعا خست ہونا۔

اللہ اٹھلے۔ (مجادرہ) موت آجائے۔ مر جائے۔

اللہ اکبر (۱) خدا بہت بڑا ہے۔ پنجگرم نماز میں جنگ میں جملہ کرتے اور جانور

کو ذبح کرتے وقت کہی جاتی ہے (۲) تعجب غلظت شکوے شکایت۔

کمال مہلتے اور فخر و مہابت کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔

اللہ اللہ۔ (۱) کلمہ تعجب (۲) کلمہ تحسین۔ واہ واہ۔ آفرین (۲) شکوے شکایت

کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ (۳) بعض فقہاء کا سلام۔

اللہ اللہ خیر سلا۔ (مجادرہ) فراغت ہوئی۔ فرصت ملی۔ اس کے لگے

کچھ نہیں۔ اور کچھ نہیں۔

اللہ اللہ رے۔ (مجادرہ) مہلتے کا کلمہ۔

اللہ اللہ کر کے۔ (مجادرہ) خدا خدا کر کے۔ بڑی مشکل سے۔

اللہ اللہ کرنا۔ (مجادرہ) خدا کا نام لینا۔ بیخ پر چھنا (۲) صبر و تحمل کرنا۔

اللہ اللہ کرو۔ (مجادرہ) (۱) خدا خدا کرو۔ خدا کا نام لو (۲) جھوٹ نہ بولو

اللہ بھالے۔ خدا محفوظ رکھے۔

اللہ بخشنے۔ خدا مغفرت کرے۔

اللہ بس باقی ہوس (منقول) اللہ کے سوا سب بیخ ہیں۔

اللہ بسما اللہ کرنا۔ کمال غور پر دعا خست کرنا۔ غنیمتیں ماننا۔ مزادیں ماننا۔

اللہ جھلا کرے۔ (۱) فیروز کی صدا (۲) کسی کے سوک اور نیکی پر دعائیر کلمہ۔

اللہ بلی۔ (مجادرہ) اللہ نگہبان۔ خدا جانظہ۔

اللہ پر نظر رکھو (مجادرہ) خدا پر بھروسہ رکھو۔ ہر سانس نہ ہو۔

اللہ تیرے (منا) ماننا۔ (مجادرہ) غنیمتیں ماننا۔ نذر دینا ماننا۔

اللہ تو کھلی۔ خدا پر بھروسہ (۲) اتفاق سے۔ اتفاقاً۔

اللہ تو کھلی کا رخا نہ ہے۔ (مجادرہ) توکل پر سہارا داتا ہے۔ کسی کی مدد نہیں

ہے۔ بے پروائی ہے۔

اللہ جانتا ہے۔ خدا واقف ہے۔ خدا کو علم ہے۔

اللہ لاطھی لے کے قھوٹا ہی مارتا ہے۔ خدا تہا کہ سزا اس طرح دیتا ہے جس کا دہم دگن بھی نہیں ہوتا۔

اللہ لگتی۔ (محاورہ) بیچ بات۔ حق کی بات۔ انصاف کی بات۔

اللہ مارا۔ خدا کی خوار۔ بد بخت۔ مصیبت زدہ۔ لاندہ درگاہ۔

اللہ ملائی جوڑی ایک اندھا ایک کوڑھی۔ [مثل] دونوں ایک صیغے ہیں۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے۔

اللہ میاں۔ خدا۔ اللہ تعالیٰ۔

اللہ میاں بھرتے کو بھرتے ہیں۔ (منقولہ) اس منہ پرکتے ہیں جب ضرورت والا محروم رہے اور جسے ضرورت نہ ہو اسے تل جائے۔

اللہ میاں کا رحم۔ عورتیں رت جگے میں لگنوں کے علاوہ جانوروں کے آٹے میں کھانڈ ملا کر بچلے بناتی ہیں جسے اللہ میاں کا رحم سمجھتے ہیں۔

اللہ میاں کا طاقن بھرتا۔ (محاورہ) سمد کے طاق میں جھگلے اور دم رکھنا۔

اللہ میاں کی بھینس۔ (۱) سیاہ رنگ کا ایک کڑا جو بہت سخت جان ہوتا ہے۔ (۲) سیاہ خام زونا آدمی۔

اللہ میاں کی گائے۔ نہایت بھولا بھالا اور سبھا آدمی۔ بڑا نیک آدمی۔

اللہ تمہان۔ خدا حافظ۔

اللہ نہ کھائے۔ (محاورہ) خدا کرے ایسا نہ ہو

اللہ نے یہ دن دکھایا۔ (محاورہ) خوشی کے موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے یہ دکھایا ہے۔

اللہ والی۔ (۱) درویش۔ بزرگ۔ ولی (۲) فقیر۔

اللہ ہی اللہ ہے۔ (۱) خدا کی ذات کے سوا سب بیچ ہے (۲) کلہ تعریف (۳) مسلمان خدیو کی صدا۔

اللہ پارے تو بیڑا پار ہے۔ خدا مددگار ہے نکل مشکلیں آسان ہیں

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ لے لے۔ (۱) تل لے۔ (۲) تل لے۔ (۳) تل لے۔ (۴) تل لے۔ (۵) تل لے۔ (۶) تل لے۔ (۷) تل لے۔ (۸) تل لے۔ (۹) تل لے۔ (۱۰) تل لے۔

اللہ کا محبوب۔ (۱) خدا کا پلہ (۲) حضرت بریل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نام سچا (محاورہ) خدا کے نام کے سوا سب جھوٹا کارغا ہے۔ تقیروں کی صدا۔ اللہ کا نام تو۔ (محاورہ) خدا کو یاد کرو۔ خدا خدا کرو۔ (۲) توبہ کرو جھوٹ نہ بولو۔ (۳) اب صبر کرو۔

اللہ کا نام محمد کا کلمہ۔ (۱) کچھ بھی موجود نہیں ہے (۲) بالکل سنا ہی ناواری ہے اللہ کا نام ہے۔ کچھ یا س نہیں ہے۔ کچھ موجود نہیں ہے۔

اللہ کا ٹور۔ (۱) خدا کی سخی (۲) نہایت حسین (۳) منبرک شکل کا آدمی۔ فرشتہ صورت۔ وہ شخص جس کے چہرہ پر عبادت کرنے کرنے ٹورا جاوے۔ (۳) وارٹھی۔

اللہ کرے۔ (کلہ ننا) کاش کہ کاش خدا ایسا ہی کرے۔

اللہ کو سیارا ہوتا۔ خدا نے آٹھایا۔ مرگیا۔

اللہ کو دیکھنا۔ کمال یا اس میں خدا پر نظر ہونا ہے۔ کسی میں ضبط کرنا صبر کرنا۔

اللہ کو سوزینا۔ (۱) خدا کے سپرد کرنا (۲) رخصت کے وقت خدا حافظ کہنا۔

اللہ کو ما تو۔ (محاورہ) خدا کا خوف کرو۔ باز آؤ۔

اللہ کو مٹھ دکھا ہے۔ (۱) خدا کے سامنے جانا ہے (۲) کسی کو بد اعمالیوں سے منع کرنے دنت کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ ایک دن خدا

کے سامنے پیش ہونا ہے۔

اللہ کو یاد کرو۔ صبر کرو۔ گھبراؤ نہیں۔ خدا پر نظر رکھو۔

اللہ کی امان۔ خدا پکائے۔ خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔

اللہ کی امان پر پیچھے کا سارہ۔ خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔ پیرو اور پیغمبر کا کام

مثل تہے۔ سفر کے وقت کی دعا۔

اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتے۔ خدا کے عہد وہی بہتر جانتا ہے۔

اللہ کی پناہ۔ خدا کی امان۔ خدا محفوظ رکھے۔

اللہ کی چوری نہیں تو بندے کی کیا چوری۔ عذابیہ دھناتی اور بے جانی سے

کسی بہبود دہن کرنے کے وقت کہتے ہیں۔

اللہ کی سنوارا۔ اعتراض یا ڈانٹ ڈپٹ کا کلمہ (۲) مذہب بد دعا۔

اللہ کی نشان۔ (محاورہ) خلاف توقع اور خلاف مزاج کام ہونے پر کہتے ہیں۔

اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کا تماشا نظر آتا ہے۔ (کلہ تعجب)

کسی عجیب بات پر اظہار تعجب کے بیٹے یا حسن کمال کی تعریف

کے لیے خلاف توقع کام پر اظہار حیرت کے طور پر کہتے ہیں۔

اللہ کی لاطھی میں آواز نہیں۔ [مثل] خدا اس طرح ظلم کی سزا دیتا ہے جس کا

سان تان بھی نہیں ہوتا۔

اللہ کے شہرے کے ہاتھ ہیں۔ [مثل] اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس سے

بابوس نہ ہونا چاہئے (۲) کسی کے ظلم اور زیادتی پر کہتے ہیں۔

اللہ کے گھر سے بھرتا سخت مرض سے صحت پانا۔ مرم کے بچنا۔

اللہ کے گھر میں کیا کمی ہے۔ (محاورہ) خدا کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔

اللہ کے لوگ۔ اللہ لوگ۔ فضخ جو دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو بھولا بھالا

فرشتہ سیرت۔ سیدھا سادہ۔ سادہ لوح۔

اللہ کے مست۔ مجذوب۔ بے ہوش ہوئے لوگ۔

اللہ کے نام پر۔ خدا کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ۔ خدا کے لیے۔





انارت - (۱-ما-رت) [ع-۱-مٹ] دولت مندی سرداری حکومت بد  
جمع : امارات -

آمارہ - (ام-ما-رہ) [ع-صف] (۱) کثرت سے حکم دینے والا (۲) بدی کی طرف رغبت  
دلانے والا بڑی بات کا حکم دینے والا (۳) کرکٹ، خاتم، انسانی نفس کی ایک قسم  
آماس - (ام-ماس) [ع-۱-مٹ] اندھیری رات، چاند کی ۲۸ تاریخ کی رات  
جو مکمل طور پر اندھیری ہوتی ہے - اماؤس -

آماکن - (آ-ماکن) [ع-۱-مڈ] مکان کی جمع الجمع، جگہیں، مقامات -  
اماکن (شرفیض) مقدسہ، زیارت گاہیں، مقدس مقامات -

امالہ - (ا-مالہ) [ع-۱-مڈ] (۱) مال کی کتنا (۲) علم صرف کی اصطلاح میں الف یا یا  
ہوڑ کو سے بدلنا جیسے لڑکے سے لڑکے - بندہ سے بندے -

امام - (امام) [ع-۱-مڈ] (۱) پیشوا، ہادی (۲) نماز پڑھانے والا (۳) تیسوع کے  
دالوں کے اوپر کیا داند - جمع : ائمہ -

امام عظیم - دیکھیے ابوحنیفہ -

امام باڑہ - وہ عمارت جس میں شہدائے کربلا کی باغیچیں اور تزیین کاری ہوتی ہے  
امام ضامن کا روپیہ - وہ روپیہ یا سکہ جو مسافر کے باز پر حفاظت سے  
پہننے کے خیال سے امام ضامن کے نام پر باندا جاتا ہے -

امام ناطق حضرت امام جعفر صادق کا لقب -

امامت (۱-ما-میت) [ع-۱-مٹ] (۱) رہنمائی، رہبری (۲) جماعت کو نمائندگی  
پڑھانے کا کام یا پیشہ -

امامیہ - (امام-یم) [ع-صفت] اہل تشیع جو صرف بارہ اماموں  
کو مانتے ہیں -

آمان - (آ-مان) [ع-۱-مڈ] (۱) پناہ، حفاظت (۲) آرام - آسائش -  
عافیت -

امان پانا - پناہ ملنا - حفاظت حاصل ہونا - امن نصیب ہونا -

امان دینا - پناہ دینا -

امان مانگنا - پناہ کی درخواست کرنا -

آمان - (ا-کلر خطاب) اے - ارے - اے جی -

آماں - (ام-ماں) [ع-۱-مٹ] ماں - والدہ -

اماں باوا - ماں باپ - والدین -

امانا - (ا-مانا) [ع-میت] بھڑا، سمانا - اٹ جانا -

امانت - (آ-مانت) [ع-۱-مٹ] سیر و کی ہوئی چیز، تحویل (۲) بیعت کا  
کام (۳) امین کا عہدہ (۴) وہ چیز جس میں تصرف نہ کیا گیا ہو - جمع : آمانتا

امانت خانہ - وہ مکان یا جگہ جہاں امانتیں رکھی جاتیں -

امانت خانی زورہ - (۱) صف (۲) ایک شخص کا کھانے کا ٹوکا -

امانت دار - امین، معتد، ذمہ دار (۲) امانت رکھنے والا تحویل دار (۳) امانت دار -

امانت رکھنا - حفاظت کے لئے کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا -

امانت گزار - وہ شخص جو کوئی چیز امانت میں رکھے -

امانت میں خیانت - کسی کی رکھی ہوئی چیز میں تصرف کرنا -

امانت میں خیانت تو زمین بھی نہیں کرتی - (منقولہ) الزام اور ملامت  
کے طور پر کہا جاتا ہے - کہا جاتا ہے کہ اگر کسی لاش کو بطور امانت

الہی نذر - اکبر بادشاہ کا چلا یا ہوا گزرتے ۳۳ سچ کا ہونا تھا اور عمارت ناپنے  
میں اسے نیک کام مانا ہے -

الہی مذہب - اکبر بادشاہ کا رائج کردہ دین الہی -

الہی مہر (مٹ) شہر شاہی - وہ قرض جو لازماً ادا کرنا پڑے - لازمی اور ضروری  
قرضہ -

الہیات (۱-الہی-یات) [ع-۱-مڈ] علم الہی، فلسفہ حکمت - وہ علم جس میں  
خدا کے وجود اور ذات و صفات سے بحث کی جاتی ہے -

الی آلان - (ا-لی-آن) [ع] ابھی تک - اس وقت تک -

الیہ [ع] اس تک - اس کی طرف -

آلے (آل-ے) [ع-۱-مڈ] ایک راگ کا نام -

الیاس - (ال-یاس) [ع-۱-مڈ] ایک پتھر کا نام جو لوگوں کے عقیدے میں  
قیامت تک زندہ رہیں گے اور حضرت خضر کے برعکس خشکی پر پھولے

بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہیں -

آلیچنا - (آ-لیج-نا) [ع-میت] پانی پھینکنا - ہاتھ یا برتن سے پانی اچھال کر دوسری  
طرف ڈالنا -

الیکٹرک (Electric) (ایک-ٹ-رک) [انگ-۱-صفت]  
بجلی کے متعلق - بجلی کا - برقی -

الیکشن (Election) (ای-لیک-شن) [انگ-۱-مڈ] انتخاب، چناؤ  
آئیل - (آ-یل) [ع-۱-صفت] (۱) بے دانت کا پتھر (۲) بے پروا - اظہر -

نوجوان - نابخترہ کار - دنیا کے کاروبار سے بے خبر -

آلیم - (آ-لیم) [ع-صفت] دردناک، تکلیف دہ -

آلیٹرنا - (آ-لیٹ-رنا) [ع-میت] [ہ-میت] آؤٹ لینا -

آلیا - (آ-لی-یا) [ع-۱-مٹ] چھوٹا ناطق -

## ا-م

آم - (۱-صوت) دودھ پیتے پیتے کی زبان میں پانی کا اشارہ -

آم - (ف-مٹ) اس مرکبات میں بطور سابقہ استعمال ہوتا ہے جیسے  
امسال - امروز -

آم - (ع-۱-مٹ) ماں - والدہ - جمع : أمهات

آم لاما رض - بیماریوں کی ماں - کھانسی - زکام یا تبص

آم انجائٹ - بیماریوں کی ماں - شراب -

آم الصبیان - بچوں کو مسان کی بیماری - بچوں کی مرگی - ڈبہ اطفال -

آم العلوم - علم صرف -

آم القرئی - شہروں کی ماں - مکہ معظمہ

آم الکتاب - (۱) کتابوں کی ماں - قرآن شریف (۲) سورۃ فاتحہ یعنی الحمد

آم الولد - وہ کیز جس کی بیٹے آقا سے اولاد پیدا ہوتی ہو -

آم غیلان - ببول - بیکر -

آما - (ام-ما) [ع] یسین - پر - مگر - تا - ہم - پھر بھی -

آما بعد - اس کے بعد - بعد ازاں -

امتناع - (ام - مت - ناع) (ع - ا - مذ) (۱) روک بمانعت - منافی (۲)  
منع کرنا - روکنا -  
امتناعی - (ع - صفت) روکنے والا -

امتنان - (ام - مت - نان) (ع - ا - مذ) احسان کرنا -  
امتی (ام - مت - تی) (ع - صفت) اُمت کے لوگ - فرسے کے آدمی - جمع : امتیان  
امتیاز - (ام - ت - یاز) (ع - ا - مذ) (۱) فرق - تمیز - ترجیح (۲) تفریق (۳) کچھ  
شعور - جمع : امتیازات -  
امتیاز کرنا - فرق کرنا - تمیز کرنا -  
امتیاز نامہ - لائسنس -

امتیاز حقوق (ع - ف - ا - مذ) وہ رعایتیں جو کسی گروہ یا شخص کو اس کے مدعاؤ  
منصب کی وجہ سے حاصل ہوں اور اسے دوسروں سے ممتاز بنا دیں -  
امٹ - (ا - مٹ) (ع - صفت) نشتے والا - غیر فانی - لازوال -  
امثال - (ام - مثال) (ع - ا - مٹ) مثل اور مثل کی جمع (۱) کہاوتیں (۲) ہم صرت  
ہم شکل -  
امثله - (ام - مٹ - لہ) (ع - ا - مٹ) مثال کی جمع - مثالیں -  
ام جاننا - (ام - جاننا) (م - مٹ) شل ہو جانا - اعضا کا بھاری ہو جانا -  
امجد - (ام - جد) (ع - صفت) نہایت بزرگ - جمع : اُماجد -  
امچور - (ام - چور) (ا - مٹ) (۱) سکھاتے ہوئے کچے آم کی پھانسیں - آم کی کھٹائی  
(۳) سوکھا جھریاں پڑا ہوا آمی -

امداد - (ام - داد) (ع - ا - مٹ) مدد - حمایت - اعانت - سہارا - سلوک -  
امداد باہمی - باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا - ایک سرکاری محکمہ -

امدادی - (ام - دادی) (ع - صفت) مدد کیا ہوا - سہارا دینا - ویسے والا -  
امز - (ع - ا - مذ) (۱) حکم - فرمان (۲) بات - فعل - کام (۳) معاملہ - باب -  
جمع : امور - ادا مزر -

امرا - (ام - را) (ع - ا - مذ) امیر کی جمع (۱) دولت مند لوگ - رئیس - مالدار - معزز -  
امراض - (ام - رض) (ع - ا - مذ) مرض کی جمع - بیماریاں -  
امراضی - (ام - را - ای) (ع - ا - مذ) آم کا باغ - آم کی باڑی  
امزبیل - (امز - بیل) (ع - ا - مٹ) ایک بیل جس کی جرد میں ہوتی - آکاس بیل -  
امرت - (ام - رت) (س - ا - مذ) (۱) اکیر - آب حیات (۲) شربت - شہد  
(۳) بہت لذیذ اور شیریں چیز -  
امرت دھارا - آب حیات - ایک مٹھور درد کا نام -  
امرت سار - (۱) آٹھن - (۲) گھی -  
امرتی - (ا - م - تی) (ع - ا - مٹ) ایک مٹھائی جو ماش کے ٹکے بنائی جاتی ہے  
اور شکل میں جلیبی سے مشابہ ہوتی ہے -

زہین میں دفن کر دیا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی - امانت میں خیانت  
نہ کرنی چاہئے -  
امانت نامہ - امانت رکھنے کی دستاویز -

امانت (ا - مانت) (ق - ا - مٹ) (۱) ہجر ہو - (۲) مستعار -  
امانت (ق - ا - مٹ) منت - عاجزی -  
امانی - (ا - مانی) (ا - مٹ) (۱) وہ کام جو اپنے طور پر کرنا یا جانے ٹھیکہ کی ضد -  
امانی آبادی اجارہ اُجالا (منش) امانی میں کام اچھا ہوتا ہے اور ٹھیکہ میں  
خراب ہو جاتا ہے -  
امادس - (ا - م - ا - س) (س - ا - مٹ) پاکھ کی پندرھویں تاریخ - قمری مہینے  
کا آخری دن -

امیر - (ام - بر) (ا - ہ - مذ) (۱) چادر (۲) آسمان (۳) بادل (۴) لاجر کی پوشاک  
امبولنس Ambulance [انگ - مٹ] مربعوں کو لے جانے  
والی گاڑی -

امپائر - (Umpire) (ام - پا - ا - ر) [انگ - ا - مذ] مقابلے کی کھیلوں  
کا فیصلہ کرنے والا -  
امپائر (Empire) (ام - پا - ا - ر) [انگ - ا - مٹ] سلطنت -  
بادشاہت -

امپراطور - (ام - پ - را - طور) (ف - ا - مذ) انگریزی امپیر سے فارسی  
بنایا ہوا - شہنشاہ -  
امپراطریس - (ام - پ - را - ط - ریس) [ف - ا - مٹ] انگریزی امپیرس  
کا فارسی بنایا ہوا - شہنشاہ - ٹیکہ - ملکہ - مہارانی -

امپریل - (Imperial) (ام - پی - ری - یل) [انگ - صفت] شاہی  
بادشاہی -  
امنت - (ام - منت) (ع - ا - مٹ) (۱) گروہ - جماعت (۲) پیرو تاج  
جمع : اُمت -  
امنت مرحومہ - وہ اُمت جس پر اللہ کی رحمت ہو مسلمان -  
امنتال - (ام - منت - ا - ل) (ع - ا - مذ) حکم ماننا - تعین حکم -  
امنتال امر - حکم کی تعین -

امتحان - (ام - مت - جان) (ع - ا - مذ) آزمائش - جانچ - پڑتال - جمع : امتحانات -  
امتحان پاس کرنا - کامیاب ہونا - آزمائش میں پورا اُترنا -  
امتحان میں پورا اُترنا - (محاورے) آزمائش میں کامیاب ہو جانا -

امتداد - (ام - مت - داد) (ع - ا - مذ) طوالت - درازی - لمبائی - مدت -  
امتزاج - (ام - مت - زاج) (ع - ا - مذ) ملاوٹ - آمیزش - ہم آہنگی -  
امتزاج یکیمیائی - کئی چیزوں کو ملا کر ایک نئی شے تیار کرنا -  
امتنعہ - (ام - مت - ع) (ع - ا - مٹ) امتناع کی جمع - دولت - بونجی -  
امتلا - (ام - مت - لا) (ع - ا - مذ) (۱) پُربونا معدے کا غذا سے پُربونا  
جی منڈانا (۲) بد بھنی -

امیراطور - (ام - پ - را - طور) (ف - ا - مذ) انگریزی امپیر سے فارسی  
بنایا ہوا - شہنشاہ -

امپریل - (Imperial) (ام - پی - ری - یل) [انگ - صفت] شاہی  
بادشاہی -

امنت - (ام - منت) (ع - ا - مٹ) (۱) گروہ - جماعت (۲) پیرو تاج  
جمع : اُمت -  
امنت مرحومہ - وہ اُمت جس پر اللہ کی رحمت ہو مسلمان -  
امنتال - (ام - منت - ا - ل) (ع - ا - مذ) حکم ماننا - تعین حکم -  
امنتال امر - حکم کی تعین -

امتحان - (ام - مت - جان) (ع - ا - مذ) آزمائش - جانچ - پڑتال - جمع : امتحانات -  
امتحان پاس کرنا - کامیاب ہونا - آزمائش میں پورا اُترنا -  
امتحان میں پورا اُترنا - (محاورے) آزمائش میں کامیاب ہو جانا -

امتداد - (ام - مت - داد) (ع - ا - مذ) طوالت - درازی - لمبائی - مدت -  
امتزاج - (ام - مت - زاج) (ع - ا - مذ) ملاوٹ - آمیزش - ہم آہنگی -  
امتزاج یکیمیائی - کئی چیزوں کو ملا کر ایک نئی شے تیار کرنا -  
امتنعہ - (ام - مت - ع) (ع - ا - مٹ) امتناع کی جمع - دولت - بونجی -  
امتلا - (ام - مت - لا) (ع - ا - مذ) (۱) پُربونا معدے کا غذا سے پُربونا  
جی منڈانا (۲) بد بھنی -

امنت - (ام - منت) (ع - ا - مٹ) (۱) گروہ - جماعت (۲) پیرو تاج  
جمع : اُمت -  
امنت مرحومہ - وہ اُمت جس پر اللہ کی رحمت ہو مسلمان -  
امنتال - (ام - منت - ا - ل) (ع - ا - مذ) حکم ماننا - تعین حکم -  
امنتال امر - حکم کی تعین -

امتحان - (ام - مت - جان) (ع - ا - مذ) آزمائش - جانچ - پڑتال - جمع : امتحانات -  
امتحان پاس کرنا - کامیاب ہونا - آزمائش میں پورا اُترنا -  
امتحان میں پورا اُترنا - (محاورے) آزمائش میں کامیاب ہو جانا -

امتداد - (ام - مت - داد) (ع - ا - مذ) طوالت - درازی - لمبائی - مدت -  
امتزاج - (ام - مت - زاج) (ع - ا - مذ) ملاوٹ - آمیزش - ہم آہنگی -  
امتزاج یکیمیائی - کئی چیزوں کو ملا کر ایک نئی شے تیار کرنا -  
امتنعہ - (ام - مت - ع) (ع - ا - مٹ) امتناع کی جمع - دولت - بونجی -  
امتلا - (ام - مت - لا) (ع - ا - مذ) (۱) پُربونا معدے کا غذا سے پُربونا  
جی منڈانا (۲) بد بھنی -

امنت - (ام - منت) (ع - ا - مٹ) (۱) گروہ - جماعت (۲) پیرو تاج  
جمع : اُمت -  
امنت مرحومہ - وہ اُمت جس پر اللہ کی رحمت ہو مسلمان -  
امنتال - (ام - منت - ا - ل) (ع - ا - مذ) حکم ماننا - تعین حکم -  
امنتال امر - حکم کی تعین -

امتحان - (ام - مت - جان) (ع - ا - مذ) آزمائش - جانچ - پڑتال - جمع : امتحانات -  
امتحان پاس کرنا - کامیاب ہونا - آزمائش میں پورا اُترنا -  
امتحان میں پورا اُترنا - (محاورے) آزمائش میں کامیاب ہو جانا -

امتداد - (ام - مت - داد) (ع - ا - مذ) طوالت - درازی - لمبائی - مدت -  
امتزاج - (ام - مت - زاج) (ع - ا - مذ) ملاوٹ - آمیزش - ہم آہنگی -  
امتزاج یکیمیائی - کئی چیزوں کو ملا کر ایک نئی شے تیار کرنا -  
امتنعہ - (ام - مت - ع) (ع - ا - مٹ) امتناع کی جمع - دولت - بونجی -  
امتلا - (ام - مت - لا) (ع - ا - مذ) (۱) پُربونا معدے کا غذا سے پُربونا  
جی منڈانا (۲) بد بھنی -



پسند نہیں۔

امیر کے پر دوس میں خدا قبر بھی نہ بنائے۔ [مثیل] غریب کو امیر کے پر دوس میں دکھی ملتا ہے۔ بالدار ہمسایہ سے ہر طرح دکھ پہنچتا ہے۔

امیر لشکر۔ فوج کا سردار۔

امیر اندہ (آرمی۔ رانہ) [ع۔ صف] امیر کی مانند۔ امیر کی مثل۔

امیر بی (آ۔ سی۔ ری) [ع۔ ایسٹ] (۱) سرزاری (۲) مالداری۔ دولت مندی۔

امیر بی اور فقیر کی کی بوجھ ایس برس تک نہیں جاتی [مثیل] دولت مند

اور غریبی کا اثر بڑی مدت میں جاتا ہے۔

امیر بی کا رخا نہ ہے۔ رئیسانہ ٹھاٹ ہے۔

ایمن (آ۔ بین) [ع۔ صف] (۱) امانت دار۔ امانت رکھنے والا (۲) معتد

ایمان دار (۳) ایک عہدے کا نام۔

## ا۔ ل

ا۔ ل (س۔ ا۔ مذ) (۱) بنا۔ بغیر (۲) اور۔ دوسرا (۳) اناج۔ غلہ۔ غذا۔

ا۔ ل بدھا۔ بھرا۔ جس میں چھید نہ ہو۔

ا۔ ل بن۔ نامرافقت۔ بگاڑ۔ رنجیدگی۔ رنجش۔ ناپجائی۔

ا۔ ل بچھ۔ [ع۔ صف] بے وقوف۔ بے عقل۔ نہ سمجھنے والا۔

ا۔ ل بولا۔ رنجش کی وجہ سے آپس میں بات نہ کرنا۔ کھٹ۔

ا۔ ل پانی۔ ا۔ ل جل۔ دانہ پانی۔ کھانا پینا۔

ا۔ ل پڑھ۔ ناخواندہ۔ ا۔ ل می۔

ا۔ ل جان۔ آہنی۔ بگناہ۔ نادانق۔

اجمان بننا۔ [ع۔ صف] جلتے بوجھے اجمان بننا۔ جلتے ہیسے پر ظاہر کرنا۔

کہ مجھے علم نہیں۔

ا۔ ل جل (تیاگنا) کھچوڑنا۔ کھانا پینا چھوڑنا۔

ا۔ ل جوکھا۔ بنا جوکھا ہوا۔ بنا نولا ہوا۔

ا۔ ل چپت۔ [ع۔ صف] اچانک۔ بیکایک۔ خلاف توقع۔

ا۔ ل داتا۔ روٹی دینے والا۔ آقا۔ مالک۔

ا۔ ل دیکھا۔ (۱) بن دیکھا۔ نادیدہ (۲) مخفی۔ غائب۔

ا۔ ل سمجھ۔ نا سمجھ۔ بے وقوف۔

ا۔ ل سنی۔ (۱) نہ سنی ہوئی (۲) عجیب۔

ا۔ ل سنی کرنا۔ جان بوجھ کر سنی ہوئی بات کو بے سنی کرنا یا ماننا۔

ا۔ ل کاکیرا۔ غلہ کھانے والا۔ انسان۔

ا۔ ل کی۔ جو بات کہنے کے قابل نہ ہو۔ برا بھلا۔

ا۔ ل گنا۔ (۱) بغیر شمار کیا ہوا (۲) شمار سے باہر۔ عمل کا آٹھواں ہمینہ۔

ا۔ ل گنا برس۔ عمر کا آٹھواں سال جس میں عورتیں اولاد کے لیے خطرہ محسوس

کرتی ہیں۔

ا۔ ل گنا ہمینہ۔ عمل کا آٹھواں ہمینہ۔

ا۔ ل گنتمت۔ [ع۔ صف] جو شمار میں نہ آسکے۔ بے شمار۔ لا تعداد۔

ا۔ ل گھڑ۔ (۱) بن گھڑا۔ بے ڈول۔ ناموزوں۔ ناتراشیدہ۔ بے ڈھنگا۔

خولی کیرا جو صرف خورد میں سے دکھائی دیتا ہے۔ سائنس دانوں کے

بقول زندگی کی ابتدا اسی جانور سے ہوئی۔

ایٹھٹنا (ایٹھٹنا) [ع۔ مص] امرتانا۔ بل دینا۔ ایٹھٹنا۔

ایٹھٹن۔ (Imitation) (ای۔ می۔ ٹے۔ سن) [انگ۔ ا۔ مذ] مصوری کا

ملع۔

ای۔ می۔ جی۔ (ای۔ می۔ جی۔ جی) [ع۔ مش] اطمینان کی حالت۔ بے فکری کا زمانہ۔

خیریت۔ امرتانا۔

ای۔ می۔ (ای۔ می۔ مید) [ف۔ ا۔ مش] (۱) آرزو۔ توقع۔ آس (۲) حل۔

ای۔ می۔ اٹھ جانا۔ [ع۔ صف] توقع نہ رہنا۔

ای۔ می۔ بر آنا۔ [ع۔ صف] آرزو پوری ہونا۔

ای۔ می۔ بر لانا۔ [ع۔ صف] آرزو پوری کرنا۔ مقصد حاصل ہونا۔

ای۔ می۔ بندھانا۔ [ع۔ صف] ڈھانس دینا۔ توقع دلانا۔ تسلی دینا۔

ای۔ می۔ بندھنا۔ [ع۔ صف] توقع ہونا۔ آس ہونا۔ آسرا ہونا۔

ای۔ می۔ بڑنا۔ [ع۔ صف] آسرا بندھنا۔

ای۔ می۔ (توڑ دینا) توڑنا۔ [ع۔ صف] مایوس کر دینا۔ ٹراس کرنا۔ توقع نہ رہنا۔

ای۔ می۔ (ٹوٹ جانا) ٹوٹنا۔ [ع۔ صف] آس چھوٹ جانا۔ نا امید ہو جانا۔

مایوس ہو جانا۔

ای۔ می۔ دلانا۔ [ع۔ صف] سہارا دینا۔

ای۔ می۔ رکھنا [ع۔ صف] توقع رکھنا۔ آس رکھنا۔

ای۔ می۔ سے ہونا۔ [ع۔ صف] عورت کا حاملہ ہونا۔ میٹھ سے ہونا۔

ای۔ می۔ قطع کرنا۔ [ع۔ صف] آسرا چھوڑ دینا۔ توقع توڑ دینا۔

ای۔ می۔ کرنا۔ [ع۔ صف] آرزو کرنا۔ توقع رکھنا۔

ای۔ می۔ گاہ۔ امید کی جگہ۔ جس پر امید کا دار و مدار ہو۔

ای۔ می۔ لگتے رکھنا۔ [ع۔ صف] کسی پر بھروسہ کرنا۔

ای۔ می۔ لگی ہے۔ سہارا پاتی ہے۔ آسرا لگا ہے۔

ای۔ می۔ دار۔ (۱) آرزو مند۔ خواہش رکھنے والا (۲) آئندہ کے بھروسے پر

کام کرنے والا۔ جمع : امیدواران۔

ای۔ می۔ ویم۔ مشتبہ حالت۔ امید اور ڈر۔ دو گدا۔

ای۔ می۔ وانا کد۔ آرزو مند۔ امیدوار کے طور پر۔

ای۔ می۔ وار کرنا۔ [ع۔ صف] کسی بات کا وعدہ کرنا۔

ای۔ می۔ واری۔ (۱) آرزو مند (۲) آئندہ ملازمت کا انتظار۔ آئندہ ملازمت

کی امید میں کام کرنا۔

ای۔ می۔ (ای۔ می۔ صف) (۱) امر کرنے والا۔ حکم دینے والا۔ سردار۔ حاکم (۲) مالدار

دولت مند (۳) آدمی کے مشہور شاعر شعی امر احمد علی کا تخلص۔ جمع : امرا

ای۔ می۔ لالہ۔ (۱) امیروں کا امیر۔ بہت بڑا رئیس۔ نہایت دولت مند (۲) مثل

حکومت میں ایک معزز خطاب۔

ای۔ می۔ لبحر۔ بھری ہوئی بڑے افسر اعلیٰ۔

ای۔ می۔ لمومین۔ مسلمانوں کا سردار۔ خلیفہ وقت۔ اسلام کا حاکم اعلیٰ۔

ای۔ می۔ زادہ۔ امیر کا لڑکا۔ امیر آدمی کی اولاد۔ رئیس زادہ۔

ای۔ می۔ کو جان پیاری بیٹیر کو ایک مہجاری۔ [مثیل] امیر کو مرنا اور فقیر کو جینا



انزوار - گھر میں آنے جانے کے لیے بڑے دروازے کے علاوہ دروازہ - کھڑکی - چور دروازہ -

انزویان - نیاس سے باہر فضائی اللہ - غائب غلہ -

انزمنتر - جادو - ٹونا - جھاڑ - بھونک -

انتر (انت - ر) (۱-۵-۱) [۱-۱] گڑھی سلسلہ (۲) گانے کا وہ ٹکڑا جو سخانی کے بعد ہو (۳) لکڑی پھینکنے کی اصطلاح میں ہڈا کی ضرب -

انترپی - (انت - ٹری) [۵-۱-۱] [انت -

انترپی میں روپ اور فقیہ میں چھپ [ایشیل] غذا سے رنگ روپ نکلنا سب سے اور پوشاک سے بدن کی زیبائش نکلتی ہے -

انترپاں جلنا - (مماورہ) ہمت ٹھوکا رہنا -

انترپوں کے بل کھولنا - (مماورہ) بہت دن بعد کھانا ملنے پر غروب

پیٹ بھر رکھنا -

انترپوں میں بل بڑانا - (مماورہ) (۱) پیٹ میں درد ہونا (۲) ماٹھے سنہی کے

پیٹ ڈھکنے لگتا -

انتراع - (ان - رت - راع) [۱-۱] اکھاڑنا - اکھڑنا نکال لینا - معزول -

انترساب (ان - ت - ساب) [۱-۱] [۱] منسوب کرنا - نسبت دینا (۲)

لگاؤ - تعلق - واسطہ - رشتہ -

انترشار - (ان - ت - شار) [۱-۱] [۱] پراگندگی - ترتر ہونا - گھبرائٹ

پریشانی - تردد - ٹکر (۲) شہوت -

انترصاف - (ان - ت - صاف) [۱-۱] [۱] انصاف پانا (۲) نصف ہونا

انترظار - (ان - ت - ظار) [۱-۱] [۱] راہ دیکھنا (۲) آسرا - امید -

انتظار کرنا - (۱) راہ دیکھنا (۲) آسرا رکھنا -

انترظام - (ان - ت - ظام) [۱-۱] [۱] انتظام - تدبیر - بندوبست (۲)

ترتیب - آرائش [۳] قاعدہ - ضابطہ - جمع : انتظامات

انترظامیہ - (ان - ت - ظام - م - ی) [۱-۱] [۱] حکومت کا ایک شعبہ مجلس

قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین کو ناک میں نافذ کرتا اور ان پر

عمل کرنا ہے

انترفاع - (ان - ت - فار) [۱-۱] [۱] فائدہ اٹھانا - نفع پانا (۲) منافع

فائدہ - آمدنی - حاصل -

انترقاد - (ان - ت - قاد) [۱-۱] [۱] نقد لینا (۲) رکھنا - نقد کرنا - بیعہ

کرنا - نکتہ چینی کرنا -

انترفاضل - (ان - ت - فاضل) [۱-۱] [۱] نوٹ دینا - شکست -

انتفاض شرط - شرط توڑ دینا -

انتفاض معاہدہ - معاہدہ توڑ دینا -

انترقال - (ان - ت - قال) [۱-۱] [۱] مقام تبدیل کرنا - ایک جگہ سے

دوسری جگہ بدلنا - بدلی (۲) موت - وفات - جمع : انقالات -

انترقال اراضی - زمین دوسرے کے نام منتقل کرنا -

انترقال ہی - وہ بھی جس میں انتقال جائداد کا حساب کتاب رہتا ہے -

انترقال جائداد - جائداد کا ایک شخص کے قبضہ سے دوسرے شخص کے

قبضے میں جانا -

اناسی - (ا - نا - سی) [۵-۱] [صفت] ستور نو - اٹھارے کے بعد کا عدد -

انآ لیلہ وانآ الیہ راجعون [۱] [صفت] ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف

رجوع کرنے والے ہیں - یہ آیت مصیبت یا کسی کے مرنے کی خبر سن کر

پڑھتے ہیں - مراد سب کو ادھر ہی جانا ہے - سب کو مرنا ہے -

انام (ا - نام) [۱-۱] [صفت] پیدا کی ہوئی چیزیں مخلوق - دنیا - موجودات -

انامل (ا - نا - مل) [۱-۱] [صفت] اقلہ کے جمع - آنکھیاں - آنکھوں کے سرے -

انایست (ا - نا - فی - یست) [۱-۱] [صفت] خودی - پندار - نور - گھنٹہ - خود بینی -

خود شنائی - غیر ذمہ داری - مطلق العنانی -

انآ وفسر (Announcer) (انآ و ن - سر) [انگ - ۱-۱] [صفت] مناوی یا

اعلان کرنے والا -

انبار (ا - م - بار) [صفت] ڈھیر - ذخیرہ - تودہ -

انباری (ا - م - بار - ی) [۱-۱] [صفت] عاری - ہودہ - باغی کی کاٹھی -

انبار (ا - م - بار) [صفت] شریک - ساتھی - ہم سفر [صفت] سوت - سوکن -

انبان (ا - م - بان) [صفت] (۱) پکا چمچہ - دباغت کی ہوئی کھال (۲)

فیروز کی نہیں - خرچین -

انبساط (ا - م - ب - ساط) [صفت] (۱) خوشی - کھلنا - پھیلنا - شادمانی -

انبعاث (ا - م - ب - عاث) [صفت] (۱) اٹھنا - کھڑا ہونا - برائگی - ہونا -

آنپوہ (ا - م - بوہ) [صفت] (۱) مجمع - بھید - ازدحام - جوم - کثرت - زیادتی

ہمتا -

انبہ (ا - م - ب) [صفت] (۱) آم - ایک مشہور میوے کا نام -

انبیا (ا - م - ب - یا) [صفت] (۱) مذہب نبی کی جمع - رسول - پیغمبر -

انبیا (ا - م - ب - یا) [۱-۱] [صفت] (۱) کبری - بچا آم جس میں جالی نہ پڑی ہو (۲)

چھوٹا آم -

انبیق (ا - م - ب - یق) [صفت] (۱) جبکہ - وہ برتن جس میں نالی رکھ کر عرق کشید کرنے پر

اُبڑنا - (ا - ن - بڑنا) [صفت] (۱) پوچھنا (۲) پانا -

انت [صفت] (س - ن - نڈ) اخیر - خاتمہ - انجام -

انت بڑے کا بڑا - انت بھلے کا بھلا - [مثل] بڑے کا انجام بڑا اور اچھے

کا انجام اچھا ہوتا ہے -

انت بگڑنا - انجام خراب ہونا -

انت بھلا سو بھلا - [مثل] جس کا انجام اچھا ہو وہی کام اچھا ہے -

انت سے کال - آخری وقت - مرنے وقت -

انآ لیس (ا - ن - نا لیس) [صفت] (۱) لیس اور نو - اڑتیس کے بعد کا عدد -

انتباہ (ا - ن - ت - باہ) [صفت] (۱) آگاہی - خبردار ہونا - خبردار کرنا - جمع :

انتباہات -

انتخاب (ا - ن - ت - خاب) [صفت] (۱) چناؤ - پسند کرنا - چھانڈنا - جمع : انتخابات

انتر (ا - ن - تر) [صفت] (۱) فاصلہ - دوری - فرق (۲) دو چیزوں کے بیچ

کا جگہ (۳) دل - خاطر - (۴) بھید - لڑ -

انتر بھومی - زمین کا بالکل اندر فی حصہ - پاناٹل -

انتر (مید) میدی - دوریوں کے درمیان کی زمین - دو آب -

انترجامی (۱) ہر چیز کا اندر - روح اعلیٰ (۲) ہر ماہی بھومی - دانے لارہ واقعہ حال

انتقال ذہنی - ایک بات سے دوسری بات کی طرف ذہن کا جانا۔  
 انتقال زمین - زمین کی تبدیلی۔ زمین در زمین۔ گرو در گرو۔  
 انتقال کرنا - مرنا۔ فرستنا ہونا۔  
 انتقام - (ان - بت - تام) [ع-ا- مذ] بدلہ عوض۔ پاداش۔ جمع: انتقامات  
 انتقاما - (ان - بت - تا - ساند) [ع-صفت] بدلہ لینے کے طور پر۔  
 انتقامی (ان - بت - تامی) [ع-صفت] انتقام سے منسوب۔ انتقام سے متعلق۔  
 انتہا - (ان - بت - ہا) [ع-ا- مش] - اخیر۔ حد۔ سر۔ انجام۔ خاتمہ۔  
 انتہا پسند کسی کام یا چیز کی انتہا چاہنے والا۔ اعتدال پسند کی ضد۔  
 انتہا پسندی - انتہا پسند کرنا۔  
 انتہا کا - پرے درے کا۔  
 انتہائی - (ان - بت - یا - ای) [ع-صفت] آخری۔  
 انتہائی نقطے - وہ نقطے جو جبر و مقابلہ کے علم میں خطوط کے ختم کرنے والے ہوں۔  
 انتہی - (ان - تی) [ع-ا- مش] کان میں پھینے کا عورتوں کا ایک زیور۔  
 انتہیس - (ان - تی - س) [ع-صفت] بیس اور نو۔ اٹھائیس کے بعد کا عدد۔  
 آٹھا - (ان - ٹا) [ع-ا- مذ] (۱) ایون کی بڑی گولی (۲) سوت یا ریشم کا لچھا (۳)  
 بڑی کوڑی (۴) بلیڈر ڈ (۵) اڈپر کا کوٹھا۔  
 انشاجت - (۱) پیچھے کے بل (۲) نشے میں جور۔ بدست۔  
 انشاجت ہونا (معاورہ) پیچھے کے بل پڑنا (۲) نشہ میں سدھ نہ رہنا۔  
 انشاعفیل - بے ہوش۔ بے سدھ دست۔  
 انشاعفیل ہونا۔ نہایت مدہوش ہونا۔  
 انشاکھر (۱) وہ گھر جس میں گولی یا جوئے کا کھیل کھیلا جائے۔ بیلر دیکھنے کی جگہ  
 انٹر (Inter) (ان - ٹر) [انگ - صفت] درمیانی۔  
 انٹرسٹ (Interest) [انگ - مذ] دلچسپی (۲) فائدہ۔ سود  
 انٹرمیڈیٹ (Intermediate) درمیانی درجہ۔ وسطی درجہ  
 ایفٹ - اے۔  
 انٹرنس (Entrance) [انگ - مذ] ابتدا۔ شروع۔ دروازہ۔  
 انتہائی داخلہ۔ وہ امتحان جسے پاس کرنے کے بعد طالب علم کالج میں داخلہ لے سکتا ہے۔  
 انٹرنیشنل (International) بین الاقوامی۔  
 انٹرنیشنل لا (International Law) بین الاقوامی قانون  
 انٹروڈیوس (Introduce) (انٹ - رو - ڈیوس) [انگ - ا - مذ]  
 تعارف۔ ملاقات۔  
 انٹرویو (Interview) (ان - ٹر - ویو) [انگ - ا - مذ] (۱) باضابطہ  
 ملاقات (۲) اخبار کے نمائندے کا کسی سے مل کر سوال جواب کرنا  
 (۳) اخبار۔ ریڈیو۔ ٹیلیویشن یا کسی انتخابی ادارے کے ارکان کا سوال  
 کے ذریعے کسی کے نظریات و خیالات معلوم کرنا۔  
 انٹ کاسٹنٹ - (انٹ - کاسٹنٹ) [ع-صفت] اوٹ پٹانگ۔ بے ہودہ  
 انٹی - (ان - ٹی) [ع-ا- مش] (۱) دو انگلیوں کے بیچ کی جگہ۔ گھٹائی (۲)  
 کانٹھ۔ گرہ (۳) دھوئی کا وہ حصہ جو کر کے گرد باندھتے ہیں (۴) سوت  
 یا ریشم کی لچھی۔  
 انٹی (باز) مار (۱) جواریوں کی اصطلاح میں وہ شخص جو انگلیوں کی درمیانی جگہ

میں کوئی چیز چھپا لے (۲) چالاک۔ فریبی۔ دغا باز۔  
 انٹی پرچڑھ جانا۔ نا پور میں آجانا۔ دھوکہ میں آجانا۔ دام میں آنا۔  
 انٹی دینا۔ کر دینی دینا۔ کر دینا ٹاپنا۔  
 انٹی رکھنا۔ (۱) چھپا رکھنا۔ دبا رکھنا۔ ظاہر نہ ہونے دینا۔ ایک ہاتھ کی  
 دو انگلیاں ایک دوسرے پر چڑھانا۔  
 انٹی کرنا۔ (۱) سوت لپیٹ کر انٹی بنانا (۲) کسی کا مال اٹالینا۔  
 انٹی مارنا۔ جو اکیلے وقت کوڑی کو انگلیوں کے بیچ میں چھپا لینا (۲)  
 آنکھ بچا کر دوسرے کی چیز غائب کر دینا۔ دھوکہ دے کر چیز اٹالینا  
 (۳) کم تو نا ڈنڈی مارنا۔  
 اٹلیا - (ان - ٹی - یا) [ع-ا- مش] گھاس یا پتی لکڑیوں کا بندھا ہوا ٹھکانا  
 چھوٹا گھٹا۔ ٹولہ۔  
 اٹلیانا - (ان - ٹی - یا - نا) [ع-مص] (۱) انگلیوں کے بیچ میں چھپانا۔ سفیلی  
 میں چھپانا (۲) چاروں انگلیوں میں لپیٹ کر ڈورے کی بندھی بنانا (۳)  
 گھاس یا پتی لکڑیوں کا مٹھا بنا دھنا (۴) غائب کرنا۔ بھگم کرنا۔  
 انٹی (انٹا) [ع-ا- مش] عورت۔ زن۔ جمع: انات  
 انٹین - (ان - ٹنٹ - بی) [ع-ا- مذ] ہر دو۔ دونوں جیسے۔  
 انجارج - (ان - جارج) [ع-ا- مذ] حاجت روا ہونا یا کرنا۔ مطلب پورا ہونا۔  
 انجام - (ان - جام) [ع-ا- مذ] نتیجہ۔ حاتمہ۔ آخر۔ انتہا۔  
 انجام بخیر ہونا۔ (۱) نتیجہ اچھا نکلنا۔ مال کار اچھا ہونا۔ خاتمہ اچھا ہونا (۲)  
 زمان کے ساتھ کرنا۔  
 انجام بمانا۔ تکمیل کو پہنچنا۔ پورا ہونا۔  
 انجام پر پہنچنا۔ ختم کے قریب پہنچنا۔  
 انجام دینا۔ بجا لانا۔ پورا کر دینا۔ مکمل کرنا۔  
 انجام سوچنا۔ دورانہ بندی کرنا۔ عاقبت بندی کرنا۔ نتیجے پر نظر کرنا۔ اخیر کا خیال رکھنا۔  
 انجام کار۔ آخر کار۔ آخر کو۔ الغرض نتیجہ۔  
 انجام کو پہنچانا۔ پورا کرنا۔ ختم کرنا۔  
 انجام کو پہنچنا۔ مکمل ہونا۔ مکمل ہو جانا۔  
 انجام (ہو جانا) ہونا۔ ختم ہو جانا۔ پورا ہونا۔ تمام ہونا۔ مرنا۔  
 انجذب - (ان - جب) [ع-صفت] (۱) بڑا شریعہ (۲) لوندی بچہ۔  
 انجذاب (ان - جب - ذاب) [ع-ا- مذ] جذب کرنا یا ہونا۔  
 انجربچر (ان - جبر - بچر) [ع-ا- مذ] بدن کے جوڑے ہڈی سیلی۔  
 انجربچر ڈھیلے ہو جانا (معاورہ) اعضا کا ٹھک جانا۔ مصلح ہو جانا۔  
 انجبل - (ان - جبل) [ع-ا- مذ] دعا کی طرح طے ہوئے ہاتھ۔ لپٹ۔  
 انجلی - (ان - جلی) [ع-ا- مذ] (۱) دکھ۔ چپو (۲) پس بھر (۳) اناج کی ڈھیری میں  
 خیرات کے لیے نکالا ہوا اناج۔  
 انجلی نکالنا۔ (معاورہ) کسان غلہ تیار کرنے کے بعد فقروں اور مالی کوکچہ  
 بھر کر جو اناج دیتے ہیں اسے انجلی نکالنا کہتے ہیں۔  
 انجم - (ان - جم) [ع-ا- مذ] ختم کی جمع۔ ستارے۔  
 انجم شناس۔ نجومی۔ ستاروں کے حساب سے پیشین گوئی کرنے والا۔ نجوم۔  
 انجاد - (ان - جاد) [ع-ا- مذ] جمن بھوس ہونا۔



انجن (ان-ج-من) [ف-ا-مٹ] (۱) مجلس محفل - سبھا (۲) کمیٹی  
 انجن - (ان-جن) [ہ-ا-مٹ] سمرمہ - کاجل -  
 انجن سار - سمرمیں -  
 انجن لگانا - سمرمہ لگانا -  
 انجن (Engine) (ان-جن) [انگ-ا-مٹ] مشین - بھاپ کی ٹکی - آلہ  
 انجن ڈرائیور (Engine Driver) انجن چلائے والا -  
 انجن ہاری - (ان-جن-ہ-ری) [س-۱-مٹ] آنکھ کی ٹیک کے کنا سے  
 کی پھنسی - پلنی - گنا - گنا - (۲) ایک قسم کی ٹکی جسے کھاری یا  
 پلنی بھی کہتے ہیں -  
 انجیر - (ان-جیر) [ف-ا-مٹ] ایک مشہور میٹھا اور اس کا پھل جو گولر کے برابر  
 اور کھانے میں میٹھا ہوتا ہے -  
 انجیل - (ان-جیل) [ع-ا-مٹ] (۱) قرآءہ خوش خبری (۲) عیسائیوں کی مقدس  
 کتاب جمع : اناجیل -  
 انجینیر (Engineer) (ان-جی-نی-ٹر) [انگ-ا-مٹ] تعمیرات یا  
 مشینوں کا کام جاننے والا -  
 انچ (Inch) [انگ-ا-مٹ] فٹ کا بارہواں حصہ -  
 انچارج (Incharge) (ان-چارچ) [انگ-ا-مٹ] وہ شخص  
 جس کے انتہام میں کوئی چیز یا انتظام ہو (۲) قائم مقام -  
 انچاس - (ان-چاس) [ہ-صفت] چالیس اور نو - اٹالیس کے بعد کا عدد -  
 انچاقر (ان-چا-دو) (نون غنہ اور اوٹو جموں) [ہ-۱-مٹ] بلندی - انچائی -  
 انچائی - (ان-چائی) [ہ-۱-مٹ] بلندی -  
 انچیت (ان-چیت) [ق-صفت] (۱) بے کار (۲) اچانک (۳) بیکاپ - بیکاری -  
 انچھ (ان-چھ) [ہ-۱-مٹ] (۱) جادو کے بول منتر (۲) حرف (۳) بچھو (ق)  
 بچھ پڑھ کے مارنا - جادو کرنا - منتر پڑھ کر بچھ کرنا -  
 انخرف (ان-ح-راف) [ع-ا-مٹ] (۱) پھر جانا - برخلاف ہونا (۲) انکار -  
 مخالفت - نافرمانی -  
 انخرف معاہدہ - اقرار سے پھر جانا -  
 انحصار - (ان-ح-صار) [ع-ا-مٹ] منحصر ہونا گھرنے یا محصور ہونا - سامانہ -  
 موقوف ہونا -  
 انخطاط - (ان-ح-طاط) [ع-ا-مٹ] کم ہونا گھٹنا (۲) کمی گھٹاؤ - منتر -  
 انخال - (ان-ح-لال) [ع-ا-مٹ] کسی مرتبہ شے کے عناصر ترکیبی کا  
 الگ الگ ہونا -  
 انخال - (ان-ح-لا) [ع-ا-مٹ] (۱) گنا ہوا ہونا (۲) خالی کرنا -  
 اندا - (ان-داعدا) [مٹ-ا-مٹ] ہمت بڑا اور گرا کنڈاں -  
 انداز - (ان-داز) [ف-ا-مٹ] (۱) خیال (۲) طریقہ - وضع - طور طریق (۳)  
 معشوقانہ نگار (۴) اعتدالی - مقدار معین (۵) نمونہ پیمانہ -  
 انداز اڑانا - (معاورہ) کسی کا ڈھنگ سجدہ لینا کسی کی وضع اڑانا - کسی کے  
 طریقے پر چلنا سیکھنا - حاصل کرنا -  
 انداز بیٹی - اپنی خوب صورتی اور جمال ڈھال پر اترانے والی عورت کو  
 کہتے ہیں

انداز خسروانہ - (ف-مٹ) شہنشاہوں کے طریق -  
 انداز سے باہر ہونا - (معاورہ) حد سے بڑھ جانا حیثیت سے نکل جانا -  
 انداز ملنا - (معاورہ) اٹکل ہو جانا - تخمینہ ہو جانا (۲) طرز ملنا -  
 انداز نکلنا - (معاورہ) شان یا بائی جانا - ڈھنگ نکلنا -  
 اندازہ - (ان-دازہ) [ف-ا-مٹ] (۱) اٹکل - تخمینہ (۲) نمونہ (۳) پیمانہ  
 (۴) حد اعتدالی - پیمانہ (۵) مقدور -  
 اندازہ پانا - (معاورہ) اٹکل ملنا - تخمینہ ہونا -  
 اندازہ کرنا - (معاورہ) تخمینہ کرنا - امتحان کرنا - جانچنا -  
 اندام - (ان-وام) [ف-ا-مٹ] جسم - بدن - رنگ -  
 اندام نہانی - شرم گاہ - فرج - ستر -  
 اندر - (ان-در) [ف-ا-مٹ] دریا - اندرون - بھیتے - باہر کی ضد -  
 اندر کی سانس اندر باہر کی سانس باہر - (مثل) آدھشت یا آدھے سے  
 شرح زدامت یا انتہائی حیرت سے سانس رک جانا -  
 اندر وار - اندر کی طرف - اندر کے رخ -  
 اندر والا - (ان-در-والا) [ول-جی-من] (۲) بچہ جو رحم مادر میں ہو -  
 اندر - (ان-در) [ہ-۱-مٹ] (۱) چترنی - چالانی (۲) دیوتاؤں کا راجہ (۳) ہشت  
 کاراجہ (۴) میندر برسانے والا دیوتا (۵) رعد - گرج - سبلی -  
 اندر جال - فریب - دھوکا طلسم - مشعدہ - چیل -  
 اندر جو - ایک درخت کا پھل جو جو کے شہم شکل ہوتا ہے -  
 اندر کا اکھٹا - راجہ اندر کی محفل -  
 اندر لچ - (ان-در-ساج) [ع-ا-مٹ] درج ہونا - لکھا جانا - داخل ہونا -  
 جمع : اندراجات -  
 اندرائن - (ان-و-رائن) [ف-ا-مٹ] حنظل - پھر پھیندنا اور خولنے کی  
 شکل کا ایک پھل جو پھینے میں خوب صورت اور رز سے بہت تلخ ہوتا ہے -  
 اندرائن پھل دیکھنے کا سب سے چکنے کا نہیں ہے - (مثل) ظاہر اچھا ہے باطن  
 خراب صحبت کے لائق نہیں صورت اچھی ہے سیرت خراب ہے -  
 اندرائن کا پھل (۱) ایک کڑوا پھل - (۲) بد مزاج - تند مزاج (۳) لڑائی  
 کرنے والا - دشمنی ڈالنے والا - دلوں میں کدورت پیدا کرنے والا -  
 اندر سا - (ان-در-سا) [ہ-۱-مٹ] ایک مٹھانی جو چلوں کے آٹے کو شکر میں  
 ملا کر اور گھی میں تل کر بناتے ہیں -  
 اندرون - (ان-درون) [ف-ا-مٹ] (۱) اندر - بیچ - درمیان (۲) دل - باطن -  
 اندرون خانہ - گھر میں - باہم - آپس میں -  
 اندرونی - (ان-درونی) [ف-صفت] اندر کی - داخلی -  
 اندری - (ان-دری) [ہ-۱-مٹ] احساس - ادراک کا آلہ جو اس قسم (۳) عضو  
 تناسل - اندام نہانی (۴) خواہش نفسانی -  
 اندفاع - (ان-دو-فاح) [ع-ا-مٹ] دفع کرنا - دور ہونا -  
 اندک - (ان-دک) [ف-صفت] کم - ذرا - ٹھوٹا -  
 اندکار - (ان-دکار) [ف-صفت] اندھیرا -  
 اندمال - (ان-د-مال) [ع-ا-مٹ] (۱) زخم بھرنا (۲) تسلی - اطمینان -  
 اندوختہ - (ان-دو-ختہ) [ف-صفت] جمع کیا ہوا - بچا ہوا - پس انداز -

عقل پر پرہ ڈال دینا۔

اندھا کنواں (۱) وہ کنواں جس میں پانی نہ ہو (۲) لڑکوں کا ایک کھیل۔  
اندھا کیا جائے (سنت) لالے کے سہارے [مثل] جس میں تیز کا مادہ  
ہی نہ ہو۔ وہ کسی چیز کی قدر کیا جائے۔  
اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ [مثل] ضرورت مند ہمیشہ اپنی حاجت مانی  
چاہتا ہے۔

اندھا گائے بہرا بجائے [مثل] ناقابل لوگوں کی مجلس۔ نالائقوں کا مجمع  
بے وقوفوں کی سوسائٹی۔  
اندھا گھوڑا۔ سادھو فقیر کو مونسے کو کہتے ہیں۔

اندھا گیا سگائی کو آپ کو کہ بھائی کو۔ [مثل] خود غرض کو اپنا کام  
جی مقدم ہوتا ہے۔ دوسرے کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا۔  
اندھا کلا ٹوٹی مسیحا [مثل] ناقص کو ناقص ہی چیز ملتی ہے۔

اندھا ہونا۔ (مجاورہ) (۱) ناہیا ہونا۔ (۲) گمراہ ہونا (۳) نشہ یا خوش حالی میں بہت  
ہونا (۴) مغرور ہونا (۵) دیکھ کر نہ چلنا سبے دیکھے بھالے کام کرنا۔  
اندھوں میں کاٹا راجا۔ [مثل] بے وقوفوں میں ذرا عقل رکھنے والا ہی  
لائق سمجھا جاتا ہے۔

اندھے حافظ کالے راجا۔ [مثل] مذاق سے اندھے مسلمان کو حافظ ادا  
کالے کو راجا کہتے ہیں۔

اندھے کو اندھا راستہ کیوں کرتا ہے۔ [مثل] جو خود گمراہ ہو۔ وہ  
ادوں کی کیا رہبری کر سکتا ہے۔  
اندھے کو رات دن برابر ہے۔ [مثل] ناختم اور جاہل اچھے بھے  
میں تیز نہیں کر سکتا۔

اندھے کی جورو کا اندھی۔ [مثل] اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی  
شخص اپنی چیز کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکتا۔

اندھے کی داد نہ فریاد اندھا مار بیٹھے گا۔ [مثل] معذور کا کوئی جرم  
قابل سزا و ملامت نہیں مجبور شخص کی عقلی جرم نہیں ہے (۲) بچوں  
کا ایک کھیل ہے۔

اندھے کی (کڑھی) لاٹھی۔ (۱) سہارا۔ آسرا (۲) وہ لڑکا جو کوئی لڑکوں میں  
بچا ہوا۔ کلاٹو لڑکا۔ بڑھاپے کا سہارا۔

اندھے کے آگے روئیے اپنے بھی نہیں کھدیتے۔ [مثل] نااہل کو  
فیصحت کرنا مفت کی درد سہی ہے۔

اندھے کے ہاتھ بٹیر لگتا۔ [مثل] کسی شخص کو اس کی حیثیت یا ایالت  
سے بڑھ کر کوئی جرم مل جاتا۔

اندھے گھوڑے پر سوار کرے۔ (تھیرن کا کلمہ) جوتا پناہ سے  
اندھا را۔ [ق۔ ۱۔ ند] اندھیرا۔

اندھا ری۔ [ق۔ ۱۔ ند] پچھ کرٹ۔ پلنگ کا پردہ۔  
اندھا بانی۔ (اندھ۔ با۔ ای) [س صفت] نیز جو اس میں گرد کی وجہ سے کچھ دکھائی  
نہ دے۔ آندھی۔ طوفان۔ طوفان باد۔

اندھ کار۔ (اندھ۔ کار) [۱۰۔ ۱۰۔ ند] آندھی کا طوفان۔ طوفان گرد و بار۔  
اندھ کاری۔ (اندھ۔ کا۔ ری) [س۔ ۱۔ مٹ] ایک لاکھی۔ بیروں راگ کی

انور۔ (آن۔ روز) [ف] جمع کرنے والا۔ مرکبات کے آخر میں لاسنے کے  
طور پر آتا ہے جسے لطف اندوز۔

اندوہ۔ (آن۔ دوہ) [ف۔ ۱۔ ند] رنج۔ غم (۲) فکر۔ تردد۔  
اندوہ ربا۔ [ف صفت] غم مٹانے والا۔ دکھ دور کرنے والا۔

اندوہ گیس۔ رنجیدہ۔ مغموم۔  
اندوہ ناک۔ رنج سے بھرا ہوا ٹیناک۔

اندھا۔ (آن۔ دھا) [ہ۔ صفت] (۱) بغیر آنکھ کا جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو  
جسے کچھ نہ دکھائی دیتا ہو۔ کور۔ نابینا (۲) دیکھ کر کام نہ کرنے والا۔

اندھا دھند چلنے والا (۳) غیر شفاف۔ دھندلا (۴) نادانق۔  
بے وقوف۔

اندھا آبلتہ۔ وہ بیشہ جس میں شکل صاف نہ دکھائی دے۔ دھندلا شیشہ۔  
بے خبر جاہل۔

اندھا اندھا چلنا۔ (مجاورہ) کچھ بھی کسی روشنی دینا۔ مدغم روشنی دینا۔  
اندھا ہانٹے ریوڑیاں ہر پھیر کے اپنی ہی کوشے [مثل] اپنے ذمہ داروں  
کو ہر طرح زیادہ فائدہ پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔

اندھا بنگلا۔ گھراہٹ میں بدسلوکی سے کام کرنے والا۔  
اندھا بنانا۔ آنکھیں ڈھول ڈالنا بیوقوف بنانا۔ دھوکہ دینا۔

اندھا بننا۔ جان بوجھ کر کسی بات بردھان نہ دینا۔ دانستہ دھوکا کھانا۔  
اندھا بھینسا۔ (۱) لڑکوں کا ایک کھیل جس میں ایک لڑکے کی آنکھیں بند  
کر کے دوسرا لڑکا کر پسوار ہوجاتا ہے۔ باقی لڑکے باری باری اس کے  
پینچے ہو کر نکلنے ہیں۔ سوار لڑکا پیچھے والے سے نکلنے والے لڑکے کا نام

دریافت کرنا جانا ہے۔ اگر صحیح نام بتا دیتا ہے تو پوچھنے والا بھینسا  
بتاتا ہے اور نام بتانے والا اس پر سوار ہوتا ہے (۲) بدراہ اور اجداد کی۔

اندھا بے ایمان۔ (مفولہ) نظر نہ آنے کے باعث ڈر رہنا ہے کہ لوگ  
اسے دھوکا دیں گے۔ اس لیے اس کا ایمان درست نہیں رہتا۔

اندھا پن۔ (۱) ضعیف بصارت۔ نظر نہ آنا۔ بے بصری۔ (۲) جہالت  
ناواقفیت۔ بیوقوفی۔ اجہتی پن۔

اندھا تپ تپانے جب دو آنکھیں پائے۔ اندھا دیکھے تو ٹپیلے۔  
[مثل] کام ہو جائے تو جا نہیں۔ غرض مند کو اس وقت اطمینان ہو  
جب اس کی غرض پوری ہو جائے۔

اندھا جانے آنکھوں کی سار۔ [مثل] آنکھوں کی قدر اندھا ہی جان سکتا ہے  
اندھا دار بار۔ برابر راج جس میں ظلم و ستم بہت ہوتے ہیں۔

اندھا دھند۔ (۱) بڑا اندھیرا (۲) اندھیر ظلم گرد بڑے (۳) بے سوچے سمجھے  
بے احتیاطی سے (۴) بے ٹھکانے سے بے حساب۔

اندھا دھند لٹانا۔ (مجاورہ) بے دریغ خرچ کرنا۔  
اندھا دھند چننا۔ (مجاورہ) ظلم کا دور دورہ ہونا۔ بے انصافی ہونا۔

اندھا دیدہ۔ چراغ جو کم اور ادا ہنسنے جلتا ہو۔ دھندلی روشنی دینے والا چراغ۔  
اندھا راجہ جو پینٹ نکری۔ [مثل] ظالم اور بے وقوف بادشاہ کی بابت  
کہتے ہیں جو ملک میں انتظام نہ کر سکے۔

اندھا کرنا۔ (مجاورہ) نابینا کر دینا (۲) جوش اور شوق سے بدحواس کرنا۔

پانچ رتوں میں ایک -

اندھ کوٹری (اندھ - گھوپ - ٹری) [ہ - صف] جس کے دماغ میں عقل نہ ہو - اچن - نا بچھ - بے ذوق -

اندھی - (آن - دھی) [ہ - صف] آنکھوں سے معذور عورت - تا بیٹا عورت - اندھی آنت - زائد آنت - ناقض آنت جو بڑی آنت کے اوپر لگی ہوتی ہے (Appendicitis) نیز بچھے الثباب زائدہ -

اندھی جیسے کتا کھائے - [ایشل] بد سلیقگی اور بوجھلپن کے موقع پر کتنے ہیں اندھی سرکار - ایسی حکومت جس کا انتظام برا ہو - ناقصات حاکم نظام بادشاہ - اندھیار - (اندھ - یار) [ہ - ا - ہ] اندھی تاریکی -

اندھیارا (اندھ - یار) [ہ - ا - ہ] اندھی (۲) دھندلا پن - دھند - اندھیاری - (اندھ - یاری) [ہ - ا - ہ] اندھی تاریکی - اندھیاری کوٹھڑی - (۱) اندھیار چھوٹا کمرہ (۲) سیٹ - کوکھ -

اندھیاری گئی کہ جو ر [ش] ہر وقت حفاظت اور احتیاط کرنی چاہئے - اندھییر - (ان - دھییر) [ہ - ا - ہ] (۱) دھندلے غصب - آنت (۲) بے انصافی بد نظمی (۳) دغا - فریب - بے ایمانی (۴) سیاہی - تاریکی -

اندھییر چھانا - اندھییر ہونا یا سیاہی پھیل جانا - بد نظمی کا دور دورہ ہونا - اندھییر ڈھانا - کمال ظلم کرنا - اندھییر کرنا - بے انصافی کرنا - ظلم کرنا -

اندھییر کھانا (۱) حساب کتاب اور کاروبار میں گڑبڑ (۲) سخت بد معاملگی ظلم اندھییر چھانا یا ظلم و ستم کرنا - آفت برپا کرنا (۲) لوٹ جانا (۳) بے انصافی کرنا - اندھییر ٹھوڑی جو پیٹ را جا ملے سیر بھاگی ٹکے سیر کھا جا [ش] انا انصاف حاکم بے پروا حکومت - بے قانون بادشاہت - جہاں حاکم کی بے پڑائی سے اندھا دھند لوٹ پھری ہو -

اندھییر ہونا - بے حد تاریکی ہونا (۲) ظلم ہونا - نا انصافی ہونا - اندھییرا - (آن - دھی - را) [ہ - ا - ہ] اندھا جانے کی ضد - تاریکی - سیاہی -

اندھییرا جھک آنا - تاریکی بڑھ جانا - اندھییرا چھانا - تاریکی ہو جانا -

اندھییرا کرنا - روشنی کو روکنا - چراغ گل کرنا - اندھییرا کھپ - نہایت تاریکی - ایسا اندھییرا جس میں کچھ نہ سوجھے -

اندھییری - (آن - دھی - ری) [ہ - ا - ہ] [امش] (۱) تاریکی سیاہی (۲) تاریکی سیاہ (۳) چورے یا کپڑے کا پردہ جو شہر گھوڑے کی آنکھوں پر باندھ دیتے ہیں -

اندھییری (جھکتا) چھانا - (محاورہ) تاریکی چھانا (۲) کالی کھٹا کے سبب اندھییرا ہو جانا -

اندھییری ڈینا (محاورہ) گھوڑے کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا (۲) کسی شخص کی آنکھوں کو ڈھک کر اس کی گت بنانا - مکمل اڑھانا (۳) دھوکا دینا - فریب دینا -

اندھییری ڈالنا - گھوڑے کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا - اندھییری رات - تاریکی رات - اندھییری کوٹھڑی - تاریکی کوٹھڑی - جسم کا اندرونی حصہ -

اندھییرے اجالے - اوپر سو پر - موقع بے موقع - وقت بے وقت - اندھییرے گھر کا اجالا چراغ - [مش] اکھٹا بیٹا - گھر کا چراغ (۲) نہایت پیارا جس سے گھر کی رونق اور آزادی ہو -

اندھییرے مٹنہ - بہت سویرے - ترکے ہی - علی الصبح - اندیش - (آن - دیش) [ف] سوچنے والا - فکر کرنے والا - مرکبات کے اخویں لاسختے کے طور پر آتا ہے جیسے دور اندیش -

اندیشیر - (آن - دے) [ف] [مذ] فکر - سوچ - تردید (۲) خوف - کھٹکا - اندیشیر کرنا - فکر کرنا - سوچنا - خیال کرنا (۲) ڈانا - خوف کرنا - اندیش ناک - اندیش ناک - پرخصل - خوف ناک -

انڈا - (آن - ڈا) [ہ - ا - ہ] [مذ] بیضہ - مادہ پرند یا جانور کے جسم سے نکلا ہوا اور سخت چھلکے سے ڈھکا ہوا سیال مادہ جس میں نئی زندگی کے جراثیم ہوتے ہیں -

انڈا اچھانا - (محاورہ) انڈا بیٹنے کی غرض سے کھنا - انڈا کھٹکنا - (محاورہ) انڈا اچھوٹا - انڈے کا توڑنا جو بچہ نکلنے کی علامت ہے - انڈا گندہ ہونا - انڈے کا خراب ہو جانا -

انڈا انجم پر نشت - آدھا نلا ہوا انڈا - انڈوں پر ہے - انڈے سستی ہے - انڈے دے رہی ہے - انڈے اڑانا - جھوٹ بولنا -

انڈے بول میں شپکے کچھو میں [ایشل] کوئی چیز کہیں اور کوئی کہیں ہونا - بد انتظامی - ناقابلیت - انڈے پٹے - لڑکے - بالے - آل اولاد -

انڈے سینا - انڈوں سے بچے نکالنے کے لیے پرندوں کا انڈوں پر بیٹھ کر انھیں گرمی پہنچانا -

انڈے سیوے ناخنہ اور کو سے بچے کھائیں [ایشل] محنت کوئی کرے خبے کوئی اڑائے -

انڈے سیوے کوئی بچے کیوے کوئی [ش] ایک محنت کرے دوسرا نڈا اٹکا انڈے کا ستارا - گھی میں تلا ہوا خالی انڈا -

انڈے کا شہزادہ - وہ شخص جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلا ہو - ناجرہ کار - نادائق - بھولا بھالا -

انڈے لڑانا - ایک قسم کا جوا - جو ایک قسم کے انڈوں کو لڑا کھلایا جاتا ہے - انڈے ہوں گے تو نیچے بہت ہو دیں گے [ش] جڑا تم رہے گی تو سر سبز ہو ہی جائے گی - درخت سلامت ہے تو پھولوں کی کیا کمی -

انڈر ہنڈ - (انڈ - ہنڈ) [ہ - صف] بے سرو پا - اوٹ پٹانگ - اناپ شتاب - انڈر (Under) (آن - ڈر) [انگ - تابع فعل] (۱) نیچے - سخت - زیر (صفحہ) (۱) ماتحت - (۲) نائب -

انڈر آرم (Under Arm) (کرکیٹ) گیند جو ہاتھ نیچا کر کے پھینکی جاتی ہے (۲) ٹینس) اسٹروک جو ہاتھ نیچا کر کے مارا جاتا ہے - انڈر سکرٹری (Under Secretary) نائب مسند - انڈر گراؤنڈ (Underground) (۱) زیر زمین - زمین دوز - (۲) دپوش - چھپا ہوا -

**انڈریویر** (Underwear) زیر جامہ، باجامہ وغیرہ کے نیچے پہننے کا کپڑا۔  
**انڈر لانا**۔ (انڈر لانا) [ہ مص] اٹھلانا۔ چمیل۔ سٹوخیاں کرنا۔  
**انڈل پڑنا**۔ (انڈل پڑنا) [ہ مص] گر پڑنا۔ منڈ جانا۔  
**انڈرنٹ** (Indent) [ان۔ ڈونٹ] [انگ۔ ا۔ مذ] سرکاری تحریریں  
 سامان رسد کا مطالبہ ہو۔  
**انڈوا**۔ (ان۔ ڈو۔ ۱۹) [ہ۔ ا۔ مذ] کنڈلی کپڑے یا بان کا حلقہ جسے سر پر  
 رکھ کر بوجھا کھاتے ہیں۔  
**انڈوائی**۔ (انڈوائی) [انڈ۔ وا۔ ای۔ انڈ۔ یا۔ ای] [ہ مص] [مُرضی یا ادو  
 کوئی مادہ پرند جو انڈے دینے والی ہو۔  
**انڈوائی** (انڈوائی) ہوتی ہے۔ انڈیا گئی ہے۔ انڈے دینے پر ہے۔  
**انڈورینیشنٹ** (Indoor Patient) [ان۔ ڈو۔ پے۔ نیشنٹ] [انگ۔ اینڈ  
 وہ مریض جو ہسپتال میں داخل ہو۔  
**انڈی**۔ (ان۔ ڈی) [س۔ ا۔ منٹ] [۱] ریڈی۔ ریڈ کے پھل کا بیج (۲) انڈیا  
 پیڑ۔ (۳) ایک قسم کا مٹی کا کپڑا۔  
**انڈیانا**۔ (انڈیانا) [ہ مص] [۱] انڈے دینے کے قریب ہونا (۲) سیل  
 یا جھینے کے خیموں کو ملتا تاکہ وہ جلدی چلے۔  
**انڈیکس** (Index) [ان۔ ڈیکس] [انگ۔ ا۔ مذ] فہرست ضمیر۔  
**انڈیلٹا**۔ (ان۔ ڈیل۔ ٹا) [ہ مص] [۱] اونہانا۔ ٹوٹا۔ لٹھانا۔ لیلٹنا۔  
**انڈین** (Indian) [ان۔ ڈی۔ این] [انگ۔ صف] ہندوستان کا۔ ہندوستان  
 سے منسوب۔  
**انڈین امپائر** (Indian Empire) سلطنت ہند۔  
**انڈین پنل کوڈ** (Indian Penal Code) تعزیرات ہند ہندوستان  
 کا قانون فوجداری۔  
**انڈین سول سروس** (Indian Civil Service) ہندوستان کی  
 اعلیٰ ملکی ملازمت جس کا نصف آئی۔ سی۔ ایس ہے۔ انگریزی دور میں اس  
 منصب کے لیے مقابلے کا امتحان پاس کرنا پڑتا تھا۔  
**انڈین کونسل** (Indian Council) دیکھیے کونسل آف انڈیا۔  
**انڈین نیشنل کانگریس** (Indian National Congress) ہندوستان  
 کی سیاسی جماعت جس کا آغاز لاڈل ڈون کے عہد میں مشملہ میں ہوا۔  
**انڈر تھ**۔ (ان۔ رتھ) [س۔ صف] بے معنی جمل غیر واجب۔ بیجا۔ نامناسب  
 خلاف دستور۔  
**انزالی**۔ (ان۔ زالی) [ع۔ ا۔ مذ] [۱] اترنا۔ اترنا (۲) مٹی نکلنا۔ جھڑنا۔  
 انزال ہونا۔ جھڑنا۔ مٹی نکلنا۔  
**انزجار**۔ (ان۔ ز۔ جار) [ع۔ ا۔ مذ] ہٹ جانا۔ پلٹ جانا۔  
**انس**۔ [ا۔ ا۔ مذ] [۱] توانائی۔ طاقت (۲) حصہ۔ درجہ۔ جھاگ (۳) مٹی  
 تخم۔ بیج۔  
**انس نکلنا**۔ جان نکلنا۔ طاقت جانا۔ ناتوان ہونا۔  
**انس**۔ [ع۔ ا۔ مذ] انسان۔ آدمی۔ جمع۔ اُناس۔  
**انس و جاں**۔ انسان اور جان  
**انس**۔ [ع۔ ا۔ مذ] محبت۔ پیار۔ اختلاط۔ رغبت۔ میل جول۔

**انساب** (ان۔ ساب) [ع۔ ا۔ مذ] نسب کی جمع۔ نسلیں۔ خاندان شجرے۔  
**انسان**۔ (ان۔ سان) [ع۔ ا۔ مذ] [۱] آدمی۔ بشر (۲) محبت رکھنے والا ساکھ  
 سے آراستہ (۳) آنکھ کی پتلی۔ جمع۔ اُناس۔  
**انسان بنانا**۔ (معاورہ) اچھی تربیت دینا۔ آدمی بنانا۔ مہذب بنانا۔  
**انسان بننا**۔ (معاورہ) آدمیت سیکھنا۔  
**انسان دوستی**۔ یعنی نفع انسان سے محبت کی تعلیم۔  
**انسان کامل**۔ [ف۔ صف] مکمل انسان۔ مرد مومن۔  
**انسان کیا پکیر دہے**۔ [مث] [ہمت پیرد سیاحت کرنے والا۔  
 انسان میں کچھ نہیں۔ آدمی کی زندگی کا کوئی اغیار نہیں۔  
**انسان ہی تو ہیں**۔ آدمی سے خطا ہو ہی جاتی ہے۔  
**انسانی**۔ (ان۔ سانی) [ع۔ صف] منسوب بہ انسان۔ بشری۔  
**انسانیت**۔ (ان۔ سانی۔ بی۔ ت) [ع۔ ا۔ منٹ] [۱] آدمیت۔ بشریت۔ تمیز  
 شعور عقل۔  
**انسانیت (پرنا)** سے پیش آنا۔ مرگت کا برتاؤ کرتا۔ اخلاق و نہدیر سے  
 بات چیت کرنا۔  
**انسائیکلو پیڈیا** (Encyclopaedia) [ان۔ سا۔ ای۔ یک۔ لو۔ پی۔ ڈیا]  
 [انگ۔ ا۔ منٹ۔ ذم] قاموس تمام علوم و ائمۃ المعارف۔ وہ کتاب  
 جس میں جلد علوم و فنون کے متعلق معلومات درج ہوں مخزن العلوم۔  
**انسب**۔ (ان۔ سب) [ع۔ صف] زیادہ مناسب۔ بہت ٹھیک۔  
**انسپیکٹر** (Inspector) [انس۔ پک۔ ٹر] [انگ۔ ا۔ مذ] معائنہ کرنے  
 والا۔ دیکھ بھال کرنے والا۔  
**انسپیکٹر جنرل** (Inspector General) معائنہ کرنے والا بڑا  
 افسر۔ اعلیٰ نگراں۔  
**انسٹیٹوٹ**۔ (ان۔ سٹیٹوٹ) [ہ صف] [۱] سچاس اور نو۔ اٹھاون کے بعد کا عدد۔ (۵۹)  
**انسٹیٹیوٹ**۔ انسٹیٹیوٹ (Institute) [انس۔ ٹی۔ ٹیوٹ۔  
 انس۔ ٹی۔ پیوٹ] [انگ۔ ا۔ مذ] ادارہ۔ محکمہ۔  
**انسٹیٹیوشن** (Institution) [انس۔ ٹی۔ ٹی۔ یوشن] [انگ۔ ا۔ منٹ]  
 علمی مجلس۔ اصولوں یا قواعدوں کا ضابطہ۔ ادارہ۔  
**انسداد**۔ (ان۔ س۔ داد) [ع۔ ا۔ مذ] [۱] بند کر دینا (۲) روک تھام۔ بندش۔  
 روکنے کا بندوبست۔  
**انسٹیٹ**۔ (ان۔ سی۔ بی۔ ت) [ع۔ ا۔ منٹ] [۱] محبت۔ مہر۔ حب۔  
**انشاء**۔ (ان۔ شاء) [۱] عبارت کہنا۔ بات پیدا کرنا (۲) عبارت۔ طرز۔ تحریر (۳)  
 کوئی بات پیدا کرنا۔ وہ کتاب جس میں خطوط کتابت کے قواعد و خطوط لکھے  
 ہوں (۴) آردو کے مشہور شاعر انشاء اللہ خان کا مختص عربی میں ہمزہ کے  
 ساتھ تھا۔ فارسی میں حذف کر دیا گیا۔  
**انشاء پر داز**۔ مضمون نگار۔ ادیب۔ پیشی۔ نثار۔ نشر۔ لکھنے والا۔  
**انشاء پر دازانہ**۔ ادیب کی مانند عبارت آرائی کی شان والی۔  
**انشاء پر دازی**۔ (۱) عبارت نویسی مضمون نگاری۔ عبارت آرائی (۲) خط یا عبارت  
 لکھنے کا ڈھنگ۔ مضمون لکھنے کا طریقہ۔  
**انشاء اللہ تعالیٰ**۔ [ع] اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔

## اطلاعات - خبر

انفارمیشن بیورو (Information Bureau) محکمہ اطلاعات۔  
 آنفاس - (ان - فاس) [ع - ا] مذ [نفس کی جمع - سانسیں - دم۔  
 انفرادی - (ان - ف - راو) [ع - ا] مذ [کیلا ہونا - تنہا ہونا۔  
 انفرادی - (ان - ف - راو) [ع - ا] مذ [ذاتی کسی شخص کی ذات سے مخصوص۔

انفرادیت - (ان - ف - راو) [ع - ا] مذ [نیت] [ع - ا] مذ [خودی - اتانیت  
 (۲) ذاتی خصوصیت - فرد کا الگ وجود - (۳) غزائیات) ایک نظر پر کی  
 رُو سے اُڑاؤ کو فکر عمل کی آزادی ہونی چاہیے۔

انفراخ - (ان - ف - راخ) [ع - ا] مذ [فراغت یا - فراغت ملنا - کام ختم ہونا۔  
 انفراخ - (ان - ف - راخ) [ع - ا] مذ [شگفتہ ہونا - پھٹا ہونا۔  
 انفقس - (ان - ف - س) [ع - ص] مذ [ہمت نفیس - نہایت اچھا۔  
 انفقس - (ان - ف - س) [ع - ص] مذ [نفس کی جمع - نفوس - ہمت سے آدمی۔  
 انفساح - (ان - ف - ساح) [ع - ا] مذ [فسح ہونا - ٹوٹ جانا - خاتمہ۔  
 انفساح معادہ - معادے کا ٹوٹنا۔

انفصال - (ان - ف - صال) [ع - ا] مذ [اُجھا ہونا (۲) فیصلہ ہونا سٹے پانا۔  
 انفعال - (ان - ف - عال) [ع - ا] مذ [اُگ ہونا - جُدا ہونا۔  
 انفعالی - [ع - ص] مذ [اُتر پڑنا - جمہوری (انگ) (Passive)  
 انفعلیت - (ع - ص) مذ [تقریریت - فاعل کا اثر قبول کرنے کی کیفیت۔  
 انفعلیت کی ضد (انگ) (Passivity)  
 انفکاک - (ان - ف - کاک) [ع - ا] مذ [اُگ ہونا - جُدا ہونا۔  
 انفکاک رہن - روپیہ اور کسے رہن کی ہوئی جا نہا دوا پس لینا۔  
 انفکاک رہن - عدالتی اصطلاح میں زر رہن اس ادارے کے رہن کی ہوئی چیز  
 واپس لینا۔

انفلوئنزا - (Influenza) (ان - ف - نو - این - زا) [انگ - ا] مذ  
 وبائی زکام - فلو  
 انفنٹری (Infantry) (ان - فینٹ - ری) [انگ - ا] مذ  
 پیادہ فوج - پیدل پلٹی  
 انفباض - (ان - ف - باض) [ع - ا] مذ [۱) سکڑنا - بھینچنا - رکتا (۲) گرفتگی -  
 بٹگی - قبض۔

انفراض - (ان - ق - راض) [ع - ا] مذ [۱) ملت پوری ہونا (۲) سہا ہونا  
 قطع ہونا۔

انقسام - (ان - ق - سام) [ع - ا] مذ [حصہ حصہ ہونا - منقسم ہونا - بٹاوا۔  
 انفصا - (ان - ق - صا) [ع - ا] مذ [ملت پوری ہونا - گزرتا - (۲) تکمیل - اختتام۔  
 انفطاع - (ان - ق - طاع) [ع - ا] مذ [کاٹنا ہونا - تیرہ ہونا - کٹ جانا۔  
 انقلاب - (ان - ق - لاب) [ع - ا] مذ [۱) تیز و تبدیل - گردش - دور (۲) زمانہ  
 کا پھرنے کا زمانہ - بنیادی تبدیلی پر کئے سیاسی یا معاشی نظام کی  
 جگہ نئے نظام کا نفاذ - (انگ) (Revolution) جمع : انقلابات  
 انقلاب آسمان - انقلاب دہر - انقلاب زمانہ - آسمان کا پھرنے کے  
 گردش - وقت کی کا پھرنے۔

انشائیہ - (ان - شائ - یہ) [ع - ص] مذ [انشائے منسوب - سنجی اصطلاح میں وہ  
 مجلس میں پڑھنے کا اہتمام نہ ہو غیر سنجیدہ مضمون۔

انشراح - (ان - ش - راح) [ع - ا] مذ [کھلنا - کشادہ ہونا - واضح ہونا۔  
 انشقاق - (ان - ش - قاق) [ع - ا] مذ [شق ہونا - تفریق - ٹوٹ کر الگ ہونا۔  
 انشورنس (Insurance) (ان - شور - رش) [انگ - ا] مذ [بیمہ۔  
 انصار - (ان - صا - ر) [ع - ا] مذ [ناصر کی جمع (۱) مددگار (۲) مدینہ کے وہ باشندے  
 جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔

انصاری - (ان - صا - ری) [ع - ص] مذ [جماعت انصار کا فرد - انصار سے منسوب۔  
 انصاف (ان - صا - ف) [ع - ا] مذ [۱) داد - عدل (۲) دیکھنے سے کرنا (۳) فیصلہ کرنا۔  
 انصاف چاہنا - (معاورہ) دادی سے چاہنا - فریاد کرنا - استغاثہ کرنا۔  
 انصاف چیکنا - (معاورہ) دادی سے چیک کرنا - فیصلہ کرنا - جھگڑا چکانا۔  
 انصاف سے دیکھنا - (معاورہ) سچی نظر رکھنا۔

انصاف کا خون کرنا - (معاورہ) انصاف نہ کرنا بے انصافی کرنا۔  
 انصاف کرنا - (معاورہ) فیصلہ کرنا جھگڑا چکانا - نیا ڈکڑنا - حق کے مطابق فیصلہ کرنا۔  
 انصاف (ان - صا - ف) [ع - ا] مذ [پھر آنا - ٹوٹ آنا۔  
 انصرام - (ان - صا - رام) [ع - ا] مذ [پورا ہونا (۲) انتظام کرنا - انجام  
 کو پہنچانا - (۳) بندوبست - انتظام۔  
 انضباط - (ان - ض - باط) [ع - ا] مذ [۱) پوسٹنگی مضبوطی (۲) ضابطہ ڈھنگ  
 تعیین۔

انضباط اوقات - وقت کی تقسیم - وقت کی پابندی - وقت کا تعیین - تمام عمل -  
 انضباطی - [ع - ص] مذ [انضباط سے منسوب - نظم و نسق کے متعلق - ناویسی۔

[انگ] (Disciplinary)  
 انضام - (ان - ض - نام) [ع - ا] مذ [ملنا - پیوست کرنا - جو مل ہونا - تہنیت - اتصال  
 انطباع - (ان - ط - باع) [ع - ا] مذ [چھیننا - طبع ہونا - لغزش ہونا۔

انطاق - (ع - ہ) بات - بات کرنا۔  
 انطباق - (ان - ط - باق) [ع - ا] مذ [چرنا - باہم ملنا - منطبق ہونا - اصل ہونا۔  
 انطفا - (ان - ط - فا) [ع - ا] مذ [بگھ جانا - افسردہ ہونا۔  
 انظار - (ان - ظا - ر) [ع - ا] مذ [نظر کی جمع - نظریں۔  
 انعام - (ان - عا - م) [ع - ا] مذ [مخففہ ضلعت بخشش - بدلہ - اجر - معاوضہ۔  
 کارگزاری کا جلد - جمع : انعامات۔

انعام و اکرام - خلعت - عزت عطا کیے وغیرہ۔

انعدام - (ان - ع - دام) [ع - ا] مذ [نہایت ہونا - ناپید ہونا - ختم ہونا۔  
 انعطاف - (ان - ع - طاف) [ع - ا] مذ [لوٹنا پھرتا - جھکتا - میلان۔  
 انعقاد - (ان - ع - قاد) [ع - ا] مذ [منقسم ہونا - بندھنا (۲) اجتماع - عقد - تہنیت۔  
 انعکاس - (ان - ع - کاس) [ع - ا] مذ [۱) عکس جھلکنا - اُٹھنا (۲) مابہ عکس۔  
 آنف - (ع - ا] مذ [۱) منگ - بینی جمع : آنات - آنوف۔  
 آنصار - (ان - فا - ر) [ع - ا] مذ [نظر کی جمع - لوگ۔

انفارمر (Informer) (ان - فا - مر) [انگ - ا] مذ [اطلاع دینے  
 والا - مخبر۔

انفارمیشن (Information) (ان - فا - رمے - شن) [انگ - ا] مذ





انگلیشی۔ (ان۔ گی۔ بیٹی)۔ (ہ۔ امش)۔ آگ رکھنے کا برتن۔ کوشش دان۔  
 آنکھت۔ (آن۔ کج۔ نت)۔ (ف۔ مٹ)۔ اشتغال۔ سخریب۔ آنکھین کا حاصل مصدر۔  
 آنکھڑ۔ (آن۔ گیز۔ ف)۔ (۱) برداشت (۲) اٹھانے والا۔ بطور لاحقہ آتا ہے  
 جیسے غنڈہ آنکھڑ۔  
 آنکھڑنا۔ (آن۔ گیزنا)۔ (ا۔ مٹ)۔ سہنا۔ برواشت کرنا۔ گوارا کرنا۔ سہارنا۔  
 آنمان۔ (آن۔ مان)۔ (س۔ اند)۔ آنکل۔ گمان۔ اندازہ۔ قیاس۔ نتیجہ۔ جہل۔  
 آنمناہمت۔ (آن۔ مناہمت)۔ (ن۔ امش)۔ نامنازی۔ عداوت۔ بیماری۔  
 انتاس۔ (آن۔ ن۔ ناس)۔ (ر۔ اند)۔ ایک مشہور بھیل جو لمبوتر ہوتا ہے۔ ذائقہ نہیں  
 شیریں۔ ترش اور خوشبودار ہوتا ہے۔ جوڑنے کے قریب لگتا ہے۔  
 آنست۔ (آن۔ سنت)۔ (ہ۔ صفت)۔ (۱) جس کا اخیر نہ ہو۔ بے حد (۲) بہت زیادہ  
 (۳) طاقت ور (۴) آسمان (۵) مینیش ناگ (۶) ایک گنا جو بانو  
 میں پہنا جاتا ہے۔  
 آنست چودس۔ بھاووں کی چودھویں تاریخ جس دن وشنو جی کا بیو بار  
 منایا جاتا ہے۔  
 آنند۔ (آن۔ ند)۔ (ہ۔ صفت)۔ خوش۔ یگن۔ شاداں۔ اس کے مرکبات آنند  
 الف عمدہ میں دیکھیے۔  
 آنند بھائی۔ خوشی کی مخصوص۔ روا لگی (ق)  
 انوار۔ (آن۔ وار)۔ (ع۔ اند)۔ نور کی جمع۔ روشنی۔ اجمالاً تعجبی۔ ضیا۔ چمک۔  
 انواسنا۔ کوئے برتن کو کھنگال کر کام میں لانا  
 آن واسی۔ (آن۔ واسی)۔ (ہ۔ صفت)۔ گنوار کی ضد۔ بیاہی ہوئی۔ کھنگالی ہوئی۔  
 انواع۔ (آن۔ واع)۔ (ع۔ اند)۔ نوع کی جمع۔ قسمیں۔ رنگ رنگ بھانت بھانت  
 اُلویب۔ (آن۔ وِب)۔ (ہ۔ صفت)۔ بے مثال سے نظریہ۔ کینا۔ لانا۔  
 اُلویبان۔ (ا۔ نو۔ بان)۔ (ہ۔ اند)۔ طریقہ استعمال۔ کھانے کا قاعدہ۔ وہ چیز جو دو  
 کے ساتھ اس غرض سے دی جاتی ہے کہ وہ حلق سے اتر جائے۔  
 آن وٹ۔ (آن۔ وٹ)۔ (ہ۔ امش)۔ (۱) پیر کے آنکھوں میں پینے کا ایک شکر دوا  
 چھلکا۔ (۲) چھب۔ انداز۔ ناز۔ سخرہ۔ یک۔  
 انوکھا۔ (ا۔ نو۔ کھا)۔ (ہ۔ صفت)۔ (۱) انوکھا۔ خوب صورت۔ اچھا۔ بڑھیا (۲) جھوٹے کی  
 ضد۔ کھانے کی چیز جس میں سے کسی نے کھایا نہ ہو۔  
 انوکھی بات۔ (آنوکھی۔ بات)۔ (ہ۔ صفت)۔ انوکھی بات۔ نیکی بات۔ ناربات۔  
 انور۔ (آن۔ ور)۔ (ع۔ صفت)۔ بہت روشن۔ خوب صورت۔ نہایت نورانی  
 زیادہ چمکیلا۔  
 انوکھا۔ (ا۔ نو۔ کھا)۔ (ہ۔ صفت)۔ نرالا۔ نادر۔ عجیب۔ غریب۔ سب سے الگ۔  
 انوکھیاں۔ نرالیاں۔  
 آنکھ۔ (ا۔ کھ)۔ [ہ۔ بے پروائی اور لغزت کا کلمہ۔  
 آنہار۔ (آن۔ ہار)۔ (ع۔ امش)۔ آنہر کی جمع۔ نہریں۔  
 آنکھڑ۔ (ا۔ کھڑ۔ تر)۔ (ہ۔ صفت)۔ ساٹھا اور نو۔ اُسٹھ کے بعد کا عدد (۶۹)  
 آنہدام۔ (ان۔ ہ۔ دام)۔ (ع۔ اند)۔ ڈھانا۔ گرانا۔ ہمار کرنا۔ بر باد دی۔  
 آنہزام۔ (ان۔ ہ۔ زام)۔ (ع۔ اند)۔ تتر تتر ہونا۔ جھاڑ پڑنا۔ شکست کھانا۔  
 آنہضام۔ (ان۔ ہ۔ ضام)۔ (ع۔ اند)۔ ہضم ہونا۔  
 آنہماک۔ (ان۔ ہ۔ ماک)۔ (ع۔ اند)۔ مصروفیت۔ محویت۔ انتہائی مشغولیت۔

آنکھوریاں۔ (ا۔ کھو۔ ریاں)۔ (ہ۔ امش)۔ گرمی دینے۔  
 آنکھیں۔ (ا۔ کھیں)۔ (ا۔ ر)۔ قریبی اشارہ۔ ان کو۔  
 آنکھیں۔ (ا۔ کھیں)۔ (ا۔ ر)۔ دور کا اشارہ۔ ان کو۔  
 آئی۔ (ا۔ نی)۔ (ہ۔ امش)۔ (۱) نیرے کی نوک۔ بڑھی کی نوک (۲) جوڑنے کی نوک  
 ایتباہی۔ (ان۔ بن۔ یا۔ ای)۔ (س۔ اند)۔ خالصہ۔ انصاف۔  
 ایتباہے۔ (ان۔ بن۔ یا۔ سے)۔ (ہ۔ اند)۔ ظلم۔ بے انصافی۔ اندھیر۔  
 ایتبت۔ (ا۔ بت)۔ (س۔ صفت)۔ بے انصافی۔ ظلم۔  
 ایتبتی۔ (ا۔ تی)۔ (س۔ امش)۔ (۱) شرارت۔ بُرائی۔ بدی (۲) بے انصافی۔ ظلم۔  
 ایتیس۔ (ا۔ تیس)۔ (ع۔ صفت)۔ (۱) اُس رکھنے والا۔ محبت کرنے والا۔ دوست۔ بہم  
 (۲) مشہور مرثیہ گو میر بریل لکھنوی کا تخلص۔  
 ایتیس۔ (ا۔ تیس)۔ (ہ۔ صفت)۔ دس اور نو۔ اٹھارہ کے بعد کا عدد (۱۹)  
 ایتیس بیس۔ تھوڑا سا۔ معمولی سا۔  
 ایتیس بیس کا فرق۔ (معاود)۔ معمولی سا فرق۔ تھوڑا سا فرق۔  
 ایتیس بیس ہونا (معاود)۔ حادثہ پیش آنا۔ ایسی ویسی بات ہونا۔  
 ایتیسواں۔ (آن۔ تیس۔ واں)۔ (ہ۔ صفت)۔ گنتی میں ایتیس کی جگہ پر آنے والا۔  
 اٹھارہویں کے بعد۔  
 ایتیسون۔ (ا۔ تی۔ سون)۔ (ہ۔ امش)۔ ایک دوا کا نام۔  
 ایتین۔ (ا۔ تین)۔ (ا۔ تین)۔ (ا۔ تی۔ ند)۔ (ع۔ صفت)۔ خوش آنند۔ خوب۔ عجیب۔ نادر۔  
 ایتیک۔ (ا۔ تیک)۔ (س۔ صفت)۔ ہمت۔ ایک سے زیادہ۔ جو ٹانجا جاسکے۔  
 آن گنت۔  
 اینیلا۔ (ا۔ نی۔ لا)۔ (ہ۔ صفت)۔ نا بخیر کار۔ نادان۔ بھولانا۔ نافٹ۔ خام۔  
 اینیلاں۔ نادان پن۔ بھولاپن۔ نا بخیر کاری۔ ناواقفیت۔  
 اینیلی۔ (ا۔ نی۔ لی)۔ (ہ۔ صفت)۔ نا بخیر کار۔ نادان۔ بھولی بھالی۔  
 اینیمیا (Anaemia) (ا۔ نی۔ می۔ یا)۔ (ا۔ نگ۔ اند)۔ جسم میں خون کی کمی۔  
 ایک مرض۔

ا-۱

ا [و] (ہ) (واو معدود) حرف ندا۔ اے۔ اے۔ اپنے سے چھوٹے اور کم رتبہ  
 شخص کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں۔  
 اواخر (ا۔ وا۔ خ)۔ (ع۔ اند)۔ آخر کی جمع۔ انتہا۔ حد۔ ختم۔ انجام۔  
 اوارجہ۔ اوارجہ (ا۔ وا۔ رجہ۔ ا۔ وا۔ رجہ)۔ (ف۔ اند)۔ روزانہ پھر حساب کی  
 کتاب۔ ہی۔ رسید بک۔  
 اوازہ تو ازہ۔ (ا۔ وا۔ نہ۔ ث۔ وا۔ زہ)۔ (ا۔ ر)۔ طعن۔ تشنیع۔ بولی ٹھولی۔  
 اواسط۔ (ا۔ وا۔ سبط)۔ (ع۔ اند)۔ اوسط کی جمع۔ درمیانی باتیں یا چیزیں۔  
 اواہر۔ (ا۔ وا۔ ہر)۔ (ع۔ اند)۔ امر کی جمع۔ احکام۔  
 اواکل۔ (ا۔ وا۔ ال)۔ (ع۔ صفت)۔ (۱) اول کی جمع۔ ابتدا۔ آغاز۔ پہلے حصے (۲)  
 [ا۔ ر]۔ چرنے کی مال۔  
 اواکل عمر۔ ابتدائے عمر۔ بچپن۔ چھوٹی عمر۔ لڑکپن۔ بالین۔ کسی۔  
 اواٹی۔ (ا۔ وا۔ ای)۔ (ہ۔ امش)۔ (۱) آمد (۲) کسی کے آنے کی خبر (۳) چھوٹی خبر۔



اولی (اڑنا) اڑنا - جھوٹی جھیلنا یا پھیلانا۔

اُوب - [۱-۵-۱-۵] پھر عرصہ تک ایک ہی حالت میں رہنے پر طبیعت کی بے چینی گھراہٹ۔ اکتا ہٹ۔ بے چینی۔ بیزاری۔

اوباش - (اوباش) [۱-۵-۱-۵] بوش کی خلاف قیاس۔ جمع۔ چا۔ غنڈہ۔ لوفر کیلئے نوگ۔ بدعاش۔ بدچلن۔ آدابہ۔

اوباشی (اوباشی) [۱-۵-۱-۵] بدعاشی۔ بدچلنی۔ عیاشی۔ زنا کاری۔

اوبنا - (اوبنا) [۱-۵-۱-۵] اکتانا۔ گھبرانا۔

اوبنی - (اوبنی) [۱-۵-۱-۵] وہ گڑھا جو ہاتھی کے پھسنے کے لیے جھیل میں شخص پرش کیا جاتا ہے۔

اُوب [۱-۵-۱-۵] چمک۔ چلا۔ آب و تاب۔ صنیقل۔

اوپچی - (اوپچی) [۱-۵-۱-۵] ہتھیار بند۔ سر سے پاؤں تک ہتھیار سے سجا ہوا بانکا سپاہی۔

اوپر - (اوپر) [۱-۵-۱-۵] نیچے کی ضد۔ اونچا۔ بالا۔ (۲) بالا خانہ۔ کوٹھا۔ (۳) باہر (۴) اس سے پہلے (۵) اپنی ذات پر (۶) زیادہ (۷) سہاے۔ برتنے پر (۸) ظاہری دکھاوٹ۔

اوپرا - [۱-۵-۱-۵] دکھاوے کا ظاہری (۲) اجنبی۔ غیر موزوں۔

اوپر اوپر (۱) بالا بالا۔ چپکے چپکے۔ الگ الگ۔ پوشیدہ (۲) بے اثر۔

اوپر اوپر جانا۔ (مجاددہ) بیکار اور بے اثر ہو جانا۔

اوپر تلے۔ نیچے اوپر۔ پورے متواتر لگانا۔ ایک کے اوپر ایک۔

اوپر تلے کے۔ وہ نیچے جن کے نیچے میں کوئی پتہ پلینہ ہوا ہو۔

اوپر دھڑی۔ ناسخ کا اہم لغت کی تہمت۔

اوپر سے۔ اُپچے سے۔ بندی سے (۲) اس کے علاوہ۔ ماسوا (۳) رشوت یا بالائی یافت۔

اوپر سے دینا۔ (مجاددہ) ہلکا پھلکا یا تھپڑ مارنا۔

اوپر کی سوجھنا۔ دور کی سوجھنا۔

اوپر کے دم (انا) بھرنا۔ اپنی سانسیں چلنا۔ آخری سانس لینا۔ نزع کی حالت ہونا۔ اوپر وار۔ اوپر کی طرف۔

اوپر والا (۱) خدا (۲) نیا چاند۔ ماہ نو (۳) نوکر چاکر۔ کارکن پیش خدمت (۴) اجنبی۔ غیر (۵) اوپر کے کام کو نوکر۔

اوپر والے (۱) غیر۔ بے نفع۔ دوسرے (۲) حکام (۳) کوٹھے پر سنے والے۔ اوپر والیاں (۱) بریاں۔ بریلیں (۲) چیلپیں (۳) پیش خدمت عورتیں۔ ماما۔ صلیبیں۔

اوپر کی اوپر۔ بالا بالا۔ الگ الگ۔ پوشیدہ۔ چھپواں۔

اوپر سوجی اوپر ملنا۔ بغیر کسی کو خبر ہونے ملنے رہنا۔ چپکے چپکے۔ الگ الگ ملاقات کرنا۔

اوپر سی۔ (اوپر سی) [۱-۵-۱-۵] اوپر کا (۲) باہر کا۔ باہری (۳) نمائشی۔ دکھاوٹی۔ (۴) اجنبی۔ غیر۔ ناموزوں۔

اوپر سی دل سے۔ ظاہر طور سے۔ دکھاوے کو۔

اوپر سیا۔ (Opera) (اوپر سیا) [۱-۵-۱-۵] غنائی تمثیل۔ وہ ناٹک جس میں موسیقی کا عنصر غالب ہو۔

اوت - [۱-۵-۱-۵] وہ شخص جو جوان ہو کر بزرگ بنا کر مر جائے (۲) اولاد (۳) نامرز

ناکام (۴) بے نفع۔ احمق۔ نادان (۵) پلید ازلح (۶) شمس۔

اوت کسمراری جانا۔ نفع یا نقصان ہونا۔

اوت بنزنا۔ بن بیا یا اور بے اولاد۔ وہ شخص جو کنوارا اور بے اولاد ہے ایک قسم کا کوسنا بھی ہے جیسے اوت بنزنا جائے۔

اوت نیوتی۔ وہ عورت جو کنوارا اور بے اولاد ہے۔

اوتاد۔ (اوتاد) [۱-۵-۱-۵] میخیں (۲) اولیا۔ اللہ کا ایک خاص درجہ۔ اوتار۔ (اوتار) [۱-۵-۱-۵] ہندوؤں کے عقیدے میں خدا کا کسی جہنم میں داخل ہونا۔ مخلوق کی اصلاح کے لیے زمینیاں آنا (۲) [صف] نیک۔ فرشتہ۔ مقرر۔ مقدس۔ ولی۔ خدا رسیدہ آدمی۔

اوتاولا۔ (ت-صف) جلد باز۔ بے قرار۔

اوتاولا پن۔ جلد بازی۔ بے صبری۔

اوتار تار۔ (اوتار تار) [۱-۵-۱-۵] الگ کیا ہوا۔ بیجا ہوا۔ ادا کیا ہوا۔

اوتار تار ہونا۔ بلیا ہونا۔

اوت [۱-۵-۱-۵] روک جس سے سامنے کی چیز دکھائی نہ پڑے۔ پردہ۔ آڑ۔ گھونگھٹ۔ نقاب (۲) بیاہ۔ سیاہ۔ حمایت (۳) عقوبت۔ پتھیر۔ پوشیدہ۔ غائب از نظر (۴) گھٹا۔ کمین گاہ (۵) گاڑی کے اونٹنے کی لکڑی۔

اوت میں بیٹھنا۔ آڑ میں بیٹھنا۔ پس پردہ بیٹھنا۔

اوتنا۔ (اوتنا) [۱-۵-۱-۵] پرشے کی دیوار (۲) کپاس اونٹنے والا آدمی (۳) کپاس اونٹنے کی چرمی پینا دیوں کے بیٹھنے کا چبوترا (۴) سارن کا ایک اوزار جس سے وہ بازو بند کے دانوں کو نہیں بناتے ہیں (۵) وہ پتھر جو دروازے کے آگے دایمیں اور بائیں با پتھر بیٹھنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔

اوتنا۔ (اوتنا) [۱-۵-۱-۵] کھولانا۔ دودھ یا کسی اور دھن چیر کا خوب گرم کرنا۔

اوت پٹانگ (اوت پٹانگ) [۱-۵-۱-۵] پٹانگ (۲) پٹانگ (۳) پٹانگ (۴) پٹانگ (۵) پٹانگ (۶) پٹانگ (۷) پٹانگ (۸) پٹانگ (۹) پٹانگ (۱۰) پٹانگ (۱۱) پٹانگ (۱۲) پٹانگ (۱۳) پٹانگ (۱۴) پٹانگ (۱۵) پٹانگ (۱۶) پٹانگ (۱۷) پٹانگ (۱۸) پٹانگ (۱۹) پٹانگ (۲۰) پٹانگ (۲۱) پٹانگ (۲۲) پٹانگ (۲۳) پٹانگ (۲۴) پٹانگ (۲۵) پٹانگ (۲۶) پٹانگ (۲۷) پٹانگ (۲۸) پٹانگ (۲۹) پٹانگ (۳۰) پٹانگ (۳۱) پٹانگ (۳۲) پٹانگ (۳۳) پٹانگ (۳۴) پٹانگ (۳۵) پٹانگ (۳۶) پٹانگ (۳۷) پٹانگ (۳۸) پٹانگ (۳۹) پٹانگ (۴۰) پٹانگ (۴۱) پٹانگ (۴۲) پٹانگ (۴۳) پٹانگ (۴۴) پٹانگ (۴۵) پٹانگ (۴۶) پٹانگ (۴۷) پٹانگ (۴۸) پٹانگ (۴۹) پٹانگ (۵۰) پٹانگ (۵۱) پٹانگ (۵۲) پٹانگ (۵۳) پٹانگ (۵۴) پٹانگ (۵۵) پٹانگ (۵۶) پٹانگ (۵۷) پٹانگ (۵۸) پٹانگ (۵۹) پٹانگ (۶۰) پٹانگ (۶۱) پٹانگ (۶۲) پٹانگ (۶۳) پٹانگ (۶۴) پٹانگ (۶۵) پٹانگ (۶۶) پٹانگ (۶۷) پٹانگ (۶۸) پٹانگ (۶۹) پٹانگ (۷۰) پٹانگ (۷۱) پٹانگ (۷۲) پٹانگ (۷۳) پٹانگ (۷۴) پٹانگ (۷۵) پٹانگ (۷۶) پٹانگ (۷۷) پٹانگ (۷۸) پٹانگ (۷۹) پٹانگ (۸۰) پٹانگ (۸۱) پٹانگ (۸۲) پٹانگ (۸۳) پٹانگ (۸۴) پٹانگ (۸۵) پٹانگ (۸۶) پٹانگ (۸۷) پٹانگ (۸۸) پٹانگ (۸۹) پٹانگ (۹۰) پٹانگ (۹۱) پٹانگ (۹۲) پٹانگ (۹۳) پٹانگ (۹۴) پٹانگ (۹۵) پٹانگ (۹۶) پٹانگ (۹۷) پٹانگ (۹۸) پٹانگ (۹۹) پٹانگ (۱۰۰) پٹانگ (۱۰۱) پٹانگ (۱۰۲) پٹانگ (۱۰۳) پٹانگ (۱۰۴) پٹانگ (۱۰۵) پٹانگ (۱۰۶) پٹانگ (۱۰۷) پٹانگ (۱۰۸) پٹانگ (۱۰۹) پٹانگ (۱۱۰) پٹانگ (۱۱۱) پٹانگ (۱۱۲) پٹانگ (۱۱۳) پٹانگ (۱۱۴) پٹانگ (۱۱۵) پٹانگ (۱۱۶) پٹانگ (۱۱۷) پٹانگ (۱۱۸) پٹانگ (۱۱۹) پٹانگ (۱۲۰) پٹانگ (۱۲۱) پٹانگ (۱۲۲) پٹانگ (۱۲۳) پٹانگ (۱۲۴) پٹانگ (۱۲۵) پٹانگ (۱۲۶) پٹانگ (۱۲۷) پٹانگ (۱۲۸) پٹانگ (۱۲۹) پٹانگ (۱۳۰) پٹانگ (۱۳۱) پٹانگ (۱۳۲) پٹانگ (۱۳۳) پٹانگ (۱۳۴) پٹانگ (۱۳۵) پٹانگ (۱۳۶) پٹانگ (۱۳۷) پٹانگ (۱۳۸) پٹانگ (۱۳۹) پٹانگ (۱۴۰) پٹانگ (۱۴۱) پٹانگ (۱۴۲) پٹانگ (۱۴۳) پٹانگ (۱۴۴) پٹانگ (۱۴۵) پٹانگ (۱۴۶) پٹانگ (۱۴۷) پٹانگ (۱۴۸) پٹانگ (۱۴۹) پٹانگ (۱۵۰) پٹانگ (۱۵۱) پٹانگ (۱۵۲) پٹانگ (۱۵۳) پٹانگ (۱۵۴) پٹانگ (۱۵۵) پٹانگ (۱۵۶) پٹانگ (۱۵۷) پٹانگ (۱۵۸) پٹانگ (۱۵۹) پٹانگ (۱۶۰) پٹانگ (۱۶۱) پٹانگ (۱۶۲) پٹانگ (۱۶۳) پٹانگ (۱۶۴) پٹانگ (۱۶۵) پٹانگ (۱۶۶) پٹانگ (۱۶۷) پٹانگ (۱۶۸) پٹانگ (۱۶۹) پٹانگ (۱۷۰) پٹانگ (۱۷۱) پٹانگ (۱۷۲) پٹانگ (۱۷۳) پٹانگ (۱۷۴) پٹانگ (۱۷۵) پٹانگ (۱۷۶) پٹانگ (۱۷۷) پٹانگ (۱۷۸) پٹانگ (۱۷۹) پٹانگ (۱۸۰) پٹانگ (۱۸۱) پٹانگ (۱۸۲) پٹانگ (۱۸۳) پٹانگ (۱۸۴) پٹانگ (۱۸۵) پٹانگ (۱۸۶) پٹانگ (۱۸۷) پٹانگ (۱۸۸) پٹانگ (۱۸۹) پٹانگ (۱۹۰) پٹانگ (۱۹۱) پٹانگ (۱۹۲) پٹانگ (۱۹۳) پٹانگ (۱۹۴) پٹانگ (۱۹۵) پٹانگ (۱۹۶) پٹانگ (۱۹۷) پٹانگ (۱۹۸) پٹانگ (۱۹۹) پٹانگ (۲۰۰) پٹانگ (۲۰۱) پٹانگ (۲۰۲) پٹانگ (۲۰۳) پٹانگ (۲۰۴) پٹانگ (۲۰۵) پٹانگ (۲۰۶) پٹانگ (۲۰۷) پٹانگ (۲۰۸) پٹانگ (۲۰۹) پٹانگ (۲۱۰) پٹانگ (۲۱۱) پٹانگ (۲۱۲) پٹانگ (۲۱۳) پٹانگ (۲۱۴) پٹانگ (۲۱۵) پٹانگ (۲۱۶) پٹانگ (۲۱۷) پٹانگ (۲۱۸) پٹانگ (۲۱۹) پٹانگ (۲۲۰) پٹانگ (۲۲۱) پٹانگ (۲۲۲) پٹانگ (۲۲۳) پٹانگ (۲۲۴) پٹانگ (۲۲۵) پٹانگ (۲۲۶) پٹانگ (۲۲۷) پٹانگ (۲۲۸) پٹانگ (۲۲۹) پٹانگ (۲۳۰) پٹانگ (۲۳۱) پٹانگ (۲۳۲) پٹانگ (۲۳۳) پٹانگ (۲۳۴) پٹانگ (۲۳۵) پٹانگ (۲۳۶) پٹانگ (۲۳۷) پٹانگ (۲۳۸) پٹانگ (۲۳۹) پٹانگ (۲۴۰) پٹانگ (۲۴۱) پٹانگ (۲۴۲) پٹانگ (۲۴۳) پٹانگ (۲۴۴) پٹانگ (۲۴۵) پٹانگ (۲۴۶) پٹانگ (۲۴۷) پٹانگ (۲۴۸) پٹانگ (۲۴۹) پٹانگ (۲۵۰) پٹانگ (۲۵۱) پٹانگ (۲۵۲) پٹانگ (۲۵۳) پٹانگ (۲۵۴) پٹانگ (۲۵۵) پٹانگ (۲۵۶) پٹانگ (۲۵۷) پٹانگ (۲۵۸) پٹانگ (۲۵۹) پٹانگ (۲۶۰) پٹانگ (۲۶۱) پٹانگ (۲۶۲) پٹانگ (۲۶۳) پٹانگ (۲۶۴) پٹانگ (۲۶۵) پٹانگ (۲۶۶) پٹانگ (۲۶۷) پٹانگ (۲۶۸) پٹانگ (۲۶۹) پٹانگ (۲۷۰) پٹانگ (۲۷۱) پٹانگ (۲۷۲) پٹانگ (۲۷۳) پٹانگ (۲۷۴) پٹانگ (۲۷۵) پٹانگ (۲۷۶) پٹانگ (۲۷۷) پٹانگ (۲۷۸) پٹانگ (۲۷۹) پٹانگ (۲۸۰) پٹانگ (۲۸۱) پٹانگ (۲۸۲) پٹانگ (۲۸۳) پٹانگ (۲۸۴) پٹانگ (۲۸۵) پٹانگ (۲۸۶) پٹانگ (۲۸۷) پٹانگ (۲۸۸) پٹانگ (۲۸۹) پٹانگ (۲۹۰) پٹانگ (۲۹۱) پٹانگ (۲۹۲) پٹانگ (۲۹۳) پٹانگ (۲۹۴) پٹانگ (۲۹۵) پٹانگ (۲۹۶) پٹانگ (۲۹۷) پٹانگ (۲۹۸) پٹانگ (۲۹۹) پٹانگ (۳۰۰) پٹانگ (۳۰۱) پٹانگ (۳۰۲) پٹانگ (۳۰۳) پٹانگ (۳۰۴) پٹانگ (۳۰۵) پٹانگ (۳۰۶) پٹانگ (۳۰۷) پٹانگ (۳۰۸) پٹانگ (۳۰۹) پٹانگ (۳۱۰) پٹانگ (۳۱۱) پٹانگ (۳۱۲) پٹانگ (۳۱۳) پٹانگ (۳۱۴) پٹانگ (۳۱۵) پٹانگ (۳۱۶) پٹانگ (۳۱۷) پٹانگ (۳۱۸) پٹانگ (۳۱۹) پٹانگ (۳۲۰) پٹانگ (۳۲۱) پٹانگ (۳۲۲) پٹانگ (۳۲۳) پٹانگ (۳۲۴) پٹانگ (۳۲۵) پٹانگ (۳۲۶) پٹانگ (۳۲۷) پٹانگ (۳۲۸) پٹانگ (۳۲۹) پٹانگ (۳۳۰) پٹانگ (۳۳۱) پٹانگ (۳۳۲) پٹانگ (۳۳۳) پٹانگ (۳۳۴) پٹانگ (۳۳۵) پٹانگ (۳۳۶) پٹانگ (۳۳۷) پٹانگ (۳۳۸) پٹانگ (۳۳۹) پٹانگ (۳۴۰) پٹانگ (۳۴۱) پٹانگ (۳۴۲) پٹانگ (۳۴۳) پٹانگ (۳۴۴) پٹانگ (۳۴۵) پٹانگ (۳۴۶) پٹانگ (۳۴۷) پٹانگ (۳۴۸) پٹانگ (۳۴۹) پٹانگ (۳۵۰) پٹانگ (۳۵۱) پٹانگ (۳۵۲) پٹانگ (۳۵۳) پٹانگ (۳۵۴) پٹانگ (۳۵۵) پٹانگ (۳۵۶) پٹانگ (۳۵۷) پٹانگ (۳۵۸) پٹانگ (۳۵۹) پٹانگ (۳۶۰) پٹانگ (۳۶۱) پٹانگ (۳۶۲) پٹانگ (۳۶۳) پٹانگ (۳۶۴) پٹانگ (۳۶۵) پٹانگ (۳۶۶) پٹانگ (۳۶۷) پٹانگ (۳۶۸) پٹانگ (۳۶۹) پٹانگ (۳۷۰) پٹانگ (۳۷۱) پٹانگ (۳۷۲) پٹانگ (۳۷۳) پٹانگ (۳۷۴) پٹانگ (۳۷۵) پٹانگ (۳۷۶) پٹانگ (۳۷۷) پٹانگ (۳۷۸) پٹانگ (۳۷۹) پٹانگ (۳۸۰) پٹانگ (۳۸۱) پٹانگ (۳۸۲) پٹانگ (۳۸۳) پٹانگ (۳۸۴) پٹانگ (۳۸۵) پٹانگ (۳۸۶) پٹانگ (۳۸۷) پٹانگ (۳۸۸) پٹانگ (۳۸۹) پٹانگ (۳۹۰) پٹانگ (۳۹۱) پٹانگ (۳۹۲) پٹانگ (۳۹۳) پٹانگ (۳۹۴) پٹانگ (۳۹۵) پٹانگ (۳۹۶) پٹانگ (۳۹۷) پٹانگ (۳۹۸) پٹانگ (۳۹۹) پٹانگ (۴۰۰) پٹانگ (۴۰۱) پٹانگ (۴۰۲) پٹانگ (۴۰۳) پٹانگ (۴۰۴) پٹانگ (۴۰۵) پٹانگ (۴۰۶) پٹانگ (۴۰۷) پٹانگ (۴۰۸) پٹانگ (۴۰۹) پٹانگ (۴۱۰) پٹانگ (۴۱۱) پٹانگ (۴۱۲) پٹانگ (۴۱۳) پٹانگ (۴۱۴) پٹانگ (۴۱۵) پٹانگ (۴۱۶) پٹانگ (۴۱۷) پٹانگ (۴۱۸) پٹانگ (۴۱۹) پٹانگ (۴۲۰) پٹانگ (۴۲۱) پٹانگ (۴۲۲) پٹانگ (۴۲۳) پٹانگ (۴۲۴) پٹانگ (۴۲۵) پٹانگ (۴۲۶) پٹانگ (۴۲۷) پٹانگ (۴۲۸) پٹانگ (۴۲۹) پٹانگ (۴۳۰) پٹانگ (۴۳۱) پٹانگ (۴۳۲) پٹانگ (۴۳۳) پٹانگ (۴۳۴) پٹانگ (۴۳۵) پٹانگ (۴۳۶) پٹانگ (۴۳۷) پٹانگ (۴۳۸) پٹانگ (۴۳۹) پٹانگ (۴۴۰) پٹانگ (۴۴۱) پٹانگ (۴۴۲) پٹانگ (۴۴۳) پٹانگ (۴۴۴) پٹانگ (۴۴۵) پٹانگ (۴۴۶) پٹانگ (۴۴۷) پٹانگ (۴۴۸) پٹانگ (۴۴۹) پٹانگ (۴۵۰) پٹانگ (۴۵۱) پٹانگ (۴۵۲) پٹانگ (۴۵۳) پٹانگ (۴۵۴) پٹانگ (۴۵۵) پٹانگ (۴۵۶) پٹانگ (۴۵۷) پٹانگ (۴۵۸) پٹانگ (۴۵۹) پٹانگ (۴۶۰) پٹانگ (۴۶۱) پٹانگ (۴۶۲) پٹانگ (۴۶۳) پٹانگ (۴۶۴) پٹانگ (۴۶۵) پٹانگ (۴۶۶) پٹانگ (۴۶۷) پٹانگ (۴۶۸) پٹانگ (۴۶۹) پٹانگ (۴۷۰) پٹانگ (۴۷۱) پٹانگ (۴۷۲) پٹانگ (۴۷۳) پٹانگ (۴۷۴) پٹانگ (۴۷۵) پٹانگ (۴۷۶) پٹانگ (۴۷۷) پٹانگ (۴۷۸) پٹانگ (۴۷۹) پٹانگ (۴۸۰) پٹانگ (۴۸۱) پٹانگ (۴۸۲) پٹانگ (۴۸۳) پٹانگ (۴۸۴) پٹانگ (۴۸۵) پٹانگ (۴۸۶) پٹانگ (۴۸۷) پٹانگ (۴۸۸) پٹانگ (۴۸۹) پٹانگ (۴۹۰) پٹانگ (۴۹۱) پٹانگ (۴۹۲) پٹانگ (۴۹۳) پٹانگ (۴۹۴) پٹانگ (۴۹۵) پٹانگ (۴۹۶) پٹانگ (۴۹۷) پٹانگ (۴۹۸) پٹانگ (۴۹۹) پٹانگ (۵۰۰) پٹانگ (۵۰۱) پٹانگ (۵۰۲) پٹانگ (۵۰۳) پٹانگ (۵۰۴) پٹانگ (۵۰۵) پٹانگ (۵۰۶) پٹانگ (۵۰۷) پٹانگ (۵۰۸) پٹانگ (۵۰۹) پٹانگ (۵۱۰) پٹانگ (۵۱۱) پٹانگ (۵۱۲) پٹانگ (۵۱۳) پٹانگ (۵۱۴) پٹانگ (۵۱۵) پٹانگ (۵۱۶) پٹانگ (۵۱۷) پٹانگ (۵۱۸) پٹانگ (۵۱۹) پٹانگ (۵۲۰) پٹانگ (۵۲۱) پٹانگ (۵۲۲) پٹانگ (۵۲۳) پٹانگ (۵۲۴) پٹانگ (۵۲۵) پٹانگ (۵۲۶) پٹانگ (۵۲۷) پٹانگ (۵۲۸) پٹانگ (۵۲۹) پٹانگ (۵۳۰) پٹانگ (۵۳۱) پٹانگ (۵۳۲) پٹانگ (۵۳۳) پٹانگ (۵۳۴) پٹانگ (۵۳۵) پٹانگ (۵۳۶) پٹانگ (۵۳۷) پٹانگ (۵۳۸) پٹانگ (۵۳۹) پٹانگ (۵۴۰) پٹانگ (۵۴۱) پٹانگ (۵۴۲) پٹانگ (۵۴۳) پٹانگ (۵۴۴) پٹانگ (۵۴۵) پٹانگ (۵۴۶) پٹانگ (۵۴۷) پٹانگ (۵۴۸) پٹانگ (۵۴۹) پٹانگ (۵۵۰) پٹانگ (۵۵۱) پٹانگ (۵۵۲) پٹانگ (۵۵۳) پٹانگ (۵۵۴) پٹانگ (۵۵۵) پٹانگ (۵۵۶) پٹانگ (۵۵۷) پٹانگ (۵۵۸) پٹانگ (۵۵۹) پٹانگ (۵۶۰) پٹانگ (۵۶۱) پٹانگ (۵۶۲) پٹانگ (۵۶۳) پٹانگ (۵۶۴) پٹانگ (۵۶۵) پٹانگ (۵۶۶) پٹانگ (۵۶۷) پٹانگ (۵۶۸) پٹانگ (۵۶۹) پٹانگ (۵۷۰) پٹانگ (۵۷۱) پٹانگ (۵۷۲) پٹانگ (۵۷۳) پٹانگ (۵۷۴) پٹانگ (۵۷۵) پٹانگ (۵۷۶) پٹانگ (۵۷۷) پٹانگ (۵۷۸) پٹانگ (۵۷۹) پٹانگ (۵۸۰) پٹانگ (۵۸۱) پٹانگ (۵۸۲) پٹانگ (۵۸۳) پٹانگ (۵۸۴) پٹانگ (۵۸۵) پٹانگ (۵۸۶) پٹانگ (۵۸۷) پٹانگ (۵۸۸) پٹانگ (۵۸۹) پٹانگ (۵۹۰) پٹانگ (۵۹۱) پٹانگ (۵۹۲) پٹانگ (۵۹۳) پٹانگ (۵۹۴) پٹانگ (۵۹۵) پٹانگ (۵۹۶) پٹانگ (۵۹۷) پٹانگ (۵۹۸) پٹانگ (۵۹۹) پٹانگ (۶۰۰) پٹانگ (۶۰۱) پٹانگ (۶۰۲) پٹانگ (۶۰۳) پٹانگ (۶۰۴) پٹانگ (۶۰۵) پٹانگ (۶۰۶) پٹانگ (۶۰۷) پٹانگ (۶۰۸) پٹانگ (۶۰۹) پٹانگ (۶۱۰) پٹانگ (۶۱۱) پٹانگ (۶۱۲) پٹانگ (۶۱۳) پٹانگ (۶۱۴) پٹانگ (۶۱۵) پٹانگ (۶۱۶) پٹانگ (۶۱۷) پٹانگ (۶۱۸) پٹانگ (۶۱۹) پٹانگ (۶۲۰) پٹانگ (۶۲۱) پٹانگ (۶۲۲) پٹانگ (۶۲۳) پٹانگ (۶۲۴) پٹانگ (۶۲۵) پٹانگ (۶۲۶) پٹانگ (۶۲۷) پٹانگ (۶۲۸) پٹانگ (۶۲۹) پٹانگ (۶۳۰) پٹانگ (۶۳۱) پٹانگ (۶۳۲) پٹانگ (۶۳۳) پٹانگ (۶۳۴) پٹانگ (۶۳۵) پٹانگ (۶۳۶) پٹانگ (۶۳۷) پٹانگ (۶۳۸) پٹانگ (۶۳۹) پٹانگ (۶۴۰) پٹانگ (۶۴۱) پٹانگ (۶۴۲) پٹانگ (۶۴۳) پٹانگ (۶۴۴) پٹانگ (۶۴۵) پٹانگ (۶۴۶) پٹانگ (۶۴۷) پٹانگ (۶۴۸) پٹانگ (۶۴۹) پٹانگ (۶۵۰) پٹانگ (۶۵۱) پٹانگ (۶۵۲) پٹانگ (۶۵۳) پٹانگ (۶۵۴) پٹانگ (۶۵۵) پٹانگ (۶۵۶) پٹانگ (۶۵۷) پٹانگ (۶۵۸) پٹانگ (۶۵۹) پٹانگ (۶۶۰) پٹانگ (۶۶۱) پٹانگ (۶۶۲) پٹانگ (۶۶۳) پٹانگ (۶۶۴) پٹانگ (۶۶۵) پٹانگ (۶۶۶) پٹانگ (۶۶۷) پٹانگ (۶۶۸) پٹانگ (۶۶۹) پٹانگ (۶۷۰) پٹانگ (۶۷۱) پٹانگ (۶۷۲) پٹانگ (۶۷۳) پٹانگ (۶۷۴) پٹانگ (۶۷۵) پٹانگ (۶۷۶) پٹانگ (۶۷۷) پٹانگ (۶۷۸) پٹانگ (۶۷۹) پٹانگ (۶۸۰) پٹانگ (۶۸۱) پٹانگ (۶۸۲) پٹانگ (۶۸۳) پٹانگ (۶۸۴) پٹانگ (۶۸۵) پٹانگ (۶۸۶) پٹانگ (۶۸۷) پٹانگ (۶۸۸) پٹانگ (۶۸۹) پٹانگ (۶۹۰) پٹانگ (۶۹۱) پٹانگ (۶۹۲) پٹانگ (۶۹۳) پٹانگ (۶۹۴) پٹانگ (۶۹۵) پٹانگ (۶۹۶) پٹانگ (۶۹۷) پٹانگ (۶۹۸) پٹانگ (۶۹۹) پٹانگ (۷۰۰) پٹانگ (۷۰۱) پٹانگ (۷۰۲) پٹانگ (۷۰۳) پٹانگ (۷۰۴) پٹانگ (۷۰۵) پٹانگ (۷۰۶) پٹانگ (۷۰۷) پٹانگ (۷۰۸) پٹانگ (۷۰۹) پٹانگ (۷۱۰) پٹانگ (۷۱۱) پٹانگ (۷۱۲) پٹانگ (۷۱۳) پٹانگ (۷۱۴) پٹانگ (۷۱۵) پٹانگ (۷۱۶) پٹانگ (۷۱۷) پٹانگ (۷۱۸) پٹانگ (۷۱۹) پٹانگ (۷۲۰) پٹانگ (۷۲۱) پٹانگ (۷۲۲) پٹانگ (۷۲۳) پٹانگ (۷۲۴) پٹانگ (۷۲۵) پٹانگ (۷۲۶) پٹانگ (۷۲۷) پٹانگ (۷۲۸) پٹانگ (۷۲۹) پٹانگ (۷۳۰) پٹانگ (۷۳۱) پٹانگ (۷۳۲) پٹانگ (۷۳۳) پٹانگ (۷۳۴) پٹانگ (۷۳۵) پٹانگ (۷۳۶) پٹانگ (۷۳۷) پٹانگ (۷۳۸) پٹانگ (۷۳۹) پٹانگ (۷۴۰) پٹانگ (۷۴۱) پٹانگ (۷۴۲) پٹانگ (۷۴۳) پٹانگ (۷۴۴) پٹانگ (۷۴۵) پٹانگ (۷۴۶) پٹانگ (۷۴۷) پٹانگ (۷۴۸) پٹانگ (۷۴۹) پٹانگ (۷۵۰) پٹانگ (۷۵۱) پٹانگ (۷۵۲) پٹانگ (۷۵۳) پٹانگ (۷۵۴) پٹانگ (۷۵۵) پٹانگ (۷۵۶) پٹانگ (۷۵۷) پٹانگ (۷۵۸) پٹانگ (۷۵۹) پٹانگ (۷۶۰) پٹانگ (۷۶۱) پٹانگ (۷۶۲) پٹانگ (۷۶۳) پٹانگ (۷۶۴) پٹان

شور سن کر آجاتا ہے اور انہیں بھگا کر چھپوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔  
 اودھم (اُد۔ دھم) [ہ۔ ا۔ مذ] شور و شر، ہنگامہ، دُناؤ، ہڑوغلہ۔  
 اودھم اٹھانا۔ اودھم مچانا۔ ہنگامہ دُنا دہر پانگرتا۔ بھگڑا اٹھانا۔  
 نہایت شور و غل کرنا۔  
 اودھم مچا رکھنا۔ شور و غل کرنا۔

اودھی (اُد۔ دھی) [ہ۔ صفت] بھگڑا لو۔ فساد۔ شریر۔  
 اودھو کا لین نہ مادھو کا دین۔ [مثل] کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ انگ  
 تھنگ رہنا۔

اُور۔ [ہ۔] [کلمہ عطف] (۱) دو لفظوں کو ملانے والا لفظ (۲) دوسرا (۳) زیادہ (۴) پھر  
 دوسرا مختلف (۵) صرف (فقط) (۶) یا سو گز (۷) نیا۔ جدید (۸) علاوہ  
 ماسوا (۱۰) پر۔ بلکہ۔ سوا (۱۱) غیر (۱۲) خلاف۔ برعکس (۱۳) معلومہ۔ غیر متعین  
 وہ (۱۴) ہاں۔ توہی ہے۔

اُور ارادے سے دیکھنا۔ (معاوہ) بری نیت سے نظر کرنا۔  
 اُور اُور باتیں۔ عجیب عجیب باتیں۔ کچھ کی کچھ باتیں۔  
 اُور بات ہے۔ (معاوہ) انگ معاملہ ہے۔ دوسری بات ہے۔  
 اُور بھی سنا۔ نئی بات سنی۔ تم نے عجیب بات سنی ہے۔  
 اُور تمنا سنا دیکھو۔ نئی انوکھی بات سنو۔

اُور تو اُور۔ جبریت کی بات یہ ہے۔ اُوروں کو ماننے دو۔  
 اُور سٹو۔ (روزمرہ) اچھی ٹھہرو۔ بیٹا زہ بات ہوئی۔ اسے لو۔ دیکھو۔  
 اُور سے اُور (ہو جانا) ہونا۔ (معاوہ) حالت پلٹ جانا۔ ترقی یا تنزل ہونا۔  
 اُور طرف کی راہ لینا۔ (معاوہ) دوسرے راستہ جانا۔  
 اُور عالم میں ہونا۔ (معاوہ) اُور رنگ میں ہونا۔ اُور کیفیت میں ہونا۔  
 آپ میں نہ ہونا۔

اُور عالم ہو جانا۔ (معاوہ) دوسری کیفیت پیدا ہو جانا۔  
 اُور عالم ہونا۔ دُور رنگ ہونا۔

اُور کیا۔ (استغناء) تصدیق اور تنسیخ کے لیے بولا جاتا ہے۔ بیشک  
 یقیناً۔ کیا خوب۔

اُور کو نصیحت اپنے تئیں فضیلت [مثل] اس شخص کی نسبت بولتے ہیں  
 جو اُوروں کو نصیحت کرے مگر خود عمل نہ کرے۔

اُور کے نام اندھے نیچے ہمارے نام کڑک [مثل] اُوروں سے  
 سلوک کرتے ہو ہم سے نہیں بغیر مڑے کریں اپنے بھوکے مری۔

اُور کیا گیا کہنا ہے۔ کیا خوب۔ یوں ہی چاہئے۔ یہی بات ہے۔ ٹھیک۔  
 بے شک۔

اُور گھر (دیکھنا) تلاش کرنا۔ (معاوہ) دوسری جگہ ٹھکانہ کرنا۔  
 اُور نہیں تو کیا۔ (نقہ) یہی بات تو ہے۔

اُور ہوا میں اُڑنا۔ دوسرے رنگ میں ہونا۔ بولا ہوا انداز ہونا۔  
 اُور ہی بات ہے (فقہ) نرالی کیفیت ہے۔ تعریف کی جگہ کہتے ہیں۔

اُور ہے۔ تازہ۔ انوکھا۔ عجیب۔ طرز۔ خلاف۔ واضح۔ خلاف۔ برعکس۔  
 اُور۔ (شور کے ذریعہ) [ہ۔] [۱] طرف۔ سمت۔ جانب (۲) شروع۔ ابتدا (۳)

کناہ۔ چھوڑ (۴) حایت۔ جانبِ دای (۵) منڈلی۔ فریق (۶) صدر۔ آتما۔ اٹھا۔

اوجھا۔ (اوجھا) [ہ۔ ا۔ مذ] (۱) معلّم۔ نجومی۔ رمال۔ جوتشی (۲) جادوگر۔ ماسو  
 سیانا بھار پھرنک کرنے والے برہمنوں کی ایک ذات۔  
 اوجھڑ۔ (اوجھڑ) [ہ۔ ا۔ مثن] ڈھال کی چھڑپ (۲) صدر۔ ضرب۔ بھوکڑ۔  
 اوجھڑ لگانا۔ مارنا۔ ڈھال کی چھڑپ لگانا۔ دشمن کے سر پر سر مارنا۔ دھکا دینا  
 ضرب لگانا۔ صدر دینا۔

اوجھڑی۔ (اوجھڑی) [ہ۔ ا۔ مثن] جانوروں کا معدہ۔ اوجھ۔

اوجھل (اوجھل) [ہ۔ ا۔ مثن] اُڑ پڑہہ حجاب (۲) پوشیدہ۔ غائب۔ از نظر۔  
 اوجھنا۔ (اوجھنا) [ہ۔ مثن] اُنڈینا۔ ایک بزنس سے دوسرے بزنس میں اُٹھانا۔

اوجھا۔ (اوجھا) [ہ۔ صفت] کم ظرف۔ کینہ۔ احسان جملے والا (۲) اُدھوا  
 ہلکا (۳) اُٹھکا۔ چھوٹا۔ (۴) کم گرا۔

اوجھا بزنس اُلٹا ہے (بھگت ہے) [مثل] کم ظرف ٹھوڑی پونجی پر اترنے  
 لگتا ہے۔

اوجھا پین۔ چھپھور پین۔ کم ظرف۔ کیننگی۔

اوجھا دار۔ [ہ۔ مذ] ضرب جو کاری نہ ہو۔

اوجھا ہاتھ پڑنا۔ ہلکا ہاتھ پڑنا جس سے ضرب کم آئے۔

اوجھن پچھن۔ (اوجھن۔ پوچھن) [ہ۔ ا۔ مثن] کھانا کھا چکنے کے بعد بزنسوں میں  
 سے جو بچا ہوا نکالا جائے۔

اوجھی بات۔ نازیا بات۔ ہلکی بات۔ نامناسب بات۔

اوجھی پونجی خصم کو کھائے۔ [مثل] ٹھوڑے رچے سے بیچارہ کرنے میں اصل  
 بھی برباد ہو جاتا ہے۔

اوجھے کا احسان بُرا ہوتا ہے۔ کم ظرف کا احسان کبھی نہ لینا چاہئے۔ کیسے  
 مدد نہ لینا چاہئے۔

اوجھے کی پیریت بالوںی بھیت [مثل] کم ظرف کی دوستی کا اعتبار نہیں  
 اوجھے کے گھر کا کھانا جعم جعم کا طعنہ۔ [مثل] کم ظرف ٹھوڑا احسان کر کے  
 ہیبت طعنہ دیا کرتا ہے۔

اوجھے ہتھیاروں پر اُتر آنا۔ (معاوہ) بس نہ چپنے پر نازیا حرکات پر  
 اُتر آنا۔ کیننگی پر اُتر آنا۔

اوجھشتن کم است کرا رہبری کُند۔ [مثل] جو شخص خود بھٹکا ہوا ہے۔ وہ  
 بھلا کس کی رہبری کر سکتا ہے۔

اُورا (اُد۔ ا) [ہ۔ صفت] مٹھی لٹے ہوئے کالے رنگ کا بینگنی رنگ کا۔  
 اُودا سا۔ اُود سا۔ (اُد۔ وا۔ سا۔ اُد۔ سا) [ہ۔ ا۔ مثن] چٹا۔ مصیبت  
 تکلیف۔ دکھ۔ آفت۔

اُودا ہٹ۔ (اُد۔ وا۔ ہٹ) [ہ۔ ا۔ مثن] بینگنی رنگ کا ہونا۔  
 اُور بلاؤ۔ (اُد۔ ب۔ بلاؤ) [ہ۔ ا۔ مثن] (۱) تلی سے مشابہ ایک جانور جو دیاؤ  
 کے کنارے رہتا اور مچھل بندک کھاتا ہے (۲) بے وقوف آدمی۔

اُود بلاؤ کی ڈھیری۔ وہ بھگڑا کبھی نہیں نہ ہو۔ اُود بلاؤ دو ہتک دریا سے  
 پھلباں پکڑتے رہتے ہیں۔ پھر ان کی ڈھیریاں لگا کر ہر ایک ان میں سے

ایک ڈھیری کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ خیال کر کے کہ جتنے برابر  
 نہیں لگتے تھے ہیں۔ سب اٹھ کر ڈھنڈکتے ہیں اور مچھلیاں ملا کر پھر

ڈھیریاں لگاتے ہیں۔ یہی ہونا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شکاری ان کا



اور کھیت میں کبیر [میشل] بدلوگوں میں نیک کام پیدا ہونا کم نصیب اور نفس کے مہیا صاحب اقبال اولاد ہونا۔ بد صورتوں میں خوب صورت۔ نا اہلوں میں اہل۔

اوسرا۔ (اوس۔ را) [ہ۔ ا۔ مذ] باری۔ فوٹو۔ ڈور۔

اوسط۔ (اوسط۔ ع) [صفت] بیچ کا۔ درمیانی۔ جمع: اواسط۔

اوشدھ۔ (س۔ امش) دوا۔ وہ چیز جس سے بیماری دور ہو۔

اوشدھالیبہ۔ (اوشدھ۔ آ۔ ل۔ بیہ) [س۔ ا۔ مذ] دوا خانہ۔

اوصاف۔ (اوصاف) [ع۔ ا۔ مذ] وصف کی جمع۔ خوبیاں۔ اچھائیاں۔

اوصیاء۔ (اوصیاء) [ع۔ ا۔ مذ] وصی کی جمع۔ وہ لوگ جنہیں وصیت کی گئی ہو۔

اوضاع (اوضاع) [ع۔ ا۔ امش] وضع کی جمع۔ ڈھنگ۔ طریقے۔ افعال و کماز

اوطان۔ (اوطان) [ع۔ ا۔ مذ] وطن کی جمع۔ دیس۔

اوقات۔ (اوقات) [ع۔ ا۔ مذ] وقت کی جمع۔ زمانے [۲]۔ [ا۔ امش] حیثیت۔ بساط۔

اوقات بسر۔ (اوقات) [ع۔ ا۔ مذ] گزارا وقت۔

اوقات تلخ ہونا۔ (معاورہ) ناگوار بات پیش آنا۔ بُری طرح زندگی بسر کرنا۔

اوقات پہلی جانا۔ (معاورہ) گزر بسر ہوتے جانا۔

اوقات ضائع کرنا۔ (معاورہ) بے کار کاموں میں وقت کھونا۔

اوقات کیلہے (معاورہ) حیثیت کیلہے تحقیقت کیا ہے۔

اوقات ہونا۔ (معاورہ) بساط ہونا۔ حیثیت ہونا۔

اوقات۔ (اوقات) [ع۔ ا۔ مذ] وقف کی جمع۔ ایک محکمہ جو وقف جملہ اولاد کا انتظام کرتا ہے۔

اوقات ورتوز۔ [ع۔ ا۔ مذ] سحر پر مبنی ٹھہراؤ اور وقفہ کی علامات کا استعمال

تا کہ مطلب واضح ہو سکے۔ [انگش] (Punctuation)

اوقیہ۔ (اوقیہ) [ع۔ ا۔ مذ] چالیس دم کا وزن۔ انگریزی اونس کے برابر

اوک۔ [ہ۔ ا۔ امش] چیلو۔

اوک سے پیٹا۔ چیلو سے پیٹا۔

اوک چوک۔ (اوک۔ چوک) [ہ۔ ق۔ امش] بھول چوک۔ اتفاق سے کبھی کبھی

اوکنا۔ (اوک۔ نا) [ہ۔ ص] ہٹنے کرنا۔ رد کرنا۔ لٹی کرنا۔

اوکھ۔ [ہ۔ امش] ایکھ۔ گنا۔ پونڈا۔ بیشکر۔

اوکھالنا [ق۔ بھ] قے کرنا۔ زمین کی طرف دیکھنا۔

اوکھد۔ (اوکھد) [ہ۔ امش] دوا۔ دارو۔ علاج۔ معالجہ۔

اوکھلی۔ (اوکھلی) [ہ۔ امش] لکڑی یا پتھر کی بنی اور زمین کی گڑبڑ توئی کو نڈی

جس میں غلہ وغیرہ موصول سے کوٹھنے ہیں۔

اوکھلی میں سردیانا۔ (معاورہ) نمود بلاکت میں پڑنا۔ خوف و خطر کے موقع میں قدم

رکھنا۔ جان پوچھ کر خطرہ میں پڑنا۔

اوکھلی میں سردیا تو دکھوں (موسلوں) سے کیا ڈر [میشل] جب ایک

خطرناک کام شروع کر دیا تو اندیشوں سے کیا ڈرنا۔

اوکھی۔ (اوکھی) [ہ۔ صفت] بے جا۔ بے موقع۔ کھوئی۔ ناقص۔

اوکھیاں (آنا) چھوڑنا۔ اوکھیاں سُنانا۔ آواز بے کنا۔ طعنہ زنی کرنا۔

اوکھے گوکھے [ہ۔ صفت] ایسے ویسے۔ گنوار۔ دیوانی۔ احمق۔ بے وقوف۔

اوکھیلنا۔ (اوکھیل۔ نا) [ہ۔ ص] بی بی ہوئی ڈوری کا بل کھونا۔

اوگرا۔ (اوگ۔ را) [ہ۔ صفت] اُبالا ہوا۔ بے کھی کا بچا یا بچا کھانا۔ بے غم کھانا

اوگن۔ (اوگن) [ہ۔ ا۔ مذ] گن کی ضد (۱) عجیب نقص (۲) بے بہتری (۳) بُرائی

(۴) بدتمیزی (۵) بچاؤ غلط (۶) جرم۔

اوگن لگانا۔ تمت دھنا۔ الزام لینا۔ عجیب لگانا۔

اوگنا۔ (اوگ۔ نا) [ہ۔ ص] [۱] غصے کے وقت سلوک اور احسان جتنا نام (۲) طبع ہونا (۳)

اوگھٹ۔ (اوگھٹ) [ہ۔ صفت] (۱) ڈیرھا۔ نا ہموار (۲) دستار۔ نا قابل گزیر۔

اوگھٹ گھاٹی۔ (ہ۔ ص) [۱] ڈیرھا گزرا راستہ جس راہ سے گزنا محال ہو۔

اوکھی۔ (اوکھی) [ہ۔ امش] لمبا چابک۔ وہ لمبی رسی جسے پکڑے کھینچا کرنے

سے زور کی آواز نکلتی ہے۔ گھڑوں کے سدھانے اور پرندوں کے

اڈانے میں کام آتا ہے۔

اوگی۔ (اوگی) [ہ۔ امش] کارچوٹی جڑنے کا پتہ۔ عملی جوتے کا کا مارتنا۔

اول۔ [ہ۔ امش۔ مذ] (۱) ایک قسم کی نگاری (۲) وہ آدمی جو ضمانت میں دیا جائے (۳) ضمانت

اول میں چول دہی میں موسل [مشل] اس جگہ کہتے ہیں جب کسی ہاتھ کے

ٹوکریں کوئی اور بات جس کا اس ذکر سے کچھ نا سمجھت نہ ہو پھیر دی جلتے

یا ہونے جڑنے کام میں کوئی آڑ بھگا لگ جلتے۔

اول میں دینا۔ اپنے بیٹے یا رشتہ دار کو بطور ضمانت سپرد کرنا ضمانت میں دینا۔

اول۔ (اول) [ع۔ صفت] (۱) پہلا۔ مقدم۔ پہلے (۲) آغاز۔ ابتدا۔ شروع۔

(۳) بہتر۔ عمدہ۔ اعلیٰ۔ افضل۔ جمع: اول۔

اول آخر۔ (۱) ابتدا۔ انتہا (۲) باپ دادا۔ آل اولاد۔

اول اول۔ پہلے پہلے۔ ابتدا میں۔

اول با آخر نسبتے دار۔ [ن۔ مقلوہ] آغاز اور انجام میں تعلق ہونا ہے

ابتداء سے ہی انجام کا اندازہ ہونا۔

اول خویش بعدہ درویش [میشل] پہلے اپنے اعوہ کے ساتھ سلوک کرنا

چاہئے۔ اس کے بعد عیروں سے۔

اول دن سے۔ ابتدا سے۔ شروع سے۔

اول طعام بعدہ کلام۔ [مشل] کھانا باتوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔ کھانا

مقدم ہے۔ کھانے بیکر کچھ نہیں ہو سکتا۔

اول مرنا آخر مرنا پھر مرے سے کیا ڈرنا۔ [میشل] جب ایک دن مرنا

ہی ہے۔ پھر موت سے خوف کیسا؟

اول منزل۔ (نبر سے مراد ہے۔ گور۔ لحد۔

اول منزل پہنچانا۔ (معاورہ) دفن کرنا۔ قبر میں اتارنا۔

اول منزل کر دینا۔ (معاورہ) دفن کر دینا۔

اوللا۔ (اول۔ لا) [ہ۔ ا۔ مذ] (۱) بخارات کے جھے ہوئے فطریے جو برف

کی شکل میں آسمان سے گرتے ہیں (۲) شکر یا قند سے بنائے ہوئے لٹو۔

(۳) نہایت سرد

اولا ہو جانا۔ بہت ٹھنڈا ہو جانا۔

اولوں کا مارا کھیت باقی کا مارا گاؤں چیلوں کا مارا جو لھان نہیں پہنچا۔ [مشل]

جس کھیت میں اولے پڑ جائیں سرد نہیں ہوتا جس گاؤں کی مال گڈاری اور انہیں ہنسی

کبھی آباد نہیں ہوتا جس جو لھے سے دم بدم چلے جاتی ہے اس میں آگ نا نہیں کھاتی

۴۹۹ ق م میں ہوا تھا) (۲) زمانہ حال کے بین الاقوامی کھیلوں کے  
 معاملے جو ہر چوتھے سال ہوتے ہیں۔  
 اولو۔ (اؤ۔ ٹو) [ع۔ صف] اوپری۔ نیار۔ ناموزون۔ اونکھا۔  
 اولو اولو۔ اوپلا اوپری۔ نیانیا۔ اکھڑا اکھڑا۔  
 اولو۔ (اؤ۔ ٹو) [ع] مالکان۔ تغاضبان۔ صاحبان۔  
 اولو ائی بصرار۔ صاحب بصیرت۔ دانا۔ سمجھ دار لوگ۔  
 اولو المالباب۔ صاحبان عقل و خرد۔ مشور والے۔  
 اولو المامر۔ صاحبان حکم۔ باختیار لوگ۔  
 اولو العزم۔ صاحبان عزم و ارادہ۔ صاحب عزم۔ دل چلا۔ عالی حوصلہ۔  
 دل گردے کا۔ بہادر۔  
 اولو العزمانہ۔ اولو العزم کی طرح۔  
 اولو العزمی۔ بلند چستی۔ جرات۔ استقلال۔  
 اولی۔ (اؤ۔ لا) [ع۔ صف] بہتر۔ اچھا۔  
 اولی تر۔ زیادہ بہتر۔ بہت اچھا۔  
 اولی ترین۔ سب سے بہتر۔  
 اولیا۔ (اول۔ تی) [ع۔ صف] دلی کی جمع۔ صاحب خلدندہ۔ مالک۔ زمین۔ دوست۔  
 (اصطلاحاً) اہل اللہ۔ خداسیدہ۔ سیدھا اور بھولا لہا آدمی۔  
 اولیار اللہ۔ وہ لوگ جنہیں قرب خلدندی حاصل ہے۔ عارفان الہی۔ اہل اللہ۔  
 اولیار دولت۔ امکان حکومت۔ امیر وزیر سردار۔  
 اولیکے گھر بھوت [مثل] نیوں کے گھر بد بھلے آدمی کے گھر بد اولاد۔  
 اولی اجمتہ۔ (اؤ۔ لی۔ آج۔ ان۔ حد) [ع۔ صف] بال و پروں والے۔  
 (کنایتہ) فرشتے۔  
 اولیت۔ (اؤ۔ وی۔ لی۔ نیت) [ع۔ ا۔ منٹ] اول ہونا۔ بہتری۔ فوقیت۔ تقدم۔  
 اولیل۔ اولول (اؤ۔ میل۔ اول۔ بول) [ع۔ ا۔ منٹ] گھوڑے کی اچھل کود۔  
 اولین۔ (اؤ۔ وی۔ لین) [ف۔ صف] پہلا۔ اگلے لوگ۔ پھیلنے والے۔  
 اولینڈنا۔ (اؤ۔ نے ن ڈنا) [ق۔ مص] آئینہ۔ ٹوٹنا۔  
 ادم۔ (س۔ ا۔ ند) [ا] ایشور کا سب سے مخدس نام (۲) ہاں۔ واقفی۔ آئین۔  
 اون۔ (اؤ۔ ند۔ نٹم) جانوروں کی کھال کھال (۲) صوف۔  
 اونا۔ (اؤ۔ نا) [ع۔ صف] جو بورا دھرا ہو (۲) پھوٹا۔ کم۔ ناقص (۳) [منٹ]  
 ایک قسم کی تلوار جو پتلی اور چھوٹی ہوتی ہے۔  
 اونا ہوجانا۔ (معاودہ) تلوار کی دھار کا آنا جانا۔ خراب ہوجانا۔  
 اوجھی۔ (اؤ۔ جھی) [ع۔ ا۔ منٹ] (۱) کچے کچے گھبوں کے گھنے ہونے والے  
 (۲) جنگلی یا پھیلنے والے کو پکڑنے کا خش پوش کرنا۔  
 اونٹ۔ (اؤ۔ ا۔ ند) شتر۔ ایک پانچواں زور جو گھینسا میں سواری اور بار بار اڑا  
 کے کام آتا ہے۔  
 اونٹ بڑھا ہوا۔ ابرموت سنانہ آیا [مثل] انا ہوا مگر تیز آئی۔  
 اونٹ برابر ڈیل بڑھایا یا پیش بھر عقل نہ آئی۔ [مثل] انا ہوا ڈیل اور  
 عقل ذرا نہیں۔ اونٹ کی برابر بڑھ گیا مگر تیز خاک نہ آئی۔  
 اونٹ بلبلا تا ہی لنتا ہے۔ [مثل] اس جگہ کہ جس میں کوئی شخص  
 کام کرنے وقت بڑھتا ہو۔

اولوں ماری ناختر۔ مصیبت زدہ۔ دکھیاری۔  
 اولے بڑنا (معاودہ) نزالہ ماری ہونا۔  
 اولے نعلے بسانوں جیسے۔ [ع۔ منٹ] آفت دور ہو جائے تو آدم ہوجانا۔  
 اول۔ (اؤ۔ ون) [ع۔ تابع فعل] سب سے پہلے۔  
 اولاد۔ (اؤ۔ لاد) [ع۔ ا۔ منٹ] ولد کی جمع۔ بال بچے۔ بیٹی بیٹی۔ آل و عیال۔  
 لٹکے بالے نسل۔  
 اولاد آدم۔ (ع۔ مذ) انسان۔ آدمی۔  
 اولاد اناث۔ بیٹیاں۔  
 اولاد و کور۔ بیٹے۔  
 اولاد صحیح النسب۔ حلال کی اولاد۔  
 اولاد کی آج بڑی ہوتی ہے [مثل] اولاد کی مانند بہت بڑی چیز ہے  
 اولاد کی محبت میں آدمی سب کچھ کر بیٹھا ہے۔  
 اولاس۔ [ق] شوق۔  
 اولاسا۔ [ق۔ ا۔ منٹ] دلاسا۔ تسلی۔  
 اولالا۔ [ق۔ ا۔ مذ] دلور۔ جوش۔  
 اولالی۔ [ق] بے ہوشی۔ بے راہ روی۔  
 اولامولا۔ (اؤ۔ لا۔ مو۔ لا) [ا۔ صف] سہوہ۔ اول معلول۔  
 اولتی۔ (اول۔ تی) [ع۔ ا۔ منٹ] کھپریل یا پھیر کا وہ حصہ جہاں سے بارش کا  
 پانی نیچے گرتا ہے۔  
 اولتی کا پانی بلند ٹری نہیں چڑھتا [مثل] کینہ شرافت کے مرتبے کو  
 نہیں پہنچ سکتا۔  
 اولتی تلے کا بھوت، ستر رکھوں (پشتوں) کا نام چلنے۔ [مثل]  
 گھر کا بھیدی ہی خواب کرتا ہے۔  
 اولتیوں جھنگ جو آدمی۔ [مثل] سب کو بے وقوف بنا دیا۔  
 اولتیوں کا بھگ جو نا۔ بدستی کرنا۔  
 اولتام (Oldtom) (اول۔ تام) [انگ۔ ا۔ منٹ] ایک قسم کی انگریزی شراب  
 اول جلرل۔ (اول۔ ج۔ نول) [ا۔ صف] بے ہودہ۔ بے ڈھنگا۔ بے فربہ  
 اول جلرل ہونا (معاودہ) بے عقل۔ بے وقوف۔ بے سلیقہ۔  
 اول فول بکنا۔ (معاودہ) (اول۔ فول بکنا) [ا۔ صف] لغویات کرنا۔  
 بے ہودہ باتیں کرنا۔ فحش بکنا۔  
 اولجا۔ (اول۔ جا) [ع۔ ا۔ مذ] کھیت کا پانی ایچھے کا برتن۔  
 اولکھن۔ (اؤ۔ کھن) [ق] بڑھتی۔  
 اولما۔ (اول۔ ما) [ا۔ مذ] (۱) انڈون میں قیر بھس کے پکانا (۲) کھال تارنا  
 گرم پانی جسم میں ڈال کر یا جسم کو گرم پانی میں ڈال کر کھال تارنا۔  
 اولما کرنا۔ قیر بھس کرنا بھسے ہوئے کرنا۔  
 اولمپک۔ (Olympic) (او۔ لم۔ پک) [انگ۔ صف] یونان  
 کے ایک میدان اولمپیا سے منسوب جہاں ہر چوتھے سال اہل یونان  
 کے ادنی اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے۔  
 اولمپک کھیل (Olympic Games) (۱) اہل یونان کے ادنی  
 اور ورزشی مقابلے جو ہر چوتھے سال ہوتے تھے (سب سے پہلا مقابلہ

مکے میں فروخت کر دوں گا۔ لیکن اونٹ مل جلانے پر بڑی تشویش ہوئی کہ اسے مکے میں کیسے بیچ دوں۔ اس نے اونٹ کے گتے میں ایک بی بانہ دھوی اور آؤ آؤ لگائی کہ اونٹ کو مکے میں اور بی کو ڈیڑھ سو روپے میں بیچا ہوں مگر ایک دو روپے سے علیحدہ فروخت نہ ہوگا۔ اونٹ کے گتے میں زبرہ [مثل] بڑے پیٹ والے کو ذرا سی چیز کھانے کو دینا کسی چیز کا ضرورت سے کم ہوتا۔

اونٹ کاؤ۔ زرافہ۔ افریقہ کا ایک جانور جس کی گردن اونٹ کی طرح لمبی، آگے کے پاؤں لمبے اور پیچھے کے چھوٹے ہوتے ہیں۔

اونٹ لہے بے گاری۔ [مثل] اونٹ بیگا رہیں خوب لڑتا ہے جننا بیچھا جالا لا دیا کوئی رو رہیں۔ جب کسی کو کسی کام پر مجبور کیا جائے اس وقت کہتے ہیں۔

اونٹانا۔ (اون۔ ٹانا) (ہ۔ میس) (۱) جوش دینا۔ کھولانا (۲) غصہ میں جھلانا۔

اونٹنا۔ (اونٹ۔ نا) (ہ۔ مص) (۱) کھولنا جوش کھانا (۲) غصہ میں جھلانا۔

اوپنی۔ (اونٹ۔ نی) (ہ۔ امٹ) مادہ اونٹ۔ ساندنی۔ ناقہ۔

اوپنی۔ (ہ۔ مٹ) بیلن۔ کپاس بیلنے کی مشین۔

اوپچ۔ (ہ۔ امٹ) اونچا۔ بلندی۔ فراز۔ اوپر اٹھا ہوا۔ بڑا اچھا۔

اوپچ نیچ (معاورہ) اونچا بیچا۔ آثار چھٹاؤ (۲) بھلائی برائی۔ نیک و بد نفع و نقصان۔

اوپچ بیچ تانا۔ اوپچ بیچ دکھانا۔ اوپچ بیچ سمجھانا۔ (معاورہ) نیک و بد جانا۔ نیشب و فراز سمجھانا۔

اوپچ نیچ (سمجھنا) سوچھنا۔ (معاورہ) نیک و بد کی پہچان ہونا۔

اوپچ نیچ ہو جانا (معاورہ) (۱) بھلائی برائی پیش آنا (۲) خرابی پڑ جانا۔ قیاحت واقع ہونا۔

اوپچا۔ (اؤں۔ چا) (ہ۔ صفت) (۱) بلند۔ بالا۔ (۲) درازت (۳) امیر۔ دولت مند۔ (۴) عالی مرتبہ۔ معزز۔

اوپچا بول بولنا (معاورہ) تیز کرنا۔ مغرور ہونا۔ فخر کرنا۔

اوپچا چڑھنا۔ (معاورہ) اونچی جگہ پر چڑھنا۔ اعلیٰ درجہ حاصل کرنا۔ ترقی کرنا۔

اوپچا نر (۱) وہ نر باناں جو موسیقی میں آواز نکالتی ہے (۲) بلند آواز۔

اوپچا (سنتا) سنتا دینا۔ (معاورہ) کم سننا۔ بہرہ ہونا۔

اوپچا (گھر) گھرانا۔ امیر گھر۔ معزز خاندان۔

اوپچا نیچا۔ نا ہوار۔ غیر سطح۔

اوپچا لاٹھا۔ بالادست۔ حیرت۔ بافیض۔

اوپچا لاٹھرہنا۔ (معاورہ) سب سے ٹھہر جانا۔ ہمیشہ دیتے رہنا۔ قابو پانا۔

اوپچی۔ (اؤں۔ چی) (ہ۔ صفت) بلند۔ اونچائی کا تائید۔

اوپچی اسانی۔ مال دار آدمی۔

اوپچی جوئی۔ بہاؤ کی بلند جوئی۔

اوپچی دکانی پھیکا پھوان۔ [مثل] خوب سہمی ہوئی دکان نگر مال خراب (نام) اڈ شہرت کے خلاف یا اچھا نام شہور نگر اصل میں ذلیل بطور طعن و تشنیع کہتے ہیں۔

اوپچی ناک کرنا۔ (معاورہ) آبرو رشتہ عزت دینا۔

اوپچی ناک والا۔ بڑا مغرور۔ سخی خور۔ اظہاراً بے غیرت۔

اونٹ بڈیاں لے گئیں ہاں جی ہاں جی کہتے۔ [مثل] ناچار خود نامدی کے متعلق کہا جاتا ہے جو کسی کو خون کرنے کے لیے دن کو رات کہتے کو تیار ہو۔

اونٹ جب بھاگتا ہے تو پیچھ کو۔ اونٹ کے ہی کی طرف بھاگتا ہے [مثل] ہر ایک اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔

اونٹ جب تک پہاڑ کے پیچھے نہ آئے اپنے سے اونچی کسی کو نہیں جانتا [مثل] اپنے سے زبردست کا مقابلہ ہونے پر اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

اونٹ چڑھے ہونٹ مانگے [مثل] بے موقع، بے محل بات کرنے کی جگہ کہتے ہیں۔

اونٹ چڑھے کتا کلاٹے [مثل] نہایت بظہمی کے موقع پر کہتے ہیں۔ اونٹ دیکھے کس (محل) کروٹ بھٹتا ہے۔ [مثل] کسی معاملہ کی نسبت کہتے ہیں کہ دیکھا ہوتے کہ کیا ہو اور کیا نتیجہ نکلے۔ انجام کیا ہو۔

اونٹ ڈو میں بھڑپن گھاہ مانگیں۔ [مثل] اس جگہ کہتے ہیں جہاں کسی امر میں بڑوں کی حقیقت نہ ہو اور ادنیٰ آدمی اپنی جیلانے کی کوشش کرے۔ بڑی مصیبت والے فریاد نہیں کرنے یعنی تنکلیف والے جیلانے ہیں (۲)

جہاں بڑے کی حقیقت نہ ہو وہاں چھوٹے اپنی جیلانے ہیں۔ اونٹ رے اونٹ تیری کوسنی کل سیرھی [مثل] بے دقتی آدمی کی نسبت کہتے ہیں جس کی کوئی بھی بات ٹھکانے کی نہ ہو۔

اونٹ سستا ہے شاہنگل ہے [مثل] اس موقع پر بولتے ہیں جب معمولی کام کے ساتھ کوئی بڑا ابھیرا ہوتا ہے۔

اونٹ فرشتے کی ذات ہے [مثل] اونٹ نہایت علم صابر اور ذرا نفع جاوز ہے۔ بڑا ہی نیک ہے۔

اونٹ کا پاد۔ بے اثر بات۔ گوزنتر۔ بے فائدہ بات۔ بے تکی بات۔ اونٹ کا پاد زمین کا نہ آسمان کا [مثل] بے تکی بات۔ نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔

اونٹ کا پاد اوپچا جائے [مثل] بڑوں کی برائی اور عجیب اکثر چبھے رہتے ہیں۔

اونٹ کٹارا۔ ایک خاردار رھاڑی جو زمین پر پھیلی ہے۔ اسے اونٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔

اونٹ کو کون نے چھیر چھیلے [مثل] بے ضرورت باتیں کون کرتا ہے۔ اونٹ کی کپڑ اور عورت کے مکر سے خدا بچائے [مثل] اونٹ کی کپڑ اور پھر نہیں چھوڑنا۔ بدن کا حصہ آگ کر دینا ہے اور عورت کے مکر اور زبردست انسان نہیں جان سکتا۔

اونٹ کی کپڑ کتے کی چھپٹ [مثل] اونٹ کپڑ لینا ہے تو چھوڑنا نہیں اور کتا جب کسی پر چھپتا ہے تو رکتا نہیں۔

اونٹ کی چوری سہورے سہورے یا اونٹ کی چوری جھکے جھکے [مثل] ایسی برائی کی کوشش جو چھپ نہ سکتی ہو۔

اونٹ کی چوری سر پھیلنا۔ (معاورہ) اتنے بڑے جانور کی چوری چھپی نہیں ہوتی اونٹ کے گتے میں ہی۔ [مثل] (۱) بے میل فرشتہ (۲) بیجا اٹھا و اٹھل ہے کہ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس نے غم کھائی کہ اگر مل گیا تو









ایرانی - (ای - را - نی) [ف - صف] ایران سے منسوب - ایران کا باشندہ -  
ایران کی کوئی شے -  
ایرپھیر - (ایر پھیر) [ہ - ا - مٹ] (۱) بار بار مال کی خرید و فروخت (۲)  
چالاکی - فریب -  
ایرپھیر کے توڑنا - جس کو کبھی ایک پڑے میں اور کبھی دوسرے میں رکھ کر  
توڑنا تاکہ پانگ کی کمی زیادتی نہ رہے -  
ایرپے پھیرے - (اے - رے - پے - رے) [ہ - ا - مٹ] بار بار آنا جانا -  
ایرپے پھیرے - (اے - رے - پے - رے) [ہ - ا - مٹ] اجنبی معمولی آدمی  
کم حیثیت -  
ایسے غیر سے بچ گلیان - اجنبی لوگ - دیکھیے ایراغیرا -  
ایریا - (Area) ایریا [انگ - ا - مٹ] (۲) ترقہ - علاقہ -  
ایریل (Aerial) ایریل [انگ - صف] (۱) صفائی - ہوائی (۲) [مٹ]  
وائرس یا ریڈیو - ٹی - وی کا وہ تار جو فضا سے ہوائی لہریں وصول کرتا ہے  
ایڑ - (ہ - ا - مٹ) [مٹ] تھیر - ایڑی -  
ایڑ لگانا - ایڑی کی چوٹ کھانا -  
ایڑ مارنا - (مخادو) ہوتے ہوئے کلم میں ڈنگ لگانا دینا (۲) اُسنا - اُھاننا (م) گھوڑے  
کو چلانا -  
ایڑی - (اے - ڈی) [ہ - ا - مٹ] ٹخنے کے نیچے پیر کی گدی کا حصہ جو تلے  
کا پچھلا حصہ -  
ایڑی چوٹی پر سے وارنا - ایڑی چوٹی پر سے قربان کرنا - ایڑی چوٹی پر سے  
نثار کرنا - (مخادو) خیر و ذلیل کھنا - ذرا عورت نہ کرنا -  
ایڑی چوٹی پر سے کھانے کوں (مخادو) ایڑی چوٹی پر قربان کرنا - اپنے  
سر پاؤں پر سے قربان کرنا -  
ایڑی چوٹی کا پسینہ (ایک گردنا) ہما دینا - (مخادو) سر کا پسینہ پاؤں  
کے پسینے سے جاملنا - ہمت زیادہ کوشش کرنا بے انتہا جدوجہد کرنا -  
ایڑی چوٹی کا زور لگانا (مخادو) پوری کوشش کرنا -  
ایڑی دیکھنا - (مخادو) نظر بدوڑ کر کے لیے کسی عزیز کی ایڑی  
پر نظر ڈالنا -  
ایڑی سے چوٹی تک (۱) سر سے پاؤں تک (۲) اول سے آخر تک -  
ایڑی کا پسینہ سر کو آنا - حد سے زیادہ دوڑ دھوپ کرنا -  
ایڑیاں رگڑنا - (مخادو) بڑی تکلیف کے ساتھ چلنا (۲) نہایت مصیبت  
کے ساتھ زندگی گزارنا (۳) آخری عمر کی بیماریاں بھیلنا (۴) ہٹ کرنا  
چھلنا (۵) جانگمی کی اذیت اٹھانا -  
ایڑیاں رگڑو اگر (مخادو) خواب کر کے محنت و مشقت کرا کے -  
ایڑیاں رگڑو (مخادو) بہت زیادہ خوشیاں دیکھ کر نا بے حد دھوپ کرنا -  
ایڑیاں گھس جانا - (مخادو) ہمت دوڑ دھوپ کرنا بہت محنت کرنا -  
ایڑیاں گھس گھس گھس - (مخادو) انتہائی دوڑ دھوپ کی بے حد کوشش کی  
ایڑاؤ - (ای - زاد) [ہ - ا - مٹ] زیادہ کرنا - اضافہ - زیادتی -  
ایڑاؤ - (ای - زاد) [ہ - ا - مٹ] زیادتی -

جلگہ طنز سے کہتے ہیں -  
ایجا ز - (ای جان) [ہ - ا - مٹ] چھوٹا کرنا - مختصر کرنا -  
ایجنٹ (Agent) [انگ - ا - مٹ] گمشدہ - سطحی - قائم مقام  
ایجنڈا - (Agenda) [اے - جنڈا] [انگ - ا - مٹ] (کسی جلسے کا)  
کارڈائی - نامہ پیش نامہ کسی اجنبی یا جماعت کی وہ نکتہ چینی جو اس کے اجلاس  
قبل تمام ارکان کو بھیجی جاتی ہے اور اس میں وہ امور درج ہوتے ہیں جن پر  
اجلاس میں بحث کی جاتی ہے -  
ایجنسی (Agency) [اے - جن سی] [انگ - ا - مٹ] کمیشن - آڈٹ  
وہ دوکان جس کی معرفت کسی چیز کی خرید و فروخت ہو -  
ایجوکیشن (Education) تعلیم - وڈیا  
ایچیٹیوٹر (Agitator) تحریک کرنے والا - جوش بھیلنے والا -  
ایچیٹیویشن (Agitation) [اے - جی - ٹے - ٹن] [انگ - ا - مٹ]  
ستیر گہ - شور شر - تحریک -  
ایچ پیج - (ایچ - پیج) [ہ - صف] چکر بکر و فریب -  
ایچ پیج نہ جانا - زمانے کے کمزور فریب سے واقف نہ ہونا - سیدھا سادا ہونا -  
ایڈوانس (Advance) [ایڈ - وائس] [انگ - ا - مٹ] ترقی پیشگی -  
ایڈوکیٹ (Advocate) [ایڈ - و - کیٹ] [انگ - ا - مٹ] وکیل  
ڈائی کورٹ میں پیش ہونے والا وکیل -  
ایڈوکیٹ جنرل - سرکاری وکیل جو صوبائی یا مرکزی حکومت کی جانب سے  
ڈائی کورٹ میں پیش ہو -  
ایڈیٹر (Editor) مدیر - کسی کتاب - قلم - رپورٹ - اخبار یا رسالے  
کو ترتیب دینے والا -  
ایڈیٹوریل (Editorial) [انگ - مٹ] ادارہ یا مقالہ انتہا حیر -  
ایڈیشن (Edition) طبع - اشاعت -  
ایڈی کاٹنگ (Aid-De-Camp) [اے - ڈی - کاٹنگ] [انگ - ا - مٹ]  
حاکم اعلیٰ کے ماتحت حکم بردار افسر - مصاحب -  
ایڈا - (ای - ڈا) [ہ - ا - مٹ] (۱) دکھ دینا - تکلیف پہنچانا (۲) تکلیف  
دکھ - اذیت -  
ایڈا جنڈہ (رساں) [ف - صف] تکلیف دینے والا -  
ایڈا طلبی - [ف - مٹ] تکلیف چاہنا -  
ایرا - اروپ - [ا - مٹ] شطرنج میں ایک فہرہ جو بادشاہ کو شکست سے بچانے  
کے لیے بیچ میں ڈالا جاتا ہے (۲) آڑ - بلاک -  
ایرا پھیری - (اے - وا - پے - ری) [ہ - ا - مٹ] ہیرا پھیری - لوٹ پلٹ  
بار بار آنا جانا -  
ایراڈ - (ای - راڈ) [ہ - ا - مٹ] اعراض - عیب جوئی -  
ایراغیرا - (اے - واغے - را) [ہ - ا - مٹ] (۱) اجنبی (۲) ادھر ادھر کا (۳)  
معمولی حیثیت کا آدمی -  
ایراغیرا ننھو خیرا - کم حیثیت آدمی - ادنیٰ حیثیت والا - ہر کوئی -  
ایران توران کرنا - [آر - مص] زمین و آسمان کے فدا بے ملانا منظور اور  
مباہتے کی گفتگو کرنا - تلاش کرنا -

ایزو۔ (اسے۔ زد) [ت۔ امت] اشتغالی خدائے کویم۔  
 ازودی۔ (اسے۔ زد) [ت۔ امت] ازود سے منسوب۔ خدائی۔  
 آتیا۔ (اسے۔ سا) [ہ] اس قسم کا۔ اس دھنگ کا۔ اس طرح کا۔ اس انداز۔  
 ایسا تیا۔ معمولی فضول۔ کینہ۔ نالائق۔ کلہر خھارت۔  
 ایسا جیسے رپے کے ٹکے بھنایا لیتے [مثل] صفات معاملہ اور کھرا آدمی۔  
 ایسا کیا گیا کرتا ہے۔ بالکل نکمّا تو نہیں ہے۔ اننا ذلیل و خوار نہیں ہے۔  
 ایسا کیا گز رہا ہے۔ بالکل نکمّا ہے فضول ہے۔  
 ایسا منہ نہیں۔ اننا ہمت نہیں۔ اننا حوصلہ نہیں۔  
 ایسا بیٹھا کیا ہے۔ کچھ فائدہ نہیں۔ نفع کیا ہے۔

ایسا نہ کلکنا جواب نہ ہونا۔ محسّر نہ ہونا۔  
 کسا نہ ہو۔ خدا نہ کرے۔ خدا نخواستہ۔ مبادا۔  
 ایسا ویسا۔ (۱) برابلا (۲) ادنیٰ۔ کم قدر۔ گیمہ گھٹیل (۳) بے اعتبار۔ نکمّا  
 ناکارہ۔ ناجیز (۴) دایا بات۔ بہرہ۔  
 ایسا ویسا بھانا نہیں خوان ملو کا آنا نہیں [مثل] جو قیصر سے وہ پند نہیں  
 بادشاہی کھا نا نصیب نہیں۔ مخمّاجی میں شاہی مزاج ہیں۔

ایس۔ ڈی۔ (Senior Anglo Vernacular)

سینئر اینگلو ورنیکلر کا مخفف۔ ایک امتحان جسے دسویں جماعت کے بعد  
 پاس کرنے سے امیدوار کو کئی میں درس ہو سکتا ہے۔  
 ایسٹ انڈیا کمپنی (East India Company) (ایسٹ۔ انڈ  
 ڈی۔ یا۔ کم۔ پ۔ نی) (انگ۔ ۱۔ مش) مشرقی ہندوستانی۔ انگلستان کے  
 تاجروں کی وہ جماعت جو ملکہ الزبتھ اول کے زمانے میں بغرض تجارت پہلے  
 مشرقی ہند میں آئی۔ پھر رفتہ رفتہ تمام ملک پر قبضہ کر لیا۔  
 ایسٹر (Easter) (ایس۔ ٹر) (انگ۔ ۱۔ انڈ) عیسائیوں کے اعتقاد میں  
 حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا دن عیسائیوں کا  
 ایک تہوار جو ۲۱ مارچ یا اس کے بعد کے تواریک کو حضرت عیسیٰ کے وفات کے  
 بعد دوبارہ زندہ ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔

ایسڈ (Acid) (ایس۔ برڈ) (انگ۔ ۱۔ انڈ) تیزاب کھٹی چیز کھٹائی۔ تڑسی۔  
 ایسیر۔ (ای۔ بی۔) (ہ۔ ۱۔ امت) مال۔ دولت۔ روپیہ۔ پیسہ۔  
 ایسیر آئیں دلدر جائیں۔ [مثل] دولت آئے۔ دولت دور ہو۔  
 ایسیر سے چھینٹ ہمیں دلدر سے بگاڑ۔ [مثل] مال اڑوں سے  
 جان بچان نہیں غریبوں سے دشمنی ہے۔

ایسوسی ایشن (Association) (ایس۔ سی۔ ایشن) (انگ۔ ۱۔ مش)

اشن۔ سبھا۔ بزم مجلس۔  
 ایسی۔ (ایس۔ سی) [ہ] اس قسم کی۔ اس طرح کی۔ اس فونے کی۔ اس مانند۔  
 ایسی فقہر کہاں۔ (معاورہ) ایسے نصیب کہاں۔  
 ایسی تپسی کرنا۔ (معاورہ) برابلا کتنا سخت کلامی کرنا (۲) بہت خراب کام کرنا۔  
 ایسی تپسی میں جائے۔ (معاورہ) ہمیں کیا غرض جو ہو سو ہو بھارت میں جائے۔  
 ایسی کسی کو چھانسی۔ (معاورہ) جب کوئی چھتا ہنرہ کسی پر کسا جلتے تو اس جگہ  
 مذاق سے کہتے ہیں۔  
 ایسی کسی کہ دھوئے نہ چھوٹے۔ اتنی سخت بات کسی کہ اس کا اثر ہرگز نہیں

جائے گا۔ دل کی لگتی ہوئی جس کا جواب نہ ہو۔  
 ایسی کیا تیرے ہی تلے گنگا بہا رہی ہے۔ [مثل] تجھ میں کیا خصوصیت  
 ہے۔ کیا تو ہی بڑا مالدار ہے اور کوئی نہیں۔  
 ایسی کیا فاضلی کی گدھی بھائی ہے۔ [مثل] میں نے کیا جوڑم کیا ہے  
 بھگے کسی کا کیا ڈر ہے۔  
 ایسی ویسی۔ رسمی۔ بے حقیقت۔  
 ایسی ویسی بات کرنا۔ کوئی نا زیبا بات کرنا۔ ناشائستہ حرکت کرنا۔  
 ایسی ویسی چیز۔ خواب چیز۔ بے حقیقت چیز۔  
 ایسی ویسی ہونا۔ (معاورہ) (۱) مصیبت واقع ہونا۔ مر جانا (۲) مغلّا  
 شان بات ہونا۔

ایسے۔ (ایس۔ سے) [ہ] اس دھنگ سے۔ اس طرح سے۔  
 ایسے رتو ایسی کا جل ڈال لینے پر کسی [مثل] بغیر بناؤ سنگار کے  
 تو یہ کیفیت ہے۔ بناؤ سنگار پر کیا حال ہوگا۔

ایسے پرتین حرفت بھیتے ہیں (معاورہ) لعل طعن کرتے ہیں۔ بُرا جانتے ہیں۔  
 ایسے تو میری جیب میں پیسے دھتے ہیں (معاورہ) تم جیسے کتوں کو  
 چلا دیتا ہوں میں تمھارے فریب میں نہیں آسکتا ہوں۔  
 ایسے کہاں کے ہیں۔ (معاورہ) ایسے کیا سرخاب کے پرگے ہوں۔ کہاں  
 کے جوڑمعی ہیں۔ کون سی خصوصیت ہے۔

ایسے کیا لعل لگے ہیں۔ (معاورہ) ایسی کون عجیب بات ہے۔  
 ایسے کیا کپڑے پڑے ہیں (معاورہ) کیا خرابی ہے۔ کیا بُرائی ہے۔  
 ایسے کپڑے پڑیں گے۔ (معاورہ) ایسی بُری حالت ہوگی۔

ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینک (معاورہ) عمدہ محض ہو گئے  
 نشان تک باقی نہیں رہا۔ ایسے غائب ہوئے کہ پتہ تک نہ لگا۔  
 ایسے لڑکے بہت کھلائے ہیں۔ (معاورہ) میری جیب میں ایسے  
 بہت پڑے ہیں۔

ایسے پسرے بھولے۔ جب کوئی شخص جان بوجھ کر نادانف بناتا ہے  
 تو اس کو طنزاً کہتے ہیں۔

ایسے میں۔ اس حالت میں۔ ایسے موقع پر۔ اس دوران۔  
 ایسے ویسے۔ معمولی۔ کم درجے کے۔  
 ایسے ہوتے تو بقر عید کے کام آتے۔ نکلے آدمی کی نسبت کہتے ہیں  
 جو کسی قابل نہ ہو۔

ایسے ہی۔ اسی طرح۔ بغیر کسی وجہ یا سبب کے۔  
 ایسے ہی بھولے ہیں (طنز) یعنی نادان نہیں ہیں بڑے ہوشیار لو جو لاکھ پانچ  
 لاکھ (Issue) (ایسٹو) (انگ۔ ۱۔ انڈ) [۱] اجراء (۲) شمارہ (اخبار  
 وغیرہ کا) (۳) متنازعہ ذریعہ مسک۔

ایشور۔ (ایش۔ ور) (س۔ ۱۔ انڈ) پریشور۔ بھگوان۔ خدا۔ اللہ۔  
 ایشیا۔ (انگ۔ انڈ) دنیا کا سب سے بڑا براعظم، جس کے مشرق میں بحرالکاہل  
 شمال میں بحر منجمد شمالی، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ روم ہے  
 برصغیر یا کہ دہند کے عمامک آئی براعظم میں ہیں۔  
 ایشیائی۔ (ایس۔ یس۔ یا۔ ای) [آر۔ صف] بڑا عظم ایشیا سے نسبت رکھنے



ایک تنکے کا بھی احسان بھاری ہوتا ہے۔ احسان کنہا ہی فخور کیوں نہ ہو  
احسان مند بریاں کا بار بہت ہوتا ہے۔

ایک تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ ناداری اور بے کسی میں فخور اس  
سہارا بھی بہت قیمت معلوم ہوتا ہے۔

ایک تنکے کا سہارا انہیں [مثل] کسی سے امداد کی توقع نہیں ہے۔  
ایک تو۔ اول تو پچھلے تو۔

ایک تو آپ دوسرے بغل چاب (معاورہ) اول تو خود ہی بے مزق اور بے وقت  
آئے اور دوسرے اپنے ساتھ ایک اور کو بھی لگا لائے۔

ایک تو فضا ہی دیوا ادا اس پر آئی ہمار [مثل] آوارہ کے لیے آوارگی کا سامان  
بھی تیار ہو گیا۔

ایک تو جو ری اس پر سینہ زوری۔ [مثل] تصور کر کے اٹا ڈھٹائی کی باتیں کرنا۔  
ایک تو غیر دوسرے بجز عینے۔ [مثل] ایک تو عیب اور نقصہ درختے ہی

دوسرے ذی اختیار بھی ہو سکتے۔

ایک تو کافی جانی (بیٹی) دوسرے کو پچھنے والوں نے جان کھائی [مثل] عیب  
کو ایک تو اپنے عیب کا افسوس۔ دوسرے لوگ اس کا ذکر کھینچتے ہیں

اور بھی شرمندہ کرتے ہیں۔

ایک تو کڑوا کر بلا دوسرے پھر چڑھا۔ [مثل] ایک تو بڑے غم سے ہی دوسرے  
اور بھی برا بھلا کے اسباب بنیا ہو گئے۔

ایک تو میاں آؤ گئے اس پر کھائی جھٹک [مثل] کابل آدمی کا کابل پر کھانا  
دلے کام کرنا۔

ایک تو سے کی رٹ کیا چھوٹی یا موٹی۔ [مثل] ایک خاندان کے لوگ ایک ہی نظر  
سے دیکھ جاتے ہیں حیثیت و صورت شکل کی پیشی کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔

ایک تیر سا میں سے لگا (معاورہ) بہت سخت رنج ہوا۔ بہت دکھ ہوا۔  
ایک تھیلی کے چنے بیٹے (معاورہ) سب ایک سے ہیں کوئی نیک نہیں سب شرم ہیں

ایک ٹانگ پھرنے۔ (معاورہ) برابر پھرتے رہنا۔ ایک دم پھر سے جانا۔

ایک ٹنگ (۱) لگانا۔ رتھ تازہ بغیر ٹنگ چھینکے۔

ایک ٹنگے پر سجدہ دھانا۔ ایک اینٹ کے لیے سجدہ ڈھانا۔ ذرا سے نفع کے لیے دین  
برباد کرنا۔

ایک ٹنگا۔ ایک ٹانگ کا لنگڑا

ایک ٹھوکر سے آکھ کی چوٹی اتر گئی۔ (معاورہ) ایک ہی صدمہ سے عقل ٹھکانے لگتی۔  
ایک جان دو تن۔ ایک جان دو قالب۔ کمال اتحاد و انتہائی دوستی۔ کھری دوستی۔

ایک جان کرنا۔ کئی چیزوں کا باہل مل جانا۔

ایک جان ہزار امید۔ ایک جان ہزار رمان۔ زندگی بھر آدمی کے ساتھ ہزاروں  
امیدیں لگی رہتی ہیں۔

ایک جان ہونا۔ کئی چیزوں کا باہل مل جانا۔

ایک جاننا۔ برابر جاننا۔ یکساں سمجھنا۔

ایک جان سے جا ہے خدا لے جا ہے بندہ [مثل] جب کوئی مشکل کام آگے  
اور جان کی پروا نہ کی جائے تو کہتے ہیں۔

ایک جینکے میں دو تیر نہیں رہ سکتے۔ ایک میان میں دو چھریاں نہیں رہ سکتیں۔  
ایک جہان کی تکلیف۔ تمام دنیا کی مقبصیت۔

ایک بات ہزار مرنہ۔ [مثل] اس جگہ کہتے ہیں جب کسی امر میں ہر شخص نئی بات  
کے۔ ایک ہی موضوع پر مختلف باتیں بننا۔

ایک بات ہونا۔ (معاورہ) معمولی بات ہونا۔ کچھ بھی اہم نہ ہونا۔

ایک بات ہے۔ (معاورہ) اس کی کوئی اہمیت نہیں (۲) ادنیٰ اور آسان ہے بہت مشکل۔  
(۳) ایک خاص اور لمبے (۴) معاملہ واحد ہے (۵) یکساں ہے کچھ فرق ہے (۶) افواہ ہے

ایک (بار) بارگی۔ ایک دفعہ۔ ایک مرتبہ (۲) دفعتاً۔ اچانک۔ ناگماں۔

ایک بازار ہر ہونا (معاورہ) ایک جہتم ہونا۔ کانا ہونا۔

ایک بال جیل نہیں۔ [مثل] سرمو فرق نہیں۔

ایک بال کامل۔ [مثل] حسن کی تعریف میں بے لگنے کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ ایسا  
حسین ہے کہ انہی قیمت تو اس کے ایک بال کامل نہیں۔

ایک فعل ہوا جاؤ۔ (معاورہ) بیچ سے ہٹ جاؤ۔ ایک طرف ہوا جاؤ۔

ایک بھی نہ ماننا۔ (معاورہ) کسی بات پر بھی ماضی نہ ہونا۔

ایک پانی ناؤ کو لے ڈونڈنا ہے (مقولہ) ایک شخص کی بڑی سے گھر کا گھر بنام یا بڑا بڑا جانا  
ایک پانی۔ بارش کا ایک جھالا۔

ایک پانی کی کسر ہے۔ ایک بارش کی اور حاجت ہے۔ ایک پانی اور سینچنے کی ضرورت ہے۔

ایک پاؤں پھرنا (معاورہ) برابر پھرتے رہنا۔ دم نہ لینا۔ بہت دوڑ دوڑ ہو پ کرنا۔

ایک پاؤں رکاب میں رہنا (معاورہ) سفر کے لیے مستعد رہنا۔

ایک پاؤں سے کھڑا رہنا (معاورہ) بڑی استعداد سے خدمت کے لیے حاضر رہنا۔  
ایک پاؤں نہیں ایک کہیں۔ ایک جگہ (تیا) نہیں ہے۔

ایک پاؤں اندر ڈھکیں میں ایک پاؤں باہر۔ (معاورہ) لگانا اندر باہر آنا جانا۔

ایک پٹا۔ ایک پاٹ کا جس کی چوڑائی میں چوڑ نہ ہو۔

ایک پرا ایک۔ اوپر تکیے۔ لگانا رتھ تازہ۔

ایک پرا ایک کرنا (معاورہ) اوپر تکیے کرنا۔ کڑتے سے منوجہ ہونا۔ ٹوٹ کر کرنا۔ ہاتھوں ہاتھ لینا  
ایک پر پھڑ پھڑنا۔ (معاورہ) ایک منوجہ یا ایک آشنا پر قناعت کرنا۔

ایک پر پھر سو علاج۔ [مثل] پر پھر علاج سے بہتر ہے۔

ایک پڑا لوٹے دوسرے کے نیچے چرکھی دے۔ [مثل] ایک شخص کسی لذت کا نتیجہ  
بھکتے رہا ہوا اور دوسرا ناعاقبت اندیشی سے اس سے اعلیٰ تر کی خواہش کرے۔

ایک پل میں (مقولہ) ایک لحظہ میں۔ بہت جلد۔ فوراً۔

ایک پتھر دو کاج [مثل] ایک تیر میں دو کام انجام پانا۔

ایک پیٹ کے۔ حقیقی جھاتی ہیں۔

ایک پیچا (۱) ایک پیچ کا جس میں ایک پیچ یا انہیں ہو (۲) ایک قسم کی بگڑی۔  
ایک تارا دیکھ کے اڑی دیکھنا (معاورہ) خوردنوں کا خیال ہے کہ ایک تارا دیکھنا

خس ہے۔ اس لیے ایک تارا دیکھ کر اڑی دیکھ لیا کرتی ہیں تاکہ خوشن کا اثر کم جائے۔

ایک ترکش کے تیر ہیں۔ [مثل] ایک آدمے کے ترن ہیں۔ آدم نہیںے والا کوئی  
نہیں۔ سب دکھ دینے والے ہیں۔

ایک تیل بھر۔ بہت ذرا سا۔ خضبت سا۔

ایک تم کیا ہو۔ ایک تم پر ہی موقوف نہیں ہے۔

ایک تندرتی ہزار نعمت۔ [مثل] اندرتی سب نعمتوں سے بہتر ہے۔

ایک تنکا نہیں چھوڑنا۔ (معاورہ) ایک تنکا نہیں چھوڑنا۔ سب کچھ اٹھارے لگیا۔  
ایک تنکے کا احسان نہ لینا (معاورہ) نہایت سخی اور صابر ہونا کسی کا سہارا نہ ڈھونڈنا

ایک ڈر و طرف ہوتا ہے۔ دو مخالف شخصوں میں دشمنی کا خوف طرفین کو ہوتا ہے۔  
ایک ڈرے تو سب سمجھا میں سب ڈو میں تو کوں سمجھائے۔ [مثل] ایک شخص  
خطا پر ہونا اور لوگ سمجھا کر اس کو راہ پر لاسکتے ہیں مگر جب سب کے سب  
عقل کے دشمن ہوں۔ ان کی اصلاح کیجئے ہو۔

ایک (ذات) راس۔ ایک جنس۔ ایک قسم۔  
ایک ذات کرنا۔ حل کرنا۔ باہم خوب ملا دینا۔  
ایک رستی میں بندھنا۔ (محاورہ) بہت سے آدمیوں کا ایک ہی جرم میں ملوث ہونا۔  
(۲) ایک رستے ہونا۔ ہم خیال ہونا۔

ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے (محاورہ) خوف یا حد سے پہلے  
کارنگ فنی ہے۔ مہنہ پر ہوا مٹیاں چھٹ رہی ہیں۔  
ایک رنگ پر نہ رہنا۔ (محاورہ) ایک حالت پر نہ رہنا۔ تغیر ہونا رہنا۔  
ایک رنگ میں ہیں۔ ایک حالت پر جمے ہوئے ہیں۔

ایک زبان میں متفق اللفظ بہ زبان۔ ایک بات۔ ہم آہنگ۔  
ایک زبان رکھنا (محاورہ) بات کا پکا ہونا جو کتنا سو کرنا۔ قول و قرار بنا ہونا۔  
ایک زمانہ۔ تمام عالم ساری دنیا۔  
ایک سا۔ ایک ساں۔ برابر۔ یکساں۔

ایک ساتھ۔ ساتھ ساتھ۔  
ایک سال کتنے ہیں سو ساٹھ دن ہیں۔ بدلہ لینے کو سال بھر پڑا ہے کبھی نہ  
کبھی موقع مل ہی جائے گا۔  
ایک سا پچھے کے ڈھلے ہیں۔ سب ایک ہی سے ہیں۔ وضع قطع میں بال  
برابر فرق نہیں ہم شکل ہیں۔

ایک سانس میں کچھ دوسری سانس میں کچھ۔ ابھی جو کچھ کہا تھا اس کے خلاف کہنے لگنا۔  
ایک ٹھنڈا۔ وہ شخص جو ایک دم کے اس میں کبھی نہ کرے۔ بات کا پکا۔  
ایک سہرا رونا۔ ایک جان سو بچاں۔ ایک دم کے کچھ بھڑا ہوا بھگڑے۔  
ایک شور مچانا بھڑا نہیں چھوڑ سکتا۔ [مثل] ایک چنا لیا بھڑا بھڑے گا۔  
ایک سی۔ یکساں۔ ایک ہی طرح کی۔ ایک جیسی۔  
ایک سے ایک۔ بہتر سے بہتر۔

ایک سے ایک اعلیٰ اعلیٰ سماں رتی الا اعلیٰ۔ [مثل] اس جگہ طرز سے کہتے ہیں  
جہاں بدی اور شرارتیں ایک سے ایک بڑھا ہوا ہو۔  
ایک سے دن نہ رہنا۔ (محاورہ) ایک حالت پر نہ رہنا۔ زمانہ کا انقلاب۔  
ایک سے دو بھلے (منقولہ) ایک سے دو ہتر نہ تہاں سے کسی کا ساتھ رہنا اچھا۔  
ایک سے لے ایک کو جسے [مثل] غدا کسی کو غریب اور کسی کو امیر بنا دیتا ہے۔

ایک سے ہزار رنگ۔ ایک سے لاکھ رنگ۔ بہتات اور قدرت کی جگہ کہتے ہیں  
ایک سے ہزار ہونا۔ فقروں سے بہت ہونا۔  
ایک سے ہونا (محاورہ) ہم شکل ہونا۔ ایک جیسے ہونا۔ ہم رستے ہونا۔  
ایک شیرازا ہے سولو طراں یا یکدھڑکھائے ہیں۔ [مثل] بہت والی اپنی کما  
سے بہت سے کمزوروں کی پرورش کرتا ہے۔

ایک صورت سے۔ (۱) ایک طرح سے (۲) یکساں حالت سے۔  
ایک طرح۔ ایک طرح پر۔ ایک حالت سے۔ ایک وضع سے۔  
ایک طرح پر گزرتا۔ (محاورہ) یکساں گزرتا۔ ایک حالت پر بسر ہونا۔

ایک چال چلنا۔ یکساں رہنا۔ ایک انداز پر زندگی بسر کرنا۔  
ایک چپ لاکھ ملاطقی ہے چپ رہ کر بہت سی آفتوں سے نجات مل جاتی ہے۔  
ایک چپ ہزار گھڑ (محاورہ) خاموش رہنے میں بڑا سکھ ہے۔  
ایک چوڑب مرنے کو بہت ہے بیچاری کی حرکت پر عبرت دلانے کو کہتے ہیں۔  
ایک چنا کیا بھڑا بھڑے گا۔ (محاورہ) وہ کام جو بہت سے آدمیوں کے کرنے  
کا ہو۔ اسے لائق یا بہت انسان بھی کہلا نہیں کر سکتا۔

ایک چنے کی دودا لیں ہیں۔ (محاورہ) نہایت متفق ہیں (۲) بالکل ہم شکل ہیں۔  
ایک چھوڑ دودو۔ اس جگہ کہتے ہیں جہاں ایک کی جگہ دو ہوں۔  
ایک چھینکے ایک ناک کاٹے [مثل] آدھا کام کوئی کرے اور آدھا کام کوئی اور انجام دے۔  
ایک چرخ زمین ایک چرخ آسمان۔ سے انتہا چینا چلا نا۔

ایک حال پر بسر ہونا۔ ایک حال میں گزرتا۔ یکساں بسر ہونا۔  
ایک حن آدھی ہزار حن کپڑا۔ لاکھ حن زبورہ کو روڈ حن سٹرا۔ کپڑے سے عورت کا  
حن زیادہ ہو جاتا ہے اور زبورہ اور زنا بختر سے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔  
ایک حمام میں سب ننگے۔ [مثل] جتنے میں سب کا ایک ہی رنگ ہے کون کس  
کو بڑا کہے۔ سب ایک ہی حال میں گزرتا رہیں۔

ایک خطا دو خطا تیسری خطا ما در خطا۔ [مثل] دو ایک مرتبہ چوک ہو جانا  
منفقتاے بشریت ہے مگر بار بار کی خطا کہہ نہاں اور شرارت کی دلیں ہے۔  
ایک درند ہزار در رکھے [مثل] ایک ذریعہ تم ہونے پر خدا اور بہت سے ذریعے پیدا  
کر دیتا ہے۔

ایک دل یا دل میں ایک چوکیدار میں [مثل] یعنی ادھر بھی خیال لگا ہوا ہے  
اور ادھر بھی۔ کام کیوں کر ٹھکانے سے ہو۔  
ایک دل یہ کہتا ہے۔ ایک خیال یہ آتا ہے۔  
ایک دم۔ بلا توقف۔ برابر۔ نگانہ۔ متواثر۔ فوراً۔

ایک دم آیا نہ آیا۔ ایک دم کا بھروسہ نہیں۔ (محاورہ) زندگی کا کچھ اعتبار نہیں۔  
ایک دم کا دام ہے۔ [مثل] ایک ذات کے باعث رفتی اور شان و شوکت ہے  
زندگی کے لیے سارے بھڑے ہیں۔

ایک دم ہزار دم (محاورہ) جاں نیک مریض کے لیے ڈھارس کے طور پر کہتے ہیں۔  
یعنی جب تک سانس باقی ہے بڑی امید ہے۔  
ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے۔ (مقولہ) آخر عمر کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا ہے  
ایک دن کا ہمان دودن کا ہمان تیسرے دن کا بلاتے ہمان [مثل] ایک دن  
ہمان کی تو اسٹھ ہو سکتی ہے۔ پھر وبال معلوم ہوتا ہے۔

ایک دن کا ہمان گلاب کا پھول دوسرے دن کا ہمان کنول کا پھول  
تیسرے دن کا ہمان گیا گھر کیوں بھگول [مثل] ہمان پہلے دن بہت عزیز۔ دوسرے دن  
اس سے کم عزیز۔ تیسرے دن اس سے بیزار ہو جاتا ہے ہمان کی خلق چند روزی خوب ہوتی ہے  
ایک دن کھوٹا پیسا بھی کام آتا ہے [مثل] ناقص چیز بھی کام دے جاتی ہے۔

ایک دو۔ فقروں سے۔ چند۔  
ایک دو بول۔ (محاورہ) نکاح میں ایجاب و قبول۔  
ایک دہی نہیں چھوڑی۔ (محاورہ) کچھ نہیں چھوڑا۔ سب لوٹ لے گیا۔  
ایک جسے گا دس پائے گا خیرات کرنے والے کو ایک کا دس گنا ثواب ملے گا۔  
ایک ڈال۔ (۱) ایک میل کا۔ ایک طرح کا۔ ایک ہی ٹکڑے کا بنا ہوا۔

ایک طرح کا۔ ایک تم کا۔ ایک جیسا۔

ایک طرف کا بازار بند ہے۔ ایک طرف کی دنیا غائب ہے۔ (محاورہ)  
ایک آنکھ نرا در ہے۔ کاٹا ہے۔

ایک طرف ہو جاؤ۔ کنارے ہو جاؤ کسی ایک کے شریک ہو جاؤ (۲) راستہ چھوڑ دو۔  
ایک عالم۔ سارا جہان۔ تمام دنیا۔

ایک عالم ہے۔ (محاورہ) عجب بہار ہے طرہ کیفیت ہے۔ نر لاجوں ہے  
ایک عمر۔ تمام عمر۔ عرصہ دراز۔ جگ۔

ایک غریب مارا تھا نوین چربی مکلی (مثل) جب کوئی شخص اپنی غریبی کا اظہار  
کرتے اور وہ دراصل غریب نہ ہو تو اس موقع پر یہ جملہ طرز سے کہتے ہیں۔

ایک فریاد سوتیلے ایک جان سواندیشے (مثل) ایک آدمی کے لیے کیا کیا  
مصیبتیں ہوتی ہیں۔

ایک فکرم۔ یک نخت۔ فوراً۔ بالکل۔ برابر۔ ایک زبان۔

ایک کا منہ شکر سے بھرا جا سکتا ہے سو کا منہ خاک سے بھی نہیں بھرا جاتا۔  
[مثل] ایک شخص کی کار بر آری تو ہر طرح ہو سکتی ہے مگر بہت لوگوں کی تھوڑی تھوڑی  
حاجت روانی دشوار ہوتی ہے۔

ایک کان بہر ایک گونگا کر لینا۔ (محاورہ) کسی طرف سے بالکل بے خبر ہو جانا۔  
مطلقاً التفات نہ کرنا۔

ایک کا تے میں تولنا۔ (محاورہ) کیسا وزن کرنا۔

ایک کا ہو رہنا (محاورہ) ایک کے سوا دوسرے کی طرف مائل نہ ہونا۔

ایک جچی گھڑی۔ محمد بھیر۔ بہت مختصر مدت۔

ایک کرے دس بھریں (محاورہ) ایک شخص تھا کرے اور اس کا نمبر ہاڑے سب کو اٹھا کر پوکے

ایک کتا سے ہونا (محاورہ) ایک طرف ہو جانا کتا سے ہو جانا۔ اگ ہو جانا۔

ایک کو ایک کھائے جاتا ہے۔ [مثل] ایک دوسرے سے دشمنی حد کرنا  
ہے۔ ایک دوسرے سے جلتا ہے۔

ایک کو پانی ایک کو بیچ [مثل] نا انصافی۔ نامنصفی۔ جانبداری۔

ایک کو دسے زنبور عالی ایک کو دسے کھر پاجالی [مثل] خدا کسی کو امیر اور  
کسی کو غریب بنا دیتا ہے۔

ایک کوڑی کی بھی آمد نہیں۔ پھر ہی آمدنی نہیں۔

ایک کو سانی ایک کو بدھان [مثل] ہر کسی سے وعدہ۔ ہر ایک سے قرار۔  
سب کو امید پر نکتا سے رکھنا۔

ایک کھائے طیارہ ایک کھائے ٹھیس [مثل] اپنا اپنا نصیب ہے۔ کوئی عیش  
کرت کوئی دکھ بھرے۔

ایک کہو گے تو دس سونگے (محاورہ) تھوڑی سی بدزبانی کر کے بہت کچھ نہاڑے گا۔  
ایک کھیل ہونا۔ (محاورہ) بہت معمولی بات ہونا۔

ایک کھیل ہے۔ (محاورہ) بہت آسان ہے۔

ایک کسے نہ چار سنے۔ [مثل] نہ کسی کو برا کہو نہ خود برا سونو۔

ایک کی ایک سے کتنا۔ لگا بیجا کرنا۔

ایک کی ایک سے ہونا۔ اتفاق نہ ہونا۔ باہم ٹکرا ہونا۔

ایک کی دوا دو۔ ایک کی دوا دو۔ ایک کی دوا دو دو کی دوا چار [مثل] تھیل  
تھا۔ دو کو کثیر تعدا۔ مغلوب کر لیتی ہے۔

ایک کی (دس دس) سو سو سٹانا۔ (محاورہ) ذرا سی بات پر بہت برا بھلا کہنا  
جو سینا آدیا جائے۔ اس میں مبالغہ کر کے سینا نا۔

ایک گال ہنسننا ایک گال رونا۔ (محاورہ) گھڑی ہنسننا اور گھڑی رونا ہنسنو نراج  
ایک گرو کے بالکے ہیں۔ ایک آدے کے برتن ہیں۔ ایک جیسے ہیں۔

ایک گھاٹ آنا رونا (محاورہ) سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ رکھنا کیسا بڑا بڑا  
ایک گھاٹ بائی بیٹے ہیں۔ [مثل] سب کے ساتھ کیسا انصاف ہے۔

ایک گھر بچے تو سب گھر بچے [مثل] شطرنج اور چو سرو وغیرہ کے کھیل ہر کسی میں  
چال کے متعلق کہتے ہیں کہ اس گھر پر ہرہر یا کوٹ بچ جائے تو تو یا بازی جیتے۔

ایک گھر کے دو وطن۔ (محاورہ) نا اتفاقی ہونا۔ باہمی اتحاد نہ ہونا۔

ایک لالچی سے سب کو مالکنا۔ (محاورہ) اعلیٰ و ادنیٰ میں تیز کرنا سب کے ساتھ کیسا بڑا بڑا  
ایک لکڑی کیا جلے اور کیا اچھا لاہو [مثل] اتنا آدمی کیا کر سکتا ہے۔ ایک  
آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔

ایک لوٹی کڑا ہی۔ دکھ لگا ہی جو ایک ہی تو ہے کسی ہی جو اور اس کے پیندے میں  
جوڑ نہ ہو۔

ایک ماں باپ کا ہونا (محاورہ) حلالی ہونا۔ دو غلہ نہ ہونا غیرت اور غصہ دلا  
کے موقع پر کہتے ہیں (۲) حقیقی بہن بھائی ہونا۔

ایک مت۔ ایک رائے۔

ایک مٹھ۔ ایک گھٹ۔ اتفاق۔ اتحاد (ق)  
ایک مچھلی سارے (تالاب) میل کو کھندہ کرتی ہے [مثل] ایک شخص کی نالافی  
سارے خاندان کو بیزنام کر دیتی ہے۔

ایک مرغی نو جگر حلال نہیں ہوتی۔ [مثل] تھوڑی سی چیز بہت سے لوگوں  
میں نہیں بانٹی جا سکتی۔

ایک مشت۔ ایک مٹھا۔ ایک ہی دفعہ یک نشست۔

ایک منہ ایک زبان ہونا۔ متفق ہونا۔ ایک ہی بات کہنا۔

ایک منہ دو بات (محاورہ) متضاد باتیں کرنا۔

ایک منہ میں ہزار بائیں کہہ جانا۔ (محاورہ) لگاتار سینکڑوں باتیں سنانا بے حسا  
برا بھلا کہنا۔

ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں [مثل] ایک ہی چیز کے دو طباب  
اور خواہش مند بھی مل کر نہیں رہ سکتے۔

ایک مٹھا۔ ایک منہ کا۔ ایک کھی۔ ایک منہ والا۔

ایک بیسے گھر آنا دوسرے رونا۔ [مثل] کچھ بڑا سامان اور کارخانہ نہیں ہے  
تھوڑے سے نوکر جا کر ہیں۔

ایک میں ایک میرا بھائی تیسرا ججام نائی۔ [مثل] دیاں بولتے ہیں جہاں کوئی شخص  
بہت سے آدمی ساتھ لائے اور ظاہر یہ کرے کہ بہت کم آدمی ہیں۔

ایک نار جب دوسرے کسی جیسے ایک تیسے اسی [مثل] عورت کی پارسائی  
اس کے شوہر تک ہی ہے۔

ایک نا پزیر نہیں۔ سراسر انکار۔ بالکل انکار۔

ایک ٹٹ کھٹ۔ بہت شرم۔ ڈھیٹ۔

ایک نشہ دو نشہ [مثل] ایک کے بعد دوسری عیب بات واقع ہونا۔

ایک نظر دیکھنا (محاورہ) ایک بار یا سرسری طور پر دیکھ لینا۔

جاتے ہیں۔

ایکر (Acre) [انگ۔ ا۔ نڈ] آٹھ اناں یا ۳۰۳۰ مربع گز کا رقبہ۔

ایکلا - (ایک - لا) [ہ۔ صف] اکلا - تنہا۔

ایکونائٹ (Aconite) (ایکو۔ نائٹ) [انگ۔ ا۔ نڈ] ایک قسم کا زہر

ایکچھ - [ہ۔ ۱۔ ۵۔ مٹ] اُدھ کُٹا - پونڈا۔

ایل - ایل۔ بی۔ (L.L.B) [انگ] (Bachelor of Law)

بچہ آف لا کا محضف - وکالت کا اصلی امتحان۔

ایل۔ ایل۔ ڈی (L.L.D) [انگ] (Doctor of Law) فائز

آف لا کا محضف - قانون میں سب سے اعلیٰ ڈگری

ایلاسیک (Alasotic) [انگ۔ نڈ] پھکیلا نینتہ جو سوت اور

ریش کی آمیزش سے تیار کیا جاتا ہے۔

ایلمچی - (ایل۔ جی) [ت۔ ا۔ نڈ] نافصہ - پیغام بر - سفیر۔

ایلمچی کوڑا ل نہیں (مقولہ) پیام کے نفع و ضرر سے پیام رساں محفوظ رہتا ہے۔

ایلمچی گری - سفارت۔ وکالت۔ رسالت۔

ایل کلی - (ایل۔ ک۔ لی) [ہ۔ ا۔ مٹ] سبھی - ایک قسم کا کھار۔

ایلووا - [ہ۔ ۱۔ ۵۔ نڈ] ٹھیکو ار کے کوٹے کا خشک تپا ہوا - مس۔

ایلوپیتھی - [انگ۔ نڈ] علاج بالفضلہ - انگریزی طبعی علاج (Allopathy)

ایلیومینیم (Aluminium) (اے۔ لومی۔ ان۔ یوم) [انگ۔ ا۔ نڈ] ایک

آئرن کی ملکی دھات - قلت کثافت حرارت اور برق کی اعلیٰ درجہ موصل

کے لیے مشہور ہے۔ تریں - سبھی کے تارا و طہار سے بنائے ہیں کام آتی ہے

ایلمیا - (عبر۔ نڈ) (۱) بردشکر (۲) ایلاس کا عربی تلفظ۔

ایما - (ای۔ ما) [ع۔ ا۔ نڈ] اشارہ - اشارہ - اشارہ کرنا۔

ایما لینا - عندیہ یا غشا دریا منت کرنا۔

ایما ہونا - اشارہ ہونا - غشا ہونا۔

ایمان - (ای۔ مان) [ع۔ ا۔ نڈ] ماننا (۲) بے خوبی۔ امان (۳) عقیدہ۔ مذہب۔ (۴)

ایمان اٹھا کر طاق میں رکھنا۔ (محاورہ) بے ایمان ہو جانا۔

ایمان نخل میں (دیمان) مار لینا (محاورہ) ہٹ دھرمی کرنا بے ایمانی کی باتیں کرنا۔

ایمان بیچنا۔ (محاورہ) دینا کے لیے دین کھونا۔ لالچ میں صداقت چھوڑنا۔

ایمان کے خلاف کرنا۔ بے ایمانی کرنا۔

ایمان پر چھوڑ دینا (محاورہ) ہر دوسرے پر خوف کرنا۔ اعتبار پر چھوڑ کرنا۔

ایمان پھرنے۔ (محاورہ) نیت بدل جانا۔ عقیدہ بدل جانا۔

ایمان پھسلنا۔ (محاورہ) نیت خراب ہونا۔

ایمان ٹھکانے نہ ہونا (محاورہ) دھم پڑنا تو نہ ہونا۔ نیت ٹھیک نہ ہونا۔

ایمان (جانا رہنا) جانا۔ نیت بگڑنا یا عقیدہ خراب ہونا۔

ایمان (جو رہو ٹھہرا۔ (محاورہ) بے ایمان۔ دغا باز۔

ایمان چھوڑنا (محاورہ) بے ایمان کرنا۔ حق سے کنارہ کرنا۔

ایمان دار - (۱) دیندار۔ صاحب ایمان (۲) دیانت دار۔ امین۔ راست باز

(۳) سچا۔ صادق۔ با وفا۔ منصف۔

ایمان دار کھائے ہوئی بے ایمان کھائے ہوئی [مثل] ایمان دار دانت

کی دجہ سے ہمیشہ کو فٹ اٹھاتا ہے اور بے ایمان عیش کرتا ہے۔

ایک نظر سے دیکھنا (محاورہ) سب کیساں تیراؤ کرنا۔ سب سے ایک ہی طرح سے پیش آنا۔

ایک نظر کے گتھا رہیں - (محاورہ) صرف ایک مار دیکھا ہے۔

ایک نور آدمی ہزار نور کپڑا (مثل) لباس سے آدمی کا حسن بہت بڑھ جاتا ہے۔

ایک نہ ایک - کوئی نہ کوئی - بھٹوڑا بہت۔

ایک نہ چلنا (محاورہ) کوئی تدبیر کا رگڑ نہ ہونا (۲) کچھ اثر نہ ہونا۔

ایک نہ دو - (محاورہ) ایک دوسری بس نہیں بلکہ بہت زیادہ۔

ایک نہ کھنا (ماننا) (محاورہ) دھیان نہ دینا۔ کوئی بات قبول نہ کرنا۔ توجہ نہ دینا۔

ایک نہ سو سیکھ - (۱) (محاورہ) ایک انکار سے انسان کئی آفتوں سے بچ جاتا ہے۔

ایک نہیں ستر باٹا لاتی ہے۔ (محاورہ) کبھی تھوڑی بے مروتی بہت سی آفتوں

سے بچا لیتی ہے۔

ایک نیم سو کوڑھی - [مثل] دیکھیے ایک انار سو بیار۔

ایک ہاتھ چھوڑنا (لگانا) (محاورہ) ایک ضرب لگانا۔ ایک تلوار مارنا۔

ایک ہاتھ سے نالی نہیں بجتی - [مثل] محبت باعدت دونوں طرف سے ہوتی ہے (۲) مزہ

ایک ذوق کی زیادتی سے لڑائی چھوڑا نہیں ہوتا۔

ایک ہاتھ کا سے۔ (محاورہ) ایک ہی نہیں بلکہ کام ختم ہے۔

ایک ٹھنکی لہنی ایک ٹھنکی دینی - نیکی کی جزا خور امل جاتی ہے۔ اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے

ایک ہاتھ میں دو پکے (محاورہ) ایک ضربیں دو کوڑھے۔

ایک ہنر اور ایک عجیب ہنر آدمی میں ہوتا ہے عجیب اور ہنر سے کوئی ہنر نہیں

ایک ہر جانا (ہونا) (محاورہ) متفق ہو جانا۔ اتفاق کر لینا۔ سازش کر لینا۔

ایک ہی ہونا۔ سب مثل ہونا۔

ایک ہی ہوئی - لا جواب بات کہی۔

ایک سے بے مثل ہے۔ فرسے۔ اپنا جواب نہیں رکھنا۔ بکتا ہے۔

ایکا - (اے۔ کا) [ہ۔ ۱۔ ۵۔ نڈ] میل - اتفاق - یک جہتی - ساز باز۔

ایکا - ایک - ایجا ایکی - اچانک - یکایک - یک دم۔

ایکا ہونا - اتفاق ہونا۔

ایکاوسی - (اے۔ کا۔ یوسی) [ہ۔ ۱۔ ۵۔ مٹ] چاند کی گیارھویں تاریخ۔

ایکاوت - (اے۔ کاوت) [ہ۔ ۱۔ ۵۔ مٹ] انگ - اکلا۔

ایکٹ (Act) [انگ۔ ا۔ نڈ] (۱) عمل۔ کالٹی (۲) قانون۔ آئین جو مجلس

قانون ساز نے منظور کیا ہو (۳) ڈرامے کا ایک جہتہ۔ باب۔

ایکٹر (Actor) (ایک۔ ٹر) [انگ۔ ا۔ نڈ] اداکار۔ نقال۔

ایکٹریس (Actress) (ایکٹ۔ ریس) [انگ۔ ا۔ مٹ] اداکارہ

تماشا کرنے والا۔

ایکٹنگ (Acting) (ایک۔ ٹنگ) [انگ۔ ا۔ مٹ] اداکاری۔

ایکسپورٹ (Export) (ایکس۔ پورٹ) [انگ۔ ا۔ نڈ] نکاس (۲) مال برآ

ایکسچینج (Exchange) (ایکس۔ چینج) [انگ۔ ا۔ نڈ] باہمی تبادلہ

مبادلہ اولاد بلا۔ (۲) ہنڈی کا لین دین۔

ایکس ریز (X-Ray) (ایکس۔ ریز) [انگ۔ ا۔ نڈ] شعاعیں تابکوم

شعاعیں۔ ایک قسم کی خاص شعاعیں جنہیں روٹنج نامی جرمن سائنسدان نے

تفاتی طور پر دریافت کیا تھا۔ یہ شعاعیں غیر شعاعی اجسام میں سے

گزر جاتی ہیں اور ان کی مدد سے انسانی جسم کے اندر نئی اعضا کے ڈھولے



ایمفی تھیٹر (Amphi Theatre) ایم۔ ٹی۔ تھے۔ ٹی۔ (انگ۔ - مذ۔) (۱) گول تماشا گاہ (۲) ڈسکل - اکھاڑہ (۳) وہ مسدود کھانا جو قہرمان نے میں رویوں نے شہرہ میں تعمیر کیا تھا اور جس میں وہ وحشی جانوروں کی لڑائیاں دیکھا کرتے تھے۔

ایمپن - (اے۔ من) (ع۔ صفت) (۱) دایں جانب (۲) مبارک بے وقوف - (۳) امن دیا ہوا محفوظ [ف۔ مٹ] ایک راگ یا راگنی کا نام بشرط گایا جانے والا راگ - کہتے ہیں یہ راگ امپن خسرہ کا ایجاد کردہ ہے۔ ایمونیا - (Ammonia) (اے۔ سورن۔ یا) (انگ۔ - مذ) [چوڑے اور نونادرا کا مرکب۔

ایمونیشن (Ammunition) (اے۔ سورن۔ شن) (انگ۔ - مذ) گولہ بارود۔ سامان جنگ۔

ایمہ - (اے۔ مر) [ت۔ ا۔ مذ] معافی جاگیر (۲) وہ زمین یا جاگیر جو علماء و فقہا کو بادشاہ کی طرف سے بطور انعام دی جاتی ہے۔

ایمہ (ع۔ مذ) امام کی جمع۔  
ایم - (اے۔) [ت۔ ا۔ مذ] محبت تنبیہ۔ اصرار اور دیکھ کر پوچھنے کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔  
ایم [ت۔ ا۔ مذ] - اشارہ قریب۔

ایم خانہ (تمام) ہمہ آفتاب است [متشیل] یہ سارا گھر ہی روشن ہے (۲) یہ گھر کا گھر لائن ہے (۳) (دھڑا) یہ پورا گھر نالائقی ہے۔  
ایم کا راز تو ایسا مردان نہیں کھند [متشیل] کیا کہتا ہے یہ کام تمہیں سے ہو سکتا ہے اور مرد ہی ایسا ہی کہتے ہیں۔ کسی اہم کے انجام دینے والے سے تحسین و آفرین کے طور پر کہتے ہیں۔

ایم گل دیگر شگفت [متشیل] یہ اور گل کھلا (۲) تماشا دیکھیے۔ کوئی ہی بات واقع ہونے پر کہتے ہیں۔

ایم وائل (۱) یہ وہ (۲) حجت و دلیل جو نوجوان دہرا کرنا (۳) ہر کس دن کس این وائل کرنا۔ (معاورہ) بلس چھانٹنا۔ حجت کرنا۔ بحث کرنا۔

ایم ہم اندر عاشقی بالاسے تمہارے دگر [متشیل] (۱) حجت میں دوسرے غول پر ایک یہ بھی نم ہے (۲) مصلحت پر مصلحت آنے کے موقع پر کہتے ہیں

ایم ہم ستر شتر است [متشیل] (۱) یہ بھی اونٹ کا بچہ ہے (۲) یہ بھی اسی گزہ سے ہے۔ یہ بھی اسی نسیل کا ہے۔

ایم ہم سر علم [متشیل] بہت ہی قصیدوں میں ایک اور بھی ہے۔ ایک چور درزی کو کسی مولوی صاحب نے سمجھایا کہ قیامت میں تیرے چرلے چوے کیزوں کا بھنڈا بنا کر اس کے نیچے چھ کر لیا جائے گا۔ اس سے تمام میدان حشر میں تیری رسوائی ہوگی۔ درزی بہت ڈرا دوا آئندہ کے لئے تیرے کوئی منگو ایک مرتبہ ایک نہایت قیمتی کپڑے پر نیت بدل گئی۔ دیر تک سوچتا رہا۔ آخر یہ کہہ کر کڑا چرا لیا۔ اس ہم بالائے علم۔

ایمٹ - (اے۔ مٹ) [متشیل] منگی کے نیچے یا پکے ہونے ٹوٹے جس سے دیوار بنائی جاتی ہے تخت (۲) سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ٹلے (۳) تاش کا ایک رنگ جو مورخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر برقع شکل کا نشان ہوتا ہے۔ ایمٹ آگٹنا۔ (معاورہ) جب کسی سے عداوت ہوتی ہے تو سمجھیں اس کا نام لے کر ایمٹ لٹی کر کے رکھ دیتے ہیں عورتوں کا خیال ہے کہ اس گل سے

ایمان داری - صداقت - راست بازی - دیانت داری۔  
ایمان داری اٹھنا - راست بازی اور دیانتداری کا جاتے رہنا۔  
ایمان داران ڈول ہو جانا - نیت میں فرق آجانا۔  
ایمان ساتھ چلنا ہے (معاورہ) ایمان ہی عاقبت میں نفع پہنچاتا ہے۔  
ایمان سے پوچھنا - کہنا - خدا کتنی کہنا - سچ سچ کہنا۔  
ایمان سے پوچھو - (معاورہ) حق یہ ہے۔ انصاف تو یہ ہے۔  
ایمان کا سودا ہونا۔ (معاورہ) ایمان داری کا معاملہ ہونا۔  
ایمان کا پلنا۔ (معاورہ) خدا کا خوف ہے۔  
ایمان کھونا۔ (معاورہ) مہٹ دھری کرنا۔

ایمان کی - حق - سچی بات۔  
ایمان کی تو یہ ہے (معاورہ) سچ بات تو یہ ہے۔ حق بات تو یہ ہے۔  
ایمان کی کہنا۔ (معاورہ) سچ بات کہنا۔ خدا کتنی کہنا۔

ایمان (لانا) لے آنا۔ (معاورہ) (۱) یقین کرنا۔ ماننا۔ تسلیم کرنا (۲) بھروسہ کرنا۔ اعتبار کرنا (۳) خدا اور مذہب پر یقین لانا۔

ایمان لگنی کہنا۔ (۱) معاورہ) حق بات کہنا۔ کسی کی طرف داری نہ کرنا۔  
ایمان میں آنا۔ (معاورہ) مناسبت ہونا انصاف سے کہنا۔ اندازہ میں آنا۔

ایمان میں فرق آنا۔ (معاورہ) یقینیت ہونا۔ اعتقاد ڈھنگا۔ نیت بگڑنا۔  
ایمان ہونا۔ (معاورہ) یقین ہونا۔ اعتقاد ہونا۔  
ایمان ہے۔ کمال اعتقاد ہے۔ پورا یقین ہے۔

ایمان ہے تو سب کچھ۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔

ایم۔ آر۔ اے۔ ایس (Member of Royal Academy of Science) ممبر آف رائل اکیڈمی آف سائنس کا مخفف [انگ] سائنس کی شاہی مجلس کا رکن۔

ایم۔ او۔ ایل (M.O.L.) Master of Oriental Languages [انگ] ماسٹرف آف اوریینٹل لینگویجس کا مخفف مشرقی زبانوں کی اعلیٰ ڈگری

ایم۔ اے (M.A.) Master of Arts [انگ] ماسٹرف آف آرٹس کا مخفف۔ تعلیم کی ایک اعلیٰ ڈگری۔

ایم۔ ایس۔ سی (M.Sc.) [انگ] Master of Science ماسٹرف سائنس کا مخفف۔

ایم۔ این۔ اے۔ پاکستان کی مرکزی مجلس قانون ساز کا ممبر۔ انگریزی الفاظ (Member National Assembly) مخفف۔

ایم۔ ایل۔ اے۔ (M.L.A.) [انگ] Member of Legislative Assembly ممبر آف لیجسلیٹیو اسمبلی کا مخفف۔ قانون ساز کونسل کا رکن۔

ایمبولینس (Ambulance) [انگ] [مذ] سفری شفا خانہ۔ جنگی ہسپتال۔ زخمیوں اور بیماروں کو لے جانے والی گاڑی۔

ایم۔ بی۔ ایس۔ (M.B.B.S.) [انگ] ڈاکٹری کی یونیورسٹی کی ڈگری۔  
ایم۔ پی۔ (M.P.) [انگ] Member of Parliament پارلیمنٹ کا ممبر

ایم۔ پی۔ اے۔ (M.P.A.) [انگ] Member Provincial Assembly پاکستان کی صوبائی اسمبلی کا ممبر کے پیش حرف سے بنی ہوئی اصطلاح

ایم۔ ڈی۔ (M.D.) [انگ] ڈاکٹری کی اعلیٰ ڈگری۔



# ب

ب ابے (موت) اردو فارسی اور عربی کا دوسرا اور ہندی کا تیسواں حرف۔ حساب الجد میں اس کے دو عدد مقرر ہیں۔ یہ حرف فارسی ترکیبوں میں مندرجہ ذیل معانی دیتا ہے اور ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ (۱) جیسے میر چشم بایں ریش ویش (۲) طرف جیسے زو بقلمہ (۳) آسنے سامنے جیسے رودرو (۴) صلہ اتصال جیسے ماہ بجاہ۔ روز بروز۔ در بدر۔ دم بدم (۵) اسم جیسے بخدا۔ رب کعبہ (۶) مطابق جیسے بقول تجھے (۷) وسیلہ تو سل جیسے یارب برسات رسول انقلین (۸) میں جیسے خاکم بد عالم (۹) بعض جگہ یہ حرف زائد ہوتا اور اسے ہائے زائد کہتے ہیں۔ جیسے بجز۔ بغیر۔ بکے وغیرہ عربی ترکیبوں میں ب ہمیشہ مکسور ہوتی ہے۔ اور اس کے حسب ذیل معانی ہوتے ہیں۔ (۱) سے۔ ساخذہ جیسے بالارادہ۔ بالواسطہ (۲) قسم جیسے واللہ باللہ (۳) ویلے سے۔ جیسے بحرمۃ البئی؟ بعض اوقات حرف ذیل سے بدل جاتا ہے جیسے اپ (بادشاہ، پادشاہ، بنیاشا، پتاشا، اج) جھٹنا جھٹنا (د) کب اک۔ اگ، اہولا، گولا۔ سابودانہ، ساگودانہ (ل) ٹیا۔ ٹیلا (م) انیب۔ بیبو۔ بیو (و) سیب۔ سیو۔ بابا۔ باوا۔

ب ابلفح الف حرف جبر (۱) ساتھ۔ مع (۲) لیے۔ واسطے (۳) سے از (۴) قسم (۵) مطابق (۶) میں۔ اندر۔ (۷) پر۔ (۸) مقابل کسی لفظ کے شروع اپنی ہے جب تہائی آتی ہے تو اس کا اطلاق ہوتا ہے) ماسانی۔ آسانی سے۔ سہولت سے۔ بغیر وقت کے باوا بلیٹڈ۔ اچھی آواز سے۔ باجزا (افانوں) کسی حکم کے نافذ کرنے سے کسی کے عمل لانے سے باجلاس۔ اجلاس میں بکھری میں پیشی میں۔ باسٹنا۔ چھوڑ کے۔ اگ کر کے۔ جدا کر کے۔ باذرا۔ کثرت سے۔ بہت سے۔ وافر۔ بایں۔ اس کے ساتھ۔ بایں پیش ورفش۔ یہ ڈاڑھی اور بیڑہ اور ایسی حرکتیں۔ شکل مومنوں کی اور کمزورت کا فروں کے۔ بایں ہمہ۔ ان تمام باتوں کے باوجود بایں سببیت گذاری۔ اس وضع سے متراضی نظریں۔ ذریعین کی رضامندی سے بنگ۔ عاجز۔ بخبور۔ بیزار۔ بنگ آنا۔ بنگ ہونا (محاورہ) (۱) اڑ جانا۔ اصرار کرنا۔ (۲) کوشش کرنا۔ بچڈ (۱) کوشش کرنے والا۔ (۲) خند کرنے والا۔ مقصر بچڈ ہونا (محاورہ) (۱) اڑ جانا۔ اصرار کرنا۔ (۲) کوشش کرنا۔ بجز۔ سوا۔ مگر۔ بغیر۔ بجزت۔ وجہ سے۔ بسبب۔ بوجہ بچشم۔ سر آنکھوں پر۔ بسر و چشم۔ بچڈ۔ اچھکے کے۔ اس حد تک۔ یہاں تک۔ بحساب۔ اس حساب سے بخضور۔ پیشی میں۔ رودرو۔ سامنے۔ برحق۔ سچ میں۔ موافقت میں۔ معاملہ میں بچکم۔ حکم سے۔ ارشاد سے۔ بخدا۔ خدا کی قسم بخلاف۔ برعکس۔ برخلاف۔

بخوبی۔ اچھی طرح۔ پوری طرح۔ عمدگی سے۔ بجز۔ خیریت کے ساتھ۔ اچھی طرح۔ بجز انجام۔ محاورہ اچھا نہیں نکلنا۔ بجز وعائیت۔ خیریت سے۔ اچھی طرح۔ بکسر عاقبت۔ حد سے زیادہ۔ اتنا سا بجز جہا۔ بہت زیادہ۔ کہیں زیادہ بدست۔ ہاتھ میں۔ ذریعہ۔ بدستور۔ حسب سابق۔ دستور کے مطابق۔ فائدہ کے موافق۔ جوں کا توں۔ بدقیات۔ کئی دفعہ۔ بار بار۔ کئی مرتبہ۔ بدوقت۔ مشکل سے۔ دشواری سے۔ بدوقت۔ سبب سے۔ ذریعے سے۔ طفیل سے (اقبال سے) مجازاً اسرا بندگوں۔ بغیر بجز۔ سوا بدیں۔ بایں۔ اس سے۔ بدیں حال۔ اس حال میں۔ بدیں سبب۔ اس سبب سے۔ اس وجہ سے۔ بدیں عرض۔ اس عرض سے۔ اس مقصد کے لیے۔ بدیں نظر۔ اس خیال سے۔ اس پر نظر ڈالنے ہوتے۔ بذات خود۔ خود بخود۔ آپ ہی۔ اپنے دم سے۔ بزب کعبہ (قسم) کعبہ کے رب کی قسم۔ خدا کی قسم۔ بزمگ (۱) مذا۔ شکل۔ مانند۔ بزوشے۔ منہ پر۔ سامنے (۲) بمطابق۔ بلحاظ۔ بزور۔ زور سے۔ طاقت سے۔ زبردستی۔ جبراً۔ حکماً۔ بسبب۔ سبب سے۔ وجہ سے۔ اس کارن۔ بسفر وقتت مبارک باو، سلامت ردی و باز آئی۔ مسافر کو نصرت کرتے وقت و عکے طور پر کہتے ہیں۔ یعنی تمہارا سفر پر جانا مبارک ہو۔ سلامتی سے جاؤ اور پھر (سلامتی) سے واپس آؤ۔ بسر و چشم۔ سر آنکھوں پر بڑی خوشی سے۔ پوری رضامندی سے۔ بشرح صدر (۱) جو کچھ اوپر لکھا ہے۔ وہی یہاں بھی لکھے۔ ایضاً (۲) دل بایسنے کی صفائی سے۔

بشرطیکہ۔ اس شرط پر  
 بشکل ان صورت سے۔ انداز سے۔  
 بشمول۔ شامل کر کے۔ ساتھ سے۔  
 بصد ان۔ عدد اکثرث کے اظہار کے لیے۔  
 بصراحت۔ وضاحت سے۔ کلمہ کھلا صاف طور پر۔  
 بصورت۔ صورت میں حال میں۔ وجہ سے۔  
 بصورت دیگر۔ اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی۔ اس کے خلاف  
 اگر کوئی اور حالت ظہور پذیر ہوئی۔  
 بصیغہ۔ مذ میں۔ ضمن میں۔ سلسلہ میں۔  
 بصیغہ دلوانی۔ دیوانی میں۔  
 بصفتہ۔ جہت پر۔ ضد پر۔ مٹھ۔ اٹا ہوا۔  
 بصند ہونا (محاورہ) ہٹ کرنا۔ اصرار کرنا۔ ضد کرنا۔  
 بطرز۔ انداز سے۔ طریقے سے۔  
 بطرف۔ جہت میں۔ سمت میں۔  
 بطریق۔ طریقہ سے۔ انداز سے۔  
 بطور۔ طرز سے۔ طریقہ سے۔  
 بطور خود۔ اپنی طرف سے۔ اپنے طریقے سے۔ آپ ہی آپ  
 بطور خاطر۔ رضامندی سے۔ دل کی خوشی سے۔  
 بطیب خاطر۔ خوشی خوشی سے۔ رضامندی سے۔ دل کی رضامندی  
 بظاہر۔ ظاہر میں۔ دیکھنے میں۔  
 بغرض۔ بجائے۔ بدلے میں۔  
 بغیر۔ بدون۔ بجز۔ سوا۔  
 بقون خدا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔  
 بقدر ضرورت۔ ضرورت اور حاجت کے مطابق۔ جتنا کام ٹھکانے  
 کے لیے ضروری ہو۔  
 بقول۔ کہنے کے مطابق۔ قول کے مطابق۔  
 بقول شخص سے۔ کسی کے کہنے کے مطابق۔  
 بقدر حاجت۔ زندگی کی نیند میں۔ زندہ۔  
 بکار۔ کام سے۔ کام کا۔  
 بطائف حیل۔ بطائف الخیل۔ جیلہ بہلنے سے۔ کسی اچھی تدبیر  
 سے۔ بطائف الخیل۔ خاسی وارڈ و دواوں کا بنا یا ہوا ہے۔  
 بملالہجہ۔ درجہ بدرجہ۔  
 بمراتب۔ مرتبوں کے لحاظ سے۔  
 بمشکل۔ مشکل سے۔ دشواری کے ساتھ۔  
 بمشکتی تکتہ تکتہ۔ مقولہ موت کی دھمکی دے  
 تاکہ تپ پر راغنی ہو جائے۔ زیادہ تکلیف کے مقابلے میں تھوڑی  
 تکلیف برداشت کرنے پر تیار ہو جائے۔  
 بمنزلہ۔ بجائے۔ قائم مقام۔  
 بموجب۔ مطابق۔ موافق۔  
 بنا راغنی قانون ابرخلاف۔ یادداشت اپیل کے عنوان میں کہتے ہیں

بناک۔ نام پر۔  
 بنفس نفیس۔ خود۔ آپ۔  
 بوجہ احسن۔ اچھے طریقے سے۔ خوش اسلوبی سے۔  
 بہتر ان کسی۔ کوئی۔ تنہا استعمال نہیں ہوتا۔  
 بہر تقدیر۔ ہر طرح سے۔ ہر حال میں۔  
 بہر حال۔ ہر طور۔ بہر کیفیت۔ بہر حالت میں۔ ہر طرح پر۔ ہر طریقے سے۔  
 بہر زین کہ رسیدیم آسمان بیداست۔ بہر کار رسیدیم آسمان پیراست  
 جہاں بھی جائیں مصیبت کا سامنا ہو جاتا ہے۔  
 بہر صورت۔ ہر طرح۔ ہر انداز میں۔ ہر شکل سے۔  
 بہر طور۔ ہر طرح۔ ہر صورت سے۔ ہر طریقے سے۔  
 بہر عنوان۔ ہر طریقے سے۔ ہر طرح سے۔  
 بہر کیفیت۔ بہر حالت میں۔ ہر صورت میں۔  
 بہزار۔ بہت کثرت کے لیے۔  
 بہزار وقت۔ بڑی مشکل سے۔ بڑی مصیبت سے۔  
 بہکم اب۔ ہم آپس میں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ۔  
 بہم ہینینا (محاورہ) میسر آنا۔ جیسا ہونا۔ حاصل ہونا۔  
 بہم کرنا۔ (محاورہ) حاصل کرنا۔ فرام کرنا۔  
 بہینتک مجموعی۔ مجموعی شکل سے مکمل طور سے۔  
 بہیک بینی و دو گوش۔ ایک ناک اور دو کان سے تین تنہا۔ بغیر کسی  
 ساز و سامان کے۔ بالکل نادار۔ خالی ہاتھ۔  
 بہیک کرشمہ دو کار۔ بہیک گزروں فاختہ ان میں اڈہرا خاندہ  
 ب (بالکسر) (ع۔ حرف جڑ) (۱۱) مع۔ ساتھ۔ (۱۲) سے (۱۳) میں در  
 (۱۴) قریب (۱۵) پر (۱۶) مطابق۔  
 باسمہ (ب۔ اس۔ م۔ ہی) (ع۔ آغاز کلمہ) اس کے نام سے یعنی اللہ  
 سر کے نام سے۔ نام خدا۔ خط لکھتے وقت شروع میں لکھتے ہیں۔  
 بالآخر۔ آخر کار۔ آخر میں۔  
 بالالتفاق۔ اتفاق کے ساتھ۔ متحد ہو کر۔ منفقہ طور پر۔  
 بالاجماع۔ سب کے اتفاق سے۔ ساری جماعت کی رضامندی سے۔  
 بالاجمال۔ مختصر طور پر۔ اختصار کے ساتھ۔  
 بالارادہ۔ ارادے سے۔ ارادہ۔ تصدأ  
 بالاستقلال۔ مضبوطی سے۔ محکم طور پر۔ استقلال سے۔  
 بقون اللہ۔ بقونہ (ع۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔  
 بالتخصیص۔ خاص کر۔ خصوصیت سے (تلفظ۔ بت۔ تخصیص)  
 بالتصريح۔ صراحت سے۔ صاف صاف اچھی طرح ظاہر کر کے صراحتہ  
 وضاحتہ (تلفظ۔ بت۔ تصريح)  
 بالتفصیل۔ تفصیل سے۔ واضح طور پر۔ کھول کر (تلفظ۔ بت۔ تفصیل۔  
 بالجزء۔ زبردستی۔ جبری طور پر۔ جبراً  
 بالجملة۔ ساری بات کا حاصل یہ کہے۔ حاصل کلام۔  
 بالخاصہ (بل۔ خاصہ) مزاج کی حالت سے۔ اپنے اثر سے۔  
 بالخصوص۔ خاص کر۔ خاص طور سے۔

بالا اعلان اع اعلان کے ساتھ کھلم کھلا۔ علمانیہ  
 بالانفراو (ع) جدا جدا۔ الگ الگ۔  
 بالتحقیق (ت)۔ تین ابلا شک و شبہ۔ یقینی طور پر  
 بعینہ۔ ہو۔ ہو۔ ویسا ہی۔ جوں کا توں۔ بالکل وہی (تلفظ بعینہ ہی)  
 بفضیلہ۔ بفضیلہ تعلیٰ۔ خدائے بزرگ بزرگ کے فضل و کرم سے  
 (تلفظ۔ بفضیل ہی)

## ب - ا

با ان حرف ربط (۱۱) ہمراہ۔ ساتھ۔ مع (۲) وجود (۳) صاحب  
 والا۔ (۴) مطابق۔ موافق۔  
 با اکرو۔ عزت والا۔ ابرو رکھنے والا جس کی لوگ عزت کریں۔  
 با آنکھ۔ یاد کرو اس کے۔ اس کے ہونے ہوئے۔  
 با اثر (۱۱) اثر والا۔ تاثیر رکھنے والا۔ (۲) صاحب رسوخ۔  
 با اختیار (۱۱) اختیار رکھنے والا۔ مختار۔ (۲) جسے قانونی طور پر اختیار حاصل ہو  
 با خلاص۔ خلوص والا۔ سچے دل سے محبت رکھنے والا۔  
 با ادب۔ (۱) ادب سے (۲) مؤدب۔ ادب کرنے والا۔ تیز رکھنے والا  
 یا ادب یا نصیب بے ادب بے نصیب (مثل ادب کرنے  
 والا خوش نصیب اور گستاخ بد بخت ہوتا ہے۔  
 با ایمان (۱) ایمان والا۔ ایماندار۔ دیندار (۲) سچا۔ دیانتدار۔  
 یا ایں ہمہ۔ با وجود ان باتوں کے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے  
 یا تند بیز۔ (۱) سوزج بکار والا۔ مدبر۔ منتظم۔ (۲) ہوشیار۔ دانا۔  
 یا نیر۔ تیز داز۔ شائستہ۔ منیب۔ مؤدب۔ خوش سلیقہ۔  
 یا سجا (۱) سجا دار۔ شرم و لحاظ رکھنے والا (۲) نیک۔  
 یا خبر۔ اطلاع یا خبر رکھنے والا۔ واقف۔ ماہر۔ آگاہ۔ عقل مند (۲)  
 و ہوشیار۔  
 یا خدا۔ خدا پرست۔ عبادت گزار۔ نیک۔  
 یا شرع (ف۔ ص) یا بند شرع۔ دیندار۔ نیک۔  
 یا دل خواستہ (ف۔ ند) مجبوری سے۔ نہ جانتے ہوئے بھی۔  
 یا شعور (۱) شعور رکھنے والا۔ عقل مند۔ سلیقہ مند۔ ہوشیار (۲)  
 سمجھدار۔ تیز رکھنے والا۔  
 یا شوق۔ خوشی کے ساتھ۔ رضا و رغبت سے۔  
 یا ضابطہ۔ دستور کے مطابق۔ قاعدے کے ساتھ حسب قانون۔  
 یا طہارت (۱) باکی کے ساتھ۔ وضو کیے ہوئے (۳) غسل کیے ہوئے  
 یا عمل (۱) عمل کرنے والا۔ (۲) اچھے کام کرنے والا۔  
 یا فراغت۔ اطمینان سے۔ اچھی طرح۔ آرام کے ساتھ۔ تسلی سے۔  
 یا قاعدہ (۱) قرینے سے۔ قاعدے اور قانون کے مطابق (۲) موقع سے  
 قرینے سے۔ ترتیب وار۔ درست۔ صحیح۔  
 یا قرینہ۔ قاعدے سے۔ قرینے اور ترتیب سے۔ سلیقے کے ساتھ۔  
 یا کمال۔ کمال رکھنے والا۔ کامل۔ ماہر۔

بالخر۔ خیر سے۔ اچھی طرح۔ اچھے طریقے سے۔  
 بالذات۔ اپنی ذات سے۔ اپنی حقیقت سے۔ بے واسطہ۔ بے شرکت  
 غیرے۔ (تلفظ بذات)  
 یا لراس والعیین۔ سر آنکھوں پر۔ بسرو چشم۔ پوری خوشی اور مسرت  
 سے (تلفظ براس)  
 بالقصور۔ یقینی طور پر۔ ضروری۔ یقیناً (تلفظ بض۔ ضرور)  
 بالطبع (بطع۔ طع) ذاتی طور پر۔ فطری طور پر۔  
 بالعشی والابکار ایل۔ عشی۔ دل۔ اب کار (ع) صبح و شام۔  
 بالعکس۔ برعکس۔ برخلاف۔  
 بالعموم۔ عام طور پر۔ عموماً۔  
 یا قعدہ والاصال ایل۔ عدو۔ دل۔ اصل (صبح و شام)۔  
 یا الفرض ایل۔ فرض افزا کرتے ہوئے۔ مانتے ہوئے۔ تسلیم کر کے  
 قبول کر کے۔  
 بالفعل۔ اس وقت۔ سر دست۔ اب۔ فی الحال  
 یا نقاب (ب ال۔ تا ہی) اسے تمام نقاب و اعزاز کے ساتھ (مدح)  
 جس کے نقاب ہمت سے ہوں تو اختصار کے لیے یہ لکھ بولتے  
 اور لکھتے ہیں۔  
 بالقصد۔ ارادے سے۔ قصداً۔ جان بوجھ کر۔  
 یا نقوہ (۱) قوت اور طاقت سے۔ از روئے قوت (۲) منطقی کی  
 (اصطلاح) اس قوت سے جو ابھی وجود میں نہیں آئی۔ لیکن آسکتی ہو  
 بالکل ایل۔ کل (۱) سارا۔ سب۔ تمام۔ پوری طرح سے۔ ہو ہو  
 یا کنا یہ۔ اشارے سے۔ پوشیدہ طور پر۔ رمز کے طور پر  
 یا لہ ایل۔ لاہ اللہ کی قسم  
 یا لہ العظیم ایل۔ لا۔ ایل۔ عظیم (ع) خدایے بزرگ و برتر کی قسم  
 یا لہ ایل۔ مزہ۔ ہمیشہ۔ بالکل۔ ایک ہی دفعہ۔  
 یا لہ ایل۔ مشافہہ ایل۔ مشافہہ ایل۔ رو برو۔ آنے سے۔  
 یا لہ ایل۔ دو چند (۲) گنا۔ دو چند (۲) گنا۔  
 یا لہ ایل۔ آئے سے۔ رو برو۔ موجودگی میں  
 یا لہ ایل۔ بغیر ہوا و تاؤ کے چکا کر۔ فیصل کر کے۔ چکنا۔ اکٹھا۔ کل قیمت  
 یا لہ ایل۔ مواجہہ ایل۔ مواجہہ آئے سے۔ مشافہہ  
 یا لہ ایل۔ واسطہ ایل۔ واسطہ ایل۔ کسی واسطہ سے  
 بلا واسطہ۔  
 یا یقین۔ یقینی طور پر۔ یقیناً۔  
 یا تماہر ایل۔ تماہر ایل۔ سب۔ تمام (تلفظ تہاہر ہی)  
 یا جنبہ اب جنس (ہی) جوں کا توں۔ کل۔ جیک جیک۔ ہو ہو  
 (۲) دراصل ۴ دیا ہی۔ اسی حالت سے۔  
 یا لہ اللہ۔ مجہدہ۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ خدا کے فضل سے۔  
 (تلفظ۔ مجہد ہی)  
 یا لہ ایل۔ اپنی ذات سے۔ بہ نفس نفیس۔ آپ۔ خود (تلفظ بذات ہی)  
 یا لہ ایل۔ ایل۔ تراک (ف) شرکت میں۔ ساچھے میں۔





بات پھیلانا (مجاورہ) کسی بات کو مشہور کرنا۔  
 بات پھیلنا، بات کا مشہور ہو جانا۔ راز کھل جانا۔  
 بات پھینکنا (مجاورہ) آواز دے کر، طعنہ مارنا۔  
 بات پی جانا (مجاورہ) مڑا بھلا سُن کر خاموش ہو جانا۔  
 بات پیدا کرنا (مجاورہ) (۱) خوبی پیدا کرنا (۲) حیلہ بہانا کرنا (۳) کمال حاصل کرنا۔ (۴) عزت پیدا کرنا۔  
 بات پیٹس نہ جانا (مجاورہ) ادال نہ گلنا۔ گفتگو یا بحث میں دوسرے کو قائل نہ کر سکتا۔  
 بات تار پڑنا (مجاورہ) اندازے سے معلطے کو سمجھ دینا، قیاس سے بات کو

معلوم کر جانا، غور و خوض کر کے بات کا پتہ لگانا۔  
 بات بیچ ہونا (مجاورہ) بات کا ناگوار ہونا، بات کا دل پر گراں گزرنے سے  
 بات لویہ سے (مثل) اخلاصہ یہ ہے، مخمق یہ ہے۔ اصل یہ ہے مطلب تو یہ  
 بات نہ کر رکھنا۔ گفتگو کو ملتوی کر دینا۔  
 بات تھل کی نہ بیٹھی کی۔ وعدہ بھی پورا نہ کیا۔ قول پر کبھی قائم نہیں  
 رہا۔ متلون مزاج شخص کے متعلق کہتے ہیں۔  
 بات تیر گلنا (مجاورہ) بات کا بے حد ناگوار معلوم ہونا۔ بات کا سخت برا لگنا  
 بات طمانا (مجاورہ) بات کا جواب نہ دینا۔ دوسرا تذکرہ چھڑ دینا، بات  
 سُن کر چپ رہنا (۲) قبیل حکم سے پہنوتی کرنا۔ سنی ان سنی کرنا۔  
 بات ٹھکنا (مجاورہ) بات ظاہر ہونا۔ کسی بات کا اشارہ معلوم ہونا۔  
 بات (ٹلنا) اٹل جانا (مجاورہ) بات کا بھول میں پڑنا، معاملہ رفت  
 گزشت ہو جانا۔

بات ٹوٹنا (مجاورہ) بات نہ رہنا۔ وعدے کا پورا نہ ہونا، معاہدہ منسوخ  
 بات ٹھٹھنا (مجاورہ) منصوبہ یا تدبیر کسی کام کا قصد کرنا، کسی ارادے  
 پر برجم جانا۔

بات ٹھنک جانا (مجاورہ) کسی بات کا ارادہ کر لینا، کوئی بات دل میں  
 بیٹھ جانا۔  
 بات ٹھنڈی پڑنا (مجاورہ) معاملے کا دب جانا، کسی بات کے متعلق  
 فساد ختم ہونا۔

بات ٹھٹھانا (۱) کوئی تجویز قائم کرنا، کسی امر کا طے کر لینا، منگنی کرنا۔  
 بات ٹھٹھنا (مجاورہ) (۱) تجویز قرار پانا (۲) نسبت یا منگنی قرار پانا۔  
 بات جا بڑھنا (مجاورہ) دوران گفتگو میں کسی اور ذکر کا چھڑ جانا۔  
 بات جانا (مجاورہ) (۱) اعتبار جانا رہنا (۲) عزت میں فرق آنا، ساکھ نہ رہنا  
 بہت جب ہے۔ اثر اس وقت ہے، تعریف تب کی جائے گی۔

بات جھنڈا (مجاورہ) بات ذہن نشین ہونا، کسی بات کا اثر پیدا ہونا۔  
 بات جو جاسے (ہی) یا بانی مانگ نہی (۱) مثل (۱) اگر اپنی عزت جانتے  
 ہو تو بانی نہک کا احسان نہ اٹھاؤ۔ کسی کا تھوڑا سا احسان اٹھانے  
 میں بھی عزت نہیں رہتی۔  
 بات جھٹلنا (مجاورہ) بات کو غلط سمجھنا، بات کی تردید کرنا۔  
 بات جھنڈے سے جھڑھنا (مجاورہ) کسی بڑی بات کا مشہور کرنا (۲)  
 کسی کی بے عزتی کر دینا۔

بات پانا (۱) مطلب سمجھ جانا (۲) عمدگی اور بھلائی دیکھنا۔ بات کی  
 اصلیت کا معلوم ہو جانا۔  
 بات پچھنا (۱) بات کا پوشیدہ رکھا جانا (۲) بات کا ضبط کرنا، بات سضم ہونا  
 بات پر (۱) بولنے پر محض گفتگو پر (۲) عزت پر۔ نام پر (۳) ضد پر۔  
 خطا پر حرکت پر۔  
 بات پر آنا (۱) آجانا (۱) بات پر پکا ہونا۔ ضد کرنا۔ اپنی بات پر اڑنا۔  
 قول کی پیروی کرنا۔ آبرو کا پاس کرنا۔  
 بات پر بات چلنا۔ ایک بات کے سلسلے میں اسی قسم کا دوسرا ذکر  
 چل نکلنا۔ ایک واقعے کے بیان میں اسی قسم کے دوسرے واقعے کا  
 بیان ہونا۔

بات پر بات یاد آنا (مجاورہ) باتیں کرتے ہوئے بھولی ہو بات یاد  
 آ جانا، بات میں سے بات پیدا ہونا۔  
 بات پر کھٹنا (مجاورہ) اپنے قول پر قائم رہنا۔ کسی پر ثابت قدم رہنا۔  
 بات پر جانا (مجاورہ) کسی کی بات کا خیال کرنا، کسی کے لیے بر اعتماد کرنا۔  
 بات پر جان دینا (مجاورہ) قول نبھانا، ضد پر قائم رہنا۔ اپنا کہا منوانے  
 پر جان قربان کرنا۔

بات پر جلنا (مجاورہ) وضع بنا ہونا۔ لکیر کا فقیر ہونا۔ اپنا طریقہ نہ چھوڑنا۔  
 بات پر خاک ڈالنا (مجاورہ) ادھر گزر کرنا۔ بات کو بھٹلا دینا۔  
 بات پر زبان گھٹنا (مجاورہ) زبان بندی ہونا۔ بات کرنے کی اجازت  
 نہ ہونا۔

بات پر قائم رہنا (مجاورہ) ضد پر اڑ جانا۔ قول پر اڑا رہنا۔ وعدہ پورا کرنا  
 بات پر کان رکھنا (مجاورہ) بات کو غور سے سنانا۔  
 بات پر ٹھٹھنا۔ بات پر مٹھنا، مجاورہ) نام کے لیے تباہ ہونا (۲) آبرو  
 پر جان دینا۔

بات بکھڑنا (مجاورہ) اکتانہ چینی کرنا، نقص نکالنا۔ (۲) کسی شخص کو اس  
 کے قول سے قائل کرنا۔  
 بات پی ہونا (مجاورہ) کسی معاملے کو یقینی طور پر طے کرنا۔ ملگنی مضبوط  
 طور پر طے کرنا۔

بات پلٹنا (مجاورہ) کہہ کر مکر جانا، بات بدلنا۔ (۲) کسی سے جو سنا، اس  
 کو ویسے ہی الفاظ میں جواب دینا  
 بات پلٹے یا نہ دھنا (مجاورہ) کسی کی بات کا پورا پورا خیال رکھنا، نصیحت  
 کو یاد رکھنا۔

بات پوچھنا (مجاورہ) (۱) حال دریافت کرنا (۲) بات دریافت کرنا۔  
 (۳) خبر لینا، ذکر کرنا، عزت و آبرو کرنا۔ خاطر مدارات کرنا۔  
 بات پوچھنا، بات کی جڑ پوچھنا (مجاورہ) کرید کرید کر پوچھنا (۲) بال  
 کی گھان نکالنا۔

بات پھینچنا (مجاورہ) بات معلوم ہونا، بات کا کانون تک پہنچ جانا۔  
 بات جھوٹنا (مجاورہ) بھید کھلنا، بات کا پتہ لگ جانا۔ اطلاع ملنا۔  
 راز افشا ہو جانا۔  
 بات پھیرنا (مجاورہ) بات بدلنا، کسی ہوئی بات کے خلاف کہنا۔



بات جی سے گھڑنا (محاورہ) اچھوٹی بات بنانا۔ اپنی طرف سے بات  
 تراش لینا۔  
 بات جی کو لگنا (محاورہ) (۱) بات کا اچھا معلوم ہونا (۲) بات کا  
 ذہن نشین ہونا۔  
 بات جی میں بیٹھنا (محاورہ) (۱) بات کا دل پر اثر ہونا (۲) کسی واقعے یا  
 خبر کا قریب قریب معلوم ہونا۔  
 بات جی میں نہ رہنا (محاورہ) اراڑ کا ظاہر ہو جانا۔ پیٹ کا ہلکا ہونا۔  
 بات چیانہ۔ چیا جانا (محاورہ) بات ٹال جانا۔ کہتے کہتے رک جانا کلام  
 کے سرخ کو پلٹ دینا۔  
 بات چیا چیا کے کرنا (محاورہ) (۱) صاف صاف گفتگو نہ کرنا۔ اصل  
 بات کو چھپانے کی کوشش کرنا (۲) ادا دبا کے بات کہنا (۳) اترانا  
 بات چھپانے میں اٹھانا (محاورہ) کسی کو ہنسی میں ٹالنا۔  
 بات چلانا (محاورہ) تذکرہ بت شروع کرنا۔ ذکر پھیرنا۔  
 بات چلنا (محاورہ) سلسلہ گفتگو شروع ہونا تذکرہ ہونا۔  
 بات چلی جانا (محاورہ) بات کا سلسلہ نہ ٹوٹنا۔ بات کا تسلسل قائم رہنا  
 بات چندرا کے کہنا (محاورہ) الجھنا ہی کے بات کہنا۔  
 بات چھڑنا (محاورہ) گفتگو کا شروع ہونا۔  
 بات چھڑنا (محاورہ) گفتگو کا آغاز کرنا۔ کسی امر کے متعلق بات شروع کرنا  
 بات چیت۔ بول چال۔ گفتگو۔ گفت و شنید (۲) مول قول (۳) علم چیان  
 بات ڈھاننا (محاورہ) چھپانا۔ معاملہ کو خفیہ رکھنا۔ ضبط کرنا  
 بات دل پر نقش ہو جانا (دل میں اتر جانا) (محاورہ) بات کا اثر ہونا  
 بات ذہن نشین ہونا۔  
 بات دل میں تھب جانا (محاورہ) بات کا دل پر نقش ہو جانا۔  
 بات دماغ سے نکالنا (محاورہ) نئی بات کہنا (۲) ایجاد کرنا۔ بات کو  
 ذہن سے نکال دینا۔  
 بات دوڑ بھجنا (محاورہ) (۱) بات کا پھیلنا۔ بات کا مشہور ہو جانا۔  
 (۲) مغلنے کا طول پکڑنا۔  
 بات دو کوڑی کی ہونا (محاورہ) ساکھ جاتی رہنا۔ بھرم نہ رہنا۔ بے وقعت  
 بات دہرانا۔ (محاورہ) ایک بات کو دوبارہ کہنا۔  
 بات دھری اٹھانی نہیں رہتی۔ نہ بات کا جواب دیتے بنتی ہے  
 نہ چپ رہے۔ نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار۔  
 بات دینی آنا (محاورہ) جواب دہی کا ذمہ دار ہونا (۲) باذہر ہونا۔  
 پوچھ پچھ ہونا۔  
 بات ڈالنا (محاورہ) معاملہ پیش کرنا۔ ذکر پھیرنا۔  
 بات ڈوبنا (محاورہ) اعتبار کھونا۔ بات ہلکی کرنا۔ وفادار مٹانا۔ کام بگاڑنا  
 بات ڈھال کے کہنا (محاورہ) اشارے کے لئے میں کہنا۔ بات کا سیدھ  
 اور صاف الفاظ میں نہ کہنا۔  
 بات ڈھالنا (محاورہ) الزام رکھنا۔ تہمت لگانا۔  
 بات ذہن پر چھنا (محاورہ) بات کا خیال میں آنا۔ ذہن نشین ہونا۔  
 بات ذہن میں آنا۔ (محاورہ) بات کا خیال میں آنا۔ بات کا دل پر اثر کرنا

بات ذہن میں اتر جانا۔ بات ذہن میں بیٹھ جانا (محاورہ) (۱) بات  
 کا ذہن نشین ہونا۔ (۲) تدبیر کا دل میں چمکانا۔  
 بات رفت گذشت ہونا (محاورہ) بات اٹل جانا۔ بات کا بھول ہونا  
 بات رکھ لینا (محاورہ) کہا مان لینا (۲) عزت رکھ لینا (۳) وقت پر کام  
 آنا۔ اڑتے وقت کام آنا۔  
 بات رو میں نکل جانا (محاورہ) گفتگو کے جوش میں آکر بات کا منہ  
 سے نکل جانا۔ بات کلبے اختیار ب پر آ جانا۔  
 بات رہ جاتی ہے۔ وقت نکل جانا ہے (امش) ضرورت کی گھڑی  
 نکل جاتی ہے لیکن ضرورت کے وقت کام نہ آنے والا یاد رہ جاتا ہے  
 بات رہ جانا (محاورہ) (۱) رو رہ جانا۔ عزت رہ جانا (۲) تذکرہ باقی رہ جانا  
 (۳) آرزو پوری ہو جانا (۴) شکر رہ جانا۔  
 بات زبان پر آنا (محاورہ) کسی امر کا تذکرہ ہونا۔  
 بات زبان پر لانا (محاورہ) کسی بات کا بیان کرنا۔ بات کہنا۔  
 بات زبان سے نکلنا (محاورہ) بات ظاہر ہونا۔ بات کہی جانا۔  
 بات زہر سے بھری ہونا (محاورہ) بات میں شرارت بھری ہونا۔ بات میں  
 فساد کا مادہ ہونا۔  
 بات زہر لگنا۔ بات زہر ہونا (محاورہ) گفتگو کلبے حدنا پسند ہونا۔ بات  
 کا دل کو بہت برا لگنا۔  
 بات سبک ہونا (محاورہ) بات ہلکی ہونا۔ ساکھ مٹنا۔  
 بات سمجھانا (محاورہ) کسی امر سے واقف کرنا۔ خبردار کرنا (۲) نکتہ تانا  
 مضمون بتانا۔  
 بات سہر سہر ہونا۔ بات کا کامیاب ہونا۔ التجا کا قبول ہونا۔ درخواست  
 کا منظور ہونا۔  
 بات سفوارنا (محاورہ) بات بنانا۔ برہی کی اصلاح کرنا۔  
 بات سلنے کا دماغ ہونا۔ بات سننے کی برداشت رکھنا۔ مغل مزاج ہونا۔  
 بات سو بات۔ جیسا موقع ہو گا۔ دیکھا جائے گا۔ ہر بات موقع پر کی  
 جائے گی۔  
 بات سوسنی ان سنی کر دینا (محاورہ) بات سن کر ٹال دینا۔ توجہ نہ دینا۔  
 بات سو بھنا (محاورہ) (۱) خیال میں نہ مضمون آنا (۲) سنی کے سوال کا  
 جواب سو بھ جانا۔  
 بات سو بھنا (محاورہ) (۱) تدبیر سو بھنا۔ غور کرنا۔ تجویز کرنا۔  
 بات سہنا (محاورہ) کڑوی بات برداشت کرنا۔ سخت بات سن کر صبر کرنا  
 بات سے بات نکلنا (محاورہ) بات کرتے ہوئے کوئی نئی بات نکلنا  
 بات سے بھرننا (محاورہ) کہنے کے کہنا۔ بد عہدی کرنا۔ قول سے پھرنا  
 بات سے نکل جانا (محاورہ) کہی بات سے مکر جانا۔  
 بات شہر و شکر ہونا (محاورہ) بات خوشگوار ہونا۔ بات کا دل کو پسند آنا۔  
 بات شہر ہونا۔ بات کا خوشگوار ہونا۔ بات کا بہت پسند آنا۔  
 بات ظاہر ہو جانا (محاورہ) (۱) عہد باراز کھلنا۔ نتیجہ نکلنا۔  
 بات کا ادرج ہونا (۲) بات کا اصل مطلب۔ بات کا سرسور۔  
 بات کا ایما پانا (محاورہ) مطلب سمجھنا۔ اشارہ سمجھنا۔ کنایت پانا

بات کو منہ سے لے لینا (محاورہ) کوئی بات کرنے لگے اس سے پہلے

خود گردینا  
بات کھٹائی میں پڑنا (محاورہ) کام میں دیر لگ جانا، ملتوی ہو جانا۔

آئندہ برا بھلا نہ کرنا۔

بات کھٹائی میں ڈالنا (محاورہ) بات نکلنے رکھنا۔ ملتوی کر دینا (۲۱) مثال  
مٹوں کرنا۔

بات کھٹلنا (محاورہ) بات دل میں چھیننا۔ دل میں خلش ہونا۔ ناپسند ہونا۔  
بات کہہ کے گنہگار ہونا (محاورہ) کچھ کہہ کر الزام اٹھانا۔ کچھ کہہ کر پھٹنا۔  
یا شرمندہ ہونا۔

بات کھٹلنا (محاورہ) صحیح بات کا پتہ لگانا۔ افشاہے راز ہونا۔

بات کہنا (محاورہ) (۱) منہ سے بولنا (۲) ذکر کرنا۔ قصہ بیان کرنا۔  
(۳) نصیحت کرنا۔

بات کہنے کو رہ گئی ہے (محاورہ) شکایت رہ گئی ہے۔ یادگار رہ گئی ہے  
بات کہنے میں بھٹ پڑا۔ بہت جلد لکھے پھر میں۔  
بات کہنے میں آتی ہے (محاورہ) ابھی ہو یا بڑی کہنی ہی پڑتی ہے۔  
بات کھونا۔ بے آبرو ہونا۔ عزت گنونا۔

بات کہی اور پرائی ہوئی (مثال) امن سے نکلی ہوئی بات چھپانے نہیں  
پھیلتی۔ مجید ظاہر کر کے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔

بات کہنے کی لاج (محاورہ) قول کی شرم۔ کہنے کا نباہ۔

بات کیا ہے (۱) واقعہ کیا ہے۔ مطلب کیا ہے۔ (۲) اصل کیا ہے۔  
(۳) آسان کیا ہے۔

بات کی بات کو (محاورہ) تھوڑی دیر کے لیے۔ دم بھر کے لیے۔

بات کی بات میں (محاورہ) آنا فنا۔ فوراً۔

بات کی بات لالت کی لالت۔ بات کی بات خرافات کی خرافات  
بکری کے سینگوں کو بخر گئے بیری کے پات (مثال) جب مذاق کے  
پیرائے میں کوئی ناگوار بات کہی جائے تو اس وقت یہ مثل پڑتی ہے۔  
بات کی تاب لانا (محاورہ) بذر یا بی کو برداشت کرنا۔ تحمل کرنا۔

بات کی تہ۔ اصل مطلب۔ بات کی حقیقت۔

بات کی جان۔ اصل بات۔ صحیح معاملہ۔ اصلی واقعہ۔

بات کی کرڑ لگنا (محاورہ) ایک ہی بات بار بار کہنا۔ رٹ لگانا۔

بات کی کر باندھنا (محاورہ) بات کو معمول مقرر کرنا۔ بات کو ایک رسم بنانا  
بات کی گرفت ہونا (محاورہ) بات پر اعتراض ہونا۔ ٹکنے یعنی ہونا۔ روک ٹوک  
بات کے شاختلے (محاورہ) بات کے مختلف پہلو۔ بات کے کلی پھندے

بات (گمرہ) گانٹھ میں باندھنا (محاورہ) بات کو خوب یاد رکھنا۔

بات گوزشتہ ہونا۔ (محاورہ) افسوں اور بے کار بات ہونا۔ ناقابلِ ماعت ہونا  
بات گول کرنا (محاورہ) بات ٹالنا۔ صاف صاف کچھ نہ بتانا۔

بات گھٹنا (محاورہ) جی سے بات بنانا۔ اپنے دل سے بات بنا کے کہنا۔ خلاف  
واقعہ کہنا۔ سخن سازی کرنا۔

بات گزری ہوئی۔ معاملہ رفت گزشت ہونا۔ بات کا بھلا دینا۔

بات گزری پھر ہاتھ نہیں آتی (محاورہ) ایک مرتبہ اعتبار جاتا رہے تو پھر

بات کا تینگ کر پٹانا (کرنا) ذرا سی بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔ ذرا سی

بات کو طول دینا۔ سیدھی بات میں جھگڑا پیدا کرنا۔

بات کا پاجانا (محاورہ) بات کو سوجھ لینا۔ تہمت پہنچ جانا۔

بات کا پٹلو۔ بات کا انداز۔ بات کا اشارہ۔ کہنا یہ

بات کو لورا۔ بات کا لگا۔ دھنی۔ اپنے کے کو پورا کرنے والا۔

صادق انقول۔ وعدے کا سچا۔ باوقار راست باز۔

بات کا طشا۔ گفتگو میں دخل در معقولات کرنا۔

بات کا چوک آدمی، ڈال کا چوکا بند پھر سنبھلنا نہیں (مثال) جو  
مشخص موقع پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر اس کی تلافی نہیں کر سکتا جس

طرح بند کے ہاتھ سے درخت کی ٹہنی چھوٹ جلتے تو وہ گہر پڑتا ہے  
بات کا پھینٹنا۔ اشارہ۔ کہنا یہ۔

بات کا ڈرہن سے اتر جانا۔ بات کا بھول جانا۔ دھیان سے اتر جانا

بات کا رنگ مانا (محاورہ) بات کا بااثر ہونا۔ بات کا میاب ہونا۔

بات کا رگڑ ہونا (محاورہ) نصیحت میں اثر ہونا۔ تدبیر کا بااثر ہونا۔

بات کا سہ پھرنے ہونا (محاورہ) گفتگو کا بے ترتیب اور بے نکاہ ہونا

بات کا ناکمل ہونا۔ بے تکلی اور ناقص گفتگو ہونا۔

بات کا موقع (محاورہ) بات چیت کرنے کی فرصت۔ گفتگو کا محل

بات کان پڑنا (محاورہ) اتفاقاً کوئی بات سن لینا۔

بات کان نہک پھینچنا (محاورہ) بات سنانا دینا۔ خیر پھینچنا۔

بات کان سے سننا (محاورہ) غور سے سننا۔ کسی بات کی طرف توجہ دینا۔

بات کان میں پڑنا۔ گوش کرنا ہونا۔

بات کان میں (چھونک دینا) ڈال دینا (محاورہ) (۱) باخبر کر دینا۔

کہہ دینا (۲) کسی کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہنا۔

بات کا (کچا) ہیٹھا (محاورہ) بے اعتبار۔ ناقابلِ اعتبار۔ جو بات پر  
قائم نہ رہے۔

بات کتر دینا۔ (محاورہ) بات کاٹنا

بات کٹ جانا (محاورہ) بات کرتے ہوئے کاٹ دینا۔ بیچ میں بول

پڑنا۔ گفتگو کا سلسلہ کٹ جانا۔

بات کرتے پھر مارتا ہے۔ (محاورہ) سخت بدکلام ہے۔

بات کر سی نشین ہونا (محاورہ) بات ٹھک بیٹھ جانا۔ بات کا مان لینا

بات کرنا (محاورہ) (۱) بولنا۔ گفتگو کرنا۔ متوجہ ہونا۔ مخاطب ہونا۔ گلہ کرنا۔

بات کرنے میں پھول جھڑنا (محاورہ) شیریں کلام ہونا۔

بات کرید کرید کر پوچھنا (محاورہ) جرح کرنا۔ بال کی کھال نکلانا۔

بات کر پوتی ہونا۔ لگنا (محاورہ) بات تلخ ہونا۔ بات ناگوار ہونا۔

بات کو آچل میں باندھنا (محاورہ) کسی قول کو یاد رکھنا۔ وصیت یا

نصیحت پر عمل کرنا۔

بات کو چکر دینا (محاورہ) بات کو پھر پھار کے کہنا۔ بات کو سیدھی طرح بیان

نہ کرنا۔

بات کو طول دینا (محاورہ) بات کو لمبا کرنا۔ جھگڑا بڑھانا۔

بات کو گرہ میں باندھنا۔ دیکھے بات کو آچل میں باندھنا۔

معقولات کرنا۔

بات میں رخسے نکالنا (محاورہ) نمکتہ چینی کرنا عیب جوئی کرنا نقص نکالنا  
 بات میں نہ ہر لونا۔ فساد ڈالنا۔ شرارت کرنا۔  
 بات میں سے بات نکالنا (۱) سلسلہ گفتگو میں اسی قسم کی اور باتیں  
 بیان کرنا (۲) کوئی نازک جزیہ نکالنا (۱) ایک بات سے دوسری بات پیدا کرنا۔  
 بات میں فی نکالنا۔ اعتراض کرنا۔ نمکتہ چینی۔ عیب نکالنا۔  
 بات میں فتنہ کھولنا۔ مہنسی مذاقی سے باتیں پڑھتے بنانا۔ ہونا  
 بات میں فرق آنا (محاورہ) عزت کم ہوجانا۔ اعتبار نہ رہنا۔ وضع کے خلاف  
 بات میں کلام ہونا (محاورہ) شہہ ہونا۔ اعتراض ہونا۔  
 بات میں کھڑے بیٹھ کرنا۔ نمکتہ چینی کرنا۔ اعتراض کرنا۔ مین میکھ نکالنا۔  
 بات میں لگانا۔ گفتگو میں مشغول کرنا۔ فریب دینا۔  
 بات میں ہندی کی چمکی نکالنا (محاورہ) (۱) کرید کرید کے پوچھنا (۲)  
 بال کی کھال اتارنا۔

بات میں سمیٹتی ہونا (محاورہ) کسی بات میں کمی ہونے کی وجہ سے بے عزت ہونا  
 بات نہ بنانا (محاورہ) وضع پر قائم رہنا۔ کسی کی لاج رکھنا۔  
 بات نہ نشر ہونا (محاورہ) بات ناگوار ہونا۔  
 بات نہ نظر میں ہونا (محاورہ) معاملہ یاد ہونا۔ دھیان میں ہونا۔  
 بات نہ نکالنا (محاورہ) تذکرہ کرنا (۲) مضمون پیدا کرنا (۳) تہمید نکالنا۔  
 بات نہ نکالنا (۱) منہ سے کوئی کلمہ نکالنا۔ (۲) نتیجہ نکالنا۔ (۳) ادا ظاہر ہونا۔  
 بات نہ آنا (محاورہ) جواب نہ آنا۔ پھر کہتے نہ بن پڑنا۔  
 بات نہ پوچھنا (محاورہ) اخیرت لینا بے پردائی کرنا۔ خاطر تواضع نہ کرنا۔  
 منہ نہ لگانا۔

بات نہ سنا (محاورہ) توجہ نہ دینا بے پردائی کرنا۔  
 بات نہ کرنا (محاورہ) بھولے پن، سیدھے پن یا خوف کی وجہ سے  
 بات نہ کہنے نہ بن پڑنا۔  
 بات نہ کرنا (محاورہ) مغرور ہونا۔ خاطر میں نہ لانا۔  
 بات نہ ہونا (محاورہ) آسان ہے۔ معمولی بات ہے۔  
 بات نہیں بنکر پڑے (محاورہ) معمولی بات نہیں۔ فساد کی بات ہے  
 سخت بھکڑے کی بات ہے۔

بات نہ پڑنا (محاورہ) ابرو جاتی رہنا۔ بے وقعت ہونا۔  
 بات نہ زنی ہونا (محاورہ) بات یا وقعت ہونا۔ بات درست ہونا۔  
 بات نہ ہاتھ آنا (لکنا) (محاورہ) نتیجہ حاصل ہونا۔ مقصد۔ پالینا مدلول جانا  
 بات نہ ملنی ہونا (محاورہ) دوسروں کی نظر میں بے وقعت ہونا۔ قدر گھٹنا  
 بات کا باہر اعتبار سے کرنا۔  
 بات نہ منس کے طال دینا (محاورہ) فضول سمجھ کر بات کا جواب نہ دینا  
 بات نہ منسی میں اڑنا دینا (محاورہ) بات کا مذاق میں اڑا دینا۔ بات کو  
 حقاقت سے طال دینا۔  
 بات نہ منسی ہونا (محاورہ) سبکی ہونا۔ عزت میں فرق آنا۔ ساکھ بگڑنا۔  
 بات نہ ہی کیا ہے (محاورہ) آسان سی بات ہے۔ کچھ مشکل نہیں۔  
 بات نہ یہ ہے۔ (محاورہ) بات تو یہ ہے۔ اصل مطلب یہ ہے۔ اصل مقصد

نہیں بننا۔

بات لاکھ کی کرنی خاک کی ایشل، باتیں بنانے میں آستانا لیکن عمل کچھ نہیں  
 بات لانا (۱) نسبت کا پیغام لانا۔ (۲) الزام لگانا۔  
 بات نہ لگنا۔ بات کا زبان سے نکالنا۔ بات کا منہ سے بیان ہونا۔  
 بات نہ لگانے (رکھنا) (محاورہ) معاملے کا فیصلہ نہ کرنا۔ صاف صاف لکنا  
 بات نہ لکھنا (محاورہ) بات کو یقینی سمجھ کر یاد رکھنا۔ بات کو بھولنے  
 نہ دینا۔  
 بات نہ لگانا (محاورہ) جعلی کرنا لگانے کی بجائی کرنا۔ غیبت کرنا۔ کان بھڑا  
 نسبت یا منگی بھڑانا (۱) الزام رکھنا۔ تہمت لگانا۔  
 بات نہ لکنا (محاورہ) نسبت قرار پانا۔ سگانی ہونا۔  
 بات نہ لمبی چوڑی ہونا (محاورہ) بات میں طوالت ہونا (۲) معاملہ کا بڑھنا۔  
 بات نہ مات کرنا۔ چال چیلنے نہ دینا۔ کسی فریب میں نہ آنا۔ کسی کی تدبیر کو  
 ناکام بنا دینا۔

بات نہ ماننا (نہایت پر عمل کرنا۔ بات قبول کرنا۔  
 بات نہ مفر سے نکالنا (انارنا) ذہانت سے کوئی تازگ بات پیدا کرنا  
 بہت اچھی چیز سوچنا۔ مضمون بیان کرنا۔  
 بات نہ مقرر سے ماہر کرنا (محاورہ) اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنا۔  
 بات نہ من میں لہنا (محاورہ) بات دل کو پسند لگانا۔ بات یاد رہنا۔  
 بات نہ منگو آنا (محاورہ) نسبت منگو آنا رسگانی کا پیغام طلب کرنا۔  
 بات نہ منہ پر آنا (محاورہ) چرچا ہونا۔ تذکرہ ہونا  
 بات نہ منہ نہ رکھنا (محاورہ) کسی بات کو چھٹانا۔ ذکر کرنا۔  
 بات نہ منہ نہ رکھنا (محاورہ) رو برو کہہ دینا۔ کسی سے خوف نہ لگانا۔  
 بات نہ منہ سے نہ نکالنا (محاورہ) شکوہ نہ کرنا۔ غدر نہ کرنا چپ ہو رہنا  
 صبر کرنا۔ ضبط کرنا۔

بات نہ منہ سے نہ نکالنا (محاورہ) عاجز ہونا۔ عاجز ہونا۔  
 بات نہ منہ سے منگلی برائی ہوئی (امش) منہ سے جو بات نکل جائے  
 وہ مشہور ہو جاتی ہے۔

بات نہ میں۔ لمحہ بھر میں۔ فوراً۔ تروت  
 بات نہ میں بات ملا (محاورہ) (۱) ہاں میں ہاں ملانا (۲) کسی کی بات میں  
 دخل دینا (۳) کسی بات میں پارہی لگانا۔  
 بات نہ میں بات نہ نکالنا (محاورہ) کوئی نئی بات نہ لگانا۔ پارہی لگانا (۱۲)  
 جس قسم کی بات ہو رہی ہو اس میں کوئی نئی بات نہ لگانا۔ نمکتہ چینی کرنا۔  
 بات نہ میں لونا۔ (محاورہ) کسی کے معاملے میں دخل دینا (۲) بیچ میں بول پڑنا  
 بات نہ میں نوح نکالنا (محاورہ) نمکتہ چینی کرنا۔ اعتراض کرنا۔  
 بات نہ میں پیلو نکالنا (محاورہ) بات میں سے کوئی نئی بات نہ لگانا۔  
 بات نہ میں پھول جھڑنا (محاورہ) پیاری پیاری باتیں کرنا۔ دل پسند باتیں کرنا۔  
 بات نہ میں تورنا (محاورہ) کسی کو ناکل کرنا۔ گفتگو میں عاجز کرنا۔  
 بات نہ میں چیدیاں لگانا (محاورہ) صاف صاف نہ کہنا۔ اصلی بات  
 پھیلانے کی کوشش کرنا۔  
 بات نہ میں دخل دینا (محاورہ) کسی کی گفتگو میں بول اٹھنا۔ دخل در

یہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے۔  
 باتوں باتوں میں۔ اثنائے کلام میں۔ دوران گفتگو میں۔  
 باتوں باتوں میں کام نکالنا محاورہ ترکیب سے کام بنانا۔ مفت میں  
 کام بنالینا۔  
 باتوں باتوں میں کہنا محاورہ کسی اور تذکرے میں مطلب کی بات کہنا  
 باتوں بوڑھا کرتب خوار۔ باتوں چلنا کاموں خوار (اشغال) باتیں تو  
 تجربہ کاروں کی سی ہیں لیکن افعال بے وقوفوں کے سے ہیں (۲۱) باتیں  
 خوب بنانا مگر کام نہ کرنا۔  
 باتوں سے ڈر جانا محاورہ دھمکی میں آجانا۔  
 باتوں سے کام نہیں چلنا محاورہ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ باتوں سے نہیں  
 باتوں سے پکیر پک جانا محاورہ کسی کی تلخ یا بیری باتوں سے دکھ ہونا۔  
 باتوں کا تار۔ باتوں کا سلسلہ  
 باتوں کا جھاڑ باندھنا محاورہ لگانا بولے جانا۔  
 باتوں کا دفعت کھولنا محاورہ لکھ شکوہ کرنا۔  
 باتوں کا دھنی (۱)۔ صفت، باتیں کرنے میں استاد بہت باتیں بنانے والا  
 باتوں کی کنسوٹیاں لینا محاورہ باتوں کی ٹوہ لگانا۔  
 باتوں میں محاورہ بات چیت میں (۲) واپس بات میں۔ مزخرفات میں۔  
 باتوں میں آنا محاورہ کہنے کا یقین کر لینا۔ فریب کھانا۔ بہکاتے میں آنا  
 باتوں میں اڑنا محاورہ (۱) ہنسی میں ٹالنا (۲) فریب دینا۔ دھوکا دینا۔  
 باتوں میں اٹھنا محاورہ باتوں میں لگانا (۲) بات چیت میں دیر کر دینا۔  
 باتوں میں ہسلانا محاورہ محض باتوں سے خوش کرنا (۲) دم جھانسا دینا۔  
 باتوں میں بھٹلانا باتوں کے ذریعہ بہکا لینا۔ دم دینا۔  
 باتوں میں تار پھینا محاورہ باتیں کرنے ہونے اندازہ لگانا کہ کہنے والا  
 کیا کہنا چاہتا ہے۔  
 باتوں میں ٹالنا محاورہ باتوں میں وقت گزارنا  
 باتوں میں ٹھوننا محاورہ باتیں کرتے ہوئے کسی کے دلی عندیے کو معلوم کرنا  
 باتوں میں دھر لینا محاورہ الہ جواب کرنا۔ قائل کرنا۔  
 باتوں میں کھل جانا محاورہ بے تکلف ہو جانا۔ دل کی بات کہہ دینا  
 باتوں میں لگانا محاورہ دیکھنے بات میں لگانا۔  
 باتیں بچھارنا (۱) باتیں بنانا۔ سخن سازی کرنا۔ بھوٹ بولنا (۲) خوشامد  
 کرنا (۳) سخی مارنا (۴) الزام دھرنا۔  
 باتیں بنانا محاورہ بھوٹ بولنا۔ سخی بھولنا۔ یا وہ کوئی کرنا۔ چیلے بہلنے بنا  
 باتیں چرٹنا محاورہ لگائی بچھارنا۔ چھٹی کھانا۔  
 باتیں چبا چبلے کرنا محاورہ غرور کے ساتھ باتیں کرنا۔  
 باتیں چھانٹنا (۱) باتیں بنانا۔ بھوٹی باتیں کرنا (۲) طعنہ مارنا۔ طنز آمیز  
 باتیں کرنا۔  
 باتیں سنانا محاورہ اُترا بھلا کہنا۔ طعنہ دینا۔ سخت سست کہنا۔  
 باتیں سننا محاورہ کسی کی گفتگو سننا۔ کلام پر دھیان دینا (۲) کڑوی  
 باتوں کو برداشت کرنا۔ بڑا بھلا سمجھنا۔  
 باتیں ملانا۔ ہاں میں ہاں ملانا۔ جی ہاں جی ہاں کرنا۔

باتیں ہیں۔ دھوکے ہیں۔ دھوکے ہیں۔ دھمکیاں ہیں۔  
 باتیں ہی باتیں ہیں (۱) کہنا ہی کہنا ہے حقیقت کچھ نہیں (۲) صرف باتیں  
 ہی کرتا آتی ہیں۔ ملتا ہے (۳) محض دھمکی ہی دھمکی ہے۔  
 باتوں۔ باتوں۔ باتوں نیا۔ باتوں۔ باتوں۔ باتوں۔ یا (۴) صفت  
 بہت باتیں بنانے والا۔ فضول گو۔ کیواسی۔ جی۔  
 باٹ (د)۔ مذا [وزن توڑنے کے بٹے (۱۲) منٹ] راستہ۔ راہ۔ طریق۔ سڑک  
 پکڈنڈی۔  
 باٹ چلے جانے یا باہا پڑے جانے (مثلاً کسی کے ساتھ سفر کرنے  
 یا واسطہ پڑنے ہی سے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔  
 باٹ دیکھنا (۱) بٹے کی جانچ کرنا (۲) راہ دیکھنا۔ انتظار کرنا۔  
 باٹ ساڑھو۔ راہ رو۔ مسافر۔ (۱)  
 باٹ کا آٹا۔ وہ آٹا جو چکی کے گرنڈ میں گرنے سے خود بخود جمع ہو جاتا ہے  
 باٹ کا روڑا (۱) اینٹ کا وہ ٹکڑا جس سے راہ چلنے میں رکاوٹ ہو۔ (۲)  
 (مجازاً) غریب مفلس۔ نادار۔  
 باٹ مارنا راستہ کھٹوٹا کرنا۔ نقصان پہنچانا۔  
 باٹی (۱) (۲) (۱)۔ منٹ [روٹی کی چھوٹی چھوٹی ٹھکیاں جو انکانوں پر رکھ  
 کر سینک لیتے ہیں  
 باج (ف) (۱)۔ منٹ [خرچ۔ محصول۔ زر مالگداری۔  
 باج دار۔ خراج دینے والا۔ محصول دینے والا۔  
 باج گزار۔ خراج گزار۔ ریاست کو محصول دینے والا۔ رعیت  
 باج گیر (ف)۔ صفت [محصول لینے والا۔ محصول۔ کلکٹر۔  
 باجا (۱)۔ جا (۲)۔ منڈ [بکنے کی چیز۔ ساز۔ مزامیر۔  
 باجا کاجا۔ گانا بجانا۔ ڈھول ڈھکنا۔ دھوم دھام۔ آکاجا تابع مہل ہے  
 باجیٹی (۱)۔ باج۔ پ۔ ہی (۲)۔ منڈ [برہمنوں کی ایک ذات  
 باجرا (۱)۔ باج۔ را (۲)۔ منڈ (۱) ایک قسم کا غلہ (۲) بجانا [سخی بوندی  
 (۳) نہایت باریک کٹی ہوئی چھالیا۔  
 باجرا برسنا محاورہ پھوڑا پڑنا۔ سخی بوندی بوندی بوندی بوندی بوندی  
 باجرا سا بکھرنا محاورہ اُسے کل ہونا۔ بے چین ہونا۔ پریشان ہونا (۲) منتشر  
 ہونا (۳) تھک کر چور ہونا۔  
 باجرا مرغ۔ ایک قسم کا سیاہ پرندہ۔ جس کے پردوں پر باجرا کے برابر  
 زرد رنگ کی چتیاں ہوتی ہیں۔  
 باجری (۱)۔ باج۔ ری (۲)۔ منٹ [چھوٹی قسم کا باجرا۔  
 باجن (۱)۔ باجن (۲)۔ منڈ [ڈھول تانے وغیرہ  
 باجنا (۱)۔ باج۔ نا (۲)۔ مص (۱)۔ بجانا۔ مشہور ہونا۔ موسم ہونا۔  
 باجنتڑ۔ باجنتڑی (۱)۔ باجن۔ تڑ۔ باجن۔ ت۔ ری (۲)۔ منڈ (۱)۔ باجے والا  
 (۲) وہ ٹیس جو گانے بجانے والوں سے لیا جاتا ہے۔  
 باجی (۱)۔ باج۔ جی (۲)۔ منٹ (۱)۔ آپا۔ بڑی بہن۔ ہمیشہ خواہرا (۲) اپنے  
 سے بڑی خاتون۔  
 باچھ (۱)۔ منٹ (۱)۔ گونڈا۔ لپ۔ چنڈہ۔ لگان (۳)۔ جمع بندی۔  
 کھاتہ۔



## مشرب خوری۔

بادہ گلہ رنگ - (ف۔ صف) سرخ شراب۔  
بادھا با۔ (دھا) [س۔ ۱۰۔ مٹ] (۱) رکاوٹ۔ مخالفت۔ مزاحمت۔ خلل  
(۲) انتشار۔ ۳۱۔ خطہ۔ (۴) نقصان۔ (۵) دکھ۔ درد۔ (۶) پلنگ کی ڈوری  
رسی۔ نوارٹ۔ (۷) [ہ] بڑھوتری۔ زیادتی۔

بادھا پڑنا۔ خلل پڑنا۔ رکاوٹ ہونا۔ کسی معاملے میں تعطل یا جبرن پیدا ہونا  
بادی (با۔ وی) [ف۔ صف] (۱) ہوا پیدا کرنے والا۔ برقی۔ نفاخ (۲)  
سرور۔ ٹھنڈا (۳) [مٹ] برودت اور ریاچ پیدا کرنے والا مادہ (۴)  
بانی۔ گھینا (۵) بٹارت۔ نقصان۔

بادی بن (با۔ ند) نفع پیدا کرنے کی کیفیت۔  
بادی پھیلنا (محاورہ) استسفی آنا۔ بھنگا کرنا۔

بادی (با۔ وی) [ع۔ صف] (۱) شروع۔ (۲) شروع کرنے والا۔  
بادی الزائے (با۔ و۔ بر۔ رائے) سرسری رائے۔ ابتدائی مفکرہ  
بادی النظر (با۔ و۔ یں۔ نظر) سرسری نظر سے۔ ابتدائی نظر میں۔ دیکھتے  
ہی اردو میں اس کے ساتھ "ہیں" لگانے میں۔

بادیان (با۔ و۔ یان) [ف۔ ۱۔ مٹ] سولف  
بادیان رومی۔ انیسون۔ ایک دوا کا نام۔

بادیہ (با۔ و۔ یہ) [ع۔ ۱۔ مذ] صحرا۔ بیابان۔ جنگل۔ دشت۔  
بادیہ پیما۔ بادیہ گرد۔ جنگل میں پھرنے والا۔

بادیہ (با۔ و۔ یہ) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) بڑا پیالہ۔ بڑا کپڑا۔ (۲) مشک (۳)  
باڈس (۴) [انگ۔ ۱۔ مٹ] عورتوں کا تنگ  
شٹوکر۔ انکیا۔

باڈی (Body) [انگ۔ ۱۔ مٹ] (۱) مادی وجود جسم (۲)  
دھڑ یا ڈھانچہ کسی چیز کا (۳) آدمی۔ شخص (۴) جماعت۔ گروہ۔ جن  
باڈی بلڈر (Body Builder) (۱) تن ساز۔ ورزش سے جسم  
بنانے والا (۲) موٹو وغیرہ کا ڈھانچہ بنانے والا۔

باڈی بلڈنگ (Body Building) (۱) جسم بنانے کا عمل یا  
دیشہ (۲) گاڑیوں کے ڈھانچے بنانے کا عمل یا پیشہ

باڈی گارڈ (Body Guard) (۱) محافظ۔ دستہ کسی شخص کا  
باڈل (با۔ ذل) [ع۔ ۱۔ مذ] سخی۔ فیاض۔ بخشش کرنے والا۔ سخاوت کرنے والا

باڈ (با۔ ذل) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) نوت۔ مرتبہ۔ دفع۔ موقع (۲) گھر  
کے ساتھ بطور تابع یعنی اہل و عیال (۳) سفینہ کا دن۔ شنہ۔

باڈ (با۔ ذل) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) نیکی کرنے والا۔ نیکوکار (۲) اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔  
بار (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) بوجھ۔ گرانی۔ وزن۔ (۲) سبب (۳) دخل۔ رسائی (۴) نوب  
مرتبہ۔ دفعہ۔ شمار (۵) اجازت۔ لائسنس (۶) حمل۔ گرجہ (۷) فرض۔

بار (با۔ ذل) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) بوجھ۔ گرانی۔ وزن۔ (۲) سبب (۳) دخل۔ رسائی (۴) نوب  
مرتبہ۔ دفعہ۔ شمار (۵) اجازت۔ لائسنس (۶) حمل۔ گرجہ (۷) فرض۔

بار (با۔ ذل) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) بوجھ۔ گرانی۔ وزن۔ (۲) سبب (۳) دخل۔ رسائی (۴) نوب  
مرتبہ۔ دفعہ۔ شمار (۵) اجازت۔ لائسنس (۶) حمل۔ گرجہ (۷) فرض۔

بار (با۔ ذل) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) بوجھ۔ گرانی۔ وزن۔ (۲) سبب (۳) دخل۔ رسائی (۴) نوب  
مرتبہ۔ دفعہ۔ شمار (۵) اجازت۔ لائسنس (۶) حمل۔ گرجہ (۷) فرض۔

بار (با۔ ذل) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) بوجھ۔ گرانی۔ وزن۔ (۲) سبب (۳) دخل۔ رسائی (۴) نوب  
مرتبہ۔ دفعہ۔ شمار (۵) اجازت۔ لائسنس (۶) حمل۔ گرجہ (۷) فرض۔

بار (با۔ ذل) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) بوجھ۔ گرانی۔ وزن۔ (۲) سبب (۳) دخل۔ رسائی (۴) نوب  
مرتبہ۔ دفعہ۔ شمار (۵) اجازت۔ لائسنس (۶) حمل۔ گرجہ (۷) فرض۔

۱۲۱) نصف شاہانہ۔ شاہی۔ بادشاہ کا۔

بادشاہی محکمہ۔ سلطنت کا محکمہ شاہی محکمہ  
بادشاہی خرچ (۱) شاہانہ خرچ۔ امیرانہ خرچ (۲) فضول خرچی چیشیت  
سے بڑھ کر خرچ۔

بادشاہی سند۔ شاہی فرمان۔ شاہی سرٹیفکیٹ۔

بادل (با۔ ذل) [ہ۔ ۱۔ مذ] ابر۔ گھٹا۔

بادل آنا (محاورہ) ابر کا نمودار ہونا۔ آسمان پر گھٹا دکھائی دینا۔

بادل اٹھنا (محاورہ) بادل کا آسمان پر نمودار ہونا۔

بادل اٹھا اٹھا اٹھا (منڈا کے آنا (محاورہ) بہت زور کی گھٹانا

بہت زور شور سے بادل کا آنا۔

بادل اٹھنا (محاورہ) بادل گھر کے آنا۔ بہت زور سے گھٹا چھانا۔

بادل برسنا (محاورہ) بارش ہونا۔ مینہ برسنا۔

بادل بھٹنا۔ ابر گھٹنا۔ مطلع صاف ہونا۔ گھٹا کا ہٹنا۔

بادل بھنگنا (محاورہ) بادلوں کا بہت نیچے ہوجانا۔

بادل بھوم بھوم کے برسنا (محاورہ) زور شور سے مینہ برسنا۔

بادل بھجانا (محاورہ) آسمان پر بادلوں کا محیط ہونا۔ ابر گھرنا۔

بادل بھینٹنا (محاورہ) بادلوں کا منتشر ہونا۔ آسمان کھل جانا

بادل ویچھ کر گھڑے پھوٹنا (ایش) امید بر آنے کے آثار دیکھ کر  
نقصان کر بیٹھنا۔

بادل کا آسمان پر گھر آنا (محاورہ) بادل کا آسمان پر پھیل جانا۔ گھٹا چھانا

بادل پھیلنا۔ بادل بھجانا۔ بادل گھرنا۔

بادل کھڑکنا۔ بادل کھینچنا۔ (محاورہ) بادلوں کے باہم ٹکرانے سے  
آواز پیدا ہونا

بادل کھٹنا (محاورہ) آسمان کا بادلوں سے صاف ہوجانا۔

بادل کی طرح کھینچنا (محاورہ) غصے میں آکر شور مچانا۔

بادل گھر آنا۔ بادل کھینچنا (محاورہ) بادل چھانا۔ آسمان پر بادلوں کا  
جمع ہونا۔

بالا۔ بادل (با۔ و۔ لا۔ باد) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) سونے چاندی کا تار

جس سے گولٹا وغیرہ بناتے ہیں (۲) زری کا پیرا جو ریشم اور چاندی سونے  
کے تاروں سے بنایا جاتا ہے۔ زربفت۔

بالا منڈھے سے نیم نہیں چھینتا (ایش) صورت بدلنے سے سیرت  
نہیں بدلتی۔

باد صہرہ (با۔ و۔ ر۔ ہ) [ف۔ ۱۔ مذ] سانپ کا مڑھ جو مار گزیدہ کے لیے  
ترباتی ہے۔

بادنجان (انبارون جان) [ع۔ ۱۔ مذ] بینگن

بادنجان فرنی۔ ٹاٹو۔

بادہ (با۔ و۔ ہ) [ف۔ ۱۔ مذ] شراب۔ مے۔ خمر

بادہ برست۔ بادہ پیما۔ بادہ خوار۔ بادکش۔ بادہ گسار۔ بادہ نوش۔

شراب پینے والا۔ شرابی۔

بادہ پرستی۔ بادہ پیکانی۔ بادہ خوری۔ بادہ کشی۔ بادہ گساری۔ بادہ نوشی

بارا (با۔ را) [۱-۵-۱۔ مذ] ۱) وہ راگ جو بانی کا چرس کھینچتے وقت گاتے ہیں (۲) وہ شخص جو آبپاشی کی غرض سے گزرتوں پر کھڑا ہو کر پانی سے بھرا ہو چرس لیتا ہے (۳) اجتری میں تار کھینچنے کا فعل (۴) وہ کھانا جو بوڑھے شخص کے سرنے پر دیا جاتا ہے (۵) ہوا (۶) [صفت] -  
دس اور دو ۱۲ بارہ -

بارہ جواری (جواری۔ زور کا بگاڑ) لغوی معنی بارہ گنا طاقت (زبردستی جبر سے۔ سینہ زوری سے۔

بارات (با۔ ات) [۱-۵-۱۔ مٹ] دیکھیے برات۔

باران (با۔ ان) [۱-۵-۱۔ مذ] (۱) مینہ۔ بارش (۲) برسنے والا۔

باراں دیدہ (۱) وہ جس پر مینہ پڑے گا (۲) تجربہ کار۔

بارانِ رحمت - رحمت کی بارش۔ وہ بارش جو مخلوق کے حق میں نازل ہوتی ہے۔  
بارانِ کیر (ف۔ صفت) بھٹا۔

بارانی (با۔ رانی) [ف۔ صفت] زمین جس کی سرسبز بارش پر منحصر ہو۔  
(۲) [مٹ] [بارانی زمین۔ چاہی زمین کی ضد (۳) وہ چغیر یا کوٹ جو بارش کا بچاؤ کرتا ہے۔ برساتی۔

بارانی زمین۔ وہ زمین جس کی زراعت صرف مینہ سے ہوتی ہے۔  
باراہ (با۔ راہ) [۱-۵-۱۔ مذ] سڑ، تھن، میر، شوک (۲) دشمن کا تمیسا اوتار جو سور کے روپ میں ہوا تھا (۳) گاؤں کے قریب کی زمین۔

باربر (Barber) بار۔ بر (۱) [انگ] ۱-۱۰ [مذ] تانی۔ حجام۔ اصلاح ساز  
بارتنگ (بار۔ تنگ) [ف۔ ۱-۱۰۔ مذ] ایک دوا۔

بارو (با۔ رو) [ع۔ صفت] سرد۔ ٹھنڈا۔ جمع ہوارو

باروڈر (Barder) بار۔ ڈر (۱) [انگ] ۱-۱۰ [مذ] ۱) حد۔ سرحد (۲) حصار (۳) گناہ حاشیہ۔

بارز (با۔ رز) [ع۔ صفت] آشکار۔ ظاہر (جمع ہوارز)

بارش (با۔ رش) [ف۔ ۱-۱۰۔ مٹ] مینہ۔ برکھا۔ برشکال۔

بارک (Barrack) (با۔ رک) [انگ] ۱-۱۰ [مذ] فوجیوں کے رہنے کے مکانات۔ سپاہیوں کے رہنے کی کوٹھڑیوں کی نظر واضح

تلفظ بیرک)

بارک ماسٹر (Barrack Master) فوجی مکانات کا محافظ اور متعمم۔

بارک اللہ (با۔ ر۔ گل۔ لاء) [ع] اللہ تجھے برکت دے (تعریف و تعجب کے موقع پر استعمال کرتے ہیں)

بارکی (با۔ کی) [ف۔ ۱-۱۰۔ مٹ] دفعہ۔ عرصہ۔ مرتبہ (مکات میں مستقل ہے۔ جیسے اکبار کی۔ فوراً)

بارندہ (با۔ رن۔ وہ) [ف۔ صفت] برسنے والا۔

بارو (با۔ رو) [۱-۵-۱۔ مٹ] بالو۔ ریت۔

باروت - بارو (با۔ روت، با۔ روڈ) [ف۔ ۱-۱۰۔ مٹ] گندھک شورے اور کوئلے وغیرہ کا مرکب جو آتشیں اسلحہ اور آتشبازی میں کام آتا ہے۔

باروڈر (با۔ روڈ) باروڈر کا آگ پکڑنا۔

بار آور (۱) پھل لانے والا۔ پھل دار (۲) حاملہ عورت۔ وضع محل کر نیوالی (۳) نتیجہ تیز۔

بار آور ہونا۔ پھلنا۔ پھل لانا۔

بارِ اللہ۔ بارِ خدا (۱) خدا کی جناب (۲) اسے بزرگ خدا۔

بارِ الہا۔ بارِ خدایا۔ اسے خدا سے بزرگ۔

بار بار۔ کھڑی کھڑی۔ متواتر۔ رگاتار

بار بٹالینا۔ ذمہ داری میں شریک ہونا سرگٹھے باندھ کر تقسیم کرنا۔  
بار بٹانی۔ غلے کے گاہنے سے بیکٹر فصل کے کھینے باندھ کر تقسیم کرنا۔

بار بردار۔ بوجھ اٹھانے والا۔ فنی۔ پانڈی۔

بار برداری۔ بوجھ اٹھانا (۲) مزدوری۔ بوجھ ڈھونے کی اجرت چھوڑے وغیرہ کا کوڑا (۳) بوجھ ڈھونے کے ذرائع (گاڑی، پھلکا، چوپائے وغیرہ)

بار تروید۔ اعتراض کو رد کرنے کا ذمہ۔ جواب دہی کی ذمہ داری۔

بار یا نار (معاورہ) رسائی ہونا۔ دخل ہونا۔

بار ثبوت۔ ثبوت کرنے کا ذمہ۔ ثبوت دینے کی ذمہ داری۔

بار ثبوت منتقل کرنا۔ ثبوت کی ذمہ داری دوسرے فزق پر ڈالنا

بار خاص (۱) خاص اجازت (۲) دربار خاص۔ بیچ کا اجلاس۔

بار خاطر۔ ناگوار خلاف طبع۔ ناپسند

بار خاطر نہیں بار خاطر ہوں (مثل) چالاک دوست ہوں تکلیف نہیں  
بار دار (۱) پھل دار۔ میوہ دار (۲) حاملہ۔ گیاہیں (۳) صاحب اولاد (۴) خوش قسمت۔ نصیبے والا (۵) مال دار۔ دولت مند (۶) بوجھ سے لدا ہوا۔

بار دانہ۔ کسی چیز کے رکھنے کا برتن (۲) اسباب رکھنے اور باندھنے کا سامان (۲) قزح کے کھانے پینے کا سامان (۴) سوداگری کے سامان

کی پوریاں اور صندوق وغیرہ (۵) باورچی خانے کا سامان (۶) لکڑی کھنکھار

بار رہن۔ گردی ہونے کا بوجھ۔ کسی چیز کو گردہ رکھنے کی رقم۔

بار عام۔ عام اجازت۔ دربار عام۔

بار کش۔ بوجھ کھینچنے والا۔ سامان لے جانے والا۔

بار کاہ۔ اجلاس کی جگہ۔ چھری۔ عدالت۔ دربار کا مقام۔

بار گیر (۱) بوجھ اٹھانے والا جانور۔ بارکش۔ لڈو گھوٹا اوسٹ وغیرہ (۲) وہ سوار جس کا ذاتی گھوڑا نہ ہو۔

بار گیری۔ گھوڑے پر سواری کی نوکری۔

بارور۔ دیکھیے بار آور۔

بار بار (جمع) بار بار۔ کئی بار کئی مرتبہ۔ اکثر۔ بہت۔ دفعہ۔

بار باب۔ اجازت پانے والا۔ دربار میں پہنچ جانے والا۔ ملاقات کر نیوالا۔  
بار بانی۔ بارگاہ میں حاضر۔ دربار میں داخلہ۔

بار - (Bar) [انگ] ۱-۱۰ [مذ] (۱) ویلیوں کی جماعت (۲) مجرم کا

کٹہرا (۳) ہوٹل میں وہ جگہ جہاں شراب تقسیم ہوتی ہے (۴) شراب خانہ

بار ایٹ لاء (Bar-At-Law) بیرسٹر ایٹ لاء کا مخفف۔

بار ایسوسی ایشن (Bar Association) انجمن وکلاء و کیلیوں کی جماعت۔

بار روم (Bar Room) کیلیوں کے بیٹھے کا کمرہ (پکری میں)





بارے ابا۔ رے [ف] (۱۱) لیکن ۱۲، الغرض آخر کار آخر الامر۔  
باریک (باریک) [ف صفت] (۱۱) پتلا۔ مہین۔ نازک (۲) مشکل  
و ذیق (۳) تخفیف (۴) الطیف۔

باریک بات (۱۱) ف صفت الطیف بات۔ نکتہ۔ نازک بات۔  
باریک بین (ف صفت) تیز فہم۔ موزان۔ باریک باتیں سمجھنے والا۔  
باریک بلبلی (ف صفت) تیز فہمی۔ موزانی۔ بات کی تہ کو سمجھنا۔  
باریک خیال (۱۱) صفت نازک خیال۔ عالی خیال۔  
باریک کام۔ دقیق کام۔ نازک اور دیدہ ریزی کا کام۔  
باریک میان (۱۱) پتلی کروالا۔ (۲) کنایتاً "معشوق"۔

باریک نظر (۱۱) صفت باریک بین۔ بلند نظر  
باریکہ اباردی (ک) [ف صفت] (۱۱) نڈا (۱۱) باریک باتوں کا تلخ جس سے مصور  
باریک خط کھینچتے ہیں (۲) حاشیہ۔ کنارہ (۳) وہ باریک خط جو جدول  
کے علاوہ کتاب کے صفحات کے کناروں پر ہوتا ہے۔

باریکی اباردی۔ کی [ف] (۱۱) پتلا پن (۲) نکتہ۔ دقیق (۳) نزاکت۔ لطافت۔

باریکی اباریکیاں نکالنا۔ چھانٹنا (محاورہ) نکتہ چینی کرنا۔ موٹگیانی  
کرنا۔ اچھاتیوں کی تلاش کرنا۔ نازک باتیں نکالنا۔  
بار (۱) (۱) مداح۔ مکان۔ گھر۔ چار دیواری۔ (۲) گورستان (۳) خانقاہ  
میدان۔ کھیت (۴) تاشا گاہ (۵) خیرت جو ہندو شادی کے موقع پر  
دیتے ہیں۔

بار (۱) (۱) صفت (۱) دھار۔ آب (۲) کنارہ۔ حد۔ حاشیہ (۳)  
پڑھنا۔ زور طغیانی (۴) اٹھان۔ جوش (۵) قطار۔ صف (۶) احاطہ  
گھیر۔ چار دیواری (۷) سامنے آگے۔ زور برداری (۸) ایک دم بہت سی  
توپوں یا بندو توں کی بوجھاڑ (۹) ایک قسم کی مٹھائی۔ اندر سے  
بار (۱) اٹانا۔ بار (۲) جھاڑنا۔ بار (۳) جھوڑنا۔ بار (۴) مارنا۔ محاورہ (۵) ایک  
سانہ کی توپیں یا بندو توں داغنا۔ بندو توں یا توپوں کا مسلسل جھوڑنا  
بار (۶) مانڈھنا۔ محاورہ (۷) کانٹوں یا جھاڑی سے گھیرنا (۸) کسی چیز کو  
محفوظ کرنا۔ حد بندی کرنا۔

بار (۱) پھیرنا۔ محاورہ (۲) زور پر آنا۔ نم ہونا۔  
بار (۳) پھیرنا۔ محاورہ (۴) دھار تیز کرنا۔ سان پر رکھنا (۵) اکسانا  
کسی کام کے لیے تیار کرنا (۶) دم میں لانا۔

بار (۱) پھیرنا۔ محاورہ (۲) دھار تیز ہونا۔ (۳) آمادہ ہونا۔ (۴) طبیعت  
کا تیز ہونا (۵) دم میں آنا۔  
بار (۶) پھیرنا۔ محاورہ (۷) زور پر رکھنا۔ نشانی پر رکھنا (۸) اشتعال دینا  
تیز کرنا۔

بار (۱) پھیرنا۔ محاورہ (۲) ترقی پر ہونا۔ سیلاب ہونا۔ نم پر ہونا۔  
بار (۳) پھیرنا۔ محاورہ (۴) اکسانا۔ سکھانا۔ پچی پھاننا (ق)  
بار (۵) تیز کرنا۔ محاورہ (۶) دھار تیز کرنا۔  
بار (۷) جاتی رہنا۔ محاورہ (۸) دھار کا کند ہونا۔ (جو جانا)  
بار (۹) داغنا۔ محاورہ (۱۰) کئی توپوں۔ بندو توں یا شاخوں کا ایک ساتھ جھوڑنا

بار (۱) دردری ہونا۔ دھار کا کھر درا ہونا۔ تلوار یا پھری وغیرہ کو تھپیر پر  
دکھل جانے کو پھل پر رکھنے سے لکیریں سی پڑھانی ہیں جس سے وہ کھڑی  
ہو جاتی ہے اور اس میں کاٹنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔

بار (۲) دینا۔ محاورہ (۳) کسی کام پر آمادہ کرنا۔ اشتعال دینا۔  
بار (۴) رکھنا۔ محاورہ (۵) بار (۶) چھڑھانا۔ دھار تیز کرنا۔  
بار (۷) رکھنا۔ محاورہ (۸) آگے نہ بڑھنے دینا۔ سامنے سے روکنا۔  
بار (۹) کاٹنے نام ہو تلوار کا (۱۰) کسے کوئی نام ہو کسی اور کا۔  
بار (۱۱) کاٹو اور (۱۲) محاورہ (۱۳) خط کشی۔ وہ حقیقت نشان جو تلوار کی دھار پر چڑھا  
بار (۱۴) کر جانا۔ محاورہ (۱۵) دھار کا خراب ہو جانا۔ کند ہو جانا۔

بار (۱۶) مٹنا۔ بار (۱۷) کا پھر جانا۔  
بار (۱۸) ہا۔ بار (۱۹) یا (۲۰) (۲۱) (۲۲) دھار تیز کرنے والا۔ سان پر رکھنے والا۔  
صینقل گر۔

بار (۲۳) ابا۔ بار (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) مسکن۔ رہنے کی جگہ (۳۱) بانچہ چھوٹا  
ساجن (۳۲) کیاس کا کھیت۔

بار (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱

بازاری (با۔ زار۔ ری) [ف ۱- مذ ۱۱] بازار سے نسبت رکھنے والا (۲۱)  
عام آدمی۔ معمولی شخص (۳۱) بازار کا بیٹھنے والا۔ اوباش۔ غیر معتبر۔  
۴۱ رندی  
بازاری آدمی (۱۱) عام شخص (۲) بد اخلاقی شخص۔ بے اہم و شخص غیر  
معتبر آدمی۔

بازاری عورت۔ کسی عورت۔ بیسوا۔ رندی  
بازاری قیمت۔ بازار کا بھاؤ۔ بازار کا مول۔ عام قیمت۔ عام بھاؤ  
بازاری گمب۔ افواہ۔ لوگوں کی چھوٹی آڑائی بات۔  
بازرگاں (ف)۔ مذاد کا نذر۔ سوداگر۔ بین دین کرنے والا۔

بازرگہ (ف)۔ صف ا کھلاڑی۔ کھیلنے والا (۲۱) ایک قسم لوٹن کونز۔  
بازر (با۔ زار) [ف ۱- مذ ۱۱] کہنی سے شلنے تک کا حصہ۔ ڈنڈ۔  
(۲) برتنوں کے جسم کا وہ حصہ جس میں پڑھتے ہیں (۳۱) (مجازاً) معارف  
مددگار۔ (۴) ادائیں بائیس کی فوج۔ میمنہ بیسہ (۵) سانھی۔ دوست  
(۶) مرثیہ خواں کا جوڑی دار (۷) دروازے کے دونوں طرف کی لکڑیاں

بازر سندر۔ بازو پر باندھنے کا زیور۔  
بازو چرکنا (مجاورہ) بازو میں یک نخت حرکت کا پیدا ہونا۔ بازو میں جھٹکا  
محسوس ہونا (کسی دوست کے ملنے کا شگون)

بازو توٹنا (۱) اڑنے کے لئے مستعد ہونا (۲) آمادہ ہونا۔  
بازو ٹوٹنا (۱) بازو کا ٹوٹ جانا [مجازاً] قوت کا جانا رہنا (۳۱) بھائی یا  
سزیز دوست فوت ہوجانا۔

بازو لوٹے بازو کو باڑی لقمہ دے (مثلاً) ہم جنس کو تکلیف پہنچے تو  
ہم جنس ہی اس کی مدد کرتا ہے۔

بازو دعویٰ۔ (۱) ادوہ دعویٰ جو عورت کے خاوند کے ساتھ  
نہ رہنے کی صورت میں لے سہرا رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے (۲) عورت کا تادل۔

بازو دینا۔ مدد کرنا۔ مدد دینا۔  
بازو بردہ جانا (مجاورہ) بازو کا تھک جانا بے کار ہوجانا۔ شل ہوجانا۔  
بازو کی پھٹلی۔ بازو کا گوشت جو کسی قدر اچھا ہوا ہوتا ہے۔

بازری بازی (ف) [۱- مرث] (۱) کھیل۔ تماشا (۲) فریب۔ دھوکا (۳)  
کبوتر کا پیشاں کھانا۔ (۴) ادائوں۔ روک (۵) شترط کی رقم تاش۔ کھفہ  
شترط کا کھیل۔

بازری آنا (مجاورہ) کھیل سے واقف ہونا (۲) تقسیم میں گننے یا تاش کے  
کے اچھے اوراق کا بلانا۔

بازری اٹھنا (مجاورہ) کھیل ختم ہونا۔  
بازری اڑنا (مجاورہ) کھیل میں لگوانا ہونا۔ کھیل کا لیا ہوجانا۔

بازری بازی بارش با با ہم بازی (ف)۔ (مثلاً) باب کی ڈاڑھی سے کھیلنا  
جب کوئی چھوٹا بڑے آدمی سے اچھے اس وقت کہتے ہیں۔

بازری بدنا (مجاورہ) شترط نگاہ داؤر گانا۔  
بازری بانا (مجاورہ) بازی جیتنا۔ شترط جیتنا۔ کامیاب ہونا۔

بازری چڑھنا (مجاورہ) بازی کا غالب آنا۔  
بازری دینا (مجاورہ) ہرا دینا۔ مات دینا۔

بازری دینا (مجاورہ) ہرا دینا۔ مات دینا۔

بازار اٹھ جانا۔ بازار بند ہوجانا۔  
بازار اس کا جوڑے کے دے (مثلاً) اعتبار اسی کا ہوتا ہے جو فرض  
ادا کر دے۔

بازار بٹھا۔ کٹوتی۔ منہائی۔ ڈسکاؤنٹ (Discount)  
بازار بڑھ جانا۔ بڑھنا (مجاورہ) نرخ بڑھ جانا۔ قیمت کا زیادہ ہوجانا۔

بازار بند ہونا (مجاورہ) بازار کی دکانوں کا بند ہونا (۲) ہڑتال ہونا۔  
بازار بیٹھک۔ بازار میں بیٹھنے کا ٹیکس۔ نہ بازی۔

بازار تیز ہونا۔ بازار بڑھنا (مجاورہ) اگر انی ہونا چیزوں کی قیمتیں بڑھنا  
بازار ٹھنڈا (پڑنا) ہونا۔ بازار سرد ہونا (مجاورہ) سرد بازی ہونا۔

بازار میں بکری نہ ہونا۔  
بازار چکنا۔ دیکھنے بازار گرم ہونا۔

بازار خرچ۔ جیب خرچ۔  
بازار دکھانا۔ کسی چیز کو بیچنے کے لیے بازار لے جانا۔ بیچ ڈالنا۔

بازار دیکھنا (مجاورہ) بازار میں سودا لینے جانا۔ بازار میں کسی سوسے  
کی تلاش کرنا۔

بازار کا بھاؤ۔ بازار کا مول۔ بازار کا عام نرخ (۲) واجبی قیمت۔  
بازار کا چلن۔ بازار کا دستور۔ خرید و فروخت کا اخلاقی ضابطہ۔

بازار کی چھٹک رائد کارونا (مجاورہ) دونوں بے اثر ہونے میں  
یعنی نہ کوئی بازار کی چھٹک پر نوجو دینا ہے اور نہ بھوہ کے ہونے پر۔

بازار کی گالی کس کی؟ جو پتھر کے دیکھنے اس کی۔ بازار کی گالی  
جس نے سنی اس پر کٹوتی (مثلاً) بازار میں جو شخص گالی دینے

والے کو دیکھے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کی گالی دی گئی ہے (۲)  
جو کسی عام الزام یا ظعن کا جواب دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ وہی  
اس ظعن یا الزام کا ہدف ہے۔

بازار کی مٹھائی (مجاورہ) آسانی سے مل جانے والی چیز (۲) مجازاً کسی عورت  
بازار کے بھاؤ بیٹا (مجاورہ) خوب پشٹا۔ شارع عام پر مار کھانا۔ لوگوں  
کے سامنے ذلیل ہونا۔

بازار گرم ہونا (مجاورہ) خوب خرید و فروخت ہونا۔ زیادہ مانگ ہونا۔  
بازار گرمنا (مجاورہ) بھاؤ کم ہونا۔ نرخ ٹھنڈا (۲) بے قدری ہونا۔

بے وقعت ہونا۔  
بازار گانا (۱) منڈی لگنا (۲) دکان کھولنا (۳) چیزوں کو پھیلانا (۴)  
بچھڑ کرنا۔ ا بچھڑ کرنا

بازار لنگا نہیں گئے (مثلاً) ہوت (مثلاً) وقت سے پہلے موقع دھو لینا  
بازار منہل ہونا۔ بکری کم ہونا۔

بازار میں آگ لگنا (مجاورہ) غلہ گراں ہونا چیزوں کا ہنگام ہونا۔  
بازار میں سر منڈا کھرنے کھنا (مثلاً) بات مشہور ہوجائے تو چھپانے  
کی کوشش بے کار ہے۔

بازار ناپنا (مجاورہ) آوارہ پھرنا۔ بغیر کسی مقصد کے بازاروں چکر لگانا  
یا بازار (با۔ زار) [آر۔ صف] (۱) چہرہ جو جلدی یک جانے۔

عام بکری کی چیز (۲) ناماشی چیز۔ ہلکی۔ بودی چیز۔

بازی کرنا ۱۱۱ نٹوں کا قلابازیوں کھانا ۱۲۱ کبوتروں کا کھیلنا اور پلٹیاں کھانا۔ کسی چیز سے کھیلنا۔  
 بازی کھانا (محاورہ) مات ہونا۔ شکست کھانا۔ ہارنا (۲) کبوتر کا پلٹیاں  
 کھانا ۱۳۱ فریب کھانا (۲) نٹوں کا قلابازیوں کھانا۔  
 بازی کھیلنا (محاورہ) اتاش۔ گنجف اور شطرنج کھیلنا  
 بازی گاہ۔ کھیلنے کی جگہ۔ کھیل کا میدان۔  
 بازی کر۔ تماشا دکھانے والا۔ شعبہ باز۔ نٹ۔  
 بازی (گرن) کرنی۔ تماشا کرنے والی عورت۔ نٹنی  
 بازی گری ۱۱۱ شعبہ بازی۔ چالاک۔ فریب۔  
 بازی لگانا (محاورہ) شرط بدنا۔  
 بازی لے جانا (محاورہ) غالب آجانا۔ فتح پانا جیت جانا۔  
 بازی ہاتھ (آنا) رہنا (محاورہ) کامیاب ہونا۔ جیت جانا۔ ہار جانا  
 بازی (ہارنا) ہرنا۔ شرط میں مغلوب ہونا۔ کھیل میں مغلوب ہونا۔ کھیل کرنا  
 بازیچہ (بازی۔ چی) (۱) مذ [کھیل۔ تماشا۔ کھلونا۔  
 بازیچہ اطفال (۱) مذ [بچوں کا کھیل۔ غیر اہم بات۔  
 بازیسن (۱) ۱۰۵۔ ۱۱۱) بو۔ ۱۲۱۔ ۱۲۱ بدلو (۳) خوشبو (۱) علامت۔ نشانی  
 بازیسنی (۱) خوشبو والا (۲) ایک قسم کا عمدہ اور خوشبو دار چاول۔  
 باس۔ باسا (با۔ سا) (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [سکونت۔ بسنے کی جگہ۔ بسنے کے مقام  
 باس کرنا۔ بسیر کرنا۔ آرام کرنا۔ ٹھہرنا۔ بسنا۔ رہنا۔  
 باس (Boss) (۱) انگ (۱) مذ [آقا۔ مالک۔ سینٹھ۔ افسر  
 باسٹھ (با۔ سٹھ) (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) ص [ساٹھ اور دو (۶۲)  
 باسط (با۔ سبط) (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) ص [۱۱) فراخی دینے والا (۲) خدے تعالیٰ  
 کا صفاتی نام۔  
 باسکٹ۔ باسکی (با۔ سکت، باس۔ کی) (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [وہ سانپ جس  
 پر ہندو زمین کو قیام خیال کرتے ہیں۔ سانپوں کا بادشاہ۔ بیسنگ نامک  
 باسکٹ (Basket) باس۔ کسٹ (۱) انگ (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [ٹوکری پٹاری کا چھانچا  
 باسلیق (با۔ سلیق) (۱) بو۔ ۱۰۵۔ ۱۰۵) ص [ایک رنگ کا نام جو دل اور  
 جگر سے ہوتی ہوئی ہاتھ میں آتی ہے۔  
 باسن (با۔ سن) (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [برتن۔ ظرف۔ بھانڈا  
 باسنا (با۔ سن) (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) ص [۱۱) خوشبو۔ جھک۔ بو (مص) خوشبو  
 میں بسنا۔  
 باسور (با۔ سور) (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [ایک قسم کا مٹا جو منقعد میں ہوتا ہے  
 جمع بوسیر  
 باسی (با۔ سی) (۱) ۱۰۵۔ ۱۰۵) ص [۱۱) رات کا بچا ہوا۔ تازہ کی ضد (۲) مچھلیا  
 ہوا۔ ساکن رہنے والا (مذ) باشندہ۔  
 باسی بچے نہ کتا کھائے (مثیل) انہی کا کر رکھا جائے نہ بے کار کر کے  
 پھینکنا۔ بڑے جیتی آمدنی اتنا ہی خرچ ابے حد افلاس ظاہر کرنے  
 کے لیے کہتے ہیں۔  
 باسی بجات میں اللہ میاں کا نہوڑا (مثیل) ناقص چیز میں  
 احسان جتنا کیا؟

باسی پھولوں میں باس نہیں، پروردیسی بلغم نری آس نہیں (مثیل) جیسے  
 باسی پھولوں میں خوشبو نہیں رہتی۔ اسی طرح پروردیسی سے محبت  
 کے نہا کی امید نہیں ہوتی۔  
 باسی تباہی۔ ددین دن کا بچا ہوا کھانا۔  
 باسی دانتوں۔ منہ ہاتھ دھونے سے پہلے۔ نہار منہ  
 باسی عید۔ عید کا دوسرا دن۔ ٹرو  
 باسی گڑھی میں ابال آنا (مثیل) اڑھائے میں جانوں کا سا جوش آنا  
 وقت گزر جانے کے بعد کسی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہونا۔  
 باسی کھانا بچا ہوا کھانا۔ وہ کھانا جس پر مدت گزر گئی ہو۔  
 باسی منہ۔ نہار منہ۔ ناشتہ نہ کئے ہوئے۔ صبح کچھ کھانے بغیر  
 باشندہ (باشندہ) [ف] ہو۔ ہوا کرے۔ کچھ بھی ہو۔ پروا نہیں۔  
 باشندہ گان (باشندہ۔ و۔ گان) [ف] ۱۔ ۱) مذ [باشندہ کی جمع۔  
 باشندہ (باشندہ) [ف] ۱۔ ۱) مذ [ساکن۔ رہنے والا۔ بسنے والا۔  
 (۱) وہ شخص جو کسی شہر یا ملک کی حدود میں رہتا ہو۔ کاروبار  
 رکھتا ہو۔ جائیداد کا مالک ہو۔ یادوں کے شہری حلقے رکھتا ہو۔  
 باشندہ (باشندہ) [ف] ۱۔ ۱) مذ [ایک شکاری پرندے کا نام۔  
 باصر (با۔ صر) [ع۔ ص] [دیکھنے والا۔ بینائی رکھنے والا۔  
 باصرہ (با۔ صر) [ع۔ ص] [دیکھنے والی۔ بینائی رکھنے والی (۲)  
 [مٹ] [دیکھنے کی قوت۔ بینائی کی قوت۔  
 باطل (با۔ طل) [ع۔ ص] [۱) جھوٹ۔ بے اصل۔ غلط۔ ناحق (۲)  
 لغو۔ بے ہودہ۔ ٹھکانا۔  
 باطن (با۔ طن) [ع۔ ا] ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [پوشیدہ چیز۔ اندرونی حصہ۔ اندرون۔  
 ظاہر کی ضد۔ (۲) پیٹ۔ شکم (۳) دل۔ ضمیر۔  
 باطنی (با۔ طنی) [ع۔ ص] [۱) پوشیدہ۔ اندرونی۔ ظاہر کی ضد۔  
 (مذ) فرقہ باطنیہ کا پیرو۔  
 باطنیہ (با۔ طنی) [ع۔ ا] ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [اہل تشیع کے فرقے کا نام جس کا  
 لیڈر حسن بن صباح تھا۔ اس کے اعتقاد میں ہر شے امر کے ایک  
 ظاہری معنی ہوتے تھے، دوسرے باطنی۔ یہ لوگ اپنے مخالفین کو  
 فریب سے متسلک کر دیا کرتے تھے۔ ان کو حشیشین بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ  
 یہ بھنگ پیا کرتے تھے (۲) [ص] [باطن سے منسوب۔ باطنی۔  
 باعث (با۔ عث) [ع۔ ا] ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [۱) وجہ۔ سبب۔ علت۔ موجب۔  
 (۲) حقیقت۔ اصل۔ بنیاد۔ جمع بواعث۔  
 باعث کھلنا (محاورہ) وجہ معلوم ہوجانا۔ سبب ظاہر ہونا۔  
 باعث ہونا (محاورہ) سبب ہونا۔ منصر ہونا۔  
 باغ (ب۔ ع) [ع۔ ا] ۱۰۵۔ ۱۰۵) مذ [۱) گلزار۔ پھلواری چمن۔ جہاں بہت سے درخت  
 لگائے جائیں (۲) مجازاً آل اولاد۔ بال بچے (۳) دنیا۔ جمع باغات  
 باغ ابراہیم۔ وہ آگ جس میں فرودنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو  
 ڈال دیا تھا۔ اور وہ خدا کے حکم سے گلزار بن گئی تھی۔ گلزار ابراہیم۔ گلزار نبیل  
 باغ باڑی (۱) پھلواری۔ پھولوں کا تختہ (۲) مجازاً بال بچے۔ اولاد۔  
 باغ بلخ۔ نہایت خوش۔ بہت خوش و خرم۔ شاداں و فرجاں۔

بارغ بارغ ہونا۔ بہت خوش ہونا۔ خوشی میں پھوٹے نہ سمانا۔  
 باغبان۔ مانی۔ بارغ کا محافظ۔ بارغ میں پودے وغیرہ لگانے والا۔  
 باغیانی (۱) بارغ کی حفاظت، (۲) مانی کا عمدہ (۳) وہ فن جس میں  
 درختوں کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے۔  
 بارغ پیر۔ مانی۔ بارغ کو کاٹ پھنٹ کے آراستہ کرنے والا۔  
 بارغ خشک (سلیج) دیکھیے بارغ ابراہیم۔  
 بارغ رضوان۔ جنت۔ بہشت۔  
 بارغ شاد (سلیج) بارغ ارم جو شاد نے بنائی مٹھی لگر جس کے دروازے  
 پر قدم رکھتے ہی وہ مر گیا تھا۔  
 بارغ قالی۔ بارغ قالین (۱) وہ بیل بوٹے جو قالین پر بٹے ہوئے ہوتے  
 ہیں (۲) نمائی۔ خیالی۔  
 بارغ قدس۔ بہشت۔ جنت۔  
 بارغ لگانا (۱) درخت لگانا (۲) [مجازاً] اچھے اچھے رنگین مضامین  
 جمع کرنا۔ (۳) رونق دینا۔  
 بارغ لگانے میں۔ منگتوں نے ڈبرے ڈال دیے [مثل نفل کی  
 نہیں۔ مانگنے والے پہلے ہی آدھکے کام بنا نہیں فقیر پہلے ہی خیرات  
 لینے کے لیے آگئے ہیں۔  
 بارغ والا۔ بارغ کا مالک۔  
 بارغ وہار (۱) آراستہ۔ سجا ہوا۔ بارونق (۲) [مجازاً] ہنس مکھ۔  
 ظریف طبع۔ محرش مزاج۔ (۳) اردو نثر کی ایک مشہور کتاب کا  
 نام۔ جو میرامن دہلوی کی تالیف کردہ ہے اقصہ چہار درویش۔  
 باغات (با۔ فات) (۱) ف۔ (۲) مذ [بارغ کی جمع۔ عربی قاعدے سے۔ باغما  
 یا غائی (با۔ غائی) (۱) ف۔ (۲) ص۔ [بارغ کا۔ بارغ سے متعلق۔  
 باغیچہ۔ باغیچہ (بارغ۔ چہ، باغی۔ چہ) (۱) ف۔ (۲) مذ [بارغ کی تصغیر  
 چھوٹا سا بارغ۔ چمن۔  
 باغی (با۔ غی) (۱) ر۔ (۲) ص۔ (۳) مذ (۱) بغاوت کرنے والا (۲) ناظرین  
 سرکش (۳) مخالف۔ مخوف۔ پھرا ہوا۔ برگشتہ۔  
 باغی ہونا (۱) پھر جانا۔ سرکشی اختیار کرنا۔ بغاوت کرنا (۲) حکومت  
 کے مخالف ہوجانا۔  
 باف (۱) ص۔ (۲) ہنسنے والا مرکبات میں مستعمل ہے جیسے زرباف۔  
 پارچہ باف۔  
 بانٹ (۱) ف۔ (۲) مذ [بنائی۔ بناوٹ (۲) بہت باریک مٹی ہوئی چیز  
 (۳) صبیح جسم کی باریک رگیں۔ (۴) [بانگ] (Tissue)  
 بانٹہ (باف۔ تہ) (۱) ف۔ (۲) ص۔ (۳) [بنا ہوا۔ مرکبات میں مستعمل ہے  
 جیسے زربانٹ (۲) [مذ] ایک قسم کا ریشمی کپڑا (۳) ایک قسم کے  
 کپڑوں کا رنگ۔  
 بانڈنگ (با۔ نین۔ ڈنگ) (۱) ف۔ (۲) ص۔ (۳) ہنسنے کا کام (۲) بنائی۔  
 جولاہے کا پیشہ  
 بانڈہ (با۔ نین۔ ڈہ) (۱) ف۔ (۲) ص۔ (۳) مذ [ہنسنے والا۔ کپڑا ہنسنے والا  
 جولاہے یا جمع بانڈگان۔

باقرا (با۔ قرا) (۱) ر۔ (۲) ص۔ [بہت بڑا عالم۔ صاحب مال۔ شیر۔  
 کتب ابو جعفر محمد بن علی بن الخسین  
 باقر خانی۔ ایک قسم کی ریشمی چھاتی جو کھن دودھا اور میدہ ملا کر تنور  
 میں پکاٹی جاتی ہے۔  
 باقلا (با۔ قلا) (۱) مذ [مٹھا اور لوبیا ایسی پھلیاں جو پکا کر کھائی جاتی ہیں  
 باقی (با۔ قی) (۱) ر۔ (۲) ص۔ [بچا ہوا (۲) واجب الادا۔ واجب الوصول  
 ہمیشہ موجود رہنے والا (۳) خداوند تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔ جمع  
 باقیات۔  
 باقی آنا (۱) محاورہ حساب میں جمع سے خرچ مجر کرنے کے بعد رقم باقی نکلنا  
 باقی بیباق کرنا (محاورہ) باقی چکانا۔ حساب بیباق کرنا۔ کل رقم ادا کرنا  
 باقی پڑنا (محاورہ) مال گزاری کا بیباق نہ ہونا۔ بقایا ذمے رہنا۔  
 باقی جمع۔ معللے کی رقم جو گزشتہ سالوں کے معللے میں سے باقی ہو  
 باقی وار۔ جس پر کوئی مطالبہ باقی ہو۔  
 باقی درار (۱) باقی پھر سہی۔ (۲) بھی باقی ہے۔ باقی آئندہ  
 باقی غیر ممکن الوصول (صفت) اور بقایا جس کا وصول کرنا غیر ممکن ہو۔  
 باقی ماندہ۔ باقی بچا ہوا۔ باقی رہا ہوا۔  
 باقی نام اللہ کا (مثل) خدا کے سوائے کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں  
 اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو فنا ہے۔  
 باقی نکلنا (محاورہ) حساب میں باقی رقم ظاہر کرنا۔  
 باقی نکلنا (محاورہ) مجرائی کے بعد کسی رقم کا واجب الادا رہنا۔ ل  
 باقیات (با۔ قی) (۱) نیا (۲) ع۔ (۳) مٹ [باقی کی جمع (۲) وہ رقمیں جو وصول  
 نہ ہوئی ہوں (۲) بچے ہوئے۔ باقی ماندہ چیزیں یا لوگ۔  
 باقیات حساب روان۔ چلتے حساب کا بقایا۔  
 باقیات الصالحات (۱) ایسے نیک کام جن کا ثواب ہمیشہ ملتا ہے  
 رفاہ عام کیلئے کوئی کام (۲) صدقہ جاریہ (۳) نیک اور صالح اولاد۔  
 باک (۱) ف۔ (۲) مذ [خوف۔ ڈر۔ اندیشہ۔ درشت۔  
 بلکہ (با۔ باک) (۱) ر۔ (۲) ع۔ (۳) مٹ [دشمنہ۔ گنوار لڑکی۔  
 باکس (Box) (۱) الٹ۔ (۲) مذ [بکس۔ صندوق۔ تختی وغیرہ میں  
 علیحدہ نشست کا (۳) سنتری یا سنکل والے کی کانٹھ کو کھڑکی۔  
 باکس آفس۔ (Box Office) تختی کا ٹکٹ گھر  
 باکسر (Boxer) (باک۔ سر) (۱) الٹ۔ (۲) مذ [مکڑ باز  
 باکسنگ (Boxing) (باک۔ سٹ) (۱) الٹ۔ (۲) مٹ [کے بازی  
 (کھیل)  
 باکلی (باک۔ لی) (۱) مٹ [گھنگنی، اٹلا ہوا اناج۔  
 باکھ (۱) مٹ [گٹے۔ بھینس بکری وغیرہ کے نغضوں کا اوپر کا حصہ  
 ہونا۔ کھیری۔ پن۔ شیردان  
 باکھڑی (باکھڑی) (باکھ۔ ٹری) (۱) مٹ [لی (۲) مٹ [دہ گٹے بھینس  
 بکری وغیرہ جو صرف پانچ مہینے دودھ دے کر مر جاتے۔  
 باکھل (باہ۔ کھل) (۱) مٹ [موتلیوں کا پاڑا۔ احاطہ۔  
 باگ (۱) مٹ [کام۔ راس۔ عنان۔

بگڑنا (۳) مو۔ نڈاں۔ روٹنا (۴) وہ خط جو کسی حد سے  
 شینے یا چینی میں پڑ جاتا ہے۔ بہت باریک شکاف یا دراڑ (۵) مصری گٹکا  
 بال آتا (مجاورہ ۱۱) شکاف پڑ جانا۔ شینے یا چینی میں خط پڑنا۔ دراڑ  
 پڑنا (۲) خوشہ نکھنا (۳) بدن پر بال اگنا۔  
 بال اترنا (مجاورہ ۱) بال گرنا (۲) بال مونڈے جانا۔ مونڈن ہونا۔  
 بال بال (۱) ہر ایک بال (۲) ذرا ذرا۔ بالکل (۳) مو۔ صاف صاف۔  
 بال بال بچنا (مجاورہ) حادثے کی لپیٹ میں آتے آتے بچنا۔ ذرا آگ  
 نہ پہنچنا۔  
 بال بال بڑھنا (جگڑنا) (مجاورہ) بہت تری طرح کھینٹنا۔ بہت زیادہ مقروض  
 بال بال دشمن ہونا (مجاورہ) ہر کس و ناکس کا دشمن ہو جانا۔ تمام ڈنٹے  
 کا دشمن ہو جانا۔  
 بال بال بچ مونی پرونا۔ بال بال مونی پرونا (مجاورہ) ہر بال میں مونی  
 پرونا۔ خوب آراستہ و پیرا استہ ہونا۔  
 بال بال گناہ گار ہونا (مجاورہ) سزتا یا گناہ گار ہونا۔ بہت زیادہ گناہ گار  
 بال بال میں مونی ہونا (مجاورہ) انتہائی درجہ کا آراستہ ہونا۔  
 بال باندھنا (مجاورہ) غلاموں کی مانند (۲) بے عذر فرما بنوار تابع و مطیع  
 بال باندھا چور (مجاورہ) پھرا چور۔ مشتاق چور۔  
 بال باندھا غلام۔ نہایت تابع اور فرمانبردار غلام یا شاہے پرکا کر کو نوالا  
 بال باندھی (کوڑھی) نشانہ اڑانا (مجاورہ) تیر ہمدت۔ نشانہ لگانا۔  
 ٹھیک نشانہ لگانا (۲) ایسی اعتیاد سے کام کرنا کہ خطانہ ہو۔  
 بال بچوں والی۔ اولاد والی عورت۔ ماما۔ (۲) (مجاورہ) بچیک۔  
 بال بچکے۔ بیوی بچکے اہل و عیال۔  
 بال بندھو (۱)۔ منٹ۔ لڑکپن کی عقل۔ تاجر بہ کاری۔ بچوں کی سی سمجھ۔  
 بال بندھو (۲)۔ منٹ [نوع عمر بہ بہ۔ بچپن کی راند۔  
 بال برابر (صفت) ذرا سا ٹھوڑا سا نہایت قلیل (۲) نہ ہونے کے برابر خفیف۔  
 بال برابر فرق نہ ہونا (مجاورہ) ایک جیسا ہونا۔ معمولی سا فرق بھی نہ ہونا  
 بال برابر لگی نہ رکھنا (مجاورہ) ذرا کوتاہی نہ کرنا۔ کوئی کسر اٹھانے نہ رکھنا۔  
 بال بچھنا (مجاورہ) بالوں کا پریشان ہونا۔ (۲) [کنایتہ] پریشان ہونا۔  
 بال بٹاننا (مجاورہ) چوٹی ٹوٹنا۔ لکھی کرنا۔ مانگ چوٹی پڑنا۔ (۲) حجامت  
 بتانا۔ خط بتانا۔  
 بال بھر (۱)۔ صفت) ذرا سا خفیف۔  
 بال بھوسری (۱)۔ منٹ (۱) گھوڑے کا ایک نقص جس میں بالوں کی ایک  
 خاص شکل بن جاتی ہے۔  
 بال بیکانہ ہونا (مجاورہ) ذرا صدمہ نہ پہنچنا۔ آسج نہ آنا۔  
 بال پکانا۔ (مجاورہ) بال سفید ہونا بڑھاپا آنا۔ (۲) خوشے کا پختہ ہونا۔  
 بال ٹوڑ (۱)۔ منٹ) پھوٹا جو جسم کے بال ٹوٹنے سے ہو جاتا ہے۔  
 بال جتجال، بال سنگار (امثال) بال حکلیت کا باعث بھی ہیں اور خصوتی  
 کا موجب بھی۔  
 بال جتجال پہلے تو بال نہیں تو موچھوں کو مثال امثال بالوں کو بھی  
 طرح دیکھ سکتے ہو تو رکھو ورنہ منڈوا دو۔

باگ اٹھانا (مجاورہ ۱) باگ ہاتھ میں لینا (۲) کنایتہ گھوڑا اور ڈانا  
 روانہ ہونا۔ چل پڑنا۔  
 باگ پکڑنا (۱) ایک غیر اسلامی رسم جب دو لہا گھوڑے پر سوار ہوتا  
 ہے تو ہاتھیں باگ پکڑ کر دو لہا بھائی سے کچھ روپے لیتی ہیں جسے  
 ننگ کہا جاتا ہے۔  
 باگ پھوڑ دینا (۱) گھوڑے کو اس کی مرضی پر جانے دینا (۲) (مجاورہ)  
 آزاد کر دینا۔ لگرائی اٹھانا۔  
 باگ ڈال دینا۔ باگ پھوڑ دینا۔  
 باگ ڈور۔ وہ رسی جو سائیس گھوڑے کی رگام میں ڈال کر اپنے ہاتھ  
 میں رکھتا ہے۔ کسی کام کے کرنے کا اختیار۔  
 باگ ڈھیلی (پھوڑنا) کرنا (۱) باگ کو ڈھیلیا پھوڑ دینا تاکہ گھوڑا اپنی  
 مرضی کے مطابق چلے (مجاورہ) کسی شخص کو آزاد پھوڑ دینا (۲) تہذیب نہ کرنا۔ توجہ نہ کرنا  
 باگ روکنا (۱) گھوڑا ٹھہرانے کے لیے رگام کھینچنا۔ (۲) مجازاً زیادہ  
 باتیں کرنے سے روکنا۔ تہذیب کرنا۔  
 باگ سنبھالنا۔ سوار کا چلنے پر مستعد ہونا۔  
 باگ کھینچنا (مجاورہ) باگ روکنا۔ گھوڑا ٹھہرانا۔  
 باگ لینا (مجاورہ) دیکھنے باگ اٹھانا۔  
 باگ موٹنا (مجاورہ) گھوڑے کا رخ دوسری طرف ہو جانا (۲) (مجاورہ)  
 توجہ کا دوسری طرف پھینا (۳) بچک کر مچھلنا۔  
 باگ موڑنا (مجاورہ) گھوڑے کا رخ پھینا (۲) گھوڑے کو موڑنا۔  
 (۳) مجازاً توجہ دوسری طرف کرنا۔  
 باگ ہاتھ سے پھوڑنا (مجاورہ) بے قابو ہو جانا۔ بے اختیار ہو جانا  
 موقع ہاتھ سے جاتا رہنا۔  
 باگ ہاتھ سے پھوڑنا (مجاورہ) رگام کو ڈھیلیا کر دینا (۲) (مجاورہ)  
 انتظام سے بے پروائی کرنا (۳) تہذیب موقوف کر دینا۔ نگہبانی ترک کر دینا  
 باگا (با۔ گا) (۱)۔ منڈ (۱) دو لہا کا جوڑا (۲) پوشاک خلعت (اردو  
 میں یہ لفظ جوڑے کے ساتھ مستعمل ہے۔ جوڑے بگے)  
 بلاگر (یا۔ گرٹ) (۱)۔ منڈ [ہر نوں کا گلہ  
 بلاگر بلا۔ بلاگر بلا۔ وہ پتلا جو گوزروں کو ڈرانے کے لیے کھینٹوں میں  
 رکھ کر دیتے ہیں اور میں بچوں کو اس نام سے ڈراتی ہیں ایک قسم کا بلا۔  
 بلاگر (۱)۔ منڈ) شیر۔ بنگ۔ چیتلا۔  
 بلاگر بگرمی۔ رگاموں کا ایک کھیل۔  
 بلاگر بگرمی ایک گھاٹ یا پانی پینے ہیں۔ منٹ) چھوٹے بڑے  
 دونوں کے ساتھ کسان سلوٹک کہا جاتا ہے (انصاف اور امن۔ امان  
 کے اظہار کے لیے کہتے ہیں۔ بلاگر کا پھنچا جینے کا بچہ۔  
 بلاگھن۔ بلاگھنی (با۔ گھن۔ بلاگھن۔ نی) (۱)۔ منٹ) [۱] پینے کی مادہ۔ تیرنی  
 بلاگھی (با۔ گھی) (۱)۔ منٹ) [۱] وہ گدہ جو کسی زخم یا سوزاک کی وجہ  
 سے چڑوں پر پڑ جاتی ہے۔  
 بلاگھیری (با۔ گھیں۔ ری) (۱)۔ منٹ) [۱] ایک رگنی۔  
 بال (س)۔ منٹ) [۱] جوار باجرا یا گیسوں وغیرہ کا خوشہ۔ بالی (۲) [منڈکا]









باو بگ دینا (۱) آواز دینا پکارنا۔ (۲) اذان دینا  
 باورگا (بان) گا۔ (۱-۵) نہا کیس۔ کیس کا پورا۔  
 بانگر (بان) گرا۔ (۱-۵) نہا اپنی ہتھوڑ زمین۔ کھادر کی ضد۔  
 بانگھرو (بانگ) رگا۔ (۱-۵) صف [ے] قوت۔ اجن [ے] تمیز۔  
 بانلی (بان) گی۔ (۱-۵) منڈ [ے] بانگ دینے والا۔ اذان دینے والا  
 موذن۔  
 بانلی (بان) گی۔ (۱-۵) منڈ [ے] نمونہ  
 نانلی دینا۔ نمونہ دکھانا  
 باو (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] بیگم۔ بیوی۔ شہزادی۔ خاتون۔ ملکہ۔  
 بانوا (بان) دا۔ (۱-۵) منڈ [ے] ایک قسم کا آبی پرند۔  
 بانوسے (بان) دے۔ (۱-۵) صف [ے] نوٹے اور دو (۹۲)  
 بانخہ (۱-۵) منڈ [ے] بازو (۲) کنایت۔ وسیلہ۔ سہارا۔ رفیق۔ مددگار  
 (۱۳) آستین (۴) حقیقی بھائی (۵) صنمان۔ کفیل (۶) طاقت۔ زور۔ قوت  
 بانخہ بگڑنا (۱) مدد کرنا۔ دستگیری کرنا۔ سہارا دینا۔ مدد کرنا۔  
 بانخہ ٹوٹنا (۱) بازو ٹوٹ جانا (۲) پنکھ اگھڑ جانا (۳) مددگار جانا  
 (۴) بھائی کا مر جانا۔  
 بانخہ دینا (معاورہ) کسی کی مدد کرنا۔ سہارا دینا۔  
 بانخہ لگنے کی لاج۔ دستگیری کی شرم۔ حمایت کا پاس۔  
 بانخیں چڑھانا (۱) آستینیں چڑھانا۔ آستینیں اٹھانا (۲) لڑنے کی  
 تیاری کرنا۔  
 بانی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] آواز۔ صدا (۲) بول چال (۳) دعو  
 تقریر (۴) فقیروں کی صدا (۵) اصول (۶) رباعی طرز کے ہندی  
 گیت (۷) قول۔ مقولہ (سنسکرت لفظ "وانی" کا بگاڑ  
 بانی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] بنیاد رکھنے والا (۲) شروع  
 کرنے والا۔ موجد۔  
 بانی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] صف (۲) سفاک (۳) مشوق۔  
 بانی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] فسادوں کا سرختر۔ مفسد۔ فساد برپا کرنے والا  
 بانی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] کام کا موجد (۲) بہت جلاک اور ہوشیار۔ فساد مچی جڑ  
 (۳) نیز آدمی۔ کسی کام کی ابتدا کرنے والا۔  
 بانی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] اصل ذمہ دار۔ اصل باعث۔ وجہ سبب  
 بانی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] آواز (۲) تقریر۔ بیان۔ بات (۳) گیت  
 (۴) ساخت۔ بناوٹ (۵) گپڑا بنانے کا دھاگا (۶) ایک نرد  
 رنگ کی مٹی جسے کھارچے خشک برتنوں پر پکھانے سے پہلے  
 پھرتے ہیں۔  
 باور (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] باپ (۲) باپ (۳) گرو (۴) سرور  
 باور آدم۔ حضرت آدم۔ نسل انسانی کے مورث اعلیٰ۔ ابو البشر  
 باور آدم نرالا ہونا۔ نانا نماز ہونا۔ صب سے الگ ڈھنگ ہونا۔  
 سب سے جدا کام کرنا۔ کسی سے متفق نہ ہونا۔  
 باور بھلا نہ بھیا۔ سب سے بھلا روپیا۔ دیکھیے "باپ بھلا نہ بھلا  
 باوراکا۔ موروثی۔ ذاتی۔ جدی۔

باوجود (اف) اگرچہ۔ باوصف۔  
 باور (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] یقین۔ بھروسہ۔ اعتماد۔ اعتبار۔  
 باور (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] پانگل۔ دیوانہ۔ باڈلا۔  
 باور کرنا۔ یقین کرنا۔ مان لینا۔ اعتماد کرنا۔  
 باورچین۔ باورچینی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] باورچینی۔ باورچینی کی بیوی۔  
 کی تانیت۔ کھانا پکھانے والی عورت۔ باورچینی کی بیوی۔  
 باورچی (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] کھانا پکھانے والا۔ رسوٹیا۔ طبخ  
 باورچی خانہ۔ مطبخ۔ رسوٹی۔ کھانے پکھانے کی جگہ۔  
 باورچی گری۔ کھانا پکھانے کا فن۔ کھانا پکھانے کا پیشہ۔  
 باورگ (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] بیج بونے کا وقت۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] پچاس اور دو (۵۲)  
 باورن بیر (۱) باورن بہادر (۲) فظری۔ متفنی۔  
 باورن توڑے باورن (۱) جیسے کا تیسرا۔ جیسے جوں کا توں۔  
 بھٹیک ددرست۔ ٹھنڈ۔  
 باورن گز (۱) لمبا۔ طویل۔ دراز قامت (۲) فساد۔ شہریہ۔  
 ماہ (۳) منڈ [ے] قوت مردی۔ قوت جملہ۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] معاملہ۔ واسطہ۔ تعلق۔ کام۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] پانی نکلنے کا راستہ۔ نالی۔ نہر۔ (۲) وہ برتن  
 جس میں گنے سیتے وقت رس گرتا ہے۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] صاف اور روشن۔ واضح۔ صاف (۲) اور میں  
 دکھانے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] تابع فعل (۲) بیرون۔ خارج۔ اندر کی ضد۔ کھلے  
 میدان میں۔ کھلی ہوا میں (۳) پردیس میں سفر میں (۴) منڈ [ے] جلا  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] اوپر ہی اوپر (۲) دور دور۔ الگ الگ۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] اندر باہر۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] سفر کرنا (۲) پانچنے جانا (۳) احاطے سے نکل جانا۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] گھر سے باہر جانا۔ پردیس جانا۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] غیر۔ (۲) دہقانی۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] مردوں میں نشست و برخاست رکھنے والا  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] نکال دینا۔ خارج کرنا (۲) چھوڑنا۔ قطع تعلق کرنا۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] پر دے سے نکلنے والی۔ گلی بازار میں بے پردہ  
 نکلنے والی عورت۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] اٹھارہ (۲) اٹھارہ (۳) آوارہ ہونا۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] گھڑے والے (۲) گھڑے کا نہیں۔ باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] گھڑے کے گیت  
 گائیں (۳) ایشل (۴) غیروں کو فیض ہو اور اپنے محروم رہیں۔ محنت کوئی  
 کرے فائدہ کوئی اٹھائے۔  
 باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] ہومی کیوں کی ماری۔ باورن (با)۔ (۱-۵) منڈ [ے] ہومی کیوں کی ماری۔  
 صوبے دار۔ گھر میں بیوی بھوننے بھاڑا ایشل (۲) میاں تو نواب بنے  
 پھرتے ہیں اور بیوی نصیبوں کو روٹی ہے۔ اس موقع پر بولتے























اصطلاح (ذمہ۔

بد (ف۔ صفت) (۱۱) بڑا۔ خراب (۲) ناقص۔ کما (۳) شہ پر۔ فساد کی نیک کی ضد۔

بد آموز (ف۔ صفت) بڑی باتیں سکھانے والا (۲) جس نے بڑی تعلیم پائی ہو۔

بد آئین۔ بد اطوار۔ وہ شخص جسے کسی اصول کا پاس نہ ہو۔ خراب اصولوں والا بد اچھا بدنام بڑا [بمثل] رسوا اور بدنام ہونا بدکار ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے۔

بد اختر (ف۔ صفت) بد نصیب۔ بد قسمت۔

بد اخلاق (ف۔ صفت) بد اطوار۔ ناشائستہ۔ نالائق۔ بڑی عادت والا بد اسلوب (ف۔ صفت) (۱) بے ڈھنگا۔ بڑی شکل (۲) بد چلن۔ بد کردار

بد اصل (ف۔ صفت) (۱) پاجھی (۲) بد ذات۔ کم اصل بد اطوار (ف۔ صفت) بڑے جال چلن کا۔ بڑے ڈھنگوں کا۔

بد اعتقاد (ف۔ صفت) جس کا عقیدہ خراب ہو۔ یقین نہ رکھنے والا بد اعمال (ف۔ صفت) بد چلن۔ بڑے کام کرنے والا۔ بد کردار

بد اعمالی۔ بد چلنی۔ بد معاشی۔ بد افعال (ف۔ صفت) بڑے کام کرنے والا۔ بد معاش۔

بد امینی (ف۔ صفت) گڑبڑ۔ انتشار۔ بغاوت۔ بد انتظامی (ف۔ صفت) بد عملی۔ اندھیر۔ انتظام کی خرابی

بد انجام (ف۔ صفت) جس کا خیر اچھا نہ ہو۔ بد اندیش (ف۔ صفت) بڑا چاہنے والا۔ مخالف۔ دشمن

بد باطن (ف۔ صفت) کینہ پرور۔ سیاہ دل۔ بڑے دل والا۔ بد بخت (ف۔ صفت) بد نصیب۔ بد قسمت۔

بد بکلا۔ نہایت شہ پر۔ ظالم (۲) چڑھیل۔ ڈاکٹر۔ بد بو۔ بڑا بڑا خراب بو۔ خوشبو کی ضد۔

بد بو آنا۔ کسی شے سے عفونت آنا۔ ناگوار بو پھیلنا بد پیر ہمیز۔ کھلنے پینے میں پرہیز نہ کرنے والا بے احتیاط۔

بد پیر ہمیزی (۱) بے احتیاطی۔ بے اعتدالی (۲) [مجازاً] فضول خرچی بد تیر (ف۔ صفت) زیادہ خراب۔ بہت بڑا۔ بہت خراب۔

بد تمیز (ف۔ صفت) گستاخ۔ بھوسہ۔ بد سیلفیج بد تمیزی (ف۔ صفت) بد سیلفیجی۔ پھوسہ۔ گستاخی۔

بد تہذیب (ف۔ صفت) خیر تہذیب۔ بد تمیز بد جا توڑ۔ سوڑ۔ ختمیز۔

بد چشم (ف۔ صفت) حاسد۔ لالچی۔ وہ شخص جس کی نگاہ دوسروں کی دولت پر ہو۔ خاص کر غورتوں پر۔

بد چلن (ف۔ صفت) بد اطوار۔ بدکار۔ بد وضع۔ بڑے چال چلن والا۔ بد چلنی۔ بد وضعی۔ بد کرداری۔ بد اعمالی۔ بد کاری۔

بد حال (ف۔ صفت) بڑی حالت والا۔ بد حیثیت۔ بد بخت۔ بد حالی (ف۔ صفت) بد بختی۔ بڑی حالت۔

بد حواس (ف۔ صفت) (۱) بے ہوش بے حواس (۲) حیران پریشان

بد حواسی (ف۔ صفت) گھبرائے۔ پریشان (۲) بے عقلی۔ کم عقلی

بد خیرات (ف۔ صفت) بڑی اطلاع۔ موت کی خبر بد خصال (ف۔ صفت) [ف۔ صفت] بڑی عادت والا۔ بد مزاج۔

بد خط (ف۔ صفت) وہ شخص جس کا خط خراب ہو۔ بد خطی (ف۔ صفت) بڑی لکھائی۔

بد خلق (ف۔ صفت) بد مزاج۔ اگھڑ۔ بڑے اخلاق کا۔ بد خوات (ف۔ صفت) بڑی خصلت والا۔

بد خواب (ف۔ صفت) (۱) بڑا سپنا دیکھنا (۲) اختلام ہونا۔ (۳) نیند اچھٹ جانا۔

بد خوابی (ف۔ صفت) ڈر ڈرنا خواب (۲) اختلام۔ بے حسنی۔ نیند نہ آنا بد خواہ (ف۔ صفت) بڑا چاہنے والا۔ دشمن۔ بیری۔ مخالف۔

بد خواہی (ف۔ صفت) دشمنی۔ بیری۔ مخالفت۔ بد دعوا (دینا) کرنا (محاورہ) کوسنا دینا۔

بد دعوا لکنا (محاورہ) کسی کے کوسنے کا اثر ہونا۔ بد دعوا لینا (محاورہ) کوسنے کا مستحق ہونا۔

بد دل (ف۔ صفت) (۱) ناخوش۔ ناراض (۲) دل برداشتہ بد دلی (ف۔ صفت) (۱) خاموشی۔ ناراضگی۔ بزدلی۔

بد دماغ (ف۔ صفت) (۱) چڑھا۔ نازک مزاج (۲) مغرور کھنڈی بد دماغی (ف۔ صفت) (۱) مغرور۔ کھنڈ (۲) نازک مزاجی۔ چڑھا۔

بد دیانت (ف۔ صفت) خیانت کرنے والا۔ دغا باز۔ بے ایمان۔ بد دیانتی (ف۔ صفت) (۱) خیانت۔ دغا بازی۔

بد ذرات (ف۔ صفت) کینہ۔ کم ذات (۲) شوخ۔ شہ پر (۳) سفہ۔ پاجھی۔ بد ذیاتی (ف۔ صفت) شہ زارت۔ کینہ۔ پاجھی پن

بد ذہنی (ف۔ صفت) (۱) خیانت۔ دغا بازی۔ بد ذوق (ف۔ صفت) بد مذاق۔ جس کی پسند اچھی نہ ہو۔ غیر معیاری چیزوں کو پسند کرنے والا۔

بد ذہن (ف۔ صفت) کند ذہن۔ کوڑ مغز۔ بخی۔ بد راہ (ف۔ صفت) بڑے راستے پر چلنے والا۔ بد وضع۔ بد چلن۔ بد کار۔

بد رنگ (ف۔ صفت) (۱) وہ گھوڑا جو رنگ میں پاؤں نہ رکھنے لے (۲) شہ پر۔

بد رنگ (ف۔ صفت) کینہ۔ بڑی خصلت والا۔ بد سرشت۔ بد رنگ (ف۔ صفت) (۱) خراب رنگ کا (۲) رنگ اڑا ہوا تاش کا وہ پتہ جو بازی کے رنگ کا نہ ہو۔

بد رو (ف۔ صفت) وہ گھوڑا جو بڑی طرح چلے۔ بد رو (ف۔ صفت) بد بخت۔ مصیبت زدہ۔

بد رو (ف۔ صفت) (۱) جس کا زمانہ موافق ہو۔ بد نصیب۔ بد قسمت۔ بد زمان (ف۔ صفت) بد کلام۔ گستاخ۔ گالی گلوچ بکنے والا۔

بد زب (ف۔ صفت) بے ڈول۔ نازبیا۔

بد ساعت اف۔ صف امخوس گھڑی

بد سرشت اف۔ ا۔ صف بد طینت۔ خراب طینت کا

بد سگال اف۔ صف بد خواہ۔ بڑا چاہنے والا۔

بد سگالی اف۔ مٹا بد خواہی۔ بڑا چاہنا۔

بد سلوکی اف۔ مٹا بڑا برتاؤ۔ بڑی طرح پیش آنا۔

بد سے بدنام بڑا مثل آبد ہونے سے بدنام ہونا بڑا ہے۔

بد سیرت اف۔ صف ابڑی عادت والا۔

بد شکل اف۔ صف ابڑی صورت والا۔ بد صورت۔

بد شکونی اف۔ صف انحوست۔ بد فالی۔

بد صورت اف۔ بھونڈی صورت والا۔ بڑی شکل والا۔ بد شکل

بد صورت کرنا۔ صورت بگاڑ دینا۔ شکل بگاڑنا چہرہ بگاڑنا۔

بد صورتی اف۔ مٹا ابڑی صورت۔ خراب شکل

بد طالع اف۔ صف بد نصیب۔ بد قسمت

بد طرازی اف۔ مٹا بے دھنگا پن۔ مصیبت۔ بڑی روش

بد طینت اف۔ صف ابڑی عادت والا۔ بد خلقت۔ بد مزاج

بد ظن اف۔ صف اشکی۔ بد گمان

بد عقیدہ اف۔ صف احس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔

بد عمل اف۔ صف اگناہ کار بظہار کار۔ بڑے کام کرنے والا۔

بد عملی اف۔ مٹا اندھیر۔ بد نظمی۔ بد انتظامی۔

بد عنوان اف۔ صف ارشوت خور۔ میرا بچھری کرنے والا۔ بد قماش۔

بد اظہار۔

بد عہد اف۔ صف بے وفا۔ قول سے پھر جائے والا۔ وعدہ خلاف۔

بد عہدی اف۔ مٹا بے وفائی۔ وعدہ خلافی۔ دغا بازی

بد فرجام اف۔ صف اوہ شخص جس کا انجام بچیر نہ ہو۔

بد فعل اف۔ صف بد کار۔ اعلام باز۔

بد فعلی اف۔ مٹا بد کاری۔ حرام کاری۔ بد چلنی۔ بد کرداری۔

بد قطع اف۔ صف بے ڈھنگا۔ بد صوت۔ بد شکل۔

بد قمار اف۔ صف ادھو کا دسے کر دوسرے بٹورنے والا ۱۲۱ ہمیشہ

بارنے والا جواری ۱۳ بد طینت ۱۴۱ شربیر

بد قماش اف۔ صف بد چلن۔ بد وضع۔

بد قدم اف۔ صف منحوس

بد کار۔ زنا کار۔ فاسق۔ بد چلن۔ بد کردار

بد کاری اف۔ مٹا زنا کاری۔ حرام کاری بد چلنی۔ بد فعلی۔ لواطت

بد کردار اف۔ صف بد عمل۔ بد چلن

بد کیش اف۔ صف بے دین۔ ۱۲۱ بد خو۔

بد گمان اف۔ صف بڑا گمان رکھنے والا۔ بڑا خیال رکھنے والا۔ بظن۔ شک

بد گمانی اف۔ مٹا بے جا شبہ۔ بد نظمی۔ خیال فاسد۔

بد گو اف۔ صف اگلیاں کھنے والا۔ بڑی باتیں کھنے والا۔

بد گوشت اف۔ صف اوہ زائد گوشت جو کسی مادہ فاسد کی وجہ

سے پیدا ہو جاتا ہے۔

بد گوہر۔ بد ذات۔ بد اصل۔ کینہ

بد گوئی اف۔ مٹا غیبت۔ جھگی۔ بڑائی۔ جھوٹ۔

بد گوہر اف۔ صف بد اصل۔ بد سرشت۔ شربیر گھوڑا۔

بد لحاظ اف۔ صف بے شرم۔ بے حیا۔ گستاخ

بد لحاظی اف۔ مٹا بے شرمی۔ بے حیائی۔ حفظ مراتب کا خیال نہ رکھنا

گستاخی۔

بد لگام اف۔ صف ۱۱۱ اوہ گھوڑا جو لگام کو نہ مانے۔ بے قابو ۱۲۱ مجازاً

بے ادب منہ پھٹ۔

بد لگامی کرنا (مجادرہ) گستاخی اور سرکشی کرنا ۱۲۱ منہ پھٹ ہونا ۱۳۱ اوہ گھوڑا

جو لگام کو نہ مانے۔

بد لہجہ اف۔ صف بد آواز۔ بد الحان۔

بد مال اف۔ صف احس کا نتیجہ اچھا نہ ہو۔

بد مذہب اف۔ صف بے ایمان۔ بد پیش۔ بد طریقی۔

بد مزاج اف۔ صف اچھو پڑا۔ غضبور۔ تند خو۔

بد مزاجی اف۔ مٹا اثرش روی۔ تند خوئی۔ چھو پڑا پن۔

بد مزگی اف۔ مٹا بد ذائقہ پن ۱۲۱ رنجش۔ مخالفت۔

بد مزہ اف۔ صف بے سواد۔ بد ذائقہ۔

بد مزہ ہونا (مجادرہ) بے ذائقہ ہونا ۱۲۱ اخفا ہونا۔ ترش رو ہونا۔

بد مست اف۔ صف ۱۱۱ مدہوش۔ بے ہوش۔ مست۔ نشے میں چمڑ۔

۱۲۱ پرشہوت ۱۳۱ شربیر

بد مستی اف۔ مٹا ۱۱۱ مدہوشی ۲ شہوت پرستی ۱۳۱ شرارت۔

بد معاش اف۔ صف ۱۱۱ اوہ شخص جس کی روزی برسے کاموں پر منحصر

ہو ۱۲۱ حرام خور۔ شربیر۔ لچا۔

بد معاشرتی اف۔ مٹا اشتراک۔ حرام خواری۔ بد ذاتی۔ بد چلنی۔

بد معاملی اف۔ صف بے ایمانی۔ لین دین کی صفائی نہ رکھنا ۱۳۱ بد عہدی

کھوٹا پن۔

بد معاملہ اف۔ صف ۱۱۱ لین دین کا کھوٹا۔ بے ایمان۔ بد دیانت ۱۲۱ بد عہد

بد نام اف۔ صف رسوا۔ وہ شخص جس کی خراب شہرت ہو۔

بد نام کنندہ۔ مکتوبہ سے چند اہل ایک ناموں کو بد نام کرنے والا۔

بد نامی۔ رسوائی۔ ذلت۔ بڑی شہرت۔

بد نامی اٹھانا (مجادرہ) رسوائی برداشت کرنا۔

بد نامی کا ٹوکرا۔ رسوائی کا الزام۔ بد نامی کا سبب۔ رسوائی رنج۔

بد نامی کا بیٹکا۔ رسوائی کا داغ۔

بد نامی سمیٹنا (مجادرہ) رسوائی کا چھپانا یا دور کرنا ۱۲۱ رسوائی محول

لینا۔ بد نام ہونا۔

بد نسل اف۔ صف خراب نسل کا۔ کینہ۔ بد اصل۔

بد نصیب اف۔ صف اکم بخت۔ بد قسمت۔

بد نظر (بد نگاہ)۔ بڑی نظر سے دیکھنے والا۔

بد نظر سے دیکھنا (مجادرہ) بڑی نگاہ سے یا نفسانی خواہش کے ارادے

سے گھورنا۔ ۱۲۱ دشمنی کی نگاہ سے دیکھنا۔



بدن ریب - دن [ع۔ ا۔ مذ] ۱۱ [تن۔ جسم۔ اندام (۲) شرم گاہ مستز۔ جمع بدن  
 بدن آلو کرنا (مخاورہ) ماستے مارتے جسم پر نیل ڈال دینا۔  
 بدن اند سے چھوڑنا (مخاورہ) اسارا جگر دھکنا۔  
 بدن بگر طہرانا (مخاورہ) جذام یا کوڑھ ہو جانا۔  
 بدن پاک کرنا (مخاورہ) بدن سے نجاست دھونا۔  
 بدن پر لونی نہ ہونا (مخاورہ) بہت ڈبلا ہونا۔  
 بدن پر نہیں لٹپان کھائیں البتہ (ایش) اگری میں امیرانہ ٹھاٹھ۔  
 بدن چھیل جانا (مخاورہ) تمام جسم پر چھوڑے چھسی یا گرمی دانے ٹھکانا۔  
 بدن بھیکنا ہونا (مخاورہ) پینڈا گرم ہونا۔ بخار ہونا۔ حرارت ہونا۔  
 بدن بچھڑنا (مخاورہ) بدن اکڑ جانا۔  
 بدن ٹوڑنا (مخاورہ) انگریزاں لینا (۲) ورزش کرنا۔  
 بدن ٹوٹنا (مخاورہ) اعضا ٹھکنی ہونا۔ کسمپاہت ہونا۔  
 بدن چلنا (مخاورہ) بہت تیز بخار ہونا۔  
 بدن خزانہ (مخاورہ) شرم سے جسم کو سکیر ٹانا۔  
 بدن بھڑ بھڑ ہونا (مخاورہ) بہت تلک جانا۔  
 بدن ساچے میں ڈھلنا (مخاورہ) بدن کا موزوں ہونا۔ بدن کے ہر عضو کا  
 موزوں اور خوبصورت ہونا۔  
 بدن سفینا (مخاورہ) جسم میں سنسنی پیدا ہونا۔ روکنے کھڑے ہونا۔  
 بدن سوکھ کر کناٹا ہونا (مخاورہ) بہت ڈبلا ہونا۔  
 بدن سے جنگاں اڑنا (مخاورہ) سخت گرمی محسوس کرنا۔  
 بدن کا کپڑا۔ پینٹنے کا کپڑا۔ پہنا ہوا کپڑا۔  
 بدن کو خندانہ لگنا (مخاورہ) کھانے پینے سے بدن پر تازگی اور توانائی  
 نہ آنا۔ غذا کا جزو بدن نہ ہونا۔  
 بدن گدراٹنا (مخاورہ) جسم کا ترقی تازہ ہونا۔  
 بدن گھل جانا (مخاورہ) بہت لاغر ہو جانا۔  
 بدن تلووانا۔ جسم کی مالتش کرنا۔  
 بدن میں آگ لگنا (۱) بہت گرمی محسوس ہونا (۲) نہایت غصہ آنا۔  
 بدن میں جان نہ ہونا (مخاورہ) کمال ناطقیت اور ضعف ہونا۔  
 بدن میں مزہبیں لگنا۔ غصے کی شدت سے بے تاب ہونا بھنجیلانا۔  
 بدن میں دم نہیں نام زور اور خاں (ایش) ان صفات سے موسوم  
 جو اس میں موجود نہ ہوں یعنی ماسنے والے کے متعلق کہتے ہیں۔  
 بدنا (بد۔ نا۔ ا۔) [ع۔ مص۔ ۱۱] شرط لگانا۔ اقرار کرنا (۲) خاطر میں لانا۔ سمجھنا  
 بدنی اب۔ ذی (نی [ع۔ صفت] جسمانی بدن سے متعلق  
 بدو اب۔ دو [ع۔ ۱۱] صفت [ع۔ ۱۱] کسی چیز کا آغاز۔ ابتدا۔ شروع (۲) جنگل۔ صحر  
 بدو ا۔ بد۔ دو [ع۔ ۱۱] بدوی۔ عرب کے خانہ بدوش لوگ (۲)

بدھ ڈونڈ۔ قتل کی سزا۔  
 بدھ ۵۱۔ ۱۔ مٹ (۱) خدا پر پیشہ (۲) چاند۔ قمر۔ ماہ (۳) وضع۔ طور۔ طہب  
 (۴) اچھے ستاروں کا ملنا (۵) جوڑ۔ میزبان۔ حساب کا ٹھیک بیٹھا۔  
 بدھ کھانا۔ بدھ ملنا (مخاورہ) میزان درست ہونا (۲) اتفاق رائے ہونا۔  
 (۳) بات قرار یا جانا (۴) زاچھہ مطابق ہونا (۵) کام بن جانا۔  
 بدھ ملانا (مخاورہ) ختم پتیری ملانا (۲) میزان کا مقابلہ کرنا (۳) موافقت  
 پیدا کرنا۔ قیمت لگانا۔  
 بدھ ۱۰۔ ۱۔ ماز۔ عقل۔ سندا۔ آدمی مرد دانا (۲) سیارہ عطارد (۳) چہار شعبہ  
 (۵) خدا شناس۔  
 بدھا وا اب۔ دھا۔ وا [ع۔ ۱۔ ۵] [۱] سیاہ کی مبارک باد۔ سیاہ کا انعام  
 (۲) نعمت عیش شادمانی (نی)  
 بدھانی اب۔ دھا۔ وا [ع۔ ۱۔ ۵] [۱] خوشی کا گیت۔ شادمانہ۔  
 (۲) خوشی (۳) مبارک باد (۴) وہ انعام جو بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں  
 ملازمین وغیرہ کو دیتے ہیں۔  
 بدھانی ڈینا۔ مبارک باد دینا۔  
 بدھنا (بدھ۔ نا) [ع۔ ۱۔ ۵] [مذ] ٹوٹا۔ ٹوٹی والا برتن۔  
 بدھنا (بدھ۔ نا) [ع۔ ۵۔ ۵] [مص] [۱] بھینسا۔ پیوست ہونا (۲) سواخ ہونا۔  
 بدھنی (بدھ۔ نی) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] مٹی کی ٹوٹی دار لٹنا۔  
 بدھو (بدھ۔ دھو) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مذ] بے وقوف۔ نادان مورکھ۔ کم عقل۔  
 بدھو (بدھ۔ وا) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] بیڑہ۔ راند۔ ودھوا۔  
 بدھی (بدھ۔ دھی) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] [۱] پھولوں کا ہار۔ تلوار کا آڑا زخم (۲)  
 پیچی یا کوڑے کی مار کا نشان (۳) ہکا جو گلے میں ڈالتے ہیں (۵) گلے  
 میں پینے کا ایک زیور (۶) چٹنے کا ڈھونڈا جس کے ذریعے برتنے کو  
 گھماتے ہیں۔ (۷) استر تیز کرنے کا چرٹ۔  
 بدھیال پڑنا (مخاورہ) اچھوٹک کے نشان پڑنا۔  
 بدھیال ڈالنا (مخاورہ) مار مار کر کھال پر چوٹ کے نشان ڈالنا۔  
 بدھنی (بدھ۔ دھی) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] [۱] دانائی۔ عقل۔ سمجھ۔ فہم۔ گیان۔  
 بدھیال (بدھ۔ یا) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] [۱] اختہ۔ بیل۔ ٹوٹے کھلا ہوا بیل (۲) دلخند  
 گنا (۳) نامرد۔ پھول۔ خوجہ۔  
 بدھیال پھینا (مخاورہ) اچھٹے ہوئے بیل کا بیٹھ جانا (۲) نقصان ہونا۔ دیوار کھٹنا  
 منقلس ہو جانا۔  
 بدھیال کرنا (مخاورہ) اختہ کرنا۔ نھی کرنا۔ نامرد کرنا۔  
 بدھیال مری تو مری اگر تو دیکھا (ایش) تھوڑی آسائش کے لیے زیادہ  
 نقصان اٹھانا۔ تھوڑی نفع کے لیے زیادہ کھانے کی پروا نہ کرنا۔  
 بدنی۔ بدی (بد۔ ای، ب۔ دی) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] [۱] چاند کے بیٹے کے آخری پندرون  
 بدی (ب۔ دی) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] [۱] برائی۔ بدخواہی (۲) غلیبیت  
 بدی (ب۔ دی) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] [۱] برائی۔ بدخواہی (۲) غلیبیت  
 بدی کرنا (مخاورہ) برائی پر آمادہ ہونا۔ دستہ پی کر کرنا (۲) سرکشی کرنا۔  
 بدی کرنا (مخاورہ) برائی کرنا۔ دمی کرنا (۲) تکلیف دینا۔ ستا کرنا (۳) غلیبیت کرنا  
 بدیا۔ بدو (یا) [ع۔ ۱۰۔ ۵] [مٹ] [۱] واقفیت۔ علم۔ ہنر۔ (۲) چالائی۔ دھوکا۔  
 چال (۳) علم کی دیوی (۴) جادو۔ ٹوٹا۔ شعبہ بازی۔

## ب۔ ر

بڑا (۵۔ ۱) [مذ] ۱۱ انتخاب۔ پسند۔ چناؤ (۲) منگیت۔ پتی۔ شوہر (۲) کپڑے  
ر کی چوڑائی۔ عرض (۳) اتنا۔ مراد (۴) دعا۔ آئینہ۔ بڑ۔ برکت  
برجوں کا۔ (۱۱) اجوان۔ بیابان کے لائق۔ (۲۱) بھیک جوڑ۔ دولہا دہن کا  
درست جوڑا۔

بردار۔ چوڑائی رکھنے والا (کپڑا)  
بردگھوا۔ شادی سے قبل سسرال میں منگیت کی رونمائی

برکھ دینا۔ شادی کر دینا۔  
برکھ مانگنا (۱۱) دعا چاہنا۔ مراد مانگنا۔ منگنی کے بعد بیٹی والوں کا سیاہ کا تقاضا  
برکھ اف (۱۱) اوپر۔ (۲) باہر۔ بیرون (۳) ایاد (حفظ ہزار کے ساتھ (۴)  
بلند۔ غالب (۵) بعض کلمات کے شروع میں ناند بھی ہوتا ہے جیسے  
برعکس۔ برعکس وغیرہ (۶) [مذ] پھل۔ ٹہر (۷) کپڑے کی چوڑائی (۸) چھائی  
سینہ (۹) [صف] اٹھانے والا (۱۰) مرکبات میں بطور لاشعہ  
مشغول ہے۔ جیسے نامہ بر۔ دل بڑ

برابر (ف) نصف (۱) پورا کرنے والا۔ سے جلنے والا۔  
براشفقتہ (ف) [صف] غصے سے بھرا ہوا۔ ناراض۔  
برآمد (۱) باہر آنے کا فعل۔ بطور۔ طلوع۔ نمود (۲) روانگی۔ باہر جانا (۳)  
مال کی نکاسی وہ اشیاء جو بیرونی ممالک کو بھیجی جاتیں۔ ایکسپورٹ (انک  
(Export) (۲) خرچ۔ مصارف (۴) وہ زمین جو دریا کے بہت جلنے سے  
سہ نکل آتی ہے۔  
برآمد کرنا (مجاورہ) کھوج۔ لگانا۔ نکانا۔ ظاہر کرنا (۲) ملکی مال بیرونی ممالک  
کو بھیجنا (۳) تنخواہ (روپیہ) بنک سے لانا۔  
برآمدگی (ف) [مشت] ادھولی۔ سمرخ (۲) نکاسی (۳) پھر سے مسروقہ مال  
کی واپسی۔

برآمدہ (۱۱) مکان کے سامنے بغیر دروازوں کے کرا (۲) پیش گاہ (۳) ایوان (۳)  
برآمدگی (ف) [مشت] ادھولی۔ سمرخ (۲) نکاسی (۳) پھر سے مسروقہ مال  
کی واپسی۔  
برآمدہ (۱۱) مکان کے سامنے بغیر دروازوں کے کرا (۲) پیش گاہ (۳) ایوان (۳)  
برآمدگی (ف) [مشت] ادھولی۔ سمرخ (۲) نکاسی (۳) پھر سے مسروقہ مال  
کی واپسی۔

برانداز (ف) [صف] ادولی وغیرہ کا پردہ۔ نقاب (۲) اوپر ڈالنے کا کپڑا۔  
برازنغ۔ (۳) پائیدان۔ پانڈاز (۴) بریاد کرنے والا۔  
برایکختہ (ف) [صف] بھڑکانا ہوا۔ مشغول۔ طیش میں بھرا ہوا۔  
برایکختہ کرنا (ف) [مشت] ادھولی۔ سمرخ (۲) نکاسی (۳) پھر سے مسروقہ مال  
کی واپسی۔  
بربا (مجاورہ) پاؤں پر قائم۔ برقرار۔ ٹھہرا ہوا  
بربا کرنا۔ قائم کرنا۔ چمانا۔ اٹھانا۔  
برکھ (ف) [صف] زیادہ۔ بہتر۔ افضل۔ زیادہ بلند۔

بڑیا بھتی (۵) [صف] ادیاری بھتی۔ طالب علم۔ متعلم۔ علم کا خواہش مند۔  
بڑیس (ب۔ پ۔ دس) [مذ] ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶





برابر ہوا ہے (۱) پہلو بہ پہلو۔ پاس پاس۔ قریب قریب (۲) مسلسل۔  
لگاتار۔ ترتیب دار۔ باقی عدہ (۳) نصف نصفی (۴) ساتھ ساتھ کہنا ہے  
برابر پیش آنا (مجاورہ) ایک جیسا ہونا اور کرنا۔  
برابر چھوٹنا۔ کشتی میں فریقین کا کسی کو ہرانہ سکنا۔  
برابر ہر برابر (۱) یکساں۔ مساوی (۲) بے باقی۔  
برابر سے نکلنا۔ قریب سے نکلنا۔

برابر سے جواب دینا۔ ترکی تبری جواب دینا۔ گستاخی سے جواب دینا۔  
برابر کا (۱) ہم قدر (۲) جوڑ کا۔ ہمسر۔ ہم رتبہ (۳) نصف (۴) قریب (۵)  
ہم عمر۔ متقابل کا۔ جوڑ کا۔ (۶) یکساں۔ مساوی۔

برابر کا بیٹا (۱) مذکورہ جوان بیٹا۔  
برابر کا جواب دینا (مجاورہ) ہمسر کرنا۔ ترکی تبری جواب دینا۔  
برابر کرنا (مجاورہ) (۱) یکساں کرنا (۲) مطابق کرنا۔ ہم وزن کرنا (۳) بیانی  
کرنا۔ کئی بیٹھی دور کرنا۔ نصفاً نصفی (۵) شکایت ریف کرنا (۶) تباہ و  
برباد کرنا (۷) گنواٹا صرف کر دینا۔ ختم کر دینا۔ درست کرنا۔ ترتیب دینا  
مسلسل کیے جانا۔ بلاناغہ کرنا۔

برابر کی بیٹی (۱) منشا جہاں لڑکی جو قد میں ماں کے برابر ہو۔  
برابر کی حکمر (۱) صف اہم رتبہ۔ ہم برابر۔ ہمسر۔ متقابل کا۔ جوڑ کا۔  
برابر کی جوڑ (۱) صف (۲) برابر کی نظر۔  
برابر میں۔ ساتھ ساتھ۔ پاس پاس۔  
برابر نکلنا (مجاورہ) ایک جیسا ہونا۔  
برابر والا۔ ہمسر۔ جوڑ کا۔ متقابل کا۔

برابر ہونا (مجاورہ) ایک سطح پر ہوجانا۔ بیانی ہونا (۲) یکساں ہونا۔ ہمسر  
ہونا (۳) ہم وزن ہونا (۴) اصناف ہوجانا (۵) آمنے سامنے ہونا (۶)  
لبریز ہوجانا۔ (۷) ضائع ہوجانا۔

برابر سی اب۔ راب۔ ری (۱) اڑ۔ منٹ (۲) ہم چشمی ہمسر کی لنگر۔ مقابلہ۔  
(۳) ہواری (۴) لے ادنی۔ گستاخی۔

برابر کرنا (مجاورہ) انقل کرنا (۲) ہمسر کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ گستاخی کرنا۔  
برات (۱) رات (۲) [ف] [۱- منٹ] (۳) حصہ۔ بجز (۴) فرمان۔ حکمنامہ (۵)  
وہ تحریر جس کے ذریعے تنخواہ لے۔ (۶) شب اشعبان کی چودھویں رات۔  
مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس رات ہر شخص کی عمر کا حساب اور  
رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔

برات عاشقان برشاخ آہوں مثل امیدو ہوم ۱۰۔ موقع پر بولتے  
دیکھ جہاں مقصد برآری کا امکان نہ ہو۔

برات دب۔ رات (۱) [۵-۱۰ منٹ] (۲) دولہا کی سواری کا جلوس (۳) انہو  
ازدحام (۴) گنجھڑ کی ایک بازی کا نام

برات اترنا (مجاورہ) براتوں کا کسی مقام پر ٹھہرنا۔  
برات بچھ دھونسا، عید بچھے ٹر (مثل) موقع گزر جانے پر کوئی بات  
یا کام کرنا۔

برات چڑھنا۔ دولہا کا جلوس کے ساتھ دھن کے گھر جانا۔  
براتی اب۔ رات (۱) [۵-۱۰ منٹ] دولہا کے ہمراہی۔

اور معمولی چیز بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔  
موجا مینا (مجاورہ) کسی کی بُرائی کی خواہش کرنا جسد کرنا۔  
برواخال کرنا (مجاورہ) مارنا پھینکا۔ دفی کرنا۔ ستانا (۲) حال خراب کرنا تباہ  
کرنا۔ برباد کرنا۔

بروز مانہ (مجاورہ) ہر آشوب وقت (۲) افلاس یا پریشانی کے دن (۳)  
مصیبت کا وقت۔

بڑا سا مٹہ بنانا (مجاورہ) چہرہ ایسا بنانا جس سے ظاہر ہو کہ کوئی بات ناگوار  
ہوتی ہے۔ چہرے سے ناگواری ظاہر ہونا۔

بڑا کام (۱) مذکورہ ادب اور تہذیب کے خلاف حرکت۔ ناشائستہ فعل۔  
اخلافی کے خلاف کام (۲) حرام کاری۔ زنا کاری۔

بڑا کرنا (مجاورہ) (۱) نقصان پہنچانا (۲) نامناسب فعل کرنا (۳) بدنام کرنا  
بڑا گھنے والے پر تین حرف مثل بڑا کہنے والے پر لعنت (تین حرف  
ل۔ ع۔ ن۔ یعنی لعن۔ بمعنی پھٹکار

بڑا لکھا (۱) مذکورہ خراب تقدیر (۲) بدخط  
بڑا لکنا (مجاورہ) ناگوار معلوم ہونا۔ گراں گزرنہ۔ بدنام معلوم ہونا۔

بڑا ماننا (مجاورہ) خفا ہونا۔ ناراض ہونا۔ آزرہ خاطر ہونا۔ بگڑنا  
بڑا ماننا (مجاورہ) (۱) فقہاً سمجھو یا بڑا پسند آئے یا نہ آئے۔  
بڑا وقت (۱) مذکورہ مصیبت کا زمانہ۔ غریبی کا وقت۔

بڑا ہو دغاے ہر آفت آئے۔ مصیبت پڑے۔  
بڑے حالوں جینا۔ بُری حالت میں زندگی بسر کرنا  
بڑے دل سے (۱) اے پروا ہی سے (۲) ناخوشی سے ناگواری سے

بڑے دن۔ مصیبت کے دن۔  
بڑے کی جان کو روزنا جبر و ستم اور ظلم پر صبر کرنا۔ ظالم کی شکایت کرنا۔  
بڑے چپچن۔ بُری عادتیں۔

بڑے وقت اڑے آنا۔ مصیبت کے وقت کام آنا۔ افلاس کی حالت  
میں مدد کرنا۔

بڑے وقت کا کوئی شریک اساتھی نہیں (مثل) مصیبت کی حالت میں  
ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔

برابر اب۔ رات (۱) [ف] [صفت] (۲) مساوی۔ ہمسر۔ ہم عمر۔ ہم پایہ (۳)  
یکساں۔ مستط۔ ہموار (۴) پورا (۵) سیدھا (۶) پہلو۔ بازو کنارہ۔ جانب  
مقابل۔ آگے (۷) ترتیب دار۔ مسلسل۔ بلاناغہ (۸) ایک ساتھ ایک  
دم۔ بے روک (۹) نصفاً نصفی۔ آدھا (۱۰) ہر وقت۔ ہمیشہ۔ سدا۔

(۱۰) قریب۔ پاس۔ نزدیک (۱۱) بھرا ہوا۔ لبریز (۱۲) بے باقی (۱۳)  
ہم عمر (۱۴) ہم رتبہ۔ ہمسر (۱۵) نصفاً نصف (۱۶) پے درپے بار بار

(۱۷) مد مقابل۔ خریف۔

برابر آنا (مجاورہ) امتحان میں ایک جیسے نمبر لینا (۲) دو کھلاڑیوں کا ایک  
جیسا رہنا۔ ہاجیت کا فیصلہ نہ ہونا

برابر اترنا (مجاورہ) یکساں ہونا۔ قول میں برابر ہونا۔  
برابر اٹھ جانا، اٹھنا (مجاورہ) مشطرج کی بازی کا بغیر بار سے جیتنے  
ختم ہوجانا۔



برائی آگے آنا محاورہ) برائی کی سزا ملنا کیے کی سزا جھگلتا۔

برائے اب۔ را۔ اے [ف] حرف ربط [ا] واسطے لیے (۲) وسیلے سے برکت سے۔ حدیث میں

برائے خدا۔ خدا کے لیے۔ فی سبیل اللہ۔

برائے مصلحت ان۔ صفت کسی بہتری کے لیے۔

برائے نام۔ صرف نام کے طور پر۔ یونہی۔ فرضی۔ صرف دکھاوے کیلئے

برایا اب۔ را۔ ابا [ع۔ ا۔ مٹ] بریت کی جمع۔ مخلوق۔ جہان۔ دنیا۔

برباد۔ ا۔ ا [ف۔ صفت] تباہ۔ ویران۔ خراب۔ ضائع۔ تلف

بربادی۔ ا۔ ا۔ ا [ف۔ مٹ] تباہی۔ ویرانی۔ خرابی۔

بربرانا۔ ا۔ ا۔ ا [ہ۔ مٹ] کسی خشک پس بونی چیز کا کسی دوسری چیز پر پھینکنا۔

بربرائی۔ ا۔ ا۔ ا [ری۔ ع۔ صفت] علاقہ بربراشمالی افریقہ سے

متعلق (۲) [مٹ] اس علاقے کا باشندہ (۳) [مٹ] اس علاقے کی بکری

بربرائی خانہ۔ بکریوں کے رہنے کی جگہ۔ باڑا۔

بربریت۔ ا۔ ا۔ ا۔ ا [ری۔ بیت] [ع۔ ا۔ مٹ] وحشت۔ وحشی پن۔ خونخواری

بربط۔ ا۔ ا۔ ا [ف۔ مٹ] ایک قسم کا ساز۔ عود۔

برکت۔ ا۔ ا۔ ا [مٹ۔ مٹ] ہندوؤں کا روزہ۔

برکت (۵۔ مٹ) ایک قسم کی ہماری جو جادو کا شت کے باعث

ہو جاتی ہے۔ کنوئیں سے پانی نکالنے والی رسی (۲) تسمر (۳) بدھی۔

کسی چلبلی پیڑ سے جسم پر ضرب کا نشان۔

برکت (س۔ ا۔ مٹ) (۱) معیشت۔ وجہ معاش (۲) آمدنی (۳) مال

جامداد (۴) معانی زمین (۵) حق۔ ورثہ۔ انعام (۶) اجماع پر دوش کرنا والا

پڑتا (برکتا) [۵۔ ا۔ مٹ] طاقت۔ بل۔ زور (۲) بھروسا۔ امید (۳) حوصلہ

ہمت (۴) ایقت۔ استعداد (۵) وسعت۔ گنجائش (۶) مدد۔ اعانت

(۶) کارگزاری۔ عمل۔

برتاؤ۔ برتاؤ اور برتاؤ۔ ا۔ ا۔ ا [مٹ۔ ا۔ مٹ] (۱) راہ رزم۔ میل جول (۲)

سلوک۔ طرز عمل۔ روش

برتنش (بر۔ تنش) [۵۔ ا۔ مٹ] وہ زمین جس میں چاول کی فصل کاٹ

لینے کے بعد گنا بویا جائے۔

برتن (بر۔ تن) [۵۔ ا۔ مٹ] طرف۔ باسن۔ بھانڈا

برتن بھانڈے (۵۔ مٹ) ظروف۔ بہت سے برتن۔

برتن سے برتن کھٹک ہی جاتا ہے۔ ایل کھڑدالوں میں کسی نہ کسی

بات پر ہنکارا ہو ہی جاتی ہے۔

برتن کھنڈا (محاورہ) مٹی کے ظروف کا وہ آواز دینا جس سے اس کا

ٹوٹا یا پکا ہوا معلوم ہو۔

برتنا اب۔ رت۔ نا [۵۔ مٹ] (۱) کام میں لانا۔ استعمال کرنا (۲) تجربہ

کرنا (۳) خرچ کرنا (۴) ناپاہن (۵) برتاؤ کرنا۔

برٹھوڑے (BIRTHDAY) [انگ۔ مٹ] یوم پیدائش۔ جنم دن۔

برٹھوڑوں (BIRTH CONTROL) [برٹھ۔ کنٹ۔ رول] (انگ۔ ا۔ مٹ) بچوں کی پیدائش کو قابو میں رکھنا۔ زیادہ بچے نہ ہونے دینا

ضبط تولید۔

برتیا (بر۔ ت۔ یا) [۵۔ ا۔ مٹ] (۱) برت رکھنے والا (۲) وہ کائنات جس کا

تنگان ناقابل تبدیل ہو۔

برتنے پر رہنا (محاورہ) بھروسے پر رہنا۔ نازاں رہنا۔

برتنتر (۵۔ مٹ) ایک قسم کا جنگلی تہتر جس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے

برنج (Bridge) (بر۔ ا۔ ا [انگ۔ ا۔ مٹ] پل

برنج (۵۔ ا۔ مٹ) ستر کا علاقہ جس میں مٹھا۔ گولگل اور بندرا بن شامل ہیں

یہ کرشن جی کی پیدائش کا مقام ہے۔

برنج بھاشا۔ برنج بھاکا۔ برنج کی بولی چال۔ مٹھا اور بندرا بن کی زبان

برنج (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) گنبد۔ گنٹ (۲) اس یعنی ستارے کا مقام۔ دائرہ

آسمان کا نظری طور پر بارہواں حصہ۔ جمع۔ برنج۔

برنج آبی۔ تین برنجوں سے مراد ہے۔ برنج سلطان۔ برنج عقرب اور برنج

برنج آستی۔ برنج حمل۔ برنج اسد اور برنج قوس۔

برنج اسد۔ آسمان کا وہ حصہ جس میں چند ستارے مل کر شیر کی شکل میں

واقع ہیں اسد یعنی شیرا

برنج بادی۔ تین برنجوں سے مراد ہے۔ برنج جوزا، برنج میزان اور برنج دلو

برنج نور (ع۔ مٹ) وہ آسمانی برج جس کی شکل ہیل کی سی ہوتی ہے۔

برنج جدی۔ بکری کی شکل کا آسمانی برج۔

برنج جوزہ (ع۔ مٹ) دو چوڑوں کی شکل کا برج۔

برنج گل۔ آسمان کے برنجوں میں سے پہلا برج جس کی شکل بیڑھے کی

سی ہوتی ہے جس دن آفتاب اس برج میں آتا ہے۔ خرف آفتاب

بزنا ہے مادری فوروز کا دن ہے۔

برنج حوت (ع۔ مٹ) مچھلی کی شکل کا برج

برنج خاکی۔ تین برنجوں سے مراد ہے۔ ثور۔ سنبلہ اور جدی۔

برنج دلو (ع۔ مٹ) وہ برج جس کی شکل گھڑ یا ڈول اٹھائے ہوئے شخص کی ہے

برنج سرطان۔ وہ برج جس کی شکل کیڑے جیسی ہے۔

برنج سنبلہ (ع۔ مٹ) وہ برج جس کی شکل ایک کنواری لڑکی کی ہے۔

جواہتہ میں بالی لیے کھڑی ہے۔

برنج عقرب (ع۔ مٹ) وہ برج جس میں کسی ستارے کو عروج حاصل ہوتا ہے

برنج عقرب۔ بچھو کی شکل کا برج۔

برنج میزان۔ ترازو کی شکل کا برج۔

برنجی (بر۔ جی) [ا۔ مٹ] [ا۔ مٹ] برنج کی تصغیر۔ چھوٹا برنج۔

برجیس (بر۔ جیس) [ف۔ ا۔ مٹ] ایک ستارے کا نام جو چھوٹے آسمان پر

ہے۔ مشتری۔ قاضی فلک۔

برجھرا (ع۔ مٹ) درخت۔ پیڑ۔ پودا۔

برجھا (بر۔ بھا) [۵۔ ا۔ مٹ] بھالا۔ بلم۔ نیزہ

برجھک (بر۔ بھک) [۵۔ ا۔ مٹ] برج بھرب۔ آسمان کا آٹھواں برج

برجھول (بر۔ بھول) کھوڑے یا ہرن کا بہت تیز دوڑنا۔ اچھلنا۔

برجھی (بر۔ جھی) [۵۔ ا۔ مٹ] چھوٹا بھالا۔ بلم۔ نیزہ۔

برجھی (بر۔ جھی) [۵۔ ا۔ مٹ] برجھی کا کسی چیز کے پار ہونا۔

برہمی تانسا (مجاورہ) برہمی مارنے پر آمادہ ہونا۔ حملہ کرنے کے لیے تیار ہونا۔

برہمی تو لانا (مجاورہ) برہمی مارنے کی تیاری کرنا۔ آمادگی ظاہر کرنا۔ برہمی جگر کے پار ہونا (مجاورہ) برہمی لگنا۔ بے حد صدمہ ہونا۔

برہمی بھینسا (مجاورہ) برہمی لگنا۔ بہت صدمہ ہونا۔ برہمی چلنا (مجاورہ) برہمی سے دار ہونا۔

برہمی سیدھی کرنا۔ نسیبہ مارنے کو تیار ہونا۔ برہمی لگانا (۱۱) برہمی مارنا (۲) صدمہ پہنچانا۔ بہت تکلیف دینا۔

برہمییت (برہمی چھینٹ) (۵-۱۰) مذ [نیزہ باز۔ برہمی بھینے والا۔ بڑا (ع-۱) مذ] سوزی جاڑے کا موسم۔ کھڈک

بردا اطراف۔ موت کی سیر کی جس میں پہاڑ کے پانچ پاؤں سرد ہونے لگتے ہیں۔ بر داغ (۱۰-۱) مذ [ایک قسم کی چادر یا کلمی۔

بر دیانی۔ بین کی چادر۔

بر داغ (۱۰-۱) مذ [۱] لے جانے یا اٹھانے کا عمل (۲) نفع یافت۔ رشوت بالائی آمدنی (۳) شرط (۴) شطرنج کی بازی میں بادشاہ کا اکیلے جانا۔

بر داغ۔ بر داغ کئے والا۔ صابر۔ متحمل (یہ اردو ترکیب) بر دہاری۔ محل۔ صبر۔ برداشت۔ سہار۔

بر داغ مارنا۔ بازی جیتنا۔ (۲) رشوت لینا۔ فائدہ حاصل کرنا۔ بر دہ (بر-دہ) (۵-۱) مذ [غلام۔ داس۔ بندہ۔

بر دہ فروش۔ غلاموں کی تجارت کرنے والا۔ بر دھانی۔ بر دھوئی (بر-دھائی، بر-دھوئی) (۵-۱) مذ [دہ بازار جس میں لگنے بیل فروخت ہوتے ہیں۔

بر دھا (بر-ڈھا) (۱۵-۱۰) مذ [بریتی اور پتھر ملی زمین۔ بر دھا (۲) (مص) کسی چیز کا زیادہ خشک ہونے یا بوجھ تلے دب کر چھٹا ہو جانا۔ اٹھنا۔ (۲) غور کرنا۔

بر نغ (بر-نغ) (ع-۱) مذ [۱] آڑ-پڑ۔ روک (۲) مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ (۳) دو مخالف چیزوں کے درمیان کی چیز (۴) مصیبت اور آرام کا درمیان (۵) وہ عالم جس میں مرنے کے بعد سے قیامت اور عین نہیں کی۔ جمع بر نغ۔

بر نزن (بر-نزن) (۱-۱) مذ [کلی۔ کوچہ بازار۔ سڑک۔ برس (ب-ر) (۵-۱) مذ [۱] درشن۔ سال۔ سنہ۔ بارہ مہینے کی مدت زمین کا سورج کے گرد گھومنے کی مدت جو تقریباً ۳۶۵ دن ہے۔

برس برس کے دن۔ وہ خوشی یا جشن کا دن جو سال بھر کے بعد آتا ہے۔ سالانہ تہوار کا دن۔

برس بھر۔ سال بھر۔ برس کا ٹھہر۔ سالگرہ۔ بچے کی پیدائش کے سال یا درکھنے کے لیے ڈور سے میں ہر سال ایک گانٹھ لگانے کی رسم۔

برسوں بھلانا۔ عرصہ تک امیدوار رکھنا۔ برسوں بھگونا۔ ملکوں کسی امید میں رہنا۔ مدتوں کسی تلاش یا کوشش میں رہنا۔

برسوں کا مرض۔ پرانا مرض۔

برسوں کا فاصلہ۔ برسوں کی راہ (۱-۱) مذ [مٹا طویل راستہ۔ لمبی فاصلہ برسوں دن۔ ہر سال۔ سال میں ایک بار

برسا برس (بر-سا۔ برس) (۵-۱) مذ [تتابع فعل] ہر سال۔ سارا برس کئی سال برسات (بر-سات) (۵-۱) مذ [مٹا] بارش کا موسم۔ برکھارت۔

برسات برس کے سات (مثل) برسات کا لطف طیب ہے کہ شوہر پاس ہو۔

برسات کھا جانا (مجاورہ) برسات کا اثر قبول کرنا۔

برسات کی چاندنی (۱) مذ [نا پانچواں چیز۔

برساتی (بر-ساتی) (۵-۱) مذ [۱] گھوڑوں یا اونٹوں کی ایک سیڑھی جو برسات میں ہوجاتی ہے (۲) ساتیان (۳) وہ فصل جو برسات کے موسم میں تیار ہو یا پڑتی جائے (۴) بارش سے بچنے کا کوٹ (۵) (صف) برسات سے متعلق۔

برساتی پھنسیاں۔ وہ پھوڑے پھنسیاں جو برسات کے اثر سے ہوجاتی ہیں برساتی فصل۔ وہ غلہ جو برسات کی فصل میں تیار ہو۔

برسام (بر-سام) (۱-۱) مذ [چھاتی کی سوجن۔ بیسنے کا درد بھینچوں میں پانی بھر جانا۔

برسانا (بر-سانا) (۵-۱) (مص) [۱] بارش کرنا (۲) اناج کو ہوا میں اٹا کر بھوسا بنانا۔

برساؤ (بر-ساؤ) (۵-۱) (صف) [برسنے والا۔ برسنے کے لائق۔ برس پڑنا (بر-پڑنا) (۵-۱) (مص) [۱] گائیاں دینا۔ مارنے لگنا۔

برا بھلا کہنے لگنا۔ غصے ہونا (۲) مینہ کا ایک برسنا۔ برسنا (بر-رسنا) (۵-۱) (مص) [۱] مینہ پڑنا (۲) غصہ اتارنا بخفا ہونا۔

(۳) کسی شے کا کثرت سے ہونا۔ برسے ساون تو پانچ کے ہوں باون اٹیل، ساون میں اگر اچھی بارش ہو جائے تو فصل خوب ہوتی ہے۔

بر سوڑھی (بر-سوڑھی) (۵-۱) مذ [۱] سالانہ محصول یا کریر (۲) سالانہ آمدنی (۳) سالانہ شرح۔

برسی (بر-رسی) (۵-۱) مذ [مردے کے سال پورا ہونے کی فاتح خوانی۔ برسی۔ برسی (بر-رسی) (۵-۱) مذ [مردے کے سال پورا ہونے کی فاتح خوانی۔

برسی (بر-رسی) (۵-۱) مذ [مردے کے سال پورا ہونے کی فاتح خوانی۔ برسی (بر-رسی) (۵-۱) مذ [مردے کے سال پورا ہونے کی فاتح خوانی۔

برسی (بر-رسی) (۵-۱) مذ [مردے کے سال پورا ہونے کی فاتح خوانی۔ برسی (بر-رسی) (۵-۱) مذ [مردے کے سال پورا ہونے کی فاتح خوانی۔

برش (بر-رش) (۵-۱) مذ [ایک مرکب دوائی کا نام جس کا جزو اعظم فیون ہے۔ برش (Brush) (۱) مذ [۱] مٹا (۲) کوچی (۳) کپڑے وغیرہ صاف کرنے کے آلہ (۴) دانت صاف کرنے کے آلہ (۵) مٹا (۶) مٹا (۷) مٹا (۸) مٹا (۹) مٹا (۱۰) مٹا (۱۱) مٹا (۱۲) مٹا (۱۳) مٹا (۱۴) مٹا (۱۵) مٹا (۱۶) مٹا (۱۷) مٹا (۱۸) مٹا (۱۹) مٹا (۲۰) مٹا (۲۱) مٹا (۲۲) مٹا (۲۳) مٹا (۲۴) مٹا (۲۵) مٹا (۲۶) مٹا (۲۷) مٹا (۲۸) مٹا (۲۹) مٹا (۳۰) مٹا (۳۱) مٹا (۳۲) مٹا (۳۳) مٹا (۳۴) مٹا (۳۵) مٹا (۳۶) مٹا (۳۷) مٹا (۳۸) مٹا (۳۹) مٹا (۴۰) مٹا (۴۱) مٹا (۴۲) مٹا (۴۳) مٹا (۴۴) مٹا (۴۵) مٹا (۴۶) مٹا (۴۷) مٹا (۴۸) مٹا (۴۹) مٹا (۵۰) مٹا (۵۱) مٹا (۵۲) مٹا (۵۳) مٹا (۵۴) مٹا (۵۵) مٹا (۵۶) مٹا (۵۷) مٹا (۵۸) مٹا (۵۹) مٹا (۶۰) مٹا (۶۱) مٹا (۶۲) مٹا (۶۳) مٹا (۶۴) مٹا (۶۵) مٹا (۶۶) مٹا (۶۷) مٹا (۶۸) مٹا (۶۹) مٹا (۷۰) مٹا (۷۱) مٹا (۷۲) مٹا (۷۳) مٹا (۷۴) مٹا (۷۵) مٹا (۷۶) مٹا (۷۷) مٹا (۷۸) مٹا (۷۹) مٹا (۸۰) مٹا (۸۱) مٹا (۸۲) مٹا (۸۳) مٹا (۸۴) مٹا (۸۵) مٹا (۸۶) مٹا (۸۷) مٹا (۸۸) مٹا (۸۹) مٹا (۹۰) مٹا (۹۱) مٹا (۹۲) مٹا (۹۳) مٹا (۹۴) مٹا (۹۵) مٹا (۹۶) مٹا (۹۷) مٹا (۹۸) مٹا (۹۹) مٹا (۱۰۰) مٹا (۱۰۱) مٹا (۱۰۲) مٹا (۱۰۳) مٹا (۱۰۴) مٹا (۱۰۵) مٹا (۱۰۶) مٹا (۱۰۷) مٹا (۱۰۸) مٹا (۱۰۹) مٹا (۱۱۰) مٹا (۱۱۱) مٹا (۱۱۲) مٹا (۱۱۳) مٹا (۱۱۴) مٹا (۱۱۵) مٹا (۱۱۶) مٹا (۱۱۷) مٹا (۱۱۸) مٹا (۱۱۹) مٹا (۱۲۰) مٹا (۱۲۱) مٹا (۱۲۲) مٹا (۱۲۳) مٹا (۱۲۴) مٹا (۱۲۵) مٹا (۱۲۶) مٹا (۱۲۷) مٹا (۱۲۸) مٹا (۱۲۹) مٹا (۱۳۰) مٹا (۱۳۱) مٹا (۱۳۲) مٹا (۱۳۳) مٹا (۱۳۴) مٹا (۱۳۵) مٹا (۱۳۶) مٹا (۱۳۷) مٹا (۱۳۸) مٹا (۱۳۹) مٹا (۱۴۰) مٹا (۱۴۱) مٹا (۱۴۲) مٹا (۱۴۳) مٹا (۱۴۴) مٹا (۱۴۵) مٹا (۱۴۶) مٹا (۱۴۷) مٹا (۱۴۸) مٹا (۱۴۹) مٹا (۱۵۰) مٹا (۱۵۱) مٹا (۱۵۲) مٹا (۱۵۳) مٹا (۱۵۴) مٹا (۱۵۵) مٹا (۱۵۶) مٹا (۱۵۷) مٹا (۱۵۸) مٹا (۱۵۹) مٹا (۱۶۰) مٹا (۱۶۱) مٹا (۱۶۲) مٹا (۱۶۳) مٹا (۱۶۴) مٹا (۱۶۵) مٹا (۱۶۶) مٹا (۱۶۷) مٹا (۱۶۸) مٹا (۱۶۹) مٹا (۱۷۰) مٹا (۱۷۱) مٹا (۱۷۲) مٹا (۱۷۳) مٹا (۱۷۴) مٹا (۱۷۵) مٹا (۱۷۶) مٹا (۱۷۷) مٹا (۱۷۸) مٹا (۱۷۹) مٹا (۱۸۰) مٹا (۱۸۱) مٹا (۱۸۲) مٹا (۱۸۳) مٹا (۱۸۴) مٹا (۱۸۵) مٹا (۱۸۶) مٹا (۱۸۷) مٹا (۱۸۸) مٹا (۱۸۹) مٹا (۱۹۰) مٹا (۱۹۱) مٹا (۱۹۲) مٹا (۱۹۳) مٹا (۱۹۴) مٹا (۱۹۵) مٹا (۱۹۶) مٹا (۱۹۷) مٹا (۱۹۸) مٹا (۱۹۹) مٹا (۲۰۰) مٹا (۲۰۱) مٹا (۲۰۲) مٹا (۲۰۳) مٹا (۲۰۴) مٹا (۲۰۵) مٹا (۲۰۶) مٹا (۲۰۷) مٹا (۲۰۸) مٹا (۲۰۹) مٹا (۲۱۰) مٹا (۲۱۱) مٹا (۲۱۲) مٹا (۲۱۳) مٹا (۲۱۴) مٹا (۲۱۵) مٹا (۲۱۶) مٹا (۲۱۷) مٹا (۲۱۸) مٹا (۲۱۹) مٹا (۲۲۰) مٹا (۲۲۱) مٹا (۲۲۲) مٹا (۲۲۳) مٹا (۲۲۴) مٹا (۲۲۵) مٹا (۲۲۶) مٹا (۲۲۷) مٹا (۲۲۸) مٹا (۲۲۹) مٹا (۲۳۰) مٹا (۲۳۱) مٹا (۲۳۲) مٹا (۲۳۳) مٹا (۲۳۴) مٹا (۲۳۵) مٹا (۲۳۶) مٹا (۲۳۷) مٹا (۲۳۸) مٹا (۲۳۹) مٹا (۲۴۰) مٹا (۲۴۱) مٹا (۲۴۲) مٹا (۲۴۳) مٹا (۲۴۴) مٹا (۲۴۵) مٹا (۲۴۶) مٹا (۲۴۷) مٹا (۲۴۸) مٹا (۲۴۹) مٹا (۲۵۰) مٹا (۲۵۱) مٹا (۲۵۲) مٹا (۲۵۳) مٹا (۲۵۴) مٹا (۲۵۵) مٹا (۲۵۶) مٹا (۲۵۷) مٹا (۲۵۸) مٹا (۲۵۹) مٹا (۲۶۰) مٹا (۲۶۱) مٹا (۲۶۲) مٹا (۲۶۳) مٹا (۲۶۴) مٹا (۲۶۵) مٹا (۲۶۶) مٹا (۲۶۷) مٹا (۲۶۸) مٹا (۲۶۹) مٹا (۲۷۰) مٹا (۲۷۱) مٹا (۲۷۲) مٹا (۲۷۳) مٹا (۲۷۴) مٹا (۲۷۵) مٹا (۲۷۶) مٹا (۲۷۷) مٹا (۲۷۸) مٹا (۲۷۹) مٹا (۲۸۰) مٹا (۲۸۱) مٹا (۲۸۲) مٹا (۲۸۳) مٹا (۲۸۴) مٹا (۲۸۵) مٹا (۲۸۶) مٹا (۲۸۷) مٹا (۲۸۸) مٹا (۲۸۹) مٹا (۲۹۰) مٹا (۲۹۱) مٹا (۲۹۲) مٹا (۲۹۳) مٹا (۲۹۴) مٹا (۲۹۵) مٹا (۲۹۶) مٹا (۲۹۷) مٹا (۲۹۸) مٹا (۲۹۹) مٹا (۳۰۰) مٹا (۳۰۱) مٹا (۳۰۲) مٹا (۳۰۳) مٹا (۳۰۴) مٹا (۳۰۵) مٹا (۳۰۶) مٹا (۳۰۷) مٹا (۳۰۸) مٹا (۳۰۹) مٹا (۳۱۰) مٹا (۳۱۱) مٹا (۳۱۲) مٹا (۳۱۳) مٹا (۳۱۴) مٹا (۳۱۵) مٹا (۳۱۶) مٹا (۳۱۷) مٹا (۳۱۸) مٹا (۳۱۹) مٹا (۳۲۰) مٹا (۳۲۱) مٹا (۳۲۲) مٹا (۳۲۳) مٹا (۳۲۴) مٹا (۳۲۵) مٹا (۳۲۶) مٹا (۳۲۷) مٹا (۳۲۸) مٹا (۳۲۹) مٹا (۳۳۰) مٹا (۳۳۱) مٹا (۳۳۲) مٹا (۳۳۳) مٹا (۳۳۴) مٹا (۳۳۵) مٹا (۳۳۶) مٹا (۳۳۷) مٹا (۳۳۸) مٹا (۳۳۹) مٹا (۳۴۰) مٹا (۳۴۱) مٹا (۳۴۲) مٹا (۳۴۳) مٹا (۳۴۴) مٹا (۳۴۵) مٹا (۳۴۶) مٹا (۳۴۷) مٹا (۳۴۸) مٹا (۳۴۹) مٹا (۳۵۰) مٹا (۳۵۱) مٹا (۳۵۲) مٹا (۳۵۳) مٹا (۳۵۴) مٹا (۳۵۵) مٹا (۳۵۶) مٹا (۳۵۷) مٹا (۳۵۸) مٹا (۳۵۹) مٹا (۳۶۰) مٹا (۳۶۱) مٹا (۳۶۲) مٹا (۳۶۳) مٹا (۳۶۴) مٹا (۳۶۵) مٹا (۳۶۶) مٹا (۳۶۷) مٹا (۳۶۸) مٹا (۳۶۹) مٹا (۳۷۰) مٹا (۳۷۱) مٹا (۳۷۲) مٹا (۳۷۳) مٹا (۳۷۴) مٹا (۳۷۵) مٹا (۳۷۶) مٹا (۳۷۷) مٹا (۳۷۸) مٹا (۳۷۹) مٹا (۳۸۰) مٹا (۳۸۱) مٹا (۳۸۲) مٹا (۳۸۳) مٹا (۳۸۴) مٹا (۳۸۵) مٹا (۳۸۶) مٹا (۳۸۷) مٹا (۳۸۸) مٹا (۳۸۹) مٹا (۳۹۰) مٹا (۳۹۱) مٹا (۳۹۲) مٹا (۳۹۳) مٹا (۳۹۴) مٹا (۳۹۵) مٹا (۳۹۶) مٹا (۳۹۷) مٹا (۳۹۸) مٹا (۳۹۹) مٹا (۴۰۰) مٹا (۴۰۱) مٹا (۴۰۲) مٹا (۴۰۳) مٹا (۴۰۴) مٹا (۴۰۵) مٹا (۴۰۶) مٹا (۴۰۷) مٹا (۴۰۸) مٹا (۴۰۹) مٹا (۴۱۰) مٹا (۴۱۱) مٹا (۴۱۲) مٹا (۴۱۳) مٹا (۴۱۴) مٹا (۴۱۵) مٹا (۴۱۶) مٹا (۴۱۷) مٹا (۴۱۸) مٹا (۴۱۹) مٹا (۴۲۰) مٹا (۴۲۱) مٹا (۴۲۲) مٹا (۴۲۳) مٹا (۴۲۴) مٹا (۴۲۵) مٹا (۴۲۶) مٹا (۴۲۷) مٹا (۴۲۸) مٹا (۴۲۹) مٹا (۴۳۰) مٹا (۴۳۱) مٹا (۴۳۲) مٹا (۴۳۳) مٹا (۴۳۴) مٹا (۴۳۵) مٹا (۴۳۶) مٹا (۴۳۷) مٹا (۴۳۸) مٹا (۴۳۹) مٹا (۴۴۰) مٹا (۴۴۱) مٹا (۴۴۲) مٹا (۴۴۳) مٹا (۴۴۴) مٹا (۴۴۵) مٹا (۴۴۶) مٹا (۴۴۷) مٹا (۴۴۸) مٹا (۴۴۹) مٹا (۴۵۰) مٹا (۴۵۱) مٹا (۴۵۲) مٹا (۴۵۳) مٹا (۴۵۴) مٹا (۴۵۵) مٹا (۴۵۶) مٹا (۴۵۷) مٹا (۴۵۸) مٹا (۴۵۹) مٹا (۴۶۰) مٹا (۴۶۱) مٹا (۴۶۲) مٹا (۴۶۳) مٹا (۴۶۴) مٹا (۴۶۵) مٹا (۴۶۶) مٹا (۴۶۷) مٹا (۴۶۸) مٹا (۴۶۹) مٹا (۴۷۰) مٹا (۴۷۱) مٹا (۴۷۲) مٹا (۴۷۳) مٹا (۴۷۴) مٹا (۴۷۵) مٹا (۴۷۶) مٹا (۴۷۷) مٹا (۴۷۸) مٹا (۴۷۹) مٹا (۴۸۰) مٹا (۴۸۱) مٹا (۴۸۲) مٹا (۴۸۳) مٹا (۴۸۴) مٹا (۴۸۵) مٹا (۴۸۶) مٹا (۴۸۷) مٹا (۴۸۸) مٹا (۴۸۹) مٹا (۴۹۰) مٹا (۴۹۱) مٹا (۴۹۲) مٹا (۴۹۳) مٹا (۴۹۴) مٹا (۴۹۵) مٹا (۴۹۶) مٹا (۴۹۷) مٹا (۴۹۸) مٹا (۴۹۹) مٹا (۵۰۰) مٹا (۵۰۱) مٹا (۵۰۲) مٹا (۵۰۳) مٹا (۵۰۴) مٹا (۵۰۵) مٹا (۵۰۶) مٹا (۵۰۷) مٹا (۵۰۸) مٹا (۵۰۹) مٹا (۵۱۰) مٹا (۵۱۱) مٹا (۵۱۲) مٹا (۵۱۳) مٹا (۵۱۴) مٹا (۵۱۵) مٹا (۵۱۶) مٹا (۵۱۷) مٹا (۵۱۸) مٹا (۵۱۹) مٹا (۵۲۰) مٹا (۵۲۱) مٹا (۵۲۲) مٹا (۵۲۳) مٹا (۵۲۴) مٹا (۵۲۵) مٹا (۵۲۶) مٹا (۵۲۷) مٹا (۵۲۸) مٹا (۵۲۹) مٹا (۵۳۰) مٹا (۵۳۱) مٹا (۵۳۲) مٹا (۵۳۳) مٹا (۵۳۴) مٹا (۵۳۵) مٹا (۵۳۶) مٹا (۵۳۷) مٹا (۵۳۸) مٹا (۵۳۹) مٹا (۵۴۰) مٹا (۵۴۱) مٹا (۵۴۲) مٹا (۵۴۳) مٹا (۵۴۴) مٹا (۵۴۵) مٹا (۵۴۶) مٹا (۵۴۷) مٹا (۵۴۸) مٹا (۵۴۹) مٹا (۵۵۰) مٹا (۵۵۱) مٹا (۵۵۲) مٹا (۵۵۳) مٹا (۵۵۴) مٹا (۵۵۵) مٹا (۵۵۶) مٹا (۵۵۷) مٹا (۵۵۸) مٹا (۵۵۹) مٹا (۵۶۰) مٹا (۵۶۱) مٹا (۵۶۲) مٹا (۵۶۳) مٹا (۵۶۴) مٹا (۵۶۵) مٹا (۵۶۶) مٹا (۵۶۷) مٹا (۵۶۸) مٹا (۵۶۹) مٹا (۵۷۰) مٹا (۵۷۱) مٹا (۵۷۲) مٹا (۵۷۳) مٹا (۵۷۴) مٹا (۵۷۵) مٹا (۵۷۶) مٹا (۵۷۷) مٹا (۵۷۸) مٹا (۵۷۹) مٹا (۵۸۰) مٹا (۵۸۱) مٹا (۵۸۲) مٹا (۵۸۳) مٹا (۵۸۴) مٹا (۵۸۵) مٹا (۵۸۶) مٹا (۵۸۷) مٹا (۵۸۸) مٹا (۵۸۹) مٹا (۵۹۰) مٹا (۵۹۱) مٹا (۵۹۲) مٹا (۵۹۳) مٹا (۵۹۴) مٹا (۵۹۵) مٹا (۵۹۶) مٹا (۵۹۷) مٹا (۵۹۸) مٹا (۵۹۹) مٹا (۶۰۰) مٹا (۶۰۱) مٹا (۶۰۲) مٹا (۶۰۳) مٹا (۶۰۴) مٹا (۶۰۵) مٹا (۶۰۶) مٹا (۶۰۷) مٹا (۶۰۸) مٹا (۶۰۹) مٹا (۶۱۰) مٹا (۶۱۱) مٹا (۶۱۲) مٹا (۶۱۳) مٹا (۶۱۴) مٹا (۶۱۵) مٹا (۶۱۶) مٹا (۶۱۷) مٹا (۶۱۸) مٹا (۶۱۹) مٹا (۶۲۰) مٹا (۶۲۱) مٹا (۶۲۲) مٹا (۶۲۳) مٹا (۶۲۴) مٹا (۶۲۵) مٹا (۶۲۶) مٹا (۶۲۷) مٹا (۶۲۸) مٹا (۶۲۹) مٹا (۶۳۰) مٹا (۶۳۱) مٹا (۶۳۲) مٹا (۶۳۳) مٹا (۶۳۴) مٹا (۶۳۵) مٹا (۶۳۶) مٹا (۶۳۷) مٹا (۶۳۸) مٹا (۶۳۹) مٹا (۶۴۰) مٹا (۶۴۱) مٹا (۶۴۲) مٹا (۶۴۳) مٹا (۶۴۴) مٹا (۶۴۵) مٹا (۶۴۶) مٹا (۶۴۷) مٹا (۶۴۸) مٹا (۶۴۹) مٹا (۶۵۰) مٹا (۶۵۱) مٹا (۶۵۲) مٹا (۶۵۳) مٹا (۶۵۴) مٹا (۶۵۵) مٹا (۶۵۶) مٹا (۶۵۷) مٹا (۶۵۸) مٹا (۶۵۹) مٹا (۶۶۰) مٹا (۶۶۱) مٹا (۶۶۲) مٹا (۶۶۳) مٹا (۶۶۴) مٹا (۶۶۵) مٹا (۶۶۶) مٹا (۶۶۷) مٹا (۶۶۸) مٹا (۶۶۹) مٹا (۶۷۰) مٹا (۶۷۱) مٹا (۶۷۲) مٹا (۶۷۳) مٹا (۶۷۴) مٹا (۶۷۵) مٹا (۶۷۶) مٹا (۶۷۷) مٹا (۶۷۸) مٹا (۶۷۹) مٹا (۶۸۰) مٹا (۶۸۱) مٹا (۶۸۲) مٹا (۶۸۳) مٹا (۶۸۴) مٹا (۶۸۵) مٹا (۶۸۶) مٹا (۶۸۷) مٹا (۶۸۸) مٹا (۶۸۹) مٹا (۶۹۰) مٹا (۶۹۱) مٹا (۶۹۲) مٹا (۶۹۳) مٹا (۶۹۴) مٹا (۶۹۵) مٹا (۶۹۶) مٹا (۶۹۷) مٹا (۶۹۸) مٹا (۶۹۹) مٹا (۷۰۰) مٹا (۷۰۱) مٹا (۷۰۲) مٹا (۷۰۳) مٹا (۷۰۴) مٹا (۷۰۵) مٹا (۷۰۶) مٹا (۷۰۷) مٹا (۷۰۸) مٹا (۷۰۹) مٹا (۷۱۰) مٹا (۷۱۱) مٹا (۷۱۲) مٹا (۷۱۳) مٹا (۷۱۴) مٹا (۷۱۵) مٹا (۷۱۶) مٹا (۷۱۷) مٹا (۷۱۸) مٹا (۷۱۹) مٹا (۷۲۰) مٹا (۷۲۱) مٹا (۷۲۲) مٹا (۷۲۳) مٹا (۷۲۴) مٹا (۷۲۵) مٹا (۷۲۶) مٹا (۷۲۷) مٹا (۷۲۸) مٹا (۷۲۹) مٹا (۷۳۰) مٹا (۷۳۱) مٹا (۷۳۲) مٹا (۷۳۳) مٹا (۷۳۴) مٹا (۷۳۵) مٹا (۷۳۶) مٹا (۷۳۷) مٹا (۷۳۸) مٹا (۷۳۹) مٹا (۷۴۰) مٹا (۷۴۱) مٹا (۷۴۲) مٹا (۷۴۳) مٹا (۷۴۴) مٹا (۷۴۵) مٹا (۷۴۶) مٹا (۷۴۷) مٹا (۷۴۸) مٹا (۷۴۹) مٹا (۷۵۰) مٹا (۷۵۱) مٹا (۷۵۲) مٹا (۷۵۳) مٹا (۷۵۴) مٹا (۷۵۵) مٹا (۷۵۶) مٹا (۷۵۷) مٹا (۷۵۸) مٹا (۷۵۹) مٹا (۷۶۰) مٹا (۷۶۱) مٹا (۷۶۲) مٹا (۷۶۳) مٹا (۷۶۴) مٹا (۷۶۵) مٹا (۷۶۶) مٹا (۷۶۷) مٹا (۷۶۸) مٹا (۷۶۹) مٹا (۷۷۰) مٹا (۷۷۱) مٹا (۷۷۲) مٹا (۷۷۳) مٹا (۷۷۴) مٹا (۷۷۵) مٹا (۷۷۶) مٹا (۷۷۷) مٹا (۷۷۸) مٹا (۷۷۹) مٹا (۷۸۰) مٹا (۷۸۱) مٹا (۷۸۲) مٹا (۷۸۳) مٹا (۷۸۴) مٹا (۷۸۵) مٹا (۷۸۶) مٹا (۷۸۷) مٹا (۷۸۸) مٹا (۷۸۹) مٹا (۷۹۰) مٹا (۷۹۱) مٹا (۷۹۲) مٹا (۷۹۳) مٹا (۷۹۴) مٹا (۷۹۵) مٹا (۷۹۶) مٹا (۷۹۷) مٹا (۷۹۸) مٹا (۷۹۹) مٹا (۸۰۰) مٹا (۸۰۱) مٹا (۸۰۲) مٹا (۸۰۳) مٹا (۸۰۴) مٹا (۸۰۵) مٹا (۸۰۶) مٹا (۸۰۷) مٹا (۸۰۸) مٹا (۸۰۹) مٹا (۸۱۰) مٹا (۸۱۱) مٹا (۸۱۲) مٹا (۸۱۳) مٹا (۸۱۴) مٹا (۸۱۵) مٹا (۸۱۶) مٹا (۸۱۷) مٹا (۸۱۸) مٹا (۸۱۹) مٹا (۸۲۰) مٹا (۸۲۱) مٹا (۸۲۲) مٹا (۸۲۳) مٹا (۸۲۴) مٹا (۸۲۵) مٹا (۸۲۶) مٹا (۸۲۷) مٹا (۸۲۸) مٹا (۸۲۹) مٹا (۸۳۰) مٹا (۸۳۱) مٹا (۸۳۲) مٹا (۸۳۳) مٹا (۸۳۴) مٹا (۸۳۵) مٹا (۸۳۶) مٹا (۸۳۷) مٹا (۸۳۸) مٹا (۸۳۹) مٹا (۸۴۰) مٹا (۸۴۱) مٹا (۸۴۲) مٹا (۸۴۳) مٹا (۸۴۴) مٹا (۸۴۵) مٹا (۸۴۶) مٹا (۸۴۷) مٹا (۸۴۸) مٹا (۸۴۹) مٹا (۸۵۰) مٹ













بڑھ کے لینا (مجاورہ) پیشوائی کرنا۔  
 بڑھا ہوا ہے۔ بڑھا ہوا [۱۰۔ بند اپیری۔ کہن سالی۔ پیرانہ سالی۔  
 بڑھاپہ بڑھا (۱۔ صفت) نامی گرامی۔ زیادہ اچھا۔ بالائے۔  
 بڑھا چڑھا کر۔ مبالغہ کے ساتھ۔  
 بڑھا دینا [۱۔ ہص] آگے کھسکانا (۲) بچھارنا۔  
 بڑھا رہا ہے۔ بڑھا رہا [۱۔ منٹ] دلہن والوں کی طرف سے رخصتی کی دعوت  
 بڑھانا (۱۔ بڑھانا) [۱۔ ہص] زیادہ کرنا۔ بڑا کرنا (۲) لمبا کرنا۔  
 (۳) پھیلانا (۴) کھینچنا (۵) بلند کرنا۔ اونچا کرنا (۶) ترقی کرنا (۷) آگے  
 لانا نزدیک کرنا (۸) تعریف میں مبالغہ کرنا (۹) امیر کرنا۔ دولت مند  
 کرنا (۱۰) اٹھانا۔ اتارنا (۱۱) چراغ بچھانا (۱۲) کنگو یا پتنگ کو اونچا  
 کرنا (۱۳) دسترخوان سامنے سے اٹھانا۔  
 بڑھاوا (۱۔ بڑھاوا) [۱۔ منٹ] (۱) زیادتی (۲) جھوٹی تعریف (۳)  
 لوجھ۔ لالچ (۴) خوشامد ۵۱ دام۔ فریب۔  
 بڑھاوا دینا (مجاورہ) جھوٹی ہمت باندھنا لالچ دینا۔ جھوٹی تعریف  
 کر کے کسی کام پر آمادہ کرنا۔  
 بڑھاوے میں آنا (مجاورہ) خوشامد میں آنا۔ دھوکے میں آنا تعریف  
 پر بھولنا۔  
 بڑھاؤ (ب۔ بڑھاؤ) [۱۔ منٹ] زیادتی۔ ترقی۔  
 بڑھتی (بڑھتی) [۱۔ ہص] معمول سے زیادہ فاضل۔ فائز (۲)  
 بڑھتی دولت۔ ترقی کرنے والی دولت۔  
 بڑھتی کاہرا۔ ترقی کے دن۔ بہتری کا زمانہ۔  
 بڑھتی منانا۔ ترقی چاہنا۔  
 بڑھل (بڑھل) [۱۔ منٹ] ایک درخت کا نام جس کا پھل گول اور  
 زرد ہوتا ہے۔  
 بڑھنا (بڑھنا) [۱۔ ہص] (۱) بلند ہونا۔ اونچا ہونا (۲) حجم اور ضخامت  
 میں زیادہ ہونا (۳) لمبا ہونا۔ دماغ ہونا (۴) حد سے گزرنے (۵) زیادہ  
 ہونا بچنا۔ فائز ہونا (۶) ترقی کرنا (۷) امیر ہونا (۸) آگے بڑھنا (۹)  
 نفع ہونا (۱۱) چراغ نکل ہونا (۱۲) دکان بند ہونا۔  
 بڑھنت (ب۔ بڑھنت) [۱۔ منٹ] زیادتی۔ اضافہ۔ افزونی۔  
 بڑھو (بڑھو) [۱۔ ہص] بڑھنا۔  
 بڑھو (بڑھو) [۱۔ منٹ] مدرس کا ایک میڈیو منگل کو لگتا ہے۔  
 بڑھو تری (ب۔ بڑھو تری) [۱۔ منٹ] (۱) زیادتی۔ جیشی (۲)  
 سناٹ (۳) ترقی۔ افزونی۔  
 بڑھوئی (ب۔ بڑھوئی) [۱۔ منٹ] بڑھنا۔  
 بڑھوئی (ب۔ بڑھوئی) [۱۔ منٹ] (۱) بھار۔ ترکھان (۲) ایک پرند۔  
 کھٹ بڑھوئی۔  
 بڑھیا (بڑھیا) [۱۔ ہص] اعلیٰ درجے کا اعلیٰ رتھ کا بہت عمدہ پیش قیمت  
 بڑھیا (بڑھیا) [۱۔ ہص] (۱) بڑھوئی بڑھوئی عورت۔ کہن سار  
 (۲) آگ کے ڈوڑھے کی روٹی۔

بڑھیا آنت کی پٹیا۔ تختہ انجیز بوڑھی عورت۔ بگٹی۔  
 بڑھیا دیوانی ہونی پیر کے برتن اٹھانے کی (۱) ایشل بڑھیا کو دیوانگی  
 میں تھی اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ مطلب کی دیوانی ہے۔  
 بڑھیا کا کاتا۔ ایک قسم کی چمچ دار مٹھائی  
 بڑھیا امری تو مری فرشتوں نے ہر رکھ لیا۔ (۱) ایشل ایک بار کا نقصان  
 آئندہ کے خطروں کی تہید ہے۔  
 بڑھیل (ب۔ بڑھیل) [۱۔ ہص] حقیر بہت بوڑھی عورت۔  
 بڑھی (ب۔ بڑھی) [۱۔ ہص] بڑا کی تائیت۔ بزرگ (۲) [۱۔ منٹ]  
 مونگ یا لڑکی دال سے بنی ہوئی ٹکڑی جس کا ساکن رکھتے ہیں۔  
 بڑھی آکروٹے گز گئی (۱۱) فقہ (۱۲) بڑھی عزت سے وقت گزر گیا۔  
 بڑھی آنت۔ وہ آنت جس سے فضلہ خارج ہوتا ہے۔  
 بڑھی اسامی (۱۔ منٹ) مالدار شخصیت امیر ہستی۔  
 بڑھی الہی (۱۔ منٹ) سیاہی مائل سرخ الہی جو گرم مصالحے میں  
 استعمال ہوتی ہے۔  
 بڑھی بات (۱۔ منٹ) امر حال مشکل (۲) عمدہ اور اچھی بات۔  
 بڑھی بات نہیں۔ کچھ مشکل نہیں۔ آسان ہے۔  
 بڑھی بڑھی باتیں کرنا (مجاورہ) بہت کچھ کہنا۔ بڑھا بھلا کہنا۔  
 بڑھی بڑھی زبانیں ہونا (مجاورہ) (۱) بدزبانی کی عادت ہونا (۲)  
 زبان درازی کرنا۔  
 بڑھی بڑھی (مجاورہ) بہت ہوا تر۔ بہت کوشش ہوئی تو  
 زیادہ سے زیادہ ہوا تو۔  
 بڑھی بوڑھی (۱۔ منٹ) زیادہ عمر کی۔ تجربہ کار عورت۔  
 بڑھی بہو (۱۱) بڑھے بیٹی کی بیوی۔ بڑھی دھن (۱۲) بھنگڑا [۱] بیوقوف اور  
 بڑھی بہو کو بلاؤ سو کھیر میں (نون) نمک ڈالے (۱) ایشل آباد جو بڑھی  
 عمر ہونے کے ناجزبہ کاری کے کام پر ہوتے ہیں۔ یعنی فلاں کام خراب  
 کرنے میں مشہور ہے۔  
 بڑھی بی (ب۔ بڑھی بی) بوڑھی عورت۔  
 بڑھی پونچھ کا آدمی (طنز) مفرد شخص۔  
 بڑھی پونچھ کھیر سے (مجاورہ) بڑھا مشکل کام ہے۔  
 بڑھی چیز (۱) قرآن شریف (۲) غیر معمولی (۳) قیمتی (۴) طویل جسمیم۔ عزیز  
 بھاری۔ قیمتی چیز (۵) نایاب۔ قابل تعریف۔  
 بڑھی چیز اٹھانا۔ بڑھی چیز پر ہاتھ رکھنا (۱) قرآن شریف کی قسم اٹھانا۔  
 حلف اٹھانا (۲) قیمتی چیز لینا یا پسند کرنا (۳) دنی چیز یا قیمتی چیز  
 کو بڑھانا (۴) نایاب اور قابل تعریف چیز ہاتھ میں لینا (۵) مشکل کام  
 کی ذمہ داری لینا (۶) دولت مند سامی کو قابو کرنا۔  
 بڑھی خیر گزری یا ہوئی (۱) فقہ (۲) اچھا ہوا۔ بہتر ہوا۔ کسی ناگہانی  
 سے بچ جانے پر کہا جاتا ہے۔  
 بڑھی دوسری بات ہے۔ (مجاورہ) عقل مندی اور دماغی نشی کی بات  
 ہے۔ تہ کی بات ہے۔ (۲) مشکل ہے۔  
 بڑھی دودھ کی سوچنا (نہایت) اچھا خیال آنا۔









بطبخ [بط - طبخ [ع. ر. مذ] آخر روزہ - تربوز  
بطین [ع. تم] نجوم) یکھتر یا منزل بھرنی (۲۱) توند بلا ٹریڈیو -

## ب.ع

بعث [ع. ا. مذ] (۱۱) بھیجا پیغام پر بھیجا (۲۱) اٹھانا اُبھارنا (۳۱) اُردے  
کوزہ کرنا (۴۱) فوج جو بھیجی جائے ۵۱ قیامت -  
بعث و نشر - روز قیامت جس روز انسان قبروں سے اٹھائے جائیگے  
اور پھر پھیلا دیے جائیں گے انشر یعنی بھیرنا - پھیلانا  
بعثت [بع - ثت] [ع. ا. مذ] (۱) رسالت - پیغمبر کا جیسا جانا (۲۱)  
رسالت کا زمانہ خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا -  
بعد [ع.] پیچھے - آخر -  
بعد از خرابی بسیار اتا بڑی خرابی کے بعد بڑی مشکل سے -  
بعد از مرگ و او ایلات - مثل کسی کام کے ہو جانے کے بعد شور مچانا  
بعد [ع. ا. مذ] دوری - فاصلہ مسافت - جمع ابعاد  
بعد المشرفین - یورپ پیچم کی دردی - بہت زیادہ فرق -  
بعده [ع. ا. مذ] متعلق فعل اس کے بعد -  
بعض [ع. صفت] چند - متعدد - مختلف - کوئی -  
بعض اوقات [ع. ا. مذ] کسی وقت - کبھی کبھار  
بعل [ع. مذ] عربوں کا ایک دیوتا تھا (۲۱) خاندن - مالک  
بعید اب - بعید [ع. صفت] دور - فاصلے پر - علیحدہ -  
بعید از ہم - خیال - قیاس [ع. ا. مذ] وہ بات جو خیال میں بھی نہ آسکے  
بعید العقل - عقل کے خلاف سمجھ میں نہ آنے والا -  
بعید القیاس - قیاس کے خلاف -  
بعبر [ع. مذ] اونٹ -

## ب.غ

بغارہ [ب. غا. ر. ا. ف. ا. مذ] (۱۰) رختہ - کپڑے یا دیوار کا بڑا چھیدا  
گہرا نرم گھاؤ -  
بغال [ب. غا. ل] [ع. ا. مذ] بغل کی جمع - بہت سے چمڑے -  
بغاوت [ب. غا. و. ت] [ع. ا. مذ] (۱۱) سرکشی - نافرمانی - سرتابی -  
(۱۲) بلوہ - غدر -  
بعثاً [بع - ث] [ع. ا. مذ] غیب - بھٹوڑی کے نیچے کے وہ بل  
جو اکثر فریبی کے باعث پڑ جاتے ہیں -  
بعثتاً [بع - ث] [ع. ا. مذ] (۱) مسرت ہونا خاص کر کبوتر  
یا اونٹ کے مسرت ہو کر بولنے کی نسبت کہتے ہیں شہوت میں آنا  
(۲) چمڑا کرنا -

بغیر [بع - ر. ج. ا. ت. ا. مذ] بقیہ - گھڑی  
بغی [بع - ج. ا. ا. ر. ا. مذ] بغیر کی تائید - چھوٹی گھڑی - بڑھی  
بغدا [بع - ا. ا. ف. ا. مذ] نصابوں کا قلم کوٹنے کا چھرا -  
بغدی [بع - ا. ا. ف. ا. مذ] ایک اعلیٰ نسل کا اونٹ -  
بغرا [بع - ر. ا. ا. ف. ا. مذ] وہ پھین جو اونٹ کے منہ سے سستی میں  
نکلتی ہے -

بغض [بع - ا. ا. ف. ا. مذ] نفرت - عداوت - دشمنی - کینہ - حسد -  
بغض للہی - خدا واسطے کا بیزاری کی دشمنی -  
بغضنی [بع - ضنی] [ع. ا. ف. صفت] بغض رکھنے والا - کینہ دار -  
بغل [ع. ا. ف. ا. ر. ا. مذ] (۱۱) شانے کے نیچے کا حصہ (۲) پلو بارو  
کنارہ - طرف - جانب - گردن (۳) برابر ایک طرف -  
بغل بلالی [ع. ا. ف. ا. ر. ا. مذ] بغل کا چھوٹا ٹکڑا - عورتوں کا خیال ہے  
کہ بھئی چھوڑے کو بلی چاٹ لے تو اچھا ہو جاتا ہے -  
بغل بجانا - محاورہ خوشی منانا (۲) مضحکہ اڑانا -  
بغل پروردہ [ع. ا. ف. صفت] گودیوں میں پلا ہوا - لاڈلا -  
بغل سونگھنا (محاورہ) پیشیمان ہونا - تر مند ہونا - متلی دور کرنے کے لیے  
بغل سونگھتے ہیں -

بغل کا پھوڑا [ع. ا. ف. ا. مذ] بغل میں نکلنے والا پھوڑا (۲) ایذا پہنچانے  
پر دلاؤ دیکھ دینے والا -

بغل کا دشمن - دغا باز یا ر - دوست نما دشمن - استہین کا سانپ -  
بغل گرم کرنا (محاورہ) پلو میں لیٹنا - ساخنہ سونا -  
بغل لگند - بغل کی بدبو جو ایک بیماری ہے -  
بغل کیسے ہونا (محاورہ) اگلے لگنا - ہم آغوش ہونا -  
بغل کیسی (۱) گلے ملنا - سینہ بہ سینہ ملنا (۲) کشتی کے ایک دلو کا نام  
بغل میں ایمان دانا (محاورہ) ایمان کو بالائے طاق رکھنا - بدویا نئی کرنا  
بغل میں لیٹنا (محاورہ) کسی کے پلو میں لیٹنا  
بغل میں پرورش (محاورہ) کسی کی حمایت حاصل ہونا -  
بغل میں چھری منہ میں رام رام (منش) ظاہر میں دوست - باطن میں دشمن  
بغل میں دانا (۱) کسی چیز کو بغل میں چھپانا (۲) فریب دے کر  
کسی چیز پر تصرف کرنا (۳) بغل میں سنبھالنا -

بغل میں سونگھنا نام غریب واس (۱) میں جو شکل و صورت سے تو  
مشابہت معلوم ہو - لیکن نظر سے کوہر وقت تیار -

بغل میں لگا کر کاشٹھ میں ڈھنڈھوڑا (۱) میں چیز تو پاس ہے اور دنیا بھر  
میں تلاش کی جاتی ہے -

بغل میں منڈی ڈالنا - ستر مندہ ہونا - (ع. ا. ف. ا. مذ)

بغل میں بجانا (۱) کسی کے نقصان، دکھ یا مصیبت پر خوش ہونا (۲) فخر  
کرنا - خوشی میں اچھلنا کودنا -

بغل میں بھانگنا (۱) ستر مندہ ہونا - نام ہونا (۲) جواب نہ بن پڑنا (۳) پریشانی  
ہونا -

بغل میں لینا (۱) بغلوں کے بال موڑنا -













راضی کر لینا۔ منالانا۔

بلانا (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مص] [تڑپنا۔ زار و قطار رونے۔  
بلانا (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مص] [طلب کرنا۔ پکارنا۔ آواز دینا۔

بلاندراب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [باشنت۔

بلاندراب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [دعوت۔ طلبی (۳) خواہش (۳)  
بلاندراب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [رات کو ایک گانے کی راکنی۔

بلاندراب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [گر بڑ نر۔ بلا

بلاندراب (Blouse) (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [عورتوں کی کمرتی۔  
جودہ سٹری کے نیچے پہنتی ہیں۔

بلانی گند (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [دوا گانا نام

بلانی نہ چلائی میں دلہن کی تانی (۱۱) [ہ۔ مرث] [جب کوئی بن بلائے  
آجائے اور رشتہ ختائے تو عورتیں اس وقت کہنتی ہیں۔

بلنب (Bulb) (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [برقی قلم۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [عندیب۔ ایک نہایت خوش دوز  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔  
بلنب (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بزرگ دراستان۔

بلا صناع۔ بغیر بناوٹ کے۔ ٹھیک ٹھیک

بلا تکلف (۱) بے روک لوگ (۲) بے ساختہ برجستہ

بلا توقف (۱) صفت) فوراً بہت جلد۔ بغیر دیر کیے۔

بلا حساب (۱) صفت) بے حساب۔ حساب کیے بغیر بہت زیادہ

بلا زبیر بے شک۔ بے شبہ۔ بالکل صحیح۔ قطعی درست۔

بلا سان و گمان (۱) صفت) غیر متوقع جس کا پہلے سے خیال نہ ہو

بلا سبب (۱) صفت) خواہ مخواہ۔ بغیر وجہ کے۔

بلا سبب (۱) صفت) بغیر توقف کے۔ بغیر سوچے سمجھے۔

بلا سبب (۱) صفت) بغیر شک کے۔ بغیر شک کے۔

بلا بشرط۔ بغیر کسی قسم کی شرط کے۔ عہد و پیمان کے بغیر۔ بونہی۔

بلا فصل (۱) صفت) بغیر کئے کے۔ بغیر فاصلہ کے رگتا رگتا جاری رہنا

بلا ملامت۔ بغیر کسی کمی کے۔ پورا پورا

بلا معیار۔ معیار یا زمانہ مقرر کرنے کے بغیر۔

بلا مانعہ۔ مانعہ کیے بغیر۔ روزانہ مسلسل متواتر۔

بلا واسطہ۔ براہ راست۔ بغیر کسی ذریعہ کے۔ سیدھا۔

بلا وجہ۔ بے سبب۔ ناحق۔ خواہ مخواہ۔

بلا (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بلی کا نر۔

بلا (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بلی کا نر۔

بلا (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بلی کا نر۔

بلا (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بلی کا نر۔

بلا (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بلی کا نر۔

بلا (ب. ل۔ نا) [ہ۔ مرث] [بلی کا نر۔

بلٹی (بلی۔ بی۔ ٹی) (Billeti) کا ہند۔ ا۔ مٹ (چھوٹا بل۔ مال کی رسید جو ہانڈیا ریلوے والوں سے ملتی ہے۔ بلچک (بلی۔ چک) (ب۔ مٹ) ضرب۔ قبضہ شمشیر بلند (ب۔ لڈ) (ع۔ م۔) [مذ] شہر نگر۔ بستی۔ جمع۔ بلدان۔ بلڈہ (بلی۔ وہ) (ع۔ م۔) [مذ] شہر۔ نگر۔ بستی۔ قبضہ۔ جمع۔ بلا۔ د۔ بلدیہ (بلی۔ دی۔ یہ) (ع۔ مٹ) [مذ] محکمہ جو شہر کی صفائی اور حفظان و نیکوئی کے لیے ہو۔ میونسپلٹی۔ میونسپل کارپوریشن۔ جمع بلدیات۔ بلڈاگ (Bulldog) بلی۔ ڈاگ (ب۔ مٹ) [مذ] بڑے سر کا خوفناک لٹا بلی رائڈ (بلی۔ رائڈ) (ع۔ مٹ) [مذ] بال بدھوا۔ چھوٹی عمر کی بچوہ۔ بلی بال

بمعنی بچہ۔ کا مخف ہے (بلسان (بلی۔ سان) (ع۔ مٹ) [مذ] مصر کے ایک مشہور درخت کا نام جس کے پتوں سے روغن نکلتا ہے۔ بلکٹا (بلی۔ ٹس۔ نا) (ع۔ مٹ) [مذ] سکھ پانا۔ لطف اٹھانا (۲) استفعال میں لانا۔ برتنا۔ کام میں لانا۔ کام بکھانا۔ بلکھا (بلی۔ فا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] بلیغ کی جمع۔ فاضل لوگ۔ عالم۔ بلغم (بلی۔ غم) (ع۔ مٹ) [مذ] کف۔ کھنگار۔ انسانی چار خلطوں میں سے ایک بلغم آنا (مخاورہ) بلغم خارج ہونا۔ بلغمی (بلی۔ جی) (ع۔ مٹ) [مذ] بلغم پیدا کرنے والی چیز (۲) وہ جسم جس میں بلغمی خلط زیادہ ہو۔ (۳) موٹا۔ چھسپھسا۔ بلقیس (بلی۔ نیس) (ع۔ مٹ) [مذ] بلکہ سب کا نام۔ بلکاتا (بلی۔ کاتا) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) سڑانا (۲) بے چین کرنا۔ بے قرار کرنا۔ بلکنا (بلی۔ نک۔ نا) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) روٹنا۔ بلبلا نا (۲) بے قرار ہونا۔ تپ ہونا بلکہ (بلی۔ کر) (بھرجی۔ سو۔ اس سے) بڑھ کر (۲) شاید۔ بل گوندھن (بلی۔ گون۔ دن) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کی ایک تقریب جس میں عروس کے سر کے بال گوندھے جاتے ہیں (۲) لڑکیوں کے بال گوندھنے کی تقریب۔

بلکلا (بلی۔ لا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) اہم۔ لغو۔ بے ہودہ۔ بے سلیقہ۔ اول جہول بلبلے بن کی باتیں۔ بے وقوفی کی باتیں۔ وہ باتیں جن سے حماقت ظاہر ہو۔ بلبلی (بلی۔ لی۔) (ع۔ مٹ) [مذ] بلا کی تائید۔ اہم۔ بے وقوفی۔ بچھی بلکم۔ بلک (بلی۔ بل۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) خاوند۔ خصم۔ (۲) عاشق بلور (بلی۔ لم۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) بھلا۔ برچھا۔ نیزہ (۲) عصا۔ نشان۔ بڑی لالچی اور سنہری یارو پہلی عصا جو میروں اور بادشاہوں کی سواری کے آگے لے کر چلتے ہیں (۳) شوہر۔ ماتک (۴) معشوق۔

بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔

بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔ بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔

بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔ بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔

بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔ بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔

بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔ بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔

بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔ بلور (بلی۔ ور۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شہسوار جو بادشاہوں اور امیرین کی سواری کے آگے عصلے کر چلتا ہے۔ نشان لے کر چلتے والا۔ بلہانا (بلی۔ نا۔) (ع۔ مٹ) [مذ] (۱) شادی کرنا۔ خاوند بنانا (۲) معشوق بنانا۔ مطلوب بنانا۔

بلوٹا (ب۔لورنا) [ہ۔مص] متخفا۔ گھٹھو لٹا پیسے درپے حرکت دینا۔  
بلوٹوں بلوٹوں (ب۔لورب۔لور) [ہ۔وا۔بلا۔ہائے ہائے] (۲) عمرت  
بلوٹوں بلوٹوں کرنا۔ محاورہ ہائے واٹے کرنا۔ حواس ٹھکانے نہ رہنا۔  
(۲) مصیبت کے مارے پیچ اٹھنا۔

بلوٹی (ب۔لورنی) [ع۔۱۔مٹ] اوہ ظرت جس میں دودھ مٹھے میں  
بلہاری بلہاری ریل۔ بار۔ بل۔ ہاری صدقے۔ نصدقے۔ شہار پوزال  
بلہاری جاننا محاورہ واری جاننا۔ قربان جانا۔

بلہرا (ب۔لہرا) [ہ۔۱۔مڈ] پان رکھنے کا لمبا ڈبہ۔  
بلہری (ب۔لہری) [ہ۔۱۔مٹ] پلہری کی تانبیت  
بلٹی (ب۔لی) [ہ۔صفت] طاقتور۔ مضبوط۔ بل والا۔ زور والا۔

بلٹی ریل (ب۔لی) [ہ۔۱۔مٹ] ۱۱) لمبا باس (۲) لکڑی یا باس کا تخم (۳)  
نا ڈھینے کا باس۔

بلٹی مارنا۔ چبو مارنا۔ کشتی جلانا۔  
بلیوں پانی ہونا۔ دریا میں بہت زیادہ پانی ہونا (دریا کے پانی کی مقدار  
بلیوں سے ناپتے ہیں۔)

بلی (ب۔لی) [ہ۔۱۰۔مٹ] ۱۱) ایک چھوٹا سا جانور جو شیر کے مشابہ ہوتا  
ہے (۲) وہ چھوٹی لکڑی جو کواڑوں میں اس غرض سے لگی جاتی  
ہے کہ دونوں پے بند کر کے اس کو چھوڑیں تو پھر کواڑ خود نہیں  
بلی الٹنا محاورہ بلی کا سامنے ہو کر گزرتا جو محسوس سمجھا جاتا ہے۔  
(۲) آمادہ فساد ہونا (۳) بے سبب غصہ ہونا۔

بلی بتا رہنا محاورہ مسکین صورت بنا رہنا۔  
بلی بھی لڑتی ہے تو بیچہ منہ پر دھرتی ہے۔ (ایشل) حیوان بھی لڑنے  
میں شرم کرتے ہیں۔

بلی جب گرتی ہے تو پتھروں کے بل (ایشل) ہوشیار آدمی اپنے  
آرام اور حفاظت کا خیال رکھنے سے  
بلی خدلاوے چرما نہیں مارتی (ایشل) ہر شخص جو کام کرنا ہے اپنے  
نفع کے لیے کرتا ہے۔

بلی سے چھٹھروں (دودھ) کی رکھواری (ایشل) بددیانت کو  
خراچی بنانا، سپور کو اپن بنانا۔  
بلی کا گونہ لینے کا نہ پونٹنے کا (مشل) نکتا آدمی کسی کام کا نہیں۔  
بلی کو چھپھروں کے خواب (ایشل) ہر ایک کو اپنے مطلب کی سوجھی  
بلی کھلے گی نہیں تو پھیلاٹے گی ضرور (ایشل) بدذات بے ناناہ  
نقصان پہنچاتا ہے۔

بلی کی میاؤں سے ڈر لگتا ہے (مشل) زور آور کا رعب ہی کافی ہے  
ظالم کا خوف بہتر ہوتا ہے۔  
بلی کے اچھا گون چھینکا ٹوٹا (ایشل) اس چیز کا بل جانا یا ہوجانا جس  
کا سان کمان نہ ہو۔ (۲) مرد پوری ہوجانا۔  
بلی کے خواب میں چھپھروں (ایشل) ہر شخص اپنے ہی مطلب کی

سوجھتا ہے۔  
بلی لوٹن۔ با پٹھ۔ ایک خوشبودار گھاس جس کی خوشبو بلی کو بہت ہی  
پسند ہے۔  
بلی نے شینہر (شیر) پر پٹھا بلی کو کھانے آیا (ایشل) شاگرد استاد  
کے مقابلے پر اٹھے لڑتے ہیں۔  
بلی (ب۔ل) [ع۔۱] ہاں۔ کیوں نہیں۔  
بلے (ب۔لے) [ف۔تابع فعل] ہاں۔ بیج سے۔ درست ہے۔  
بلتات (ب۔لی) بیات (ع۔۱۔مٹ) [بلیتہ کی جمع۔ بلائیں۔ مصیبتیں۔  
بلیاں لینا (ہ۔مص) بلائیں لینا صدقے جانا۔ قربان ہونا۔  
بلیٹن (Bulletin) (ب۔لی) [ب۔۱۔مڈ] سرکاری اطلاع  
تختر نامہ۔ اہم واقعات یا بیجا کی کیفیت کی اطلاع۔  
بلیچنگ پوڈر (Bleaching Powder) (ب۔لی) چنگ۔ پو۔ ڈر  
(انگ۔۱۰۔مڈ) رنگ کا سفوف۔ ایک سفوف جس سے کپڑے وغیرہ  
کارنگ اور دھبے دور کرتے ہیں۔  
بلیڈ (ب۔لیڈ) [ع۔صفت] کند ذہن۔ غبی۔ کم عقل۔  
بلیڈ (Blade) (ب۔لیڈ) [انگ۔۱۰۔مڈ] (۱) دھار۔ چانودغیرہ کا پھل  
(۲) لوہے کا وہ نیز دھار ٹکڑا جس سے ڈاڑھی مونڈتے ہیں۔  
بلیڈ (Billiard) (ب۔لی) [انگ۔۱۰۔مڈ] ایک قسم کا کھیل۔  
جو میز کے اوپر لمبی چھڑیوں سے کھیلا جاتا ہے۔  
بلیڈر (Blazer) (ب۔لے) [انگ۔۱۰۔مڈ] ایک خاص کپڑے  
کارنگوں کوٹ۔ کھلاڑیوں کا۔ اکثر کالج کے طالب علموں کی درسی  
بلی میں شامل ہوتا ہے۔  
بلیغ (ب۔لیغ) [ع۔صفت] (۱) پورا۔ کامل (۲) اتنا کو پہنچا ہوا۔ فاضل  
(۳) حسب موقع گفتگو کرنے والا۔ جمع۔ بلغاء۔  
بلیک مارکیٹ (Black Market) [انگ۔مٹ] مقررہ قیمت  
سے زیادہ قیمت پر چوری مال فروخت کرنا۔  
بلیک میلر (Blackmailer) (ب۔لیگ۔لے۔لر) [انگ۔۱۰۔مڈ]  
افشائے راز کی دھمکی دے کر رشوت لینے والا۔  
بلیک میل کرنا (Blackmail) (ب۔لیگ۔میل۔کرنا) [ا۔ر۔بھ] [  
افشائے راز کی دھمکی دے کر روپیہ وصول کرنا۔  
بلیک میلنگ (Black Mailing) (ب۔لیگ۔مے۔نگ) [انگ۔  
۱۔مٹ] افشائے راز کی دھمکی دے کر روپیہ وصول کرنے کا عمل۔  
بلیبلر (ب۔لے۔لہ) [ف۔۱۰۔مڈ] ایک دوا کا نام۔ ہیٹھا  
بلیوں دل (بلیچر) اچھلنا محاورہ سخت ڈر یا کھیل ہٹ ہونا۔ دل  
بہت دھلکا۔  
بلیٹن (ب۔لیٹن) [ہ۔۱۰۔مڈ] (۱) چھت کی کڑی (۲) چھتر کی منڈیر  
یا بیچ کا بڑا پائس۔  
بلیتہ (ب۔لی) [ع۔۱۔مٹ] بلا۔ مصیبت۔ آذت۔ آزمائش۔ جمع  
بلیات۔

بلیوں دل (بلیچر) اچھلنا محاورہ سخت ڈر یا کھیل ہٹ ہونا۔ دل  
بہت دھلکا۔  
بلیٹن (ب۔لیٹن) [ہ۔۱۰۔مڈ] (۱) چھت کی کڑی (۲) چھتر کی منڈیر  
یا بیچ کا بڑا پائس۔  
بلیتہ (ب۔لی) [ع۔۱۔مٹ] بلا۔ مصیبت۔ آذت۔ آزمائش۔ جمع  
بلیات۔

بلیوں دل (بلیچر) اچھلنا محاورہ سخت ڈر یا کھیل ہٹ ہونا۔ دل  
بہت دھلکا۔  
بلیٹن (ب۔لیٹن) [ہ۔۱۰۔مڈ] (۱) چھت کی کڑی (۲) چھتر کی منڈیر  
یا بیچ کا بڑا پائس۔  
بلیتہ (ب۔لی) [ع۔۱۔مٹ] بلا۔ مصیبت۔ آذت۔ آزمائش۔ جمع  
بلیات۔

بلیوں دل (بلیچر) اچھلنا محاورہ سخت ڈر یا کھیل ہٹ ہونا۔ دل  
بہت دھلکا۔  
بلیٹن (ب۔لیٹن) [ہ۔۱۰۔مڈ] (۱) چھت کی کڑی (۲) چھتر کی منڈیر  
یا بیچ کا بڑا پائس۔  
بلیتہ (ب۔لی) [ع۔۱۔مٹ] بلا۔ مصیبت۔ آذت۔ آزمائش۔ جمع  
بلیات۔

بلیوں دل (بلیچر) اچھلنا محاورہ سخت ڈر یا کھیل ہٹ ہونا۔ دل  
بہت دھلکا۔  
بلیٹن (ب۔لیٹن) [ہ۔۱۰۔مڈ] (۱) چھت کی کڑی (۲) چھتر کی منڈیر  
یا بیچ کا بڑا پائس۔  
بلیتہ (ب۔لی) [ع۔۱۔مٹ] بلا۔ مصیبت۔ آذت۔ آزمائش۔ جمع  
بلیات۔





بن مانگے موتی ملیں مانگے ملے نہ بھیک (مثلاً بغیر سوال کیے  
میتھی چیز مل جاتی ہے۔ لیکن جس کی طلب ہو مانگنے سے بھی نہیں ملتی۔  
بن (ع۔ ۱۔ مذ) تھوہ۔ کافی۔ ایک نم کا نام ہے جسے بھون کر کھاتے ہیں  
اور چائے کی طرح جوش دے کر پیتے ہیں۔

بن (ع۔ ۲۔ مٹ) جڑ۔ بنیاد (۲) سزا۔ نوک۔  
بن گوش۔ کان کی نوک کا پھلجلا حصہ۔  
بن مو۔ بال کی جڑ۔

بنابنا ہوا اب۔ ناب۔ نا۔ و۔ (ع۔ ۱۔ ص) مرکب (۲) بنیاد (۱۳)  
طے مٹ (۳) مرتب (۵) نقلی جعلی مصنوعی (۶) بے بنیاد خیالی۔ دبی  
بنا بنایا۔ بھیک۔ درست۔ تیار۔ عمل۔

بنا بیٹھنا (محاورہ) اوجھ بنائے ہونا۔ وضع اختیار کیے ہونا۔  
بنا ٹھننا۔ سنگار کیے ہوئے بنا سنورا۔ بھیک ٹھاک۔ سجا سجایا۔  
بنار مینا (محاورہ) (۱) زندہ رہنا۔ سلامت رہنا (۲) موجود رہنا۔ حاضر رہنا  
(۳) برقرار رہنا خوش و خرم رہنا۔ سرسبز رہنا۔ آباد رہنا (۴) اقبال و  
دولت کی ترقی ہونا۔

بنالینا (۱) تیار کر لینا (۲) انتظام کر لینا۔ حاصل کر لینا پیدا کر لینا۔  
بناب۔ نا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) دو لہا۔ نوشہ (۲) پیارا۔ لاڈلا۔  
بناب۔ نا۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) جڑ۔ بنیاد۔ بیو۔ اصل (۲) باعث۔ سبب (۳)  
شروع آغاز۔ ابتدا۔ جمع اُبنیذ

بنا برس۔ اس بنیاد پر۔ اس سے۔ اس وجہ سے۔  
بنا پڑنا۔ ابتدا ہونا۔ آغاز ہونا۔ تعمیر کی بنیاد رکھی جانا۔ بنیاد قائم ہونا۔  
بنا ڈالنا (۱) بنیاد رکھنا۔ ڈھنگ ڈھالنا (۲) شروع کرنا۔ نیرجھانا  
بناغ علیہ۔ اس بنا پر۔ اس وجہ سے۔ اس لیے۔  
بنائے دعویٰ مرکب اضافی (۱) استغاثہ کا باعث، دعویٰ کی وجہ۔  
بنائے محاصمت (ع۔ مرکب اضافی) (۱) وہ فعل جس سے نالاش کرنے  
کا حق پیدا ہوا (۲) لڑائی جھگڑے کی بنیاد۔

بنات اب۔ نات (ع۔ ۲۔ مٹ) بنت کی جمع بیٹیاں۔  
بنات الفتن۔ رسات ستاروں کا جھمکا۔ عقد نیریا۔  
بنادور اب۔ نا۔ در (ع۔ ۱۔ مذ) بندر کی جمع (بند یعنی بندرگاہ)  
بنادوق اب۔ نا۔ دوق (ع۔ ۱۔ مٹ) بندوق کی جمع (عربی قاعدے سے)  
بنادوقیں۔

بناراضی اتان اہل کے عنوان میں لکھنے ہیں جیسے اہل بناراضی  
عدالت ماتحت۔

بناس پنی اب۔ ناس۔ پ۔ تی (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) نباتات، گھاس پھوس  
(۲) گھاس کی پتی۔

بنا گوش اب۔ نا۔ گوش (ع۔ ۲۔ مٹ) کان کی نو  
بنالاب۔ نا۔ لا (ع۔ ۱۔ مذ) گوٹہ کناری وغیرہ کا بانا۔  
بنامی اب۔ نامی (ع۔ ۱۔ مٹ) رہن یا سبب کی وہ معاملت جو دوسرے  
کے نام سے کی جائے اور اصل شخص توئی اور ہو۔  
بنان اب۔ نان (ع۔ ۱۔ مذ) بنانہ کی جمع۔ انگلیوں کے سرے۔

بنانا (ب۔ نا۔ نا) (ع۔ ۱۔ مٹ) درست کرنا۔ تیار کرنا (۲) آراستہ کرنا (۳)  
تعمیر کرنا (۴) گھڑنا (۵) تصنیف و تالیف کرنا (۶) ننگار کو صاف کرنا۔  
(۷) ہنستی اڑانا۔ احمق بنانا (۸) سنورنا۔ تہذیب سکھانا (۹) اصلاح کرنا (۱۰)  
ایجاد کرنا (۱۱) دولت مند کرنا (۱۲) حاصل کرنا۔

بناوٹ اب۔ نا۔ وٹ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) ساخت (۲) تکلف تصنیع  
(۳) دکھلاؤ۔ نمود (۴) سخن سازی (۵) جھوٹ۔ مکد و فریب۔ جعل سازی  
(۶) وضع۔ شکل (۷) کاریگری۔ صنعت۔

بناوٹ اب۔ نا۔ وٹ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹنے کی وضع۔ بنائی۔ مٹنے کا کام  
بناوٹی (ب۔ نا۔ وٹی) (ع۔ ۱۔ ص) مصنوعی دکھاوے کا۔ ظاہری۔  
بناؤ اب۔ نا۔ و (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) آراستگی۔ سجاوٹ۔ آرائش۔ سنگار۔ سنوار  
(۲) درستی۔ موافقت (۳) بنانا مصدر سے فعل امر۔ سنوارو۔ درست  
کردو۔ بگاڑ کی ضد۔

بناؤ سنگار۔ آرائش۔ آراستگی۔  
بناؤ کرنا (محاورہ) سنگار کرنا۔ سنوارنا۔ آراستہ کرنا۔  
بنائے نہ بنانا (ب۔ نا۔ اے۔ نہ۔ بن۔ نا) (ع۔ ۱۔ مٹ) اختیار سے باہر  
ہونا۔ تدبیر کارگرنہ ہونا۔ مجبور ہونا۔

بنت اب۔ نت (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) ایک طرح کی توتی جس میں گھوکھوڑا سلما  
ستارا لگا ہوتا ہے۔  
بنت کی چینی۔ شیشے کے ربڑے جو بنت میں لگے ہوتے ہیں۔

بنت (ع۔ ۱۔ مٹ) لڑکی۔ دختر بیٹی۔ جمع بنات۔  
بنت البحر۔ ایک انسانوی سمندری مخلوق جس کا اوپر کا دھڑا انسانی  
شکل کا اور پچھلا مچھلی کی طرح ہوتا ہے۔ جل پری

بنت العنب۔ لغوی معنی انور کی بیٹی۔ مراد انگوری شراب۔  
بنتی ابن۔ تی (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سعادت۔ غدر خدای (۲) عرض (۳) التجا (۴)  
منت سماجت۔

بنتا (ب۔ نٹا) (ع۔ ۱۔ مذ) کھانا پکانے کا بڑا برتن۔ پینل کا گھڑا۔  
بنتا دھار کرنا (محاورہ) (۱) برتن توڑ دینا (۲) برباد کر دینا۔ ہنس ہنس کر زینا  
بچ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خرید و فروخت۔ تجارت۔ لین دین۔ بیوپار۔ سوداگری  
(۲) رشخہ ناتا۔ (۳) پیشہ۔ کار۔ کسب۔

بچ کر کے بنائے اور کر کے لیں، بچ گیا تھا جاٹ نے رہ  
گئے سوئے تیس (مثلاً) بیوپار کرنا بیویوں کا کام ہے۔ یعنی ہر شخص  
کو اپنا پیشہ کرنا چاہیے۔ دوسروں کی لیس سے نقصان ہوتا ہے۔  
بچارا (ب۔ چارا) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) اٹلے کا سوداگر۔ چاول کا تاجر (۲) سوداگر  
بیوپاری (۳) ایک پہاڑی قوم (۴) ایک شہر کے خانہ بدوش ہندو۔  
بچارن (ب۔ چارن) (ع۔ ۱۔ مٹ) [بچار سے کی] بیوی (۲) بچاروں کا ڈیرا  
سوداگری۔ تجارت۔

بن جانا (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) تیار ہونا۔ درست ہونا (۲) اثر ہونا۔ مجبوری  
ہونا (۳) لکھا د ہونا (۴) ملل ہونا (۵) ہونا قائم رہنا۔ سلامت رہنا۔  
(۶) کام ہونا (۷) سنور جانا (۸) ننگاری وغیرہ تیار کرنا (۹) تعمیر ہونا۔ چنا  
جانا (۱۰) امیر ہونا۔ دولت مند ہونا (۱۱) خوش ذائقہ ہونا (۱۲) صلح ہونا۔



بندروالا۔ بندر بنجانے والا۔

بندروں کی سی کونسل (مجازاً) نادانوں کی محفل

بندرد۔ بندر گاہ (بن۔ در، بن۔ در، گاہ) [ف۔ ۱۔ مذومث] [مجازاً] کے بھڑنے کی جگہ۔

بندری۔ بندریا (بن۔ در، ری، بن۔ در، یا، ۱۔ ۱۔ مٹ) [مٹ] بندر کی یاد بندش (بن۔ در، ش) [ف۔ ۱۔ مٹ] [۱] گروہ۔ بندھن۔ حسب موقع اور با ترتیب ہونا (۲) خیال (۳) سازش (۴) تمہید۔ اٹھان (۵) داؤن۔ گھات (۶) تدبیر۔ پیش بندی (۷) بناوٹ۔ تکلیف (۸) مسافت (۹) نہمت۔ الزام (۱۰) ترتیب الفاظ۔ عبارت کی ترکیب الفاظ کا ربط۔ (۱۱) باندھنے کا فعل یا کیفیت۔

بند کی بند۔ کی (۱۔ ۱۔ مٹ) [۱] بوند کی تصغیر (۲) چھوٹے چھوٹے نقطے (۳) چھینٹے (۴) پھوار کی بوندیں۔

بندگان ابن۔ ذ۔ کان [ف۔ ۱۔ مذ] بندہ کی جمع۔ غلام۔ خادم۔ ملازم۔ بندگان عالی (۱) ملازمان حضور (عظیماً) حضور۔ خود باروت۔

بندگی ابن۔ ذ۔ کی [ف۔ ۱۔ مٹ] [۱] عبادت پرستش (۲) آداب۔ تسلیم۔ کورکش (۳) عجز۔ انکسار (۴) خدمت۔ نوکری فرمانبردار غلامی (۵) اسلام۔ خدا حافظ۔

بندگی بجا لانا (مجاورہ) (۱) سلام کرنا (۲) تعظیم کرنا۔ جھکتا (۳) آداب کرنا۔ حکم کی تعمیل کرنا (۴) فرمانبرداری کرنا۔ بندگی بے جا کی ۱۱۔ مثل [۱] بعد ارضی میں اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا بندگی پہنچنے۔ سلام قبول ہو۔

بندگی کرنا (مجاورہ) سلام کرنا (۲) خدا کی عبادت کرنا۔ بندگی ابن۔ ذ۔ لی [۱۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا چا دل جو وہیل کھنڈ میں ہوتا ہے۔

بندگی ابن۔ ذ۔ لی [۱۔ ۱۔ مٹ] [۱] شیشے کا چھوٹا سا گول ٹکڑا جسے بندو عورتیں پیشانی پر لگاتی ہیں۔

بندوبست ابن۔ دو۔ بست (ف۔ ۱۔ مذ) [۱] انتظام (۲) انتظام (۳) ضابطہ۔ قاعدہ (۴) سلیقہ (۵) زمین کی حد بندی اور انتظام تخصیلات (۶) ترتیب (۷) تدبیر۔ بخیر۔

بندوبست اسمی وار۔ وہ بندوبست جو اسمیوں کی ترتیب سے ہو بندوبست اسمی۔ دائمی بندوبست۔ ایک بار مال گذاری قائم کرنا ہمیشہ کے لئے ایک ہی دفعہ مال گذاری کی تفصیلات کو دینا۔ بندوبست دینی۔ زمین کے کاغذات تیار کرنا۔ مال گذاری تخصیص کرنا۔ محصول لگانا۔ زمین کی حیثیت اور سیدھا وار کا اندازہ کرنا۔ بندوبست اسمی۔ عارضی بندوبست جو قانونی بندوبست تک کے لیے کیا جلتے۔

بندور، بندوڑ (بن۔ دور، بن۔ دوڑ) [۱۔ ۱۔ مٹ] [۱] باندی کی تصغیر معمولی سی باندی (۲) کم تر بندوڑی (۳) وہ نوٹھی جسے بیوی بنا لیں۔ بندوق (بن۔ در، وق) [ف۔ ۱۔ مٹ] [۱] گولی (۲) [۱] وہ لوہے کی ٹی جس میں بارود بھر کر چھوڑتے ہیں۔ تفنگ۔ جمع بنا دین

بندوق بھرنا۔ بندوق میں چھوڑ ڈالنا۔

بندوق چھتیا نا۔ بندوق کو چھانی سے لگا کر شست باندھنا بندوق چھوڑنے پر آمادہ ہونا۔

بندوق چھوٹنا۔ بندوق چلنا۔

بندوق سہ ہونا۔ بندوق چلنا۔

بندوق کا پیکار۔ توڑے دار بندوق میں اوپر کی طرف ایک کٹوری سی بنی ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی بارود رکھتے ہیں اس پیلے میں سوراخ ہوتا ہے۔

بندوق لگنا۔ بندوق کی گولی لگانا۔

بندوقچی ابن۔ در، چی [۱۔ ۱۔ مذ] بندوق رکھنے والا۔ قرادلی۔

بندوق چلانے والا۔

بندو ابن۔ ذ۔ [۱۔ ۱۔ مذ] [۱] غلام (۲) نوکر۔ ملازم (۳) نیاز مند غلام (۴) انسان۔ بشر آدمی (۵) عابد۔ زاہد۔ سہجہ کارینے والا۔ حکم ماننے والا۔ جمع بندگان۔

بندو آزادان۔ مذ [۱] آزاد کیا ہوا غلام (۲) ایسا شخص جو بندہ ہی قیود اور ضروریات زندگی سے بے پروا ہو۔

بندو بشر (ف۔ ۱۔ مذ) انسان۔

بندو بشر سے (مثل) سہو اور خطا انسان کی فطرت میں ہے۔

بندو بنا لینا۔ (مجاورہ) مطیع کر لینا۔ قابو میں کر لینا۔ غلام کر لینا۔

بندو بے دام۔ بندہ بے درم۔ بندہ بے زر۔ مفت کا غلام۔ بہت اطاعت گزار۔

بندو پرورد (ف۔ ۱۔ ص) [۱] غلام کو پالنے والا بندہ نواز (۲) حضور جناب حضرت بندہ پروردی (ف۔ مٹ) پالنے کا مکمل احسان۔ عنایت۔

بندو جوڑے ٹی پٹی رام لندھٹھے گیا [مثل] [۱] بندہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتا ہے اور خدا ایک ہی دفعہ سارا خرچ کر دیتا ہے۔

بندو درگاہ (ف۔ ۱۔ مذ) [۱] ملازم شاہی (۲) نیاز مند خادم۔ غلام۔

بندو زاوہ (ف۔ ۱۔ مذ) غلام کی اولاد۔ غلام کا بچہ۔ انکسار سے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں۔

بندو زراف (ف۔ ۱۔ مذ) روپیہ کا غلام۔ لالچی جریص۔

بندو عاجز سے (۱) انسان مجبور ہے بے اختیار ہے (۲) میں مجبور ہوں بندہ کی خدا سے نہیں چلتی (مثل) مشیت ایزدی کے سامنے انسان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔

بندو ناہیز (ف۔ ۱۔ مذ) حقیر۔ بے وقعت شخص۔

بندو نواز (ف۔ ۱۔ ص) [۱] غلام کو عزت دینے والا۔ مالک۔ مختار۔ حاکم۔

بندو نوازی (ف۔ مٹ) بندہ پروردی۔ مہربانی۔ عنایت۔

بندو [س۔ ۱۔ مذ] ضمانت۔ امانت۔

بندو ہا (بن۔ دھا) [۱۔ ۱۔ ص] جگڑا ہوا۔ اٹکا ہوا۔ مقررہ۔

بندو ہا توڑا۔ پوری پھیلنا۔

بندو خرنج۔ خرنج جس کی مقدار معتد ہے۔

بندو خراب مار کھانا ہے [مثل] مجبور کو جو چاہو، سزا دو، قابل میں





دونوں سروں پر کپڑا لپیٹنا ہوتا ہے اور اسے آگ لگا کر سرو اور بدن کے بندھ کر پھرنے ہیں۔ ایک درزش۔  
 بندھ بھی پھیلنا اہلانا یعنی کسی کی درزش کرنا۔  
 بینینی اب۔ نے۔ نی، [۱۰-۵-۱۰] منشا [بینی کی تائیت۔ بینے کی جوڑ  
 بینینی پان دمڑی کے کھائے گھر رہے کہ جھٹے (مثل) انجیل  
 آدمی خنورے خرق کو بہت سمجھتا ہے۔

ب و

بورف۔ ۱۔ منٹ (۱۱) باس۔ مہک (خوشبو (۲) بدبو۔ سڑاند (۲) خبر بھنگ  
 راز (۲) ان پان۔ شان باز (۵) شہد اور تنگ کی جگہ۔  
 بو آنا (۱) مہک آنا۔ مہک آنا۔ خوشبو آنا (۲) بدبو آنا۔ سڑاند آنا (۲) خوشبو  
 کا ظہر ہونا۔

بو باس (۱) جسم یا پھول کی خوشبو (۲) سراغ۔ کھوج پتہ۔ نشان (۳)  
 انداز طور۔ ڈھنگ روشن۔

بو بسا۔ بو کا سما جانا۔ بو کا کسی چیز میں اثر ہو جانا۔  
 بو پانا۔ خبر پانا۔ سن گن جانا (۲) کتے کا کسی چیز کی بو سونگھ کر چھیکنے  
 بو بر لگنا۔ اچھا وہ انک میں ہونا۔

بو بھوٹنا (محاورہ) بو بھیلنا (۲) افشائے راز ہونا۔ بھید کھلنا۔  
 بو دار (۱) صف) بدبو دینے والا (۲) شکار کی بو بھرنے والا ہونا۔

بو دینا (محاورہ) (۱) بو لگانا (۲) پنا دینا۔ علامت ظاہر کرنا۔  
 بو سواتا (محاورہ) کسی بات کا دل میں پیٹھ جانا۔ بو کا اثر ہونا

بو کا مسنت ہونا (محاورہ) خوشبو کا نہایت خوشگوار ہونا۔  
 بو گئی بو دار گئی۔ رہی کھال کی کھال (مثل) نشان و شوکت جانی  
 رہی اصلی حالت رہ گئی۔

بو بھگنا (۱) بو کا نراٹل ہونا (۲) بو آنا۔  
 بو ہونا (محاورہ) کھنورے سی کوئی خاصیت ہونا۔ پھر اثر ہونا۔

بو بے محنت ۱۱۔ صف) محبت کی علامت، محبت کا نشان۔  
 بو بے طفلی (۱) منٹ) لڑکپن کا اثر۔ بچپن کا اثر۔

بو بے (۱) منٹ) بو کا مخفف۔ باب۔  
 بو بے (۱) بازی گر۔ شہدہ باز (۲) انوکھا۔ عجیب شخص (۳)

بو بے (۲) محنت) (۳) محنت) بے وقوف (۵) جینھا پیل کر نیوالی تھے۔  
 بو الفضول۔ بجاوسی۔ وہ شخص جو بیٹھا باتیں بنایا کرے۔

بو الاموس۔ بڑا لالچی۔ بہت حرصیں (انسانی خواہشات کا بہت  
 سخت حرصیں۔

بو الاموسی۔ بہت زیادہ حرص۔ نفسانی خواہشات پر بہت زیادہ چلنا  
 بو تراب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت۔

بو (فعل)۔ بو تو مصلد کا حبیضہ امر۔ کا شنت کر۔  
 بو (اب۔ و) (۱) منٹ) (۱) خواہر بہن۔ ہمیشہ آبا (۲) باب کی

بہن۔ پھوپھی۔

بو اب (ع۔ ۱)۔ مذ) جو کبیرا۔ دربان۔  
 بو ابھنکونے سلیقہ کیا۔ میانی پھاڑ کھٹنے پر مہیند (کیا) سیا  
 (مثل) اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص اپنے خیال میں  
 عقلمندی کا کام کرے لیکن اصل میں وہ بے ذوقی ہو۔

بو ارب۔ وار (۱)۔ مذ) بونے کا موسم  
 بو اسیر اب۔ و۔ سیر (ع۔ ۱)۔ منٹ) باسور کی جمع (۱) پھنسیاں (۲)

(اصطلاحاً) مفعد کی پھنسیاں۔ منٹے۔ مفعد کی ایک بیماری  
 بو انا اب۔ وارنا (۱)۔ مص) اینج ڈالو اتا۔ کا شنت کرنا۔ بوئی کرنا۔

بو اٹلمر (Boiler) (اب۔ و)۔ وار (۱)۔ مذ) گرم پانی کا  
 برتن جو کسی مشین میں لگا ہوتا ہے اور جس میں بھاپ بنتی ہے

بوئی اب۔ و)۔ ای (۱)۔ منٹ) (۱) اینج بونے کا موسم (۲) اینج بونے  
 کا موسم۔ بجائی۔

بوئی اب۔ و)۔ ای (۱)۔ منٹ) وہ شکاف جو سردی یا خشکی کی وجہ  
 سے پاؤں کی اڑی میں ہو جاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔

بوئی پھٹنا۔ اڑی کے شکاف کا پھٹ جانا۔  
 بوئے (Boy) (اب۔ و)۔ ای (۱)۔ منٹ) لڑکا طفل (۲) لڑکے

بو بیا (بو یا) (۱)۔ منٹ) بیٹ (تختہ سے) (۲) مال اسباب۔ سامان مال متاع  
 بو بیک (بو بک) (۱) صف) (۱) بوڑھا۔ بڑھا (۲) نابالغ (۳) احمق  
 بے وقوف۔

بو بو (بو بو) (۱)۔ منٹ) (۱) بہن خواہر ہمیشہ (۲) وہ ذی عزت  
 بوڑھی کنیز جس کی گود میں بچے نے پرورش پائی ہو۔

بو بو تا بو تا (۱)۔ منٹ) (۱) درخت کا تنہ (۲) نیلے یا حنظل کی نالی۔  
 بو بو تا بو تا (۱)۔ منٹ) بل۔ طاقت۔ زور۔ مقدور۔ حیثیت۔

بو بو نام (بو نام) (انگ) (Button) کا منہ۔ ۱۔ منٹ) بین گھنڈی۔ تکر  
 بو بزل (بو بزل) (انگ) (Bottle) کا منہ۔ ۱۔ منٹ) شیشہ۔ مینا  
 کا رخ کا لینا برتن جس کا اوپر کا منہ یا گردن تیلی ہوتی ہے جس میں  
 سیال چیزیں رکھی جاتی ہیں۔

بو بزل (اٹھانا اچھڑھانا) (محاورہ) بوتل کی بوتل پی جانا (۲) بوتل کی ساری  
 شراب پی جانا۔

بو بزل کا شہد (کنایتاً) شراب کا شہد  
 بو بڑ (بو بڑ) (ف) (۱)۔ منٹ) (۱) مٹی کا برتن جس میں سونے چاندی کو  
 پکھلایا جاتا ہے (۲) ادھک کا بچہ (۳) چھوٹا درخت (۴) بھلا آدمی۔

بو بڑ خاک (۱) مٹی کا برتن (۲) [کنایتاً] قاب انسان۔ آدمی کا بدن  
 بو بڑ (Booth) (انگ) (۱)۔ منٹ) کنج وغیرہ کا عارضی ساتیان (نیز  
 دیکھیے بو لنگ بو لنگ۔

بو تیمار (بو تیمار) (تی مار) (ف) (۱)۔ منٹ) بگلا۔  
 بوٹ (۱)۔ منٹ) (۱) کچے سبز چنے۔















ہونا۔ پریشان ہونا (۱۷) تیز تر ہونا (۱۸) کثرت سے اندھے دینا۔  
 (۱۹) [مٹ] بہن کی تصغیر۔  
 بہنا (بہ۔ نا) [۱-۵-۱۰ مذ] دھنا، نہاں۔ روئی بیٹھنے والا۔  
 بہنا یا (بہ۔ نا) [۱-۵-۱۰ مذ] دوستی، سہیلی پن۔ بہن بننا۔  
 بہنا یا (جوڑنا) کرنا۔ سہیلی بننا۔ دوستی کرنا۔  
 ہنگم (بہ۔ ن) [۱-۵-۱۰ مذ] ہنگم، کا محض بے ڈول۔  
 ہنگم ابد قطع۔ بدنا۔

بہن (بہ۔ ن) [۱-۵-۱۰ مذ] وہ لکڑی جس کے دونوں طرف رسیاں  
 لگتی ہیں جن پر بوجھ لاد کر کندھے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔  
 بہنوی (بہ۔ نو) [۱-۵-۱۰ مذ] بہن کا خاندان۔ دو لہا بھائی۔  
 بہنہ (بہ۔ نی) [۱-۵-۱۰ مذ] دکان کھولنے کے بعد پہلی بکری۔  
 بہنیل (بہ۔ لی) [۱-۵-۱۰ مذ] سہیلی، منہ بولی بہن۔  
 بہو (بہ۔ ہو) [۱-۵-۱۰ مذ] بیٹے کی جوڑو (۲) معزز ہندو عورت  
 ہو بیٹھنا (محاورہ) غیر عورت پر برہمنی نظر ڈالنا۔  
 ہوباقوں بڑی لکڑی (مشورہ) بے ہنر زبان دراز عورت کے  
 متعلق کہتے ہیں۔

ہوبو بیکر نام رکھنا۔ اپنے آپ کو معزز اور بڑا جتاننا۔  
 ہوجھی (۱) [۱-۵-۱۰ مذ] عزت دار عورت (طنزاً) وہ مرد جو عورتوں کی  
 سنی حرکتیں کرے۔ زنانہ۔  
 ہورہی کنواری، سیاسی رہی داری، ہوا آئی بیابھی، پڑ گئی  
 خوارگی [مٹ] منگنی کے بعد بہو کی بڑی خاطر مدارت کی جاتی  
 ہے۔ لیکن بیابھ کے بعد ٹھکڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔  
 ہولانا (محاورہ) بیٹا بیابھنا۔

ہوار (بہ۔ وار) [۱-۵-۱۰ مذ] لین دین معاملات۔  
 ہوار کی بات (۵) [مٹ] لین دین کی بات۔ ٹھیک ٹھیک بات  
 معاملے کی بات۔

ہوڑا (بہ۔ ہوڑا) [۱-۵-۱۰ مذ] (۱) داپسی کا کھانا۔ (۲) دلہن  
 کے ساتھ جو کھانا برات کی داپسی کے وقت بھیجا جاتا ہے۔  
 ہی (بہ۔ ہی) [۱-۵-۱۰ مذ] وہ رشتہ جس میں حساب وغیرہ لگتے ہیں  
 روزانہ۔

ہی بر (آزارنا) چڑھنا (محاورہ) ہی پر نقل کرنا۔ یادداشتیں راج  
 ہی میں لکھنا۔

ہی شہ (۵) [۱-۵-۱۰ مذ] روزانہ  
 ہی دھوڑا (۵) [مٹ] پرکھے ہوئے حساب کی ہی۔  
 ہی کھانا۔ روزانہ حساب کی کتاب۔ نام بنام آمد و خرچ کا حساب  
 ہی (بہ۔ ہی) [۱-۵-۱۰ مذ] ایک پھل کا نام جو سبب سے مشابہ  
 ہے اور کابل و شہر میں پیدا ہوتا ہے متعلقین اور سامان فوج۔  
 ہی (بہ۔ ہی) [۱-۵-۱۰ مذ] فوج کے متعلقین اور سامان فوج۔  
 ہی کے بازار کا ملازم۔  
 ہی بھنگا۔ ہیرو بھنگا کا صحیح ہیرو بھنگا ہے فوج کے شاگرد پیشہ

بھگنا (بہ۔ نا) [۱-۵-۱۰ مذ] (۱) بھگنا (۲) دھوکا کھانا (۳) بھگنا  
 (۴) نشتر، نیند، ہڈیاں یا بخاریں بھگنا (۵) لڑکھڑانا (۶) نشتر میں نشور  
 بھگانا (۷) انزانا۔  
 بھگی بھگی یا نہیں کرنا (۵) محاورہ بے سرو پا یا نہیں کرنا۔ الٹی پٹی یا نہیں  
 بھگی بھگی آواز (۱-۵) [مٹ] بے سہری آواز۔ آواز جو لوٹنے والے  
 کے قابو میں نہ ہو۔

بھل (بہ۔ ہل) [۱-۵-۱۰ مذ] سواری کی بیلوں کی گاڑی۔ بھلی  
 بھلا (بہ۔ لا) [۱-۵-۱۰ مذ] بھلا جانے بکری وغیرہ  
 بھلا دینا (محاورہ) بچوں کو رونے سے باز رکھنے کے لیے کہیں ہیں  
 لگا دینا، دوسری طرف متوجہ کر دینا۔

بھلانا (بہ۔ لانا) [۱-۵-۱۰ مذ] بھل میں لگانا بچے کو رونے سے  
 باز رکھنا۔ دل خوش کرنا (۲) فریب دینا۔ دھوکا دینا۔

بھلا (بہ۔ لا) [۱-۵-۱۰ مذ] تفریح، دل خوش کرنے کا مشغلہ۔  
 بھلنا (بہ۔ ہل) [۱-۵-۱۰ مذ] سیر تماشے سے خوش ہونا۔ تفریح ہونا  
 (۲) دوسری طرف جی لگ جانا۔

بھلہ (بہ۔ لہ) [۱-۵-۱۰ مذ] نقدی اور کاغذات رکھنے کا بڑا ٹھکانا (۲)  
 چھوٹے کا دستا جو شکاری لوگ ہاتھ میں پہن کر اس پر بار و وغیرہ  
 بٹھاتے ہیں۔

بھلی (بہ۔ لی) [۱-۵-۱۰ مذ] کتے کی مانند بیلوں کی چھوٹی گاڑی۔  
 بھلیا (بہ۔ لی) [۱-۵-۱۰ مذ] بھلی یا بھلی پانگنے والا۔  
 بھلیا (بہ۔ لی) [۱-۵-۱۰ مذ] پرندوں کا شکاری۔ مسلخ

بھم (بہ۔ ہم) [۱-۵-۱۰ مذ] ایک دوسرے کے ساتھ۔  
 بھم (بہ۔ ہم) [۱-۵-۱۰ مذ] حاصل ہونا۔ بیٹھنا۔ ہونا۔ دیا جاتا۔  
 بھم (بہ۔ ہم) [۱-۵-۱۰ مذ] فریہم کرنا۔

بھم (بہ۔ ہم) [۱-۵-۱۰ مذ] حاصل ہونا۔ دستیاب ہونا۔  
 بھم (بہ۔ ہم) [۱-۵-۱۰ مذ] ایک دوسرے کے ساتھ۔

بھمن (بہ۔ من) [۱-۵-۱۰ مذ] (۱) چلاک، ذہین (۲) برستا ہوا بادل  
 (۳) دھوپ سے پھل کر پھاڑ سے بچے گرنے والی برت (۴) ابرائی  
 گیارھواں مہینہ (۵) لڑو جو توروں کا موکل (۶) [مٹ] ایک بونج  
 بہن (بہ۔ ہن) [۱-۵-۱۰ مذ] (۱) ہمشیرہ۔ خواہر۔ باجی۔  
 (۲) سہیلی۔

بھن (بہ۔ ہن) [۱-۵-۱۰ مذ] (۱) بھلا روپیہ (مثیل) روپیہ سب سے  
 بڑی چھٹی۔

بھن کے گھر بھائی گنا، ساہر گھر جنواری گنا (بہن کے گھر بھائی  
 اور خسر کے گھر داماد کے بیٹھنے سے ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی  
 نہیں بہنیں آپس میں لڑیں لوگوں نے جانا سیر بڑا مثل عزیزوں  
 میں تکرار سے دشمنی نہیں ہوجاتی۔

بھن (بہ۔ ہن) [۱-۵-۱۰ مذ] بچ جسے کاشت کار بوتے ہیں۔  
 بھنا (بہ۔ نا) [۱-۵-۱۰ مذ] جاری ہونا، رواں ہونا (۲) پھیل جانا  
 عمل کرنا (۳) موار بھگنا (۴) بھگنا (۵) بھگنا (۶) بھگنا (۷) غارت













بھرا بیٹھنا (محاورہ) غصے میں ہونا ناراض ہونا۔ شکوہ شکایت کے لیے تیار ہونا۔ روٹنے کے قریب ہونا۔

بھرا لہرا (۱)۔ صف آسودہ۔ فارغ البال (۲) صاحب اولاد (۳) صاحب مال خوش نصیب

بھرا جانا (محاورہ) (۱) پڑھ جانا (۲) آلودہ ہو جانا (۳) حاملہ ہو جانا۔  
بھرا دینا (۱) لیریز کر دینا۔ مال مال کر دینا (۲) نقصان پورا کرنا (۳) آسودہ کر دینا۔ (۴) لٹھڑ دینا (۵) ادا کرنا (۶) آبپاشی کرنا۔  
بھرا گھر (۱) نڈا آباد گھر مال اور آدمیوں کی (افراط) (۲) اسباب خانہ داری سے بھرا ہوا مکان۔

بھرا گھر بھرا ہونا (محاورہ) گھر کی رونق جاتی رہنا۔  
بھرا وقت (۱) نڈا شام۔ جب دونوں وقت ملیں۔ (۲) [بھرا ہونا (محاورہ) (۱) آزرہ ہونا (۲) کثرت سے موجود ہونا (۳) پڑھنا۔ بھرے بھرے۔ تیار ہوئے تازے۔

بھرے بیٹھے ہیں بھرے ہوئے ہیں (محاورہ) انفا ہیں۔ ناراض ہیں (۲) شکوے سے پڑے ہیں (۳) روٹنے کو تیار ہیں۔  
بھرے رہنا (محاورہ) (۱) لیریز رہنا (۲) جمع رہنا (۳) ناخوش رہنا  
بھرے کو بھرا (محاورہ) ایسے شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا جس کو اس کی حاجت نہ ہو۔ کھانے پیتے پر احسان کرنا۔

بھرا (بھرا) (۱) نڈا (۲) (۱) تعریب۔ (۲) بکری۔ (۳) بکریوں کے بیکارگی اڑنے کی آواز۔  
بھرا بھرا (۱) فالتو مدین صرف کرنا (۲) رشوت دینا (۳) قرض ادا کرنا  
بھرا بھرا (۵) تنگ دستی سے گزار کرنا (۶) عمر پوری کرنا۔  
بھرا دینا (محاورہ) ادم دینا۔ جھانسا دینا۔ (۲) کبوتروں کو بیکارگی اڑانا  
بھرنے پر بٹھانا (محاورہ) (۱) بھانسنے میں لانا (۲) تعریف کرنے کسی بات پر آمادہ کرنا۔

بھرتے ہیں آنا (محاورہ) دھوکا کھانا۔ فریب میں پھنسا۔  
بھرا (بھرا) (۱) (۲) نہایت کالا۔  
بھرا (بھرا) (۱) (۲) پیرندوں کے اڑنے کی آواز۔  
بھرا (بھرا) (۱) (۲) مصیبتوں کا بچوں کو بچوگا دینا۔ کھلانا (۲) پھر کرنا (۳) چوبیسے کو گویا بھین کرنا۔

بھرا (بھرا) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرا (بھرا) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرا بھری (بھرا) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرا بھری (بھرا) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرت (بھرت) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرت بھرتا (محاورہ) سوداگری کے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھجانا۔ دس اور کو لانا (۱) کمی پوری کرنا۔  
بھرتا بھرتا (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرتا بھرتا (محاورہ) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرتی (بھرتی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرتی بھرتی (محاورہ) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرتی بھرتی (محاورہ) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرتی بھرتی (محاورہ) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بھرتی بھرتی (محاورہ) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)













بھوک کر دینا (محاورہ) خوب زور کو ب کرنا۔  
 بھور ہونا (محاورہ) صبح ہونا۔ صبح کی سفیدی پھیلتا (۲) بڑھا پا آتا۔  
 بال سفید ہونا (۳) خاتمہ ہونا۔ مرنا۔  
 بھورا (بھو۔ را) (۱) صف (۲) مٹیلانیردی مائل۔ سیاہ (۲) [مذ] نیلا  
 کبوتر جس کا کوئی پر سفید نہ ہو۔  
 بھور کی (بھو۔ ری) (۱) مٹ (۲) ایک قسم کی روٹی بھوکندوں کی  
 گرم راکھ پر پکائی جاتی ہے (۱) [صف] بھور کی تانیٹ۔  
 بھوڑ (۱) مٹ [ریگستان۔ ریتلی زمین۔  
 بھوسا (بھو۔ سا) (۱) مٹ [بھوسا۔  
 بھوسا (بھو۔ سی) (۱) مٹ (۲) بھوسا کی تانیٹ جو کمر۔ غلہ کا فضلہ۔  
 بھوشن (بھو۔ شن) [س۔ مذ] (۱) سجاوٹ۔ آرائش (۲) زیورات  
 خواہرات (پوشاک)  
 بھوک (۱) مٹ (۲) کھانے کی خواہش۔ اشتہا (۲) خواہش ضرورت  
 حاجت (۲) کمی بڑھ کر  
 بھوک (اڑنا) بھلنا (محاورہ) کھانے کی خواہش جاتی رہنا۔ کھانے کی  
 پروا نہ رہنا۔  
 بھوک بند ہونا (محاورہ) بھوک نہ لگنا (۲) خواہش نہ ہونا۔  
 بھوک بیاس (۱) کھانے پینے کی ضرورت (۲) غریبی۔ کنگالی فقر و فاقہ  
 تنگی نفسی۔  
 بھوک بیاس (اڑنا) (محاورہ) بھوک کی بیاس مٹ جانا۔  
 بھوک جاتی رہنا (محاورہ) کھانے کی خواہش ختم ہونا۔  
 بھوک جہم کی بھوک (مثلاً) بھوک رہنا زندگی کی سب سے بڑی  
 تکلیف ہے۔  
 بھوک کو بھوجن کیا اور نیند کو بھوٹا کیا (مثلاً) سخت بھوک میں  
 انسان کو جو کچھ مل جائے اسے کھا لیتا ہے اور سخت نیند میں انسان ہر  
 جگہ سو جاتا ہے۔ بستر کا خیال بھی نہیں کرتا۔  
 بھوک کی بھانجھ (مٹ) وہ شخص جو بھوک کی شدت میں آئے۔  
 بھوک گئے بھوجن ملے، جاڑ گئے قبا۔ جوانی گئے تریاٹے تیزوں  
 ان سبھا (مثلاً) وقت پر تیز بٹے تو اس کا کیا فائدہ۔ جیسے بھوک  
 مٹ جانے سے کھانا۔ سردی ٹھل جانے پر لباس اور جوانی ختم ہونے  
 پر بیوی کا بلنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔  
 بھوک لگی تو گھر کی سوچھی (محاورہ) کھیل کود میں مصروف رہنے  
 والے بے پروا کے متعلق کہتے ہیں۔  
 بھوک لگنا۔ کھانے کی خواہش ہونا۔ اشتہا ہونا۔  
 بھوک مرنا۔ بھوک جاتی رہنا۔  
 بھوک میں جھن بھی نہ ہو (مثلاً) بھوک لگی ہو تو عبادت میں بھی  
 مزہ نہیں آتا۔ بھوک میں کوئی کام نہیں ہوتا۔  
 بھوک ہر تال (۱) مٹ (۲) کوئی مطالبہ منوانے یا کسی غصے کی وجہ سے  
 کھانا پینا چھوڑ دینا۔ مقاطعہ جوئی۔  
 بھوک ہونا (محاورہ) اشتہا ہونا خریداری کی خواہش ہونا۔

بھوکا (بھو۔ کا) (۱) صف (۲) جسے بھوک لگی ہوئی ہو (۲) خواہشمند  
 (۲) محتاج۔ فاقہ کش (۲) نہایت مفلس۔ کنگال (۲) عاشق (۲) مشتاق  
 بھوکا اٹھانا سے بھوکا سلانا نہیں (مثلاً) اللہ تعالیٰ سب کو رزق  
 دیتا ہے۔ کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا۔ کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔  
 بھوکا بن گالی (۱) صف بہت غریب بہت مفلس۔  
 بھوکا سوڑو کھا (مثلاً) بھوکا آدمی کسی سے اچھی طرح نہیں ملتا۔  
 بھوکا مڑتا کیا نہ کرتا (مثلاً) جبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے جبوری  
 سب کچھ کر دیتی ہے۔  
 بھوکا (بھوکوں) مرنا (محاورہ) فاقہ کشی کرنا (۲) مشکل سے گزارا ہونا۔  
 بھوکے شریف سے ہار پیٹ بھروسے زریل سے ڈرنا چاہیے۔  
 (مثلاً) فاقہ کش شریف اور آسودہ حال کمینہ نہایت خطرناک ہوتا ہے  
 بھوک کی بھوک کی تانیٹ۔  
 بھوک (۱) مٹ (۲) بھوجن۔ کھانا تیرک (۲) دیوتاؤں کا چڑھاوا  
 (۲) خوشی۔ آرام۔ عیش (۲) صحبت۔ جماع۔ ہم بستری (۲) بدلہ۔ نتیجہ۔  
 عوض۔ سزا جزا (۲) تخلص یعنی وہ مختصر نام جو شخص کو اپنے کلام میں لگانے کے لیے  
 بھوک بلاس (۱) بدلہ عیش و سرور۔ رنگ ریاں۔ زندگی کے مزے۔  
 سیر و تماشا۔ کھیل کود۔ رنگ۔ رنگ۔ لہو و لعب۔  
 بھوک پڑنا (محاورہ) اگیاں پڑنا۔ لعنت پڑنا۔ ڈر ڈر پھٹ پھٹ ہونا  
 بھوک (اڑنا) (استان) (۱) گایاں دینا۔ ملامت کرنا (۲) تمبرک دینا۔  
 بھوک کرنا۔ جماع کرنا۔ ہم بستری ہونا۔  
 بھوک لگی (بھوک لگی) (۱) مٹ (۲) ناک ایک کھوکھلا زریور۔  
 بھوکنا (بھوک نا) (۱) مٹ (۲) مٹ (۲) لطف اڑانا  
 (۲) برداشت کرنا۔ بھگنا (۲) بھوکنا (۲) بدلہ پانا۔ نتیجہ بھگنا۔  
 مڑا یا نا (۲) جرم مانہ ادا کرنا۔  
 بھوک لگی (بھوک لگی) (۱) مٹ (۲) عیاش۔ شہوت پرست (۲) زانی (۲)  
 دیوتاؤں کے بھوک دینے والا۔ چڑھاوا چڑھانے والا (۲) عیش پسند  
 (۲) گمراہ۔  
 بھول (۱) مٹ (۲) فراموشی۔ سمہ۔ نسیاں۔ بھوک۔ غلطی (۲) قصور۔ بھوکا  
 بھول بھلیاں (۱) مٹ (۲) ایچ دینے کے واسطے کامکان (۲) ایسا راستہ جس  
 پر چلتے چلتے انسان چکر کر راستہ بھول جائے (۲) گورکھ دھندا (۲)  
 وہ کام یا بات جو بار بار سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہ آئے۔  
 بھول پڑنا (محاورہ) غلطی ہو جانا۔ یاد سے اتر جانا۔ (۲) حیا نہ رہنا۔  
 بھول جانا (محاورہ) یاد سے اتر جانا۔ خیال نہ رہنا۔ فراموش ہو جانا۔  
 بھول چوک (۱) مٹ (۲) فراموشی۔ غلطی۔ مقصور۔  
 بھول چوک لینی دینی (۱) مٹ (۲) کمی بیشی کی دی جانے کی حساب  
 بعد میں ابھی طرح کر لیا جائے گا اور جو دینا ہو گا وہ دیا جائے اور جو  
 لیا ہو گا لیا جائے گا۔  
 بھول گئے نہ مڑنا (محاورہ) کبھی نہ کرنا۔ ہرگز نہ کرنا۔ کسی حال میں نہ کرنا  
 بھول گئے ناچ رنگ پول کئی چھکڑی (۲) (مثلاً) سیاہ شادی کے  
 تین چیزیں یا دو ہیں لون، تیل، لکڑی (۲) بعد انسان دینا کے







(۴) شوخ۔ مسخر (۶) بے ادب (۷) آوارہ۔ بے پروا۔  
 بے باکانہ۔ بے باکی سے۔ شوخی سے۔  
 بے باکی۔ دف۔ مٹا۔ شوخی۔ شرارت۔ بے حیائی۔  
 بے بال و پر (۱) نصف (۱۱) بے یار و مددگار جس کا کوئی رفیق  
 نہ ہو۔ تنہا۔ اکیلا۔ بے سہارا (۲) مفلس۔ عاجز۔ مجبور (۳) کمزور۔  
 ناقص (۴) جس کے بازو اور پر نہ ہو۔ لٹمنڈ (بال بمعنی بانغا  
 بے بدل (۱) نصف (۲) الاثنی۔ بے نظیر جس کی مثال نہ ہو۔  
 بے برگ (۱) نصف (۲) پتوں کے بغیر (۳) محتاج بے خواہ۔  
 بے برگ و نو (۱) نصف (۲) عاجز۔ نا توان۔ خضعیف (۳) بے قابو  
 بے بس (۱) ناچار۔ مجبور۔ عاجز۔ نا توان۔ خضعیف (۲) بے قابو  
 بے اختیار (۳) منقید۔ مجبوس۔  
 بے بسی (۱) مٹا (۲) کسی بے اختیار۔  
 بے بصیرت (۱) نصف (۲) انا۔ رھا۔ نایبنا (۲) نا واقف۔  
 بے بلائے خدا کے گھر بھی نہیں جاتے۔ (۱) مٹا (۲) بے طلب کوئی  
 کہیں نہیں جاتا۔ اپنی کے نیازی ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔  
 بے بہا (۱) نصف (۲) بیش قیمت۔ اموال بے اندازہ قیمت  
 والی چیز۔ بہت زیادہ قیمت کی شے (۳) نایاب۔ کم یاب (۴) نفیس  
 عمدہ۔ عجیب و غریب۔  
 بے بھاد (۱) بھڑانا (۲) محاورہ (۱) بہت مام بھڑانا (۲) بہت زیادہ جرات  
 بے بہرہ (۱) نصف (۲) محروم۔ بے نصیب (۳) آوارہ۔ خراب۔ خستہ  
 (۴) بد تیز۔ گستاخ۔ بے ادب۔  
 بے بہرہ پھرنا (محاورہ) آوارہ پھرنا۔ خراب و خستہ پھرنا۔  
 بے بہرہ ہونا (محاورہ) (۱) بد تیز ہونا۔ خود مختار و آزاد ہونا۔ (۲)  
 بے خبر ہونا۔  
 بے پایاں (۱) نصف (۲) بے حد بے انتہا۔ بے اندازہ۔ بیکراں۔  
 بے پروا (۱) نصف (۲) لٹمنڈ۔ پتہ بریدہ۔ کٹے پروں والا (۲)  
 بے بس۔ غریب۔ مفلس۔ بے سروسامان (۳) کمزور۔ نا توان (۴) مجبور  
 ناچار۔ محتاج۔  
 بے پروا (۱) نصف (۲) بے شرمی۔ بے لگائی (۳) بے حیائی (۴) بھید کا  
 اظہار۔ افشائے راز۔  
 بے پردہ (۱) نصف (۲) بے پردے کے بغیر بغیر پرقع (۳) کھلم کھلا  
 بے پردگی (۱) اڑانا (محاورہ) غلط اور بے معنی بات کہنا۔ گپ اڑانا۔  
 بے بنیاد خبر مشہور کرنا۔  
 بے پروا (۱) نصف (۲) غافل۔ بے فکر۔ مستغنی (۳) دولت مند (۴)  
 شہت۔ کابل توجہ نہ کرنا۔ دھیان نہ لینے والا (۵) بے غرض متوجہ  
 بے پروائی (۱) نصف (۲) بے فکری۔ آزادی۔ غفلت۔  
 بے پروائی (۱) نصف (۲) بے اجازت۔

بے [۵] حرف نفی۔ بغیر بن۔ سوا۔  
 بے آب (۱) نصف (۲) پانی کے بغیر (۳) بے رونق۔  
 بے آبرو (۱) نصف (۲) بے حیاء بے عزت۔  
 بے آبروئی (۱) نصف (۲) بے عزتی۔ بے حیائی۔  
 بے آبرنگ (۱) نصف (۲) بے رونق۔  
 بے آرامی (۱) نصف (۲) بے چینی۔ ڈکھ۔ تکلیف۔  
 بے آزار (۱) نصف (۲) بے ضرر۔ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔  
 بے آس (۱) نصف (۲) مایوس۔ نا امید۔  
 بے اثر (۱) نصف (۲) جس کا اثر نہ ہو۔ بے کار۔ بے فائدہ  
 بے اجل (۱) نصف (۲) قبل از موت ماروینا۔ بے موت ہلاک کرنا۔  
 بے احتیاط (۱) نصف (۲) جو احتیاط نہ کرے۔ غیر محتاط۔  
 بے احتیاطی۔ احتیاط نہ کرنا۔ بجا و نکرنا۔  
 بے اختیار (۱) نصف (۲) بے قابو، بے بس۔ مجبور۔ ناچار (۳) بہت  
 زیادہ (۴) خود بخود۔  
 بے اختیار (۱) نصف (۲) مجبوری۔ بے چارگی۔ کمزوری۔  
 بے ادب (۱) نصف (۲) گستاخ۔ شوخ۔ شریر (۳) نا افسانہ۔ غیر متنب  
 بے ادب بے نصیب، بالادب بال نصیب [مٹا] جو ادب  
 نہ کرے وہ بے نصیب رہتا ہے اور جو بزرگوں کا ادب کرے وہ خوش  
 قسمت ہوتا ہے۔  
 بے ادبی (۱) نصف (۲) بے عزتی۔ گستاخی۔ بے نمیزی۔ شوخی و شرارت  
 بے اشتہار (۱) نصف (۲) بے شک۔ یقینی۔  
 بے اصل (۱) نصف (۲) بے بنیاد۔ بے ٹھکانے (۳) خلاف غلط  
 بے حقیقت جس میں سچائی نہ ہو۔  
 بے اعتبار (۱) نصف (۲) جس پر اعتبار نہ ہو۔ ناقابل اعتبار۔  
 بے اعتباری (۱) نصف (۲) حد سے بڑھنا۔ بد پرہیزی (۳) نا انصافی  
 (۴) غیر معتدل۔  
 بے اعتدالی (۱) نصف (۲) بے اعتدالی۔ بے پروائی۔  
 بے اعتبار (۱) نصف (۲) بے عزتی۔ بے نمیزی۔ بے ادب۔  
 بے اندازہ (۱) نصف (۲) بے اندازہ۔ بے حد۔  
 بے اولاد (۱) نصف (۲) بے اولاد۔ جس کے بال بچہ نہ ہو۔  
 بے ایمان (۱) نصف (۲) بے دین (۳) بد اعتقاد (۴) بد نیت (۵)  
 بد خیانت (۶) دغا باز۔ فریبی۔ مکار (۷) بھوٹا۔ دروغ گو (۸) غیر منصف  
 بے ایمانی (۱) نصف (۲) بے دینی۔ بد دیانتی۔ بد نیتی (۳) دغا بازی  
 (۴) فریب۔ مکر۔ دروغ (۵) بے انصافی۔  
 بے باق۔ رکھ باقی نہ ہونا۔ قرض سے سبکدوش۔  
 بے باقی کرنا (۱) حساب صاف کرنا (۲) ادا کرنا۔ چکانا۔ نٹنٹا۔ بھگتانا  
 (۳) ختم کرنا۔ پورا کرنا (۴) سبکدوش ہونا یا کرنا (۵) فیصلہ کرنا۔  
 بے باک (۱) نصف (۲) بے خوف۔ نڈر (۳) آزاد (۴) دلیر بہادر

نہ ہو۔ ۱۳۱) ایے ایمان۔ لاندہ مہب۔ ہدا اعتقاد (۳۱) بے دوزی بے رحم (۵) سنگ دل (۹) بد ذات۔ بشریہ (۱۶) ایسے ہنر۔ بے کمال  
 بے پندری کا بدھنا (۱۱) صف (۱۱) وہ بدھنا جس میں پندیری نہ ہو (۱۲) [مجازاً] مختلف ایقین۔ و طھلل یقین۔ غیر مستقل مزاج۔  
 بے تاب (۱) صف (۱۱) بے طاقت۔ ناتواں۔ کمزور (۲) بے چین۔ مضطرب۔ بے قرار (۳) برداشت نہ کرنے والا۔  
 بے تابانہ (۱) گھبرایا ہوا (۲) ملا تامل۔ فوراً۔ بہت جلد۔  
 بے تابی (۱) صف (۱۱) چینی۔ گھبراہٹ (۲) جلدی۔ شتابی۔  
 بے تائید (۱) صف (۱۱) بے اثر (۲) بے فیض۔ بے فائدہ۔  
 بے تالا (۱) صف (۱۱) وہ شخص جو گانے میں نال سے باہر ہو جائے۔  
 بے تامل (۱) صف (۱۱) اندیشہ۔ بے دھڑک۔ بے فکر۔  
 بے تحاشا (۱) بے حواس۔ بے اطمینانی سے (۲) اندھا دھند۔ بے دھوک۔ مضطربانہ (۳) بے حد۔ بہت زیادہ۔  
 بے تدبیر (۱) صف (۱۱) بے اندیشہ۔ بے پیرا۔ بے سوچے سمجھے۔  
 بے ترتیب (۱) صف (۱۱) گڈ بڈ بے سلسلہ۔ بے قاعدہ۔  
 بے تردد (۱) صف (۱۱) بغیر فکر اور اندیشے کے (۲) وہ زمین جس میں کاشت نہ کی گئی ہو۔  
 بے ترکیب (۱) صف (۱۱) بے اندازہ۔ بے جوڑے تعلق۔ عیلمہ۔  
 بے تصدق (۱) صف (۱۱) بے محنت۔ بلا تکلف۔  
 بے تعلق (۱) صف (۱۱) کنارہ کش۔ عیلمہ۔  
 بے تعلق۔ بلا تامل۔ بلا توقف۔  
 بے تقصیر (۱) صف (۱۱) بے قصور۔ بے خطا۔ بے گناہ۔ بے جرم (۲) نا سچی کہے وجہ۔  
 بے نیکا (۱) صف (۱۱) ناموزوں۔ بے جوڑے۔  
 بے نکان (۱) صف (۱۱) آسانی سے۔ بے تکلف (۲) بے حد۔  
 بے تکلف (۱) صف (۱۱) بناوٹ کے بغیر۔ قدرتی (۲) بے تامل۔ بے دھڑک۔ بے ساختہ (۳) بے اندیشہ (۴) بے حجاب۔ آزادانہ۔  
 (۵) سیدھا سادا (۶) رازواں۔ مخمراز۔  
 بے تکلفی (۱) صف (۱۱) بے حجابی۔ مخمراز ہونا۔ ہم رنگی۔ آزادی۔  
 بے تکی (۱) صف (۱۱) بے موقع۔ بے محل۔ بے جوڑے۔ بے ڈھنگی۔  
 بے تکرر (۱) صف (۱۱) بے ادب۔ بے لحاظ (۲) جاہل۔ نامہذب۔  
 نالائق (۱) صف (۱۱) بے نیک۔ بے نیک۔ فرق نہ کرنے والا۔  
 بے توجہ (۱) صف (۱۱) بے فکر۔ بے پروا۔ غافل جس کا دھیان دوسری طرف ہو۔  
 بے توفیق (۱) صف (۱۱) بے حوصلہ۔ بے ہمت۔  
 بے تھابک چوری نہیں ہوتی (مفوزاً) سازش کے بغیر چوری نہیں ہوتی۔  
 بے تھما (۱) صف (۱۱) نہایت گہرا (۲) بے پایاں جس کے نیچے زمین نہ ہو۔  
 بے ٹھیکٹ (۱) صف (۱۱) ٹھیکٹ لیے بغیر (۲) سرنگ خط۔

بے ٹھکانہ (۱) صف (۱۱) بے موقع۔ بے قرینہ۔ بے جا (۲) بے اصل۔ بے بنیاد (۳) وہ شخص جس کا گھبرانہ ہو۔  
 بے ٹھوڑھکانے (۱) صف (۱۱) آوارہ گرد۔ بے گھر۔  
 بے ثبات (۱) صف (۱۱) ناپائیدار۔ بودا۔ کمزور۔ متزلزل۔  
 بے جا (۱) صف (۱۱) بے موقع۔ بے وقت۔ بے محل (۲) نامناسب۔ نانسبیا۔ فضول۔ ناجائز۔ بے کار (۳) نا سچی۔ بلا سبب۔  
 بے جا بات (۱) صف (۱۱) نامناسب بات۔ بے موقع بات۔  
 بے جا صرف کرنا۔ فضول خرچ کرنا۔ بے موقع روپیہ لٹانا۔  
 بے جان (۱) صف (۱۱) مردہ۔ مراد ہوا (۲) مرہبایا ہوا۔ پڑھو (۳) نحیف۔ ضعیف۔ کمزور (۴) اگلا ہوا۔ بوسیدہ (۵) جمادات۔  
 بے جانے بوجھے (۱) بغیر شناسائی اور بغیر واقفیت کے۔ (۲) بے سوچے سمجھے۔  
 بے جرم (۱) صف (۱۱) بے گناہ۔ بے خطا۔ بغیر قصور کے۔  
 بے جگر (۱) صف (۱۱) بے پروا۔ بہادر۔ دلیر۔  
 بے جگری (۱) صف (۱۱) بے پروائی۔ بہادری۔ دلیری۔  
 بے جوڑ (۱) صف (۱۱) خراب۔ غیر موزوں۔ نامناسب۔ بے میل۔ نادرست (۲) وہ برتن یا ہتھیار جس میں جوڑ نہ لگا ہوا (۳) جس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو۔  
 لاثانی۔  
 بے جہت (۱) صف (۱۱) بے سبب۔ بلا وجہ۔  
 بے چارہ (۱) صف (۱۱) بے بس۔ مجبور۔ عاجز (۲) غریب۔ مفلس۔  
 نادار (۳) علاج (۴) بد بخت۔ بد نصیب۔  
 بے چراغ (۱) صف (۱۱) حیران۔ خراب۔ برباد۔ تباہ۔ غیر آباد۔  
 بے چگونگی (۱) صف (۱۱) وہ جس کی صفات تک عقل کی سائی نہ ہو۔  
 بے چوبہ (۱) صف (۱۱) وہ خیمہ جس میں چوب نہیں لگائی جاتی۔ بغیر چھبے کے شامیانہ (۲) (مجازاً) آسمان۔  
 بے چوں (۱) صف (۱۱) بے مثل۔ بے نظیر۔ (مجازاً) اللہ تعالیٰ۔  
 بے چوں و پیرا (۱) صف (۱۱) کسی عذر کے بغیر۔ بے دلیل۔  
 بے چھری حلال کرنا (مجاورہ) بے حد ظلم و ستم دکھانا۔  
 بے چین (۱) صف (۱۱) بے قرار۔ بے آرام۔ بے کل۔  
 بے چینی (۱) صف (۱۱) بے قراری۔ بے آرامی۔ پریشانی۔ بے کلی۔  
 بے حاصل (۱) صف (۱۱) بے فائدہ۔ لاقاصل۔  
 بے حال (۱) صف (۱۱) خراب۔ نحتہ (۲) قریب مرگ (۳) ماندہ۔  
 ضعیف۔ بیمار (۴) کمزور۔ دُبلّا۔ نحیف (۵) مفلس۔  
 بے حجاب (۱) صف (۱۱) بے پردہ۔ بے آڑ (۲) بے شرم۔ بے لحاظ۔  
 بے تکلف۔  
 بے ججاہانہ (۱) صف (۱۱) بے تکلف۔ بے جھجک۔ بے روک ٹوک۔  
 بے حد (۱) صف (۱۱) بے انتہا۔ بے شمار۔ بے اندازہ۔ بے حساب۔  
 بہت زیادہ۔  
 بے حرکت (۱) صف (۱۱) نہ ہلنے والا۔ ساکن۔ قائم۔

بے حرمت و خواب اف۔ صفت (۱۱) بغیر کھانے اور سونے کے (۲۱) (۱) مجازاً آرام کے بغیر۔ بے قرار۔

بے خوف اف۔ صفت اپنے پروا نہ ڈر۔ دلیر۔

بے خیال اف۔ صفت ادو جس کا خیال ایک طرف نہ رہے۔ بے خیابان بے پروا نے داد اف۔ صفت انظلم و مستم کے انصافی (داد بمعنی انصاف) کے داد گر اف۔ صفت الظالم بے انصاف نے داد گری اف۔ صفت انظلم کے انصافی۔

بیدار اف۔ صفت اجاگتا ہوا۔ جاگنے والا۔

بیدار باش اف۔ لکھرا جاگتے رہو۔ چونکہ بیداروں آواز۔

بیدار بخت اف۔ صفت خوش نصیب۔ صاحب اقبال۔

بیدار مغز اف۔ صفت عالی دماغ۔ ہوشیار۔

بے داغ اف۔ صفت اصاف۔ بے عیب۔ بے گناہ بے قصور بے نشان بے دال کا بودم (مجاورہ) اُلو بودم کی دال دور کرنے سے بودم بنتا ہے (۱۲) بے وقوف۔ احمق۔

بے دام اف۔ صفت بے قیمت۔ مفت۔

بے دام کا غلام (۱۱) بے مفت کا نوکر۔ فرماں بردار۔ بے مطیع۔

بے دانش اف۔ صفت بے عقل، جاہل بے علم۔ بے وقوف۔

بے دانہ اف۔ صفت وہ پھیل جس میں بیج نہ ہو (۲) ایک قسم کا انار نے دخل اف۔ صفت اخراج۔ محروم۔ غیر قابض۔

بے دخل کرنا۔ خارن کرنا۔ قبضہ ہٹانا۔ اک کرنا۔ نکالنا۔

بے دخلی اف۔ صفت اخراج کرنا۔ محرومی۔ اخراج۔

بے درو (۱) بے رحم۔ سنگ دل (۲) مجازاً معشوق۔

بے درد قضائی کیا جانے پتھر پرانی ایش انظالم دوسرے کے

دکھ درد کو نہیں محسوس کرتا، ظالم کو مظلوم پر رحم نہیں آتا۔

بے دردی اف۔ صفت انظلم۔ بے رحمی۔ سنگ دلی۔

بے دردی سے مارنا۔ بے رحمی سے مارنا۔ بہت مارنا۔

بے دریاں اف۔ صفت اجس کا کوئی علاج نہ ہو۔ لا علاج نا امید

بے درنگ اف۔ صفت ادبر لگائے بغیر فوراً (۲) تیز چلاک۔

بے دریغ اف۔ صفت ایغیر رنج اور افسوس کے (۲) ایسے سنج بچار

بلا توقف۔ بلا تا مل (۳) فیاض۔ سخی (۴) کثرت سے۔ افراط سے۔

بے دست و پا اف۔ صفت ایاختہ پاؤں بغیر۔ لٹجا۔ اپا رنج۔ ٹولا۔

لنگڑا (۲) عاجز۔ مجبور لاچار۔

بے دستور اف۔ صفت اے قاعدہ۔ رواج کے خلاف۔ خلاف قانون

بے دل اف۔ صفت (۱) رنجیدہ۔ اداس۔ معوم (۲) اجارے۔ اندرہ

دکبیر۔ بے نفس۔ تارک الدنیا (۴) دل برداشتہ (۵) تندر۔

بہادر۔ سورا۔ بے جگر۔

بے دم اف۔ صفت اے جان۔ مردہ۔ کمزور۔ بودا (۳) پرانا۔ کہنہ۔

بوسیدہ (۴) کھٹکا نامہ (۵) حسرت۔ کاہل۔

بے دماغ اف۔ صفت انازک مزاج۔ زود رنج۔ ناخوش۔

بے دودھ کا لڑکا رکھنا۔ مجاورہ اچیلے حوالے کرنا۔ مثال مثول کرنا

بے حرمت اف۔ صفت ذلیل۔ بے عزت۔  
بے حرمت کرنا (مجاورہ) (۱) عزت اتارنا۔ ذلیل کرنا۔ سوا کرنا۔ (۲) عصمت ہدی کرنا۔

بے حرمتی اف۔ صفت (۱) بے عزتی۔ ذلت بخواری (۲) عصمت نہی۔ نے جس اف۔ صفت اسن۔ جو حرکت نہ کر سکے جس کو تیز یا احساس بانی نے جس و حرکت اف۔ صفت (۱) غیر متحرک۔ بے حرکت۔ ساکن۔ (۲) حیران۔ ششدر۔

بے حساب اف۔ صفت اے شمار۔ لا تعداد بے انتہا۔

بے حقیقت اف۔ صفت اے۔ اصل۔ ذلیل بے وقعت۔ ناچیز

بے حکمت اف۔ صفت اے تیز بے عقل (۲) نادان۔ اناری۔

بے حکم تپا نہیں ہلتا (مقولہ) خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔

بے حلاوت اف۔ صفت اے مزہ سے لطف۔

بے حیرت اف۔ صفت اے شرم۔ بے غیرت (مجاورہ) اے مردت۔

بے حواس اف۔ صفت ابد حواس۔ بے اداس۔ بے خود۔ آپے سے

باہر یا کل۔ دیوانہ۔

بے حواس ہونا (مجاورہ) پریشان ہونا۔ حواس کا درست نہ رہنا۔

پاگل ہونا۔

بے حوصلہ اف۔ صفت بغیر دیری کے (۲) کینہ۔ ذلیل (۳) پست

ہمت۔ مردہ دل (۴) بغیر قابضیت کے۔

بے جبار اف۔ صفت اے شرم۔ بے غیرت (۲) بے ادب۔ گناج بدلنا

(۳) بدکار۔ بدچلن۔

بے جیبی رزق بلا (مثلاً) اے جاکو عزت کی کچھ پروا نہیں ہوتی ہر جگہ

جس طرح بوسنتا ہے کام نکال لیتا ہے۔

بے جیبی اف۔ صفت اے شرمی۔ بے غیرتی۔

بے جیبی کا برف منہ پر لینا۔ بے جیبی کا جامہ پہننا (مجاورہ) بے شرمی

کا نقاب چہرے پر ڈالنا (۳) بہت ڈھیرٹ اور بے جیا ہو جانا۔

بے خاراں اف۔ صفت کانٹوں کے بغیر (۲) بے خوف (۳) فوجیان۔ فوجیز۔

وہ لڑکا جس کے ڈاڑھی نہ لگی ہو۔

بے خانماں اف۔ صفت اے گھر بے وطن۔ بے ٹھکانے۔

بے خیر اف۔ صفت (۱) اغافل۔ بے ہوش (۲) نا سمجھ بے وقوف جہل

ان جان بلا علم۔

بے خبری اف۔ صفت (۱) غفلت بے ہوشی (۲) نا سمجھی۔ جہالت۔

بے خرد اف۔ صفت (۱) نا سمجھ۔ بے وقوف۔ بے عقل۔

بے خطا اف۔ صفت اے گناہ۔ بے قصور۔ معصوم۔

بے خط۔ نڈر۔ بے خوف۔ محفوظ۔ مطمئن۔

بے خلش اف۔ صفت بغیر تشویش۔ بغیر فکر۔ اندیشہ۔

بے خواب اف۔ صفت ایدار۔ بے آرام۔ بے نیند کے۔

بے خوابی۔ نیند نہ آنا۔

بے خود اف۔ صفت آپ سے بے خبر۔ از خود رفتہ۔ مدہوش۔ ہرشار

بے خودی (۱) بے ہوشی۔ از خود رفتگی۔ (۲) سرشاری۔ مستی۔



بے رونق ۱۱۔ صفت اے لطف۔ سونا۔ بغیر جہل پہل کے  
یہے روئے ماں بھی دودھ نہیں دیتی مثل (بغیر کوشش کے  
کچھ نہیں ملتا۔

بے ریا۔ ۱۱۔ دکھاوے کے بغیر۔ بلا تصنع۔ صاف باطن (۲) ایمان دار  
آدھی مخلص۔

بے ریش اف۔ صفت ۱۱۱۔ ڈاڑھی کے بغیر (۲) نا تجربہ کار اور نادان  
بے وقوف۔

بے ریشہ (ن)۔ صفت اصوف کے بغیر۔ صاف۔ جس میں گیس نہ ہوں  
بے زار اف۔ صفت ۱۱۱۔ ناخوش۔ ناراض (۲) افسردہ۔ پریشان۔

بے زبان اف۔ صفت اے بولنے والا۔ گونگا (۲) خاموش۔ چپ کم گو  
۱۲۱۔ با شرم۔ با حیا (۲) مظلوم۔ مجبور (۵) حیوان۔ جانور

بے زراف۔ صفت افسس۔ غریب۔ کنگال۔ تنگ دست۔  
بے زرع عشق طمس طمس (مثل) بغیر زر کے عشق عاشقی، باری آشنائی  
نہیں چلتی۔

بے زری اف۔ صفت ۱۱۔ افسس۔ احتیاج۔ محتاجی۔  
بے زوال اف۔ صفت اے قائم۔ بے تدار۔ نہ ٹھٹھے والا

بے زبرد اف۔ صفت اے بغیر پتے کے۔ بغیر غصے کے۔ بغیر کمنے کے  
۱۲۱۔ تازع۔ حاکم۔ نیک مزاج۔

بے ساختگی اف۔ صفت اے سادگی۔ بناوٹ نہ ہونا۔ بھولپن  
بے ساختہ اف۔ صفت ۱۱۔ خود بخود بلا تصنع۔ بے ارادہ۔ برجستہ  
فی البدیہہ۔ بلا تامل۔ غور و فکر کے بغیر (۲) بچرل۔ فزرتی۔ سادہ۔

بے ساختہ کن اف۔ ۱۔ بلا سادہ پن کے کلفتی۔ برجستگی۔ بے ساختگی۔  
بے ساز بے ساز و سامان۔ بے سامان (ن)۔ صفت اے بغیر مال  
اسباب کے۔ بغیر پورا بستر کے۔ ہتھیاروں کے بغیر۔

بے سامانی اف۔ ۱۔ صفت اے زری۔ فلسفی۔ اسباب و اوقات کا نہ ہونا  
بے سبب اف۔ صفت اے ضرورت۔ بے وجہ۔ بلا نتیجہ۔

بے سمت اف۔ صفت اے طاقت بے قابو۔  
بے ستر اف۔ صفت اے پردہ۔ تنگا۔ ۲۱۔ اے عزت۔

بے ستون اف۔ صفت اے بغیر ستونوں کے۔ بغیر پایوں کے (۲) بے بنیاد  
ناچیز (۳) ایران کا ایک پہاڑ۔

بے سٹھرا۔ صفت اے ہوش۔ نا فہم۔ بے عقل۔  
بے سیر (۱) ادارہ۔ بدچلن (۲) بے سردار (۳) خود سیر (۴) ادارت  
بے سیرا۔ بے تالا۔ بد آواز۔

بے سرو پا اف۔ صفت اے لڑکھنیاں۔ بے معنی۔ غلط۔ جھوٹ۔  
بے بنیاد۔ مہمل۔

بے سمرت ۱۱۔ صفت اے ہوش بے وقوف۔ احمق۔ محتاج  
بے سرو سامان اف۔ صفت اے زری۔ فلسفی۔ بے نوا۔ فقیر۔ کنگال  
بے سلیکھتہ اف۔ صفت ۱۱۱۔ اے شعور بے تیز بے دھنگا (۲) بھروسہ  
بے سود اف۔ صفت اے فائدہ۔ رائیگاں۔

بے شائبہ۔ یقیناً۔ بے شبہ

بے دوش (۱)۔ صفت اے گناہ۔ بے تصور۔ بے خطا (۲)۔ بے عیب  
(۳) عمدہ۔ اچھا۔

بے دولت۔ بد نصیب۔ غریب۔ مفلس۔  
بے دو لہا کی برات (۱)۔ صفت اے معنی جلسہ۔ بے مطلب اجتماع۔  
بے دھڑک (۱)۔ صفت ۱۱۱۔ بے خوف۔ بے اندیشہ (۲)۔ بے تکلف  
بے تامل (۳)۔ دلیر۔ بہادر۔

بے دہن اف۔ صفت اے شخص جو بات کہنے پر قادر نہ ہو (دہن معنی منہ)  
بے دہد (۱)۔ صفت اے مروت سے لحاظ۔ بے حیا۔

بے دیکھے بھالے (۱)۔ صفت اے بغیر تحقیقات کے۔ بے سوچے سمجھے۔  
آزمانے بغیر۔

بے دین اف۔ صفت اے ایمان۔ بد مذہب۔  
بے ڈول (۱)۔ صفت اے ڈھنگا۔ بد نما۔ بھونڈا۔ بد مزہ۔ ناموزوں  
بے ڈھب (۱)۔ بے طرح (۲)۔ بے موقع (۳)۔ بے قابو (۴)۔ بے ٹھکانا۔

(۵) بہت زیادہ (۶) عجیب۔ اگوا۔ طرفہ (۷) جالاک۔ مینفنی (۸)  
ظالم۔ بے رحم (۹) داؤ پیچ میں نہ آنے والا۔ زور آور (۱۰)۔ دلیر (۱۱)  
کٹھن۔ دشوار (۱۲)۔ مہلک۔ خطرناک

بے ڈھنگا (۱)۔ (ن)۔ بے سلیقہ۔ بے قاعدہ (۲)۔ نا شانہ سنتہ۔ ناموزوں۔  
بد مزہ (۳)۔ بد نما (۴)۔ بد چلن۔ بد اطوار۔ بے راہ۔

بے ڈھنگی (۱)۔ صفت اے ڈھنگا کی تائید۔  
بے ڈھنگی بات (۱)۔ صفت اے بات جو خلاف دستور ہو بے موقع بات  
بے ذوق اف۔ صفت اے مزہ۔ بھیکا۔

بے راہ اف۔ صفت ۱۱۱۔ گراہ۔ بے طرقتی (۲)۔ بے اصول (۳)۔ غلط۔ جا  
۱۲۱۔ خلاف قاعدہ (۵)۔ بد چلن۔ بد اطوار (۶)۔ ناجائز۔ خلاف رسم و رواج  
بے راہ رواف۔ صفت اے غلط رستے پر چلنے والا۔ بد چلن ہونا۔

بے راہ روی (۱)۔ صفت اے چلتی۔ آوارگی۔  
بے ربط اف۔ صفت اے تعلق۔ بے واسطہ (۲)۔ بے موقع۔

بے رت (۱)۔ صفت اے موسم۔ بے فصل۔  
بے رحم اف۔ صفت اے سخت ظالم۔ نامہربان۔ سنگ دل۔  
بے سخا ہونا (۲)۔ محاورہ (۱)۔ منہ بھیرنا۔ بے مروت ہونا (۲)۔ ناراض ہونا۔  
خفا ہونا۔ (۳)۔ دھیان نہ کرنا۔

بے رچی اف۔ ۱۔ صفت اے بیروتی۔ بے لحاظی۔ بے توجہی۔  
بے رچی کرنا (۲)۔ محاورہ (۱)۔ توجہ نہ کرنا۔ پروا نہ کرنا۔

بے رنگ (۱)۔ صفت اے موقع۔ اس چیز کی نسبت کہتے ہیں جس میں  
کوئی لطف نہ ہو۔ بے لطف۔ بھیکا۔

بے روپ (۱)۔ صفت ۱۱۱۔ بد شکل (۲)۔ بد رنگ (۳)۔ ناقص۔ خراب  
۱۲۱۔ بے رونق۔ بھدا۔

بے روزگار اف۔ صفت اے جس کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ بے کار  
بے روزہ (ن)۔ صفت اے جس کا روزہ نہ ہو۔

بے روک ٹوک (۱)۔ صفت اے خوف۔ بے خطر۔ بے اندیشہ۔ اطمینان  
سے۔ بغیر روکے جانے کے۔

بے فضل ان صف اے وقت۔ موسم کے خلاف ۱۲۱ ناسٹے کے غیر مسلسل  
بے فضل کی بہار ان ۱- مرث ۱۱۱ موسم کے خلاف ۱۲۱ بے موسم پہل  
بھیجتے وقت پھیری والے کی صدار۔

بے فکر بے فکر ان ۱- صف: فکر سے بری۔ بے پروا غور و فکر  
بے کرنے والا۔ آزاد۔

بے فیض ان صف ۱۱۱ شوم بخیل۔ بخوس ۱۲۱ وہ شخص جس سے  
کوئی فائدہ نہ ہو۔

بے فیض اگر بوسفت ثانی سے تو کیا ہے ۱۱۱ مثل جس سے اپنا  
مطلب پورا نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں۔

بے قابو ان صف ۱۱۱ قابو سے باہر۔ اختیار سے باہر ۱۲۱ آزاد خود مختار  
بے قاعدہ ان صف اصول کے خلاف۔ بے ترتیب۔ قاعدے کے خلاف  
بے قدر ان صف ۱۱۱ بے عزت۔ ذلیل ۱۲۱ قدر نہ کرنے والا۔  
نا قدر دان۔ ناشکرا۔

بے قرار ان صف اے صبر۔ بے تاب۔ بے چین۔

بے قریب ان صف اے موقع بے ٹھکانے۔ پریشان۔ بے ترتیب  
بے قصد ان صف اے ارادہ۔ یوں ہی۔ دفعتاً۔

بے قضا مارا جانا محاورہ اے موت مارا جانا۔

بے قصور ان صف اے خطا۔ بے گناہ۔ بے جرم۔

بے قیاس ان صف اخیال سے باہر سمجھ سے دور ۱۲۱ لا انتہا  
بہت۔ بے شمار۔

بے قید ان صف ۱۱۱ آزاد۔ خود مختار ۲۱ بے روک جو کسی پابندی  
کو اختیار نہ کرے۔

بے کار ان صف ۱۱۱۔ ناکارہ ۱۲۱ ناقص۔ خراب ۳۱ بے روزگار۔  
۱۲۱ معطل۔ خالی۔

بے کار سے بیگار بھلی (مثل) اے کار رہنے سے بغیر معاوضہ کے  
کام کرنا اچھل ہے۔

بے کامیابی کچھ کیا کر۔ کچھ سے ہی ادھیڑ کر سیا کر (مثل) اخیال  
رہنے سے کپڑوں کا ادھیڑ کر سینا ہی اچھا ہے۔ آدمی کو کچھ شغل  
ضرور چاہیے۔

بے کاری۔ بے روزگاری۔ نکتا پن

بے کمر ان صف بہت زیادہ۔ نہایت وسیع ۲۱ اے کنارہ  
بے کس ان صف اے بارود و کار۔ دوست آشنا کے بغیر  
تینا۔ اکیلا۔ محتاج۔ کنگال ۴۱ مسافر۔ پرہیزی ۱۵۱ یتیم۔

بے کسی ان صف ۱۱۱ اکیلا پن بے مددگاری۔ عاجزی۔ لا چاری۔  
بے کل ۱۱۔ صف اے چین۔ بے قرار۔ بے آرام۔ بے تاب۔

بے کلی ۱۱۔ مرث ۱۱۱ بے چینی۔ بے قراری۔ بے کرامتی  
بے کم و کاست ان صف بالکل درست۔ ٹھیک ٹھیک

بے کسب کسی کے بغیر۔  
بے گامی ان ۱- مرث اے تعلقی۔

بے گانہ ان صف۔ غیور۔ بہا۔ با۔ بگا نہ کی ضد ۱۲۱ جنی پرہیزی

بے شعور ان صف اے نقل۔ بے تمیز۔ نادان۔ (مخفی) صحیح ۱۲۱  
بے شک ان صف ۱۱۱ بے شبہ ۱۲۱ درست۔ ٹھیک۔ صحیح ۱۲۱  
لازمی۔ ضروری۔

بے شمار ان صف ۱۱۱ بے حساب۔ شمار سے باہر ۲۱ بکثرت۔ زیادہ  
بے صبر ان ۱- صف اے جو صبر نہ کر سکے۔ بے چین۔ بے قرار۔ مضطرب  
بے صبر کی ان صف اے فراری۔ بے اطمینانی۔ گھبراہٹ۔

بے صرف ان صف اے فائدہ۔ بہت زیادہ۔ بغیر احتیاط کے۔  
بے نصاب ان صف اے قاعدہ۔ خلاف قانون۔ بے طریقہ۔  
بے ضابطگی ان صف اے قاعدگی۔

بے ضرورت ان صف جس کی ضرورت نہ ہو۔  
بے طالع ان صف اے نصیب۔ بد قسمت۔

بے طرح ان صف ۱۱۱ بری طرح۔ عجیب طور پر ۱۲۱ بے حد زیادہ  
۱۳۱ اختلاف و دستور ۱۲۱ وہ غل جو مصراع طرح کے خلاف پڑھی جائے

بے طریق ان صف انا جائز طور پر۔ بے قاعدہ۔  
بے طلب ان صف اے بغیر مانگے۔ بن بلائے۔  
بے طمع ان صف اے بغیر مانگے۔ مستغنی۔

بے طور ان صف اے بری طرح بہت زیادہ۔  
بے عدل ان صف اے مثال۔ بے نظیر۔

بے عزت ان صف اے ذلیل۔ غوار۔ بدنام۔ بے آبرو۔  
بے عزتی کرنا محاورہ اے آبرو کرنا۔ بے توقیر کرنا۔

بے عقل ان صف انا سمجھ۔ کم فہم۔ نادان۔ بے ذوق۔  
بے عدلت ان صف اے وجہ کے سبب۔

بے عنوان ان صف جس کا کوئی عنوان نہ ہو۔ سرخی کے بغیر۔  
بے فائدہ۔

بے عنوانی بے قاعدگی۔ بے ضابطگی۔ بد انتظامی۔  
بے عیب ان صف ۱۱۱ پاک۔ صاف ۱۲۱ عمدہ۔ اچھا۔ کھرا ۳۱  
بے دراز۔ بے نقص۔

بے عیب ذات بخدا کی ۱۱ مفقودہ اعدائے کی ذات میں کسی  
قسم کا عیب اور نقص نہیں۔

بے غایت ان صف بے حد۔ بے انتہا۔  
بے عرض ان صف خواہش نہ رکھنے والا۔ بے تعلق۔ بے پروا۔ طبع  
بے عمل و غش ان صف ۱۱۱ اتلا تکلّف۔ بے دروغ۔

اندھا ہند۔ بے پروائی سے ۱۳۱ بلا محنت و تکلیف غل و غش یعنی کھد  
بے علم ان صف جسے علم نہ ہو۔ خوش۔ مگن۔ بے فکر۔

بے غیرت ان صف اے کیا۔ بے شرم۔ بے حیثیت۔ بے جیا۔  
بے غیرتی یہ کہ باندھنا محاورہ اے حیاتی پر آوارہ ہونے یا شرم بن جانا  
بے غیرتی کا ٹھیکہ آنکھوں پر رکھنا بے غیرتی کا جامہ پہننا۔

محاورہ اے غیرت بن جانا۔ بے حیاء بن جانا۔  
بے فائدہ ان صف اے کار۔ فضول۔ ناحق۔ بے وجہ۔ بے ضرورت

بے فائدہ ان صف اے کار۔ فضول۔ ناحق۔ بے وجہ۔ بے ضرورت

بے فائدہ ان صف اے کار۔ فضول۔ ناحق۔ بے وجہ۔ بے ضرورت

بے فائدہ ان صف اے کار۔ فضول۔ ناحق۔ بے وجہ۔ بے ضرورت

بے فائدہ ان صف اے کار۔ فضول۔ ناحق۔ بے وجہ۔ بے ضرورت

بے منتنا (۱) کسی کا احسان نہ اٹھانے والا (۲) دو شاخی لکڑی جس میں کپڑا باندھ کر جھنگڑ لوگ جھانگ جھانتے ہیں۔  
بے موت مرنا (مجاورہ) قبیل از وقت مرنا۔

بے موجب (ف۔ ص) (۱) بے سبب۔ بلا وجہ (۲) ناحق۔ نا واجب  
بے موسم (ف۔ ص) (۱) بے رت۔ بے وقت۔  
بے موقع (ف۔ ص) (۱) بے محل بے وقت (۲) نامناسب یا زیبا  
بے مہار (ف۔ ص) (۱) آزاد۔ بے روک۔  
بے جہر۔ (ف۔ ص) (۱) بے محبت۔ بے رحم۔ بے مروت۔  
بے جہری۔ بے محبتی۔ بے رعایتی۔ بے نزہتی  
بے میل (۱) ص) جو کسی سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ بے جوڑ۔  
بے ربط۔

بے نام (۱) ص) اگم نام۔

بے نام و نشان (ف۔ ص) (۱) بے پتا۔ بے ٹھکانا۔

بے نصیب (ف۔ ص) (۱) بد بخت۔ بد نصیب (۲) انا راق  
ناشائستہ

بے نظر (ف۔ ص) (۱) لاشائی۔ بے بدل۔ بے مانند۔ بے مثال۔ بیشل  
بے نقط (ف۔ ص) (۱) وہ لفظ جس پر کوئی نقطہ نہ ہو۔ غیر منقوط  
بے نقط سنانا (مجاورہ) بے آتما گا لیاں سنانا۔ بے تعداد طعنے دینا۔  
بے نقط کالیاں دینا (مجاورہ) بخش گالیاں دینا۔  
بے نماز (ف۔ ص) (۱) نماز نہ پڑھنے والا۔ تارک نماز (۲) حائضہ  
ایام ماہواری سے۔

بے نماز ہونا (مجاورہ) (۱) نماز نہ پڑھنے والا ہونا (۲) حائضہ ہونا۔  
ماہواری ایام سے ہونا۔

بے نمک (ف۔ ص) (۱) اُلٹا۔ پھیکا۔ بے مزہ (۲) رنگت میں  
ملاحت کا نہ ہونا۔ رنگت کا کشن نہ کرنا۔ چہرے کے لبے لافق ہونا  
بے نمک آواز (ف۔ ص) (۱) وہ آواز جس میں پچھ لطف نہ ہو۔  
بے نمود (ف۔ ص) (۱) غیر نمایاں۔ غیر اہم۔ غیر مشہور۔ کم رتبہ۔

بے رنگ (ف۔ ص) (۱) بے سترم۔ بے حیا۔ بے عزت۔  
بے رنگ (نام) (۱) ناموس (۲) بے سترم۔ بے حیا (۳) بد وضع۔ بد چہرہ۔  
بے نوا (ف۔ ص) (۱) بے سامان۔ فقیر۔ بے کس۔

بے نوا ہونا (مجاورہ) بے نوا فقیر کا انداز اختیار کرنا۔  
بے نیاز (ف۔ ص) (۱) بے پروا۔ ناطح۔ بے غرض۔ مستغنی  
بے نیازی (۱) بے پروائی۔ استغناء (۲) آزادی۔ خود مختاری۔  
بے نیل (مراوم) (ف۔ ص) (۱) نام کام و نامراد مقصد حاصل کیے  
بغیر آئیل معنی پہنچنا۔ اور مرام معنی غرض۔ مطلب (۱)

بے وارثا (۱) ص) (۱) جس شخص کا کوئی مددگار نہ ہو۔ کوئی نہیں  
بے وارثی (۱) نافرڈا نوال ڈول (مثلاً) اور وارثی چیز کی فکر کسی کو نہیں  
ہوتی۔ بغیر مالک کے سب کام خراب ہوتے ہیں۔  
بے وجہ (ف۔ ص) (۱) بے سبب۔ بے سبب سے۔  
بے وجہ (۲) بے فعل (بغیر کسی سبب کے۔

(۳) خورد و۔  
بے گاتہ دار (۱) دشمن۔ غیروں کی طرح۔ اجنبی کی طرح۔  
بے گاتی کھیتی پر کھینکنا چپے (مثلاً) دوسرے کے جھوسے یا  
حیثیت پر غور کرنا۔

بے گماں (ف۔ ص) (۱) بے شک۔ بے شبہ۔  
بے گناہ (ف۔ ص) (۱) بے قصور۔ بے خطا۔ بے جرم۔  
بے گناہی (۱) ص) (۱) بے جرم ہونا۔ بے قصور ہونا۔  
بے گنت (۱) ص) (۱) بے حساب۔ بے شمار۔ بے انتہا۔  
بے گور و کفن (ف۔ ص) (۱) جسے نہ کفن ملے اور نہ دفن ہو سکے۔  
بے گھ (۱) ص) (۱) بے ٹھکانے۔ بے گھر۔ خانہ خراب۔ بر بار (۲)  
آوارہ۔ سرگرداں (۳) بیوی بچے نہ رکھنے والا۔  
بے لاگ (۱) ص) (۱) بے غرض۔ صاف۔ سنھرا۔ پاک (۲) غیر طرف دار  
بے تعصب۔

بے لحاظ (ف۔ ص) (۱) بے سترم۔ بے حیا۔ بے غیرت (۲) شوخ۔ بے ادب  
بے لطف (ف۔ ص) (۱) بے مزہ۔ بے لذت۔ بے ذائقہ۔  
بے لگام (ف۔ ص) (۱) منہ زور۔ سرکش۔ شہر گھوڑا (۲) (کتابتاً)  
گستاخ۔ منہ پھٹ۔ بے ادب۔ بد زبان۔

بے لگاؤ (۱) ص) (۱) بے جوڑ۔ بے ربط (۲) بے لاگ۔  
بے لوث (ف۔ ص) (۱) خالص۔ بے آمیزش (۲) بے غرض۔ بے مخلص۔  
بے لیے لیے (۱) ص) (۱) بے غرض۔ بے لگے۔ بے غیرت۔ بے  
بغیر رشوت دینے۔

بے بات (۱) ص) (۱) سوتیلا۔ سوتیلی۔ بغیر ماں کا بغیر ماں کی۔  
بے مادم (ف۔ ص) (۱) نفسانیت کے بغیر خودی کی حالت ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔  
بے مائی (ف۔ ص) (۱) فلسفی۔ دولت اور مایہ کا نہ ہونا۔  
بے ماسر (ف۔ ص) (۱) بے دولت۔ مفلس۔ غریب۔ نادار۔  
بے مثال (مثلاً) (۱) جس کی مثال نہ ہو۔ لاجواب۔ لاشائی۔  
بے حجاب (ف۔ ص) (۱) بے خوف۔ بے دھڑک۔ بلا تامل۔  
بے محل (ف۔ ص) (۱) بے موقع۔ بے حیا۔ نامناسب۔

بے مروت (ف۔ ص) (۱) لحاظ نہ کرنے والا۔ طوطا چشم (۲) ناچار  
بے درد۔ ظالم۔

بے مزگی (ف۔ ص) (۱) بے لطفی (۲) رنجیدگی۔ شکر رنجی (۳) ناسازی  
علاقت۔

بے مزہ (ف۔ ص) (۱) بے لذت۔ بد ذائقہ۔ بے لطف (۲) ناساز۔  
عبیل۔ بیماری (۳) رنجیدہ۔ ناراض۔ بخفا۔  
بے مصروف (ف۔ ص) (۱) بے فائدہ۔ بے نتیجہ۔ بے کار۔ نکم۔  
بے معنی (ف۔ ص) (۱) بے معنی۔ بے ہودہ۔ بے سرو پا۔  
بے مغز (ف۔ ص) (۱) بے مغز۔ بے عقل۔ بے حیا۔

بے مفرد (ف۔ ص) (۱) بے غریب۔ مفلس۔ بے حیثیت۔  
بے منت (ف۔ ص) (۱) بے احسان (۲) بے نیاز۔ بے پروا۔  
مستغنی (۳) بے محنت۔ بلا کوشش (۴) بلا غور و خوض۔

لے وحدت اف نصف اے شرم، بے جیا بے ادب بد لحاظ۔  
بنے وطن (نصف ۱۱) وطن اور ملک سے نکالا ہوا (۲۱) مسافر  
جو اپنے ملک میں نہ ہو۔

بے وطنی اف۔ مٹا پردیس۔ اپنے ملک سے باہر ہونا۔  
بے وسواس ۱۵۔ اے کھٹکے۔ بلاتامل۔

بے وفات نصف ابد عمد۔ وعدہ نہ پورا کرنے والا (۲) بے مروت  
ناہریان (۳) ناشکر گزار (۴) جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے۔

بے وفائی اف۔ مٹا (۱۱) بد عہدی بے مروتی (۲) ادغا بازی نمک  
حرابی (۱۲) بدکاری۔ (۴) ناشکر گزاری۔

بے وقار اف۔ نصف اے عزت۔ بے قدر۔ ذلیل۔ خوار۔ اوجھا۔  
بے وقت اف۔ نصف اے موقع۔ بے محل۔ آؤر سو بے۔

بے وقت کا الاب (براک ۱۱)۔ مذا انما سبب جھگڑا۔ بے موقع بات  
بے وقت کی راگنی، شہنائی، اجمادہ اے موقع کام۔ وہ کام جو  
مناسب وقت پر نہ کیا جائے۔

بے وقت کی سو جھٹنا اجمادہ اے موقع بات کرنا نامناسب جھگڑا  
نے وقت اف۔ نصف اے عزت۔ ذلیل۔ کم ظرف۔ فرومایہ۔

بے وقربی۔ بے عزتی۔ ذمت۔ خواری۔ رسوائی۔  
بے وقعت اف۔ نصف اے عزت۔ بے اعتبار۔ بے وزن۔

بے وقوف اف۔ نصف اے عقل۔ احمق۔ نادان۔  
بے وقوف کے سر پر کیا سینک ہوتے ہیں (مثلاً بیوقوف  
کی کوئی خاص ظاہری پہچان یا علامت نہیں ہوتی۔

بے وقوفی اف۔ مٹا نادانی حماقت۔ بے عقلی۔ جہالت۔  
بے ہمتی اف۔ نصف ۱۱۱ کم حوصلہ۔ پست ارادے والا (۳) است

کابل (۳) بزدل۔ نامرد۔  
بے ہمتی اف۔ نصف اے مثل۔ جس کے برابر کوئی نہ ہو۔ بے نظیر۔

بے ہنم و باہم اف۔ نصف ۱۱۱ خداوند پاک جو سب کا مددگار ہے  
اور کسی کا خنجان نہیں (۱۲) ایسا شخص جو کمزور بات دہنوی اور جھگڑے  
فساد سے الگ رہ کر تمام لوگوں سے میل جول رکھے۔

بے ہنر بے ہنر اف۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔  
نما۔ بھروسہ۔

بے ہنر کام اف۔ نصف اے وقت۔ بے موقع۔  
بے ہنر کم (نصف ۱۰)۔ نصف اے ڈول۔ غیر موزوں۔ بد مزہ۔ بھروسہ۔

بے ہنر کی اف۔ مٹا (۱) بھروسہ۔ بے ڈھنگ پن۔ نادانی۔  
ناشائستگی۔

بہودہ پھرنا (اجمادہ) آوارہ پھرنا۔ مارا مارا پھرنا۔  
بہودہ کو اف۔ نصف اے فضول کہنے والا۔

بہودہ گوئی اف۔ مٹا غیر مذہب گفتگو۔ فضول باتیں۔  
بے ہوشی اف۔ نصف اے خیر نافرمانی (۲) بد ہوشی بے خود غافل  
بے ہوشی اف۔ مٹا (۱۱) نادان کیفیت بے خبری (۲) غفلت۔

مد ہوشی۔ بے خودی۔

بے بار و مددگار۔ اف۔ نصف اے سہارا۔ بے کس۔ اکیلا۔ جس کا  
کوئی مساعف نہ ہو۔

بیابان (یا ۱۵)۔ مٹا [جزیرا کی طرح ایک بے ہنرہ (اس کا گھر بنانا  
بڑا مشہور ہے۔

بیابان اب۔ یا۔ بان (ن)۔ اندر رگستان جنگل۔ ویرانہ۔ اُجڑا جہاں  
بے کمسوں تک پانی اور درخت نہ ہو۔

بیابان گرد۔ بیابان نور دان۔ نصف اے جنگلوں میں پھرنے والا۔ وہ  
شخص جس کا کہیں ٹھکانا نہ ہو۔

بیابان مرگ اف۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔  
کا پُرساں حال نہ ہو۔

بیابانی اب۔ یا۔ بان (ن)۔ نصف اے جنگل کا جنگلی جنگل میں پھرنے  
پھرنے والا۔

بیابان اب۔ یا۔ بان (ن)۔ نصف اے مٹا (۱۱) سماں۔ بساں۔ بیٹھنا (۲) ہریت  
کرنا۔ اثر کرنا۔ (۳) گزارنا۔ کھٹکے۔

بیاج اب۔ یا۔ ج (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔  
بیاج بھرنا (۱۰)۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔

بیاج پر بیاج (۵)۔ مٹا (۵)۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔  
بیاج خور اف۔ نصف ۱۱۱ سود خور۔ ربا خور (۱۲) ناجائز مال  
کھانے والا۔

بیاجو اب۔ یا۔ جو (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ نصف ۱۰۔ نصف ۱۰۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔

بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔  
بیاجو بیال اب۔ یا۔ ب۔ بیال (۱۰)۔ مٹا (۱۰)۔ باو۔ ہوا (۱۱)۔





بیٹی کا باب (۱۱-صفت) کمزور اور بے بس آدمی۔  
 بیٹی دھن پیمانے سے بھی زلائے جانے سے بھی زلائے (مثل) بیٹی  
 کی پیدا کنش اشاری اور موت پر ماں باپ علیکین ہوتے ہیں۔  
 بیچ (Badge) [انگ۔ ۱-۱] نشان۔  
 بیچ [۵-۱۰-۱] [۱۱-۱] [۱۲-۱] اصل و بنیاد (۳) لفظ۔  
 بیچ بونا (محاورہ) [۱۱] [۱۲] [۱۳] کرسی بات کی بنیاد ڈالنا (۳)  
 باعث ہونا۔ سبب ہونا۔  
 بیچ بڑنا (محاورہ) تخم پاشی ہونا۔ بنیاد بڑنا (۲) اصل ہونا۔ لطف بڑنا۔  
 بیچ پھوٹنا (محاورہ) بیچ سے پودے کا ظاہر ہونا۔ بیچ کا اگنا۔  
 بیچ جھنا (محاورہ) [۱۱] [۱۲] [۱۳] اگنا۔ پھوٹنا (۲) اصل بھڑنا۔ لطف قرار پانا۔  
 بیچ دار (محاورہ) بہت بیچوں والا جس میں بکثرت بیچ ہوں۔  
 بیچ دباننا (محاورہ) اگنے کی کاشت کے اس کے بیچ کو چند دن  
 کے لیے مٹی میں دبا کر رکھنا۔  
 بیچ ڈالنا (محاورہ) تخم بڑی کرنا۔  
 بیچ کھاد (۱-۱) [۱۲] [۱۳] [۱۴] غلہ جو کاشت کاروں کو کاشت اور خوراک کے  
 لیے دیا جاتا ہے۔  
 بیچ مارا جانا (محاورہ) اتنا ہونا۔ برباد ہونا۔ غارت ہونا۔ کسی چیز کو  
 اگنے کے لیے ناپید ہونا۔  
 بیچ مار دینا (محاورہ) بالکل غارت کر دینا۔ کسی چیز کو بالکل مٹا دینا۔  
 بیچ ناس کرنا (محاورہ) اتنا کرنا۔ بالکل ناپید کرنا۔ جڑا کھینچ دینا۔  
 بیچا (۱-۱) [۱۲] [۱۳] [۱۴] ایک ڈرافٹی شکل کا کاغذی چہرہ جسے نچے منہ پر  
 رکھ کر ڈالتے ہیں۔  
 بیجانی (۱-۱) [۱۲] [۱۳] [۱۴] بیچنے کا موسم۔ بیچنے کی اجرت۔  
 بیجک (بی۔ جک) [۱۲] [۱۳] [۱۴] مال کی فرد۔ مال کی فہرست جس میں  
 ہر چیز کا نرخ، قیمت اور میزان درج ہو۔ بیچ زیادہ مستعمل ہے۔  
 بیچنا (بیچ۔ نا) [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱] [۲۹۲] [۲۹۳] [۲۹۴] [۲۹۵] [۲۹۶] [۲۹۷] [۲۹۸] [۲۹۹] [۳۰۰] [۳۰۱] [۳۰۲] [۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰] [۳۳۱] [۳۳۲] [۳۳۳] [۳۳۴] [۳۳۵] [۳۳۶] [۳۳۷] [۳۳۸] [۳۳۹] [۳۴۰] [۳۴۱] [۳۴۲] [۳۴۳] [۳۴۴] [۳۴۵] [۳۴۶] [۳۴۷] [۳۴۸] [۳۴۹] [۳۵۰] [۳۵۱] [۳۵۲] [۳۵۳] [۳۵۴] [۳۵۵] [۳۵۶] [۳۵۷] [۳۵۸] [۳۵۹] [۳۶۰] [۳۶۱] [۳۶۲] [۳۶۳] [۳۶۴] [۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹] [۳۸۰] [۳۸۱] [۳۸۲] [۳۸۳] [۳۸۴] [۳۸۵] [۳۸۶] [۳۸۷] [۳۸۸] [۳۸۹] [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳] [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] [۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲] [۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] [۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] [۵۶۳] [۵۶۴] [۵۶۵] [۵۶۶] [۵۶۷] [۵۶۸] [۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱] [۵۷۲] [۵۷۳] [۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱] [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] [۵۸۸] [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲] [۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵] [۵۹۶] [۵۹۷] [۵۹۸] [۵۹۹] [۶۰۰] [۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] [۶۰۷] [۶۰۸] [۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶] [۶۱۷] [۶۱۸] [۶۱۹] [۶۲۰] [۶۲۱] [۶۲۲] [۶۲۳] [۶۲۴] [۶۲۵] [۶۲۶] [۶۲۷] [۶۲۸] [۶۲۹] [۶۳۰] [۶۳۱] [۶۳۲] [۶۳۳] [۶۳۴] [۶۳۵] [۶۳۶] [۶۳۷] [۶۳۸] [۶۳۹] [۶۴۰] [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] [۶۴۵] [۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱] [۶۸۲] [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] [۶۹۸] [۶۹۹] [۷۰۰] [۷۰۱] [۷۰۲] [۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴] [۷۱۵] [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵] [۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] [۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴] [۷۸۵] [۷۸۶] [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱] [۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] [۷۹۵] [۷۹۶] [۷۹۷] [۷۹۸] [۷۹۹] [۸۰۰] [۸۰۱] [۸۰۲] [۸۰۳] [۸۰۴] [۸۰۵] [۸۰۶] [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] [۸۱۰] [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸] [۸۱۹] [۸۲۰] [۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] [۸۳۶] [۸۳۷] [۸۳۸] [۸۳۹] [۸۴۰] [۸۴۱] [۸۴۲] [۸۴۳] [۸۴۴] [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷] [۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸] [۸۵۹] [۸۶۰] [۸۶۱] [۸۶۲] [۸۶۳] [۸۶۴] [۸۶۵] [۸۶۶] [۸۶۷] [۸۶۸] [۸۶۹] [۸۷۰] [۸۷۱] [۸۷۲] [۸۷۳] [۸۷۴] [۸۷۵] [۸۷۶] [۸۷۷] [۸۷۸] [۸۷۹] [۸۸۰] [۸۸۱] [۸۸۲] [۸۸۳] [۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶] [۸۸۷] [۸۸۸] [۸۸۹] [۸۹۰] [۸۹۱] [۸۹۲] [۸۹۳] [۸۹۴] [۸۹۵] [۸۹۶] [۸۹۷] [۸۹۸] [۸۹۹] [۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] [۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] [۹۲۳] [۹۲۴] [۹۲۵] [۹۲۶] [۹۲۷] [۹۲۸] [۹۲۹] [۹۳۰] [۹۳۱] [۹۳۲] [۹۳۳] [۹۳۴] [۹۳۵] [۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱] [۹۴۲] [۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶] [۹۴۷] [۹۴۸] [۹۴۹] [۹۵۰] [۹۵۱] [۹۵۲] [۹۵۳] [۹۵۴] [۹۵۵] [۹۵۶] [۹۵۷] [۹۵۸] [۹۵۹] [۹۶۰] [۹۶۱] [۹۶۲] [۹۶۳] [۹۶۴] [۹۶۵] [۹۶۶] [۹۶۷] [۹۶۸] [۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷] [۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴] [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] [۹۹۱] [۹۹۲] [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷] [۹۹۸] [۹۹۹] [۱۰۰۰] [۱۰۰۱] [۱۰۰۲] [۱۰۰۳] [۱۰۰۴] [۱۰۰۵] [۱۰۰۶] [۱۰۰۷] [۱۰۰۸] [۱۰۰۹] [۱۰۱۰] [۱۰۱۱] [۱۰۱۲] [۱۰۱۳] [۱۰۱۴] [۱۰۱۵] [۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] [۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] [۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] [۱۰۵۵] [۱۰۵۶] [۱۰۵۷] [۱۰۵۸] [۱۰۵۹] [۱۰۶۰] [۱۰۶۱] [۱۰۶۲] [۱۰۶۳] [۱۰۶۴] [۱۰۶۵] [۱۰۶۶] [۱۰۶۷] [۱۰۶۸] [۱۰۶۹] [۱۰۷۰] [۱۰۷۱] [۱۰۷۲] [۱۰۷۳] [۱۰۷۴] [۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳] [۱۰۸۴] [۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] [۱۰۹۳] [۱۰۹۴] [۱۰۹۵] [۱۰۹۶] [۱۰۹۷] [۱۰۹۸] [۱۰۹۹] [۱۱۰۰] [۱۱۰۱] [۱۱۰۲] [۱۱۰۳] [۱۱۰۴] [۱۱۰۵] [۱۱۰۶] [۱۱۰۷] [۱۱۰۸] [۱۱۰۹] [۱۱۱۰] [۱۱۱۱] [۱۱۱۲] [۱۱۱۳] [۱۱۱۴] [۱۱۱۵] [۱۱۱۶] [۱۱۱۷] [۱۱۱۸] [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱] [۱۱۲۲] [۱۱۲۳] [۱۱۲۴] [۱۱۲۵] [۱۱۲۶] [۱۱۲۷] [۱۱۲۸] [۱۱۲۹] [۱۱۳۰] [۱۱۳۱] [۱۱۳۲] [۱۱۳۳] [۱۱۳۴] [۱۱۳۵] [۱۱۳۶] [۱۱۳۷] [۱۱۳۸] [۱۱۳۹] [۱۱۴۰] [۱۱۴۱] [۱۱۴۲] [۱۱۴۳] [۱۱۴۴] [۱۱۴۵] [۱۱۴۶] [۱۱۴۷] [۱۱۴۸] [۱۱۴۹] [۱۱۵۰] [۱۱۵۱] [۱۱۵۲] [۱۱۵۳] [۱۱۵۴] [۱۱۵۵] [۱۱۵۶] [۱۱۵۷] [۱۱۵۸] [۱۱۵۹] [۱۱۶۰] [۱۱۶۱] [۱۱۶۲] [۱۱۶۳] [۱۱۶۴] [۱۱۶۵] [۱۱۶۶] [۱۱۶۷] [۱۱۶۸] [۱۱۶۹] [۱۱۷۰] [۱۱۷۱] [۱۱۷۲] [۱۱۷۳] [۱۱۷۴] [۱۱۷۵] [۱۱۷۶] [۱۱۷۷] [۱۱۷۸] [۱۱۷۹] [۱۱۸۰] [۱۱۸۱] [۱۱۸۲] [۱۱۸۳] [۱۱۸۴] [۱۱۸۵] [۱۱۸۶] [۱۱۸۷] [۱۱۸۸] [۱۱۸۹] [۱۱۹۰] [۱۱۹۱] [۱۱۹۲] [۱۱۹۳] [۱۱۹۴] [۱۱۹۵] [۱۱۹۶] [۱۱۹۷] [۱۱۹۸] [۱۱۹۹] [۱۲۰۰] [۱۲۰۱] [۱۲۰۲] [۱۲۰۳] [۱۲۰۴] [۱۲۰۵] [۱۲۰۶] [۱۲۰۷] [۱۲۰۸] [۱۲۰۹] [۱۲۱۰] [۱۲۱۱] [۱۲۱۲] [۱۲۱۳] [۱۲۱۴] [۱۲۱۵] [۱۲۱۶] [۱۲۱۷] [۱۲۱۸] [۱۲۱۹] [۱۲۲۰] [۱۲۲۱] [۱۲۲۲] [۱۲۲۳] [۱۲۲۴] [۱۲۲۵] [۱۲۲۶] [۱۲۲۷] [۱۲۲۸] [۱۲۲۹] [۱۲۳۰] [۱۲۳۱] [۱۲۳۲] [۱۲۳۳] [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] [۱۲۳۶] [۱۲۳۷] [۱۲۳۸] [۱۲۳۹] [۱۲۴۰] [۱۲۴۱] [۱۲۴۲] [۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] [۱۲۵۱] [۱۲۵۲] [۱۲۵۳] [۱۲۵۴] [۱۲۵۵] [۱۲۵۶] [۱۲۵۷] [۱۲۵۸] [۱۲۵۹] [۱۲۶۰] [۱۲۶۱] [۱۲۶۲] [۱۲۶۳] [۱۲۶۴] [۱۲۶۵] [۱۲۶۶] [۱۲۶۷] [۱۲۶۸] [۱۲۶۹] [۱۲۷۰] [۱۲۷۱] [۱۲۷۲] [۱۲۷۳] [۱۲۷۴] [۱۲۷۵] [۱۲۷۶] [۱۲۷۷] [۱۲۷۸] [۱۲۷۹] [۱۲۸۰] [۱۲۸۱] [۱۲۸۲] [۱۲۸۳] [۱۲۸۴] [۱۲۸۵] [۱۲۸۶] [۱۲۸۷] [۱۲۸۸] [۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۱۲۹۱] [۱۲۹۲] [۱۲۹۳] [۱۲۹۴] [۱۲۹۵] [۱۲۹۶] [۱۲۹۷] [۱۲۹۸] [۱۲۹۹] [۱۳۰۰] [۱۳۰۱] [۱۳۰۲] [۱۳۰۳] [۱۳۰۴] [۱۳۰۵] [۱۳۰۶] [۱۳۰۷] [۱۳۰۸] [۱۳۰۹] [۱۳۱۰] [۱۳۱۱] [۱۳۱۲] [۱۳۱۳] [۱۳۱۴] [۱۳۱۵] [۱۳۱۶] [۱۳۱۷] [۱۳۱۸] [۱۳۱۹] [۱۳۲۰] [۱۳۲۱] [۱۳۲۲] [۱۳۲۳] [۱۳۲۴] [۱۳۲۵] [۱۳۲۶] [۱۳۲۷] [۱۳۲۸] [۱۳۲۹] [۱۳۳۰] [۱۳۳۱] [۱۳۳۲] [۱۳۳۳] [۱۳۳۴] [۱۳۳۵] [۱۳۳۶] [۱۳۳۷] [۱۳۳۸] [۱۳۳۹] [۱۳۴۰] [۱۳۴۱] [۱۳۴۲] [۱۳۴۳] [۱۳۴۴] [۱۳۴۵] [۱۳۴۶] [۱۳۴۷] [۱۳۴۸] [۱۳۴۹] [۱۳۵۰] [۱۳۵۱] [۱۳۵۲] [۱۳۵۳] [۱۳۵۴] [۱۳۵۵] [۱۳۵۶] [۱۳۵۷] [۱۳۵۸] [۱۳۵۹] [۱۳۶۰] [۱۳۶۱] [۱۳۶۲] [۱۳۶۳] [۱۳۶۴] [۱۳۶۵]

















پ۔ (پے) اردو اور فارسی کا تیسرا ہندی کا کیسواں حرف۔ اجد کے حساب میں اس کے تین عدد مقرر ہیں۔ بعض ہندی الفاظ کے بعد آئے تو مصدر کے معنی دیتا ہے جیسے ٹاپ۔ فارسی میں یہ کئی حرفوں سے بدل جاتا ہے جیسے تب۔ تب۔ سیند۔ سپید۔

## پ

پاؤں (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) پاؤں۔ قدم۔ پیر (۲) نیچے۔ زیریں۔ تخت (۳) پائیداری۔ قدرت۔ قوت۔ مضبوطی۔ استقلال۔ ٹھیراؤ (۴) بیخ۔ بنیاد (۵) گرامر میں بطور لاحقہ جیسے موٹا پا۔ ٹھہرا پا۔ یا دیر پا (۶) پاؤ کا مختلف جیسے آدھ پا۔ پافر از۔ جوتی۔ پاپوش۔ پائاؤتادہ۔ (ن۔ صفت) بے کس۔ بے سہارا۔ عاجز۔ جمع؛ اٹنا دگان۔ پائافشار۔ کھڑاؤں۔ پائانداڑ۔ (ن۔ مذ) روپے، ٹاٹ، بریٹا، موج کا ٹکڑا جو دروازے کے آگے ہوتے صاف کرنے کے لیے دکھاتے ہیں گاڑی میں پیر کھنے کی جگہ رکھتے ہیں پاجوکوالاں۔ (ن۔ صفت) (۱) پاؤں میں بیڑی۔ پاؤں میں زنجیر۔ پار زنجیر (۲) مقصد۔ مجوس (۳) مجبور۔ محتاج (۴) ملازم۔ نوکر۔ خدمت گزار (۵) بیاد ہوا۔ پایدامن۔ (یا۔ بہ۔ دامن) (ن۔ صفت) دامن میں پاؤں سیٹھے ہوئے گوشہ نشین۔ جس نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا ہو۔ پایدست دگرے دست بدست دگرے۔ (ن۔ محاورہ) (۱) پاؤں ایک کے ہاتھ میں۔ ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں (۲) کشاں کشاں۔ (۳) جبر سے۔ پابڑکاب۔ (ن۔ صفت) جانے پر آمادہ۔ چلنے پر مستعد۔ پابڑہسنہ۔ (ن۔ صفت) ننگے پاؤں۔ پابڑنجیر۔ (یا۔ بہ۔ زنجیر) (ن۔ صفت) وہ جس کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی پائست۔ پابستہ۔ (ن۔ صفت) مستحکم۔ مضبوط (۲) گرفتار۔ پانگل۔ (یا۔ بہ۔ گل) (ن۔ صفت) (۱) کچھوں میں پاؤں۔ جس کے پاؤں مٹی میں ہوں (۲) قیدی۔ بے بس۔ حیران۔ بند۔ پابند (یا نئے بند)۔ (۱) عادی۔ نوکر (۲) نوکر۔ ملازم۔ محکم (۳) ہاتھت ملیح (۴) گرفتار۔ رکا ہوا۔ قیدی (۵) قائم۔ ٹھیرا ہوا۔ مستقل۔ مضبوط (۵) بیڑی۔ زنجیر۔ پچھاڑی (۶) وہ دستی جس سے گھوڑے کے پیچھے پاؤں باندھتے ہیں (۵) کسی بات پر قائم رہنے والا۔ پابند کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) مقصد کرنا (۲) روکنا (۳) نوکر دکھنا (۴) شادی کرنا (۵) روک دینا (۶) کسی کام کا دستہ دار بنانا۔ پابندی۔ (ن۔ صفت) (۱) روک ٹھام (۲) بندش (۳) ملازمت۔ نوکری

ستابت۔ غلامی۔ فرماں برداری۔ مناجی (۴) قید۔ گرفتاری (۵) استقلال۔ قیام۔ استحکام (۶) بیڑی۔ جولاں (۷) لحاظ۔ خیال۔ دھیان (۸) عادت۔ نحو۔ پاپوس۔ (ن۔ صفت) (۱) قدم چومنے والا (۲) پاؤں پڑنے والا۔ قدم برس۔ (۳) چھکنے والا (۴) تسلیم کرنے والا (۵) خوشامدی۔ پاپوسی۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (۱) پاؤں چومنا۔ قدم لینا۔ قدم برس ہونا (۲) چھکنا تسلیم کرنا (۳) بڑوں کی ملاقات (۴) خاطر۔ تواضع۔ تعظیم۔ باب۔ (۵) مذ گناہ۔ تاپ کا پھیل۔ گناہ کا نتیجہ (۲) منوس۔ پشگون۔ تپت کی ناؤ آج نہیں توکل، کل نہیں تو پرسوں ڈوبے گی۔ (۱) تفل۔ غلام کو ضرور سزا ملتی ہے۔ پاپسوں کو مٹانے کو پاپ مہا بلی۔ (۲) منس۔ گنہگار اپنے گناہوں کی وجہ ہی سے تباہ ہوتا ہے۔ پاپوس۔ (ن۔ صفت) (۱) پزار۔ گفتش (تخیر سے)۔ ایزاری کا اٹھار۔ پاپوش نہ مارنا۔ (۱) محاورہ (۲) جوتا بھی نہ مارنا۔ نہایت بے وقعت سمجھنا۔ پاپوش پر مارنا۔ (۱) محاورہ (۲) ذلیل اور خیر سمجھنا۔ بے عزت جانا (۳) ذلیل کرنا (۴) ٹھکانا (۵) خاطر میں نہ لانا۔ پرواہ نہ کرنا۔ پاپوش جاتے۔ (محاورہ) (گلدستہ)۔ کچھ خبر نہیں۔ پتہ نہیں۔ پاپوش سے۔ پاپوش کی نوک سے۔ بلا سے۔ جوتی سے۔ کچھ پرواہ نہیں۔ پاپوش کاری۔ (ن۔ ۱۔ صفت) جوتیاں پڑنا۔ جوتیوں کی مار۔ پاپوش کے برابر نہ سمجھنا۔ (محاورہ) (۱) ذرا بھی خاطر میں نہ لانا (۲) نہایت حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ پاپوش کی گرد سمجھنا۔ (محاورہ) حقیر جانا۔ کوئی اہمیت نہ دینا۔ پاپوش کی نوک پر مارنا۔ (محاورہ) پرواہ نہ کرنا۔ ذلیل جانا۔ پاپوش مارنا۔ (محاورہ) (۱) جوتی مارنا (۲) بے توجہی کرنا۔ بے پرواہی کرنا۔ پاپیادہ۔ (ن۔ صفت) اپیدل۔ سوارسی کے بغیر۔ پاؤں پاؤں۔ پاتابہ۔ پائے تابہ۔ (ن۔ ۱) مذ (۲) تلو۔ چڑھا ہوا پاؤں کے نیچے ہوتے کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ (۳) کپڑے کا ٹہنا ہوا جوتا جو موزے کے اوپر پاؤں میں پہننے میں جس سے نوزہ محفوظ رہتا ہے (۳) موزہ۔ جراب۔ پاتراب۔ پائے تراب۔ (ن۔ ۱) مذ (۲) مقام بدلنا۔ جگہ تبدیل کرنا (۳) شگون سفر کے لیے گھر سے نکلنا۔ پاجامہ۔ پائے جامہ۔ (ن۔ ۱) مذ (۲) مشرقی لباس جو جسم کے پختے حصے میں پہنا جاتا ہے۔ نشواریا پتلون کی مانند۔

پاجامے سے باہر (ہوجانا) نکل پڑنا۔ پائے جاملے سے باہر ہونا۔ (معاودہ) آئے سے باہر ہوجانا۔ حد سے زیادہ حسد کرنا۔ بہت خفا ہونا۔ پاجامے میں ڈال کر پہن لینا۔ (معاودہ) بد لحاظ ہوجانا۔ گستاخ ہوجانا۔ ادب لحاظ نہ کرنا۔

پاجھی - وہ - مذ - کینزہ - بد کردار۔ پاجھی بطواف کعبہ حاجی نمی شود۔ دف - شل - کینزہ آدمی کسی صورت میں شریف نہیں بن سکتا۔

پاچراخ - (ذ - مذ) ایک پاؤں پر کھڑا۔ پاچراخ کرنا۔ (معاودہ) ایک پاؤں پر کھڑا ہونا۔

پاچک - (ذ - مذ) اوپلا کٹنا۔ ارننا۔ پاچخانہ - (ذ - مذ) ... جاملے ضرورت - بیت الخلاء - ٹٹی - کھڈی (۲) براز - گوہ - سٹاس - گندگی - فٹلہ۔

پاخانہ پھرنا۔ (معاودہ) گھٹنا۔ رخ حاجت کرنا۔ پاخانہ خطا ہونا۔ (معاودہ) اے اختیار گوہ کا باہر نکلنا (۲) سخت خوف زدہ ہونا۔

پاخانے میں لوٹانہ رکھواؤں۔ (معاودہ) بہت خیر سمجھنے کی جگہ بولا جاتا ہے۔ پاڈراز - (ذ - صفت) پاؤں بھیلانے جوئے آرام میں - مزے میں۔

پادریکاب - چلنے کو تیار - آمادہ مستعد۔ پادریہوا - (ذ - صفت) بے بنیاد - خیالی - وہمی۔

پادریوب - (ذ - مذ) وہ کھڑی جس سے گھوڑوں کے نیچے سے گھاس ادرید صاف کی جاتی ہے۔

پازیب - پائے زیب - (ذ - صفت) (۱) پاؤں کی زینت (۲) ایک زورور پاؤں میں پہتا جاتا ہے۔ فضائل - چھاگل - گوجری۔

پاشکستہ - (ذ - صفت) چلنے پھرنے سے معذور (۲) بے بس - مجبور۔ پاشویہ - پاؤں دھونا۔ پاؤں کو گرم پانی میں ڈال کر بیٹھنا۔

پاکوب (پائے کوب) - (ذ - صفت) ناچنے والا۔ رخاص۔ پائے کوبی - (ذ - صفت) پاؤں دے دے مارنا۔

پامال - (ذ - صفت) (۱) روندنا ہوا۔ پاؤں سے سٹلا ہوا۔ پاؤں سے لگا ہوا (۲) برباد۔ تباہ۔ خراب۔ خستہ۔ شکستہ حال۔ ویران۔

پامال کرنا۔ (۱) روندنا (۲) تباہ کرنا۔ خاک میں ملانا۔ ویران کرنا۔

پامالی - (ذ - صفت) (۱) پاؤں سے روندنا (۲) تباہ و برباد کرنا (۳) مصیبت - تکلیف - تباہی - بربادی۔

پامرد - (ذ - صفت) ثابت قدم۔ مستقل مزاج۔ باہمت۔ مددگار۔ معاون۔ پامردی - (ذ - صفت) (۱) استقلال - معنوی (۲) ہمت - بہادری (۳) طاقت - زور۔

پاموز - (ذ - صفت) کبوتر۔ مرغ اور دوسرے پرندوں کے پاؤں کو پروں نے موزوں کی طرح ڈھک رکھا ہو۔

پادوق - (ذ - صفت) حاشیے کے نیچے اگلے صفحے کا پہلا لفظ۔

پایاب - (ذ - صفت) پانی میں زیادہ چلے جانے کا واسطہ کم گہرا پانی۔ گھاٹ۔ پایابی - (ذ - صفت) کم گہرائی۔ اقل پین۔ وہ پانی جس میں آدمی پاؤں

سے چل کر گزر سکے۔

پاپ - (ذ - ص - ۱) مذ (۱) گناہ۔ مجرم۔ قصور (۲) مذ - عذاب۔ آفت (۳) بُرائی۔ عیب۔ نقص۔ شرابی (۴) ظلم۔ جبر۔

پاپ ابھرے پر ابھرے۔ (دشمن) بُرا کام پر شدہ۔ نہیں رہتا۔

پاپ بسانا۔ (معاودہ) عذاب مول لینا۔ جنجال میں پڑنا (۲) بُرا کام کرنا۔

پاپ رُوپ - (ذ - ص - ۱) بد شکل۔ بد صورت (۲) ظلم۔ جابر۔ بے رحم (۳) پاپی گنہگار۔

پاپ - (ذ - ص) بد اعمالی سے پیدا ہونے والا مرض جیسے آتشک۔

پاپ کا کھڑا (بیرٹرا) بھگرو ڈوبتا ہے۔ (دشمن) ظلم کو ایک دن ضرور مزا ملتی ہے۔

پاپ کاٹنا۔ (معاودہ) (۱) جھگڑا چھاننا۔ قضیہ طے کرنا (۲) عذاب کرنا (۳) قرضہ ادا کرنا۔ نجات دینا (۴) قصور معاف کرنا۔ خطا بخشا (۵) تکلیف سے بچانا۔

پاپ کٹنا۔ (معاودہ) جھگڑا دُور ہونا۔ قضیہ پاک ہونا۔ عذاب دُور ہونا۔ مصیبت طلنا۔

پاپ کرنا۔ مجرم کرنا۔ گنہ کرنا۔ بُرا کام کرنا۔

پاپ کسانا۔ (معاودہ) بُرا کام کرنا۔ گنہ کرنا۔ زنا کرنا۔

پاپ کی پلٹ - (ذ - ص) سر پا گناہ۔ مجسم گناہ۔ گناہ کی کھڑکی۔

پاپ لگنا۔ (معاودہ) (۱) جھگڑا سر ہونا (۲) عذاب پٹے بندھنا۔ دقت پیش آنا۔ روگ لگنا۔

پاپا - (Papa) (ذ - ص) - ۱) باپ۔ پدر۔ والد۔ آبا۔ بابا (۲) پوپ۔ عیسائیوں کا بڑا پادری۔

پاپا بیٹ - (ذ - ص) باپ کا منصب۔ پاپا کا اختیار۔

پاپا - (ذ - ص) - ۱) جادل کا کیترا۔ پیاری۔ گھنٹی۔

پاپا پاخ - (ذ - ص) - ۱) پاخ (ذ - ص) - ۱) مسٹ) سیاہ ڈبے کے کھال کی لمبی ٹوپی۔

پاپیٹر - (ذ - ص) - ۱) مذ (۱) بائیک۔ پیلا۔ کاغذ سا۔ پان کی مش - پتے کی مانند۔

پاپر (۲) اردو - نوٹنگ پتے وغیرہ کے میدے کے نہایت پتلی اور ہلکی سالہ دار چھاتی جو تیل یا گھی میں تلی جاتی ہے۔ پاپری (۳) نہایت خشک۔ ٹھوگا (۴) نہایت کمزور (۵) کھڑک۔

پاپریٹیلیٹا۔ (معاودہ) (۱) مصیبت برداشت کرنا (۲) تنگی اور غمی میں دن گزارنا۔ رنج و مصیبت میں عمر کاٹنا (۳) بیل سے بیل کر پاڑ جانا۔ بے رحم پھر کرنا۔

پاپڑا - (ذ - ص) - ۱) مذ (۱) ایک درخت۔ گارو ڈیٹیا (۲) ایک قسم کا کیلے کا درخت (۳) ڈھاک کے درخت کا پھل۔

پاپڑا کھار۔ پاپڑا کھار - (ذ - ص) وہ نمک جو پائپ میں ڈالتے ہیں۔

پاپلیٹن - (Poplin) (ذ - ص) - ۱) باپ۔ بیلن۔ (۲) ایک قسم کا کپڑا۔

پاپن - پاپنی - (ذ - ص) - ۱) مذ (۱) گنہگار عورت۔ خطا کار مجبور (۲) پاپنی - (ذ - ص) - ۱) مذ (۱) باپ کرنے والا۔ گنہگار۔ قصور والا۔ مجرم (۲) ظالم (۳) بدکار۔ بد چلن (۴) بے رحم۔ گھوڑ (۵) کبوتر۔ بیلن۔

پاپنی گنوال۔ (ذ - ص) وہ کنواں جس میں ہر سال کوئی رکونی ڈوبتا ہو۔

پاپنی کی ناؤ ڈوبی پردوبی۔ (دشمن) بُرائی کا نتیجہ ضرور بُرا ہوتا ہے۔

پاپنی کی ناؤ منہ زار میں ڈوبتی ہے۔ (دشمن) گنہگار اس کے خورد ج کے

















پانی ہارنا۔ (۱- محاورہ) مرنے یا ٹھیکے کا ہارنا (جب لڑتے لڑتے کسی مرنے کو کوئی عارضہ لاحق ہوا دوسرے اٹھا کر پانی یا چھونک سے تازہ دم کریں تو اس ایک ہار کے اٹھ لینے کو ایک پانی ہارنا کہتے ہیں۔ مرنے باز فتح شکست کے لیے پانی کی تعداد مقرر کر لیتے ہیں۔

پانی ہوجانا (ہونا)۔ (۱- محاورہ) چیز کا رقیق ہونا۔ گناز ہونا (۲) دشوار کام کا آسان ہونا۔ شرم سے سینے پینے ہونا (۳) نرم پڑ جانا۔

پاور۔ (Power) (پا۔ وڈ) (انگ۔ ۱- مسٹ) طاقت۔ قوت۔

پاور ہاؤس۔ (Power House) بجلی گھر جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے۔

پاہ۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ تین سال سے بوٹی ہوئی زمین (۲) ایک پتھر جسے پھٹکڑی اور لوگ کے ساتھ گھس کر آنکھوں کے لیے لیپ تیار کرتے ہیں۔

پاہن۔ (پا۔ ہن) (پا۔ ہن) (پا۔ ہن) (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) دو گیت جو ڈونیاں ڈونیاں کی مرضی کے وقت گاتی ہیں۔ باہل۔

پاہی۔ (پا۔ ہی) (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) کاشت کار جو اس گاؤں میں نہ رہے جس میں وہ کاشت کرتا ہو۔ عارضی کاشت کار۔ ٹھیکہ دار۔ کھیت مزدور۔

پائپ۔ (Pipe) (پا۔ ایپ) (انگ۔ ۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) ٹی۔ سوراخ۔ نلے (۲) نلی نال (۳) جیسی تھ۔ ولاسی تھ۔

پائریا۔ (Pyorrhoea) (پا۔ اے۔ ویا) (انگ۔ ۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) دانتوں کی ایک بیماری۔ سیلانِ صددیدی۔

پائری۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) نیو۔

پائلٹ۔ (Pilot) (پا۔ ای۔ لٹ) (انگ۔ ۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) ہوا باز۔ طیارہ باز (۲) ماہر ہوا بازی (۳) رہبر۔ کسی بڑے حاکم کے آگے موڑنا ٹیکل پر چلنے والا۔

پائندہ۔ (پا۔ ان۔ دہ) (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) صفت [پھرنے والا۔ قائم رہنے والا۔ جمع: پائندگان۔ پائو۔ (پا۔ او۔ دہ) (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) چوتھا۔ چوتھا حصہ۔ چل۔

پاؤ آنا۔ (۱- محاورہ) آنا کا چوتھا حصہ۔ ایک پیسہ۔

پاؤ روٹی۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) نان پاؤ۔ ڈبل روٹی۔

پاؤسیہ چاولی۔ چوبارے رسوئی۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) تھوڑی سی حیثیت میں بڑا کرفور۔ جو شخص سچی بھارے اس کے بارے میں بولتے ہیں۔

پاؤلا۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) روپیہ کا چوتھا حصہ۔ چار آنے کا سکہ۔

پاؤلی۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) پاؤلا کی تانیٹ چوٹی۔ چار آنے کا سکہ۔

پاؤن۔ (پا۔ اوں) (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) (۱) پگ۔ برن۔ پا۔ پیر۔ قدم (۲) بڑ۔ بنیاد۔ نیو۔ اصل۔ (۳) دخل۔ قبضہ (۴) استقام۔ استقلال (۵) آخر۔ انجام۔

پاؤں آگے بڑھانا۔ (۱- محاورہ) حد سے تجاوز ہونا (۲) آگے بڑھنا۔

پاؤں آگے نہ پڑنا۔ (۱- محاورہ) آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہونا۔

پاؤں اتر جانا۔ (۱- محاورہ) (۲) پاؤں میں ٹوٹی آجانا۔ پاؤں مڑ جانا۔

پاؤں اٹھانے کا۔ (۱- محاورہ) تیز جانا۔ بھٹ پٹ جانا۔ تیزی سے جانا۔

پاؤں اٹھانا۔ (۱- محاورہ) قدم بڑھانا (۲) جھگڑے سے الگ ہوجانا (۳) تیز جانا۔

پاؤں اٹھ جانا۔ (۱- محاورہ) (۲) جھاگ پڑنا (۳) میدان سے نکل جانا۔

پاؤں اٹھ جانا۔

پاؤں اڑانا۔ (۱- محاورہ) (۲) دخل دینا۔ بیج میں پڑنا۔ مزاج ہونا (۳) پاؤں لگانا۔

پاؤں اٹھ کر دینا (اٹھارنا)۔ (۱- محاورہ) (۲) جھگڑنا۔ شکست دینا (۳) ادا سے باز

پانی دینا۔ (۱- محاورہ) (۲) آب پاشی کرنا۔ کھیت کو سیراب کرنا۔ سینچنا (۳) کسی کو پانی عنایت کرنا۔ پانی پلانا۔

پانی ڈھل جانا۔ ڈھلنا۔ (۱- محاورہ) آب و تاب اور رونق نہ رہنا (۲) جوانی کے دن گزر جانا۔

پانی سر سے اویچھا ہونا (گزر جانا)۔ (۱- محاورہ) (۲) سخت آفت نازل ہونا۔ (۳) کسی بات کی انتہا ہوجانا (۴) معاملے کا طول پکڑ جانا۔

پانی سمونا۔ گرم پانی میں ٹھنڈا پانی ملا کر مستدل کرنا۔

پانی سونینے پکڑنا۔ (۱- محاورہ) حد سے گزر جانا (۲) ناقص بننا ہونا۔

پانی سے پتلا۔ (۱) نہایت رقیق۔ بہت پتلا (۲) ذلیل۔ بے عزت (۳) بہت آسان (۴) کم زور۔ ڈبلا۔ پتلا۔

پانی سے پہلے پل باندھنا۔ (۱- محاورہ) طوفان آنے سے پہلے ٹانڈ تیار کرنا۔ مرنے سے پہلے داویلا کرنا (۲) تکلیف سے پہلے اس کا علاج کرنا (۳) بے فکر کرنا

پانی قدام ہونا۔ (۱- محاورہ) پانی گہرا ہونا۔ اتنا پانی ہونا کہ اس میں آدمی ڈوب جائے۔

پانی کا (بشاشہ) ٹپکنا۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) بلبلا۔ حباب (۳) بے حقیقت۔ بے اصل۔ فانی۔ جلد ختم ہوجانے والا۔

پانی کر دینا۔ (۱- محاورہ) (۲) نہایت آسان کر دینا۔ ہر شخص کے سمجھ لینے کے لائق کر دینا (۳) حق کو دیکھا کرنا۔ ٹھنڈا کر دینا۔ شرمندہ کر دینا (۴) پتلا کرنا (۵) بچھلانا۔

پانی کی چھوڑنا۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) چوڑی دھار جو اوپر سے گرتی ہے۔

پانی کی ٹیکر۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) نا پائیدار۔

پانی کی لہریں لگنا۔ (۱- محاورہ) فضول کام کرنا۔ نامکمل کام کرنا۔

پانی کے کچھے کھڑے پھروانا۔ (۱- محاورہ) مشکل کام کو پورا کرنا۔

پانی کے کھڑے پڑ جانا۔ (۱- محاورہ) شرمندہ ہونا۔ بھل ہونا۔ منفعیل ہونا۔

پانی کے مول۔ (۱- مسٹ) ۱۱۔ (۲) نہایت ارزناں۔ بہت سستا۔ کوڑیوں میں بھفت۔

پانی گئے تک آجانا۔ (۱- محاورہ) انتہا ہوجانا۔

پانی لینا۔ (۱- محاورہ) آب دست لینا۔ چلارت کرنا۔ استنہا کرنا (۲) پانی پینا۔

پانی مرننا۔ (۱- محاورہ) (۲) پانی کا سرایت کرنا۔ پانی جذب ہونا (۳) خرابی کا ظاہر ہونا

سب کا معلوم ہونا (۳) سب کو معلوم ہونا (۴) شرمندہ ہونا۔ نادم ہونا۔

پانی میں آگ لگانا۔ (۱- محاورہ) (۲) پھل لگانا (۳) دوستوں میں لڑائی کرنا (۴) (۵) کہ درت پیدا کر دینا (۶) فقر و فساد برپا کرنا (۷) شہیدہ بازی کرنا (۸) (۹) نامکمل بات کر دھانا۔

پانی میں گرہ باندھنا (دینا)۔ (۱- محاورہ) (۲) نا پائیدار کام کرنا (۳) جلدی ہونا (۴) مٹ جانا۔

پانی میں ٹھیکے۔ (۱- محاورہ) (۲) نونو ٹھیکے حصہ۔ (۳) چیرا بھی لی نہیں اس کی تقسیم کے متعلق جھگڑے پہلے ہی شروع ہو گئے۔

پانی نکلنا۔ (۱- محاورہ) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱

لکنا (۳) جگہ سے ہٹا دینا۔

پاؤں اُٹھ کر جانا۔ (۱) - محاورہ، جگہ چھوڑ دینا۔ جٹ جانا۔ بھاگ نکلنا (۲) شکست تسلیم کرنا۔ باران مانا (۳) ہمت ہونا۔ حوصلہ ہار جانا (۴) قدم نہ چلنا۔

پاؤں اُٹھا پڑنا۔ (۱) - محاورہ، آگے جسنے کو بھی نہ چاہنا۔ آگے جاتے ہوئے ڈرنا۔ پاؤں اُٹھنا۔ (۱) - محاورہ، کسی شخصے میں گرفتار ہو جانا۔

پاؤں باندھ رکھنا۔ (۱) - محاورہ، روک رکھنا۔ جانے نہ دینا۔

پاؤں باہر نکالنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) حد سے بڑھنا (۲) حیثیت سے باہر قدم رکھنا (۳) سے زیادہ بات کرنا (۴) ٹھنڈ کرنا (۵) بد چلن ہونا (۶) گھر سے باہر جانا۔

پاؤں چھلنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پاؤں بٹکنا۔ پاؤں پھسلنا۔ پاؤں ڈگنا (۲) استقلال میں فرق آنا (۳) نیت بدلنا۔ ایمان میں فرق آنا۔

پاؤں بڑھانا۔ (۱) - محاورہ، (۱) قدم بڑھانا۔ جلدی جلدی چلنا (۲) آگے چلنا (۳) دخل بڑھانا۔ قبضہ کرنا (۴) اپنی حسد سے بڑھانا۔

پاؤں بھاری کرنا۔ (۱) - محاورہ، آدروفت موقوف کرنا (۲) نہ آنے کا ہمد کرنا۔ پاؤں بھاری ہونا۔ (۱) - محاورہ، ہونا۔ پیٹ سے ہونا (۲) ہمت پست ہونا (۳) رگ رگ کر چلنا۔

پاؤں بھٹکنا۔ (۱) - محاورہ، پاؤں کا ٹھکڑا (۲) لغزش کرنا۔

پاؤں بھر جانا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پاؤں تھرا جانا۔ پاؤں گندہ ہو جانا (۲) پاؤں سو جانا۔ پاؤں بیچ میں ہونا۔ (۱) - محاورہ، (۱) ذمہ داری ہونا (۲) دخل ہونا۔ مداخلت ہونا (۳) شراکت ہونا۔

پاؤں پاؤں (۱) - محاورہ، (۱) پیروں سے (۲) چلتے ہوئے۔

پاؤں پاؤں چلنا۔ (۱) - اپنے پاؤں سے چلنا۔ پیادہ پا چلنا (۲) بچے کا بغیر سہارے کے چلنا۔

پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھنا (سوننا)۔ (۱) - محاورہ، بے ٹکری سے بسر کرنا۔ پیمین سے رہنا۔ پروا نہ کرنا۔

پاؤں پر پاؤں رکھنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) سیدھے راستے چلنا (۲) قدم پر قدم رکھنا۔ پیچھے پیچھے چلنا (۳) پیروی کرنا۔ تقلید کرنا (۴) پاؤں کو پاؤں سے دباننا۔

پاؤں پر دو آٹنا۔ (۱) - محاورہ، قصور معاف کرنے کے لیے کسی کو قدموں پر جھکانا (۲) تریاں کرنا۔

پاؤں پر سر جھکانا۔ (۱) - محاورہ، عاجزی کرنا۔ خوشامد کرنا۔ (۲) پاؤں پر گرنا۔

پاؤں پر سر رکھنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پاؤں پر گرنا (۲) مجزوا نکار کرنا (۳) خوشامد کرنا۔ منت ساجت کرنا (۴) معافی مانگنا۔

پاؤں پر سینچر سوار ہونا۔ (۱) - محاورہ، گرد ہونا۔ مارے مارے پھرنا۔

پاؤں پر کھڑے ہونا۔ (۱) - محاورہ، سنبھل جانا۔ بیچ جانا۔

پاؤں پر گرنا۔ (۱) - محاورہ، مجزوا نکار کرنا۔ خوشامد کرنا۔ تقسیم سے پیش آنا۔

پاؤں پر لوٹنا۔ (۱) - محاورہ، عاجزی کرنا۔

پاؤں پڑنا۔ (۱) - محاورہ، پاؤں پر سر رکھنا۔ نہایت عاجزی کرنا۔

پاؤں پسا رنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پاؤں پھیلنا۔ ٹانگیں بٹی کرنا (۲) ضد کرنا۔ جٹ کرنا (۳) میل جانا (۴) ایشال کرنا (۵) آرام کرنا۔ لیٹنا (۶) خواہش کرنا۔

پاؤں پکڑنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پناہ چاہنا۔ مدد چاہنا۔ معافی مانگنا (۲) پناہ میں آنا۔

(۱) نہایت منت سماجت کرنا (۲) تنظیم کرنا (۳) بہت خاطر مدارت کرنا۔

پاؤں پوچھنا۔ (۱) - محاورہ، بہت عزت کرنا (ظننا) قائل کرنا۔

پاؤں پھٹنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پاؤں پر زخم ہو جانا۔ پاؤں میں برائی نکل آنا۔

پاؤں پھسلنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) قدم ڈگنا۔ لغزش ہونا (۲) لالچ آنا۔ بی چاہنا خواہش کرنا۔

پاؤں پھینسا۔ (۱) - محاورہ، (۱) کسی چیز میں پاؤں اٹک جانا یا پھنس جانا (۲) کسی معاملے میں پھنس جانا۔

پاؤں پھولنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پاؤں میں سوجن ہو جانا (۲) کم زور ہو جانا۔ طاقت نہ رہنا (۳) ہمت ہارنا۔ حوصلہ نہ پڑنا (۴) امکان ہونا۔ ٹھکانا۔

پاؤں پھونک پھونک کر رکھنا۔ (۱) - محاورہ، احتیاط کرنا۔ پھنا۔ پرہیز کرنا۔ احتراز کرنا۔ ڈرنا۔

پاؤں پھیرنے جانا۔ (۱) - محاورہ، (۱) زنگی یا شادی کے بعد عورت کا اپنے میکے میں چند روز کے لیے جانا۔

پاؤں پھیلا کر سونا۔ (۱) - محاورہ، (۱) لیے پاؤں کر کے سونا (۲) آرام سے سونا۔ لیے نکر ہو جانا۔

پاؤں پھیلا نا۔ (۱) - محاورہ، (۱) چلنا۔ مندر کرنا (۲) لالچ کرنا۔

پاؤں پھیلاٹے پڑے رہنا۔ (۱) - محاورہ، سست ہو جانا۔ کابل ہو جانا۔ بھول ہو جانا۔

پاؤں پیٹ پیٹ کر مرنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) اڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا۔ نہایت ڈکھ اور مصیبت سے مرنا۔ بہت تکلیف سے مرنا۔

پاؤں پھینا۔ (۱) - محاورہ، (۱) تکلیف اور اضطراب کے باعث پاؤں دے دے مارنا (۲) کمال سختی سے جان دینا (۳) نزہ کی حالت میں ہونا (۴) ذلیل خواہ مخواہ

پاؤں پیچھے ہٹنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) بھاگنے کے آثار ظاہر ہونا (۲) ثابت قدمی میں فرق آنا۔

پاؤں تلے بیٹھنے کی مثال۔ (۱) نہایت ادنیٰ بہت کم زور۔ بے حد ذلیل۔ ضعیف۔ بے بس۔

پاؤں تلے کی زمین (سرک) نکل جانا۔ (۱) - محاورہ، (۱) ہوش اڑ جانا۔ پھینکا ہونا۔ اوسان جاتے رہنا۔ حواس باقی نہ رہنا (۲) لرزنا۔ کاپٹنا۔ ڈگنا (۳) نہایت ڈرنا۔

پاؤں تلے کی مٹی نکل جانا۔ (۱) - محاورہ، دیکھیے "پاؤں تلے کی زمین نکل جانا"۔

پاؤں تلے ٹلنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پاؤں سے روندنا (۲) تکلیف دینا (۳) تباہ و برباد کرنا۔

پاؤں توڑ کر بیٹھنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) بلاس ہونا۔ نا امید ہونا (۲) کوشش کرتے کرتے ٹھک جانا۔ ہمت ہارنا (۳) صبر کرنا۔ مجرور کرنا (۴) گوشہ نشین ہو جانا۔ (۵) سست ہو جانا۔ محنت نہ کرنا۔

پاؤں توڑنا۔ (۱) - محاورہ، (۱) فضل آنا جانا۔ بے کار آمد و رفت رکھنا (۲) حیران کرنا۔ پریشان کرنا (۳) بڑی روڈ دھوپ کرنا۔ بے حد کوشش کرنا۔

پاؤں تھر تھرا نا۔ (۱) - محاورہ، (۱) پاؤں لٹکنا (۲) کسی کام کے ارتکاب سے معافی ہونا۔

پاؤں ٹھکانا۔ (۱) - محاورہ، (۱) چلتے چلتے ٹھک جانا (۲) عاجز ہونا۔



پاؤں ٹکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ٹھیرنا۔ قیام کرنا (۲) دم لینا۔ سانس لینا (۳) پاؤں دھرنا (۴) قبضہ کرنا۔ قابو میں لانا (۵) ٹھکانا بنانا۔

پاؤں جمانا۔ (۱- محاورہ) (۱) قبضہ کرنا۔ قائم ہونا (۲) ہمت کرنا۔ استقلال کرنا۔ (۳) سہارا دھونڈنا (۴) امیدوار ہونا (۵) تعلق پیدا کرنا (۶) پاؤں رکھنا۔

پاؤں جھٹنا۔ (۱- محاورہ) بات پر قائم رہنا (۲) میدان جنگ میں ڈٹے رہنا۔ اثر ہونا۔ رٹوخ ہونا۔

پاؤں جھٹانا۔ (۱- محاورہ) پاؤں کا سنبھالنا۔ پاؤں میں سنسناہٹ ہونا۔

پاؤں چینی کرنا۔ (۱- محاورہ) ٹانگیں دانا۔ ہاتھ پھیلانا۔

پاؤں چلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) اپنے اپنے قدموں سے چلنا (۲) پیدل چلنا۔ (۳) لاپس پڑنا۔

پاؤں چومنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں کا بوسہ دینا (۲) تعظیم کرنا۔

پاؤں چھلنی ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں میں آبلے ٹوٹنے سے سوراخ پڑ جانا۔ (۲) بہت زیادہ چلنا۔

پاؤں چھنچھوٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جین کا کثرت سے جاری ہونا۔ ایام سے ہونا (۲) فراغت پانا۔ برقی التعمیر ہونا۔ آزاد ہونا (۳) بے تعلق ہونا (۴) پابندی نہ رہنا (۵) آوارہ ہونا۔

پاؤں داہنا۔ (۱- محاورہ) پاؤں چینی کرنا۔

پاؤں درمیان سے نکال لینا۔ (۱- محاورہ) تعلق نہ رکھنا۔ ذمہ داری ہٹا لینا۔

پاؤں ڈوری۔ (۱- محاورہ) (۱) دوڑ دھوپ۔ ہمت۔ کوشش۔

پاؤں دھرنے کو جگہ ملنا۔ (۱- محاورہ) آسرا ملنا۔ سہارا ملنا۔

پاؤں دھو دھو کر پینا۔ (۱- محاورہ) (۱) تعظیم و تکریم کرنا۔ بہت عزت کرنا (۲) بے حد خوشیاں دیکرنا (۳) امید رکھنا۔ تمنا کرنا۔ بہت پیار کرنا (۴) بہت محبتوں سے پیش آنا۔ (۵) حکم ماننا (۶) بہت خدمت کرنا۔

پاؤں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ڈالنا کرنا۔ شروع کرنا (۲) کسی کام میں دخل دینا۔

پاؤں ڈنگلانا۔ (۱- محاورہ) پاؤں کا لغزش کرنا۔ پاؤں قائم نہ رہنا۔ ہمت ڈالنا۔

پاؤں رکاب میں ہونا۔ (۱- محاورہ) چلنے کو تیار ہونا۔ مستعد ہونا۔

پاؤں رگڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں ملنا (۲) آوارہ پھرنا۔ سرگرداں ہونا (۳) نزاع کی حالت میں ہونا (۴) خوشیاں دیکرنا۔ مستی کرنا۔

پاؤں رہ جانا۔ (۱) ٹھک جانا۔ (۲) عاجز ہونا (۳) پاؤں شل ہو جانا۔

پاؤں زمین پر نہ ٹھیرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں میں لغزش ہونا۔ لاپسنا۔ ڈنگلانا۔

پاؤں زمین پر نہ ٹھیرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) نہایت مصروف ہونا (۲) مضروب ہونا۔

پاؤں زمین پر نہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) بہت اترنا۔ ناز کرنا۔

پاؤں سر پر رکھ کر بھاگنا۔ (۱- محاورہ) بے حاشا بھاگنا۔ بدحواس ہو کر بھاگنا۔

پاؤں سر کرنا۔ (۱- محاورہ) استقلال میں فرق آنا۔ قدم ہٹنا۔

پاؤں سکیڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں بٹا لینا۔ گناہ کبھی کرنا۔ قطع تعلق کرنا۔

پاؤں سنسناہٹ ہونا۔ (۱- محاورہ) ضعف اور سستی سے پاؤں میں سونیاں سی جھنا۔

پاؤں سما جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) قدموں پر کھڑے ہو جانا۔ اپنے پاؤں سے چلنا۔

پاؤں سن ہو جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں میں دوران خون ٹک جانا۔ پاؤں کا

بے حس و حرکت ہو جانا۔

پاؤں سے کلی سر میں کھجی۔ (۱) بہت غصہ آیا۔ تن بدن جل گیا۔

بہت جھن پیدا ہوئی۔ بہت جھلاہٹ ہوئی۔

پاؤں شل ہو جانا۔ (۱- محاورہ) بہت ٹھک جانا۔

پاؤں کا ٹھپیں دینا۔ (۱- محاورہ) تھک کرنا۔ پیرٹی ڈالنا۔

پاؤں کٹ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں نلک ہونا (۲) آدورفت بند ہونا (۳) دُنیائے اٹھ جانا۔

پاؤں کو بوسہ دینا۔ (۱- محاورہ) بہت عزت و تکریم کرنا۔ عقیدت کا اظہار کرنا۔

پاؤں کھل جانا۔ (۱- محاورہ) چلنے کی طاقت آجانا۔ آدورفت میں جھک نہ رہنا۔

پاؤں کھینچ لینا۔ (۱- محاورہ) ذمہ داری سے علیحدہ ہو جانا۔ علیحدگی اختیار کرنا۔

پاؤں کہیں سے کہیں پڑنا۔ (۱- محاورہ) نشہ۔ اضطراب۔ گھبراہٹ یا بہت تھکاوٹ سے پاؤں ادھر ادھر پڑنا۔

پاؤں کی آہٹ۔ (۱- محاورہ) چلنے کی آواز۔ چاپ۔

پاؤں کی پیڑھی۔ (۱) جی (۲) زنجیر۔ قید۔ پھیل (۳) مددک۔ مزاحمت (۴) بال بچے۔ بھی۔ یا ہی بیٹی۔

پاؤں کی جونی۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں۔ جوتا (۲) جورو۔ جوری (۳) خادم۔ نظام (۴) خوشامدی۔ جی جنوری (۵) نالائق (۶) ذلیل۔ حقیر۔ بے عزت۔

پاؤں کی۔ (۱) بی۔ (۲) بی۔

پاؤں کی جوتی سر کو لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کینے کا مرنے لگنا۔ رذیل کا سر پڑنا۔

پاؤں کی جوتی۔ (۱) کینے اور جوتی شخص کو شریف کے برابر درجہ ملنا۔

پاؤں کی خاک ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت بے وقعت ہونا۔ ذلیل ہونا۔

پاؤں کے نیچے کی مٹی بھی ایسی نہ ہوگی۔ (۱) دل کوئی مناسب نہیں۔

کوئی تعلق نہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔

پاؤں گاڑنا۔ (۱- محاورہ) قدم جانا۔

پاؤں گردش میں ہونا۔ (۱- محاورہ) مارے مارے پھرنا (۲) کوئی کام نہ بننا (۳) بد نصیب ہونا۔

پاؤں گن گن کر رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہنر بھر کر چلنا (۲) نخرے سے چلنا۔ (۳) احتیاط سے چلنا۔

پاؤں گور میں اٹھائے بیٹھے ہیں۔ (۱) رہنے کو تیار ہیں ترقیب مرگ ہیں (۲) بہت بیمار ہیں (۳) بہت کم زور ہیں۔ بہت بوڑھے ہیں۔

پاؤں گھسنا۔ (۱- محاورہ) (۱) زیادہ دوڑ دھوپ سے پاؤں کا ٹھکانا (۲) ناپائید دوڑ دھوپ کرنا۔

پاؤں کا گھسنا۔ (۱- محاورہ) زمانہ صل میں گن گنے سے بچنے کے کسی عضو کا ناقص رہ جانا۔

پاؤں لٹکھڑانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پاؤں ڈنگلانا۔ پاؤں ہنر ہونا۔

پاؤں لگانا۔ (۱- محاورہ) پاؤں مارنا۔ ٹھوکر مارنا۔ پاؤں رکھنا۔

پاؤں لینا۔ (۱- محاورہ) قدم لینا۔ آداب بجالانا۔ عاجزی کرنا۔

پاؤں مرید۔ (۱) ف۔ صفت۔ غلام۔ تابع۔ طبع۔ معتقد۔ فرماں بردار۔

پاؤں میں پیڑھی پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شادی ہونا (۲) منگنی ہونا (۳) قید ہونا۔





پتھر - ریت (تر۔س) ۱۔ ذرا بڑگ پتیا۔ دان (۲) پان (۳) پتھر۔ دست ویر۔ بڑگ۔  
 پرچہ۔ خط (۴) طبق۔ تختہ (۵) سونے چاندی اور لوہے کے پتلے ٹکڑے۔  
 پتھر - ریت (تر۔س) ۱۔ ذرا بیٹا۔ پسر۔ لڑکا۔ بڑگ۔  
 پتھر - ریت (تر۔س) ۱۔ ذرا (۲) تقویم۔ جہتیری۔ خط تقدیر (۳) درق۔ صفو۔  
 (۴) دعوات کا ٹکڑا۔  
 پتھر سے کھولنا۔ (۱) عمارت۔ قلعی کمون۔ راز ظاہر کرنا۔ عیب بیان کرنا حقیقت  
 کا اعلان کرنا۔  
 پتھر تالی - ریت (تر۔س) ۱۔ مسٹ (۲) رشتہ دار۔ تین پشت سے باپ کی طرف  
 سے رشتہ داری۔  
 پتھر ننگا - ریت (تر۔س) ۱۔ ذرا (۲) ایک بڑیا۔  
 پتھر نول - (Patrol) ریت۔ نول (انگ) ۱۔ ذرا (۲) رات کو گشت  
 کرنے والی گاڑی۔ اصل لفظ پیٹرول ہے۔  
 پتھری - ریت (تر۔س) ۱۔ مسٹ (۲) جھوٹا ٹکڑا۔  
 جہم۔ کھڈی (۳) جھوٹا ٹکڑا۔  
 پتھری - ریت (تر۔س) ۱۔ مسٹ (۲) پتلی۔  
 پتھری - ریت (تر۔س) ۱۔ مسٹ (۲) ڈھن۔ پتلی۔  
 پتھریا - (پ۔ت) ۱۔ رتھی۔ ۲۔ رتھی۔ فاضل عورت۔ بیوا۔ کچی۔  
 پتھریا کا ڈیرا جیسے ٹھکانوں کا کھیرا۔ (۱) رتھی کے گھر کا آدمی لٹ  
 جانا ہے۔  
 پتھلی - (پ۔ت) ۱۔ مسٹ (۲) ایک جھوٹا ترن۔ پتلی۔  
 پتھلی - (پ۔ت) ۱۔ مسٹ (۲) پتوں کی بنائی ہوئی نقالی جس میں ہندو کھانا  
 کھلاتے ہیں۔ ایک آدمی کی خوراک۔  
 پتھلی پر سونا - (۱) عمارت۔ پتھلی میں کھانا کھنا۔ پتوں کے نقالی میں کھانے کی چیز چھپانا  
 پتھلی پھاڑی اور چل دیئے۔ (۲) مطلب نکالا اور چل دیئے۔  
 پتھلا - (پ۔ت) ۱۔ مسٹ (۲) رتھی۔ پتھلا۔ عرق (۳) بادیک۔ ہلکا (۴) لافز۔  
 ڈبلا (۵) کم نذر (۶) نرم۔ نازک۔  
 پتھلا حال کرنا - (۱) مسٹ (۲) تنگ کرنا۔ ستانا (۳) بے حال کرنا (۴) بہت  
 بہت مارنا۔  
 پتھلا حال ہونا - (۱) برا حال ہونا (۲) قریب مرگ ہونا۔ سخت بیمار ہونا۔  
 (۳) بنایت کم نذر ہونا (۴) لاغر ہونا۔ ڈبلا ہونا (۵) رتھی ہونا (۶) منس اور  
 کنگالی ہونا (۷) بے عزت ہونا۔  
 پتھلا - (پ۔ت) ۱۔ مسٹ (۲) تصویر۔ پیکر۔ بت۔ صنم۔ مورتی (۳) جسم۔ تاب  
 ڈھانچہ۔ بے جان انسانی یا حیوانی مورت۔ مجسمہ (۴) قبضہ (۵) بہت خوبصورت  
 سمیلا۔ جوان۔ خوش رو۔  
 پتھلا کاڑھنا - (۱) عمارت۔ ماش کے آٹے یا کسی اور چیز کا پتھلا بنا کر تسخیر کے لیے  
 زمین میں دفن کرنا۔  
 پتھلا نا۔ ریت (تر۔س) ۱۔ مسٹ (۲) کسا ڈھانا۔ کھانے میں دعوات کا  
 زہریلا اثر ہونا۔ کھانے میں دعوات کے ترن کے زہریلے مادے کا  
 و مسمیت کرنا۔  
 پتھلون - (Pantaloons) ریت (تر۔س) ۱۔ مسٹ (۲) پینٹ

پتھنے کی سٹانا۔ (۱) عمارت۔ (۲) عیب ظاہر کرنا۔ راز ناخ کرنا۔ بھید کی کہنا۔ دعوات  
 کہنا۔ ٹھیک ٹھیک کہنا (۳) چھٹی ہوئی کہنا۔ چوٹ کرنا۔  
 پتھنا۔ ریت (تر۔س) ۱۔ ذرا (۲) بڑگ۔ پات۔ پتھر (۳) درق۔ پتھا۔ کارڈ۔ جیسے تاش  
 کا پتھا (۴) کان کا ایک زبرد جو بالوں میں لٹکایا جاتا ہے۔  
 پتھنا بندھنا۔ (۱) عمارت۔ ذمہ پتھنا بندھنا۔  
 پتھنا بھی بے حکم خدا نہیں ملتا۔ (۱) نیشنل کوئی کام بغیر خدا کی مرضی کے نہیں ہوتا۔  
 پتھنا توڑ کر بھاگنا۔ (۱) عمارت۔ نہایت تیز دوڑنا۔ پیچھے ٹرک نہ دیکھنا۔ رنو پکر  
 ہو جانا۔  
 پتھنا کھڑکا بندہ سر کا (طشکا)۔ (۱) دش (۲) لگانا عیار اور چالاک آدمی کی نسبت دلتے ہیں  
 پتھنا کھڑکنا۔ (۱) عمارت۔ (۲) پتھنے کی آواز ہونا۔ آہٹ ہونا (۳) اندیشہ ہونا۔  
 خوف ہونا۔  
 پتھنا چلنا۔ (۱) عمارت۔ (۲) مزارع ملنا۔  
 پتھنا دینا۔ (۱) عمارت۔ مزارع بتانا۔ نشان بتانا۔ ٹھکانا بتانا دینا۔  
 پتھنے کی بات۔ (۱) بول پھال (۲) چھٹی ہوئی بات۔  
 پتھنا لگنا۔ (۱) عمارت۔ پھولوں میں دار لگنا۔  
 پتھنا نہ ملنا۔ (۱) عمارت۔ (۲) ہوا بند ہونا (۳) ٹھیس ہونا (۴) پتھنے نہ سرکنا۔  
 پتھنا بلانا۔ (۱) عمارت۔ خفیہ حرکت دینا۔  
 پتھنا (ہو جانا) ہونا۔ (۱) عمارت۔ بھاگ جانا۔ رنو پکر ہو جانا۔ تیزی کے  
 ساتھ بھاگنا۔  
 پتھوں والی۔ (۱) مسٹ۔ مٹی۔  
 پتھنا۔ ریت (تر۔س) ۱۔ ذرا (۲) بڑگ کے پیچھے ایک چھوٹی پھیل جس میں پتھ جمع رہتی  
 ہے (۱) مزارع۔ ذہرہ۔ غلط صفا کا مقام (۲) حوصلہ۔ بہمت (۳) غصہ۔  
 بوش۔ عمارت (۴) شرم۔ لاج۔ حیا (۵) خواہش نفسانی۔  
 پتھنا پانی ہونا۔ (۱) عمارت۔ (۲) غصہ فرو ہونا (۳) بوش دب جانا۔ برداشت ہونا۔  
 پتھنا لگانا۔ (۱) عمارت۔ کسی کام میں جی لگانا۔  
 پتھنا مارنا۔ (۱) عمارت۔ (۲) غصہ دھوکا۔ بوش کو قابو کرنا (۳) دل پر جبر کرنا۔ سختی  
 برداشت کرنا (۴) بہت کرنا (۵) دل لگانا۔ محنت کرنا۔  
 پتھنا ٹھننا۔ (۱) عمارت۔ (۲) غصہ دھما ہونا۔ تیزی نہ رہنا۔ گرمی نہ رہنا (۳) مزاج  
 نرم ہو جانا (۴) صفا کی ہو جانا (۵) بہت نہ رہنا۔ حوصلہ  
 کم ہو جانا۔  
 پتھنا نکالنا۔ (۱) عمارت۔ (۲) جان نکال لینا (۳) تنگ کرنا (۴) بہت مارنا۔  
 پتھنا۔ پاتھنا۔ پتھنا۔ (پ۔ت) ۱۔ مسٹ (۲) تال۔ (۳) تال۔ (۴) مسٹ (۵) زمین کا سب  
 سے نیچے کا طبقہ۔  
 پتھنا جہتیر۔ آگ پر دھوکے کسی شے سے تیل نکالنے کا آلہ۔ آگ پر دھوکے تیل  
 نکالنے کا طریقہ۔ کھلی محنت کرنا۔  
 پتھنا کی خمیر لانا۔ (۱) عمارت۔ بات کی تہ تک پہنچنا (۲) دور کی خبر لانا۔  
 پتھنا۔ (پ۔ت) ۱۔ مسٹ (۲) معنی (۳) حیران ہونا (۴) شرمندہ ہونا (۵) حواس باختہ ہونا۔  
 پتھنا اور۔ (پ۔ت) ۱۔ مسٹ (۲) ذرا (۳) پتھنا بنانے کا پھوس۔  
 پتھنا۔ (پ۔ت) ۱۔ مسٹ (۲) پتھنا (۳) پتھنے کی مزدوری۔ پتھنا یا پتھنا  
 کرنے کی اجرت۔

منزلی طرز کا پا جامہ (۲) جازا پا جامہ شلوار۔  
 پتلون ڈھیلی ہونا۔ (۱) جامدہ گھبرانا۔ بریشان ہونا (۲) بہت ڈار دینا۔  
 پتلی۔ (۳) صفت باریک۔ ہمیں۔  
 پتلی آواز۔ (۱) صفت باریک آواز۔  
 پتلی وال کھانے والا۔ (۱) جامدہ کم زور۔ بودا۔ کم بہت۔  
 پتلی کمر۔ (۱) صفت باریک اور نازک کمر۔  
 پتلی۔ (پت۔ لی) (۱) (۲) مٹا۔ (۱) مٹلا کی تانیٹ (۲) گڑیا (۳) ہتی یا کھڈ کی  
 جی ہوئی ٹورت۔ تار یا ڈورے کے ذریعہ سے ناپنے والی گڑیا (۴) مردک  
 آنکھ کی سیاہی۔ آنکھ کا تل (۵) گھوڑے کے تلوے کا ابھار (۶) مٹین۔ گل۔  
 (۷) ہنایت خوبصورت۔ ہنایت حسین۔  
 پتلی پھیر لینا۔ (۱) جامدہ بے وفائی کرنا۔ بے مروتی کرنا۔  
 پتلی گھر۔ (۱) مذ کارخانہ۔ کپڑے کا کارخانہ۔  
 پتلیاں پھیر جانا۔ (۱) جامدہ (۲) پتلی بڑھ جانا۔ مردک چشم کا اوپر کو ہوجانا۔  
 (۲) حالت خیر ہوجانا۔ مرنے کے قریب ہوجانا۔  
 پتلیاں بچھانا۔ (۱) جامدہ پتلیوں کا تماشا کرنا (۲) آنکھیں مٹکانا۔ آنکھوں  
 کے اشارے کرنا۔  
 پتلیوں کا تماشا۔ گڑیوں کا کھیل۔ پتلیوں کا کھیل۔ تصویروں کا کھیل۔  
 پتلیوں میں گھر کرنا۔ (۱) جامدہ بہت عزیز ہونا۔ پیار ہونے کی جگہ۔  
 پیغمبر۔ (پت۔ تم۔ بر) (۱) مذ ریشمی دھونی۔ ریشمی کپڑا۔  
 پتین۔ (پت۔ تن) (۱) مذ دریا کی گڑگاہ۔ گھاٹ۔  
 پتینا۔ (۲) صفت سفیدی ہونا۔ پوری ہونا۔ بھار پھرنا۔ مٹنی ہونا۔  
 پتنگ۔ (پت۔ تنگ) (۱) مذ (۲) گلوٹا۔ گڈی (۳) پروانہ۔ پتنگ (۳) ایک  
 گڑی جس سے مشرغ رنگ نکالا جاتا ہے۔  
 پتنگ اڑانا۔ (۱) جامدہ گلوٹا اڑانا۔  
 پتنگ بازی۔ (۱) ف۔ مٹ، پتنگ کا کھیل۔ گڈی اڑانے کا تماشا۔  
 گلوٹے اڑانا۔  
 پتنگ چھری۔ (۱) صفت مٹ، (۲) تیز۔ تند۔ چالاک (۳) ترازو۔ لکائی  
 بچھائی کرنے والی۔  
 پتنگ دھا دینا۔ (۱) جامدہ بڑھے ہوئے لنگوے کو گرا دینا۔  
 پتنگ کٹ جانا۔ (۱) جامدہ (۲) لنگوے کی ڈور کا کٹ جانا (۳) ہمیں  
 سے نکالا جانا۔  
 پتنگا۔ (پت۔ تن۔ گا) (۱) (۲) پتنگ۔ پروانہ (۳) چنگاری۔ شرارہ۔  
 آگ کا ذرہ۔  
 پتنگے لگنا۔ (۱) جامدہ (۲) مرچیں لگنا۔ رشک ہونا۔ حسد ہونا (۳) غصے ہونا  
 آگ بگولا ہونا۔ سخت ناراض ہونا۔  
 پتنی۔ (پت۔ نی) (۱) صفت باریک۔  
 پتوار۔ پتوال۔ (پت۔ وار) (پت۔ وال) (۱) (۲) پاتا۔ کشتی کا ڈبلا  
 سٹکان کشتی کا ڈون مروٹنے کی کڑی۔  
 پتواس۔ (پت۔ واس) (۱) مٹ (۲) کبوتروں کے بیٹھنے کی پھتری۔ پرند کے  
 بیٹھنے کا اڈا۔

پتوہ۔ پتوہ ہو۔ (پت۔ وہ) (پت۔ جو) (۱) مٹ (۲) بہر۔ بیٹھنے کی پتوہ۔  
 پتھر۔ (پت۔ ہر) (۱) مذ (۲) چٹان کا ٹکڑا۔ سنگ۔ حجر (۳) ٹالہ۔ ادلا (۴) ہیرا۔  
 پتھر۔ لال۔ زرد۔ یا قوت و عینہ (۴) پگلی (۵) صفت بھاری۔ بوجھل۔  
 (۶) ہنایت۔ بہت۔ زیادہ (۷) گھٹن۔ مشکل (۸) بے رحم۔ ظالم۔ کند ذہن  
 (۹) بے وقوف۔ ناہنم (۱۰) قیل۔ در میں مغمم ہونے والی چیز۔  
 پتھر اڈھیرٹا۔ (۱) جامدہ پتھر اڈھیرٹا۔  
 پتھر کرسنا۔ (۱) جامدہ بہت تعداد میں پتھر گرانا۔ پتھر مارنا۔  
 پتھر کرسنا۔ (۱) جامدہ (۲) پتھر پڑنا۔ پتھر گرنا (۳) ادلے پڑنا۔ ڈال بادی ہونا۔  
 پتھر بن جانا۔ (۱) جامدہ (۲) خاموش ہوجانا (۳) گونگا بننا (۴) سنگ دل ہو  
 جانا (۵) دم نہ کرنا۔  
 پتھر پانی ہونا۔ (۱) جامدہ (۲) دم آنا۔ ظالم کو ترس آنا (۳) سختی کا ثنا مصیبت  
 گزر جانا۔  
 پتھر پر لگانا۔ (۱) جامدہ کسی دھار والی چیز کو پتھر پر گڑا کر تیز کرنا۔  
 پتھر پر جو تک نہیں لگتی۔ (۱) مٹل) جس پر کسی بات کا اثر نہ ہو اس کے  
 متعلق کہتے ہیں۔  
 پتھر پڑنا۔ (۱) جامدہ (۲) پتھر پڑنا۔ پتھر گرنا (۳) ڈال بادی ہونا۔ ادلے پڑنا۔  
 (۴) دکھ میں گرفتار ہونا (۵) قحط پڑنا (۶) عقل و دہم اور سوچ بچار کا جاتے رہنا۔  
 پتھر پر گیس بچھ کر۔ (۱) جامدہ (۲) تم نہیں سمجھتے۔ بے وقوف ہو (۳) کچھ  
 برکت (۴) بہت بڑا کام کیا۔  
 پتھر پھینکا۔ (۱) پتھر پھینکا (۲) پتھر پھینکا (۳) پتھر پھینکا (۴) پتھر پھینکا (۵) پتھر پھینکا  
 دل کا نرم ہونا۔ بھیل آدمی کا کھڑے پیر آدہ ہونا۔  
 پتھر پھوڑ۔ (۱) مذ (۲) سنگ تراش۔ پتھر پھوڑنے والا (۳) کھٹ  
 بڑھتی۔ پھوڑ۔  
 پتھر تلے لاکھ دینا۔ (۱) جامدہ مصیبت میں پھینکا۔  
 پتھر تلے سے لاکھ نکلنا۔ (۱) جامدہ (۲) فارغ ہونا۔ آزاد ہونا۔ مصیبت یا  
 غم سے نجات پانا۔  
 پتھر تلے کا لاکھ۔ (۱) جامدہ جموری۔ نا جاری۔ بے اختیار۔  
 پتھر پٹنا۔ (۱) صفت گڑا دار کو سان پر رکھنے والا (۲) کبوس۔ ٹنگ (۳)  
 سائب کی ایک قسم (۴) گھاس کی ایک قسم۔  
 پتھر چٹانا۔ (۱) جامدہ دھار تیز کرنا۔ پتھر پر گڑنا۔ پتھر بگھٹنا۔  
 پتھر چٹنا۔ (۱) جامدہ پتھروں کی بوچھاڑ ہونا۔  
 پتھر چھائی پر دھرنار دھر لینا۔ (۱) جامدہ (۲) صبر کرنا۔ استقلال رکھنا۔  
 (۳) برداشت کرنا۔ سہارنا۔  
 پتھر ڈھونا۔ (۱) جامدہ (۲) صفت محنت کرنا۔ ہنایت دشوار کام کرنا (۳)  
 فضول کام کرنا۔  
 پتھر سا پھینک مارنا۔ (۱) جامدہ (۲) سختی سے جواب دینا۔ گرفت گفتگر  
 کرنا (۳) گت خفی سے بولنا۔  
 پتھر سے چلی بھلی جو پتلیں کھائے سسار۔ (۱) مٹل) بت پرستی پر  
 طنز ہے۔



پرودہ ہٹانا۔

پٹ (دس۔ ا۔ مٹ) (۱) کسی چیز کا سلکانا یا تنگ ہونا (۲) کسی چیز کو تکرنا یا دوسرا کرنا (۳) تہ۔ گڑھا (۴) گولائی دکر (۵) چادر اوڑھنا (۶) غلات (۷) لنگوٹا۔ انگوچھا (۸) گھوڑے کا سٹم (۹) دونا (۱۰) گھیلانے یا گھیلانے والی چیز۔ ملین۔ محفل۔

پٹ دیوی (رائی)۔ (۱۰۔ مٹ) راہبر کی بڑی رانی۔

پٹ (۱۰۔ مٹ) شاہی۔ بڑا آمیزش۔ چاشنی۔ نمبر۔

پٹا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) مٹی کی گھیل۔ گڑھی کا مٹا۔ پیرگی کا فن۔

پٹا باز پٹے باز۔ (۱۰۔ مٹ) پٹے باز۔ پٹے کا کھلاڑی۔ لکڑی

کھیلنے والا۔ (۱۰۔ مٹ) کھیلنے کا فن جو بلانے سے پٹا کھیلنا ہے (۳) ایک آفتابزی

پٹے کے ہاتھ (دکھانا) نکلانا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱۱) لاکھوں کو اس طرح حرکت

دینا جیسے پٹے میں دیتے ہیں (۱۲) عجاظا جھوٹی دھمکی دینا۔ مٹائی دھاک بھگانا۔

پٹا۔ (پٹ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱۱) گھو بند طوق۔ چوپائے کو گلے میں پہنانے کا پڑے

دغیزہ کا قلاوہ (۱۲) عجاظہ نامہ۔ مالک زمین کی طرف سے

زمین کو کام میں لانے کا اجازت نامہ (۱۳) سڑک کے لیے بال۔ پٹے

(۱۴) تختہ۔ پٹڑا۔ پٹڑی۔ پٹینے کا آلہ (۱۵) ادگی۔ چکی۔ بانا ت۔

محل وغیرہ کی جوتی کے پتے جن پر کام بنا ہو (۱۶) دو پٹ۔ اوڑھنا۔

ایک مرض کا (۱۷) پٹکا۔ پھینٹا۔ لنگی۔ کمر میں باندھنے کا پٹرا۔ چپراس پیٹی

(۱۸) دستور۔ نیک۔ انعام۔ رواج۔ حق الخدمت جو دھن کے کینوں اور

خادموں کو بیٹے والے کی طرف سے رخصت کے وقت دیا جاتا ہے۔

(۱۹) کریم یا محصول وصول کرنے کا دستور العمل۔

پٹا آٹا دانا۔ (۱۱) چپراس لے لینا۔ پٹی آٹا لینا۔ برخاست کرنا۔ موقوف

کرنا (۱۲) گولہ نکل لینا (۱۳) جائید کو آزاد کر دینا (۱۴) نکال دینا۔ ملکیت

سے خارج کر دینا (۱۵) ملازمت سے علیحدہ ہونا۔ آزاد ہونا۔

پٹا پھیر۔ (۱۰۔ مٹ) دھکا دھن کا پٹرا بدلنا۔ شادی کی ایک رسم۔

پٹا پھیرنا۔ (۱۰۔ مٹ) ہندوؤں کی ایک رسم جو بیویوں کے وقت ہوتی ہے۔

پٹا ٹھکانا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) بے زار ہونا۔ تنگ ہونا۔ عاجز آنا (۲) آوارہ ہونا۔

پٹا رکھنے کا ارادہ کرنا۔ آزادی چاہنا (۳) زنجیر یا رسد توڑنا۔

پٹا کھولا لینا۔ (۱۰۔ مٹ) قول و قرار کر لینا۔ معاہدہ کر لینا۔

پٹا پٹ۔ (پ۔ ٹا) (پٹ۔ ڈ) (۱۰۔ مٹ) (۱) بوند یا پھولوں وغیرہ کے کرنے کی

آواز (۲) مڑا سڑا۔ لگاتار۔ پٹنے کی آواز (۳) بکثرت۔ بافراط۔ کثرت کے

ساتھ پھول کرنا (۴) پہلے دوپے۔ متواتر۔

پٹا پٹ بولنا۔ (۱۰۔ مٹ) متواتر یا لگاتار بولنا۔

پٹا پٹی۔ (پ۔ ٹا) (پ۔ ٹی) (۱۰۔ مٹ) ایک دھاری دار کپڑا۔

پٹا پٹی کا پردہ۔ وہ پردہ جس میں قسم قسم کے پھول بٹے بنے ہوں۔ چوب

پٹا پٹی کی کوٹ۔ (۱۰۔ مٹ) رنگارنگ پھول جیسی سے کاڑھا ہوا کنارہ۔ رنگ

برخی۔ پھول بیل سے تیار کیا ہوا حاشیہ۔

پٹا پٹی۔ (پ۔ ٹا) (پ۔ ٹی) (۱۰۔ مٹ) ایک پھل۔ رس بھری۔

پٹا پٹنا۔ (۱۰۔ مٹ) (پ۔ ٹا) پٹنا پٹنا کثرت سے ہونا۔ بہت ہونا۔

پٹا دینا (پٹانا)۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) ہمت ڈولانا (۲) پریشش کرنا (۳) فرش بھرتانا (۴) گڑھے کو بڑھا دینا (۵) سودا کرنا۔

پٹاخ۔ (پ۔ ٹاخ) (۱۰۔ مٹ) پٹاخے۔ بندوق یا پھیر کی آواز۔

پٹاخ سے بولنا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) عجاظہ۔ مٹ بولنا۔ فنا۔ جواب دینا۔ زور سے بولنا۔

پٹاخ۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) پٹاخا (آتش بازی کی ایک قسم) (۲) بندوق

کی ٹولی (۳) شوخ۔ چہل۔ چالاک (۴) تڑاق پڑاق بولنے والا۔ خوش آواز۔

(۵) نکلین۔ خوب صورت۔ معشوق۔

پٹارا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) میدا۔ لکڑی یا بانس کا بنا ہوا کبس۔

پٹارا ٹوڑنا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) عجاظہ۔ چوری کرنا۔

پٹاری۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) میدا یا بانس کی بنی ہوئی صندوقچی (۲) میوہ

رکنے کی ٹوکری (۳) ایک کپڑا جو چادلوں میں پیدا ہوتا ہے۔

پٹاری کا خرچ۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) پانڈان کا خرچ۔ پان پھالیرہ کا صرف (۲) حرام کاری

کی اُمرت۔

پٹاری میں بند رکھنے کے قابل۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) عجاظہ۔ عجیب وغریب۔ نادر۔

پٹاش۔ (Potash) (پ۔ ٹاش) (۱) لنگ۔ (۱۰۔ مٹ) ایک آتش گیر مادہ۔ کھاد

سجی۔ مٹی۔

پٹاک۔ (پ۔ ٹاک) (پ۔ ٹاق) (۱۰۔ مٹ) پٹ پٹ۔ بھد بھد۔

پٹا کرنے کی آواز۔

پٹا کا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) پٹاخا۔ چہل۔ شوخ (۲) خوبصورت۔

پٹانا۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) مصل۔ (۲) وصول کرنا (۳) آب پاشی کرنا (۴) پھت ڈولانا

(۵) سودا کرنا۔ لین دین کرنا۔

پٹاؤ۔ (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) پریشش۔ پھت۔ کڑی۔ تختہ (۲) آب پاشی۔

پٹ بندھک۔ (پ۔ ٹب) (پ۔ ٹب) (۱۰۔ مٹ) کفالت و احسانت۔ جس

میں سے سودا اور اصل دونوں مقررہ میعاد میں ادا کیے جاتے ہیں۔

پٹ بھرا۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) دیکھو۔ بیٹ بھرا۔ آسودہ۔ مطمئن۔

پٹ پٹنا۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) مصل۔ (۲) مصلحت و مصلحت۔ راج کرنا۔

پٹ پھینا۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) آخری اولاد۔

پٹ پٹا۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) پٹکارنا۔ بڑا بھلا کرنا (۲) پٹینا۔ دھکانا۔

پٹ پٹنا۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) پٹکارنا۔ بڑا بھلا کرنا (۲) پٹینا۔ دھکانا۔

پٹ پٹنی۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹی) (۱۰۔ مٹ) (۱) گتھی میں زمین پر دے مارنا۔ گرانا۔

پٹ پٹیاں دینا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) بار بار زمین پر دے مارنا۔

پٹ پٹیاں کھانا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) پٹ پٹیاں کھانا۔ لٹینیاں لینا۔ لگ لگ پٹ پٹنا۔ لٹنا۔

پٹ پٹ۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹی) (۱۰۔ مٹ) (۱) تڑاق بڑاق۔ بے روک ٹوک۔

(۲) اچھ ملاک۔ اچھیں کھول کر۔

پٹ پٹ پٹیاں کرنا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) عجاظہ۔ بہت باتیں کرنا۔ تڑاق بڑاق باتیں کرنا۔

پٹ پٹا۔ (پ۔ ٹ) (پ۔ ٹا) (۱۰۔ مٹ) (۱) تختہ۔ چوکی (۲) دھو بیوں کے

کپڑے دھونے کا تختہ۔ لکڑی یا پتھر کی بیل (۳) پٹیل لکڑی کا ایک لمبا تختہ جو

زمین ہموار کرنے کے لیے کھیت میں پھیرنے میں (پن) سہاگہ۔

پٹ پٹا پھیرنا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) عجاظہ۔ صفا یا گردینا (۲) سہاگہ پھیرنا۔

پٹ پٹا پٹا کر دینا۔ (۱۰۔ مٹ) (۱) عجاظہ۔ تباہ کر دینا (۲) ہموار کر دینا (۳) کمزور کر دینا۔

**پٹ رانی** - (پٹ - رانی) (۱) - اہمیت، پہلی نگر، ہمارا رانی، بڑی رانی، وہ رانی جس کی اولاد گدی کی حقدار ہو۔  
**پٹرول** - (Petrol) (پٹ - رول) (۱) - ایک (۱) - مذکورہ معدنی تیل جس سے موٹر چلتی ہے۔ (۲) - انجن کا تیل۔

**پٹری** - **پٹرٹی** - (پٹ - ری) (پٹ - ٹری) (۱) - اہمیت، (۲) - تمنی، جھوٹا تمنہ - لوح - (۲) - نبر کا کنارہ - سرنگ کا کنارہ - حاشیہ - سینڈ - ڈول (۳) - باغ کی چھوٹی روش (۴) - دان (۵) - کھیریل کا کھیرا جس پر نیاں جمانی جاتی ہیں۔

**پٹری جمانا** - (۱) - حادہ (۲) - آستی پالنی لگانا (۳) - گھوڑے پر دان جمانا۔  
**پٹس** - (پٹ - ش) (۱) - مص - پٹیا - رونا - ماتم - ڈکڑا رونا - زد و کوب۔

**پٹ سن** - (پٹ - سن) (۱) - مذکورہ ایک پودا جس میں سے سن نکالتے ہیں۔  
**پٹنگا** - (پٹ - گا) (۱) - مذکورہ (۲) - پٹی - گریڈ - کمرے سے باندھنے کا درپہ یا رول (۳) - پٹی کی دیوار میں ہونے کی پٹی یا پتھر کی پٹائی میں اینٹوں کی پٹی۔

**پٹنگا باندھنا** - (۱) - حادہ (۲) - گرنا (۳) - کسی کام کے لیے مستعد ہونا۔  
**پٹنگا پٹنگا** - (۱) - حادہ (۲) - دامن پڑنا - روکنا - مڑنا - ہونا - تعرض کرنا۔

**پٹنگار** - (پٹ - کار) (۱) - مسٹ (۲) - جاگ یا رستی جو گھوڑے کو چلانے اور پرندوں کو کھیت سے اڑانے کے کام آتی ہے۔

**پٹکن** - (پٹ - کن) (۱) - اہمیت (۲) - بے چینی - بے گلی (۳) - دھکا (۴) - گزنا (۵) - سوجن کا کم ہونا۔

**پٹکنا** - (پٹ - ٹکنا) (۱) - مص - پٹنا - دسے مارنا - گزانا۔  
**پٹکنی** - (پٹ - ٹکنی) (۱) - اہمیت (۲) - تمنی - زمین پر گرنے کا عمل۔

**پٹنگی** - (پٹ - گی) (۱) - اہمیت (۲) - مرگ ناگہانی (۳) - جین یا آٹا جو شوربا گاڑھا کرنے کے لیے کڑھاگ یا سالن میں ڈالتے ہیں (۴) - آفت - مصیبت -

**پٹنگی پٹنگا** - (۱) - حادہ (۲) - خدا کا غضب نازل ہونا - آفت ہونا - صدر پٹنا۔  
**پٹنگی پٹوسے** - (۱) - بددعا، غارت ہو - غضب نازل ہو۔

**پٹنگی ڈالنا** - اندھا کر دینا - آنکھیں بند کر دینا۔  
**پٹل** - (پٹ - ٹل) (۱) - مذکورہ (۲) - بھت - چھتر (۳) - ڈھکنا - دوپٹہ - نقاب (۴) - آنکھ کی جھلی (۵) - تعداد - مقدار (۶) - گردہ - بھیڑ (۷) - ٹوکری (۸) - ختم قدم۔

(۹) - کتاب - باب (۱۰) - منتر - اشلوک (۱۱) - لٹھے پر مندل کا ٹیکہ۔  
**پٹلا** - (پٹ - لا) (۱) - مذکورہ (۲) - آفتاہ جس میں چیزیں باندھتے ہیں۔ پوٹلا۔

**پٹلی** - (پٹ - لی) (۱) - مسٹ (۲) - چھوٹا پٹلا - پوٹی۔  
**پٹلم** - (پٹ - لم) (۱) - مص - بند - مندا ہوا۔

**پٹلم ہونا** - (۱) - حادہ (۲) - اندھا ہونا - پوٹ ہونا۔  
**پٹلی لگانا** - (پٹ - لی) - لگانا (۲) - ڈر (مص) - گتے کے کھڑے ہونا۔

**پٹن** - (پٹ - ٹن) (۱) - مس (۲) - مذکورہ (۳) - دریا کو جوہر کرنے کی جگہ - پٹن (۴) - آبادی - بستی۔

**پٹن** - (پٹ - ٹن) (۱) - مس (۲) - پٹن - ماتم - گھرام۔  
**پٹنا** - **پٹ جمانا** - (پٹ - نا) (پٹ - جمانا) (۱) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۲) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۳) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۴) - آب پاشی ہونا (۵) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔

**پٹنا** - (پٹ - نا) (۱) - مذکورہ (۲) - وصول ہونا - حاصل ہونا (۳) - ہاتھ لگانا - سودا ہونا (۴) - پریش ہونا - جھما جھما - کڑی سختی سے درست ہونا (۵) - آب پاشی ہونا (۶) - بھرننا - لبالب ہونا - بکثرت ہونا۔



**پٹھان** - (پ۔ پٹھان، ڈاڑ۔ ا۔ مذ) (۱) افغان (۲) پاکستان کی مغربی سرحد کے علاقوں میں رہنے والے مسلمان (۳) بہادر۔ دلیر جنگی سپاہی۔ لڑاکا۔  
**پٹھان کا پڑت گھڑی میں اولیاء گھڑی میں محبوبت**۔ (دہش) متلون مزاجی ظاہر کرنے پر کہتے ہیں کہ پٹھان کے مزاج کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں اور ذرا سی بات میں خوش۔

**پٹھانا**۔ پٹھانا، پٹھانا، (پ۔ پٹھانا، ڈاڑ۔ ا۔ مذ) (۱) ہمسایہ، روادار کرنا۔ ارسال کرنا  
**پٹھانی**۔ (پ۔ پٹھانی، ڈاڑ۔ ا۔ مذ) (۱) پٹھان کی تائیت۔  
**پٹھنہ بلبلا**۔ (پٹھنہ۔ بلبلا، لا۔ ۱۔ ۵) (۱) ہمسایہ کی کڑک پڑنے کا وہ حصہ جو پسینے کی حالت میں پیٹھ سے ہلا رہے۔

**پٹھو**۔ (پٹھو، ٹھو، ڈ۔ ۱۔ ۵) (۱) دم بھلا۔ ہر وقت ساتھ لگا رہنے والا (۲) ریشم۔ مددگار (۳) اسباب بھرنے کا پشارا (۴) غلام۔ خورشادی۔  
**پٹھوال**۔ (پٹھو، وال، ڈ۔ ۱۔ ۵) (۱) مسافر۔ (۲) مددگار۔ پشت پناہ۔ پیچھے سے حفاظت کرنے والا۔ چور کا محافظ۔

**پٹھور**۔ (پ۔ پٹھور، ڈ۔ ۱۔ ۵) (۱) چوڑھ (۲) نوجوان بکری۔  
**پٹھوری**۔ (پ۔ پٹھوری، ڈ۔ ۱۔ ۵) (۱) نوجوان بکری۔  
**پٹھی**۔ (پٹھی، پٹھی، ڈ۔ ۱۔ ۵) (۱) مٹھی (۲) دھلی اور پسی ہوئی دال۔  
**پٹھے**۔ (پٹھے، ڈ۔ ۱۔ ۵) (۱) لگ۔ (۲) سن۔ بہت سے پٹھے (۱) حساب (۲) نذر۔

**نوجوان** (۳) سر کے دونوں طرف کے بال۔  
**پٹھیا**۔ (پٹھیا، یا، ڈ۔ ۱۔ ۵) (۱) مٹھی (۲) بکری۔ گائے۔ ہینس وغیرہ کا مالدین جوان بچہ۔ (۲) نذر۔

**پٹی**۔ (پٹی، ٹی، ڈ۔ ۱۔ ۵) (۱) دھجی (۲) جھتہ۔ بڑا دھجلا (۳) سر بند۔ بندھن (۴) گاؤں کا چھوٹا حصہ۔ قطع زمین (۵) پکڑی کی بندش کی قسم (۶) شرمیلی کی لمبی تاشیں گڑگ کی لمبی چوٹی جو گڑگ تاشیں (۷) بازو۔ جلی جو چار پائی کے دو جانب لگی ہوتی ہے (۸) صف۔ قطار۔ جھاگ (۹) لمبی دوڑ (۱۰) ماتھے پر گوند وغیرہ سے جمائے ہوئے بال (۱۱) نخی۔ لوح (۱۲) سبق۔ باب (۱۳) دھوکا۔ خریب۔ بدظنی۔ مخالفت۔ قیمت (۱۴) ننگوٹ (۱۵) حاشیہ۔ کنارہ۔ روش۔ پٹری (۱۶) جانب (۱۷) گرم کپڑے کا لہنگڑا جو زوجی یا پڑیس کے سپاہی بنڈیوں پر پہنتے ہیں (۱۸) وہ کپڑا جو پتہ اور زچہ کے سر پر بعد وضع حمل باندھتے ہیں۔ (۱۹) کاغذ کی وہ رنگین دھجی جو کٹکوسے میں آڑی ڈالی جاتی ہے۔

**پٹی اٹھوں پر باندھنا**۔ (۱) محاورہ (۲) چم پر پستی کرنا۔ درگزر کرنا (۲) بے مرتبہ کرنا۔  
**پٹی باندھنا**۔ (۱) محاورہ (۲) بندھن باندھنا۔ زخم یا آنکھ وغیرہ پر کپڑے کی دھجی باندھنا۔

**پٹی بنانا**۔ (۱) محاورہ (۲) پانی یا تیل سے بالوں کی تہ ماتھے پر جمانا۔ بال بنانا۔  
**پٹی بٹھانا**۔ (۱) محاورہ (۲) سبق بڑھانا۔ سمجھانا (۲) بھکانا۔ درغلانا۔  
**پٹی بٹھلے کا**۔ (۱) صف (۲) بے وقت۔ کم رتبہ۔ حیرت۔ ذلیل۔  
**پٹی پٹھنا**۔ (۱) بھکا دے میں آجانا (۲) زخم یا ضرب پر کپڑا لپیٹنا۔

**پٹی دار**۔ (۱) جھتہ دار۔ شریک۔ جن دار۔ سماجی (۲) پٹی کا مالک۔ گاؤں کا شریک (۳) پٹی بٹنگ میں آڑی دھجیاں ہوتی ہیں۔  
**پٹی دار گولا**۔ (۱) (۲) (۳) وہ گولا جو خاص طریقے سے (پٹنگ کی ڈوس) لپیٹنے سے بنتا ہے۔

**پٹی داری**۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲

پیشیل۔ (پ۔ ٹ۔ ل) (د۔ ا۔ مٹ) (۱) ایک چھوٹی کشتی۔  
 پیشیل۔ (پ۔ ٹ۔ ل) (د۔ ا۔ مٹ) کا ڈن کی نبرداری۔  
 پیشیل۔ (پ۔ ٹ۔ ل) (د۔ ا۔ مٹ) پٹنے والی، مار کھانے والی۔  
 پیشیا۔ (پ۔ ٹ۔ ل) (د۔ ا۔ مٹ) تختہ جسے کپڑا چھپانے کے لیے بھپایا جاتا ہے۔  
 پیشین۔ (پ۔ ٹ۔ ل) (د۔ ا۔ مٹ) (۱) حلوے کی قسم کا ایک لذیذ کھانا (۲) کڑھی کی دروازوں اور چھیدوں کو بند کرنے کا سالہ۔ پیشینوں کو کواٹروں میں چپکانے کا سالہ۔ گڈی۔

کوشش کرنا۔ اپنے منہ سے نکل ہوئی بات پر اڑے رہنا۔  
 پچکلیمان۔ (د۔ صفت) وہ جانور جس کے چاروں پیر اور ماتھا سفید ہو خصوصاً گھوڑا (۲) دوغلا۔  
 پچ گنا۔ (د۔ صفت) پانچ سے ضرب دیا ہوا۔ پانچ جتنے زیادہ۔  
 پچکڑا۔ (د۔ ا۔ مٹ) پانچ ٹڑیوں کا۔ بار۔  
 پچکڑی۔ پچکڑا کی تائینٹ۔ پانچ ٹڑیوں والی۔  
 پچکڑوٹا۔ (د۔ صفت) (۱) پانچ ٹنگوں سے بنا ہوا چورن (۲) پانچ ڈانٹوں کا۔ پانچ مزدوں کا۔  
 پچ محلہ۔ پچ منزلہ۔ (د۔ صفت) پانچ منزلوں کا مکان۔  
 پچ میل۔ (د۔ صفت) (۱) پانچ تیزوں کا مرکب (۲) ہر قسم کا۔ سب طرح کی۔  
 پچ ہتھ پکھتا۔ (۱) پانچ ماہ کے تدا کا (۲) جسے تدا کا (۳) پرورا آدی۔  
 پچا بھٹنا۔ (۱) عاوردہ) ہنرمند کرنا۔ غضب کرنا۔  
 پچا پرا۔ (پ۔ چا۔ را) (د۔ ا۔ مٹ) (۱) بڑا پھیرنے کی کڑھی۔ برش (۲) ہلکا رنگ سفیدی وغیرہ کی ہتھی تہ۔  
 پچا پرا پھیرنا۔ (۱) عاوردہ) (۲) اپنا پھیرنا۔ رنگائی کرنا۔ سفیدی کرنا۔ پوتنا (۲) صفائی کرنا۔ مٹانا (۳) بہکانا۔ ترضیب دینا۔  
 پچا پرا دینا۔ (د۔ عاوردہ) (۱) دیکھنے بھارا پھیرنا (۲) روکنے تازہ کرنا (۳) خوشامد کرنا۔  
 پچا پرا سے میں آنا۔ (د۔ عاوردہ) ترضیب میں آنا۔  
 پچاس۔ (پ۔ چاس) (د۔ صفت) پانچ دھائی۔ بیجاہ۔ ۵۰۔  
 پچاسا۔ (پ۔ چاسا) (د۔ ا۔ مٹ) (۱) پچاس روپیہ کا وزن (۲) پچاس روپیہ۔ وزن تولنے کا کاشا (۳) پچاس کی تعداد۔ پچاس کی رقم۔  
 پچاسواں۔ (پ۔ چاس) (د۔ ا۔ مٹ) اگر ایک کو پچاس حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان حصوں میں سے ایک۔ بیہ۔  
 پچاسوں۔ (پ۔ چا۔ سوں) (د۔ صفت) (۱) پچاس کے پچاس (۲) بہت۔ بکثرت۔ زیادہ۔

## پ۔ج

پچھا۔ (پ۔ ج) (د۔ صفت) بھرا۔ آباد۔  
 پچھا پیا۔ (پ۔ ج) (پا۔ د) (۱) پوہنے کا سامان۔ پڑھاوے کی چیزیں (۲) جھگڑا۔ جھگڑا۔ مصیبت۔  
 پچھا پیا پھیلانا۔ (د۔ عاوردہ) بکھیرا پھیلانا۔ بے ترتیبی سے چیزیں پھیلانا۔  
 پچھاری۔ (پ۔ ج) (ری۔ د) (د۔ ا۔ مٹ) (۱) پوہنے والا۔ عبادت کرنے والا (۲) عاوردہ) (۳) عجاوڑوں کی پوہا کرنے والا۔ پانڈے۔  
 پچھانا۔ (پ۔ ج) (نا۔ د) (د۔ صفت) (۱) تجھیل کرنا (۲) بھڑنا۔ پورا کرنا۔  
 پچھاوا۔ (پ۔ ج) (د۔ ا۔ مٹ) (د۔ ا۔ مٹ) (د۔ ا۔ مٹ) (د۔ ا۔ مٹ)۔  
 پچھانا۔ (د۔ ج) (نا۔ د) (د۔ صفت) (۱) پرستش کیا جانا (۲) مانا جانا۔  
 پچھوٹا۔ (پ۔ ج) (د۔ ا۔ مٹ) (د۔ صفت) (۱) نہایت پاجی۔ بہت کینڈ۔ سخت نالائق۔  
 پچھوڑی۔ (پ۔ ج) (ری۔ د) (د۔ صفت) (۱) باہی عورت۔ بچھوڑا کی تائینٹ۔

پچاسی۔ (پ۔ چاسی) (د۔ صفت) پانچ اوپر آستی۔ آستی اور پانچ (۸۵)۔  
 پچا نا۔ (پ۔ چا۔ نا) (د۔ صفت) (۱) ہنرمند کرنا۔ برداشت کرنا (۲) مال مار کر کھا جانا۔ چٹ کرنا۔  
 پچا نوے۔ (پ۔ چا۔ نوے) (د۔ صفت) (۱) توتے اور پانچ۔ نوڈو پچ۔ ۹۵۔  
 پچا پو۔ (پ۔ چا۔ او) (د۔ ا۔ مٹ) (۱) اٹھنے کی طاقت (۲) برداشت۔ سہارا۔  
 پچ پچ۔ (د۔ ا۔ مٹ) (۱) کچھ یا دلدل میں چلنے کی آواز۔  
 پچ پچ کرنا۔ پچ پچ کرنا۔ (د۔ عاوردہ) (۱) بیک تھوٹا (۲) کچھڑ میں چلنے سے آواز نکلنا۔  
 پچ پچ۔ (د۔ ا۔ مٹ) پیار کی آواز جس سے جانور کو بھلاتے یا اس کے غصے کو ختم کرتے ہیں۔  
 پچ پچا۔ (پ۔ چا) (د۔ صفت) (۱) ادھ کچرا کھانا جس کا پانی خشک نہ ہو۔ نرم۔ ڈھیلا۔  
 پچ پچا نا۔ (پ۔ چا۔ نا) (د۔ صفت) (۱) رطوبت سے بھرا ہونا۔  
 پچ پچا ہٹ۔ (پ۔ چا۔ ہٹ) (د۔ ا۔ مٹ) (۱) پچ پچانے کی کیفیت۔

## پ۔ج

پچ۔ (د۔ ا۔ مٹ) (۱) طرف داری۔ جانب داری۔ حمایت۔ رعایت (۲) تعصب۔ ضد (۳) کوشش (۴) پانچ کا مختلف مرکبات میں (۵) پچا کا ائمہ۔  
 پچ پر ہونا۔ پچ کرنا۔ (۱) عاوردہ) طرف دار ہونا۔ طرف داری کرنا۔ جانب داری کرنا۔  
 پچ پچوانی۔ پانچ مشایخ جو ہنود و ملت میں دیتے ہیں۔  
 پچ پہلو۔ پچ۔ وہ شکل جس کے پانچ پہلو ہوں۔  
 پچ پھوللا والی بنی میں۔ (پچ) نہایت نازک جس۔ نزاکت پر بہت گھنڈیہ۔  
 پچ درہ۔ پانچ دروں کا مکان۔  
 پچ دھات۔ (د۔ صفت) پانچ دھاتوں کا مرکب جس کے گھٹے بنتے ہیں۔  
 پچ رنگ۔ پچ رنگا۔ (د۔ ا۔ مٹ) پانچ رنگ کا۔ رنگارنگ کا۔  
 پچ کرنا۔ (۱) عاوردہ) (۱) طرف داری کرنا۔ رعایت کرنا (۲) تعصب کرنا (۳)

پچکین - (تج - پن) (۱) صفت [ پانچ اُپر پچاس - پچاھہ ورتج - ۵۵ -  
پچکتانا - (تج - تانا) (۱) صفت [ انوس کرنا - حسرت (۲) ستر مانا -  
نادم ہونا -

پچکتا وا - (تج - تا - دا) (۱) صفت [ حسرت - انوس (۲) شرم - ندامت -  
پیشانی - شرمندگی - پچکتانا -  
پچکتولیا - پچتولیب - (تج - تول - لیا) (تج - تول - لیم) (۱) صفت [ مذ ایک  
قسم کا کپڑا -

پچکتا - (پ - پتج - نا) (۱) صفت [ پچکتا - دب جانا -

پچکر - (تج - پتج - پتج) (۱) صفت [ روک - مزاحمت - تعرض (۲) میخ بھونٹی  
کڑی کا چھوٹا ٹکڑا جو کڑی پیرتے وقت دراز کھلی رہنے کے لیے  
لگا یا جائے -

پچکر آڑانا - (۱) محاورہ [ کھونٹی گاڑنا (۲) خانہ لگانا (۳) دکنا پڑنا [ روک  
رک کرنا (۴) کڑی کی دراز میں کڑی وغیرہ کا کڑا پھینکانا -  
پچکر پڑنا - ناگہانی آفت پڑنا -

پچکر ٹھونکنا - (۱) محاورہ [ تکلیف دینا - صدمہ پہنچانا (۲) مزاحمت کرنا -  
روک روک کرنا -

پچکر مارنا - (۱) محاورہ [ رخت ڈالنا (۲) بھائی مارنا - کام بگاڑنا [ بھیل کھانا -  
پچک - (پ - پک) (۱) صفت [ مرئی کے اڈے کا بچلا حصہ -

پچکار - (تج - کار) (۱) صفت [ پچکار - پیار (۲) اطمینان - دلاسا - تھیک -  
پچکارنا - (تج - کارنا) (۱) صفت [ پیار کرنا (۲) تسلی دینا - اطمینان  
کرنا - دلاسا دینا - تھیکنا - تھیکنا دینا -

پچکاری - (تج - کار) (۱) صفت [ پچکاری (۲) پچکار (۳) پیاری آواز -  
پچکاری دینا - (۱) محاورہ [ جاننا یا پتے کو پیار کرنے کے لیے بلانا -

پچکاری - (تج - کار) (۱) صفت [ دم گلا - دم گیر (۲) رنگ پاشی کا آلہ  
(۳) فراہ (۴) منہ سے پان کی پیک دھار باندھ کر پھینکنا (۵) ٹھنڈے -

پچکانا - (تج - کان) (۱) صفت [ دبانا - بھینٹنا - دھسانا -  
پچک جانا - (پ - پک - جانا) (۱) صفت [ دھات کے برتن میں گرٹھا  
پڑ جانا یا ذب جانا (۲) مغلوب ہو جانا - دب جانا -

پچکلنا - (پ - پک - نا) (۱) صفت [ دبنا - بھینا - سکوٹنا - دھنسا - گرلانا -  
پچکلانا - (تج - لانا) (۱) صفت [ کھسکا دینا -

پچکتا - (تج - نا) (۱) صفت [ صدمہ ہونا - گھنا (۲) ضبط ہونا - برداشت ہونا (۳)  
جانب داری کرنا - تپ کرنا (۴) بہت کوشش کرنا (۵) واپس نہ ہونا -

پچوری کا پتہ نہ لگانا -  
پچکتا - (تج - نا) (۱) صفت [ دونا - بھیل جانا -

پچکوڑا - (پ - پوت - را) (۱) صفت [ پانچ فی صدی رقم جو عموماً مالیرہ میں زیادہ  
لی جاتی ہے -

پچکونی - (پ - پونی) (۱) صفت [ بدمدہ -  
پچکڑا - (پ - چاڑ - نا) (۱) صفت [ پٹھ کے بل زمین پر گرنا (۲) بے ہوش  
ہو کر گرنا -

پچکڑا لیس کھانا - (۱) محاورہ [ ٹوٹنا - تڑپنا - چٹینا کھانا (۲) صدمہ اٹھانا -

(۳) صدمے سے گر پڑنا -

پچکاڑنا - (پ - چاڑ - نا) (۱) صفت [ وہ [ صفت [ (۱) پٹھنا - گرلانا - دسے مارنا (۲)  
ہرانا - عاجز کرنا (۳) بے حال کر دینا - نھکانا (۴) نقل کرنا (۵) فتح پانا -  
چیتنا - بڑھ جانا (۶) گرگ دینا - ڈالنا - ذر کرنا -

پچکاڑی - (پ - چھا - ٹی) (۱) صفت [ (۱) چھپے - پشت - عقب میں (۲)  
عیزر ماضی (۳) پاؤں میں باندھنے کی رستی یا زنجیر - پچکاڑ - بچکاڑ -

پچکان - (پ - چھان) (۱) صفت [ مذ [ چھم - مغرب -

پچکھا وا - پچکھا یا - (پ - چھا - وا) (۱) صفت [ یا - اگیا کا وہ حصہ جو پیٹھ کے پیچھے رہتا  
ہے [ پچھتا نا - پچھتا نا - (۱) صفت [ پیشان ہونا - پچھتا نا - انوس کرنا -  
پچھتا وا - (تج - تا - وا) (۱) صفت [ حسرت - پیشانی - انوس -

پچھتر - (پ - چھت - تر) (۱) صفت [ پانچ اوپر ستر - ۷۵ -

پچھڑنا - (پ - چھڑ - نا) (۱) صفت [ (۱) پخت ہونا - گرنا (۲) بیمار ہونا - علیل ہونا  
(۳) شکست کھانا - بار جانا (۴) چھڑے رہ جانا (۵) برابری نہ  
کر سکتا -

پچھڑنا - (پ - چھڑ - نا) (۱) صفت [ چھڑے رہ جانا -

پچھلا - (پچھ - لا) (۱) صفت [ چھپے کا - اشیر کا (۲) پڑھا ہوا - آہستہ -

پچھلا پھر - (۱) صفت [ رات کا آخری حصہ -

پچھلا کھانا - (۱) صفت [ وہ کھانا جو رمضان میں سحری کے وقت  
کھاتے ہیں - سحری -

پچھلے پاؤں پھرنا - (۱) محاورہ [ اُلٹے قدموں ٹوٹنا - فوراً واپس ہونا -  
(۲) تپا ہونا - شکست کھانا - بارنا -

پچھلے پھر - پچھلے پھرے - (۱) صفت [ رات کا آخری حصہ -

پچھلا - (پ - چھل - لا) (۱) صفت [ دم گرا -

پچھلانی - (پ - چھل - ی) (۱) صفت [ جس کے پاؤں کا رخ آگے کی  
بجائے پیچھے کو ہوں (۲) ڈانٹ - پھوٹل (۳) عاود گرنی -

پچھلے لگو - (پچھ - لگ - گو) (۱) صفت [ (۱) طغیان - چھپے ملنے والا - ڈنبا لہ (۲)  
صفت [ بھیل اولاد -

پچھلن - (پچھ - لن) (۱) صفت [ دوسرا - آخری (پتہ) -

پچھلی - (پچھ - لی) (۱) صفت [ آخری - آخر کی -

پچھلی لکھا - (۱) صفت [ آخری روٹی - تمام روٹیاں پکنے کے بعد کی پکی  
ہوئی روٹی -

پچھلی رات - (۱) صفت [ آخر شب - اُدھی رات کے بعد کا وقت - پچھلا پھر -  
پچھلی روٹی کھائے پچھلی مت آئے - (۱) صفت [ سب سے آخر میں  
روٹی کھانے والا ہے وقت ہوتا ہے -

پچھلی مت - (۱) صفت [ لٹی مت -

پچھم - (پچھ - چھم) (۱) صفت [ مغرب - وہ سمت بدرموج ڈوتتا ہے -

پچھم جاؤ کہ دھن - وہی کرم کے پھن - (۱) صفت [ روز کی تلاش میں جو  
چاہو کرو اور جہاں چاہو جاؤ جو قسمت میں ہوگا وہی لگے گا -

پچھمی - (پچھ - چھمی) (۱) صفت [ پچھل کی - مغربی -

پچھتا - (پچھ - تا) (۱) صفت [ (۱) ڈنڈا - آستر - آستر گودنے کا آلہ (۲) نقد ٹیکا - گودنا -

**پچھنے دینا** - (۱) پچھنے لگانا۔ ضد لینا۔ خون نکانا (۲) طعنے دینا۔  
**پچھوا** - (۱) پچھ۔ (۲) ڈال۔ (۳) ڈالنا۔ (۴) پچھم کی ہوا (۵) انگلیا کی پیٹھ۔  
**پچھوا چلے** - بھیت پیٹھے۔ (۱) مثل پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے لہذا کہتے  
 جلدی ہتی ہے۔  
**پچھوار** - (۱) پچھ۔ (۲) ڈال۔ (۳) امٹ۔ (۴) بارش جو ہوا کے زور سے مکان  
 میں آئے۔  
**پچھوار** - پچھوار۔ پچھوار۔ (۱) پچھ۔ (۲) ڈال۔ (۳) پچھ۔ (۴) ڈال۔ (۵) ڈال۔ (۶) ڈال۔  
**مضب خاز** - گھر کی پشت۔ مکان کی پیٹھ۔  
**پچھوانا** - (۱) پچھ۔ (۲) ڈال۔ (۳) ہمس۔ (۴) کسی دوسرے کے ذریعہ سے پوچھنا۔  
**دریافت کرنا**۔  
**پچھوانی** - (۱) پچھ۔ (۲) ڈال۔ (۳) ڈال۔ (۴) پچھوا ہوا۔  
**پچھوت** - (۱) پچھوت۔ (۲) صف۔ (۳) پچھائی۔ (۴) آخری۔ پچھلی۔ اخیر کی پیداوار  
 (۵) بعد میں۔ پیچھے آنے والی۔  
**پچھورا** - پچھوری۔ (۱) پچھ۔ (۲) پچھ۔ (۳) پچھ۔ (۴) پچھ۔ (۵) پچھ۔ (۶) پچھ۔  
 کمرے یا مذمتے میں۔ کبھی سر پر ڈال لیتے ہیں۔  
**پچھوڑ** - پچھوڑن۔ (۱) پچھوڑ۔ (۲) پچھوڑن۔ (۳) پچھوڑن۔ (۴) پچھوڑن۔ (۵) پچھوڑن۔  
 جو غذا صاف کرنے پر نکلتا ہے۔  
**پچھوڑنا** - (۱) پچھوڑنا۔ (۲) پچھوڑنا۔ (۳) پچھوڑنا۔ (۴) پچھوڑنا۔ (۵) پچھوڑنا۔  
**پچھوڑنا** - (۱) پچھ۔ (۲) ڈال۔ (۳) ڈال۔ (۴) ڈال۔ (۵) ڈال۔ (۶) ڈال۔  
**پچھیا** - پچھیا۔ (۱) پچھ۔ (۲) پچھ۔ (۳) پچھ۔ (۴) پچھ۔ (۵) پچھ۔ (۶) پچھ۔  
**پچھیت** - (۱) پچھیت۔ (۲) پچھیت۔ (۳) پچھیت۔ (۴) پچھیت۔ (۵) پچھیت۔ (۶) پچھیت۔  
**پچھیتی** - (۱) پچھیت۔ (۲) پچھیت۔ (۳) پچھیت۔ (۴) پچھیت۔ (۵) پچھیت۔ (۶) پچھیت۔  
**پچھتی** - (۱) پچھتی۔ (۲) پچھتی۔ (۳) پچھتی۔ (۴) پچھتی۔ (۵) پچھتی۔ (۶) پچھتی۔  
 (۷) پچھتی۔ (۸) پچھتی۔ (۹) پچھتی۔ (۱۰) پچھتی۔  
**پچھی کاری** - (۱) صف۔ (۲) جواہر اور رنگ دار پتھروں کا کام۔ پتھروں میں پتھر بٹوانا۔  
 بڑا کام پتھر لگانا۔ چسپاں کرنا۔ جوئے اور اینٹ کا مضبوط کام۔  
**پچھی کاری کرنا** - اینٹ اور جوئے کو آپس میں اچھی طرح وصل کر کے ہوا کرنا۔  
**نقاشی کا کام کرنا**۔ مڑھت کرنا۔  
**پچھی کرنا** - پیوست کرنا۔ مضبوط کرنا۔ پھنسا دینا۔  
**پچھی** - (۱) پچھی۔ (۲) پچھی۔ (۳) پچھی۔ (۴) پچھی۔ (۵) پچھی۔ (۶) پچھی۔  
**پچھیت** - (۱) پچھیت۔ (۲) پچھیت۔ (۳) پچھیت۔ (۴) پچھیت۔ (۵) پچھیت۔ (۶) پچھیت۔  
 (۷) پچھیت۔ (۸) پچھیت۔ (۹) پچھیت۔ (۱۰) پچھیت۔  
**پچھیت** - (۱) پچھیت۔ (۲) پچھیت۔ (۳) پچھیت۔ (۴) پچھیت۔ (۵) پچھیت۔ (۶) پچھیت۔  
**پچھیت** - (۱) پچھیت۔ (۲) پچھیت۔ (۳) پچھیت۔ (۴) پچھیت۔ (۵) پچھیت۔ (۶) پچھیت۔  
**پچھیت** - (۱) پچھیت۔ (۲) پچھیت۔ (۳) پچھیت۔ (۴) پچھیت۔ (۵) پچھیت۔ (۶) پچھیت۔  
**پچھیت** - (۱) پچھیت۔ (۲) پچھیت۔ (۳) پچھیت۔ (۴) پچھیت۔ (۵) پچھیت۔ (۶) پچھیت۔

**پچ** - (۱) امٹ۔ (۲) روک۔ (۳) پانڈی۔ (۴) اٹکاؤ۔ (۵) جھگڑا۔ (۶) خرابی۔ (۷) بک  
 غل۔ شور۔ (۸) نالتو پتیر۔ (۹) بیکار کی حالت۔  
**پچ پھیلا نا** - (۱) عاوردہ۔ (۲) جھگڑا۔ (۳) شور و شر کرنا۔ (۴) فساد کرنا۔  
**پچ کرنا** - (۱) جھگڑا۔ (۲) شور و شر کرنا۔ (۳) خرابی۔ (۴) ڈالنا۔ (۵) سسرط  
 قائم کرنا۔  
**پچ لگانا** - (۱) عاوردہ۔ (۲) روک لگانا۔ (۳) جھگڑا لگانا۔ (۴) تکرار بے جا کرنا۔ (۵) شرط لگانا  
**پچ چمانا** - (۱) عاوردہ۔ (۲) شور کرنا۔ (۳) تم تج کرنا۔ (۴) بے جودہ بکنا۔ (۵) مذاق کرنا۔  
**پچ نکانا** - (۱) عاوردہ۔ (۲) خرابی۔ (۳) ڈالنا۔ (۴) بغض ظاہر کرنا۔ (۵) اعتراض کرنا۔  
**جھٹ نکانا**۔  
**پچال** - (۱) پچ۔ (۲) خال۔ (۳) امٹ۔ (۴) پچھال۔ (۵) چرسہ۔ (۶) مشک۔ (۷) بویل یا بیھنے پر  
 لادی جاتی ہے۔  
**پچال پینیا** - (۱) صف۔ (۲) بڑ پیٹھ۔ (۳) زیادہ کھانے والا۔ (۴) بسیار خور۔  
**پچخت** - (۱) صف۔ (۲) امٹ۔ (۳) پچھنے کا فعل۔  
**پچخت و پڑ** - (۱) ٹھیک ٹھاک۔ (۲) قول فیصل۔ (۳) قطع جھت۔ (۴) وعدہ۔  
 قول و قرار۔ (۵) بات چیت۔ (۶) کھانا بکھانا۔  
**پچختریاں** - (۱) پچختریاں۔ (۲) امٹ۔ (۳) چپا تیاں۔ (۴) صف۔  
 کی روٹی۔  
**پچختگی** - (۱) پچختگی۔ (۲) پچختگی۔ (۳) پچختگی۔ (۴) پچختگی۔ (۵) پچختگی۔  
**پچ جاننا یا گل جانا** - (۱) پچختگی۔ (۲) پچختگی۔ (۳) پچختگی۔ (۴) پچختگی۔ (۵) پچختگی۔  
**پچختہ** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**بالغ** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**سینکا ہوا** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختہ بات** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختہ رائے** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختہ کار** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختہ کرنا** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**لانا** - (۱) امتحان کرنا۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**کرنا** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختہ مزاج** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختہ مزاجی** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختہ مغز** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختہ** - (۱) پچختہ۔ (۲) پچختہ۔ (۳) پچختہ۔ (۴) پچختہ۔ (۵) پچختہ۔ (۶) پچختہ۔  
**پچختوں** - (۱) پچختوں۔ (۲) پچختوں۔ (۳) پچختوں۔ (۴) پچختوں۔ (۵) پچختوں۔ (۶) پچختوں۔  
**پچختا** - (۱) پچختا۔ (۲) پچختا۔ (۳) پچختا۔ (۴) پچختا۔ (۵) پچختا۔ (۶) پچختا۔  
**یادہ گو** - (۱) ڈر لوک۔  
**پچختی** - (۱) پچختی۔ (۲) پچختی۔ (۳) پچختی۔ (۴) پچختی۔ (۵) پچختی۔ (۶) پچختی۔  
**پچختیا** - (۱) پچختیا۔ (۲) پچختیا۔ (۳) پچختیا۔ (۴) پچختیا۔ (۵) پچختیا۔ (۶) پچختیا۔

پ - خ

**پدوی دینا** - خطاب دینا۔ رُتبہ دینا۔  
**پدھارنا** - (پ۔ دھارنا، نا، ۱) انا، تشریف لانا (۲) تشریف لے جانا  
 سدھارنا (۳) بیٹھنا۔ تشریف رکھنا۔  
**پدھان** - (پ۔ دھان) (۱) مذ [پد دھری۔ مقدم۔ پردھان۔ صدر۔ میر۔  
**پدھت** - (پ۔ دھت) (۱) ص [پدھت۔ طور۔ طریقہ۔ عادت۔ رسم۔ درواج۔  
**پدھی** - (پد۔ دی) (۱) ص [پدھی۔ چھوٹی خوش آواز پڑیا۔ پدا کا مادہ۔  
**پدی** - (پد۔ دی) (۱) ص [پدی۔ دار۔ (۲) ص [صفت۔ عام بات  
 داخ۔ آشکارا۔ کھلا۔

**پد** - (س۔ ا۔ مذ) (۱) پاؤں۔ پگ۔ قدم۔ پیرن (۲) فقرہ۔ مصرع۔ گیت (۳)  
 کھونج۔ نشان (۴) درجہ۔ عزت (۵) (پن) گوز۔  
**پدا** - (پد۔ دا) (۱) ص [پد] (۱) ایک چھوٹی سی پڑیا۔ پھدکی (۲) غنیل میں غلہ  
 دکھ کر جلانے کی جگہ (۳) بے حیثیت (۴) کم طاقت۔  
**پدے** کی ضامنی - (۱) عمارت - ناقابل اعتبار کوئی کی ضمانت۔  
**پدارتھ** - (پ۔ دا۔ رتھ) (س۔ ا۔ مذ) (۱) شے۔ چیز۔ بست (۲) غلہ کھانا۔  
 لذیذ چیز۔  
**پداٹا** - (پ۔ دا۔ نا) (۱) ص [پد] (۱) پادنے کا سبب کرنا (۲) تھکانا۔ پرانا۔  
 عاجز کرنا۔ بے چین کرنا۔

## پ۔ د۔ پ۔ ڈ۔ پ۔ ر

**پڈنگ** (Pudding) (پ۔ ڈنگ) (۱) ص [پڈنگ۔ ایک۔ ص [صفت۔ ایک  
 انگریزی میٹھا کھانا۔ پیٹن۔

**پدکر** - (پ۔ دکر) (ف۔ ا۔ مذ) باپ۔ والد۔ پتا۔ آبا۔ جج، ایدراں۔  
**پدرا** - (پ۔ در۔ را۔ نہ) (ف۔ ص [صفت۔ باپ کی طرح۔ باپ سے شوب۔ باپ جیسا  
**پدر سوختہ** - (ف۔ ص [صفت۔ ایک گالی۔  
**پدرم سلطان** - (ف۔ ص [صفت۔ اس موت پر بولتے ہیں جب کوئی اپنے باپ  
 دادا کے متعلق شے بھجکارسے۔  
**پدر توتا** - (پدر۔ توتا) (ف۔ ص [صفت۔ باپ نے جو کام نہ کیا  
 وہ بیٹے نے پورا کر دیا۔

## پ۔ د۔ پ۔ ڈ۔ پ۔ ر

**پڈیر** - (پ۔ ڈیر) (ف۔ ص [صفت۔ لینے والا۔ حاصل کرنے والا۔ ٹوڑھونے والا۔  
 مرکبات میں بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے جیسے ڈی۔ ڈیر۔ ص [صفت۔  
**پڈیرا** - (پ۔ ڈی۔ را) (ف۔ ص [صفت۔ مقبول۔ منظور۔ پسند۔  
**پڈیرالی** - (پ۔ ڈی۔ را۔ لی) (ف۔ ا۔ ص [صفت۔ قبولیت۔ منظوری۔  
 (۲) استقبال۔

**پڈرود** - (پڈ۔ رُود) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) رخصت۔ اجازت (۲) الوداع۔ سلام۔  
**پڈری** - (پ۔ ڈری) (ف۔ ا۔ مذ) باپ کی والد کی۔ پتاک۔ باپ سے ورثے  
 میں ٹی ہوتی۔  
**پڈری** - (پد۔ ڈری) (۱) ص [صفت۔ پدھی (۲) بے حقیقت۔ بہت کمزور  
 ناچیز۔ ڈبلا پتلا۔

## پ۔ د۔ پ۔ ڈ۔ پ۔ ر

**پڈر** - (۱) اڈر کا مخفف (۲) لیکن۔ مگر (۳) کیونکہ (۴) فاصلہ یا وقت ظاہر  
 کرنے کے لیے (۵) دجر اور سبب ظاہر کرنے کو (۶) ملامت منقول  
 کے طور پر۔

**پڈک** - (پ۔ ڈک) (۱) نادر (۲) ایک قہم کا زیور جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔  
**پڈم** - (پ۔ ڈم) (س۔ ا۔ مذ) (۱) گولی پڈر دار نشان جو آدی کی انگلیوں پر ہوتا ہے  
 (۲) نیلوفر۔ کنول (۳) قہم کی کھال کے نشان (۴) علم ہندسہ میں ستون  
 کا ایک پدم ہوتا ہے۔  
**پڈم جھوسن** - (۱) مذ [صفت۔ کاسب سے بڑا ادبی خطاب۔ جوش العظا  
 کے برابر ہے۔

**پڈر** - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) پتا (۲) پندوں کے بن پرانگے ہونے والے (۳)  
 تیر کے بازو (۴) مجازاً وقت۔ طاقت۔ سہارا۔  
**پڈر افشان** - (۱) پڑھنا ہوا (۲) پریشان۔ بے تاب (۳) پڑھ پڑھنا ہوا۔  
**پڈر بال** (پڈر بال) - (۱) مذ [صفت۔ ایک بیماری جس میں پگلوں کے اندر  
 سے مڑے ہوئے بال نکل آتے ہیں اور انکے ڈھیلے میں جھتے رہتے ہیں۔  
**پڈر بانڈھنا** - (۱) عمارت (۲) پند کے پرول کو بانڈھ دینا (۳) مجبور کرنا۔ بے بس  
 کرنا۔ عاجز کرنا (۴) طاقت گھٹانا۔ کم زور کرنا۔

**پڈم شرمی** - (۱) مذ [صفت۔ پدم بھوشن سے چھوٹا۔ بھارت کا ادبی خطاب۔  
**پڈر ما** - (پڈ۔ ما) (س۔ ا۔ ص [صفت۔ دولت کی دیوی (۲) بنگلہ دیش کا ایک دریا۔  
**پڈر مٹی** - (پڈ۔ م۔ ٹی) (س۔ ا۔ ص [صفت۔ ہنایت خوب صورت۔ نازک اندام۔  
 عورتوں میں اول درجے کی تشکیل و خوب صورت اور نازک عورت (۲)  
 بل مائس کی عورت۔  
**پڈر مٹی چاروں میں ہوتی ہے** - (پڈر مٹی) [صفت۔ بعض دفعہ بیخ قوموں میں بھی  
 بہت خوب صورت عورت پائی جاتی ہے۔  
**پڈرنا** - (پڈ۔ نا) (ص [صفت۔ انا۔ تھکانا۔ عاجز ہونا۔ مار جانا۔ بے چین ہونا۔  
**پڈرنا** - (پڈر۔ پڈر۔ نا) (پڈ۔ نا) (پ۔ دو۔ ڈ) (۱) ص [صفت۔ (۱) پادنے  
 والا (۲) نامرد۔ بزدل۔ ڈرپوک۔

**پڈر پڈر** - (ف۔ ص [صفت۔ کٹے ہوئے پرول والا (۲) بے سہارا۔  
**پڈر پڈر** - جس کے پڈر پڈر ہونے ہوں (۲) قیدی۔ بے بس۔  
**پڈر پڈر** - (ف۔ ص [صفت۔ ساز و سامان۔ اپنے پیشے کے متعلق چیزیں۔

**پڈرنی** - (پڈ۔ نی) (۱) ص [صفت۔ زڈی۔ بے سزا۔  
**پڈر وی** - (پڈ۔ وی) (۱) ص [صفت۔ (۱) شکر۔ راہ (۲) جگہ۔ مقام (۳) درجہ۔ مرتبہ  
 (۴) خطاب۔ تجسس۔

پیراز ڈسٹمنال - (ن - صف) جس کے بہت سے دشمن ہوں۔  
 پیراز زرد جو اہر - (ن - صف) مال و دولت سے بھرا ہوا۔  
 پیراز فتنہ و شر - (ن - صف) شرارتوں اور فسادوں سے بھرا ہوا۔  
 پیراشک - (ن - صف) آبدیدہ - آنسوؤں سے پر۔  
 پیرافشاں - (ن - صف) افسانوں سے بھرا ہوا۔  
 پیرالم - (ن - صف) غمگین - دردناک۔  
 پیرباو - (ن - صف) ہوا سے بھرا ہوا۔ پھولا ہوا (۲) متورم (۳) معزور۔  
 پیرباہر - (ن - صف) معاملہ۔  
 پیربجڑ ہونا - (۱ - محاورہ) سخت مستعد ہونا۔  
 پیربہار - (ن - صف) سرسبز پھولوں سے بھرا ہوا۔  
 پیربیچ - (ن - صف) بیچ دار - ڈیڑھا - ترچھا۔  
 پیرتاب - (ن - صف) روشنی - چمک اور ڈر سے بھرا ہوا۔  
 پیرجھا - (ن - صف) ظالم - سفاک - جھکاوار۔  
 پیرحذر - (ن - صف) محتاط - ڈوراندیش - چوکس۔  
 پیرحسرت - (ن - صف) حسرت سے بھرا ہوا۔  
 پیرخار - (ن - صف) کانٹوں سے بھرا ہوا۔ تکلیف دہ۔  
 پیرخاطر - (ن - صف) نظروں سے بھرا ہوا۔ خطرناک۔  
 پیرتکلف - (ن - صف) بہت آراستہ - بڑی محنت اور اہتمام سے  
 بنا ہوا۔  
 پیرخیم - ڈیڑھا - ترچھا۔  
 پیرخمار - (ن - صف) نشے سے جڑ - مدہوش۔  
 پیردرد - (ن - صف) درد سے بھرا ہوا۔  
 پیردلی - بہادر - شجاع - جبری۔  
 پیردلی - بہادری - شجاعت - دلیری۔  
 پیرسوز - (ن - صف) جس کی آواز میں درد ہو۔  
 پیرشکم - پیٹ بھرا - آسودہ۔  
 پیرشکوہ - (ن - صف) عظمت والا - عظیم الشان۔  
 پیرغم - (ن - صف) غم سے بھرا ہوا۔ اندوہناک - غمگین۔  
 پیرفریب - (ن - صف) دھوکے باز - دغا باز۔  
 پیرفضا - بہادر - گستاخ - وسیع - بادوق - خوش منظر - سرسبز۔  
 پیرفن - (ن - صف) ہوشیار - چالاک - فنون میں ماہر۔  
 پیرکار - (۱) بڑا - (۲) مرصع (۳) دیز - گاڑھا (۳) محکم - پانڈار (۴)  
 دانہ - ہوشیار۔  
 پیرکین (کینہ) - (ن - صف) دشمن - بداندیش - کینہ ور۔  
 پیرکو - (ن - صف) بہت باتیں کرنے والا - باتونی۔  
 پیرکوئی - (ن - صف) بہت باتیں بنانا - بہت بولنا۔  
 پیرمتن - (ن - صف) وہ چارو یا دودھ جس کے حاشیے پر کام بنا ہوا۔  
 پیرمغن - (ن - صف) ممنوع - ممنک۔  
 پیرمغز - (ن - صف) عمدہ مضمون سے بھرا ہوا۔ عالمانہ۔  
 پیرمطلال - (ن - صف) رنجیدہ - رنج سے بھرا ہوا۔

پیرپر زوں سے درست ہونا - (۱ - محاورہ) ہوش سنبھالنا۔ بالغ ہونا (۲)  
 بناؤ سنگا کرنا (۳) تیار ہونا - مسلح ہونا (۴) سامان تیار کرنا (۵) کمی پوری کرنا۔  
 (۶) مقابلے پر آمادہ ہونا۔

پیرپر زے جھڑنا - (۱ - محاورہ) صغیف ہونا سکت نہ رہنا۔ قوت زائل ہونا۔  
 پیرپر زے نکالنا - (۱ - محاورہ) ہوش سنبھالنا۔ بالغ ہونا۔ ہوشیار ہونا (۲)  
 شرارت پر آمادہ ہونا (۳) جوین بٹھارنا۔  
 پیرتولنا - (۱ - محاورہ) پرندے کا اڑنے کو تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔  
 پیرٹوٹنا - (۱ - محاورہ) (۱) پکھ ٹوٹنا۔ بال و پر شکست ہونا (۲) قوت کم ہونا۔  
 ہسارازہ بننا (۳) حمایتی کا مخالف سے سازش کر جانا۔

پیرچلتے ہائیں - (۱ - بول چال) کسی کا گز نہیں۔ باریاں نہیں ہو سکتی۔  
 پیرچلنا - (۱ - محاورہ) (۱) طاقت نہ رہنا۔ کس بل جاتا رہنا (۲) خوف ہونا۔  
 مرغوب ہونا (۳) رسائی نہ ہونا۔ پہنچ نہ ہونا۔

پیرچٹنا - (۱ - محاورہ) پراگنا۔ پراگنا۔ مفرد پیدا ہونا۔ گھنڈ ہونا۔  
 پیرچھاڑنا - (۱ - محاورہ) (۱) پراگنا۔ کریمیں آنا (۲) بڑوں کو جھٹلنا۔ بڑوں کو  
 کھولنا (۳) اڑنے کا ارادہ کرنا۔  
 پیردار - بڑوں والا۔ اڑنے والا۔ پرندہ۔

پیرشکستہ - (ن - صف) ایزٹوٹا ہوا۔ مصیبت زدہ (۲) بے سہارا۔ بے کس۔  
 پیرشیخ کرنا - (۱ - محاورہ) (۱) بڑوں کو کاٹنا۔ بے پر کرنا (۲) بے بس کرنا۔ مجبور  
 کرنا۔ عاجز کرنا۔

پیرکا قلم - (۱ - مذ) کھینے کا قلم جو پر سے بنایا جاتا ہے۔  
 پیرکا کو آ بٹا دینا - (۱ - محاورہ) حد سے زیادہ مسالہ کرنا۔ بات کا بٹنگڑ بنانا۔  
 پیرکاہ - (ن - صف) بہت ہلکا۔

پیرکلیکے اڑ جانا - (۱ - محاورہ) تیزی سے اڑ جانا (۲) غائب ہو جانا۔  
 پیرکلیک جانا - (۱ - محاورہ) (۱) اڑنے کے قابل ہونا (۲) تیز ہو جانا (۳) رونق  
 بڑھانا۔ شان و شوکت زیادہ کرنا (۴) ترقی دینا (۵) ہوشیار ہو جانا۔  
 پیرکلنا - (۱ - محاورہ) (۱) بال و پر پیرا ہو جانا۔ بازو اور کچھ نکلنا (۲) اڑانا۔  
 شیخی مارنا۔

پیرلینا - (۱ - محاورہ) پیرکاٹنا۔ پیرکڑنا۔ پیرقیچ کرنا۔  
 پیرکارنا - (۱ - محاورہ) (۱) اڑنا۔ پرداز کرنا۔ فضا میں جانا (۲) پروں سے چوٹ  
 دینا (۳) پھیر پھارنا۔ فاقہ پاؤں مارنا (۴) کوشش کرنا۔

پیرنہ مارنا - (۱ - محاورہ) پاس نہ پھلنا۔ رسائی نہ ہونا۔  
 پیرو بال نکالنا - (۱ - محاورہ) (۱) ہوش سنبھالنا۔ شعور ہونا۔ عقل پیدا ہونا (۲)  
 جوین نکالنا (۳) شرارت پر آنا۔

پیر - (ن - صف) (۱) بھرا ہوا۔ لبریز (۲) مکمل۔ بھرپور۔ بافراط۔  
 پیرآب - (ن - صف) (۱) پانی سے بھرا ہوا (۲) آنسوؤں سے بھرا ہوا۔  
 پیرآبلہ - (ن - صف) پھالوں سے بھرا ہوا۔

پیرآرزو - (ن - صف) خواہش مند۔ آرزو رکھنے والا۔  
 پیرآشوب - (ن - صف) فتنہ انگیز۔ فساد سے بھرا ہوا۔  
 پیرآراین - (ن - صف) امیدوں سے بھرا ہوا۔  
 پیرآزائیتان - (ن - صف) شوق سے بھرا ہوا۔



(۲) فرسودہ - بوسیدہ - مستعمل - کام میں آیا ہوا (۳) جہاں دیدہ (۴) پیر - بڈھا  
(۵) پرانے زمانے کا۔  
پرانانا پڑنا - (۱) عمارت، کھنڈہ ہوجانا۔ بوسیدہ ہوجانا۔ عمر رسیدہ ہوجانا۔  
پرانانا ٹھیکرانا - (۱) نثر، بوسیدہ چیز۔ پرانا مال (۲) پرانی عورت۔  
پرانانا ٹھیکرانا اور قلعی کی جھڑک - (۱) شل [۱] اس بڑھی عادت کی نسبت کہتے  
ہیں جو جوانوں کی سی وضع اختیار کرے۔  
پرانانا ترانٹ - (۱) صفت، (۲) بہت پرانا۔ ہنایت بوڑھا (۲) بڑا تجربہ کار۔  
(۳) چالاک۔  
پرانانا ڈھرانا - (۱) صفت، (۲) بوسیدہ۔ دیرینہ۔ کھنڈہ۔ فرسودہ۔ نکلتا۔ مستعمل۔ بیکار۔  
پرانانا دکھڑا - (۱) مذ، پرانی شکایت۔ پرانا غم۔  
پرانانا لٹھاگ - (۱) صفت، پرانا تجربہ کار۔ گرگ باراں دیدہ۔  
پرانانی - (پ۔ را۔ نی) (۱) صفت [۱] ذی روح۔ جان دار (۲) انسان۔ ہنش۔  
پرانانی - (پ۔ را۔ بی) (۱) صفت، (۲) کھن سالہ۔ دیرینہ۔ معینہ (۲) بوسیدہ۔ فرسودہ  
(۳) ناکارہ۔ یعنی ناقابل استعمال۔  
پرانانی انکھیں دیکھنے ہوئے ہیں - (۱) شل، تجربہ کاریں۔ بڑوں کی  
مصیبت سے ڈھریا حاصل کیا ہے۔  
پرانانی کھربری - (۱) پرانا آدمی۔ معینہ آدمی۔ بوڑھا آدمی (۲) تجربہ کار۔  
کارنامہ (۳) پرانے رنگ کے۔ اگلے وقتوں کے۔  
پرانانی کیر کا فقیر - (۱) صفت، پرانی وضع کا پابند۔ پرانی رسومات کا متقلد۔  
پرانانی طلاق - مدت کا میل جول۔ دیرینہ واقفیت۔  
پرانانے جاوول - رکنیت، تجربہ کار۔ چہاندیدہ۔  
پرانانے لوگ - (۱) صفت، (۲) ملازمان قدیم۔ پرانے ذکر (۲) بوڑھے۔ دانہ۔  
پرانانے مردے اٹھیا پڑنا - (۱) عمارت، پرانی شکایتیں کرنا۔ اگلے پھلے  
جھگڑے نکالنا۔  
پراونس - (Province) (پ۔ را۔ ونس) (۱) انگ - ۱۔ مذ، صوبہ۔  
پراونشل - (Provincial) (پ۔ را۔ ون۔ شل) (۱) انگ - ۱۔ مذ، صوبے  
کے متعلق۔ صوبائی۔  
پراونشل پولیس - کسی خاص صوبے کی پولیس جو اس سے باہر تہذیب نہ  
کی جائے۔  
پراونشل رسول مسروس - (Provincial Civil Service)  
صوبے میں میز فوجی سرکاری افسروں کی بھرتی کا نظام۔  
پراوینڈنٹ فنڈ - (Provident Fund) (پ۔ را۔ وی۔ ڈنٹ۔ فنڈ)  
(۱) انگ - ۱۔ مذ، وہ رقم جو ملازم کی تنخواہ میں سے ہر ماہ ایک خاص شرح  
کے مطابق وضع کی جاتی ہے اور ملازمت کے خاتمے پر اسے واپس  
ملتی ہے۔  
پراپٹی - (پ۔ را۔ ایج۔) (۱) صفت، (۲) پراچہ فروش۔ پارچہ کا کام  
کرنے والا (۲) سٹے، سونے پرلے پینے والا (۳) ایک قوم جو ٹوپیاں وغیرہ  
بنانے فروخت کرتی ہے (۴) چھوٹا پیرسے کا ٹکڑا۔  
پرائز - (Prize) (پ۔ را۔ از) (۱) انگ - ۱۔ مذ، انعام۔ صلہ۔ اجر۔  
پرائمر - (Primer) (پ۔ را۔ مر) (۱) انگ - ۱۔ صفت، (۲) قاعدہ۔ طالب علموں

کی ابتدائی کتاب۔  
پرائم منسٹر - (Prime Minister) (پ۔ را۔ ایم۔ م۔ نس۔ ٹر)  
(۱) انگ - ۱۔ مذ، وزیر اعظم۔ سب سے بڑا وزیر۔  
پرائمری - (Primary) (پ۔ را۔ ای۔ م۔ بری) (۱) انگ - ۱۔ ابتدائی  
اذل۔ پہلا۔ سب سے پہلا (۲) اصلی۔  
پرائی - (پ۔ را۔ ای) (۱) صفت، (۲) حیرت کی۔ دوسرے کی۔ پرایا کی تائینت۔  
پرائی کس چولھے پاس - (۱) شل، دوسرے کے سہارے نہ رہنا چاہیے۔  
پرائی آگ میں کودنا - (۱) عمارت، دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینا۔  
پرائی آنکھیں کام نہیں آتیں - (۱) شل، دوسرے کے سہارے پر کام درست  
نہیں ہوتا۔ حیرت منہ سے کام نہیں آتا۔  
پرائی بات - (۱) صفت، (۲) حیرت کی بات۔ دوسرے کا معاملہ۔  
پرائی کیا پڑھی ہے - (۱) شل، دوسروں کی کیا فکر ہے۔  
پرائیویٹ - (Private) (پ۔ را۔ ای۔ ویٹ) (۱) انگ - ۱۔ صفت، (۲)  
نجی۔ خاگی (۲) غیر سرکاری (۳) انفرادی۔ ذاتی۔ شخصی (۴) مخفی۔ خفیہ۔ راز کا۔  
بیمیدار۔ راز۔  
پرایا - (پ۔ را۔ یا) (۱) صفت، (۲) غیر کا۔ اور کا۔ دوسرے کا۔ بیگانہ۔ اجنبی۔  
پرایا دھن (مال) - کنواری لڑکی۔  
پرایا مسر دیوار کی برابر - (۱) شل، اس وقت بولتے ہیں جب کوئی دوسرے  
کی تکلیف کی پرواہ نہ کرے۔  
پرائے بڑے آزاد کرنا - (۱) عمارت، دوسروں کے مال پر فیاضی کرنا۔  
دوسرے کی کمائی پر غر کرنا۔  
پرائے بس میں - دوسرے کے اختیار میں (ہونا کے ساتھ)۔  
پرائے مسر کی بلا لینا - (۱) عمارت، دوسرے کی مصیبت اپنے ذمہ لینا۔  
دوسرے کی ذمہ داری اپنے سر لینا۔  
پرائے شکون کے لیے اپنی ناک کٹائی - (۱) شل، دوسروں کے فائدے  
کے لیے اپنا نقصان کرنا۔  
پرائے کھرا ہونا - (۱) عمارت، بیٹی کی شادی ہونا۔ لڑکی کا بیاہ کر دینا۔  
پرائے مال پر دیرے لال - (۱) شل، دوسرے کی چیز پر بیجا غرور۔  
پرائے مال پر یاتھین - (۱) شل، حلائی کی دوکان پر دادا جی کی فاتحہ۔ غیر  
کے مال پر شیخی بھگانا۔ چیز کسی کی اور خاکوئی اور ہوا۔  
پرائے لٹھ پر شکر پالنا - (۱) شل، دوسرے کے بھروسے کوئی کام کرنا۔  
دوسرے کے سہارے زندگی بسر کرنا۔  
پرایا مسر لال دیکھ کر اپنا مسر چھوڑنا - (۱) عمارت، دوسروں کی نقل کر کے  
اپنا نقصان کرنا۔  
پراب - (۱) مذ، (۲) باب۔ مقدمہ۔ فضل۔ آدھیائے (۲) میلہ۔ ہجوم۔ بھیڑ۔  
(۳) ہیرے کی قسم (۴) بوڑھا۔ گانڈھ۔ گرہ۔ عضو۔  
پراباس - (پ۔ را۔ باس) (۱) صفت، (۲) مذ، سفر۔ سیاحت۔  
پرابت - (پ۔ را۔ بت) (۱) صفت، (۲) مذ، پیار۔ گروہ۔ میل۔  
پرابتی - (پ۔ را۔ تی) (۱) صفت، (۲) مذ، پیار۔ پیار کا کہنے والا۔  
پرابندھ - (پ۔ را۔ بندھ) (۱) صفت، (۲) مذ، بندوبست۔ انتظام۔ انصرام۔ ٹھیک ٹھاک













**پروٹین** - (Protein) (پرو۔ٹین) (انگ۔1۔امٹ) [بھینس۔ لحمیہ۔ حیوانی  
و نباتاتی خوراک کا ایک اہم جزو۔  
**پروڈکشن** - (Production) (پرو۔ڈک۔شن) (انگ۔1۔امٹ) [میں  
پیداوار خصوصاً ادبی۔ صنعتی و زرعی وغیرہ۔  
**پروڈیوسر** - (Producer) (پرو۔ڈیو۔سر) (انگ۔1۔مڈ) [میں  
کرنے والا۔ پیش کرنے والا۔  
**پروڈور** - (پرو۔ڈور) (ف۔صغ) [پرورش کرنے والا (مرکبات میں استعمال ہوتا  
ہے جیسے بندہ پرور)۔  
**پروڈورگار** - (پرو۔ڈور۔گار) (ف۔1۔مڈ) [پرورش کرنے والا۔ پالنے والا۔  
خدا نے تعالیٰ۔  
**پروڈورگار عالم (عالمیان)** - (ف۔1۔مڈ) [دنیا اور دنیا میں رہنے والوں  
کا پالنے والا۔ خدا تعالیٰ۔  
**پروڈورہ** - (پرو۔ڈور۔رہ) (ف۔1۔مڈ) [پالا ہوا۔ پرورش کیا ہوا (۲) بسایا ہوا۔  
دیبا یا ہوا (۳) بھرا دیا گیا ہوا۔  
**پروڈوریش** - (پرو۔ڈور۔یش) (ف۔1۔مٹ) [۱) پالن۔ پالنا (۲) تعلیم و تربیت  
(۳) ہیرانی۔ عنایت (افعال کرنا۔ ہونا)  
**پروڈورندہ** - (ف۔صغ) [پالنے والا۔ پرورش کرنے والا (۲) سرپرست۔  
**پرووس** - (پرو۔وس) (پ۔ر۔وس) (پ۔ٹوس) (۱۔مٹ) [جسٹس۔  
اطراف۔ اردگرد۔  
**پرووسا** - (پ۔ر۔وسا) (۱۔مڈ) [۱) حصہ۔ بجزہ۔ خوراک (۲) کھانا کسی  
کے آگے رکھا جانے۔  
**پرووسن** - (پ۔ر۔وسن) (ہسائی۔ٹوس) میں رہنے والی عورت۔  
**پرووسنا** - (پ۔ر۔وسنا) (۱۔مٹ) [۱) ہمنوں کے آگے کھانا چھننا۔ میزبانی کرنا۔  
**پرووسیا** - (پ۔ر۔وسیا) (یا۔۱۔مڈ) [کھانا چھننے والا۔  
**پرووسیشن** - (Procession) (پ۔ر۔وس۔یشن) (انگ۔1۔مڈ)  
ہلوس۔ ہلوس کا شان و شوکت سے گزرنا۔  
**پرووف** - (Proof) (انگ۔1۔مڈ) [مسودہ۔ خاکہ۔ سب سے پہلا چھپا  
ہوا کاغذ جو بغرض اصلاح دکھایا جاتا ہے۔ نقل۔  
**پروف ریڈر** - (Proof Reader) (اصل مسودے کی نقل پڑھ  
کردار کرنے والا۔ پروف پڑھنے والا۔  
**پروفیسر** - (Professor) (پ۔ر۔و۔ف۔سر) (انگ۔1۔مڈ)  
معلم۔ مدرس اعلیٰ۔ کالج کے لڑکوں کو پڑھانے والا استاد۔  
**پروفیشن** - (Profession) (پ۔ر۔و۔ف۔شن) (انگ۔1۔مڈ) [پیشہ۔ کام۔  
**پروگرام** - (Programme) (پ۔ر۔و۔گ۔رام) (انگ۔1۔مڈ)  
ترتیب۔ سلسلہ۔ ڈھنگ۔ طریقہ۔ لائحہ عمل۔  
**پروول** - (پرو۔ول) (۱۔مڈ) [ایک ترکاری جسے پڑل بھی کہتے ہیں۔  
**پروول** - (Parole) (پ۔ر۔ول) (انگ۔1۔مٹ) [۱) وہ خاص لفظ  
بالفاظ جو شناخت کے لیے پہرے والے کو بتائے جاتے ہیں تاکہ کوئی  
شخص اُسے دھوکا نہ دے سکے (۲) قیدی کا علف نامہ یا وعدہ کردہ مقررہ  
وقت پر واپس آجائے گا۔

**پرووال** - (پرو۔وال) (۱۔مڈ) [پروبال۔ آنکھوں کا ایک مرض۔  
دیکھتے پروبال۔  
**پرووان** - (پرو۔وان) (۱۔مٹ) [۱) کامیاب۔ ممکن۔ پورا۔ بالغ۔  
(۲) ٹھیک۔ صحیح۔ درست۔ مستحکم (۳) بادبان کا ڈنڈا۔  
**پرووان پڑھانا** - (۱۔مٹ) [۱) پال پر کڑا کرنا۔ کامیاب کرنا۔ مراد کو پہنچانا۔  
**پرووان پڑھنا** - (۱۔مٹ) [۱) کامیاب ہونا۔ مراد کو پہنچنا۔ تکمیل کو  
پہنچانا۔ پورا ہونا۔  
**پرووانجات** - (پرو۔وان۔جات) (ف۔1۔مڈ) [پروان کی جمع۔ پروانے۔  
برحکم نامے۔ اجازت نامے۔ کئی فرمان۔  
**پرووانگی** - (پرو۔وان۔گی) (ف۔1۔مٹ) [اجازت منگم۔ آگیا۔  
**پرووانہ** - (پرو۔وان۔ہ) (ف۔1۔مڈ) [۱) تینگا۔ ایک پروڈاکٹ (۲) اجازت نامہ۔  
حکم نامہ (تجربہ) (۳) وہ جانور جو شیر کے آگے آگے چلتا ہے (۴)  
(عجازاً) عاشق۔ فریفتہ۔  
**پرووانہ تلاشی** - (۱۔مڈ) [مگر کی تلاشی کا وارنٹ۔  
**پرووانہ راہداری** - (ف۔1۔مڈ) [دوسرے ملک میں جانے کا اجازت نامہ۔ پاسپورٹ  
**پرووانہ طلب** - وہ سند جو سمن خدمت کے عوض دی جاتی ہے اور سونے کے  
بانی سے رکھی جاتی ہے۔  
**پرووانہ گرفتاری** - (ف۔1۔مڈ) [گرفتاری کا حکم نامہ۔ وارنٹ گرفتاری۔  
**پرووانہ وار** - پروانہ کی طرح۔  
**پرووانہ ہونا** - عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ جان دینا۔  
**پرووالا** - (پرو۔والا) (۱۔مڈ) [۱) طباق کی شکل کا بال بھرا منہ جو پتنگ کے  
سر ہانے کی طرف پیلوں کے نیچے رکھتے ہیں۔  
**پرووالی** - (پرو۔والی) (۱۔مٹ) [۱) پرورد ہوا۔ پورب سے آنے والی ہوا۔  
باد مشرق۔  
**پرووا یا** - (پرو۔وا۔یا) (۱۔مڈ) [کڑی کا وہ ٹکڑا جو چار پائی کے پایوں کے  
نیچے رکھا جاتا ہے۔  
**پروولیشن** - (Probation) (پ۔ر۔و۔بے۔یشن) (انگ۔1۔مڈ)  
عارضی ملازم یا امیدوار کی اہلیت کی آزمائش۔ کام کیلئے کا زمانہ۔  
**پروولیشنر** - (Probationer) (پ۔ر۔و۔بیش۔نر) (انگ۔1۔مڈ) [کام  
کیلئے والا۔ عارضی ملازم۔  
**پروپرائٹر** - (Proprietor) (پ۔ر۔و۔پ۔را۔ایٹر) (انگ۔1۔مڈ) [مک  
**پروپینڈا** - (Propaganda) (پ۔ر۔و۔پے۔گن۔ڈا) (انگ۔1۔مڈ)  
اشاعت۔ تبلیغ۔ تہسیر۔ ڈھنڈورا۔  
**پرووتا** - (پرو۔وتا) (۱۔مڈ) [۱) پوتے کا بیٹا (۲) آٹما۔ گڑ۔ ہلدی۔ پان وغیرہ  
جو کسی تقریب پر خدمتی کین کر دیا جاتا ہے۔  
**پرووتی** - (پرو۔وتی) (۱۔مٹ) [پوتے کی بیٹی۔  
**پروٹسٹ** - (Protest) (پ۔ر۔و۔ٹسٹ) (انگ۔1۔مڈ) [استحاج۔  
اعتراض۔  
**پروٹسٹنٹ** - (Protestant) (پ۔ر۔و۔ٹس۔ٹنٹ) (انگ۔1۔مڈ)  
[۱) جیسا ہیوں کا وہ فرقہ جو پپ کی قیادت کو نہیں مانتا۔











**پشتا پشت** - پشہا پشت - (ف۔مٹ) باپ داماسے بھی پشتوں سے - پشہری در پشہری -  
**پشت بر پشت** - پشت در پشت - (ف۔ا۔مٹ) (۱) نسل در نسل (۲) ہمیشہ سے (۳) باپ داداسے -  
**پشت بدلوار** - (ف۔مٹ) حیران - پریشان -  
**پشت پر ہونا** - (معاورہ) حمایت پر ہونا - امداد پر ہونا -  
**پشت پناہ** - (ف۔ا۔مٹ) (۱) مذہبی حمایتی سعادوں - مددگار (۲) جائے پناہ - ملجا وادگی  
**پشت خار** - (ف۔ا۔مٹ) (۱) ایک آکھس سے پھٹے کھلاتے ہیں (۲) کھریرا  
 خنزرا - لہسے کا پتھر جس سے جانوروں کے بدن کی گرد جھڑتے ہیں -  
**پشت دکھانا** - (معاورہ) لڑائی سے بھاگ جانا - پیٹھ دکھانا -  
**پشتا رہ** - (پش۔تا۔رہ) (ف۔ا۔مٹ) (۱) بوجھ - گھسا - ڈھیر - انبار -  
**پشتا وا** - (پش۔تا۔وا) (ق۔ا۔مٹ) (۱) پھیلتا - وائسٹرنڈگی - ندامت -  
**پشک** - (پش۔شک) (ف۔ا۔مٹ) (۱) ایک کھیل (۲) دولتی -  
**پشک مارنا** - دولتی مارنا - گرے - گھوڑے اور اونٹ کا دونوں پھیلے  
 پاؤں اٹھا کر لات مارنا -  
**پشتو** - (پش۔تر) (ف۔ا۔مٹ) (۱) پختو - افغانی زبان - کابل بولی -  
**پشتو لیا** - (پش۔قول۔یا) (ف۔ا۔مٹ) (۱) ایک قسم کا باریک کپڑا -  
**پشتہ** - (پش۔تہ) (ف۔ا۔مٹ) (۱) مٹی کا ڈھیر - ٹیلا - بند - بندھو (۲) وہ چمڑا  
 یا کپڑا جس سے کتاب کی پشت کے پٹھے جوڑے جاتے ہیں -  
**پشتہ بندی** - (ف۔ا۔مٹ) (۱) بند باندھنا (۲) دیوار یا کنارے کو مضبوط کرنا -  
**پشتی** - (پش۔تی) (ف۔ا۔مٹ) (۱) مضبوطی - پائندگی (۲) مدد - سہارا -  
 حمایت - جانب داری (۳) تکیہ - ٹیک (۴) حفاظت -  
**پشتیان** - (پش۔تی۔بان) (ف۔ا۔مٹ) (۱) سہارا دینے والا - ساتھی - مددگار -  
 (۲) پتان - وہ کڑھی جو نیچے کی جانب پائندگی کے لیے کوڑھتخت - کشتی  
 جہاز وغیرہ میں لگائی جاتی ہے -  
**پشتین** - (ا۔مٹ) پشت کی جمع - آباؤ اجداد - پڑھیاں -  
**پشتینی** - (پش۔تے۔تی) (ف۔ا۔مٹ) (۱) موروثی - خاندانی - قدیمی -  
**پشت** - (س۔مٹ) مضبوط - پائند - زور آور - بلوان (۳) مقوی  
 طاقت بخش -  
**پشم** - (ف۔ا۔مٹ) (۱) بالی - رگوال - اون (۲) کیس (۳) جھانٹ - ٹوٹے  
 زہار (۴) بے حقیقت - حیرت - ذلیل - رذیل (۵) بے کار -  
**پشم اکھاڑنا** - (معاورہ) کسی قسم کا نقصان پہنچانا -  
**پشم اکھاڑنے سے مراد** ہلکا نہیں ہو جاتا - (ا۔مٹ) بڑی تکلیف کے  
 وقت معمولی تکلیف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا -  
**پشم برابر جاننا** - (معاورہ) بہت تعجب رکھنا -  
**پشم پر مارنا** - (معاورہ) (۱) ہنایت تعجب جاننا (۲) پروا نہ کرنا - خاطر میں نہ لانا -  
**پشم کندہ نہ ہونا** - (معاورہ) (۱) جھانٹ نہ اٹھنا (۲) کچھ نہ ہوسکنا (۳) بدلہ  
 لینے سے مجبور ہونا -  
**پشم نہ سمجھنا** - (معاورہ) کچھ نہ سمجھنا - خاطر میں نہ لانا -  
**پشک** - (ق۔ا۔مٹ) (۱) مٹھائی کی ایک قسم -

پسندیدہ - (پ۔سن۔دی۔دہ) (ف۔مٹ) پسند کیا ہوا - حسب منشاء انتخاب  
 کیا ہوا - چنا ہوا - منظور کیا ہوا -  
**پسندیدہ رو** - (ف۔مٹ) (۱) نیک چلن - خوش اخلاق (۲) خوش رفتار -  
**پسنگا** - (پ۔سن۔گا) (پ۔سن۔گھا) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
**پسہارا** - (پ۔سن۔ہارا) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
**پسہاری** - (پ۔سن۔ہاری) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
**پسکو** - (پس۔سو) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
 میں مچلی ہوتی ہے -  
**پسواڑہ** - (پس۔وارہ) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ - پاسا - پسلیوں کا سلسلہ -  
**پسوانا** - (پس۔وانا) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
**پسوانی** - (پس۔وانی) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
**پسوج** - (پس۔سوج) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
 میں مچلی ہوتی ہے -  
**پسوجنا** - (پس۔سوج۔نا) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
**پسپی** - (پس۔پی) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
**پسینا** - (پس۔سینا) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
**کھانا** (۲) دھیان دینا - ہرمانی کرنا (۳) مظلوم کی حراہٹ سننے پر تیار ہونا -  
**پسین** - (پس۔سین) (ف۔مٹ) (۱) آخرا - پھلا -  
**پسینا** - (پس۔سینا) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
 جسم سے باہر نکلنے -  
**پسینا آنا** - (معاورہ) عرق آنا - غمی یا بجزارت کا خارج ہونا - شرمندہ ہونا -  
**پسینا پونجھنا** - (معاورہ) شرمندگی مٹانا (۲) پسینا خشک کرنا -  
**پسینا چھوٹنا** - (معاورہ) کثرت سے پسینا آنا - شرمانا - لاجواب ہونا -  
**پسینا ہرا ہونا** - (معاورہ) پسینا خشک ہونا - عرق سٹھکنا - غمی دور ہونا -  
**پسینوں میں ڈوبنا** - پسینوں میں نہانا - (معاورہ) بے انتہا پسینا آنا  
 بکثرت پسینا آنا -  
**پسینے پسینے ہونا** - (معاورہ) (۱) عرق ہونا (۲) پسینوں  
 میں ڈوبنا (۳) شدید محنت یا گرمی کے باعث پسینا آنا (۴) شرمندہ  
 اور مجمل ہونا -  
**پسینے سے تر ہونا** - (معاورہ) بہت پسینا آنا -  
**پسینے کی جگہ خون بہانا** - (معاورہ) کسی کے لیے جان دینے سے درپن نہ کرنا  
**پسینے میں شرا لور ہونا** - (معاورہ) بہت پسینا آنا -  
**پسپو** - (پ۔سیو) (۱) ہڈی کا پانگ کا بگاڑ -  
 جو چادروں کے پک جانے کے قریب نکالا جاتا ہے -

# پش

**پشت** - (ف۔ا۔مٹ) (۱) پیٹھ - کر (۲) پچھاڑی (۳) ٹیک - مدد - سہارا (۴)  
 سعادوں (۵) پشہری - نسل - خاندان - جمع - پشتہا -









پلیٹہ (پ۔ لی۔ ٹ۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱) جی۔ نقلہ (۲) توہذہ جتر سنتر (۳) توڑا۔ پے ہوئے بارود میں بھرا ڈورا جس میں آگ لگا کر آتش بازی یا بندوق چھوڑی جاتی ہے۔

پلیٹہ جھاٹ جانا۔ (۱) عاودہ (۲) گھی یا تیل وغیرہ کا درجی یا گڑھی میں آگ کی تیزی سے جل اٹھنا (۳) توب کا جتی دینے پر دلچنا۔

پلیٹہ دینا۔ (۱) عاودہ (۲) جتی دکھانا۔ توڑا لگانا۔ آگ لگانا۔

پلیٹھن۔ (پ۔ لے۔ یضن) (۱) مذ (۲) منگی۔ سوکھا آٹا۔ جس کی مدد سے روٹی بڑھائی اور پھڑی کی جاتی ہے (۳) وہ چھوک جو آٹے سے مادہ نکالنے کے بعد باقی رہا ہو۔

پلیٹھن نکالنا۔ (۱) عاودہ بہت ماننا۔ مارکر آدھ مڑا کر دینا۔ کچھ نکال دینا۔

پلیٹھن نکل جانا (نکلنا)۔ (۱) عاودہ تباہ ہو جانا۔ خستہ حال ہو جانا۔ بڑا نقصان ہونا۔

پلیٹ۔ (Plate) (انگ۔ ۱۔ مسٹ) رکابی۔ مقال۔ عشتری۔

پلیٹ فارم۔ (Platform) (پ۔ لیٹ۔ فارم) (انگ۔ ۱۔ مذ) سطح یا چوڑا۔ وہ چوڑا جس کے متصل ریل کھڑی ہوتی ہے یا جس پر کھڑے ہو کر تفر کر کے ہیں۔

پلیٹ فارم ٹکٹ۔ (Platform Ticket) ٹکٹ جو ریل کے پلیٹ فارم پر جانے کے لیے خریدا جائے۔

پلیٹ لیسر۔ (Layer) (پلیٹ۔ لے۔ آر) (انگ۔ ۱۔ مذ) ریل کی

سڑک بنانے کا افسر۔ ریل کی سڑک کا نگران افسر۔

پلیٹینم۔ (Platinum) (پ۔ لے۔ ٹی۔ نم) (پ۔ لا۔ ٹی۔ نم) (انگ۔ ۱۔ مذ) ایک قیمتی دھات۔

پلیڈ۔ (پ۔ لیڈ) (ف۔ صف) (۱) پلیٹ۔ گندہ۔ ناپاک۔ نجس۔ بلیغ (۲) بھڑ پرت

پلیڈر۔ (Pleader) (پ۔ لی۔ ڈر) (انگ۔ ۱۔ مذ) وکیل۔ وکالت کرنے

والا۔ عدالت میں مدعی یا مدعا علیہ کی طرف سے مقدمے کی پیروی کرنے والا۔

پلیس۔ (Place) (پ۔ لیس) (انگ۔ ۱۔ مذ) جگہ۔ مقام۔

پلیگ۔ (Plague) (پ۔ لیگ) (انگ۔ ۱۔ مسٹ) طاعون۔ ایک

مہلک مرض جو زہریلے پھو کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔

پلین۔ (Plan) (پ۔ لین) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) تجویز۔ تدبیر۔ منصوبہ۔

ڈھنگ۔ مسودہ (۲) زمین یا عمارت کا نقشہ۔ خاکہ۔

پلین۔ (Plane) (پ۔ لین) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) سادہ (۲) ہموار۔

## پ۔ م

پمپ۔ (Pump) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) زمین سے پانی نکالنے کا آلہ (۲)

ہوا بھرنے کا آلہ (۳) ایک قسم کی جوتی۔

پمفلٹ۔ (Pamphlet) (پم۔ ف۔ لٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ)

رسالہ۔ چھوٹی کتاب۔

دبا کر رس نکھانا (۱) ریل لگانا۔ پیل پڑنا۔ دھکیل دینا (۲) حملہ کرنا۔

پینڈا۔ (پ۔ لن۔ ڈا) (۱) مذ (۲) پیکٹ۔ بندل۔ گھڑی۔ گڈی۔

پینگ۔ (پ۔ ننگ) (ف۔ ا۔ مذ) چپٹا۔ ایک درندہ۔ جس کے بدن پر سیاہ

دبے ہوتے ہیں۔ جمع، پینگاں۔

پینگ۔ (پ۔ ننگ) (س۔ ا۔ مذ) بڑی چارپائی۔ سہری۔ کھاٹ۔

پینگ پر بھاگ کر دوٹی دینا۔ (۱) عاودہ بغیر کسی عارضہ کے اچھا سوک کرنا۔

پینگ پر بیٹھنا۔ (۱) عاودہ بہت آرام دینا۔ کام نہ لینا۔

پینگ پوسن۔ (۱) مذ) چادر۔ بالا پوش۔ پنگ اور بستر ڈھکنے کا کپڑا۔

پینگ توڑ۔ (۱) صف) (۲) پینگ پر بڑا ہستے والا۔ بے کار شخص۔ ٹھوڑا۔

لاہلی سسٹ (۲) (۱) مسٹ) اسگ کی ایک دوا۔

پینگ میں چور۔ (۱) مذ) دوسرے جو ایک پنگ اور تین چوروں یا ایک

جنانہ اور تین جنازہ اٹھانے والوں کی صورت میں آسمان پر نظر آتے ہیں۔

نبات النش۔

پینگ کولات مار کر کھڑا ہونا۔ (۱) عاودہ (۲) بچہ جن کو فارغ ہونا۔ دہلی

سے سیم سلامت نشنا (۳) سخت بیماری سے صحت پانا۔

پینگ کے بان (باندھ) توڑنا۔ بیکار پڑے رہنا۔ کھلا کام نہ کرنا۔

پینگ ٹرمی۔ (پ۔ ننگ۔ ٹرمی) (۱) مسٹ) پنگ کی تعین۔ چھوٹی چارپائی۔

پنگو۔ (پن۔ لو) (۱) مذ (۲) دامن۔ آچھل۔ کنہ۔ حاشیہ (۳) چوڑی گوٹ۔

پنگو دار۔ وہ لباس جس کے کنارے پر سونے چاندی کی چوڑی گوٹ لگی ہو۔

سہری رد پہلی گوٹ بنانے والا۔

پنگو اتا۔ ریل۔ فا۔ نا۔ (۱) مسٹ) پردوش کرانا۔

پنگو اتا۔ (پن۔ دا۔ نا) (۱) مسٹ) (۲) نوش کرانا (۳) تیل نکھانا (۴) رس نکھانا۔

عرق نکھانا (۴) بلنا۔ نکھانا۔

پنگوٹ۔ (Pluto) (پن۔ لوٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) یونانی اور رومی علم الاصنام

میں عالم اسفل کا دیوتا۔ پلوٹان۔ جبران۔ میراج (۲) ایک ستارہ جو سنہ ۱۹۱۹

میں دریافت ہوا تھا۔

پلوٹھا۔ پھلوٹھا۔ پھلوٹھا۔ (پ۔ لوٹھا) (پ۔ لوٹھا) (پ۔ لونٹھا) (۱) صف)

پھلوٹھا۔ پھلوٹھا۔ پھلوٹھا۔ (پ۔ لوٹھا) (پ۔ لوٹھا) (پ۔ لونٹھا) (۱) صف)

پلوٹھا کی تائینٹ۔ پہلے پہل کی لڑکی۔

پلوٹ۔ (پن۔ ڈول) (۱) مذ (۲) ایک تڑکاری۔

پلوٹ ملانا۔ (۱) عاودہ موافق کر لینا۔ گامٹھنا۔ سازنا۔ زکنا۔ ہرا۔ زبانا۔ سازش کرنا۔

پلوٹ۔ (پن۔ ڈول) (۱) مذ (۲) پڑا۔ باٹ۔ پلوٹ (۳) سیرھی۔ زمین (۴) رتبہ۔ درجہ۔

پلوٹا۔ (پ۔ ہن۔ ڈا) (۱) مذ (۲) گھڑوچی۔ ٹنگن۔

پلوٹنڈی۔ (پ۔ ہن۔ ڈی) (۱) مسٹ) پانی رکھنے کی گھڑوچی۔

پولی۔ (پ۔ لی) (۱) مسٹ) تیل یا مٹی نکالنے کا آلہ۔ میٹھا۔

پولی ملی جوڑنا۔ بوند بوند کھا کرنا۔ حقوڑا حقوڑا جمع کرنا۔ کوڑی کوڑی جوڑنا۔

پولی۔ (پ۔ لی) (۱) مسٹ) پانی کی تعین۔ چھوٹا پیل۔ مٹیا۔

پولیت۔ (پ۔ لیٹ) (۱) صف) (۲) گندہ۔ پلیڈ۔ ناپاک (۳) کھوس۔ بھیل (۴) بھوت





پنج شنبہ - (ف۔ مذ) جمعرات۔

پنج عیب - (ف۔ صفت) ان پانچ عیبوں والا گھوڑا - جبتہ - کمری - گنہ نگ - منہ زور - شب کورہ۔

پنج عیب شرعی - (ف۔ مذ) چوری - حرام کاری - شراب خوری - جوانی - جھوٹ بولنا۔

پنج گکے - (پ۔ مذ) سکتوں کے پانچ مذہبی نشان جو حرف ک سے شروع ہوتے ہیں - (۱) گڑا (۲) کیس (۳) کریان (۴) گنگھا (۵) کچھا۔

پنج کلیان - (ف۔ مذ) وہ گھوڑا ماروٹھی جس کے چاروں پاؤں اور ماتھا سینہ ہو - اسے مبارک خیال کیا جاتا ہے۔

پنجگانہ - (ف۔ صفت) پانچوں وقت کی نماز۔

پنج گوشہ - (ف۔ صفت) پانچ کونے والا - پانچ کنارے والا۔

پنج ند - (ا۔ مذ) پانچ دریاؤں والا - پاکستان کا وہ مقام جہاں پانچ دریا ملتے ہیں (پنجاب)۔

پنج نوبت - (ف۔ مذ) پانچ وقت کی نوبت جو بادشاہوں اور امیروں کے عمل پر بجائی جاتی تھی۔

پنجارا - (ف۔ مذ) روٹی دھکنے والا۔

پنجاہ - (پن۔ جاہ) (ف۔ صفت) پیاس - ۵۰۔

پنجبر - (پن۔ جز) (۱) مذ [۱] ڈھانچہ - قالب (۲) پیل۔

پنجرا - چمچہ - (پنج۔ را) (پنج۔ ۵) [۱] مذ [۱] نقس - پرندوں کے رکھنے کا تیلوں سے بنا ہوا گھر۔

پنجری - (پنج۔ ری) (۱) مذ [۱] صغیر - چھوٹا پنجرہ (۱) شکاری (ق)۔

پنجڑی - (پنج۔ ری) (۱) مذ [۱] صغیر - چھوٹا پنجرہ (۱) شکاری (ق)۔

پنجڑی - (پن۔ جم) (ف۔ صفت) پانچواں۔

پنجٹا - (پنج۔ نا) (۱) مص [۱] ٹانگا لگنا - جوڑ لگانا - ٹانگے سے پیوست کرنا۔

پنجوڑ - (پن۔ جوڑ) (ق۔ صفت) نجف - کزور۔

پنجوانا - (پنج۔ نا) (۱) مص [۱] ٹنگا لگنا - ٹانگے سے پیوست کرنا - بڑھانا۔

پنجہ - (پن۔ جہ) (ف۔ مذ) [۱] پانچ چیزوں کا مرکب - ہاتھ مع انگلیوں کے۔

پنج چنگ - (پنج۔ شانہ) (۳) لب - ٹھنسی (۴) پانچ صفات کرنے کی بڑی یا ٹھیکڑا۔

(۵) آدمی کے ہاتھ کی شکل کا چاندی کا نشان جو تزیین کے ساتھ ہاتس میں لگا ہوتا ہے (۶) ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کہ ہر ایک کی تعداد پانچ ہے۔

پنجہ آفتاب - (پنجہ مخور شید - (ف۔ مذ) سورج کی کرنیں۔

پنجہ چھیرنا - (۱) عاوردہ پنجرہ میں پنجرہ ڈال کر مروڑ دینا (۲) مغلوب کرنا - قابو پانا

پنجہ کرنا - (۱) عاوردہ دو آدمیوں کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر زور آزمائی کرنا۔

پنجہ کش - (ف۔ صفت) [۱] پنجرہ ڈالنے والا (۲) جتنے سے شکار کرنے والے جانور (۳) لہے کی سلاخوں میں پنجرہ ڈال کر مشق کرنے والا (۴) دہلی کے شہر خوش نرئیس سید محمد رضوی کا لقب۔

پنجہ مارنا - (۱) عاوردہ (۱) ہاتھ مارنا - چنگل مارنا - چھینا مارنا (۲) مہین چھپت کرنا - لوٹ مار کرنا۔

پنجہ مرہم - (ف۔ مذ) ایک گھاس جس کی بابت مشہور ہے کہ حضرت مرہم نے حضرت عیسیٰ کے بچنے کے وقت پنجرہ مارا تھا اور اس کی شکل تینے کی سی ہو گئی۔

پنجہ نگارین - (ف۔ صفت) مشرق کا ہاتھ - سجا ہوا ہاتھ - خوبصورت ہاتھ۔

پنجہ نما - (ف۔ صفت) تینے کی شکل کا۔

پنجوں کے بل چلنا - (۱) عاوردہ (۱) ایڑیوں کو اوڈ پنا کر کے انگلیوں پر چلنا (۲) عذر کرنا۔

تینے (جھانا) گاڑنا - (۱) عاوردہ قابض ہو جانا - جم کر بیٹھ جانا - پاؤں جھانا۔

تینے جھاڑ کر تینے پڑ جانا (پٹینا) - (۱) عاوردہ سر ہو جانا - پیچھے لگ جانا۔

بنایت تنگ کرنا - امر کرنا - اڑھلا کرنا - کسی کام میں مستعدی سے لگ جانا۔

تینے سے چھوٹنا - (۱) عاوردہ روٹی حاصل کرنا۔

پنجی - (پن۔ ہی) (ف۔ مذ) [۱] صغیر (۲) بیاض جھلانے کا آگہ - تماش کے پانچ نشانوں والا۔

پنجیرا - (پن۔ جے۔ را) (۱) مذ [۱] برتن مابینے والا - تلی گر - برتن میں جوڑ لگانے والا۔

پنجیری - (پن۔ جی۔ ری) (۱) مذ [۱] پانچ چیزوں مثلاً سوچی - لگی - سونٹھ - گوند - بیروہ سے مرکب خشک بھر بھرا علوہ (۲) گوند کھانے جو زچہ کو کھلانے جاتے ہیں۔

پنج - (۱) مذ [۱] پانچ کا مخف (۲) پتھارت کرنے والے - ثالث - باہم فیصلہ کرانے والے - برادری کا چودھری (۳) بچر لیا - دلال۔

پنج پائر - (۱) پانچ برتن جو پوچا کرنے میں کام آتے ہیں (۲) پانچ قسم کے پھول پتے وغیرہ جو پوچا کے کام میں لائے جاتے ہیں (۳) پانچ دھاتوں سے بنا ہوا برتن جو پوچا میں برتتے ہیں (۴) پانچ دھاتوں سے بنی ہوئی انگوٹھی۔

پنج شتر - (س۔ ۱) مذ [۱] جانوروں کے قصوں کی مشہور کتاب جو سنسکرت سے فارسی میں ازارہیسی کے نام سے ترجمہ ہوئی۔

پنج سلطانی - (۱) ع۔ ۱) مذ [۱] بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ثالث۔

پنج فیصلہ - پنچوں کا فیصلہ - پنچایت کا طے شدہ معاملہ - برادری کا حکم۔

پنج کہیں ملی تو ملی ہی سہی - (دشل) جو سب کی رائے جو - اسی سے اتفاق کرنا اچھا ہے۔

پنج بل خدا، خدا بل پنج - (دشل) پنچوں کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔

پنچوں کا پیرا - حقہ - قلیان۔

پنچوں کا کہا سرائی کھول پیر کر پر نالہ ہمیں سبے گا - (دشل) اس شخص کی نسبت کہ ہمیں بے بسے لوگ کہتا ہی سمجھائیں، لیکن وہ اپنی ضد نہ چھوڑے۔

پنچوں بل کیجیے کاج، ہارے جیتے آئے نہ لاج - (دشل) ایسی پنچوں کی صلاح سے کوئی کام کرنا ہارنے اور جیتنے میں شرمندہ نہیں کرانا۔

پنچ - (Punch) (۱) مذ [۱] چھوٹے قد کا موٹا آدمی - ٹھنگنا اور کڑا آدمی - سزا۔

پنچا - (۱) مذ [۱] دھ دھنے والی کڑی جس میں پانچ شاخیں ہوتی ہیں جس سے









پلوزمی - (پلوزی) (د-ا) (مٹ) گھوڑے کا پیش بند۔ مہری۔ وہ شہر جو گھوڑے کے منہ کے گرد لگا رہتا ہے۔

پلوزیشن - (Position) (پلوزی - ش) (انگ - ا) (مٹ) (ا) حالت انڈاز۔ وضع (۲) مورچہ۔ مقام (۳) حیثیت۔ صورت حال (۴) عہدہ۔ مرتبہ۔ پڑوس - (د-ا) (مٹ) فصلی سن (بجری) کاڑھاں ہمیشہ جو ٹھینا دسمبر کی پندرھویں تاریخ سے جنوری کی پندرھویں تاریخ تک رہتا ہے۔

پلوسٹ - (د-ا) (مٹ) (۲) پرم۔ کھال۔ چھلکا۔ جلد (۲) کوکنا۔ خشتخاش کا ڈوڈا۔

پلوسٹ (اُتارنا) کھینچنا - (ا) عمارت (کھال کھینچنا)۔ کھال اُتارنا۔ پلوسٹ کندہ - (ا) کھال اُتارنا (۲) صاف صاف۔ کھلم کھلا۔ کھری۔ پلوسٹ کھر - (د-ا) (مٹ) پست خار۔

پلوسٹی - (پوس - تی) (د-ا) (مٹ) (۱) سٹ۔ کابل۔ آکسی۔ بھول (۲) احمق۔ بے وقوف (۳) وہ شخص جو خشتخاش کے ڈوڈے گھول کر پیٹے (۴) ایونی۔

پلوسٹین - (پوس - تین) (د-ا) (مٹ) کھال کا کوٹ۔ چڑے کا بچہ۔

پلوسٹ - (Post) (انگ - ا) (مٹ) (۱) چھٹی خط (۲) عہدہ (۳) چوک۔

پلوسٹ آفس - (Post Office) ڈاک خانہ۔ ڈاک کا دفتر۔

پلوسٹ کارڈ - (Post Card) ڈاک کا خط۔

پلوسٹ ماسٹر - (Post Master) ڈاک خانے کا افسر۔ ہتتم ڈاک۔

پلوسٹ ماسٹر جنرل - (Post Master General) صوبہ بھر کے ڈاک خانوں کا اعلیٰ افسر۔

پلوسٹ مین - (Postman) چھٹی رساں۔ ڈاک کا پرکارہ۔ ڈاکیر۔

پلوسٹر - (Poster) (پوس - ٹر) (انگ - ا) (مٹ) (۱) اشتہار (جو شارع عام پر لگایا جائے) (۲) رنگی (د-ا) (مٹ) وہ گنبد جو عرصی گول پوسٹ پر سے گر جائے۔

پوشل آرڈر - (انگ - ا) (مٹ) ایک قسم کی ہنڈی جو ڈاک خانے والے روپیہ لے کر دیتے ہیں اور اس کا روپیہ کسی دوسرے شہر میں رہنے والے آدمی وہاں کے ڈاک خانے سے وہ رسید دیکھا حاصل کر سکتا ہے۔

پوشل اسٹامپ - (انگ - ا) (مٹ) ڈاک کے ٹکٹ۔

پوشل ڈسارٹمنٹ - (انگ - ا) (مٹ) ڈاک خانے کا ٹکر۔

پوشل مارتیم - (Postmortem) (انگ - ا) (مٹ) مرنے کے بعد لاش کا طبی معائنہ۔

پوشلج - (Postage) ڈاک کا حصول۔

پوشل گائیڈ - (Postal Guide) (پوس - ٹل - گائیڈ) (انگ - ا) (مٹ) ڈاک کی ہدایات۔ ڈاک خانے کے قواعد کی کتاب۔

پوسٹا - (پوس - نا) (د-ا) (مٹ) پروردش کرنا۔ تعلیم و تربیت کرنا۔ عام طور پر پالنا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔

پوش - (د-ا) (مٹ) "پیش شو" کا مخفف (د-ا) (مٹ) پیٹنے کی چیز۔ کپڑا۔ مرکبات کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سیاہ پوش۔ پنگ پوش۔

پوش پوش - (۱) پچو پچو۔ پٹو پٹو۔ ایک جانب ہو۔ سر کو کنارے ہو۔

پوشاک - (پوشاک) (د-ا) (مٹ) لباس۔ پہناوا۔ پہننے کے کپڑے۔

پوشاک بڑھانا - (ا) (مٹ) لباس اُتارنا کپڑے اُتارنا۔

پوشاکی - (پوشاکی) (د-ا) (مٹ) (۱) ہانکا پھیلا۔

پوشکش - (پوشکش) (د-ا) (مٹ) (۱) لباس (۲) غلاف۔ اُوپر منڈھنے کا کپڑا۔

پوشی - (د-ا) (مٹ) چھپانا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے چشم پوشی۔ جزم پوشی۔

پوشیدگی - (پوشی - دگی) (د-ا) (مٹ) غلط۔ تہنائی۔ گوشہ نشینی۔ پردہ۔ اخفا۔

پوشیدنی - (د-ا) (مٹ) (۱) پہننے کے کپڑے۔

پوشیدہ - (پوشی - دہ) (د-ا) (مٹ) (۱) چھپا ہوا۔ ہنال (۲) درپردہ۔ غائب۔ پردے میں۔

پوکر - (Poker) (پوکر) (انگ - ا) (مٹ) تاش کا ایک کھیل۔

پوکنا - (ا) (مٹ) گھوڑے کا پتی لید کرنا۔

پوکھر - (پوکھر) (د-ا) (مٹ) (۱) تالاب۔ جو بیڑ ساگر (۲) پٹے بازی میں ایک ضرب پڑول۔ (د-ا) (مٹ) اولاد۔ بچے۔

پول - (Pole) (انگ - ا) (مٹ) (۱) ساڑھے پانچ گز کا پیمانہ (۲) پولینڈ کا ہاتھدہ (۳) بانس۔ ٹھہرا۔

پول - (د-ا) (مٹ) (۱) کھوکھلا پن۔ برف۔ خلا (۲) چھانک۔ دروازہ۔ پُل۔

پول - (د-ا) (مٹ) نقدی۔ سپر۔

پول کھلنا - (ا) (مٹ) (۱) تھکتا ہوا جاننا۔

پول - (پول - لا) (د-ا) (مٹ) (۱) خانہ۔ جوف دار۔ کھوکھلا (۲) نرم۔ ملائم۔ نازک (۳) ہلکا پھلکا۔ (پول - لا) (د-ا) (مٹ) گٹھا۔ گٹھا۔ کانس یا پھونس کا گٹھا۔

پول - (پول - لا) (د-ا) (مٹ) (۱) فلاں۔ نہایت عمدہ لوہا (۲) سمٹ۔ مضبوط۔ پکا۔ مستحکم۔

پولٹ بیورو - (Polit Bureau) (پولٹ - بیورو) (انگ - ا) (مٹ) پارلیمنٹل بیورو (Political Bureau) سیاسی دفتر کا مخفف۔ کونسل پارٹیوں کا مرکزی ادارہ۔

پولٹ - (پولٹ) (د-ا) (مٹ) (۱) تیر کا چھوٹا پھل (۲) گھاس کا ٹٹھا جسے بے بانس کے سر سے پر باندھ کر سمت بائیں کو ڈراتے ہیں۔

پولنگ - (Polling) (پولنگ) (انگ - ا) (مٹ) (۱) رائے دینے کے لیے رائے دہندگان کا کسی خاص جگہ جمع ہونا۔ رائے دہندگی۔

پولنگ اسٹیشن - (Polling Station) وہ مقام جہاں رائے دہندگان اپنا ووٹ ڈالتے ہیں۔

پولنگ بوتھ - (Polling Booth) انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی جگہ۔

پولمن - (د-ا) (مٹ) بھولوں کا غبار۔

پولو - (Polo) (پولو) (انگ - ا) (مٹ) (۱) ایک کھیل جو کھڑی کی گیند اور بے ڈنڈے سے گھوڑے پر چڑھ کر کھیلے ہیں۔ جوگان۔

پولی - (د-ا) (مٹ) (۱) (د-ا) (مٹ) (۱) بھوٹا مٹھا یا گٹھا (۲) کہاؤں کی قطار۔

پولی - (د-ا) (مٹ) دروازہ۔ دلیز۔

پولیس - (Police) (پولیس) (انگ - ا) (مٹ) (۱) وہ حکم جو انسداد برام اور اس عمارت نام رکھنے کا کام کرتا ہے۔ تھانے کے اہل زمین۔









پھاؤڑا بچانا۔ (۱۔ محاورہ) پھاؤڑے سے آزاد پیدا کرنا (۵) کھدائی کرنا۔  
ڈھانا۔ گرانہ۔

پھاؤڑا سے دانست۔ (۱۔ مذ) بڑے بڑے دانست۔ بدزب اور  
مُنہ سے باہر نکلے ہوئے دانست۔

پھاؤڑانہ کدال بڑا کھیت ہمارا۔ (۱۔ مثل) گرہ میں کھنڈ ہو اور  
شیشیاں بھارنا (۲) وہ کام دتے لینا جو ہونے کے (۳) شیشیاں بھارنا۔  
پھاؤڑے کے نام رگل صفا نہیں جانتے۔ اگت کے نام بے نہیں  
جانتے۔ ناواقف ہیں۔ جاہل مطلق ہیں۔ بالکل بے سمجھ ہیں۔

پھاؤڑی۔ (پھا۔ اُ۔ ری) (۱۔ ص) (۱) چھوٹا پھاؤڑا (۲) ڈنٹر پیٹے وقت  
لگتے میں رکھنے کی کلاسی (۳) لید پٹانے کے لیے کلاسی کا بنا ہوا تختہ جس  
کے پیچھے پکڑنے کے لیے بانس لگا ہوتا ہے (۴) بیراگن۔ نظریہ بولگول  
کی میٹھی کلاسی۔

پھاہا۔ پھاہا۔ (پھا۔ یا) (۱۔ ص) (۱) کپڑا جس پر سرمہ رکھ کر زخم پر  
چپکاتے ہیں۔

پھپ۔ (۱۔ ص) (۱) زینت۔ (۲) چھب۔ (۳) تناسب۔ موزوں  
(۴) حسن۔ خوبصورتی۔

پھپتا۔ (پھب۔ تا) (۱۔ ص) (۱) موزوں۔ زیبا۔ سجتا۔ مناسب۔ لائق۔

پھپتی۔ (پھب۔ تی) (۱۔ ص) (۱) مثال۔ منصف۔ تیز تشبیہ۔ ظریفانہ  
چست۔ فقرو۔

پھپتی اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) ہنسی اڑانا۔ مذاق کرنا۔

پھپتی سوجھنا۔ (۱۔ محاورہ) مناسب ظریفانہ تشبیہ کا خیال میں آنا۔

پھپتی کہنا۔ (۱۔ محاورہ) ظریفانہ تشبیہ دینا۔

پھپتی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بے ساختہ فقرو چست ہونا۔

پھپندا۔ پھپندا۔ (پھب۔ پھب۔ نا) (پھب۔ پھب۔ نا) (۱۔ ص) (۱) پھپکا (۲) کثرت سے  
پاس پاس پھپناں نکلنا۔

پھپکنا۔ (پھب۔ بک۔ نا) (۱۔ ص) (۱) بڑھنا۔ اگنا۔ نشوونما پانا (۲) موٹا تازہ ہونا۔

پھپن۔ (پھب۔ پن) (۱۔ ص) (۱) زینت۔ سجادت۔ آرائش۔ تناسب۔ چھب۔

پھپنا۔ (پھب۔ نا) (۱۔ ص) (۱) سجتا۔ زینت دینا۔ بھلا گنا (۲) ٹھیک ہونا۔

پھپنا۔ (پھب۔ پا) (۱۔ ص) (۱) پھوپھی کا خاندان۔ باپ کی بہن کا خاندان۔ چھو پھا۔

پھپٹ۔ (پھب۔ پٹ) (۱۔ ص) (۱) فریب۔ مکر۔ دغا۔ مشور۔ وطن۔ فقرو۔

پھپٹ باز۔ (۱۔ ص) (۱) مکار۔ فریبی۔ فساد۔

پھپٹ بازی۔ (۱۔ ص) (۱) مکار۔ جلاک۔ فقرو۔ انگیزی۔ عیاری۔

پھپٹ بانٹی۔ بھگوا لوروت۔ مکار۔ فساد۔

پھپٹ دالے۔ (پھب۔ پڑ۔ دالے) (۱۔ ص) (۱) مکر۔ فریب۔ خند (۲) جھوٹی  
خوشامد۔ عاہری باتیں۔

پھپٹے۔ (پھب۔ ٹے) (۱۔ ص) (۱) جھوٹی خوشامد کی باتیں۔ فریب کی باتیں۔

پھپتیں۔ (پھب۔ پتیں) (۱۔ ص) (۱) پھولا ہوا۔ بھدا۔ مرنا۔ فریب (۲) وہ چیز  
جو اندر سے پولی اور خالی ہو۔

پھپسا۔ (پھب۔ سا) (۱۔ ص) (۱) پھولا ہوا۔ پولا۔ اندر سے خالی (۲)  
پھیکا۔ بد مزہ۔

پھاٹے میں دراز کشادہ کرنے کے لیے اس میں رکھتے ہیں۔ فاند۔ پچتر۔  
پھاٹ۔ (۱۔ ص) (۱) گاؤں کا افسر۔

پھاٹا۔ (۱۔ ص) (۱) شاخ۔

پھاٹ۔ (۱۔ ص) (۱) بند۔ ہیکل۔ پھانسی۔

پھاٹنا۔ (پھاٹ۔ نا) (۱۔ ص) (۱) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ قیر تیرہ کرنا۔

پھاٹہ۔ (۱۔ ص) (۱) بال یا تانت کا پھندا (۲) دام۔ جال۔ پھندا (۳) پھلانگ  
کلاخ۔ پھلانگ۔ جبت۔ کود۔

پھاٹہ (لگانا) مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دام پھیلانا۔ جال پھانا۔ پھندا لگانا۔  
(۲) فریب کرنا۔ دھوکا دینا (۳) کودنا۔ جبت کرنا۔ پھلانگنا۔ زخند لگانا۔

پھاٹہ۔ (۱۔ ص) (۱) پھندا۔ جال۔ کند۔

پھاٹہ۔ (پھاٹہ۔ نا) (۱۔ ص) (۱) کودنا۔ پھلانگ۔ جبت کرنا (۲) پھندا لگانا (۳)  
زخند لگانا۔ مادہ پر پڑھنا۔

پھاٹہ۔ (پھاٹہ۔ دی) (۱۔ ص) (۱) گتوں کا گٹھا۔

پھانس۔ (۱۔ ص) (۱) کلاسی یا بانس یا پان کاریشہ جو جسم میں پھنک جاتا ہے (۲)  
روحانی تکلیف (۳) غلش۔ ڈکھ۔ رنج۔ اندیشہ۔ فکر۔

پھانس ٹھکانا۔ (۱۔ محاورہ) پھانس پھیننے سے درد ہونا (۲) کسی سے دشمنی کی  
وجہ سے بے مینی ہونا۔

پھانس لانا (لینا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دھوکا دے کر قابو میں کرنا۔ پھنسا لانا۔  
تیج میں لانا۔

پھانس لگنا۔ (۱) تھکا چھ جانا۔ ریشہ گرا جانا (۲) تکلیف ہونا۔

پھانس مار دینا۔ (۱۔ محاورہ) بات یا کام میں سرخ کر دینا۔ کسی کو نقصان پہنچانا۔  
پھانسا۔ (پھانس۔ نا) (۱۔ ص) (۱) گرفتار کرنا (۲) فریب دینا۔ دھوکا کرنا (۳)  
قابو میں کرنا (۴) مجبور کرنا۔ عاجز کرنا۔ بیچ میں لانا۔ داؤ کرنا (۵) کوشش  
میں ڈول ڈالنا (۶) شریک جرم کرنا۔ الزام لگانا۔

پھانسی۔ (پھانس۔ سی) (۱۔ ص) (۱) گند۔ پھندا۔ بند (۲) گردن میں رسی ڈال  
کر لگا گھونٹنے کا عمل میزائے موت۔ سولی۔

پھانسی پانا۔ (۱۔ محاورہ) سولی پڑھنا۔ پھانسی کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا۔

پھانسی کھڑی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پھانسی کا سامان تیار ہونا۔ پھانسی دینے  
کے لیے سستون گرا کر (۲) پھانسی کا وقت آنا۔

پھانسی کی کھٹی۔ کلاسی کا دھتورن جس پر پھانسی دینے کا پھندا لگا ہوتا ہے۔

پھانسی (لگنا) ہونا۔ سولی لگنا۔ سزائے موت ہونا۔ پھانسی دیا جانا۔

پھانک۔ (۱۔ ص) (۱) قاش کھڑا۔ (پھل کا)

پھانک۔ پھانک۔ (۱۔ ص) (۱) پھانک۔ (۲) بانکا ترچھا (۳)  
مصنوع (۴) بیاد۔

پھانکنا۔ (پھانک۔ نا) (۱۔ ص) (۱) سفوت یا دانہ۔ ایک دم مُنہ میں ڈال لینا۔  
(۲) جلد کھانا (۳) جلد جھلٹے کرنا (۴) زیادہ خرچ کرنا (۵) جلد جلد بولنا۔

(۶) چھوٹ ڈالنا (۷) جھانک (۸) (۹) جھانک (۱۰) (۱۱) جھانک (۱۲) جھانک (۱۳) جھانک (۱۴) جھانک (۱۵) جھانک (۱۶) جھانک (۱۷) جھانک (۱۸) جھانک (۱۹) جھانک (۲۰) جھانک (۲۱) جھانک (۲۲) جھانک (۲۳) جھانک (۲۴) جھانک (۲۵) جھانک (۲۶) جھانک (۲۷) جھانک (۲۸) جھانک (۲۹) جھانک (۳۰) جھانک (۳۱) جھانک (۳۲) جھانک (۳۳) جھانک (۳۴) جھانک (۳۵) جھانک (۳۶) جھانک (۳۷) جھانک (۳۸) جھانک (۳۹) جھانک (۴۰) جھانک (۴۱) جھانک (۴۲) جھانک (۴۳) جھانک (۴۴) جھانک (۴۵) جھانک (۴۶) جھانک (۴۷) جھانک (۴۸) جھانک (۴۹) جھانک (۵۰) جھانک (۵۱) جھانک (۵۲) جھانک (۵۳) جھانک (۵۴) جھانک (۵۵) جھانک (۵۶) جھانک (۵۷) جھانک (۵۸) جھانک (۵۹) جھانک (۶۰) جھانک (۶۱) جھانک (۶۲) جھانک (۶۳) جھانک (۶۴) جھانک (۶۵) جھانک (۶۶) جھانک (۶۷) جھانک (۶۸) جھانک (۶۹) جھانک (۷۰) جھانک (۷۱) جھانک (۷۲) جھانک (۷۳) جھانک (۷۴) جھانک (۷۵) جھانک (۷۶) جھانک (۷۷) جھانک (۷۸) جھانک (۷۹) جھانک (۸۰) جھانک (۸۱) جھانک (۸۲) جھانک (۸۳) جھانک (۸۴) جھانک (۸۵) جھانک (۸۶) جھانک (۸۷) جھانک (۸۸) جھانک (۸۹) جھانک (۹۰) جھانک (۹۱) جھانک (۹۲) جھانک (۹۳) جھانک (۹۴) جھانک (۹۵) جھانک (۹۶) جھانک (۹۷) جھانک (۹۸) جھانک (۹۹) جھانک (۱۰۰) جھانک (۱۰۱) جھانک (۱۰۲) جھانک (۱۰۳) جھانک (۱۰۴) جھانک (۱۰۵) جھانک (۱۰۶) جھانک (۱۰۷) جھانک (۱۰۸) جھانک (۱۰۹) جھانک (۱۱۰) جھانک (۱۱۱) جھانک (۱۱۲) جھانک (۱۱۳) جھانک (۱۱۴) جھانک (۱۱۵) جھانک (۱۱۶) جھانک (۱۱۷) جھانک (۱۱۸) جھانک (۱۱۹) جھانک (۱۲۰) جھانک (۱۲۱) جھانک (۱۲۲) جھانک (۱۲۳) جھانک (۱۲۴) جھانک (۱۲۵) جھانک (۱۲۶) جھانک (۱۲۷) جھانک (۱۲۸) جھانک (۱۲۹) جھانک (۱۳۰) جھانک (۱۳۱) جھانک (۱۳۲) جھانک (۱۳۳) جھانک (۱۳۴) جھانک (۱۳۵) جھانک (۱۳۶) جھانک (۱۳۷) جھانک (۱۳۸) جھانک (۱۳۹) جھانک (۱۴۰) جھانک (۱۴۱) جھانک (۱۴۲) جھانک (۱۴۳) جھانک (۱۴۴) جھانک (۱۴۵) جھانک (۱۴۶) جھانک (۱۴۷) جھانک (۱۴۸) جھانک (۱۴۹) جھانک (۱۵۰) جھانک (۱۵۱) جھانک (۱۵۲) جھانک (۱۵۳) جھانک (۱۵۴) جھانک (۱۵۵) جھانک (۱۵۶) جھانک (۱۵۷) جھانک (۱۵۸) جھانک (۱۵۹) جھانک (۱۶۰) جھانک (۱۶۱) جھانک (۱۶۲) جھانک (۱۶۳) جھانک (۱۶۴) جھانک (۱۶۵) جھانک (۱۶۶) جھانک (۱۶۷) جھانک (۱۶۸) جھانک (۱۶۹) جھانک (۱۷۰) جھانک (۱۷۱) جھانک (۱۷۲) جھانک (۱۷۳) جھانک (۱۷۴) جھانک (۱۷۵) جھانک (۱۷۶) جھانک (۱۷۷) جھانک (۱۷۸) جھانک (۱۷۹) جھانک (۱۸۰) جھانک (۱۸۱) جھانک (۱۸۲) جھانک (۱۸۳) جھانک (۱۸۴) جھانک (۱۸۵) جھانک (۱۸۶) جھانک (۱۸۷) جھانک (۱۸۸) جھانک (۱۸۹) جھانک (۱۹۰) جھانک (۱۹۱) جھانک (۱۹۲) جھانک (۱۹۳) جھانک (۱۹۴) جھانک (۱۹۵) جھانک (۱۹۶) جھانک (۱۹۷) جھانک (۱۹۸) جھانک (۱۹۹) جھانک (۲۰۰) جھانک (۲۰۱) جھانک (۲۰۲) جھانک (۲۰۳) جھانک (۲۰۴) جھانک (۲۰۵) جھانک (۲۰۶) جھانک (۲۰۷) جھانک (۲۰۸) جھانک (۲۰۹) جھانک (۲۱۰) جھانک (۲۱۱) جھانک (۲۱۲) جھانک (۲۱۳) جھانک (۲۱۴) جھانک (۲۱۵) جھانک (۲۱۶) جھانک (۲۱۷) جھانک (۲۱۸) جھانک (۲۱۹) جھانک (۲۲۰) جھانک (۲۲۱) جھانک (۲۲۲) جھانک (۲۲۳) جھانک (۲۲۴) جھانک (۲۲۵) جھانک (۲۲۶) جھانک (۲۲۷) جھانک (۲۲۸) جھانک (۲۲۹) جھانک (۲۳۰) جھانک (۲۳۱) جھانک (۲۳۲) جھانک (۲۳۳) جھانک (۲۳۴) جھانک (۲۳۵) جھانک (۲۳۶) جھانک (۲۳۷) جھانک (۲۳۸) جھانک (۲۳۹) جھانک (۲۴۰) جھانک (۲۴۱) جھانک (۲۴۲) جھانک (۲۴۳) جھانک (۲۴۴) جھانک (۲۴۵) جھانک (۲۴۶) جھانک (۲۴۷) جھانک (۲۴۸) جھانک (۲۴۹) جھانک (۲۵۰) جھانک (۲۵۱) جھانک (۲۵۲) جھانک (۲۵۳) جھانک (۲۵۴) جھانک (۲۵۵) جھانک (۲۵۶) جھانک (۲۵۷) جھانک (۲۵۸) جھانک (۲۵۹) جھانک (۲۶۰) جھانک (۲۶۱) جھانک (۲۶۲) جھانک (۲۶۳) جھانک (۲۶۴) جھانک (۲۶۵) جھانک (۲۶۶) جھانک (۲۶۷) جھانک (۲۶۸) جھانک (۲۶۹) جھانک (۲۷۰) جھانک (۲۷۱) جھانک (۲۷۲) جھانک (۲۷۳) جھانک (۲۷۴) جھانک (۲۷۵) جھانک (۲۷۶) جھانک (۲۷۷) جھانک (۲۷۸) جھانک (۲۷۹) جھانک (۲۸۰) جھانک (۲۸۱) جھانک (۲۸۲) جھانک (۲۸۳) جھانک (۲۸۴) جھانک (۲۸۵) جھانک (۲۸۶) جھانک (۲۸۷) جھانک (۲۸۸) جھانک (۲۸۹) جھانک (۲۹۰) جھانک (۲۹۱) جھانک (۲۹۲) جھانک (۲۹۳) جھانک (۲۹۴) جھانک (۲۹۵) جھانک (۲۹۶) جھانک (۲۹۷) جھانک (۲۹۸) جھانک (۲۹۹) جھانک (۳۰۰) جھانک (۳۰۱) جھانک (۳۰۲) جھانک (۳۰۳) جھانک (۳۰۴) جھانک (۳۰۵) جھانک (۳۰۶) جھانک (۳۰۷) جھانک (۳۰۸) جھانک (۳۰۹) جھانک (۳۱۰) جھانک (۳۱۱) جھانک (۳۱۲) جھانک (۳۱۳) جھانک (۳۱۴) جھانک (۳۱۵) جھانک (۳۱۶) جھانک (۳۱۷) جھانک (۳۱۸) جھانک (۳۱۹) جھانک (۳۲۰) جھانک (۳۲۱) جھانک (۳۲۲) جھانک (۳۲۳) جھانک (۳۲۴) جھانک (۳۲۵) جھانک (۳۲۶) جھانک (۳۲۷) جھانک (۳۲۸) جھانک (۳۲۹) جھانک (۳۳۰) جھانک (۳۳۱) جھانک (۳۳۲) جھانک (۳۳۳) جھانک (۳۳۴) جھانک (۳۳۵) جھانک (۳۳۶) جھانک (۳۳۷) جھانک (۳۳۸) جھانک (۳۳۹) جھانک (۳۴۰) جھانک (۳۴۱) جھانک (۳۴۲) جھانک (۳۴۳) جھانک (۳۴۴) جھانک (۳۴۵) جھانک (۳۴۶) جھانک (۳۴۷) جھانک (۳۴۸) جھانک (۳۴۹) جھانک (۳۵۰) جھانک (۳۵۱) جھانک (۳۵۲) جھانک (۳۵۳) جھانک (۳۵۴) جھانک (۳۵۵) جھانک (۳۵۶) جھانک (۳۵۷) جھانک (۳۵۸) جھانک (۳۵۹) جھانک (۳۶۰) جھانک (۳۶۱) جھانک (۳۶۲) جھانک (۳۶۳) جھانک (۳۶۴) جھانک (۳۶۵) جھانک (۳۶۶) جھانک (۳۶۷) جھانک (۳۶۸) جھانک (۳۶۹) جھانک (۳۷۰) جھانک (۳۷۱) جھانک (۳۷۲) جھانک (۳۷۳) جھانک (۳۷۴) جھانک (۳۷۵) جھانک (۳۷۶) جھانک (۳۷۷) جھانک (۳۷۸) جھانک (۳۷۹) جھانک (۳۸۰) جھانک (۳۸۱) جھانک (۳۸۲) جھانک (۳۸۳) جھانک (۳۸۴) جھانک (۳۸۵) جھانک (۳۸۶) جھانک (۳۸۷) جھانک (۳۸۸) جھانک (۳۸۹) جھانک (۳۹۰) جھانک (۳۹۱) جھانک (۳۹۲) جھانک (۳۹۳) جھانک (۳۹۴) جھانک (۳۹۵) جھانک (۳۹۶) جھانک (۳۹۷) جھانک (۳۹۸) جھانک (۳۹۹) جھانک (۴۰۰) جھانک (۴۰۱) جھانک (۴۰۲) جھانک (۴۰۳) جھانک (۴۰۴) جھانک (۴۰۵) جھانک (۴۰۶) جھانک (۴۰۷) جھانک (۴۰۸) جھانک (۴۰۹) جھانک (۴۱۰) جھانک (۴۱۱) جھانک (۴۱۲) جھانک (۴۱۳) جھانک (۴۱۴) جھانک (۴۱۵) جھانک (۴۱۶) جھانک (۴۱۷) جھانک (۴۱۸) جھانک (۴۱۹) جھانک (۴۲۰) جھانک (۴۲۱) جھانک (۴۲۲) جھانک (۴۲۳) جھانک (۴۲۴) جھانک (۴۲۵) جھانک (۴۲۶) جھانک (۴۲۷) جھانک (۴۲۸) جھانک (۴۲۹) جھانک (۴۳۰) جھانک (۴۳۱) جھانک (۴۳۲) جھانک (۴۳۳) جھانک (۴۳۴) جھانک (۴۳۵) جھانک (۴۳۶) جھانک (۴۳۷) جھانک (۴۳۸) جھانک (۴۳۹) جھانک (۴۴۰) جھانک (۴۴۱) جھانک (۴۴۲) جھانک (۴۴۳) جھانک (۴۴۴) جھانک (۴۴۵) جھانک (۴۴۶) جھانک (۴۴۷) جھانک (۴۴۸) جھانک (۴۴۹) جھانک (۴۵۰) جھانک (۴۵۱) جھانک (۴۵۲) جھانک (۴۵۳) جھانک (۴۵۴) جھانک (۴۵۵) جھانک (۴۵۶) جھانک (۴۵۷) جھانک (۴۵۸) جھانک (۴۵۹) جھانک (۴۶۰) جھانک (۴۶۱) جھانک (۴۶۲) جھانک (۴۶۳) جھانک (۴۶۴) جھانک (۴۶۵) جھانک (۴۶۶) جھانک (۴۶۷) جھانک (۴۶۸) جھانک (۴۶۹) جھانک (۴۷۰) جھانک (۴۷۱) جھانک (۴۷۲) جھانک (۴۷۳) جھانک (۴۷۴) جھانک (۴۷۵) جھانک (۴۷۶) جھانک (۴۷۷) جھانک (۴۷۸) جھانک (۴۷۹) جھانک (۴۸۰) جھانک (۴۸۱) جھانک (۴۸۲) جھانک (۴۸۳) جھانک (۴۸۴) جھانک (۴۸۵) جھانک (۴۸۶) جھانک (۴۸۷) جھانک (۴۸۸) جھانک (۴۸۹) جھانک (۴۹۰) جھانک (۴۹۱) جھانک (۴۹۲) جھانک (۴۹۳) جھانک (۴۹۴) جھانک (۴۹۵) جھانک (۴۹۶) جھانک (۴۹۷) جھانک (۴۹۸) جھانک (۴۹۹) جھانک (۵۰۰) جھانک (۵۰۱) جھانک (۵۰۲) جھانک (۵۰۳) جھانک (۵۰۴) جھانک (۵۰۵) جھانک (۵۰۶) جھانک (۵۰۷) جھانک (۵۰۸) جھانک (۵۰۹) جھانک (۵۱۰) جھانک (۵۱۱) جھانک (۵۱۲) جھانک (۵۱۳) جھانک (۵۱۴) جھانک (۵۱۵) جھانک (۵۱۶) جھانک (۵۱۷) جھانک (۵۱۸) جھانک (۵۱۹) جھانک (۵۲۰) جھانک (۵۲۱) جھانک (۵۲۲) جھانک (۵۲۳) جھانک (۵۲۴) جھانک (۵۲۵) جھانک (۵۲۶) جھانک (۵۲۷) جھانک (۵۲۸) جھانک (۵۲۹) جھانک (۵۳۰) جھانک (۵۳۱) جھانک (۵۳۲) جھانک (۵۳۳) جھانک (۵۳۴) جھانک (۵۳۵) جھانک (۵۳۶) جھانک (۵۳۷) جھانک (۵۳۸) جھانک (۵۳۹) جھانک (۵۴۰) جھانک (۵۴۱) جھانک (۵۴۲) جھانک (۵۴۳) جھانک (۵۴۴) جھانک (۵۴۵) جھانک (۵۴۶) جھانک (۵۴۷) جھانک (۵۴۸) جھانک (۵۴۹) جھانک (۵۵۰) جھانک (۵۵۱) جھانک (۵۵۲) جھانک (۵۵۳) جھانک (۵۵۴) جھانک (۵۵۵) جھانک (۵۵۶) جھانک (۵۵۷) جھانک (۵۵۸) جھانک (۵۵۹) جھانک (۵۶۰) جھانک (۵۶۱) جھانک (۵۶۲) جھانک (۵۶۳) جھانک (۵۶۴) جھانک (۵۶۵) جھانک (۵۶۶) جھانک (۵۶۷) جھانک (۵۶۸) جھانک (۵۶۹) جھانک (۵۷۰) جھانک (۵۷۱) جھانک (۵۷۲) جھانک (۵۷۳) جھانک (۵۷۴) جھانک (۵۷۵) جھانک (۵۷۶) جھانک (۵۷۷) جھانک (۵۷۸) جھانک (۵۷۹) جھانک (۵۸۰) جھانک (۵۸۱) جھانک (۵۸۲) جھانک (۵۸۳) جھانک (۵۸۴) جھانک (۵۸۵) جھانک (۵۸۶) جھانک (۵۸۷) جھانک (۵۸۸) جھانک (۵۸۹) جھانک (۵۹۰) جھانک (۵۹۱) جھانک (۵۹۲) جھانک (۵۹۳) جھانک (۵۹۴) جھانک (۵۹۵) جھانک (۵۹۶) جھانک (۵۹۷) جھانک (۵۹۸) جھانک (۵۹۹) جھانک (۶۰۰) جھانک (۶۰۱) جھانک (۶۰۲) جھانک (۶۰۳) جھانک (۶۰۴) جھانک (۶۰۵) جھانک (۶۰۶) جھانک (۶۰۷) جھانک (۶۰۸) جھانک (۶۰۹) جھانک (۶۱۰) جھانک (۶۱۱) جھانک (۶۱۲) جھانک (۶۱۳) جھانک (۶۱۴) جھانک (۶۱۵) جھانک (۶۱۶) جھانک (۶۱۷) جھانک (۶۱۸) جھانک (۶۱۹) جھانک (۶۲۰) جھانک (۶۲۱) جھانک (۶۲۲) جھانک (۶۲۳) جھانک (۶۲۴) جھانک (۶۲۵) جھانک (۶۲۶) جھانک (۶۲۷) جھانک (۶۲۸) جھانک (۶۲۹) جھانک (۶۳۰) جھانک (۶۳۱) جھانک (۶۳۲) جھانک (۶۳۳) جھانک (۶۳۴) جھانک (۶۳۵) جھانک (۶۳۶) جھانک (۶۳۷) جھانک (۶۳۸) جھانک (۶۳۹) جھانک (۶۴۰) جھانک (۶۴۱) جھانک (۶۴۲) جھانک (۶۴۳) جھانک (۶۴۴) جھانک (۶۴۵) جھانک (۶۴۶) جھانک (۶۴۷) جھانک (۶۴۸) جھانک (۶۴۹) جھانک (۶۵۰) جھانک (۶۵۱) جھانک (۶۵۲) جھانک (۶۵۳) جھانک (۶۵۴) جھانک (۶۵۵) جھانک (۶۵۶) جھانک (۶۵۷) جھانک (۶۵۸) جھانک (۶۵۹) جھانک (۶۶۰) جھانک (۶۶۱) جھانک (۶۶۲) جھانک (۶۶۳) جھانک (۶۶۴) جھانک (۶۶۵) جھانک (۶۶۶) جھانک (۶۶۷) جھانک (۶۶۸) جھانک (۶۶۹) جھانک (۶۷۰) جھانک (۶۷۱) جھانک (۶۷۲) جھانک (۶۷۳) جھانک (۶۷۴) جھانک (۶۷۵) جھانک (۶۷۶) جھانک (۶۷۷) جھانک (۶۷۸) جھانک (۶۷۹) جھانک (۶۸۰) جھانک (۶۸۱) جھانک (۶۸۲) جھانک (۶۸۳) جھانک (۶۸۴) جھانک (۶۸۵) جھانک (۶۸۶) جھانک (۶۸۷) جھانک (۶۸۸) جھانک (۶۸۹) جھانک (۶۹۰) جھانک (۶۹۱) جھانک (۶۹۲) جھانک (۶۹۳) جھانک (۶۹۴) جھانک (۶۹۵) جھانک (۶۹۶) جھانک (۶۹۷) جھانک (۶۹۸) جھانک (۶۹۹) جھانک (۷۰۰) جھ







چال کا اثر۔

پھلنا۔ (پھل۔ تا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ۔ گدکا۔

پھلکی۔ (پھل۔ لٹ۔ ٹی)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ [مٹھ] پھولوں کی دکان۔ پھولوں کا بازار۔

پھل پھڑی۔ (پھل۔ جھ۔ ڈی)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ [۱] وہ آتش بازی جس سے پھول بھڑتے ہیں (۲) پھل خرموت۔ (۱) پھل گدکا کر دینے والی۔ فتنہ پرداز۔

پھل پھڑی پھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) پھل پھڑی کو آگ دکھانا۔ (۲) فتنہ و فساد کی بات کرنا۔

پھل ڈا۔ (پھل۔ ڈا)۔ (ق۔ ۱۔ ۱۔ مذ) تھوڑا کھل۔

پھل ڈا۔ (پھل۔ لڑ۔ وا)۔ (صفت) پھول جیسا۔ نازک۔ خوبصورت۔ ناز و نعمت میں پلا ہوا۔

پھل ڈا۔ (پھل۔ ڈا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ [پھل کی تعین۔ چاقو یا تھوڑا کھل۔

پھل سا۔ (پھل۔ سا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ [۱] دردانہ۔ (۲) پھانگ (۳) گاؤں کا جتہ۔

پھل سیرا۔ (پھل۔ سیرا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ صفت [۱] وہ کبوتر جس کا سر سفید اور بقیہ جسم پر رنگین ہو۔

پھل سیر طری۔ (پھل۔ سیر۔ سیر)۔ (ق۔ ۱۔ ۱۔ مٹھ) پھولوں کی سیرج۔

پھل سیر۔ (پھل۔ سیر)۔ (ق۔ ۱۔ ۱۔ مذ) گلاب کا عرق۔

پھلک۔ (ق۔ ۱۔ ۱۔ مذ) پھلا۔ پھیلو۔

پھلکا۔ (پھل۔ کا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ [۱] پھالہ۔ (۲) پھیلو۔ (۳) پھل۔ دھار۔ ٹوک (۴) دھل۔ اکھاڑا (۵) نرم زمین۔

پھلکا۔ (پھل۔ کا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ [۱] ہلکا۔ (۲) ہلکی پھولی ہوئی چپاتی۔

پھلکاری۔ (پھل۔ کاری)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ [۱] کپڑے پر پیل برتے بنانے کا کام۔

(۲) ایک قسم کا کپڑا جس پر پیل برتے بنے ہوتے ہیں۔

پھلکی۔ (پھل۔ کی)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ [۱] پھلکا کی تعین۔ پکڑی۔

پھلنا۔ (پھل۔ نا)۔ (صفت) [۱] پھل لگنا۔ درخت کا بارور ہونا۔ میوہ لگنا (۲)

مبارک ہونا (۳) پکنا۔ بدن پر بہ کثرت پھوڑے پھیناں نکلنا (۴) صاحب

اولاد ہونا۔ دولت مند ہونا (۵) خوش قسمت ہونا (۶) مانع ہونا (۷)

پردان پڑھنا۔

پھلنا پھولنا۔ (۱۔ محاورہ) [۱] پھل لگنا (۲) نسل بڑھنا (۳) ترقی کرنا۔

خوش حال ہونا۔

پھلنگ۔ (پھل۔ نگ)۔ (پھل۔ نگ)۔ (پھل۔ نگ)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ) [۱] درخت کی

چوٹی (۲) پھلنگ۔ جیت (ق)۔

پھلوا۔ (پھل۔ وا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ [۱] گرہ دار۔ پھندنا۔ بھالہ۔ گچھا۔

پھلوا۔ (پھل۔ وا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ [۱] ایک قسم کا پان۔

پھلواڑی۔ (پھل۔ واڑی)۔ (پھل۔ واڑی)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ) [۱] پھولوں

کا باج۔ چھوٹا سا باج (۲) بال پتے۔

پھلوری۔ (پھل۔ لوری)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ) پکڑی۔ پھلکی۔

پھلی۔ (پھل۔ لی)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ [۱] بچوں کی قدرتی پھلی جس میں دانے

ہوتے ہیں۔

پھلی لگی نہ پاپڑی، پشاک بہو آپڑی۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ) [۱] بیز منت و مشقت کے

کوئی کام ہو جانا۔

پھلی۔ (ق۔ صفت) مدغم۔

پھل۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) [۱] شرمیوہ۔ فردٹ۔ کسی درخت یا پودے کی پیداوار (۲)

فال۔ شگون۔ استعارہ (۳) نتیجہ۔ حاصل۔ نفع (۴) نسل۔ اولاد۔

(۵) دھار۔ ٹوک۔ اٹی (۶) ابر۔ حوض (۷) بخشش۔ انعام (۸) پھالا۔

(۹) خار۔ قسمت۔ حاصل قسمت۔ تقسیم کے سوال کا جواب۔

پھل آنا۔ (۱۔ محاورہ) پھل پیدا ہونا۔

پھل اُترنا۔ (۱۔ محاورہ) پھل تیار ہونا۔

پھل بھٹول۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) پھل بوجھنے کا کھیل۔

پھل پات۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) میوہ۔ ترکاری۔ پھل پھلاری۔

پھل پانا۔ (۱۔ محاورہ) [۱] صلا پانا۔ بدلہ ملنا (۲) میوہ لاکھ آنا۔ شرمنا (۳)

بھلائی پانا۔ کیے کی سزا پانا۔

پھل پھلاری۔ (۱۔ مٹھ) ترکاریاں۔ پھل پھول سبزی ترکاری۔ (۱) ازارح و

اقسام کے میوے۔ قسم قسم کی ترکاریاں۔

پھل تار۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) تار کا مادہ درخت۔

پھل چلنا۔ (۱۔ محاورہ) پھل کا پک کر بازار میں آنا۔

پھل دار۔ (۱۔ صفت) بار بار دار۔ فردار۔ میوہ دار۔ پھل ہوا۔ پھل لانے والا۔

پھل کھانا آسان نہیں۔ (پہل) کامیابی محنت کے بغیر نہیں ہوتی۔

پھل لگنا۔ (۱۔ محاورہ) [۱] پھل آنا۔ بار آور ہونا (۲) نتیجہ نکلنا (۳) توار یا

چاؤ لگنا۔

پھل ملنا۔ (۱۔ محاورہ) [۱] نتیجہ حاصل کرنا۔ جملہ پانا۔ شرم پانا (۲) کیے

کی سزا پانا۔ حوض پانا۔

پھلا۔ (پھل۔ لا)۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ [۱] کھنی کی کھیل (۲) پھولا۔ ٹینٹ۔ جالا۔ پھلی۔

آنکھ کی کھلی (۳) پھولا ہوا۔

پھلا پھولا۔ (پھل۔ لا۔ پھولا)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ صفت) [۱] نیبے والا۔ بھگوان۔ قسمت والا

صاحب اولاد۔ صاحب مال و دولت (۲) بھرا پڑا۔ آباد و شاد۔ خوش و

شرم (۳) سرسبز و شاداب۔ ہرا بھرا (۴) بسا ہوا۔

پھلا سمر۔ (پھل۔ لاس)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) پھلا۔ دھوکا۔ فریب۔ جھلسنا

دم۔ کر۔

پھلا نا۔ (پھل۔ لا)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ) [۱] پھونک پھرتا۔ موٹا کرنا۔ مفرد کرنا۔ منکڑ کرنا۔

پھلا نگ۔ (پھل۔ لا)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ) [۱] پھلانگ۔ ڈگ۔ زخند۔ جت۔ تلاج

پھلا لگنا۔ (پھل۔ لا)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ) [۱] پھلانگ مارنا۔ زخند بھرتا۔ جت کرنا۔

تلاج مارنا۔ پھاننا۔

پھلا ہی۔ (پھل۔ لا۔ ہی)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) لیکر کی قسم کا ایک درخت جس کی مسواکیں

بنتی ہیں۔

پھل پھری۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹھ) [۱] دیکھے برس۔

پھل پھانک۔ (ق۔ ۱۔ ۱۔ مٹھ) [۱] پھول کی پتی۔ برگ گل۔

پھل پھلا۔ (پھل۔ پھل)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ صفت) [۱] پھل پھل۔ پھلا۔ ملائم۔ نرم (۲)

پھلا ہوا۔ کم طرف۔

پھل پھلا لی۔ (ق۔ ۱۔ ۱۔ مذ) [۱] پھل اور سبزی وغیرہ۔

پھلت۔ (پھل۔ لت)۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ صفت) [۱] پھل دینے والا (۲) استاروں کی





کارلشہ (۲) بچہ اولاد۔  
 پھوسا۔ پھوسا۔ (۱) پھوسا (۲) پھوسا (۳) کوٹا کرکٹ۔  
 پھوک۔ (۱) مذ (۲) فضلہ بھوسکی چیز کے پکڑ لینے کے بعد بچے (۲) خالی۔  
 کھوکھلا (۳) بد ذائقہ۔ سیٹھا۔  
 پھوکا۔ پھوکا۔ (۱) مذ (۲) بلا۔ بیک (۳) جس میں کوئی طاقت نہ ہو۔  
 پھوکٹ۔ (۱) پھوکٹ (۲) مذ (۳) صفت کی چیز۔ بے قیمت چیز (۲) ہنگامیا  
 نالائق شخص۔ منفس آدمی۔

پھوکٹ کا۔ (۱) صفت (۲) صفت کا۔ بے دام۔  
 پھوکھل۔ پھوکھلا۔ (پھوکھل) (پھوکھلا) (۱) مذ (۲) خالی (۳) منفس۔ کھوکھلا  
 پھوکھنا۔ (۱) صفت (۲) صفت کا۔ پھولنا۔

پھول۔ (۱) مذ (۲) رنگین پتوں کا وہ گھما جس سے بعد میں پھل یا بیج نکلیں  
 گل (۲) پتنگا۔ مشاعرہ (۳) نقش و نگار (۴) ہندو مردے کی جلی ہوتی پڑ پل  
 کی راکھ (۵) ایک قسم کی مرکب دھات کانسٹی (۶) حیض کا خون (۷) ہندوؤں  
 کا تہا۔ مسلمان مردوں کی فاتحہ خوانی کی رسم (۸) جسم پر سفید داغ (۹) ہاسک  
 کے سونکے ہوئے پتے (۱۰) شراب (۱۱) ہلکا۔ بیک (۱۲) کسی تہی چیز کے  
 جاکر رکھائے ہوئے ذوق (۱۳) ذک۔ دھار۔

پھول آنا۔ (۱) محاورہ (۲) درخت میں پھول لگانا۔ موسم بہار آنا (۳) حیض آنا۔  
 پھول اترنا۔ (۱) محاورہ (۲) درخت سے پھولوں کا پھلنا جانا۔  
 پھول پان۔ (۱) مذ (۲) اجہام۔ انجام کار۔ بُرائی بھلائی (۳) نازک۔ نازک اندام  
 پھول پان دینا۔ (۱) محاورہ (۲) خاطر مدارات کرنا۔  
 پھول پان کی گدھی۔ (۱) صفت (۲) بچوں کا ایک کھیل۔

پھول پتی۔ (۱) صفت (۲) پھول پھلنا۔ نقش و نگار۔  
 پھول پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) چنگاری پڑنا۔ آگ لگانا (۳) داغ پڑنا۔  
 پھول چھانا۔ (۱) محاورہ (۲) کتا تباہ خفا ہو جانا۔  
 پھول جھڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) پھولوں کا درخت سے گزنا۔ مٹنا (۳) خواہش  
 کلامی کرنا۔ فصاحت سے بولنا۔ میٹھے بول بولنا (۴) چراغ اور آتش بازی  
 میں سے پھول نکلنا۔

پھول جھڑے تو پھل لگے۔ (۱) مثل (۲) ایک کا نقصان ہوتا ہے تو دوسرے  
 کو فائدہ ہوتا ہے۔

پھول پڑھانا۔ (۱) محاورہ (۲) قبر یا مورت پر پھول رکھنا۔  
 پھول چھیننا۔ (۱) محاورہ (۲) پھول توڑنا (۳) ہندوؤں کی ایک رسم جس میں  
 نیچے کے دن مردے کی پڑیاں جن کو دریا میں بہاتے ہیں۔  
 پھول سوکھنے کے رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) بہت کم کھانا۔  
 پھول کاڑھنا۔ (۱) محاورہ (۲) پکڑے پر سونے تاکے سے پھول بنانا۔  
 پھول کا ہنستا۔ (۱) محاورہ (۲) پھول کھلنا۔ پھول کا شگفتہ ہونا۔  
 پھول کترنا۔ (۱) محاورہ (۲) چراغ کا گل کترنا (۳) انوکھا کام کرنا۔  
 پھول کھلانا۔ (۱) محاورہ (۲) پھول کا مڑھنا۔

پھول کھلنا۔ (۱) محاورہ (۲) بند گل کا پھول بنا۔ شگفتہ ہونا (۳) بیاہ ہونا۔  
 پھول کی جگہ پکھڑی۔ (۱) مثل (۲) بہت چیز کی بجائے تھوڑی سی۔ بہت نہیں  
 تھوڑا ہی ہے۔

پھوٹ پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) نا اتفاقی ہونا۔ دشمنی ہونا۔ جدائی ہونا۔  
 پھوٹ پھٹک رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) اسی بن رہنا۔ نا اتفاقی اور جھگڑا رہنا۔  
 پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ (۱) محاورہ (۲) زار زار رونا۔ بہت آنسو بہانا۔  
 پھوٹ ڈالنا۔ (۱) محاورہ (۲) باہم دشمنی ڈال دینا۔ جدائی کرنا۔  
 پھوٹ سا جھل جانا۔ (۱) محاورہ (۲) ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ کھل جانا۔ شق ہونا۔  
 پھوٹ کر نکلنا۔ درخت میں شاخ نکلنا۔ بیج میں آنکھ نکلنا۔  
 پھوٹ نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) جسم پر پھینساں ہو جانا (۳) توڑ کر نکل جانا۔  
 (۴) راز نکلنا (۵) پھوٹے کا پیک کر پھوٹ بننا۔  
 پھوٹا۔ (پھوٹا) (۱) صفت (۲) ٹوٹا ہوا شگفتہ۔

پھوٹا نے۔ (۱) مذ (۲) جمع [بھٹے ہوئے]۔  
 پھوٹنگ۔ (پھوٹنگ) (۱) صفت (۲) ریزہ (۳) دو چیز جو ریزہ ریزہ  
 ہو جائے۔ ٹوٹا۔

پھوٹن۔ (پھوٹن) (۱) صفت (۲) نا اتفاقی (۳) اعضا شکنی۔  
 پھوٹنا۔ (پھوٹنا) (۱) صفت (۲) ٹوٹنا (۳) شگفتہ ہونا۔ کھلنا (۴)  
 پھینکاں نکلنا (۵) ظاہر ہونا (۶) پتے نکلنا (۷) چھٹنا (۸) خبر پھیلنا۔  
 (۹) پکے یا پکے زخم کا پھٹ کر آلاش نکلنا (۱۰) مزین مخافت سے بل جانا  
 (۱۱) رنگ نمایاں ہونا (۱۲) روشنی جاتی رہنا (آکھ کے لیے) (۱۳) کوڑھ ہونا۔  
 (۱۴) توڑ کر نکل جانا۔ بعض جگہوں میں ٹوٹنے کے سنی بھی دیتا ہے۔ بعض میں  
 ٹوٹنا پھوٹنا دونوں استعمال ہیں۔

پھوٹی۔ (پھوٹی) (۱) صفت (۲) ٹوٹی ہوئی۔ شگفتہ۔ پھوٹا کی تسخیر۔  
 پھوٹی آکھ کا تارا۔ پھوٹی آکھ کا دیدہ۔ (۱) مذ (۲) کئی بیٹوں میں ایک  
 بیٹا جو زندہ رہا ہو۔ نہایت عزیز۔ بہت پیارا۔  
 پھوٹی آکھ نہ بھانا (ظہروں) (دیدوں)۔ (۱) محاورہ (۲) ذرا بھی گوارا نہ  
 ہونا۔ بڑا لگنا۔ بالکل پسند نہ آنا۔

پھوٹی کوڑھی۔ (۱) صفت (۲) نہایت حقیر رقم۔ ادنیٰ رقم۔  
 پھوٹی کوڑھی پاس نہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) کچھ بھی پاس نہ ہونا۔  
 پھوٹی ہانڈی آواز سے پھپھاتی جاتی ہے۔ (۱) مثل (۲) عیب یا نقص  
 کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔

پھوڑا۔ (پھوڑا) (۱) مذ (۲) ڈبل۔ گورٹ۔ بڑی اور موٹی پھنسی۔ زہریلے  
 مادے کی قبلی (۳) بہت تکلیف دہ خیال (۴) نالائق اولاد۔  
 پھوڑا پھوٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) پھوڑا پک کر مواد نکلنا۔  
 پھوڑا نکلنا۔ ڈبل نکلنا۔ گورٹا ظاہر ہونا۔  
 پھوڑنا۔ (پھوڑنا) (۱) صفت (۲) توڑنا۔ ٹکڑے کرنا (۳) ظاہر کرنا۔  
 پھوس۔ (۱) مذ (۲) وہ لمبی گھاس جس کا پتھر بناتے ہیں۔ پڑنی گھاس (۳)  
 بہت ضعیف (۴) جلد بل جانے والا۔

پھوس کا تاپنا۔ (۱) محاورہ (۲) کینے سے فائدے کی امید رکھنا (۳) فضول  
 کام کرنا۔  
 پھوس میں چنگاری ڈالنا۔ (۱) محاورہ (۲) فساد کرنا۔ اشتعال دلانا۔  
 پھوسرا۔ پھوسرا۔ (پھوسرا) (۱) مذ (۲) ریشم یا کپڑے وغیرہ

پھول کی چھڑی نہیں (لگائی) چھوٹی - (۱-۱) محاورہ) کبھی نہیں مارا - ہاتھ تک نہیں لگایا - بڑے ناز و نعمت میں رکھا -

پھول کے دن - (۱-۱) محاورہ) حین کا زمانہ -

پھول کے گپتا ہو جانا - (۱-۱) محاورہ) بہت موٹا ہو جانا - بہت پھول جانا -  
پھول کو بھی - (۱-۱) معنی) وہ کو بھی جس میں بڑا پھول آتا ہے - ایک قسم کا گرم گلا -  
پھول لانا - (۱-۱) محاورہ) درخت میں پھول لگنا - پھول نمودار ہونا - پھولوں سے لانا -

پھول نہیں پکھڑی ہسی - (۱-۱) معنی) جوں جوں غنیمت ہے -  
پھول والوں کی سیر - (۱-۱) معنی) دہلی کا مشہور سالانہ میلہ جو برسات کے موسم میں حضرت خراج قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر پھول والے منعقد کرتے تھے -

پھول دہی جو ہمیش چڑھے - (۱-۱) معنی) پھول دہی جو کسی مقدس مقام پر برھائے جائیں یا کسی بڑے آدمی کی خدمت میں پیش ہوں (۲) تدبیر دہی ٹیک ہے جو کام آجائے -

پھول ہونا - (۱-۱) محاورہ) فاتح اور رسوم کی رسوم کا ادا ہونا - تیرا ہونا -

پھولوں کا گینا - (۱-۱) معنی) پھولوں کا زیر (۲) پیک -

پھولوں کی بدھی - (۱-۱) معنی) گلے میں ڈالنے والا پھولوں کا بار -

پھولوں کی چادر - (۱-۱) معنی) پھولوں کی لٹائی جو چادر کے طور پر گوندھ کر مزار پر بڑھاتے ہیں -

پھولوں کی چھڑی - (۱-۱) معنی) وہ کلائی جس میں پھولوں کے چار چھتی کھیلنے کے لیے لگا دیتے ہیں (۲) مشقوں کے ہاتھ کی مار -

پھولوں کی بیج - (۱-۱) معنی) وہ بنگ جو پھولوں سے سجایا جائے - بستر راحت -

پھولوں میں تلنا - (۱-۱) محاورہ) نہایت نازک بدن ہونا (۲) بہت تنگ ہونا

پھول - (۱-۱) معنی) سوجی ہوئی جگہ -

پھول بیٹھنا - (۱-۱) محاورہ) نہ راض ہو کر بیٹھنا مٹھا ہو جانا -

پھول پھول کر بیٹھنا - (۱-۱) محاورہ) نہایت خوش ہو کر بیٹھنا (۲) مغرور ہونا -

پھول جانا - (۱-۱) محاورہ) سوجنا - دم ہو جانا (۲) موٹا ہونا (۳) ہوا بھر کر اچھڑانا (۴) مغرور ہونا -

پھولا - (پھولا - ۱-۱) معنی) آنکھ کی پھٹی - آنکھ کی سیاہی پر ایک سفید دھبہ پیدا ہو جانا (۲) پھولا (۳) کابل -

پھولا - (پھولا - ۱-۱) معنی) بڑوں کا ایک مرض جس میں جانور پھول جاتا ہے اور پھر کاش نکلنے سے مر جاتا ہے (۲) سفیدی کا نشان جو کھوڑوں کے پھولوں ٹانگوں یا دان پر ہوتا ہے - یہ نشان نخوس سمجھا جاتا ہے (۳) پھولا ہوا -

پھولا پھولا رہے - (۱-۱) محاورہ) سرسبز دشا داب اور خوش و فرم رہے -

پھولا پھولا پھیرنا - (۱-۱) محاورہ) خوش خوش پھیرنا - بے فکری سے گھومنا -

پھولا نہ سانا - (۱-۱) محاورہ) نہایت خوش ہونا - خوشی کے مارے پھول جانا -

پھولا م - (پھولا م - ۱-۱) معنی) ایک قسم کا ریشی کپڑا جس میں طرح طرح کے پھول بنے ہوتے ہیں -

پھولنا - (پھولنا - ۱-۱) معنی) سوجنا - بھرا ہونا (۲) اچھڑنا (۳) شگفتہ ہونا -

(۴) موٹا ہونا (۵) ظاہر ہونا (۶) معرور ہونا (۷) خوش ہونا (۸) خوش ہونا -

سر سبز ہونا -

پھولنا پھلنا - (۱-۱) محاورہ) (۱) درخت کا سرسبز اور بار آور ہونا (۲) انسان کا دولت مند اور صاحب اولاد ہونا - بار بار ہونا -

پھول پھلو - (پھول - ۱-۱) معنی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (







تکلیف نہ ہونا۔

پیٹ کا پردہ۔ (۱۔ مذ) آنتوں کی جھلی۔ ادبھری۔

پیٹ کا گٹھا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کفایت کرنا (۲) کم کھا کر گزارنا (۳)

بھوکا مارنا۔

پیٹ کا جلا گاڈل جلائے۔ (۱۔ مثل) بھوکا آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔

پیٹ کا دھندا۔ (۱۔ مذ) محنت۔ مزدوری۔ نگر معاش۔

پیٹ کا گٹا۔ (۱۔ جمع) نہایت لاپچی۔ کھانے پر جان دینے والا۔ بندہ شکم۔

پیٹ کا کھایا کوئی نہیں دیکھتا۔ تن کا پہنا سب دیکھتے ہیں۔ (۱۔ مثل)

خاہر سب دیکھتے ہیں، لیکن باطن کو کوئی نہیں دیکھتا۔

پیٹ کا گہرا۔ (۱۔ محاورہ) راز چھپانے والا۔ بھید نظر نہ کرنے والا۔

پیٹ کا ہلکا۔ (۱۔ محاورہ) تنگ ظرف جو بھید کو چھپانے سکے۔

پیٹ کا گڑا گڑانا۔ (۱۔ محاورہ) خوف سے پیٹ کا بولنا۔

پیٹ کی (آگ) آج۔ (۱) مال کی محبت (۲) اولاد۔ بال بچے (۳)

بھوک۔ اشتہا۔

پیٹ کی آگ بجھانا۔ (۱۔ محاورہ) بھوک دور کرنا۔

پیٹ کی مار دینا۔ (۱۔ محاورہ) بھوک کی سزا دینا۔

پیٹ کے لیے دوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تلاش معاش میں پھرنا۔

پیٹ گد رانا۔ (۱۔ محاورہ) حمل کے آثار ظاہر ہونا۔

پیٹ گرنے۔ (۱۔ محاورہ) حمل جاتا رہنا۔ اسقاط حمل ہونا۔

پیٹ لگ جانا۔ (۱۔ محاورہ) بھوک کے مارے پیٹ کا اندر کو دھنس جانا۔

پیٹ مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کھانے میں کمی کرنا (۲) نقش کشی کرنا۔

پیٹ مڑوڑا۔ (۱۔ صفت) مزدور۔ بھائے کا (دق)

پیٹ مسوس کر رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) پیچ و تاب کھانا۔

پیٹ میں آگ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) بھوک سے بیزار ہونا۔

پیٹ میں آنت نہ مٹنے میں دانست۔ (۱۔ مثل) نہایت ضعیف العمر۔

بڑھا پیونس۔

پیٹ میں انگارے بھرنا۔ (۱۔ محاورہ) حرام کا مال کھانا۔

پیٹ میں بات رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) راز چھپانا۔ بھید مخفی کرنا۔

پیٹ میں بات نہ سمانا۔ (۱۔ محاورہ) بھید نہ چھپا سکا۔

پیٹ میں بل پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ہنسی کے باعث پیٹ میں شکن پڑنا۔

بسنے بسنے پیٹ کا ڈبیرا ہو جانا۔

پیٹ میں (بٹھٹھٹھا) کھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) پیٹ میں کھٹنا۔ دوست بن کر

مطلب نکالنا۔ خوش مد کرنا۔

پیٹ میں پالنا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی بات دل میں رکھنا۔ فکر ہونا۔

پیٹ میں پاؤں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت سکار ہونا۔

پیٹ میں پڑا اجاہر تو کو دینے لگا بجا را۔ (مثل) (۱) کھانا تو حیات آ

گئی (۲) روٹی لگ گئی تو سترت کی سو بھنے چلی۔

پیٹ میں بڑی جب دور کی سوچی (۱۔ مثل) پیٹ بھرا جو تو عجیب

بھوک لگی تندور کی سو بھئی { عجیب باتیں سو بھتی ہیں اور

بھوکے کو روٹی کی فکر رہتی ہے۔

پیٹ پٹاری مٹہ سیاری۔ (۱۔ مثل) بظاہر ڈبلا پتلا کرمیت کھانے والا۔

پیٹ پر پتھر باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) فالتے کی تکلیف برداشت کرنا۔

پیٹ پیکار رہا ہے۔ (۱۔ محاورہ) بہت زور کی بھوک لگی ہے۔

پیٹ پکڑ کر بھاگنا۔ (۱) گھبرا کر بھاگنا (۲) دل کو لگنا۔

پیٹ پکڑ کر ہنسا۔ (۱۔ محاورہ) بہت ہنسا۔

پیٹ پوکھا۔ (۱۔ مثل) پیٹ بھرنا شکم سیری۔

پیٹ (پکڑے) کھائے پھرنا۔ (۱۔ محاورہ) پریشان پھرنا، آپے میں نہ رہنا۔

پیٹ پوکھن۔ پیٹ کھوچن۔ آخری اولاد۔

پیٹ پھانٹنا۔ (۱) شکم چاک کرنا (۲) ترس کرنا (۳) نظر لگانا (۴) کام میں

جلدی کرنا (۵) حسد کرنا (۶) دل کا بھید ظاہر کرنا (۷) انکار کرنا (۸) لٹنے کو

تیار ہونا (۹) حسد لینے میں جلدی کرنا۔

پیٹ پھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) شکم چاک ہونا (۲) بے صبر ہونا (۳) ہنسی کے مارے

بے تاب ہونا (۴) حسد اور رشک کرنا (۵) چاولوں کا پھول کر

شوق ہونا۔

پیٹ پھلانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹ کو سانس سے اُونچا کرنا (۲) حاملہ ہونا

(۳) کھانے کی آواز پر تیار ہو کر بیٹھنا (۴) بہت لالچ کرنا۔

پیٹ پھولنا۔ (۱۔ محاورہ) اُپھر جانا۔ نفع ہونا (۲) بے چین ہونا۔

(۳) حمل سے ہونا۔

پیٹ پینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹ بجانا (۲) بھوک کے مارے شور مچانا

(۳) بے قراری ظاہر کرنا (۴) ہوس کرنا۔

پیٹ پیٹھ سے لگنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت ڈبلا ہونا۔ نہایت بھوکا ہونا۔

پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ (۱۔ مثل) ہر ایک کو کھانے

کی ضرورت ہے۔

پیٹ ٹھنڈا رہنا۔ (۱۔ محاورہ) اولاد سے خوش رہنا۔ اولاد کا زندہ رہنا

پیٹ جاری ہونا۔ پیٹ چھوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) دست آنا۔ دست کی بیماری

پیٹ بھاڑنی۔ مِلّاب (ق)۔

پیٹ چپانی ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹ نہایت ظالم ہو جانا (۲)

بھوک سے پیٹ بیٹھ جانا۔

پیٹ چوٹنی۔ (۱۔ صفت) (۱) وہ حاملہ عورت جس کا حمل ظاہر نہ ہو۔

پیٹ دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) افساس اور بھوک کی شکایت کرنا (۲) دانی

سے حمل کی شناخت کرنا۔

پیٹ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) حمل گرانا۔

پیٹ رکھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) حاملہ کرنا (۲) حاملہ ہونا۔

پیٹ سے پاؤں نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بد راہ ہونا (۲) بڑھ چلنا۔ پر پر زے

نکالنا۔ بد روشی ظاہر کرنا۔ چھپے ہوئے عیب یا ہنر ظاہر کرنا۔

پیٹ سے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) حمل ہونا۔

پیٹ کا پتھر۔ (۱۔ مذ) (۱) اپنی اولاد۔ سگاپتھر (۲) وہ پتھر جو ابلیسک

پیدا نہ ہوا ہو۔

پیٹ کا بندہ۔ (۱۔ مذ) مزلیں۔ لاپچی۔

پیٹ کا پانی نہ ہلنا۔ (۱۔ محاورہ) بے تکان جانا۔ سواری میں جنبش اور

پیٹ پڑے تو عبادت کی سوجھے۔ (۱۔ ش) جھوک سے عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔

پیٹ میں چوہوں کا تلا بازیاں کھانا۔ (۱۔ ش) جھوک سے بترار ہونا۔ پیٹ میں پوٹھے (پھوٹنا) ڈوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) خوف کے باعث اضطراب و بتراری کا ہونا (۲) جھوک سے بترار ہونا۔

پیٹ میں چیونٹے کی گرہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت کم خوراک ہونا۔

پیٹ میں ڈاڑھی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی میں عقلمندی کی باتیں کرنا۔ پیٹ میں رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) راز مخفی رکھنا۔ عیب ظاہر نہ کرنا۔

پیٹ میں سانس نہ سمانا۔ (۱۔ محاورہ) سانس پھول جانا۔ تھک جانا۔ (۲) سخت گھبرانا۔

پیٹ میں سے پاؤں نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) فومرول کا نسنے نسنے گن سیکنا (۲) بد راہی اور بد اطواری۔

پیٹ میں کھلی پڑنا، پینا۔ (۱۔ محاورہ) گھبراہٹ ہونا۔ اضطراب ہونا۔ پریشان ہونا۔

پیٹ میں گن بھرے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) باطن میں شرارت ہونا۔

پیٹ میں گھوڑے ڈوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) قراقرز ہونا۔ پیٹ میں گڑ بڑ ہونا۔

پیٹ میں ہول سمانا۔ پیٹ میں ہول سی اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) پریشان ہونا۔ بہت گھبرانا۔

پیٹ والی۔ (۱۔ صفت) (۱) حاملہ۔ زن بارور (۲) کھانے پینے کی سرچیز بردل لگانے والی۔

پیٹ سے یا بے ایمان کی قبر۔ (۱۔ صفت) بہت بڑی خوراک کھانے والا۔ پیٹا۔ (پے۔ ٹا) (۱۔ مذ) (۱) گولائی۔ محیط۔ دُور (۲) شکل یا کھوے کی

دُور کا جھول (۳) تقریباً۔ تخمیناً (۴) دریا کے بننے کا راستہ (۵) تفصیل حساب جو ایک ند کے اندر کھسی جائے (۶) دریا کا پاٹ۔

(۷) ادھڑی (۸) کتاب کا متن (۹) فاصلہ۔ دُوری (۱۰) قابو۔ بس۔ (۱۱) رین، بانا۔

پیٹا چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کھوے کی دُور کا جھول دینا۔

پیٹا۔ (پی۔ ٹا) (۱۔ صفت) (۱) نامناسب۔ بے جا (۲) پینا کی ماضی۔

پیٹا پانی۔ زور شور کا بیڑ۔

پیٹ پیٹ کر۔ (۱۔ صفت) بڑی مشکل سے (۲) مار مار کر۔

پیٹرن۔ (Patron) (پیٹ۔ زن) (۱) الگ۔ (۱۔ مذ) مرئی۔ سرپرست۔ حامی۔

پیٹک پتیا۔ (پی۔ ٹک۔ پی۔ یا) (۱۔ مذ) فوج۔ ماتم کھرام۔ جھگڑا۔

پیٹل۔ (پے۔ ٹل) (۱۔ صفت) بڑے پیٹ والا۔ توڑل۔

پیٹنا۔ (پیٹ۔ نا) (۱۔ صفت) (۱) مارنا۔ چوٹ لگانا (۲) ماتم کرنا۔ (۳) چوکرا کرنا۔ پیٹ کرنا (۴) سخت محنت کرنا (۵) حاصل کرنا (۶) اندیشہ کرنا (۷) بُرا چاہنا۔ کسی کی موت چاہنا (۸) مہر مارنا (۹) دکھار دونا۔

پیٹنٹ۔ (Patent) (پے۔ ٹنٹ) (۱) الگ۔ (۱۔ مذ) رجسٹری شدہ ایجاد جس کو دوسرا نہ بنا سکے

پیٹو۔ (پے۔ ٹو) (۱۔ صفت) بہت کھانے والا۔ بسیار خور۔

پیٹو۔ (پی۔ ٹو) (۱۔ صفت) ماتم میں سینا اور سر کو بہت کھانے والا۔

پیٹو۔ (۱۔ صفت) (۱) پشت (۲) حمایت۔ (۳) سہارا۔ (۴) پناہ (۵) پیچھے (۶) گردن اور کر کے درمیان جسم کا پھیلا حصہ۔ ہر چیز کا بالائی حصہ۔

پیٹو پرکا۔ (۱۔ صفت) (۱) بعد کا۔ وہ بچہ جو کسی بچے کے بعد پیدا ہوا ہو (۲) چھوٹا بھائی۔

پیٹو پر لاکھ پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) شاباش دینا۔ ہمت بندھانا جو صلہ بڑھانا توریف کرنا۔

پیٹو پر لاکھ دکھنا۔ (۱۔ محاورہ) سرپرستی کرنا۔ حمایت کرنا۔

پیٹو پر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مددگار ہونا۔ حمایت کرنا (۲) ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کا ہونا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پیٹو پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹھ موڑنا۔ جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) لڑائی سے بھاگنا (۴) بیزاری یا نفرت کے باعث دوسری طرف مڑ کر لینا۔

پاپٹھنا۔ (پہلے۔ نا) (۵۔ مص) (۱) گھٹنا۔ داخل ہونا (۲) جہاں گرنا۔  
پہنچنی۔ (پہنچنی۔ غنی) (۵۔ امش) ماش اور سوگ وغیرہ کی پانی میں ہسی  
ہوئی دال۔

پہنچی۔ (پہنچے۔ ٹی) (۵۔ ۱۔ امش) (۱) ٹیکا۔ کر بند (۲) نقدی وغیرہ رکھنے کا  
مذوقہ (۳) خرچی۔ جامہ دانی (۴) وہ دور جو قبل یا بعد کی  
کمریں باندھتے ہیں (۵) بندوق کے سامان رکھنے کا بکس (۶) سینے  
کا استر (۷) وہ کپڑا جو پتھر ہونے کے بعد زچہ کی کمر سے باندھا  
جاتا ہے۔

پہنچی اترنا۔ (۱) محاورہ) سپاہی کا موقف ہو جانا۔  
پہنچی باندھنا۔ (۱) سپاہی کا کمر باندھ کر مستعد ہونا۔ (۲) دست آموز  
جانور کی کمریں ڈورا باندھنا۔

پہنچی لڑانا۔ (۱) محاورہ) جماع کرنا۔  
پہنچینا۔ (پہنچے۔ یا) (۵۔ ۱۔ مذ) ایک آدمی کی کچی خوراک۔ رسد۔ ردا۔  
روزینہ۔ وظیفہ۔

پہنچے میں اٹھانا۔ (۱) محاورہ) زیر بار ہونا۔  
پہنچے میں پڑنا۔ (۱) محاورہ) تابو میں ہونا۔ بس میں ہونا۔ ڈنٹے ہونا۔  
پہنچ۔ (Page) (۱) انگ۔ (۱) مذ) (۱) صفحہ۔ ورق کا ایک رُخ۔

پہنچا۔ (پہنچے۔ جا۔ مس) (۱) مذ) یا جامہ۔ ازار۔  
پہنچا جانا۔ (۵۔ ۱۔ مس) (۱) فوش کر لینا۔ پڑھ لینا (۲) چُپ ہو لینا۔ ٹال جانا۔

پہنچ۔ (۱) مذ) (۱) بل۔ لپیٹ (۲) چوڑی۔ پرزہ۔ وہ کیل جس کی جوڑیاں  
کٹی ہوں (۳) چکر۔ پھیرا (۴) قم (۵) مردڑا۔ درد شکم (۶) رشک و حسد۔  
(۷) عقدہ (۸) ایک قسم کا کیل (۹) مشکل۔ دقت (۱۰) فریب۔ دھوکا۔  
(۱۱) گھٹی کا داؤ (۱۲) دبانے کی کل (۱۳) بگڑی کی لپیٹ (۱۴) لنگوے  
کی ڈور کا دوسرے لنگوے کی ڈور سے اُٹھنا (۱۵) گرہ۔ چھندا (۱۶)  
پتی بگڑی۔ ہتی۔

پہنچ اٹھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) پیٹ میں پیچش سے درد ہونا (۲) لنگوے بڑھنا  
یا اُڑانا۔

پہنچ باندھنا۔ (۱) محاورہ) گھٹی کے داؤں کا توڑ کرنا۔ جواب دینا۔  
پہنچ پانچ کی باتیں۔ (۱) مذ) چالاک کی باتیں۔ شرارت کی باتیں۔  
پہنچ پر پہنچ اٹھانا۔ (۱) محاورہ) رنج پر رنج سہنا۔ مشکل پر مشکل پیش آنا۔

پہنچ پر پہنچ پڑنا۔ (۱) محاورہ) مشکل پر مشکل پڑنا۔  
پہنچ پر پہنچ کھانا۔ (۱) محاورہ) غصے سے متیاب ہونا۔

پہنچ پر چڑھانا۔ (۱) محاورہ) گھٹی کے داؤں میں دوسرے کو لانا۔  
پہنچ پڑنا۔ (۱) اُٹھنا۔ بگڑ پڑنا (۲) سخت مشکل پیش آنا (۳) ایک پتنگ  
کا دوسرے پتنگ سے اُٹھنا (۴) مزاحمت پیش آنا۔

پہنچ چلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) دھوکے یا فریب سے کامیاب ہونا (۲)  
دھوکا دینا۔

پہنچ چھٹنا۔ (۱) محاورہ) لنگوے کی بازی میں ایک کی ڈور کا دوسرے کی  
ڈور سے علیحدہ ہونا۔

پہنچ چھٹنا۔ (۱) محاورہ) بگڑی کے پتوں کو احتیاط سے درست کرنا۔

پہنچ دار۔ (۱) صف) (۱) بل دار (۲) پیچیدہ۔ مشکل۔ دقت۔

پہنچ در پہنچ۔ (۱) صف) (۱) بل پر بل پڑا ہوا۔ نہایت پیچیدہ (۲)  
عقدہ۔ لائیبل۔ نہایت مشکل۔

پہنچ ڈالنا۔ (۱) محاورہ) (۱) داؤں کرنا (۲) حال چلنا۔ اُٹھانا (۳) شکل میں  
چھٹنا (۴) دوسرے کے لنگوے پر ڈور ڈالنا (۵) شرارت کرنا۔

پہنچ کاٹنا۔ (۱) محاورہ) لنگوے کی ڈور کاٹنا۔

پہنچ کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) گھٹی کا داؤں کرنا۔ دھوکا دینا (۲) پتنگ کا پہنچ لڑنا۔

پہنچ کھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) بل کھانا (۲) دل ہی دل میں غصتہ کرنا۔

پہنچ کھلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بل دور ہونا۔ بگڑی کا پھیر کھلنا (۲) شکل حل  
ہونا (۳) جھید کھلنا۔

پہنچ کھیلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) داؤں کرنا (۲) فریب دینا۔

پہنچ کی بات۔ (۱) بل حال) ذمہ بات۔ ایسی بات جس سے کئی سنی نکلے ہوں

پہنچ لڑانا۔ (۱) محاورہ) لنگوے لڑانا۔ ایک پتنگ کی ڈور کا دوسرے پتنگ  
کی ڈور سے اُٹھانا۔

پہنچ میں آنا۔ (۱) محاورہ) (۱) مصیبت میں پھنسا۔ پھیر میں آنا (۲) دھوکے میں  
چھٹنا (۳) پھندے میں آنا۔ حال میں پھنسا۔

پہنچ و تاب۔ (۱) مذ) (۱) بل (۲) عقدہ (۳) بے قراری۔ بے یقینی۔  
(۴) ٹکڑا۔ اندیشہ۔

پہنچ و تاب کھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) پٹنا۔ بل کھانا (۲) اندر ہی اندر غصتہ سے  
کھٹنا۔ حسد یا رشک سے چلنا (۳) بے قرار ہونا۔ مضطرب ہونا۔

پہنچ وجم۔ (۱) مذ) چکر۔ بل پھیر۔

پہنچا۔ (۵) مذ) پتنگ کا پہنچ (۲) لپیٹ۔ بل۔ چکر۔

پہنچ پیچھ۔ (۵۔ ۱۔ امش) اُٹلے ہونے چادوں کا پانی۔ چادوں کا پساؤ۔

پہنچ پی ہزار نعمت کھاٹی۔ (۱) پتنگ) کھانے کو جو کچھ مل گیا غنیمت ہے۔  
اسی پر مہربان شکر کرنا چاہیے۔

پہنچ پاک۔ (پہنچے۔ چاک) (۱) صف) (۱) پیچ و تم (۲) طرہ۔ زلف۔  
(۳) گھونگا۔

پہنچاں۔ (پہنچے۔ چاں) (۱) صف) بل کھایا ہوا۔ پیچیدہ۔

پہنچاں پیش۔ (پہنچے۔ چش) (۱) صف) (۱) مردڑ۔ درد ہو کر دست۔ پاخانہ یا  
آز آنا۔

پہنچاں۔ (پہنچے۔ چک) (۱) صف) (۱) پیٹے ہوئے سوت کی ریل۔  
(۲) پیچ دار۔ نال کا پیچہ۔

پہنچاں کش۔ (پہنچے۔ کش) (۱) صف) (۱) پیچ کھولنے کا آلہ۔

پہنچاں پھو۔ (پہنچے۔ چو) (۵۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا آٹرو۔ زرد آٹو۔ کرنل کا پتلا پھل۔

پہنچاں۔ (پہنچے۔ داں) (۱) صف) (۱) مذ) ایک قسم کا عقدہ جس کی نے پگھلا اور  
بہت لاشی ہوتی ہے۔

پہنچاں۔ (پہنچے۔ چا) (۱) صف) (۱) پھلا۔ حقہ۔ یثت۔ عقب (۲) پیروی۔ تعاقب۔  
پہنچاں بھاری ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) پس یثت امداد کا موجود ہونا (۲) بعد میں  
مشکل در پیش آنا (۳) دشمن کی مدد آ جانا۔

پہنچاں پگڑنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ستانا۔ ایدارسانی کے درپے ہونا (۲) ہر وقت



ساتھ رہنا۔

پتھیا ٹھنڈا۔ (۱) عمارت، نجات ملنا۔ مخلصی ہونا۔ جان بچانا۔  
پتھیا ٹھنڈا۔ (۱) عمارت، نجات حاصل کرنا۔ مخلصی پانا۔ چھٹکارا ہونا۔ جان بچانا۔  
پتھیا کرنا۔ (۱) عمارت، (۲) ناقب کرنا (۳) دق کرنا۔ ستانا (۳) دہلے ہونا۔  
پتھیا نہ چھوڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) ساتھ نہ چھوڑنا۔ سر ہونا۔ جان کو آنا۔ ہزار کی طرح  
ساتھ رہنا۔ درپے آزار ہونا۔

پتھے۔ (پلے۔ پتھے) (۱) صفت (۲) بعد میں۔ عقب میں (۳) غیر حاضری میں۔  
(۳) پھر (۴) وجہ سے (۵) ہر ایک۔ فی (۶) پھیلی طرف (۷) اس کے  
بعد (۸) مرنے کے بعد۔

پتھے بلا لگنا۔ (۱) عمارت، صحبت میں پڑنا۔  
پتھے پڑنا۔ (۱) عمارت، (۲) پلٹنا۔ سر ہونا (۳) ستانا۔ دق کرنا (۳)  
دشمنی کرنا (۴) بار بار مانگنا (۵) رسوائی چاہنا۔  
پتھے پھرنا۔ (۱) عمارت، (۲) لٹنا۔ واپس ہونا۔ مٹنا۔  
پتھے پتھے۔ (۱) تھوڑی دیر بعد، متعرب (۲) ساتھ ساتھ۔  
پتھے ڈالنا۔ (۱) عمارت، (۲) ناقب کرنا (۳) پتھے دوڑنا۔ پتھے چھوڑنا۔  
(۴) تھوڑا تھوڑا بچا کر جمع کرنا۔

پتھے سے۔ (۱) پشت سے (۲) بعد ازاں۔ تھوڑی دیر بعد۔  
پتھے لگا دینا۔ (۱) عمارت، مخالفت بنا دینا (۲) ساتھ کر دینا۔  
پتھے ہولینا۔ (۱) عمارت، (۲) پیروی کرنا (۳) عقب میں چلنا۔  
پتھیلگی۔ (پلے۔ پتھی۔ ڈگ۔ ڈن۔ امٹ) (۱) پیٹھ۔ بل۔ مروڑ (۲)  
الجھرا۔ الجھاؤ۔  
پتھیدہ۔ (پلے۔ پتھی۔ ڈگ۔ ڈن۔ صفت) (۱) پٹھا ہوا۔ ٹٹوٹ (۲) مشکل۔  
دقت طلب۔

پتھیل۔ (پلے۔ خال۔ ڈن۔ امٹ) ہیٹ۔ پرند کا فضلہ۔  
پتھیلنا۔ (پلے۔ خا۔ نہ) (ڈن۔ امٹ) (۱) جائے ضرور۔ بیت الخلاء (۲)  
فضلہ۔ براز۔ گوڑ۔

پتھیا۔ (پلے۔ ڈگ۔ ڈن۔ صفت) (۱) ظاہر۔ موجود (۲) جنا ہوا۔ زائیدہ (۳)  
آمدنی۔ کمائی (۴) ایجاد۔ اختراع۔  
پتھیاوار۔ (۱) زراعت و صنعت کا حاصل۔ حاصل (۲) وہ چیز جو کھیت  
میں اگے یا کاٹنے میں تیار ہو۔ فصل۔ زراعت۔  
پتھیاوار خودرو۔ (۱) صفت، وہ پیداوار جو بوٹے جوتے بیزاگ آئے۔  
پتھیاواری۔ پیداوار۔

پتھیش۔ (پلے۔ وا۔ اش) (ڈن۔ امٹ) (۱) جم۔ خلعت۔  
پتھیشی۔ (پلے۔ وا۔ اش) (ڈن۔ صفت) اصلی۔ فطری۔ خلقی۔ ولادت  
کے وقت سے۔

پلے درپے۔ (ڈن) (۱) متواتر۔ لگاتار، اڑتے (۲) یکے بعد دیگرے۔  
ایک کے بعد ایک۔

پیدل۔ (پلے۔ دل) (۱) عمارت، (۲) پیادہ۔ وہ شخص جو سوار نہ ہو (۳) شطرنج  
کا وہ ادنیٰ ہرہ جو ایک ٹھہر سدا چلتا اور آڑا رہتا ہے (۴) پیادوں کی فوج  
پیدل اور سوار کا کیا ساتھ۔ (پتھیل) امیر اور عزیز کا کیا جوڑ۔

پیڈ۔ (Pad) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) سیاہی چوس۔ جاذب (۲) جاذب  
رکنے اور کافذات رکھ کر رکھنے کا پتھا (۳) بوٹ صاف کرنے کی چھوٹی  
گدھی (۴) کپڑے کی گدھی۔

پیڈ۔ (Paid) (انگ۔ صفت) (۱) ادا کردہ۔ وہ رقم یا محصول وغیرہ جو  
ادا کر دیا گیا ہو۔

پیڈل۔ (Paddle) (پلے۔ ڈل) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) بائیسکل۔ پیاؤنادر  
سینے کی مشین کا وہ پھلا جتہ جسے پاؤں سے چلاتے ہیں۔

پیپر۔ (ف۔ صفت) (۱) عمر رسیدہ۔ مٹھر۔ بوڑھا (۲) ناد۔ رہنما۔ مُرشد (۳)  
دلی۔ بزرگ (۴) اُردا۔ شریروں کا اُستاد (۵) دو شنبہ۔ سوموار۔

پیپر بھائی۔ (۱۔ مذ) ایک پیر کے مرید۔  
پیپر بھیلوٹی۔ (۱۔ مذ) چھڑوں کا پیر۔

پیپر بھیلوٹی کی کڑھائی۔ (۱۔ صفت) چھڑوں کے پیر بھیلوٹی کے فاتح کا  
حلا جو کسی کو بھرا بنانے وقت یہ روگ بنا کر آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔

پیپر تسمہ یا۔ (ف۔ صفت) پتھیا نہ پھرنے والا۔  
پیپر تو آپ ہی در ماندہ شفاعت کسی کی کریں۔ (پتھیل) جو خود محتاج  
ہے وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچائے گا۔

پیپر خراباٹ۔ (ف۔ مذ) (۱) شراب خانے کا مالک (۲) صوفیوں کی  
اصطلاح ہیں مُرشد کامل۔

پیپر دیدار کا کوٹھارا۔ (۱۔ مذ) ایک فرضی ولی کے نام کا کوٹھا جسے عورتیں کسی  
عزیز کے سفر سے واپس آنے کے لیے مانتی ہیں۔

پیپر زادہ۔ (ف۔ مذ) (۱) مُرشد کا بیٹا (۲) وہ شخص جس کے ماں بزرگوں  
سے پیری مریدی ہوتی چلی آ رہی ہو۔

پیپر زوال۔ (۱) بڑھی عورت۔ بڑھیا۔  
پیپر زن۔ (ف۔ صفت) بوڑھی عورت۔ بڑھیا۔

پیپر شو بیا موز۔ (پتھیل) انسان کو چاہیے کہ ساری عمر سیکھتا رہے۔ بڑھاپے  
میں بھی سیکھنا ضروری ہے۔

پیپر طریقت۔ (ف۔ مذ) صوفیوں کا پیر (مُرشد)۔  
پیپر فرقت۔ (ف۔ مذ) بہت بوڑھا۔ شیخ۔

پیپر فلک۔ (ف۔ مذ) پُرانا ہونے کی وجہ سے آسمان کو کہتے ہیں۔  
پیپر گرنا۔ مُرشد بنانا۔ نادی تسلیم کرنا۔

پیپر گشال۔ (ف۔ مذ) (۱) کتا یا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔  
پیپر کو نہ فقیر کو پہلے کانے چور کو۔ (پتھیل) اُس وقت کہتے ہیں جب  
کوئی غیر اپنے آپ کو محتادوں پر مقدم رکھنا چاہے۔

پیپر کی پیری سے کام پیر کے فعلوں سے کیا کام۔ (پتھیل) بزرگ  
کی بزرگی سے طلب ہے اُس کے افعال کی تحقیقات بیکار ہے۔

پیپر مرد۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بوڑھا آدمی، ضعیف، عمر رسیدہ۔  
پیپر مٹال۔ (۱) آتش پرستوں کا پیشوا۔ آتش خانہ کا بھادر (۲) طنز، گروگشال  
مقدم (۳) شراب پیچنے والا۔

پیپر من جس است اعتقاد من بس است۔ (پتھیل) پیر کچھ نہیں نہ ہو  
اعتقاد بڑی چیز ہے۔





پیشی - (پیش - نی) (ہ۔ ا۔ مٹ) سخت محنت - مصیبت -  
 پیش - (ف - صفت) (ا) آگے - سامنے (۲) پہلے - قبل (آئندہ (۳) (۱) - مذ) جنم - وہ علامت جو کسی حرف کے اوپر تعریف وادوی آواز کے لیے لکھتے ہیں (۴) انگر کے کی گاڑی (۵) تیس گادہ دانہ جو سب دانوں کے اوپر ہوتا ہے -  
 پیش آنا - (۱) - محاورہ (۲) آگے آنا - ظہور میں آنا (۳) برتاؤ کرنا -  
 پیش از مرگ و اولاد (مثلی) تکلیف سے پہلے ہی شور مچا دینا - کسی امر کے پیش آنے سے پہلے ہی پریشان ہونے لگنا -  
 پیش از میں - (ف) اس سے پہلے - اس سے آگے -  
 پیش امام - (ف) - (۱) مذ - پیش نماز - امام - نماز پڑھانے والا -  
 پیش بند - (ف) - (۱) - مذ - زیر بند - وہ چھڑیا فوڑ جو گھوڑے کی پوزی اور تنگ کے بیچ میں گردن بھگی رہنے کی غرض سے باندھتے ہیں -  
 پیش بندی - (ف) - (۱) - مٹ) دُور اندیشی - پہلے سے کسی بات کی تدبیر کرنا -  
 پیش ہیں - (ف) - (۱) - مذ) دُور اندیش - عاقبت اندیش - کسی معاملے کو پہلے سے سوچ لینے والا -  
 پیش بینی - (ف) - مٹ) مآل اندیشی - دُور اندیشی -  
 پیش یا آفتادہ - (ف) - صفت) نہایت معمولی - سامنے کی بات - فرسودہ -  
 پیش پیش - (ن) آگے آگے -  
 پیشتر - (ف) - صفت) پہلے - بہت پہلے -  
 پیش (جانا) چلنا - (۱) - محاورہ) قابو چلنا - کارگر ہونا -  
 پیش خدمت - (ف) - (۱) - مٹ) (۱) خدمت گزار (۲) بیگمات کی خدمت کرنے والی - خادمہ -  
 پیش خیمہ - (ف) - (۱) - مذ) (۱) امیر کا خیمہ وہ سامان جو فوج کی روانگی سے پہلے اکل منزل کو بھیجا جاتا ہے (۲) کسی واقعہ کی تہید (۳) ہر کارہ - پیادہ - لازم (۴) مُتقدّم العیش - ہر اول -  
 پیش دست - (ف) - صفت) (۱) آگے کام آنے والا - اسسٹنٹ - نائب (۲) سبقت کرنے والا -  
 پیش دستی کرنا - (۱) - محاورہ) پہل کرنا - سبقت کرنا (۲) حملہ کرنا -  
 پیش رفت - (ف) - صفت) (۱) قابو - پس (۲) موثر - کارگر -  
 پیش رو - (ف) - صفت) آگے آگے چلنے والا - آگے گزرنے والا -  
 پیش قبض - (ف) - (۱) - مذ) (۱) خیر - چھڑا - گد (۲) گشتی کے ایک بیچ کا نام -  
 پیش قدمی - (ف) - مٹ) (۱) بڑھ کے کام کرنا - پہل (۲) حملہ - چڑھائی (۳) دلیری - جرأت -  
 پیش کار - (ف) - (۱) - مذ) (۱) مینجر - مددگار - نائب (۲) نائب سررشتہ دار - مسل خوال -  
 پیش کرنا - (۱) - صفت) سامنے کرنا - حاضر کرنا - آگے رکھنا -  
 پیش کش - (ف) - صفت) (۱) بھینٹ - نذر (۲) ہدیہ - تحفہ (۳) محصول - خراج  
 پیش گاہ - (ف) - مٹ) (۱) سامنے - رُوبرو - حضور (۲) دربار - صدر - اجلاس -  
 پیش گوئی پیشین گوئی - (ف) - مٹ) کسی بات کی پہلے سے خبر دینا -  
 پیشگی - (ف) - (۱) - مٹ) دو اجرت جو کام سے پہلے دی جائے - چیز خریدنے

سے پہلے اس کی قیمت کا کچھ ادا کرنا -  
 پیش لفظ - (ف) - مذ) آغاز کلام - کتاب کا دریا چہ (انگ) (Forward)  
 پیش نظر - پیش نگاہ - نگاہ کے سامنے -  
 پیش نماز - (ف) - مذ) امام - نماز پڑھانے والا -  
 پیش نہاد - (ف) - مذ) (۱) بر نظر - (۲) ارادہ (۳) نونہ - شمال (۴) رسم - رواج -  
 پیش و پس - (ف) - (ن) آگے پیچھے -  
 پیشاب - (پے - شاب) (ف) - (۱) - مذ) بول - مُوت - تارورہ -  
 پیشاب بند ہونا - (۱) مُوت بند ہونا (۲) کسی شخص سے ڈرنا -  
 پیشاب بھی نہ کرنا - (۱) - محاورہ) بہت حقیر سمجھنا -  
 پیشاب خطا ہونا - (۱) - محاورہ) کسی شخص کا ڈر سے مُوت نکل جانا - بہت خوف کھانا -  
 پیشاب سے چراغ جلتا ہے - (۱) (پیش) دھاک بیٹھی ہے - رُعب جما ہوا ہے -  
 پیشاب کرنا - (۱) - محاورہ) (۲) مُوتنا (۳) از حد حقیر سمجھنا - بالکل خاطر میں نہ لانا -  
 پیشاب کی دھار پر مارنا - (۱) - محاورہ) بہت حقیر سمجھنا -  
 پیشاب کی راہ بہانا - (۱) - محاورہ) (۲) نغول خرچہ کرنا (۳) بد چلنی میں صرف کرنا -  
 پیشاب میں چراغ جلتا - (۱) - محاورہ) رُعب ہونا - دھاک بیٹھنا -  
 پیشاب (نکلنا) نکل جانا - (۱) - محاورہ) (۲) مُوت دینا (۳) ڈرنا - خوف سے کانپنا  
 پیشانی - (پے - شا - نی) (ف) - (۱) - مٹ) (۱) اٹھا جیس (۲) قسمت - نصیب - (۳) سرنامہ - القاب (۴) کاغذ کا بالائی حصہ جو عبارت سے اوپر خالی چھوڑ دیا جائے -  
 پیشانی پر شکن (پل) پڑنا - (۱) - محاورہ) چہرے سے رنج ظاہر ہونا -  
 طال ہونا - عفتہ آنا -  
 پیشانی پر لکھا ہونا - (۱) - محاورہ) نوشتہ تقدیر ہونا - چہرے سے عیاں ہونا -  
 پیشانی رگڑنا - (۱) - محاورہ) بہت خوش دگر کرنا - فرماں برداری کرنا -  
 پیشانی کا خط - پیشانی کی تحریر - تقدیر کا لکھا ہوا - نوشتہ قسمت -  
 پیشانی کا لکھا - (۱) - مٹ) قسمت کی بات - نوشتہ تقدیر -  
 پیشوا - (پیش - وا) (ف) - (۱) - مذ) (۱) رہبر - رہنما - امام (۲) مرہٹوں کے سردار کانتھ - جمع پیشوایان -  
 پیشوا - (پیش - واز) (ف) - (۱) - مٹ) عورتوں کا ایک گھیر دار لباس (۲) ہنک (۳) سردار - (ف) دیکھنے پشوار -  
 پیشوائی - (پیش - وا - ی) (ف) - (۱) - مٹ) (۱) رہبری - رہنمائی (۲) استقبال -  
 پیشہ - (پے - شہ) (ف) - (۱) - مذ) ہنر - فن - کام - دھندا - روزگار -  
 پیشہ ور - (ف) - (۱) - مذ) (۱) کسی قسم کا کام کرنے والا (۲) تاجر - دکاندار (۳) اہل حرفہ - ہنرور -  
 پیشی - (پے - یچی) (ف) - (۱) - مٹ) (۱) حضور (۲) زیر تجویز مقدمے کی سماعت کی تاریخ -  
 پیشی کا (محرر یا) منشی - وہ شخص جو حاکم کے سامنے کاغذات پیش کرے مسل خواں - پیش کار -

پیشین - (پے۔ پیشین) (ف۔ ۱۔ مذ) پہلا۔ قدیم زمانے کا۔ اگلا۔  
 پیشین گوئی - کسی واقعہ کی قبل از وقت اطلاع۔  
 پیغام - (پے۔ فا۔ رے) (ف۔ ۱۔ مذ) طعن۔ سرزنش۔  
 پیغام - (پے۔ فا۔ م) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) نسیب۔ زبانی بات۔ پیام (۲) شادی۔  
 یانست کی درخواست۔ جمع: پیغامات۔  
 پیغام دینا - (۱) عاودہ کسی سے کوئی بات کہنا یعنی شادی کی درخواست کرنا۔  
 پیغام ڈالنا - (۱) عاودہ شادی یانست کی درخواست کرنا۔  
 پیغام سلام - سوال و جواب۔ بات چیت۔  
 پینا مای پیغامی - (پے۔ فا۔ ما۔ پے۔ فا۔ می) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) مٹا۔ اُدھر سے اُدھر۔  
 اور اُدھر سے اُدھر پیام آنا جانا۔ پیام سلام۔  
 پیغمبر - (پے۔ علم۔ بر) (ف۔ ۱۔ مذ) خدا کا حکم لانے والا۔ پیشوائے دین۔ قاصد۔  
 انبی۔ سفیر۔ پیامبر۔ نبی۔ رسول۔ جمع: پیغمبران۔  
 پیغمبری - (پے۔ علم۔ ب۔ ری) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) نبوت۔ رسالت۔ خدائی پیغام۔  
 بندوں تک پہنچانے کی خدمت۔  
 پیغمبری وقت پڑنا - (۱) عاودہ سخت مصیبت پڑنا۔  
 پیک - (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) قاصد۔ ہرکارہ۔ نامہ بردار۔ چھٹی رسال۔  
 پیک - (Pack) (انگ۔ ۱۔ مذ) مال و اسباب کو باندھنا۔  
 پیک - (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) پان کا رنگین ٹھوک (۲) کھیت کی تیار فصل (۳)۔  
 رتوں میں رقیق شے بھرنے کا آلہ۔  
 پیکدان - (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) گال دان۔ وہ رتن جس میں پان کا اگال ڈال دیتے ہیں۔  
 پیکار - (پے۔ کا) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) جھگڑنا۔ (۲) حاصل کرنے والا۔  
 (۳) جھیر والا۔  
 پیکال - (پے۔ کا) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) برھی یا بھالے وغیرہ کی انی۔ نیزے کی نوک۔  
 پیکٹ - (Pact) (انگ۔ ۱۔ مذ) معاہدہ۔ عہد نامہ۔  
 پیکٹ - (Packet) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) چھوٹا بندل۔  
 پیکر - (پے۔ کر) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) پھرہ۔ شکل۔ صورت۔ جمع: پیکراں۔  
 پیکر - (Packer) (پے۔ کر) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) اسباب بند کرنے والا۔  
 سامان پیک کرنے والا۔  
 پیکڑا - (پیکڑی - پیک) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) پہلا مذ۔ دوسرا مٹا [ (۱) قیدیوں کے پاؤں کی بٹری (۲) عورتوں کے پاؤں کا ایک زیور۔  
 پیکشتی - (پے۔ کش۔ ٹی) (ف۔ ۱۔ مذ) رات کو پھر دینے والا۔  
 پیل - (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) دھکا۔ ریل۔ جیسے دھکا ہیل (۲) پیلنا کا اثر۔  
 پیل - (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) لٹھی۔ (۲) شطرنج کا وہ بہرہ جو آڑا چلتا ہے اور  
 آڑا مارتا ہے۔ جمع: پیلاں۔  
 پیلیان - (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) نیل بان۔ مہادت۔ لٹھی چلانے والا۔ جمع: پیلیانیاں۔  
 پیل بانی - (ف۔ ۱۔ مذ) مہادت کا پیشہ۔  
 پیلیا - پاؤں پھول کر نہایت موٹے ہو جانے کی بیماری۔ نیل پا۔  
 پیلیا سیر - کھم۔ تھم۔ ستون۔  
 پیل پیکر - (ف۔ ۱۔ ص) (۱) قوی میکل۔ بڑے جتنے کا (۲) رسم کا لقب۔

پیل ڈالنا - (۱) عاودہ کو مرنکال دینا۔ بہت ظلم و ستم کرنا۔  
 پیلا - (پی۔ لا۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) کبیری۔ نرد۔ زعفرانی (۲) شطرنج کا  
 بہرہ۔ پیل۔  
 پیلا - (پیلا - پیلاٹھ) (پیل۔ نا) (پیل۔ ٹا) (پے۔ لٹھ) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) فوطہ۔  
 خفیہ۔ خایہ۔  
 پیلنا - (پیل۔ نا) (۱) مہص (۲) دھیکنا۔ آگے یا دھکے ہیشانا (۳) کولھویں پینا۔  
 تیل نکالنا (۴) گھسیٹنا۔ داخل کرنا (۵) ڈنٹر پیلنا۔  
 پیلو - (پی۔ ٹی) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) ایک درخت جس کی جڑ اور شاخوں کی مسواک  
 بناتے ہیں (۲) ایک رنگ (۳) نیل مرنا۔  
 پیلو - (پے۔ لو) (۱) برے۔ آئندہ۔ اُدھر۔  
 پیلیہ - (پی۔ لہ) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) ریشم کا کپڑا (۲) کوئی ابریشم (۳) شطرنج  
 کا بہرہ۔  
 پیلی - (پی۔ لی) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) زرد (۲) اشرفی۔  
 پیچم - (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) پریم۔ محبت۔ یارانہ۔ ہریت۔  
 پیما - (ف۔ لاسحق) مصدقہ یومودن کا صیغہ امر جو اسم کے بعد اگر اسم فاعل  
 ترکیبی بنا دیتا ہے اور ناپنے والے کے معنی دیتا ہے جیسے حرارت پیمانہ  
 بارش پیمانہ۔  
 پیمان - (پے۔ مان) (ف۔ ۱۔ مذ) عہد۔ قسم۔ شرط۔ وعدہ۔ اقرار۔  
 پیمان شکن - (ف۔ ص) عہد توڑنے والا۔ عہد پر قائم نہ رہنے والا۔  
 پیمانہ - (پے۔ مانہ) (ف۔ ۱۔ مذ) گلاس (۲) ناپنے کا آلہ۔ پلا۔ ترازو۔  
 پیمانہ بھر جانا - (۱) عاودہ موت آجانا۔  
 پیمانہ بھڑھانا - (۱) عاودہ شراب پینا۔  
 پیمانہ پھلکنا - (۱) عاودہ کسی سیال چیز کا لبریز ہو کر گنا (۲) کم ظرفی ظاہر  
 ہونا۔ آنسوؤں کا تار بندھنا۔  
 پیمانہ کش (گسار) - (ف۔ ص) شراب خورد۔  
 پیمانہ لبریز ہونا - (۱) عاودہ (۲) پیالہ بھر جانا (۳) زندگی ختم ہونا۔  
 پیمانہ کش - (پے۔ ما۔ کش) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) تاپ۔ خصوصاً زمین کا تاپ۔  
 پیسمبر - (پے۔ ایم۔ بر) (ف۔ ۱۔ مذ) پیغمبر۔ نبی۔  
 پیسک - (پے۔ سک) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) سہتر گونا جو کلابتوں سے بنایا اور دلکھوں  
 اور ٹوبیوں وغیرہ پر لگایا جاتا ہے۔  
 پیس - (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) مٹا [ باریک آواز۔ باجے یا فغیری کی آواز۔  
 پیس بولنا - (۱) عاودہ عاجز ہونا۔ تنگ آجانا۔  
 پیٹنا - (پے۔ نا) (۱) صفت (۲) تیز۔ ترش۔ نوکدار (۳) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱

































تجربہ کار - (ع۔ ف۔ صفت) واقع کار - ہوشیار - آزمودہ کار - ماہر -  
تجربہ کاری - (ع۔ ف۔ نث) واقفیت -  
تجربہ گاہ - (ف۔ مذ) مکان جس میں تائیں تجربے کے سبب ہوتے ہیں اور تجربہ  
تجربہ عمل - تجربہ خانہ -

تجرباتی نفسیات - (ع۔ مذ۔ باقی۔ لف۔ ہی۔ یات) (ف۔ ۱۔ مٹ) [  
وہ نفسیات جو تجربے پر مبنی ہوں نہ کہ نقل و روایات یا قیاس پر -  
تجربہ - (ت۔ جڑ۔ رُ) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) عربانی (۲) تہنائی - غلوت - گزینی -  
ایلا رہنا (۴) شادی نہ کرنا (۵) ترک دنیا - آزادی -

تجربہ دہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) برہنگی - عربانی (۲) تہنائی - غلوت (۳) ایک  
چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا (۴) علم بیان کی ایک صفت - جس میں نوادہ  
کو دُر کے صفت ایک سنی سے عرض رکھتے ہیں - جمع - تجربات -

تجربیدی فن (آرٹ) - (ع۔ مذ) سنگ تراشی اور مصوری کا وہ انداز  
جس میں فنکار اقلیدسی اشکال اور علامات کے ذریعے اظہارِ خیال  
کرتا ہے - (انگ) (Abstract Art)

تجربہ - (ت۔ جڑ۔ ری) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) الگ الگ کرنا - فرد فرد کرنا - تجربے  
کے لیے کرنا - تقسیم کرنا -

تجربہ - (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) تقسیم کرنا (۲) تحلیل کرنا - کسی مرکب کے  
عناصر ترتیبی جدا جدا کرنا - جمع - تجربات -

تجربہ گاہ - (ع۔ مذ) وہ جگہ جہاں مرکبات کے تجربہ و تحلیل کا کام کیا جائے  
تجسس - (ت۔ جہن۔ سس) (ع۔ ۱۔ مذ) تلاش - تجسس - دریا -

تجسس - جمع - تجسسات -  
تجسس کنال - (ع۔ ف۔ مذ) تلاش کرتا ہوا -

تجسس - (ع۔ مٹ) جسم کرنا - خدا کے مجسم ہونے کا عقیدہ -  
تجلی - (ت۔ جہن۔ ل) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) چمک - روشنی (۲) جلوہ -

تجلی - (ت۔ جہن۔ ل) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) پردہ ہٹانا - ظاہر ہونا (۲) چمک - روشنی  
تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجلی - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -

تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -  
تجسس - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلال - عظمت (۲) جلوہ - جمع - تجلیات -































**تار** - (ت۔ سار، دہ۔ ا۔ مٹ) (۱) کبر۔ پالا (۲) سردی۔ ٹھنڈ۔  
**تال** - (ت۔ سال) (۵) صف۔ عین برکس کا۔  
**تاسخ** - (ت۔ ساج) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) باہمی ہیر پائی شفقت یا معافی۔  
 باہمی فیاضی (۲) چشم پوشی (۳) اس طرح بیان کرنا کہ مطلب صاف ظاہر نہ ہو (۴) ذومعنی بات کہنا (۵) سہو غلطی۔ جمع: تسخات۔  
**تاوی** - (ت۔ ساوی) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) برابری۔ مساوات۔ ہمسری۔  
 (۲) مشابہت۔ مطابقت۔ یکسانیت۔  
**تاہل** - (ت۔ ساہل) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) سستی۔ غفلت۔ آنکسی (۲) سہل انگاری۔ آسان سمجھنا۔ جمع: تاہلات۔  
**تبع** - (تس۔ بیج) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) ستوداروں کی مالہ۔ سُبیم (۲) اللہ اللہ کہنا۔ خدا کو یاد کرنا۔ سبحان اللہ کا ذکر کرنا (۳) ورد۔ وظیفہ۔ جمع: تبعیات۔  
**تبع پڑھتے رہنا** - (۱) محاورہ) ہر وقت کسی کی یاد میں رہنا۔ ہر وقت خدا کو یاد کرنا۔  
**تبع پڑھنا** (پڑھنا) پھیرنا - (۱) محاورہ) وظیفہ کرنا۔ ملا جینا۔  
**تبع پڑھنی جانا** - (۱) محاورہ) بار بار کسی کا نام لیا جانا۔  
**تبع پھروں کسی کو گھیروں** - (مٹ) سخت ریا کاری یا مکانہ کے متعلق کہتے ہیں۔  
**تبع خوان** - (دع۔ ف۔ صغ) تبع پھرنے والا۔  
**تبع خوانی** - (دع۔ ف۔ مٹ) وظیفہ پڑھنا۔  
**تبع سلیمانی** - (دع۔ ف۔ مٹ) سنگ سلیمانی کے دائروں کی تبع جن کی سیاہی کے درمیان سفید کبیر ہوتی ہے۔  
**تبع فاطمہ** - (دع۔ ۱۔ مٹ) وہ وظیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لئے تعلیم فرمایا۔  
 تھا۔ ۱۱ میں سبحان اللہ ۳ بار۔ الحمد للہ ۳ بار۔ اللہ اکبر ۳۴ مرتبہ ہے۔  
**تبع** - (دع۔ مٹ) سات حصوں میں تقسیم کرنا۔ محض پہلو شکل بنانا۔  
**تبعیر** - (تس۔ بیر) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) فرابن دار بنانا۔ تابع کرنا (۲) گھیرنا۔ محاورہ کرنا (۳) قابو میں لانا۔ جن یا پڑی کو قید کرنا (۴) کسی کا دل اپنی طرف مائل کرنا (۵) روحانیت کا ایک عمل۔ محاضرات کا علم۔ جمع: تبعیرات۔  
**تبعیر قلب** - (ف۔ صغ) دل کو اپنی طرف مائل کرنا۔  
**تبدیس** - (تس۔ دیس) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) چھ بنانا چھ میں تقسیم کرنا (۲) پیش پہلو شکل بنانا (۳) دوستی اردوں کا مظہر۔ جب ان کا فاصلہ ۶۰ درجے کا ہو۔  
**تبطیر** - (تس۔ بطیر) (دع۔ ۱۔ مٹ) سطر بندی کرنا۔ قلمبندی کرنا۔ لکھنا۔  
**تسکین** - (تس۔ سکین) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) آرام دینا (۲) تسلی۔ دلاسا۔ اطمینان (۳) اناج۔ آرام (۴) اصطلاح قواعد میں حروف کو ساکن کرنا۔  
**تسکین بخش** - (دع۔ ف۔ صغ) تسلی دینے والا۔ اطمینان دینے والا۔  
**تسکین دل** - (ف۔ ۱۔ صغ) دل کو تسلی دینا۔ دھارس۔  
**تسل** - (تس۔ لا) (دع۔ ۱۔ مذ) پرات۔ تانے یا پھیلنے کا طشت۔  
**تسل** - (ت۔ سل۔ سل) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) تسلسلہ۔ لڑی (۲) جاری ہونا۔

**تسلی** - (ت۔ سل۔ سل) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) حکومت۔ غلبہ۔ قابو۔ عمل (۲) تسلی (۳) قبضہ۔ دخل۔  
**تسلیم** - (تس۔ تسلیم) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سلام کرنا۔ (۲) سپرد کرنا۔ سونپنا (۳) قبول کرنا (۴) بندگی۔ آداب۔ کورنش۔ جمع: تسلیمات۔  
**تسلیم بجالانا** - (۱) محاورہ) سلام کرنا۔ آداب عرض کرنا۔  
**تسلیم عرض سے** - (۱) محاورہ) سلام کرنا ہوں۔  
**تسلیم کرنا** - (مٹ۔ سرتب) (۱) ماننا۔ قبول کرنا (۲) آداب بجالانا۔ بندگی کرنا (۳) بڑے کو سلام کرنا۔

**تسلیمات** - (تس۔ لی۔ مات) (دع۔ ۱۔ مٹ) تسلیم کی جمع مکرار دو میں مفرد استعمال ہوتا ہے۔ آداب۔ بندگی۔ کورنش۔ سلام۔  
**تسلیم ورضا** - (دع۔ ۱۔ مٹ) اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا۔ اس کی رضا پر راضی رہنا۔  
**تسمہ** - (تس۔ مہ۔ ف) (۱) مٹ) (۱) چمڑے کا پتلا۔ کم چوڑا اور لمبا ٹھٹھا (۲) جوتے کا پلوٹ کا چمڑے کا ٹکڑا۔  
**تسمیر جمانا** - (۱) محاورہ) تسمے سے مارنا۔ (۲) پی لگانا۔ حسد لگانا۔  
**تسمیر کش** - ٹھک۔ وہ شخص جو لوگوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے۔  
**تسمیر کھینچنا** - (۱) محاورہ) تسمے سے گلا گھونٹ کر مارنا۔ پھانسی دینا۔  
**تسمیر لگانا نہ رکھنا** - (۱) محاورہ) (۱) صاف گردن اڑا دینا (۲) ذرا کسر نہ رکھنا۔  
**تسمیر لنگوٹا باندھنا** - (۱) محاورہ) (۱) فیتر یا قلند بن جانا (۲) جوگی کا پھیلا ہونا۔ تسمے کے واسطے بھینس مارنا۔ (۱) محاورہ) تھوڑی بات کے واسطے بہت نقصان کرنا۔

**تسمیر** - (تس۔ میر) (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) نام رکھنا (۲) بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔  
**تسمیہ خوانی** - (دع۔ ۱۔ مٹ) بچے کو بسم اللہ کرانے کی تقریب۔  
**تسین** - (ت۔ سن۔ سن) (دع۔ ۱۔ مذ) تسنی ہونا۔ تسنت کی پیروی کرنا۔  
**تسیم** - (تس۔ نیم) (دع۔ ۱۔ مذ) بہشت کی ایک نہر کا نام۔  
**تسو** - (تس۔ سو) (دع۔ ۱۔ مذ) ڈیڑھا سچ۔ کرنا جو بیسواں حصہ۔  
**تسوالتی** - (تس۔ وال۔ سی) (دع۔ ۱۔ مٹ) بیوانسی کا بیسواں حصہ پکوانسی۔  
**تسوید** - (تس۔ وید) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) لکھنا۔ تحریر کرنا (۲) سیاہ کرنا سیاہی لگانا۔ (۳) مسودہ تحریر کرنا۔ خاکہ تیار کرنا۔ جمع: تسویدات۔  
**تسوید** - (تس۔ وید) (دع۔ ۱۔ مذ) برابر کرنا۔ سدھا کرنا۔ ٹھیک کرنا۔  
**تسویل** - (تس۔ ہویل) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سہل کرنا۔ آسان کرنا (۲) سہولت۔ آسانی۔ جمع: تسویلات۔

ت۔ ش۔

**تس** - (تس۔ س۔ ۱۔ مذ) (۱) اناج کا چھلکا (۲) خشک جھوس۔

تثابہ - ات - رشابہ (دع - ۱ - مذ) مطابقت - مشابہت - یکسانی -  
جمع: تثابہات -

تثابہ لگنا - (۱ - محاورہ) حافظ قرآن کا پڑھتے پڑھتے الفاظ یکساں ہونے کی صورت میں کچھ کچھ پڑھنا شروع کر دینا -  
تثاقل - (ت - ثا - قل) (دع - ۱ - مذ) باہمی مشابہت - ہم شکل ہونا -  
تثقیب - (ت - ثب - یب) (دع - ۱ - مذ) مانند ہونا - مثل ہونا - جمع: تثقیبات -  
تثقیب - (تث - یب) (دع - ۱ - مذ) (۱) آگ روشن کرنا (۲) جڑائی کے زمانے کا ذکر کرنا - عاشقانہ مضامین بیان کرنا (۳) شعرا کی اصطلاح میں قصیدے کی ابتدا میں عاشقانہ مضامین نظم کرنا -  
تثقیبہ - (تث - یب) (دع - ۱ - مذ) مشابہت دینا - تمثیل - ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند بھرانا - جمع: تثقیبات -  
تثت - (تث - ۱ - مذ) (۱) تسلا - پرات - برتن - بڑا لگن (۲) پاخانے کا برتن - باط -

تثت ازبام ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) مشہور ہونا - مشہر ہو جانا (۲) بدنام ہونا - رسوا ہونا (۳) ظاہر ہونا - کھل جانا - بھاڑ پھوٹنا -  
تثت چوکی - (تث - ۱ - مذ) دہ چوکی اور وہ طشت جو امیروں کے زرخچے میں یا پائخانے میں رکھا جاتا ہے -

تثت (زر) زریں - (تث - ۱ - مذ) دکھنا - آفتاب - سورج -  
تثت - (تث - ۱ - مذ) (۱) پراگندگی - پرنیشانی - بے اطمینانی - اضطراب - گھبراہٹ -  
تثیری - (تث - ی - ۱ - مذ) چھوٹی رکابی -  
تثیص - (تث - یص) (دع - ۱ - مذ) امتیاز - ممتاز ہونا - جمع: تثیصات -  
تثیص - (تث - یص) (دع - ۱ - مذ) (۱) جانتا - پہچانتا (۲) بھرانا - معین کرنا - مقرر کرنا (۳) مرض کا پہچاننا (۴) پہچان - شناخت -  
تثیص (۵) جانچ - تجسس - جمع: تثیصات -  
تثیص جمع بندی - (تث - یص) (دع - ۱ - مذ) مال گزاری کی رقم کا معین کرنا -  
تثیص ختام - (تث - یص) (دع - ۱ - مذ) کچا اندازہ -  
تثید - (تث - ید) (دع - ۱ - مذ) سختی - زیادتی - جبر -  
تثید - (تث - ید) (دع - ۱ - مذ) (۱) ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لگنا اور دو پڑسنا - جیسے تکلف کلام (۲) حرف مشدد کی علامت (۳)  
تثیص - (تث - یص) (دع - ۱ - مذ) شرع کی پابندی - شرع کے مطابق کام کرنا -  
تثیص - (تث - یص) (دع - ۱ - مذ) (۱) بخوبی بیان کرنا - شرح کرنا (۲) تفصیل - تفسیر - وضاحت (۳) بدن کے اعضاء کا علم - جسم کی بناوٹ کا بیان - جمع: تثیصات -  
تثیص الابدان - (تث - یص) (دع - ۱ - مذ) (۱) انسانیت کی معنی اور طبابت کی معنی دہلی تعلیم کی جگہ -  
تثیص - (تث - یص) (دع - ۱ - مذ) (۱) عزت کرنا - بزرگ بنانا (۲) بزرگی - شرف - عزت (۳) خلعت - جمع: تثیصات -

تشریف آوری - (ت - ش - ۱ - مذ) (۱) آنا - آمد -  
تشریف ارزانی فرمانا - (۱ - محاورہ) کسی امیر اور بزرگ کا آنا - قدم رچھنا -

تشریف رکھنا - (۱ - محاورہ) (۱) بیٹھنا (۲) ٹھہرنا - قیام کرنا -  
تشریف لے جانا - (۱ - محاورہ) رخصت ہونا - سدھارنا - جانا -  
تشریفات - (تث - ی - ۱ - مذ) (۱) شرف - عظمت -  
عزیزتیں - شرف - عظمت -

تشریق - (تث - یق) (دع - ۱ - مذ) (۱) عید قربان کے تین دن (ایام کے ساتھ) (۲) مشرق کی طرف جانا - مشرق کی طرف منہ کرنا - عید کی نماز پڑھنا -  
تشریک - (تث - یق) (دع - ۱ - مذ) (۱) شریک بنانا - साथی بنانا -  
تشریک - (تث - یق) (دع - ۱ - مذ) (۱) شریک بنانا - ساتھ داری -  
تثیط - (تث - یط) (دع - ۱ - مذ) حد سے بڑھ جانا - حد سے گزر جانا -  
تثنی - (تث - ی - ۱ - مذ) (۱) تسلی - تسکین - دلچسپی - دھارس - اطمینان - لغوی معنی شفا چاہنا -  
تثک - (تث - یث) (دع - ۱ - مذ) (۱) شہ کرنا (۲) شک - شبہ -  
تثکل - (تث - یث) (دع - ۱ - مذ) (۱) خوبصورت ہونا (۲) شکل پکڑنا - (۳) ترتیب اجزا و ہیئت - وضع (۴) علم ہیئت میں ستاروں کی مخصوص وضع و ترتیب - اجرام فلکی -  
تثیک - (تث - یث) (دع - ۱ - مذ) (۱) شک میں ڈالنا (۲) شک - شبہ - جمع: تثکیکات -  
تثکیل - (تث - یث) (دع - ۱ - مذ) (۱) شکل بنانا (۲) ساخت - ترکیب - بناوٹ - خاکہ بنانا - جمع: تثکیکات -  
تثیا - (تث - ی - ۱ - مذ) (۱) تفتیح کا بیگاڑا ہوا - طعنہ -  
تثیح - (تث - یح) (دع - ۱ - مذ) ایٹھن - جگر بھانا - معصلات جسمانی کا کھینچنے لگانا -  
تثیگی - (تث - ی - ۱ - مذ) (۱) پیاس (۲) شدت آرزو -  
تثیگی - (تث - ی - ۱ - مذ) (۱) پیاسا - (۲) خواہش مند - جمع: تثیگان -  
تثیہ (جگر) دل - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) (۱) آرزو مند -  
تثیہ (خون) - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) (۱) خون کا پیاسا -  
تثیہ دیدار - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) دیکھنے کا خواہش مند -  
تثیہ کام - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) پیاسا -  
تثیہ کام محبت - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) محبت کا پیاسا - عاشق -  
تثیہ کامی - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) ناکامی -  
تثیہ کرنا - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) پیاسا کرنا - خواہش مند کرنا (۲) کسی ہمت میں قوت کا ذریعہ پیدا کرنا -  
تثیہ لب - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) (۱) ہنایت پیاسا (۲) ناکام -  
تثیہ لبی - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) پیاسا -  
تثیہ محبت - محبت کا پیاسا - عاشق -  
تثیہ ہونا - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) (۱) پیاسا ہونا -  
تثیہ - (تث - یہ) (دع - ۱ - مذ) (۱) طعنہ - ملامت - بڑا بھلا گناہ - لعن طعن -

**تصدیق** - (تص - دیق) (رع - اذمت) (۱) صداقت - سچ ہونے کی تائید (۲) ثبوت - اثبات (۳) منطقی کے چند تصورات کے ساتھ حکم کا نام جیسے حامد فیاض ہے۔ جمع : تصدیقات۔  
**تصدیق بلا تصور** - (رع - ا - مت) پہلے ہی دل میں خیال بٹھا لینا۔  
**تصویر پیش از وقوع**۔

**تصدیق نامہ** - (ف - ا - مذ) سند ساری ٹیکٹ۔

**تصدیق** - (تص - مد - وی) (رع - ا - مت) درپیش ہونا۔ سامنے آنا۔  
**تصرف** - (ت - ص - رف) (رع - ا - مذ) (۱) دخل دینا (۲) قبضہ تحت اختیار۔ (۳) صرف خرچ (۴) کچھ کا کچھ کر دینا۔ اپنی طرف سے کچھ شامل کرنا یا بنا دینا (۵) فرق - عادت - کرامت (۶) استعمال - عمل (۷) غیر زبان کے لفظ میں کمی بیشی کر کے استعمال کرنا (۸) طاقت - اثر و رسوخ (۹) غبن خیانہ - جمع : تصرفات۔

**تصرف بجا** - (۱) ناجائز قبضہ (۲) غبن - تغلب (۳) خورد خورد۔

**تصرف مختار** - ناجائز قبضہ جو مجرم ہو کسی کی چیز بلا اجازت لے لینا۔  
**تصرف میں لانا** - (۱) قبضے میں لانا۔ خرچ کرنا۔ صرف کرنا (۲) غبن کرنا (۳) استعمال کرنا۔ مصرف میں لانا۔

**تصرف میں ہونا** - (۱) محاورہ (۲) استعمال میں ہونا۔

**تصرف** - (تص - رف) (رع - ا - مت) (۱) واضح کرنا۔ صاف طور پر بیان کرنا (۲) تشریح - شرح - تفصیل - توضیح - جمع : تصرفات۔

**تصرف** - (تص - رف) (رع - ا - مت) (۱) مصدر کی گردان (۲) پھیرنا۔ بدلا۔ جمع : تصرفات۔

**تصعد** - (تص - عید) (رع - ا - مت) (۱) بلند ہونا۔ اونچی جگہ پر چڑھنا (۲) کسی دو کو آگ دے کر سرپوش پر چڑھ کرنا۔

**تصغیر** - (تص - غیر) (رع - ا - مت) (۱) چھوٹا کرنا (۲) تخفیف - قلیل

**تصغیر** - (تص - ون - ی) (رع - ا - مذ) (۱) صاف کرنا۔ واضح کرنا (۲) صفائی۔  
**تصغیر** - (تص - غ - ی) (رع - ا - مذ) (۱) بے باقی (۲) فیصلہ۔

**تصغیر حساب** - حساب کی صفائی۔

**تصغیر طلب امور** - وہ امور جن کا فیصلہ بھی کرنا ہو۔

**تصغیر نامہ** - (ف - ا - مذ) فیصلے کی تحریر۔

**تصلیب** - (تص - لب) (رع - ا - مت) (۱) صلیب پر چڑھانا۔ سولی دینا (۲) صلیب کا نشان بنانا۔

**تصمیم** - (تص - میم) (رع - ا - مت) (۱) خالص کرنا۔ مضبوط کرنا (۲) مضبوطی۔  
**تصنیع** - (تص - یع) (رع - ا - مذ) (۱) بناوٹ - ساخت (۲) دکھلاوا۔ تکلف (۳) مکر - فریب (۴) تبدیل و تلبیس۔

**تصنیف** - (تص - یف) (رع - ا - مت) (۱) کتاب لکھنا۔ مضمون بنانا۔

طبیعت سے کوئی بات نکلانا (۲) ایجاد - بنا یا ہوا۔

**تصنیف را مصنف** - نیکو کند بیان - مصنف ہی اپنی کتاب کو اپنی

طرح ادا کر سکتا ہے۔

**تصور** - (ت - صو - و) (رع - ا - مذ) (۱) دل میں تصویر بنانا (۲) دھیان مراقبہ۔

جمع : تشنعات۔

**تشویش** - (تش - ویش) (رع - ا - مت) (۱) پریشانی - گھبراہٹ - بیقراری  
بے چینی (۲) سوچ - فکر - تردد۔ جمع : تشویشات۔

**تشویش میں پڑنا** - (۱) محاورہ فکر میں ہونا۔ سوچ میں پڑنا۔  
**تشوین** - (تش - وین) (رع - ا - مت) (۱) شوق دلانا۔ اگسانا۔ اُبھارنا۔ (۲) شوق - رغبت۔

**تشویہ** - (تش - ویہ) (رع - ا - مذ) (۱) بھونا (۲) طب میں دوا کو گرم جو بھلے تیز میں بھلنا۔

**تشہد** - (ت - ش - ہ) (رع - ا - مذ) کلمہ شہادت پڑھنا۔ جمع : تشہدات۔  
**تشہیر** - (تش - ہیر) (رع - ا - مت) (۱) مشہور کرنا۔ شہرت دینا۔ ڈھنڈورا تینو پیتنا (۲) بدنام کرنا۔ رسوا کرنا۔ جمع : تشہیرات۔

**تشیع** - (ت - شی - ی) (رع - ا - مذ) (۱) اپنے آپ کو بوڑھا ظاہر کرنا۔  
بزرگی بتانا (۲) عزت یا وقار کا اظہار کرنا۔

**تشیع** - (ت - شی - ی) (رع - ا - مذ) شیعہ ہونا۔

## ت - ص

**تصادم** - (ت - صا - دم) (رع - ا - مذ) باہم ٹکرانا۔ ٹکرا ہونا۔ دھکا لگنا۔  
(۲) صدمہ دینا۔ جمع : تصادمات۔

**تصادم** - (ت - صا - دم) (رع - ا - مذ) (۱) چڑھنا۔ اوپر جانا (۲) مشکل ہونا۔  
**تصانف** - (ت - صا - یف) (رع - ا - مت) تصنیف کی جمع - تصنیفات

تصنیف کی ہوئی کتابیں۔

**تصاویر** - (ت - صا - ویر) (رع - ا - مت) تصویر کی جمع - تصویریں۔

**تصحیح** - (تص - حیح) (رع - ا - مت) (۱) صحیح کرنا۔ درست کرنا (۲) صحت - درستی - جمع : تصحیحات۔

**تصویف** - (تص - حیف) (رع - ا - مت) (۱) کھینے میں عدا غلطی کرنا۔  
تحریر کی غلطی (۲) الفاظ کے اعراب اس طرح بدل دینا کہ ان کا تلفظ

مختلف ہو جائے۔

**تصدق** - (ت - صد - وق) (رع - ا - مذ) (۱) صدقہ دینا۔ کوئی چیز وار کر  
خیرات کرنا (۲) قربانی - صدقہ - خیرات (۳) صدقے - شمار (۴) بذلت  
ظہنی - وجہ سے۔ جمع : تصدقات۔

**تصدق اتارنا** - (۱) محاورہ صدقہ اتارنا۔ پھانسی پھانسی کرنا۔

**تصدق جانا** - (۱) محاورہ شمار ہونا۔ پھینکے جانا۔

**تصدق کا تیل** - تصدق کے ماس - (۱) مذ - یہ دو چیزیں عموماً  
صدقہ دی جاتی ہیں۔

**تصدق کرنا** - (۱) محاورہ صدقہ کرنا۔ کوئی چیز وارنا۔ خیرات دینا۔

**تصدق ہونا** - (۱) محاورہ شمار ہونا۔ قربان ہونا۔

**تصدیح** - (تص - یح) (رع - ا - مت) (۱) دردمس (۲) ڈکھ - تکلیف۔

**تصدیع** - (تص - یع) (رع - ا - مذ) تکلیف - ڈکھ - زحمت۔  
**تصدیع اٹھانا** - (۱) محاورہ تکلیف اٹھانا۔ دردمس ہونا لینا۔

**تَضْحِیک** - (تضج، تضحیک) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) ہنسی اُٹانا (۲) ہنسی۔ ٹھٹھا۔  
 (۳) ذلت۔ رسوائی۔ جمع: تضحیکات۔  
**تَضَرُّع** - (تضج۔ تضرع) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) رونا۔ گرا گرانہ (۲) منت سماجت  
 جمع: تضرعات۔  
**تَضَعِیف** - (تضعیف) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) دو گنا کرنا (۲) افزوں کرنا۔  
 زیادہ کرنا۔  
**تَضْمِین** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) گراہی سے منسوب کرنا۔ گراہ قرار دینا۔  
**تَضْمِن** - (تضمین) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) ملانا۔ شامل کرنا (۲) ضامن لینا۔  
 ضمانت دینا (۳) اصطلاح شاعری میں دوسرے کے شعر پر تصریح  
 یا بند لگانا۔ جمع: تضمینات۔  
**تَضِیع** - (تضیع) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) ضائع کرنا۔ گنوانا۔  
**تَضِیع اَوْقَات** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) وقت گنوانا۔ عمر رائیگاں گزرنانا۔

## ت - ط

**تَطَابِق** - (تطابق) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) مطابقت۔ مشابہت۔ یکسانی۔  
 مناسبت۔ موافقت۔ میل۔ لگاؤ۔  
**تَطَاوُل** - (تطاؤل) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) دست درازی (۲) علم جو  
 ستم۔ جفا (۳) گھنڈ۔ عذوب۔ نخوت۔  
**تَطْبِیق** - (تطبیق) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) مطابق کرنا۔ مقابل کرنا۔ برابر کرنا۔  
 (۲) میل۔ مطابقت۔ موافقت۔  
**تَطْوِیع** - (تطویع) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) فرض سے زیادہ کام کرنا۔  
 ایسے حکم کی تعمیل کرنا جس کا کرنا فرض نہ ہو۔ مستحب تو اُفلا کا ادا کرنا۔  
**تَطْوِیل** - (تطویل) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) دراز کرنا۔ لمبا کرنا (۲) دیر لگانا۔  
 (۳) لمبائی۔ وسعت (۴) دیر۔ التواء۔  
**تَطْهِیر** - (تطہیر) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) پاک کرنا (۲) نقیضہ۔ تزکیہ (۳) پاکی۔  
 ہمارت۔ جمع: تطہیرات۔

## ت - ظ

**تَطْهِیر** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) ہم پستی کرنا۔ آپس میں مدد کرنا۔  
**تَقْلَم** - (تقللم) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) علم و ستم کی فریاد کرنا (۲) فریاد (۳)  
 اُعلم۔ جور۔ جفا۔

## ت - ع

**تَعَارُض** - (تعارض) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔  
 آپس میں جھگڑنا (۲) برابری کرنا۔ جمع: تعارضات۔  
**تَعَارُف** - (تعارف) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) ایک دوسرے کو پہچاننا۔  
 (۲) شناسائی۔ واقفیت۔ جہان پہچان۔ جمع: تعارفات۔

خیال۔ منصوبہ۔ سوچہ (۲) منطوق کی اصطلاح میں کسی چیز کی صورت کا حکم  
 کے بغیر عقل میں آنا۔ جمع: تصورات۔  
**تَصَوُّر** سے لڑ جانا۔ خیال کرنے سے ڈر جانا یا کانپ جانا۔  
**تَصَوُّف** - (تصوف) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) صوفیوں کا عقیدہ (۲) علم  
 معرفت (۳) دل سے خواہشوں کو دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانا۔  
 (۴) تزکیہ نفس کا طریقہ (۵) پشیمند پہننا  
**تَصَوِّب** - (تصوب) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) ٹھیک رکھنا۔ سچا کہنا۔  
 (۲) منظوری۔ تصدیق۔  
**تَصَوِّبِ نَامہ** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) فیصلہ منظوری۔  
**تَصَوُّر** - (تصویر) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) صورت بنانا۔ صورت گری (۲) صورت  
 روپ۔ نقشہ۔ بٹ۔ شبیہ۔ نقش۔ فوٹو (۳) (صفت) نہایت خوبصورت  
 حسین۔ جمع: تصاویر۔  
**تَصَوُّرِ آنکھوں کے تلے میں پھیرنا** - (۱) محاورہ) ہر وقت کسی کا  
 خیال، تصور یا دھیان رہنا۔

**تَصَوُّرِ دین جانا** - (۱) محاورہ) ہوت بنانا۔  
 حرکت ہو جانا۔ حیران ہو جانا۔ حیرت سے چپ ہو جانا۔  
**تَصَوُّرِ دینا** - (۱) محاورہ) حیرت میں ڈال دینا۔ چپ کر دینا۔  
**تَصَوُّرِ خیالی** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) کسی کی شکل، جو خیال میں دکھائی دے۔  
**تَصَوُّرِ سکتی** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) فوٹو۔ فوٹو گراف۔ کیمرے سے لی ہوئی تصویر۔  
**تَصَوُّرِ (قالبی) (قالبین)** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) قالبین کے نقش و نگار (۲)  
 مجازاً خاموش۔

**تَصَوُّرِ کا ابرو** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) تصویر کا سایہ تصویر میں سائے کو ظاہر کرنا۔  
**تَصَوُّرِ کا دوسرا رُوح** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) تصویر کی دوسری طرف (۲) کسی چیز  
 یا بابت کا دوسرا پہلو۔  
**تَصَوُّرِ کھودنا** - (ص۔ س۔ ک۔ ب) پھیر یا دھات پر تصویر کندہ کرنا۔  
**تَصَوُّرِ کھینچ دینا** - (۱) محاورہ) واقعات بنا دینا۔ اس طرح بیان کرنا کہ  
 واقعات کا نقشہ سامنے آجائے۔

**تَصَوُّرِ کھینچنا** - (۱) محاورہ) صورت بنانا۔ نقشہ بنانا۔ فوٹو لینا۔  
**تَصَوُّرِ کی مخالفت** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) نہایت خوبصورت۔ بے حد حسین۔  
**تَصَوُّرِ کی مٹی** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) مٹی کی صورتی۔ مٹی کا مٹ۔  
**تَصَوُّرِ لیکنا** - (۱) محاورہ) تصویر نصب کرنا۔ دیوار پر تصویر لگانا۔  
**تَصَوُّرِ نیم رخ** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) ایک طرف سے لی ہوئی تصویر۔  
 وہ تصویر جس میں چہرے کا ایک رخ آئے۔  
**تَصَوُّرِ (ہو جانا) ہو کر رہ جانا** - (۱) محاورہ) حیران ہو جانا۔ چپ ہو جانا۔

## ت - ض

**تَضَاد** - (تضاد) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) ضد۔ مخالفت (۲) نظم یا شعر کی ایک  
 صنعت جس میں مخالف الفاظ جمع کئے جاتے ہیں۔ جمع: تضادات۔  
**تَضَاعُف** - (تضعف) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) (مض) (۱) دو گنا ہونا۔ دو چندان۔









**تفرقہ (اندازی)** - پروازی - رع - ف - ۱ - سنٹ بھوٹ یا بھوٹا ڈالنے کا فعل  
**تفرقہ ڈالنا** - (۱) محاورہ، مخالفت کرنا، بھوٹ ڈالنا - (۲) ن کرنا، فساد کرنا -  
**تفریح** - (تف - ریح) رع - ۱ - (۱) مشغول کرنا (۲) دل لگی خوش طبعی -

(۳) ہوا خوری - سیر دل بہلانا (۴) تازگی - فرحت -  
**تفریح طبع** - رع - ۱ - (۱) صفت دل بہلاوا - خوشی - دل لگی - ہنسی -  
**تفریحی** - (تف - ری - جن) رع - ۱ - (۱) از روئے تفریح - ہنسی سے - مذاق - دل لگی سے -  
**تفریحی** - (تف - ری - جن) رع - ۱ - (۱) اکیلا رہ جانا - تنہا رہنا (۲) کسی  
 بات میں فرد ہونا -

**تفریس** - (تف - ریس) رع - ۱ - (۱) بھاڑنا (۲) غیر زبان کے لفظ کو  
 فارسی بنانا -

**تفریط** - (تف - ریط) رع - ۱ - (۱) کمی کرنا - غفلت کرنا - کوتاہی -  
 (۲) کسی کام میں کمی کرنا -

**تفریق** - (تف - رقیق) رع - ۱ - (۱) جدا کرنا - فرق ڈالنا (۲) جدائی -  
 (۳) علیحدگی (۴) کسی بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو کھٹکانا (۵) تیز -  
 اٹھانا (۶) قانون، بیانی - بانٹ - جمع : تفریق -

**تفریق نامہ** - رع - ۱ - (۱) دستاویز جس میں ہر فریق کے حصے درج ہوں -  
 (۲) اقرار نامہ - جہاں حصوں کا فیصلہ کر دے جن کا مختلف اشخاص  
 نے دعویٰ کیا ہے -

**تفسدہ** - (تف - ہی - دہ) ف - ۱ - (۱) صفت گرم - جلا ہوا -  
**تفسیر** - (تف - سیر) رع - ۱ - (۱) تشریح - تفصیل - توضیح - وضاحت -  
 تفسیر شرح کرنا - سمجھانا (۲) اصطلاحاً قرآن شریف کی شرح - جمع : تفسیر

**تفسیر دال** - رع - ۱ - (۱) علم تفسیر کا جاننے والا -  
**تفسیر کرنا** - (۱) اصل مرکب، واضح طور پر بیان کرنا - کھول کر بیان کرنا -  
**تفصیل** - (تف - فیصل) رع - ۱ - (۱) جدا جدا کرنا - بیان کرنا (۲) تشریح -  
 توضیح (۳) فہرست - فرد (۴) کیفیت - بیان - تذکرہ -

**تفصیل دار** - رع - ۱ - (۱) مفصل طریقے سے -  
**تفصیلاً** - (تف - می - لن) رع - ۱ - (۱) مفصل طور پر - وضاحت سے -  
**تفصیلی** - (تف - می - لی) رع - ۱ - (۱) مفصل - تشریح -  
**تفضل** - (تف - فضل) رع - ۱ - (۱) زیادتی - مہبتی (۲) برتری -

**تفضیلت** (۳) ہر بانی - عنایت - کھف - گرم - کوئی مفاد پہنچانا -  
**تفضیح** - (تف - فیح) رع - ۱ - (۱) رسوائی - بدنامی - فضیلت سے عزتی -  
**تفضیل** - (تف - فیصل) رع - ۱ - (۱) ترجیح دینا - فوقیت دینا - فضیلت لینا  
**تفضیل بعض** - رع - ۱ - (۱) بعض پر ترجیح دینا - صفت کی وہ  
 قسم جس میں موصوف کو بعض پر فضیلت دی جائے جیسے خوش تر زیادہ تر

**تفضیل کل** - رع - ۱ - (۱) سب پر فوقیت دینا - صفت کی وہ قسم  
 جس میں موصوف کو سب پر ترجیح دی جائے جیسے بہترین - سب اچھا -  
**تفضیل نسبی** - رع - ۱ - (۱) ذاتی فضیلت - صفت کی وہ قسم جس  
 پر دوسرے موصوف کی صرف صفت بیان کی جائے کسی پر ترجیح دینا - جیسے اچھا

**تفقہ** - (تف - فیق) رع - ۱ - (۱) ہر بانی - دلجوئی (۲) تلاش - جستجو -  
**تفہم** - (تف - فہم) رع - ۱ - (۱) علم فقہ جانشا (۲) علمند ہونا -

**تغیرات** - (ت - عی - ی - رات) رع - ۱ - (۱) مذم تغیر کی جمع - تبدیلیاں -  
**تغیرات ہر سالہ** - ایک کتاب جو تحصیلدار کے پاس رہتی ہے  
 اقد جس میں ہر سال کے تغیرات مثلاً فبروں کا داخل خارج وغیرہ  
 لکھے جاتے ہیں -  
**تغیر** - (تغ - سیر) رع - ۱ - (۱) حالت بدل دینا -

## ت - ف

**تغاب** - (ت - ف - غاب) رع - ۱ - (۱) بخارات - بھاپ - دھواں (۲) گرمی -  
**تغاب نہ کرنا** - رع - ۱ - (۱) محاورہ، پروا نہ کرنا - ادنیٰ توجہ بھی نہ کرنا -  
**تغاب سے تیری اوقات پر** - رع - ۱ - (۱) محاورہ، لغت ہے تیرے اطوار پر -

**تغاب** - رع - ۱ - (۱) ڈینگ مارنا - فخر جتانا - مزور کرنا -  
 ایسے آب کو بڑا سمجھنا (۲) مزور - فخر -  
**تغاب** - رع - ۱ - (۱) تفریق کی جمع - جدائیاں - تفرقے -  
 فرق (۲) وقفے (۳) قسطیں -

**تغاس** - رع - ۱ - (۱) تلاش - تحقیق -  
**تغاسیر** - رع - ۱ - (۱) تفسیر کی جمع - تفسیریں -  
**تغاصیل** - رع - ۱ - (۱) تفسیل کی جمع - تفصیلات -  
**تفاوت** - رع - ۱ - (۱) فاصلہ - دوری - فرق (۲) جدائی -  
**تفاوت ہونا** - رع - ۱ - (۱) جدا ہونا - علیحدہ ہونا (۲) فرق ہونا -

**تفاوت** - رع - ۱ - (۱) فال نکالنا - شگون لینا -  
**تفتہ** - رع - ۱ - (۱) بہت گرم (۲) جلا جھنڈا (۳) بے قرار -  
 مضطرب (۴) مردڑا ہوا - پیچیدہ (۵) عاشق -  
**تفتہ جہاں** - لفتہ جگہ - لفتہ دل - رع - ۱ - (۱) سوختہ جگہ - دل ہلا  
 (۲) اشتیاق سے جلا ہوا -

**تفتیدہ** - رع - ۱ - (۱) صفت بوجیز آفتاب یا آگ سے گرم  
 ہوتی ہے -  
**تفتیش** - رع - ۱ - (۱) چھان بین - کھوج - تحقیقات -  
 پوچھ پچھا - اردو میں عام طور پر پولیس کی دریافت کے متعلق استعمال  
 ہوتا ہے -

**تفتیش** - رع - ۱ - (۱) جستجو - تلاش - ٹوہ - ڈھونڈ -  
 جمع : تفتیشات -  
**تفریح** - رع - ۱ - (۱) کشائش - خوشحالی (۲) سیر تماشا  
 تفریح - دل لگی -

**تفرقہ** - رع - ۱ - (۱) دو چیزوں میں فرق آنا (۲) فرق -  
 اختلاف (۳) جدائی - فاصلہ - علیحدگی (۴) بھوٹ - نا اتفاقی -  
**تفرقہ اٹھ جانا** - رع - ۱ - (۱) محاورہ، کوئی فرق نہ رہنا -  
**تفرقہ (انداز) پرواز رع** - رع - ۱ - (۱) صفت بھوٹ یا جدائی ڈالنے والا  
 عموماً آسمان کی صفت میں آتا ہے -

**تقاظرت** - (ت - ق - ظ - ر - ت) - تقاظرت - تقاظرت (ع - ا - مذ) یونان نامدی - بے درلے قطرے گرنا۔  
**تقاطع** - (ت - ق - ا - ط - ق) - تقاطع (ع - ا - مذ) منقطع ہونا۔ دو خطوط کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔

**تقاوی** - (ت - ق - ا - و - ی) - تقاوی (ع - ا - مذ) ۱) قوت دینا (۲) وہ روپیہ جو سرکار کی طرف سے زراعت کے لیے بطور امداد کا دستکاروں کو دیا جاتا ہے۔

**تقاویم** - (ت - ق - ا - و - ی - م) - تقاویم (ع - ا - مذ) وقت تقویم کی جمع جہتیں۔

**تقییل** - (ت - ق - ی - ی - ل) - تقییل (ع - ا - مذ) چومنا - بوسہ دینا۔

**تقدیس** - (ت - ق - د - ی - س) - تقدیس (ع - ا - مذ) پاکیزگی - پاکی۔

**تقدیس باب** - (ت - ق - د - ی - س - ب) - تقدیس باب (ع - ا - مذ) پاکیزہ باب - بزرگ - رہبر گار آدمی کیلئے استعمال ہوتا۔

**تقدم** - (ت - ق - د - م) - تقدم (ع - ا - مذ) ۱) آگے بڑھنا - پیش قدمی (۲) پہلے ہونا۔

**تقدیم** - (ت - ق - د - ی - م) - تقدیم (ع - ا - مذ) ۱) کسی سے زمانے - سلسلے - اہمیت میں مقدم ہونا۔

**تقدیر** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر (ع - ا - مذ) ۱) اندازہ - مقدار - قسمت - مقسوم - وہ اندازہ جو حق تعالیٰ نے روزِ ازل ہر چیز کے لئے مقرر کر دیا ہے نصیب - نکت -

**تقدیر** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کے بھروسے پر کوئی کام کرنا - بخت آزمائی۔

**تقدیر الٹنا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر الٹنا - تقدیر پلٹنا - (ا - محاورہ) مقدر کا رگشتہ ہونا۔

**تقدیر برائے** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر برائے (ع - ا - مذ) ۱) کسی معاملے میں کوشش نہ کرنا - راضی نہ رہنا۔

**تقدیر بھرا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر بھرا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر چھوڑنا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر چھوڑنا - (ا - محاورہ) کسی معاملے میں کوشش نہ کرنا - راضی نہ رہنا۔

**تقدیر پھرنا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر پھرنا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر چھوٹ جانا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر چھوٹ جانا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر جانا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر جانا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر یاد ہونا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر یاد ہونا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر سوچنا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر سوچنا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر سے خوش قسمتی** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر سے خوش قسمتی (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر سے زور نہیں چلتا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر سے زور نہیں چلتا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر سے آدمی بڑی بات کو روک نہیں سکتا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر سے آدمی بڑی بات کو روک نہیں سکتا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر سیدھی ہونا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر سیدھی ہونا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا بندرا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا بندرا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا رگشتہ ہونا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا رگشتہ ہونا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا پل** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا پل (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا نکل جانا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا نکل جانا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا بٹک کھانا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا بٹک کھانا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا پھیرنا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا پھیرنا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا پکڑنا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا پکڑنا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا پھینکنا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا پھینکنا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر کا پھینکنا** - (ت - ق - د - ی - ر) - تقدیر کا پھینکنا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تفکر** - (ت - ف - ک - ر) - تفکر (ع - ا - مذ) سوچ بچار - فکر - اندیشہ - جمع تفکرات۔

**تفنگ** - (ت - ف - ن - گ) - تفنگ (ع - ا - مذ) پھیل کھانا - میوہ کھانا - ٹف - مزہ۔

**تفنگ** - (ت - ف - ن - گ) - تفنگ (ع - ا - مذ) ۱) ایک لمبی نالی جس میں سے پھونک کے ذریعے تیر یا کنگر پھینکتے ہیں (۲) جوانی بندوق۔

**تفنگ انداز** - (ت - ف - ن - گ) - تفنگ انداز (ع - ا - مذ) استعمال کا ماہر تیر انداز۔

**تفنگ کا سالہ** - (ت - ف - ن - گ) - تفنگ کا سالہ (ع - ا - مذ) وہ فاصلہ جہاں تک تیر کنگر یا پھیرا جاتا ہے۔

**تفنگ کا توپنا** - (ت - ف - ن - گ) - تفنگ کا توپنا (ع - ا - مذ) ۱) دار بندوق کا وہ پڑزہ جس میں

فیتر رکھ کر بارود کو آگ دیتے ہیں۔

**تفنگچی** - (ت - ف - ن - گ) - تفنگچی (ع - ا - مذ) بندوقچی - بندوق چلانے والا۔

**تفنن** - (ت - ف - ن - ن) - تفنن (ع - ا - مذ) ۱) طرح طرح کا ہونا - رنگ رنگ کا ہونا (۲) چہل - دل لگی - خوش طبعی - ہنسی مذاق۔

**تفنن طبع** - (ت - ف - ن - ن) - تفنن طبع (ع - ا - مذ) ہنسی - دل لگی - خوش طبعی - ہنسی مذاق۔

**تفوق** - (ت - ف - و - ق) - تفوق (ع - ا - مذ) برتری - فوقیت - فضیلت - بڑائی۔

**تفویض** - (ت - ف - و - ی - ض) - تفویض (ع - ا - مذ) سپردگی - حوالگی - تحویل۔

**تفویضات** - (ت - ف - و - ی - ض) - تفویضات (ع - ا - مذ) جمع تفویضات۔

**تفہم** - (ت - ف - ہ - م) - تفہم (ع - ا - مذ) ۱) خود سمجھنا (۲) سمجھ - عقل - فہم۔

**تفہمات** - (ت - ف - ہ - م) - تفہمات (ع - ا - مذ) جمع تفہمات۔

**تفہیم** - (ت - ف - ہ - م) - تفہیم (ع - ا - مذ) ۱) سمجھانا - جمع تفہیمات۔

## ت - ق

**تقابل** - (ت - ق - ا - ب - ل) - تقابل (ع - ا - مذ) مقابلہ - آمنے سامنے کھڑے ہونا۔

**تقارب** - (ت - ق - ا - ر - ب) - تقارب (ع - ا - مذ) ۱) باہم قریب ہونا - پاس پاس ہونا (۲) علم و عودن کی ایک بجز کا نام۔

**تقارب** - (ت - ق - ا - ر - ب) - تقارب (ع - ا - مذ) ۱) قریب کی جمع - موقعتے پر میں۔

**تقاریر** - (ت - ق - ا - ر - ی - ر) - تقاریر (ع - ا - مذ) ۱) تقریر کی جمع - تقریریں۔

**تقاضا** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضا (ع - ا - مذ) ۱) طلب - تاکید - تشدد - بلوغا دیا ہوا

قرض واپس مانگنے کے متعلق استعمال ہوتا ہے (۲) خواہش ضرورت

یا احتیاج (۳) قانون) دعوے کا مطالبہ۔

**تقاضا آ کرنا** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضا آ کرنا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقاضا اٹھانا** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضا اٹھانا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقاضا کرنا** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضا کرنا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقاضائے بشریت** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضائے بشریت (ع - ا - مذ) ۱) انسانی ضرورت یا احتیاج۔

**تقاضائے (سن) عمر** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضائے (سن) عمر (ع - ا - مذ) عمر کی ضرورت کے لحاظ سے۔

**تقاضائے وقت** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضائے وقت (ع - ا - مذ) وقت اور زمانے کے مناسب۔

**تقاضے کا حق بھی نہیں پایا جاتا** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضے کا حق بھی نہیں پایا جاتا (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقاضے کا حق بھی نہیں لینا چاہیے** - (ت - ق - ا - ض - ا) - تقاضے کا حق بھی نہیں لینا چاہیے (ع - ا - مذ) ۱) عمارت - قسمت کا نامور ہونا۔

**تقدیر** کا سوجانا - (۱۔ محاورہ) بدبختی آجانا۔ حالات کا موافق درہنا۔  
**تقدیر** کا کھوٹا - (۱۔ معنی) بد قسمت۔ بد نصیب۔  
**تقدیر** کا کھوٹا - کیوں نہ اٹھائے لوٹا - (مثل) بد نصیب ہمیشہ  
 نشان اٹھاتا ہے۔  
**تقدیر** کا کھیل - (۱۔ صفت) قسمت کے کرشمے۔ قسمت کی باتیں۔  
**تقدیر** کا لکھا - (۱۔ صفت) نوشتہ ازلی۔ کرم۔ لکھ۔  
**تقدیر** کا لکھا پورا ہونا - (۱۔ محاورہ) جو قسمت میں ہو رہا ہو جانا۔  
**تقدیر** کا لکھا توڑی تھا - (۱۔ محاورہ) اسی طرح ہونا تھا۔ قسمت میں اسی  
 طرح تھا۔  
**تقدیر** کا منہ پھیر لینا - (۱۔ محاورہ) تقدیر اٹھانا۔ بدبختی آجانا۔  
**تقدیر** کا موافق ہونا - (۱۔ محاورہ) اپنے دن ہونا۔ خوش اقبال ہونا۔  
**تقدیر** کا مٹنا - (۱۔ صفت) تقدیر کا کھوٹا۔ بد نصیب۔ بد بخت۔  
**تقدیر** کو فریاد کرنا - (۱۔ محاورہ) بد قسمی کا شکوہ کرنا۔  
**تقدیر** کو سونپنا - (۱۔ محاورہ) کام میں خدا سے بہتری کی امید رکھنا۔  
 قسمت بڑھچوڑنا۔  
**تقدیر** کھل جانا - (۱۔ محاورہ) (۱) تقدیر چمکانا۔ (۲) شادی ہو جانا۔  
**تقدیر** کھوئی ہونا - (۱۔ محاورہ) قسمت بُری ہونا۔ بد قسمت ہونا۔ بد نصیب ہونا۔  
**تقدیر** کی یاد دہی - نصیب کی امداد۔ خوش قسمتی۔  
**تقدیر** کے آگے تدبیر نہیں چلتی - (مثل) قسمت خراب ہو تو اس کا  
 کوئی علاج نہیں۔  
**تقدیر** کے نلکے کو کون مٹوے - (مثل) تقدیر بدل نہیں سکتی۔ جو قسمت  
 میں لکھا ہے ضرور ہو کر رہتا ہے۔  
**تقدیر** کے ہاتھ بات ہے - (۱۔ محاورہ) جو ہونا ہے وہ ہوگا۔  
 معاملہ خدا کے سپرد ہے۔  
**تقدیر** لڑنا - (۱۔ محاورہ) قسمت کا سازگار ہونا۔ تقدیر کا موافق آنا۔  
**تقدیر** موافق ہونا - (۱۔ محاورہ) بخت یا در ہونا۔  
**تقدیر** میں لکھا ہونا - (۱۔ محاورہ) قسمت میں ہونا۔  
**تقدیر** میں لکھنا - (۱۔ محاورہ) خدا کا مقدر کرنا۔  
**تقدیر** والا - (۱۔ صفت) خوش نصیب۔  
**تقدیر** یا در ہونا - (۱۔ محاورہ) قسمت مددگار ہونا۔  
**تقدیر** توڑی تھی - (۱۔ محاورہ) قسمت میں اسی طرح لکھا تھا۔ نقصان  
 کے سونچ پرستی کے لیے کہتے ہیں۔  
**تقدیری** - (تق۔ دی۔ ری۔ ع۔ ف۔ صفت) تقدیر کے متعلق۔ قسمت کا۔  
**تقدیری** (امر) معاملہ - ہونی۔ ہونے والی بات۔ وہ بات جس  
 میں تدبیر کو دخل نہ ہو اور ضرور پوری ہو کر رہے۔  
**تقدیس** - (تقدیر دس) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) پاکیزگی۔ پاک۔ تقدس۔  
**تقدیس** و تمہید - (ع۔ ا۔ صفت) خدا کی پالی میان کرنا۔ حمد کرنا۔  
**تقدیم** - (تق۔ دیم) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) پیش کرنا (۲) مقدم لکھنا (۳) ترجیح۔  
**تقدیم** (۲) پیش قدمی (۵) آگے چھینا (۶) افضلیت۔ مقدم ہونا۔  
**تقدیم** و تاخیر - (۱) پہلے کو پہلے اور پچھے کو پچھے کر دینا (۲) آگے چلے کرنا۔

**تقریب** - (ت۔ قر۔ ب) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نزدیکی ٹھونڈنا (۲) نزدیکی۔  
**تقریب** - جمع؛ تقریبات۔  
**تقرر** - (ت۔ قر۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) مقرر کرنا۔ تعین (۲) لازم ہونا (۳)  
 ملازمت۔ نوکری۔  
**تقریب** - (تق۔ ریب) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) قریب کرنا۔ نزدیک آنا (۲)  
 باعث۔ سبب۔ وجہ (۳) شادی۔ بیاہ یا اور کوئی رسم۔ جب رشتے دار  
 جمع ہوں (۴) مطلب۔ مقصد (۵) ملاقات کا ذریعہ نکالنا (۶) ذکر۔  
 تذکرہ (۷) موقع۔ محل (۸) قرابت۔ پیوند۔ رسائی (۹) قرینہ۔ قیاس۔ امتحان  
**تقریباً** - (تق۔ ری۔ بن) (ع) چھیننا۔ قریب قریب۔  
**تقریبات** - (تق۔ ری۔ بات) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) مشق۔ تقریب کی جمع۔ رسوم۔ اجتماع  
**تقریر** - (تق۔ ریر) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) بیان۔ ذکر۔ گفتگو۔ بات (۲) جہت  
 بحث۔ مباحثہ۔ محبت (۳) وعظ۔ تذکرہ۔ جمع؛ تقریر۔ تقریرات۔  
**تقدیر** کا شہد و شکر ہونا - (۱۔ صفت) نہایت شہر میں اور ضعیف گفتگو ہونا  
**تقدیر** کا لکھا بندھ جانا - (۱۔ محاورہ) نہایت شہر اور ضعیف اور گفتگو ہونا  
**تقدیر** کس چھیننا - (۱۔ محاورہ) (۱) باتیں ہونا (۲) جہت ہونا۔  
 بحث مباحثہ ہونا۔  
**تقریر** - (تق۔ ری۔ زن) (ع) زبانی۔ تقریری۔  
**تقریر** - (تق۔ ری۔ ری۔ ع۔ ف۔ صفت) تحریر کے خلاف۔ زبانی۔  
**تقریر** - (تق۔ ری۔ ع۔ ا۔ صفت) کتاب اور صنف کی تعریف۔  
**تقسیم** - (تق۔ سم) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) حصہ کرنا۔ بانٹنا (۲) بانٹ۔ بیٹوارا۔  
 حساب کا ایک قاعدہ۔ جس میں ایک عدد کو دوسرے پر تقسیم  
 کرتے ہیں۔  
**تقسیم** جھٹا جاری - (۱۔ صفت) ان حصے داروں میں زمین کی تقسیم جو  
 کل مال تقاضی کے ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں۔  
**تقسیم** مختصر چھوٹی تقسیم۔ لمبی تقسیم کے خلاف اعداد کی تقسیم کا ایک مختصر طریقہ۔  
**تقسیم** مرکب - وہ تقسیم جس میں مقسوم کوئی رقم یا نام ہو۔  
**تقسیم** امکن - (۱) پوری پوری تقسیم (۲) اعداد کی وہ تقسیم جس میں کچھ  
 باقی نہ رہے۔  
**تقسیم** نامہ - (ت۔ ا۔ مذ) وہ تحریر جس میں تقسیم جائداد کی تفصیل لکھی ہو۔  
**تقسف** - (ت۔ قش۔ شفت) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) درویشی۔ غریبی۔ موٹا چھوٹا۔  
 باس پہینا۔ سخت زندگی بسر کرنا۔  
**تقسیر** - (ع۔ ا۔ صفت) (۱) چھلکا اٹھانا۔ چھیننا۔ مقشر کرنا۔  
**تقسیر** - (تق۔ میر) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) گونا گویا۔ کمی (۲) خطا۔ قصور (۳) سہو۔  
 بھول۔ بھول۔ جمع؛ تقصیرات۔  
**تقصیر** وار - (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) قصور وار مجرم گنہگار۔ ملزم۔  
**تقطیر** - (تق۔ طیر) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) قطرہ قطرہ ٹپکانا (۲) ٹپکانا۔  
**تقطیع** - (تق۔ طیع) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) ٹکڑے ٹکڑے کرنا (۲) علم و عروج کی  
 اصطلاح میں شہر کے اجزاء کو کچھ کے اوزان پر وزن کرنا (۳) الف سب سے  
 تے کے وہ حصے جن میں حرفوں کو ایک دوسرے سے ملانا سکھاتے  
 ہیں (۴) کتاب کا سائز۔ جمع؛ تقطیعات۔





تیکمیل لہرن - (ف. ۱-۱) مٹ، رہن کی معاد کا پورا ہونا۔  
 تیکمیل کو پہنچانا - (۱-۱) معادہ مکمل کرنا۔ پورا کرنا۔ انجام کو پہنچانا  
 تگنا - (تگ. نا. زہ. مصل) (۱) دیکھنا (۲) منگنی باندھنا۔ غور سے دیکھنا (۳)  
 امید رکھنا۔ آس رکھنا (۴) انتظار کرنا (۵) بڑی نظر سے دیکھنا (۶) کوئی  
 چیز اڑانے یا پڑکنے کا موقع دیکھنا۔

تکنیک - (Technique) (دیکھئے تکنیک) (۱) فنون کا نظریہ۔  
 (۲) ہنر مندی (۳) فنی طریق اظہار۔  
 تگوا - (تگ. وا. زہ) (۱-۱) مذ. تگلا۔

تگوری - (ت. کو. بری) (رق. ۱-۱) مٹ] بے سرتوتی۔  
 تگونا - (ت. کو. نا) (زہ. صغ) تین کونے والا مثلث۔ تگھونٹا۔  
 تگھون - (تگ. وین) (دع. ۱-۱) مٹ] پیدا کرنا۔ عالم وجود میں آنا۔  
 تگھارنا - (ت. گھارنا) (دع. مصل) (۱) دلیل سے ثابت کرنا (۲) اچھی طرح  
 دریافت کرنا (۳) کسی فعل کو تین دفعہ کرنا (۴) تین مرتبہ بل جلانا۔  
 تگھری - (تگھری) (تگھری) (تگھری) (۱) تھوٹی ترانوہ۔  
 (۲) سرازو کے پلڑے۔

تگھنٹا - (تگھنٹا) (ت. گھنٹا) (ت. گھونٹا) (دع. صغ) تگھون۔ تین  
 کونے والے۔

تگلی لگانا - (تگ. کی. ل. گ. نا) (دع. مصل) گھونٹا۔ منگنی باندھنا۔  
 تگلیہ - (تگ. یہ) (ف. ۱-۱) (۱) آرام کی جگہ (۲) سر لانے رکھنے کی چیز (۳)  
 بھروسہ پورا اعتماد۔ (۴) فقیروں کے رہنے کی جگہ (۵) قبرستان۔  
 گورستان۔

تگلیہ پروردگار پر ہونا - (۱-۱) معادہ) خدا پر بھروسہ ہونا۔  
 تگلیہ دار - (ف. ۱-۱) مذ. وہ فقیر جو تگلیہ میں رہے۔ قبرستان کا سجاد نشین۔  
 تگلیہ دھوپ میں رکھنا - (۱-۱) معادہ) گردن کے درد کا علاج  
 سمجھا جاتا ہے۔

تگلیہ کرنا - (۱-۱) معادہ) (۱) بھروسہ کرنا۔ اعتماد کرنا (۲) امید رکھنا۔ آس رکھنا۔  
 تگلیہ کلام - (ف. ۱-۱) مذ. وہ لفظ جو گفتگو کے دوران میں عادت کے طور پر  
 بار بار بولا جائے۔

تگلیہ گاہ - (ف. ۱-۱) مٹ] بھروسے کی جگہ۔  
 تگلیہ لگا کر بیٹھنا - (۱-۱) معادہ) تگلیہ یا کسی اور چیز سے بیٹھ لگا کر بیٹھنا۔  
 تگلیہ لگانا - (۱) دیوار یا کسی چیز کے سہارے بیٹھنا (۲) بھروسہ کرنا۔  
 آس لگانا۔

تگلیہ نشین - (ف. صغ) تگلیہ دار۔  
 تگلیہ سے کمر نہ اٹھا سیکنا - (۱-۱) معادہ) بہت، ہمار ہونا۔ بہت کمزور ہونا۔  
 تگلیہ کا کتا - (۱-۱) مذ. وہ شخص جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑا رہے۔

(۲) تلاش جستجو۔  
 تگلیک و دو ملی رہنا - (۱-۱) معادہ) دوڑ دھوپ جاری رہنا۔  
 تگلا - (تگ. گ. رت) (۱-۱) مذ. دایہ کا شوہر۔ آنا کا خاندان۔ گھر۔  
 تگلاہم - (تگ. گ. زہ) (صغ) (۱) ٹیڑھا۔ خمیدہ۔ کبڑا۔  
 تگلاہو - (ت. گ. پو) (ف. ۱-۱) مٹ] تگ و دو۔ دھڑ دھوپ۔  
 تگلا نا - (ت. گ. نا) (دع. مصل) (۱) سلوانا۔ تگلا ڈھلوانا (۲) رضائی سلوانا۔  
 ٹنڈے ڈالنا۔

تگلاؤر - (ت. گ. ور) (ف. ۱-۱) مذ. (۱) تیز رو گھوڑا (۲) گھوڑے کی ٹکڑ۔  
 تگلائی - (ت. گ. ای) (زہ. ۱-۱) مٹ] (۱) رضائی کی سلائی (۲) سلائی کی قیمت۔  
 تگلائے ڈھلوانے کی اجرت۔

تگلیک - (تگ. پگ) (رق. صغ) پریشان۔ بے عین۔  
 تگلیہ - (تگ. لے) (رق. صغ) زرق برق۔  
 تگلا - (تگ. ڈم) (ت. گ. ڈم) (ت. گ. ڈم) (۱-۱) مٹ] تین چیزوں یا  
 چیزوں کا میل۔

تگلاک - (ت. گ. گ) (ف. ۱-۱) مذ. اولاد۔ ژالہ۔  
 تگلاڑا - (تگ. ڈا) (دع. صغ) موٹا تازہ۔ ہٹا آٹا۔ توانا مضبوط۔  
 تگلاڑی - (تگ. ڈی) (دع. ۱-۱) نش. تاگڑی کا مختلف۔ پٹکا۔ کمر بند۔ دھاگا یا  
 سونے چاندی کی زنجیر جو کمر میں باندھے ہیں۔

تگلا - (تگ. نا) (دع. مصل) (۱) سیبا جانا (۲) ڈور سے ڈالے جانا۔  
 تگلا - (تگ. نا) (دع. صغ) سر جینڈ۔ تین گنا۔

تگلی - (تگ. بی) (دع. صغ) (۱) تگلی کی تائینٹ۔ تین گنی۔ (۲) دہ. مٹ] ایک سڑ  
 تگلی کا ناچ بچانا - (۱-۱) معادہ) حیران و پریشان کرنا۔ تنگ کرنا۔ تائینٹ  
 تگلی - (تگ. بی) (دع. ۱-۱) مٹ] (۱) بٹے ہوئے دھاگے کا ہر ایک بار ایک دھاگے  
 (۲) پھیل پڑنے کی ڈور۔

تگلی - (تگ. کی) (دع. ۱-۱) مٹ] (۱) پیٹھ پر پڑھنا۔ چٹھی۔ آدمی پر سواری۔  
 (۲) تاش یا کپڑے کا دھپتا۔ جس پر عین نشان ہوں۔  
 تگلیانا - (تگ. یا. نا) (دع. مصل) (۱) تگلیے ڈالنا (۲) ڈور ڈور ڈورے ڈالنا۔  
 تگلیترنا - (ت. گلیٹر۔ نا) (رق. مصل) جملہ کرنا۔

تگلین - (ف. صغ) (۱) بہادر۔ شجاع (۲) طاقت ور (۳) آگ (۴)  
 چھوٹا حوض۔

## ت

ت - (ت. ۱-۱) تے۔ نیچے۔ نیچے کا حصہ۔ نشیب (۲) لمحہ۔ ذرا سی دیر (رق)  
 ت - (ت. ۱-۱) مٹ] (۱) نیچے اُپر۔ اُلٹ پلٹ (۲) تباہ۔ برباد۔  
 ت - (ت. ۱-۱) مٹ] دو چیز جو مالع کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ گاد۔  
 ت - (ت. ۱-۱) معادہ) (۱) زور شور سے بارش ہونا۔  
 ت - (ت. ۱-۱) معادہ) (۱) پیچے رکھنا (۲) چھپا دینا۔ قمار بازی میں گڑھی غائب کرنا  
 ت - (ت. ۱-۱) معادہ) (۱) کسی کے منہ کی شہرت ہونے سے (۲)  
 کسی چیز کی بہت مانگ یا پکار ہونے سے۔ قحط پڑنا ہے۔

## ت-گ

تگ - (ف. ۱-۱) مٹ] دوڑنا۔ بھاگنا۔ مرکبات میں آتا ہے جیسے تگ و دو۔  
 تگ و دو - (تگ و دو) (۱) دوڑ دھوپ۔ کوشش سہی۔











تلووار کا گستا - (۱) محاورہ، تلوار کا خم ہونا۔ لیکن مجھنا۔  
 تلوار کا کھیت - لڑائی کا میدان۔ میدان جنگ۔  
 تلوار کا کھیت ہر انہیں - (دش) جس جگہ جنگ ہو چکی ہو۔ وہاں  
 کشت کاری نہیں ہو سکتی۔  
 تلوار کا گھاٹ - (۱) بند وہ جگہ۔ جہاں سے تلوار میں خم شروع ہوتا ہے۔  
 تلوار کا کھا ڈھیر جاتا ہے (بات) زبان کا نہیں بھرتا۔ (دش)  
 مضمون و تشبیہ کا اثر دل پر ہے کسی نہیں جاتا۔ کسی کی رنج وہ بات کسی  
 نہیں بھولتی۔  
 تلوار کا منہ - (۱) بند تلوار کی باڑھ۔  
 تلوار کا مینہ برسا - (۱) محاورہ، بہت شیش زنی ہونا۔  
 تلوار کا وار - تلوار کا حملہ۔  
 تلوار کا پاتھ - (۱) بند تلوار کا حملہ۔  
 تلوار کر جانا - (۱) محاورہ، تلوار میں دندالے پڑ جانا۔  
 تلوار کرنا - (۱) محاورہ، تلوار سے حملہ کرنا یا لڑنا۔ شجاعت یا بہادری  
 دکھانا۔ تلوار مارنا۔  
 تلوار (کسنا) کسنا - (۱) محاورہ، تلوار جھکا کر جانچنا۔  
 تلوار کو پتھر جیٹانا - (۱) محاورہ، تلوار سان پر رکھنا۔ تلوار تیز کرنا۔  
 تلوار کو جانی دینا - (۱) محاورہ، تلوار کے وار سے بچنا۔  
 تلوار پھینچنا - (۱) محاورہ، تلوار سوتنا۔  
 تلوار کی آب - (۱) دش، تلوار کی جھک یا آب داری۔  
 تلوار کی آج - (۱) دش، تلوار کی جھک۔ گرمی یا تیزی۔  
 تلوار کی آج گرمی ہوتی ہے - (دش) تلوار سے سب ڈرتے ہیں۔  
 کوئی نتیجہ نہیں کر سکتا۔  
 تلوار کی آج کے سامنے کوئی بولا ہی ٹھہرتا ہے - (دش) تلوار  
 کے مقابلے پر کوئی بہادری ٹھہرتا ہے۔  
 تلوار کی (باڑ) دھار - (۱) دش، تلوار کا وہ باریک تیز کنارہ جو کاٹتا ہے۔  
 تلوار کی بھنگار - (۱) دش، تلواروں کے ٹکڑے کی آواز۔  
 تلوار کی جھک - (۱) دش، تلوار کی آب داری۔  
 تلوار کی ٹوٹ - (۱) دش، تلوار سے قتل ہونا۔  
 تلوار کی ناب - (۱) دش، تلوار کا وہ نشان جو نوک سے قبضے تک  
 دونوں طرف ہوتا ہے۔  
 تلوار کے (تیلے) بچے دم تو لینے دو - (دش) (۱) ذرا انتظار کرو۔  
 (۲) جو دم بچے وہی ہوتی۔  
 تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالنا - (۱) محاورہ، تلوار نکالنے کے لیے  
 اس کے قبضے کو پکڑنا۔ جنگ کا ارادہ کرنا۔  
 تلوار کے گھاٹ آتا رہنا - (۱) محاورہ، مار ڈالنا۔ تلوار سے قتل کر ڈالنا۔  
 تلوار کے منہ - تلوار کی باڑھ سے۔ تلوار سے۔  
 تلوار کے پاتھ - (۱) محاورہ، تلوار چلانے کے طریقے۔ تلوار کے حملہ۔  
 تلوار کر جانا - (۱) محاورہ، (۱) بہادری جاتی رہنا (۲) نامرد ہو جانا۔  
 (۳) مار جانا۔

تلوار گرمی پر جا بھری - (دش) بزدل حاکم سے رعایا باغی ہو جاتی ہے۔  
 بغیر تلوار اور طاقت کے رعایا قابو میں نہیں رہتی۔ ریاست بے ریاست  
 نہیں ہوتی۔  
 تلوار کھسٹنا - (۱) محاورہ، تلوار میان سے نکالنا۔  
 تلوار لگاتا - (۱) محاورہ، تلوار مارنا۔  
 تلوار لیے پھرنا - (۱) محاورہ، لڑنے کے لیے آمادہ یا تیار رہنا۔  
 تلوار مارنا - (۱) محاورہ، تلوار کا وار کرنا۔  
 تلوار مارے ایک بار دم دشمن احسان کی مار تلوار سے بڑھ کر  
 احسان ہارے بار بار آ رہی ہوتی ہے۔  
 تلوار منہ پر کھانا - (۱) محاورہ، تلوار کے وار سے منہ نہ پھیرنا۔  
 تلوار میان (نیام) سے پھینچنا - (۱) محاورہ، تلوار سوتنا۔ لڑنے کو تیار ہو جانا۔  
 تلوار میان (نیام) سے نکلی پڑنا - (۱) محاورہ، ہر وقت لڑنے کے  
 لیے آمادہ و تیار رہنا۔  
 تلوار میان (نیام) میں کرنا - (۱) محاورہ، (۱) تلوار کو خلاف میں رکھنا۔  
 (۲) لڑنے سے باز رہنا۔  
 تلوار میں بال آ جانا - (۱) محاورہ، تلوار میں نقص ہو جانا۔  
 تلوار میں جھالے پڑنا - (۱) محاورہ، تلوار میں بگڑی داغ پڑنا۔  
 تلوار میں گاٹ ہونا - (۱) محاورہ، تلوار کا اس قدر تیز ہونا کہ جس چیز پر  
 پڑے۔ اس کو کاٹ دے۔  
 تلواروں پر بڑھ لینا - (۱) محاورہ، تلواروں سے حملہ کرنا۔  
 تلواروں کا لہرس لینے لیکن - (۱) محاورہ، لڑائی میں تلواروں کا چلنا۔  
 تلواروں کی چھاؤں میں - (۱) محاورہ، تلواروں کے سامنے میں۔ (۱) دوران  
 جنگ میں (۲) بہادر قہوں میں (۳) تلواروں کی حفاظت میں۔ تلواروں  
 کے اثر میں (۴) کمال حفاظت میں۔  
 تلواروں کی محراب - (۱) محاورہ، یہ انگریزی محاورہ ہے۔ جب کسی  
 فوجی افسر کی شادی ہوتی ہے تو رسم نکاح کے بعد جب دو لہما ڈہن کرے  
 سے نکلتے ہیں تو دروازے پر بہت سے افسران تلواریں نکال کر آنے  
 سامنے کھڑے ہو کر۔ تلواروں کے کوڑوں کو اُدھنچا ملا کر محراب سی بنایتے  
 ہیں اور دو لہما ڈہن اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔  
 تلواریں نیام میں ہو جانا - (۱) محاورہ، صلح ہو جانا۔  
 تلوار یا - تلوار یا - (تیل۔ وار۔ ری۔ یا۔ تیل۔ در۔ یا۔) (۱) تلوار چلانے والا۔  
 تلوار سے لڑنے والا۔ شمشیر زنی۔ تیغ زن (۲) بہادر۔ شجاع۔  
 تلوار سے - (تیل۔ وار۔ نا۔) (۱) مص (۲) تلنا کا متعدی متعدی (۲) تلوار سے  
 چھاپے پڑنا (دق)۔  
 تلوارنا - (تیل۔ وار۔ نا۔) (۱) مص (۲) تلنا کا متعدی متعدی۔  
 تلوارنا - (تیل۔ وار۔ نا۔) (۱) مص (۲) تلوار سے کاظم۔  
 تلوارنا - (تیل۔ وار۔ نا۔) (۱) مص (۲) تلوار سے کاظم۔  
 تلوارنا - (تیل۔ وار۔ نا۔) (۱) مص (۲) تلوار سے کاظم۔  
 قریب رہے۔



تم جانو تمہارا کام جانے۔ (دش) جو چاہو کہو کہو میں دخل نہیں دینے کا۔  
تم ڈال ڈال میں پات پات۔ (اش) میں تم سے زیادہ  
جالاک ہوں۔

تم روٹھے ہم چھوٹے۔ (اش) ناخوشی سے بے پروائی کے موقع پر  
کہتے ہیں۔ تم ناراض ہو تو میں بھی پروا نہیں۔

تم سے اللہ کی سیماہ۔ (اش) تمہاری مزارتوں سے خدا محفوظ رکھے!  
تم سے پھرے تو خدا سے پھرے۔ (دش) تم سے برگشتہ ہونا خدا  
کے خلاف ہو جانے کے برابر ہے۔

تم کا ٹومیری ناک اور کانی م۔ (اش) ہندی عورت کے متعلق کہتے  
میں نہ چھوڑوں اپنی بانی میں کہ چاہے تم جو سزا دو میں اپنی  
مادت سے باز نہ آؤں گی۔

تم کس کھیت کی مولیٰ (کے بھروسے) ہو۔ (اش) تمہاری کیا  
حیثیت ہے۔ بالکل بے حیثیت اور بے حیثیت ہو۔

تم کو قسم ہے۔ (روزمرہ) دوسرے سے کوئی بات کرنے یا کسی بات سے  
روکنے کے موقع پر کہتے ہیں۔

تم کہیں اور ہم کہیں۔ (اش) علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر ملنے کا موقع  
نہیں ملے گا۔

تم کیا ہو۔ (روزمرہ) بے حقیقت ہو۔ کچھ بھی نہیں۔  
تم نے اڑا میں ہم نے بھون بھون کھائیں۔ (دش) ہم تم سے  
زیادہ جالاک ہیں۔ تمہاری چالیں سمجھتے ہیں۔ ہم سے تم چالیں نہیں  
چل سکتے۔

تم نے کہا اور میں ہم نے مان لیا۔ (دش) تمہارا کوئی اعتبار نہیں  
تم ہمیں بلاؤ گے تو کیا اگلاؤ گے تم (دش) ہر حال میں ایسے ہی  
تم جہان سے گھر آؤ گے تو کیا لاؤ گے { فائدے کی سوجنا خود غرض  
کے متعلق کہتے ہیں۔

تم جو کس لائق۔ (اش) تمہاری کیا مجال۔ تمہاری حیثیت کیا ہے۔  
تم ہی تم ہو۔ (اش) تمہارا بڑا رسوخ ہے۔ تم سب کچھ ہو۔

تمہا پیل۔ (دش) ماہیل، (دش) ۱۔ مذ) برابر ہونا (۲) مشابہ ہونا۔ مانند ہونا۔  
تمہا پیل۔ (دش) ماہیل، (دش) ۱۔ مذ) شمال کی برج (۱) تصویریں۔ صورتیں (۲)  
زمان شاہی۔

تمہا جا۔ (دش) ماہجا، (دش) ماہجہ، (دش) ۱۔ مذ) طہا پیل۔ چھپر۔  
تمہا جا اٹھانا۔ (اش) عمارتہ) چھپر مارنے کا قصد کرنا۔

تمہا جا مارے منہ لال رکھتے ہیں۔ (دش) (۱) جن کو نقصان پہنچایا  
گیا ہو وہ بھی نہیں بولتے (۲) ان لوگوں کے متعلق بھی کہتے ہیں جو عزت  
میں آرد بنانے رکھتے ہیں۔

تمہا خو۔ (دش) ماہخو، (دش) ۱۔ مذ) تمہا کو۔ تمکو۔

تمادوی۔ (دش) ماہدی، (دش) ۱۔ مذ) (۱) مدت۔ عرصہ (۲) بہت وقت  
عرصہ دراز (۳) قانون میں میعاد جس کے گزرنے کے بعد دیوانی ناس  
کا اختیار نہ رہے جس عرصہ میں مقدمہ دیوانی۔  
تمادوی تعارض ہونا۔ اتنی مدت گزرنا کہ دعویٰ دائر کرنے کا حق نہ رہے۔

تمارکس۔ (دش) ماہرض، (دش) ۱۔ مذ) بیماری کا بہانہ کرنا۔ سہار بننا۔  
تمازت۔ (دش) ماہزت، (دش) ۱۔ مذ) (دش) ۱۔ مذ) گری۔ شدت کی گری۔  
تمازت آفتاب۔ (دش) ماہزت، (دش) ۱۔ مذ) سورج کی گری۔

تماشا۔ (دش) ماہشا، (دش) ۱۔ مذ) (۱) باہم مل کر پیدل چلنا (۲) سیر تفریح۔  
(۳) دید۔ نظارہ (۴) مزہ۔ لطف (۵) کھیل (۶) مجمع۔ ہجوم (۷)  
ہنگامہ (۸) مذاق۔ ٹھٹھا (۹) عجیب بات (۱۰) غاشش۔ دکھاوا۔  
(۱۱) سوانگ۔ نالک۔ کرتب۔ لیلہ۔

تماشا سنانا۔ (اش) عمارتہ) (۱) ہنسی اڑانا۔ مذاق اڑانا (۲) سہاگ بنانا نقل کرنا۔  
تماشا بن جانا۔ (اش) عمارتہ) ایسا ہو جانا کہ لوگ دیکھنے لگیں۔ تابل  
تنبیک ہو جانا۔

تماشا نہیں۔ (دش) صفت) تماشا دیکھنے والا۔

تماشا خانم۔ (دش) مخمزی عورت۔ انوکھی عورت۔ عجیب قسم کی عورت۔  
تماشا خانہ۔ تماشا گدہ۔ تماشا گاہ۔ (دش) ۱۔ مذ) (۱) قلعے کی  
بیلگہ۔ وہ جگہ جہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ وہ مقام جہاں تماشا ہو۔ تاج گھر  
تھنڈے۔ اگھا ڈا۔ نقل خانہ (۲) سیر گاہ۔ منظر۔

تماشا دکھانا۔ (اش) عمارتہ) (۱) سیر دکھانا۔ بہار دکھانا (۲) سزا دینا۔ مارنا۔  
(۳) سیر پھینا۔

تماشا دیکھنا۔ (اش) عمارتہ) (۱) سیر دیکھنا۔ لطف دیکھنا (۲) نالک دینا  
دیکھنا (۳) سزا پانا۔ مزہ دیکھنا (۴) نظارہ دیکھنا۔

تماشا کرنا۔ (اش) عمارتہ) نالک کرنا۔ سہاگ بھرنا کرتب دکھانا۔  
تماشا گناہ۔ (دش) صفت) تماشا دیکھنا ہوا۔ سیر کرنا ہوا۔

تماشا گاہ عالم۔ (دش) ۱۔ مذ) (۱) دنیا۔  
تماشا کرنے۔ (اش) تان کر نے والا (۲) تماشا دیکھنے والا۔

تماشا ہونا۔ (اش) عمارتہ) (۱) انوکھی یا عجیب بات ہونا (۲) نالک دینا  
ہونا (۳) مزہ ہونا۔ لطف ہونا (۴) سخرہ ہونا۔ اٹو کھانا۔

تماشاے تماشاے کے چالے کرنا۔ (دش) عمارتہ) طرح طرح کی  
چالیں چلانا۔

تماشاے کا۔ (اش) عمارتہ) عجیب۔ انوکھا۔  
تماشاے کی بات۔ (اش) عمارتہ) عجیب یا انوکھی بات۔

تماشاے کی باتیں۔ (اش) عمارتہ) پتھے کی ایسی باتیں جن سے ہی خوش ہو۔  
تماشاے کی۔ (دش) ماہشا۔ (اش) (دش) ۱۔ مذ) تماشا دیکھنے والا۔

تماشا میں۔ (دش) ماہشا۔ (اش) (دش) ۱۔ مذ) (۱) تماشا دیکھنے والا تماشا  
(۲) عیاش۔ بدکار۔ رنڈی باز۔ جمع و تماشا بیناں۔

تماشا بیٹی۔ (دش) ماہشا۔ (اش) (دش) ۱۔ مذ) عیاشی۔ بدکاری۔  
تہرو رنڈی بازی۔

تماکو۔ (دش) ماہکو، (دش) ۱۔ مذ) (۱) تمباکو (۲) پان کے ساتھ کھانے والا۔  
تمباکو۔ زردہ۔

تمام۔ (دش) ماہم، (دش) صفت) (۱) کل۔ سب (۲) مکمل۔ ختم۔ تیار (۳)  
کامل۔ خالص۔ پورا (۴) آخر۔ آخر۔ ختم۔ ختم۔ ختم۔ ختم۔ ختم۔ ختم۔  
تمام کر۔ (دش) صفت) (۱) مکمل طور پر (۲) مطلق۔ صحت۔ بالکل۔



تہ مویج ہوا۔ (ج۔۱۔صفت) ہوا کا زور۔  
 تھوڑے۔ (ت۔۱۔مؤن) (ج۔۱۔نڈ) (۱) شیوں کا ایک ہمینہ۔ جو جولاہی یا اساتھ کے مطابق ہوتا ہے (۲) عجازاً گومی کی شدت۔  
 تھول۔ (ت۔۱۔مؤن) (ج۔۱۔نڈ) دولت مندی۔ مال داری۔  
 تھہارا۔ (ت۔۱۔جہا۔۱) (ج۔۱۔نڈ) تم سب کا۔ آپ کا۔  
 تھہاراسر۔ تھہارا کی جگہ۔ (کلمہ لغوی) جب کوئی شخص کسی کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہتا یا بوجھتا ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے۔  
 تھہارا مال سو بہارا مال ہمارا مال سو ہیں۔ (۱) نیش خود غرض آدمی کی نسبت کہتے ہیں جو دوسروں کا مال تو لے لے اور اپنا مال دینا ہوتو ہنس کر مال دے۔  
 تھہارے فخر مشغول کو بھی خبر نہیں۔ (۱) عبادہ تو ہیں کچھ خبر ہی نہیں۔  
 تھہارے منہ کا کال ہمارے پیٹ کا ادھار۔ (۱) نیش، تہناری ذرا سی مدد ہمارے لیے بہت ہے۔  
 تھہارے منہ میں خاک۔ (۱) دروزرہ اس شخص کی نسبت کہتے ہیں جو کسی کا برا چاہے۔  
 تھہارے مرے دیس خاک۔ ہمارے مرے دیس پاک (مثل) فروتنی اور عاجزی کا ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔  
 تھہارے منہ میں گھی شکر۔ (۱) مثل کوئی شخص خواہش بات کرے تو کہتے ہیں تہناری۔ (ت۔۱۔جہا۔۱) (ج۔۱۔نڈ) تم سب کی۔ آپ کی۔  
 تہناری اڑی میں کیا لگا ہے۔ (۱) مقولہ نظر بد سے بچنے کے لیے جو زمین کھتی ہیں۔  
 تہناری بات نہ اٹھانی جائے نہ دھری جائے۔ (۱) نیش، تہناری بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔  
 تہناری یہ راہ۔ ہماری وہ راہ۔ (۱) مثل (۱) ہمارا تہنارا کوئی تعلق نہیں (۲) ہمیں تہناری کوئی پروا نہیں۔  
 تھہید۔ (ت۔۱۔جہا۔۱) (ج۔۱۔نڈ) کسی مضمون کی اٹھان۔ کسی بات کا آغاز۔ کسی معاملے کی تقریب۔ کسی مضمون کا عنوان (۲) دیباچہ۔ مقصد۔ خطبہ کتاب۔  
 تھہیدات۔  
 تھہید اٹھانا۔ (۱) عبادہ کسی مضمون یا کسی بات کا عنوان شروع کرنا۔  
 تھہید کرنا۔ (۱) عبادہ کسی بات کا پیش کرنا کسی معاملے کی تقریب کرنا۔  
 تھہیدس باندھنا۔ مضمون یا بات پیش کرنا۔ بے معنی عذرات پیش کرنا۔  
 تھہیدتی۔ (ت۔۱۔جہا۔۱) (ج۔۱۔نڈ) شروع۔ صفت شروع کا۔ ابتدائی۔  
 تھہیز۔ (ت۔۱۔جہا۔۱) (ج۔۱۔نڈ) تھہیز کا مخفف۔ (۱) شناخت۔ جانچ۔ پہچان۔ (۲) فرق۔ تفاوت۔ امتیاز (۳) عقل۔ ہوش۔ دانش (۴) ادب۔ قاعدہ۔ اہلیت (۵) عقل سلیم (۶) علم غریب جو لفظ یا الفاظ کسی اسم یا فقرے سے شک یا ابہام رفع کریں۔  
 تھہیز دار۔ ذی شعور۔ لائق۔ ہوشیار۔ باہذب۔

## ت۔ن۔

تن۔ (ت۔۱۔نڈ) (۱) جسم۔ پتلا (۲) شخص۔ آدمی۔ فرد۔

تن آساں۔ (ت۔۱۔صفت) آرام طلب۔ تن پرور۔  
 تن آسانی۔ (ت۔۱۔صفت) آرام طلبی۔ بدن کو تخفیف سے بچانا۔  
 تن اچھلاسن سا نولالیکے کا سا جھک (۱) مثل (۱) ریاکاروں کی نظر تو سے تو کا کا بھلا جو اندر باہر ایک ہے۔ ریاکار۔ بگے کا کلمہ ہے۔ ظاہر میں تو سفید اور دھکٹا۔ مگر ہر وقت کھیل کھڑنے کے لیے تیار۔ ریاکار سے کو آچھا۔ جو اندر باہر سے کالا ہے۔ یعنی اس شخص سے جس کا اندر باہر ایک سا نہ ہو۔ وہ اچھا ہے۔ جو اندر باہر سے برا ہو۔  
 تن بدن۔ (ت۔۱۔نڈ) سا سا بدن۔ تمام بدن۔  
 تن بدن اولاد ہو جانا۔ (۱) عبادہ (۱) بدن ٹھنڈا ہو جانا جسم سرد ہو جانا۔  
 تن بدن چھونک دینا۔ (۱) عبادہ (۱) جلا دینا۔ جلن پیدا کر دینا۔ بخار کی حالت پیدا کر دینا۔  
 تن بدن ڈھانک لینا۔ (۱) عبادہ (۱) کپڑے پہن لینا۔ ستر پوشی کرنا۔  
 تن بدن کا جوس نہ ہونا۔ (۱) عبادہ (۱) اپنے آپ سے بے خبر ہونا۔  
 تن بدوشی ہونا (۲) پاگل اور دیوانہ ہونا۔  
 تن بدن کی خبر نہ رہنا۔ (۱) عبادہ (۱) محو ہونا۔ بے خبر ہو جانا۔  
 تن بدن میں آگ (چھٹکننا) لگنا۔ (۱) عبادہ (۱) سمٹ جھٹکا آنا۔  
 تن بدن میں جان نہیں۔ نام زور اور خال۔ (۱) مثل (۱) ناموزوں بات۔ طاقت ہونی چاہیے۔ نام کا کیا فائدہ۔  
 تن بہ تقدیر۔ اپنے آپ کو تقدیر پر چھوڑنا۔ جب تدبیر کچھ بن نہ پڑے تو تن کہتے ہیں۔  
 تن لے حال۔ (ت۔۱۔صفت) مردہ۔ لاش نیش۔  
 تن نے جان میں جان آنا۔ (۱) عبادہ (۱) نئے سرے سے زندگی پیدا ہونا۔  
 تن پتلا ہے خاک کا اسے دکھ مت بھول (۱) مثل (۱) ہر ایک ایک دن ایسا ہوئے گا لے دھول میں دھول (۱) کرنا ہے اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔  
 تن پرست۔ (ت۔۱۔صفت) جو ہر وقت کھانے پینے میں مشغول رہے۔  
 تن پرستی۔ (ت۔۱۔نڈ) ہر وقت کھانے پینے میں مشغول رہنا۔  
 تن پرور۔ (ت۔۱۔صفت) تن کو پالنے والا کھانے پینے میں مشغول رہنے والا۔  
 تن پروری۔ (ت۔۱۔نڈ) (۱) آرام طلبی۔ پیش برستی (۲) خود غرضی۔  
 تن نہیں لتا مستی ملے البتہ۔ (۱) مثل (۱) نیش میں آرائش کا خیال ہے۔  
 تن چھٹکننا۔ (۱) عبادہ (۱) بدن جلنا۔ بخار ہونا۔  
 تن پیٹ کا مزہ۔ (۱) نڈ (۱) اچھا پینے اور کھانے کا مزہ۔  
 تن پیٹ کہاں رکھ کر آئیں۔ (۱) مثل (۱) کھانے پینے کا خرچ ضروری ہے۔ کوئی منت خدمت لے تو کہتے ہیں۔  
 تن تاجا (تازہ) قلندر راجہ۔ (۱) مثل (۱) پیٹ بھرا ہوا ہو، تو قلندر بھی راجہ ہے۔ تن پرور کی نسبت کہتے ہیں۔  
 تن تیکہ من بسرام آرام۔ (۱) مثل (۱) قانع شخص کے لئے ہر جگہ آرام ہے۔  
 تن تہنا۔ (ت۔۱۔صفت) اکیلا۔ تنہا۔  
 تن دزست۔ (ت۔۱۔صفت) اچھلا چنگا۔ صیح و سالم صحت مند۔ جسے کوئی

بیماری نہ ہو۔

**تندرستی** - دن - (۱) صحت - سلامتی - غیریت - طبیعت کی درستی - آرام - تندرستی ہزار نعمت ہے - (۱) مولا صحت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔  
**تین دہی** - (۱) صحت - (۲) کوشش - (۳) محنت - جہانگشاہی - جفاکشی۔  
**تین دے** - من لے - (مثل) محنت کرادوگا۔

**تین ڈھانگنا** - (۱) محاورہ - ستر پوشی کرنا۔

**تین زریب** - (۱) مذ (۱) ایک قسم کا کپڑا جو تین لکھ سے زیادہ باریک تہا جو ہے (۲) ایک قسم کی صوری جو تین لکھ سے زیادہ باریک تہا۔

**تین سنگھی تو من سنگھی** - (مثل) بدن کو آرام ہو یعنی صحت اچھی ہو اور دکھانا تو اچھا ہے تو دل بھی خوش رہتا ہے۔

**تین سنگھی لو پین ہے** { (مثل) اگر صحت ہو تو زندگی آرام سے گزرتی تا تو دن دکھ ترین ہے }  
ہے وگرنہ ہر وقت انسان تکلیف میں رہتا ہے۔

**تین سیتل ہو سیت سول** { (مثل) دودھ بدن کو خوش کرتا ہے من سیتل ہو سیت سول } اور دوست دل کو۔

**تین سے لگنا** - (۱) محاورہ (۱) فکر کرنا - خیال ہونا (۲) دل پر اثر ہونا۔

**تین کو کپڑا نہ پیٹ کو روئی** - (مثل) بہت عزیز ہے۔  
**تین کو لگنا** - بجز درد بدن ہونا۔

**تین کی تپت بھگانا** - (۱) محاورہ - جھوٹے کو کھانا کھلانا۔  
**تین کی سکہ نہ رہنا** - (۱) محاورہ - جوش و خواس قائم نہ رہنا۔

**تین کھلنا** - (۱) محاورہ - جسم لاغر یا ڈبلا ہونا۔  
**تین کن** - (۱) مذ - جسم و جان - روح و قالب۔

**تین کن میں ایک ہونا** - (۱) محاورہ - بہت دوست ہونا - بڑا یار ہونا۔  
**تین کن بھر جانا** - (۱) محاورہ (۱) سیری ہو جانا - دل بھر جانا (۲) خوش ہو جانا۔

**تین من دھن وارنا** - ہر چیز فدا کرنا - بدن - جان اور دولت متا کر دینا۔  
**تین من سے** - دل و جان سے - پوری کوشش سے۔

**تین کن کی سکہ نہ رہنا** - (۱) محاورہ (۱) بدحواس ہو جانا - گھبرا جانا (۲) مدح و شوق ہو جانا - پاگل ہو جانا۔

**تین من مارنا** - (۱) محاورہ (۱) جسمانی اور نفسانی خواہشوں کو مارنا۔  
**تین من میں پھولے نہ سگانا** - (۱) محاورہ - بہت خوشیاں منانا۔

**تین من میں جان آنا** - (۱) محاورہ (۱) جوش و خواس درست ہونا (۲) فزیت ہونا - تازگی ہونا۔

**تین تو کس** - (۱) مذ - بدن اور توانائی - قوت۔  
**تین و لوش کا آدمی** - (اصف) فریب اور طاقتور شخص - مضبوط بدن کا آدمی۔

**تین** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تین** - (۱) مذ (۱) ایک درخت - جس کی لکڑی سڑھتی ہے اور اس سے فربہ بنتا ہے (۲) تین کا پھول - جس سے زرد رنگ دیکھتے ہیں۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) درخت کی پڑے اور پر کی شاخیں نکلنے تک کا حصہ۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

دراز ہونا (۲) پھولنا (۳) اٹھنا (۴) گھنڈ کرنا (۵) سینہ اٹھانا (۶) روٹھنا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔

**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔  
**تینا** - (۱) مذ (۱) صحت - (۲) محنت - (۳) کوشش - (۴) محنت کرادوگا۔



باجا جس میں سدا کی طرح تین تار لگے ہوتے ہیں۔  
 تلمبوری - (تم - بول) (۱۰ - مذ) (۱۱) پان (۱۲) بیہ شادی کی ایک رسم جس میں  
 نیوتے کے مطابق پر عزیز واقارب اور دوست احباب حسبِ مقدور  
 نقدی دیتے ہیں۔

تنبول آنا - (۱۰ - محاورہ) لگام کے حد سے گھوڑے کے منہ سے خون نکلنا۔  
 تنبول (بانتن) دینا - (۱۰ - محاورہ) دیہاتی ہندوؤں میں بھلنے یا بھانجی  
 کی شادی کے بعد رخصت ہوتے وقت بہن کی رشتے دار عورتوں کو  
 نقدی دینا۔

تنبول پینا - (۱۰ - محاورہ) پان کا عرق پینا۔  
 تنبولی - (تم - بول) (۱۰ - مذ) پان پیننے والی عورت۔  
 تنبولی - (تم - بول) (۱۰ - مذ) پان پیننے والا - پتلاڑی۔  
 تنبیہ - (ت - نب - ب) (۱۰ - مذ) (۱) نصیحت - عبرت (۲) دھمکی - تنبیہ۔

آگاہی - خبر داری۔  
 تنبیا نا - تنبیا جانا - (تنب - یا - نا) (تنب - یا - جا - نا) (۱۰ - مذ) (۱) تانبے  
 کا رنگ ہو جانا (۲) تانبے کے برتن میں رکھے ہوئے کھانے میں تانبے  
 کا مزہ ہو جانا (۳) نڈار ہوا سے گونا گویا رنگ تانبے کا سا  
 ہو جانا۔

تنبیلا - (ت - نب - لا) (۱۰ - مذ) (۱) تانبے کے رنگ کا (۲) چہرے کا رنگ جو  
 گرمی سے سرخی مائل ہو جائے (۳) گندمی (۴) سرخ رنگ کی گندم۔  
 تنبیہ - (تم - بیہ) (۱۰ - مذ) (۱) سرزنش - جھڑک - جھانٹش - ملامت (۲)  
 نصیحت - ہدایت - عبرت (۳) واقفیت - خبر داری - آگاہی (۴) تاکید۔  
 تن (پہن) - (ت - پن) (۱۰ - مذ) (۱) (پہن) (۲) (۱۰ - مذ) (۱) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) (۱۳۵۳) (۱۳۵۴) (۱۳۵۵) (۱۳۵۶) (۱۳۵۷) (۱۳۵۸) (۱۳۵۹) (۱۳۶۰) (۱۳۶۱) (۱۳۶۲) (۱۳۶۳) (۱۳

**تندرنا** - (تن، ڈونا، (ق) بصر) لڑنا۔ فساد کرنا۔  
**تندرنا** - (ت، نر، ڈال، (ر، ا، نڈ) (۱) زوال لگنا ڈ۔ کمی۔ تخفیف۔ (۲) آنا۔  
 درجہ لڑنا۔

**تندرہ** - (ت، نر، زہ) (ر، ا، نڈ) (۱) خالص ہونا۔ عیب سے پاک ہونا۔  
 (۲) باعصمت ہونا (۳) سیر۔ تفریح (۴) خوشی۔ فرحت۔ جمع: تندرہات۔  
**تندرہیل** - (تن، بزیل، (ر، ا، نڈ) (۱) نازل کرنا۔ اُتارنا (۳) وحی۔ الہام۔  
 (۵) قرآن مجید۔ جمع: تندرہیلات۔

**تندرہیہ** - (تن، زہیہ، (ر، ا، نڈ) (۱) بری باتوں سے دور رکھنا۔ عیب سے پاک کرنا۔ صاف کرنا (۲) پاکی صفائی۔

**تندرہیخ** - (تن، سبخ، (ر، ا، نڈ) (۱) منسوخ کرنا۔ باطل کرنا (۲) منسوخی۔  
**تندرہیخت** - (تن، نص، بصر، (ر، ا، نڈ) مذہب عیسوی اختیار کرنا۔

**تندریب** - (ر، ا، نڈ) (۱) مٹا جانا۔ نصب کرنا۔ لگانا۔ مقرر کرنا۔  
**تندریب** (انگ) (Installation) جمع: تندریبات۔

**تندریف** - (تن، صیفت، (ر، ا، نڈ) (۱) دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔  
 دو برابر حصے کرنا۔

**تندریظم** - (تن، ظیم، (ر، ا، نڈ) (۱) شعر کہنا۔ نظم لکھنا (۲) موتی پروانا۔  
 (۳) دستکاری کرنا۔ انتظام کرنا (۴) انتظام۔ بندوبست (۵) ترتیب (۶) منظم

**تندریجماعت** - (تن، جماعت، (ر، ا، نڈ) (۱) نظم و نسق اور مورعہ مابعد حکومت کا  
**تندریعم** - (ت، نغ، علم، (ر، ا، نڈ) (۱) ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا (۲)

**تندریعیش** - آرام۔  
**تندریعیش** - (تن، عیش، (ر، ا، نڈ) (۱) ناز و نعمت میں باننا۔ عیش و آرام سے رکھنا۔

**تندریغش** - (ت، نغ، غش، (ر، ا، نڈ) (۱) طبیعت مکدر ہونا۔  
**تندریغز** - (ت، نغ، غز، (ر، ا، نڈ) (۱) لغت۔ بیزاری۔ کراہت۔ گھن۔

**تندریغس** - (ت، نغ، غس، (ر، ا، نڈ) (۱) سانس لینا۔ دم لینا۔  
**تندریغسی** - (ت، نغ، غسی، (ر، ا، نڈ) (۱) صفت سانس سے متعلق۔

**تندریغیل** - (ت، نغ، غیل، (ر، ا، نڈ) (۱) نقل کرنا۔ تھوڑا تھوڑا ٹھونکنا۔  
**تندریغیح** - (ت، نغ، غیح، (ر، ا، نڈ) (۱) کسی چیز کو زائد اور محبوب سے پاک کرنا۔

خالص کرنا (۲) لغزش۔ تحقیق (۳) جھگڑے کا فیصلہ کرنا (۴) قانون میں وہ  
 سوال جو امور متنازعہ کو فیصلہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔

**تندریغیج** - جمع: تندریغیات۔

**تندریغیغ** - امور تصفیہ طلب فیصلہ طلب امور کی صفائی و دصاحت۔  
**تندریغیغ** - طلب جس میں تفتیش کی ضرورت ہو۔ فیصلہ ہونے والا۔

**تندریغیغ** - (تن، قید، (ر، ا، نڈ) (۱) جانچ۔ پرکھ۔ تیز۔ ایسی جانچ جو اچھے  
 برے کھرے کوٹے میں تیز کرے (۲) تھرہ۔ نقد۔ نمکہ پینی۔

**تندریغیغ** - (تن، قیغ، (ر، ا، نڈ) (۱) کم کرنا۔ گھٹانا (۲) نقصان۔ کمی (۳)  
 اعراض۔ نقص نکالنا۔

**تندریغیغ** - (تن، قیغ، (ر، ا، نڈ) (۱) صاف کرنا۔ پاک کرنا (۲) فیصلہ۔ مقدمات  
 کا فیصلہ کرنا (۳) باج کو کھوسے سے الگ کرنا (۴) آنتوں کو صاف کرنا۔

**تندریغیغ** - (ر، ا، نڈ) (۱) صاف۔ دوپلوں سے داغ کو صاف کرنا۔

**تندریغ** - (ت، نغ، (ر، ا، نڈ) (۱) صفت (۲) تھوڑا۔ ذرا سا۔ چھوٹا۔  
**تندریغ** - (ت، نغ، (ر، ا، نڈ) (۱) تھوڑا۔ چھوٹا۔ ذرا سا (۲) کمزور (۳)

ادبچا۔ بے حقیقت۔  
**تندریغ** - (ت، نغ، (ر، ا، نڈ) (۱) کم ظرف۔ کمینہ۔ کم حوصلہ۔ ادبچلا  
 (۲) پیٹ کا ہلکا جیسے بات نہ کیے۔

**تندریغ** - (ت، نغ، (ر، ا، نڈ) (۱) کم حوصلگی۔ چھوٹا پرن۔  
**تندریغ** - (ت، نغ، (ر، ا، نڈ) (۱) بے حیثیت۔ تھوڑی بوجھی کالا۔

**تندریغ** - (ت، نغ، (ر، ا، نڈ) (۱) نازک مزاج۔ پڑ پڑا۔ زود رنج۔  
 تند خو۔ تیز مزاج۔

**تندریغ** - (ت، نغ، (ر، ا، نڈ) (۱) نازک مزاجی۔ تند خوئی۔ زود رنجی۔  
**تندریغ** - (تن، کا، (ر، ا، نڈ) (۱) سوجھی گھاس کا ٹکڑا (۲) کسی چیز کا چھوٹا سا ٹکڑا۔

(۳) (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔

**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔  
**تندریغ** - (مجازاً) ذرا سی چیز (۴) ہلکا۔ برگ کاہ۔







توپ بھولی جانا۔ (۱۔ محاورہ) محاسم ہونا۔ پریشان ہونا۔  
 توپ تپلا۔ (۱۔ مذ) شور و غل۔ دوایلا۔ فریاد۔ پانے دانے۔  
 توپ توپ۔ (حرف تکرار) عزت یا جاکامد یا مقام عبرت و تاسف پر ہوتے ہیں  
 توپ توپ مجا دینا۔ (۱۔ محاورہ) ایسا علم یا گناہ کا کام کرنا کہ ساری  
 دنیا توپ توپ کرے۔  
 توپ توڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ہمدستی کرنا۔ قول و قسم سے پھرنا۔  
 توپ (ٹوٹ جانا) ٹوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) جھوٹ جانا۔ قسم ٹوٹ جانا۔  
 توپ دھاڑ کرنا (مجانا)۔ (۱۔ محاورہ) شور و غل مچانا (۲) پناہ مانگنا  
 (۳) زور شور سے شکوے شکایت کرنا۔  
 توپ سکن۔ (ع۔ ف۔ ن۔ مذ) (۱) توپ توڑنے والا (۲) توپ توڑنے والا۔  
 توپ قبول فرمانا۔ (مص۔ مرکب) گنہ معاف کر دینا۔  
 توپ کا در بند ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) استغفار کرنے کا وقت نہ رہنا یا  
 گزر جانا۔ مسلمانوں کے عقیدے میں قیامت کے شروع ہونے  
 کے بعد توپ قبول نہ ہوگی۔  
 توپ کا دروازہ کھلا سے۔ (مثل) توپ بہ وقت قبول ہو سکتی ہے۔  
 توپ کرانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چیں بلوانا۔ عاجز کرنا (۲) بڑی بات پھڑوانا (۳)  
 معافی مانگوانا۔  
 توپ کو بند سے۔ (۱۔ مقولہ) جب کوئی عذر کی بات کہے یا منہ لپٹے تو کہتے ہیں  
 توپ کر کے کہنا۔ (۱۔ محاورہ) خدا سے معافی مانگ کر دعوے یا شیخی  
 کی کوئی بات کہنا۔  
 توپ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گناہ سے باز آنا (۲) قسم کھانا (۳) فریاد کرنا (۴)  
 کوئی بڑی بات چھوڑنے کا ہمد کرنا۔  
 توپ (کرو) پیچھے۔ (۱۔ مثل) کوئی عذر کا گلہ کہے یا کسی پر ہنسے یا خلاف  
 مذہب کوئی بات کرے، تو کہتے ہیں۔  
 توپ ہی بھلی۔ (۱۔ مثل) عورتیں توپ کی جگہ بولتی ہیں۔  
 توپ سے۔ (۱۔ مثل) اب نہیں کروں گا۔ باز آتا ہوں۔  
 توپ (تو بیج)۔ (ع۔ ا۔ مث) (۱) طامت جھپٹکی۔ سرزنش۔ طنز۔  
 توپ۔ (ت۔ ا۔ مث) (۱) گولہ چلانے کا آلہ (۲) بہت موٹا آدمی۔  
 توپ بھرنا۔ (مص۔ مرکب) توپ میں گولہ بارود ڈالنا۔  
 توپ پر رکھنا۔ کسی شخص کو توپ سے اُڑانے کے لیے توپ کے  
 سامنے کرنا یا توپ کے منہ پر ہاندھ دینا۔  
 توپ (چلانا) چھوڑنا۔ (۱) گولہ مارنا۔ توپ کی بارود کو آگ لگانا  
 (۲) گولہ مارنا۔ یاد دانا (مذاق) بہت موٹا آدمی یا عورت۔  
 توپچی۔ (ف۔ صفت) توپ چلانے والا۔ گولہ باز۔  
 توپ خانہ۔ (ت۔ ف۔ مذ) وہ جگہ جہاں توپیں رکھی جائیں اور ان  
 کے چلانے والے اور عملہ رہے۔  
 توپ داغنا۔ (۱۔ محاورہ) توپ چلانا۔  
 توپ دم (کرو دینا) کرنا۔ (۱۔ محاورہ) توپ کے منہ پر ہاندھ کر اُڑانا۔  
 توپ سے اُڑا دینا۔ (۱۔ محاورہ) توپ کے منہ پر ہاندھ کر اُڑا دینا۔  
 توپ کو بیج دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) توپ کی بارود کو آگ لگانا۔

توپ کے منہ اُڑا دینا۔ (۱۔ محاورہ) توپ کے منہ پر ہاندھ کر توپ  
 چلا کر مار ڈالنا۔  
 توپ کے مہرے۔ مصیبت کے سامنے مصیبت میں۔  
 توپ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) توپ چلانا (۲) توپ کو ایک جگہ نصب کرنا۔  
 توپ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) توپ کا نصب ہونا۔  
 توپ مارنا۔ (۱۔ محاورہ) توپ چلانا۔  
 توپوں کی کڑک۔ توپوں کے چلنے کی آواز۔  
 توپنا۔ (تو۔ نا۔ ہ۔ مص) (۱) گڑھا بند کرنا (۲) زمین میں گاڑنا۔ دفن کرنا۔  
 (۳) چھپانا۔ ڈھانپنا۔  
 تو۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ایک درخت (۲) اس کا پھل ہشتوت۔  
 توتا۔ (تو۔ تا۔ ژ۔ ا۔ مذ) (۱) طوطا۔ مٹھو۔ ایک خوش رنگ مہشور پرندہ۔ کھانے  
 سے کچھ باتیں سیکھ جاتا ہے (۲) طفل۔ بچہ جو بیاری بیاری باتیں کرے۔  
 (۳) بھنگ کی نگدی (۴) توڑے دار بندوق کا گھوڑا۔  
 توتا بالٹا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے کوئی اور کام  
 نہ ہو سکے (۲) کوئی بیاری مول لے لینا (۴) آشک یا سوزاک کی بیماری  
 لگا لینا۔  
 توتا چشم۔ (اصف) بے مروت۔ بے وفا۔  
 توتا چشمی۔ (امش) بے مروتی۔ بے وفائی۔  
 توتاسا (بولنا) پڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) بچوں کے بولنے یا بڑھنے کی تعریف  
 میں کہتے ہیں۔  
 توتے اُڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) گھبرا جانا جو اس باختم ہو جانا اور ان خطا ہو جانا  
 توتے پڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ایسے شخص کو پڑھانا جو سخت گندہن  
 ہو (۲) توتے کو بولنا سکھانا۔  
 توتے کی سسی آنکھیں (بدلنا) پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) دفعہ بے مروت  
 ہو جانا۔ بے وفائی کرنا۔ محبت سے منہ موڑنا۔  
 توتے کی طرح (پڑھنا) یاد کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بے سمجھے بوجھے پڑھنا۔  
 بے سمجھے بوجھے یاد کرنا۔  
 توتلا۔ (توت۔ لا۔ ہ۔ صفت) دہ آدمی۔ جس کی زبان موٹی ہونے کے باعث  
 الفاظ صاف نہ نکل سکیں۔  
 توتلین۔ (۱۔ مذ) زبان موٹی ہونے اور الفاظ صاف نہ نکلنے کا مرض۔  
 توتلا کر بولنا۔  
 تو۔ (تو۔ تو) (دروں واڈ مجبول) (ہ۔ مش) (۱) کتے کو بلانے کی آواز (۲) بولنا  
 باتیں کرنا (۳) مجازاً زبان (ق)  
 توپچی۔ (توت۔ ای) (ہ۔ مش) بچوں کو بانی پلانے کی ٹوٹی دار چھوٹی ٹیٹیا۔  
 توٹی۔ (تو۔ تی) (ف۔ ا۔ مذ) ایک چھوٹا سا خوش آواز پرندہ۔ طوطا۔  
 توٹی (طوطی) بولنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی بستر یا خوئی کی وجہ سے مشہور ہونا۔  
 سترہ آفاق ہونا (۲) دور دورہ ہونا۔ اقبال یا در ہونا (۳) کسی افسر یا امیر  
 کے پاس رسوخ ہونا۔  
 توٹی کی آواز نثار خانے میں کون سنتا ہے۔ (مثل) بڑے آدمیوں  
 کی رائے کے سامنے چھوٹے آدمیوں کی رائے کو کوئی نہیں پوچھتا۔

توتیا - (توتیا، (ذ) ۱-۵) نیلا تھوٹھا۔

توتیا - (توتیا، (ذ) ۱-۵) سُر سُرے کا پتھر۔

توتیا - (توتیا، (ذ) ۱-۵) توطیہ کا بڑا ہوا۔ الزام - ہمت - دوش - چھدا۔

توتیا بانڈھنا - توتیا طوفان جوڑنا۔ (۱-۵) محاورہ، الزام لگانا۔

توتیے جوڑنا۔ (۱-۵) محاورہ، الزام لگانا۔

توتیق - (توتیق، (ذ) ۱-۵) مضبوطی، چنگلی (۲) مضبوط کرنا (۳) تصدیق۔

توتیق کرنا۔ (۱-۵) محاورہ، (۱) پکا کرنا، مضبوط کرنا (۲) تصدیق کرنا۔

توجانا۔ (توجانا، (ذ) ۱-۵) عین جیوان کا حمل کر جانا۔

توجہ - (توجہ، (ذ) ۱-۵) کسی کی طرف منہ کرنا (۲) رجحان، رغبت۔

توجہ - (توجہ، (ذ) ۱-۵) خیال، (۳) لحاظ (۴) مہربانی، عنایت۔

توجہ باطن - (توجہ باطن، (ذ) ۱-۵) دلی توجہ، کسی کی اصطلاح نفس کے لیے اس کے دل پر روحانی اثر ڈالنا۔

توجہ پھیرنا۔ (۱-۵) محاورہ، (۱) متوجہ ہونا (۲) توجہ پٹا لینا۔

توجہ رہنا۔ (۱-۵) محاورہ، (۱) خیال رہنا (۲) مہربانی رہنا۔

توجہ سے دیکھنا۔ (۱-۵) محاورہ، غور سے ملاحظہ کرنا۔

توجہ کرنا۔ (۱-۵) محاورہ، متوجہ ہونا۔ رجوع ہونا۔

توجہ کی نظر ہونا۔ (۱-۵) محاورہ، مہربانی کی نگاہ ہونا، شفقت ہونا۔ لحاظ کرنا۔

توجہ مبذول ہونا۔ (۱-۵) محاورہ، کسی طرف توجہ کرنا۔ متوجہ ہونا۔

توجہ نہ رہنا۔ (۱-۵) محاورہ، (دھیان ہٹ جانا، بے خیالی ہو جانا۔

توجہ بہہ - (توجہ بہہ، (ذ) ۱-۵) (۱) دوجہ بیان کرنا، باعث بتانا، دلیل لانا، (۲) دلیل دوجہ (۳) علیہ کیفیت۔

توجہ بہہ نولیس - (توجہ بہہ نولیس، (ذ) ۱-۵) علیہ کھنے والا۔

توتس - (توتس، (ذ) ۱-۵) (۱) دشت، (۲) نصرت، (۳) وحشت ہونا۔

توجید - (توجید، (ذ) ۱-۵) (۱) ایک ماننا، ایک جاننا (۲) خدا کے ایک ہونے پر یقین کرنا (۳) وحدانیت، یکتائی۔

تودہ - (تودہ، (ذ) ۱-۵) (۱) ڈھیر، انبار، پشتہ، ٹیلا (۲) حد کا مٹی کا نشان یا ڈھیر (۳) ہدف، نشانہ (۴) (۱) تودہ بندی - (تودہ بندی، (ذ) ۱-۵) (۱) مٹ، (۲) حد بندی۔

تودہ ٹھاک - (تودہ ٹھاک، (ذ) ۱-۵) مٹی کا ڈھیر۔

تودہ طوفان - (تودہ طوفان، (ذ) ۱-۵) بہت الزام - بہت جھوٹا الزام لگانے والا۔ فتنہ انگیز، شر بر، فساد۔

تودیلج - (تودیلج، (ذ) ۱-۵) (۱) دوا کرنا، رخصت کرنا (۲) سپرد کرنا، سونپنا۔

توڈر - (توڈر، (ذ) ۱-۵) لاتی کے پاؤں کی زنجیر۔

توڈر - (توڈر، (ذ) ۱-۵) (۱) مٹی، (۲) جالی کی پوشش جو پالی پائینس پر ڈالتے ہیں۔

توڈر - (توڈر، (ذ) ۱-۵) (۱) ایک غلج جس کی دال پکاتے ہیں، (۲) روٹی۔

توڑ تیل تاپنا - (توڑ تیل تاپنا، (ذ) ۱-۵) (۱) تیل اور ایندھن ہوتے جاڑ بڑے آرام سے گڑ جانا ہے۔

توڑات - (توڑات، (ذ) ۱-۵) (۱) مٹ، (۲) دہ آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔

توڑع - (توڑع، (ذ) ۱-۵) (۱) مذہب، پریمیزگاری، اتقا۔

توڑہ - (توڑہ، (ذ) ۱-۵) (۱) قانون، طریق، رسم و رواج، دستور العمل (۲) (مجازاً) وہ قانون جو پیکیٹر خال نے وضع کیا تھا (۳) حکم شاہی۔

فرمان سلطان۔

توڑہ - (توڑہ، (ذ) ۱-۵) (۱) مختلف کھانوں کے خوان، جو امیر لوگ تعزیمات کے موقع پر بھیجتے ہیں (۲) خوان میں لگے ہوئے قسم قسم کے کھانے (۳) امیر نواب - وزیر (۴) غزدر، گھنڈ (۵) عزت - رتبہ - حیثیت۔

توڑہ بندی - (توڑہ بندی، (ذ) ۱-۵) مختلف کھاؤں کے خوان بھیجنے کی تقریب۔

توڑہ پوٹس - (توڑہ پوٹس، (ذ) ۱-۵) بانس کی تیلیوں کا سروپوش، جو تورے کے

خواروں پر رکھتے ہیں۔

توڑہ پٹی - (توڑہ پٹی، (ذ) ۱-۵) (۱) مفرد عورت - شیخی باز عورت۔

توڑہ توڑنا۔ (۱-۵) محاورہ، غزدر توڑنا، گھنڈ نکالنا۔

توڑہ تھانا۔ (۱-۵) محاورہ، (۱) غزدر کرنا (۲) اپنی بڑائی دکھانا، شیخی ماننا۔

توڑہ ڈھانا۔ (۱-۵) محاورہ، غزدر مٹانا۔

توڑہ لگ جانا، لگنا۔ (۱-۵) محاورہ، غزدر کرنا، اتزانا، فخر کرنا۔

تورے والی - (تورے والی، (ذ) ۱-۵) مفرد عورت۔

توری - (توری، (ذ) ۱-۵) (۱) ایک قسم کی ترکیب۔

توریا - (توریا، (ذ) ۱-۵) (۱) مسروس کا بیج یا بوا۔

توریت - (توریت، (ذ) ۱-۵) (۱) دھرم، (۲) دیکھنے، تورات۔

توڑ - (توڑ، (ذ) ۱-۵) (۱) ٹٹ، (۲) بیٹ، (۳) علاج، چارہ، دفعہ (۴) پانی کے بہاؤ کا زور (۵) شکاف، درز (۶) گولی یا گولے کی توڑنے کی قوت (۷) فاصلہ جو تیر یا گولے کرے (۸) دہی کا پانی (۹) وہ رسی جو پالی یا پائینس وغیرہ کے گڑ پر دے کر اڑانے سے روکنے کے لئے بانڈتے ہیں۔ تور (۱۰) ہیر کی قیمت کا فیصلہ، چکوٹا۔

توڑ بر - (توڑ بر، (ذ) ۱-۵) محاورہ، ضد پر۔

توڑ پھوڑ تار - (توڑ پھوڑ تار، (ذ) ۱-۵) (۱) ٹٹ، بیٹ، (۲) خرابی، پائمال (۳) سازش، اٹھاؤ۔

توڑ جوڑ - (توڑ جوڑ، (ذ) ۱-۵) (۱) تدبیر، سازش، داؤ بیج، (۲) کانٹ بھانٹ، قطع و برید (۳) چال بازی، مکاری، شرارت (۴) دانائی، عقل مندی (۵) دوا دہوں میں ناقصاتی ڈھونڈنے کا طریقہ (۶) تراش تراش۔

توڑ جوڑ جھلنا - (توڑ جوڑ جھلنا، (ذ) ۱-۵) محاورہ، چال چلنا۔

توڑ جوڑ کا اُستاد (لوہا) ہے - (توڑ جوڑ کا اُستاد (لوہا) ہے، (ذ) ۱-۵) (۱) بڑا چلتا پڑتا ہے۔ بڑا معاش ہے۔

توڑ لٹا - (توڑ لٹا، (ذ) ۱-۵) محاورہ، (۱) جواب دہ۔

توڑ لوٹنا، ڈالنا - (توڑ لوٹنا، ڈالنا، (ذ) ۱-۵) محاورہ، توڑنا۔

توڑ کرنا - (توڑ کرنا، (ذ) ۱-۵) محاورہ، (۱) داؤ کا رد کرنا (۲) حساب صاف کرنا (۳) داؤں کا رد کرنا (۴) جواب دہ کرنا۔

توڑ کی صراحی - (توڑ کی صراحی، (ذ) ۱-۵) (۱) صراحی جس کے حصے الگ الگ ہو جائیں۔

توڑ کے نکل جانا - (توڑ کے نکل جانا، (ذ) ۱-۵) محاورہ، کسی مضبوط چیز کے آپٹار ہونا۔

توڑ لانا - (توڑ لانا، (ذ) ۱-۵) محاورہ، الگ کرنا۔

توڑ لینا - (توڑ لینا، (ذ) ۱-۵) محاورہ، (۱) الگ کر لینا، (۲) اپنی طرف کر لینا (۳) توڑنا۔





تو کلت علی اللہ میں نے خدا پر بھروسہ کیا۔ اس وقت بولتے ہیں جب سب کچھ چھوڑ کر، خدا پر بھروسہ کر کے مہر لیتے ہیں۔

توکیل - (تورکین، وکیل کرنا۔ کام سپرد کرنا (۲) کسی پر کوئی کام چھوڑ دینا۔  
تول - (تول - (۱-۱۰ مذمت) (۱) وزن - جابج - اندازہ (۲) مقررہ وزن - (۳) ہم ستر - برابر (ق)

تول کتا سے - (۱- محاورہ) روپیہ وزن میں پورا نہیں۔

تول لینا - تولنا - (۱- محاورہ) (۱) وزن کرنا - آزما لینا - جابج لینا (۲) وقت اور قابلیت کی جابج کرنا - امتحان کرنا (۳) تلوار کو ہاتھ میں لے کر جابجنا - (۴) محبت کی آزمائش کرنا (۵) بات کو اچھی طرح سمجھنا۔

توللا - (توللا) (۱- مذ) بازار میں تولنے کا کام کرنے والا۔

توللا - (تول - (۱- مذ) (۱) محبت رکھنا (۲) محبت - الفت - پیار۔

توللا - (توللا) (۱- مذ) بارہ ماشے کا وزن۔

توللا بھر - (۱- صفت) وزن میں ایک توللا۔

توللا بھر کی آرسی - (۱) (۱) غصہ استوگ کر کے بہت احسان جتانے کے نانی بولے فارسی موعظ پر کہتے ہیں۔ نقلی یا سنی کے موعظ پر بھی کہتے ہیں۔

توللا ماشہ - (۱- صفت) غیر مستقل مزاج۔ وہ جو گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ ہو۔

توللائی - (تول - (۱- صفت) (۱) محبت رکھنے والا شخص (۲) شیول

تولد - (تول - (۱- صفت) (۱) پیدا ہونا (۲) پیدائش - جنم۔

تولواں - (تول - (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولہ - (تولہ) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولیا - (تول - (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولیت - (تول - (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولیت نامہ - (تول - (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولید - (تولید) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمار - (تولمار) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمان - (تولمان) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

تولمرا - (تولمرا) (۱- صفت) (۱) بھاری - وزنی (۲) جس پر بہت سا طوائی کام

(۲) وہ کھانا جو مڑے کے ساتھ لے جاتے ہیں اور اُسے دفن کرنے کے بعد فقرا میں تقسیم کر دیتے ہیں (۳) کسی دلی یا بزرگ کی فاتحہ کھانا جو عرس کے دن تقسیم کیا جاتا ہے۔

توشہ خانہ - توشے خانہ - (۱- مذ) وہ مکان جہاں کپڑے اور گھر کا سامان رکھا جائے۔

توشہ عاقبت - (ف-ع-۱- مذ) آخرت کا سامان - اعمال نیک۔

توشے کی روٹی - (۱- صفت) کھانا جو لاش کے دفن کرنے پر تقسیم کرتے ہیں۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) آرائش کرنا - سجانا (۲) علم بیان کی ایک صفت جس میں شعروں کا پہلا حرف یا مصرعوں کے شروع کا ایک

ایک لفظ لینے سے کوئی عبارت بن جائے۔

توصیف - (توصیف) (ع-۱- صفت) (۱) وصف کرنا - خوبی بیان کرنا (۲)

صفت - خوبی۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) واضح کرنا - کھول کے بیان کرنا (۲) شرح

وضاحت (۳) قانون، مالگداری کا نقشہ - جمع، توضیحات۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) اشرہ کرنا - ٹھیک کرنا (۲)

پر پست کرنا - ہاڑ کرنا - عزت ڈھانا۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) وطن بنانا - وطن اختیار کرنا۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) ایک کام میں بہت لگا رہنا۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تویح - (تویح) (ع-۱- صفت) (۱) شورو غوغا (۳) الزام۔

تو مریا - (تو مریا) - (۱) مذہب بہت باریک اور عمدہ کتاب ہوا سوت۔  
 توں تال کرنا - (۱) محاورہ) تو توئیں میں کرنا۔ گالی گلوچ کرنا۔ بڑانا۔ جھگڑانا۔  
 توکن - (توکن) - (۱) مذہب) - (۲) رجم - (۳) بچہ دان (۴) حمام (۵) بھٹا (۶) کھورا۔  
 توکنا - (تو کنا) - (۱) مص) جانور کا عمل کرنا۔  
 توئنا - (توئنا) - (۱) مذہب) ایک قسم کا تلخ لکڑو جس کا چھلکا بہت موٹا  
 ہوتا ہے اور غیر کھٹا کر کھول بناتے ہیں۔  
 توئی - (توئی) - (۱) مذہب) (۲) جھوٹا کھول (۳) جھوٹا کدو۔  
 توئی یا کھ میں لینا - (۱) محاورہ) فقیر بننا۔ جوگی بننا۔  
 توئند - (۱) مذہب) بڑا پیٹ۔  
 توئند - (۱) توئند پیٹ کا اقباج۔  
 توئندالا - توئندال - توئندو - (۱) صفت) بڑے پیٹ والا۔  
 توئس - (۱) مذہب) (۲) وہ پیاس، جو کسی طرح نہ بجھے (۳) دھوپ  
 کی شدت۔  
 توئسنا - (توئسنا) - (۱) مص) (۲) آفتاب کی گرمی سے بے تاب یا مضمحل  
 ہونا (۳) سخت پیاس لگانا۔  
 توئگر - (توئگر) - (۱) صفت) مالدار۔ دولت مند۔ امیر۔  
 توئگری - (توئگری) - (۱) مذہب) دولت مندی۔ خوشحالی۔  
 توئگری بدل سمت نہ مال - (توئگری) - (۱) صفت) امیری دل سے ہوتی  
 ہے مال سے نہیں۔  
 توئم - (توئم) - (۱) مذہب) (۲) دوسرا۔ شک۔ گمان۔  
 توئیں - (توئیں) - (۱) مذہب) (۲) بے عزتی۔ ذلت۔  
 توئین عدالت - (توئین) - (۱) صفت) عدالت کی ہتک۔ کوئی ایسا لفظ عام  
 صحیح سمانے کہہ دینا یا کوئی ایسا کام کرنا۔ جس سے عدالت کی اختیار پائی  
 جاتی ہو۔  
 توئی - (توئی) - (۱) مذہب) کپڑے پر بنی ہوئی ایک قسم کی بیل جو دو پٹوں  
 وغیرہ کے کنارے پر لگاتے ہیں۔  
 توئی - (توئی) - (۱) مذہب) بڑا تو۔ جس پر ایک ہی وقت میں بہت  
 سی روٹیاں پک سکتی ہیں۔  
 توئی کی روئی - (توئی) - (۱) مذہب) جو توئی پر پکائی جائے۔  
 توئی کی تیری یا تھ کی تیری - (توئی) - (۱) صفت) دوسرے کی جلدی کا اظہار  
 کرنے کے لیے کہا جاتا ہے (۲) بہت فائدہ میرا کھوڑا تیرا۔

ت - و - ت - و -

تہ - (تہ) - (۱) مذہب) (۲) پھلا۔ (۳) پھلا۔ (۴) پھلا۔ (۵) پھلا۔ (۶) پھلا۔ (۷) پھلا۔ (۸) پھلا۔ (۹) پھلا۔ (۱۰) پھلا۔ (۱۱) پھلا۔ (۱۲) پھلا۔ (۱۳) پھلا۔ (۱۴) پھلا۔ (۱۵) پھلا۔ (۱۶) پھلا۔ (۱۷) پھلا۔ (۱۸) پھلا۔ (۱۹) پھلا۔ (۲۰) پھلا۔ (۲۱) پھلا۔ (۲۲) پھلا۔ (۲۳) پھلا۔ (۲۴) پھلا۔ (۲۵) پھلا۔ (۲۶) پھلا۔ (۲۷) پھلا۔ (۲۸) پھلا۔ (۲۹) پھلا۔ (۳۰) پھلا۔ (۳۱) پھلا۔ (۳۲) پھلا۔ (۳۳) پھلا۔ (۳۴) پھلا۔ (۳۵) پھلا۔ (۳۶) پھلا۔ (۳۷) پھلا۔ (۳۸) پھلا۔ (۳۹) پھلا۔ (۴۰) پھلا۔ (۴۱) پھلا۔ (۴۲) پھلا۔ (۴۳) پھلا۔ (۴۴) پھلا۔ (۴۵) پھلا۔ (۴۶) پھلا۔ (۴۷) پھلا۔ (۴۸) پھلا۔ (۴۹) پھلا۔ (۵۰) پھلا۔ (۵۱) پھلا۔ (۵۲) پھلا۔ (۵۳) پھلا۔ (۵۴) پھلا۔ (۵۵) پھلا۔ (۵۶) پھلا۔ (۵۷) پھلا۔ (۵۸) پھلا۔ (۵۹) پھلا۔ (۶۰) پھلا۔ (۶۱) پھلا۔ (۶۲) پھلا۔ (۶۳) پھلا۔ (۶۴) پھلا۔ (۶۵) پھلا۔ (۶۶) پھلا۔ (۶۷) پھلا۔ (۶۸) پھلا۔ (۶۹) پھلا۔ (۷۰) پھلا۔ (۷۱) پھلا۔ (۷۲) پھلا۔ (۷۳) پھلا۔ (۷۴) پھلا۔ (۷۵) پھلا۔ (۷۶) پھلا۔ (۷۷) پھلا۔ (۷۸) پھلا۔ (۷۹) پھلا۔ (۸۰) پھلا۔ (۸۱) پھلا۔ (۸۲) پھلا۔ (۸۳) پھلا۔ (۸۴) پھلا۔ (۸۵) پھلا۔ (۸۶) پھلا۔ (۸۷) پھلا۔ (۸۸) پھلا۔ (۸۹) پھلا۔ (۹۰) پھلا۔ (۹۱) پھلا۔ (۹۲) پھلا۔ (۹۳) پھلا۔ (۹۴) پھلا۔ (۹۵) پھلا۔ (۹۶) پھلا۔ (۹۷) پھلا۔ (۹۸) پھلا۔ (۹۹) پھلا۔ (۱۰۰) پھلا۔

تہ بہ تہ - (۱) بہرہ میں (۲) ایک کے نیچے ایک تہ (۳) طبق طبق (۴) تہ کے اندر تہ۔  
 تہ بند - (تہ بند) - (۱) مذہب) (۲) پاجامے کی مہلے باندھنے کا پٹرا (۳) دھوقہ ننگی  
 تہ بندی - (تہ بندی) - (۱) مذہب) (۲) کتاب کی جز بندی (۳) وہ رنگ جو کپڑے  
 کو اصلی رنگ سے پہلے دیتے ہیں۔  
 تہ بانا - (تہ بانا) - (۱) محاورہ) اصل مطلب کو پالینا۔ حقیقت دریافت کر لینا۔  
 تہ توئشی - (تہ توئشی) - (۱) مذہب) زمانہ پاجامہ جو ساڑھی کے نیچے پہنا جاتا ہے۔  
 تہ توئج - (تہ توئج) - (۱) مذہب) پگڑی کے نیچے کا کپڑا۔ بطانہ۔  
 تہ (کوڑ دینا) توڑنا - (۱) محاورہ) (۲) سب کھا جانا۔ کچھ نہ چھوڑنا۔ برتن  
 پھاٹ جانا (۳) سب کچھ صاف کر دینا۔ کچھ باقی نہ رکھنا (۴) حقان کی  
 بیخبری کھول دینا۔  
 تہ تیغ کرنا - (۱) محاورہ) تلوار سے قتل کرنا۔  
 تہ توٹ جانا) توٹنا - (۱) محاورہ) (۲) منسل ہو جانا۔ دیوالہ نکلنا۔  
 (۳) کپڑے کا حقان کھل جانا۔  
 تہ جمانا - (۱) محاورہ) (۲) ایک تیز کے اوپر دوسری چیز ملا کر رکھنا۔ اوپر تلے  
 رکھنا۔ کمانے پر رکھنا۔  
 تہ جہنا - (۱) محاورہ) کسی رقیق چیز کے نیچے کے حصے کا جم جانا۔  
 تہ خاک - (تہ خاک) - (۱) صفت) زمین کے نیچے۔  
 تہ خانہ - (تہ خانہ) - (۱) مذہب) (۲) سرد خانہ (۳) وہ مکان جو مکان کے اوپر سطح  
 زمین کے نیچے بناتے ہیں۔  
 تہ دار - (تہ دار) - (۱) صفت) (۲) پیچیدہ مشکل۔ دقیق (۳) غاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔  
 تہ داری - (تہ داری) - (۱) مذہب) (۲) گہرائی (۳) وقت۔ مشکل۔ پیچیدگی۔  
 تہ دام آنا - (۱) محاورہ) حال میں پھینا۔ بڑا جانا۔ گرفتار ہونا۔ قابو میں آنا۔  
 تہ درز - (تہ درز) - (۱) صفت) (۲) بالکل نیا (۳) نیا کپڑا جس کی تہ نہ ٹوٹی ہو۔  
 تہ دل سے - (تہ دل سے) - (۱) صفت) غلوں سے۔ پیچھے دل سے۔  
 تہ دلی - (تہ دلی) - (۱) صفت) قلب۔  
 تہ (دیک) دیک - (تہ دیک) - (۱) مذہب) کھڑن۔ نیچے کا کھانا۔ جس میں گھی  
 زیادہ ہوتا ہے۔  
 تہ دینا - (تہ دینا) - (۱) محاورہ) (۲) کسی چیز کا نیچے اوپر رکھنا (۳) اصل رنگ سے پہلے  
 ہلکا رنگ دینا۔ (۴) استر لگانا (۵) کچے پھلوں کو پھوس کی تہ میں رکھنا۔  
 تہ کا - (تہ کا) - (۱) صفت) (۲) پیچیدہ مشکل۔ دقیق۔  
 تہ کا سجا - (تہ کا سجا) - (۱) صفت) (۲) وہ کپڑا جو کھڑن سے بھولے۔  
 تہ کر رکھو - (تہ کر رکھو) - (۱) متقول) بے عرضی اور بے پروائی کے موعظ پر بولتے ہیں۔  
 رکھ چھوڑو۔ اب نہیں چاہیے۔  
 تہ کرنا - (تہ کرنا) - (۱) محاورہ) (۲) ٹھیک طور سے لپیٹنا (۳) فیصلہ کرنا۔ تصفیہ کرنا (۴)  
 چھوڑنا۔ ترک کرنا۔  
 تہ کو (باننا) پھیننا - (۱) محاورہ) (۲) اصل مطلب دریافت کر لینا (۳) کسی  
 بات کی حقیقت کو سمجھ جانا۔  
 تہ کی بات - (تہ کی بات) - (۱) مذہب) اصل بات۔ گڑ۔  
 تہ لگانا - (تہ لگانا) - (۱) محاورہ) کپڑے کو ٹھیک طور سے لپیٹنا۔

تہ مارنا - (۱- محاورہ) (۱) گھوڑے کی ایک بیماری جس میں سخت پیاس لگتی ہے۔  
 تہ ملانا - (۱- محاورہ) جوڑا لگانا۔ نر کے ساتھ مادہ کو ملانا۔  
 تہ میں بیٹھ جانا - (۱- محاورہ) (۱) نیچے بیٹھ جانا۔ ڈوب جانا (۲) کسی کے دل میں ٹھکرنا۔ بھید لے لینا۔  
 تہ نال - (ف - ۱- مذ) (۱) لوہے کا ٹکڑا جو تلوار کے قبضے کے نیچے ہوتا ہے۔ (۲) نیام کے نیچے کا حصہ جس میں تلوار کا پھلپلا رہتا ہے۔  
 تہ نامہ - (ف - ۱- مذ) افران نامہ۔ عہد نامہ۔  
 تہ نشان - (ف - ۱- مذ) وہ سونے یا چھاترات کا کام جو تلوار کے قبضے پر ہوتا ہے  
 تہ نشین - (ف - ۱- مذ) (۱) نیچے یا تہ میں بیٹھے والا (۲) ذہن میں آجانے والا۔ دل میں بیٹھ جانے والا (۳) ٹچھٹ۔  
 تہ نکالنا - (۱- محاورہ) اصل بات کو باجانا۔ رمز پہچاننا۔  
 تہ نہیں ٹوٹی - (۱- محاورہ) کپڑا بالکل نیا ہے۔  
 تہ و پالا - (ف - ۱- صفت) زبردستی نیچے اور اٹھٹ پلٹ۔  
 تہا ہی رکھ چھوڑنا - (۱- محاورہ) احتیاط سے رکھنا۔ استعمال میں نہ لانا۔  
 تہاں - (ت - ہاں) (۱) وہاں۔ اُس جگہ۔ (۲) تب۔ اس موقع پر۔  
 تہانا - (ت - ہاں) (۱) وہ (مص) نہ کرنا۔  
 تہاؤن - (ت - ہاؤن) (۱- مذ) (۱) نفرت۔ حقارت (۲) غفلت۔  
 تہا پروائی - سُستی۔  
 تہلی - (ت - ہا) (۱- مذ) تیسرا حصہ۔  
 تہنج - (ت - ہنج) (۱- مذ) پھرے کی بھر بھر اٹھ۔ سوچن۔ دم۔  
 تہتیر - (ت - ہت) (ت - ہت) تین اور پندرہ بہتر کے بعد کا عدد۔ ۳۔  
 تہتیک - (ت - ہت) (ت - ہت) (۱- مذ) (۱) پردہ دری (۲) بے عزتی۔  
 تہجد - (ت - ہج) (۱- مذ) (۱) رات کو جاگنا (۲) نماز جو آدمی رات کو پورے بعد پڑھی جاتی ہے۔  
 تہجد گزار - (ت - ہج) (۱) آدمی رات کے بعد نماز پڑھنے والا (۲) (مجازاً) پرہیزگار۔  
 تہجی - (ت - ہج) (۱- مذ) (۱) حرف مفرد کا پڑھنا۔  
 تہمدید - (ت - ہمد) (۱- مذ) (۱) تینہ۔ سرزنش۔ دھمکی۔ گھر کی۔  
 (۲) ڈرانا۔ دھمکانا۔  
 تہذیب - (ت - ہذ) (۱- مذ) (۱) آراستگی۔ معنائی۔ اصلاح۔  
 (۲) شائستگی۔ خوش اخلاقی۔ (انگ) (Culture)  
 تہذیب اخلاق - (ت - ہذ) (۱- مذ) (۱) اخلاق کی درست و خوش اخلاقی انسانیت  
 تہذیب یافتہ - (ت - ہذ) (۱- مذ) تربیت یافتہ۔ تعلیم یافتہ۔  
 شائستہ۔ تہذیب۔  
 تہرا - (ت - ہرا) (۱- مذ) (۱) لگانا۔ سرچند (۲) تین شہ کا (۳) تین لڑکا۔  
 (۴) تین قسم کا تین طرح کا۔  
 تہرانہ - (ت - ہرا) (۱- مذ) (۱) تیسری دفعہ کہنا (۲) کسی کام کو تیسری دفعہ  
 تہری - (ت - ہری) (۱- مذ) (۱) ایک مشہور کھانا جو چاولوں میں بڑی یا گوشت

ڈال کر پکاتے اور ہلدی کا رنگ دیتے ہیں۔  
 تہری - (ت - ہری) (۱- مذ) (۱) ہترا کا نمونہ۔ تین گئی۔  
 تہری سواری - (ت - ہری) (۱- مذ) (۱) پانچ وغیرہ میں تین آدمیوں کا سوار ہونا۔  
 تہرتج - (ت - ہرتج) (۱- مذ) (۱) مال گزاری سے متعلق ایک قسم کا کاغذ۔  
 تہس تہس - (ت - ہس) (۱- مذ) (۱) تباہ۔ برباد۔ خراب۔ اچھاڑ۔  
 تہس تہس گئی - (ت - ہس) (۱- مذ) (۱) غارت۔  
 تہس تہس گئی - (ت - ہس) (۱- مذ) (۱) غارت ہونا۔ تباہی (۲) موت۔  
 تہنگہ - (ت - ہنگ) (۱- مذ) (۱) ہلاکت۔ موت (۲) غارت ہونا۔ تباہی (۳) (۱) شور۔ جوفنا۔ کھلبلی۔ آفت۔ بہرام (۲) دہشت۔ خوف۔  
 تہنگہ (طربنا) چھینا - (۱- محاورہ) بہرام چھینا۔ آفت بپا ہونا۔  
 تہتیل - (ت - ہتیل) (۱- مذ) (۱) لالہ لالا اللہ کہنا۔  
 تہمت - (ت - ہمت) (۱- مذ) (۱) الزام۔ بہتان۔ جھوٹا الزام۔  
 تہمت تراشنا - تہمت جوڑنا۔ تہمت دھرنا۔ عیب لگانا۔ الزام لگانا  
 تہمت دینا۔ تہمت رکھنا۔ تہمت لگانا (۱) بہتان بانڈھنا۔  
 تہمت مہر لگانا - (۱- محاورہ) الزام لگانا۔ متہم ہونا۔  
 تہمت کا گھر - تہمت کی سٹی - (۱- صفت) (۱) بدنامی یا عیب کی جگہ۔  
 (۲) وہ چیز جس میں بدنامی کا اندیشہ ہو (۳) ایسا شخص جس کی ملاقات سے الزام لگے (۴) وہ شخص جو ہر ایک کو الزام لگائے۔  
 تہمت لے مرنا - (۱- محاورہ) الزام لگانا۔ عیب لگانا۔ بہتان بانڈھ دینا۔  
 تہمتن - (ت - ہمتن) (۱- مذ) (۱) بڑے جتنے یا بدن کا آدمی (۲) بہادر۔  
 تہمیر - (ت - ہمیر) (۱- مذ) (۱) شجاع۔ برسم کا لقب۔  
 تہمتی - (ت - ہمتی) (۱- مذ) (۱) (ف - ۱- صفت) (۱) وہ شخص جس پر تہمت لگائی جائے (۲) تہمت لگانے والا۔  
 تہمتیں تراشنا - (۱- محاورہ) خواہ مخواہ تہمت لگانا۔ جھوٹی تہمت لگانا۔  
 تہمتی - (ت - ہمتی) (۱- مذ) (۱) تہمت لگانا۔ مبارکباد۔ مبارکباد دینا یا لینا۔  
 تہمتیت نامہ - (ت - ہمتیت) (۱- مذ) (۱) مبارکباد کا خط۔  
 تہتید - (ت - ہتید) (۱- مذ) (۱) کسی غیر زبان کے لفظ کو مندی بنا لینا۔  
 تہوار - (ت - ہوار) (۱- مذ) (۱) خوشی کا دن۔ مذہبی تقریب کا دن۔  
 تہواری - (ت - ہواری) (۱- مذ) (۱) بہادری۔ مردانگی۔ دلیری۔ شجاعت۔  
 تہواری - (ت - ہواری) (۱- مذ) (۱) بہادری۔ دلیری۔  
 تہوی - (ت - ہوی) (۱- مذ) (۱) صفت خالی۔ جس میں کوئی چیز نہ ہو۔  
 تہوی دست - (ت - ہوی) (۱- مذ) (۱) خالی ہاتھ۔ بظلم۔ عزیز۔  
 تہوی دستان قسمت - (ت - ہوی) (۱- مذ) (۱) قسمت لوگ۔  
 تہوی دستان قسمت - (ت - ہوی) (۱- مذ) (۱) قسمت راچہ سودا اور مہر کامل۔ (ف - ۱- مذ) (۱) بد قسمت لوگوں کو کسی سے بھی فیض نہیں پہنچ سکتا۔  
 تہوی دستی - (ت - ہوی) (۱- مذ) (۱) منگی۔ ناداری۔ عزبت۔  
 تہوی دماغ - (ت - ہوی) (۱- مذ) (۱) جاہل۔ بے وقوف۔  
 تہوی گاہ - (ت - ہوی) (۱- مذ) (۱) کوٹھ۔ سڑک سے اوپر اور پہلو سے نیچے کا حصہ۔















ہندکوں کے خیال کے مطابق تیسرا بڑا مسعود اور تیسری بیٹی خوش ہوتی ہے۔  
**تیسری** - (تبت - ری) (۱-۵) [مث] (۱) تیسرے کی تائینت (۲) ایک خوب صحبت  
 - مدد پر دل والا کیڑا۔ جھینیری - ستی (۳) خوش پوشک شوخین عورت۔  
 - بی بی (بی بی) (۱) [مث] آواز جس سے مرغیوں کو بلاتے ہیں۔  
**تیسریں** - تیسریں (تے - تیس) - (تیس - تیس) (۵) [مث] تین اوپر تیس۔  
 - سی دوسرے - ۳۳۔

**تیسری** - (تے - تیسری) (۱) [مث] ایک بزنڈے کا نام۔  
**تیس** - (۱-۵) [مث] (۱) گڑاواہٹ - تلخی (۲) جوش - سرگرمی - کھیا - گڑوہ - جوصد۔  
 (۳) بہت - طاقت - قوت - بل - زور (۴) گرم جوشی - اشتیاق - لگن۔  
 (۵) غصہ - غضب (۶) شان - شوکت - جاہ و جلال - ٹھانڈے (۷) رعب۔  
 ڈر خوف (۸) ایک درخت۔

**تیس** - (تیس) (۱-۵) [مث] (۱) جیسے کی تیسری تاریخ (۲) ایک ہندو تہوار جو  
 سادوں سدی تہج کو ہوتا ہے۔  
**تیس** پڑے **کھیت** میں **تیس** - (مث) سادوں کی تیسری تاریخ کو فصل کی  
 کاشت شروع ہو جاتی ہے۔

**تیس** تہوار - (۱-۵) [مث] (۱) کوئی تہوار۔ تیولار کی شیرونی۔  
**تیس** - (تی - جا) (۵) [مث] (۱) تیسرا (۲) مسلمانوں میں مرنے کے بعد تیسرا  
 دن - فاتحہ سوم۔

**تیس** **یات** - (تیس - یات) (۱-۵) [مث] ایک خوشبودار پتہ۔  
**تیس** - (تیس - نا) (۵) [مث] چھوڑنا - تھنا - تباہ کرنا۔  
**تیس** - (تی - جی) (۱) [مث] (صحیح - تیکھی) (۱) تیز - شوخ - تیتا مریج (۲)

خام پارہ (۳) زبان دراز - بے جا عورت - فتنہ پرداز۔  
**تیس** - (۱-۵) [مث] (۱) ٹکڑی کا پتلا - سیدھا اور لہلا گڑا - ایک قسم کا جھکی ہتھیار  
 جو کمان میں رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ خدنگ - ناڈک - بان (۲) ایرانیوں کا  
 پوتھا ہینڈہ جو سادوں کے مقابلے پر ہے (۳) تیس کا دو تار (۴) پتنگ کا گڑ۔  
 (۵) شہتیر بستول (۶) عطار - دیر فلک (۷) طعن و تشنیع (۸) ہر شئی  
 جیسے کا تیس حوالا دن۔

**تیس** - (۱-۵) [مث] (۱) ٹھنڈی سانس۔  
**تیس** ادا - (۱-۵) [مث] ناز و انداز، وجود پر اثر کرے۔  
**تیس** کرنا - (۱-۵) [مث] ہوا میں تیر کا جانا۔  
**تیس** - (۱-۵) [مث] تیر چلانے والا۔  
**تیس** - (۱-۵) [مث] تیر چلانے کا فن۔ تیر مارنا۔  
**تیس** انداز - (۱-۵) [مث] تیر چلانے والا سپاہی۔ تیر چلانے کا ماہر۔ قدر انداز  
 کمان دار۔

**تیس** اندازی - (۱-۵) [مث] تیر چلانے کا فن۔ ناڈک - لگنی کمان داری تیر چلانا  
**تیس** باراں - (۱-۵) [مث] (۱) تیر چلنے کی کثرت۔ تیروں کا ہینڈہ (۲) ایک  
 مسزاجس میں طرم کو تیروں سے مراد یا جاتا تھا۔  
**تیس** برسانا - (۱-۵) [مث] بہت سے تیر چلانا۔

**تیس** - (۱-۵) [مث] سخت مصیبت لانے والا تیر۔  
**تیس** - (۱-۵) [مث] (۱) محاورہ سخت رنج یا انداز دینا۔

**تیس** یا **تیس** کرنا - (۱-۵) [مث] (۱) باشتا تقسیم کرنا۔ جیسے بخرے کرنا (۲) کھیر  
 پاک کرنا۔ جھگڑا پکنا (۳) بیچ ڈالنا - کوڑے کر ڈالنا۔  
**تیس** - (تی - یار) [مث] (۱) مستند - موجود - آمادہ (۲) پورا - مکمل (۳)  
 موٹا تازہ (۴) قابل استعمال (۵) پکا ہوا - پختہ (۶) پورے زوروں پر  
 جوان (۷) آراستہ۔

**تیس** کرنا - (۱-۵) [مث] (۱) آمادہ کرنا (۲) درست کرنا - لیس کرنا (۳) بہم  
 پہنچانا (۴) کھانا پکنا (۵) بلانا - سدھارنا (۶) موٹا کرنا - فزیکرنا (۷)  
 پہنچانے کو کسرت اور خوراک سے طاقت و راور لڑنے کے قابل بنانا۔  
 (۸) گاڑی جوتنا - گھوڑے پر زین رکھنا۔

**تیس** ہونا - (۱-۵) [مث] (۱) آمادہ ہونا (۲) موٹا تازہ ہونا (۳) مکمل ہو جانا  
 یا بن جانا۔ عمارت کا ختم ہو جانا (۴) یک جانا۔

**تیس** - (تی - یار) (ری) (۱) [مث] (۱) آمادگی مستعدی (۲) درستی (۳)  
 آرائش - آرائشی (۴) سامان کی درستی (۵) مثابا - فزہی (۶) انتظام۔  
**تیس** کا **رنگ** **روغن** - (۱-۵) [مث] (۱) وہ دانرش یا رنگ جو گاڑی وغیرہ  
 کے درست ہو جانے پر چمک دک کے لیے کرتے ہیں۔

**تیس** کرنا - (۱-۵) [مث] (۱) کہیں جانے کا سامان کرنا - لیس ہونا (۲) کسی کی اوجھت  
 کا انتظام کرنا۔ کوئی کام کرنے کے لیے سامان مہیا کرنا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) چھوڑنا - ہاتھ اٹھانا - کنارہ کش ہونا۔

**تیس** - (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔  
**تیس** - (ت - یاک) (۱-۵) [مث] (۱) تھک کر ہونا۔ دست بردار ہونا۔ دست کش ہونا۔

تیر بہدف - (ف۔ صفت) (۱) عین نشا لے پر۔ ٹھیک جگہ پر بے خطا۔  
 (۲) مرتبہ التیخ۔  
 تیر بہدف ہونا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نشانے پر لگنا (۲) تدبیر کا  
 اتر ہونا (۳) دعا کا قبول ہونا (۴) مطلب کا خاطر خواہ پورا ہونا۔  
 تیر بہک جانا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نشانے پر نہ لگنا۔ ادھر ادھر نکل جانا۔  
 تیر بیٹھ جانا، بیٹھنا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نشانے پر جالگنا۔  
 تیر بار ہونا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نشانے توڑ کر گزر جانا۔  
 تیر پر تاب - (ف۔ ۱) مذ۔ وہ فاصلہ جو تیر طے کرے۔  
 تیر پڑنا - (۱) محاورہ (۵) تیر نشانے پر لگنا۔  
 تیر پھینچ جانا - (۱) محاورہ (۵) تیر پھینچ جانا۔  
 تیر چھینٹنا - (۱) محاورہ (۵) تیر چھلانا۔ بان مارنا۔  
 تیر تات کر مارنا - (۱) محاورہ (۵) نشانے لے کر مارنا۔  
 تیر ترازو ہونا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نصف اندر نصف باہر ہونا۔  
 تیر کٹلم - (کنایت) مظلوم کی آہ۔  
 تیر کٹنگ - (ف۔ ۱) مذ۔ کٹنگ کا چھرا۔  
 تیر کٹوں پر گزرا (گزران) ہونا - (۱) محاورہ (۵) باقاعدہ روزگار نہ  
 ہونا۔ مشکل سے گزر ہونا۔ در بدر پھر کر گزر ہونا۔  
 تیر جوڑنا - (۱) محاورہ (۵) تیر کمان میں چھلانے کے لیے لگانا۔  
 تیر چھلانا۔ تیر چھوڑنا - (۱) محاورہ (۵) تیر چھوڑنا۔ تیر بھینکنا۔ تیر اندازی  
 کرنا۔ تیر نشانے پر مارنا (۲) کار بظلم کرنا۔  
 تیر چھلنا۔ تیر چھوڑنا - (۱) محاورہ (۵) تیر کمان سے نکلنا۔ تیر اندازی ہونا۔  
 تیر چھٹی - (ف۔ ۱) مذ۔ وہ تیر جو نشانے خزانہ کرے۔ شرٹہ تیر۔ دعوے  
 کا نشانہ۔  
 تیر خاکی - (ف۔ ۱) مذ۔ ایک تیر ہلکا چھوٹے سرے کا۔  
 تیر خدنگ - (ف۔ ۱) مذ۔ درخت خدنگ کا بنا ہوا تیر۔  
 تیر خوردہ - (ف۔ صفت) (۱) تیر لگا بجا۔ تیر کا زخمی (۲) بجاڑا (عاشق۔  
 تیر دان - (ف۔ ۱) مذ۔ ترش۔  
 تیر دما - تیر کا دعا سے استعارہ کرتے ہیں۔  
 تیر دعا بدف مڑا پر پھینچنا - (۱) محاورہ (۵) دعا قبول ہونا۔  
 تیر دو پہلو - وہ تیر جس کے دونوں پہلو ہوں۔  
 تیر گوب جانا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نشانے میں گھسنا۔  
 تیر گوب گئے رہ جانا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نشانے میں گھس کے رہ  
 جانا یا باہر نہ نکلنا۔  
 تیر گس - (ف۔ ۱) مذ۔ وہ فاصلہ جہاں تک تیر جائے۔ تیر کی مار۔  
 تیر گرا کرنا - (۱) محاورہ (۵) تیر چھلانا۔ تیر کمان سے چھوڑنا۔  
 تیر زرن - (ف۔ صفت) تیر چھلانے والا۔  
 تیر زرنی - (ف۔ ۱) امت۔ تیر اندازی۔  
 تیر کس طرح سیدھا۔  
 تیر س لگنا - (۱) محاورہ (۵) تیر کی طرح چھیننا (۲) کسی بات کا سخت برا لگنا۔  
 تیر سحر - (ف۔ ۱) مذ۔ (۱) صبح کی آہ (۲) بددعا (۳) صبح کا ذب کی فرشتی۔  
 تیر سہیلو - (ف۔ ۱) مذ۔ وہ تیر جس کے تین پہلو ہوں۔

تیر عشق سینے کے بار ہونا - (۱) محاورہ (۵) عاشق ہونا۔  
 تیر کلم - (ف۔ ۱) مذ۔ تیر کا نظم سے استعارہ کرتے ہیں۔  
 تیر فلک - (ف۔ ۱) مذ۔ عطار د۔ بڈھ۔  
 تیر قضا - (ف۔ ۱) مذ۔ قضا کا حملہ۔ موت۔  
 تیر کا خطا کرنا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نشانے پر نہ لگنا۔ نشانہ چوکنا۔  
 تیر کا دستہ - (ف۔ ۱) مذ۔ بہت سے تیروں کا مجموعہ۔  
 تیر کمان سے نکلنا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا چلنا۔  
 تیر کھانا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا زخم کھانا۔ تیر لگنا۔  
 تیر کی طرح سیدھا آنا - (۱) محاورہ (۵) بالکل سیدھا آنا۔  
 تیر کی مار - (۱) نش۔ (۱) اتنا ڈور جتنا کہ تیر بجائے۔  
 تیر کر - (ف۔ صفت) تیر بنانے والا۔  
 تیر گری - (ف۔ ۱) امت۔ تیر بنانے کا پیشہ۔  
 تیر لگانا - (۱) محاورہ (۵) تیر چھلانا۔  
 تیر لگنا - (۱) محاورہ (۵) تیر کا نشانے پر پھینچنا۔ نشانہ لگنا۔  
 تیر مار - (ف۔ ۱) مذ۔ سانپ کا دانت۔ سانپ۔  
 تیر مارنا - (۱) محاورہ (۵) تیر چھلانا۔  
 تیر مرگاں - (ف۔ ۱) مذ۔ مرگاں کا تیر سے استعارہ کرتے ہیں۔  
 تیر ناوک - (ف۔ ۱) مذ۔ (۱) چھوٹا تیر (۲) تیر جو نالی سے چھلایا جائے۔  
 تیر نختوں میں دینا - (۱) محاورہ (۵) بہت دق کرنا۔ سخت تنگ کرنا۔  
 تیر برشان کرنا۔  
 تیر نگاہ - (ف۔ ۱) مذ۔ نگاہ کا تیر مشوق کی نگاہ کا تیر سے استعارہ کرتے ہیں۔  
 تیر نگاہ کا صید بنانا - (۱) محاورہ (۵) عاشق بنا لیتا۔ کفر لغتہ کر لیتا۔  
 تیر نہ کمان کا ہے کے پھان - (مشل) خود کچھ نہ ہونا آباؤ اجداد کے  
 متعلق شیخی مارنا۔  
 تیر نہ کمان - میاں کا اللہ ٹکھبان - (مشل) حفاظت کی کوئی صورت  
 نہیں۔ خدای ہی بجائے۔  
 تیر نہیں تگاہی سہی - (۱) امت۔ اعلیٰ نہیں تو ادنیٰ ہی سہی۔ اچھی چیز نہیں  
 تو بری ہی سہی۔  
 تیر ہدف - (ف۔ صفت) نشانے پر بیٹھنے والا تیر۔ کامیاب تیر۔  
 تیر ہدف پر بیٹھنا - (۱) محاورہ (۵) تیر نشانے پر لگنا۔  
 تیر جوانی - (ف۔ ۱) مذ۔ (۱) تیر جو نشانے پر نہ چھلایا جائے بلکہ ہوا میں  
 چھوڑا جائے (۲) بے کار۔ فضول۔ بے فائدہ۔  
 تیر (جو جانا) ہونا - (۱) محاورہ (۵) غائب ہو جانا۔ گم ہو جانا۔ جاگ جانا۔  
 تیروں کا چھیننا - (۱) محاورہ (۵) تیروں سے زخمی ہونا۔  
 تیروں کا لینہ برسانا - (۱) محاورہ (۵) بہت تیر چھلانا۔ کثرت سے تیر چھلانا۔  
 تیرا - (تے۔ را۔) (۱) امت۔ (۱) ادنیٰ کے لیے کلمہ خطاب (۲) اس سے خدا کو بھی  
 خطاب کرتے ہیں۔  
 تیرا برانہ ہو - (۱) کوستا) عورتیں جب کسی عزیز سے ناراض ہوتی ہیں تو  
 تیرا بڑا ہوتی کہتی ہیں۔  
 تیرا بیڑا سرف ہو - (۱) کوستا) بددھل تو تباہ ہو جائے۔



تیزگی شب - (ف. مٹ) رات کی تاریکی۔

تیز میر - (تیز میر) (۵-۱۰ مٹ) بیگانگی برتنا۔

تیزنا - (تیزنا) (۵-۱۰ مٹ) پیرنا - سطح پر آجانا (۲) شادری (۳) ماہر ہونا - واقف ہونا۔

تیزہ - (تیزہ) (۵-۱۰ مٹ) تین اور درس - بارہ کے بعد کا عدد - ۱۳۔

تیزہ تالی - (۱۱) اور عورت جو تیزہ تالوں پر ناچ کے (۲) چالاک عیاں پرین۔

تیزہ تیزی - صفر کے مہینے کے پہلے تیزہ دن - جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غلیل ہوئے تھے - اس لئے عورتیں ان دنوں کو منحوس سمجھتی ہیں - صفر کا مہینہ۔

تیزہ - (تی. زہ) (ف. صفت) کالا سیاہ۔

تیزہ ابر - (ف. ۱. صفت) سیاہ بادل۔

تیزہ بخت - تیزہ روز - تیزہ روزگار - (ف. ۱. صفت) بد قسمت بد بخت۔

تیزہ بختی - (ف. ۱. مٹ) بد قسمتی - بد بختی۔

تیزہ دروں - (ف. صفت) سیاہ دل - لے ایمان - کا فر۔

تیزہ دل - (ف. صفت) سیاہ دل - ظالم - شریک شقی القلب۔

تیزہ رنگ - (ف. صفت) سیاہ - دھندلا سیلا۔

تیزہ (سسر) مغز - (ف. صفت) بے دقت - احمق۔

تیزہ وتار - (ف. صفت) بہت تاریک - اندھیرا کھپ۔

تیزہ وال - (تیزہ - وال) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ سے نسبت رکھنے والا تیزہ والی تیزہ یا دریتے پر۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) ہندوؤں میں مرنے کے بعد تیزہ وائی دن کی رسم - جب تیزہ بہن کھلائے جاتے ہیں اور مردے کا سوگ ختم کر کے کاروبار شروع کیا جاتا ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

تیزہ وائی - (تیزہ - وائی) (۵-۱۰ مٹ) تیزہ وائی کی تیزہ وائی کا زمانہ - جسے خراب اور منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ چودھویں صدی کے متعلق بھی یہی خیال ہے۔

سزا کا طالب ہو رہا ہے۔ تیزی مار رکھانے کی نیت ہے۔

تیزی قدرت کے قربان - (کلمہ تحسین و استعجاب) کوئی عجیب بات دیکھ کر یا سن کر یا خوشی میں کہتے ہیں۔

تیزی کرنی تیرے آگے - میری کرنی میرے آگے - (مثل) جس کے ساتھ نیکی کی ہو۔ اگر وہ بُرائی کرے تو کہتے ہیں جیسا تو نے کیا ہے اس کا مجھے بدلہ ملے۔ جیسا میں نے کیا ہے ویسا مجھے بدلہ ملے۔

تیزی کو دیکھ بیٹھوں اور تیزی ڈاڑھی نوچوں - (مثل) ناشکرے کو کہتے ہیں کہ جس سے فائدہ اٹھانے - اسی کو ذلیل کرے۔

تیز - (ف. صفت) تیزی کی آواز - شور۔

تیز - (ف. صفت) (۱) دھار دار (۲) تلخ - جڑ پوڑا (۳) زیادہ طاقت والا یا

مقدار والا (۴) جلد شباب (۵) چالاک - ہوشیار - ذہین (۶) بزم مزاج عقیل (۷) مضبوط - قوی (۸) شدید سخت (۹) غالب - ذوق رکھنے والا (۱۰) گرم - تپتا (۱۱) سرگرم - مستعد (۱۲) شریک - شوخ (۱۳) (نظر کی صفت میں) باریک ہیں - دور میں - غائر (۱۴) زخم یا آنکھ میں لگنے والا (۱۵) بہتر - بڑھ کر (۱۶) جلا دینے والا - زخم ڈالنے والا (۱۷) جوشیلا آتشیں مزاج (۱۸) مہنگا - گراں۔

تیز بال - تیز پر - تیز پرواز - (ف. صفت) جلد اڑنے والا۔

تیز برداری - (ف. صفت) تیز اڑنا۔

تیز چنگال - (ف. صفت) تیز چبھنے والا۔

تیز دست - (ف. صفت) جلد جملہ کام کرنے والا۔

تیز دستی - (ف. ۱. مٹ) جلد جملہ کام کرنا۔ جلدی کام کرنا۔

تیز دستی دکھانا - (۱) بخاوری - پھر کر دکھانا۔ جلد کام کرنا۔

تیز دم - (ف. صفت) جوشیلا۔

تیز ذراں - (ف. صفت) (۱) تیز ذراں والا (۲) (عجازاً) حریفوں - لالچی۔

تیز رفتار - (ف. صفت) (۱) جلد چلنے والا (۲) چالاک - پھرتلا۔

تیز رفتاری - (ف. صفت) (۱) جلد چلنا۔ جلدی رفتاری - (ف. صفت) تیز رفتاری۔

تیز روی کرنا - (ف. صفت) جلدی چلنا۔

تیز زبان - (ف. صفت) (۱) جلدی جلدی گفتگو کرنے والا (۲) مزہبٹ۔

تیز طبع - (ف. صفت) ذکی - ہوشیار۔

تیز طبعی - (ف. ۱. مٹ) ذہانت - ذکاوت - ہوشیاری۔

تیز بزم - (ف. صفت) جلدی سمجھنے والا - ذہین - ذکی۔

تیز بزمی - (ف. ۱. مٹ) جلدی سمجھنے کی قوت۔

تیز قدم - (ف. صفت) تیز چلنے والا۔

تیز قدمی - (ف. ۱. مٹ) جلد چلنا۔

تیز قائم - (ف. صفت) زبردست - جلدی لکھنے والا۔

تیز کرنا - (ف. صفت) (۱) بالکل نکالنا - بھار نکالنا (۲) زیادہ کرنا بڑھانا (۳) ناراض کرنا - خفا کرنا (۴) طاقت یا قوت بڑھانا بھگتے دلانا۔

تیز کام - (ف. صفت) جلد چلنے والا۔

تیز کامی - (ف. ۱. مٹ) جلد چلنا۔

تیز کوش - (ف. صفت) تیز سننے والا۔

تیز مزاج - (ف صفت) تیز مغز - تیز عقل - زود رنج -  
تیز مزاجی - (ف صفت) تندی بخیلایں -  
تیز ناک خون - (ف صفت) جس کے ناکخن دھار دار ہوں -  
تیز نظر - نگاہ - (ف صفت) جس کو دُور تک نظر آئے (۲) دُور بین  
باریک بین -

تیز و تند - (ف صفت) بہت تیز (۲) مدہوش کر دینے والی شراب -  
تیز ہوش - (ف صفت) عقل مند - صاحب لیاقت -  
تیز ہونا - (مضمر) مرکب (۱) دھار نکالی جانا - ہانڈھ لگی جانا (۲) خفا ہونا -  
تھنے ہونا (۳) ہنگام ہونا - کرال ہونا (۴) گرمی ہونا - حدت ہونا -  
تیزاب - (تے) زاب - (ف) (۱) مذہب ایک سیال مرکب جو بدن پر لگے ، تو  
اس کو جلا دیتا ہے اور کئی چیزوں کے رنگ کو بدل دیتا ہے - ہنایت  
تُرش - ایسڈ (Acid) <

تیزی - (تے) زئی - (ہ) (۱) مثلاً (۱) تندی (۲) گرم مزاجی - غضب ناک (۳)  
گرمی - حدت (۴) ضرورت خواہش (۵) ہنگام پن (۶) لگنے والی دوا کا  
اثر (۷) دھار دار ہونا -

تیزی کا جانند - (۱) مذہب صغر کے مہینے کا جانند -  
تیزی کرنا - (۱) محاورہ (۱) جلدی کرنا (۲) چالاک کرنا (۳) شوخی کرنا -  
تیزی ہونا - (۱) محاورہ (۱) جلدی ہونا (۲) تھنے ہونا - نا لاض ہونا -  
تیس - (۱) عدد (۲) صفت (۳) دس اور بیس - سی - ۳۰ -  
تیس دن - تیسوں دن - (۱) مذہب (۲) مہینہ (۳) گناہتہ - ہر روز - روزنہ -  
تیسے دن - تمام ماہ (۳) ہمیشہ - مدام - سدا - نت - دائم -  
تیس روز - (۱) مذہب مہینہ -

تیس مار خال - (۱) مذہب طنزاً بہادر آدمی -  
تیس مار خاں بنے پھرتے ہیں - (مثلاً) بڑے بہادر بنے پھرتے  
ہیں - بہت اگرتے ہیں - بہت اگرتوں دکھاتے ہیں -  
تیسوں کلام - (۱) مذہب قرآن شریف - جس کے تیس آ یا ہے ہیں -  
تیساً - (تے) سا - (ہ) صفت (۱) اسی طرح کا - جیسے کہ مقابل استعمال ہوتا ہے  
تیسرا اور ایسکے ساتھ (۲) اسی طرح پر رسو (۳) اس وقت - اس موقع پر -

تیسرے - (۱) مذہب (۲) آسان ہونا (۳) آسانی - سہولت -  
تیسرا - (۱) تیس - (۲) (۳) مہینہ (۴) دود کے بعد کا (۵) تین سے نسبت رکھنے والا -  
تیسرا آنکھوں میں ٹھیکرا - (مثلاً) دو شخص بائیں کرتے ہوں اور تیسرا  
آجائے ، تو برابر معلوم ہوتا ہے -  
تیسرا آنا - (۱) مذہب (۲) جزو الکعب - گھن - مول (۳) کسی رقم کا تیسرا آنا  
مدد جس کو تین دفعہ ضرب دینے سے اصل رقم نکل آئے جیسے آٹھ  
کا تیسرا آنا دو ہے - دو کو تین دفعہ آپس میں ضرب دو تو آٹھ آجائے گا -  
تیسرا پیر - (۱) مذہب دوپہر کے بعد کا پیر -  
تیسرا پیر کو مارے گا - (مثلاً) اس موقع پر بولتے ہیں - جب کوئی بڑوں  
شخص جو صلہ دلانے کے باوجود ہمت مارے بیٹھے -

تیسری - (تیس - ری) (ہ) صفت (۱) تیسرا کی تائید (۲) تین دفعہ ہل  
پہل ہونی زمین (۳) مہینے کا تیسرا دن -

تیسری تاریخ کا جانند - (۱) مذہب عورتیں اسے منحوس سمجھتی ہیں -  
تیسرے - (تیس - رے) (ہ) صفت (۱) تین کی تعداد ظاہر کرنے کو (۲) سوم  
تیسرے دن (فاتے) مردہ بھی حلال ہے - (مثلاً) مسلمانوں میں  
مردار حرام ہے ، مگر تین دن فاتے سے ہونے کے بعد اس کے کھانے کی  
اجازت ہے - (۲) مجبوری کی حالت میں ناروا بات بھی روا ہے -

تیسرے فاتے سے - (۱) محاورہ (۲) تین دن کے فاتے سے -  
تیسری - (تی - سی) (ہ) (۱) مثلاً (۱) اسی - کتاب (۲) تیس برس کی (۳) تیس برس  
کتاب سوم -

تیشہ - (تے) شہ - (ف) (۱) مذہب بڑھیوں کا ایک اوزار جس سے لکڑی تھوڑی  
تھوڑی پھیلتے ہیں - بسولا -

تیشہ زن - (ف صفت) بسولا پھلانے والا -  
تیشہ مارنا - (۱) محاورہ (۲) بڑھی کا کام کرنا -

تیغ - (ف) (۱) مثلاً (۱) تلوار - تیغ - جمع : تیغاں تیغیاں -  
تیغ آزمائی - (ف) (۱) مثلاً (۱) تلوار چلانا - تیغ زنی -

تیغ ابرو - (ف) (۱) مثلاً (۱) ابرو کا استعارہ تیغ سے کرتے ہیں -  
تیغ ابرو کا کھال ہونا - (۱) محاورہ (۲) عاشق ہونا -

تیغ انتقام کو نیام سے چھیننا - (۱) محاورہ (۲) بدلہ لینے کے لیے تیار ہونا -  
تیغ بھراں - (ف) صفت (۱) کاٹنے والی تلوار -

تیغ بردار - وہ شخص جو ننگی تلوار لے کر سوار کے ساتھ چلے -  
تیغ بکھن - (ف صفت) ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے - تلوار چلانے پر  
تیا - آگاہ - (۲) کو تیار -

تیغ بے پناہ - (ف) (۱) مثلاً (۲) وہ تلوار جس سے بچنا ناممکن ہو -  
تیغ لے دریغ - تلوار جو فی الفور نکالی جائے -

تیغ جو ہر دار - (ف) (۱) مثلاً (۲) وہ تلوار جس میں جو ہر کے نشان ہوں -  
تیغ جھاری - (ف) (۱) مثلاً (۲) بھاری تلوار -

تیغ (دو دستی) دو دویم - (ف) (۱) مثلاً (۲) وہ تلوار جس کے دونوں طرف  
دھار ہو - دو دھاری تلوار -

تیغ روال - (ف) (۱) مثلاً (۲) جلد کاٹنے والی تلوار -  
تیغ زبان - (ف) (۱) مثلاً (۲) زبان کی تلوار (۳) طنز پر گفتگو - بخندہ باتیں -

تیغ زبان سے زخمی کرنا - (۱) محاورہ (۲) سخت یا طنز پر باتوں کو سرج دینا -  
تیغ زن - (ف) (۱) مذہب تلوار چلانے والا - تیغ زن -

تیغ زنی ہر (ف) (۱) مثلاً (۲) تلوار چلانا - تیغ زنی -  
تیغ (ساز) کر - (ف) (۱) مذہب تلوار بنانے والا -

تیغ ستم - (ف) صفت (۱) ظلم کی تلوار - ظلم و ستم -  
تیغ فلک - (ف) صفت (۱) مرتب (۲) آسمان (۳) سورج کی کرین -

تیغ قلم - قلم کی تیزی کو تلوار سے استعارہ کرتے ہیں - سپاہی کی تلوار کی  
طرح اہل قلم اپنے مخالف کو قلم کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں -

تیغ را نیام رنج باشد - (ف) (مثلاً) جیسے کو تیسرا - جیسا آدمی ویسا  
تیغ سلوک - ویسے ہی دوست -

تیغ کوہ - (ف) (۱) مثلاً (۲) پہاڑ کی چوٹی -

تیل سلنا۔ (ص۔ مرکت) بھوہیں بڑھ ڈال کر تیل نکالنا۔  
تیل نکالنے ہی میں سے نکلتا ہے۔ (شل) (۱) ہر ایک چیز کا خرچ  
اس کی آمدنی ہی میں سے نکالا جاتا ہے (۲) رعایا پر جو خرچ ہوتا ہے  
اسی سے وصول کیا جاتا ہے۔

تیل ملی نہ اُپر پتلی۔ (شل) ہنایت نکالنا۔  
تیل نوا۔ (اصفت) بہت کالا۔ ایسا کالا ہے تو رے کی سیاہی تیل میں ملی ہو۔  
تیل جل جلا۔ (اصف) (۱) بوڑھا ہو گیا، متعین آگنی (۲) مال خرچ ہو چکا۔  
تیل جلے جلے۔ (شل) تیل تیز آگ پر گرم کرنے سے  
اچھا ہو جاتا ہے اور کھی خراب ہو جاتا ہے۔

تیل چڑھانا۔ (اصف) مایوں بٹھاتے وقت ہندوؤں کی ایک رسم جس  
میں تیل کے اور لڑکی کے سر ہاتھ پاؤں میں ہندی ملی جاتی ہے۔  
تیل چڑھنا۔ (اصف) شادی کی تیاری ہونا۔ تیل چڑھنے کی رسم ہونا۔  
تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ (شل) ابھی انتظار کرو۔ دیکھو کیا ہوتا ہے  
تیل کی بڑائی اور تازگی کی تعریف میں کہتے ہیں۔

تیل ڈال کبیل کا سا جا۔ (شل) ذرا سا کام کر کے ساری چیز کے دھیار  
کبیل بن کر اُسے جگ دینے کے لیے تیل لگاتے ہیں۔  
تیل ڈالنا۔ (اصف) (۱) تیل لگانا (۲) کسی چیز میں تیل پڑکانا۔  
تیل کی جلیبی تھوڑا دُور سے دکھائے۔ (شل) دھوکا دیتا ہے وعدہ  
کر کے پورا نہیں کرتا۔

تیل لگانا۔ (اصف) تیل لگانا۔ تیل سے چکنا کرنا۔  
تیل ماس۔ (اصف) (۱) تیل اور ماس جس سے صدقہ آتارہے ہیں (۲)  
صدقہ صدقہ۔

تیل ماش آتارنا۔ (اصف) (۱) عمارت، ایک رسم ہے۔ جب کوئی مسافر گھر واپس  
آئے یا بیاری سے اُٹھے تو اس کو تیل میں ماش ڈال کر منہ دکھاتے ہیں پھر  
یہ بھنگی کو دے دیتے ہیں۔

تیل ماش ہونا۔ (اصف) (۱) عمارت، صدقہ ہونا۔ قربان ہونا۔  
تیل نکنا۔ (ص۔ مرکت) تیل کی ماش کرنا۔  
تیل نکوانا۔ تیل کی ماش کرنا۔

تیل میں ہاتھ ڈالنا۔ (اصف) (۱) اگلے زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی  
شخص کسی بات سے منکر ہوتا تو وہ اپنی سچائی کے ثبوت میں جلتے تیل  
میں ہاتھ ڈال کر کہتا کہ اگر میں سچا ہوں، تو ہاتھ نہ جلے گا اور اگر بھوٹا ہوں  
تو جل جائے گا۔ چونکہ آگ کا کام جلا نا ہے۔ اس لئے اکثر چھوڑ کر مارے  
اس قسم کا نام لیتے ہی اقرار کر لیا کرتے تھے (۲) عمارت، سخت قسم کھانا۔  
تیل نکالنا۔ (اصف) (۱) عمارت، روغن کشی کرنا۔ بیجوں کو باہر تیل حاصل کرنا۔  
تیل پیلنا (۲) سخت محنت سے کام لینا۔ بہت کام لینا (۳) مست  
نکال لینا۔

تیل نکھل جانا (نکھنا)۔ (اصف) (۱) بیجوں سے تیل حاصل ہونا (۲)  
طاقت ضائع ہونا۔ سخت کمزور ہونا (۳) دوا نکل جانا۔  
تیل نہ مٹھائی۔ چوٹے دھری لٹھائی۔ (شل) پاس کچھ نہیں  
اور سچی بہت۔

تین کے گلے ملنا۔ (اصف) (۱) عمارت، تلوار کا مقابلہ کرنا۔  
تین گلے کر۔ (ص۔ ا۔ مٹ) گلا گٹنے والی تلوار۔  
تین لگانا۔ (اصف) (۱) عمارت، تلوار کا وار کرنا۔

تین محرف۔ (ص۔ ا۔ مٹ) خم دار تلوار۔  
تین لیکنا۔ (اصف) (۱) عمارت، تین چلنا۔

تین ہند۔ (ہندی) تین ہندی ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار جو تیزی  
اور مددگی میں مشہور تھی۔  
تین ناز۔ (ص۔ ا۔ مٹ) ناز و انداز کی تلوار۔ محبوب کے ناز و ادا کو تلوار  
سے استعارہ کرتے ہیں۔

تین و گفن باندھ کے جانا۔ (اصف) (۱) عمارت، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہونا  
تین ہلائی۔ (ص۔ ا۔ مٹ) ہر شے لال کی طرح غیر تلوار اس سے ابرو کو تیشہ بہی جاتی ہے۔  
تینوں سے جینکاریاں اڑنا۔ (اصف) (۱) عمارت، ایک تلوار کے دوسری  
تلوار پر لگنے سے شرار سے نکلنا۔

تینغا۔ (ص۔ ا۔ مٹ) (۱) لکٹی کا ایک داڑ (۲) محراب یا دروازے کا  
پہنا جانا (۳) چھوٹی چھڑی تلوار۔

تینغا کرنا (لگانا)۔ (اصف) (۱) عمارت، بند کر دینا چن دینا کسی سوراخ یا دروازے  
یا محراب کو اینٹ پتھروں سے بند کر دینا۔  
تینغہ۔ (ص۔ ا۔ مٹ) (۱) عمارت، چھوٹی تلوار۔

تینغہ آبدار۔ (ص۔ ا۔ مٹ) تیز تلوار۔ چمک دار تلوار۔ دھار دار تلوار۔  
تینغہ برق تاب۔ (ص۔ ا۔ مٹ) بجلی کی طرح چمکنے والی تلوار۔

تینقن۔ (ص۔ ا۔ مٹ) (۱) عمارت، اعتبار کرنا۔ اعتبار کرنا (۲) یقین۔ اعتبار  
رہ گیا۔ (۳) لکھا (۴) صفت (۵) تیز دھار والا۔ نوکدار (۶) ذہین (۷) تیز مزاج۔

(۸) چمک دار (۹) خوب صورت (۱۰) شوخ۔ چالاک (۱۱) بانگ چست  
(۱۲) گانے میں تیز آواز (۱۳) مشوق۔

تینکھا پن۔ (ص۔ ا۔ مٹ) (۱) شوخی۔ پھیلنا۔ پھیلنا۔ پھیلنا۔ (۲) کج ادائیگی۔ روکھاپن۔  
تینکھی۔ (ص۔ ا۔ مٹ) (۱) عمارت، تینکھا کی تائینٹ (۲) البیلی۔ رعنا (۳) بانجی۔

تینکھی چتون۔ (ص۔ ا۔ مٹ) (۱) عمارت، تینکھی نظر (مشوق کی) طیرھی نگاہ۔  
تینکھی چتون کرنا۔ (اصف) (۱) عمارت، تینکھی نظر کر کے دیکھنا۔ کج نگاہی سے یا  
شوخی سے دیکھنا۔

تیل۔ (ص۔ ا۔ مٹ) (۱) روغن جو بیجوں سے نکالا جاتا ہے۔ چکناٹی۔

تیل پان کرنا۔ (اصف) (۱) عمارت، مایوں بٹھانا۔ ہندوؤں کی ایک رسم جس میں  
دو ہاتھ ذہن کے سر ہاتھ اور پاؤں میں تیل اور ہلدی ملی جاتی ہے۔  
تیل پانی پر ڈالنا۔ (اصف) (۱) عوام کا خیال ہے کہ مینہ برستے میں تیل  
پانی پر ڈالنے سے ابر کھل جاتا ہے (۲) یورپ کے ملاحوں کا خیال ہے کہ  
تیل پانی پر ڈالنے سے طوفان ٹرک جاتا ہے۔

تیل پانی کا گلاس۔ (اصف) (۱) عمارت، وہ گلاس جس میں نیچے پانی اور اوپر تیل  
بھر کر روغن کی جاتی ہے۔ کنول۔

تیل پھیل۔ (اصف) (۱) عمارت، وہ ناریل اور تیل وغیرہ جو دم لہما کے ہاں سے دھبوں کے  
لیے شادی سے چند روز پہلے بھیجا جاتا ہے۔





تیسور (پھیانا) تاڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) تیانے سے مزاج کا حال معلوم ہونا۔  
 تیسور بوکھینا۔ (۱۔ محاورہ) نظر سے دل کا حال معلوم کرنا۔  
 تیسور بدل آنا۔ (۱۔ محاورہ) ہٹنے کے آثار ظاہر ہونا۔  
 تیسور ٹھننا۔ (۱۔ محاورہ) چکا چوند ہونا۔ روشنی برداشت نہ کر سکا (۲) بیٹائی کم ہو جانا۔ بصارت میں فرق آ جانا۔  
 تیسور دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) صورت یا نگاہ سے مزاج کی حالت دیکھنا۔  
 طبیعت کا رنگ دیکھنا۔  
 تیسور تھیلے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) آنکھوں سے کمزورت اور ملاں چکنا چہرے یا نگاہ سے ناراضی ظاہر ہونا۔

تیسور اگر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) جھک کر گر کر پڑنا۔ بے ہوش ہو جانا۔  
 تیسور انا۔ (تیسور انا)۔ (۱۔ محاورہ) آنکھوں کے آگے اندھیلا آنا۔ تیرگی چھانا۔ غشی کی حالت ہونا۔

تیسور کس۔ (تیسور کس)۔ (۱۔ محاورہ) آئندہ یا گذرا ہوا تیسرا برس۔  
 تیسوری۔ (ت۔ یور ری)۔ (۱۔ محاورہ) نظر۔ جتوں۔ نگاہ۔ پیشانی (۲) ہاتھ کی سلاط  
 تیسوری (بدلتا) پڑھانا۔ تیسوری میں بل ڈالتا۔ (۱۔ محاورہ) عین  
 بجیس ہونا۔ غصے ہونا۔

تیسوری پٹی۔ (۱۔ محاورہ) معذور عورت۔ بددماغ عورت۔  
 تیسوری (تیسور ٹھننا) میں بل پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ہٹنے پر شکن پڑنا۔ آئندہ ہونا۔  
 تیسوری کا بل کھلنا۔ (۱۔ محاورہ) بخش رنج ہونا۔

تیتون۔ (تی۔ دن)۔ (۱۔ محاورہ) پستی (۲) عمارتوں۔ تزکاری۔  
 تیتون بن نہ روئی سوئے، کوندھے بن نہ چوئی سوئے۔ (۱۔ محاورہ)  
 سالن کے بغیر روئی اچھی نہیں لگتی اور چوئی بغیر کوندھے اچھی نہیں لگتی۔

تیتولار۔ (ت۔ یو۔ یار)۔ (۱۔ محاورہ) خوشی کا دن۔ جشن۔ دیکھتے تھوار۔  
 تیتولاری۔ (ت۔ یو۔ یار)۔ (۱۔ محاورہ) جشن۔ عید۔ تیتولار کے  
 متعلق۔ تیتولار کا۔

تیتہ۔ (تیتہ)۔ (تے۔ ہ)۔ (۱۔ محاورہ) غصہ غضب (۲) تیزی۔ جوش۔  
 تترارت۔

تیتھو۔ (تی۔ جو)۔ (۱۔ محاورہ) تیتھو کی قسم کا ایک چھوٹا سا پرندہ۔  
 تیتھیس۔ (تے۔ ایس)۔ (۱۔ محاورہ) تین اور بیس۔ ۲۳۔

تین چپاتی تو براتی کھا ڈیو جوڑ۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جب کوئی عورت کسی  
 دعوت وغیرہ کے موقع پر کچھ ہی کرتی ہے تو تو تین تھپنے کے طور پر کہتی ہیں۔  
 تین حرف بھیننا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لعنت بھیننا (۲) ترک کرنا۔ چھوڑ دینا۔  
 تین دن قبر گور میں بھی بھاری ہیں۔ (۱۔ محاورہ) مسلمانوں کے  
 اعتقاد میں قبر میں تین دن تک حساب کتاب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے  
 کہ دنیائے معاملات بعد مرگ بھی بچھا نہیں چھوڑتے۔  
 تین رمی قانون۔ (۱۔ محاورہ) (۱) حساب (۲) اربعہ تقاسیم۔  
 تین کانے۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کانے کے تین نطفے۔ جب تین نشان ایک  
 ایک کر کے اکٹھے کریں۔ یہ تیر سے کم شمار ہوتے ہیں (۲) (بجائز) ناگامی۔

تین نامرادی۔  
 تین روزہ زندگی۔ (۱۔ محاورہ) انسان کی عمر جو بہت مختصر ہے۔  
 تین گناہ خدا بھی بخشا ہے۔ (۱۔ محاورہ) جب کسی سے معافی مانگی  
 ہو۔ تو کہتے ہیں۔

تین میں نہ تیسرہ میں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اس شخص کے تعلق کہتے ہیں جو  
 بہانہ سمجھتی ہے کہ ہوا اور جس کی کوئی قدر نہ ہو (۲) ہنگام آدمی۔  
 تیر تیرا۔ (تیر۔ ت۔ نا)۔ (۱۔ محاورہ) وہ بیٹا جو تین بیٹوں کے بعد پیدا ہو۔

تیر تیری۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) وہ بیٹی جو تین بیٹوں کے بعد پیدا ہو۔  
 تیر تیر۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) درخت کی لکڑی جو جلنے میں چھتی ہے۔  
 تیر تیرو۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) ایک درخت کا پھل۔

تیر تیرا۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) ایک درندہ۔ جو پیتے کی قسم کا  
 ہوتا ہے۔  
 تیر تیروں۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) ایک پھل کا نام۔

تیر تیروں۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) تین کے تین۔  
 تیر تیر۔ (تیر۔ ت۔ ری)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نظر۔ جتوں (۲) چہرے کا طور یا ڈھنگ (۳) بھوں  
 (۴) بیٹائی بصارت (۵) آنکھوں کے آگے اندھیلا آنا۔

تیسور بدل جانا۔ (۱۔ محاورہ) بے مروت ہو جانا۔ نگاہیں پھر جانا۔  
 تیسور بڑے نظر آنا۔ (۱۔ محاورہ) نگاہ بد معلوم ہونا۔ نقصان پہنچاتے  
 معلوم ہونا۔

تیسور کھڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پہلی سی نظر نہ رہنا۔ بے مروت ہو جانا (۲) ہنگام ہوں  
 سے تنگی ظاہر ہونا۔

# ٹ

ٹے (ہ۔ مٹ) اردو حرف تہجی کا پانچواں اور ہندی زبان کا گیارواں حرف۔ فارسی اور عربی زبانوں میں نہیں ہے۔ اسے تائے ثقیلہ اور تائے ہنکی بھی کہتے ہیں۔ حساب ابجد میں اس کے اعداد چار سو ہیں۔ بعض کلمات کے آخر میں اگر مصدری معنی دیتا ہے (جیسے سجاوٹ۔ بناوٹ)۔

## ٹ - ا

ٹاگر - (ٹا۔ گر) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) طبر۔ خاندان۔ کنبہ (۲) چھوٹا سا گھر (۳) چھوٹی بھیل (۴) چھوکرا۔ کم عمر لڑکا۔

ٹاپ - (ہ۔ ا۔ نث) (۱) گھوڑے کا سم (۲) گھوڑے کے اگلے پاؤں کی ضرب (۳) گھوڑے کے چلنے یا دوڑنے کی آواز (۴) تھاب۔ ہاتھ مارنے کی آواز (۵) پھلیاں پڑنے کا کھانچہ (۶) چارپائی کے تائے کا گردا بوزین پر لٹکا ہوتا ہے (۷) گذر کا پچھلا موٹا حصہ (۸) فرشی حصے کا پچھلا حصہ (۹) ڈھول بجانے کی چوٹ۔

ٹاپ دار - (ہ۔ ف۔ صفت) آگے سے چوڑا پیچھے سے پتلا۔ موٹے سرے کا۔ گرہ دار۔

ٹاپ سہارنا - (ا۔ محاورہ) جھکیف برداشت کرنا۔ مصیبت بھیلنا۔

ٹاپ مارنا - (ا۔ محاورہ) گھوڑے کا چلنے یا دوڑنے میں زمین پر سم مار کر آواز پیدا کرنا۔ بے گل ہونا۔ جھلا تگ مار کر کوڑا جانا۔

ٹاپا - (ٹا۔ یا۔ ا۔ مذ) (۱) مڑھنیوں کا کھانچہ (۲) لکڑی کی جالی دار چوکھٹ جو بچوں کے چوکوڑے پر ڈھانکتے ہیں (۳) چوکھٹ دار ڈھلنا (۴) کپڑے کا غلاف (۵) ایک قسم کی شتی۔ جس پر چوکھٹ دار ڈھلنا (۶) پھل پڑھنے کی ڈنگ (رق)

ٹاپا توڑ کر نکل جانا - (ا۔ محاورہ) (۱) صاف نکل جانا (۲) بچ جانا۔

ٹاپا ٹوہینا - (ہ۔ ا۔ مذ) تلاش۔ جستجو۔

ٹاپا پٹوٹی کرنا - (ا۔ محاورہ) ٹوٹنا۔ ٹوہنا۔ ڈھونڈنا۔ کھوجنا (۲) چپکتی چھت کی مرمت کرنا۔

ٹاپتا پھرنا - (ٹاپ۔ تپا۔ پھرنا) (ہ۔ مصل) (۱) مارا مارا پھرنا (۲) حیران و پریشان پھرنا۔ بھٹکتا پھرنا (۳) غصے کی حالت میں اٹھنا کودنا۔

ٹاپتا رہ جانا - (ٹاپ۔ تا۔ رہ۔ جانا) (ہ۔ مصل) (۱) کسی چیز کی آرزو یا انتظار میں بیٹھا رہ جانا (۲) کوئی چیز نہ ملنے سے دل ہار کر بیٹھ جانا۔ (۳) افسوس کرنا۔

ٹاپتی - (ٹاپ۔ تی۔ ہ۔ ا۔ مٹ) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

ٹاپتا پنا - (ٹاپ۔ پ۔ نا) (ہ۔ مصل) (۱) کسی چیز کی تلاش میں حیران و پریشان ہونا۔ ڈھونڈنا۔ کوشش کرنا (۲) انتظار کرنا (۳) بیچار پھرنا (۴) بے چین ہونا (۵) افسوس کرنا (۶) کودنا۔ پھانڈنا (۷) گھوڑے کا زمین پر پاؤں مارنا۔

ٹاپو - (ٹا۔ یو۔ ہ۔ ا۔ مذ) جزیرہ۔ خشکی کا قطعہ جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا ہو۔

ٹاٹ - (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) سن کا بنا ہوا کپڑا۔ بوری کا کپڑا (۲) ساہو کار کے بیٹھے کی گدی (۳) بوٹ کا سبز خول جس کے اندر چنا ہوتا ہے (۴) چٹائی۔

ٹاٹا - (ٹا۔ ٹا۔ یا۔ ا۔ نث) (۱) دیوالہ نکلنا۔ دیوالیہ ہوجانا۔

ٹاٹ باف - (ہ۔ ف۔ مذ) جوتی پر سونے چاندی کے تارٹا نکلنے والا۔ زردوز۔

ٹاٹ بانی جوتا - (ہ۔ ف۔ ا۔ مذ) یہ دراصل تار بانی جوتا ہے۔ یعنی وہ جوتا جس پر کلا بتوں کا کام ہو۔ کا مڈا جوتا۔

ٹاٹ مانسہ ہونا - (ا۔ محاورہ) برادری سے خارج ہونا۔

ٹاٹ کانگولٹا، نواب سے یاری - (نشل) (۱) منگلی میں ایسٹ سے دوستی (۲) اپنی حیثیت سے بڑھ کر قدم مارنے والے پریشیل کی جاتی ہے۔

ٹاٹ، کانگلا، ڈولرا، تینوں جات کلام جت جاتے جت پیٹھ کر ترت کر ولسرام - (نش) ٹاٹ، کبل اور دوہی یہ تینوں دیسے تو کھٹا بیسزہ میں نگرانے آرام بہت ملتا ہے۔

ٹاٹ کا ملی گھر میں کھالے۔ بانسہ تباوے شال دوشالے۔ (نش) معمولی حیثیت کا آدمی اپنے بارے میں شیخیاں بگھارے تو اس پر یہ مثل کہتے ہیں۔

ٹاٹ کی انگیا ٹوٹھ کی تین - دیکھ میرے دیوار میں کیسی بنی۔ نش، غلط اور بے جا حرکت پر اتارنا۔

ٹاٹ میں ٹوٹھ کا بچہ - (نش) جیسی چیز ویسا اس کا ساز و سامان۔

ٹاٹا - (Tata) (ٹا۔ ٹا۔ انگ)۔ مذ خدا حافظ۔ فی امان اللہ۔

ٹاٹری - (ٹا۔ ٹ۔ ری) (انگ) (۱) مٹ [مٹ] کریم آف ٹاٹری کا مخفف۔ وہ سالاجس سے غیر اٹھاتے ہیں۔

ٹاٹری - (انگ) (۱) مذ گندہ بروزا۔ تار کول۔ کول تار۔ سیاہ رنگ کا مادہ جو پتھر کے کونے سے نکالا جاتا ہے۔

ٹاٹرا - (ٹا۔ را) (ہ۔ ا۔ مذ) وہ کوتر، جو درنگ اٹوتا ہے۔

ٹاٹرا ٹوک - وزن میں ٹھیک یا ٹوڑا۔

ٹاٹریج - (Torch) (انگ) (۱) مشعل۔ فلیٹہ (۲) ایک نلکی جس کے اندر سیل (Cell) ہوتا ہے اور منبر پر بلب لگا ہوتا ہے۔

ٹاٹس - (Toss) (انگ) (۱) مذ اسکے کوڑ پھال کر اس امر کا فیصلہ کرنا کہ کون کسی کام کو پہلے شروع کرے۔

ٹاٹنی - (ٹا۔ فی) (انگ) (۱) مٹ [مٹ] ایک قسم کی انگریزی مٹائی۔

ٹاٹک - (رق۔ صفت۔ ط۔ ا۔ مذ) (۱) جلد (۲) گھونٹ۔



بانی رکھنے کا برتن۔

ٹانگ بیچنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عمارت کی تعمیر ہونا (۲) سنگ تراشی کا کام ہونا۔  
ٹانگی لگانا۔ (۱۔ محاورہ) چھید کرنا۔ سوراخ کرنا۔ پھانک تراش کر خربوزے

یا تروزی اندرونی کیفیت معلوم کرنا۔  
ٹانگ۔ (۲۔ ارمٹ) (۱) جسم کا وہ حصہ جو ران کی جڑ سے پاؤں تک ہے۔ لٹ

(۲) دلاور کی اصطلاح میں چھوٹی حصّہ۔

ٹانگ اٹھا کر موتا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کتے کی طرح پیشاب کرنا (۲) بدترین اور بے حیائی پر اتر آنا۔

ٹانگ اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ٹانگ اُپچی کرنا (۲) جماع کرنا (۳) جماع کے لیے تیار ہو جانا۔ (۴) آس لینا۔

ٹانگ اٹھنے نہ پڑھا جائے ماضی پر۔ (مثل) طاقت کا تو یہ عالم ہے

کہ ٹانگ اٹھتی نہیں، لیکن ماضی پر پڑھا جلا مارا ہے۔ اس شخص پر کہتے

ہیں۔ جو اپنی طاقت اور بساط سے بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہو۔

ٹانگ اڑا دینا یا ٹانگ اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پاؤں پھینا نا (۲) بے

مزدورت وصل دینا (۳) درمیان میں مداخلت کرنا (۴) روکنا، آگے چلنے نہ دینا۔

ٹانگ اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) ایک پہلوان کا دوسرے پہلوان کو ٹانگ پکڑ کر

بھرت کرنا (منگڑی کا بیچ)

ٹانگ اوہل کے مرگیا۔ (۱۔ محاورہ) بے کسی کی حالت میں مرا۔ مرتے

وقت کوئی خبر لینے والا نہ تھا۔

ٹانگ برابر۔ (۱۔ صفت) چھوٹا سا۔ ذرا سا۔ گستاخ پتے کے باسے میں کہتے

ٹانگ پسا کے سونا۔ (۱۔ محاورہ) بے فکر یا پختہ ہو کر سونا بے فکری

کی نیند سونا۔

ٹانگ کپڑے لائے اور پوچھ کپڑے پہا دیا۔ (ایش) کوئی عزت و

احترام کے ساتھ کہیں لایا گیا ہو، مگر پاؤں سے اسے بے عزت اور ذلیل

کر کے نکالا جائے۔ اس وقت یہ مثل بولی جاتی ہے۔

ٹانگ پھیننا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کام میں شریک یا حصّہ دار ہونا۔ اس سے

قربی تعلق ہونا۔ (۲) پابند یا مجبور ہونا۔

ٹانگ تلے (ٹانگ کے نیچے) سے نکل جانا (نکلنا)۔ (۱۔ محاورہ)

ہار مان لینا۔ مغلوب ہو جانا۔ شکست کا اقرار کر لینا۔

ٹانگ تلے (ٹانگ کے نیچے) سے نکال دینا (نکالنا)۔ (۱۔ محاورہ)

بیچا دکھانا۔ ہرانا۔ عاجز کر دینا (۳) اطاعت کروانا۔

ٹانگ لوڑ کے بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) جم کے بیٹھنا۔ ایک جگہ بیٹھے رہنا۔ جہاں

بیٹھ جانا۔ وہاں سے نہ اٹھنا۔

ٹانگ لوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پانچ کر دینا، کسی کام کا نہ رہنے دینا (۲)

کسی زبان کی معمولی شہ بد پروردہ زبان کھنے بولنے یا پڑھنے کی کوشش کرنا۔

ٹانگ دینا۔ (۱۔ محاورہ) ٹھکانا۔ بھانسی پر بڑھا دینا۔

ٹانگ سے ٹانگ بانڈھ کر بٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) اپنے پاس اس طرح

بٹھانا کہ وہاں سے ملنے یا پھر کئے نہ دینا۔ پہلو میں بٹھانا۔

ٹانگ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) کشتی میں ٹانگ کا بیچ لگانا۔

دفعہ کپڑے کے اندر گھس کر باہر نکلنا (۲) زخم کا ایک مرتبہ بخیر (۳) دھات

جوڑنے کا سالہ (۴) کپڑے یا چمڑے یا دھات کا جوڑ یا پیوند (۵) حوصل

یا تالاب جس میں برساتی پانی پینے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ پیوند۔

ٹانکا اُدھر جانا یا اُدھر جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سلائی (کے ٹانکے) اُدھر جانا۔

(۲) تباہ و برباد ہو جانا، بغلس ہو جانا (۳) پھیل جانا، حقیقت آشکار ہونا۔

ٹانکا اُدھر جانا۔ (۱۔ محاورہ) بچنے کے دھانکے آہستہ آہستہ نکال دینا۔ سلائی

اُدھر جانا۔ سیون کھولنا (۲) راز فاش کرنا، نقلی کھولنا۔ شیرازہ بکھیر دینا۔ سب حال

ظاہر کر دینا۔ پوست کندہ حالات بنا دینا (۳) تباہ و برباد کرنا (۴) عاجز کرنا

پہیں ہلوانا۔ پڑانا۔

ٹانکا پھرنا (پھیرنا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سینا (۲) پھٹا پرانا مرمت کرنا (۳) زخم

سینا (۴) عیب پوشی کرنا (۵) مصیبت میں تسلی دینا۔

ٹانکا ٹوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سیون اُدھر جانا (۲) سیون کا دھاک ٹوٹ جانا۔

(۳) زخم کی سیون کا دھاک ٹوٹنا (۴) جنت مار دینا۔ گھبرا جانا۔

ٹانکا جانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی جگہ اسے مطلب کی تدبیر کرنا۔

ٹانکا جھلسنا (لگانا)۔ (۱) ٹوٹے ہوئے زیور یا برتن کو ٹانکا لگا کر جوڑ دینا

(۲) بازار کا نظریہ لینا (۳) کپڑا سینا (۴) زخم سینا۔

ٹانکا کاٹ لینا۔ (۱۔ محاورہ) نور سے ٹٹنے کی قیمت کاٹ کر دام ادا کرنا۔

ٹانکا کھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ٹانکا لگانا (۲) ٹانکے کٹنے کی صلاحیت ہونا

(۳) زخم سلوانا۔

ٹانکا کھلنا۔ (۱۔ محاورہ) سیون کھل جانا۔ کپڑے یا چمڑے وغیرہ کا اُدھر جانا

(۲) عیب ظاہر ہونا۔ پھیل جانا۔ راز فاش ہو جانا۔

ٹانکا لگانا۔ (۱۔ محاورہ) کپڑا سینا۔ زخم سینا۔ ٹوٹے ہوئے برتن یا زیور میں

ٹانکے سے جوڑ لگانا (۲) دوستی یا میل ملاپ کرانا۔ نسبت کرنا۔ شادی

کرنا (۱) پرند کی آنکھیں سی دینا۔

ٹانکا مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) موٹی سلائی کرنا (۲) جلدی جلدی سینا (۳) گھونپنا۔

ٹانکے ڈھیلے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت پست ہونا۔ بہت ہار دینا۔ سستی

آجانا (۲) عزت جاتی رہنا (۳) بدحواس ہونا۔ پریشان خیالی کا شکار ہو جانا

(۴) ارادے میں ضعف آ جانا۔

ٹانکے کاٹ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) سیا ہوا قبضی یا نشتر سے کاٹ دینا۔

ٹانکے کا کچا۔ (۱۔ صفت) (۱) ایسا درزی یا درزن جس کے ہاتھ کی سیون جلدی

اُدھر جاتے (۲) وہ زیور جس میں کھروٹا نکال لگا ہو۔

ٹانکنا۔ (ٹانک، سنا، وہ مصل) (۱) سینا (۲) موٹی یا بست یا پوکا سوئی تاکے سے

لگانا (۳) زخم سینا (۴) جوتا سینا (۵) بانڈھنا۔ جوڑنا۔ ٹانکے لگانا (۶) مٹی

کرنا (۷) ٹوٹے ہوئے برتن یا زیور کو جوڑنا (۸) کھلنا۔ یادداشت رکھنا۔

(۹) داخل کرنا۔ لگانا۔ دینا (۱۰) کھا جانا (۱۱) آویزاں کرنا (۱۲) بجنا۔

تھنکار ہونا (دق)

**ٹاؤن** - (Town) (ٹا۔اُن) (انگ۔۱۔ مذ) بلدیہ۔ قصبہ۔ سٹی۔ شہر۔  
**ٹاؤن ہال** - (Town Hall) (شہر کی وہ عمارت۔ جس میں میونسپل کمیٹی وغیرہ کا دفتر ہو۔)  
**ٹائی** - (Tie) (ٹا۔ای) (انگ۔۱۔ مثن) خوشنما۔ ریشمی۔ ادنی یا سوتی فیتہ جو مغربی لباس میں ٹیئس کے کار کے ساتھ پہنتے ہیں۔  
**ٹائپائی فائبرڈ** - (Typhoid) (ٹا۔ئی۔فا۔اڈ) (انگ۔۱۔ مذ) معادی بخار۔  
**ٹائپس ٹائپس** - (ٹا۔ایس۔ٹا۔ایس) (مثن۔۱۔ مثن) [مثن] بھوس۔ کائیں کا میٹھ۔  
**ٹائپس فیش** - بھوس بہت بہتر کچھ نہیں۔ خرچ بہت حاصل کچھ نہیں۔  
**ٹائپر** - (ٹا۔ایر) (مثن۔۱۔ مذ) چھوٹا اور ڈبلا گھوڑا۔  
**ٹائپری** - (ٹا۔ئی۔ری) (مثن۔۱۔ مثن) [مثن] ٹائپر کا موٹ۔ دہلی گھوڑی۔

**ٹانگ لینا** - (۱۔ محاورہ) (ٹا۔انگ) پکڑنا (۲) کہتے کا کمانے کے لیے پکنا۔  
**ٹانگ مارنا** - (۱۔ محاورہ) کشتی رٹنے میں ٹانگ کا داؤں کرنا۔  
**ٹانگوں کا جواب دے دینا** - (۱۔ محاورہ) آگے چلنے کی طاقت نہ رہنا۔ اتنی زیادہ تکلان ہونا جو قابل برداشت نہ ہو۔ شک جانا۔  
**ٹانگوں میں ٹانگیں ڈال کر سونا** - (۱۔ محاورہ) ہم نعلن ہو کر سونا۔  
**ٹانگوں میں منہ ڈال کے چولہے کے آگے نام لینا** - (۱۔ محاورہ) عورتیں کسی کو ہانپنے بلانے کے لئے یہ ٹونگ کرتی ہیں۔  
**ٹانگیں لوڑنا** - (۱۔ محاورہ) بہت زیادہ دوڑ بھاگ کرانا۔ پریشان کرنا (۲) بہت زیادہ دوڑتے پھرتا پریشان ہونا۔  
**ٹانگیں ٹوٹنا** - (۱۔ محاورہ) تھک کر چمڑ ہو جانا۔ چلنے کی طاقت نہ رہنا۔  
**ٹانگیں رہ جانا** - (۱۔ محاورہ) (ٹا۔تھک) کر چمڑ ہو جانا (۲) سڑکے کی بیماری کی وجہ سے ٹانگیں بیکار ہو جانا۔  
**ٹانگیں لینا (اٹھانا)** - (۱۔ محاورہ) جماع کا قصد کرنا۔  
**ٹانگ پھاڑی** - (ٹانگ۔پھاڑی) (مثن) ٹانگ۔  
**ٹانگ پھاڑی ٹوٹ** - (ٹانگ۔پھاڑی) (مثن) ٹانگ پھاڑی ٹوٹ۔  
**ٹانگ پھانسی دینا** - (ٹانگ۔پھانسی) (مثن) آویزاں کرنا (۲) پھانسی دینا۔ پھانسی پر چڑھانا۔

**ٹ ب**

**ٹب** - (Tub) (انگ۔۱۔ مذ) نانڈ۔ بڑا برتن جو کپڑے دھونے یا ہانپنے کے کام آئے۔  
**ٹبیا** - (ٹب۔با) (مثن۔۱۔ مذ) ٹیلا۔ اونچی جگہ۔  
**ٹبیر** - (ٹب۔بر) (مثن۔۱۔ مذ) [مثن] خاندان۔ قبیلہ۔ اقربا۔ اہل و عیال (۲) مال اسباب (۳) گھر کا خرچ (۴) انتظام کا باریا ذمہ داری۔

**ٹاور** - (Tower) (ٹا۔ور) (انگ۔۱۔ مذ) برج۔ مینار۔ لاٹھ۔  
**ٹائپ** - (Type) (ٹا۔یپ) (انگ۔۱۔ مذ) (۱) چھاپے کے ڈھلے ہونے حرف جو سیسے کے ہوتے ہیں (۲) ٹپٹا (۳) وضع۔ نمونہ۔  
**ٹائپ نشر** - صورت۔  
**ٹائپ رائٹر** - ٹائپ کرنے والی مشین۔  
**ٹائپسٹ** - (Typist) (ٹا۔ئیپسٹ) (انگ۔۱۔ مذ) ٹائپ کرنے والا۔  
**ٹائٹل** - (Title) (ٹا۔جو۔ٹیل) (انگ۔۱۔ مذ) (۱) عنوان (۲) سرخی۔ (۳) پیشانی۔ سرورق۔ سرورق کا مضمون (۴) کتاب وغیرہ کا نام۔ (۵) القاب۔ خطاب۔ منصب۔ عہدہ۔  
**ٹائر** - (Tyre) (ٹا۔یر) (انگ۔۱۔ مذ) موٹر یا بائیسکل کے پیروں پر چڑھانے کا ربڑ۔ (۲) ربڑ کا خول جس کے اندر ٹیوب ہوتی ہے۔  
**ٹائل** - (Tile) (ٹا۔یل) (انگ۔۱۔ مثن) [مثن] کچی تیلی۔ چینی۔ رنگین یا سینڈ۔ جو عمارت کی دیواروں اور فرش یا چھت پر لگائی جاتی ہے۔  
**ٹائم** - (Time) (ٹا۔یم) (انگ۔۱۔ مذ) (۱) وقت (۲) گھڑی کو بھی ٹائم کہہ دیتے ہیں (۳) بنکاری کی اصطلاح پوری مدت پورا وقفہ پوری میعاد بمعاد مطاق۔ مدت لازمی۔  
**ٹائم بم** - (Time Bomb) (ٹا۔یم۔بم) ایسا بم جو ہر قدرہ وقت پر پھٹے۔  
**ٹائم پیس** - (Time Piece) (ٹا۔یم۔پیس) جھوٹا گھنٹہ۔  
**ٹائم ٹیبل** - (Time Table) (ٹا۔یم۔ٹیبل) نقشہ تقسیم اوقات۔ نظام الاوقات۔  
**ٹائم کیپٹر** - وقت کا حساب رکھنے والا (مز دوروں یا ملازموں کا)

**ٹ پ**

**ٹپ** - (۱۔ مذ) (۱) ٹپکنے کی آواز (بارش کی) بوندیں گرنے کی آواز (۲) [مثن] گاڑی کا سا نیان (ہڈ) جو دوپ یا بارش روکنے کے لیے ہوتا ہے (۳) جھکے کی دو تہوں میں سے ایک تہ۔  
**ٹپ** - (۱) کسی سیال چیز کے بوند بوند گرنے کی آواز (۲) آنسوؤں گرنے کی آواز (۳) لگاتار بوندیں گرنے کی آواز۔  
**ٹپ آنسو گرتا** - (۱۔ محاورہ) آنسوؤں کا تار بندھنا۔ لگاتار رونا۔  
**ٹپ سے بول اٹھنا** - (۱) بے چوچھے بول اٹھنا (۲) جھٹ بول اٹھنا۔  
**ٹپ** (Tip) (انگ۔۱۔ مذ) معمولی انعام یا بخشش۔ جو نقل، بیرے، چوچھری وغیرہ کو دیا جاتا ہے۔  
**ٹپ دینا** - (۱۔ محاورہ) کسی محنت پیشہ آدمی کو معمولی انعام دینا۔  
**ٹپ** (ٹپ۔با) (مثن۔۱۔ مذ) (۱) گود۔ پھانڈ (۲) فاصلہ (بندوبستی کی) نزد (۳) دور دور کا پھینچ یا پھینچ (۴) ایک قسم کا گیت (۵) دکنی بولی میں ڈاک خانہ (۶) ایک قسم کا پھنگ (۷) ضلع یا پورگنے کا حصہ (۸) ڈاک یا پانکی لے جانے والوں کی چوکی (۹) مقام۔ مرحلہ۔ پڑاؤ (۱۰) کشتی جو بادبازوں سے چلتی ہے۔  
**ٹپا بھرتا** - ٹپا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) بولی سنانی کرنا۔ دور دور پھینچ کرنا۔ کچی سنانی پھرتا رہنے کا نام یا ٹپے بھرتا بولتے ہیں۔  
**ٹپا کھانا** - (۱۔ محاورہ) ٹولی یا گیند وغیرہ کا کسی چیز سے ٹکرانا پھلنا۔

**ٹپ** - (۱۔ مذ) (۱) ٹپکنے کی آواز (بارش کی) بوندیں گرنے کی آواز (۲) [مثن] گاڑی کا سا نیان (ہڈ) جو دوپ یا بارش روکنے کے لیے ہوتا ہے (۳) جھکے کی دو تہوں میں سے ایک تہ۔  
**ٹپ** - (۱) کسی سیال چیز کے بوند بوند گرنے کی آواز (۲) آنسوؤں گرنے کی آواز (۳) لگاتار بوندیں گرنے کی آواز۔  
**ٹپ آنسو گرتا** - (۱۔ محاورہ) آنسوؤں کا تار بندھنا۔ لگاتار رونا۔  
**ٹپ سے بول اٹھنا** - (۱) بے چوچھے بول اٹھنا (۲) جھٹ بول اٹھنا۔  
**ٹپ** (Tip) (انگ۔۱۔ مذ) معمولی انعام یا بخشش۔ جو نقل، بیرے، چوچھری وغیرہ کو دیا جاتا ہے۔  
**ٹپ دینا** - (۱۔ محاورہ) کسی محنت پیشہ آدمی کو معمولی انعام دینا۔  
**ٹپ** (ٹپ۔با) (مثن۔۱۔ مذ) (۱) گود۔ پھانڈ (۲) فاصلہ (بندوبستی کی) نزد (۳) دور دور کا پھینچ یا پھینچ (۴) ایک قسم کا گیت (۵) دکنی بولی میں ڈاک خانہ (۶) ایک قسم کا پھنگ (۷) ضلع یا پورگنے کا حصہ (۸) ڈاک یا پانکی لے جانے والوں کی چوکی (۹) مقام۔ مرحلہ۔ پڑاؤ (۱۰) کشتی جو بادبازوں سے چلتی ہے۔  
**ٹپا بھرتا** - ٹپا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) بولی سنانی کرنا۔ دور دور پھینچ کرنا۔ کچی سنانی پھرتا رہنے کا نام یا ٹپے بھرتا بولتے ہیں۔  
**ٹپا کھانا** - (۱۔ محاورہ) ٹولی یا گیند وغیرہ کا کسی چیز سے ٹکرانا پھلنا۔



**ٹٹولنا** - (ٹ - ٹول - نا، وہ - مس) (۱) ہاتھ سے چھو کر معلوم کرنا۔ بے دیکھے ڈھونڈنا  
(۲) غصہ لینا۔ خفیہ خفیہ دریا فت کرنا (۳) مالی حیثیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا (۴) پرکھنا۔ آزمانا۔

**ٹٹولواں** - (ٹ - ٹول - واں) وہ تابع فعل (مٹل سے - انداز سے۔  
**ٹٹی** - (ٹ - ٹی) (۱) وہ - اہمیت (۲) بانس یا سرکندوں کا بنا ہوا چھپر۔ جو دروازوں یا کھڑکیوں پر لگاتے ہیں یا جن پر بیلیں پرکھاتے ہیں (۳) آڑ۔ پردہ۔ اوٹ  
حجاب (۴) یا خانہ۔ ہیئت الخلا (۵) شکار کھیلنے کی اوٹ یا آڑ جسے شکاری لوگ ساتھ رکھتے ہیں (۶) بانس کا ٹھاڑ جس پر چراغ رکھ کر روشنی کرتے ہیں (۷) بانس کی چھپوٹی کی دیوار جسے مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اس پر آتش بازی رکھتے ہیں (۸) باغ یا باغیچے کے سرے پر ہندی وغیرہ کا بھار  
(۹) بہاہ شادی کے موقع پر جو بچھول وغیرہ سجا کر لے جاتے ہیں۔ (۱۰) لہجہ ڈاڑھی۔

**ٹٹی** - آنا۔ یا خانہ جانے کی ضرورت ہونا۔ یا خانہ آنا۔  
**ٹٹیا** - باندھنا۔ بانس یا سرکندوں کا چھوٹا ٹٹیا بنا کر کہیں لگانا۔  
**ٹٹی بندھنا** - (۱) محاورہ) جمع ہونا۔ ٹٹوں کا اکٹھا ہوجانا۔  
**ٹٹی جانا** - (۱) محاورہ) یا خانہ کرنے کے لیے ہیئت الخلا کے اندر جانا۔  
**ٹٹی کا آئینہ** - (۱) مذ ایک قسم کا تیلہ قلعی دار شیشہ۔  
**ٹٹی کھڑنا** - (۱) محاورہ) ہندی کی ہاتھ کو تراش کر اس کی سطح برابر کرنا۔  
**ٹٹی کی آڑ** - ٹٹیا کا پردہ یا اوٹ یا حجاب۔  
**ٹٹی کی آڑ (اوٹ یا اوٹھل)** - شکار کرنا (کھیلنا)۔ (۱) محاورہ) کسی پر نیک کام کے پردے میں کوئی بڑا کام یا قابل اعتراض حرکت کرنا۔  
**ٹٹی کی اوٹ ٹٹھنا** - (۱) محاورہ) پردے یا آڑ کے پیچھے بیٹھنا (۲) کہیں گاہ میں بیٹھنا (۳) کوئی کام خفیہ طور پر کرنا۔  
**ٹٹی لگانا** - (۱) محاورہ) (۲) قاتل کھڑی کرنا (۳) پردہ ڈالنا (۴) ہاتھ لگانا  
محاطہ بندی کرنا۔ بھیر کرنا۔ نجوم کرنا۔  
**ٹٹی میں چھید کرنا** - (۱) محاورہ) کھل کھیلنا۔ عورت کا بدکار بن جانا۔  
**ٹٹی (یا - ٹٹ)** (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳









ٹیکے کا کام کرنا۔ (۱۔ عمارہ) ایسا کام کرنا جس کا معاوضہ بہت تھوڑا ہو  
(۲۔ صرف وہ کام کرنا جس میں کچھ ملے۔

ٹیکے کی ادوات - (۱۔ منٹ) منٹسٹی - غزبی - جھوٹی حیثیت۔  
ٹیکے کی بڑھیا نوٹھے سرمنڈالی - (۱۔ منٹ) سستی چیز یا تھوڑے فائدے

ٹیکے کے لیے بہت نفع کرنا۔  
ٹیکے کی عمر نئی چھوٹے محصول - (منٹ) دیکھے ٹیکے کی بڑھیا نوٹھے سرمنڈالی۔

ٹیکے کی ہناری میں ٹاٹ کا ٹکڑا - (منٹ) تھوڑے یا کم دام خرچ کر کے  
اچھی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی (۲) جب تک قسمت ساتھ نہ دے فائدہ

ٹیکے نہیں ہوتا ایک شخص نے ہناری منگوائی۔ اس میں ٹاٹ کا ٹکڑا نکلا۔ اس نے  
ملازم سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ ٹیکے کی ہناری میں سے کیا زر بخت کا

ٹیکے کے واسطے مسجد ڈھانا - (۱۔ عمارہ) بہت تھوڑے فائدے  
کے لیے ایک نامستول یا قابل اعتراض حرکت کرنا۔

ٹیکے کرنی - (۱۔ نصف) بہت سستی معاوضے گری ہوئی۔  
ٹیکے کرنی چاہ لینا - (۱۔ عمارہ) (۱) گناہت سے کام لینا۔ کم خرچ کرنا۔

(۲) میانہ روئی اختیار کرنا (۳) عیاری اور چالاک کرنا۔  
ٹیکے والی - (۱۔ منٹ) سستی قسم کی ناش - زندگی۔

ٹیکار ہینا - (۱۔ منٹ) اپنی جگہ نہ چھوڑنا (۲) سہارے سے کھڑا ہونا۔ (۳) کسی  
جگہ بٹھرا ہونا۔

ٹیکانا - (ٹ۔ کا۔ نا) (۱۔ منٹ) کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے سہارے کھڑا کرنا  
یا رکھنا (۲) کسی چیز کا ٹیکہ لینا یا اسے ٹیکہ بنانا (۳) مکان یا ہوش و حواس

میں بٹھرانا (۴) مارنا یا لگانا (۵) سہارا لینا۔  
ٹیکانی - (ٹ۔ کا۔ نی) (۱۔ منٹ) وہ لکڑی جو گاڑی میں اس لیے لگاتے ہیں

کہ جیسے کے ڈنڈوں کی بھونک سنبھالے۔  
ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔

ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔  
ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔

ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔  
ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔

ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔  
ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔

ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔  
ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔

ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔  
ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔

ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔  
ٹیکارڈ - (ٹ۔ کا۔ ا) (۱۔ منٹ) (۱) قیام (۲) سکونت (۳) بٹھراؤ (۴) پائڈاری۔

ٹیکے آتی ہیں۔  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے  
ٹیکے کی باندھنا (لگانا) - (۱۔ عمارہ) کسی کی طرف برابر دیکھے جانا۔ گھورتے

ٹکڑے کے کارن مارے مارے پھرنا۔ روٹی کھانے پیٹھ بھرنے یا روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا بجا پھرنے، بھیک مانگ کر گزارا کرنا ٹکڑے لگانا۔ (۱) محاورہ، (۲) جتنے بڑے (۳) جسے تھکے یا ماسن میں پانی طرن سے امانے کرنا۔

ٹکڑے دے (دے کے) بچھڑا بالا، سینک (لگے جب) لے کر مارن آیا۔ (۱) دیش، بچھڑے تو روٹی کے ٹکڑے کھلا کھلا کر ڈالنا، مگر جب اس کے سینک نکلے تو مارنے لگا۔ (۲) احسان فراموش انسان یا اس موقع پر کہتے ہیں جب کسی کو تنگی کے بدلے بڑائی ملے۔

ٹکڑے کھائے دن بہلائے۔ کپڑے پھٹے کھڑکوائے۔ (۱) دیش، یہ مثل نکلے اور کھٹو آدمی پر بھی جاتی ہے جو کمانے کے ارادہ سے گھر سے نکلے، مگر مانگ مانگ کر وقت گزارتا ہے اور جب تن کے کپڑے پھٹنے لگیں تو گھر واپس آجائے تو رنج پوچھی گانٹھ باندھنا۔ (۲) دیش، عقلمند بخوش کی عادت بیان کی ہے کہ اپنا خرچ دوسروں سے مانگ مانگ کر پورا کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔

ٹکڑے مانگ کھانا۔ پلوچی گانٹھ باندھنا۔ (۱) دیش، عقلمند بخوش کی عادت بیان کی ہے کہ اپنا خرچ دوسروں سے مانگ مانگ کر پورا کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔

ٹکڑے مارے مارے پھرنا۔ روٹی کھانے پیٹھ بھرنے یا روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا بجا پھرنے، بھیک مانگ کر گزارا کرنا ٹکڑے لگانا۔ (۱) محاورہ، (۲) جتنے بڑے (۳) جسے تھکے یا ماسن میں پانی طرن سے امانے کرنا۔

ٹکڑے دے (دے کے) بچھڑا بالا، سینک (لگے جب) لے کر مارن آیا۔ (۱) دیش، بچھڑے تو روٹی کے ٹکڑے کھلا کھلا کر ڈالنا، مگر جب اس کے سینک نکلے تو مارنے لگا۔ (۲) احسان فراموش انسان یا اس موقع پر کہتے ہیں جب کسی کو تنگی کے بدلے بڑائی ملے۔

ٹکڑے کھائے دن بہلائے۔ کپڑے پھٹے کھڑکوائے۔ (۱) دیش، یہ مثل نکلے اور کھٹو آدمی پر بھی جاتی ہے جو کمانے کے ارادہ سے گھر سے نکلے، مگر مانگ مانگ کر وقت گزارتا ہے اور جب تن کے کپڑے پھٹنے لگیں تو گھر واپس آجائے تو رنج پوچھی گانٹھ باندھنا۔ (۲) دیش، عقلمند بخوش کی عادت بیان کی ہے کہ اپنا خرچ دوسروں سے مانگ مانگ کر پورا کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔

ٹکڑے مانگ کھانا۔ پلوچی گانٹھ باندھنا۔ (۱) دیش، عقلمند بخوش کی عادت بیان کی ہے کہ اپنا خرچ دوسروں سے مانگ مانگ کر پورا کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔

ٹکڑے مارے مارے پھرنا۔ روٹی کھانے پیٹھ بھرنے یا روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا بجا پھرنے، بھیک مانگ کر گزارا کرنا ٹکڑے لگانا۔ (۱) محاورہ، (۲) جتنے بڑے (۳) جسے تھکے یا ماسن میں پانی طرن سے امانے کرنا۔

ٹکڑے دے (دے کے) بچھڑا بالا، سینک (لگے جب) لے کر مارن آیا۔ (۱) دیش، بچھڑے تو روٹی کے ٹکڑے کھلا کھلا کر ڈالنا، مگر جب اس کے سینک نکلے تو مارنے لگا۔ (۲) احسان فراموش انسان یا اس موقع پر کہتے ہیں جب کسی کو تنگی کے بدلے بڑائی ملے۔

ٹکڑے کھائے دن بہلائے۔ کپڑے پھٹے کھڑکوائے۔ (۱) دیش، یہ مثل نکلے اور کھٹو آدمی پر بھی جاتی ہے جو کمانے کے ارادہ سے گھر سے نکلے، مگر مانگ مانگ کر وقت گزارتا ہے اور جب تن کے کپڑے پھٹنے لگیں تو گھر واپس آجائے تو رنج پوچھی گانٹھ باندھنا۔ (۲) دیش، عقلمند بخوش کی عادت بیان کی ہے کہ اپنا خرچ دوسروں سے مانگ مانگ کر پورا کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔

ٹکڑے مانگ کھانا۔ پلوچی گانٹھ باندھنا۔ (۱) دیش، عقلمند بخوش کی عادت بیان کی ہے کہ اپنا خرچ دوسروں سے مانگ مانگ کر پورا کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوا ہے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔

ٹکڑے مارے مارے پھرنا۔ روٹی کھانے پیٹھ بھرنے یا روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا بجا پھرنے، بھیک مانگ کر گزارا کرنا ٹکڑے لگانا۔ (۱) محاورہ، (۲) جتنے بڑے (۳) جسے تھکے یا ماسن میں پانی طرن سے امانے کرنا۔

ٹکڑے دے (دے کے) بچھڑا بالا، سینک (لگے جب) لے کر مارن آیا۔ (۱) دیش، بچھڑے تو روٹی کے ٹکڑے کھلا کھلا کر ڈالنا، مگر جب اس کے سینک نکلے تو مارنے لگا۔ (۲) احسان فراموش انسان یا اس موقع پر کہتے ہیں جب کسی کو تنگی کے بدلے بڑائی ملے۔

ٹکڑے تلاش کرنا (۲) حیران دوسرے گردان پھرنا۔ ٹکڑے ٹکڑے۔ (۱) ٹکڑے ٹکڑے۔ (۲) حیرت سے۔ حیرانی سے۔ حسرت سے۔ شوق سے دیکھنا۔

ٹکڑے (کڑ)۔ (۱) مذ، موٹی اور بہت سخت روٹی۔ ٹکڑے (ٹ)۔ (۱) مذ، ٹکڑا کا مخفف، (۲) روٹی کا ٹکڑا (۳) بہت عورتو اس۔

ٹکڑے خور۔ (۱) دوسروں کا بچا کچا کھا کر گزارا کرنے والا (۲) طفیلیہ (۳) دوسروں کا محتاج۔ ٹکڑے کدرا۔ وہ فقیر جو گھر گھر مانگ کر روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کرے۔

ٹکڑے (ٹ)۔ (۱) مذ، (۲) حصہ (۳) بھانگ (۴) بڑوہ (۵) بڑوہ (۶) روٹی (۷) ذوالفقار (۸) پیر (۹) تقسیم (۱۰) فضل فقیر (۱۱) پارہ (۱۲) قطعہ (۱۳) روزی۔ (۱۴) پیراگراف۔ (۱۵) شق۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔

ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔ ٹکڑے لوتڑنا۔ (۱) محاورہ، روٹی کھانا۔





**ٹنگنا**۔ (ٹنگ، نا، دہ۔ ۱۔ مٹ) ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جس کے منہ کے پاس بڑے ٹنگنے لگنے ہوتے ہیں۔  
**ٹنگنی**۔ (ٹنگ، نی، دہ۔ ۱۔ مٹ) ایک قسم کا پودا۔  
**ٹنگوانا**۔ (ٹنگ، وا، نا، دہ، مص) ٹنگوانا، بندھوانا، ٹنگنا کا متعدی متعدی۔  
**ٹہنا** یا۔ (ٹن، لا، یا، دہ۔ ۱۔ مذ) (اصل) ٹونا یا ٹونا کرنے والا۔ جادوگر۔  
**ٹہنائی**۔ (ٹہن، یا، ای، ٹن، ہی، یا، دہ۔ ۱۔ مٹ) (اصل) ٹونا لائی،  
 جادوگری، ٹونا کرنے والی۔  
**ٹہنی**۔ (ٹن، نی، دہ۔ ۱۔ مٹ) چھوٹا۔ ٹنا۔ گھنڈی۔  
**ٹہنیاں**۔ (ٹن، یاں، دہ، صف) بہت چھوٹا بلونا۔ ٹنگنا۔ بہتہ قد۔  
**ٹہنیاں طوطا**۔ چھوٹی نسل کا طوطا۔ چھوٹے قد و قامت کا طوطا۔

**ٹنڈی**۔ (ٹن، ڈی، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ناف (۲) بازو (۳) دہ عورت۔ جس کا ایک ہاتھ ہو۔  
**ٹنڈیاں باندھنا**۔ ٹنڈیاں کسنا۔ (۱) محاورہ، ہاتھوں یا بازوؤں کو جکڑنا (۲) گرفتار کر لینا (۳) مجرم کے ہاتھ اس کی پشت کے پیچھے باندھنا۔  
**ٹنڈیاں ٹھینا**۔ (۱) محاورہ، پکڑا جانا گرفتار ہونا۔  
**ٹنڈیاں ٹنڈیاں**۔ (ٹنڈیا، نا، دہ، مص) رقم ٹنڈیاں باندھنا۔ ہاتھ پیچھے باندھنا۔  
**ٹنڈیاں ٹھینا**۔ (ٹن، ڈی، نا، دہ۔ ۱۔ مذ) ساز و سامان۔ اسباب۔ وہ اسباب یا چیزیں جو کسی کی ملکیت ہوں (حجارت و استہلال سے)۔  
**ٹنڈیل**۔ (ٹن، ڈیل، دہ۔ ۱۔ مذ) قلیوں یا خلاصیوں کا افسر (۲) میگڈین کا داروغہ۔

ٹ۔و

**ٹوٹ**۔ (ٹو، ٹ، دہ۔ ۱۔ مذ) (رق) ٹوٹنے کا فعل۔ چھوٹا۔  
**ٹوٹوٹی**۔ (ٹو، ٹو، دہ۔ ۱۔ مٹ) تلاش۔  
**ٹوٹا**۔ (ٹو، ٹا، دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) لمبی سلائی۔ لمبائی (۲) غوطہ خورد جو کتوں میں اتر کر چیز نکالے۔  
**ٹوٹری**۔ (ٹو، ٹری، دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) پھولوں کا گلا (۲) ایک قسم کی آتش بازی۔  
**ٹوٹ**۔ (ٹو، ٹ، دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) بڑی ٹوٹی (۲) انگریزی ٹوٹی (ہیٹ) (۳) نوہے کی ٹوٹی جو لڑائی کے وقت پہننے میں (خود) (۴) غلاف۔ پوشش۔ کور (۵) بڑھ مذہب کی مقدس عمارت (۶) انگلستان۔  
**ٹوپا**۔ (ٹو، پا، دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) ٹانگا۔ سیون (۲) روٹی دار ٹوٹی۔ کٹوٹ (۳) اناج تاپنے کا ایک پیانہ۔  
**ٹوپا بھرنا**۔ (۱) محاورہ، ٹانگا لگانا۔ ٹانگا بھرنا۔ سینا۔  
**ٹوپن**۔ (رق) (۱) مذ، ٹوٹ۔ منہ بند کرنے کی چیز۔  
**ٹوپنا**۔ (ٹو، ٹ، نا، دہ، مص) (۱) منہ ڈال کر چھپانا۔ (۲) دفن کرنا۔ (۳) درخت یا درخت کی شاخ زمین میں لگانا (۴) ہاتھ سے بیج بونا (۵) لگانا۔ آدیواں کرنا (۶) کچی سلائی کرنا۔ رکھنا۔ ٹوٹنا۔  
**ٹوپی**۔ (ٹو، پی، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سر کی پوشاک۔ کلاہ۔ تاج (۲) بندوق کا پٹا۔ جس پر ٹھونگے سے آگ پیدا ہوتی ہے (۳) شکاری جانور کے منہ پر بڑھانے کی قبتیل (۴) پھل کے اوپر کا خول (۵) دُور بین کے منہ کا ڈھلکا (۶) سٹن۔ ذکر کا سر (۷) تختے پر رکھنے کا برتن (۸) کسی چیز کا بالائی حصہ۔  
**ٹوپی اتارنا**۔ (۱) محاورہ، ٹوپی سر سے جدا کرنا (۲) کسی کی بے عزتی یا توہین کرنا۔  
**ٹوپی اچھالنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) خوشی ظاہر کرنا (۳) اظہار مسرت کرنا (۴) ہترے ہترے پکارنا۔  
**ٹوپی بدل بھائی**۔ (۱) مذ، ایسا دوست جس سے بہت گہرا تعلق ہو۔  
**ٹوپی بدلنا**۔ (۱) محاورہ، دو دوستوں کا آپس میں ٹوپی کا تبادلہ کرنا۔ بھائی چارہ قائم کرنا۔

**ٹونک**۔ (ٹ، ٹک، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سخت یا ناگوار آواز (۲) دھات کے اددھپنی کے برتنوں کی جھکار (۳) درد کی تپک۔ چوٹ کی کسک۔ ٹیس (۴) جہت۔ دلیری۔ جوش۔  
**ٹونکار**۔ (ٹن، کار، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) مکان کی تانت کی آواز (۲) غیل کی آواز (۳) جھکار  
**ٹونکارنا**۔ (ٹن، کار، نا، دہ، مص) (۱) مکان کی تانت کھینچ کر آواز نکالنا (۲) چینی یا مٹی کے برتن کو بھار دیکھنا کہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔  
**ٹونگانا**۔ (ٹن، گانا، دہ، مص) ٹونگانا۔ سلوانا۔ بڑوانا۔  
**ٹونگانی**۔ (ٹن، گانا، ای، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹانگنے کی اجرت یا مزدوری (۲) ٹانگنے کا عمل یا کام۔ سیاجانا۔ سلنا۔ بڑا جانا۔  
**ٹونچر**۔ (Tincture) (ٹونک، چر، نا، دہ۔ ۱۔ مٹ) ایک جراثیم کش دوا جو رتوں پر لگائی جاتی ہے۔  
**ٹونگنا**۔ (ٹنک، نا، دہ، مص) ٹانگنا جانا۔ سیاجانا۔ بڑا جانا۔  
**ٹونگ**۔ (ٹس، ٹ، دہ، مص) (۱) ہسارگ۔ ایک معدن۔  
**ٹونگ**۔ (ٹ، ٹ، مٹ) ٹانگ کا مخفف۔  
**ٹونگا**۔ (دہ، صف) پیروں والا جس کے سپروں (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے) "ایک ٹونگا" ایک ٹانگ کا "دو ٹونگا" دو ٹانگ کا (مٹ) ایک قسم کی گھاس۔  
**ٹونگا**۔ (ٹ، ٹ، مٹ) پونچھ۔ چھوٹی یا مختصر دم۔  
**ٹونگار**۔ (ٹ، ٹ، مٹ) (۱) پھل ٹوٹنا (۲) ٹھونڈا کھانا (۳) ٹھونگنا۔  
**ٹونگارنا**۔ (ٹن، گار، نا، دہ، مص) (۱) پونچ مارنا۔ پوری طرح نہ کھانا۔  
**ٹونگاری**۔ (ٹن، گاری، دہ، مٹ) کھارٹی۔  
**ٹونگانا**۔ (ٹن، گانا، دہ، مص) ٹونگانا۔ ٹونگانا۔ آدیواں کرنا۔ پھانسی پڑھوانا۔  
**ٹونگڑی**۔ (ٹنک، ڈی، دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹانگ کی تصنیف۔ چھوٹی ٹانگ (۲) بطور تصنیف۔  
**ٹونگڑی براڑانا**۔ اڈنگا لگانا یا مارنا۔ ٹانگ کے داؤں سے گرانہ ٹانگ مار کر اڈینا۔  
**ٹونگنا**۔ (ٹنک، نا، دہ، مص) (۱) ٹنگنا۔ لٹکا جانا (۲) پھانسی پڑھوانا، چھت سے لٹکی ہوئی ایک ٹونگ، جس پر بستر رکھے جاتے ہیں۔

یہ ہے کہ ٹونے جھگڑنے اور کٹ کر لاکھ بوجھانے والے آدمی سے کوئی نہیں بٹا جاتا۔

ٹوٹا۔ (ٹوٹا) وہ (صفت) ٹوٹا ہوا۔ چھوٹا ہوا (۲) ناقص۔ جو مرمت چاہتا

ہو (۳) تھکا ماندہ۔ خستہ حال (۴) منہس۔ بے زر۔

ٹوٹا باسن سیرے کے سر۔ (مشل) جس چیز میں کوئی نقص ہو۔ وہ ہر فوراً واپس کر دی جاتی ہے۔

ٹوٹا پڑنا۔ (۱) محاورہ (۱) اوپر تلے گرنا (۲) کسی چیز پر بہت سے آدمیوں کا متوجہ ہو جانا۔ جوم ہونا۔ بچھڑ ہونا۔

ٹوٹا پھوٹا۔ (۱) صفت (۲) جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہو شکستہ۔ جس میں کوئی خرابی عیب یا نقص ہو (۳) معمولی درجے کا (۴) نامکمل۔

ٹوٹا سیلی کمر میں اڑھے کی۔ (مشل) منہس (ٹوٹا) تیلی صرف ایک اٹھالیے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کیا پیچے گا اور کتنا نفع لکھنے گا (عزیزت برٹن)

ٹوٹا مت رہ لوں سولہ راہ پھیر کے نیچ۔ ایک ایک لکھنے کو سوچھے اور پنج نہ پنج۔ (مشل) راستے (راہ پھیر) میں دوسروں سے الگ (ٹوٹا) نہ رہ۔ (مطلوب) ہی ایسا نہ لڑا۔ جو آدمی (منہس) ایسا ہو کہ کسی سے تیر (اور پنج) نہیں سوچھا کرتی مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی بے یار و مددگار ہونے

کی وجہ سے راستے میں ٹٹ جاتا ہے اور لڑائی میں لڑ جاتا ہے۔

ٹوٹے بال۔ (۱) مذ (۲) وہ بال جو سر میں لکھی کرنے میں ٹوٹتے ہیں۔

ٹوٹے بال کھولنا۔ (۱) محاورہ (۲) عورتیں لکھی کرتے ہیں ٹوٹے ہوئے بالوں کو کسی سوراخ میں کھوس دیتی ہیں۔

ٹوٹے سے بھگے جوڑے کا ٹھٹھا۔ ٹوٹا کا کسا جوڑنا۔ گانٹھ پڑے اقرنار ہے۔ (مشل) تعلق توڑ لینے والے (ٹوٹے) آدمی کے

ساتھ ایک بار پھر تعلق قائم کرنے (گانٹھ جوڑنے) سے انسان الچھ جاتا ہے (گھٹلا ہو) توڑے جوئے تعلق کو دوبارہ نہ جوڑا کیا خبر وہ جوڑنے ہی میں

نہ آئے (مطلب) ایک دفعہ دوستی ٹوٹ جائے تو پھر پہل سی دوستی نہیں ہوتی۔ بگاڑ کے بعد صلح صفائی کی کوشش کی جائے تب بھی پوری طرح

صفائی نہیں ہوتی۔

ٹوٹا۔ (ٹوٹا) وہ (۱) نقصان۔ گھٹانا۔ خسارہ (۲) بانس کا ٹکڑا (۳) سگریٹ

یا سرمہ تکی کا بچا ہوا ٹکڑا (۴) کارٹوس۔ پٹاخا (۵) کمی۔ توڑا۔ تجارت میں نقصان (۶) ہرجانہ۔ تاداں (۷) ایک قسم کی آتش بازی (۸) غریبی منہسی (۹) محاول کا ہوا۔

ٹوٹا اٹھانا۔ سہنا۔ (۱) محاورہ خسارہ اٹھانا۔ نقصان اٹھانا۔

ٹوٹا بھر دینا۔ ٹوٹا دینا۔ (۱) محاورہ خسارہ پورا کر دینا۔ نقصان پورا کرنا

تاداں بھرنا۔ معاوضہ دینا۔

ٹوٹا پڑنا۔ ٹوٹا ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) کمی ہونا (۳) نقصان ہونا خسارہ ہونا

ٹوٹا ٹالے نہ تلے جب تک مٹے نہ لیکھ۔ ساوہہ کہیں دے بائیکے لاکھ جتن کر دیجھ۔ جب تک قسمت کا لکھا لیکھ) نہ مٹے اس وقت تک نقصان (ٹوٹا) کوشش کرنے سے بھی نہیں ٹل سکتا (ٹالے نہ تلے) خواہ کتنی ہی کوشش (جتن) کی جائے مطلب یہ کہ جب تک تقدیر یا در نہ ہو نقصان پورا نہیں ہے انسان کوشش اسے روکنے کے معاملے میں بے بس ہے۔

ٹوٹی پر ہاتھ ڈالنا۔ (۱) محاورہ بے عزتی یا توہین کرنا۔ پگڑی اتارنا۔

ٹوٹی چڑھانا۔ (۱) محاورہ شکاری پرندوں کے سروں پر ٹھہری چڑھانا۔ تاکران کی اکھیں بند رہیں۔

ٹوٹی دار۔ (۱) مذ (۲) وہ اسطرح جس میں بارود ڈال کر ٹوٹی چڑھا کر چلا جائے۔

ٹوٹی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ (مشل) مشورے کے لئی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کام کے لیے آدمی نہ ملے تو پھر ٹوٹی ہی سے صلاح مشورہ کرنا چاہیے۔

ٹوٹی والا۔ (۱) مذ (۲) مشوق (۳) احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کی فریاد

ٹوٹے سپاہی جو سرخ ٹوٹی پینتے تھے (۳) فرنگی۔

ٹوٹے برس۔ (Tooth Brush) ڈانگ۔ (۱) مذ (۲) دانت صاف کرنے کا برس۔

ٹوٹ۔ (۱) صفت (۲) اشکبلی۔ چھوٹ (۳) وہ عبارت یا فقرہ جو رہ گیا ہوا اور بعد میں حاشیے پر درج کر دیا گیا ہو (۴) دوستوں میں چھوٹ یا ناراضی۔

ٹوٹ پیرنا۔ (۱) محاورہ (۲) نقصان (۳) کمی۔ فرق۔ نا کامی۔

ٹوٹ مشغول ہونا (۳) دفعتاً اُجھانا۔ جوم کرنا۔ پل پڑنا۔ انتہائی شوق ظاہر کرنا (۴) گڑبڑنا۔

ٹوٹ پھوٹ شکستگی۔ ٹوٹ پھوٹ۔ ٹکڑے۔ پورا۔ بزرگی۔

ٹوٹ پھوٹ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) چوڑوں کی تیاری یا لدائی میں کچھ کا ٹوٹ جانا (۳) اسباب وغیرہ کھنے اٹھانے میں کچھ ٹوٹ جانا۔

ٹوٹ ٹوٹ کر (کے)۔ (۱) محاورہ (۲) شدت سے۔ کثرت سے (۳) تیزی سے۔ بہت جلد (۴) بڑی کوشش سے۔ سخت محنت سے (۵) کسی فریق سے کٹ کر دوسرے فریق سے مل جانا۔

ٹوٹ ٹوٹ کر (کے) پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) شدت سے مینہ برسا۔

ٹوٹا دھار بارش ہونا۔

ٹوٹ جانا۔ (۱) ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا شکستہ ہو جانا (۲) بیماری کی وجہ سے منہصا ہو جانا (۳) منہس ہو جانا (۴) راستے میں ہمارا ہوں سے چھوٹ جانا (۵) بیخود ہو جانا (۶) جوڑوں میں درد محسوس کرنا۔ کنویں میں پانی نہ رہنا۔

ٹوٹ رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) کام کر کے تھک جانا (۳) پڑیوں میں درد ہونا (۴) جدائی میں گھٹنا (۵) غریب ہو جانا۔

ٹوٹ کر (کے) آنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی کی رفاقت یا کسی کا ساتھ چھوڑ کر آنا (۳) بے حد شوق کے ساتھ آنا۔

ٹوٹ کر (کے) دل آنا۔ (۱) محاورہ (۲) بڑی طرح عاشق ہونا۔

ٹوٹ کر (کے) کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) دیکھے ٹوٹ پڑنا۔

ٹوٹ نہ دکھ دے بائیکے سب سے مل کر جال۔ ٹوٹا ڈھوہر دیرت ہیں کام کلی میں ڈال۔ (مشل) دوسروں سے الگ رہنے (ٹوٹنے) اور (ٹوٹے جھگڑنے میں نقصان ہے۔ سب سے مل کر مل (جال) ڈالنا (ٹوٹنا) ڈھوہر) گاؤں کی کلی (کام کلی) میں پھینک دیتے ہیں۔ مطلب































# ث

ثے۔ (رع۔ مونث) اُردو کا چٹھا۔ فارسی کا پانچواں اور عربی زبان کا چوتھا حرف۔ اس کو ثنائے مثلثہ بھی کہتے ہیں۔ دیگر زبانوں میں نہیں پایا جاتا۔ حساب الجمد میں اس کے ۵۰۰ عدد ہیں۔

## ث

ثابت۔ (ثابت۔ رع۔ صفت) (۱) پورا۔ سارا۔ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو جس کے سب اعضاء یا ٹکڑے یکجا ہوں (۲) قائم۔ برقرار۔ مستقل۔ جاری رہنے والا (۳) مضبوط۔ پائیدار (۴) مانا ہوا۔ تصدیق شدہ (۵) یقین جس کی تحقیق کی جا چکی ہو۔ (۶) سچا۔ صحیح۔ ٹھیک۔ درست (۷) وہ ستارہ جو گردش نہ کرے (۸) عاتلون نے سال کے مہینوں کو جن تین قسموں ثابت، منقلب۔ ذوجیت میں تقسیم کیا ہے ان میں سے پہلے قسم کے کہتے ہیں۔ جمع: ثوابت۔

ثابت رہنا۔ (رع۔ صفت) (۱) بات سے نہ بھرتا (۲) قائم رہنا۔ جیسے رہنا۔ ٹھیک رہنا۔ ثابت شدہ۔ (رع۔ صفت) جسے ثابت کیا جا چکا ہو جس کا ثبوت مل چکا ہو۔ یقینی۔ مصدقہ۔ مستند۔

ثابت قدم۔ (رع۔ صفت) (۱) مستقل مزاج۔ ارادے کا مضبوط۔ جہد کا پکا بات سے نہ بھرنے والا (۲) باحوصلہ (۳) مضبوط۔ قائم۔ مستقل۔

ثابت قدم کو سب جگہ ٹھاقول۔ (رع۔ صفت) مستقل مزاج اور حوصلہ مند۔ جہاں جاتا ہے اپنے لیے جگہ پیدا کر لیتا ہے۔

ثابت قدمی۔ (رع۔ صفت) (۱) مستقل مزاجی۔ استقلال۔

ثابت کرنا۔ (رع۔ صفت) (۱) محاورہ) پایہ ثبوت کو پہنچانا۔ تحقیق کرنا۔

ثابت ہونے۔ گھر۔ پھانسی۔ بیٹھ۔ بھادوں۔ ان مہینوں کو عامل لوگ عمل پڑھنے کے لیے موافق اور سازگار مہینے خیال کرتے ہیں۔

ثابت ہونے کا شوق۔ جب کوئی چھوٹی حیثیت کا آدمی بڑے مہدے یا منصب کی خواہش کرتا ہے تو اس پر یہ منہ لگتے ہیں۔

ثابت ہو جانا۔ ثابت ہونا۔ (رع۔ صفت) (۱) تحقیق ہو جانا۔ ثبوت پل جانا (۲) پورا ہو جانا۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ جانا۔

ثابوتی۔ (ثابت۔ رع۔ صفت) (۱) ثبات۔ (۲) ثبات۔ (۳) ثبات۔

ثاقب۔ (ثابت۔ رع۔ صفت) چمکلا۔ روشن۔ چمک دار۔ چمکتا ہوا۔ درخشاں۔

ثالث۔ (ثابت۔ رع۔ صفت) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (



## ش ی

شہر کسے تو یہ مثل کہتے ہیں۔  
 شہر (ش. و. ش. ی) - (ع. ۱) - مذ. ثابت کی جمع - وہ سارے جو گردش  
 نہیں کرتے۔  
 شہر (ع. ۱) - مذ. کپڑا - لباس - پوشاک۔  
 شہر (ع. ۱) - مذ. آسمان کا دوسرا برج جو گائے کی شکل کا ہے - میل بزمظہ  
 کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔

شہر (ع. ۱) - مذ. شہر کی جمع - پہننے کے کپڑے - لباس - پوشاک  
 شہر (ع. ۱) - مذ. شہر کی جمع - پہننے کے کپڑے - لباس - پوشاک  
 شہر (ع. ۱) - مذ. شہر کی جمع - پہننے کے کپڑے - لباس - پوشاک  
 شہر (ع. ۱) - مذ. شہر کی جمع - پہننے کے کپڑے - لباس - پوشاک







کرے۔ تدمیر وہ جو لگا کر ہو کے رہے۔  
 جا دو مٹی۔ (جا۔ دو۔ بن۔ مٹی) [۱-۵] مذ [چندر بنی راجپوتوں کے خانہ دار  
 کی ایک شاخ۔ کوشن جی اسی خاندان سے تھے۔  
 جاوہ (جا۔ وہ) [ع۔ ۱-۱] مذ [۱] راستہ۔ راہ۔ سڑک۔ پگ ڈنڈی (۲) طریقہ۔  
 رواج۔ رسم۔ (عربی میں بتشدید وال مفتوح۔ فارسی اور اردو میں  
 بتقیف وال)۔  
 جاوہ اطاغت سے قدم باہر رکھنا۔ (۱- محاورہ) سرکشی کرنا۔ فریاداری  
 سے انکار کرنا۔  
 جاوہ پیمانہ۔ (د۔ صفت) راستہ چلنے والا۔  
 جاوہ سفتیم۔ (د۔ صفت) سیدھا راستہ۔ لاؤ حق۔  
 جاوہ زب۔ (جا۔ ذ۔ ب) [ع۔ صفت] [۱] جذب کرنے والا۔ چوس لینے والا۔  
 (۲) پرکشش۔ (۳) مذکر [وہ کاغذ جو سیاہی چوس لے۔ سیاہی چٹ۔  
 بلاٹنگ پیپر۔  
 جاوہ زب۔ (جا۔ ذ۔ ب) [ع۔ صفت] [۱] جذب کرنے والی۔  
 (۲) کشش۔ تاثیر۔ محبت (۳) حسن خوبصورتی۔ (۴) فریفتگی۔ (۵) قوت  
 کے ساتھ کھینچنے کی طاقت۔ ایک قوت جو اعضا میں موجود ہے،  
 اور اپنے موافق مادہ کو جذب کرتی ہے۔  
 جاوہ زب۔ (ع۔ ۱-۱) مذ [۱] پڑوسی۔ ہم سایہ (۲) لفظ کے آخری حرف پر زیر  
 یا کسرہ دینے والا۔ (۳) جوش۔ تیزی۔ تندی۔ زور۔  
 جاوہ زب۔ (۱) کھینچنے والا اور وہ جو کھینچے (۲) وہ حرف جو زیر یا کسرہ  
 دے اور وہ حرف جس پر زیر یا کسرہ دیا جائے۔  
 جاوہ زب۔ (ع۔ صفت) وہ ہم سایہ جس کی جائیداد یا مکان حق شفع کی  
 بہتری جائیداد کے متعلق ہو۔  
 جار۔ (Jar) [انگ۔ ۱-۱] مذ [مٹی یا شیشے کا مرئیان۔  
 جار جریٹ (Georgette)۔ جار۔ جنٹ] [انگ۔ ۱-۱] مذ [باریک  
 ریشمی کپڑا جس کے دوپٹے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔  
 جارح۔ (جا۔ یح) [ع۔ صفت] [۱] نشتر لگانے والا۔ زخمی کرنے والا۔  
 (۱) مذ حملہ کرنے والا۔ حملے میں پہل کرنے والا۔  
 جارحانہ۔ (جا۔ ر۔ حانہ) [ع۔ صفت] جس سے زخم لگے یا نقصان پہنچے۔  
 (۲) آگے بڑھنے والا۔ (۳) شدت کا۔  
 جارحہ۔ (جا۔ ر۔ حہ) [ع۔ صفت] [۱] مذ و صفت] [۱] زخم کرنے والی چیز۔  
 (۲) شکاری جانور۔ (۳) انسانی عضو جسے ہاتھ پاؤں وغیرہ جمع ہوں۔  
 جارحیت۔ (جا۔ ر۔ حی۔ بیت) [ع۔ ۱-۱] مذ [دوسرے ملک پر بلاوجہ  
 حملہ ناجائز چڑھائی۔  
 جاروب۔ (جا۔ روب) [د۔ ۱-۱] مذ [جھاڑو۔ بہاری۔  
 جاروب کش۔ (د۔ صفت) جھاڑو دینے والا۔ خاکروب۔ بھنگی۔ ہمتز۔  
 جاروب کشی۔ (د۔ ۱-۱] مذ [جھاڑو دینا۔ خاکروب کا کام۔ جھاڑو دینے  
 کا پیشہ۔  
 جاری۔ [ع۔ صفت] [۱] رواں۔ بہتا ہوا۔ (۲) بڑھتا ہوا۔ (۳) راجح الوقت

مروجہ۔ (۴) لگا تار مسلسل۔ برابر۔ صادر۔ متصل۔  
 جاری شدہ۔ (۱) جاری کیا ہوا۔ (۲) نافذ۔ راج۔  
 جاریس۔ (جا۔ ر۔ یس) [ع۔ ۱-۱] مذ [۱] لاڈلی۔ باندی۔ کینز۔ داسی۔  
 (۲) کشتی۔ (۳) آب رواں۔ (۴) نعمت خدا داد۔  
 جاڑا۔ (ج۔ ۱-۱] مذ [۱] سردی۔ خشکی۔ ٹھنڈ۔ (۲) سردی کا موسم۔ (۳) بخار۔  
 تیب لڑہ۔  
 جاڑا پڑنا۔ (۱- محاورہ) سردی پڑنا۔ سردی کا زور۔ سردی چکنا۔  
 جاڑا پڑھنا۔ (۱- محاورہ) کپکپی لگنا۔ سردی کے ساتھ بخار چڑھنا۔  
 جاڑا ڈوٹی سے جانا ہے یا ڈوٹی سے۔ (مثلاً) جاڑے میں آدی  
 اسی حالت میں گرم رہتا ہے جب لمحات اوڑھے ہوئے ہو یا  
 ربوی کے ساتھ سو رہا ہو۔  
 جاڑا اٹھانا۔ (۱- محاورہ) سردی برداشت کرنا۔  
 جاڑا لگنا۔ (۱- محاورہ) سردی یا ٹھنڈ معلوم ہونا۔ ٹھنڈ لگنا۔  
 جاڑا ماہ نہ پوہ۔ جاڑا ہوا کا ہوا۔ (مثلاً) جاڑے کے لیے ماگھ پوس  
 (جو سردی کے پھینے ہوتے ہیں) کی قید نہیں بلکہ اصل جاڑا اس  
 وقت پڑتا ہے جب سردیوں میں ہوا تیز چلنے لگے۔  
 جاڑے کی چاندنی۔ (۱- صفت) بے فائدہ چیز۔  
 جاڑے (Jazz) [انگ۔ ۱-۱] مذ [ایک طرح کا نغمہ اور ناچ۔  
 جاڑم۔ (جا۔ ز۔ م) [د۔ ۱-۱] مذ [دیکھیے جامع۔  
 جاڑم۔ (ع۔ ۱-۱] صفت] [جا۔ ز۔ م] [۱] جزم دینے والا۔ متحرک حوت کو  
 ساکن کرنے والا۔ (۲) مادہ مضبوط کرنے والا۔  
 جاڑوس۔ (جا۔ سوس) [ع۔ ۱-۱] مذ [غیر۔ راز خور۔ غریب۔ خفیہ۔ زولیس۔ وہ  
 شخص جس کا سرکاری راز دوسرے ملک میں پہنچائے۔  
 جاڑوس۔ (جا۔ سوس) [ع۔ ۱-۱] مذ [مخبری۔ جھید۔ معلوم کرنا۔  
 راز جوئی۔  
 جا کا لامنہ کر۔ (۱- کلمہ متغیر) دہرہ ہوا۔ جو جی چلے کر۔ (غصے کا اظہار)  
 جا کا کٹ۔ (جا۔ کٹ) [انگریزی (Jacket) کا بگاڑ۔ ۱- مرث]  
 جھوٹا کوٹ۔ کمری۔ کڑتی۔ نیمہ آستین۔  
 جا کڑ۔ (جا۔ کڑ) [ع۔ ۱-۱] مذ [کوئی چیز جو اس شرط پر خریدی جائے کہ پسند  
 آئی تو رکھی جائے گی ورنہ واپس کر دی جائے گی۔ (۲) واپسی کی شرط  
 پر خریدی ہوئی چیز۔  
 جا کڑ مہی۔ (۱- مرث) وہ مہی جس میں واپسی کی شرط والی بکری کی  
 زیادہ دانتیں لکھی جاتی ہیں۔  
 جا کھن۔ (جا۔ کھن) [ع۔ ۱-۱] مذ [دہ کلای جس پر کونوں کی بنیاد رکھنے  
 ہیں۔ کونوں کا چاک۔  
 جاکی۔ (جا۔ کی) [انگ۔ ۱-۱] مذ [پیشہ ور۔ چابک سوار۔  
 کھڑو ڈوٹیں کھوڑے پر سوار ہونے والا۔  
 جاگ۔ (ج۔ ۱-۱] مرث] [۱] جاگنا۔ شب بیداری۔ رت جگا (۲) بے خوابی  
 (۳) ہوشیاری۔ (۴) بھاٹ قوم کا لقب۔ (۵) وہ آلم جس سے



جامگی - (جام۔م۔گی) [فت۔ا۔مذ] ہندوق کا ٹوڑا۔  
جامسن - (جام۔سن) [۵۔ا۔مشت] (۱) اوسے رنگ کا ایک کیلا پھل اور  
اس کا درخت (۲) وہ دہی یا چھاپھر جسے دہی جمانے کے لیے استعمال  
کرتے ہیں۔

جامہ - (جام۔مذ) [فت۔ا۔مذ] (۱) پوشاک۔ لباس۔ پیراہن۔ (۲) ایک گھیرا  
چوڑا نمالیاں جو دور قدیم میں اہل و برابرا پہنا کرتے تھے۔  
جامہ احرام - (ع۔ا۔مذ) وہ لباس جس کو حاجی حج سے پہلے خاص مقام سے  
پہن لیتے ہیں۔

جامہ پوش - (فت۔ا۔صفت) لباس پہننے ہوئے۔  
جامہ تلاشی - (۱۔مشت) لباس کی تلاشی۔ طومر یا مجرم کو جیب پکڑتے  
ہیں تو ان کے لباس کی تلاشی لی جاتی ہے۔ جسے جامہ تلاشی کہا جاتا ہے۔

جامہ خانہ - کپڑے رکھنے کی الماری یا صندوق وغیرہ۔  
جامہ دار - (۱) لباس وغیرہ کا منتظم۔ داروغہ لباس۔

جامہ تریب - (فت۔صفت) وہ مرد یا عورت جس کے جسم پر ہر طرح کا  
لباس بھلا معلوم ہو۔

جامہ قطع کرنا - (۱۔مجاورہ) (۱) کپڑے کو جلسے کی شکل میں کترنا۔ (۲) کسی  
صفت یا عیب میں کامل کرنا۔

جامہ ندرام دامن از کجا آرم - (فت۔بش) اصل چیز ہی نہیں ہے  
فروعات کا کیا ذمہ۔

جامہ وار - (۱) ایک قسم کی پھولدار پھینٹ۔ (۲) پھول دار شینے کی چادر۔  
جلے سے باہر ہو جانا۔ (ہونا)۔ (۱۔مجاورہ) (۱) خوشی یا غصے میں پلے

جلے سے باہر ہو جانا۔ (۲) بہت اترا نا۔ فخر کرنا۔  
جلے سے نکل پڑنا۔ (۱۔مجاورہ) بہت زیادہ اترا نا۔ جب انسان اپنے

قابو میں نہ رہے اس وقت بولتے ہیں۔  
جلے سے نکل جانا۔ (۱۔مجاورہ) دیکھتے جلے سے باہر ہو جانا۔

جلے میں پھولانا سما نا۔ (۱۔مجاورہ) اتنا غش ہونا کہ آپے سے باہر ہو  
جانا۔

جلے میں رہنا۔ (۱۔مجاورہ) اپنے حواس میں رہنا۔  
جانی - (جام۔می) [فت۔صفت] (۱) خراسان کے شہر، جام سے منسوب۔  
اس شہر کا باشندہ یا اس سے متعلق کوئی چیز (۲) فارسی کے مشہور شاعر

مولانا نور الدین عبدالرحمن ابن احمد ہامی۔  
جان - (فت۔ا۔مشت) (۱) روح۔ آتما۔ (۲) زندگی۔ حیات۔ (۳) طاقت۔  
قوت۔ (۴) بہتت جو صلہ۔ تاب و توان۔ (۵) جوہر۔ لبت لباس بجز

(۶) نہایت عزیز چیز (۷) پیارا بیٹا۔ (۸) معشوق (۹) خوبی خولہ پوری۔  
(۱۰) زینب و آرائش۔ (۱۱) پیارا کلمہ۔ (۱۲) بچہ۔

جان آجانا۔ جان آنا۔ (۱۔مجاورہ) (۱) طاقت آنا۔ قوت آنا۔ (۲) پنپ  
جانا۔ (۳) تازگی پانا۔ (۴) تسکین یا تسلی پانا (۵) خوشی حاصل ہونا۔

جان آڑنا۔ (۱۔مجاورہ) [فت] جان کی پروا نہ کرنا۔  
جان آزاری - (فت۔ا۔مشت) دکھ دینا۔ ستانا۔

جام پیما - (فت۔صفت) پیالہ ناپنے والا یعنی شرابی۔  
جام بچہ - جام جمشید۔ جام جہاں نما۔ (فت۔ا۔مذ) (۱) وہ روایتی پیالہ  
جس میں جیشہ نام حالات کا عکس دکھایا جاتا تھا۔

جام چڑھانا۔ (۱۔مجاورہ) شراب پینا۔ شراب کا پیالہ حلق میں اُتدیلنا۔  
جام چلنا۔ (۱۔مجاورہ) شراب کا دور پینا۔

جام خانا۔ (فت۔ا۔مذ) شیش محل۔ وہ عمارت جس کے کمروں کے اندر  
آہینے لگے ہوں۔

جام سفال - (فت۔ا۔مذ) مٹی کا پیالہ۔  
جام اصحت پینا۔ (۱۔مذ) یورپ وغیرہ میں دستور ہے کہ اپنے دوستوں  
ماکوں یا مشاہیر کی صحت سلامتی اور کامیابی کے لیے محفلوں میں جام شراب

پیتے ہیں۔  
جام لبریز ہونا۔ (۱۔مجاورہ) پیالہ بھر جانا۔ قریب لگ رہنا۔

جام - (Jam) [آگ۔ا۔مذ] (۱) مریا (۲) راب۔  
جام (۱۔۵) (مذ) (۱) بیٹا۔ فرزند۔ (۲) بیج۔ تخم (۳) مہر۔

جام پھل - (۵۔ا۔مذ) ایک پھل جو سیب کے برابر ہوتا ہے اور دروہوں  
میں کام آتا ہے۔

جام خانہ - [فت۔ا۔مذ] بڑا قابیل۔  
جامد - (جام۔مذ) [ع۔صفت] (۱) جما ہوا۔ (۲) ٹھوس۔ (۳) پتھر۔ جسے  
حرکت۔ (۴) قسم جس سے نہ کوئی لفظ نکلے اور نہ وہ کسی لفظ سے

نکلا ہو۔  
جامدار - دیکھتے جامہ دار۔

جامدانی - (جام۔دانی) [فت۔ا۔مذ] جامہ دانی کا مخفف۔ (۱) کڑھا ہوا  
پھولدار کپڑا۔ (۲) کپڑوں کی پٹی (۳) پڑے کا صندوق جس میں  
پینے کے کپڑے رکھتے ہیں (۴) شیشے یا ابرک یا کاغذ کی چھوٹی سی صندوقی

جس میں بچے حرم کے دلوں میں گونا گونا بھر رکھتے ہیں۔  
جامع (جام۔مع) [ع۔صفت] (۱) جمع کرنے والا۔ تکمیل کرنے والا۔ (۲) مکمل  
حامل۔ جسے کیر۔ پورا۔ (۳) وہ مسجد جس میں نماز جمعہ پڑھی جاتے۔

جامع العلوم - (ع۔۱۔صفت) انسانی کلویڈیا۔ مخزن العلوم۔ وہ کتاب  
جس میں تمام علمی و فنی معلومات درج ہوں۔

جامع الکلمات - (ع۔صفت) (۱) جس میں تمام خوبیاں جمع ہوں (۲)  
جو تمام علوم و فنون کا ماہر ہو۔

جامع اللغات - (۱۔صفت) مکمل لغت جس میں کسی زبان کا ہر لفظ منجائے۔  
جامع المتنیرین - (ع۔ا۔فت۔صفت) پچھڑوں کو طرانے والا۔ مجازاً  
خدا۔

جامع مسجد - (ع۔ا۔مشت) وہ بڑی مسجد جس میں نماز جمعہ ہوتی ہے۔  
شہر کی سب سے بڑی مسجد۔

جامعہ - (جام۔م۔عمد) [ع۔ا۔مشت] دارالعلوم۔ یونیورسٹی۔ درس گاہ۔  
جامعیت - (جام۔م۔عی۔بیت) [ع۔ا۔مشت] جمع گیری۔ جس میں سب  
یکجا آ گیا ہو۔ کامیبت۔

جان آفرین - (دفعہ ۱، صفت) جان ڈالنے والا - خدا۔

جان آنکھوں میں آنا - (۱۔ محاورہ) (۱) مرنے کے قریب ہونا۔ (۲) شہر بدرانتظار ہونا۔

جان اٹکنا - (۱۔ محاورہ) دم ٹکٹنے نکلنے رک جانا۔ نزع کی حالت۔

جان اڑی ہونا - (۱۔ محاورہ) پریشانی، بدحواسی، اضطراب۔

جان اٹھنا - (۱۔ محاورہ) مصیبت میں پھنس جانا۔ آفت میں پڑ جانا۔

جان باخترتہ - (دفعہ ۱، صفت) جسے جان کا ڈرنہ ہو۔ جان پر کھیلنا ہوا۔

جان باز - (دفعہ ۱، صفت) (۱) جان پر کھیل جانے والا۔ (۲) غیر معمولی حوصلے کا انسان۔ (۳) میساک۔ دلیر۔ شجاع۔

جان بازی - (دفعہ ۱، صفت) (۱) جان پر کھیلنا۔ دلیری۔ شجاعت (۲) غیر معمولی حوصلہ۔

جان بچا جانا - (۱۔ محاورہ) الگ ہو جانا۔

جان بچی ہلاکھوں پائے - (مثلاً) (۱) زندہ سلامت رہنا ہی بڑی دولت ہے۔ (۲) مصیبت سے بچنا چھوٹنا۔ مذاب سے نجات ملی۔

جان بحق (تیسلم) ہونا - (۱۔ محاورہ) مر جانا۔ فوت ہو جانا۔

جان بخش - (دفعہ ۱، صفت) (۱) مازگی دینے والا یا والی - جس سے جان سہی پڑ جائے۔

جان کشی - (دفعہ ۱، صفت) (۱) معافی۔ (۲) قتل یا پھانسی کے مستحق کو چھوڑ دینا۔

جان بزر - (دفعہ ۱، صفت) محفوظ۔ زندہ سلامت۔ صحیح سلامت۔

جان بڑ ہونا - (۱۔ محاورہ) (۱) مرنے مرتے بچ جانا۔ (۲) محفوظ رہنا۔

جان بلب - (دفعہ ۱، صفت) مرنے کے قریب۔ قریب مرگ۔

جان بلب (دربلب) ہونا - (۱۔ محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔ نزع میں ہونا۔

جان بھاری ہونا - (۱۔ محاورہ) زندگی سے تنگ آنا۔ مصیبتوں سے گھل جانا۔

جان بچینا - (۱۔ محاورہ) طمع کی وجہ سے وہ کام کرنا جس میں جان جانے کا خطرہ ہو۔

جان بے گل ہونا - (۱۔ محاورہ) بے چینی یا اضطراب ہونا۔ گھبراہٹ ہونا۔

جان جمیہ - زندگی کا بیمہ - (Life Insurance)

جان پانا - (۱۔ محاورہ) تازگی آ جانا۔ نئی زندگی پیدا ہو جانا۔

جان پر آنا - (۱۔ محاورہ) (۱) سخت مصیبت ہونا۔ (۲) اتنی سخت تکلیف ہونا جس سے مرجانے کا اندیشہ ہو۔

جان پر آسمان (فلک) کوٹنا - (۱۔ محاورہ) بڑی سخت مصیبت آنا۔ آفت نازل ہونا۔

جان پر آنا - (۱۔ محاورہ) جان پر پڑنا۔ خطرہ قریب ہونا۔

جان پر کن جانا - جان پر بندنا - (۱۔ محاورہ) (۱) جان خطرے میں ہونا۔ مصیبت میں پھنس جانا۔ (۲) سخت تکلیف میں مبتلا ہو جانا۔

جان پر جو کھم آنا - (۱۔ محاورہ) مصیبت میں چھیننا۔

جان پر ضمیر - (۱۔ مقولہ) کسی کو بددعا دینے کے موقع پر کہتے ہیں۔ ضمیر کا اثر اس کی جان پر پڑے۔

جان پر کھیلنا - کھیل جانا - (۱۔ محاورہ) (۱) ایسا کام کرنا جس میں جان جانے کا خطرہ ہو۔ (۲) کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے مرنے پر آمادہ ہو جانا۔

جان پر نوبت آنا - (۱۔ محاورہ) زندگی خطرے میں پڑ جانا۔ جان جانے کا خطرہ سامنے آ جانا۔ جان لیوا مصیبت کا سامنا ہونا۔

جان پڑنا - (۱۔ محاورہ) (۱) زندگی پیدا ہونا۔ زندگی کے آثار نظر آنا۔ (۲) طاقت آ جانا۔ (۳) کام کی رفتار تیز ہو جانا۔ (۴) اندھے یا بچے میں روح پڑنا۔ (۵) پہل ہونا۔ (۶) فرحت محسوس ہونا۔ (۷) بیماری سے پشیمان ہونا۔ (۸) آسودہ حال ہو جانا۔ (۹) رونق آ جانا۔ (۱۰) عرش ہونا۔

جان پڑی ہونا - (۱۔ محاورہ) (دکھی شخص، چیز یا معاملے میں) (دکھی کی نمونگی رہنا۔ (دکھی کی طرف) خیال لگا ہونا۔ (دکھی کا) ہر وقت دھیان آنا۔

جان بہ گدزنا - (۱۔ محاورہ) تکلیف یا اذیت میں ہونا۔ جان پر پھنا۔

جان بچھڑکنا - (۱۔ محاورہ) بیٹائی محسوس کرنا۔ گھبرانا۔

جان چھیننا - (۱۔ محاورہ) جان چھیننا۔ مصیبت میں جان ڈالنا۔ مشکل میں چھیننا۔

جان پیازی ہونا - (۱۔ محاورہ) مرنے کو ہی نہ چاہنا۔ زندگی عزیز ہونا۔

جان تراش - (دفعہ ۱، صفت) کم زور کرنے والا۔ (قن)

جان تصدق کرنا - (۱۔ محاورہ) دوسرے کو بچانے کے لیے خود مر جانا۔ دوسرے پر اپنی جان قربان کرنا۔

جان توڑ کر - (۱۔ صفت) نہایت سخت سے بہت کوشش سے۔

جان توڑنا - جان توڑنا - (۱۔ محاورہ) نزع کی حالت میں ہونا (۲) سخت کوشش کرنا۔

جان جاتی رہنا - جان جانا - (۱۔ محاورہ) وفات پانا۔ گزر جانا۔

جان جاں - جان جاناں - (دفعہ ۱، صفت) بہت عزیز۔ پائزار معشوق۔

جان جاتے پر آنا نہ جاتے - (مثلاً) عزت میں کسی حالت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ بہرہ و برکتیت پر قائم رہنی چاہیے۔

جان جاتے کہہ رہے - (مثلاً) کتا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آئے کسی مقصد یا کام یا نظریہ کو کسی حالت میں نہ چھوڑنے کا اہل ارادہ۔

جان جھلانا - (۱۔ محاورہ) (۱) سرخ دینا جی جھلانا۔ دلی تکلیف یا اذیت دینا۔ (۲) غصہ دلانا۔ غصہ بھر کر لانا۔ اشتغال دلانا۔

جان جھلنا - (۱۔ محاورہ) (۱) سرخ ہونا۔ (۲) غصہ آنا۔

جان جو کھوں - جان جو کھم - (۱۔ صفت) (۱) خطرہ (۲) اندیشہ - خوف۔ ڈر - (۳) مصیبت - آفت۔

جان جہاں - (ف صفت) محبوب معشوق۔  
 جان چھوکتا - (۱- محاورہ) دوسرے کے لیے مرجانا۔ قربان ہو جانا۔  
 جان چڑانا - (۱- محاورہ) کام سے بچنا۔ ٹالنا۔ پہنوتسی کرنا۔ محنت سے گریز کرنا۔  
 جان چلی جانا - (۱- محاورہ) بے چینی، گھبراہٹ یا اضطراب ہونا۔  
 جان چھپانا - (۱- محاورہ) بہانے کرنا۔ جیلے حوالے کرنا۔ ٹال ٹال کرنا چھپتے پھرنا۔  
 جان چھڑانا - (۱- محاورہ) پیچھا چھڑانا۔ چھندے یا گرفت سے بچ نکلنا۔ نجات پانا۔  
 جان چھڑکنا - (۱- محاورہ) (۱) فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔ دل و جان سے پیار کرنا۔ (۲) انتہائی شفقت دکھانا۔  
 جان چھوٹنا - (۱- محاورہ) (۱) نجات ہونا۔ (۲) جھگڑے سے چھوٹ جانا۔ (۳) تکلیف وہ پابندی سے آزاد ہونا۔  
 جان چھوڑنا - (۱- محاورہ) پیچھا چھوڑنا۔ واسطہ ختم ہونا۔ (۲) ہمت ہارنا۔ (۳) مرجانا۔  
 جان حاضر ہونا - (۱- محاورہ) (۱) ہر طرح امداد کے لیے تیار ہونا۔ (۲) بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ ہونا۔  
 جان دار - (ف صفت) (۱) ذی روح۔ حیوان۔ جان رکھنے والا۔ (۲) طاقت ور۔ قوی مضبوط۔ (۳) باہمت۔ حوصلے والا۔ (۴) چست۔ چالاک۔ تیز۔ پھرتیلو۔ (۵) دولت مند۔ مال دار۔ صاحب ثروت۔  
 جان دریغ نہ کرنا - (۱- محاورہ) کسی کے مقابلے میں اپنی جان کو بھی کچھ نہ بھینسا۔  
 جان ڈوبھیر ہونا - (۱- محاورہ) زندگی وبال معلوم ہونا۔ زندگی سے بیزار ہونا۔ موت چاہنا۔ زندگی آجین ہونا۔  
 جان ڈھکنڈھکی میں اٹھنا - (۱- محاورہ) محنت بے چینی۔ بے قراری یا گھبراہٹ۔  
 جان دینا - جان دے دینا - (۱- محاورہ) (۱) مرجانا۔ (۲) خودکشی کرنا۔ (۳) بخوشی دیکھنا۔ (۴) دوسرے کے لیے مرجانا۔  
 جان ڈالنا - (۱- محاورہ) روح ڈالنا۔ زندگی دینا۔ (۲) تازہ دم کرنا۔ (۳) ترقی دینا۔  
 جان رکھنا - (۱- محاورہ) طاقت ور ہونا۔ قوی ہونا۔  
 جان رمتھے ہونا - (۱- محاورہ) تھوڑی سی جان باقی ہونا۔  
 جان رہنا - (۱- محاورہ) زندگی برقرار رہنا۔  
 جان رہے یا نہ رہے - (دیکھیے جان جانے کے رہے۔  
 جان سپار - (ف صفت) اپنی جان دوسرے کو سونپنے والا۔ اپنی زندگی یا موت دوسرے کی مرضی پر منحصر کرنے والا۔ عاشق۔  
 جان سپر کرنا - (۱- محاورہ) دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنا۔  
 جان سرتال - (ف صفت) - جان لینے والا معشوق۔

جان ستانی - (ف صفت) (۱- مرثیہ) جان لوٹنا۔ ہلاک کر دینا۔ ظلم و ستم۔  
 جان سن سے ہو جانا - (۱- محاورہ) ڈر جانا۔ سہم جانا۔  
 جان سوختہ - (ف صفت) (۱- صفت) جان جلا ہوا۔ عاشق۔  
 جان سوز - (ف صفت) دل جلانے والا۔ ایذا دینے والا۔ تکلیف دہ۔ دکھنا۔ معشوق۔  
 جان سوڑی - (ف صفت) (۱- مرثیہ) جان جلانا۔ دل جلانا۔ ایذا یا تکلیف دینا یا اٹھانا۔  
 جان سوکھنا - (۱- محاورہ) (۱) خوف معلوم ہونا۔ (۲) ڈر گنا۔ دم نشک ہونا۔ ناگوار گزارنا۔  
 جان سولی پر ہونا - (۱- محاورہ) (۱) کسی بات کا اندیشہ ہونا۔ (۲) خطرے میں ہونا۔ (۳) استغراب ہونا۔ (۴) تکلیف، بے چینی یا اضطراب میں ہونا۔  
 جان سے بیزار ہونا - (۱- محاورہ) جان سے تنگ آنا (۱) ہونا (دیکھیے جان ڈوبھیر ہونا۔  
 جان سے جانا - (۱- محاورہ) (۱) مزا۔ فوت ہونا۔ (۲) کسی بیماری یا حادثے کی نذر ہونا۔  
 جان سے دور - (۱- محاورہ) جب کسی مرے ہوئے شخص سے کسی اپنے زندہ عزیز و دل کو نسبت دیتے ہوئے کہتے ہیں۔  
 جان سے زیادہ عزیز رکھنا - (۱- محاورہ) بہت پیارا سمجھنا۔  
 جان سے گذرنا - جان سے گذر جانا - (۱- محاورہ) مرجانا۔ فنا ہو جانا۔  
 جان سے مار ڈالنا - (۱- محاورہ) قتل کرنا۔ ہلاک کرنا۔  
 جان سے مایوس ہونا - (۱- محاورہ) بچنے کی امید نہ رہنا۔  
 جان سے ہاتھ اٹھانا - جان سے ہاتھ دھو چھینا دھوٹنا۔ (۱) (۲) (۳) مرنے پر آمادہ ہونا۔ (۲) زندگی سے مایوس ہو جانا۔  
 جان شیریں - (ف صفت) (۱- صفت) - پیاری جان۔ زندگی۔  
 جان عالم - (۱) اردو زبان کی مشہور داستان انسانہ عجائب کلامیو۔ (۲) نقاب واجد علی شاہ بادشاہ اودھ کا لقب۔  
 جان عذاب میں آنا - جان عذاب میں پڑنا۔ (پھینسا)۔ (۱- محاورہ) سخت مصیبت میں پڑنا۔  
 جان عذاب میں ڈالنا - (۱- محاورہ) جان مصیبت میں پھینسانا۔  
 جان عیش ہونا - (۱- محاورہ) کسی پر فریفتہ ہونا۔  
 جان فرسا - (ف صفت) خون خشک کرنے والا۔ خوفناک۔ ڈراؤنا۔  
 جان فزا - (ف صفت) فرحت، انجیز۔ دل خوش کرنے والا۔ مسرت دہ۔  
 جان فشاں - (ف صفت) جان چھڑکنے والا۔ دوسرے کے لیے جان دینے والا۔ سرگرم۔ پُرشوق۔  
 جان فشانی - (ف صفت) (۱- مرثیہ) (۱) جان دینا۔ (۲) محنت۔ کوشش۔ (۳) سرگرمی۔ شوق۔  
 جان کا دشمن - جان کا لاگو - جان کا لیوا - (۱- صفت) جان کا بھری - (۱- صفت) - جان لینے والا معشوق۔

جان کی امان (۱۔ امش)۔ (۱) جان بخشی بمعانی (۲) رہائی۔ (۳) نجات۔  
 جان کی بڑی ہونا۔ (۱) محاورہ۔ (۱) زندگی کی نگر ہونا۔ جان بچانے  
 کی فکر ہونا۔  
 جان کی جان گئی ایمان کا ایمان گیا۔ (مثیل) دین کے رہنے نہ دینا کے  
 دونوں طرف سے نقصان ہوا۔  
 جان کی خیر۔ جان کی سلامتی۔ (۱) امش) جان کی رہنے کی حالت۔  
 جان کی خیرات مال۔ (مثیل) دیکھیے جان کا صدقہ مال۔  
 جان کی طرح رکھنا۔ (۱) محاورہ۔ (۱) بہت عزیز رکھنا۔ بہت اُنس  
 رکھنا۔  
 جان کے برابر رکھنا۔ (۱) محاورہ۔ (۱) بہت زیادہ عزیز رکھنا۔ بہت  
 زیادہ قدر کرنا۔ (۲) اپنے سے جڑا نہ کرنا۔  
 جان کے پیچھے پڑنا۔ (۱) محاورہ) جان کے درپے نہ ہونا۔ قتل کرنے کے  
 لیے پیچھے پڑ جانا۔  
 جان کے پیچھے عذاب لگانا۔ (۱) محاورہ) کوئی بھیڑ یا مصیبت اپنے  
 سر لے لینا۔  
 جان کے ساتھ چھوڑنا۔ وہ مصیبت جو عمر بھر ساتھ رہے (جیوڑا موٹی  
 رہی کو کہتے ہیں)۔ یہ کمزور بڑی بیوی یا بڑے خاندان کے حق میں کہی  
 جاتی ہے۔  
 جان کے لالے پڑنا۔ (۱) محاورہ) جینے کی امید نہ رہنا۔  
 جان گزار۔ (فت۔ صفت) جان کو گھٹانے والا۔ دل پر اثر کرنے والا۔  
 جان گھٹا رہی۔ (فت۔ ۱۔ امش) جان گھٹنا۔  
 جان گڑا۔ (فت۔ صفت) جان کو گھٹانے والا۔ جان کو اذیت یا تکلیف  
 دینے والا۔  
 جان گھٹل۔ (فت۔ صفت) دیکھیے جان گڑا۔ جان کو گھٹانے والا۔  
 جان گھٹانا۔ (۱) محاورہ) فکر یا غم سے نہ حال ہونا۔ بہت تر دو کرنا۔  
 جان گھل جانا۔ (۱) محاورہ) جان گھٹنا۔ کم زور ہو جانا۔ صحت تباہ ہو  
 جانا۔  
 جان گھوانا۔ (۱) محاورہ۔ (۱) بے فائدہ جان دے دینا۔ (۲) مرنا۔  
 جان گھول پھرتا۔ (۱) محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔ علم نزع  
 میں ہونا۔  
 جان لڑا دینا۔ جان لڑانا۔ (۱) محاورہ) (۱) مرنے کو تیار ہو جانا۔ (۲)  
 دل سے کوشش کرنا۔ بے حد کوشش کرنا۔  
 جان لہرانا۔ (۱) محاورہ) مائل ہونا۔ عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔  
 جان لینا۔ (۱) محاورہ۔ (۱) مار ڈالنا۔ ہلاک کرنا۔ قتل کر ڈالنا۔ (۲) تنگ  
 کرنا۔ (۳) سمجھ لینا۔  
 جان لیوا۔ (فت۔ ۱۔ مذ) (۱) جو جان لے لے۔ (۲) جانی دشمن۔  
 جان مار کر کام کرنا۔ (۱) محاورہ) بہت محنت اور کوشش سے کام کرنا۔  
 جان مارنا۔ (۱) محاورہ۔ (۱) بہت محنت سے کام کرنا۔ (۲) تکلیف  
 پہنچانا۔ (۳) تنگ کرنا۔

(۱) سخت دشمن۔ جانی دشمن۔ ایسا شخص جو جان کے درپے رہے۔  
 (۲) مکمل موت۔ (۳) بڑا خواہ۔ حاسد۔  
 جان کا بیونہ۔ جان کا ٹکڑا۔ (۱) صفت) جو اپنی جان بتنا عزیز ہو۔  
 آرام دل۔ معشوق۔ بگر پارہ۔  
 جان کا ٹکڑا۔ (۱) صفت) بہت پیارا۔ معشوق۔ فرزند۔  
 جان کا جہال۔ (۱) مذ) ڈوب کر تکلیف دہ۔ وبال جان۔ مصیبت۔  
 بکھیڑا۔  
 جان کا خواہاں ہونا۔ (۱) محاورہ) مارنے کے درپے ہونا۔ قتل کی فکر  
 میں ہونا۔  
 جان کا دشمن۔ (۱) صفت) سخت دشمن۔  
 جان کا روگ۔ جان کا عذاب۔ (۱) مذ)۔ (۱) ایسا مرض جس میں  
 ہلاکت کا خطرہ ہو۔ وہ آزار یا بیماری جس نے جینا واپس کر دیا ہو۔  
 جان کا صدقہ مال۔ (مثیل) جان بچانے کے لیے مال قربان کر دینا  
 جاتا ہے۔  
 جان کا ٹھٹکا۔ (۱) مذ) ہلاکت یا قتل کا اندیشہ۔  
 جان کا کیا بھروسا۔ (۱) مذ) زندگی کا کیا بھروسا۔  
 جان کا منہ نہیں گرتے، روئے کا منہ کرتے ہیں۔ (مثیل) کج خلق آدمی  
 رو بہ بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔  
 جان کام آنا۔ (۱) محاورہ) کسی کی خدمت میں مرجانا۔  
 جان کاہ۔ (۱) صفت)۔ (۱) محنت طلب (۲) جس سے جان گھل جائے  
 (۳) غم بچانے۔  
 جان کاہکی۔ (فت۔ ۱۔ امش) محنت۔ مشقت (۲) کوئی چیز جو زندگی  
 کو کر دے۔  
 جان کا آگو۔ (۱) مقولہ) جان کا دشمن۔ جانی دشمن۔  
 جان کندی۔ جان کمنی۔ (۱) نزع کی حالت۔ دم توڑنا۔ موت کے لمحے  
 میں سانس اکھڑنا۔ (۲) عذاب۔ اذیت۔  
 جان کو آجانا۔ جان کو آنا۔ (۱) امش) سخت غصے ہونا۔ بہت  
 ناراض ہونا۔  
 جان کو جان نہ سمجھنا۔ (۱) محاورہ) حد سے زیادہ محنت کرنا۔ اپنی  
 صحت کی طرف سے بے پرواہ ہو کر مشقت کرنا۔  
 جان کو رونا۔ جان کو کپٹنا۔ (۱) محاورہ) صبر کر لینا۔ جس سے تکلیف  
 پہنچی ہے اُسے کوشنا۔  
 جان کھا جانا۔ جان کھانا۔ (۱) محاورہ۔ (۱) ستانا۔ تنگ کرنا۔ (۲)  
 ٹھکانا۔ تیار پانا۔ (۳) ناک میں دم کرنا۔ (۴) بہت ستانا۔  
 جان کھا لینا۔ (۱) ناک میں دم کر دینا۔ (۲) تنگ کرنا۔ ستانا۔  
 جان کھینا۔ (۱) محاورہ) بہت زیادہ محنت کرنا۔ فکر کرنا۔ تر دو میں رہنا۔  
 جان کھیننا۔ (۱) محاورہ) جان نکھلنا۔ دم نکھلنا۔  
 جان کھونا۔ (۱) محاورہ۔ (۱) رنج کرنا۔ غم کرنا (۲) مرجانا (۳) کسی خاص  
 مقصد کے لیے جان دے دینا۔



دنیا کے سارے مومے جیتے جی کے ہیں۔

جان [۱-۵] - مرث [۱] - واقفیت - پہچان - آنکھی۔

جان بوجھ کر (۱- محاورہ) عمداً - قصداً - دیدہ دانستہ - ارادتنا۔

جان بوجھ کر کنوئیں میں گرنا۔ (۱- محاورہ) - (۱) واقف ہونے ہوئے

نقصان اٹھانا۔ (۲) باخبر ہونے کے باوجود خطرے میں پڑنا۔

جان پڑنا۔ (۱- محاورہ) معلوم ہونا - دھیان میں آنا - ظاہر ہونا - نظر آنا - محسوس ہونا۔

جان پہچان۔ (۱- مرث) - (۱) واقفیت - آشنائی - جاننا - شناسائی - صاحب سلامت۔ [۱- مذکر] (۲) واقف - دوست آشنا۔

جان جاننا۔ (۱- محاورہ) - (۱) واقف ہونا۔ (۲) پہچان کر لینا - پہچان جانا۔

جان رکھنا۔ (۱- محاورہ) یاد رکھنا - اچھی طرح سمجھ لینا - دل میں بٹھالینا۔

جان کار۔ (۱- صفت) - (۱) واقفیت رکھنے والا - ماہر (۲) شناسا۔ جان پہچان۔

جان کاری۔ (۱- مرث) (۱) واقفیت - مہارت - (۲) شناسائی۔

جان کر۔ جان کے - دانستہ - عمداً - قصداً - جانتے بوجھتے۔

جان کر اٹھانا۔ (۱- محاورہ) واقف ہونے کے باوجود لامتی ظاہر کرنا۔

واقف بننا۔ دیدہ دانستہ انکار کرنا۔ تجاہل عارفانہ۔

جان کر دیکھنے نہیں اس سے اندھا کون - (۱- مرث) دیدہ دانستہ غلطی

کرنے والے سے بڑا حق کون ہوتا ہے۔

جان کے - (۱- منقول) ارادتنا - عمداً۔

جان لینا۔ (۱) معلوم کر لینا۔ واقف ہو جانا۔ (۲) پہچان لینا۔ (۳) تسلیم کر

لینا۔ (۴) قائل ہونا۔ (۵) خیال کرنا۔ (۶) ناؤ لینا۔

جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام۔ (۱) کوئی شخص جان پہچان کے بغیر ہی

واقفیت بنانے کے قواس سواتے پر یہ مثل کہی جاتی ہے۔ ناحق کا تپاک

اور گرم جوشتی - خواہ مخواہ دوستی جتانہ۔

جان نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت کمزور ہونا۔

جان - [ع- ۱- مذکر] (۱) جن (۲) جنوں اور پریوں کا جادو اعلیٰ۔

جاننا۔ [ع- ۱- مص] روانہ ہونا۔ رخصت ہونا۔ چلنا۔ سدھا زنا۔ سکرنا۔ ملنا۔

جاننا اپنے بس - آنا پر اسے بس - (۱- مرث) اپنی خوشی سے جانا۔ دوسرے کی

مرثی سے واپس آنا۔

جاننا ہے رہنا نہیں۔ (مرث) مستقل قیام نہیں کرنا ہے۔

جانا بوجھا۔ (جا - نا - بوجھا) - [ع- ۱- صفت] اس سے اچھی طرح واقفیت ہو۔

دیکھا بھالا جس کو اچھی طرح جانتے ہوں۔

جانا ناں - جانا ناں - جا - نا - ناں - [ع- ۱- صفت] محبوب - محبوبہ۔

جاننی - پیارا۔ (۲) بعض صوفی شعرا نے خدا کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔

جانئب - [ع- ۱- مرث] (۱) طرف - [ع- ۱- مرث] (۲) سمت - (۳) پہلو - (۴) ایک

طرف یا باہر کا حصہ (۵) حصہ۔

جانئب دار۔ [ع- ۱- صفت] (۱) طرف دار - حمایتی - مددگار - بچ کرنے والا۔

جانئب دارانہ۔ (ع- ۱) وہ رویہ جس میں ایک فریق کی حمایت کی جاتے۔

جانئب داری۔ (۱) طرفداری - حمایت - (۲) ایک فریق کی پاسداری۔

جان مارے بقیا پہچان مارے چور۔ (۱- مرث) (۱) بنیا دوستوں سے

مار کھاتا ہے اور چور جاننے والوں سے۔

جان مارے سے ٹھکا پیدا ہوتا ہے۔ (۱- مرث) (۱) محنت اور لگن سے

کام کیا جانے تو درہمیر حاصل ہوتا ہے۔

جان ملن۔ [ع- ۱- صفت] - (۱) میری جان - (۲) کسی عزیز یا محبوب شخص

کو خطاب کرنا ہو تو یہ ترکیب استعمال کرتے ہیں۔

جان میں جان آنا۔ جان میں جان پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) المینان

ہونا۔ نسلی ہونا۔ (۲) حوصلہ ہونا۔ (۳) خوشی حاصل ہونا۔

جان میں جان نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت کمزور ہونا۔

جان نثار۔ [ع- ۱- صفت] - (۱) جان قربان کرنے والا۔ [ع- ۱- صفت] - (۲) جان نثار۔

جان نثار کرنا۔ (۱- محاورہ) کسی کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر

دینا۔

جان نثاری۔ [ع- ۱- مرث] (۱) جان نثار کرنا۔ جان نثاری۔ جان نثاری۔

جان نکلنا۔ (۱) دم نکلنا۔ مرنا۔ (۲) گھبرانا۔ (۳) بزدلی دکھانا۔ (۴)

بے گل ہونا۔

جان نوازی۔ [ع- ۱- صفت] - (۱) جان پر مہربانی کرنے والا۔ (۲) کنایتاً

ممشوق۔

جان نوازی۔ [ع- ۱- مرث] (۱) جان پروری۔ جان پر مہربانی کرنا۔

جان نہ بچنا۔ (۱- محاورہ) موت سے نہ بچ سکتا۔ مَر جانا۔ (۲) چھٹکارا

نہ ہونا۔

جان نہ چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) مار ڈالنا۔ (۲) بچھڑانا۔

جان نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) کمزور ہونا۔ طاقت نہ ہونا۔ بکت نہ ہونا۔

جان وارنا۔ (۱- محاورہ) جان قربان کرنا۔ جان نثار ہونا۔

جان و دل سے۔ نہایت خوشی سے۔ بہنوشی (پورے تعاون کا وعدہ)

جان و مال کو ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کی جان اور مال کے نقصان کا رنج

دھلا کرنا۔

جان ہار۔ [ع- ۱- صفت] (۱) جان پر کھیلنے والا۔ جان دینے والا۔ (۲)

مرنے والا۔

جان ہلاک کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت زیادہ فکر ہونا (۲) حد سے زیادہ

محنت و مشقت کرنا۔

جان ہلان کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تھکا مارنا۔ بہت زیادہ کام لینا (۲)

تکلیف دینا۔ تنگ کرنا۔ (۳) مصیبت چھیننا۔

جان ہوا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) جان نکلنا۔ (۲) بہت زیادہ ڈرنا۔

جان ہونا۔ (۱- محاورہ) - (۱) طاقت۔ زور یا قوت ہونا۔ (۲) زندگی

پانی جانا۔ (۳) بہت عزیز ہونا۔

جان ہونٹوں پر آنا۔ دیکھتے جان بولوں پر آنا۔

جان ہے تو جمان ہے۔ جان ہے تو سب کچھ ہے۔ (۱- مرث)

جانے میری ملا۔ (جوتنی) مجھے کیا خبر (نگوار بات یا ناپسندیدہ بات) کے بارے میں پوچھ جانے پر جھجھلاہٹ کا اظہار۔  
جانے۔ [ہ] جانگی بدلی ہوئی شکل۔ اسے کی ضد۔  
جانے دو۔ (۱) محاورہ۔ (۲) درگزر کرو۔ (۳) غصہ نہ کرو۔ (۴) روکو نہیں۔

جانے دینا۔ (۱) محاورہ۔ (۲) جانے سے نہ روکنا۔ (۳) درگزر کرنا۔ (۴) چھوڑ دینا۔  
جانے کے بچسن۔ (۱) مذ۔ بگڑنے کے آثار۔ تباہی کی علامتیں۔  
جانے میری جوتنی۔ (۱) منقولہ مجھے کی بڑبڑاہٹ۔

جانے والے کے ہزار رستے ڈھونڈنے والے کا ایک۔ (۱) منیل  
کسی شخص کے چلے جانے کے بعد اسے ڈھونڈنا بہت دشوار ہوتا ہے۔  
جانے والے کے سانسے ان گنت راستے کھلے ہوتے ہیں جہاں چلے جانا  
جائے۔ ڈھونڈنے والا ایک وقت میں ایک ہی راستے جا سکتا ہے۔

جاؤ ترمی۔ (جا۔ وٹ۔ ت۔ ری) [س۔ ا۔ مٹ] جا متل کا پوست۔  
جاووال۔ (جا۔ و۔ وال) [ت۔ صفت] ہمیشہ۔ دائم۔ ملام۔ سدا۔  
جاووانی۔ (جا۔ و۔ وانی) [ت۔ صفت] ادائیگی۔ سروس۔ ہمیشہ کے لیے۔  
الٹی۔

جاوید۔ (جا۔ وید) [ت۔ صفت] دائمی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔  
جاہ۔ (جا۔ ا۔ مٹ) [ت۔ مرتبہ۔ درجہ] (۲) منصب۔ عورت۔ قدر و منزلت۔  
(۳) بزرگی۔ عظمت۔ شان۔

جاہ و جلال۔ (ت۔ ا۔ مذ) رعب داب۔ وہ بہ۔ شان و شوکت و عظمت۔  
جاہ و چشم۔ (ت۔ ا۔ مذ) [ت۔ شان و شوکت۔ شامٹ باٹ۔ کروفر] (۲)  
لاؤ ٹھکر۔

جاہ و منزلت۔ جاہ و منصب۔ (ت۔ ع۔ ا۔ مٹ) بزرگی شان۔  
عظمت۔ وقار۔ رتبہ۔

جاہل۔ (جا۔ ہل) [ت۔ صفت] [۱] ان پڑھ۔ ناخواندہ (۲) وحشی۔ احمق۔  
بد اخلاق۔ بے ادب۔ گستاخ۔ نادان۔ انارٹی۔ (۳) نادانیت۔

بے خبر۔ انجان۔  
جاہل فقیر شیطاں کا ٹیٹو۔ (۱) بے علم فقیر شیطاں کا آکرہ کار ہوتا ہے۔

جاہلیت۔ (جا۔ ہ۔ لی۔ یث) [ت۔ صفت] [۱] جہالت (۲) زمانہ قبل از اسلام جب لوگ بت پرستی کرتے تھے۔

جاہلی جوہی۔ (جا۔ ہ۔ جوہی) [ت۔ صفت] [۱] ایک قسم کی چینییل (۲) ایک قسم کی آتشبازی۔

جاہلیجیل۔ (جا۔ ہ۔ جیل) [ت۔ صفت] [۱] ایک مشہور پھیل۔  
جاہلکار۔ (جا۔ و۔ وار) [ت۔ صفت] [۱] مکان۔ زمین۔ اراضی (۲) مال۔ اسباب۔ زیور۔ (۳) کھڑی فصل۔ (۴) پونجی۔ آتش۔ چیز بہت جو کسی کی ملکیت میں ہو۔

جانب سے۔ طرف سے۔ بجائے۔ بطور وکیل یا ترجمان۔  
جانب۔ (جا۔ نب) [ت۔ ا۔ مذ] [۱] جان پہچان۔ (۲) رشتہ دار۔ (۳) وہ چیزیں یا لوگ جنہیں کوئی جانتا ہو۔

جانب کار۔ (۱) صفت [واقف کار۔ جان پہچان کا آدمی۔  
جان بل۔ (Jonn Bull) جان۔ بل [انگ۔ ا۔ مذ] [۱] انگریز قوم۔ انگریز۔

جان بین۔ (جان۔ بن) [ت۔ ع۔ ا۔ مذ] فریقین۔ دونوں طرف کے آدمی۔  
جان بین سے۔ دونوں جانب سے۔ دونوں طرف سے۔ ہر دو جانب سے۔

جانستا۔ (جان۔ تا) [ت۔ ا۔ مٹ] [۱] آل اولاد۔ (۲) ایک قسم کی بچی۔  
جاننا چور گاڈل اچھاڑے۔ (ش) واقفیت رکھنے والا چور بہت زیادہ نقصان کرتا ہے۔

جانچ۔ (ج۔ ا۔ مٹ) [۱] پرکھ۔ پڑتال۔ اندازہ۔ تخمینہ۔ شناخت۔ جانچنا۔  
جانچ پرکھ کرنا۔ (۱) محاورہ۔ آزمانا۔ سمجھنا۔  
جانچ پڑتال کرنا۔ (۱) محاورہ۔ اندازہ کرنا۔ گنتی کرنا۔

جانچ لینا۔ (جس۔ کرب) تخمینہ کر لینا۔ سنا لینا۔  
جانچنا۔ (جانچ۔ نا) [ت۔ مٹ] [تخمینہ کرنا۔ (۲) آزمانا۔ پرکھنا۔ (۳) سنا لینا۔  
معلوم کرنا۔ پہچاننا۔ (۴) حساب کی پڑتال کرنا۔ (۵) ٹوننا۔

جانکنا۔ (جان۔ کن۔ نال) [ت۔ مٹ] [۱] اتفاقاً جانچنا۔ اچانک سے جانچ جانا۔  
جانک۔ (جانک۔ ہ) [ت۔ ا۔ مٹ] [۱] ران۔ زانو۔

جانگل۔ (جان۔ گل) [ت۔ ا۔ مٹ] [۱] تینز (۲) ایک مچھلی پکڑنے والا پٹہ۔  
جانگلو۔ (جانگ۔ لو) [ت۔ صفت] [۱] وحشی۔ غیر منظم۔ احمق۔  
جانگلی۔ (جانگ۔ لی) [ت۔ ا۔ مٹ] [۱] جنگلی۔ وحشی۔ (۲) دیہاتی۔ گنوار (۳) ایک بزرگ۔ ایک درخت کا نام۔

جانگھیا۔ جانگھیا۔ (جانگھ۔ یا)۔ (جانگ۔ یا) [ت۔ مٹ] کچھا۔ لنگوٹ۔  
جانغا۔ (جان۔ نا) [ت۔ مٹ] [۱] واقف ہونا۔ پہچاننا۔ آگاہ ہونا۔ آشنا ہونا۔  
معلوم کرنا۔ تیز کرنا۔ سمجھنا۔

جاننا بوجھنا۔ (جان۔ و) [ت۔ صفت] [۱] واقف ہونا۔ پوری معلومات رکھنا۔  
جانوا۔ (جان۔ وا) [ت۔ صفت] [۱] جاننا۔ جاننا۔

جانور۔ (جان۔ ور) [ت۔ ا۔ مذ] [۱] جاندار۔ حیوان۔ [صفت] بے ذوق  
اجن۔

جانوی۔ (ت۔ صفت) [۱] پیار کے قابل۔ (۲) معشوق۔ (۳) اماں بابا جیسے الفاظ کے ساتھ بولا جانے والا محبت کا لفظ۔

جانوی دشمن۔ (ت۔ صفت) ایسا دشمن جو جان کے ور ہے ہو۔  
جانوی دوست۔ (ت۔ صفت) ولی دوست۔ مخلص دوست۔

جانے۔ [ہ] [۱] گویا فرض کرو۔ یوں سمجھو (۲) خیر نہیں۔ پتہ نہیں۔  
جانے کرم کی چھینٹ کس وقت آئے۔ (۱) منیل (۲) کوئی عینیں مہانگار  
قصت کب جاگ اٹھے۔

جانی جوئی۔ (جا۔ ای۔ جو۔ ای) [ہ۔ ا۔ مٹ] ایک قسم کا کپڑا ہے۔  
آہستہ آہستہ۔

جائیداد۔ (جا۔ بی۔ یا۔ ہ) [نڈا] (۱) جائیداد (۲) شہر۔ (۳) عیار۔ چالاک۔  
(۴) جو اپنی روشنی طبع کے باعث زیادہ دن جینا نظر دے۔

جائے۔ [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) جگہ (۲) گنجائش۔ سماں۔ (۳) موقع۔ محل۔  
جائے استاد و خالی است [مٹ] [مٹ] استاد پھر بھی استاد ہے۔ استاد  
کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔

جائے اعتراض۔ نقص نکلنے یا عیب نکلنے کی گنجائش۔

جائے اندیشہ۔ (۱) نظر کے مقام (۲) اندیشے یا خوف کی وجہ۔

جائے کیا۔ (ف۔ ا۔ مٹ)۔ امن کی جگہ۔

جائے کثرت و مردمان بسیار [مٹ] [مٹ] جگہ یا گنجائش کم۔ آدمی  
یا حاضرین زیادہ۔

جائے دم زدن نیرت۔ (ف۔ محاورہ) شکایت زبان پر لانے کا  
موقع نہیں۔ اُٹ کر نے کی گنجائش نہیں۔

جائے سے۔ جائے کمر۔ (۱) صفت (۲) مناسب موقع پر (۳) صحیح مقام  
پر۔ بجا۔ ٹھیک۔ درست۔ مناسب۔ واجب۔ ناقابل اعتراض۔

جائے ضرور۔ دیکھئے حاضر و

جائے عامہ۔ (Public Place) وہ جگہ جو عوام کی تفریحات اور  
ان کے اجتماعات وغیرہ کے لیے مخصوص ہو

جائے تندر۔ (ف۔ ا۔ مٹ) ہمانہ کرنے یا ماننے کی گنجائش  
جائے گل گل باش و جائے خار، خار۔ [ف۔ مٹ] [ف۔ مٹ] تندی کے موقع  
پر نرمی اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لینا چاہیے۔

جائے ہجر۔ (ف۔ ع۔ ا۔ مٹ) جس جگہ جرم ہوا ہو۔

جائے نکافات۔ (ف۔ ع۔ ا۔ مٹ) (۱) بدلے کی جگہ (۲) بدلے کا  
موقع محل۔

جائے جان۔ رہے ایمان۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جان بھی  
جاتی رہے تو پروا نہیں کرنی چاہئے۔

جائے لاکھ۔ رہے ساکھ [مٹ] [مٹ] کتنا ہی نقصان ہو مگر آبرو نہیں رہے۔

جایا۔ [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) مڈکرا بیٹا۔ فرزند۔ پسر۔ لڑکا۔ ولد۔ پوت۔ حلفت۔ ابن۔

جایا۔ (جاننا مصدر کا امدادی فعل) جیسے جایا کرو۔ جایا چاہتا ہے۔

جایا چاہنا۔ جانے کے لیے تیار ہونا۔

جایا کرنا۔ عموماً جاننا، عادتاً جاننا۔

## ج - ب

جبب۔ (۱) حرف شرط جس وقت جس صورت میں۔ جوں ہی۔ در  
حالے کہ۔ ہر گاہ۔

جبب آنکھ بند کر لی پیچھے کچھ ہی ہو۔ (۱) [مٹ] [مٹ] مرجانے کے بعد

جائیداد آسانی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) باپ داد  
جائیداد اراضی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) زمین یا مکانات جو قبضہ میں ہوں۔

جائیداد استخاری۔ (ف۔ ا۔ مٹ) جاگیر جو دائمی ہو۔

جائیداد سکتی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) رہنے کی جائیداد۔ مکانات۔

جائیداد غیر منقولہ۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ  
بٹائی نہ جا سکے جیسے مکان۔ زمین وغیرہ۔

جائیداد متعلقہ خاندان۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ جائیداد جو سارے خاندان کی  
ملکیت ہو۔ ہدی جائیداد۔

جائیداد متصرفہ۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ جائیداد جو رہن وغیرہ میں ڈوب  
جائے۔

جائیداد مشغوعہ۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ جائیداد جس پر حق شفعہ کا عمل کیا  
جائے۔

جائیداد مکسوبہ۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ جائیداد جو مالک نے اپنی کمائی سے  
بنائی ہو۔

جائیداد مکتولہ۔ (ف۔ ا۔ مٹ) ایسی جائیداد جو رہن یا گروی ہو۔

جائیداد منقولہ۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ  
لے جا سکیں جیسے سامان روپیہ وغیرہ۔

جائزہ۔ (جا۔ از) [ع۔ صفت] (۱) صلح۔ درست۔ بجا۔ برحق۔ روا۔  
(۲) مطابق شرع۔ قانون کے حدود میں مباح۔ حسب ضابطہ (۳)  
(اولاد) سگا۔ صلیبی۔ (۴) مستند۔ مقبول۔ (۵) قابل قبول۔

جائزہ رکھنا۔ (۱) محاورہ) (۲) ماننا صحیح قرار دینا۔ (۳) حلال جاننا۔ مباح  
سمجھنا۔

جائزہ قرار دینا۔ (۱) محاورہ) قانوناً جائز ہونے کا فیصلہ دینا۔  
جائزہ ولی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) جو شرعیاً قانوناً سرپرست تسلیم کیا گیا ہو۔

جائزہ۔ (جا۔ ز۔ زہ) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) صلہ۔ انعام۔ (۲) جانچ۔ پڑتال۔ مقابلہ  
(۳) حاضر کی بگوتی۔ (۴) وہ نشانات جو رقومات پر پڑتال کے وقت لگایا  
جائے۔ دستی کائنات۔ پڑتال کی علامت۔

جائزہ دینا۔ (۱) محاورہ) حساب کتاب کی جانچ پڑتال کروانا۔

جائزہ گیری (Resuming Charges) دوبارہ از سر نو کام  
شروع کرنا۔

جائزہ لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) پڑتال لینا۔ جانچنا۔ (۲) ذہن میں تولنا۔  
(۳) حساب کتاب چیک کرنا (۴) موجودہ سامان یا اقسام وغیرہ  
کا شمار کرنا۔

جاو۔ مٹھو (بھی) دخل نہ دو۔ رہنے دو۔ اپنا کام کرو۔  
جاو۔ حشکہ کھاؤ۔ (مٹ) تم اس چیز کے اہل نہیں ہو۔ تم کو یہ چیز نہیں  
ملے گی۔

جاو۔ دیوتا (پوت) دکھن۔ وہی کرم کے لچپن۔ (مٹ) [مٹ] [مٹ] مقام یا جگہ  
ہلنے سے تقدیر نہیں بدلتی۔

جائی۔ [ہ۔ ا۔ مٹ] [بی۔ بی۔ لائی۔ دختن۔

جب تک ہمتیہ لڑھکے لڑھکے جاوے۔ (ایشل) جب تک کام چلتا رہے چلائے جاوے۔ جب تک مطلب نکلے نکالے جاوے۔  
جب تک جینا تب تک جینا۔ (ایشل) عسیر بھر محنت شفقت کرنا ہے۔

جب تک دم ہے تب تک علم ہے۔ (ایشل) رنج و غم انسان کو زندگی بھر رہتا ہے۔

جب تک رکابی ہیں بھات تیرا میرا ساتھ۔ (ایشل) جب دودھو میں مطلب کی دوستی جو اس موقع پر پیش کئے ہیں۔

جب تک سانس، تب تک آس۔ (ایشل) مرے دم تک زندگی کی امید لگی رہتی ہے۔

حجب تو۔ (ایشل) اس لیے۔ اس وقت تو۔ تب۔ حجب حجب۔ ہر گاہ۔ جس وقت۔

جب چنے تھے تب دانٹ نہ تھے جب دانٹ ہوئے تب چنے نہیں۔ (ایشل) ایسے موقع پر کسی جانی ہے جب انسان کو یہ ملال ہو کہ چیز موجود تھی تو اس سے فائدہ اٹھانے کے ذرائع پاس نہ تھے

جب ذرائع میرے آئے تو چیز نہیں چڑتی۔  
جب خدا دیتا ہے تو چھپر بھاڑ کر دیتا ہے۔ (ایشل) جب خدا دینے پر آتا ہے تو بے وسیلے اور بے ذبیحے دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔

جب دانٹ نہ تھے تب دودھ دلو، اب دانٹ بھگے گا ان نہ دینے (دیوسے)۔ (ایشل) خدا انسان کو ہر حالت میں رزق دیتا ہے۔ جس وقت سے۔

جب سے آگے بال، تب سے یہی حال۔ (ایشل) بچپن سے یہی کرتوت ہیں۔

جب کا۔ (ایشل) اس وقت کا۔ (۲) گد شتہ (۳) آخر کا۔ آخری

جب کرمی آس، تب آئے تیرے پاس۔ (ایشل) آدمی ضرورت پڑنے پر اسی کے پاس جاتا ہے جس سے کام لینے کی توقع ہوتی ہے۔

جب کرمی زور ہوتا ہے تب مار صاحب بھی بیٹھا دیتے ہیں۔ (ایشل) پیروں فقیروں کی دعا کا اثر بھی اسی حالت میں ہوتا ہے جب خود بھی کو شمش کی جالتے۔

جب کہ۔ (ایشل) جس وقت۔ جب جب کہیں جا کے۔ (ایشل) بڑی مشکل سے۔ سخت۔ دشواری سے

جب لگ پیسہ گانٹھ میں، تب لگ اس کے پار۔ (ایشل) اس کسٹار میں سوار خٹکا گیو پار۔ (ایشل) جب تک دولت پاس ہو سب دوست بنے رہتے ہیں۔ دنیا میں سب مطلب سے ملنے

ہیں۔ جب ناچنے نکلنے تو گھوٹ گھٹ کیا۔ (ایشل) جب ایک دفعہ غلط کام

جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت آہی جاتی ہے۔ (ایشل) آہنے سنے ہونے سے محبت کا خیال آجاتا ہے۔

جب آنکھیں ہر میں چار تو دل میں آیا پار۔ جب آنکھیں ہوں میں اور ٹ نودل میں ہونی گھوٹ۔ (ایشل) اسے محبت کا اظہار اور غیر حاضری میں پرواہ نہ کرنا بلکہ برائی سوچنا۔

جب آئے برس کا چاؤ تو پھیرا گئے نہ پر دا بھاؤ۔ (ایشل) جب خدا مہربانی کرتا ہے تو موقع بے موقع نہیں دیکھتا۔

جب اپنی آٹاری تو دوسرے کی آٹارے کیا دیر لگتی ہے (ایشل) جو خود ذلیل ہے وہ دوسروں کو ذلیل کرنے سے کیوں بچھپائے گا۔

جب اوڑھ لی لوئی تو کیا کرے گا کوئی۔ (ایشل) جب بے جیانی اختیار کر لی تو پھر کسی کی کیا پرواہ۔

جب باڑھ ہی کیفیت کو کھائے تو رکھوالی کون کسے۔ (ایشل) جہاں ستانے والے اپنے ہی ہوں وہاں یہ ضرب النثل کہی جاتی ہے۔

جب جاو امیں گے تب پہل نہیں گے۔ (ایشل) کسی کام کو کسی ایسے دوسرے کا پروتوٹ رکھنا جس کے عمل میں آنے کا ہر دست کوئی امکان نہ ہو۔

جب بھاگن کو ہوئے لگائی، توڑے کوٹ اور بھاندے کھائی۔ (ایشل) عورت بھاگنے یا فرار ہونے کی عثمان لے تو اُسے کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی نہیں روک سکتی۔

جب پار آئے تو جوں مار دی۔ (ایشل) اگر مراد پوری ہو جائے تو اس کی نیت بدل جائے اور مانی ہوئی چیز کے بدلے کوئی معمولی سی چیز خیرات کر کے وبال ٹالے گویا اپنے دل کو تسلی دے لے کہ

مست پوری ہو گئی۔

جب پر جا نہیں نوراجہ کہاں۔ (ایشل) حاکم کو نظم نہیں کرنا چاہیے رعایا نہ ہوگی تو وہ خود کہاں رہے گا۔

جب پھینکا تب پاسچے یون۔ (ایشل) سخت بد قسمت ہیں۔ جب۔ (ایشل) کبھی کبھی۔ گاہ۔ گاہ۔

جب تک۔ جب تک۔ جب توڑی۔ جب تیں۔ جس وقت تک۔ تا وقت تک۔ ایسے وقت تک۔

جب تک اوٹ بھاڑتے نہیں آتا سمجھتا ہے مجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ (ایشل) جب تک اپنے سے زبردست سے پالانہ پڑے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔

جب تک پچھرونا نہیں ماں دودھ نہیں دیتی۔ (ایشل) مانگے بچہ کچھ نہیں ملتا۔

جب تک سہو کواری تب تک ساس واری، ہو آئی گو و میں لاڈ کیا حوض میں۔ (ایشل) جب تک بیاہ کر نہیں لائی ہوتی ساس (بہنی) ہونے والی سہو کے واری صدف تھے ہوتی جاتی ہے مگر شادی کے بعد سب لاڈ پیار بھگم ہو جاتا ہے

شروع کر دیا تو پھر اس میں شرم کہی۔

جب نہ تئیب - (۱) تابع فعل - (۲) وقتاً فوقتاً - وقت بے وقت (۳) اکثر - ہمیشہ - عموماً - (۴) کبھی نہیں - (۵) (ق)

جب ہاتھ میں لیا کانسٹورویوں کا کیا سانس - (۱) شل - (۲) جھیک مانگنی شروع کر دی تو روٹیوں کی کیا کمی۔

جب ہم جانتے - (۱) مغول - لطفت توجب تھا۔

جب ہی - جیہی - اسی وقت - عین اسی وقت - جوں ہی کہ۔

جب ہی تو - اسی لیے - اس وجہ سے - اسی باعث - اسی سے۔

جب اب - (ج - بابت) [ق - ۱ - مذ] جواب۔

چتپار - (جب - بار) [ع - صفت] (۱) چم کرنے والا - ظالم - جار - (۲) زبردست (۳) رال کے سلبقے کے ساتھ) خدا تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔

چبان - (ج - بال) [ع - ۱ - مذ] جبل (پہاڑ) کی جمع۔

چبڑ - [ع - ۱ - مذ] (۱) ظلم - ستم - سینہ زوری - (۲) سختی - مجبور کرنا (۳) زور - طاقت - (۴) حساب میں کسرول کا اختصار کرنا - (۵) معاوضے کے طور پر کچھ زیادہ لینا - ڈنڈ۔

چبڑاٹھانا - (۱) معاوضہ سختی چھیننا - دکھ اٹھانا۔

چبڑے - زبردستی - بہ زور۔

چبڑ کرنا (مص - مرکب) ظلم کرنا - سختی سے کام لینا - سنانا - دبانا۔

چبڑ کرنا۔

چبڑ مانہ - (ف - ۱ - مذ) ایسا چبڑوٹا ہونا جائز نہ ہو۔

چبڑوٹے - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

چبڑوٹا - (ع - ف - ۱ - مذ) زبردستی - جو رجحان ظلم و

ستم۔

ہر کوئی اختیار نہیں ہے۔

چبڑا - (جب - ڑا) [ع - ۱ - مذ] ذم کی ہڈی کا وہ حصہ جس میں دانت بڑھے ہوتے ہیں - گلہ۔

چبڑا توڑنا - (۱) محاورہ) ضرب سے منہ توڑ دینا۔

چبڑا چلانا - (۱) محاورہ) کوئی چیز کھانا - منہ چلانا۔

چبڑی - (جب - ڑی) [ع - ۱ - مذ] ایک منکب بیماری جس میں جبڑے بند ہو جاتے ہیں - یا تیسری بگڑی جاتی ہے۔

چبڑن - (ج - بن) [ع - ۱ - مذ] پہاڑ - کوہ - جمیع - جبال۔

چبڑن بگڑو چبڑت ہی گرو - (۱) منکب) پہاڑ بدل سکتے ہیں مگر انسان

کی سرشت کبھی نہیں بدلتی۔

چبڑت - (ج - بن) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

طبیعت - مصلحت۔

چبڑتی - (ج - بن) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑتین - (ج - بن) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑو - (جب - ڑو) [ع - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

## ج - پ

چبڑ - [س - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑ - [س - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑ - [س - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑ - [س - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑ - [س - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی

چبڑ - [س - ۱ - مذ] [ع - ۱ - مذ] سرشت - فطرت - اصلی









جذباتی - (جذ - با - تی) [فت - صفت] (۱) جو دوسروں کی باتوں کا جلد اثر لے۔  
 (۲) جو جلد غصے میں آجائے۔ (۳) جذبات پرست۔  
 جذبیہ - (جذ - بہ) [ع - ا - مذ] (۱) دل کا جوش، کشش۔ (۲) دلولہ (۲) [اُردو] غصتہ۔  
 جذذ - (ع - ا - مذ) [ع - ا - مذ] (۱) علم ریاضی میں کوئی عدد اس رقم کا جذر کہلانا ہے جو اس کو اسی کے ساتھ ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ (۲) مادہ - اصل۔  
 (۳) بنیاد - بنا - مہیا - اہلیت۔  
 جذذراصم - (ع - ا - مذ) وہ عدد جس کا جذر نہ نکل سکے  
 جذذراکعب - کوئی عدد اس رقم کا جذر کہلانا ہے جو اس کو اسی کے ساتھ تین دفعہ ضرب دینے سے حاصل ہو۔  
 جذذرالمال - (ع - ا - مذ) وہ عدد اس رقم کا جذر کہلانا ہے جو اس کو اسی کے ساتھ چار دفعہ ضرب دینے سے حاصل ہو۔ پیسے ۲۲ × ۲۲ × ۲۲ = ۱۶ تو ۱۶ کا جذر مال ہے۔  
 جذذرناطق - (ع - ا - مذ) کسی رقم کا وہ جذر جو معلوم ہو سکے۔  
 جذذرشکالنا - دوسرے وجے کا آثار معلوم کرنا۔

## ج - ۱

جذرت - (ع - ا - مذ) [ع - ا - مذ] (۱) کھنچاؤ (۲) کسرہ (۳) بنیاد۔ (۴) پختہ حصہ۔  
 جذرتقبیل - (ع - ا - مذ) بھاری پوچھ پچھنے اور اٹھانے کا آر۔  
 جذرتلاب - (جذ - راب) [ع - ا - مذ] (۱) موزہ۔  
 جذرتانت - (جذ - انت) [ع - ا - مذ] (۱) دلیری۔ (۲) دلوری۔ (۳) شجاعت۔  
 بے باکی - جواں مردی۔ (۲) چالاکی۔ (۳) شوخی۔ (۴) اُردو کے صاحب دیوان شاعر شیخ قلندر بخش کا تخلص۔  
 جذرتانگہا - (جذ - راب) [ع - ا - مذ] (۱) بھارہ۔ (۲) دلیری یا سہادری کا کام کرنا  
 جذرتبیم - (جذ - تبیم) [ع - ا - مذ] (۱) وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہر چیز کے  
 جذرتبیم - (ع - ا - مذ) جس سے کوئی تبیم پاک کیے جائیں۔  
 جذرتراج - (جذ - راج) [ع - ا - مذ] (۱) وہ شخص جو زخموں اور چھوڑے چھبیلوں  
 کا علاج کرے۔ زخموں کی چیر بھاڑ کرنے والا۔ (۲) جرح  
 جذرتاحت - (جذ - راج) [ع - ا - مذ] (۱) زخم۔ گھاؤ۔  
 جذرتاجی - (جذ - راج) [ع - ا - مذ] (۱) جراح کا پیشہ۔ زخموں کا علاج۔ ڈاکٹر کی  
 چیر بھاڑ۔  
 جراحیات - (جذ - راج) [ع - ا - مذ] (۱) (Surgery) زخم  
 کے علاج کا پیشہ۔ جراحی۔ چیر بھاڑ۔ فساد دی۔  
 جزار - (جذ - راج) [ع - ا - مذ] (۱) بہت بھاری پاکیزہ لشکر۔ (۲) بہادر۔ دلیر۔  
 دلاور۔ (۳) کھینچنے والا۔ تیز رفتاری سے روکنے والا۔  
 جزاربند - (جذ - راج) [ع - ا - مذ] (۱) جمیرہ کے جمع۔ اخبارات۔ رسالے۔

کآلہ - کول - ٹٹہ۔  
 جذرتولی - (جذ - ولی) [ع - ا - مذ] (۱) لکیر وار۔ لکیر کھینچی ہوئیں۔  
 جذرتوہ - (جذ - ذہ) [ع - ا - مذ] (۱) مرث (۲) واوی (۳) نانی (۴) حجاز کے ایک  
 شہر کا نام جو بندرگاہ بھی ہے۔  
 جذرتوہ - (جذ - ذہ) [ع - ا - مذ] (۱) جہاں جس جگہ جس طرف جہاں کہیں۔  
 جہدہر پیکشتا ہوں اودھ تو بھی تو ہے۔ (۲) خدائی قدرت کے  
 کرشمے ہر طرف نظر آتے ہیں (۳) عاشق کو ہر جگہ محبوب کا جلوہ دکھائی  
 دیتا ہے۔  
 جہدہر زب اودھ سب - (۲) (۱) جس پر خدا مہربان ہوتا ہے اس پر  
 سب مہربان ہو جاتے ہیں۔ (۲) خدا مہربان تو سب مہربان  
 جہدہر مولانا اودھ دلولہ - (۲) (۱) جس پر خدا مہربان ہو اس پر بندے بھی  
 مہربان ہوتے ہیں۔ (۲) دوسرے مراد حضرت شاہ دلولہ جن کا مزار گجرات  
 میں ہے۔  
 جہدہر نوان اودھ پانی ڈھلانا ہے۔ (۲) (۱) کمرؤں پر ہی مہینتیں  
 آتی ہیں۔  
 جذرتدی - (جذ - دی) [ع - ا - مذ] (۱) ایک واوا کی اولاد۔ (۲) آبائی۔  
 موزونی۔  
 جذرتدی جاہداد - وہ جاہداد جو بزرگوں سے نر کے میں چلی آ رہی ہو۔  
 موزونی جاہداد۔

جذرتدی - (جذ - دی) [ع - ا - مذ] (۱) زمین کے گرد ایک قیاسی دائرہ  
 جو خط استوا کے متوازی اس سے ۲۳ ۱/۲ درجہ جنوب میں ہے اور  
 خط جہدی کہلاتا ہے۔ قطبی تارا (۳) آسمان کا ایک برج جو برج کے  
 کی شکل کا نظر آتا ہے۔  
 جذرتدید - (جذ - دید) [ع - ا - مذ] (۱) نیا۔ (۲) نیا۔ (۳) عروض  
 میں ایک سحر کا نام۔  
 جذرتدیدت - (ع - ا - مذ) [ع - ا - مذ] (۱) نیا پن۔ جدید ہونے کی کیفیت (انگ)  
 (Modernism)

## ج - ۲

جذرتام - (جذ - تام) [ع - ا - مذ] (۱) کورٹھ۔ فدا و خون کی ایک بیماری۔  
 جذرتانہ - (ع - ا - مذ) (۱) کورٹیوں کی قیام گاہ۔ کورٹی گھر۔  
 جذرتامی - (جذ - تام) [ع - ا - مذ] (۱) جرم جنڈام میں مبتلا ہو۔ کوٹھی۔  
 جذرتاب - (ع - ا - مذ) [ع - ا - مذ] (۱) کشش۔ کھینچنا۔ (۲) چوسنا۔ جذب کرنا۔  
 (۳) وہ حالت جو جذوب نفیروں کے لیے مخصوص ہے۔  
 جذرتاب کورٹا - (۱) چوسنا کھینچنا کشش کرنا (۲) لہانا۔ ناکل کرنا  
 جذرتاب مٹنا طیبسی - (ع - ا - مذ) [ع - ا - مذ] (۱) مٹنا طیبس کی کشش۔  
 جذرتابش - (جذ - با - ت) [ع - ا - مذ] (۱) جذبے کی جمع۔







جس پر بھی (۱) باوجود دیگر تو بھی (۲) ساتھ اس کے۔ اس پر بھی۔  
 جس نرس۔ ہر ایک کیلئے وہ بے گناہ۔ ادنیٰ داعی۔ جھلاؤ بڑا۔ ہرگز نہ کا۔  
 جس نرس لائے وہ ہی جانے۔ (۱-مثل) جس پر مصیبت پڑی ہو  
 وہی اس کا حال جانتا ہے دوسروں کو کیا پتہ۔  
 جس شہتی پر بیٹھے اسی کو کاٹے۔ (۱-مثل) دیکھو ضرب المثل جس  
 برتن میں کھائے اسی میں چھید کرے۔  
 جس جس۔ ہر شخص۔ ہر چیز۔ ہر ایک۔  
 جس جس جگہ۔ جہاں کہیں۔ جہاں۔  
 جس درخت کے سائے میں بیٹھے اسی کی جڑ کاٹے جس ڈالی  
 بیٹھیں اسی کی جڑ کاٹیں۔ (مثل) دیکھو جس برتن میں کھائیں۔  
 جس دم۔ جب۔ جس وقت۔ جس گڑھی۔ ہر گاہ۔  
 جس راہ نہیں چلنا اس کے کوس کیا گنا۔ (۱-مثل) جس کام کو کرنا ہی  
 نہیں اس کے متعلق سوچنا بے فائدہ ہے۔  
 جس شہر میں پھول بیچے وہاں دھول نہ اڑا لیتے۔ (۱-مثل) جس  
 جگہ عزت سے وقت گزارا ہو، بے عزتی کے وقت وہاں سے  
 کنارہ کرنا چاہیے۔  
 جس طرح بیٹھے ہو اسی طرح چلے آؤ۔ (۱-مثل) فوراً یا جلد از جلد آہاؤ۔  
 جس طرح پیچھے دکھائے جاتے ہو اسی طرح منہ دکھانا۔ (مثل)  
 کوئی عزیز سفر پر جا رہا ہو تو اس کی واپسی کے بارے میں یہ کد کر نیک  
 خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔  
 جس قدر۔ جتنا۔ مقدار ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔  
 جس کا بنیا بار اس کو دشمن کیا درکار۔ (۱-مثل) بنیا دوستی کے پردے  
 میں لوتتا ہے۔  
 جس کا جائے وہی چور کماے۔ (۱-مثل) جس کا نقصان ہوا ہو وہی  
 ملوٹتا ہے۔  
 جس کا پکنا دیکھا پھسل پڑے۔ (۱-مثل) جہاں فائدہ دیکھا وہاں  
 پہنچ گئے۔ ابن الوقت کی نسبت کہتے ہیں۔  
 جس کا حال دیکھیے، اس کا احوال کیا پوچھیے۔ (۱-مثل) جس کی  
 ظاہری حالت ہی سے تباہ حالی آشکارا ہو، اس سے حال چال دریافت  
 کرنے کی کیا ضرورت؟  
 جس کا ڈور وہی نہیں گھر۔ (۱-مثل) شوہر گھر میں موجود نہیں جس کا ڈور  
 ہوتا ہے تو ہوی کے لیے کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔  
 جس کارن ٹوڈ ٹنڈا یا وہی دکھ آگے آیا۔ (۱-مثل) جس تکلیف کو  
 فور کرنے کے لیے ذلت آمیز کام کیا وہی ڈور نہ ہوتی۔  
 جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیک لگا جائے۔ (۱-مثل) جو کام  
 جانتا ہو وہی کر سکتا ہے۔ اناڑیوں کے کرنے سے جگ ہنسائی کے  
 سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔  
 جس کا کوئی نہیں اس کا خدا۔ (۱-مثل) غریبوں کا خدا بدوگار ہے۔  
 جس کا کھانا، اس پر عرانا۔ (۱-مثل) جس سے فائدہ اٹھانا اسی پر

غصہ کرنا۔  
 جس کا کھائے اُس کی وارڈ وہیں دینا۔ (۱-مثل) اچھائی کے عوض  
 بڑائی کرنا (دق)۔  
 جس کا کھائے اُس کا گائیے۔ (۱-مثل) جس سے فائدہ پہنچے اُس کی  
 نیچو راہی اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔  
 جس کا منہ نہیں دیکھا اُس کے تلوے دیکھے۔ (۱-مثل) جس سے  
 نفرت تھی اسی کی خوشامد کرنی پڑی۔  
 جس کا بار کو نوال اُس کو ڈور کا ہے کا۔ (۱-مثل) جس شخص کے افریں  
 سے تسکات یا میل بول ہو اُسے کسی بات کا ڈور نہیں ہوتا۔  
 جس کر کے۔ (۱-مثلاً فعل) جس کی وجہ سے۔ جس کے لیے۔  
 جس کو پسا چاہے وہی سہاگن۔ (۱-مجاورہ) (۱) جسے خداوند پسند  
 کرتے اُسے ہی سہاگن سمجھنا چاہیے (۲) جسے حاکم لوگ پسند کرتے  
 ہیں وہی مرے میں رہتا ہے۔  
 جس کو راکھے سائیاں مار نہ سائے کوئے۔ بال نہ بیکار سیکے  
 سب جگ بیری ہو جائے۔ (۱-مثل) جس کو خدا سلامت رکھے  
 اُسے کوئی نہیں مار سکتا۔ جس کا اللہ دکھان ہو اُسے کسی کی دشمنی  
 نقصان نہیں پہنچا سکتی۔  
 جس کی آنکھ نہیں اُس کی ساکھ نہیں۔ (۱-مثل) جس کی آنکھ میں  
 موت نہیں اُس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔  
 جس کی تیغ اُس کی دیگ۔ (۱-مثل) مال و دولت اور عیش و نشاط  
 زبردستی کے لیے ہوتا ہے۔  
 جس کی جوتی اُس کے سمر۔ (۱-مثل) جس کی چیز تھی اُس پر خرچ  
 کر دی۔  
 جس کی جو رو اندر اُس کا نصیب اسکندر۔ (مثل) جو عورت گھر  
 گوشتن ہو اس کے گھر کا نصیب اچھا ہوتا ہے۔  
 جس کی سیرت اچھی نہیں اُس کی صورت کا کیا دیکھنا۔ (مثل)  
 و خوشا بڑے انسان سے کیا ملتا جلتا۔  
 جس کی فکر اُس کا ذکر۔ (۱-مثل) جس شخص یا معاملے کا خیال لگا ہو  
 انسان اسی کا بار بار ذکر کرتا رہتا ہے۔  
 جس کی گو میں بیٹھنا اُس کی ڈاڑھی کھسوٹنا۔ (۱-مثل) جس سے  
 فائدہ اٹھانا اسی کو نقصان پہنچانا۔  
 جس کی لائھی اُس کی جھیس۔ (۱-مثل) جس کے پاس طاقت  
 ہوتی ہے وہی تابن ہو جاتا ہے۔  
 جس کی نہ پھی ہو بولائی وہ کیا جانے پیر پرائی۔ (۱-مثل) جس  
 پر کبھی معمولی مصیبت بھی نہ پڑی ہو وہ دوسروں کی مصیبت اور  
 تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا۔  
 جس کی یہاں چاہ اُس کی وہاں بھی چاہ۔ (۱-مثل) اچھوں کو جلد  
 موت آجاتی ہے۔ خدا بھی اچھوں ہی کو جاتا ہے۔  
 جس کے پاس نہیں پسیا۔ وہ جھلا مٹس کبسیا۔ (۱-مثل) ساری

عزت مال و دولت سے ہے۔ عزت نامہ کے پسیا نہیں سے پاس اُس کو میلہ لگا اُداس۔ (امثل)۔  
 نانا دار آدمی کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔  
 جس کے پیشے میں بان وہ بڑا شیطان۔ (امثل) اکثر کٹریبان۔  
 نیل بان وغیرہ شرارتی ہوتے ہیں۔  
 جس کے چار بھینیا۔ ماریں ڈھول چھین لیں رو پتیا۔ (امثل)  
 جس کے کچھ ساتھی ہوں وہ جو چاہے کرے۔  
 جس کے دل میں کرم نہیں وہ فصالی ہے۔ (امثل) بے درد  
 آدمی فصالی کے برابر ہوتا ہے۔  
 جس کے دیکھے تب آوے وہی موہے بیاہن آوے۔  
 (امثل) جس کو دیکھنے سے بخار چڑھ آتا ہے وہی مجھ بیاہنے آتا  
 ہے۔ جس سے نفرت ہے اسی سے پالا پڑا ہے۔  
 جس کے سر پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ (امثل) جس پر  
 معیبت پڑتی ہے اسی کو اس کا نمازہ ہوتا ہے۔  
 جس کے سر پر جو تار کھ دیا وہی بادشاہ بن گیا۔ (امثل) اپنی  
 پامی اور کی تعریف میں سمجھتے ہیں کہ جس پر نظری وہی عروج عمل  
 کر گیا۔  
 جس کے کارن جو گن بھبی وہ سبیاں پر ولس۔ (امثل) (۱)  
 جس سے محبت ہے اسے پرواہ نہیں جس کے لیے معیبت ٹھانی  
 پڑا رہی ہے وہ دُور ہے۔  
 جس کے گھر بھوج اُس کے بھات نہیں۔ (امثل) جب کوئی  
 امیر آدمی غریب ہو جائے تو اس کو فخر پر یہ کہتے ہیں۔  
 جس کے ماں باپ جیتے ہیں وہ حرانی نہیں کہلاتا۔ (امثل)  
 (۲) جس کے پاس ثبوت ہوں اُس کی بات کیسے جھٹلائی جاسکتی  
 ہے۔ (۳) ثبوت کے بغیر ارا نہیں لگانا چاہیے۔  
 جس کے منہ میں چاول ہوتے ہیں وہ خوب چبا چبا کر باتیں  
 کرتا ہے۔ (امثل) جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اترا اترا کر  
 باتیں کرتا ہے۔  
 جس کے ہاتھ ڈوٹی اُس کا سب کوئی۔ (امثل) جس سے  
 فائدے کی امید ہو لوگ اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔  
 جس گھر بوڑھا نہ بڑا وہ گھر ڈگم ڈگا۔ (امثل) جس گھر میں عمر رسیدہ  
 پانچ بھرا کار آدمی نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔  
 جس گھر نامی چھوڑی۔ اوہ گھر حالو کوڑھی۔ جس گھر میں عورت  
 چھو بڑا (بے سلیقہ) ہوگی وہ گندہ اور غلیظ رہے گا۔  
 جس منہ سے پان کھائیے اُس منہ سے کوئلے نہ چپائیے۔  
 (امثل) (۱) اپنی زبان سے جس کو ایک دفعہ اچھا کہہ دو اسے  
 پھر نہ کہو۔ جس سے نیکی کہنے نہ ہو اس سے بدی نہ کرو۔  
 جس میں چمک نہیں وہ بغیرا نہیں جس میں ڈمک نہیں  
 وہ عورت نہیں۔ (امثل) کوئی چیز اپنی خوبیوں کے بغیر کچھ

نہیں ہوتی۔  
 جس نے اپنی اُتاری اُسے دوسروں کی اُتارنے کیا ڈر لگتا  
 ہے۔ (امثل) شندے اور لچے انسان جنہوں نے اپنی اُتاری پر وہا  
 نہ کی وہ دوسرے کی عزت کو کیا سمجھتے ہیں۔  
 جس نے بھونکنا سکھایا، اسی کو کاٹنے دوڑے۔ (امثل)  
 اسان فراموش اور مسن کن آدمی پر یہ مثل کہی جاتی ہے۔  
 جس نے بیٹی دکی اُس نے رکھا کیا۔ (امثل) جب بیٹی بیاہ  
 دی تو اس نے سب کچھ دے دیا عزیزب سدھی کے متعلق کہا  
 جاتا ہے۔  
 جس نے چیرا اُس نے نیرا (وہی نیرے گا)۔ (امثل) جس نے  
 پیدا کیا ہے وہی کھانے کو بھی دے گا۔  
 جس نے دیا اُس نے پایا۔ (امثل) جو خدا کے نام پر دیتا ہے اُسے  
 اجر ملتا ہے۔  
 جس نے زبڈی کو چاہا اُسے بھی زوال اور جس کو زبڈی نے  
 چاہا اُس کی بھی تباہی۔ (امثل) فاحشہ عورتوں سے تعلق رکھنے  
 والے ہر طرح نقصان میں رہتے ہیں۔  
 جس نے کوڑا دیا وہ گھوڑا بھی دے گا۔ (امثل) جس خدانے نصوٹا  
 دیا ہے وہ زیادہ بھی دے دے گا۔  
 جس نے کی بے حیائی، اُس نے کھائی دودھ کلائی۔ جس  
 نے کی شرم، اُس کے بھولے کرم۔ (امثل) بے حیاء انسان  
 مزے میں رہتا ہے۔ جو شرم کرتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ مثل  
 بے شرم آدمی پر طنز کے طور پر کہی جاتی ہے۔  
 جس نے لگائی وہی بچھائے گا۔ (امثل) (۱) جس نے شرارت کی  
 ہے وہی اس کا اثر دُور کر سکتا ہے۔ (۲) جو تکلیف خدانے دی ہے  
 اسے وہی سنبھالے۔  
 جس نے نہ دیکھا ہو شیر (باگھ) وہ دیکھے بلائی۔ جس نے نہ دیکھی  
 ہو مہن وہ دیکھے بھائی۔ جس نے نہ دیکھا ہو جگم وہ دیکھے جنوبائی۔  
 (امثل) بٹی شیر کی ہم شکل ہوتی ہے۔ بہن بھائی جلیبی اور داسا  
 دوزخ کے دیوتا جیسا ہوتا ہے۔  
 جس نے نہ دیکھی ہو گتیا، دیکھے گتیا کا بھائی۔ (امثل) اپنی  
 منگیتر کی شکل و صورت کا نمازہ کرنا ہوتا اُس کے بھائی کو دیکھ لو۔  
 (گمیریہ بات ہر جگہ درست نہیں ہوتی)  
 جس ہانڈی میں کھائیں اسی میں چھید کریں۔ (امثل) جس سے  
 فائدہ اٹھانا اسی کو نقصان پہنچانا۔  
 جسے اللہ رکھے اُسے کون چھکے۔ (امثل) جس پر خدا مرمان ہو  
 اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔  
 جسے کھانے کو بیٹے یوں، وہ کھانے جائے کیوں۔ (امثل)  
 بغیر مشقت بل رہی ہوتی مشقت کرنے کی کیا ضرورت۔  
 جھارت۔ (ج۔ سا۔ رٹ) [ع۔ ا۔ مٹ] [مراستی۔ ولیری۔

جشن (انگ) (Golden Jubilee) [ جشن سہیسیں - (ف. ۱- مذ) وہ جشن جو پچیس سال بعد منایا جاتا ہے ]  
 جشن (انگ) (Silver Jubilee) [ جشن کرنا۔ جشن منانا۔ جشن ہونا۔ (۱- محاورہ) عیش و نشاط میں مشغول ہونا۔ خوشی منانا۔ ناچ رنگ کی محفل رچانا۔ ]

جرات۔ شجاعت۔ جواں مردی۔ بے باکی۔ دلادری۔ حوصلہ۔  
 جسما کرت۔ (ج. س. س. م. ت) (ع. ۱- م. ت) (۱) جسم ہونا (۲) موٹاپا۔  
 فزہبی۔ (۳) عرض۔ طول۔ عمق (۴) ڈیل ٹول۔  
 جشرف۔ (۱- مذ) ایک وصاحت کا نام۔ چستا۔  
 جشرف۔ (ف. ۱- م. ت) [ چھلانگ۔ پھلانگ۔ چوڑی۔ گود پھانڈ۔ پھلانگ۔ ]

## ج - ع

جغذہ۔ (ع. ۱- م. ت) (۱) سر کے بالوں کی لٹ (۲) چوٹی۔ جھڑا (۳) جھنگریالے بال۔  
 جعہ مشکیں۔ (ع. ۱- ف. ۱- مذ) گھونگرے لے سیاہ بال۔ سیاہ چوٹی۔

جست بھرنا۔ (۱- محاورہ) پھلانگ مارنا۔ چوڑی بھرنا۔  
 جست وغیرہ۔ (ف. ۱- م. ت) جست کرنا۔ اچھلنا کوننا۔ قلاج مارنا۔  
 طراس بھرنا۔  
 جستجو۔ (جست۔ جوڑم) (ف. ۱- م. ت) [ ڈھونڈ ڈھانڈ۔ تلاش۔ جستجو۔ ]  
 جسنتہ جسنتہ۔ (ج. جن۔ نہ۔ جن۔ نہ) (ف. صفت) کم۔ کم کہیں کہیں سے۔

جعفری۔ (ج. ح. ف. ری) (ع. ۱- م. ت) (۱) ایک قسم کا گیندا۔ (۲) خالص سونا۔ (۳) گل اشرفی (۴) حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہما سے منسوب۔ حضرت امام جعفر کی اولاد (۵) مجازاً زور و رنگ۔  
 جعل۔ (ع. ۱- مذ) (۱) دھوکا۔ فریب۔ دغا۔ (۲) بناوٹ (۳) نقل چیز کو اصل ظاہر کرنا۔ جھوٹ۔ کھوٹ۔

جسٹس۔ (Justice) (ج. جن۔ ٹن) (انگ۔ ۱- مذ) (۱) عدالت العالیہ کا جج۔ (۲) انصاف۔ عدل۔  
 جسد۔ (ج. س. ت) (ع. ۱- مذ) بدن۔ تن۔ جسم۔ جمع۔ اجساد۔  
 جسم۔ (ع. ۱- مذ) بدن۔ تن۔ پنڈا۔ ڈیل۔ جمع۔ اجسام۔  
 جسلم کو آراستہ کرنا۔ (۱- محاورہ) بدن کی آرائش کرنا۔  
 جسمانی۔ (ج. م. ر. ن) (ع. صفت) [۱] جسم سے متعلق۔ بدنی (۲) مادی۔

جعل بنانا۔ جعل کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جھوٹی دستاویز تیار کرنا۔ (۲) جھوٹے دستخط یا نمونہ بنانا۔ (۳) کسی چیز کی نقل کرنا (۴) جھوٹا مقدمہ کھڑا کرنا۔  
 جعل ساز۔ (ع. ۱- ف. ۱- صفت) (۱) دھوکے باز۔ دغا باز (۲) شرابی۔ بدبعاش۔

جسمانی سزا۔ (۱- صفت) ایسی سزا جس کا اثر جسم پر پڑے۔  
 جسمانییت۔ (ج. م. ن۔ م. ن۔ بی۔ یت) (ع. ۱- م. ت) [جسم ہونے کی حالت۔ جسم پر۔ مادیت۔  
 جنہی۔ (ج. م. ن) (ع. صفت) [جسم کے متعلق۔ بدنی۔ جسمانی۔ جسور۔ (ع. صفت) بہادر۔ دلیر۔ جرات مند۔  
 جسبلا۔ (ج. س. ل) (ع. صفت) [جس والا۔ نامور۔  
 جسیم۔ (ج. سیم) (ع. صفت) [تومند۔ جسم والا۔ موٹا۔ فربہ۔

## ج - غ

جغادری۔ (ع. ۱- صفت) دیکھیے جگادری۔  
 ججرات۔ (ج. ح. رات) (ف. ۱- مذ) [دہی۔ دوغ۔  
 ججغرافیائی۔ (ج. ح. نا۔ ف. یا۔ ای) (ف. صفت) [جغرافیہ سے متعلق۔  
 ججغرافیہ۔ (ج. ح. ر. ف. ی) (یو۔ ۱- مذ) [وہ علم جو سطح زمین، اُس کی آبادی، نباتات اور حیوانات اور طبی لقیہم کے حالات بتائے۔

## ج - ش

جشن۔ (ف. ۱- مذ) (۱) خوشی کا جلسہ یا محفل یا دعوت (۲) خوشی کا دن۔ روز عید۔ (۳) مسرت و شادمانی (۴) لہر بہر (۵) تھکار۔  
 جشن اڑانا۔ (۱- محاورہ) مرے اڑانا۔ عیش کرنا۔ لطف اٹھانا۔  
 جشن لازم جشن اڑانا؟  
 جشن بزرگ۔ (ف. ۱- مذ) پارسیوں میں فروردین کے مینے کا جشن (۲) نوروز کا دن۔  
 جشن طلانی۔ (ف. ۱- مذ) وہ جشن جو پچاس سال کے بعد ہو







جگر پارہ - (دفعہ ۱- مذ) کیلچے کا ٹکڑا (۲) بیٹا - فرزند۔  
 جگر پائش پاش ہونا - (مجاورہ) کیلچے کے ٹکڑے اڑھانا۔ عم کی شدت ہونا۔  
 جگر پانا - (مجاورہ) حوصلہ ہونا۔ بہت ہونا۔  
 جگر پانی ہونا - (مجاورہ) ۱) خوف زدہ ہونا (۲) ہمت ٹوٹنا۔ دیکھیے جگر آب ہونا۔  
 جگر پر ہتھیار رکھ لینا - (مجاورہ) ۱) صبر کر لینا (۲) جذبات ظاہر نہ کرنا۔ ضبط کرنا۔  
 جگر پر چھریاں چلانا - (مجاورہ) ۱) انتہائی اذیت پہنچانا (۲) بہت بے چین ہونا۔  
 جگر پر ہاتھ رکھنا - (مجاورہ) بے قراری کی حالت میں کیلچے چھامنا۔  
 جگر کپکپ جانا - (مجاورہ) ۱) بروا شدت کی حد ہو جانا۔ بار بار کے صدموں سے توتہ بروا شدت باقی نہ رہنا۔  
 جگر کھینٹنا - (مجاورہ) ۱) صدمے سے دل کے ٹکڑے ہونا۔ بچیدار رنج و ملال ہونا۔  
 جگر کھینکنا - (مجاورہ) دل جھٹا۔ رنج کرنا۔  
 جگر کھینٹنا - (مجاورہ) رنج کرنا۔  
 جگر کتاب - (دفعہ ۱- صفت) کیلچہ گرم کرنے والا (۲) عزیز معشوق یا اولاد۔  
 جگر تشنہ - (دفعہ ۱- صفت) بہت پیاسا۔  
 جگر لفتہ - (دفعہ ۱- صفت) جس کا کیلچہ تیل چکا ہو (۲) جو عشق میں گرفتار ہو (۳) غمگین۔ رنجیدہ۔  
 جگر تھام کے بیٹھ جانا - (مجاورہ) صدمہ ہونے کے بعد دل کو پکڑ کر بیٹھ جانا۔  
 جگر تھام کے بیٹھنا - (مجاورہ) کوئی ایسی بات یا واقعہ سننے کے لیے خود پر تاقاب پانا جو بہت زیادہ رنج دینے یا صدمہ پہنچانے والی ہو۔  
 جگر ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہونا - (مجاورہ) ۱) رنج یا صدمے سے دل ٹوٹنا۔ (۲) دل پر کسی تیز چیز کا اثر ہونا (۳) کوئی بات بہت بڑی لگنا۔  
 جگر دگر دگر - (دفعہ ۱- مثل) اپنا اپنا ہی ہے۔ غیر بھیر غیر ہونا۔  
 جگر جھٹنا - (مجاورہ) ۱) غصہ آنا (۲) ملین ہونا (۳) افسوس یا ملال ہونا۔  
 جگر چاک - (دفعہ ۱- صفت) جس کا دل کسی صدمے سے ٹوٹ چکا ہو۔  
 جگر چاک ہونا - (مجاورہ) دلی اذیت پہنچانا۔ سخت صدمہ پہنچانا۔  
 جگر تراش - (دفعہ ۱- صفت) کیلچہ چھیلنے والا۔ بہت زیادہ افسوسناک۔ نہایت رنج و ہ۔

جگر خوار - (۱) جو جگر کھائے۔ غمناک (۲) جا دوگر۔ جا دو ٹوٹا کرنے والا۔  
 جو جگر نکال لے۔ ڈرائی۔ نکلا۔  
 جگر خون کر دینا۔ (مجاورہ) روحانی یا دلی صدمہ پہنچانا۔  
 جگر خون ہونا۔ (مجاورہ) سخت ترین قلبی صدمہ ہونا۔  
 جگر دو ٹکڑے (دو نیم) ہونا۔ (مجاورہ) دل پر اذیت ناک صدمہ پہنچانا۔  
 جگر دوڑ - (دفعہ ۱- صفت) کیلچہ چھیلنے کرنے والا۔ دل پر سخت اثر کرنے والا۔  
 جگر دہل جانا (دھلنا)۔ (مجاورہ) ۱) ڈرنا۔ خوف کھانا۔ (۲) گھبرا کر اٹھنا۔  
 جگر دیکھنا۔ (مجاورہ) حوصلہ دیکھنا۔  
 جگر رکھنا۔ (مجاورہ) حوصلہ رکھنا۔  
 جگر سوختی - (دفعہ ۱- مرث) دل جلا پڑنا۔  
 جگر سوختہ - (دفعہ ۱- صفت) جس کا دل جلا ہوا ہو۔ دل بجلا۔  
 جگر سوز - (دفعہ ۱- صفت) اپنا دل جلانے والا۔ عم کار۔ دل سوز (۲) رنج دینے والا (۳) دل جھٹا۔ جسے رنج یا صدمہ پہنچا ہو۔  
 جگر سوزی - (دفعہ ۱- مرث) کیلچہ جلا نا۔ اہلری۔  
 جگر سے دھواں اٹھنا۔ (مجاورہ) ۱) بے حد صدمہ ہونا (۲) غمگین ہونا۔  
 جگر شوق ہونا۔ (مجاورہ) ۱) رنج یا خوف کی شدت سے کیلچہ پھٹ جانا (۲) سخت صدمہ پہنچانا۔  
 جگر کاٹنا۔ (مجاورہ) کوئی ایسی چیز (جیسے پسا ہوا شیشہ یا ہیرے کی کئی) کھلا دینا جس سے جگر کٹ جائے۔  
 جگر کاٹنا۔ (مجاورہ) خوف طاری ہو جانا۔ ڈر جانا۔  
 جگر کاوی - (دفعہ ۱- صفت) ۱) سخت الجھن (۲) محنت۔ مشقت۔ جانفشانی۔  
 جگر کباب ہونا۔ (مجاورہ) ۱) دل جل جانا (۲) کسی ناپسندیدہ بات پر بہت زیادہ غصہ آنا۔ (۳) صدمہ کی وجہ سے پیچ و تاب کھانا۔  
 جگر کرنا۔ (مجاورہ) ۱) حوصلہ کرنا (۲) مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا۔  
 جگر کو بیٹنا۔ (مجاورہ) آہ و زاری کرنا۔  
 جگر کو دیکھنا۔ (مجاورہ) دلیری اور حوصلے کی داد دینا۔  
 جگر کھوڑنا۔ (مجاورہ) ۱) سخت الجھن ہونا۔ پریشانی کی حالت میں ہونا۔  
 جگر کی چوڑ - (مجاورہ) ۱) زبردست صدمہ (۲) اولاد کا جگر غمگین پار ہونا۔ (مجاورہ) ۱) جگر پر زخم لگنا (۲) کسی بات سے دل ٹوٹ جانا۔  
 جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ (مجاورہ) رنج و ملال سے دل



# ج - ل

**جبل** - (س - ۱ - مذ) پانی - آب [صفت] سردی (۲) اوچھل [ق] [جبل بانگ - (۱-۵- مذ) فن سپنگری، جس میں گہرے پانی کے اندر دفن پر قابو پانا ہوتا ہے۔

**جبل پان** - (۱) ناشتہ - حقوڑا سا کھانا پینا۔  
**جبل پان کرنا** - (۱-۵- مذ) (۱) حقوڑا سا کھانا - ناشتہ کرنا۔  
**جبل پر پی** - ایک روایتی یا خیالی مخلوق جس کا چہرہ عورت جیسا اور باقی جسم مچھل کا سا ہوتا ہے۔  
**جبل چھپی** - پانی پر اڑنے والے پرندے جو مچھلیاں کھا کر گزارہ کرتے ہیں - آبی پرندے۔  
**جبل ترنگ** - جبل ترنگی - (۱) ایک باجا - دھات یا پلین کے پیالوں میں پانی بھر کر انہیں تیلیوں سے بجاتے ہیں (۲) پانی کی موج یا لہر۔  
**جبل تری** - جبل توری - (۱-۵- مش) ایک قسم کی مچھل۔  
**جبل تھل** - (۱-۵- مذ) وہ زمین جس پر بہت سا پانی ہو (۲) دلدل (۳) پانی کی چادر (۴) کوئی ایسی جگہ جہاں پانی بھرا ہوا ہو۔  
**جبل تھل** (ایک ہونا) بھڑنا (۱-۵- محاورہ) اتنا زیادہ مینہ برسا کہ ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دینا - بارش کی کثرت سے زمین کا غرقاب ہو جانا - ہر جگہ پانی ہی پانی ہونا۔  
**جبل جوگنی** - (۱-۵- مش) (۱) چونک (۲) چیل (۳) وہ عورت جو بدمرا ہو (ان معنوں میں یہ ترکیب لفظ چھلنا سے بنتی ہے)۔  
**جبل چہرہ** - پانی پر چلنے والے جانور یا حیوانات۔  
**جبلکا** - (۱-۵- مش) چونک۔  
**جبل کاک** - جبل کاگ (۱) آبی کوا (۲) ماہی گیر - غوطہ خور۔  
**جبل کر** - (۱-۵- مذ) (۱) وہ محصول یا ٹیکس جو مچھل پکڑنے والوں پر لگایا جلتے (۲) دیہات کے تالابوں اور جوہڑوں وغیرہ میں لگنے والے درختوں یا کنول کے پھولوں کا لگان۔  
**جبل ککو** - (۱) پانی کا پرندہ - مُرغابی (۲) بات بات پر غصے ہونے والا۔  
**جبل کوا** - پانی کا کوا - ایسا کوا جو دریاؤں اور سندروں پر ہی دیکھا جاتا ہے۔  
**جبل کی مچھلی** - جبل کی مچھلی - [مشل] شخص کا گزارہ اپنی ہی قوم میں ہو سکتا ہے - ہر چیز اپنی جگہ پر یا اپنے ماحول ہی میں اچھی معلوم ہوتی ہے۔  
**جبل مانگش** - (۱) پانی کا آدمی - مرد آبی - ایک قسم کا بندر۔  
**جبل میں کھڑی پسیا سول مے** - (مشل) ایسے شخص پر کہی جاتی ہے جس کو فائدہ اٹھانے کے تمام ذرائع میسر ہوں مگر فائدہ نہ اٹھائے۔  
**جبل اٹھنا** - (۱-۵- محاورہ) یکایک چلنے لگانا۔

**جبل بھین** کر بیٹھ رہنا - (۱-۵- محاورہ) ناامید ہو کر غصے میں بیٹھا رہنا۔  
**جبل جاننا** - (۱-۵- محاورہ) آگ لگ جانا - ناراض ہونا - حسد کرنا۔  
**جبل کر راکھ** (خاک) ہونا - (۱-۵- محاورہ) سخت ناراض ہونا۔  
**جبل کر کباب ہونا** - (۱-۵- محاورہ) ناراض رہنا - بہت ناخوش رہنا۔  
**جبل گھیا** - (۱-۵- صفت) بے نصیب - بد قسمت۔  
**جبل** - (جبل - ل) (ع - صفت) بڑا - عظیم - بزرگ۔  
**جبل توجلا** تو (صاحب کمال تو) آئی بلا کوٹال تو - (مشل) خدا سے دعا کہ بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ یہ ایسے موقع پر دربان ہوتی ہے جب کوئی ایسی آفت آپڑے جسے مانا انسانی کو قوت سے ناکمل ہو۔  
**جبل جلالہ** - (ع - صفت) اس خدا کی عظمت اور شان بڑی ہے۔  
**جبل شانہ** - (ع - صفت) دیکھیے جبل جلالہ۔  
**جبل وعلی** - (ع - صفت) خدا کے بزرگ و بزر۔  
**جبل** - (۱-۵- مذ) (۱) دھوکہ - دغا - فریب - کر - چال بازی - دورخی بات - جھانسا - دم - چھل - بتنا - جھانسا۔  
**جبل باز** - (۱-۵- ف - صفت) دھوکہ دینے والا - فریبی - دغا باز۔  
**جبل دینا** - (۱-۵- محاورہ) فریب دینا - دھوکہ دینا - جھانسا دینا - بتنا۔  
**جبل کھیلنا** - (۱-۵- محاورہ) دھوکے میں ڈالنا - فریب کا شکار بنانا - ٹھکانا۔  
**جبل میں آنا** - (۱-۵- محاورہ) فریب کھانا - دھوکہ کھانا - جھانسنے میں آنا۔  
**جبل** - (ع - ۱ - مش) [مترقش] (۱) گھوڑے یا کسی جانور کا کبیل (۲) جھول - بادبان۔  
**جبل** - (ع - ۵ - صفت) [۱] جلا ہوا (۲) تنگ آیا ہوا (۳) غصے کی حالت میں۔  
**جبل بلا جھانسا** (صفت) غصے میں بھرا ہوا - ناراض - خلاف توقع بات یا واقعہ ہونے کے بعد رنجیدہ یا بھٹکا ہوا۔  
**جبل تن** (حلتے تن) [۱-۵- صفت] (۱) بدمراج - غصیل - جو بہت پر غصے میں آجائے (۲) جس کا مزاج حدوں یا مایوسیوں کی وجہ سے چوڑھا ہو گیا ہو - (۳) عاصد - بچنے والا (۴) اوروں سے بیزار۔  
**جبل جلا کر مارنا** - (۱-۵- محاورہ) (۱) غم دے دے کر جان کھلانا (۲) غصتہ دلا دلا کر مار ڈالنا (۳) بہت زیادہ ستانا - اڑھدوق کرنا۔  
**جبل دینا** - (۱-۵- محاورہ) (۱) آگ لگانا یا سلگانا (۲) غصتہ دلانا (۳) پھیڑنا۔  
**جبل ستانا** (۴) چراغ روشن کرنا (۵) رنج دینا۔  
**جبل کر خاک کرنا** - (۱) اتنا زیادہ جلا کر چیرنا کہ خاک ہو جائے (۲) تباہ کر دینا - برباد کر دینا - (۳) غصتہ دلا کر یا بیچ کتاب کھانے پر مجبور کر ڈالنا۔  
**جبلے پاؤں کی بلی** - (۱-۵- مش) وہ عورت جسے جگہ جگہ پھرنے کی عادت ہو۔  
**جبلے پر نون چھڑکنا** - جبلے پر نون (نمک) لگانا - (۱-۵- محاورہ)۔

طیش (۶) تیزی - تندی - جوش -

جلال آجانا - جلال آنا - (۱) محاورہ) غصہ آجانا - طیش آجانا (۲) جوش آجانا -

جلال برسننا - (۱) دہرہ یا رعب ظاہر ہونا - (۲) طیش یا غصہ ٹپکنا - جلالت - (ج - لا - لت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) بزرگی - عظمت - بڑائی (۲) شان و شوکت (۳) امتیاز (۴) دہرہ (۵) جوش -

جلالی - (ج - لا - لی) [ع - صفت] [تقاری کی صفت (۲) درویشوں کا ایک سلسلہ جو سید جلال الدین بخاری سے شروع ہوا (۳) تمام شمسی مینوں کا نام (جلال الدین ملک شاہ بلجونی کے عہد سے شروع ہوتا ہے) (۴) [صفت] صاحب جلال - جلال والا - (۵) خوشنک - غضب ناک - ہیبت ناک (۶) وہ دعا یا نقش یا تعویذ یا عمل جس سے خدا کی شان تقاری ظاہر ہونے کی خواہش ہو -

جلامیری - (ج - لا - می - ری) [ا - ۱ - مذ] [بچوں کا ایک کھیل ہے] آڑاں جھلا بھی کہتے ہیں -

جلانا - (ج - لا - نا) [جھ - مٹ] [آگ لگانا - سدگانا - آگ دینا - دھکانا - مکانا - چراغ روشن کرنا - (۲) غصہ دلانا - جوش میں لانا - آگ بگولا کرنا - ہما کی گتہ کرنا (۳) حسد یا دشمنی کا جذبہ پیدا کرنا (۴) دق کرنا - تنگ کرنا - ستانا -

جلانا - (ج - لا - نا) [جھ - مٹ] [۱] زندہ کرنا - جان ڈالنا (۲) تازگی بخشنا (۳) موت سے بچانا (۴) دھات کا کشتہ کر کے اسے اصلی حالت پر لے آنا -

جللا - (ع - ۱ - مذ) [دیس نکالا - وطن یا گھر سے باہر نکال دینا - جلا وطن - (ج - لا - و - ظن) [ف - صفت] [جو وطن سے نکلا یا نکالا ہوا -

جلا وطنی - (ج - لا - و - ظن) [ف - ۱ - مٹ] [دیس نکالا - ملک چھوڑنا -

جللا ہا - (ج - لا - ہا) [ا - ۱ - مذ] (۱) بزرگیم پاک و ہند کی ایک مسلمان قوم جو کپڑا بننے کا کام کرتی ہے (۲) کپڑا بننے والا - پارچہ بانٹ باقندہ -

جللا ہن - جھلاہی - (ج - لا - ہن - ج - لا - ہی) [جھ - ۱ - مونث] [جللا سے کی بیوی - (۲) جلاہہ قوم کی عورت -

جللا ہے کا پٹھان بیگاری - (۱) [مٹ] [جب کوئی چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو کام کرنے کے لیے کہے تو اس وقت کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا -

جللا ہے کی مسخری ماں بہن سے - (۱) [مٹ] [بھلاؤ آدمی ہی بزرگوں کے ساتھ مسخری کرتا ہے - کوئی بے وقوفی کی یا ناتریمیا بات کہے تو کہتے ہیں -

جللاؤ - (ج - لا - و) [جھ - صفت] [۱] جلنے کے قابل اچھا ایندھن (۲) چڑچڑا - تنگ مزاج (۳) جلد نارض ہو جانے والا

تکلیف پہنچے ہوئے آدمی کو چڑا کر اور زیادہ تکلیف پہنچانا - جلے پھپھو لے پھوڑنا - (۱) محاورہ) (۱) شکوے شکایت سے دل کا غبا مکانا (۲) بدلہ لینا - عداوت نکالنا - دلی بغض یا عتا و ظاہر کرنا - جلے جھوٹے سے جو مکملے سو واہ - (مٹ) [نقصان ہونے میں جو بھی کچھ بچ جائے اُسے غیرت جانو -

جللا - (ج - لا) [ع - ۱ - مٹ] [۱] صفائی - روشنی - چمک - صیقل - جلا دینا - جلا کرنا - (۱) محاورہ) چمکانا - آجانا - صیقل کرنا - سانچنا - جلا کار - چمکانے والا - آجانے والا - صیقل کر -

جلا کاری - (ع - ۱ - مٹ) [زیورات یا برتنوں کو چمکانے کا پیشہ - صیقل گری - جلاب - (ج - لا) [ع - ۱ - مذ] [ایسی دوائی جس سے دست آئیں مسلسل دست آرد وا -

جلاب سالک جانا - (۱) محاورہ) خوف یا نشوونما سے دست چھوٹ جانا -

جلاب لینا - مسل لینا - دستوں کی دوائی استعمال کرنا - جلابی - (ج - لا - بی) [ا - ۱ - مذ] [جلاب لینے والا - مسل لینے والا -

جلابی - (ج - لا - بی) [ق - ۱ - مٹ] [ایک مٹھائی کا نام جلابی - جلابا - (ج - لا - پا) [جھ - ۱ - مذ] [۱] [ع - ۱ - مذ] [آر دگی - سوگ (۲) رشک - حسد (سوکن سے) جہن (۳) آئیر - دشمنی (۴) کسی کی ترقی یا کامیابی پر بیچ ڈناب -

جلابے محور - (۱) [مذ] [حسد کرنے والا - جلابٹ - (ج - لا - ٹ) [ق - ۱ - مٹ] [جلن -

جلابین - (Gelatin) [ج - لا - بین] [ا - ۱ - مٹ] [ایک ایس دار مادہ جو جانوروں کی ہڈی، کھال وغیرہ سے نکلتا ہے - سریش ماہی -

جلابل - (ج - لا - بل) [ع - ۱ - مذ] [بل بل کی جمع (۱) جھانچہ - دت - واڑہ - میجرہ - مال -

جللاؤ - (ج - لا - و) [ع - ۱ - مذ] [کھال اُدھیرنے والا - پھانسی دینے والا - جان لینے والا (۲) بے رحم - بے درو - ظالم - کھٹور -

جللاؤ صفت - (ع - ۱ - صفت) [بے رحم - تنگ دل - جلاؤ فلک - (ع - ۱ - مذ) [مناڑہ مرتج - منگل جس سے نجومیوں کے نزدیک قتل و خون اور جنگ و جدل کا تعلق ہے -

جللاؤت - (ج - لا - و - ت) [ع - ۱ - مٹ] [۱] بہادری - شجاعت - جوانمردی - چستی - چالاکی - پھرتی - طاقت - توت - زور - بل -

جللاؤنی - (ج - لا - و - نی) [ا - ۱ - مٹ] [ایسی عورت جو بہت ہی بے رحم اور تنگ دل ہو -

جللاؤی - (ج - لا - و - ی) [ع - ۱ - مٹ] [۱] بے رحمی - تنگ دلی - جلال - (ج - لا - ل) [ع - ۱ - مذ] [۱] بزرگی - عظمت - بڑائی (۲) شان و شوکت (۳) رعب و اب (۴) طاقت - قوت (۵) غصت -





جلیل القدر - (ع - صفت) بڑی شان والا - نہایت معزز۔  
جلیبیلہ - (رج - لی - کہ) [ع - ۱ - مرث] [۱۵] جلیبیل کا موٹ (۲) [صفت] [بڑا۔  
بزرگ - اونچا۔

## ج - م

جگم - (ف - ۱ - مذ) ایران کے ایک قدیم بادشاہ جمشید کا معنیف۔  
جگم جاہ - (ف - صفت) جمشید بادشاہ کے مرتبے کا بڑا معنی بڑے مرتبے والا۔  
جگم - (۱ - ۱ - مذ) موت کا فرشتہ - ملک الموت (۲) موت [فضا] [۳] ناگوار  
بات یا چیز (۴) جڑواں - توام (۵) جتنا کامر۔  
جگم جوتالی ہو کر بیٹھنا - (۱ - محاورہ) چمٹ جانا - بغیر لیے نہ ملنا۔  
جگم ووت - (۱ - ۱ - مذ) ملک الموت - موت کا فرشتہ۔  
جگم دھڑ - (جگم موت) اور دھڑ دھار کام کر (۱) دھار یا بار دھ دار تھیار  
چھری - کٹار - منجر (۲) ایک قسم کا رنگین کنگوا - ایک قسم کا بادامی کاغذ۔  
جگم ویا - (۱ - ۱ - مذ) جگم ویا کے نام کا چراغ جو دیوالی سے دو دن پہلے جلایا  
جاتا ہے۔  
جگم لاج - (۱ - ۱ - مذ) پاتالی کا راجہ۔  
جگم کاشد لیبہ - (۱ - ۱ - مذ) موت کا پیمانہ۔  
جگم ہو جانا - (۱ - محاورہ) موت کی طرح نہ ملنا - پھیلا نہ چھوڑنا - جھوٹ کی  
طرح چمٹ جانا۔  
جگماد - (رج - ماد) [ع - ۱ - مذ] جس چیز میں بڑھنے کی قوت نہ ہو۔ بے  
جان چیز (۲) پتھر - معدنی۔  
جگمادات - (رج - ماد) [ع - ۱ - مذ] جگماد کی جمع - بے جان چیزیں۔  
جیسے وصات - پتھر پہاڑ وغیرہ۔  
جگمادی الآخرة - جگمادی الآخری - (رج - ماد) دل - آخ - رہ - ج - ما۔  
دل - آخ - را) [ع - ۱ - مذ] اسلامی سال کا چھٹا مہینہ  
جگمادی الاولی - (رج - ما - دل - او - لا) [ع - ۱ - مذ] اسلامی سال  
کا پانچواں مہینہ۔  
جگمار - (رج - مار) [ع - ۱ - مذ] وہ سنگ رینے جو حاجی لوگ حج کے مناسک  
ادا کرتے وقت پھینکتے ہیں۔  
جگمخ - (رج - مخ) [ع - ۱ - مذ] مرد کا عورت سے صحبت کرنا - ہم بستہ  
ہونا۔ مباشرت - مجامعت۔  
جگماعت - (رج - ما - عت) [ع - ۱ - مرث] [۱] پارٹی - گروہ - جنٹا۔  
گولی - پینٹلم (۲) سوسائٹی - سبھا - مجلس (۳) سلسلہ - زمرہ - پراد (۴) فرقہ۔  
فریق (۵) اگلاس (۶) صفت ناز (۷) جگم - بھیر - انہوہ۔  
جگماعت سے کراہت ہے - (وشل) [۱] اتفاق میں برکت ہے۔  
(۲) جتنے فریق زیادہ ہوں اتنا ہی زیادہ رعب رہتا ہے۔  
جگماعت کھڑی ہو جانا - ہونا - (۱ - محاورہ) نمازیوں کا امام کے پیچھے

صفت بانٹھ کر نماز شروع کر دینا  
جماعت میں بیٹھنا - (۱ - محاورہ) اسکول میں تعلیم پانے والے بچوں کا  
درجے میں بیٹھ کر پڑھنا۔  
جگمگی - جمعگی - (ج - ما - گی - مع - گی) [ا - ۱ - مرث] [بچوں کا جمعہ  
کے دن کا خرچ - (۲) استاد کا نذرانہ جو بچے جمعہ کو ادا کرتے تھے۔  
جگمال - (رج - مال) [ع - ۱ - مذ] [حسن - جوہن - روپ - خوبصورتی۔  
جگمال گونا - (رج - مال - گو - نا) [ع - ۱ - مذ] ایک گرم اور خشک پہل  
جو درست اور ہوتا ہے۔  
جگمالی - (رج - ما - لی) [ع - صفت] [۱] شان رحمت کی منتجی (۲) وہ اسم جو  
جلالی نہ ہو۔ (۳) ایک قسم کا سرد یا خوبروزہ (۴) عالموں اور صوفیوں  
کی اصطلاح میں نباتات جیسے سبزی وغیرہ جمع - جمالیات۔  
جمالیات - (ع - ۱ - مذ) فلسفہ کی وہ شاخ جس میں حسن اور اس کے  
لوازم سے بحث کی جاتی ہے (۲) حسن شناسی (۳) فنون لطیفہ۔  
(انگ) (Aesthetics)  
جگمانا - (رج - ما - نا) [ع - ۱ - مذ] مانع یا تباہی چیز کو محسوس کرنا - مجتہد کرنا۔  
(۲) پیوست کرنا - جوڑنا (۳) ڈھنگ سے رکھنا یا لگانا (۴) قائم  
کرنا (۵) دھنا - رکھنا (۶) اکٹھا کرنا (۷) انبار کرنا (۸) شروع کرنا  
(۹) بنیاد مضبوط کرنا۔ (۱۰) ٹھکانا (۱۱) مارنا (۱۲) گاڑنا (۱۳) شروع پیل  
کرنا (۱۴) رد کرنا (۱۵) آمادہ کرنا (۱۶) فرض نشین کرنا (۱۷) مشتق کرنا  
(۱۸) ہونٹوں پر ہستی لگانا۔  
جگمانا - (رج - ما - نا) [ع - ۱ - مذ] [بص] [کھانا کھلانا - ضیافت کرنا۔  
جگما ہوا - (۱ - محاورہ) بستہ - بستہ (۲) کھڑا ہوا - غیر متحرک۔  
جگماوٹ - (رج - ما - وٹ) [ع - ۱ - مرث] [۱] جگمانا - انجماد (۲) سستی کا جگمانا۔  
جگماہٹا - (رج - ما - ہٹا) [ع - ۱ - مذ] [بص] [جمالیات لینا۔  
جگماہٹی - جمالی - (رج - ما - ہی) [ع - ۱ - مرث] [انگڑائی۔  
جگمہیں ذرا تازہ کرنا کھل جانا۔  
جگماد - (رج - ما - ا) [ع - ۱ - مذ] [بص] کی خاصیت - جسے کی حالت یا  
کی کیفیت انجماد (۲) پھیلاؤ - قیام (۳) پھیلاؤ - جگم (۴) پختگی - پکنے  
پر آنے کی حالت (۵) لیس - چسپ۔  
جگماد - (رج - ما - ا) [ع - ۱ - مذ] [بص] کے قابل (۲) مضبوط - پکا۔  
پختہ - پانڈار۔  
جگمبو - (ج - بو) [ع - ۱ - مذ] [بص] جاسن کا درخت (۲) جاسن  
کا پھل (۳) [ع - ۱ - مذ] [بص] [گیدڑ - بڑا۔  
جگمبوری - (Jamboree) - (ج - بو - ری) [انگ - ۱ - مرث] [جشن - رنگ ریلیاں۔  
جگمبیٹھنا - (ع - ۱ - مرث) [بص] پیوست ہو جانا - گڑھانا۔  
جگمبیری - (ج - بی - ری) [ع - ۱ - مذ] [بص] قسم کا نیو یا لیوں۔  
جگمپٹ - (Jump) [انگ - ۱ - مرث] [بص] [جگمپٹ - جگمپٹ۔  
جگمپر - (Jumper) [ج - پ - ر] [انگ - ۱ - مرث] [۱] عورتوں کی ڈھیلی



کسی ایسے شخص کو غفلت سے جگانا ہو جو کسی عیار آدمی کے ہاتھوں اٹ کر اپنی ساری پونجی گنوا بیٹھا ہو۔  
جمع نئے سرکاری اور مرزا کھیلوں بھاگ۔ (دیش) کوئی شخص بددیانتی کر کے یا اوروں کے سرمائے پر رعیش کر رہا ہو تو اس کے بارے میں یہ مشل کہتے ہیں۔  
جمع مرکب۔ (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) رقموں کی جمع۔ اوزان۔ پیمائش کی جمع۔

جمع والا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) دولت مند۔ امیر جس کے پاس دولت ہو۔ بلاتے دار۔

جمع ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) الطینان ہونا۔ (۲) دیکھو جمع کرنا۔  
جمعہ دار۔ (ج۔ مخ۔ وار) (۱) مذ (۱) (مز دوروں) گروہ سے کام لینے والا (۲) ایک فوجی عہدہ (۳) پولیس کا ہیڈ کوارٹریٹس، آب کاری کے محکمے کا کانسٹیبل (۴) ہمشٹی۔ ماشکی (۵) بھنگی یا خاکروب اور ان کا

معاون افسر۔  
جمعہ داری۔ (ج۔ مخ۔ وا۔ ری) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) جمع دار کا کام (۲) جمعہ داری کا عہدہ۔

جمعہ رات۔ (ج۔ مخ۔ رات) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) [جمعہ سے ایک دن پہلے کا روز۔ پختہ۔

جمعہ آئی بید۔ (ج۔ مخ۔ را۔ تی۔ سی۔ یید) (۱) مذ [وہ شخص جو جمعہ کو بید ہونے کے سبب اپنے آپ کو سید کہے۔

جمعہ۔ (ج۔ مخ۔ م۔ م۔ مذ) (۱) جمعہ رات کے بعد کا دن۔ یوم اذینہ شکر وار (۲) جمعہ کی نماز۔ اردو میں م ساکن۔

جمعہ جمعہ آٹھ دن (روز) کی پیدائش۔ (دیش) اس موقع پر کہتے ہیں جب کوئی چھوٹی عمر کا چالاک یا گستاخی کرے۔

جمعہ چھوڑ بیٹھ نہ لے۔ اس کا سینچر کبھی نہ جائے۔ (دیش) جو آدمی جمعہ کے مبارک دن کے بھانے بنتے (سینچر) کے روز نہ لے اس پر سے نحوست یا بدبختی (سینچر) کا پورا کبھی نہیں ملتا۔

جمعہ کو نکاح۔ جمعہ کو طلاق۔ (دیش) اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کام شروع ہونے کے بعد بہت جلد جھگڑا یا فساد ہو جائے۔

جمعہ چیت۔ (ج۔ مخ۔ بیت) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) جماعت۔ مجمع۔ گروہ۔ انبوه۔ (۲) فوج۔ لشکر۔ سپاہ (۳) اکٹھا ہونا (۴) الطینان۔ تسکین۔

جمعیت اکٹھا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لشکر جمع کرنا (۲) بہت سے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملانا (۳) لوگوں کو جمع کر لینا۔

جمعیت خاطر۔ (ع۔ ۱۔ مرث) تسلی۔ تشفی۔ الطینان ول۔ بے فکری۔ دل چسپی۔

جمعہ عقیقہ۔ (ج۔ مخ۔ م۔ ع۔ فیہ) (ع۔ ۱۔ مذ) زبردست هجوم۔ بڑی بھاری جگمگ کر لڑنا۔ (ج۔ مخ۔ کر۔ لڑ۔ نا) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) [لاٹائی میں قدم پیچھے نہ ہٹانا۔

جمعہ گھٹ۔ (ج۔ مخ۔ گھٹ۔ جم۔ گھٹ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) انبوه۔ جرم۔

دھالی کُرتی (۲) کراچی کی ڈیسی دھالی کُرتی جو تاج پہنتے ہیں۔  
جگمگ جگانا۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ گن۔ (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ گن۔ (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔

جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔  
جگمگ کرے۔ (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) (ع۔ ۱۔ مرث) (۱) دیر کا دینا۔



عورت کے پریش سے باہر نکالنا۔ دائی یا جنوائی کا کام کرنا۔  
**جنناور** - (ج-نا۔ ور) [ژہ-مذ] جانور۔ حیوان۔  
**جنائی** - (ج-نا۔ ای) [ژہ-مذ] بچ جانے کی اجرت (۲) بچنے  
 جانے والی۔ دائی یا قابلہ وغیرہ۔  
**جناب** - (ج-ا۔ مٹ) پہلو۔ پسلی۔ طرف (۲) ملک کا ایک حصہ۔  
**جنبت** - (ج-ا۔ مذ) وہ آدمی جسے جماع یا اختلام کی وجہ سے غسل کی  
 حاجت ہو۔  
**جنجال** - (ج-م۔ باں) [ژت-صف] اٹنا ہوا۔ لرزاں۔  
**جنجیش** - (ج-م۔ بزش) [ژت-ا۔ مٹ] حرکت۔ گردش۔ ہلنا۔ جھلنا۔  
**جنجیہ** - (ج-م۔ بزم) [ژع-ا۔ مذ] [۱] حمایت۔ طرفداری۔ پناہ۔ (۲) طرف۔  
 پہلو۔  
**جنید واری** - (ج-ا۔ مٹ) طرفداری۔ حمایت۔ کشتی لینا۔  
**جنت** - (ج-ن۔ نت) [ژع-ا۔ مٹ] [۱] باغ (۲) بہشت۔ سوگ۔  
**جنت آشیانی** - جنت مکانی - (ج-ا۔ صف) جس کو جنت  
 میں بگڑ دی گئی۔ مرحوم۔  
**جنت الخمار** - (ج-ا۔ مٹ) نیالی جنت۔ قیاسی نوشی۔  
 (انگ) (Foots Paradise) [۱] حقول کی جنت۔  
**جنت الماویے** - (ج-ا۔ مٹ) آرام کا باغ۔ بہشت۔  
**جنت شداو** - وہ جنت جو بابل کے بادشاہ شداو نے بنوائی تھی۔  
**جنت عدن** - (ج-ا۔ مٹ) وہ باغ جنت جس میں حضرت  
 آدم علیہ السلام کو شجر منور کا پھل کھانے سے پہلے رکھا گیا تھا۔  
**جنت کی کھڑکی کھلانا** - (مجاورہ) ٹھنڈی ہوائے جھونکے آنا۔  
**جنت کی ہوا آنا** - (مجاورہ) ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا آنا۔  
**جنت نشان** - (ج-ف۔ مٹ) [۱] آجمنائی (۲) مرحوم (۳)  
 جنت جیسا دکھن۔  
**جنت** - (ج-س۔ مٹ) گروہ۔ بہت سے آدمی۔ جمع۔ بھیڑ (۲) فرقہ۔  
 (۳) قوم۔ (۴) انسان۔  
**جنتی** - (ج-ن۔ تی) [ژر-صف] جنت سے منسوب (۱)  
 جنت میں جانے والا (۲) مرحوم (۳) سیدھا۔ بھولا (۴) بہرا۔  
**جنتر** - (ج-ن۔ تر) [ژہ-ا۔ مذ] [۱] آلہ۔ اوزار۔ آلہ جبرائیل (۲) ایک  
 قسم کا باجو (۳) نیویڈنگٹا۔ جادو ٹونا۔ نقش (۳) روغن اور  
 عرق نکالنے کا برتن (۴) رصد گاہ (۵) علم نجوم کا کوئی نقشہ (۶)  
 دھوپ گھڑی۔  
**جنتر مٹر** - (ج-ا۔ مذ) [۱] بازی گرگاہ۔ شہیدہ بازی (۲) مکاری۔ فریب  
 کاری (۳) ٹونکا (۴) رصد گاہ۔  
**جنتری** - (جنت۔ ری) [ژہ-ا۔ مٹ] [۱] نفویم (۲) لوسے کی سوراخ  
 دار لمبیٹ جس میں سونے یا چاندی کے ناریوں کو رکھ کر انہیں لمبا  
 کرتے ہیں (۳) وہ کتاب جس میں نجومی ستاروں کی گردش  
 کا سالانہ حال تاریخ دار درج کرتے ہیں۔

مطابق آگ سے پیدا کی گئی ہے (۲) بھوت پرست۔ دیو۔ آسیب  
 (۳) روح۔ ہمزاد (۴) عفتہ۔ جلال۔ قمر [صف] (۵) مندی۔ کرکش۔  
 (۶) مضبوط۔ سخت۔ جنکاش۔ عام انسانوں سے زیادہ کام کرنے والا  
 (۷) ثابت قدم (۸) شور اور۔ کرکش۔  
**جن آثار وینہ** - (۱) محاورہ (۲) کسی پرچن آیا ہوا ہوا تو اسے جگا دینا۔ آسیب  
 دور کرنا (۳) عفتہ دور کرنا (۴) سیدھا کر دینا۔ مرتت کرنا۔  
**جن آثار وینہ** - (۱) محاورہ (۲) جن یا آسیب دور کرنے کا عمل پڑھنا (۳)  
 میڑھے یا کرکش آدمی کو ٹھیک کرنا۔  
**جن چڑھنا** - (۱) محاورہ (۲) آسیب کا اثر ہونا (۳) عفتہ چڑھنا۔ طیش  
 آنا (۴) چڑھنا۔ ضد ہونا۔ ہٹ پر آجانا۔ تہج کرنا (۵) سودا ہونا۔  
 ضبط ہونا  
**جن سوار ہونا** - (۱) محاورہ (۲) عفتہ ہونا (۳) آسیب ہونا (۴) دھن یا  
 ضبط ہونا۔  
**جن شیشے میں آثارنا** - (۱) محاورہ (۲) جن کو قابو کرنا (۳) مندی یا کرکش  
 آدمی کو قابو کر لینا  
**جن کا سایہ** - (۱) مذ) جن کا اثر۔ جن کا سر پر سوار ہونا۔ جن آنا۔ آسیب  
 ہونا۔  
**جن** - (Gin) [انگ۔ ا۔ مٹ] ایک تیز سفید رنگ کی شراب  
 جو راج سے کشید کی جاتی ہے۔  
**جننا** - (ج-نا۔ ہ) [مذ] [۱] آدمی۔ شخص۔ نقش۔ فرد (۲) [صف] پیلانڈو  
**جناب** - (ج-نا۔ ب) [ژع-ا۔ مذ] [۱] حضرت حضور۔ قبلہ (۲)  
 آپ۔ صاحب۔ خود پرولت۔ خداوند (۳) درگاہ۔ آستانہ  
**جناب اقدس** - (ج-ا۔ صف) عالی جناب۔ حضور پاک۔  
**جناب عالی** - (ج-ا۔ صف) حضور عالی۔ عالی جناب۔ حضرت  
 سلامت۔  
**جنابت** - (ج-نا۔ بت) [ژع-ا۔ مٹ] [۱] ناپاکی۔ نخواست۔  
 آلودگی (۲) خصوصاً وہ ناپاکی جو مرد و عورت کے صحبت کرنے یا  
 اختلام سے ہو۔  
**جنات** - (ج-ن۔ نات) [ژع-ا۔ مذ] جن کی جمع۔  
**جنائی** - (ج-ن۔ نائی) [ژع-ف۔ صف] جنات سے منسوب۔  
**جنائی زبان** - ایسی زبان جو سمجھ میں نہ آئے۔  
**جنناح** - (ج-ناح) [ژع-ا۔ مذ] بازو۔ پر۔ پنکھ۔ جمع۔ اسبجھ۔  
**جنناح** - (ج-ا۔ مذ) گناہ۔  
**جنارہ** - (ج-نا۔ رہ) [ژع-ا۔ مذ] [۱] لاشس۔ مردہ جسم (۲) تابوت۔  
 جنازہ دیکھنے۔ (۳) انیس۔ اپنی جان کی قسم دینا۔  
**جنارہ بھال** - (ج-ا۔ مذ) گھوڑا۔ گھوڑے کی سواری۔  
**جنارہ مکلی** - (بددعا) مرے۔ مرحلتے۔  
**جنال** - (ج-نال) [ژع-ا۔ مٹ] جنت کی جمع۔ بخنیں۔  
**جنانا جنوانا** - (ج-نا۔ نا۔ جن۔ وا۔ نا) [ژہ-م] [۱] بچہ

میں جس کے تحت چند نوعیں (انواع) ہوں۔ نوع وہ جس کے تحت اصناف ہوں۔ صنف وہ جس کے تحت افراد ہوں۔ مثلاً حیوان جنس ہے اور انسان نوع۔ جیسے ہندی۔ چھاپائی۔ چینی۔

جنس خانہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) گودام۔ ڈپو۔  
جنس وار۔ (ع۔ ف۔ صفت) (۱) قسم یا نوع کے مطابق قسموں کو ملانے لکھ کر فصلوں کی تقسیم (۲) وہ نقشہ جو پڑاوی لوگ کاشتہ جنس کی اقسام کے متعلق تفصیل وار کو پیش کرتے ہیں۔

جنسی۔ (جن۔ صفت) (۱) جنس کے متعلق (۲) مرد و عورت کے باہمی جسمانی تعلق کے بارے میں۔

جنسی امراض۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ بیماریاں جن کا تعلق مرد و عورت کے جنسی افعال سے ہے۔

جنسیات۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مذ) وہ علم جس میں مرد و عورت کے جسمانی تعلق کی شرح کی جاتی ہے۔ شہوت یا اعضائے تولید کا علم۔

جنسیت۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مذ) یکسانیت۔ ہم جنس ہونا۔ ایک میں کے ہونا۔

جنکشن۔ (Junction) (جنکٹ۔ شن) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) ملنے کی جگہ (۲) ایسا ریوے طیش جن جہاں دو سے زیادہ لائنیں اکٹری ہوں۔

جنک۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ایک جلد جس میں کسی کتا ہیں ہوں (۲) کتابوں کا پشتارہ۔ مسٹا (۳) بڑی بیاض (۴) امٹ [جوش۔ دھن (۵) کئی کھنڈ۔

جنک۔ (ف۔ ۱۔ صفت) (لڑائی۔ معرکہ (۲) دشمنی۔ تیر۔ لینہ۔ عداوت۔ جنک آرمو وہ۔ (ف۔ صفت) جس کو جنک کا تجربہ ہو۔ جو جنک میں شریک ہو چکا ہو۔ لڑائی کے طور پر ترقی سے واقف۔ بہادر۔ دلیر۔

جنک آور۔ (ف۔ صفت) (۱) شجاع۔ دلیر۔ بہادر۔ لڑائی کرنے والا۔ جنک جو۔ (ف۔ صفت) لڑاکا۔ لڑائی کے بہانے ڈھونڈنے والا۔

جنک جوئی۔ (ف۔ ۱۔ صفت) لڑائی جھگڑے کی عادت (۲) لڑنے کے بہانے ڈھونڈنے کا چکا

جنک زرگری۔ (ف۔ ۱۔ صفت) مصنوعی لڑائی۔ دکھاوے کی لڑائی۔ جنک سر کرنا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) لڑائی پر فتح پانا۔

جنک گاہ (جنک گاہ) (ف۔ ۱۔ صفت) میدان جنک۔ لڑائی کا میدان۔ جنک منلوہ۔ (ف۔ ۱۔ صفت) (۱) دست بدست جنک (۲) انہو کی لڑائی۔ شکست کے یقین ہو جانے پچھلے باروں سے لڑنا۔

جنک و جہال۔ جنک و جہل۔ (ف۔ ۱۔ صفت) (۱) لڑائی۔ معرکہ۔ مار کٹائی (۲) جھگڑا۔ فساد۔

جنگل۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) درختوں کی کثرت کا مقام۔ درختوں کی افراط (۳) صحرا۔ میدان بھلائی۔ ریگستان (۴) بھراؤر ویران جگہ (۵) چراگاہ۔

جنگل برمی۔ (ف۔ ۱۔ صفت) جنگل کی کٹائی جنگل کاٹنا۔

جنتری میں کچھنا۔ جنتری نکالنا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) سونے یا چاندی کے تار کا جنتری میں کچھنا (۲) کسی آدمی کے کس بل نکل جانا۔ سیدھا ہونا۔

جنٹو۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) جانور۔ حیوان (۲) ریگتے والے۔ کیرٹے۔ کھڑے۔ حشرات الارض۔

جنٹی۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ صفت) بہشت میں رہنے والا۔ جنٹیاں۔ (Gentleman) جن۔ ٹیل۔ مین (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) شریف آدمی۔ باوقار شہری (۲) مغرب زدہ انسان۔

جنجال۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) وبال۔ آفت۔ مصیبت۔ بلا (۲) بھیرا۔ پریشانی (۳) مشکل۔ دشواری (۴) حیرانی پریشانی (۵) وہ آدمی یا بات جس سے تکلیف ہو (۶) بوجھ۔ گلے کا بار (۷) پاؤں کی برزی۔

جنجال میں پڑنا۔ جنجال میں پھینسا۔ (۱) مصیبت میں پڑنا (۲) کسی جھگڑے میں اٹھ جانا۔

جنجال ہو کر چھینا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) بڑی طرح پیچھے پڑنا۔ جنجالی۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) جھگڑا۔ مصیبت ڈالنے والا۔

جنجری۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ صفت) (انگ۔ ۱۔ صفت) (۱) اورک۔ چھینا۔ (پنج۔ نا) (ع۔ ۱۔ صفت) دیکھیے جنجا۔

جنڈا۔ جنڈرا۔ (جن۔ صفت) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) گھاس وغیرہ اکٹھی کرنے کا آلہ جس سے آبپاشی کے دوران مٹی اکٹھی کر کے کیریاں بناتے ہیں۔ (۲) نقل۔ ۳۱۱۔

جنڈ پیرستہ۔ (ع۔ ۱۔ صفت) خضیر اور دہلاؤ جو ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔

جنڈرے ڈھیلے ہونا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) ہونا۔ کابل ہونا۔ اعضائے جسمانی کا ڈھیلہ پڑ جانا (۲) چستی یا چھرتی نہ رہنا۔

جنڈری۔ (جنڈری) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) مسٹا [زندگی۔ جان کی تصغیر۔ جنڈری کھانا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۲) عاشق ہونا۔

جنڈر۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) ایک جنگلی درخت جس کی لکڑی جلانے کے کام آتی ہے۔ جنرل۔ (General) جن۔ رل (انگ۔ ۱۔ صفت) (۱) سب سے بڑا آدمی

انفر۔ فوج کا کمانڈر (۲) عام (۳) بڑا۔ جنرل پوسٹ آفس (General Post Office) بڑا ڈاکخانہ۔

جنرل مرکزی ڈاک خانہ۔ جنرل مرچنٹ۔ (General Merchant) ایسا سوداگر یا دوکاندار جس کے ہاں استعمال کی ہر چیز ملتی ہو۔

جنرٹریٹر۔ (Generator) جن۔ رے۔ ٹریٹر (انگ۔ ۱۔ صفت) پیدا کرنے والا (۲) کبھی وغیرہ پیدا کرنے والی مشین۔

جنس۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) ذات۔ نوع۔ صنف۔ جماعت (۲) چیز۔ شے (۳) اسباب۔ سودا (۴) سامان۔ اثاثہ یا اشیائے منقولہ (۵) پیداوار۔ اناج۔ غلہ (۶) نسل (۷) علم قواعد میں تذکرہ قانیات (۸) منطق فلسفے

**جنگل بیابان** - (ف - ۱ - مٹ) ایسا جنگل جو بالکل ویرانہ ہو جہاں کسی بسنی یا آدمی کا نام و نشان نہ ہو۔

**جنگل پھرنا** - جنگل جمانا - (۱ - محاورہ) پانفٹہ جانا - بریت لانا جانا۔

**جنگل جاٹ نہ چھیرے**، ہتھی بیچ کراڑ کلال - جھوکا ترک نہ چھیرے ہو جائے تھی کا جچال - (۵ - مٹ) جنگل میں جاٹ کو، دوکان پر بیٹے کو اور بھوکے ترک کو نہ چھیرنا چاہیے۔

**جنگل صاف کرنا** - جنگل کے جھاڑ جھنکاڑ کاٹ کر زمین کو صاف بنانا۔

**جنگل کا تینتر** - (۱ - صفت) ڈر لوک بزدل۔

**جنگل میں کھینٹی نہیں**، بسنی نہیں گھر - (۵ - مٹ) بالکل کھلا آدمی۔

**جنگل میں منگل ہونا** - (۱ - محاورہ) ویرانے میں آبادی اور رونق ہونا یا عین و عشرت کا سامان ہونا، ویرانے میں چل پل (ہونا)

**جنگل میں مورنا چا**، کس نے دیکھا (نماشا) - (۱ - مٹ) کام ایسا ہونا چاہیے جسے سب دیکھیں - الگ تھک یا پردیس میں رہ کر کام کرنے کے کیا فائدہ (۲) نمود کا کام ایسی جگہ کرنا جہاں شہرت نہ ہو سکے۔

**جنگل ہو جانا جنگل ہونا** - (۱ - محاورہ) (۱) ویرانہ ہو جانا - بسنی یا شہر کا غیر آباد ہو جانا (۲) خود دو دختوں کا بکثرت آگ آنا۔

**جنگل** - (جنگ - لا) - (۱ - مذ) (۱) کٹڑی کی پھیبوں یا لوسے کی سٹانوں کا وہ فرم جو دروازے یا باڑھ یا کٹھرے کے طور پر لگتے ہیں (۲) کوٹے کناری کا مائیک جو دو بیٹے وغیرہ پر لٹکنے یا بیٹے ہیں (۳) مختلف نکل کے بل کوٹے (۴) ایک قسم کا پھول دار کپڑا (۵) اجاڑ مکان (۶) جنگلی کبوتر (۷) ایک راگنی کا نام (۸) غیر مالوس (۹) بیابان - صحرا (۱۰) بن جھاڑی (۱۱) دیوان جگہ۔

**جنگلی** - (جنگ - لی) [۱ - صفت] جنگل کا صحرائی دشتی - جنگل کے متعلق - (۲) دشتی - بھڑکنے والا - غیر مالوس (۳) بٹسیز - گنوار - غیر مذتب۔

**جنگلی آدمی** - (ف - ۱ - مذ) (۱) دشتی آدمی (۲) غیر مذتب۔

**جنگلی بی** - (ف - ۱ - مٹ) جنگلی بلا - بن ملاؤ۔

**جنگلی بونی** - (ف - ۱ - مٹ) خود زو پودا۔

**جنگلی بیر** - (ف - ۱ - مٹ) چھوٹا لال چھلکے کا بیر جو جھاڑی میں لگتا ہے۔

**جنگلی چوہا** - (ف - ۱ - مذ) کانٹ دار چوہا - سیبہ - موٹا۔

**جنگلی کبوتر ہونا** - (۱ - محاورہ) نامالوس ہونا - میل جول سے کترانا۔

**جنگم سد** - (ق - ۱ - مذ) پیرو مشد۔

**جنگلی** - (جنگ - گی) [۱ - صفت] (۱) جنگل کے متعلق (۲) قابل جنگ (۳) فوجی (۴) بہادر (۵) فسادی (۶) [مذ] سپاہی - لشکری۔

**جنگلی بڑا** - (ف - ۱ - مذ) بھری فوج کے جہاز۔

**جنگلی لاٹ** - سپہ سالار - کمانڈر انچیف۔

**جنگم** - (ج - فم) (اس - ۱ - مذ) (۱) پیدائش ہونا - پیدا ہونا - ولادت (۲)

**زندگی** - زلیست - عمر (۳) عادت خصلت (۴) اصل - بنیاد - نسل

(۵) خلقت - آفرینش (۶) ہمیشہ - دوام (۷) شروعات -

**جنگم اشٹمی** - ہندوؤں میں بھادوں بدنی کی انھیوں ناستخ جس دن کھٹن جی کے جنگم تروشی میں منائی جاتی ہے۔

**جنگم اندھا جنگم کا اندھا** - (۱) پیدائشی اندھا - مادر زاد اندھا۔

**جنگم لگاڑا** - (۱) لڑا کرنا - بدکاری کر کے خراب کرنا۔ (۲) زندگی کو بے لطف بنا دینا۔

**جنگم بگڑنا** - (۱) بڑھ ہونا (۲) زندگی برباد ہونا۔

**جنگم بھومی** - (۵ - ۱ - مٹ) پیدائش کی جگہ - آبائی وطن۔

**جنگم پیتر - جنگم پیتر - جنگم پیتری** - (۵ - ۱ - مذ - مٹ) وہ کاغذ جس پر کچھ کی پیدائش کا وقت دن اور مہینہ لکھا جاتا ہے (اس میں پیدائش کے وقت ستاروں کی حالت کا نقشہ بھی بنواتے ہیں اسی سے بچنے کی تدبیر کا جائزہ لیا جاتا ہے)

**جنگم پیتر سب دیکھتے ہیں** کرم پیتر کوئی نہیں دیکھتا - (۵ - مٹ) حسب نسب پر زور دینا مگر چال چلن اور طور طریقوں کی چھان بین نہ کرنا۔

**جنگم پیتری کی بدھ تو بلا لو** - (۵ - مٹ) جلدی نہ کرو - سوچ سمجھ کر کام کرو۔

**جنگم پٹا** - (۵ - ۱ - مذ) عمر بھر کا اقرار نامہ۔

**جنگم آجک** - عمر بھر (ق)

**جنگم لہلا** - جنگم جلی - (۵ - صفت) (۱) بد نصیب - بد قسمت (۲) مصیبت زکوہ - دائم لرزین۔

**جنگم جنگم** - سدا - ہمیشہ۔

**جنگم وانا** - (۱) پیدائش کرنے والا - (۲) باپ (۳) - آغاز کرنے والا۔

**جنگم وان** - (ف - ۱ - مذ) پیدائش کا دن - ساگرہ۔

**جنگم ڈوبونا** - (۱ - مٹ) (۱) گناہ کر کے اپنی زندگی خراب کر لینا (۲) مذہب بدلنا۔

**جنگم روگی** - (۵ - صفت) پیدائشی بیمار - جو پیدائشی مریض ہوا - دائم المریض۔

**جنگم سدھ جانا** - (۱ - محاورہ) زندگی بن جانا - حالت سبکت اچھی ہو جانا۔

**جنگم کٹڈی** - (۵ - ۱ - مٹ) زاپچہ - چھوٹی جنگم پیتری۔

**جنگم کے اندھے نام نہیں سمجھ** - (۵ - مٹ) (۱) نااہلیت - مفرد دعویٰ بہت - جنگم کے ساتھ تھی ہیں کرم کے ساتھ نہیں ہیں - (۲) (۱) ایک ہی وقت میں پیدا ہونے لگے مگر مقدار الگ الگ لاتے ہیں۔

**جنگم کے کرجنت نام سخت اور سنگم** - (۱) (۱) منفرد کے لحاظ سے پیدائشی بد نصیب ہیں مگر نام ایسا ہے کہ جیسے بڑے نعمتی نصیب ہیں۔

**جنگم کے منگنا** - نام وانا رام - (۱) (۱) پیدائشی بچک منگے مگر نام

**جُبُونی** - (ج - نُون - نی) [اُد - صفت] (۱) جس کو جُبُون ہو۔ دیوانہ۔ پاگل ہونا۔  
 (۲) غصیل (۳) ظالم۔ سفاک۔  
**جَبَنوں** - (ج - نون) [ہ - جن] [جن کی جمع یا جس کی جمع الجمع (جس کی جمع جن - جن کی جمع جنوں)۔  
**جَبَنیوں** - (ج - نون) [ہ - جن] [جن کو - جن لوگوں کو - جن باتوں کو۔  
**جَبَنے** - [ق] [ج - نون]۔  
**جَبَنے جانے** [ق] [صفت] [باخبر - واقف - سیانے۔  
**جَبَنی** - (ج - نی) [س - ا - مٹا] (۱) عورت۔ زن (۲) بیوی (۳) مال۔  
 (۴) ہو (۵) غلام۔ لونڈی (۶) بیٹی - سہیلی - گویاں۔  
**جَبَنی** - (ج - نی) [ق] [ا - مٹا] [پیارے۔  
**جَبَنی** - (ج - نی) [ع - ا - مٹا] بھوت پرست اُتارنے والا۔ سیانا۔  
**جَبَنے** - (ج - نے) [ہ] [ا] [لفظ جانے کا غنفت - گویا جیسے - فرض کر دو۔  
 (۲) خبر نہیں - معلوم نہیں - خدا جانے (۲) چنا (بمعنی فرد) کی جمع کنی فرد۔  
**اُزاد**  
**جَبَنے کوئی کو نہ مکھانے کھانے کوئی** - (مثل) معصیت کوئی اُٹھانے اور فائدہ کوئی حاصل کرے (بچہ پیدا ہونے کے بعد زچہ کو طاقنت کے لیے کو نہ مکھانے کھانے ہیں - لیکن زچہ کے ساتھ ساتھ اوپر والے بھی کھاتے ہیں حالانکہ انہوں نے بچہ جننے کی تکلیف نہیں اُٹھائی ہوتی۔  
**جَبَنیا** - (ج - ای - آ) [ا - مٹا] [جان من - اسے میری جان۔  
**جَبَنین** - (ج - نین) [ع - ا - مٹا] پیٹ کا بچہ - وہ بچہ جو رحم مادر میں ہو۔  
**جَبَنیوں** - (ج - نیو) [ہ - ا - مٹا] وہ بٹا ہوا دھاکہ جسے ہندو لوگ بدھی کی طرح لگے ہیں ڈالے رہتے ہیں (۲) جواہرات میں پڑا ہوا بال۔  
**جَبَنیوں کا ہاتھ** - پٹے یا تلوار کا وہ ہاتھ جو مقابل کے سینے پر آڑا یا ترچھا مارا جاتا ہے۔

## ج - و

**جَو** [ف - ا - مٹا] (۱) ایک عمدہ جوڑی مائل سفید رنگ کا ہوناسے۔  
 (۲) [ع] [شیر - ذرا سا ٹیل (۳) اچ کا ٹیسرہ حصہ۔  
**جَو بھیر** - (۱) صفت] ذرا سا بچھری - قدر سے قیل۔  
**جَو بھو** - (۱) صفت] ذرا ذرا سا - رتی رتی - کم سے کم مقدار۔  
**جَو جو حساب لینا** - (۱) محاورہ] حساب لینے میں چھوٹی سے چھوٹی رقم کے بارے میں بھی دریافت کرنا۔ اُستھانی سختی سے حساب لینا۔

جے، دینے والے - اصلیت شہرت کے بالکل برعکس ہے۔  
**جَو گھنٹی** - (ہ - ا - مٹا] (۱) وہ گھنٹی جو پیدا ہونے ہی بچے کو دی جاتی ہے (۲) وہ چیز جس کی کسی کو مدت سے عادت ہو آہری ہو۔  
**جَو لینا** - (ہ - محاورہ) پیدا ہونا۔  
**جَو مرن** - (ہ - ا - مٹا] پیدائش اور موت۔  
**جَو میں مٹھو گنا** - (ہ - محاورہ) [عجب لگانا، نہمت لگانا (۳) نام دھڑا (۴) لعنت طاعت کرنا - لعن طعن کرنا۔  
**جَو نہ دیکھا ہو رہا پسنے آئی کھاٹ** - (۱) مثل] غریبی میں اُمیرن کی اُمیرن کرنا۔  
**جَبَنی** - (ج - نی) [ہ - صفت] [پیدائشی - قدرتی (۲) زندہ چیز - جانور۔  
**جَبَننا** - (ج - نا) [ہ - مص] [بچہ پیدا کرنا - بچے کو جنم دینا۔  
**جَبَننا اور مرنا برابر (ہو تھانے)** - (۱) مثل] [بچہ پیدا ہونے وقت عورت کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی جان نکلنے میں ہوتی ہے۔  
 (۲) بچہ جننے میں جان جانے کا ڈر ہونا ہے۔  
**جَبَنک فیکٹری** - (Ginning Factory) - (ج - ننگ - نیک - ٹ - ری) [انگ - ا - مٹا] روئی سے بنولے الگ کرنے کا کارخانہ۔  
**جَبَنک مشین** - (Ginning Machine) (روئی اونٹنے کی گل - روئی سے بنولے الگ کرنے کی مشین۔  
**جَبَنی** - (ج - نی) [ہ - صفت] [جننے والی - مال۔  
**جَبَنو اس** - (ج - وا - سا) [ہ - ا - مٹا] وہ جگہ جہاں دلمن والوں نے دُلہا اور برائیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کیا ہو (۲) خارا دار جھاڑی۔  
**جَبَنوئی** - (ج - وا - نی) [ہ - ا - مٹا] [دانی کی نہیں - دیکھے جانی۔  
**جَبَنوئی - جَوائی** - (ج - وا - نی) [ج - وا - نی] [ہ - ا - مٹا] [بیٹی کا شوہر - داماد (۲) دشمن - (۳) ایک گالی۔  
**جَبَنوب** - (ج - نوب) [ع - ا - مٹا] [دکن - دکن۔  
**جَبَنوئا** - (ج - نُون) [ع - صفت] [جنوب کی طرف - جنوب کی سمت۔  
**جَبَنوئی** - (ج - نُون) [ع - صفت] [دکن سے متعلق - جنوب کی سمت۔  
**جَبَنوؤ** - (ع - ا - مٹا] لشکر - شطرنج کے ٹکڑے۔  
**جَبَنوری** - (January) - (ج - ن - و - ری) [انگ - ا - مٹا] انگریزی سال کا پہلا مہینہ، جو کہ کئیس دن کا ہوتا ہے۔  
**جَبَنوں** - (ج - نُون) [ع - ا - مٹا] [دیوانی - پاگل پن - سودا - جبط۔  
 (۲) غصہ - طیش (۳) کسی چیز کی دشمن۔  
**جَبَنوں آنا** - (۱) محاورہ] غصہ آنا - طیش آنا۔  
**جَبَنوں اچھلنا** - (۱) محاورہ] (۱) دیوانگی کا دورہ پڑنا - جبط سوار ہونا (۲) کسی چیز کی دشمن لگانا۔  
**جَبَنوں چڑھنا** - (۱) محاورہ] پاگل پن سوار ہونا (۲) غصہ آنا - طیش آنا۔  
**جَبَنوں دوری** - ایسا جنوں جو ہر وقت نہ رہتا ہو بلکہ کبھی مریش جنوں کی حالت میں ہوتا ہو بھی بالکل باحواس۔

یا اس میں ترنی کرتا ہے وہ اس میں نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ جو خال اپنی حد سے بڑھا سو مسما ہوا۔ (۱) مثل، جو چیز اپنی حد سے بڑھ جائے خواہ کتنی ہی خوبصورت ہو، بدناما معلوم ہونے لگتی ہے۔ جو درخت سامنے آئے وہی اوتٹ کا چارہ۔ (۱) مثل، ایسے شخص کے متعلق کہتے ہیں جو بلا تیز بھلے بڑے سب کو نقصان پہنچائے۔

جو دل میں بے وہی زبان پر ہے۔ (۱) مثل، ظاہر باطن کی یکسانیت صاف باطن۔

جو دم سے قیمت ہے۔ (۱) مثل، کسی کی زندگی جیسے یا جس رنگ میں گذری ہے، اچھا ہے۔

جو دوڑ کر چلا وہی گڑا۔ (۱) مثل، جو شخص کسی کام میں ضرورت سے زیادہ تیزی یا جلد بازی دکھاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔

جو دھرتی پہ آیا، اُسے دھرتی نے کھایا۔ (۱) مثل، جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ مرے گا ضرور۔ دنیا فانی ہے۔

جو راہ بتائے وہی آگے چلے۔ (۱) مثل، صلاح مشورہ بھی دے اور پھر اس کام کو انجام بھی دے۔

جو ساوان میں برکھا ہوتے، کھوج کال کا بالکل کھوئے (۱) مثل، ساوان کے مینے میں بارش (برکھا) ہو جائے تو قحط سالی ناممکن ہو جاتی ہے۔

جو سحری کھائے وہی روزہ رکھے۔ (۱) مثل، جو فائدہ اٹھا رہا ہو اسی کو محنت بھی کرنی چاہیے۔

جو سہراٹھا کے پٹلے گا وہی تنھو کر کھائے گا۔ (۱) مثل، جو شخص غور کرے گا وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔

جو سوئے گا وہ روئے گا۔ (۱) مثل، غافل شخص بالآخر بچھتا ہے۔ جو کام حکمت سے نکلتا ہے حکومت سے نہیں نکلتا۔ (۱) مثل،

جو بات حکمت عملی یا ادائیگی سے ہو سکتی ہے وہ زور اور طاقت کے نہیں ہو سکتی۔

جو کچھ۔ جس قدر۔ جتنا۔ جہاں تک۔

جو کرے سو بھرے۔ (۱) مثل، (۱) جس نے نقصان کیا وہی ہرجانہ دے (۲) جو بڑا کرتا ہے وہی سزا پاتا ہے۔

جو کسی کے لیے کنواں کھووتا ہے، اس کے لئے کھاتی تیار ہے۔ (۱) مثل، جو کوئی کسی اور کو نقصان پہنچانے کی سوچتا ہے قدرت اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔

جو کھل ہونا ہے آج ہو جائے۔ (۱) مثل، (۱) جلدی ہونا۔ محبت یا کھلا ہٹ ہونا (۲) کام جلد ختم کرنے کی تاکید۔

جو کوئی کھائے، وہ کھجے کل پائے۔ (۱) مثل، جو اوروں کو ستانا رہے وہ خود بھی کبھی چین نہیں پاتا۔

جو کوئی۔ (۱) ہر ایک۔ ہر کوئی۔ جو کہ۔ (۱) چونکہ۔ اگرچہ (۲) کلمہ وضاحت یا تفصیل۔

جو کوب۔ (دفعہ صفت) کونا ہو جو۔ موٹا ہو یا درودرا کنگا ہو جو (۲) جو کے برابر لکڑوں میں کنگا ہوا۔

جو۔ (دفعہ ۱) مؤنث [۱] مذکر۔ نالا۔ سونا۔ نذر [صفت] ڈھونڈنے والا۔ تلاش کرنے والا۔ مرکبات کے ساتھ مل کر آتا ہے جیسے جو جو۔

جو۔ (۱) حرف صلہ جو شخص۔ جو چیز۔ جو بات (۲) [اسم ظرف] جس قدر (۳) [اسم موصوف] جیسا۔ (۴) [صفت] جو کوئی۔ جو کچھ (۵) [حرف شرط]

اگر۔ بشرطیکہ (۱) اچانک (۲) جس سبب سے۔ جس بنا پر (۳) [دفعہ ۱] اس موصول [اسم ظرف] وقت۔ جب کہ۔

جو آگ کھائے گا انگارے کھے گا۔ (۱) مثل، جو بڑے کام کرے گا اُسے ان کا نتیجہ جھگڈنا پڑے گا۔

جو اپنے کام نہ آئے وہ پورے میں جائے۔ (۱) مثل، بے فیض آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا۔

جو باطن کی پوچھتی میں، سو باہروں کی زبان پر۔ (۱) مثل، جو بات پنڈت نے اپنی کتاب میں لکھی ہے (یعنی ماز میں ہے) وہ ہم سے بھی بیٹھے ہیں۔ اپنی عقل کی رسائی جتنا تاکہ ہم تمہارے دل کا ماز جانتے ہیں۔

جو بندھ گیا سو موتی۔ (۱) مثل، جو انسان تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا کر کچھ نیلہ تیار ہے وہی کام کا آدمی بنتا ہے۔

جو بولے سو گنڈا کھولے۔ (۱) مثل، جو تجویز پیش کرے وہی اس پر عمل بھی کر کے دکھائے۔

جو بولو گے وہی کاٹو گے۔ (۱) مثل، جیسا کرو گے ویسا ہی اکل کا پھل ملے گا۔

جو بہت قریب وہ زیادہ رقیب۔ (۱) مثل، اپنے رشتہ دار اور دوست اوروں سے زیادہ حسد اور مخالفت کرتے ہیں۔

جو پھل چھپا نہیں وہی بیٹھا۔ (۱) مثل، اُن دیکھی چیز کی قدر خواہی کتنا ہی ہوتی ہے۔

جو پہلے مارے سو میری۔ (۱) مثل، جو موقع نکلنے ہی فائدہ اٹھائے وہی کامیاب رہے گا (۲) جو منگولے یا لڑائی میں چھوٹے ہی مار بیٹھے گا وہ جیت جائے گا۔

جو چائے گا سو پائے گا۔ (۱) مثل، جو ہوشیار اور چکرتا رہے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔

جو جو۔ (کلمہ تعنیص) بہت سی چیزوں میں سے چند چیزیں (جو پسند یا مطلوب یا درکار ہوں)۔

جو جو کچھ۔ جتنی قدر کے۔ جیسے جیسے۔ جو جو مرئی موٹی واہ وہ دم چھوٹی۔ (۱) مثل، جس قدر دولت بھنی ہے اسی قدر بھل بڑھتا ہے۔

جو جویت جمانے وہی بھلا لڑی۔ (۱) مثل، جو شخص کامیابی حاصل کرے وہی قابل کھلتا ہے۔

جو چڑھے گا سو (ڈھنڈے) کرے گا۔ (۱) مثل، جو کسی کام میں پڑتا ہے

رکھے رکھے تھک جانا (۳) قمار بازی میں شکست کھانا ہارنا۔  
 جوڑے خانہ - (۱) مذ) وہ جگہ جہاں جڑا ہوتا ہو۔ قمار خانہ۔  
 جواہ - (ج - واب) زر - ۱ - مذ) (۱) سوال کی بند - جو کچھ لکھ کر یا  
 زبانی پوچھا جائے اس کے بارے میں بنائی گئی بات (۲) جوڑا۔  
 حیثیت (۳) (۲) یا معنی کی اصطلاح میں (سوال کا حل (۳) متقابل - ہم سر  
 جوڑ کا ثانی (۵) (سلام کیا جائے تو اس کے جواب میں) سلام (۶) پیغام  
 ملنے پر پلٹ کر پیغام بھیجنا (۷) (قانونی اصطلاح میں) تردید (۸) نامعلوم  
 (۹) بدلہ - عوض (۱۰) موقوفی - بطرفی - معزولی (۱۱) رشتہ واپس کرنا۔  
 جواب الجواب - جواب کا جواب - ایسا جواب جس سے موصولہ جواب  
 رد ہو۔

جواب باصواب - (ع - ۱ - مذ) ایسا جواب جو حسب مراد ہو۔ مناسب  
 یا معقول جواب۔

جواب پانا - (دلتا) (۱) ملازمت سے علیحدہ ہونا (۲) سزا پانا (۳)  
 بدلہ ملنا (۴) سوال کا جواب ملنا۔ خط کا جواب آنا (۵) انکار ہونا۔  
 نام منظور ہونا۔

جواب پڑھنا - (مشرقیوں یا مسوخرانوں کا پہلے مصرع کو دہرانا۔  
 جواب تکریمی تکریمی - (ع - ف - ۱ - مذ) سخت بات کا سخت جواب  
 دینا۔ کھری کھری شنانا۔

جواب تک نہ دینا - (۱) محاورہ) (۱) بات تک نہ کرنا۔ (۲) چپ  
 سا دھ لینا۔ ناراض ہونا۔

جواب تلخ - (ع - ف - ۱ - مذ) جواب میں کڑوی یا ناگوار بات کہنا۔  
 جواب جہاں باشہد عمومی - (۱) جہاں کی باتوں کے  
 جواب میں خاموش رہنا چاہیے۔

جواب دعویٰ - (ع - ۱ - مذ) دعویٰ کا قانونی جواب۔ مدعا علیہ کی  
 جانب سے تحریری جواب۔

جواب دہ - (۱) ذمہ دار - باز پرس کے قابل (۲) مدعا علیہ (جس پر مقدمہ  
 دائر کیا گیا ہو)۔

جواب دہی - (ع - ف - ۱ - مذ) (۱) فمرداری (۲) عدالت میں  
 مدعا علیہ کی طرف سے پیروی۔

جواب دہی سے بری کرنا - (۱) محاورہ) (۱) ذمہ دار قرار نہ دینا  
 (۲) مقدمے کی پیروی کی پابندی نہ دینا۔

جواب دہی کرنا - (۱) محاورہ) مواخذہ کرنا۔ باز پرس کرنا۔  
 جواب دے جانا - (۱) محاورہ) کسی چیز کا بے کار ہونے کا بے صرف ہو  
 جانا (۲) کسی آدمی کو کام کرنے سے انکار کر جانا (۳) عاجز ہونا۔

جواب دے دینا - (۱) محاورہ) (۱) موقوف کر دینا (۲) چھوڑ دینا۔  
 (۳) قطعی انکار کر دینا۔

جواب دینا - (۱) جواب دہی (۲) سوال) پوچھی جانے والے کے بارے  
 میں بتانا (۲) خط کا جواب لکھنا (۳) سلام کے جواب میں سلام کرنا

(۴) پیغام کے جواب میں پیغام بھیجنا (۵) عدالت میں فریق مخالف

جو کو سو بھیتی سہو - (۱) مثل) جتنا برا کو ٹھیک ہے۔  
 جو کو گھسے جیتیں سنگرام، تو کا ہے تازمی خرمیں وام - (۱) مثل)  
 اگر عربی گھڑوں کی بجائے گدھوں سے لڑائی جیتی جا سکے تو عربی  
 گھڑوں پر کیوں زیادہ خرچ کیا جائے۔  
 جو گر جتے ہیں وہ برستے نہیں - (۱) مثل) شیخی بگھارنے والے نکلے ہوتے  
 ہیں۔

جو گر دیوے سے مے اے زہر کیوں دیا جائے - (۱) مثل) جو کام  
 نرمی سے نکل سکتا ہو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے (۲) جو شخص اچھے  
 سلوک سے رام ہو رہا ہو اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔  
 جو گر دکھائے کان چھدائے - (۱) مثل) انسان لالچ میں اگر نقصان  
 اٹھاتا ہے۔

جو مال سے زیادہ چاہے وہ پھا پھا کٹنی کھلائے - (۱) مثل)  
 اولاد کی غنمی محبت مال کے دل میں ہوتی ہے اور کسی کے دل  
 میں نہیں ہوتی۔ کوئی اور عورت مال سے زیادہ محبت جتناے تو وہ  
 دھوکے باز ہے۔

جو من میں بے - سو پینے دے - (۱) مثل) جو شخص یا چیز دل  
 سے پسند ہو وہ خواب میں بھی دکھائی دیتی ہے۔

جو میرے سو تیرے، کا ہے وائنت پھوڑے - (۱) مثل) میری  
 اور تیری دونوں کی حالت ایک جیسی ہے پھر تو مجھ سے کیوں پیش  
 ہیں آنا ہے۔

جو نہ بھائے آپ کو، وہ بڑی بہو کے باپ کو - (۱) مثل) جو  
 چیز یا کام اپنے لیے پسند نہ کرنا وہ اوروں کے لیے تجویز کرنا۔

جو وعدے سے پھرا سو خدا سے پھرا - (۱) مثل) وعدہ پورا نہ کرنا ایسا  
 ہی ہے جیسے خدا سے باغی ہونا۔

جو ہانڈی میں سو ڈوٹی میں - (۱) مثل) (۱) جو دل میں ہوتا ہے وہی  
 زبان پر آتا ہے (۲) اصلیت ظاہر ہو کر رہتی ہے۔

جو ہو سو ہو - (۱) مقولہ) (۱) جو کچھ پیش آئے برداشت کریں گے (۲)  
 جو کچھ ہونے لگے (ہو جائے گا) (۳) (ہم اپنی سی کر چکے اب) جو نتیجہ ملے۔

جو - (ع - ۱ - مذ) آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ۔

جو - (ج - ۱) (۱) مذ) (۱) لسن کی پونھی کا ہر ایک جڑ و یا پھانک۔  
 (۲) ایک قسم کا کام جو کار جو ب یا کشیدے پر کاڑھا جاتا ہے۔

جو - (ج - ۱) (۱) مذ) (۱) وہ کٹڑی جڑوں یا گاڑی کھینچنے والے سیلوں  
 کے کندھے پر رکھی جاتی ہے (۲) قمار بازی - شرط سے داؤں لگانا۔

جو اڑا بیو پار جو اس میں نہ ہونی مار - (۱) مثل) اگر جو کھیلنے میں ہار  
 کی نوبت نہ آیا کرے تو یہ سب سے زیادہ نفع کا کاروبار ہے۔

جو اچور - (۱) صفت) وہ جواری جو اپنا داؤں جیت کر کھسک جائے۔  
 جو اڑال دینا - (۱) محاورہ) (۱) جہت ہار دینا (۲) تھک جانا۔

جو اھیلنا - (۱) محاورہ) قمار بازی کرنا۔ داؤں لگانا۔ پاس لگانا۔  
 جو اہارنا - (۱) محاورہ) (۱) جو گردن سے اٹار چھیننا (۲) جو گردن پر



کے الزامات کا جواب دینا (۶) برطرف کرنا (۷) رشتہ واپس کرنا (۸)  
 نامنظور کرنا۔ انکار کرنا۔ قبول نہ کرنا (۹) بیکار ہو جانا۔ رہ جانا (۱۰) مقابلے  
 میں زبان کھولنا (۱۱) گستاخی یا بے ادبی سے کلام کرنا۔  
 جواب سوال۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) بحث باہت۔ مناظرہ (۱۲) تکرار۔ لڑو کہ محبت  
 بازی۔ کج بخشی۔

جواب نشانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۲) تسلی بخش جواب۔ پورا جواب۔  
 جواب شرط۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۳) صرف (کچھ) جزا۔  
 جواب صاف۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۴) صاف انکار۔ مطلق انکار۔  
 جواب طلب۔ دریافت یا بازپرس کرنے کے قابل (۱۵) رسید کے  
 قابل۔

جواب طلبی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۶) بازپرس۔ مواخذہ۔ بازپرس کے  
 سلسلے میں کی گئی کارروائی۔  
 جواب قطعی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۷) ایسا جواب جس کے بعد کچھ کہنے سننے کی  
 گنجائش نہ رہے۔

جواب بلنا۔ (۱۸) انکار ہونا۔ قبول نہ کیا جانا (۱۹) ملازمت سے علیحدہ  
 کیا جانا (۲۰) بدلہ لینا (۲۱) خط یا سلام یا سوال کا جواب پانا۔  
 جواب نامہ۔ وہ کچھ جس پر مسلمان کلمہ گو کہ کمر دوسے کے گفن میں  
 رکھتے ہیں۔

جواب نہارو۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۲۲) جواب نہ بلنا۔ جواب نہ آنا۔  
 جواب نہ رکھنا۔ جواب نہ ہونا۔ (۲۳) محاورہ (۲۴) لاثانی یا بے مثل یا  
 پیکتا ہونا۔ خوبوں کے لحاظ سے ہمسہ نہ رکھنا۔ ایسا کام اچھا کرنا کہ  
 کوئی برابر ہی نہ کر سکے۔

جواب ہونا۔ (۲۵) مقابل ہونا۔ ہمسہ ہونا۔ برابر ہونا۔ جیسے کوئیسا ہونا  
 (۲۶) برطرف کیا جانا (۲۷) انکار ہونا (۲۸) سزا یا بدلہ بلنا۔  
 جوابا۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوابی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوابی حملہ۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) دشمن پر پلٹ کر حملہ کرنا۔  
 جوابی کارروائی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۲) وہ کارروائی جو کسی کارروائی کے  
 جواب میں کی جائے۔

جواؤ۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانا۔ سمندر کا تار چڑھاؤ (جو چاند کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے)۔  
 جوار برج۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جوار بھانی۔ (دع۔ ۱۔ ۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جواں مرگ - جوانا مرگ - (ف. صفت) (۱) جوانی میں مرنے والا (۲) (بددعا)  
 جواں موت مرنے والا - (۱) محاورہ) میں جوانی میں مرجانا - بے وقت موت آنا۔  
 جوانا - (ج. و. نا) [ا. مذ] اسے جوان بچپن و آفرین کا اظہار (۲) دل بڑھانے یا ہمت بندھانے کے لیے بھی کہتے ہیں - مرکبات میں مستعمل ہے۔  
 جوانا - (ج. و. نا) [ا. مذ] اسے جوان بچپن و آفرین کا اظہار (۲) دل بڑھانے یا ہمت بندھانے کے لیے بھی کہتے ہیں - مرکبات میں مستعمل ہے۔  
 جوانانِ حین - (ج. و. نا. بن. ج. من) [ف. ا. مذ] باغ کے خوشبو دار درخت۔  
 جوانب - (ج. و. نبت) [ع. ا. مذ] اکر جاناب کی جمع - طرفین۔  
 جوانوں کو آئی سستی، بڑھوں کو آئی سستی - (امثل) - انا زمانہ ہے۔  
 جوانی - (ج. و. نبت) [ف. ا. مذ] جوان ہونے کا زمانہ شباب (۲) بلوغت۔  
 جوانی اکھڑنا - (۱) محاورہ) (۱) جوان ہونے کی علامتیں ظاہر ہونا جوانی شروع ہونا۔ آغاز شباب (۲) قد نکالنا۔ بدن گدانا۔  
 جوانی اترنا۔ جوانی اترنا - (۱) محاورہ) جوانی ختم ہو جانا۔  
 جوانی اٹھنا - (۱) محاورہ) جوان ہونا۔ شباب کا آغاز ہونا۔  
 جوانی پھٹ پڑنا۔ جوانی پھٹی پڑنا - (۱) محاورہ) جوانی کا زوروں پر ہونا۔  
 جوانی چڑھنا - (۱) محاورہ) بلوغت کی عمر کو پہنچنا۔ شباب کا زوروں پر ہونا۔  
 جوانی خاک کرنا - (۱) محاورہ) جوانی بٹا دینا۔ جوانی قربان کر دینا۔  
 جوانی دوانی۔ جوانی دیوانی - (مثلاً) جوانی کے زمانے میں انسان کو تشیب و فزاز نہیں سوجھتا۔  
 جوانی ڈھل جانا۔ جوانی ڈھلنا - (۱) محاورہ) دیکھیے جوانی اترنا۔  
 جوانی کا پھل - (۱) محاورہ) عیش و آرام جوانی کے موسم۔  
 جوانی کا پھل پلے، جوانی کا شکر دیکھے - (دعا) جوانی میں عیش کرے یا آرام سے زندگی گزارے۔  
 جوانی کا عالم - (ف. ا. مذ) (۱) جوانی کی حالت (۲) جوانی کا زمانہ۔  
 شباب کا زمانہ۔  
 جوانی کی اُمنگ، جوانی کی ترنگ - (ف. ا. مذ) (۱) جوانی کی حالت (۲) جوانی کا زمانہ۔  
 جوانی کی باتیں - (۱) (مثلاً) وہ کارنامے جو کسی نے جوانی کے زمانے میں دکھائے ہوں (۲) جوانی کے واقعات یا قصے۔  
 جوانی کی بے بند - (۱) (مثلاً) گہری بے بند - بے خبر سونا۔  
 جوانی میں کبھی بڑھاپے میں کبھی - (امثل) جوانی کے دنوں میں خدا کی عبادت کرتے رہے بڑھاپے میں فاحشہ سے بے لطف

پیدا کر لیا۔ بہرات اٹھی۔  
 جوانی میں گدھی پر بھی جو بن جوتا ہے۔ (امثل) بد صورت مرد عورت بھی جوانی میں بچھلا معلوم ہوتے ہیں۔ شباب میں بد شکل کی بھی شکل اچھی معلوم ہوتی ہے۔  
 جوانی میں ماجھٹا ڈھیلنا - (۱) محاورہ) جوانی میں سستی اور کبابی۔  
 جوانی ہر - (ج. و. ہر) [ع. ا. مذ] جوہر کی جمع - اردو میں واحد بھی بولا جاتا ہے۔ قیمتی پتھر - الماس - یاقوت - لعل - ہیرا وغیرہ جمع جوانی ہر۔  
 جوانی ہر - (ج. و. ہر) [ع. ا. مذ] کسی زوردار یا کسی چیز میں جوانی ہر بڑی خوبصورتی سے لگانا (۲) بہت خوبصورتی سے لکھنا۔  
 جوانی خانہ - (ع. ف. ا. مذ) وہ جگہ جہاں جوانی ہر رکھے جاتے ہیں۔  
 جوانی میں تولنا - (۱) محاورہ) قدر کرنا۔ وقعت کرنا۔  
 جوانی نگار - (ف. صفت) مرتع - جزائر (۲) خوشخط خوبصورت لکھنے والا۔  
 جوانی ہر - (ج. و. ہر) [ع. ا. مذ] جوہر کی جمع الجمع صرف اردو میں مستعمل ہے۔  
 جوانی (Jubilee) [ج. و. بی] [ا. مذ] (۱) سالگرہ جشن سالگرہ (۲) جشن مسرت (۳) بچپن یا بچپاس سال کے بعد منائی جانے والی تقریب۔  
 جوانی - (ج. و. بن) [ع. ا. مذ] (۱) خوبصورتی - حسن (۲) چڑھتی جوانی۔  
 عنوان شباب (۳) بلوغت (۴) طراوت۔ شانابی۔ سرسبز۔  
 (۵) رونق - ہمار (۶) کیفیت - حالت - (۷) عورت کا سینہ یا چھاتی۔  
 جوانی - (ج. و. نا) [ا. مذ] (۱) جوانی کا آغاز ہونا (۲) رونق یا بہار ہونا (۳) لڑکی کی چھاتیوں کا اکھڑنا یا گدانا۔  
 جوانی برستا - (۱) محاورہ) (۱) رونق چھانا (۲) خوبصورتی ظاہر ہونا۔  
 جوانی پر آنا - جوہر پر ہونا - (۱) محاورہ) (۱) بارون یا پڑون ہونا (۲) حسن کا زیادہ سے زیادہ دلکشی اختیار کرنا (۳) کھلنا۔ ہمار پر آنا۔ شگفتہ ہونا۔ سرسبز ہونا۔ (۴) جوانی کا آغاز ہونا۔  
 جوانی پھٹ پڑنا - جوہر پھٹ پڑنا - (۱) محاورہ) جوانی یا خوبصورتی کا بہت دلکش بن جانا۔ حسن میں نہایت اضافہ ہونا۔  
 جوانی تننا جب روپ تننا کا کہک تننا سب کوئی - جوہر تن گنوا کے بات نہ تو پچھے کوئی - (امثل) جن دنوں جوانی (جوہر) اور حسن (روپ) تننا سب چاہتے تھے، ہر کوئی گرویدہ تننا - پڑوانی اور حسن نہ را تو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ لوگوں کی نظر کی رمز بیان کی ہے کہ رونق پر منڈلاتے ہیں - بے رونقی سے دور دور رہتے ہیں۔  
 جوانی ٹیکنا - (۱) محاورہ) جوانی یا حسن کا نمایاں ہونا۔ جوانی ظاہر ہونا۔  
 جوانی چھکنا - (۱) محاورہ) (۱) جوانی دکھانا (۲) جوانی کا اٹھا رکھنا۔  
 جوانی دکھانا - (۱) محاورہ) (۱) حسن کی بہار دکھانا۔ ایشہ اینٹھ کر چلانا۔ (۲)

**جوتنا** - (جوتہ - تما) (ہ۔ ا۔ مذ) [۱] پاؤں میں سینے کی چبھ جوتھ چبھنے یا کپڑے اور ربر وغیرہ کی سبب جوتنی ہے۔ پاپوش - کش (۲) گھانا - نقصان لونا گھانا (۳) طنز (۴) احسان - سلوک۔  
**جوتنا اٹھانا** - جوتنا اٹھالینا۔ (۱) محاورہ (۲) مارنے کے ارادے سے جوتنا اٹھنا میں سنبھالنا۔ گستاخی کرنا (۳) جوتنا اچھڑانا۔  
**جوتنا اچھلنا یا چلنا** - (۱) محاورہ (جوتنوں سے لڑنا (۲) دنگنا و لڑائی جھگڑا۔  
**جوتنا برسنا** - (۱) محاورہ (۲) نثر لڑنا جوتنے مارے جانا (۳) جوتنوں کی مار پڑنا (۴) جوتنے مارنا۔  
**جوتنا برسنا** - (۱) محاورہ (جوتنے پڑنا۔ مارا پوٹیا جانا۔  
**جوتنا پڑنا** - (۱) محاورہ (۲) جوتنوں کی مار پڑنا (۳) گھانا یا نقصان ہونا (۴) منہ توڑ جواب پانا۔ (۵) منہ پر دھلا پڑنا۔  
**جوتنا پینے سانی** کا بڑا بھروسہ بیابھی کا۔ جوتنا پینے نرمی کا کیا بھروسہ کر سکی گا۔ (۱) جیل (۲) سانی کا جوتنا اور بیابھتا عورت قابل اعتبار ہوتی ہے۔ بازار میں جوتنے اور آتش عورت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔  
**جوتنا پیزار** - جوتنوں سے لڑائی۔ لڑائی جھگڑا۔ دنگنا و مار پیٹ۔  
**جوتنا جاتی** - (۱) محاورہ (۲) ایک دوسرے کو جوتنوں سے مارنا (۳) لڑائی جھگڑا۔  
**جوتنی چلانا** - (۱) محاورہ (۲) کسی جوتنے کو بہت عرصے تک ثابت رکھنا (۳) کسی خاص قسم کے جوتنے کی مانگ پیدا کر دینا۔  
**جوتنا چلنا** - (۱) محاورہ (۲) جوت پیزار ہونا (۳) کسی جوتنے کا کافی عرصے تک نہ ٹوٹنا۔  
**جوتنا چھپانا** - (۱) محاورہ (۲) شادی کی تقریب میں دلہن کی رضعتی کے موشفے پر سایوں کا نوشاہ کے جوتنے چھپانے کی رسم جس میں ٹیک (یعنی نقدی) لے کر جوتنا دیا جاتا ہے۔  
**جوتنا دینا** - (۱) محاورہ (۲) چھپنے کے لیے جوتنا پیش کرنا (۳) جوتنا مارنا۔ (۴) بے عزتی کرنا۔  
**جوتنا سر پر ٹوٹنا** - (۱) محاورہ (۲) بہت زیادہ مارنا۔  
**جوتنا لکنا** - (۱) محاورہ (۲) نقصان ہونا۔ گھانا یا خسارہ ہونا۔  
**جوتنا مارنا** - (۱) محاورہ (۲) جوتنے سے مارنا (۳) لعنت ملامت کرنا۔ (۴) احسان کر کے شرمندہ کرنا۔  
**جوتناؤ** - (جوتنا - ا) [۱] صفت [جوتنے کے قابل۔ وہ زمین جوتقابل کاشت ہو۔  
**جوتنہ** - (۱) مذ (۲) ساز کا وہ قسم جو گاڑی سے لگایا جاتا ہے۔  
**جوتنہ زنی** - (ج - د - ت - ر - ی) [۱] صفت [جوتنوں کا پھول۔  
**جوتنیش** - (جو - تیش) [۱] صفت [مستاروں کا علم۔ علم نجوم۔  
**جوتنیشی** - (جو - تیش) [۱] صفت [نجومی۔  
**جوتنہ جوتنا** - (جوتنہ - تم - جوتنا) [۱] صفت [مستاروں کا علم۔ علم نجوم۔  
**جوتنوں سے مارنا پٹینا**۔

سینہ تان کر یا سینہ نکال کر چلنا  
**جوتن ڈھلنا** - (۱) جوانی ڈھلنا۔ حسن کو زوال ہونا (۲) عورت کی چھپائی لک جانا (۳) رونق نہ رہنا۔  
**جوتن کا مانا** - جوتن کی ماتی (۱) (۱) صفت (جوتنی کے لئے میں جوانی کی مستی۔  
**جوتن لکنا** - جوتن لکنا۔ (۱) محاورہ (۲) بہار لکنا۔ رونق ختم ہونا (۳) حسن پر دست درازی کرنا (۴) مرے اڑانا۔ جوتن عورت کے ساتھ ہم بستری ہونا۔  
**جوتن نکالنا** - جوتن نکالنا۔ (۱) محاورہ (۲) رونق پر آنا (۳) بہار پر آنا (۴) بوخت کو پہنچنا (۵) جوانی یا حسن کا دکش شکل اختیار کرنا۔ (۶) خوبصورت بننا۔  
**جوتن** - [۱] مذ [جوتنا کا صفت۔ جوتنا۔  
**جوت** - (واو مجموعی) [۱] صفت [۱] روشنی۔ اجالا۔ ٹوڈ (۲) آنکھ کی روشنی۔ نظر۔ بصارت (۳) رونق (۴) چمک۔ دمک (۵) شعلہ۔ ٹو (۶) چراغ۔ دیا۔ لیمپ۔ بتی (۷) دھن۔ ند۔ مال۔ (۸) فروغ۔ جان۔  
**جوت بتی کرنا** - جوت چڑھانا۔ (۱) محاورہ (۲) مندر میں دیا جلانا۔ دیوے کے آگے چراغ یا دیار رکھنا۔  
**جوت سب پڑنا** - (۱) محاورہ (۲) عکس پڑنا۔ روشنی پڑنا۔  
**جوت جھکانا** - (۱) چلنے یا لیمپ روشن کرنا (۲) کسی نیک کام یا اصلاحی تحریک کا آغاز کرنا۔ (۳) موکلوں کا حاضر ہونا۔  
**جوت** - (واو مجموعی) [۱] مذ [۱] وہ قسم جس سے گھوڑے کو گاڑی کے ساتھ جوتا جاتا ہے (۲) ہل کے بیوں کے گلے کا قسم جس سے جوتا یا ہتھکڑے (۳) آبپاشی کے ٹوکرے کی دھتی کے پاس والا قسم (۴) ترازو کے پلڑوں کا قسم (۵) جہاز کے رستے۔ (۶) ہل یا گاڑی میں بیوں کا جوتنا (۷) زراعت۔ کھیتی باڑی۔ (۸) کاشت شدہ زمین (۹) وہ ٹکڑے خود کاشت کیا جائے۔ (۱۰) لگان جو کاشتکار دینا ہو (۱۱) دوکان کا سامان (۱۲) جوتنا کا اکر۔  
**جوت جمع** - (۱) صفت (۲) لگان۔ وہ روپیہ جو کاشت کار ادا کرے۔  
**جوت دار** - (۱) صفت (۲) ہل چلانے والا کاشت کار۔ مزارع۔  
**جوت دینا** - (۱) بیوں کو گاڑی یا ہل میں لگانا (۲) گھوڑے کو گاڑی میں جوتنا (۳) کام میں لگانا (۴) کاشت کرنا (۵) ڈھب پر لانا۔  
**جوتنے ہل توڑ پاونے پھل** - (۱) صفت (۲) محنت اور کوشش سے کامیابی ہوتی ہے۔  
**جوتنا** - (جوتنا - تما) [۱] صفت (۲) مزارع۔ کاشت کار (۳) ہل جوتنے والا (۴) اسانی۔ کسان (۵) ہم بستری ہونے والا (۶) حدفاصل۔ تقسیم دیوار۔ (۷) گروں کے پاس کے پتھے۔

جوشنا - (جوشن - نا) (واو جمول) [جھ - مص] [۱] بیلوں کو ہل یا گاڑی میں لگانا (۲) گھوڑے کو گاڑی میں جوڑنا۔ (۳) مصروف کرنا۔ کام میں لگانا۔ (۴) ہل چلانا (۵) عوامی زبان اپنے ڈھب پر لے آنا۔

جوتنی - (جو - تی - واو جمول) [جھ - ا - مش] [۱] ترازو کی رسی یا وہ رسی جس میں ترازو کے پتے اور ڈنڈی بندھی ہوتی ہے (۲) وہ رسی جو ہل کی گردن میں جوئے کے روکنے کے واسطے بندھی جاتی ہے (۳) روشن چکیلا - (تی)

جوئی - (جو - تی) [جھ - ا - مش] [۱] جوتا کا موٹف - پیزار - جوئی پر جوئی چڑھنا - (۱) محاورہ) ایک جوئی پر دوسری جوئی رکھی جانا۔ جس سے سفر کا ٹھکان لیتے ہیں۔ جوئی پر رکھ کر روٹی دینا - (۱) محاورہ) حقارت سے روٹی دینا۔ ذیل کر کے روٹی کھلانا۔ جوئی پر کاجل پاڑنا۔ جاہل خاندانوں میں شادی کے موقع پر عزتیں یہ ٹوکا کرتی ہیں کہ دولہن کی جوئی پر کاجل پاڑ کر دولہا کی آنکھوں میں لگاتی ہیں تاکہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا رہے۔ جوئی پر مارنا - (۱) محاورہ) ذلیل یا حقیر سمجھنا۔ جوئی خورا - (۱) صفت) وہ شخص جو مار پیٹ سے راضی رہے۔ جوئی سے - (۱) جوئی کی نوک سے۔ بلتے کچھ پرواہ نہیں۔ جوئی کاری - (۱) مش) مار پیٹ جوئیوں سے مارنا۔ جوئی کو عرض پڑی ہے - (۱) محاورہ) یہ سمجھنے کے لیے کہ انہیں یہ کام کرنے کی ضرورت یا پرواہ ہی نہیں۔ جوئی کی نوک پر مارنا - (۱) محاورہ) [۱] ٹھکرانا (۲) ذلیل سمجھنا۔ حقیر جاننا۔ (۳) خاطر میں نہ لانا۔ پرواہ نہ کرنا (۴) نفرت کا اظہار۔ جوئی کے برابر نہ سمجھنا - (۱) محاورہ) ذرا بھی خاطر میں نہ لانا۔ جوئی کے تیلے سے ناک کاٹ لینا - (۱) محاورہ) بہت ذلیل کرنا۔ جوئے اٹھانا - (۱) محاورہ) اطاعت کرنا۔ تابعداری کرنا۔ جوئے سے خبر لینا - (۱) محاورہ) جوتوں سے مارنا۔ کفش کاری کرنا۔ جوتے کاری - (۱) مش) جوتوں سے مارنا۔ جوتے کا یار - (۱) صفت) جس سے ٹانٹ ڈپٹ کر کام لیا جائے۔ جوئیاں اٹھانا - (۱) کسی بزرگ یا کامل کی خدمت کرنا (۲) ذلیس خدمت کرنا۔ جوئیاں بٹل میں لوبانام مارنا - (۱) جھاگ جانا۔ کھسک جانا۔ (۲) دیک کر نکل جانا۔ جوئیاں توڑنا - (۱) محاورہ) دودھوپ یا کوشش کرنا۔ جوئیاں چینچاتے پھرنا - (۱) محاورہ) آوارہ پھرنا (۲) مارے مارے پھرنا (۳) ذیل ورسوا ہونے پھرنا۔ جوئیاں سر پر رکھنا - (۱) محاورہ) [۱] عقیدت کا اظہار کرنا (۲) احترام کرنا (۳) خوشامد کرنا۔ جوئیاں سیدھی کرنا - (۱) محاورہ) [۱] بزرگوں یا بڑوں کی خدمت

کرنا (۲) تعظیم بجالانا۔ جوئیاں سی گانٹھنا - (۱) محاورہ) بہت بڑی سلاخی کرنا۔ موٹا موٹا سی دینا۔ جوئیاں گیا سو نہیں خان سامال بن گئے۔ (مش) ادنیٰ امی لغات سے مفرد ہو گئے۔ جوئیاں کھانا - (۱) محاورہ) [۱] جوئیوں سے پینا (۲) طے سنا۔ بڑا بھلا سنا۔ ذلیل و خوار ہونا۔ جوئیاں گانٹھنا - (۱) محاورہ) [۱] جوئیوں کی مرمت کرنا۔ (۲) ذلت کا کام کرنا۔ جوئیاں مارنا - (۱) محاورہ) [۱] طے دینا۔ ذلیل کرنا (۲) جوئیوں کی مار مارنا۔ جوئیوں سمیت آنکھوں میں (گھسنا) بلیٹھنا - (۱) محاورہ) [۱] ناپاؤں انکار بات کی دھٹائی سے انکار کئے جانا (۲) خواہ مخواہ جھلساے جانا (۳) آنکھوں میں دھول چھونکنا۔ جوئیوں سے لگا ہونا - (۱) محاورہ) [۱] مطیع اور فرمانبردار ہونا (۲) ہر وقت ساتھ ہونا۔ جوئیوں کا صدقہ - (۱) محاورہ) کسی کی توجہ سے کام ہونے پر اس وقت کہتے ہیں جب کسی کا احسان ماننے کا اظہار کیا جائے۔ اچھے بارے میں کہیں تو اپنی بڑائی کرنی مقصود ہوتی ہے۔ جوئیوں میں بلیٹھنا - (۱) سب سے خراب جگہ ملنا (۲) محفل میں اوستے تیرن سمجھا جانا۔ جوئیوں میں ڈال بٹھنا - (۱) محاورہ) [۱] پھوٹ پڑنا (۲) لڑائی جھگڑا ہونا۔ جوئیوں میں ڈال دینا - (۱) محاورہ) ذلیل کرنا۔ حقیر کرنا۔ بے عزت کرنا۔ قدر گھٹانا۔ جوٹ - (واو جمول) [جھ - ا - مذ] [۱] جوڑا۔ جھنت (۲) ہلار کا۔ ہم سر۔ (۳) ساتھی۔ رفیق (۴) ہم شکل (۵) بیلوں کی جوڑی جوہل میں جوئی جاتی ہے۔ جوٹ باندھنا (۱) ہم عمر یا ہم قدم جوڑا لگانا (۲) جوڑا بنانا۔ بلانا۔ جوٹھا - (جو - ٹھا) [جھ - صفت] [۱] پس خوردہ۔ مستعل۔ بچا ہوا کھانا۔ جوٹھیا - (جو - ٹھ - یا) [جھ - صفت] [۱] مدگار (۲) رہٹ ہلکنے والا۔ جوٹھو - (جو - جو - ژ) [جھ - ا - مذ] [۱] ایک فرضی نام جس سے بچوں کو ڈراتے ہیں (بچپا؟ ہاؤ؟) جوٹھین - (تی - مش) [۱] لڑائی۔ جنگ۔ جوٹھینا - (جو - جھ - نا) (واو جمول) [جھ - مص] [۱] لڑنا۔ جنگ کرنا (۲) قتل کرنا۔ جوو - (ج - ا - مذ) بخشش۔ سخاوت۔ فرخ دلی۔ کرم۔ جووڑت - (ج - ا - مش) [۱] عقل کی تیزی۔ ذکاوت۔ ذہانت (۲) لیاننت۔ گمن۔

جوڑ بٹھانا - (۱- محاورہ) (۱) چول بٹھانا - جوڑ ملانا (۲) ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی جگہ پر بٹھانا (۳) حساب کی میزان درست کرنا۔  
جوڑ بند - (۱- ف- مذ) بندھن - بندش - عضو۔  
جوڑ ٹوڑ - (۱- مذ) (۱) ساز باز - داؤں - بیچ - سازش (۲) بہتان۔

سے بنیاد بات (۳) ترکیب - تدبیر۔  
جوڑ توڑ کرنا - (۱- محاورہ) (۱) ساز باز کرنا (۲) تدبیر کرنا جووانی کا روٹی کرنا (۳) فریب کرنا (۴) کسی خاص مقصد سے کوئی سازش کرنا۔

جوڑ جوڑ - ہر ایک جوڑ - ہر ایک عضو - بند بند - تمام بدن۔  
جوڑ جوڑ شرارت بھری ہونا - (۱- محاورہ) بہت زیادہ تشریح ہونا۔  
جوڑ جوڑ کے مرجانا - (۱- محاورہ) کجی سے روپیہ جمع کرنا گمراہ سے

فائدے اٹھانے بیچر جانا۔  
جوڑ جوڑ مرجائیں گے مال جووانی کھائیں گے جو جوانی نہ ہونگے  
تو خالصے لگ جائیں گے۔ کجیوں کا مال ضائع ہی جاتا ہے۔  
جوڑ جوڑ میں شرارت بھری ہے - (۱- مثل) بہت تشریح ہے۔  
جوڑ چلنا - (۱) داؤں بیچ کرنا - چالیں چلنا (۲) تدبیر کارگر ہونا۔  
جوڑ دار - (۱- ف- مذ) جڑا ہوا یا پیوند لگا ہوا - جس میں جوڑ ہو۔  
جوڑ کا - (۱- صفت) برابر کا - منگلا کا۔

جوڑ کا ٹوڑ - (۱- صفت) (۱) سازش کو ٹوڑنے کی تدبیر۔  
جوڑ کو جوڑ ملنا - جیسے کو تپنا ملنا۔  
جوڑ کا ٹھننا - (۱- محاورہ) چالاک سے کام لینا۔  
جوڑ گرتی - (۱- صفت) ہم سر - ہم مرتبہ - برابر (۲) (۱) جوڑ گرتیان - (۱- صفت) بہت سے ساتھی - (۲) جوڑ لگانا - جوڑ لگانا - (۱- محاورہ) (۱) پیوند لگانا - جوڑنا - ٹانکا جانا (۲) میزان لگانا - ٹول (۳) جوڑ لگانا - جوڑ بانہنا۔  
جوڑ ملنا - (۱- محاورہ) برابر کا ہونا (۲) پیوند مل جانا (۳) ٹانگ ملنا۔  
جوڑنا - (جو - ٹرا) واؤ جمول (۱- مذ) (۱) ایک سی دو چیزیں - کیفیت (۲) پرندوں میں تراور مادہ (۳) (انسافوں میں) میاں بیوی (۴) ساتھی - رفیق - دوست (۵) مقابل کا آدمی (۶) پوری پوشاک (۷) دونوں جہتے (۸) وہ پوشاک جو دولہا یا دولہن کو زیبی جاتی ہے (۹) ہم جیسی کی اصطلاح میں) کھوٹ لی ہوئی وصات (۱۰) [صفت] دوہرا - ثانی۔  
جوڑا بڑھانا - (۱- محاورہ) پوشاک آوار کر رکھنا۔  
جوڑا (جوڑی) بنا رہے - میاں بیوی یا دو دوستوں کو یک جا دیکھ کر دُعا دی جاتی ہے - یعنی دونوں سلامت رہیں۔  
جوڑا بنانا (۱) پوشاک تیار کرنا یا جو تیاں یا جوڑیاں بنانا (۲) کھوٹی چاندی یا کھوٹا سونا بنانا۔  
جوڑا لگانا - نر مادہ کو ہلانا۔  
جوڑا - (جو - ٹرا) [۱- مذ] (۱) سر کے بالوں کی وہ گانٹھ جو عورتیں اور سادھو وغیرہ گدی پر دسے لیتے ہیں (۲) پرند کی لکٹی (۳) بی جی ہوتی

جوڑو سجا - (ع - ا - مٹ) بخشش - سخاوت۔

جوڑو سجا - (جو - دھا - واؤ جمول) [۱- مذ] (۱) بہادر سپاہی (۲) شجاع آدمی۔

جوڑویشل - (Judicial) - (جو - ڈی - شلن) [انگ - صفت] ملتی متعلق بہ عدالت - عدالت کا۔

جوڑویشل اختیارات - (انگ - ا - صفت) دیوانی و فوج داری اختیارات۔  
جوڑویشل کارروائی - (انگ - ا - مٹ) دیوانی و فوج داری مقدمات کی کارروائی۔

جوڑو (ع - ا - ع) [۱- مذ] ظلم - ستم - سختی - زبردستی - بے رحمی - جفا۔  
جوڑو استاد پیر زہر پیر (مٹل - ف) استاد کی سختی باپ کے پیار سے اچھی ہے۔ کیونکہ اس سے بچ سیکھنا ہے

جوڑو - (جو - ڈو - پھلا واؤ جمول) [۱- مٹ] (۱) بیوی - گھروالی عورت - رفیقہ - حیات - زوجہ - استری۔  
جوڑو ٹھوٹے پھینٹ اور مال ٹھوٹے پھینٹ - (۱) بیوی کو شوہر کی گانٹھ کی نگرہ ہوتی ہے جب کہ ماں کو یہ نگرہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو کہ تو نہیں ہے - مطلب - بیوی کی محبت غرض کی ہوتی ہے اور ماں کی بے غرض۔

جوڑو چلتی میاں مزدور - (۱) میاں غریب ہے مگر بیوی بنی ٹھنکی رہتی ہے۔  
جوڑو خصم کی لڑائی - دو دھ کی سی ملانی - میاں بیوی کی ٹنکر بچی بھی مزادیتی ہے۔

جوڑو کا بھائی (۱) سالا (۲) ایک قسم کی گالی۔  
جوڑو کا غلام - جوڑو کا مزدور - جوڑو کا مرید - (۱- صفت) وہ شخص جو بیوی کا ہر کھنا مانے۔  
جوڑو کا مرنا گھر کا خرابہ - (۱- محاورہ) بیوی کے مرجانے سے گھر اُجڑ جاتا ہے۔

جوڑو نہ جانتا اللہ میاں سے ناتا - (۱) مثل) ایسا شخص جس نے شادی نہ کی ہو - جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔  
جوڑو - [۱- مذ] (۱) مذکر و مؤنث (۲) دو - کیفیت (۳) برابر کا - ہم پلہ بنانا۔ (۴) ساتھی (۵) ہم شکل (۶) گرہ (۷) سلسلہ - ملنا - ستاروں کا میل - قرآن (۸) میزان - کل تعداد (۹) علم حساب کا) جمع کا قاعدہ (۱۰) فریب - چیل - جمل سازی (۱۱) تہمت - بہتان (۱۲) ثابت (منفی کی ضد) (۱۳) ہم رنگ اور ہم سلسلہ برتن (۱۴) مرشد خزانوں کی جماعت (۱۵) ایک قسم کی جھتی (۱۶) طاوت - آمیزش (۱۷) من گھڑت واقعہ (۱۸) ایک قسم کے چھتے (۱۹) وہ جگہ جہاں دو ٹکڑے ملیں۔  
پوند - سلاخی - ٹانکا - جمال (۲۰) پور - پوری - عضو (۲۱) اعضا کے ملنے کی جگہ (۲۲) ایک پہلو (۲۳) پہلوؤں کا مقابل۔  
جوڑو بانہنا - (۱- محاورہ) (۱) کشتی کے لیے دو برابر کے پہلوؤں منفرہ کرنا (۲) کسی کام پر دو آدمی مقرر کرنا۔

جوش کھانا، مارنا۔ (۱) محاورہ) اُٹھنا۔ کھولنا (۲) زیادتی ہونا۔  
جوش میں آنا۔ (۱) اُٹھنا۔ کھد ہدی آنا (۲) چٹھا یا طینی پر آنا (۳) غصے  
میں آنا۔ بھڑکنا (۴) سوچ جانا (۵) لہریں مارنا (۶) ولولہ یا شوق پیدا  
ہونا۔

جوش میں لانا۔ (۱) محاورہ) (۱) غصہ دلانا، بھڑکانا، اُٹھانا۔ برا لگنے کرنا۔  
جوش و خروش۔ (دفعہ ۱-۱) (۲) حیران (۳) بہت زیادہ غصہ (۴) غل  
شور۔

جوشنا نڈھ۔ (جو۔ شال۔ ذہ) [دفعہ ۱-۱] ایک مرکب جوش دی ہوئی  
دوائی جو نزلہ دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ کارٹھا۔

جوشش (جو۔ شش) [دفعہ ۱-۱] مسٹھ [دیکھیے جوش۔

جوشن (جو۔ شن) [دفعہ ۱-۱] (۱) زرد۔ (۲) بجز (۳) بازو کا ایک زیور۔  
جوش۔ [دفعہ ۱-۱] مسٹھ [بھوک۔ گرسلی۔

جوش الارض۔ (دفعہ ۱-۱) مسٹھ) زمین کی ہوس۔ زیادہ سے زیادہ ملک  
اپنے قبضے میں رکھنے کی ہوس۔

جوش البقر۔ (دگائے جیسی بھوک) ایک بیماری جس میں بے ضرورت بہت  
زیادہ بھوک لگتی ہے اور کھانے کے باوجود بھوک محسوس ہوتی ہے۔

جوش الکلب (کنے جیسی بھوک) زیادہ کھانے کی بیماری۔ پیٹو۔

جوش۔ [دفعہ ۱-۱] (۱) مسٹھ [شکو (۲) اندرونی غلاظت۔ کھولنا۔ (۳)  
برہمی کا زخم جو پیٹ کے اندر گئے دم، غار، گڑھا۔

جوش۔ [دفعہ ۱-۱] مسٹھ [۱] (۱) آدھیوں کا گردہ۔ انبوہ۔ بھیر (۲) (پرنڈول)  
پڑا۔ جھنڈ۔ جھنڈ۔ غول۔

جوش بوق۔ جوش درجوق۔ گردہ کے گردہ۔ پرے کے پرے۔  
جوکر۔ (Joker) جوکر [انگ۔ ۱-۱] مسٹھ [۱] مسٹھ۔ ہنسٹو۔ دل لگی۔

باز (۲) ناش کا جوکر، اپنا جوڑا نہ جڑنا ہے۔  
جوکھ (دفعہ ۱-۱) مسٹھ [۱] پرکھ۔ جاج۔ انداز (دوسرا یا پانڈی) کسوٹی پر لگا کر  
دیکھنا (۲) تول۔ وزن۔

جوکھ۔ (جو۔ کھ) [دفعہ ۱-۱] مسٹھ [۱] (۱) مشکل کام (۲) خطرہ۔ اندیشہ۔ ڈر (۳)  
انہستی چیزیں (۴) نقصان۔ گھانا (۵) مصیبت۔

جوکھ میں پڑنا۔ (۱) محاورہ) خطرے میں پڑنا۔ مصیبت میں پڑنا۔  
جوکھنا۔ (جوکھ، نا) [دفعہ ۱-۱] (۱) وزن کرنا (۲) جانچنا۔ آزما کر دیکھنا۔ کسنا۔

جوکھوں۔ (جو۔ کھوں) [دفعہ ۱-۱] مسٹھ [۱] نقصان [شکل کام۔ مصیبت۔  
جوکھوں اٹھانا۔ (دفعہ ۱-۱) محاورہ) نقصان برداشت کرنا۔ خسار اٹھانا۔

جوکھوں کا کام۔ (دفعہ ۱-۱) (۱) نقصان یا خطرے کا کام (۲) دیر کی کام۔  
جوکھوں میں پڑنا۔ (۱) محاورہ) (۱) خطرے میں پڑنا (۲) اپنا نقصان کرنا۔

جوکھوں میں ڈالنا۔ (۱) محاورہ) (۱) آفت میں پھنسانا۔ نقصان کے کام  
میں الجھنا۔

جوگ۔ (دفعہ ۱-۱) [دفعہ ۱] موقع محل صحیح وقت۔ نیک ساعت (۲) جاند کی  
منزلیں (جو ۲۴ ہیں) (۳) ستاروں کا طاب۔ قرآن (۴) تعلق جو۔

جوگی۔ (۱) (۲) جوا ڈالنا۔ جوڑنا (۳) ساتھ لگنا۔ اتحاد (۴) طریقہ۔

رستی جو رتوں کے نیچے گھیرے کی شکل میں رکھی جاتی ہے۔  
اُبڑوی۔

جوڑا باندھنا۔ (۱) محاورہ) بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے پیچھے گرہ دے  
لینا۔

جوڑا کھولنا۔ (۱) محاورہ) بالوں کی گرہ جو گدھی پر باندھی گئی ہو  
کھول دینا۔

جوڑنا۔ (جوڑ۔ نا) [دفعہ ۱] ملانا۔ گاتھنا۔ پیوند لگانا۔ سیننا۔ چکانا۔

(۲) جمع کرنا (۳) میزان دینا (۴) شمار کرنا۔ حساب لگانا۔ (۵) پس  
انداز کرنا (۶) تصنیف کرنا۔ شعر کرنا (۷) جوڑنا۔ ساز ڈالنا (۸) ڈاک

یا دیا جھلانا۔ (۹) بار بار گاتھنا (۱۰) گرہ لگانا (۱۱) جتنھا بنانا۔ گردہ بندھا  
کرنا (۱۲) شامل کرنا (۱۳) لگانا۔ دھرننا (۱۴) ٹوٹی ہوئی ڈھری باندھنا۔

(۱۵) دلاسا دینا۔  
جوڑواں۔ (جوڑ۔ واں) [دفعہ ۱-۱] [دفعہ ۱] دو بچے جو اکٹھے پیدا ہوں۔ نوام

(۲) ہم رتہ۔ ہمسر (دفعہ ۱-۱) (۳) برابر کے دو شخص یا چیزیں (۴)  
جوڑی۔ (جو۔ ٹی) [دفعہ ۱-۱] مسٹھ [۱] برابر کے دو شخص یا چیزیں (۲)

دو گھوڑوں کی گاڑی۔ وہ جو میرے جوڑے کے ساتھ بجائے جلتے ہیں  
(۳) طبلے کی جوڑی۔

جوڑی دار۔ (۱) (دفعہ ۱-۱) (۲) دو ایسے آدمی جو کسی کام کو  
بل کر کے ہوں۔

جوڑی والا۔ (۱) (دفعہ ۱-۱) (۲) طوائفوں کے جوڑے میں طبلہ بجانے والا۔  
جوڑی بانگنا۔ (۱) محاورہ) (۲) دو گھوڑوں یا بیلیوں کی گاڑی پھلانا (۳)

(۴) دو بیویوں کا خاوند ہونا۔  
جوڑی بانگنا۔ (۱) محاورہ) گمگم پھلانا۔

جوڑو۔ [دفعہ ۱-۱] (۱) (۲) خروٹ (۳) ناریل۔ (۴) جانتل۔  
جوڑا۔ [دفعہ ۱-۱] (۱) (۲) سیرا آسمانی بیج جو دو جوڑوں کی شکل کا ہے۔

جوڑوس۔ (Juice) [دفعہ ۱-۱] (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸







## ج - ۵

جہاٹ - (ج - مات) (ع - ۱ - مذ - مٹ) جہت کی جمع - ستیس - طرفین -  
جھاو - (ج - ہاڑ) (ع - ۱ - مذکر) (۱) کوشش - جدوجہد (۲) دین کی حمایت  
کے لیے ہتھیار اٹھانا -

جھاوا صغیر - کافروں کے خلاف ہتھیار اٹھانا -

جھاوا کبر - نفس کو مارنا - ریاضت -

جھاوا بالسیف - (ع - ۱ - مذ) حق کی حمایت میں ہتھیاروں سے جنگ  
کرنا -

جھاوا بالقلم - (ع - ۱ - مذ) حق کی حمایت میں قلم اٹھانا - باطل کے  
خلاف ممکنہ بین لکھنا -

جھاڑ - (ج - ہاڑ) (ف - ۱ - مذ) بہت بڑی کشتی - اسباب تجارت لاؤ  
اور انسانوں کے سوار ہو کر بحری سفر کرنے کی بہت بڑی ناؤ - (۲)  
(صفت) بہت بڑا - بہت وسیع - فراخ - کشادہ -

جھاڑ رانی - (ف - ۱ - مٹ) جھاڑ چلانے کا پیشہ -

جھاڑ کا جھاڑ - (۱ - مذ) بہت بڑا - وسیع - فراخ - کشادہ -

جھاڑ کا کٹوا - (۱ - مذ) وہ کو جو جھاڑ کے ساتھ ساتھ اڑتا رہتا ہے اور  
سمندر میں بہنے کی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے جھاڑ کے گرد منڈلاتا رہتا  
ہے (۲) ایسا شخص ہے کہیں ایک جگہ کے سوا اور کہیں ٹھکانا نہ ملے -

(۳) ایک آلہ جو کوسے جیسا بد نما ہوتا ہے -

جھاڑ کا لنگر انداز کرنا (ہونا) (مض - مرکب) جھاڑ کا کونا یا ٹھکانا -

جھاڑ وال - (ج - ہاڑ زان) (ف - ۱ - مذ) جھاڑ چلانے والا - ملاح -  
جھاڑی - (ج - ہاڑی) (ف - ۱ - مذ) جو لوگ جھاڑ چلانے کے ذمہ دار  
ہوں یا وہ لوگ جو جھاڑ میں بیٹھے ہوں -

جھال - (ج - ہال) (ع - ۱ - مذ) جاہل کی جمع - ان پرٹھ لوگ - اچھل  
بے وقوف -

جھالت - (ج - ہا - لنت) (ع - ۱ - مٹ) [۱] بے علمی - نادانی - ناواقفیت  
(۲) بے وقوفی - حماقت (۳) بے رحمی - سنگ دلی - کھوپرن -

جھال - (ج - ہان) [۱] حرمت شرط - اسم موصول [۱] جس جگہ - جس مقام  
پر (۲) جس وقت - جس گھڑی -

جھال اور درخت نہیں وہاں از بند ہی پر وہاں ہے - (دش)

جھال بڑے نہیں ہوتے وہاں چھوٹے ہی بڑے سمجھے جاتے ہیں -

جھال پھول وہاں کا ٹٹا - (دش) جھال آرام وہاں تکلیف بھی  
ہوتی ہے - جھال فائدہ ہو وہاں نقصان بھی ہوتا ہے -

جھال ساس کا پھینا وہاں کس کی کھاٹ - (دش) بے حیاتی

اور غیر واجب بے تکلفی کی مذمت میں کہتے ہیں -

جھال تنگ - جب تک - جس حد تک - جتنا مقدور ہو -

جھال تنگ (ہستے) ہو سکے - جب تک یا جس حد تک ممکن ہو -

اپنے مقدور بھر - جھال تنگ یا جب تک اپنے حالات ساتھ دیں -  
جھال تنگ را پسینہ کرے وہاں خون گرائیں - (دش) وفاداری اور  
جاہل شاری کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں -

جھال تنہا - ہر جگہ - ہر کہیں - جگہ جگہ - ادھر ادھر -

جھال چلے بھوکا وہاں پڑے سوکھا - (دش) بد قسمت آدمی جھال  
کہیں بھی چلا جائے پریشان اور محروم رہتا ہے -

جھال حجان وہاں پر وہ مٹ - (دش) جو لوگ جن کے سر کھلے  
ہیں وہ ہر جگہ ان کے ساتھ گئے رہتے ہیں - جھال سردار وہاں خندنگار -

جھال جھال - جا بجا - جگہ جگہ - جس جس جگہ - جون جون سے مقام پر -

جھال چار بزمن ہوتے ہیں کھلتے (کھلتے) بھی ہیں - (دش) جھال  
چند آدمی ہوتے ہیں وہاں تھلا رہ رہی جاتی ہے -

جھال دل وہاں با دل (دش) جھال بہت سے لوگ (دل) ہوں  
وہاں بادش بھی ہوتی ہے (۲) جھال لوگوں کی بیٹھ ہو وہاں گرد و غبار  
بہت ہوتا ہے -

جھال ڈولہا وہاں برات - (دش) بڑا آدمی یا مرکزی شخصیت کہنے  
والا جس جگہ قیام کرے اس کے متعلق بھی وہیں ڈولہا جاتے ہیں -

جھال دیکھے تو اپراٹ وہیں گاوسے ساری رات (دش) مطلبی  
آدمی جھال فائدہ دیکھتا ہے وہیں ہتھیار ہوتا ہے -

جھال دیگی روٹی وہاں ٹٹا لئی چوٹی - (دش) فائدہ ہونے کی جگہ  
کہ دولت یا بے عزتی پر برداشت کر لینا -

جھال راجہ مجھ لولنا وہیں گھینیرے لوگ - (دش) خوش اخلاقی  
لوگوں کے رجوع ہونے کا باعث ہوتی ہے - بڑے لوگ اچھی طرح  
پیش آئیں تو لوگ ان کے سامنے نہیں رہتے ہیں -

جھال ستیاناس وہاں سواستیاناس - (دش) جھال بربادی ہو  
ہی گئی ہے تو اس کا کیا رو ناکہ خورڑی ہوتی یا بہت ہوتی -

جھال سوئی نہ جھائے وہاں ٹوسلی گھیسڑنا - (دش) سمجھوٹ بولنا جو  
وہم و گمان میں نہ آسکے -

جھال بیٹنگ سماں چلے جاؤ - (دش) جھال پناہ ملے چلے جاؤ -  
دور ہو جاؤ -

جھال کا پیوسے پانی تمہاں کی بوسے بولی - (دش) احسان کرنے  
والے کی حمایت ضروری ہوتی ہے -

جھال کا مردہ نہاں کی گور - جھال کا مردہ وہیں گرتا ہے (دش)  
جھال کا جھکڑا ہوتا ہے وہیں ملے ہوتا ہے -

جھال کا نسا وہاں بلی کا نسا - (دش) جھال کسی چیز میں کاتبی  
کی دھات لگی ہوگی جس پر بلی گر سکتی ہے وہاں بلی گرنے کا اندیشہ رہتا  
ضرور رہے گا - (۲) جھال مال ہو وہیں چمکتا ہے -

جھال کہیں - جس جگہ - جس مقام پر - جس مقام پر -

جھال کی نہاں - (۱) کہیں کی کہیں - بے جگہ (۲) اسی جگہ - وہیں اپنے  
خاص مقام پر -



کی شادی میں ماں باپ کی طرف سے دیاجائے۔  
 جھینڑ میں آگنا۔ (۱- محاورہ) لڑکی کو شادی پر ماں باپ کی طرف سے سامان  
 اسباب بنا۔

## جھ

جھاب - جھابا یا - (جھا با) [جھ-۱- مذ] (۱) نیل یا گھی رکھنے کا پرے کا  
 برتن (۲) نیل یا گھی ناپنے کا پیمبر برتن۔ پٹی (۳) چڑے کا گول  
 نوان جس میں آٹا چھانٹنے یا رکھتے ہیں (۴) تنگ منہ کا دودھ کا  
 برتن۔ بل ٹوٹی (۵) جھاڑ فائوس (۶) روٹیاں رکھنے کا خوراک۔  
 جھابڑ - جھابڑ (جھا - بڑ) [جھ-۱- مرث] (۱) دلدلی زمین۔  
 (۲) جو بڑ (۳) بڑے چرے والا شیر۔ (۴) قوی الجتہ۔  
 جھا بڑ جھلا۔ (۱) صفت (۲) مذ] (۱) ڈھیلا ڈھیلا ہونا۔ (۲) بد ہیئت آدمی۔  
 جھاپا یا - (جھاپا - پ) [جھ-۱- مرث] تنگ منہ کی لڑکی۔  
 جھا پڑ - (جھا - پڑ) [اڑ-۱- مذ] [مذکر] پتھر۔ طما پتھر۔  
 جھا جھا - (جھا - جھا) [جھ-۱- مذ] [مذ] گانجا جو جھنک سے تیار کیا جاتا ہے۔  
 جھا جھڑ - (جھا - جھڑ) [جھ-۱- مذ] (۱) جھا جھ - مجیلا (۲) پاؤں کا ایک یو  
 تو چین چین بولنا ہے، جھانجن۔  
 جھارا - (جھا - را) [جھ-۱- مذ] (۱) پٹی چین ہونی بینگ (۲) گیوں نینکنے  
 کا چھاج (۳) بگی بگی بارش۔ چھوار۔  
 جھارنا - (جھا - رنا) [جھ-۱- مرث] [جھاننا - نینکنے۔  
 جھاری - (جھا - ری) [جھ-۱- مرث] [لمبی گردن کی مٹھی جو ٹوٹی دار  
 بھی ہوتی ہے۔  
 جھاڑ - [جھ-۱- مذ] (۱) جھاڑی (۲) جھڑ پیمبر کا مسکھوا اور تخت (۳) فانوس  
 (۴) ایک قسم کی آتش بازی (۵) پہنچ شانہ - مشعل - بانوں کا سلسلہ۔  
 ڈیمین کی جھڑی (۶) درخت [جھ-۱- مرث] سب بگ۔  
 جھاڑ بانا - (۱) مرث] حساب صاف کروینا۔ پوری ادائیگی۔ بالکل  
 بے باقی۔  
 جھاڑ بانڈا - (۱) مذ- ق] بچوں کا ایک کھیل جو وہ درختوں پر چڑھ کر  
 کھینے ہیں۔ (ق)  
 جھاڑ بانڈھنا - (۱) محاورہ (۱) لگانا بولے جانا۔ مسلسل کے جانا (۲) لگانا  
 پینہ برستا۔  
 جھاڑ بسا - (۱) محاورہ (۱) لڑائی یا جھگڑا مٹول لینا۔  
 جھاڑ لٹے - (۱) مذ- بیل بولے۔  
 جھاڑ پھوڑ دیکھنا - (۱) محاورہ (۱) بڑی تجربہ اور سرگرمی سے تلاش کرنا  
 (۲) جانچ تول کرنا۔ آزمانا  
 جھاڑ پونچھ - (۱) مرث] صفائی۔ جھاڑنا۔ پونچھنا۔  
 جھاڑ پونچھ براب رکنا۔ (۱) محاورہ (۱) سب کھا اڑا دینا۔ سب خرچ کر ڈالنا۔

جھاڑ میاڑ - (۱) مذ] بات کا بنگٹھ۔ عین مندرجہ بات۔ فضول بات۔  
 جھاڑ پھونک - (۱) مرث] (۱) پڑھ کر پھونکنے یا دم کرنے یا ماٹو ٹونا  
 کرنے کا عمل (۲) شہیدہ بازی (۳) مکاری۔ عیاری۔  
 جھاڑ جانا - (۱) محاورہ (۱) کھا جانا۔ چٹ کر جانا۔  
 جھاڑ جھنک - (۱) اچھی طرح جھاڑنا۔ پوری طرح صفائی کرنا۔  
 جھاڑ جھنڈا - (۱) مذ] (۱) جھنڈے کے خار دار درخت اور جھاڑیاں۔ گھاس  
 پھوس کوڑا کرکٹ (۲) شستہ خط۔  
 جھاڑو بنا - (۱) محاورہ (۱) منتر پڑھ کر پھونکنا۔ (۲) صفائی کرنا۔ جھاڑو  
 جھاڑو کرنا (۳) ماروینا (۴) ناراض ہونا۔ بولنے سے روک دینا۔  
 عمدتہ نکالنا۔  
 جھاڑو لانا - (۱) محاورہ (۱) عمدتہ اتارنا (۲) فہمائش کرنا۔ پھینکا کرنا (۳)  
 وصول کر لینا۔ سارا برتن خالی کر دینا۔  
 جھاڑو سا - جھاڑو سا۔ جھاڑو جھنڈا کی مانند۔ پھیلے ہوئے کانٹے دار درختوں  
 اور جھاڑیوں وغیرہ کی طرح۔  
 جھاڑو کا ازار بند - (۱) مذ] ایک قسم کا ازار بند جس میں بڑے بڑے  
 پھیندے ہوتے ہیں۔  
 جھاڑو کا کاشا - (۱) محاورہ (۱) جھاڑی کا کاٹنا (۲) لڑاکا انسان (۳) جس  
 سے جھاڑو جھنڈا مشکل ہو جائے۔  
 جھاڑو کھنڈ - (۱) مذ] جھاڑو جھنڈے۔ ایسا جھگڑا جو کھنڈے دار درختوں اور  
 جھاڑیوں سے پھاڑا ہو۔ (۲) بن۔  
 جھاڑو کے پرنکالنا - (۱) محاورہ (۱) کثرت سے پرنکالنا۔  
 جھاڑو لینا - (۱) محاورہ (۱) نفع کم لینا (۲) صفائی کر لینا (۳) برتن میں  
 سے چیز کی پوری مقدار نکال لینا۔  
 جھاڑو کو کر لیتنا - (۱) محاورہ (۱) جھاڑو جھنڈا۔ پھینکا جھنڈا۔  
 جھاڑو - (جھا - ڈا) [جھ-۱- مذ] (۱) کانٹے دار درخت۔ کوڑا کرکٹ۔  
 (۲) پانخانہ (۳) جامہ تلاشی۔ تقشیش (۴) منتر پڑھ کر پھونکنے کا عمل۔  
 جھاڑو (پھرننا) جھانا - (۱) محاورہ (۱) پانخانہ پھرننا۔ ٹی کرنا۔  
 جھاڑو لینا - (۱) محاورہ (۱) تلاشی لینا۔  
 جھاڑو لٹنا - (جھا - لٹنا) [جھ-۱- مرث] (۱) گردوغبار جھاڑنے کا پھرا (۲)  
 جھاڑنے کا عمل (۳) چھینی (۴) مذکر کوڑا کرکٹ۔  
 جھاڑو لٹ پوچھنا - (۱) وہ چیز جو صفائی کرنے سے نکلے (جھاڑا) آخری  
 پتہ۔  
 جھاڑو لٹنا - (جھاڑو لٹنا) [جھ-۱- مرث] (۱) صاف کرنا۔ جھاڑو دینا۔ پونچھنا۔ (۲)  
 جھٹکنا۔ پھٹکنا (۳) پڑ پڑ سے پتے پھول یا پھل کرنا یا ٹوڑنا (۴) مارنا۔  
 لگانا (۵) ریندوق۔ چھوڑنا۔ فیر کرنا (۶) کھنکھی کرنا۔ بال صاف کرنا (۷)  
 دم کرنا۔ پھونکنا (۸) جھٹکا سے آگ پیدا کرنا (۹) پرنہ کے کا پر کرنا۔  
 (۱۰) پھٹکا کرنا۔ سرزنش کرنا۔ آڑے ہاتھوں لینا۔ لٹاڑنا۔ ذلیل کرنا۔  
 جھاڑو لٹنا جھٹکنا - (۱) محاورہ (۱) جھاڑو دینا۔ صفائی کرنا (۲) جو کچھ کسی  
 کے پاس ہو اس سے لے لینا۔



جھانسیا - (جھان - یں) یا [اُر - صفت] جھانسا دینے والا فربہ۔  
دھوکے باز۔

جھانک - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] چوری چوری دیکھنا۔ دُزیدہ نظر۔  
جھانکا جھانکی - جھانکا جھونکی - (جھان ہ کا - جھان - کی) (جھان - کا - جھون - کی) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] دروازے، کھڑکی یا روزن میں سے دیکھ کر ہلدی سے ہٹ جانا۔ تاک جھانک۔

جھانگڑ - (جھان - کڑ) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] کانٹے دار درخت یا جھاڑی [۲] درخت کا ٹوکھا ہوتا (۳) ڈبلا - کم زور۔

جھانگنا - (جھانک - نا) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] چھپ کر دیکھنا [۲] دروازے یا کھڑکی سے سُننا یا ہرنگال کر دیکھنا [۳] گھوم بھرنے کے لیے آنا۔

جھانکی - (جھان - کی) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] نظارہ - بین - دید [۲] جھلک - لمحہ بھرنے کے لیے دیکھنا یا دکھانا [۳] سوانگ - تماشا - نمائش - کوئی چیز پر دے کے اندر سے جھلکانا [۴] چھپنا - روزن - رخنہ - سوراخ۔

جھانوال - (جھان - وال) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] کھڑکی اینٹ یا پتھر کا ٹکڑا جس سے ہاتھ پاؤں کو گر کر ٹھیلانا سُننے ہیں۔

جھانولی - (جھان - ولی) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] آنکھ فرا فرا بند کر کے دیکھنا۔ تڑپھی نظر۔ آنکھ مارنا [۲] آنکھوں آنکھوں میں بات کرنا۔ غزہ - عیشہ - کرشمہ [۳] ناز و ادا [۴] جھانسا - فریب [۵] گرم ہونا - ٹو۔

جھانولی باز - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] غم سے کرنے والا [۲] چھل کرنے والا۔ جھیلنا۔  
جھانولی دینا - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] معشوق کی نظر سے دیکھنا [۲] ناز بھرنی نگاہ ڈالنا۔

جھاؤ - (جھا - اؤ) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] ایک قسم کا پودا جو دریاؤں کے کنارے پراگتا ہے اور جس سے ٹوکریاں کو گینہ بنانی جاتی ہیں (پس) پچی۔

جھابٹیاں - (جھا - یاں) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] دھبے - داغ جھینپ کے نشان۔

جھابٹیاں (پڑ جانا) پڑنا - بلکے بلکے سیاہ دھبے پڑ جانا۔

جھابٹیں - (جھا - ایں) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] سایہ پر چھابٹیں [۲] وہ عکس جو شیشے کو سورج کے سامنے کرنے سے پڑتا ہے [۳] میلا رنگ [۴] تینے کا داغ جو کسی جگہ سے قلعی اتر جانے سے پیدا ہوتا ہے [۵] پیرے کا داغ [۶] چانر کے دھبے [۷] سیاہی کے دھبے۔

جھابٹیں جھپا - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] جلدی سے جھلک دکھا کر چھپ جانا [۲] دھوکا۔

جھابٹیں مابٹیں - بچوں کا ایک ٹھیل جس میں وہ چمک پھیرتے جاتے ہیں اور کوٹوں کی طرح کائیں کائیں کرتے جاتے ہیں۔

جھابٹیں جھابٹیں - (جھا - ایں) (جھا - ایں) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] تکرار جھلک جھلک - بے معنی شور و غوغا (جھین جھین بھی بولتے ہیں)

جھبٹیا - (جھبٹ - یا) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] چھندنا [۲] گچھا [۳] آویزہ [۴] بڑے بڑے کان [۵] جتہ [۶] دق

جھبٹیا - (جھبٹ - لا) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] بڑے بڑے بالوں والا (جھبٹیا) بے بے بالوں والا۔

جھبٹ - [۵] [۱۱] فوراً - جلد سے جلد [۲] اچھٹنا - کوٹنا - جھینٹنا [۳] جھکا کھانا [۴] کوٹو - جھانگ [صفت] جلد باز۔

جھبٹ جھبٹیا - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] جال ڈال کر پھیل پھیلنے والا [۲] (مراٹھا) فربہ جھل ساڑ۔

جھبٹ جھبٹ - (جھبٹ - پٹ) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] جلدی جلدی - بڑی تیزی سے جھپ بے - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] فوراً - پھیلتی جاتے ہیں۔

جھبٹ کھانا - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا جلد پینڈی کے بل گر پڑنا۔ کنگوے کا آٹھ کر گرنا۔

جھبٹاٹا - (جھبٹ - پاٹا) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] جلدی سے کوئی کام کرنا۔  
جھبٹاٹا - (جھبٹ - پاٹ) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] جلدی - پھرتی [۲] چالاکی [۳] جلد - فوراً۔

جھبٹاٹا جھبٹاٹا - (جھبٹ - پاٹ) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] جلدی سے کوئی کام کرنا۔  
جھبٹاٹا سے - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] تڑت - تڑت - تڑت سے - جھبٹ پٹ۔

جھبٹاٹا - (جھبٹ - پاٹ) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] جلدی جلدی ہاتھ چلانا یا آنا جانا۔  
جھبٹاٹا مارنا - [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] کوئی کام بہت جلد کرنا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] ایک قسم کی عماری یا پاکی جس کا پہاڑی علاقوں میں رواج ہے [۲] مرض کی کمزوری۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔

جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔  
جھبٹیاں - (جھبٹ - پان) [۵ - ۱ - مہنت] [۱۱] پتنگ کا آٹھ جانا۔



تکلیف ہو جانا (۳) خوف یا دہم نہ رہنا - (۴) دکاوٹ نہ رہنا -  
 جھجک ہونا - (۱) محاورہ (۱۵) حجاب ہونا - شرم ہونا (۲) تکلیف ہونا (۳)  
 زکنا - جھپکانا -  
 جھجکنا - جھجکانا - (جھ - جھک - نا - جھ - جھک - نا) [۵ - مص] ڈرنا خوف  
 کرنا - شرم کرنا - حیران ہونا -  
 جھنجکونہ - (جھنج - کو - نہ) [۱ - صفت] [۱۵] خوف - ڈر (۲) شرم - حجاب -  
 جھجکی - (جھنج - کی) [۱ - صفت] [۱۵] خوف - ڈر (۲) شرم - حجاب -  
 جھنڈو - (جھنڈ - ڈو) [۱ - صفت] [۱۵] بے کار رہنے والا نکتا (۲) فنون  
 قسم کا آدمی (۳) بے وقوف (۴) تحقیق کے طور پر پڑھا - جھسٹوں -  
 زن مریہ -  
 جھڑ - (۱ - صفت) [۱۵] کپڑا یا کاغذ پھٹنے کی آواز (۲) بچے کسی کو چڑانے کے  
 لیے بھی یہی لفظ بولتے ہیں (ٹٹی - ٹٹی - لی جھڑ)  
 جھڑ جھڑ کر ڈالنا - (۱) محاورہ (۲) دھیماں کر دینا - مگرنے دکڑے کر ڈالنا -  
 جھڑٹانا - (۱) پٹنا (۲) پڑمروہ ہونا -  
 جھڑا - (رق) جھڑانا -  
 جھڑانا - (جھڑ - نا) کاغذ یا کپڑے کے پھاڑے جلنے کی آواز  
 جھڑ جھڑ - (جھڑ - جھڑ) [۱ - صفت] [۱۵] پانی کے گرنے کی آواز (۲) چھوٹی  
 دھاریاں بننے والا پانی -  
 جھڑ جھڑا - (جھڑ - جھڑ) [۱ - صفت] [۱۵] ایسا کپڑا جس کے تار ایک دوسرے  
 سے فاصلہ پر ہوں (۲) پٹلا - باریک -  
 جھڑ جھڑی - (جھڑ - جھڑ) [۱ - صفت] [۱۵] وہ لپکھی جو سردی کے  
 ساتھ کنار چڑھنے سے پہلے معلوم ہو - لرزہ - لپکھی -  
 جھڑ جھڑی آواز - (۱ - صفت) [۱۵] ایسی آواز جو صاف نہ نکلے -  
 جھڑکٹ - (جھڑکٹ) [۱ - صفت] [۱۵] مڑھیا جاوا - پڑمروہ (۲) ڈولا - پٹلا -  
 جھڑکٹ ہو جانا - (۱) محاورہ (۲) سوکھ کر ڈولایا لاغر ہو جانا - پڑمروہ جانا -  
 جھڑکٹ - (جھڑکٹ) [۱ - صفت] [۱۵] بھینٹ - انہو - ہجوم - جھکٹ -  
 انوہام - چم خفیر (۲) عورتوں کا حلقہ (۳) جلسہ - جلسہ رقص (۴) فوجوں  
 کی صف بندی (۵) مصنوعی جنگ (۶) جنگ مارنا وہ تمام بدن چھپانا -  
 جھڑکٹ مارنا - (۱) حلقہ باندھ کر یا کٹے ہو کر یا جمع ہو کر جانا (۲) دوپٹہ نشاں  
 یا چادر سے منہ اور سر ڈھک لینا (۳) تمام بدن ڈھک لینا -  
 جھڑنا - (جھڑنا) [۱ - صفت] [۱۵] پانی کی چادر - آتشار کہتے پانی کا چھتہ - (۲)  
 ایک قسم کی بڑی چھتی (۳) جلائیوں کا سوراخ دار کت گبر -  
 جھڑنا - (جھڑ - نا) [۱ - صفت] [۱۵] پیکنا - رستا (۲) ہنسا - جاری ہونا -  
 جھڑنا - (جھڑ - نا) [۱ - صفت] [۱۵] بیاری یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے کزڈ  
 اور زرد ہو جانا -  
 جھڑو کا - جھڑو کا - (جھڑ - رو - کا - جھڑ - رو - کھا) [۱ - صفت] [۱۵] کھڑکی - دریکبہ -  
 روشن دان - ایسی کھڑکی جو بر منظر اطراف میں سیر یا نظارے کی غرض سے  
 رکھی گئی ہو -  
 جھڑی - (جھڑ - ری) [۱ - صفت] [۱۵] درز - شکاف (۲) پانی کا وہ گڑھا

جس میں ادھر ادھر سے رک کر پانی جمع ہو جائے -  
 جھڑی - (جھڑ - ری) [۱ - صفت] [۱۵] آدھ شکن یا لوٹ جولا غری یا بڑھاپے میں  
 کھال ڈھیلی ہونے سے پڑتی ہے -  
 جھڑیاں پڑنا - (۱) محاورہ (۲) ڈبلا پنے یا بڑھاپے سے کھال کے مڑھانے کی  
 وجہ سے سٹھیں پڑنا  
 جھڑیا نا - (جھڑیا - نا) [۱ - صفت] [۱۵] کھانا - مڑھانا (۲) جھڑیاں نمودار ہونا -  
 جھڑ - (۱ - صفت) [۱۵] مٹنا - بارش - جھڑی (۲) نقل کا کھٹکا (۳) جھاڑی (۴)  
 آنسوؤں کی جھڑی (۵) گالیوں کی جھڑا (۶) مسلسل باتیں (۷) پتے  
 گزنا - (۱) بادل  
 جھڑ پندی - (۱ - صفت) [۱۵] وہ بادل جس سے مینہ کی جھڑی گے - ساون کی بدلی -  
 جھڑ بیر - (۱ - صفت) [۱۵] مٹنا - جھاڑی بونی کے بیر جھڑے چھوٹے سرخ بیر -  
 جھڑ بیرمی - (۱ - صفت) [۱۵] ایک جنگلی جھاڑی جس میں چھوٹے چھوٹے سرخ  
 بیر لگتے ہیں -  
 جھڑ بیرمی کا کھانا - (۱ - صفت) [۱۵] جھڑا ٹو - ایسا شخص جو گلے پڑھائے -  
 جھڑ پینا - (۱) محاورہ (۲) پک کر جھڑ جانا (۳) بوڑھا ہو کر کام کے قابل نہ ہونا -  
 جھڑ لگنا - (۱) محاورہ (۲) مینہ کی جھڑی بندھنا - لگنا یا ٹوسلا دھار بارش ہونا -  
 جھڑا - (جھڑ - نا) [۱ - صفت] [۱۵] جھڑا جو اکرا ہوا (۲) گل - تمام - بالکل -  
 جھڑا جھڑا - (۱) صفت (۲) لگنا - مٹنا - پلے در پلے (۲) بکثرت -  
 جھڑا جھڑا پور بیرنا - (۱) محاورہ (۲) بہت زیادہ آمدنی ہونا -  
 جھڑا جھڑا ہاتھ مارنا - (۱) محاورہ (۲) لگنا رقیقہ مارنا - جھڑوں کا تار باندھ دینا -  
 جھڑا کا - (جھڑ - نا) [۱ - صفت] [۱۵] جلدی - پھرتی - تیزی (۲) چھپٹ - جھڑ  
 دو دو ہاتھ - ہلی لٹائی (۳) زور کی بارش - جھڑی -  
 جھڑ پ - (جھڑ - پ) [۱ - صفت] [۱۵] ہلی سی لٹائی - چھپٹ - بکھار (۲)  
 تیزی - گمی - غصہ (۳) شعلہ - ٹو - جوت (۴) ایک چیز کو دوسری چیز  
 کا صدر مہینہ -  
 جھڑ پ کر دینا - (۱) محاورہ (۲) آپس میں لڑا دینا -  
 جھڑ پ ہو جانا (جھڑا) (۱) محاورہ (۲) دو آدمیوں میں تکرار ہونا (۲) دو  
 مرغوں کا لڑنا -  
 جھڑ پ - (رق) [۱ - صفت] [۱۵] جھنڈ - جھاڑی -  
 جھڑ پانا - (جھڑ - پانا) [۱ - صفت] [۱۵] دو آدمیوں کو باہم لڑوانا (۲) پرندوں  
 کو لڑانا -  
 جھڑ پینا - (جھڑ - پینا) [۱ - صفت] [۱۵] پرندوں کا لڑنا (۲) انسانوں کو آپس  
 میں لڑنا جھکڑنا -  
 جھڑ پٹ - (رق) [۱ - صفت] [۱۵] بال مارنا -  
 جھڑ پٹی - (رق) [۱ - صفت] [۱۵] بدلہ -  
 جھڑ پٹی دینا - (۱) محاورہ (۲) حساب دینا - جانزہ لینا (۲) تلاشی دینا -  
 جھڑ پٹی لینا - (۱) محاورہ (۲) مواخذہ کرنا (۲) تلاشی لینا -  
 جھڑ جھڑاٹ - (جھڑ - جھڑ - ٹاٹ) [۱ - صفت] [۱۵] ملامت کرنا - بڑھلا کرنا -  
 جھڑ جھڑاٹا - (جھڑ - جھڑ - ٹاٹا) [۱ - صفت] [۱۵] جھنڈ پڑنا - بلانا (۲) کھڑکڑانا -





جھل - [جھل - ۱. مٹا] (۱) عفتہ بخنگلی - طیش - جوش (۲) حسد - رکب - بدخواہی - کھیانا (۳) شہوت کی زیادتی (۴) تیز روشنی (۵) آگ کی حرارت - تپش (۶) [صفت] روشن - چمک دار (۷) [ق] محبت - بھدری۔

جھل جھلانا - جھل مٹانا - (۱) عوارہ (۲) خواہش پوری کرنا - شہوت مٹانا۔

جھل پانی - بدمزاج عورت - رشک کرنے والی - جھنال۔

جھلا - (جھن - لا) [صفت] (۱) عقیل - بدمزاج (۲) احمق - پاگل - (۳) تیز - کڑوا (۴) شہوت پرست (۵) [۱] بڑا ٹوکرا - جھابا - (۲) جھلا بوز - (جھن - لا) بوز [صفت] (۱) چمکتا دکھتا (۲) چٹھا۔

طوفان -

جھلا جھل - (جھ - لا) جھل [صفت] [چمک] سونے کی چمک دکھانی روشنی - جگمگ۔

جھلانا - (جھ - لا) نا [صفت] (۱) جھلے میں بٹھا کر جھونٹے دینا - (۲) حرکت دینا - ہلانا (۳) ٹالنا - جھولی آئیدہ دلانا۔

جھلانا - (جھن - لا) نا [صفت] [صفت] (۱) جھن ہونا - جھن ہونا - تپکنا - سوزش ہونا (۲) کسی بات کا دیرینہ اثر رہنا۔

جھل جھل - (جھن - جھن) [صفت] (۱) [صفت] [چمک] دکھانی روشنی - جھل جھلانا - (جھن - جھلانا) [صفت] (۱) چمکتا - دکھتا (۲) سوزش کرنا۔

جلنا (۳) دیرینہ صدمہ رہنا۔

جھلا ہٹ - (جھن - جھ - لا) ہٹ [صفت] (۱) [چمک] (۲) وہ کیفیت جو زخم پر نیک وغیرہ چھوڑنے یا تیز مریج چھیننے سے محسوس ہوتی ہے - چھچھلاہٹ - سوزش - جھن۔

جھلٹ - (جھن - لٹ) [صفت] (۱) [صفت] [چمک] پرلا - مکڑی۔

جھلسا - (جھن - سا) [صفت] (۱) [صفت] [چمک] آگ (۲) جلا ہوا (۳) بد نصیب - کم نصیب - متفرد کا کھونا۔

جھلسا دینا - جھلسا لگانا - (۱) عوارہ (۲) جلا نا - آگ میں رکھ دینا - نذر آتش کر دینا۔

جھلسنا - (جھ - سن - نا) [صفت] (۱) جلا نا - آگ لگنا - چمکتا (۲) جلا نا - آگ لگانا (۳) تھوڑا سا جلا نا (۴) رشوت دینا - کھو دے کر راضی کرنا۔

جھلنا (۵) شادی کرنا (۶) ناراض ہو کر گھسے نکالنا (۷) جھٹے ہونا۔

جھلک - (جھ - لک) [صفت] (۱) [صفت] [چمک] جلوہ - جھلی (۲) آب تاب - رونق (۳) برتو - کس (۴) اثر (۵) مشابہت (۶) دور سے پانی کی چمک (۷) تھوڑی دیر کے لیے دکھانا۔

جھلک دکھانا - (۱) عوارہ (۲) دم جھرنے کے لیے شکل دکھانا - ایک لمحے کے لیے نظر آنا۔

جھلکا - (جھن - کا) [صفت] (۱) [صفت] [چمک] روشنی - جلوہ - پرتو (۲) شوق (ق) جھلکاٹ - (جھن - کاٹ) [ق] [صفت] [چمک]

رک جائے۔ (شکل) جو شخص اپنی طرح یا اخلاق سے ملے اس سے چھٹی طرح ملنا چاہیے مگر جو کرے یا عزیزت برتے اس سے اگر کبھی ملنا چاہیے۔

جھگڑا - (جھگ - ڈا) [صفت] (۱) [صفت] [چمک] (۲) تکرار (۳) جھگڑت بحث (۴) تنازعہ (۵) بکھیڑ (۶) جھلمل - کھٹ پٹ۔

جھگڑا (۷) اٹھانا) پیدا کرنا - (۱) عوارہ (۲) تنازعہ شروع کرنا - لڑائی کی نیت سے جھجھکاؤ کرنا۔

جھگڑا پاک ہونا) چمکانا - (۱) عوارہ (۲) جھگڑا ختم کرنا (۳) کسی معاملے کا بجز وغربی طے ہو جانا - (۴) قرعہ ادا کر دینا۔

جھگڑا پاک ہونا - جھگڑا چمکانا - (۱) عوارہ (۲) فساد مٹ جانا (۳) سر جانا (۴) کوئی معاملہ طے ہو جانا - تصفیہ یا فیصلہ ہو جانا۔

جھگڑا اچانا - (۱) عوارہ (۲) نزاع ختم ہو جانا - فساد رفع ہونا۔

جھگڑا جھوننا) تصفیہ سچا - (۱) شل) جو کئی چیز پر قابض ہو اس کے خلاف جھگڑا کر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

جھگڑا چمکانا - (۱) عوارہ (۲) فیصلہ کر لینا - تصفیہ مل کرنا - فساد رفع کرنا (۳) قرض ادا کرنا۔

جھگڑا اچھینا - (۱) عوارہ (۲) کسی کو مافی یا قلعہ شروع کرنا۔

جھگڑا اٹوتاہ کرنا - (۱) عوارہ (۲) جھگڑا چمکانا۔

جھگڑا کھڑا کرنا - (۱) عوارہ (۲) لڑنے کا موقع پیدا کرنا (۳) جھگڑے کے لیے راستہ نکالنا - (۴) دعوے دار بننا۔

جھگڑا اٹول لینا - (۱) عوارہ (۲) جھگڑے میں پڑنا - کسی تنازعے میں الجھ جانا۔

جھگڑے میں پڑنا - (۱) عوارہ (۲) دوسرے کے فیصلے میں دخل دینا جھگڑا میں حصہ لینا۔

جھگڑا نکالنا - (۱) عوارہ (۲) فساد کی بات پیدا کرنا۔

جھگڑے کی پائیں تین - زن - زور - زمین - لاشل) اکثر فساد انہی تین چیزوں سے ہوتا ہے۔

جھگڑے لگے ہونا - (۱) عوارہ (۲) بہت سے خمر خستے اور کاروبار چھپ گئے ہونا۔

جھگڑا لو - (جھگ - ٹا) [صفت] (۱) [صفت] [چمک] تکرار کرنے والا شہریہ - بدخواہ۔

جھگڑا بیٹھنا - (جھ - گڑ - بیٹھ - نا) [صفت] [چمک] لڑ پڑنا۔

جھگڑا پڑنا - (جھ - گڑ - پڑ - نا) [صفت] [چمک] تکرار کر لینا۔

جھگڑا جھگڑ کر لینا - (جھ - گڑ - جھ - گڑ - لے - نا) [صفت] [چمک] تکرار کر کے زیادہ لینا۔

جھگڑانا - (جھ - گڑ - نا) [صفت] [چمک] فساد کرنا (۲) تکرار کرنا (۳) مندر کرنا۔

جھجکی - [ق] [صفت] [چمک] جامہ۔

جھجکی - (۱) مٹا) جھجھکی۔

جھلکار - (جھل - کار) [ق] - صفت [چمک و دکھ]۔  
 جھلکتا - (جھل - لکت - نا) [ہ - مص] [و] کچھ کچھ چمکتا۔ کسی چیز کے اندر سے چمک دکھانا۔ عکس ظاہر ہونا (۲) جھلکتا - چمکتا - جلوہ دکھانا (۳) ظاہر ہونا۔ نمایاں ہونا۔  
 جھلکھانا - [ق] - مص [ر شک کرنا]۔  
 جھلکی - (جھل - کی) [ہ - ۱ - مرث] [ادھوری جھلک] - ہلکی سی جھلک - وہ جلوہ جو بوری طرح نہ دکھایا گیا ہو۔  
 جھلم - (جھلم - لڑ) [ہ - ۱ - مرث] [زرہ کی طرح کی نقاب جو جھکی آویڑائی کے وقت اترنے پر ڈال لیتے ہیں]۔  
 جھلمال - (جھلم - مال) [ق] - صفت [چمک ل]۔  
 جھلم مرے - (ق - صفت) [ہیبت زدہ خوف زدہ]۔  
 جھلمل - (جھلم - ل) [ہ - ۱ - مرث] [ا] ہٹا ہٹا جھلمکا ہٹ (۲) پانی پر چڑاؤں کی روشنی یا سورج کی شعاعیں پڑنے کی کیفیت - (۳) شادوں کا کم کر پیکنا۔  
 جھلمل جھلمل کرنا - (ادھوری) جھلمکنا - ٹٹھکانا۔  
 جھلملانا - (جھلم - م - لا - نا) [ہ - مص] [ا] چراغ یا ستاروں کا ٹٹھکانا اور دھندلانا اور چمکتا۔  
 جھلملی - (جھلم - م - لی) [ہ - ۱ - مرث] [و] بھری دار کو اڑا کھڑکی (۲) کان کا ایک زیور - (۳) صیہی و صیہی چمک - ہلکی چاندنی (۴) چمک - پتق۔  
 جھلمنا - (جھلم - نا) [ہ - مص] [و] پیکھا کرنا (۲) جھال لگنا - ٹالکا یا پیوند لگنا (۳) برف یا شورے میں لگا کر ٹھنڈا کرنا (۴) جھیلنا جانا۔۔۔ برواشت کیا جانا۔  
 جھلمک - (ق - صفت) [سوراخ دار]۔  
 جھلمکا - (جھلم - کن - گا) [ہ - ۱ - مذکر] [و] ٹوٹی ہوئی چارپائی کا جھولا (۲) لاغر - ڈبلا۔  
 جھلوانا - (جھلم - وا - نا) [ہ - مص] [و] ہوا کرنا (۲) برتن یا زیور میں ٹالکا یا بڑا گوانا۔  
 جھلوانی - (جھلم - وا - ای) [ہ - ۱ - مرث] [جھلوانے کی اجرت - زیور یا برتن میں ٹالکا گوانے کی مزدوری]۔  
 جھلوان - (جھلم - لون) [ق] - صفت [قدرے]۔  
 جھلی - (جھلم - لی) [ہ - ۱ - مرث] [و] انسان اور حیوان کے گوشت کا جھلی - (جھلم - لی) [ہ - ۱ - مرث] [و] انسان اور حیوان کے گوشت کا باریک پوست جس میں آر پار نظر آتا ہے (۲) پیٹ کے اندر باریک پوست یا چمڑا - غشا (۳) کھکھ کا باریک جالا (۴) [صفت] باریک پتلا۔  
 جھما جھم - (جھم - ما - جھم) [ہ - ۱ - مرث] [و] میند برسنے کی آواز (۲) گولا کلاری کے بڑھیا لباس کی چمک و دکھ (۳) چھم چھمنا چنے کی آواز۔

جھما وینا - (ادھوری) وید میں لانا - مست کرنا۔  
 جھماکا - (جھم - مار - کا) [ہ - ۱ - مذ] [و] دھماکا (۲) موسلا دھار بارش - زبردستی بھاری جھینٹا (۳) چمک۔  
 جھم جھم - (ہ - ۱ - مذکر] [و] بارش کے لگاتار تڑپنے پڑنے کی آواز (۲) گولاندری کے بڑھیا لباس کی چمک و دکھ۔  
 جھم جھمنا - (جھم - ما - نا) [ہ - صفت] [چمکتا ہوا - جھمکتا ہوا]۔  
 جھم جھمنا - (جھم - ما - نا) [ہ - مص] [چمکتا - آب و تاب دکھانا - جھمکتا دکھانا]۔  
 جھمک مارنا۔  
 جھمک جھمک - (جھم - مز - جھم - مز) [ہ - ۱ - مرث] [ہلکی ہلکی بارش]۔  
 جھمکنا - (جھم - لکت) [ہ - ۱ - مرث] [و] چمک و دکھ - درختانی بھڑک۔  
 جھمکا - (جھم - کا) [ہ - ۱ - مذ] [حسین عورت کا دیدار]۔  
 جھمکا - (جھم - لکت - کا) [ہ - ۱ - مذکر] [مرث] [انہو - بھیڑ]۔  
 جھمکا - (جھم - کا) [ہ - ۱ - مذکر] [و] خوش (۲) وہ سات ستارے جو آسمان پر اٹھنے نظر آتے ہیں، عقیدہ فریاد (۳) کانوں کا ایک زیور۔  
 جھمکانا - (جھم - کا - نا) [ہ - مص] [و] چمکانا (۲) شان و شوکت دکھانا۔  
 جھمکنا - (جھم - لکت - ٹا) [ہ - ۱ - مذ] [و] چمک و دکھ - جھلک جھلک (۲) خوب روٹی - جلوہ - شان و شوکت - کت و فخر۔  
 جھمکتا - (جھم - لکت - نا) [ہ - مص] [چمکتا دکھانا]۔  
 جھمکورا - (جھم - مؤ - را) [ہ - ۱ - مذ] [و] بالوں والا زیودان (۲) وہ بچہ جو ماریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔  
 جھمیل - (جھم - میل) [ہ - ۱ - مرث] [و] ڈیرہ - اٹکاؤ (۲) بھیرا - جھنڈا - انجھاؤ۔  
 جھمیلنا - (جھم - مے - لا) [ہ - ۱ - مذ] [و] جھلنا - بھیرا - فساد (۲) ناپسند حالات۔  
 جھمیشیا - (جھم - مے - ل) [یا] [ہ - ۱ - مذ] [و] جھلنا (۲) بھیرا کرنے والا۔  
 جھمن - (جھم - مرث] [و] دھات کے برتن بجنے کی آواز (۲) جھنڈا (۳) نلواریوں کے کلکانے یا کرنے کی آواز۔  
 جھمنانا - (جھمن - نا - نا) [ہ - مص] [ا] بانٹھ یا پاؤں) سن ہو جانے سے سوسیاں سی چھینے لگنا۔  
 جھنج - (ق - ۱ - مؤنث] [قنینہ - جھنڈا - لڑائی]۔  
 جھنجٹ - (جھمن - جٹ - جٹ) [جھمن - جھنٹ] [ہ - ۱ - مذ] [و] جھنڈا - تکرار (۲) قنینہ - جھنڈا - بھیرا - انجھن - وقت - وبال - جھنجٹ لانا - (ادھوری) جھنڈا کھڑا کرنا - تکرار شروع کرنا۔  
 جھنجھر - (جھمن - جھنڈ) [ق] [ہ - ۱ - مذ] [و] جھنڈا (۲) سویرا - تڑپکا۔  
 جھنجھلاہٹ - (ہ - ۱ - مرث] [عصہ - تھکی - ناراضگی]۔  
 جھنجھلانا - (جھنجھ - لا - نا) [ہ - مص] [عصہ ہونا - خفا ہونا]۔  
 جھنجھلانی - (جھمن - جو - لی) [جھمن - جھو - لی] [ہ - ۱ - مرث] [و]



میٹھے سُروں میں لگانا۔

چھٹکوائی - (چٹنگ - وا - امی) [ق - ۱ - مرٹ] گٹھیا۔

چھنگار - (چھن - گار) [جھ - ۱ - مرٹ] [۱۱] چیخ [۲] نوبت کی آواز [۳] چنگھاڑنا

چھنگاڑنا - (چھن - گار) چنگھاڑنا۔

چھنگریاں - (چھن - گریاں) [ق - ۱ - موٹ] اچھلی کے نیچے۔

چھنواں - (چھن - واں) [جھ - ۱ - مذ] ایک قسم کا عمدہ چاول۔

چھوآ - (چھو - وا) [جھ - ۱ - مذ] بڑا ٹوکرا۔

چھوپا - (چھو - پا) [جھ - ۱ - مذ] پھلوں یا نٹے کے پلوں کا ڈھیر۔

چھوت - [جھ - ۱ - مرٹ] دو مکالوں کی دیواروں کے درمیان کی گلی جس میں دونوں کے پرنا لے گرتے ہوں۔

چھوٹے - (چھوت - سے) [اُر - ۱ - مذ] سر کے ایسے بال جنہیں بنا یا سنوارا نہ گیا ہو۔

چھوٹ - [جھ - ۱ - مرٹ] جو سچ نہ ہو۔ واقعے کے خلاف۔ حقیقت کے برعکس۔

چھوٹا - (جھوٹا) [جھ - ۱ - مرٹ] [۱] کھوٹ [۲] پس خوردہ۔

چھوٹ برابر پاپ نہیں۔ (نیش) چھوٹ سب سے بڑا کتا ہے۔

چھوٹ بکنا - (۱ - محاورہ) نقصان پہنچانے یا بدنام کرنے کے لیے چھوٹ بولنا۔

چھوٹ بنانا - (۱ - محاورہ) بات گھڑنا۔ نہمت تراشنا۔ اہتمام لگانا۔

چھوٹ بولنا - (۱ - محاورہ) غلط کہنا۔ واقعے کے خلاف بیان کرنا۔

چھوٹ پکڑنا - (۱ - محاورہ) چھوٹی بات تار لینا۔ چھوٹ کی گرفت کر لینا۔

چھوٹ جانا - (۱ - محاورہ) سچ نہ سمجھنا۔ اعتبار نہ کرنا۔ ہاور نہ کرنا۔

چھوٹ سچ - (۱ - مذ) ایسی سچی بات جس میں چھوٹ ضرور شامل ہو۔

چھوٹ سچ لگانا - (۱ - محاورہ) [۱] چھوٹی سچی جڑنا [۲] نہمت لگانا [۳] کان بھڑنا [۴] بدی کرنا [۵] بدگمان کرنا۔

چھوٹ کا بیٹلا - (۱ - مذ) ایسا شخص جو بہت زیادہ چھوٹ بولتا ہو۔ مہا چھوٹا۔

چھوٹ کا پل باندھنا - (۱ - محاورہ) کثرت سے چھوٹ بولنا۔ بہت زیادہ چھوٹ بولنا۔

چھوٹ کا دفتر - (۱ - مذ) [۱] چھوٹی باتیں [۲] چھوٹے الزامات [۳] چھوٹے قصوں کا طویل بیان۔

چھوٹ کوچ کر دکھانا - (۱ - محاورہ) چھوٹی بات کر بیان یا عمل کے ذریعے سچ ثابت کرنا۔

چھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ (نیش) چھوٹی بات بے بنیاد ہوتی ہے اس لیے جلدی ظاہر ہوتی ہے۔

چھوٹ کے پل باندھنا - (۱ - محاورہ) چھوٹ پر چھوٹ بولنا۔ بہت زیادہ چھوٹ بولنا۔

چھوٹ کے دفتر - (۱ - مذ) بے چوڑے وکراؤ کار جو سب چھوٹ ہوں۔

چھوٹ کی پوٹ - (۱) ایسا شخص جو بڑی کثرت سے چھوٹ بولتا ہو۔

[۲] اکل چھوٹ۔ سراسر چھوٹ۔

چھوٹ کی ناؤ نہیں چلتی۔ (نیش) چھوٹ بولنے والے کامیاب

نہیں ہوتے۔

چھوٹ لگانا - (۱ - محاورہ) [۱] نہمت لگانا [۲] غلط بیانی کر کے کان بھڑنا۔

[۳] بدگمان ہونا۔ بدگمانا۔

چھوٹ موٹ - (۱ - مذ) یوں ہی۔ ہنسی سے۔ مذاق سے۔

چھوٹ موٹ کے - (۱ - صفت) چھوٹے۔ ظاہری۔ دکھاوے کے لیے۔

چھوٹ نہ بولنے نوپیٹ اچھڑ جائے۔ (نیش) جسے چھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے وہ چھوٹ بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔

چھوٹا - (جھوٹا) [۱ - صفت] [۱] چھوٹ بولنے والا۔ سچ نہ بولنے والا۔

والا۔ واقعے کے خلاف بیان کرنے والا [۲] دھوکے باز۔ مکار۔ فریبی۔

دغا باز [۳] بے ایمان۔ کھوٹا [۴] جعلی۔ نقلی۔ مصنوعی [۵] بیکار۔ کام نہ دینے والا [۶] کسی کے آگے کی بچی ہونی غمناک [۷] برتا ہوا [۸] ہاتھ کے لیے] بایاں۔

چھوٹا بنانا - (۱ - محاورہ) [۱] چھوٹا فرودینا [۲] چھوٹ بڑا کر دکھانا۔

چھوٹا بننا - (۱ - محاورہ) [۱] بات سچ نہ ٹھکانا [۲] دروغ گو قرار پانا۔

چھوٹا پڑنا - (۱ - محاورہ) [۱] وعدہ خلاف ہونا [۲] استعمال کے قابل نہ رہنا۔

چھوٹا بھڑنا - (۱ - محاورہ) غلط بیانی ثابت ہو جانا۔

چھوٹا جوڑنا - (۱ - مذ) چھوٹے کام کو چھوٹیوں کا جوڑنا [۲] وہ عروسی پوشاک جس پر چھوٹا لگا کر بھڑا ہو۔

چھوٹا چٹنا - (۱ - محاورہ) کسی کے آگے کی بچی ہونی چیز چٹ کر جانا۔

چھوٹا کاغذ - (۱ - مذ) بناوٹی تحریر جعلی دستاویز۔

چھوٹا کام - (۱ - مذ) زری کا وہ کام جو کھڑے رطلے سے نہ بنایا گیا ہو۔

چھوٹا کرنا - (۱) چھوٹا کرنا [۲] کسی چیز میں سے چھوٹا سا کھا لینا۔

چھوٹا کوئی کھانا ہے تو بیٹھے کے لیے (نیش) آدمی کوئی غلط کام نفع کی خاطر کرتا ہے۔

چھوٹا لپٹا - (۱ - مذ) [۱] نہمت چھوٹ بولنے والا [۲] مکار۔ دغا باز۔

چھوٹا مرے نہ شہر پاک ہوئے۔ (نیش) چھوٹے آدمی کی مذمت کرنی ہونو اس موقع پر کہتے ہیں۔

چھوٹا موٹی - (۱ - مذ) مصنوعی موٹی۔ موٹی موٹی۔

چھوٹا ہونا - (۱ - محاورہ) کسی کی بات سچ یا صحیح نہ ٹھکانا۔

چھوٹوں کا بادشاہ - (۱ - مذ) وہ شخص جو بہت زیادہ چھوٹ بولتا ہو۔

چھوٹے کا منہ کالا سچے کا بول بال (نیش) چھوٹے آدمی کی ہر جگہ بے عزتی ہے۔ سچے کی عزت ہوتی ہے۔

چھوٹے کو کھنکھنا - (۱ - محاورہ) چھوٹے آدمی کو قائل کر دینا۔ چھوٹ ثابت کر دینا۔ کسی کو سنا دینا کہ وہ چھوٹ بول رہا ہے۔

چھوٹے کے آگے سچا رو کرتا ہے۔ (نیش) چھوٹے کے آگے سچے کی پیش نہیں جاتی۔

چھوٹے مہنہ پوچھنا - (۱ - محاورہ) ظاہر داری سے دریافت حال کرنا۔

چھوٹے ہاتھ سے کتنا نہ مارنا۔ (نیش) بہت زیادہ بخوس یا پرلے درجے

جھوک مارنا۔ (۱۔ محاورہ) کولتے ہیں ترازو کی ڈنڈی کو چیز کی طرف سے جھکانا۔ کم توٹنا۔

جھوکا۔ (جھوکا) [ھ۔ ۱۔ مذ] (۱) ہوا کا ایسا بریل جس سے دھککے: بیندگی وجہ سے گرنے لگنا۔ غنودگی۔

جھوکا۔ (ق۔ ۱۔ مذ) خوشہ۔

جھوکنا۔ (جھوک۔ نا) [ھ۔ مص] (۱) ڈالنا۔ پھینکنا۔ ننور یا بھٹو کو

ایندھن ڈال کر گرم کرنا (۲) برہاؤ کرنا۔ فضول خرچ کرنا۔ (۳) بُری جگہ شادی کرنا (۴) ہلاکت میں ڈالنا (۵) نشانہ باندھنا۔

(۶) روک ڈالنا۔ ڈنگلانا۔

جھوکے۔ جھوک۔ جھینک جھینک کر (ق)

جھول۔ (ھ۔ ۱۔ مذ] (۱) ڈھیلا پن۔ جرس۔ سلوٹ۔ چستت یا سوزوں نہ ہونا۔ پورا نساؤ نہ ہونا (۲) اٹھنے کا جھوٹے جھوٹے چلنا۔ سیدھا نہ چلنا (۳) ملع۔ کھٹ (۴) ایک دفعہ کسی بچوں کا جنمنا۔

جھول آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ڈھیلا پڑنا۔ چست نہ رہنا (۲) بھینس کا بیاسنے کے قریب ہونا۔

جھول پٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) مرغی کے نیچے بچے نکلنے کے لیے اندر سے پٹھانا۔

جھول پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کپڑے کا جسم پر ٹھیک نہ آنا۔ (۲) کسی چیز کا ڈھیلا پڑنا۔

جھول پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) ملع کرنا۔ ملع پڑھانا۔

جھول چھال۔ (۱۔ مذ) (۱) ڈھیل ڈھال۔ اتقا (۲) وقفہ۔

جھول دار۔ (۱۔ ف۔ صفت) جس میں جھول ہوں۔ جس میں شکنیں یا ڈھیلا پن ہو۔

جھول ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پھینکا (۲) ٹھیکیں ڈالنا (۳) ڈھیلا کرنا۔

جھول نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مرغی کا بچے نکالنا (۲) ٹھیک یا ڈھیلا پن دُور کرنا۔

جھول [ ۱۔ ۵۔ مٹ] (۱) ہاتھی یا دوسرے حیوانات پر ڈالنے کا کپڑا (۲) ڈھیلا ڈھالی پوشاک۔

جھوللا۔ (جھول۔ لا) [ھ۔ ۱۔ مذ] درخت یا کسی چیز میں پڑی ہوئی رسی جس پر بیٹھ کر جھولیں (۲) جھونکا۔ جھوللا (ق)

جھوللا جھولنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو جھولے پر بٹھا کر پینگ دینا۔

جھوللا جھولنا۔ (۱۔ محاورہ) جھولے پر بیٹھ کر پینگ بڑھانا۔

جھوللا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) جھولنے کے لیے رسی درخت یا کسی چیز میں ڈالنا۔

جھوللا۔ (جھول۔ لا) داؤ معرفت (جھول) [ھ۔ ۱۔ مذ] (۱) تھیلی یا تھیلا (۲) ڈھیلا پن۔ (۳) فالج۔ رعشہ (۴) ہاتھ کا اشارہ (۵) گرم ہوا یا کوس سے چھل اور اناج کو نقصان پہنچانا۔

جھوللا مار جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) فالج کرنا (۲) جسم کا ڈھیلا پڑنا۔

جھولنا۔ (جھول۔ نا) [ھ۔ مص] (۱) جھولنے لیتا۔ پینگ بڑھانا (۲) لٹکنے

کابینل ہونا۔ جھولوں۔ (جھول۔ ٹوں) [اُرد] (۱) جھوٹ ٹوٹ۔ یوں ہی (۲) ظاہر داری یا بناوٹ یا سخن سازی کے لیے۔

جھولوں (بات) نہ پوچھنا۔ (۱۔ محاورہ) ظاہر داری یا دکھاوے کے لیے بھی نہ پوچھنا۔ ظاہری مدارات بھی نہ کرنا۔ اوپری دل سے بھی توجہ نہ کرنا۔

جھولوں مُنہ نہ پھونانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نام کو بات نہ کرنا (۲) ذرا بھی پراسان حال نہ ہونا (۳) خاطر میں نہ لانا۔ بالکل توجہ نہ کرنا۔

جھوٹ۔ جھوٹھا۔ (۱۔ مذ) بچی کچی خوراک۔ پس خوردہ۔

جھوٹی۔ (جھو۔ ٹی) [ھ۔ صفت] (۱) ایسی بات جو سچ نہ ہو۔ خلاف واقعہ بات (۲) جھوٹ بولنے والی عورت۔

جھوٹی بات بنا لے پانی میں آگ جلا لے۔ جھوٹی بات بناوے پانی میں آگ لگاوے۔ (۱) ٹھیل، عیار آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول کر ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔

جھوٹی زبان وینا۔ (۱۔ محاورہ) جھوٹا وعدہ کرنا۔

جھوٹی پستی (کنا) یا کنا۔ (۱۔ محاورہ) جھوٹی باتیں بیان کرنا۔

جھوٹی کھم۔ (۱۔ ع۔ مٹ) غلط سوگند۔ صفت و رواج۔

جھوٹی مہندی۔ اتنی ہونی یا استعمال شدہ مہندی۔ ایک دفعہ کی لگائی ہوئی مہندی۔

جھوٹھا۔ (جھو۔ جھا) [ھ۔ ۱۔ مذ] معدہ (۲) موٹا آدمی۔

جھوٹھرا۔ جھوٹھرا۔ (جھو۔ جھ۔ را) (جھو۔ ج۔ را) [ھ۔ صفت] لٹوا پھوٹا بال پڑا ہوا خشکت۔

جھوٹھرو۔ (جھو۔ جھ۔ رو) [ھ۔ ۱۔ مذ] ایک پود جسے اُونٹ بڑی خوشی سے کھاتا ہے۔

جھوٹھری آواز۔ (۱۔ مٹ) چینی ہوئی آواز۔

جھوٹور۔ (ق۔ ۱۔ مذ) چھالہ جڑ پھوٹ گیا ہو۔

جھوٹورا۔ (ھ۔ صفت) مڑھیا ہوا۔ خشک۔ پُڑھ مڑھ۔

جھوٹورنا۔ (ھ۔ مص) مڑھانا۔ خشک ہونا۔

جھوٹوڑ۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) لڑائی جھگڑا (۲) تکرار۔ ردوبدل۔

جھوٹوڑپ۔ (ق۔ ۱۔ مٹ) [جھاڑی]۔

جھوک۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) [۱] جھکاؤ۔ ڈھیلا پن۔ خمیدگی (۲) دھکا۔

جھکولا۔ (لا۔ پک) (۳) جھولے کی پینگ۔ نئے کی غفلت۔

(۴) ترازو کا ایک پڑا جھکا۔ (۵) تول۔ وزن۔

جھوک دینا۔ (۱۔ محاورہ) خرچ کرنا۔ لگا دینا (۲) آگ میں ڈالنا۔ (۳) جھکولا دینا۔

جھوک سنبھالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی چیز کی پک کو روکنا۔ جھکولے کو سہارا (۲) ہوا کے ریلے کو روکنا (۳) نقصان برداشت کرنا (۴) کسی شخص کا خرچ اٹھانا۔

جھوک کھانا۔ (۱۔ محاورہ) اپنی جگہ سے ہٹ جانا (۲) گر پڑنا۔

کی حالت میں جھونٹا) ہلنا (۳) اُمیدوار رہنا (۴) (ایک ہی کام میں) پڑنا رہنا۔ کرتی لگی رہنا (۵) ہنڈولا۔

جھولنا۔ (جھولنا) (۱-۵) [مذ] (۱) تھیلے۔ نخرچی (۲) فقیروں کا تھیلہ جس میں وہ روٹی وغیرہ رکھتے ہیں (۳) پہلو کا گوشت۔ بچے جھولی۔ (جھولی) (۱-۵) [مذ] (۱) چھوٹی تھیلی (۲) واسن جو کچھ ہاتھ کے۔ پینے کسی کے سامنے پھیلا یا جلتے (۳) وہ کپڑا جس کے چاروں کونے باندھ کر (غیر وعینہ) گلے میں ڈال لیتے ہیں۔

جھولی بھرنے۔ (۱-۵) [مذ] (۱) کوئی چیز جھولی میں ڈالنا۔ (۲) ہلنا پوری کرنا۔

جھولی بھری ہونا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) جھولی میں بہت سی چیزیں پٹی ہونا (۲) کامیاب ہونا۔ ہلنا ہونا۔

جھولی چھوڑنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) بدن ڈھیلا پڑ جانے سے پہلوؤں کا گوشت نکل جانا۔

جھولی ڈالنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) جھیک مانگنا۔ فقیر کی کرنا (۲) نوزائیدہ بچے کو کسی بزرگ کی گود میں دینا۔

جھوم۔ (۱-۵) [مذ] (۱) حرکت۔ ہلنا (۲) لہانا (۳) پتوں کی ہلنا۔ (۴) جھومنا کا امر۔

جھوم جھوم کر۔ جھوم جھام کر (۱) لہا لہا کر۔ ہل بل کر (۲) زور دینا۔

جھوم جھوم۔ (۱-۵) [مذ] (۱) چنپانی۔ چنپانی (۲) جھوم جھوم۔ (۳) [مذ] (۱) ماتھے کا ایک زور (۲) ایک قسم کا ناچ جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور حلقہ بنا کر ناچا جاتا ہے (۳) ایک گیت (۴) مجمع۔

جھوم کر چاند۔ (۱-۵) [مذ] (۱) سونے یا چاندی کا وہ گول صریح گولہ جو جھوم میں لگا ہوتا ہے۔

جھومنا۔ (جھومنا) (۱-۵) [مذ] (۱) جسم اور سر کو ہلانا۔ لہانا (۲) لہانا۔ ناہنسی کی طرح جلتے جلتے چلنا (۳) اونگھنا (۴) نکلنے کی حالت میں آہستہ آہستہ چلنا (۵) (باورں کا جمع ہونا (۶) مستانہ چال چلنا۔

جھومنا۔ (جھومنا) (۱-۵) [مذ] (۱) چھدرا ہلنا ہوا کپڑا (۲) عمدہ قسم کی چھلایا۔

جھومنا۔ (جھومنا) (۱-۵) [مذ] (۱) چلانا (۲) مارنا (۳) بیان کرنا۔ دکھڑا (۴) (پن) دھان۔

جھونپڑا۔ (جھونپڑا) (۱-۵) [مذ] (۱) چھپر یا چھوس کا کپڑا مکان۔ جھونپڑوں میں رہنا محلوں کے خواب و بھسنا۔ (دش) حیثیت نیچی۔ تیالات اونچے۔

جھونپڑی۔ (جھونپڑی) (۱-۵) [مذ] (۱) جھونپڑا کی تصغیر۔ چھپر۔ چھوس کا چھوٹا سا گھر (پن) جھکی۔

جھونٹا۔ (جھونٹا) (۱-۵) [مذ] (۱) پنگے یا جھوٹے کا آگے پیچھے حرکت کرنا (۲) عورت کے سر کے بال (۳) بھینس کا بچہ۔

جھونٹا لینا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) پنگے لینا۔ جھونٹے میں بیٹھنے کے بعد پاؤں کا پتھر زمین پر مار کر (دوسرے جھونٹا۔

جھونٹے پکڑنا۔ عورت کے سر کے بال پکڑنا۔ بال نوچنا (لڑنے کے لیے)۔

جھونٹے کھسونا۔ سر کے بال نوچنا۔ سر کے بال پکڑ کر جھٹک دینا۔

جھونٹا جھاننا۔ (جھونٹا) (۱-۵) [مذ] (۱) عورتوں کا ایک دوسرے کے بال پکڑ کر کھینچنا۔

جھونٹی کاٹی۔ (۱-۵) [مذ] (۱) منڈی کاٹی۔ عورتوں کی گالی۔

جھونج۔ (جھونج) (۱-۵) [مذ] (۱) خواہش۔ چسکا (۲) کھجلی۔ خارش۔ (۳) گھونٹنا۔

جھونج مارنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) کھجلی ہونا۔ (۲) چیل ہونا۔ خواہش کا ستانا۔

جھونجیل۔ (جھونجیل) (۱-۵) [مذ] (۱) جھون۔ جھون۔ جھن (۲) [مذ] (۱) [مذ] (۱) غصہ۔ جھنجھلاہٹ۔

جھونجیل اتارنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) غصہ اتارنا۔ (۲) عداوت نکالنا۔

جھونک۔ (۱-۵) [مذ] (۱) دیکھنے جھوک۔

جھونک آنا۔ (۱) بیندیا اونگھ آنا۔ (۲) لڑکھڑانا۔ ڈرگنا (۳) نشے میں ہونا۔

جھونکا۔ (جھونکا) (۱-۵) [مذ] (۱) دیکھنے جھوکا۔

جھونکے آنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) بیندیا آنے کی وجہ سے سر کا بار بار جھنکانا۔ بیندیا کے جھونٹے آنا۔

جھونکے چلنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) ہوا کا تیز چلنا۔

جھونکے کھانا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) لغزش کھانا۔

جھونکے لینا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) جھنپ کرنا۔

جھونکیا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) بھنی میں ایندھن ڈالنے والا۔

جھینپ۔ (۱-۵) [مذ] (۱) شرمندگی۔ ندامت۔ شرمساری۔

جھینپ پڑھنا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) شرمندگی محسوس کرنا۔

جھینپ مٹانا۔ (۱-۵) [مذ] (۱) شرمندگی دور کرنا۔

جھینپنا۔ جھینپنا۔ (جھینپ) (۱-۵) [مذ] (۱) شرمنا۔

جھینپنا۔ (جھینپ) (۱-۵) [مذ] (۱) کم ہونا۔ گھٹنا (۲) کمزور ہونا۔

جھیل پڑ جانا۔ (۳) پھیلنا۔

جھیرا۔ (جھیرا) (۱-۵) [مذ] (۱) چشمہ۔ سوتا (۲) وہ غاریاں جو کھانوں جن میں اکثر تیز ترستے ہیں۔

جھیر جھیر۔ (۱-۵) [مذ] (۱) کھڑے کھڑے۔ پارہ پارہ۔ وجہی وجہی۔ پڑزے پڑزے۔

جھیل (۱-۵) [مذ] (۱) جمع۔ جھیرمٹ۔

(۳) دل - من طبیعت (۴) خود - آب - شخصیت (۵) جہانت - دریا  
سوصد - مردانگی (۶) جانور - حیوان - ذی روح - (۷) طاقت - قوت

(۸) محبت  
جی آجانا - جی آنا - (۱) محاورہ (۲) دل آجانا - عاشق ہونا - دل اٹل ہونا  
جی اٹلنا - (۱) محاورہ - محبت ہونا - دل کا کسی کی محبت میں اُلجھ کر

رہ جانا -  
جی اٹھنا لینا - اٹھانا - (۱) محاورہ (۲) بیزار ہونا (۳) محبت ترک کرنا  
جی اٹھنا - (۱) محاورہ (۲) لذت ہو جانا (۳) بیزار ہونا (۴) کسی کام کے

لیے دل نہ چاہنا -  
جی اچٹ جانا - جی اچاٹ ہو جانا - (۱) محاورہ کسی کام سے بیزار  
ہو جانا - دل نہ لگانا - دل برداشتہ ہونا -

جی اچھا ہونا - (۱) محاورہ (۲) طبیعت اچھی ہونا (۳) بیزار کو بہتت  
ہونا -

جی آداس ہونا - (۱) صفت (۲) دل گھبرانا (۳) افسردہ ہونا -  
جی اگنا جانا - (۱) محاورہ (۲) دل بے زار ہو جانا - طبیعت نہ لگانا - کسی کام

سے دل ہٹ جانا، کوئی کام اتنی زیادہ مرتبہ کرنا کہ اس کام کو مزید کرنے  
کو جی نہ چاہے -

جی الٹ جانا - جی اُلٹنا - (۱) محاورہ (۲) دل گھبرانا - دل پریشان ہونا  
(۳) دیوانہ یا پاگل ہو جانا -

جی امانڈ آنا - دیکھو جی بھڑانا -  
جی اُلجھنا - (۱) محاورہ (۲) اُلجھن محسوس کرنا - گھبرانا - پریشان ہونا -

جی اندر سے ملیٹھا جانا - (۱) محاورہ (۲) طبیعت کا گرا جانا - دل گھبرانا -  
جی اوپر تلے ہونا - (۱) محاورہ (۲) متلی ہونا تھے آنے کو ہونا - (۳) دل

کا گھبرانا -  
جی باغ باغ ہونا - (۱) محاورہ (۲) دلی خوشی ہونا -

جی بلینا - (۱) محاورہ (۲) دل ہلنا (۳) دھیان اور طہوت ہو جانا -  
جی بچھ جانا - (۱) محاورہ (۲) افسردہ ہونا - دل سرد ہونا - ولولہ باقی نہ رہنا -

کوئی خواہش یا ارمان دل میں نہ رہنا -  
جی بکینا - (۱) محاورہ (۲) بیماری یا کسی حادثے سے مرتے مرتے بچ جانا -

جی بچال ہونا - (۱) محاورہ (۲) طبیعت ٹھیک ہونا - بیماری کا اثر دور  
ہونا -

جی بڑا کرنا - (۱) محاورہ (۲) ناخوش ہونا - ناراض ہونا - بڑا ماننا -  
(۳) فتنے کرنا - اُگلنا -

جی بڑا ہونا - (۱) محاورہ (۲) طبیعت بگڑنا - دل بگڑنا (۳) ناخوش  
یا رنجیدہ ہونا -

جی بڑھانا - (۱) محاورہ (۲) جہمت افزائی کرنا - حوصلہ بڑھانا -  
جی بڑھنا - (۱) محاورہ (۲) جہالت ہونا (۳) دل خوش ہونا -

جی بھڑنا - جی بکھڑنا - جی بکڑ جانا - (۱) محاورہ (۲) متلی معلوم ہونا - دل  
بلیٹنا - غصن آنا -

بھینل - (۱) مرث (۲) پانی کا وہ قطعہ جو چاروں طرف نشکی سے  
بھرا ہوا ہو (۳) دُکڑل - (۴) نیچی زمین جس پر پانی کھڑا ہو - (۵)  
گیت کے وہ بول جو مدغم آواز سے ادا کیے جاتے ہیں -

بھینلا - (بجے - لا) [ق - ا - مذ] مالا -  
بھینلنا - (بھینل - نا) [ہ - مص] [ا - مذ] برداشت کرنا - اٹھانا - سہارنا (۲)  
پچانا - ہضم کرنا -

بھینلی - (بھینل - فی) [ہ - مرث] [ا - مذ] ایک زیور بڑی دار ہوتا ہے اور  
سر کے بالوں میں اس لیے اٹکایا جاتا ہے کہ کانوں کے زیور کو گنجانے  
سے -

بھینلی دینا - (بھینل - فی) [ہ - مرث] [ا - مذ] محاورہ [بچہ ہوتے وقت بچہ  
کو ایک خاص ترکیب سے بلانا بلانا -

بھینکن - (بھینک - نا) [ہ - مص] [ا - مذ] شکایت کرنا (۲) دکھ ٹارونا -  
مصیبت کا حال بیان کرنا (۳) رونا دھونا - مات کرنا (۴) پچھتانا -

بھیننگا - (بھین - گا) [ہ - مذ] ایک قسم کی چھوٹی پھلی -  
بھیننگر - (بھین - گر) [ہ - مذ] ایک قسم کا کیرا جو نمی کی وجہ

سے کونوں کھردوں میں پیدا ہو جاتا اور کپڑے وغیرہ کو چاٹ  
جاتا ہے -

## ج - ۶

جہتی - (ج - ای) [ہ - مرث] [ا - مذ] چوڑا جو (۲) چاول کی چھوٹی ہوتی  
پڑو -

## ج - ی

جی - [ہ] [ا - ہاں] [بے (۲) جناب - صاحب - حضرت (۳) درست -  
بجا - (۴) کسی نام کے بعد بطور تعظیم یا اظہارِ قریب و محبت (۵) طنزاً  
بیشک ایسا ہی ہے (جب کہنے والے کا نیاں یہ ہوتا ہے کہ  
نہیں ہے)

جی حقور - (دکھ - ایجاب) بڑے یا بزرگ آدمی کے بلائے پر جواب  
میں کہتے ہیں -

جی حضور - (۱) صفت (خوشامدی - کاسر لیس - ہاں میں ہاں ملینا  
جی کنا - (۱) محاورہ (۲) معاملے میں اتفاق نہ ہونے - خوشامد -

جی کوجی سٹو - (مش) عورت کرنے سے عزت ہوتی ہے -  
جی ہاں - (۱) بلکہ کسی کے جواب میں کہتے ہیں - (۲) طنزاً ہم اصل  
مستحق جلتے ہیں -

جی - [ہ - مذ] [ا - جان - روح - دم - سانس - پران (۲) زندگی - عمر

جی جان سے (قدرا) قربان - اشار - (۱- محاورہ) شیفنگی یا پسندیدگی کی انتہا ہونا (۲) صرفت عاشق - شہید۔

جی جانا - (۱- محاورہ) (۱) جان جانا - بڑھانا (۲) لڑھکے ہو جانا - کام میں جانا۔ جی جانا ہے - (۱- محاورہ) (۱) دل ہی تو معلوم ہے کہ کیا گزری ہے (۲) جو تکلیف یا آرام پہنچا اس کا دل پر گہرا اثر ہے۔

جی جلتے گھی نہ جاتے - (مث) اتنی زیادہ کجغوسی کہ خرچ بچانے کے لیے جان دینے یا سنے پر آمادہ ہو۔

جی جلا نا - (۱- محاورہ) (۱) دل جلانا - رنجیدہ ہونا (۲) ستانا - تنگ کرنا۔ (۳) غصہ دلانا (۴) ناپسند بات یا حرکت سے چڑھنا۔

جی جلانے سے ماتھ جلانا بہتر ہے - (مث) جسم کی تکلیف رُوح کی تکلیف سے آسان ہوتی ہے۔

جی جلیتا - (۱- محاورہ) (۱) غصہ آنا (۲) حسد ہونا (۳) کبیدہ ہونا

جی جی اٹھنا - (۱- محاورہ) باغ باغ ہو جانا - بہت خوش ہونا۔

جی جی نکال لینا - (۱- محاورہ) اچھی اچھی چیز الگ چھانٹ لینا۔

جی چاہتا - (۱- محاورہ) (۱) چاہنا (۲) کسی چیز کی خواہش ہونا - مشتاق ہونا۔

جی چاہے - (۱- روتروہ) اگر مرضی ہو - اگر پسند ہو۔

جی چھلانا - جی چھپانا - (۱- محاورہ) (۱) کام سے بچنا - جیسے حوالے کرنا۔

جی چلا - (۱- صفت) (۱) من چلا - بہادر (۲) سچی - باہمت (۳) پاگل۔

جی چلا بیٹھنا - (۱- محاورہ) حوصلہ باہمت کر گزرتا۔ دل کر جانا۔

جی چلا جانا - (۱- محاورہ) (۱) دل کھو بیٹھنا (۲) دل بیٹھ جانا۔

جی چلانا - (۱- محاورہ) (۱) خواہش کرنا (۲) بہت کرنا۔ دلیری دکھانا۔ رعیت نظر کرنا۔

جی چلنا - (۱- محاورہ) خواہش پیدا ہونا - رعیت ہونا (۲) گھبرانا (۳) پاگل ہونا۔

جی چھلانا - (۱- محاورہ) (۱) بہت توڑنا (۲) نا امید کرنا (۳) عاجز کرنا۔ (۴) اکتانے والا رویہ اختیار کرنا۔

جی چھوٹ جانا - جی چھوٹنا - (۱- محاورہ) (۱) مایوس ہونا - بہت ہار دینا۔ بدول ہو جانا - نا امید ہو جانا۔

جی چھوڑ دینا - جی چھوڑنا - (۱) نا امید ہونا - بہت ہار دینا۔

جی چھیننا - (۱- محاورہ) دل لینا - عاشق بنا لینا۔

جی دار - (۱- صفت) (۱) بہادر - من چلا (۲) دم خم رکھنے والا - مضبوط بہمت والا۔

جی داری - (۱- مرث) (۱) بہت - حوصلہ - جرأت - بہادری - دلیری جی دکھانا - (۱- محاورہ) رنج یا صدمہ پہنچانا۔

جی دھڑکتا - (۱) خوف ہونا (۲) اختلاج قلب کا دورہ پڑنا۔

جی دھک دھک کرنا - (۱) گھبراہٹ ہونا (۲) خوف ہونا - ڈرنا۔

جی دھک پکڑ ہونا - (۱) کسی کام کے کرتے ہوئے ہچکچانا۔ نردو ہونا۔

جی دلنا - (۱- محاورہ) (۱) ڈرنا - خوف کھانا (۲) دل دھڑکتا۔

جی دینا - (۱- محاورہ) (۱) جان دینا (۲) پیار کرنا - عشق کرنا۔

جی بند ہونا - (۱- محاورہ) گھبراہٹ ہونا۔ دل رکن۔ جی بھاری کرنا - (۱- محاورہ) (۱) رنجیدہ ہونا - غمگین ہونا (۲) دل پر

بوہر ڈالنا (۳) رونادھونا۔

جی بھکتا - (۱- محاورہ) (۱) دل کو کسی چیز کی تلاش یا خواہش ہونا (۲) یکسو یا قرار نہ ہونا۔

جی بھرا آنا - (۱- محاورہ) (۱) رونا آجانا (۲) ترس یا رحم آنا (۳) دل کا ڈرنا ہونا۔

جی بھبر آنا - (۱- محاورہ) (۱) بار بار رونے کو جی چاہنا (۲) آنکھوں میں آنسو بھر آنا (۳) بہت زیادہ ترس یا رحم آنا۔

جی بھبر بھرا آنا - (۱- محاورہ) کسی چیز کے لیے دل لگانا۔ رغبت محسوس کرنا۔ جی بھرجانا - (۱- محاورہ) (۱) سیر ہو جانا (۲) اکتا جانا۔

جی بھر کر - سیر ہو کر - حسبِ خواہش - پوری طرح۔

جی بھلنا - (۱- محاورہ) دل لگنا - مشغول ہو جانا۔ ڈسپی ہو جانا۔

جی بیٹھا جانا - (۱- محاورہ) نڈھال ہونا - اداں ہونا۔

جی بیزار ہونا - (۱- محاورہ) لڑکی سے تنگ ہونا۔

جی پرین جانا - (۱- محاورہ) سخت تکلیف ہونا - شدید اضطراب ہونا۔ صدمہ ہونا۔

جی پرکھینا - (۱- محاورہ) جان خطرے میں ڈالنا - جوکھوں میں پڑنا۔

جی پڑنا - (۱- محاورہ) (۱) جان پڑنا (۲) کیرے پڑنا (۳) خیال لگا رہنا۔ (۴) تسلی ہونا۔

جی پاک جلا نا - (۱- محاورہ) (۱) برداشت کی حد ہو جانا - عاجز یا تنگ آنا (۲) دکھی ہونا۔

جی کیرٹ لینا - (۱- محاورہ) (۱) دل ختم لینا (۲) کسی چیز کا اپنی طرف متوجہ کر لینا۔

جی کھلنا - (۱- محاورہ) دل آنا۔ مائل ہونا۔

جی کھیٹ جانا - (۱- محاورہ) سخت صدمہ پہنچنا - نفرت ہو جانا (۲) محبت میں فرق آجانا۔

جی پھر جانا (پھرنا) - (۱- محاورہ) اکتا جانا - بے زار ہو جانا - نفرت کرنے لگنا۔ کھن آنے لگنا۔

جی چھلنا - (۱- محاورہ) دل آنا - طبیعت کا مائل ہو جانا - عاشق ہونا۔ جی پھیکا ہونا - (۱- محاورہ) بے زار ہونا - گرم جوشی گھٹنا۔

جی ترسنا - (۱- محاورہ) (۱) کسی چیز کے لیے دل چاہنا (۲) جو نہ ملا ہو اس کی آرزو رکھنا۔

جی تلے اوپر ہونا - (۱- محاورہ) (۱) گھبراہٹ محسوس کرنا - متلی ہونا۔ جی ٹوٹ جانا - (۱- محاورہ) (۱) بدول ہونا - نا امید ہو جانا - حوصلہ پست ہو جانا۔

جی ٹھکانے لگنا - (۱- محاورہ) تسلی ہونا۔

جی ٹھنڈا ہونا - (۱- محاورہ) (۱) خوش ہونا (۲) تسلی یا اطمینان ہونا۔ (۳) آرزو یا جوس پوری ہو جانا (۴) خاطر جمع ہو جانا۔



جی ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جان ڈالنا۔ زبرد کرنا (۲) محبت کرنا۔ (۳) محبت کرنا۔

جی ڈھونڈنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ڈھونڈنا۔ غشی طاری ہونا (۲) دل کا کمزوری یا شدت غم سے کمزور ہونا۔ (۳) دل کا بے قابو ہونا۔

جی رکنا۔ (۱) دل گھبرانا (۲) دم لگنا (۳) آزدہ ہونا۔

جی رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خوش رکھنا (۲) تسلی دلا سادینا (۳) لحاظ یا پاسداری کرنا۔

جی سائیں سائیں کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) غشی کے آثار ظاہر ہونا (۲) دل کی حالت بگڑنا۔

جی سنانا۔ (۱- محاورہ) کمزوری کی وجہ سے ٹھہال ہونا۔ دل بیٹھنا۔ دل پریشان ہونا۔

جی سے اتر جانا (اُترنا) (۱- محاورہ) نظروں سے گرجانا۔ قدر نہ ہونا۔ بے وقعت ہونا۔

جی سے بیزار ہونا۔ (۱- محاورہ) زندگی سے تنگ ہونا۔

جی سے جھٹانا۔ (۱- محاورہ) مرنانا۔ دم نکل جانا۔ انتقال ہونا۔

جی سے جی ہلنا۔ (۱- محاورہ) دو آدمیوں میں ٹوٹ رشتہ دوتی قائم ہونا۔

جی سے گزر جانا۔ (۱- محاورہ) مرنانا۔ جان دے دینا۔

جی سے گھڑنا۔ (۱- محاورہ) کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر کھنا۔ من گھڑت بات کہنا۔

جی سینے میں پھینکنا۔ (۱- محاورہ) کسی بات کی خواہش ہونا۔

جی شاد ہونا۔ (۱- محاورہ) شاد و شاد ہونا۔ (۱- محاورہ) خوش ہونا۔ مگن ہونا۔ مسرور ہونا۔

جی شکستہ ہونا۔ (۱- محاورہ) دل خوش و خرم ہونا۔ طبیعت کھلی بھلی ہونا۔ فرحان و شاد ہونا۔

جی غش ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی پر فریفتہ ہونا۔

جی کا بخار نہ لکنا۔ (۱- محاورہ) دل کی بھڑاس نکال لینا۔ رونے یا غصہ کرنے سے دل رنج دور کرنا۔

جی کا جھجنا۔ (۱- محاورہ) دل کا روگ۔ وہ کام یا بات جس سے دل گھبرانا ہو۔

جی کا دشمن۔ (۱- مذ) جان کا بیری۔

جی کا زیاں۔ (۱- مذ) جان کا نقصان۔

جی کا بخار ہونا۔ (۱- محاورہ) آزاد ہونا (۲) کسی کا عاشق ہونا۔

جی کا بخار۔ (۱- مذ) دل کی کمزورت۔ طلال۔ بخار خاطر۔

جی کا کھنا۔ (۱- محاورہ) دل میں خود بخود کوئی بات آنا۔

جی کا پھینا۔ دل کا خوف یا اندیشے کی وجہ سے دھوکنا۔ خوف معلوم ہونا۔

جی کرنا۔ (۱- محاورہ) ہمت کرنا۔ حوصلہ کرنا (۲) کسی چیز کو جی چاہنا۔

جی کڑا کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہمت کرنا (۲) ناگوار بات کو دل پر چب کر کے جھیل جانا۔

جی گڑھانا۔ (۱) رنج دینا۔ رنجیدہ کرنا۔ ملول ہونا۔

جی گڑھنا۔ (۱- محاورہ) رنج یا غم ہونا۔

جی کو بھلی لگنا۔ (۱- محاورہ) اچھی معلوم ہونا۔ پسند آنا۔

جی کو روگ لگنا۔ (۱- محاورہ) کوئی فکر لکول لے لینا۔ کسی اکھن میں پڑنا۔

جی کو لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل پر اثر ہونا (۲) اچھا معلوم ہونا۔ پسند ہونا۔ چوٹ لگنا۔

جی کو مارنا۔ (۱- محاورہ) خواہشات کو ضبط کرنا۔ من مارنا۔ قناعت سے کام لینا۔

جی کھپانا۔ (۱- محاورہ) (۱) محنت سے کام کرنا (۲) مرنانا۔

جی کھٹا کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل بے زار ہونا (۲) تنفر کر دینا۔

جی کھٹا مسٹھا ہونا۔ (۱- محاورہ) دل لچھانا۔ کسی کو دیکھ کر خواہشات اُمنڈنا۔

جی کھٹنا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) بیزاری ہونا (۲) نفرت ہونا (۳) یاؤسی ہونا۔

جی کھراکھٹا ہونا۔ (۱- محاورہ) نیست میں منتور آنا۔ بے ایبانی پرا اُترنا۔

جی کھلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شرم و حجاب دور ہونا۔ بے باک ہونا۔

جی کھول کر۔ (۱- محاورہ) فیاضی سے۔ بے دریغ۔ افراط سے۔ خوب اچھی طرح۔

جی کھول کر تخرج کرنا۔ (۱- محاورہ) لٹے لٹے سے خرچ کرنا۔ کھٹے ہاتھ سے خرچ کرنا۔

جی کھونا۔ (۱- محاورہ) جان ہلکان کرنا۔ جان ضائع کرنا۔ تکلیفیں اٹھانا۔

جی کی آفت۔ (۱- محبت) دل کے لیے مصیبت۔

جی کی امان دینا (مانا) مانگنا۔ (۱- محاورہ) جان بخشی چاہنا (۲) شہری زلزلے کے آداب نگہوں میں بلور زنجیر کا استعمال ہونا تھا)۔

جی کی جی میں رہنا۔ (۱- محاورہ) دل کی حسرت یا ارمنا نہ لگنا۔ آرزو پوری نہ ہونا۔

جی کی لگی۔ (۱- محبت) دل میں کسی بات کا دھیان ہونا۔ فکر۔ دھن۔

جی گرا جانا۔ (۱- محاورہ) طبیعت سُست ہونا۔ دل بیٹھنا۔

جی گھوٹا۔ (۱- محاورہ) جان کھو دینا۔ برباد ہونا (۲) عاشق ہونا۔

جی گھیرانا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل پریشان ہونا (۲) وحشت ہونا۔ (۳) دل نہ لگنا۔

جی گھٹ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) غشش آنا (۲) نفرت کرنا۔

جی لُجھانا۔ (۱- محاورہ) دل کو اپنی طرف مائل کرنا۔ دل موہ لینا۔ اسپنے پر فریفتہ کرنا۔

جی لڑا دینا۔ (۱- محاورہ) پوری توجہ سے کام کرنا۔ جان کھپا دینا۔

جی لڑنا۔ (۱- محاورہ) خوف یا اندیشہ ہونا۔ ڈرنا۔

جی لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) دل ہلکان کرنا (۲) کسی کام میں دلچسپی لینا (۳) محبت ہونا۔

جی ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جان ڈالنا۔ زبرد کرنا (۲) محبت کرنا۔ (۳) محبت کرنا۔

جی ڈھونڈنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ڈھونڈنا۔ غشی طاری ہونا (۲) دل کا کمزوری یا شدت غم سے کمزور ہونا۔ (۳) دل کا بے قابو ہونا۔

جی رکنا۔ (۱) دل گھبرانا (۲) دم لگنا (۳) آزدہ ہونا۔

جی رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خوش رکھنا (۲) تسلی دلا سادینا (۳) لحاظ یا پاسداری کرنا۔

جی سائیں سائیں کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) غشی کے آثار ظاہر ہونا (۲) دل کی حالت بگڑنا۔

جی سنانا۔ (۱- محاورہ) کمزوری کی وجہ سے ٹھہال ہونا۔ دل بیٹھنا۔ دل پریشان ہونا۔

جی سے اتر جانا (اُترنا) (۱- محاورہ) نظروں سے گرجانا۔ قدر نہ ہونا۔ بے وقعت ہونا۔

جی سے بیزار ہونا۔ (۱- محاورہ) زندگی سے تنگ ہونا۔

جی سے جھٹانا۔ (۱- محاورہ) مرنانا۔ دم نکل جانا۔ انتقال ہونا۔

جی سے جی ہلنا۔ (۱- محاورہ) دو آدمیوں میں ٹوٹ رشتہ دوتی قائم ہونا۔

جی سے گزر جانا۔ (۱- محاورہ) مرنانا۔ جان دے دینا۔

جی سے گھڑنا۔ (۱- محاورہ) کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر کھنا۔ من گھڑت بات کہنا۔

جی سینے میں پھینکنا۔ (۱- محاورہ) کسی بات کی خواہش ہونا۔

جی شاد ہونا۔ (۱- محاورہ) شاد و شاد ہونا۔ (۱- محاورہ) خوش ہونا۔ مگن ہونا۔ مسرور ہونا۔

جی شکستہ ہونا۔ (۱- محاورہ) دل خوش و خرم ہونا۔ طبیعت کھلی بھلی ہونا۔ فرحان و شاد ہونا۔

جی غش ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی پر فریفتہ ہونا۔

جی کا بخار نہ لکنا۔ (۱- محاورہ) دل کی بھڑاس نکال لینا۔ رونے یا غصہ کرنے سے دل رنج دور کرنا۔

جی کا جھجنا۔ (۱- محاورہ) دل کا روگ۔ وہ کام یا بات جس سے دل گھبرانا ہو۔

جی کا دشمن۔ (۱- مذ) جان کا بیری۔

جی کا زیاں۔ (۱- مذ) جان کا نقصان۔

جی کا بخار ہونا۔ (۱- محاورہ) آزاد ہونا (۲) کسی کا عاشق ہونا۔

جی کا بخار۔ (۱- مذ) دل کی کمزورت۔ طلال۔ بخار خاطر۔

جی کا کھنا۔ (۱- محاورہ) دل میں خود بخود کوئی بات آنا۔

جی کا پھینا۔ دل کا خوف یا اندیشے کی وجہ سے دھوکنا۔ خوف معلوم ہونا۔

جی کرنا۔ (۱- محاورہ) ہمت کرنا۔ حوصلہ کرنا (۲) کسی چیز کو جی چاہنا۔

جی کڑا کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہمت کرنا (۲) ناگوار بات کو دل پر چب کر کے جھیل جانا۔

جی میں لگنا۔ (۱- محاورہ) اشکرنا۔ ذہن نشین ہونا۔ دل میں بیٹھنا۔  
جی میں مڑے لینا۔ (۱- محاورہ) خیال ہی خیال میں کھٹ اٹھانا۔  
جی نہ پھال ہونا۔ (۱- محاورہ) دل کا گرگرا ہونا۔ دل کا مضمحل ہونا۔ دل پریشان ہونا۔

جی نکلتا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، دل مکل جانا۔ مڑنا ۱۲، بے چین ہونا۔ عاشق بننا۔  
جی ہاتھ میں رکھنا (لینا)۔ (۱- محاورہ) ۱۱، غرض رکھنا۔ تسلی دینا۔ دل  
یا افسردہ نہ ہونے دینا ۱۲، قابو میں رکھنا۔

جی ہارنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، دل چھوڑ دینا۔ ہمت ہارنا ۱۲، کسی کام سے ملجیز  
رہ کر باز رہنا۔

جی ہٹ جانا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، نفرت ہو جانا ۱۲، توجہ ہٹ جانا ۱۳،  
محبت نہ رہنا۔

جی ہٹنا۔ (۱- محاورہ) خوف یا رحم سے دل کا ہٹنا۔

جی ہوا ہونا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، دل گھرا ۱۲، جان نکلتا۔ دم نکلتا۔

جی ہونا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، خواہش یا ارادہ ہونا ۱۲، زندگی باقی ہونا۔

جی ہنر ٹول پر آنا۔ (۱- محاورہ) نزع کی حالت میں ہونا۔ دم آخرا۔

جی بھی بھانگتا ہوگا۔ (۱- روزمرہ) دل میں ہی سمجھتے ہوں گے۔

جی ہی جانتا ہے۔ (۱- روزمرہ) تم ہمارے ساتھ جو پرسو کی کر رہے

ہو اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ بیان کرنے سے فائدہ؟

جی ہی جی میں آنا میں کرنا۔ (۱- محاورہ) دل ہی دل میں خیالات

پکانا۔ آپ ہی آپ باتیں کرنا۔

جی ہے تو جہان ہے۔ (۱- روزمرہ) زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔

جی۔ او۔ سی۔ (G.O.C.) جنرل آفیسر کمانڈنگ کا محنت۔

فرج کا اعلیٰ افسر۔

جی۔ بی۔ او۔ (G.P.O.) جنرل پوسٹ آفس کا محنت۔

شہر کا سب سے بڑا ڈاک خانہ۔

جے۔ (۱- مؤنت) [۱۱]، فتح۔ نصرت۔ جیت۔ ظفر مندی ۱۲، ترقی۔

عروج۔ اقبال ۱۳، توکل۔ تسلیم۔ ترک علق ۱۴، ندرت آشا باش۔

زندہ باد؟ مہرے۔ (۱۵) سمرت۔ شادمانی۔

جے۔ [۱۶- صفت] جیتنے جس قدر (تعداد) دغا ہر کرنے کے لیے)

جے پتھر۔ (۱۷- مذ) فتح نامہ۔ ڈگری۔

جے جے کار۔ (۱۸- صفت) فتح کے نعرے۔ فتح کی خوشی۔

جے جے دستی۔ (۱۹- صفت) ایک راگنی جو موت کے وقت گائی

جاتی ہے۔

جیبا۔ (ج۔ یا) [۲۰- مذ و صفت] ۱۱، جان۔ زندگی۔ جی ۱۲، پیارا۔

محبوب ۱۳، دانی کھلائی۔ دودھ پلانے والی۔

جیبا گری (Geography) [ج۔ یا۔ گ۔ رے۔ فی] [۲۱]

ڈاک ۱- مذ) وہ علم جس میں زمین کی قدرتی حالت اور سیاسی

تقسیم کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ جغرافیہ۔

جیبا گری (Geometrical) [ج۔ یا۔ گ۔ رے۔ فی۔

جی لگا ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی طرف خاص طور سے دھیان ہونا۔

جی لچکانا۔ (۱- محاورہ) مائل ہونا۔ خواہش ہونا۔ رغبت ہونا۔

جی لوٹ جانا۔ جی لوٹنا۔ ۱۱، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے دل پھونکنا

۱۲، از حد اشتیاق یا آرزو ہونا۔

جی لوٹنا۔ (۱- محاورہ) دل چھین لینا۔ عاشق کر لینا۔ فریفتہ کر لینا۔

جی لہرانا۔ (۱- محاورہ) جی لچکانا۔ دل میں تڑنگ پیدا ہونا۔

جی لے لینا۔ جی لینا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، دوسرے کے خیالات یا اس

کا عندیہ معلوم کر لینا ۱۲، دل پر قابو کر لینا ۱۳، خواہشات کو بھوکا دینا۔

جی مار۔ (۱- صفت) ۱۱، سستگین جرم۔ قتل وغیرہ ۱۲، خواہشات کو بھجنا

والا ۱۳، قاتل۔

جی مارنا۔ (۱- محاورہ) خواہشوں کو ضبط کرنا۔ خواہشات کو کھل دینا۔

جی مثلانا۔ (۱- محاورہ) سنے آتی ہوئی معلوم ہونا۔ امثال ہونا۔

جی مر جانا۔ جی مرنا۔ (۱- محاورہ) خواہش یا تمنا باقی نہ رہنا۔ دل مڑو

ہو جانا۔

جی مہلانا۔ (۱- محاورہ) افسوس ہونا۔ دریغ ہونا۔

جی ہٹنا۔ (۱- محاورہ) دل ہل جانا۔ بھیتیں مل جانا۔ ایک دل ہو جانا۔

جی میں آنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، ذہن میں آنا ۱۲، جی چاہنا۔ کوئی بات خیال

میں آنا۔

جی میں آنا۔ جی میں آنا۔ (۱- محاورہ) دل میں ہٹنا۔ ذہن نشین

کرنا۔ دل پر اثر کرنا۔

جی میں ارمان رہنا۔ (۱- محاورہ) حسرت نہ نکلتا۔ آرزو پوری نہ ہونا۔

جی میں بس رہنا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت کسی کا خیال رہنا۔

جی میں بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) دل پر اثر کرنا۔ دل میں آنا۔

جی میں ٹھاننا۔ (۱- محاورہ) ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔

جی میں چل جانا۔ (۱- محاورہ) رکھ کرنا۔ جھک کرنا۔

جی میں جگر ہونا۔ (۱- محاورہ) عزت ہونا۔ وقعت ہونا۔

جی میں جی آنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، تسلی ہونا۔ جان میں جان آنا۔ دم میں

دم آنا۔ بچنے کی امید ہونا۔

جی میں جی ڈالنا۔ (۱- محاورہ) یقین دلانا۔ اپنی بات دوسرے کے

دل میں آنا۔

جی میں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) دل میں خیال پیدا کرنا۔ بات دل میں

آنا۔

جی میں رکھنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، بھنیہ رکھنا۔ پوشیدہ رکھنا ۱۲، عداوت

یا بغض یا کینہ رکھنا۔

جی میں کرنا۔ (۱- محاورہ) دل ہی میں کوئی بات سوچنا یا منصوبہ باندھنا

جی میں کھینا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، دل میں پیوست ہو جانا۔ دل پر اثر

کر جانا۔ ۱۲، بہت پسند آنا۔

جی میں ٹھکر کرنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱، دل پر اثر کرنا۔ دل میں پھیر جانا۔

۱۲، دل مڑو لینا۔



جیتے جی مر جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تباہ ہو جانا۔ برباد ہو جانا (۲) سخت ترین صدمہ یا رنج پہنچنا۔ (۳) بے فیض ہونا۔ فائدہ نہ پہنچانا (۴) زندگی ہی میں چھوٹ جانا۔ (۵) کسی کام کا نہ رہنا۔ قدرتی صلاحیتوں سے محرومی۔

جیتے چاب چاب ہوئے داب داب۔ (۱۔ مثل) زندگی بھر چنے چاچا کر گزارا کیا اور وہی ہوتی دولت چھوڑ کر کھل بسا۔ بھروسہ آدمی کے بارے میں نہ کئے ہیں۔

جیتے مرتے۔ (۱۔ روزمرہ) (۱) بھول توں کسی نہ کسی طرح کسی صورت سے۔

جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ (۱۔ مثل) زندگی کشمکش میں ہے بھول توں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔

جیتتا۔ (رجحی بنا) [آر۔ صفت] (۱) جو جیت لیا گیا (۲) جس نے بازی جیت لی۔

جیتتا سو ہارا، اور ہارا سو ہوا۔ (۱۔ مثل) جس نے مقدمہ جیت لیا وہ تباہ ہوا اور جو ہار گیا وہ تو سمجھو مر گیا۔

جیتتا۔ (رجحی بنا) [آر۔ صفت] (۱) فتح کرنا۔ (۲) غالب آنا (۳) کامیاب ہونا۔

جیتتی مانتا نہ ہاری مانتا۔ (۱۔ محاورہ) کسی طرح کوئی بات نہ ماننا۔ جیتتی مکھی بھگتا۔ (۱۔ مثل) جان بوجھ کر تکلیف اٹھانا۔ کسی شخص کا دید و دانستہ آفت یا مصیبت میں مبتلا ہو جانا۔

جیتتی مکھی نہیں نکلی جاتی (۱۔ مثل) جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کیا جاتا جس میں نقصان ہو۔

جیتٹ طیارہ۔ (رجحیٹ۔ ٹی۔ یا۔ رہ) (Jet) [انگ۔ آر۔ ۱۔ مذکر] ایک خاص ہوائی جہاز۔

جھیلٹ۔ (۱۔ ۵۔ مذ) (۱) شوہر کا بڑا بیٹا (۲) ہندی سال کا دوسرا مہینہ جو ۱۵ مئی سے ۱۵ جون تک ہوتا ہے (۳) اوپر تلے رکھی ہوئی بہت سی روٹیاں (۴) پہلے پیدا ہوا۔

جھیلٹ جھٹانی دیورا سب مطلب کے مہیت۔ مطلب بن کوئی بھی رکھے نہیں پر پیت۔ (۱۔ مثل) دنیا میں سب اپنی غرض سے اُتیت اور محبت ظاہر کرتے ہیں۔

جھیلٹ جھیلٹ، اسار ٹھہریٹے۔ (۱۔ مثل) فصل اٹانے میں جھیلٹ کا بیڑا اچھا ہوتا ہے مگر اسار ٹھہرانا اچھا نہیں ہوتا۔

جھیلٹ کی جھیلٹ۔ بہت سی روٹیاں۔ تھسی کی تھسی۔

جھیلٹ کے بھروسے پیٹ۔ (۱۔ مثل) پرتے بھروسے کام کرنا۔

جھیلٹا۔ (جے۔ ٹھا) [آر۔ صفت] (۱) میٹھ کے نیلے کی پیدائش (۲) پہلوئی کا بچہ (۳) سب سے اونچا یا سب سے بڑا۔

جھیلٹانی۔ (جے۔ ٹھا۔ بی) [آر۔ ۱۔ مٹ] شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی۔

جھیا۔ (رجحی۔ جا) [آر۔ ۱۔ مٹ] [آر۔ ۱۔ مٹ] بن کا خاندان۔ بہنوئی جھیا کے مال پر سالے متوالے۔ (۱۔ مثل) دوسرے کے مال پر

جیت ہونا۔ (۱۔ محاورہ) فتح حاصل کرنا۔ کامیابی ہونا۔

جیتتا۔ (رجحی بنا) [آر۔ صفت] زندہ (۲) جاندار (۳) زیادہ۔ بیش۔ جیتتا جاگتا۔ (۱۔ صفت) صحیح سلامت۔ زندہ۔ تندرست۔

جیتتا چھوٹ۔ (۱۔ مذ) کھلا چھوٹ۔ صریح غلط بیانی۔ صاف دروغ گوئی۔

جیتتا چھڑا چھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چیرا دینا (۲) ازالہ بکارت کرنا۔ جیتتا چھوٹا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) آدمی کو دیوار میں زندہ چھوڑ دینا۔ ایک نماز پورے وقتوں میں دی جاتی تھی۔

جیتتا رہنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زندہ رہنا۔ سلامت رہنا (۲) لمبی عمر پانا۔ جیتتا کاڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زندہ دفن کرنا (۲) سخت ترین تکلیف میں مبتلا کرنا۔

جیتتا کاڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) زندہ دفن ہونا۔ پڑانے وقتوں میں سادھو لوگ سانس روک کر خود کو زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے اور کافی عرصے بعد زندہ نکلتے تھے۔

جیتتا لہو۔ (۱۔ ۳۔ تازہ خون۔ تازہ تازہ لہو۔ جیتتا ناخن۔ (۱۔ محاورہ) ناخن جو اجمعی کھال یا گوشت سے الگ نہ ہوا ہو۔ جو اجمعی کانٹے کے لائق نہ ہو۔

جیتتا نہ چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) زندہ نہ رہنے دینا۔ کسی نہ کسی ترکیب سے ہلاک کر دینا۔

جیتتا ہی زمین کا پیوند کر دینا۔ جیتتا ہی زمین میں گاڑ دینا۔ (۱۔ محاورہ) انتہائی اذیت دینا۔ شدید نقصان پہنچانا۔

جیتنے آسا مومے نراسا۔ (۱۔ مثل) جب تک زندگی ہے امید ہے مر جانے پر کچھ نہیں۔

جیتے پتائی پوچھی نہ بات۔ مرے پتاکو دو وہ اور بھات۔ (۱۔ مثل) زندگی میں باپ کی خبر نہ لی، مرے پر دو وہ اور پتاکو پر اس کے نام کا فاتحہ دیتے ہیں۔

جیتے تھے تو لیکھوں بھرے مر گئے تو موتیوں جڑے۔ (۱۔ مثل) جب زندہ تھے تو عیب ہی عیب بھرے تھے مرنے کے بعد قابل تعریف سمجھے جانے لگے، باکمال انسان کی قدر اس کے مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔

جیتے جی۔ (۱۔ زندگی میں (۲) بھر تاحیات۔ تمام عمر تک جیتے جیتے جی ختم میں جانا۔ (۱۔ محاورہ) زندگی ہی میں دوزخ جیت لی گئی اٹھانا۔ انتہائی تکلیف یا اذیت میں ہونا۔

جیتے جی قبضہ۔ (۱۔ محاورہ) زندگی بھر کا ٹھیکہ یا گواہ داری۔

جیتے جی کا میلا ہے۔ (۱۔ مثل) زندگی کی ساری سرگرمیاں زندہ رہنے تک ہی ہیں۔

جیتے جی کا ناتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) سب رشتے اور تعلق زندگی تک ہیں۔

جیتے جی مٹی میں ملنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) خواہشات ترک کر دینا (۲) عاجزی اور انکسار کو اپنا شعار بنالینا۔

جیسی دانی آپ چھنال ویسے جانے سب ہنسار دانش اس کے  
آدنی کو دوسرے لوگ بھی بڑے نظر آتے ہیں۔

جیسی رُوح ویسے فرشتے۔ (دیشل) انسان خود بڑا ہوتا ہے ہی جیسے  
بڑے لوگ اور بڑی چیزیں پسند کرتا ہے۔

جیسی کرنی ویسی بھرنی (دیشل) جیسا کام کروگے ویسا نتیجہ ملے گا۔  
جیسی کیسے ویسی بیٹھے۔ انسان اپنی بات کا اچھا جواب اور خراب

بات کا خراب جواب پاتا ہے۔  
جیسی گئی بھیس ویسی آئیں، حتیٰ نہر کا بوریا لائیں۔ (دیشل) شادی  
کا کام ہونی مقدر ہے۔

جیسی مائی ویسی جانی۔ (دیشل) جیسی ماں ویسی بیٹی۔  
جیسی نیت ویسی مُراو۔ (دیشل) بڑی نیت سے کیا ہوا کام بڑا جانا

ہے۔ اچھی نیت سے کیا جانے تو سونو ملے۔  
جیش۔ (ر۔ ع۔ ۱۔ مذ) بھکر، فوج، سپاہ، ڈل، جمع، جیوش۔  
جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔

جیش۔ (ر۔ ع۔ ۱۔ مذ) بھکر، فوج، سپاہ، ڈل، جمع، جیوش۔  
جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

جیشتر۔ (جی۔ قد) (ت۔ ۱۔ مذ) ایک مرتع زیور جو گڑھی پر باندھا جاتا ہے۔  
کھنی۔

فیضی بگھارنا۔  
ججی۔ (جی۔ جی) (ہ۔ ۱۔ مرث) [۱۰] بہن۔ ہمیشہ خواہر (۲) پستان۔  
چھانی۔

چتیز۔ (جی۔ یز) [ر۔ ع۔ صفت] [۱۱] خالص۔ کھڑا (۲) زبردست۔ زوردار۔  
چنیدھر۔ (جی۔ دھر) [ر۔ اوق] چدھر۔ جس طرف۔ جس کسی بہت۔

چھینیا۔ (جی۔ سا) [ہ۔ صفت] [۱۲] جس طرح کا۔ جس صورت کا (۲) جس  
ڈھنگ کا۔ جس طریقے کا۔ ایسا کی بند۔

چھیا باب ویسا بٹھا۔ (ر۔ مذ) اولاد پر خاندان کا اثر ہوتا ہے۔  
چھیا بووگے ویسا کاٹوگے۔ (دیشل) جیسے کام کروگے ویسا ہی ان

کا پھل ملے گا۔  
چھیا ٹھینسا۔ جس طرح یا قسم یا وضع کا ممکن ہو ویسا ہی نہ بھلا نہ بڑا۔  
چھیا تیرا لینا دینا ویسا میرا کام کاج۔ (دیشل) جیسی مزدوری

دوگے ویسا ہی کام ہوگا۔  
چھیا چلے پیے۔ (۱) پسند کے مطابق۔ جیسے کی خواہش تھی (۲) مٹنا  
یا موزوں (۳) موقع عمل کے مطابق (۴) جیسے ہر جا چلے پیے،

بھرا پڑے۔  
چھیا ڈوودھ ویسی بڈھ۔ (دیشل) عقل (بڈھ) ڈوودھ (خاندان) کے  
مطابق ہوتی ہے۔

چھیا دیس ویسا بھیس۔ (دیشل) جس ملک میں رہنے کا اتفاق ہو  
وہاں کے طور طریقے کی پابندی کرنی چاہیے۔

چھیا راجا ویسی پر جا۔ (دیشل) جیسا حکم وقت ہوتا ہے ویسی اُس  
کی رعایا ہوتی ہے۔

چھیا سٹوئی چھو ویسا بچھو۔ (دیشل) چھوٹی ہر شہرت میں بڑی ہے  
خواہ چھوٹی ہے چھوٹی چیز کی ہوا بڑی سے بڑی چیز کی چھوٹی ہی

ہے (بچھو ہوا ہر بات کو کہتے ہیں)۔  
چھیا کا ٹیسا۔ (۱) چھوٹو۔ نقل مطابق اصل (۲) جوں کا توں  
چھیا کرنا ویسا بھرننا۔ جیسا کروگے ویسا بھروگے (پاؤگے)

چھیا کیا ویسا پایا (دیشل) انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے  
بڑی کا بدلہ بڑا اور نیکی کا نیک۔

چھیا کن بھرو ویسا من بھرا (دیشل) تنھو ہی سی چیز دیکھ کر اس کی پوری  
مقدار کی اچھائی بڑائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

چھیا کہ۔ جس طرح کہ۔  
چھیا ٹنہ ویسا ٹھپٹھ (دیشل) کوئی جیسا کام کرتا ہے ویسا ہی پھل  
ملتا ہے۔

چھیا ٹنہ ویسی بات۔ (دیشل) انسان اپنی قابلیت اور صلاحیت  
کے مطابق بات کرتا ہے۔

چھیشی۔ (جی۔ ہی) [ہ۔ صفت] [جس طرح۔ جس طرح کی جس موقع کی۔  
جیسی پڑھی ویسی سہی۔ (دیشل) ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت  
برداشت کرنا پڑی۔

چھیشی۔ (جی۔ ہی) [ہ۔ صفت] [جس طرح۔ جس طرح کی جس موقع کی۔  
جیسی پڑھی ویسی سہی۔ (دیشل) ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت  
برداشت کرنا پڑی۔

چھیشی۔ (جی۔ ہی) [ہ۔ صفت] [جس طرح۔ جس طرح کی جس موقع کی۔  
جیسی پڑھی ویسی سہی۔ (دیشل) ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت  
برداشت کرنا پڑی۔

چھیشی۔ (جی۔ ہی) [ہ۔ صفت] [جس طرح۔ جس طرح کی جس موقع کی۔  
جیسی پڑھی ویسی سہی۔ (دیشل) ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت  
برداشت کرنا پڑی۔

جیوٹرا جانا - جیوٹرا نکلنا - (ہ- عاوردہ) (ق) مر جانا۔  
 جیوٹرا دہل جانا - (ہ- عاوردہ) (ق) ڈر جانا۔  
 جیوٹری - (جیو- ٹری) [ھ- ا مرث] آر سی - ڈوری -  
 جیوٹس - (ج- ا- مذ) دیکھیے جیش، جس کی یہ جمع ہے۔  
 جیومیٹری - (Jeometry) [انگ- ہسٹ] علم ریاضی کی ایک  
 شاخ۔  
 جیوٹک - (حرف تشبیہ) مانند - مثل - جئون -  
 جیون - (جی- ون) (ہ- ا- مذ) [ا] زندگی - وجوؤ -  
 جیوسے میرا بھائی - گلی گلی بھرجانی - (ایش) بھائی زندہ رہے۔ بھارت  
 کی کمی نہیں۔

جیو آئنا - روح - جان -  
 جیوٹش - (س- ا- مذ) علم نجوم -  
 جیووان - جان کی قربانی -  
 جیوٹ - (جی- وٹ) [ہ- صفت] [ا] دلیر - ہماور - جی وار (۲)  
 شجاعت -  
 جیوٹ کرنا - (ہ- عاوردہ) ہمت کرنا - دلیری دکھانا -  
 جیوٹ - (Jute) - (ج- یوٹ) [انگ- ا- مذ] کرپٹن -  
 جیوری (Jury) (جیو- ری) [انگ- ا- ہسٹ] چیدہ اشخاص  
 کی وہ جماعت جو مقدمے کی سماعت میں عدالت کی امداد کرتی ہے۔  
 جیوٹرا - (جیو- ٹرا) [ہ- ا- مرث] [ا] دل - جی (۲) مرضی - خوشی - ہنسا -  
 (۳) وہ اناج جو کیروں کو دیا جاتا تھا۔



اس کے پانچاں پھرنے کے لیے چارپائی کا بان کاٹ دینا۔  
چارپائی کے بان توڑنا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت ہنگ پر بیٹے رہنا۔ کابل  
اور سست ہونا۔

چارپائی میں کان نکلنا۔ چارپائی میں سیل یا نمی کے باعث خم آجانا۔  
چارپائی والا۔ رکتا یا کھنکھل۔

چارپایہ۔ چوپایہ۔ چارپاؤں کا جانور۔ ڈھور ڈنگر وغیرہ۔  
چارپایہ ہونا۔ (۱- محاورہ) مزارع کے طور پر شادی ہونے پر ردھاسے کہتے  
ہیں۔ جورد والا۔ سیال دار ہونا۔

چارپہر دن۔ (۱- مذ) یورادن۔

چارپہرات۔ (۱- صفت) پہلوی رات۔

چارپہر۔ (۱) امام حسن (۲) امام حسین (۳) خواجہ حسن بصری (۴)  
کیل ابن زیاد۔

چارپیے۔ (۱- مذ) مال۔ دولت۔

چارپیے پاس ہونا۔ (۱- محاورہ) امیر ہونا۔ آسودہ حال ہونا۔  
چارپیے سے خوش۔ (۱- صفت) کھاتا پیتا۔ آرام سے زندگی گزارنے والا۔  
چارپیے کے لیے۔ تھوڑے مال کے لیے۔

چارتار۔ (۱- مذ) چار بوڑھے۔ چار کپڑے (۲) چار گنے۔ چار زیور۔

چارتال۔ (۱- مذ) چوتلا۔ طبلہ بجانے میں ایک تال۔

چار تخم۔ (۱- مذ) ریحان۔ اسفونل۔ بانگ اور خزند کے بیج جو چشم  
میں استعمال کیے جاتے ہیں۔

چار تکبیر۔ (۱- صفت) نماز جنازہ۔

چار تک۔ (۱- مذ) چار قدم (۲) سرپٹ۔

چار ٹوک۔ (۱- مذ) چار ٹکڑے والا۔ چوکھنڈا۔ چار پھانگ۔

چار جامہ۔ (۱- مذ) کپڑے کا زین جس میں کڑی نہیں ہوتی (۲) تہ بند  
بانڈھے ہوئے اور باقی بدن تنگ۔

چار جاتی۔ ناشہ۔ بدکار۔

چار چالے۔ (۱- مذ) نئی کھن شادی کے بعد چار مرتبہ پہلے بیٹنے کیے میں  
مختلف رشتے داروں کے یہاں جمان ہوتی ہے۔ ہر ایک پھرے میں کپڑوں  
کا بوڑا اور کچھ نقدی دیتے ہیں۔

چار چاند لگانا۔ (۱- محاورہ) عزت بڑھانا۔ شان و شوکت بڑھانا۔ خوبصورتی  
بڑھانا۔ آنکھوں پر بٹھانا۔

چار چاند لگانا۔ (۱- محاورہ) عزت بڑھانا۔ شان و شوکت بڑھانا۔ خوبصورتی  
بڑھانا۔ آنکھوں پر بٹھانا۔  
چارچشم۔ (۱- صفت) (۱) جے۔ بے عروت۔ بے وفا۔ بے دید۔ تو تاشیم  
دہ جالوزہیں کی آنکھوں کے اُپر کی طرف سیاہ رنگ کے نشان ہوں خصوصاً  
گت (۲) قنظر۔ نہایت آرزو مند۔

چارچلو خان (لہو) بڑھنا۔ (۱- محاورہ) نہایت خوش ہونا۔

چارچوٹی کی مار۔ (۱- صفت) (۱) سخت مار دینا۔ شدید ضرب پہنچانا۔  
لات لٹکتے کڑی اور کڑے سے مارنا۔

چار (چول) چولی برابر ہونا۔ (۱- محاورہ) چوکور۔

چار چھینٹوں میں دھو دینا۔ (۱- محاورہ) ذرا سی دیر میں کام کر دینا۔ تھوڑی

دلا پیٹے ہوئے لٹکے کو بورو بنا کر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھی دوسرے  
لڑکوں کی پڑھی بیٹے ہیں۔

چادر چھت۔ (۱- صفت) (۱) چھت کا کپڑا (۲) جتنی چادر کی چھت۔

چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا۔ (۱- محاورہ) اپنی حیثیت کے مطابق وقت گزارنا۔  
چادر ڈالنا۔ (۱- محاورہ) دیکھتے چار ڈھانا۔

چادر سے باہر پاؤں پھیلانا۔ (۱- محاورہ) بساط سے بڑھ کر کام کرنا۔  
چادر ہلانا۔ (۱- محاورہ) لڑائی کی حالت میں مغلوب فرج کا چادر ہلا کر اترنا، مغز  
شکست کرنا اور پناہ چاہنا (۲) فریاد کرنا (۳) لوگوں کو جمع کرنے کی نشانی۔

چادر۔ (۱- صفت) (۱) بڑا اور چوڑا دوپاٹ کا دوپٹہ۔ بڑی چادر۔

چادر۔ (۱- صفت) (۱) تین اور ایک یا دو اور دو (۲) چند۔

چادر آدمی۔ چند آدمی۔ دو چار بھلے نالن۔ بیچ۔

چادر آنکھیں کرنا۔ (۱- محاورہ) آنکھیں ملانا۔ سامنے آنا۔ مقابل ہونا۔

چادر آنکھیں ہونا۔ (۱- محاورہ) زیادہ واقفیت ہونا۔ محبت ہونا (۲) سامنا ہونا۔

چادر آئینہ۔ (۱- صفت) (۱) ایک قسم کی زرہ بہتر۔

چادر ابرو کا صفایا۔ (۱- محاورہ) سر، جھوٹوں، مونچھوں اور داڑھی کا منڈا دینا۔

چادر اجساد ارکان۔ (۱- مذ) (۱) چار مندر۔ بیٹی۔ ہوا۔ پانی اور آگ (۲) اربعہ عناصر  
چادر اسباب۔ (۱- مذ) چار ملیں۔ مادی۔ مادی۔ مادی۔ مادی۔ مادی۔ مادی۔

چادر انگلی کا (پریم) پڑھنا۔ (۱- مذ) چھوٹا سا پریم۔ رقتہ۔ قسط۔

چادر انگلیاں آٹھنا۔ (۱- محاورہ) اٹھارے سے سلام کرنا۔ سلام کا جواب دینا۔  
چادر انگلیاں مسر پر نہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) سلام تک نہ کرنا۔ سلام کے لیے  
ناٹھ تک نہ اٹھانا۔

چادر باغ۔ (۱- صفت) (۱) وہ شالی رومال جس کے چاروں گوشوں پر چار  
رنگ کے گل بونے یا کڑھے ہوتے ہیں۔ چوکھنڈا باغ۔

چادر بالاش، بالشت۔ (۱- مذ) (۱) گڈو لیکہ (۲) تخت۔ گدی۔ مسند (۳)  
کونج (۴) کرسی (۵) عناصر اربعہ۔

چادر بانگ۔ (۱) جو شیار۔ حقل مند (۲) چٹ۔ مالاک۔

چادر بند۔ (۱) پشت کے چاروں بوڑ (۲) پشت کا دائیں بائیں۔ نیچے اور  
اوپر کا حصہ۔

چادر بیٹی۔ رباعی۔ شاعری کی ایک صنف جو چار مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔  
چادر بیسی۔ آستی۔ ۸۰۔ بیٹل کم ستو۔

چادر پانچ۔ (۱) چند (۲) جھگڑا۔ جیل و محنت۔ حذر۔

چادر پانچ (کرنا) لانا۔ (۱- محاورہ) جیل محنت کرنا۔ بد ذاتی کرنا۔ شرارت کرنا۔

چادر پار سے کا خلعت۔ (۱- مذ) وہ خلعت جس میں چار تہین کپڑے ہوتے ہیں۔

چادر پائی۔ (۱) کاٹ۔ مہنی۔ چھوٹا پنک۔ پنکڑی (۲) مجازاً لاش۔ جنازہ  
زخمی۔ مجروح۔ گھائل۔

چادر پائی پر پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) چارپائی پر لیٹنا (۲) بیمار ہونا۔ صاحب فراش ہونا  
چادر پائی سے پیٹھ لگ جانا۔ (۱) کاٹ پر پڑے پڑے پیٹھ میں زخم ہو جانا۔  
(۲) بیمار کا بہت کر دہ ہو جانا۔

چادر پائی کا لونا۔ بیٹھے یا کھٹے سے چار پائی سے آواز نکلنا۔  
چادر پائی کاٹ دینا۔ (۱- محاورہ) بیمار اٹھنے بیٹھے سے مسخورد ہو جائے تو



سی تو قبر میں کام بنا دینا۔

چار حرف بیچنا۔ (۱- محاورہ) لعنت کرنا (لعنت میں چار حرف ہیں)۔  
چار خانہ۔ (ف- ۱- مذ) (۱) خانہ دار پڑا (۲) شطرنج کی بساط میں درمیان کے چار خانے (۳) مولیٰ کا معادہ۔

چار دانٹ۔ (۱- مذ) چار سال کا جوان مولیٰ یا گھوڑا کیوں کہ اس عمر میں سانس کے چار دانٹ نکل آتے ہیں۔

چار دانگ۔ (۱- مذ) (۱) چاروں طرف۔ کل۔ تمام (۲) دنیا کی چار طرفیں (۳) دنیا کا بچھا حصہ۔

چار دانے۔ (۱- مذ) تھوڑا سا نڈ۔

چار دن۔ (۱- مذ) تھوڑے دن۔ چند روز۔ ذرا سی مدت۔

چار دن اور جو اٹھالو۔ تھوڑی مدت اور جی۔

چار دن چلنا۔ (۱- محاورہ) تھوڑے دن باقی رہنا۔ کمزور۔

چار دن کی بادشاہی۔ (۱- معنی) چند روزہ۔ حکومت چند روزہ۔ چار دن کی بہار۔ چند روزہ رونق۔

چار دن کی بہار۔ (۱- معنی) چند روزہ رونق۔

چار دن کی چاندنی۔ (۱- معنی) چند روزہ بہار۔ عارضی رونق۔

چار دن کی چاندنی پھر اندھیرا پاکھ (رات)۔ چند روزہ عیش ہے اور پھر وہی تخلیق۔ چند روز کی رونق پھر وہی بے رونقی۔

چار دن کی کوٹوالی پھر وہی کھر باوہی جالی۔ (۱- مثل) اس موقع پر بولتے ہیں جب کسی نالائق شخص کو عارضی رتبہ مل جائے۔

چار دیوار۔ (ف- ۱- مذ) کسی رقبے یا معاملے کے چاروں طرف کی دیواریں۔

چار دیواری۔ (ف- ۱- معنی) شہر پناہ ضعیف۔ گھیرا۔ احاطہ۔

چار روزہ چند روز۔

چار روزہ۔ (۱- معنی) چند دن کی۔

چار زانو بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔

چار سو۔ (ف- تابع فعل) چاروں طرف۔ شمال جنوب۔ مشرق۔ مغرب۔

چار (چہار) شنبہ۔ (ف- ۱- مذ) بڈھ۔

چار ضرب۔ (ف- ۱- مذ) (۱) سونہ کے ایک شکل کا نام جس میں ذکر نئی اشبات کے وقت۔ دل۔ جگر۔ دماغ اور بیض پر اندھا اللہ کے لفظ کی ضرب۔ فزیت یہ

فزیت زور سے لگاتے ہیں (۲) چوتنا لاقص (۳) بیعت کے وقت جو تلمذ لوگ چار بار دیکھنا یا کرتے ہیں۔

چار شخص۔ (ف- ۱- مذ) چاروں اصل بڑھج سے موجودات کی ظاہری صورت نمودار ہوئی۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی زمانہ قدیم میں انہیں کو اصل اور بنیادی

بڑد مانا جاتا تھا۔

چار قدم۔ (ف- ۱- مذ) (۱) تھوڑا فاصلہ (۲) بہت نزدیک۔ تھوڑے فاصلے پر۔

چار قدم آگے چلنا۔ (۱- محاورہ) غالب رہنا۔ بڑھا رہنا۔

چار قل۔ قرآن مجید کے تیسویں پارے کی چار سو دہائیوں جو لفظ قل سے

شروع ہوتی ہیں (۱) سورتہ البقرہ (۲) سورتہ الانعام (۳)

سورتہ الفلق (۴) سورتہ الناس۔

چار کانے۔ (۱- مذ) (۱) چار سر بازوں کی اصطلاح میں ایک داؤ کا نام۔

یعنی جب تینوں پاسوں میں چار نقطے اس طرح برآتے ہیں کہ ایک پاسے

میں دو صف اور دو پاسوں میں ایک ایک آئے تو اس کو چار کانے کہتے ہیں۔

چار کانے (آنا) پڑنا۔ (۱- محاورہ) داؤں کا سبب ملا نہ پڑنا۔

چار کپڑے زیادہ پھاڑے ہیں۔ (۱- مثل) (۲) زیادہ تجربہ حاصل کیا ہے (۳) زیادہ جینا۔

چار کھونٹ۔ (۱- معنی) (۱) چار طرف (۲) دنیا کے چاروں طرف (۳) چاروں

چار کی مرضی۔ (۱- معنی) چند آدمیوں کی خوشی۔

چار کے کان آواز پڑنا۔ (۱- محاورہ) ہنرہ ہونا۔ پرچا ہونا۔

چار کے کاڈھے پر (جھانا) چڑھنا۔ (۱- محاورہ) سرنے کے بعد جنازہ چار آدمیوں کے کاڈھوں پر جھانا۔

چار (گام) گامہ۔ (ف- ۱- مذ) تیز رفتار گھوڑا۔

چار گنا۔ (۱- عدد) چوگنا۔

چار گوشہ۔ چوکونی چیز (۲) تابوت (۳) تخت شاہی۔

چار مذہب۔ (ف- ۱- مذ) اہل سنت کے چار مذہب (۱) حنفی (۲) فقہ امام

دو عینہ کے پیروکار (۳) حنفی (۴) فقہ امام احمد بن حنبلہ کے پیروکار (۵) شافعی (۶) فقہ امام شافعی کے پیروکار (۷) مالکی (۸) فقہ امام مالک کے

پیروکار)۔

چار مخز۔ (ف- ۱- مذ) خربوزہ۔ کدو۔ کھیر اور تربوز کے بیجوں کا مغز۔

چار منزل۔ (ف- ۱- معنی) شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ معرفت۔

چار (موج) موج۔ (ف- ۱- مذ) بھنور۔ گرداب۔

چار مریخ۔ (ف- ۱- معنی) زمانہ قدیم کی ایک عبرت ناک سزا جس میں مانتوں پیروں

میں چار مینٹیں ٹھونک دی جاتی تھیں۔

چار میخا کرنا۔ (۱- محاورہ) اونڈھا یا چت لٹا کر چاروں ہاتھ پاؤں میخوں سے

باندھ کر سزا دینا۔

چار میں۔ (۱- معنی) فعل) خیزوں میں۔ لوگوں میں۔

چار میں لانڈی کھینا۔ (۱- محاورہ) رازناش ہونا۔

چار ہاتھ۔ (۱- مذ) (۱) دو اور دو ہاتھ لہائی میں چار ہاتھ (۲) قیاسی پیمائش۔

چار ہاتھ اچھلنا۔ (۱- محاورہ) بہت بے چین ہونا۔

چار ہاتھ کی زبان ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت زبان دراز ہونا۔ گستاخ ہونا۔

چار یار۔ (ف- ۱- مذ) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بڑے صحابی حضرت

ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔

چار یاری۔ (ف- ۱- معنی) (۱) چار یار سے منسوب (۲) خاص دوستوں کا مجمع۔

(۳) گھر کا روپیہ جو چوکور ہوتا ہے اور برکت کے لیے رہوں کی تعمیل

میں رکھتے ہیں۔

چارا۔ (۱- معنی) (۱) چاروں کی سبز خوراک۔ گھاس وغیرہ (۲) وہ

بیز جو پھلی شکار کرنے کی غرض سے کانٹے میں لٹائی جاتی ہے (۳)

چھوٹا پردا۔

چار ڈالنا۔ مولیٰ کے آگے گھاس وغیرہ ڈالنا۔

چار لگانا۔ (معنی) مرکب) پھلی شکار کرنے کو کانٹے میں کوئی چیز لگانا۔

چارا چھوڑا۔ (۱- معنی) (۱) چھوڑا (۲) ذوق۔ (۱- مذ) (۱) زور (۲) اسباب۔



چاکی - (چا۔ کی) - ۱۔ مٹ [ ۱۔ پٹے بازوں کی ایک اصطلاح (۲) چکی۔  
چاکی پھیری ہوئی چون کی ڈھیری - (۱) ایش، محنت کرنے کا جملہ مل کر بتا ہے۔ چکان چلانے سے آنا نکل آتا ہے۔

چاکی کا لائقہ مارنا - (۱) محاورہ) بدن پر خالی گلا دیکھ کر مار کرنا۔  
چال - ۱۔ مٹ [ ۱۔ رفتار، حرکت۔ چلنے کا انداز (۲) گھوڑے کی رفتار۔  
گھوڑے کا قدم (۳) روشنی - رویت (۴) طرز - طور و طریق (۵) عادت۔ سبھا (۶) شطرنج کے بھرے یا چوڑی کی زد کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جانا (۷) مکر۔ فریب۔ دھوکا۔ گھات۔ تجویز (۸) عادت۔  
رداج - رسم (۹) ایک بھر یا وزن۔ ایک سُر (۱۰) ایک قسم کی پھل۔

چال اُڑانا - (۱) محاورہ) پیروی کرنا۔ نقل کرنا۔ رنگ اُڑانا۔  
چال باز - ۱۔ صفت) چالاک۔ ہوشیار۔ عیاری۔ فریبی۔  
چال بازی - (ف۔ ۱۔ مٹ) چالاک۔ عیاری۔ فریب۔ شرارت۔ چل۔

چال بتلانا - (۱) محاورہ) شطرنج میں بھرے کو خاص انداز سے چلنے کا مشورہ دینا۔  
چال بٹرنا - (۱) محاورہ) داؤں چل جانا۔ فریب یا دھوکا کامیاب ہونا۔ تدبیر میں پڑنا۔  
چال چلن - (۱) مذ۔ طور۔ طریقہ۔ رنگ ڈھنگ۔ روش۔ رویت۔ عادت۔ نصیحت۔  
چال چلنا - (۱) محاورہ) ۱) برتاؤ کرنا۔ پیش آنا (۲) فریب دینا۔ چل دینا (۳) نمونہ یا وضع اختیار کرنا (۴) شطرنج یا چومر دینے میں بھرہ چلنا (۵) تدبیر کارگر ہونا۔ چال کا کامیاب ہونا۔

چال چوگنا - (۱) محاورہ) تدبیر غلط ہو جانا۔ سہو ہو جانا۔  
چال دکھانا - (۱) محاورہ) ۱) چلا جانا۔ سدھارنا (۲) گھوڑے کا رفتار یا قدم دکھانا۔  
چال ڈھال - (۱) مٹ) رفتار۔ گنتر۔ طرز و روش۔ طور طریقہ۔ انداز۔

چال ڈھال میں بیس ہونا - (۱) محاورہ) طرز و روش میں بہتر ہونا۔  
چال سُو بھنا - (۱) محاورہ) تدبیر یا منصوبہ ذہن میں آنا۔  
چال سوچنا - (۱) محاورہ) شطرنج کا کچھ چلنے کے لیے دیر تک غور کرنا۔

چال سیکھنا - (۱) محاورہ) کسی کی وضع اختیار کرنا کسی کے چلنے کا طریقہ اختیار کرنا۔  
چال سے نہ چوگنا - (۱) محاورہ) دھوکا دینے سے باز نہ آنا۔ شرارت کرنا۔  
چال کرنا - (۱) محاورہ) دھوکا دینا۔ فریب کرنا۔ چالاک کرنا۔ داؤں کرنا۔

چال میں آنا - (۱) محاورہ) دھوکے میں آنا۔  
چال ہونا - (۱) محاورہ) دیکھے چال کرنا۔ شطرنج یا جوئے میں اچھی چال پڑنا۔  
چالیں (جھول جانا) جھولنا - (۱) محاورہ) گھبرا جانا۔ مٹ پٹا جانا۔ کچھ نہ سُو بھنا۔

چالیں چلنا - (۱) محاورہ) دھوکا دینا۔ فریب دینا۔  
چاللا - (چا۔ لا) - ۱۔ ۱۔ مذ [ ۱) روانگی۔ رخصت۔ کوچ (۲) نئی دھن کا کسراں سے شادی کے بعد اول چار پارہیکے جانا (۳) روانگی۔

چاللا دیکھنا - (۱) محاورہ) صورت دیکھنا۔ نجوم کے قاعدے کے مطابق سفر کا وقت مقرر کرنا۔

چالاک - (چا۔ لاک) (ف۔ ۱) صفت) ۱) محنتی۔ جفاکش۔ کام کرنے میں چست۔  
پھرتیلا۔ تیز رفتار۔ (۲) زیرک۔ ہوشیار۔ ذہین (۳) مکار۔ فریبی (۴) کاری گر۔ بھڑمند۔

چالاک دست - (ف۔ ۱) صفت) ہوشیار۔ لائقہ کی صفائی دکھانے والا۔  
چالاک دستی - (ف۔ ۱) مٹ) چالاک۔ ہوشیار۔ لائقہ کی صفائی۔

چالاک - (چا۔ لاک) (ف۔ ۱) مٹ [ ۱) پستی۔ پھرتی۔ تیزی (۲) ہوشیاری۔  
دانائی (۳) عیاری۔ مکاری۔  
چالاک کرنا - (۱) محاورہ) دھوکا دینا۔ دھوکا کرنا۔ کھسک جانا۔ دھوکا دینے کا نکل جانا۔

چالان - (چا۔ لان) (۱) مذ [ ۱) چمک۔ پستی ہوئی اشیاء کی فہرست (۲) مُرسلہ اشیاء کی رسید (۳) رسید (۴) پروانہ راہ داری۔ پاس۔ پاسپورٹ (۵) روانگی۔ انتقال (۶) روداد تفتیش یا ملازم کو نصف کے ڈوبرو پیش کرنا۔ قانون کی خلاف ورزی پر باز پرس (۷) ایک نکلے سے دوسرے نکلے کو منتقلی۔

چالان ہونا - (۱) محاورہ) قانون کی خلاف ورزی پر عدالت میں حاضر ہونے کا حکم ملنا۔

چالو - (چا۔ لو) (صفت) چلنے والا۔ رواں۔ روانج۔  
چالی - (چا۔ لی) (۱) مذ [ ۱) گھوڑے کی زمین (۲) بانس کی تیلیوں کا ڈھانچا جو کشتی کی تہ میں لگاتے ہیں (۳) گارو جو کسی نوکری کے لیے لگایا جائے (۴) شریہ۔

چالیا - (چا۔ لی) (یا) (۱) صفت) چال باز۔ فریبی۔ شرارت کرنے والا بچہ۔  
چالیں - (چا۔ لیں) (۱) صفت) بیٹا اور بیٹی - ۲۰۔

چالیں سیرا - (۱) صفت) ۱) چالیں سیرا۔ کس بھرا (۲) چاری۔ ذنی (۳) من کی پوری تول کا (۴) ٹھیک۔ درست۔ خالص۔ بے میل۔  
چالیں سیرا اوت - (۱) مقولہ) پروا اتم۔ نہایت بے وقوف۔

چالیں سیری بات - (۱) مٹ) اچھی تلی بات۔  
چالیں سیری تول - (۱) مٹ) پورا تول۔ من کی پوری تول۔  
چالیں قدم ساتھ آنا - (۱) محاورہ) کچھ دُور ساتھ جانا۔ محواً جنازے کے ساتھ کم از کم چالیں قدم جاتے ہیں۔

چالیا - (چا۔ لی) (سا) (چالی۔ س) (یا) (۱) مذ [ ۱) چالیں برس کی عمر کا آدمی (۲) پہلوان جس نے چالیں پہلوانوں کو کچھاڑا ہو (۳) چالیں آدمیوں سے مقابلہ کرنے یا چالیں آدمیوں کو مار ڈالنے والا بہادر (۴) شہادہ کا قحط جو ابھی تک فرازش نہیں ہو سکا جبرت کے طور پر بیان کرتے ہیں (۵) ایک پورن جم میں چالیں دوایش استعمال کرتے ہیں (۶) چلم کا نکتہ۔  
چالیاواں - (چا۔ لیاواں) (دال) (۱) صفت) ۱) وہ چیز جس پر چالیں کی گنتی پوری ہو (۲) چالیں سے نسبت رکھنے والا (۳) چلم۔ نکتہ چلم مڑنے کے سوا چالیں کا نکتہ۔

چام - (۱) مذ [ ۱) چڑا۔ کھال۔  
چام پیارا نہیں کام پیارا ہے - (۱) ایش) کسی کو صورت عزیز نہیں ہوتی کام اور خدمت سے دقت اور عزت ہوتی ہے۔

چام کے دایم - (۱) تبلیغ) ۱) چڑے کا روپیہ (۲) وہ چڑے کا دوپہر جو نظام سنے نے اپنے نہایت مختصر مہر حکومت میں شہنشاہ ہمایوں کو جان بچانے کے صلے میں شہنشاہ کی اجازت سے سونے کی کیل بڑھ چلا یا تھا (۳) کوئی چیز جو سستی خریدی جائے۔

چانپ - (۱) مذ [ ۱) بنددق کا وہ پڑوہ جو کندھے اور نال کو باہم جوڑتا ہے۔  
(۲) مصنوعی دانتوں کی کمانی (۳) کمان (۴) کلینجہ۔

چاندک گھڑا۔ (اصفت) نہایت حسین انسان۔ ماہ پارہ۔  
 چاندکاکھیت کرنا۔ (۱- محاورہ) چھٹک ہوئی چاندنی ہونا۔  
 چاندکدھڑے نکلا۔ (کلمہ تعجب اور حیرت) آج تم کو دھڑے بھول پڑے۔ کسی  
 محبوب، سستی کے درمیان بعد آنے پر کہتے ہیں۔  
 چاندکو (اہن) گرہن لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) چاندکا نور کم ہونا (۲) اچھی بیگز میں  
 عیب کا پیدا ہوجانا (۳) حسن میں نقص واقع ہوجانا (۴) خوبصورت کی شادی  
 بد صورت سے ہوجانا (۵) بہت سی خوبیوں کے باوصف ایک دھڑے بھول ہونا  
 چاندکھلانا۔ (۱- محاورہ) دھب کھانے کو جی چاہنا۔  
 چاندگرزنا۔ (۱- محاورہ) ہینہ گزنا۔  
 چاندگھنی ہونا۔ (۱- محاورہ) سر پر بال نہ رہنا۔  
 چاند (اہن) گرہن۔ (۱- محاورہ) چاند پر زمین کا سایہ پڑنے کے باعث چاند  
 پر سورج کی روشنی نہ پڑنا۔  
 چاندگھن پھینا۔ چاندکا زمین کے سامنے سے نکل جانا۔ چاندکا گھن صاف ہونا۔  
 چاندگھن میں آنا۔ (۱- محاورہ) چاندکو گھن لگنا۔  
 چاندمارسی۔ (اصفت) (۱) بندوئی یا تیر چلانے کی مشق (۲) وہ جگہ جہاں یہ  
 مشق کی جاتی ہے (۳) وہ نشانہ جس پر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی ہے۔  
 چاندحماق میں ہونا۔ (۱- محاورہ) چاندکا گھٹنا۔ یہ پندرہویں رات سے شروع ہوتا  
 چاند ہونا۔ (۱- محاورہ) رویت ہلال ہونا۔ پہلی رات کا چاند نظر آنا۔  
 چاند (۱) (۱- محاورہ) (۱) پیمائش کا وہ خاص مقام جہاں سے مژد بندی  
 ہوتی ہے (۲) پھیر کا چاند۔ پھیر کا پاکھا۔  
 چاندن۔ (۱- محاورہ) (۱) مژد بندی رات کے پندرہ دن۔  
 چاندنا۔ چاننا۔ (۱- محاورہ) (۱) چاند (۲) چان (۳) (۱) روشنی (۲) اُجالا (۳)  
 پاکھ۔ سدی (۳) چاندنی رات کا زمانہ۔ زیبائش۔ رونق (۴) ایک قسم  
 کا سفید بازو یا پرول دالا کبوتر۔  
 چاندنا (کردینا) کرنا۔ چوڑی کے سب کچھ لے جانا (۲) صفائی کر دینا۔  
 چاندنا (چاننا) ہوجانا (ہونا)۔ (۱- محاورہ) (۱) روشنی کا ظاہر ہونا۔ دن  
 نکل آنا۔ یو پھینا (۲) آنکھوں کا بندھنا جانا۔ دائمی کمزوری یا صدمے  
 کے سبب آنکھوں کے آگے تارے چھوٹنے لگنا (۳) صفایا ہوجانا ایسی چوری ہونا  
 کہ گھر میں کچھ باقی نہ رہنا (۴) رونق ہوجانا (۵) کسی مصیبت میں پھنس جانا۔  
 چاندنی (چاننی)۔ (۱- محاورہ) (۱) چان (۲) (۱) چاندکی روشنی  
 (۲) ایک قسم کا سفید پھول (۳) سفید فرش۔ وہ سفید چادر جو دری پر  
 پکھائی جاتی ہے۔  
 چاندنی آنا۔ (۱- محاورہ) چاندکی روشنی کا کسی جگہ پڑنا۔  
 چاندنی اترنا۔ (۱- محاورہ) چاندکا بلندی سے سرک کر پستی کی طرف آنا۔  
 چاندنی پڑنا۔ (۱- محاورہ) چاندکی روشنی پڑنا۔  
 چاندنی پھیلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) چاندنی بڑھنا۔ چاندنی ہوجانا (۲) رونق ہونا۔  
 چاندنی پختنا۔ چاندنی پختلنا۔ چاندنی پھٹلنا۔ (۱- محاورہ) چاندنی پھیلنا  
 روشنی پھیلنا۔  
 چاندنی پھینا۔ (۱- محاورہ) چاندنی کا دھل جوجانا۔  
 چاندنی ڈھلنا۔ (۱- محاورہ) چاندنی کا ہلکا ہونا یا زوال پر آنا۔

چانپیں (پڑھانا، پڑھوانا)۔ (۱- محاورہ) قدیم ایام میں لڑکوں کو سنت  
 اذیت پہنچانے کی غرض سے ان کے کانوں پر چانپیں پڑھائی جاتی تھیں۔  
 چانپ۔ (۱- محاورہ) (اصفت) سینے یا پشت کے گوشت کے لٹھڑے سج ہڈی کے  
 چنپیں بھون کر کھاتے ہیں (انگریزی) (Chap)  
 چانٹا۔ (۱- محاورہ) (۱) مڈ پھیر۔ دھول۔ دھپتا۔ تپنا۔  
 چانٹا (رسید کرنا) مارنا۔ پھیر مارنا۔  
 چانٹا دکھانا، لگنا۔ پھیر پڑنا۔  
 چانٹی۔ (۱- محاورہ) (۱) مڈ (۲) مٹ (۳) وہ محصول جو پیشہ دروں سے وصول کیا جائے۔  
 چاند۔ (۱- محاورہ) (۱) قرہ۔ ماہ تاب۔ ماہ۔ سر۔ چند ماہ (۲) ڈھال کا آہنی  
 یا برنجی پھول (۳) ایک زیور جو ہلال نما ہوتا ہے (۴) جانوروں کی  
 پیشانی کا سفید برائیکا (۵) تاج (۶) چاندکی شکل جو رومال پر بناتے ہیں  
 (۷) وہ گول نشان جو چاند ماری کے واسطے لگایا جاتا ہے (۸) ایک پورا  
 ہینہ (۹) دھت (کھوڑی) چنڈیا۔  
 چاند آسمان پر چڑھا سب نے دیکھا۔ (اصط) ظاہر بات چُپ نہیں سکتی۔  
 تمام دنیا پر روشن ہو جاتی ہے۔  
 چاند بھر۔ (۱- محاورہ) پورا ہینہ۔  
 چاند بھر جانا۔ (۱- محاورہ) ہینہ ختم ہونا۔  
 چاند پر خاک پڑنا۔ (۱- محاورہ) بے عیب۔ نیک یا خوبصورت آدمی یا چیز  
 میں عیب نکالنا کسی بے عیب کو عیب دار ٹھہرانا۔  
 چاند پر خاک ڈالنا اپنے شہرے پر پڑے۔ (۱- محاورہ) اگر کسی مصوم پر عیب  
 لگا دے تو خود ذلیل ہوئے۔ ایک نہ ایک دن پول کھل کر رہے گا۔  
 چاند پر خاک نہیں پڑتی۔ (۱- محاورہ) بھلے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اچتوں کو  
 عیب نہیں لگ سکتا۔ ہنرمند چھپانے نہیں جھپتے۔  
 چاند تارا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہلال اور تارے کی تشبیہ (۲) پھول دار مثل۔ ایک قسم  
 کا کپڑا جس پر چاند اور تارے کی شکل بنی یا کڑھی ہوتی ہے (۳) ایک قسم کا  
 گنگو جس پر چاند تارے کی شکل بنی ہوتی ہے۔  
 چاند ٹھیکا۔ (۱- محاورہ) (۱) پیشانی کا ایک زیور۔  
 چاند ٹھہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) چاندکا اوجھنا ہونا (۲) چاندکا بند ہونا (۳) ہینہ  
 پورا ہونا (۴) چاند دکھائی دینا (۵) غزہ نظر آنا (۶) ایام عیض کا ٹل جانا عیض  
 کا وقت گزر جانا۔ محل مہرے کی علامت کا ظاہر ہونا (۷) ہینہ کی تنخواہ  
 پڑھنا۔ ہینہ پڑھنا۔  
 چاند چڑھے گل عالم دیکھے۔ (۱- محاورہ) دیکھے چاند آسمان پر چڑھا سب نے دیکھا۔  
 چاند پھینا۔ (۱- محاورہ) چاندکا عذاب ہوجانا۔  
 چاند وار۔ (۱- محاورہ) یا تل جس میں چاند بنا ہوا ہو۔  
 چاند دیکھنا۔ (۱- محاورہ) پہل رات کا چاند دیکھنا۔  
 چاند رات۔ (۱- محاورہ) وہ رات جس میں ہلال نکلتا ہے۔  
 چاند سا چہرہ۔ چاند سا گھڑا۔ چاند سا منہ۔ (۱- محاورہ) (۱) چاند سی  
 شکل یا صورت (۲) نہایت خوبصورت شکل۔  
 چاند سورج۔ (۱- محاورہ) (۱) سلسلے کے چاند اور سورج جو ٹھہروں پر لگائے  
 جاتے ہیں (۲) ایک زیور جو عورتیں چوڑیوں میں لگاتی ہیں۔

چاندو (چان - ڈو) (۱-۵) مذ دیکھے چنڈو۔

چانس (Chance) (انگ - ۱) مذ اتفاق - موقع - امکان - احتمال باری  
چانسلر (Chancellor) (چانس - لر) (انگ - ۱) مذ مہنور سٹی کا

سب سے اعلیٰ عہدہ دار۔

چانک (۱-۵) مذ (۱) ٹبر - ٹھنڈا (۲) کڑی کی تھاپی جس پر سونف کدہ ہوتے  
ہیں اور اس سے کھلیان پر ٹھنڈا لگا دیتے ہیں (۳) جھاڑ پھونک کرنے  
کے واسطے درد کے چاروں طرف ملنے لگنے دینا۔

چانگلا (چانگ - لا) (۵ - صفت) (۱) تندرست - جلا پتنگا - صحت مند مینڈو۔  
(۲) چالاک - چست - ہوشیار (۳) گھوڑوں کا ایک رنگ۔

چاول (چا - دل) (۵ - ۱) مذ سفید فلدھے اُبال کر کھاتے ہیں۔ دھان۔  
برنج (۲) وہ زبردہ یا بگڑی جو کسی نباتات یا غلے سے نکالی جائے (۳)  
ایک رتی کا آٹھواں حصہ۔

چاول چوانا (۱) محاورہ) مشتبه لوگوں کو کچے چاول کھلانا۔ یہ کہنا کہ جو چور  
جو گاس کے منہ سے خون نکل آئے گا۔ اس تدبیر سے کچے چور قبول دیتے ہیں

چاہ (۱ - ۱) مذ کنواں - غار - گڑھا۔

چاہ بابل (۱) مذ شہر بابل کا ایک کنواں جس کی بابت کہتے ہیں کہ ہاڈت  
ماروت دونوں فرشتے وہاں قید ہیں۔

چاہ بیزن (۱) مذ وہ کنواں جس میں شاہنامہ فردوسی کی تحریر کے  
مطابق انیسراپ نے بیزن کو قید کیا تھا۔

چاہ خس پوش (۱) مذ کنواں جسے چھانے کے لیے گھاس پھوس سے ڈھک  
دیا گیا ہو (۲) مگر - فریب۔

چاہ زدن (۱) مذ ٹھوڑی کا گڑھا۔

چاہ رستم (۱) مذ وہ کنواں جس میں رستم قتل کیا گیا تھا۔

چاہ غنّب غنّب (۱) مذ رُخساروں کا گڑھا۔

چاہ کن را چاہ در پیش (۱) مذ بُرائی کرنے والا خود بُرائی کا شمار  
ہوتا ہے۔

چاہ کسب (۱) مذ وہ کنواں جس سے روایت ہے کہ حکیم حطاب متغنی نے  
اپنی کسب سے پانڈنکا لایا تھا۔ یہ چار فرنگ تک روشنی پہنچاتا تھا۔

چاہ کوسف (۱) مذ کب شام میں طبرے کے قریب وہ کنواں جس  
میں حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں پھینکا تھا۔

چاہ (۱-۵) مذ (۱) خواہش - آرزو (۲) محبت - اُلفت - عشق - دوستی۔

(۳) اشتیاق - شوق (۴) مزہ - لطف - محبوب (۵) ضرورت محبت

(۶) مانگ (۷) چاہنا کا امر۔

چاہا (چہا) (۱-۵) مذ ایک پرندہ۔

چاہست (۱) مذ (۱) خواہش - طلب - ضرورت (۲)

عشق - محبت - پیار۔

چاہنا (۱) مذ (۱) خواہش - طلب - ضرورت (۲) قبول کرنا (۳) قصد  
کرنا - ارادہ کرنا (۴) مانگنا - درخواست کرنا۔

چاہنے کے نام سے گدی نے گھاس کھانا چھوڑ دیا تھا۔ (۱) رش، اگر کسی  
سے محبت ظاہر کی جائے تو وہ جھانکا ہے اور عاشق کے نزدیک نہیں ہوتا یا

چاندنی رات۔ (۱) صفت) وہ رات جب تقریباً ساری رات چاندنی رہے۔

قمری بیبے کی چوہوں - پندرہویں اور سولہویں رات۔ شب ماہ۔ شب ہفتاب  
چاندنی صاف ہونا۔ (۱) محاورہ) چاندنی کا کھڑنا۔

چاندنی کا اثر ہونا۔ (۱) محاورہ) چاندنی پر چڑھنے سے زخم کا اچھانا ہونا۔  
زخم کا ہزار ہنا۔

چاندنی کا پھول (۱) مذ) ایک قسم کا سفید پھول۔

چاندنی کا کھیت (۱) مذ) چٹکی ہوئی چاندنی۔

چاندنی (۱) مذ) مارا جانا۔ (۱) محاورہ) چاندنی کا اثر کرنا (۲) ناک جو جاتا (۳)  
چاندنی کا زخم کو بگاڑ دینا۔

چاندنی کرن - برہمنوں یا فقیروں کا مانگنے یا قرضہ معاف کرانے کی عرض سے  
اپنے آپ کو زخمی کرنا۔

چاندنی کوسو پینا (۱) محاورہ) چاندنی مرطوب مزاج ہوتی ہے اور زخم کے  
حق میں ٹھہرتی ہے اور زخم دیر میں مندمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی زخمی یا زخم کسی

ایسی جگہ ہو جہاں چاندنی پہنچتی ہو اور مریض کو دال سے منتقل نہ کیا جاسکتا ہو تو اس  
پر بے جلا کر ایک آدمی کو گواہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں "ہم نے اس زخمی کو تیرے

سپر دیکھا" دوسرا آدمی کہتا ہے "میں اس بات کا گواہ ہوں" یہ ایک ٹٹکا تھا  
جو کسی زمانے میں مروج تھا۔

چاندنی کھلنا (۱) محاورہ) چاندنی پھیلنا۔ چاندنی چلنا۔

چاندنی میں جوت پڑنا (۱) محاورہ) ایسا چمکدار ہونا کہ چاندنی پر بھی اپنی  
چمک بنا یاں کرے۔

چاندنی نکھلنا (۱) محاورہ) چاندنی کا ظاہر ہونا۔

چاندنی بکھرنا (۱) محاورہ) بارش کے بعد چاندنی کا صاف ہونا۔

چاندنوا (چندوا) - چاند (۱) - ۵ - ۱) مذ) ایک قسم کا شامیانہ یا ساٹھان۔

(۲) کپڑے کی چھت (۳) شیشے کی بندی یا ستارہ جو عورتیں ماتھے پر لگاتی  
ہیں (۴) ٹوپی کا بالائی گول حصہ۔

چاندی (۱) (۱) صفت) (۲) لقرہ - سیم (۳) ایک سفید دھات جس  
سے روپیہ اور زورات وغیرہ بنائے جاتے ہیں (۴) کامیابی - ناندہ۔

نغ (۳) مال - دمن - دولت۔

چاندی بنانا (۱) محاورہ) (۱) ہوس کا لانگے یا کسی ہلکی دھات کو چاندی کر لینا  
(۲) کام درست کرنا (۳) ناندہ کرنا۔

چاندی خانہ - وہ مکان جہاں چاندی کے برتن بنتے ہیں۔

چاندی کا پھرہ (۱) مذ) احتمال مندی کا زمانہ - نیک سلامت۔

چاندی کا پیرا (۱) مذ) مبارک قدم۔

چاندی کا تار (۱) مذ) چاندی سے بنایا ہوا تار (تختیر) معمولی زیور۔

چاندی کا جوتا مسرہر (۱) محاورہ) روپیہ دینے پر کام نکلا ہے۔

چاندی کا ورق (۱) مذ) چاندی کا کٹا ہوا نہایت باریک پتر۔

چاندی (۱) مذ) چاندی کا کٹا ہوا نہایت باریک پتر۔

چاندی (۱) مذ) چاندی کا کٹا ہوا نہایت باریک پتر۔

چاندی کی ریت نہیں - سونے کی توفیق نہیں۔ (۱) رش) مذ یہ کہ سکتے ہیں  
سرو اختیار میں ہے۔

چاندی ہونا (۱) محاورہ) (۱) جل کر رکھ ہو جانا (۲) کامیابی ہونا۔









چترنی - (۱-۵) مٹ، عورت کی چار ٹہوں میں سے ایک قسم۔ نازک عورت۔  
چت کبرا - (چت، کب - را، ۵-۵) صفت (۱) دبتے دار - (۲) داغ دار (۲)  
سیندو سیاہ رنگ - اہلی -

چٹلا - (چت - لا، ۵-۵) صفت (۱) چت کبرا - (۲) داغ دار -  
چٹنا - (چت - نا، ۵-۵) صفت (۱) دیکھنا - نظر کرنا - نظر ڈالنا (۲) ظاہر ہونا -  
معلوم ہونا (۳) نقش و نگار کرنا - تصویر بنانا -

چتوں - (چت - ون، ۱-۵) مٹ (نظر - نگاہ - تیوری -  
چتوں بنانا - (۱) محاورہ) تیوری پڑھانا جسے کی نظر سے دیکھنا -  
چتوں پر میل آنا - (۱) محاورہ) خواہنا ہونا - ناگوار کرنا -  
چتوں پھرنا - (۱) محاورہ) نگاہ کا سنبھالنے سے بھرا ہونا -  
چتوں پڑھانا - (۱) محاورہ) تیوری پڑھانا -

چتوں کے دیتی ہے - (۱) مثل) نگاہ سے معلوم ہوتا ہے - نظر سے ظاہر ہے -  
چٹھا - (چٹھ - ٹھا، ۵-۵) صفت (۱) جو کسی دوسرے کے مذاق کا مرکا بنا ہو -  
(۲) وہ جسے کوئی دینی کرے (۳) دوسروں کا ستا یا ہوا -  
چٹھا بلیر - (۵) مذ (۵) آدمی جسے ہر ایک پریشان کرے -  
چٹھا بنانا - (۱) محاورہ) ذلیل کرنا - رسوا کرنا - بڑائی کرنا -

چٹھاڑ - (چٹھاڑ - ٹھاڑ، ۵-۵) مٹ (رسوائی - خواری - ذلت -  
چٹھاڑنا - (۱) چٹھاڑنا، (۲) مٹنا، (۳) چھوڑنا - چھوڑنے سے چھوڑنے کرنا (۲)  
ذلیل کرنا - رسوا کرنا -

چٹھڑا - (چٹھڑا - ٹھاڑ، ۵-۵) مٹ (۱) - (۲) مٹ - (۳) چٹھڑے کا ٹکڑا -  
گودڑ - لیرا - لوگرا - لیر -  
چٹھڑے (چٹھڑے) اڑانا (بکھیرنا) - (۱) محاورہ) نکتے لینا - درست  
کرنا - آڑے ہاتھوں لینا -

چٹھڑے کرنا - پڑزے پڑزے کرنا -  
چٹھڑے لگانا - (۱) محاورہ) بیوند پر بیوند لگانا - گودڑ یا فیر بنا پھرنا -  
چٹھڑے لگانا - (۱) محاورہ) منگی کے مارے ثابت کپڑے نہ پہن سکتا -  
چٹھڑیا - (چٹھڑ - ٹھاڑ، ۵-۵) صفت (۱) چٹھڑے پڑنے سے پہننے ہوئے -  
چٹھڑے حال -

چٹھڑیا پیر - (۱) ایک پیر جس کو چٹھڑے پڑنے سے پڑھاتے ہیں (۲)  
وہ درخت جس پر پیر کے نام پر کپڑے پڑھائے جائیں (۳) بہت منگس -  
چٹھڑیل - (چٹھڑ - قتل، ۵-۵) صفت (۱) سوزا - ٹھٹھے ہار ٹھٹھوایا - ظریف -  
چٹھڑیل بازی - (۱) مٹ (۲) ٹھٹھے بازی - ہنسی - بیہودہ ہنسی - تسمیر -  
چٹھڑیل پنا دکھانا - (۱) محاورہ) مزاحیہ کہنا - ہنسی اڑانا - ٹھٹھا اڑانا -

چٹھڑیل - (چٹھڑ - لا، ۵-۵) صفت (۱) دیکھے چٹھا -  
چٹھی - (چت - ٹی، ۵-۵) مٹ (۱) بندگی - دھبا - (۲) داغ - نشان - ہٹاسا -  
(۲) سانپ کی ایک قسم جس پر چٹھی ہوتی ہے (۳) کوڑی جس پر  
چٹھیاں ہوتی ہیں -  
چٹھی پڑنا - (۱) محاورہ) روٹی کا بکنا - روٹی پر یک جانے کی علامت کا ظاہر  
ہونا - مرغ نشان پڑنا - لال لال بندکیاں پڑنا -  
چٹھی دار - (۱) داغ دار -

چت سے اتر جانا (اُترنا) - (۱) محاورہ) بھول جانا - دھیان میں نہ رہنا - یاد دہینا  
چت لگانا - (۱) کسی کام میں دل لگانا - متوجہ ہونا (۲) خواہش کرنا -  
محبت کرنا -

چت لگن - خوش کن - دل فریب -  
چت میں بیٹھنا - دل میں اثر کرنا - دل میں گھر کرنا -  
چت ہٹانا - دھیان ہٹانا - توجہ دوسری طرف کرنا -

چتتا - (چت - تا، ۱-۵) مٹ (۱) لکڑیوں کا ڈھیر جس پر ہندو مردے کو  
جلاتے ہیں -  
چتتا پنڈ - (۱) دودھ - روٹی - چاول وغیرہ جو مردہ جلاتے وقت  
پتروں کو پڑھاتے ہیں (۲) چاول اور دودھ یا آٹے کا پنڈ جسے  
ہندو قوشہ عاقبت خیال کر کے تیجے کے دن بہاتے ہیں -  
چتتا چٹنا - (۱) محاورہ) مردہ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھیر کرنا -  
چتتا میں بیٹھنا - (۱) محاورہ) سستی ہونے کے لیے چتتا پر پڑھنا -

چتتا - (چت - تا، ۵-۵) مٹ (۱) چتتا - ہوشیار کرنا (۲) نصیحت کرنا -  
(۳) توجہ دلانا (۴) ڈرانا -  
چتتا وٹی - (چت - تا، ۵-۵) مٹ (۱) نشان - علامت (۲) اطلاع - آگاہی  
(۳) ڈر - خوف (۴) یاد دہانی -

چتر - (چت - ٹا، ۵-۵) مٹ (۱) چھاتا - بڑی پھتری -  
چتر شاہی - بادشاہی - پھتری -  
چتر - (چت - ٹا، ۵-۵) مٹ (۱) چلاک - تیز چٹت (۲) کاری گز - ماہر  
دانا - عقل مند (۳) مکار - عیار (۴) متقی -

چتر بھدرا - انسان کی زندگی کے چار مقاصد - دھرم (نیکی) کام (خوشی)  
ارٹھ (دولت) کمش (مکتی) -  
چتر و دیا - (۵) مٹ (۱) چار ویدوں کا علم -  
چتر وید - (۵) مذ (۱) چاروں ویدوں کا مجموعہ (۲) چاروں وید (۳)  
ایک قسم کے پتر -  
چتر ہوتی - (۵) مذ (۱) کرشن جی -

چتر ہوتی - ایک مرتبہ جسے چاند یا پورے چاند کے موقع پر پڑھا جاتا ہے  
چترا - (چت - را، ۵-۵) مٹ (۱) پودھوں یا ہار ہواں پھتر (۲) ایک  
پودے کا نام (۳) ایک سانپ کا نام (۴) ایک بحر یا وزن (۵)  
ایک ساز (۶) ارجن کی بیوی اور کرشن جی کی بہن سھدرا (۷) کرشن جی  
کی ایک بیٹی (۸) غیر حقیقی حالت - مصنوعی چیز - دھوکا کھانا (۹) ایک  
اپسرا (۱۰) ایک دریا - ایک چشما -

چترا - (چت - را، ۵-۵) مٹ (۱) چلاک - عقل مند -  
چترائی - (چت - ٹا، ۵-۵) مٹ (۱) ہوشیاری - دانائی - چلاکی -  
تیزی - ہنرمندی -

چترنگ - (چت - رنگ، ۵-۵) مٹ (۱) وہ فوج جس میں رتھ - ہاتھی -  
گھوڑے - سوار اور پیادے شامل ہوں - چار رنگ کی فوج (۲) شطرنج  
چترنی - (چت - ٹی، ۵-۵) مٹ (۱) کئی رنگ کا (۲) بہت قابل آدمی -





چٹلا - (جٹ - لا) - (د - ہ - ذ) - سونے چاندی کا گچھا سا جو عورتیں پیچھے پھرتی پر باندھتی ہیں (۷) مصنوعی بال جو عورتیں جوڑے میں لگاتی ہیں (۳) جوڑا۔  
چٹنی - (جٹ - ٹی) - (ہ - ا - مٹ) - (۱) چاٹنے کی چیز - چاٹنے کی دوا (۲) چٹ چٹی چیز جس میں دھنیا، انار دانه، بودینہ، نمک - مرچ وغیرہ ڈال کر پیستے ہیں اور کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں۔  
چٹنی (کر دینا) کرنا - (۱) محاورہ (۱) کھا جانا، نکل جانا (۲) پیس ڈالنا - مار ڈالنا  
چٹو - (جٹ - ٹو) - (ہ - ا - ذ) - کڑی کا دان جس میں مصالحہ وغیرہ ڈال کر لہے کے دستے سے گوتتے ہیں۔

چٹھی راہداری - راہداری کا پروانہ - پاسپورٹ۔  
چٹھی رساں - (۱) مذ، ڈاکیا۔  
چٹھی کرنا - (۱) محاورہ کسی کے نام کی ہنڈی کرنا - ہنڈی لکھنا۔  
چٹھی گیرنا - (۱) محاورہ (چٹھی ڈالنا)۔  
چٹھی نویس - (۱) مذ - خط لکھنے والا۔  
چٹھی نہ پروانہ مار کھائیں ملک بریکنا - (۱) مثل، حاکم کی بدانتظامی کے سبب بد معاش لوگ خواہ مخواہ ٹوٹتے پھرتے ہیں۔  
چٹھی - (جٹ - ٹی) - (ہ - ا - مٹ) - (۱) دھونس - ڈنڈ - ٹیکس - جرمانہ - تالان (۲) نقصان - ضرر - خسارہ - (۳) خرچ - صرف اٹھاؤ۔  
چٹھی بھرنا - (۱) محاورہ (۱) تالان دینا - ڈنڈ جگھٹنا (۲) نقصان اٹھانا۔  
ضرر اٹھانا - جرمانہ دینا۔  
چٹھی دھرنا - (۱) محاورہ (۱) ڈنڈ ڈالنا - تالان بھرنا۔

چٹوا - (جٹ - وا) - (ہ - ا - ذ) - بچوں کا ایک کھلونا۔  
چٹوانا - (جٹ - وا) - (نا) - (ہ - مٹ) - (۱) چاٹنے کا مستدی (۲) تلوار کھر پانہ وغیرہ کو سامان دھروانا - دھار نکلوانا - ہاتھ دکھوانا۔  
چٹور - (جٹور - اور - ٹو) - (ہ - صفت) - (۱) پیٹو - طامح - اڑاؤ۔  
کھاڈ (۲) لذیذ کھانوں کا شوقین یا عادی (۳) روپیہ اڑا دینے والا۔  
(۴) آٹا - چاول رکھنے کا برتن۔  
چٹوراپن - چٹورپن - چٹوروں کی سی عادت - کھانے کا شوق - زبان کا مزہ۔  
چٹوری - (جٹ - ری) - (ہ - صفت) - چٹوراکر تائینٹ - لذیذ چیزوں کی شوقین - کھانے میں فضول غریبی کرنے والی۔  
چٹوری زبان دولت کا زبان - (۱) مثل، چٹورا انسان کبھی دولت مند نہیں ہو سکتا۔

چٹتی - (جٹ - ٹی) - (ہ - صفت) - چٹتی کی تائینٹ - سفید چیز - گوری چیز۔  
چٹیا - (جٹ - یا) - (ہ - مٹ) - (۱) چٹنی کی تعینر - لمبے بال جو ہندو سہر مندڑانے یا بال کوڑانے پر درمیان میں یا ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں (۲) پھولدار جوڑا۔  
چٹیا سے جانا - (۱) محاورہ (۱) چپن میں سر جانا۔  
چٹیا نا - (جٹ - یا) - (نا) - (ہ - مٹ) - (۱) زخم دینا - کاشنا - ڈنڈ زخمی کرنا - گھائل کرنا۔  
چٹیا یا ہوا - (جٹ - یا) - (یا - ہو) - (۱) زخم رسیدہ - خستہ - زخمی - گھائل - مجروح۔  
چٹے بٹے - (جٹ - ٹے) - (ہ - ا - ذ) - (۱) بچوں کے کھلونے۔  
(۲) وہ چھوٹے چھوٹے گولے اور گولیاں جو مداری تانے میں دکھاتا ہے۔  
چٹے بٹے لڑانا - (۱) مداری کا گولیوں کو غائب کرنا - شعبہ بازی دکھانا (۲) لگائی بھائی کرنا۔

چٹھا - (جٹھا - ٹھا) - (ہ - ا - ذ) - وہ دھتے جو بدن پر خون کی خرابی کے سبب بڑھ جاتے ہیں (۲) نفیس کھانا - لذیذ چیز مٹھائیاں۔  
چٹھے مٹھوں کا مزہ بڑھانا - (۱) محاورہ (۱) زبان کا مزہ بڑھانا - ڈونوں کی چاٹ لگن - کٹے کٹے کھانے کا مزہ بڑھانا۔  
چٹھا - (جٹھا - ٹھا) - (ہ - ا - ذ) - (۱) ہرست تنخواہ - قبض الوصول - تنخواہ کی کتاب (۲) چنڈے یا روزناموں کی کتاب (۳) تنخواہ یا اجرت جو روزانہ یا ہر ماہ تقسیم کی جائے (۴) مسودہ - کچا حساب (۵) کا نڈ کا بلندہ۔  
چٹھا باندھنا - (۱) محاورہ (۱) تنخواہ یا مزدوری تقسیم کرنا۔  
چٹھا باندھنا - (۱) محاورہ (۱) ہرست - حساب مرتب کرنا - اسباب کی فرد بنانا (۲) اندازہ کرنا - تخمینہ کرنا یا لگانا۔  
چٹھا تیار (مرتب) ہونا - (۱) محاورہ (۱) سزا کی عمل تیار ہونا۔  
چٹھا بٹنا - تنخواہ یا مزدوری تقسیم ہونا۔

چٹھیل - (جٹ - یل) - (ہ - صفت) - وہ میدان جہاں کوئی سایہ دار درخت نہ ہو۔  
صاف میدان - کف دست - ہموار و یکساں میدان۔  
چٹھیل - (جٹ - یل) - (ہ - صفت) - مجروح - چوٹ کھایا ہوا۔  
چٹھلا - (جٹ - ٹے) - (لا) - (ہ - صفت) - چوٹ کھا یا ہوا - صدر پہنچا ہوا۔  
چٹھیلنا - (جٹ - ٹیل) - (نا) - (ہ - مٹ) - (۱) زخمی کرنا۔

## ج - ج

چٹی - (ج - جی) - (ہ - مٹ) - بچوں کی زبان میں مٹائی - چیزی سے بگڑا ہوا۔

## چ - چ

چچا - (چ - چا) - (ہ - ا - ذ) - باپ کا چھوٹا بھائی۔  
چچا بننے کے ذکر کے (چھوڑنا - (۱) محاورہ) سزا دے کر یا بدلے کر دم لینا۔  
چچا بنانا - (۱) محاورہ (۱) ٹھیک کرنا - سزا دینا۔

چٹھیل - (جٹھیل - ٹھیل) - (ہ - مٹ) - (۱) خط - پتر - مراسلہ - رقعہ شفقہ۔  
(۲) سرٹیکٹ سند - کارگزاری و بینک نامی کا پرچہ (۳) چٹ (۴) لاٹری - قرعہ۔  
چٹھی بیجنا - (مٹ - مرکب) - خط بیجنا۔  
چٹھی بڑھانا - (۱) محاورہ (۱) کسی چیز پر قرعہ بڑھانا - لاٹری بڑھانا۔  
چٹھی ڈالنا - (۱) محاورہ (۱) خط کو ڈاک کے بس میں ڈالنا (۲) خط بیجنا (۳) قرعہ بازی یا لاٹری میں شریک ہونا۔







چرخ دولابی۔ دف۔ مذ۔ آسمان۔  
 چرخ زریں۔ (۱۔ مذ) چو تھا آسمان جہاں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا قیام  
 ہے اور جس پر سورج ہے۔  
 چرخ زن۔ (۱۔ صفت) گھومنے والا (۲) وہ آدمی جو چرخ چلائے۔  
 چرخ سے مہتاب توڑ لانا۔ (۱۔ محاورہ) ہنایت چالاکی سے کام کرنا۔  
 چرخ فلک۔ (۱۔ مذ) عرش۔  
 چرخ کبود۔ دف۔ مذ) نیلا آسمان۔  
 چرخ کھانا۔ (۱) چکر کھانا۔ گردش کرنا۔ پھرنا (۲) دھات کا پھل جانا۔ تاؤ  
 کھانا (۳) پارے کی طرح نظر سے بنانا (۴) آگ میں سونے چاندی کو  
 ڈال کر استمان کرنا۔  
 چرخ مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چکر کھانا۔ پھرنا (۲) حرکت کرنا (۳) ناپنا۔  
 چرخ میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) پھرنا۔ گردش کرنا۔  
 چرخ ہنڈولا۔ ایک آگ جس پر بچوں کو بھاگ چکر دیتے ہیں۔  
 چرخاب۔ (پڑ۔ غاب) (۱۔ صفت) ایک قسم کی پھل جس سے بجلی پیدا  
 کی جاتی ہے۔ ٹربائن۔ (Turbine)  
 چرخل۔ (پڑ۔ غل) (۱۔ صفت) بڑھا۔ کھوٹ۔  
 چرخ۔ (پڑ۔ غ) (۱۔ مذ) صفت (۲) سوت کا تے کا آلا چکر کھانے والا  
 آگ (۳) ایک قسم کا ناچ (۴) پڑائی چیز (۵) کمزور۔ ڈبلا۔ لاغر۔  
 بوڑھا۔ بوڑھی۔  
 چرخ پوئی۔ (۱) چرخ اور اس کے کاتے کا سامان (۲) عورت کا ہنر۔  
 چرخ پوئی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) چرخ کات کرنا۔ چرخ کاتنا۔  
 چرخ سا پھرنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت پھرنا۔ آوارہ پھرنا۔  
 چرخ کا تنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چرخے پر تانا جانا (۲) چرخ چلانے کا کام کرنا۔  
 چرخ ہو جانا۔ ضعیف اور فرقت ہو جانا۔ پیر و خیف ہو جانا۔  
 چرخے کی مال (ماہل) (۱) ڈورا جو چرخے پر چلتا ہے (۲) در بدر پھرنے  
 والا۔ خست حال (۳) ڈبلا۔ کمزور۔ لاغر۔  
 چرخنی۔ (پڑ۔ غنی) (۱۔ صفت) (۲) روٹی کو بنوں سے صاف کرنے کا  
 آگ چکر کھانے والی چیز (۳) ایک قسم کی آتش بازی (۴) چاک۔ پانی  
 کھینے کا پتیا (۵) بھرتی (۶) دور یا بادل پینے کا اوزار (۷) ایک  
 چھوٹا پرند۔  
 چرز۔ دف۔ (۱۔ مذ) ایک صحرائی پرندہ۔  
 چرس۔ (پڑ۔ رس) (۱۔ مذ) (۲) چرسے کا بڑا ڈول (۳) ایک نشہ جو  
 ہنگ کے پتوں اور ایٹون سے تیار کیا جاتا ہے اسے تباہ کی طرح  
 پینے ہیں۔  
 چرس۔ (۱۔ صفت) (۲) شگن۔ بٹ۔ جھڑی۔ سلوٹ (۳) رشک۔  
 چرسا۔ (پڑ۔ سا) (۱۔ مذ) (۲) پیل یا بھینے کا پھر (۳) بوڑھا پھر۔ ادھوڑی۔  
 چرسا بھر زمین۔ (۱۔ صفت) چھوڑی سی زمین۔ اتنی زمین جس پر بیل کا پھر آسکے۔  
 چرسی۔ (پڑ۔ سی) (۱۔ مذ) چرس کا نشہ کرنے والا۔  
 چرسی یا رکس کے دم لگایا بھکے۔ (۱۔ صفت) مطلب حاصل ہوا اور  
 آگ پھرتی۔

چرسا۔ (پڑ۔ رس) (۱۔ مذ) (۲) چرسے کا بڑا ڈول (۳) ایک نشہ جو  
 ہنگ کے پتوں اور ایٹون سے تیار کیا جاتا ہے اسے تباہ کی طرح  
 پینے ہیں۔  
 چرسا۔ (پڑ۔ سا) (۱۔ مذ) (۲) پیل یا بھینے کا پھر (۳) بوڑھا پھر۔ ادھوڑی۔  
 چرسا بھر زمین۔ (۱۔ صفت) چھوڑی سی زمین۔ اتنی زمین جس پر بیل کا پھر آسکے۔  
 چرسی۔ (پڑ۔ سی) (۱۔ مذ) چرس کا نشہ کرنے والا۔  
 چرسی یا رکس کے دم لگایا بھکے۔ (۱۔ صفت) مطلب حاصل ہوا اور  
 آگ پھرتی۔  
 چرسا۔ (پڑ۔ رس) (۱۔ مذ) (۲) چرسے کا بڑا ڈول (۳) ایک نشہ جو  
 ہنگ کے پتوں اور ایٹون سے تیار کیا جاتا ہے اسے تباہ کی طرح  
 پینے ہیں۔  
 چرسا۔ (پڑ۔ سا) (۱۔ مذ) (۲) پیل یا بھینے کا پھر (۳) بوڑھا پھر۔ ادھوڑی۔  
 چرسا بھر زمین۔ (۱۔ صفت) چھوڑی سی زمین۔ اتنی زمین جس پر بیل کا پھر آسکے۔  
 چرسی۔ (پڑ۔ سی) (۱۔ مذ) چرس کا نشہ کرنے والا۔  
 چرسی یا رکس کے دم لگایا بھکے۔ (۱۔ صفت) مطلب حاصل ہوا اور  
 آگ پھرتی۔







## ج۔ش

چشتی - (پش۔ ق) (دُن۔ صفت) (۱) چشت کا باشندہ (۲) صوفیا کا ایک مشہور سلسلہ جو خواجہ حسین الدین چشتی سے چلتا ہے۔

چشک - (دُن۔ ا۔ مٹ) (۱) زیادتی (۲) غصے سے بچا ہوا کھانا۔

چشم - (دُن۔ ا۔ مٹ) (۱) آنکھ۔ دیدہ۔ نیس۔ نیتز۔ مین (۲) آس۔ اُمید۔ جمع چشمال۔ چشمہ۔ چشمہ آشتا۔ (دُن۔ صفت) شاسا۔ واقف۔

چشم بد - (دُن۔ ا۔ مٹ) بڑی نظر۔ لگ جانے والی نظر۔

چشم بدوور - (دُن۔ ا۔ مٹ) دعا، نظر بدوور ہو۔ نظر نکلے۔

چشم براہ - (دُن۔ ا۔ مٹ) منظر۔ نگراں۔

چشم بکسل - (دُن۔ ا۔ مٹ) ایک قسم کا کپڑا۔

چشم بندک - (دُن۔ ا۔ مٹ) آنکھ بچولی۔

چشم بوسمی - آنکھوں کو بوس دینا۔ دیدہ بوسی۔

چشم بے آب - (دُن۔ صفت) بے حیا۔

چشم بیمار - (دُن۔ ا۔ مٹ) آنکھ جو بند ہو کر دیکھتی ہو (شرم یا ناز سے) خوبصورت اور مست آنکھ کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے (۲) نیشلی آنکھ۔ شمار آلود آنکھ۔

چشم بینا - (دُن۔ صفت) ہوشیار۔ تیز فہم۔ تیز نظر۔

چشم پر آب یا چشم پر نم - (دُن۔ ا۔ مٹ) روتی ہوئی آنکھ۔ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ۔

چشم پوشی - (دُن۔ ا۔ مٹ) دیکھ کر ٹال جانا۔ درگزر کرنا۔

چشم تر - (دُن۔ ا۔ مٹ) رونے والی آنکھ۔

چشم خون آلود - (دُن۔ ا۔ مٹ) تہر بھری آنکھ۔ سرخ آنکھ۔

چشم داشت - (دُن۔ ا۔ مٹ) اُمید۔ آس۔ توقع۔

چشم دید - (دُن۔ صفت) آنکھوں دیکھا۔

چشم زخم - (دُن۔ ا۔ مٹ) (۱) آنکھ کا دکھنا (۲) بڑی نظر کا دکھ یا نقصان۔

چشم زدن - (دُن۔ ا۔ مٹ) پک بھکتے۔ فوراً لہ بھریں۔

چشم زدن میں - بہت جلد۔ فوراً۔

چشم ماروشن - دل ماشاؤ۔ (دُن۔ مٹ) بسر چشم۔ مین راحت ہے۔

آنکھوں کو کچھ کچھ ٹھنک۔ اہلکار خوشنودی۔

چشم نمائی - تشبیہ۔ بھڑکی۔ سرزنش۔ ملامت۔

چشم نیم باز - چشم نیم خواب - (دُن۔ ا۔ مٹ) ادھ کھلی یا شرمیلی آنکھ۔

چشم و ابرو - (دُن۔ مٹ) اشارے۔ انداز۔

چشم و ابرو سے جان لینا - (۱) عاودہ (۲) اشارے سے پہچان لینا۔

چشم و چراغ - (دُن۔ ا۔ مٹ) عزیز۔ بڑا پیارا۔

چشمک - (پش۔ نیک) (دُن۔ ا۔ مٹ) (۱) آنکھ کا اشارہ۔ آنکھ مارنا (۲) رنجش۔ مخالفت (۳) چھوٹی آنکھ۔

چشمک زدن - (دُن۔ صفت) آنکھ سے اشارہ کرنے والا۔ طعنہ دینے والا۔

چشمک زنی - (دُن۔ مٹ) طعنہ زنی۔ طنز کرنا۔

چشمہ - (پش۔ مٹ) (دُن۔ ا۔ مٹ) پانی کا سوتا (۲) عینک۔ عین چشمہ (۳) چشمہ آفتاب - (دُن۔ ا۔ مٹ) سورج۔

چشمہ حیوان - چشمہ تھنر - (دُن۔ ا۔ مٹ) آب حیات کا روایتی چشمہ۔

چشمہ زاہد چشمہ سار - (دُن۔ ا۔ مٹ) جس علاقے میں چشمے بہت ہوں۔

چشمہ سلیمیل - (دُن۔ ا۔ مٹ) بہشت میں ایک بہنر۔

چشیدہ - (ج۔ ش۔ دہ) (دُن۔ صفت) پکھا ہوا (۲) بجزیرہ کار۔

## ج۔غ

چٹنا - (ت۔ ا۔ مٹ) عجا۔ بوجہ۔

چٹنائی - (پش۔ تا۔ ای) (دُن۔ صفت) (۱) چٹنا سے منسوب ہر چنگیز خاں کا بیٹا تھا (۲) چٹنائی اولاد میں سے۔ خاندان منیلہ۔

چٹند - (دُن۔ ا۔ مٹ) اُلٹ۔ اُلٹکی ایک چھوٹی قسم۔

چٹند بول جانا - (۱) عاودہ، برباد ہو جانا۔ تباہ ہو جانا۔

چٹنل - (ج۔ غ۔ مل) (دُن۔ ا۔ مٹ) پیٹھ پیچھے کسی کی بدگواہی کرنے والا۔ لٹرا۔ برائی کرنے والا (۲) وہ نکلے جیسے علم میں تباہی کے نیچے رکھتے ہیں۔

چٹنل خور - (دُن۔ صفت) غیبت کرنے والا۔ عناق۔

چٹنل خور خدا کا پچورہ - (۱) مثل، چٹنل خور کی مذمت کے لیے کہا جاتا ہے۔

چٹنل خوری - (دُن۔ ا۔ مٹ) غیبت۔ لٹرا۔

چٹنلی - (ج۔ غ۔ لی) (دُن۔ ا۔ مٹ) غیبت۔ کسی کی برائی کرنا۔

چٹنلی کھانا - (۱) عازمی کرنا۔ غیبت کرنا۔ برائی کرنا۔

## ج۔ف

چھفت - (دُن۔ ا۔ مٹ) سُسٹ۔ کاہل۔

چھفتہ - (دُن۔ ا۔ مٹ) کڑی کا بنا ہوا کڑہ جس کی چھت کڑی کے ستونوں پر ہو (۲) پایہ۔ ٹھوٹی (۳) منڈپ۔ منڈا (۴) جالی (۵) انگوٹھی۔

چھفتی - (پش۔ ق) (دُن۔ ا۔ مٹ) وہ چھٹی کڑی جس سے سیدھی لکیریں

کھینتے ہیں۔ مسطر (۲) خوشامدی۔

## ج۔ق

چتقی - (دُن۔ ا۔ مٹ) چلن۔ چک۔ بانس یا سرکڑے کی تیلیوں کا پردہ۔

چتیا چاقی - (ج۔ ق۔ تا۔ چاق) (دُن۔ ا۔ مٹ) تلواروں وغیرہ کے پتلے کی آواز۔

چتھر - (پش۔ قر۔ دُر۔ ا۔ مٹ) چشمہ۔ تالاب۔

چتقی ماق۔ چتقی ماق - (پش۔ ماق۔ چتقی۔ ماق) (دُن۔ ا۔ مٹ) ایک پتھر جس سے آگ نکلتی ہے۔





ساکھلا دینا۔  
 چکھ (جانا) ڈالنا۔ (د۔ صس) (۱) کھا جانا۔ بہنم کر جانا (۲) خورد برد کر جانا۔  
 مال اڑا دینا۔  
 چکھنا۔ (چکھ۔ نا) (د۔ صس) (۱) ذرا سا کھانا (۲) ذائقہ یا چاشنی دیکھنا۔  
 لذت اٹھانا۔ مزہ اڑانا (۳) سزا پانا۔  
 چکھوتی۔ (ج۔ کھو۔ تی) (د۔ ۱۔ مٹ) لذت کھانا۔  
 چکھوتالی کرنا۔ بازار کے سودے سکٹ کھانا۔ چوراہن کرنا۔  
 چکھی۔ (چکھ۔ کھی) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) چاٹ۔ چسکا (۲) کسی کا مال کھانا۔ ٹیڑ  
 کوڑائی سے پہلے تھوڑا سا دانا کھلانا۔  
 چکھی۔ (ج۔ ک۔ ای) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) ایک کھلونا (۲) پھر کی۔ نارنگی۔  
 (۳) چلو کی مادہ۔  
 چکھی اڑو۔ (۱) مذ۔ گول اڑو۔  
 چکی۔ (چک۔ کی) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) آٹا پیسنے کا آلہ (۲) گھٹنے کی ہڈی۔  
 (۳) ہندوؤں کے نیچے لگائی جانے والی کڑھی (۴) کڑھی یا دھات  
 کا گول ٹکڑا۔  
 چکی پھیرنا۔ چکی چلانا۔  
 چکی پیس کر گزارا کرنا۔ (۱) عمارت مزید ہونا۔ محنت مزدوری  
 کر کے پیٹ پالنا۔  
 چکی پینا۔ (صس۔ مرکب) (۱) چکی چلانا (۲) مصیبت بھگتنا (۳) کسی کام  
 کو تہ تک کیے جانا۔  
 چکی تلنا۔ (۱) عمارت۔ چکی کا کھر دیا جانا۔  
 چکی جھوننا۔ (۱) چکی چلانا۔ آٹا پینا (۲) طویل وقفہ شروع کرنا۔  
 ڈکھڑا رونا۔  
 چکی رہا۔ (۱) وہ شخص جو چکی کو کھر درا کرتا ہے۔  
 چکی کا پاٹ۔ چکی کا ہر ایک حصہ۔  
 چکی نامہ۔ وہ گانا جو شادی کے موقع پر اُٹھنا پیتے وقت عورتیں گایا  
 کرتی تھیں۔  
 چکی۔ (چک۔ کی) (د۔ ۱۔ مٹ) فریب۔ دغا۔  
 چکی دینا۔ دھوکا دینا۔  
 چکی لگی۔ (چک۔ کی۔ چک۔ کی) (د۔ ۱۔ مٹ) بچوں کی زبان میں ختم ہو گئی۔  
 چکیدہ۔ (ج۔ کی۔ دہ) (د۔ صس) ڈپکا ہوا۔

کاجھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔  
 کلنا مینا پیٹ خالی۔ (۱) شل۔ ٹیم تمام بہت مگر پیٹ خالی۔  
 چکھے۔ منہ کو سب چوستے ہیں۔ (۱) شل۔ (دوستوں کی سب خوشا مد کرتے ہیں۔  
 چکنا چور۔ (چک۔ نا۔ چور) (د۔ صس) (۱) ٹکڑے ٹکڑے۔ پڑزے  
 پڑزے (۲) تھکان۔  
 چکنا چور کرنا۔ (۱) عمارت۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔  
 چکنا نا۔ (چک۔ نا۔ نا) (د۔ صس) (۱) روشن لگانا (۲) ٹیٹھی باتیں کرنا۔  
 چکنا وٹ۔ چکنا ہٹ۔ (چک۔ نا۔ وٹ) (چک۔ نا۔ ہٹ) (۱) ہٹ۔  
 (د۔ ۱۔ مٹ) چکنا بن۔  
 چکنا ٹی۔ (چک۔ نا۔ ای) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) تیل۔ گھی۔ روغن۔ چرنی۔  
 (۲) بے ستری۔  
 چکنی۔ (چک۔ تی) (د۔ صس) چکنا کی تائینٹ (۱) روغن (۲) صاف  
 ستھری۔ پکدار۔  
 چکنی باتیں۔ (۱) مرث۔ خوشامد کی باتیں۔  
 چکنی بیڑی باتیں کرنا۔ (۱) عمارت۔ خوشامد یا چاپلوسی کی باتیں کرنا۔  
 چکنی ذلی۔ (۱) مرث۔ ایک قسم کی چھالیہ جسے دودھ میں پکا کر بناتے ہیں۔  
 چکنی مٹی۔ (۱) مرث۔ ایک قسم کی مٹی جو پینے کے کام آتی ہے۔  
 چکینا۔ (ج۔ کن۔ یا) (د۔ صس) البلا۔ بانگا۔ چھلا۔  
 چکو۔ (چک۔ کو) (د۔ ۱۔ مٹ) چاقو کا بگڑا ہوا۔  
 چکوا۔ (چک۔ وا) (د۔ ۱۔ مٹ) مرغاب۔ ایک پرند جو دریا کے کنارے  
 رہتا ہے۔  
 چکوا چکوی۔ مرغاب کا جوڑا مشہور ہے کہ چکوا چکوی دن بھر ساتھ رہتے  
 ہیں۔ رات کو جگدا ہو کر زرد مادہ ندی کے دونوں کناروں کے ایک ایک  
 درخت پر بیٹھ جاتا ہے اور صبح تک ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں۔  
 چکو تا۔ (ج۔ کو۔ تا) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) فیصلہ (۲) بے باقی۔  
 چکو تا۔ (ج۔ کو۔ تا) (د۔ ۱۔ مٹ) ایک مرض جس میں گھٹنے کے نیچے پھیناں  
 نکل آتی ہیں اور تمام ٹانگ پر پھیل جاتی ہیں۔  
 چکو ترا۔ (ج۔ کو۔ ترا) (د۔ ۱۔ مٹ) تاریخ کی قسم کا ایک ٹھیل۔ بڑا نیبو۔  
 چکوٹ۔ (چک۔ وٹ) (د۔ صس) (۱) چکنی۔ مزہ (۲) لذیذ۔ خوش ذائقہ۔ مزہار۔  
 چکوڑ۔ (ج۔ کو۔ وڑ) (د۔ ۱۔ مٹ) میٹر کے قسم کا ایک پہاڑی خوشنما و خوش آواز  
 پرند۔ یہ چاندنی رات میں خوب پہچانا ہے۔ اس لیے اسے چاند کا  
 عاشق کہتے ہیں۔

## ج۔ گ

چکھانا۔ (ج۔ گا۔ نا) (د۔ صس) پرندوں کو دانہ کھلانا۔  
 چکھانی۔ (ج۔ گا۔ تی) (د۔ ۱۔ مٹ) صراب۔  
 چکھانی۔ (ج۔ گا۔ ای) (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) بھنگانے کی اجہرت (۲) چکھنا (۳)  
 چکھنے کی بیڑ۔  
 چک ڈھیا۔ (چک۔ ڈھ۔ یا) (د۔ صس) چکلی دارسی والا چھوٹی سی دارسی والا

چکور۔ (چک۔ وڑ) (د۔ صس) (۱) مینوں۔  
 چکور۔ (ج۔ کو۔ وڑ) (د۔ ۱۔ مٹ) بالوں کا بھڑا۔  
 چکور۔ (ج۔ کو۔ وڑ) (د۔ ۱۔ مٹ) چکور کی مادہ۔  
 چکولیاں۔ (ج۔ کو۔ لیاں) (د۔ ۱۔ مٹ) ایک قسم کا کھانا۔  
 چکھ۔ (د۔ صس) ذرا۔  
 چکھا چکھی کرنا۔ (۱) عمارت۔ (چکھ۔ کھ۔ کھ۔ کھ) کرنا (د۔ صس) تھوڑا سا  
 چکھ لینا۔  
 چکھا دینا۔ چکھنا نا۔ (ج۔ کھا۔ دے۔ نا) (ج۔ کھا۔ نا) (د۔ صس) تھوڑا



**چلتی** - (پہل - تی) (۱) صفت (۱) چلنے والی (۲) جاگتی ہوئی۔  
**چلتی** (۱) چلتی (۲) چلتی پھرتی پھاؤں - (۱) شش (۲) دنیا کی دولت ناما پانڈرا اور چند روزہ جاہ و مراتب سے مراد ہے جو کبھی اس کے اور کبھی اُس کے پاس ہے (۳) جلد ختم یا گزرنے والی چیز۔  
**چلتی** کا نام گاڑی ہے - (۱) شش (۲) جب تک کام بنا رہے اس وقت تک نام رہتا ہے۔

**چلتی** گاڑی میں روزا لگانا - (۱) عمارت ہوتے ہوئے کام کر دینا۔  
**چلتی** جو اسے لڑتا - (۱) عمارت، نہایت بد مزاج ہونا۔ خواہ خواہ لڑائی کرنا۔  
**چلتی** جوئی بات - (۱) امش (۲) وہ بات جو سرسری طور پر کہی جائے۔  
**چلتے** - (پہل - تے) (۱) تابع فعل (۲) چلتی کی صورت میں۔ کام کرتا ہوا۔ جھاگتا ہوا۔  
**چلتے** میل کے آر لگانا - (۱) عمارت کام کرنے والے کو روکنا۔ ناحق کسی کو تنگ کرنا۔  
**چلتے** پھرتے نظر آؤ - (۱) عمارت ہوا جاؤ۔ رو پھرتا ہوا جاؤ۔ چلے جاؤ۔  
**چلتے** چلتے - (۱) تابع فعل (۲) میں جانے کے وقت - روانہ ہونے کے وقت۔

**چلتے** چور لنگوٹی لالچھ - (۱) شش (۲) بہت ساققان ہونے پر جو کچھ بھی مل جائے غنیمت ہے۔  
**چلتے** لالچھ - (۱) تابع فعل (۲) جب تک لالچھ میں کام کرنے کی طاقت ہے۔  
**چلتے** تک تا بہ حاصل ہے۔

**چلچلی** - (پہل - چل) (۱) صفت (۲) ابرق - ابرک - ایک کافی جو ہر جوا کثر بھری میں چلنے ہوا نکلتا ہے۔  
**چلچلاتا** - (پہل - چل - لاتا) (۱) صفت (۲) سخت گرم - جلانے والا۔  
**چل چلاتی** - (پہل - چل - لاتا) (۱) صفت (۲) چل چلاتا کی تائینت۔ نہایت گرم۔  
**چلچلاتی** دھوپ - (۱) صفت (۲) سخت تیز دھوپ۔

**چلچلانا** - (پہل - چل - لاتا) (۱) صفت (۲) چل چلانا (۳) بے فائدہ شور و خفا کرنا۔  
**چلچلانا** - (پہل - چل - لاتا) (۱) صفت (۲) کھلانا (۳) مجاہد کرانے کو دل چاہنا۔  
**چل چلاؤ** - (پہل - چل - لاتا) (۱) صفت (۲) رونا روی - چلا چلی (۳) سفر کو چل۔

**چلیلی** - (پہل - چل - لی) (۱) صفت (۲) چلچ - چل سیں - (پہل - سیں) (۱) چلچلیں یا چلیں گے۔  
**چلچلے** - (پہل - چل - لے) (۱) صفت (۲) چلچلے۔  
**چلچلے** - (پہل - چل - لے) (۱) صفت (۲) چلچلے۔  
**چلچلے** - (پہل - چل - لے) (۱) صفت (۲) چلچلے۔

**چلک** - (پہل - چلک) (۱) صفت (۲) چلک - تابش - تاب۔  
**چلکا** - (پہل - چلک) (۱) صفت (۲) چلکا - روپیہ۔  
**چلکنا** - (پہل - چلک - نا) (۱) صفت (۲) چلکنا - روشن ہونا - دکنا۔  
**چلکنا** - (پہل - چلک - نا) (۱) صفت (۲) چلکنا - روشن ہونا۔  
**چلک** - (پہل - چلک - نا) (۱) صفت (۲) چلک - روشن ہونا۔  
**چلک** - (پہل - چلک - نا) (۱) صفت (۲) چلک - روشن ہونا۔

**چلم** برادر - (۱) مذ (۲) حق چلانے والا - ملازم۔  
**چلم بھرنا** - (۱) عمارت (۲) چلم پر تباہ اور آگ رکھنا (۳) کھینا خدمت کرنا۔  
**چلم پینا** - (۱) عمارت (۲) حق چلنا (۳) گناہ یا چوس پینا۔  
**چلم چرت** - (۱) صفت (۲) بہت حق چلنے والا۔  
**چلمچی** - (پہل - چل - چی) (۱) صفت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمچی** کے سر پرش میں چمید ہوتے ہیں۔

**چلمن** - (پہل - چل - من) (۱) صفت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن چھوڑنا** - (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** - (پہل - چل - من) (۱) صفت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔

**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔

**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔

**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔

**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔

**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔

**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔  
**چلمن** (۱) عمارت (۲) چل - مٹا ہونے کا برتن۔







چندو۔ دس۔ ۱۔ مذ۔ چاند۔ ماہ۔ ہستاب (۲) مور کی دم پر جو سپند ہوتا ہے۔

چندو ریشی۔ (س۔ ۱۔ مذ) آبروں کے ایک مشہور خاندان کا نام جو اپنے آپ کو چاند دیوتا کی اولاد سمجھتے ہیں۔

چندو جوت۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) چاندنی (۲) آتش بازی کی ایک قسم۔ چندر کلہ۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) چاند کے تکر کا سولہواں جتہ (۲) ایک زیور کا نام جو خاص کر مندروں کی صورتوں کے سر پر بندھتا ہے۔

چندو گرہن۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) چاند گہن۔

چندو مال۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) چاند۔ ماہ۔ ہستاب۔

چندو مار۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) گے کا ایک زیور۔

چندورا۔ (چند۔ را۔ ۱۔ صفت) (۱) وہ شخص جس کی کھوپڑی پر بال نہ ہوں۔ (۲) عقل مند۔ (۳) دانستہ۔ (۴) بد نصیب۔

چندورانا۔ (چند۔ را۔ نا) (دہ۔ ۱۔ ص) (۱) چھٹلانا (۲) جان بوجھ کر کوئی بات پوچھنا۔ (۳) جاہل عارفانہ کرنا۔

چندراولی۔ (چند۔ را۔ ولی) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) کرشن جی کی ایک گولی (۲) ایک مشہور نالگ۔

چندرکی۔ (چن۔ در۔ کی) (دق۔ ۱۔ مٹ) چنچن۔

چندوری۔ (چند۔ ری) (دہ۔ ۱۔ مٹ) رنگ رنگ کا دودھ۔ چنڑی۔

چندو ماری۔ (چند۔ ما۔ ری) (دہ۔ ۱۔ مٹ) ایک پرند جس کی چونچ گردن اور پاؤں لائے ہوتے ہیں اور چونچ کے نیچے ایک تھیلی سی ہوتی ہے۔

چندن۔ (چن۔ دن) (دس۔ ۱۔ مذ) صندل۔ صندل کی گٹھی۔

چندن کی چنگلی بھلی، گاڑی بھرانہ کا ٹھہ۔ (۱) مثل، عورتی ایسی چیز اس زیادہ سے بہتر ہے جو خواب ہو۔ ذرا سا صندل گاڑی بھرا منہ سے بہتر ہے۔

چندنا۔ (چن۔ نا) (دق۔ ۱۔ مٹ) چاندنی۔

چندوا۔ (چند۔ وا) (دہ۔ ۱۔ مذ) ٹہلی کے اوپر کا جتہ۔ گول ٹہلی کے اوپر کا گردہ۔ چھوٹا شامیانہ۔

چندو مٹی۔ (چند۔ و۔ مٹی) (دق) چندی۔ چھوٹا ٹکڑا۔

چندوہ۔ (چن۔ وہ) (دق۔ ۱۔ مذ) وہ روپیہ جو مختلف آدمیوں سے ملے کر کسی کام کے لیے جمع کیا جائے۔

چندوہا۔ (چن۔ وہا) (دہ۔ ۱۔ صفت) وہ شخص جس کی آنکھیں روشنی کی تاب نہ لاسکیں۔

چندوہانا۔ (چندوہ۔ یا۔ نا) (دہ۔ ۱۔ ص) (۱) تیز روشنی کے باعث آنکھیں جھپکتا (۲) آنکھوں کی کمزوری کے سبب کم نظر آنا (۳) حیرت زدہ ہونا۔ (۴) گھبرا جانا۔

چندی۔ (چن۔ دی) (دہ۔ ۱۔ مٹ) چھوٹا ٹکڑا۔ پرزہ۔

چندیا۔ (چن۔ یا) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سر کھوپڑی (۲) چھوٹی سی روٹی۔ بچے ہونے آئے کی گھیا (۳) روٹی بڑھانے وقت بیچ میں جو گھیا سی رہ جائے۔

چندیا پر بال نہ چھوڑنا۔ (۱) عمارتوں کوٹ کوٹ کر کھا جانا۔ مغل کر جانا۔

چنٹا چنٹا نہیں کرنا۔ (۱) عمارتوں کوٹ کر کھا جانا۔ بھٹ کرنا۔ تکرار کرنا۔ نفس نکالنا۔ چنٹا پنچ۔ (دہ۔ ۱۔ ص) (۱) چنٹا۔ (۲) جیسا کہ۔ مثلاً۔ اس طرح۔ اس طور سے۔

چنٹا ڈٹ۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنٹا ڈی۔ (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈٹ۔ (۲) ڈٹ۔ (۳) ڈٹ۔ (۴) ڈٹ۔ (۵) ڈٹ۔ (۶) ڈٹ۔ (۷) ڈٹ۔ (۸) ڈٹ۔ (۹) ڈٹ۔ (۱۰) ڈٹ۔ (۱۱) ڈٹ۔ (۱۲) ڈٹ۔ (۱۳) ڈٹ۔ (۱۴) ڈٹ۔ (۱۵) ڈٹ۔ (۱۶) ڈٹ۔ (۱۷) ڈٹ۔ (۱۸) ڈٹ۔ (۱۹) ڈٹ۔ (۲۰) ڈٹ۔

چنگا ہے گزنگا - (اش صاحب استطاعت تو ہے گرنے حد کنایت شاعر ہے۔  
چنگاری - (پہن - گری - ۱۰۵) (مٹ) (۱) آگ کا شرارہ - ایسی بات جو رکھیں  
کا باعث ہو۔

چنگاری بھڑنا - (۱- مادہ) آگ کے پھول بھڑنا۔  
چنگاری بھڑنا (بھڑنا) ڈالنا - (۱- مادہ) ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کو رنج  
ہو۔ فزا انگری کرنا۔ آگ لگانا۔ لڑائی کرنا۔  
چنگاریاں چھوٹنا - (۱- مادہ) (۱) آگ کے شرارے نکلنا۔ آگ کی پٹیں اٹھنا  
(۲) کال جلاں ظاہر ہونا۔ غوغاری برسا۔

چنگال - (پہن - گال) (۱) (۱) مذ (۲) درندوں اور شکاری پرندوں کا پنجرہ۔

چنگلی - (پہن - گلی) (۱) (۱) مذ (۱) آدمی یا جانور کا پنجرہ (۲) مٹھی - ہاتھ۔

چنگل مارنا - (۱- مادہ) پنجرہ مار کر پکڑنا۔

چنگل میں آجانا - تار میں آجانا۔ پھنس جانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱-۱۰) مذ (۲) پوڑہ۔ ٹرنی کا پنجرہ۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱-۱۰) مذ (۲) پوڑہ۔ ٹرنی کا پنجرہ۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱-۱۰) مذ (۲) پوڑہ۔ ٹرنی کا پنجرہ۔

چنگھاڑ - (پہن - گھاڑ) (۱-۱۰) مذ (۲) آدمی کی آواز (۲) شور و غل (۳)  
فریاد و فغان کی آواز۔

چنگھاڑ مارنا - (۱- مادہ) ہمیب آواز نکالنا۔ مٹھی کا پیننا۔

چنگھاڑنا - (پہن - گھاڑ) (۱-۱۰) مذ (۲) آدمی کا گرجنا۔ دھاڑنا (۲) مرد کا رونا۔

چنگھوٹیاں - (پہن - گھوٹ) (۱) (۱) مذ (۲) پتھوں یا نئے کیکنے والوں  
کے آڑے بیڑے عروت۔

چنگلی - (پہن - گلی) (۱) (۱) مذ (۲) چنگاری۔

چنگلی - (پہن - گلی) (۱) (۱) مذ (۲) چنگاری۔

چنگلی ڈالنا - (۱- مادہ) چنگاری ڈالنا۔

چنگلی - (پہن - گلی) (۱) (۱) مذ (۲) چنگلی بھر۔ چنگلی بھر (۲) شہری معمول جو باہر  
سے مال آنے پر لگایا جاتا ہے۔ ٹیکس۔

چنگلیاں - (پہن - گلی) (۱) (۱) مذ (۲) چنگلی کی جمع۔ چنگلیاں۔

چنگلیگر - (پہن - گلی) (۱) (۱) مذ (۲) چنگلیوں کی فوگری (۲)  
خون کا سرپوش (۳) روٹیاں رکھنے کا برتن۔

چنگلیگری - (۱-۱۰) مذ (۲) روٹیوں کی فوگری۔ ایک قسم کی پھیلی ہوئی پسیندی  
والی فوگری۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چنگنا - (پہن - گنا) (۱) (۱) مذ (۲) چنگنا۔ چنگنا۔ چنگنا کرنا (۲) دیوار بنانا۔

چند یا سے پر سے سرک - (۱- متول) پاس سے ہٹ - سرکے اوپر  
سرکے جاکر کھڑا ہو۔

چند یا کھانا - (۱- مادہ) (۱) سرکھانا۔ برتیاں کھانے کو جی چاہنا۔

چند یا ٹونڈنا - (۱- مادہ) (۱) سرکھانا (۲) ٹونڈ کرنا (۳) سخت مزادینا۔

چندیاں لے ڈالنا - (۱- مادہ) بہت لذت طلبت کرنا۔

چندیں - (۱- صفت) اتنا اتنی۔ کس قدر۔ کہتے۔

چندیں مدت خدان کی کردی گاؤوخر نہ شامی - (۱- مثل) جب کوئی  
شخص کسی کام میں ماہرین کر معمولی بات میں تیز نہ کر سکے۔ اس وقت  
کہتے ہیں۔

چندے - (پہن - دے) (۱) (۱) کچھ دیر (۲) کچھ روز (۳) کچھ عرصہ۔

چندے آفتاب چندے ماہتاب - (۱- صفت) حسن و جمال میں  
سورج اور چاند کے برابر۔

چن دینا - (پہن - دے) (۱) (۱) ترتیب دینا (۲) موکھا یا در بند کر دینا۔

چنڈال - (پہن - ڈال) (۱) (۱) صفت (۲) کینڈ - اونٹے ذات کا (۲) بد نصیب  
بد بخت (۳) بخیل - کنوس - ٹنگ۔

چنڈال بال - (۱-۱۰) مذ (۲) ایک بڑا بال جو ماتھے پر نکل آتا ہے اور اسے  
خنوس کہتے ہیں۔

چنڈال چوگرٹی - (۱-۱۰) مذ (۲) چند مسدوں کا گروہ جو جمع ہو کر فتنہ و فساد  
برپا کریں۔

چنڈالنی - (پہن - ڈال) (۱) (۱) صفت (۲) کینڈی - سٹلی - صندن۔

چنڈاول - (پہن - ڈال) (۱) (۱) مذ (۲) لشکر کی آخری فوج (۲) سنزلی۔  
ہو کیدار - پاسبان۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چانڈو - ایک قسم کا نشہ جو اینٹوں پانی میں  
پلکا کر اور شکر کی طرح پیا جاتا ہے (۲) گینڈ (۳)۔

چنڈو باز - (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو پینے کا عادی (۲) زرد رنگ آدمی۔

چنڈو دل - (پہن - ڈول) (۱) (۱) مذ (۲) گینڈ۔

چنڈو دل - (پہن - ڈول) (۱-۱۰) مذ (۲) ایک خوش آواز پرندہ (۲) بد صورت  
اور بے ہنگم آدمی (۳) ایک زمانہ سواری جسے کہاں اٹھاتے ہیں۔  
(۴) مٹی کا ایک کھلونا۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔

چنڈو - (پہن - ڈو) (۱-۱۰) مذ (۲) چنڈو۔



پودہ طبق - (۵-۶-۷) مذ سات طبقے زمین اور سات طبقے زمین۔  
 پودہ طبق روشن ہو جانا - (۱-۲) مادہ (۱) مثل اور فرست بڑھ جانا۔ معلومات زیادہ ہونا۔  
 پودہ محصوم - (۵-۶-۷) مذ شیعوں کے فرقہ امامیہ کے نزدیک رسول اکرم حضرت ناطق اور بارہ امام۔

پودھواں - پودہ سے نسبت رکھنے والا۔ پودھویں نبر کا۔  
 پودھواں محصوم - (۱) مذ حضرت امام ہمدی۔  
 پودھویں - (۱) عدد ترتیبی پودہ سے نسبت رکھنے والی۔  
 پودھویں رات - (۱) صفت چاند کی وہ رات جس میں چاند پورا ہو جاتا ہے۔ شب ماہ۔

پودھویں کا چاند - (۱) مذ (۱) بدر ماہ کامل۔ ماہ تمام (۲) نہایت تابعدار۔  
 پودھویں چاروں طرف - چاروں اطراف (ق)  
 پورا سی - (۱) چار اور پراسی - (۲) ۸۴ (۳) ایک قسم کا زیور۔ جہانجی (۴) گلنگر مڑوں کا راجہ۔ بیٹوں کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔

پورا سی جھوٹا - (۵) مادہ (۱) ہندوؤں کے عقیدے میں مرنے کے بعد۔  
 پورا سی لاکھ قابوں میں جانا، آداگون کے چکرتیں پڑنا۔ یکے کی سزا پانا۔  
 پورا سیاسی - (۵-۱) مذ (۱) پورا سی برس کا۔ ہشتاد و چار سالہ (۲) برہمنوں کی ایک قوم۔

پورا تو سے - چار اُپر توستے - ۹۴۔  
 پورا ٹا - (۱) مذ وہ جگہ جہاں سے چار راستے نکلنے ہوں۔  
 پورا رہے میں - (۱) تابع فعل اسب کے سامنے۔ کھلم کھلا بیچ بازار۔ سربازار۔  
 پوراس - (۱) صفت (۲) دوسرا مسلح (۳) مزاج پوکور۔

پوراسانا - (۱) صفت ہوا کرنا۔ پوکور کرنا۔ مسلح کرنا۔  
 پوراسانی - (۱) صفت ہوا کرنا۔ برابری۔  
 پوراسی - (۱) صفت ترکھانوں کا ایک اوزار۔

پورنگ - (۱) مذ (۲) وہ چیز جس پر تلواریں کا ہاتھ صاف کریں (۳) ایک دار میں تلوار سے چار ٹکڑے کرنا۔ تلوار کا دار۔ تلوار کا ہاتھ۔  
 پورنگ کاٹنا - (۱) مادہ (۲) تلوار کے ایک ہاتھ میں چار ٹکڑے کرنا۔  
 پوریا تو - (۵) عدد (۱) پورا تو سے - ۹۴ (ق)  
 پورسٹھ - پورسٹھ - چار اُپر ساٹھ - ۶۴۔

پورسمر - (۱) مذ (۲) زربازی پورسمری - چار گوشہ (۳) بساط جس پر گویں لگی جاتی ہیں  
 پورسمر بازو - (۱) مذ (۲) پورسمر کا کھلاڑی۔ زرباز۔  
 پوکا - (۱) اگلے چار دانتوں کی ٹی (۲) مزاج پھر۔ سنگ مرمر کی مزاج سل (۳) پکانے اور کھانے کا مقام (۴) چار کسان چتریں جو باہم بیوستہ اور برابر کی ہوں (۵) ایک قسم کا مونا پتھر جس سے مکان کا فرش بناتے ہیں (۶) ایک قسم کا برتن (۷) ایک مٹا

پوکا برتن کرنا - (۱) مادہ (۲) پکانے کھانے کی جگہ کو تیار کرنا۔ کھانے پینے کے برتنوں کو کھانا پوکھ کرنا۔ چاروں طرف (ق)۔  
 پوکھڑی - (۱) صفت (۲) ہرن کی تلواریں۔ زقند۔ چھلانگ (۳) چار گھوڑوں کی گلیں (۴) ایک زور (۵) حد حدت (۶) ایک قسم کی چار چیزیں (۷) گلے کا ایک زیور۔  
 پوکھڑی بھرنانا - (۱) مادہ (۲) ہرن یا گھوڑے کا اچھلنا۔ کوزنا۔ تلواریں مارنا۔

پوکھڑی بھول جانا - (۱) مادہ (۲) سٹ پٹ جانا۔ گھبرا جانا۔ ہوش نہ رہنا۔  
 پوکس - (۱) صفت چاروں طرف سے خبردار۔ ہوکتا - (۲) وہ شخص جو اپنے کام میں ہوشیار ہو (۳) قول میں پورا۔ ٹھیک۔  
 پوکس رہنا - (۱) مادہ (۲) خبردار رہنا۔ ہر طرف سے ہوشیار رہنا۔  
 پوکسی - (۱) صفت ہوشیاری۔ بھنبانی۔ خبرداری۔

پوکتا - (۱) صفت ہوشیار۔ خبردار۔ بیدار۔ مغز۔ باخبر۔  
 پوکتا ہونا - (۱) مادہ (۲) ہوشیار ہونا۔ بیدار ہونا (۳) بھڑکنا۔ بدکن تیز ہونا۔  
 پوکور - پوکون - پوکوتا - (۱) صفت (۲) مزاج پوکور (۳) نہایت موٹا آدمی۔  
 پوکھٹ - (۱) صفت (۲) دروازہ کی چار کھڑکیاں جس میں پٹ لگانے جاتے ہیں۔

پوکھٹ نہ چھانکنا - (۱) مادہ (۲) کسی نہ آنا۔ کسی کے گھرنے جانا۔  
 پوکھٹا - آئینہ دار گھر۔ وہ چار کھڑکیاں جن میں آئینہ بڑا جاتا ہے۔ تصویر یا قطعہ وغیرہ کا فریم۔  
 پوکھونٹ - (۱) مذ (۲) چاروں طرف (۳) دنیا۔ عالم (۴) ہر طرف۔ ہر سمت۔

پوکھونٹا - (۱) صفت چار گوشہ۔ چار پہلو۔ مربع۔  
 پوکھوگڈ - (۱) مذ (۲) وہ جگہ جہاں چار گڈوں کی حدیں ملیں (۳) چار کنگڑوں کا گھٹا۔  
 پوکھڑی - بانس کی پتی چھڑکیوں کا چوکوشہ اگر جس سے پرندے پکڑتے ہیں۔

پوکھوگڈ - (۱) مذ (۲) چاروں طرف۔  
 پوکھوگڈا - (۱) صفت (۲) چار پکھڑی کا پھول۔  
 پوکھوگڈا - (۱) صفت (۲) چار چند۔

پوکھوشیا - (۱) صفت (۲) چار کونوں والی (۳) ایک قسم کی ٹپنی جس کے چار گوشے ہوتے ہیں (۴) ترک گھوڑا۔  
 پوکھوگڈا - (۱) چار خانوں کا سونے چاندی یا تانے وغیرہ کا کبس جس میں الہیگی وغیرہ رکھتے ہیں (۲) پتوں کے کھینے کا ایک کبس (۳) ساچن کی آرائش کی ٹھیلیاں جو ایک ایک ٹپنی پر چار چار میوؤں وغیرہ سے بھری ہوتی رکھی جاتی ہیں (۴) سفید بڑی الہیگی۔

پوگلاوا - (۱) مذ (۲) ایک کتوں جس میں چار رسیاں پڑتی ہیں۔  
 پوگڑا - (۱) مذ (۲) گلے کا ایک ہار جس میں چار ٹپیاں ہوتی ہیں۔  
 پوگاس - پوگاسا - (۱) مذ (۲) برسات کے چار پھینے۔ برسات۔  
 پوکھ - (۱) مذ (۲) چار بتی کا پھراں۔ وہ پھراں جس کے چاروں طرف بتیاں روشن کی جائیں۔ چار رخ والی۔

پوگھ جھلانا - (۱) مادہ (۲) منت کا پوگھ چراغ جھلانا۔ صدقہ یا نیاز کا پھراں جھلانا۔  
 پوگھکا - (۱) چار منڈ کا (۲) چار بتی کا پھراں (۳) پٹے کا وہ ہاتھ جو چاروں طرف اس طرح پھرایا جائے کہ کسی طرف سے حریت قابو نہ پائے (۴) وہ پھلکا باز جو ایکلا چار کو جواب دے۔

پوگھکی - (۱) صفت (۲) پوگھکا کی تائینٹ (۳) ہندوؤں کی ایک دیوی  
 پوگھکی درخت کا بیج۔  
 پوگھکی لڑنا - (۱) مادہ (۲) حریت سے چاروں طرف لڑنا (۳) کسی آدمی کی بات کا جواب دینا۔  
 پوگھنلا - (۱) صفت (۲) چار منڈ کا مکان۔







چور بٹھنا۔ بدگمانی ہونا۔ خوف ہونا۔ بُرائی ہونا۔  
 چور پانی۔ (۱) وہ پانی جو دریا کے کنارے پر یا خشک تہ میں ریت کھود کر نکالا جائے۔  
 چور پر مور پڑنا۔ (۱) عاودہ، چور کے گھر میں خود ہی چوری ہونا۔ خشک ٹھکانا ہونا۔  
 چور پڑنا۔ (۱) عاودہ، (۱) چوروں کا کسی کے گھر میں اُترنا (۲) ناسور پڑنا۔ (۳) ہندی لگانے سے کچھ بگڑ جھوٹ جانا۔  
 چور پھرا۔ (۱) مذ، (۱) خینہ پھرا، پوشیدہ پاسانی (۲) حق، ہرادل۔  
 چور پیٹ۔ (۱) مذ، وہ پیٹ جس کا محل عرصہ تک دکھائی نہ دے۔  
 چور پیٹا۔ (۱) مذ، پیٹا جو خاک میں گر کر مشکل سے پایا جاتا ہے۔  
 چور تھانگ۔ (۱) مذ، وہ شخص جو چوری کا مال لیتا ہو۔  
 چور جاتے رہے کہ اندھیاری۔ (۱) مثل، نہ چور ہی دنیا سے غائب ہوئے نہ تاریکی ہی بتی جانے گی جب اندھیری آنے لگی چور آمو جو ہوں گے بدکار مرنے پا کر پھر بدکاری کرتا ہے۔

چور جانے چور کی سار۔ (۱) مثل، چور کو چوری پہچان سکتا ہے۔  
 چور کا حال سو میرا حال۔ (۱) متولہ، اپنی صفائی ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔  
 چور چرا سے اور گردن ہلا سے۔ (۱) مثل، بڑا کام کر کے نگر جانے والے کے متعلق بولتے ہیں۔  
 چور چیکار۔ (۱) مذ، پھر، اُچکا۔ بد ساش۔ گرہ کٹ۔  
 چور چوری سے جاتا ہے ایرا پھیری سے نہیں جاتا۔ (۱) مثل، عادت چھوٹنے پر بھی کچھ نہ بچھ اُڑا جاتا ہے۔ بڑی عادت نہیں جاتی۔  
 چور خانہ۔ (۱) مذ، (۱) مندو پتر کا پوشیدہ خانہ (۲) بجزے کے اندر کا خانہ جو دوسرے خانے میں ہو (۳) خلوت خانہ۔  
 چور دروازہ۔ (۱) مذ، گھر کا وہ راستہ جو عام لوگوں کو معلوم نہ ہو۔  
 چور دوج۔ (۱) مذ، (تواری سے کیلئے والوں کی اصطلاح) حریف کا میدان میں آکر آگے پیچھے ہٹانا اور تواری اور دھال کو اُد پر لے جا کر سر ہیٹ پر دار کرنا۔

چور راستہ۔ (۱) مذ، غیر متعارف راستہ۔ پوشیدہ راستہ۔  
 چور زمین۔ (۱) مثل، دلدل۔ دھساؤ۔  
 چور سے بکے چوری کر ساه سے بکے تیرا گھر ٹا۔ (۱) مثل، اس شخص کی نسبت بولتے ہیں جو خودی نقصان کرانے اور خودی بھروسے۔  
 چور کا بھائی گھنہ گترا۔ (۱) مثل، جب کوئی شخص جب دار کی طرف داری کرتا ہے تو اس کی نسبت بولتے ہیں۔ بد کا ساتھی بد۔  
 چور کا جی کتنا۔ (۱) متولہ، پھر دذا سی بات پر ڈر جاتا ہے۔  
 چور کا شاہد چراخ۔ (۱) مثل، جب کوئی راز دار کسی کا بھید کھول دے۔ اس موقع پر بولتے ہیں۔

چور کا مال سب کوئی کھائے چور کی جان اکارت جائے۔ (۱) مثل، بڑے کو سوا منرے کچھ نا مذہ نہیں ملتا۔ چور کے مال میں کئی جھتہ دار ہوتے رہیں، مگر سزا میں کوئی جھتہ دار نہیں ہوتا۔  
 چور چھری۔ (۱) مثل، وہ ٹکڑے جو بد ساشوں اور چوروں کی سزا فرسانی پر پیشہ

چور کو چور ہی سو جھتا ہے۔ (۱) مثل، جیسے کویتا ہی پہچانتا ہے۔ دلی راہ سے شام۔ ہر شخص دوسرے کو اپنا ہی جیسا سمجھتا ہے۔  
 چور کو گھر تک پہنچانا۔ (۱) عاودہ، (۱) سالا کو انتہا تک پہنچانا۔  
 چور کھڑکی۔ (۱) مثل، بد مشجدہ در پچ۔  
 چور کی دار طھی میں تشکا۔ (۱) مثل، پور خود اپنے چوکتا ہی سے پہچانا جاتا ہے۔  
 چور کی ماں کو بھی میں سر دے کر روئی ہے۔ (۱) مثل، بڑے کا بھیدی دل ہی دل میں گھٹتا ہے۔ چور کی ماں اپنے رنج پر چھپ کر میرا اس نکال لیتی ہے۔ کسی کے سامنے کیلے۔

چور کے پیر کہاں۔ (۱) مثل، چور میں استتال نہیں ہوتا۔ ذرا کھٹکا پاکر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔  
 چور کے گھر مور۔ چور کے گھر میں مور پڑے۔ (۱) مثل، اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی شخص چاک کو بھی دھوکا دے یا کوئی شخص کسی سے کوئی چیز اُڑا لانے اور اس چیز کو اس سے کوئی دوسرا بھٹ لے جائے۔  
 چور گلی۔ (۱) مثل، (۱) وہ گلی جو ایک طرف سے بند ہو (۲) با جامہ کی مانی۔  
 چور محل۔ (۱) وہ بیوی جو بیابستان ہو (۲) وہ محل جہاں امیر لوگوں کی آشنائیں رہیں۔

چور مندلی۔ (۱) مثل، (۱) بچوں کا ایک کھیل جس میں وہ ایک لنگڑا کو گھر کے کسی ڈھیر میں چھپا دیتے ہیں جو اسے ڈھونڈ پائے۔ وہ سارا گوبر لے جاتا ہے۔  
 چور ٹونگ۔ چور اُرد۔ (۱) مثل، وہ پھوٹے پھوٹے سنت ٹونگ یا اُرد کے دانے جو گلنے سے رہ جاتے ہیں۔  
 چور چٹیا۔ (۱) مذ، وہ دکاندار جو چوروں سے مال خریدے۔  
 چور۔ (۱) صفت (۱) ریزہ ریزہ۔ ٹکڑے ٹکڑے۔ (۲) بدست۔ متوالا۔ سرشار۔  
 چور ہو جانا۔ چور چور ہو جانا۔ (۱) عاودہ، (۱) کسی چیز کا ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانا (۲) خشک جانا۔

چورا۔ (پور۔ را) (۱) مذ، بڑا درد۔ ریزہ۔  
 چورا کرنا۔ (۱) عاودہ، (۱) ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ پینا (۲) خوب مارنا۔ زد و کوب کرنا۔  
 چورا کاری۔ (پور۔ نا۔ کا۔ ری) (۱) صفت، چوری۔ چوری کا شہرہ۔  
 چورما۔ (پور۔ ما) (۱) مذ، بیلہ۔  
 چورگن۔ (پور۔ گن) (۱) مذ، (۱) ایک قسم کا سنوف جو بدنہی کے لیے بنایا جاتا ہے (۲) چھلی۔ چھلی۔  
 چورنا۔ (پور۔ نا) (۱) صفت، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکے ٹکے یا کسی رقیق چیز میں ڈبونا۔  
 چوری۔ (پور۔ ری) (۱) صفت، (۱) سرقت۔ دزدی۔ دوسرے کا مال چھپ کر حاصل کرنا۔  
 چوری اور پترائی۔ ایک تو چوری کرنا دوسرے میل بازی دکھانا۔  
 چوری اور دسر، سینہ زوری۔ (۱) مثل، اپنے قصور پر نادام نہ ہو کر اُلٹے سر کھینچ کرنا۔  
 چوری جانا۔ (۱) عاودہ، سرقت ہو جانا۔  
 چوری چوری۔ (۱) مثل، فعل، چھپے چھپے۔ دو پردہ۔









چہل کاف - ایک دُعا کا نام جس میں چالیس کاف ہیں۔  
 پہلا - (پج - لا) (۱-۱-۱) وہ زمین جو پانی اور دلدل سے پُر ہو (۲)  
 (صفت) گھیلا (۳) دق [چھلا۔  
 چہلے کی گھینیس۔ موٹا آدمی جس کو حرکت کرنا دشوار ہو۔ جہول آدمی۔  
 چہل پیل - (پج - پل - پل) (۱-۱-۱) روغن - آبادی (۲) خوشی خرمی - مہیسی  
 چہلم - (پج - لم) (۱-۱-۱) چالیسواں - چالیس سے نسبت رکھنے والا۔  
 (۱) (۱-۱) چالیسویں کا فاتح اور کھانا (۳) شہدائے کربلا کا چالیسواں۔  
 چہلی - (پج - لی) (۱-۱-۱) منٹ (۲) گویش کی پرستی۔  
 چہنوز - (پج - ز) (۱-۱-۱) ایک بیماری جس کے سبب بچہ پیٹ  
 میں نہیں ٹھہرتا۔  
 چہتا - (پج - ہی - تا) (۱-۱-۱) پیارا - عزیز - محبوب۔  
 چہیتی - (پج - ہی - تی) (۱-۱-۱) پیاری - عزیزہ - محبوبہ۔  
 چہیز - (پج - یز) (۱-۱-۱) لال کی قسم کا ایک چوٹا سا پرندہ۔  
 چہیل - (۱-۱-۱) صفت (گیلا - نماز۔

پہ

پہ (پجھے) - (۱-۱-۱) صفت (۲) پانچ اور ایک - تین کا دگنا (۶)۔  
 پہ (بوندیا) بُندکیا - (۱-۱-۱) مذ (۱) ایک ذہریلا کیر جس کے بدن پر  
 پھ دارغ ہوتے ہیں۔  
 پہ پانچ کرنا - (۱-۱-۱) عمارت بنانا - شرارت کرنا (۲) حیران ہونا۔  
 نشتر دہج میں ہونا۔  
 پہ ماہی - (۱-۱-۱) منٹ (۲) مُردے کا فاتح اور کھانا جو مرنے کے چھ ماہ  
 بعد یا چھٹے مہینے ہوتا ہے۔  
 پہاپ - (۱-۱-۱) منٹ (۲) ہنر - فطرت - نشان - علامت - ایڈیشن۔  
 پہاپ لگانا - (۱-۱-۱) عمارت، ہنر لگانا - چٹا لگانا - نقش کرنا۔  
 پہانا - (پجھا - پا) (۱-۱-۱) مذ (۱) ہنر - فطرت (۲) پہانے کا آلہ (۳) شیخواریات  
 کو غنیمت پر اچانک حملہ (۴) نقش - صورت - تصویر (۵) سا پتھر ڈھالنے کا  
 ظرف (۶) کھلیاں پر مچھتا لگانے کا آلہ (۷) اخبار - پمپی ہونی چیز۔  
 پہاپا مارنا - شیخواریات - رات کو غنیمت پر چڑھ کر قتل عام کرنا۔  
 پہاپنا - (۱-۱-۱) صفت (۲) طبع کرنا - ہنر لگانا - نقش کرنا - چٹا لگانا (۳) نشانے کرنا۔  
 مشہور کرنا۔  
 پہاپے خانہ - (۱-۱-۱) مذ (۲) مطبخ - پریس۔  
 پہاپے خانے والا - (۱-۱-۱) مذ (۲) مطبخ کا نامک۔  
 پہاتا - (پجھا - تا) (۱-۱-۱) مذ (۱) پھرتی (۲) بڑا سینہ - چوڑا سینہ (۳)  
 پتنگ کا سینہ۔  
 پہانا بردار فوج - (۱-۱-۱) منٹ (۲) پیراشوٹ یا ہوائی پھرتی کے  
 ذریعے اترنے والی فوج (۱) (گم) (Para Troop)  
 پہاتم پہاتا - (پجھا - تم - پہا - تا) (۱-۱-۱) مذ (۱) سینے کو سینے سے کوٹنا (۲)

پہا میں ایک پتنگ کا دوسرے پتنگ سے لٹنا۔  
 پھاتی - (پجھا - تی) (۱-۱-۱) منٹ (۲) سینہ - صدر - پستان (۳) عمارت جو اصل  
 دل (۴) استقلال - مضبوطی (۵) فیاضی - سخاوت۔  
 پھاتی اُبھار کر چلنا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) سینہ تان کر چلنا (۳) اتر کر چلنا۔  
 پھاتی اُبھر آنا (اُبھرتا) - (۱-۱-۱) عمارت (۲) لڑکی کے پستانوں کا بڑھنا - بالغ ہونا۔  
 پھاتی اُمنڈ آنا (اُمنڈتا) - (۱-۱-۱) عمارت (۲) دل بھر آنا - غم و رنج کے باعث  
 رونے کو دل چاہنا۔  
 پھاتی بھر آنا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) آنسو بھر آنا (۳) پھاتی کا گوشت سے پُر ہونا  
 (۴) گرم آنا - ترس آنا (۵) پھاتی میں مادری محبت کے باعث دودھ اُتر آنا۔  
 پھاتی بھر جانا - گھوڑے کے سینے پر دم ہو جانا۔  
 پھاتی بڑھ جانا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) خوشی سے حوصلہ بڑھ جانا۔  
 پھاتی بیٹھ جانا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) کھانسی یا زکام سے آواز کا بھاری ہو جانا۔  
 پھاتی بھتر کر لینا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) سگدل ہو جانا۔  
 پھاتی پر بال ہونا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) شہادت اور مردت کا نشان ہونا۔  
 مانی حوصلہ ہونا۔  
 پھاتی پر پتھر رکھنا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) سختی اور اختیار کرنا - صبر کرنا۔  
 پھاتی پر پھرتا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) ہر وقت یاد آنا۔  
 پھاتی پر پتھر کر ڈھانی چیلو لہو پینا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) سخت سزا دینا۔  
 جان سے مار ڈالنا۔  
 پھاتی پر چڑھے رہنا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) سامنے موجود رہنا۔  
 پھاتی پر دھر کے لے جانا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) مال و دولت کو اپنے ساتھ  
 تیر میں لے جانا۔  
 پھاتی پر سانپ (پھرتا) لوٹنا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) سخت افسوس آنا بہت  
 آنا (۲) نہایت رنج و صدمہ گزرنا (۳) رشک آنا۔  
 پھاتی پر سہل دھرتا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) سینے پر بوجھ رکھ دینا (۳) صبر کرنا۔  
 (۴) سگدل اختیار کرنا۔  
 پھاتی پر کالا بھاڑ ہونا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) بہت ناگوار ہونا۔  
 پھاتی پر ٹونگ دلنا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) رشک دلانا - آتش خیرت سے  
 جلانا (۳) عذاب دینا - سزا دینا۔  
 پھاتی پر ہاتھ رکھنا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) دجوتی کرنا - محبت کا اظہار کرنا۔  
 پھاتی پر ہاتھ دھر کے دیکھو - (۱-۱-۱) عمارت (۲) اپنے دل کی حالت سے دوسرے  
 کے دل کی حالت کا اندازہ کرو۔  
 پھاتی پک جانا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) پوچی میں زخم آجانا (۳) دق ہو جانا۔  
 ناک میں دم آجانا۔  
 پھاتی پکڑ کر رہ جانا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) دل میں مسوس کر رہ جانا۔ دل ہی دل  
 میں غم و افسوس کے کسے بیٹھ رہنا۔  
 پھاتی پہاڑ ہونا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) دل سخت ہونا۔ (۳) حوصلہ ہونا - بہت ہونا۔  
 پھاتی پھنٹنا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) سینے کا شق ہونا۔ (۳) دل پر صدمہ عظیم گزرنا (۴)  
 کسی کی دولت دیکھ کر رشک ہونا - حسد ہونا۔  
 پھاتی پھی جانا - (۱-۱-۱) عمارت (۲) بے حد صدمہ ہونا۔

چھاتی پیٹنا - (۱- محاورہ) (۱) سینہ کو پی کرنا۔ ماتم کرنا (۲) کسی کی دولت بچھ کر سد کرنا (۳) غصے میں پیٹنا۔  
 چھاتی تلے رکھنا - (۱- محاورہ) پاس رکھنا۔ جان کے برابر رکھنا۔ اپنی بہنیں پاس رکھنا۔ مخالفت سے رکھنا۔  
 چھاتی ٹھنڈی کرنا - (۱- محاورہ) (۱) دل خوش ہونا (۲) مسکھ دینا۔ تسلی دینا (۳) ارمان نکالنا (۴) ٹھنڈ نکالنا۔  
 چھاتی ٹھونکنے - (۱- محاورہ) اطمینان کرنا۔ دل مضبوط کرنا۔  
 چھاتی چلانا - (۱- محاورہ) (۱) دق کرنا۔ شاننا (۲) رشک دلانا۔  
 چھاتی چلنا - (۱) سینہ میں سوزش ہونا (۲) غم یا حسد یا رشک سے دل جلنا۔  
 چھاتی چڑھنا - (۱- محاورہ) پستانوں میں دودھ بڑھانا۔ بونپکے کرسنے یا دودھ چھڑانے کے بعد ہوتا ہے۔  
 چھاتی چھینا - چھاتی چھین جانا۔ چھاتی چھینی ہونا۔ سدھوں کے باعث سینہ کا پرداخ اور پاش پاش ہو جانا۔  
 چھاتی درکنا - (۱- محاورہ) سینہ شق ہونا۔ سمت سدھ ہونا۔  
 چھاتی دھرکنا - (۱- محاورہ) (۱) دل کا پٹنا۔ دل لڑنا (۲) خوف چھانا۔ (۳) دل دکھنا۔ دل پر سدھ گزرنے۔  
 چھاتی دینا - بچے کو دودھ پلانا۔  
 چھاتی سراہنا - (۱- محاورہ) (۱) بڑ باری اور تمک کی تعریف کرنا (۲) تحسین و آفرین کرنا۔ شاباش دینا۔  
 چھاتی سلگانا - (۱- محاورہ) ستانا۔ دق کرنا (۲) رشک دلانا۔  
 چھاتی سے چھڑلنا - (۱- محاورہ) (۱) دل کا بوجھ دور ہونا (۲) بیٹی کا بیابا جانا۔  
 چھاتی سے لگانا - (۱- محاورہ) بوجھ محبت کے باعث سینہ سے چھٹنا۔  
 پیار کرنا۔ گلے سے لگانا۔  
 چھاتی کا ابھار - (۱- مذ) بلوغت کے باعث عورت کی چھاتیوں کا اوپر کو ابھارنا  
 چھاتی کا (چھتر) پہناؤ - (۱- مذ) (۱) دل کی گرانی۔ بار خاطر (۲) بار تم۔ (۳) بران بنی بیابھی بیٹی یا رائی بیٹی جس کا خرچ ماں باپ کے سر ہو۔  
 چھاتی کا پھوڑا - (۱- مذ) جان کا عذاب۔ دہال جان۔  
 چھاتی کا بم - (۱- مذ) (۱) جان قبض کرنے والا۔ خرشتہ موت (۲) ناگوار طبع۔ بار خاطر (۳) وہ ناگوار آدمی جو ہر وقت چھاتی پر موجود ہے۔  
 چھاتی کا سودا ہے - (۱- مثل) حوصلے کا کام ہے۔  
 چھاتی کرنا - (۱- محاورہ) جرات دکھانا۔ دنیا منی دکھانا۔  
 چھاتی کو ٹٹنا - (۱- محاورہ) سینہ کو پی کرنا (۲) کسی کی دولت دیکھ کر ہونٹنا۔  
 چھاتی کھول کر ملنا - (۱- محاورہ) فراخ دلی سے ملنا۔ بغیر رنجش ملنا۔  
 چھاتی کے کواڑے - (۱- مذ) سینہ کے دونوں پہلو۔  
 چھاتی کے کواڑھوٹنا - (۱- محاورہ) (۱) سینہ چاک کرنا (۲) دل کو کدورت سے پاک کرنا۔  
 چھاتی گدانا - (۱- محاورہ) عورت کے پستانوں کا ابھرتا شروع ہونا۔  
 چھاتی گڑبھر ہو جانا (ہونٹا) - (۱- محاورہ) خوش ہو جانا (۲) حوصلہ بڑھ جانا۔  
 چھاتی مسلنا - (۱- محاورہ) عورت کے پستانوں کو مرد کا ہاتھوں سے ملنا۔ ساس کرنا۔  
 چھاتی مسوستا - (۱- محاورہ) (۱) اسٹوس کرنا۔ دلی بڑا کر دیا جانا۔ سدھ اٹھانا

(۲) سدھ دینا۔ دل دکھانا۔  
 چھاتی میں دودھ اتر آنا - (۱- محاورہ) ماں مدت کے بعد بھی اولاد کو ملے اور وہ اُسے پہچان بھی نہکے تو مانتا بتا دیتی ہے کہ یہ تیری اولاد ہے۔  
 (۲) دودھ پلانے وقت چھاتیوں میں دودھ اتر آنا۔  
 چھاتی نکال کر چلنا - (۱- محاورہ) اگر کو چلنا (۲) سینہ ابھار کر چلنا (۳) عورت کو اپنے پستانوں کی نمائش کرتے ہوئے چلنا۔  
 چھاتیاں ابھرتا - (۱- محاورہ) لڑکی میں بلوغت کے آثار پیدا ہونا (۲) پستانوں کا نمودار ہونا۔  
 چھانج - (۱- مذ) (۱) نظر پھینکنے کا آلہ (۲) لمبی کے آگے کا وہ حصہ جس کے نیچے کوچوں کے پاؤں اور اوپر گھوڑے کی راس رہتی ہے۔  
 چھانج بولے تو بولے۔ چھانجی بھی بولی جس میں ستر تھید۔ (۱) مثل، جو خود صیب دار ہے وہ بے صیب کی کیا بڑائی کہے گا۔  
 چھانجی ڈاڑھی - بڑی اور کھنی ڈاڑھی۔ (طنز یہ)  
 چھانج میں ڈال کر چھیننی میں اتر آنا - (۱- محاورہ) (۱) اٹس کام کرنا۔ کسی کو روموا کرنا (۲) بات کا بتکڑ بنانا۔  
 چھانجوں برسنا - (۱- محاورہ) کثرت سے بارش ہونا۔ موسلا دھاری نہ برسنا۔  
 چھانجوں مانی پڑ گیا - (۱- محاورہ) (۱) بہت سا سینہ برس گیا (۲) نہایت شرمندگی اٹھانا پڑی۔  
 چھانچھ - (۱- مذ) (۱) وہ سینہ پانی جو دہی کو بول کر کھن نکالنے کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ لسی (۲) وہ ترش سینہ دودھ جو لمبی گرم کرنے میں نیچے بیٹھ جاتا ہے۔  
 چھاڈنا - (چھاڈنا) (۱- مذ) (۱) تے کرنا۔ اٹھی کرنا۔  
 چھار - (۱- صفت) (۱) بجلا دینے والا (۲) تیز۔ چڑچڑا۔ کڑوا (۳) نمکین۔ تیزابی (۴) مٹی کا بڑا ڈھیلا (۴) دق [ درخت -  
 چھاو - (۱- مذ) چھالا۔ آبلہ۔ پھسولا (۲) ناسعد (۳) تنجال۔ منہ کے چھالے۔ منہ آنا۔  
 چھاری - (۱- مذ) (۱) سونے پانڈی و دینو کا ڈالا۔  
 چھاڑ - (۱- مذ) (۱) دریا کا کنارہ (۲) زمین جو دریا چھوڑے۔ مٹی کا ٹکڑا۔ (۳) درخت (۴) ترک۔ تیگ (۵) چھاڑی۔  
 چھاڑ چھٹی - (۱- مذ) پر دنا راہداری۔  
 چھاڑ چھڑیلا - (۱- مذ) ایک پودا۔ بالچڑ۔ سنبل الطیب۔  
 چھاڑنی - (چھاڑنی) (۱) دق [ درخت - بہانہ۔  
 چھاگ - (۱- مذ) (۱) دودھ دینے کا وقت (۲) دودھ دوہنا (۳) دن کا پہلا کھانا (۴) کھانا جو مزدور لوگ صبح اپنے ساتھ لے جاتے ہیں (۵) بڑے بڑے پرانے جو ڈھن کے گھر سے دھلا گوشادی کے موقع پر پیسے جاتے ہیں۔  
 چھاگا - (۱- صفت) بدست۔ مدہوش۔ نشے میں۔  
 چھاگل - (چھاگل) (۱) مٹھ [ (۱) چھوٹی مٹی مشک (۲) مٹی کا وہ برتن جس میں ساف پانی بھرتے ہیں (۳) چھانجی۔ پاؤں کا ایک زلیہ۔  
 چھال - (۱- مذ) (۱) درخت کے اوپر کا پوست۔ چھلکا۔  
 چھالا - (چھا۔ لا) (۱- مذ) (۱) آبلہ۔ پھسولا (۲) وہ داغ جو تلواریں کے





چھتیس - رچت - تیس ( ۳۶ - صفت ) چھ اُپر تیس ( ۳۶ )  
 چھتیس - ( چھت - تی - سی ) ( ۶۰ - صفت ) مکار - چیار - چھتیس مُنہر جانے والا -  
 چھتیس - ( چھت - تی - سی ) ( ۶۰ - صفت ) ادب باش عورت - نہایت چالاک -  
 اور ہوشیار عورت -  
 چھٹ - ( ۶۰ - ا - حرف استثناء ) ( ۶۱ ) بجز - سوا ( ۶۲ ) چھوٹا ہوا - علیحدہ ( ۶۳ ) چھوٹا کا صفت -  
 چھٹ بھینٹا - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) اڑنے کا نثار - سنج قوم کا آدمی -  
 چھٹ پن - چھٹ پننا - ( ۶۱ - صفت ) خردی - بچپن - لڑکپن -  
 چھٹا - ( چھ - ٹا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چٹنا ہوا - منتخب ( ۶۲ ) چھ سے نسبت  
 رکھنے والا - ششم - چھیواں -  
 چھٹا ہوا - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) عمارت - منتخب - علیحدہ ( ۶۲ ) بدماش -  
 چھٹا یا - ( چھ - ٹا - یا ) ( ۶۱ ) حق - ا - صفت ) رکائی - نجات -  
 چھٹا یا - ( چھ - ٹا - یا ) ( ۶۱ - صفت ) ( ۶۲ ) خردی - چھوٹا پن -  
 چھٹانک - ( چھ - ٹانک ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) سیر کا سولہواں حصہ - پانچ تولہ -  
 چھٹانک دھینا خیر آبادی کو مٹی - ( ۶۱ - صفت ) ( ۶۲ ) ذرا سے سراہے پر بہت  
 بیشی مارنے والے کے مستحق ہوتے ہیں -  
 چھٹاؤں - ( چھ - ٹاؤں ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھکن - اُتار ج کی صفائی -  
 چھٹکا - ( چھٹ - کا ) ( ۶۰ - صفت ) چھوٹا -  
 چھٹکا - ( چھٹ - کا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) سینس کا رنگین و منقش پردہ -  
 چھٹکا را - ( چھٹ - کا - را ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) خالصی - فرست - بہت -  
 چھٹکال - ( چھٹ - کال ) ( ۶۰ - صفت ) چھینٹیں -  
 چھٹکانا - ( چھٹ - کانا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) ہر گندہ کرنا - پھیلانا - بھیننا - سرکانا -  
 منتشر کرنا - اپنی جگہ پر واپس کرنا -  
 چھٹکانا - ( چھٹ - کانا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) بھرننا - پھیلانا ( ۶۲ ) تاروں کا کھلنا - تار کھینکا -  
 چھٹکی - ( چھٹ - کی ) ( ۶۰ - صفت ) چھوٹی - بہت کم -  
 چھٹنا - ( چھٹ - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) صاف ہونا - مواد یا طبع نکلنا ( ۶۲ ) ڈبلا ہونا ( ۶۳ )  
 منتخب ہونا ( ۶۴ ) تم ہونا - ترشا ( ۶۵ ) چھوٹا ہونا - اناج کو کھوسے سے الگ کرنے کا آدہ -  
 چھٹنا - ( چھٹ - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) رکا ہونا - آزاد ہونا ( ۶۲ ) پیٹ جاری ہونا -  
 دست لگانا ( ۶۳ ) برطرف ہونا - موقوف ہونا ( ۶۴ ) بچنا - باقی رہنا ( ۶۵ )  
 ڈھنسا - سر ہونا ( ۶۶ ) علیحدہ ہونا - جدا ہونا ( ۶۷ ) چلنا - روانہ ہونا -  
 چھٹکی - ( چھٹ - کی ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) مٹا - پانچ تولہ کا باٹ -  
 چھٹوانا - ( چھٹ - وا - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) رکا کرنا ( ۶۲ ) ہر گندہ کرنا - موقوف کرنا -  
 چھٹوانی - ( چھٹ - وائی ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) رعایت - تخفیف - کمی -  
 چھٹولا - ( چھٹ - ٹولا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) وہ لباس جو بچہ پیدا ہونے کے زمانے  
 میں عورتیں پہنتی ہیں -  
 چھٹولا - ( چھٹ - ٹولا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھ دن یا چھ مہینے کا بچہ -  
 چھٹوٹا - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) ہندی مہینے کے ہر پالکھ کی چھٹی تاریخ -  
 چھٹی - ( چھٹ - ٹی ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھ سے نسبت رکھنے والی ( ۶۲ ) ( ۶۳ ) ( ۶۴ )  
 بچہ پیدا ہونے کے چھ دن بعد کی رسم -  
 چھٹی جس - ( ۶۱ ) صفت ) انسان کی وہ جس کو بوسے خطرے کے وقت پیدا ہوتی ہے -  
 اور انسان کی آنے والے خطرے سے چونک اٹھنا ہے -

چھٹرا - ( چھٹ - را ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھوٹا چتر -  
 چھٹک - ( چھٹ - ک ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) پانی کی آواز -  
 چھٹکا - ( چھٹ - کا ) ( ۶۱ ) پانی کا بڑا چھینٹا - تڑپڑا ( ۶۲ ) کبوتر پڑنے کا چھوٹا سا  
 جال ( ۶۳ ) ایک زبرد جو عورتیں بالوں میں باندھ کر ماتے پر لٹکاتی ہیں -  
 ( ۶۴ ) پھلانی ہوتی رنگ کا چوڑا ٹکڑا ( ۶۵ ) لہبے کا وہ چوڑا پتڑا جو  
 کندھی میں لٹاکر بند کر دیا جاتا ہے -  
 چھٹکی - ( چھٹ - کی ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) ایک دینگے والا جانور جو اکثر  
 دیواروں پر رہتا ہے - چلیاس ( ۶۲ ) دہلی تیلی عورت -  
 چھٹن - ( چھٹ - پن ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھ اُپر چلیاس ( ۶۲ )  
 چھینا - ( چھٹ - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) طبع ہونا - بھر گنا -  
 چھیننا - ( چھٹ - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) پہننا ہونا - مخفی ہونا ( ۶۲ ) آنکھ بچانا -  
 ( ۶۳ ) پردہ کرنا -  
 چھپواں - ( چھپ - واں ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) پوشیدہ چھپنے -  
 چھت - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) مستقیم - پٹا - سا بیان ( ۶۲ ) گوشا - بام ( ۶۳ ) چھت گیری -  
 چھت پاشا - ( صفت ) ( ۶۱ ) چھت پر گڑیاں تھنے اور مٹی وغیرہ ڈالنا -  
 چھٹ ٹیکنا - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھت چونا - چھت سے پانی ٹیکنا -  
 چھت گیری - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) وہ کپڑا جو چھت کے نیچے خاک وغیرہ کے نہ گرنے  
 کے لیے لگاتے ہیں -  
 چھت لگانا - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) عارض و طول کے موافق کوئی رنگین یا  
 منقش یا کسی قسم کا کپڑا چھت کے نیچے گزریں سے ملا کر لگانا -  
 چھٹا - ( چھٹ - تا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) ڈورنگ پٹا ہوا راست - مکھیوں یا بھڑوں  
 وغیرہ کا گھر ( ۶۲ ) گھاس کا پھیلاؤ -  
 چھٹا پننا - ( چھٹ - تا - پن - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) ہر بانی -  
 چھٹا را - ( چھٹ - را ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) وہ درخت جس میں کثرت سے پتے اور  
 شاخیں ہوں - گھٹا درخت -  
 چھٹانا - ( چھٹ - نا - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) بھڑوں کا بہت بڑا چھٹا -  
 چھتر - ( چھٹ - تر ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) بڑا چھٹا - تم گیرہ ( ۶۲ ) شایانہ ( ۶۳ ) جائے پناہ -  
 چھترانا - ( چھٹ - رانا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) بھیننا -  
 چھتراؤ - ( چھٹ - راؤ ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) ہر گندہ کرنا - تڑپڑا ہونا -  
 چھتر پتی - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) زاب - والی ریاست ( ۶۲ ) وہ افسر جس کے سپرد پتہ شاہی ہو -  
 چھتری - ( چھٹ - ری ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھوٹا چھٹا ( ۶۲ ) کبوتروں کے چھٹنے کا  
 آؤ ( ۶۳ ) ایک قسم کا گندہ دار عمل ( ۶۴ ) ڈولی کے اوپر کا ٹھٹھ ( ۶۵ ) سر کے  
 بڑے اور گھنے بال ( ۶۶ ) ہندوؤں کی ایک قوم کا نام -  
 چھٹنا - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) مار کھانا ( ۶۲ ) ٹوٹنا - گھٹنا - پینا ( ۶۳ ) ہموار کیا جانا -  
 چھٹنا - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھٹنے کی شکل کا ( ۶۲ ) گھٹنا - ہموار - برابر -  
 چھٹوانا - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) پٹوانا - مردانا -  
 چھٹور - ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) گھر - مکان - عمل - نیلگو -  
 چھٹورنا - ( چھٹ - ٹور - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) چھٹورن -  
 چھٹوانا - ( چھٹ - وا - نا ) ( ۶۰ - صفت ) ( ۶۱ ) ہندوؤں سے شست باندھنا - ہندوؤں کو  
 چھانی سے لگانا -

پھمپھی۔ (پھم۔ لی، (دہ۔ صف) (۱) کم گہری پشیمی (۲) گول ٹھیکری سے زور سے پانی پر مارتے ہیں اور جب تک ہاتھ کی قوت کا اثر باقی رہتا ہے ٹھیکری پانی پر تیرتی چل جاتی ہے۔  
 پھمپھلیاں کھلانا۔ (۱) عمارت (۲) کسی کو حیران کرنا۔  
 پھمپھو۔ (پھم۔ پھو) (دہ۔ ۱-۰) مذ (بچوں کی زبان میں) پیشاب۔  
 پھمپھورا۔ (پھم۔ پھو۔ را) (دہ۔ صف) کم ظرف۔ کینہ۔ پیٹ کا ہلکا۔ رزبل۔  
 پھمپھور پن۔ پھمپھور پن۔ (۱) مذ سفلی پن۔ کینہ پن۔  
 پھمپھوندر۔ (پھم۔ پھون۔ در) (دہ۔ ۱-۰) مٹ (۱) ایک قسم کا پتو جس کے جسم سے بڑا آتی ہے (۲) ایک قسم کی آتش بازی (۳) وہ عورت جو ادھر ادھر لڑائی لڑتی پھرتی ہے۔  
 پھمپھوندر چھوڑنا۔ (۱) عمارت (۲) آتش بازی کی پھمپھوندر کو آگ لگانا (۳) لڑائی کرنا (۴) ہتھیان لگانا۔ جھوٹ بات سنہور کرنا۔  
 پھمپھوندر چھوڑ گئی۔ جنگ کی ڈور کی نسبت کہتے ہیں جب وہ بھڑکی ہو جاتی ہے اور ہر جگہ سے بآسانی ٹوٹ جاتی ہے۔  
 پھمپھوندر کے سریش پھیلنے کا تیل۔ (۱) مٹ (۲) کم رتبہ آدمی کا بھتی چیز استعمال کرنا۔  
 پھمپھی۔ (پھم۔ پھی) (دہ۔ ۱-۰) مٹ (۱) بچوں کا پیشاب یا پاخانہ۔  
 پھمپھی۔ (پھم۔ پھی) (دہ۔ ۱-۰) مٹ (۱) عمارت (۲) کینہ۔ پھمپھی۔  
 پھمپھدا۔ (پھم۔ دا) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) الزام۔ بہت۔ ہتھیان (۲) گلہ۔ شکوہ۔ (۳) بار احسان۔  
 پھمپھدا آتارنا۔ (۱) عمارت (۲) شکوہ مٹانا (۳) الزام آتارنا (۴) جلد آکر چلا جانا۔  
 پھمپھدا دھرنا (رکھنا)۔ (۱) عمارت (۲) الزام دینا۔ ہتھیان لگانا۔  
 پھمپھدا م۔ (پھم۔ دام) (دہ۔ ۱-۰) مٹ (۱) دھڑکی۔  
 پھمپھدرا۔ (پھم۔ دا) (دہ۔ صف) پھمپھدرا۔ پھمپھدرا۔ فرق فرق سے۔  
 پھمپھدرا کر چلنا۔ (۱) مس۔ مرکب، ٹانگیں کھول کر چلنا۔ ٹانگوں کو پھیلا کر چلنا۔  
 پھمپھدنا۔ (پھم۔ نا) (دہ۔ صف) (۱) سوراخ دار ہونا (۲) پھمپھدنا۔ زخمی ہونا۔  
 پھمپھدے مٹے۔ (پھم۔ دے۔ مٹ) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) پیار کا گلہ جو مال مدتے قربان کی جگہ پھمپھدے کو کہتی ہے۔  
 پھمپھر۔ (پھم۔ ر) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) دھیان۔ خیال۔  
 پھمپھر۔ (پھم۔ ر) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) زہر۔  
 پھمپھرا۔ (پھم۔ را) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) چھوٹی گولی (۲) سنگریزے جو گھنگرو وغیرہ میں ڈالتے ہیں (۳) طعن و طنز کی بڑھاؤ۔  
 پھمپھرا چلنا۔ (۱) سنگریزوں کی بھڑاؤ ہونا (۲) گالیوں اور آوازوں توڑوں کا متواتر پڑنا (۳) ناٹا ہونا۔  
 پھمپھرا۔ (پھم۔ را) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) بڑا چاقو۔ گوشت کاٹنے کا ہتھیار۔  
 پھمپھرنا۔ (پھم۔ نا) (دہ۔ صف) (۱) اناج صاف کرنا۔ پھمپھرا آتارنا۔  
 پھمپھرواد۔ (پھم۔ واد) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) پھمپھرواد۔  
 پھمپھری۔ (پھم۔ ری) (دہ۔ ۱-۰) مٹ (۱) لبا چاقو بند نہ ہو سکے۔ پھمپھرا پھرا۔  
 پھمپھری بندھانی۔ (۱) مذ (۲) تصانی۔ بڑا پتو (۳) ہم قدم۔ ہم پیشہ۔  
 پھمپھری پھلی نہ کٹاری۔ (۱) مٹ (۲) نقصان دہ چیز کوئی ہو (۳) ہمیشہ

پھمپھی کا جوڑا۔ (۱) مذ (۲) وہ کپڑے جو زچہ کو چھٹی کے موقع پر میکے سے آتے ہیں۔  
 پھمپھی کا دودھ زبان پر آنا۔ (۱) عمارت (۲) سخت مصیبت پڑنا۔ مصیبت کے وقت گزشتہ عیش و آرام یاد آنا۔  
 پھمپھی کا دودھ یاد دلانا۔ (۱) عمارت (۲) بہت مارنا۔  
 پھمپھی کا دودھ نکلنا۔ پھمپھی کا کھایا یا پیا نکلنا۔ (۱) مٹ (۲) گزشتہ آرام و راحت کی کسر نکلنا۔  
 پھمپھی کا دودھ یاد آنا۔ (۱) مٹ (۲) مصیبت میں آرام و عیش گزشتہ کا یاد آنا۔ امن کا زمانہ انفس کے ساتھ یاد آنا۔  
 پھمپھی کا (راجا) رجتہ۔ پوتروں کا امیر خاندانی امیر۔ وہ شخص جس کی پھمپھی میں نخیال سے اس قدر دولت آئے کہ پشتوں تک کافی ہو (۲) (طنز) غریب۔ منس۔ جنم کا دلدری۔  
 پھمپھی کے پوتڑے اب تک نہیں سوکھے۔ (۱) مٹ (۲) اس وقت تک بچہ اور نا تجربہ کار ہے۔  
 پھمپھی بنانا۔ (۱) عمارت (۲) بچہ ہونے کے پھمپھی روز بعد کا عمل۔  
 پھمپھی نہ چلا، حرام کا پھلا۔ (۱) مٹ (۲) اگر کوئی بچے کی ولادت پر دعوت نہ کرے تو طنزاً کہتے ہیں۔  
 پھمپھی نہ ستوانا امیر الامرا کا نواسا۔ (۱) مٹ (۲) معمولی حیثیت کا، اگر اپنے آپ کو بڑا کہے۔  
 پھمپھی۔ (پھم۔ ٹی) (دہ۔ ۱-۰) مٹ (۱) تعطیل۔ رخصت۔ رخصت اجازت (۲) موقوفی۔ برطرفی (۳) مرنا (۴) پھمپھی۔  
 پھمپھی دینا۔ (۱) عمارت (۲) رخصت دینا۔ اجازت دینا (۳) موقوف کرنا۔  
 برطرف کرنا (۴) تعطیل دینا۔  
 پھمپھی ملنا۔ (۱) عمارت (۲) فراغت پانا۔ رخصت ملنا (۳) موقوف ہونا۔ برخواست ہونا۔  
 پھمپھی ملی۔ (۱) روزمرہ، بیوفراغت پانی، خوب پھمپھی۔  
 پھمپھی۔ پھمپھی۔ (دہ۔ ۱-۰) مٹ (۲) گامے کا مے۔ کبھی کبھی۔  
 پھمپھی۔ (پھم۔ یا) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) ایک قسم کا نلک۔  
 پھمپھی۔ (پھم۔ ٹ۔ یاں) (دہ۔ ۱-۰) مٹ (۲) نقالوں کے چنگلے اور بطنے (۳) ایام رخصت۔ تعطیلیں۔  
 پھمپھی۔ (پھم۔ جا) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) پھمپھی کے آگے بڑھا ہوا حصہ جو بارش سے حفاظت یا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔  
 پھمپھیانا۔ (پھم۔ جانا) (دہ۔ صف) کم کرنا۔ گھٹانا۔  
 پھمپھیانا۔ (پھم۔ جانا) (دہ۔ صف) (۱) اوجھا۔ کینہ۔ پھمپھیانا۔  
 پھمپھیانا۔ (پھم۔ ٹا) (دہ۔ ۱-۰) مذ (۱) گوشت کا ٹھنڈا پتلا ٹکڑا (۲) بلی کی چیمپا نرم۔  
 پھمپھیانا۔ (پھم۔ کار۔ نا) (دہ۔ صف) (۱) سیٹی بجا کر گتے کو بلانا (۲) کسی کے پیچھے گتا دوڑانا۔  
 پھمپھیلا۔ (پھم۔ لا) (دہ۔ صف) کم گرا پانی یا برتن۔  
 پھمپھیستی ہوئی۔ (پھم۔ پھل۔ تی) (دہ۔ ۱-۰) ای (۱) دوسری چیز کو چھو کر گزرتی ہوئی (۲) سرسری۔  
 پھمپھیلا۔ (پھم۔ پھل۔ نا) (دہ۔ صف) کسی چیز کا بغیر وقت کسی چیز کو چھوئے گزرا جانا۔



چھلا۔ (چھل۔ لا) (ق۔ ۱۰۔ مذ) چھلا۔  
 چھلانگ۔ (چھ۔ لاٹک) (۱۔ ۵۔ مٹ) جنت۔ زندقہ۔ بھڑکی۔ چھلانگ۔  
 چھلاؤ۔ (چھ۔ لا۔ ڈ) (ق۔ ۱۔ مذ) شرفی۔ چھلایں۔  
 چھلاوا۔ (چھ۔ لا۔ وا) (۱۔ ۵۔ مذ) چھل دینے والا۔ آسیب۔ غل۔ بیابانی۔  
 شہابہ (۳) شہیدہ ہاز۔ طلسم دکھانے والا (صفت) شوخ۔ طرار۔  
 چھلا واسا پھرنا۔ (۱۔ مادہ) شوخی دکھانا۔  
 چھلاوا کھیلنا۔ (۱۔ مادہ) چھلاوے کا دورا دورا پھرنا۔ شہابہ کا کبھی  
 ادھر کبھی ادھر پھلنا۔  
 چھلاوا ہوجانا۔ (۱۔ مادہ) غائب ہوجانا چھپت ہو جانا۔ تابوین نہ آنا۔  
 چھلدار۔ (چھ۔ لب۔ دار) (۱۔ مذ) ایک قسم کے ڈوم پر دائرہ بجا کر  
 پیروں کے گیت گاتے ہیں۔  
 چھل پلانا۔ (چھل۔ پ۔ لا۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) بازار میں کھڑے ہو کر کھڑے  
 بجا بجا کر پانی پلانا۔  
 چھلنا۔ (چھل۔ ٹا) (ق۔ ۱۔ مذ) چھلنا۔  
 چھلچھل۔ (چھل۔ چھل) (مٹ) (۱۔ ۵۔ مٹ) زور سے ٹوتے کی آواز۔  
 چھلچھلانا۔ (چھل۔ چھ۔ لا۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) پانی چھوڑنا۔ پشاب کرنے  
 کی آواز (۲) اترانا۔  
 چھلکا۔ (چھل۔ کا) (۱۔ ۵۔ مذ) پوست۔ چھال۔  
 چھلکانا۔ (چھل۔ کا۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) بھری ہوئی چیز کو حرکت دے کر  
 گرانا۔ ڈھلکانا۔  
 چھلکتا ہوا۔ (چھ۔ تک۔ تا۔ ہ۔ ڈ) (۱۔ ۵۔ صفت) لہریز۔ بھرا ہوا۔  
 چھلکنا۔ (چھ۔ تک۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) ترقی چیز کا لبالب ہو کر بہنا (۲)  
 ہتھوڑی سی جاہ و شہمت پر غرور کرنا۔  
 چھلکنا۔ (چھ۔ تک۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) عورت کا ٹوتنا۔ بیزارادہ ہونے کا کبھی  
 اور دوسرے سے ٹوت نکل جانا۔  
 چھلکیوں ٹوتنا۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) چھوٹوں ٹوتنا۔ از مدد رعب میں آنا۔  
 چھلنا۔ (چھل۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) فریب دینا۔ دھوکا دینا (۲) بڑی بھینسی۔  
 چھلنا۔ (چھل۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) کسی چیز کا پوست اڑ جانا۔ کھال اڑھنا۔ رگڑنا۔  
 چھلچھلنا۔ (چھل۔ ٹی) (۱۔ ۵۔ مٹ) چھاننے کا آواز۔ مڑنا۔  
 چھلچھلی کیا بولے جس میں بہتر سوچید۔ (۱۔ مٹ) جس میں خود نفس ہو  
 وہ دوسروں میں کیا نفس نکالے گا۔  
 چھلچھلی میں ڈال چھانچ میں اڑانا۔ (۱۔ مٹ) رسوا کرنا۔ ڈونڈی  
 پٹنا۔ ذرا سی برائی کو بڑھا کر بیان کرنا۔  
 چھلچھلی ہوجانا۔ (۱۔ مادہ) بہت سے سوراخ ہوجانا۔ چھدنا۔  
 چھلچھوری۔ (چھ۔ لو۔ ری) (۱۔ ۵۔ مٹ) وہ چھلا ہوا نکل یا ناسن کے اندر ہوجانا  
 چھلی۔ (چھل۔ لی) (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) پوست۔ چھلکا (۲) کٹی کا پٹا (۳) موت کی گڑھی  
 چھلی چھلیا۔ (چھ۔ لی۔ پھ۔ لی) (۱۔ ۵۔ مٹ) لوگوں کا ایک کھیل۔  
 چھلیا۔ (چھل۔ یا) (۱۔ ۵۔ صفت) فریبیا۔ دھوکے باز۔  
 چھیا۔ (چھ۔ ما) (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) سخن۔ درگزر۔ معافی (۲) ہربانی۔ رم۔  
 چھیا چھم نایج ہونا۔ (۱۔ مادہ) خوب نایج ہونا۔

چھچھا۔ (چھم۔ چھا) (۱۔ ۵۔ مٹ) شگوفہ۔ لطیفہ۔ انوکھی بات۔  
 چھچھم۔ (چھم۔ چھم) (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) مینہ کے برسنے کی آواز (۲) ہلنے کی  
 آواز۔ گھنگھرو کی آواز۔ جھنگار۔  
 چھچھمانا۔ (چھم۔ چھ۔ ما۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) چھم چھم کی آواز دینا۔  
 چھن۔ (۱۔ ۵۔ مذ) (۱) جلتی ہوئی چیز پر پانی پڑنے کی آواز (۲) روپے کی  
 آواز (۳) گھنگھرو کی آواز (۴) سنگریزہ۔ کنگ (۵) گلن۔ وہ زور جو  
 ماتہ میں بوڑھوں کے درمیان ہنسنے ہیں (۶) ایک قسم کے ٹنگ جو  
 دو دھاسسراں میں سا کر انعام لیتا ہے۔  
 چھن چھن۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) لہسے کی زنجیر کی آواز (۲) روپے کی آواز۔  
 چھن۔ (۱۔ ۵۔ مٹ) (۱) لہسے کی زنجیر کی آواز (۲) روپے کی آواز۔  
 چھن۔ (۱۔ ۵۔ مذ) (۱) تلنے کی آواز۔ لڑکھاتے تیل میں کوئی چیز بڑھانے  
 کی آواز (۲) گھنگھروں کی آواز۔  
 چھن چھن۔ گھنگھرو بننے کی آواز۔ جھی داغ ہونے کی آواز۔  
 چھن مکن چھن مکن۔ لگی رے یا تے جانے کی آواز۔  
 چھٹا۔ (چھن۔ ٹا) (۱۔ ۵۔ مذ) (۱) بڑی بھینسی (۲) کسی چیز کا چھلنے سے نکلنا۔  
 چھانا جانا (۳) سوراخ سوراخ ہونا (۴) بگاڑ ہونا۔ لڑائی ہونا (۵)  
 تختیاں ہونا (۶) روشنی کا باہر نکلنا۔  
 چھٹنا۔ (چھن۔ ٹا) (۱۔ ۵۔ مٹ) زبردستی لیا جانا۔ مردم کی جانا۔  
 چھٹناک۔ (چھ۔ ٹاک) (۱۔ ۵۔ مٹ) گرم چیز پر پانی گرنے کی آواز۔  
 چھٹناکا۔ (چھ۔ ٹا۔ کا) (۱۔ ۵۔ مذ) جھنگار۔ روپے کی آواز۔  
 چھٹنا۔ (چھ۔ ٹال) (۱۔ ۵۔ صفت) (۱) دکا اور فاحشہ عورت۔ زانیہ (۲)  
 شہوت پرست (۳) شوخ۔ بے شرم (۴) عتادہ۔ چالاک۔ بد ذات۔  
 چھٹنا پین (پینا)۔ (۱۔ ۵۔ مذ) ابواشی۔ زنا کاری۔ بد کاری۔ شرارت۔  
 بے شرمی۔ عیاری۔ مکاری۔  
 چھٹنا لا۔ (چھ۔ ٹا۔ لا) (۱۔ ۵۔ مذ) عورت کی بد کاری۔  
 چھٹنا لکڑنا۔ (۱۔ مادہ) بد کاری کرنا۔ زنا کرنا۔ کسب کمانا۔  
 چھٹناؤ۔ (چھن۔ ٹا۔ اور) (۱۔ ۵۔ مذ) چھانٹ۔ تراش۔ چھین۔  
 چھٹنا۔ (چھنٹ۔ ٹا) (۱۔ ۵۔ مٹ) چٹنا جانا۔ منتخب ہونا۔  
 چھٹیل۔ (چھن۔ ٹیل) (۱۔ ۵۔ مٹ) باقی بچی ہوئی خراب چیز جس سے  
 اچھا حصہ نکال لیا گیا ہو۔  
 چھٹینا نا۔ (چھن۔ ٹا۔ نا) (۱۔ ۵۔ مٹ) چھن چھن کی آواز نکالنا۔ جھنگارنا۔  
 چھٹینا ہٹ۔ (چھن۔ ٹا۔ ہٹ) (۱۔ ۵۔ مٹ) لہسے کی زنجیر کی آواز  
 روپے اشرنی وغیرہ کی آواز۔  
 چھند۔ (۱۔ ۵۔ مذ) (۱) کر۔ فریب۔ نعل (۲) دھت (۳) ہندی نظم (۴) نامند  
 چھند بند۔ (۱۔ ۵۔ مذ) فریب۔ کر۔ چالاک۔ عیاری۔  
 چھند بھری۔ فریبی۔ مشورہ گر۔ (ق)  
 چھند چھوندے۔ (۱۔ ۵۔ مذ) فریب۔ کر (ق)  
 چھند ماترا۔ (۱۔ ۵۔ مذ) تقطیع۔ اوزان و بحر۔ شعر کا وزن۔  
 چھند ٹا۔ (چھن۔ ڈ۔ ٹا) (۱۔ ۵۔ مٹ) سنے کرنا۔  
 چھنڑا۔ (چھن۔ را) (۱۔ ۵۔ صفت) (۱) زانیہ۔ بدکار (۲) شہدا۔ چٹا۔

چھنکارنا - (۱) بس (۱) دوا کو آگ پر نیرم گرم کرنا۔

چھنک جانا - (۱) عمارت (۲) باد و دم ہونے کی وجہ سے آتش بازی کا نہ چلنا۔

چھنکنا - (بجر - تک - نا) (۱) بس (۲) ناک صاف کرنا (۳) چھڑکنا (۴) چھٹانا۔

چھنکا - (چین - گا) (۱) ہڈی (۲) پھر انگلیوں والا آدمی۔

چھنکلی - چھنکلیا - (بھنگ - لی) (بھنگ - لی) یا (۱) امٹ (۲) سب سے چھوٹی انگلی۔

چھنوانا - (چین - دا) (نا) (۱) بس (۲) چھیننا کا مستوی التمدی۔

چھنوانا - (چین - دا) (نا) (۱) بس (۲) چھیننا کا مستوی التمدی۔

چھو - (۱) امٹ (۲) کچھ بڑھ کر چھوٹنے کی آواز (۳) جادو - انوس - بنتر دم بھنا

چھو بننا - چھو ہو جانا - (۱) عمارت (۲) ہوا ہونا - رخصت ہونا - چلتا ہونا - چپٹا ہونا

چھو کرنا - (۱) عمارت (۲) دم کرنا - دھا بڑھ کر چھوٹنا۔

چھو مٹنا - (۱) ہڈی (۲) جادو - ٹونا۔

چھو اچھو - (چھو - آچھو) (۱) امٹ (۲) دھوپوں کے پڑا دھونے کی آواز۔

چھوٹک - (چھوٹک - رت) (۱) امٹ (۲) رانی - چھٹکانا۔

چھو ارا - چھو ارا - (چھو - دا) (۱) پھل - (۲) نا (۳) ایک قسم کی بڑی اور سولگی کھجور۔

چھو ارا بیر - مرغ اور شیر میں لبا بیر۔

چھو انا - (چھو - دا) (نا) (۱) بس (۲) لگانا بس کرنا۔

چھو پ - (۱) امٹ (۲) دوا میں جو گھوڑے کے ذم پر مناد کی طرف لٹائی

جائیں یا باندھی جائیں۔

چھوپ چھاپ - دیوار کا رشتہ بند کرنا - پستر - کھل۔

چھوپا - (چھوپا - نا) (۱) ہڈی (۲) گلی مٹی جس سے دیوار کا سوراخ بند کرتے ہیں۔

چھوپنا - (چھوپ - نا) (۱) بس (۲) گلی مٹی سے دیوار و دینرو کے سوراخوں کا بھرنا۔

چھو پکی دیوار کی مرمت کرنا۔

چھوٹ - (۱) امٹ (۲) چھوٹا - مس (۳) ناپاک آدمی کا سایہ (۴) ناپاک - بیدی۔

چھوٹ - (۱) امٹ (۲) رانی (۳) آزادی (۴) فرسٹ - چھٹکارا (۵) کی - تخنیت (۶) بے تکلفانہ چھوڑنے والی گفتار (۷) طلاق (۸) مٹنے -

(۹) وہ مقام جہاں سے کبوتروں کو چھوڑنے کی شرط ہو (۱۰) انزال۔

چھوٹ پڑنا - (۱) عمارت (۲) کسی چیز کا کسی چیز پر عکس پڑنا۔

چھوٹ چھٹاؤ - (۱) ہڈی (۲) مٹلنگ - بھائی (۳) بیج بھاؤ۔

چھوٹ لڑنا - (۱) ہرج بازی میں ایک شخص کا متعدد لڑائی میں کھینکے والوں سے

مقابلہ کرنا (۲) باہم کھیل گایاں دینا (۳) اس طرف لڑنا کہ حریف کو موقع نہ ملے۔

چھوٹ ہونا - (۱) عمارت (۲) فرسٹ ہونا - وقت ملنا (۳) چھوٹا ہونا - بے تکلفانہ

مزاج ہونا (۴) ہرج بازی میں بے قید ہو کر پھری گدگوں سے لڑنا۔

چھوٹا - (چھوٹا - دا) (۱) بس (۲) کتاہ - تنگ (۳) خرد - عمر میں کم (۴) کم - تلیل (۵) کینہ - بیخ - (۶) ادنیٰ۔

چھوٹا استنجیا - (۱) ہڈی (۲) بیابان کے مٹی کے ڈھیلے سے بیتہ تری خشک

کرنا (۳) پیشاب کرنا (۴) مرمت پیشاب کرنے کے بعد عضو کا دھونا۔

بڑا استنجیا کے مقابل آتا ہے جو یا خاندان پھرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔

چھوٹا پا - (۱) ہڈی (۲) چھوٹا پن - چھٹکانا۔

چھوٹا جلا - (۱) ہڈی (۲) دسواں - بیواں اور بیٹے کا منسل جو بچہ کو دیا جاتا ہے۔

چھوٹا سب سے کھوٹا - (۱) منسل (۲) چھوٹے قدر آدمی بڑا اثر برہوتا ہے۔

چھوٹا صاحب - (۱) ہڈی (۲) افسر سے چھوٹا افسر۔

چھوٹا کپڑا - (۱) ہڈی (۲) انگلی۔

چھوٹا گھر بڑا سمہیانہ - (۱) منسل (۲) نام بڑا اور حیثیت کچھ نہیں۔

چھوٹا منہ بڑی بات - (۱) منسل (۲) اپنی لیاقت سے زیادہ بڑی بات کرنا۔

وصلے سے زیادہ دعویٰ۔

چھوٹے بڑے - (۱) ہڈی (۲) امیر عزیز - اعلیٰ ادنیٰ - نیچے بڑے۔

چھوٹے دل کا - (۱) منسل (۲) پست ہمت - کم حوصلہ۔

چھوٹے ہی - (چھوٹ - تے) ہی (۱) - تاہم فعل (۲) ذرا - اسی وقت۔

چھوٹنا - (چھوٹ - نا) (۱) بس (۲) کھلنا - آزاد ہونا - رستی تڑانا (۳) گھوڑے

کا بھینج کرنا (۴) نکلنا (۵) انزال ہونا۔

چھوٹی - (چھوٹی - ٹی) (۱) منسل (۲) چھوٹا کی تائینت۔

چھوٹی الائچی - (۱) امٹ (۲) سفید الائچی۔

چھوٹی اُمت - (۱) امٹ (۲) کینے لوگ - بیخ آدمی۔

چھوٹی بات - (۱) امٹ (۲) تخنیت معاملہ - گھٹیا بات۔

چھوٹی بوٹ - (۱) امٹ (۲) چھوٹی انگلی - (۳) رت

چھوٹی کھوٹی کا - (۱) منسل (۲) گھوڑے اور آدمی کے لیے متصل ہے (۳) پست قدر - چھٹکانا - کم درجہ - کم حیثیت۔

چھوٹی گولی کا روپیہ - (۱) ہڈی (۲) شاہی زمانے کا روپیہ جس کی چاندی نالوں ہوتی تھی

چھوٹی مائیں - ایک دوا کا نام۔

چھوٹ جا - (چھوٹ - جا) (۱) منسل (۲) اوجھا - کینہ - چھوٹا۔

چھوٹ چھٹک - (چھوٹ - چھٹک) (۱) امٹ (۲) بچہ خانے کی ایک رسم چھٹی۔

چھوٹ - چھوٹ - (چھوٹ - چھوٹ) (۱) امٹ (۲) دایہ - کھلائی وہ عورت جو لڑکیوں کی

خدمت کے لیے مقرر ہوتی ہے۔

چھوٹی - (۱) امٹ (۲) نئے یا بائس کا کھوکھلا ٹھنڈا - ٹیوب - نالی (۳) ٹھٹھے کرنے

(۴) سونیاں رکھنے کی نگلی۔

چھوڑ - (۱) امٹ (۲) ساحل - کھانا (۳) سرحد (۴) پہلو - طرف (۵) چوٹی -

کھڑکواہ (۶) وہ کشتی جو دوسری کشتی کو کھینچ کر لے جائے۔

چھوڑا - (چھوڑا - دا) (۱) ہڈی (۲) چھوڑا - لڑکا - حکام۔

چھوڑی - (۱) امٹ (۲) چھوڑا کی تائینت۔

چھوڑ آنا - (۱) بس (۲) کسی کو کسی مقام پر چھوڑ کر آپ چلے آنا۔

چھوڑ لی جی جو کا لٹو درای بھی جلا - (۱) منسل (۲) جو نقصان کر دیا سو کر دیا۔

اب تو بچھا چھوڑو۔

چھوڑنا - (چھوڑ - نا) (۱) بس (۲) عجات دینا (۳) بخشا - مساف کرنا (۴) ترک کرنا - رو کرنا (۵) آزاد کرنا - آزاد کرنا (۶) بھانا (۷) استغفا دینا۔

میلنگی اختیار کرنا (۸) طلاق دینا (۹) دھڑانا (۱۰) مکان خالی کرنا۔

(۱۱) بھار کھنا (۱۲) پانی بھانا (۱۳) بندوق یا آتش بازی چلانا (۱۴) درگزر کرنا (۱۵) شکاری جادو کرنا (۱۶) شکار پر چھٹکانا (۱۷) باقی چھوڑنا۔

(۱۸) ہمت مارنا - بزدلی دکھانا۔

چھو کر - (ہجوک - را) - (۱- مذ و صفت) (۱۱) لڑکا (۱۲) کس نوکر چیلہ (۱۳) نادان یا تجرب کار  
 چھو کرے - (ہجوک - ری) (۱- ۵) مٹ (۱۱) لڑکی - چھوری (۱۲) لڑائی  
 چھوٹ - (ق - ۱- مٹ) (۱۱) خواہش (۱۲) ناز (۱۳) مٹ (۱۴) پہل خوشی تعزیر -  
 چھوٹ - (ق - ۱- مٹ) چھوٹی مرن -  
 چھوٹا - (س - ۱- مذ) پختا -  
 چھوٹلاری - (چھول - دا - ری) (۱- ۱- مٹ) چھوٹا سا ڈیرہ (بیر -  
 چھوٹنا - (چھول - نا) (۱- مٹ) چھیلنا - چھلکا اُتارنا -  
 چھوٹنی - (چھول - نی) (۱- ۵) مٹ (کھوپلی -  
 چھوٹنا - (چھو - نا) (۱- مٹ) مٹ کرنا - ہاتھ لگانا -  
 چھو نہ جانا - (۱- محاورہ) بالکل نہ ہونا - قریب نہ پہنچنا -  
 چھوٹنا - (چھوٹ - چھا) (۱- مٹ) (۱- مٹ) (۱۱) مٹنا - سبھی دست - ہر خالی چیز -  
 چھوٹھی - (چھوٹ - چھی) (۱- ۵) مٹ (۱۱) لڑکی کی ٹی (۱۲) سڑکیوں کی ٹی (۱۳) سوا -  
 بڑی سوتی (۱۴) پھول کے لیے چھوٹا پیالہ -  
 چھوٹک - (۱- مذ) گھار - دارخ -  
 چھوٹکن - (چھوٹ - کن) (۱- ۵) مذ) گھارنے کا آلہ -  
 چھوٹلنا - (چھوٹک - نا) (۱- مٹ) (۱۱) مٹنا - گھی دار کرنا -  
 چھوٹا - (چھو - ہا - را) (۱- ۵) مذ) ایک قسم کی خشک کھجور -  
 چھوٹنی موٹی - (چھوٹنی - ری - موٹی) (۱- ۵) مٹ (۱۱) ایک قسم کی  
 لڑکی جس کے پتے آدمی کے ہاتھ لگانے سے مڑ جاتے ہیں (۱۲)  
 نہایت نازک - ستاس -  
 چھوٹتر - (چھو - ہست - تر) (۱- مٹ) (۱۱) پھر اوپر ستر (۱۲)  
 چھوٹی - (چھو - ای) (۱- ۵) مٹ (۱۱) ایک پرند کا نام -  
 چھوٹی - (۱- ۵) مٹ (۱۱) حرف تفرق (۱۱) ٹٹ - ٹھوٹھو - بڑا - خواب - بگھا - گندا -  
 (۱۲) چھیلنے کی آواز -  
 چھی چھی - (۱۱) اپنے کا باغ خانہ گوہ - براز (۱۲) نفرت کا کلمہ -  
 چھیاسٹھ - (چھو - یا - ٹھ) (۱- ۵) مٹ (۱۱) پھر اوپر ساٹھ (۱۲)  
 چھیاسی - (چھو - یا - سی) (۱- ۵) مٹ (۱۱) پھر اوپر سستی (۱۲)  
 چھیالیس - (چھو - یا - لیس) (۱- ۵) مٹ (۱۱) پھر اوپر چالیس (۱۲)  
 چھیانوے - (چھو - یا - نوے) (۱- ۵) مٹ (۱۱) پھر اوپر نوے (۱۲)  
 چھیٹیل - (چھیٹ - لی) (ق - ۱- مذ) جو ہڑ - پانی سے بھرا ہوا گڑھا -  
 چھیپ - (۱- ۵) مٹ (۱۱) دن کا سفید دان - چھائیں - دجبا (۱۲) ایک قسم کا میوہ  
 (۱۳) چھیلیاں پکڑنے کی چھڑی (۱۴) زین کا سہرہ -  
 چھیٹی - (چھی - پی) (۱- ۵) مٹ (۱۱) پڑا پھانپنے والا (۱۲) (۱۳) مٹ (۱۴) وہ کڑا بندھی  
 ہوئی چھڑی جس سے کبوتر اڑاتے ہیں -  
 چھیج - (۱- ۵) مٹ (۱۱) نقصان - ذوال - کسی چیز کے بار بار توڑنے ، سوکھنے ،  
 ٹوٹنے سے کی واقع ہوتا -  
 چھی جانا - (۱- مٹ) (س - مرکب) سوراخ ہو جانا - چھٹنا - کان کا سوراخ زبور کے  
 بوجھ سے بڑا ہو جانا -  
 چھیٹنا - (۱- مٹ) (۱۱) کم ہونا - ٹھٹنا (۱۲) مرنا (۱۳) ضائع ہونا - خواب  
 ہونا (۱۴) اترنا - اٹھنا -

چھیچھڑا - (چھیچھڑا - چھیچھڑا) (۱- ۵) مذ) چھیچھڑا - گوشت کا ٹکٹا  
 چھتہ - لہلہا -  
 چھید - (۱- ۵) مذ) (۱) سوراخ - رخنے (۱۲) بل - گڑھا - بھٹ -  
 چھید ڈالنا - (۱- محاورہ) (۱) سوراخ کرنا (۱۲) مٹ (۱۳) مٹ کرنا  
 رنج پہنانا -  
 چھیدنا - (چھید - نا) (۱- مٹ) (۱) سوراخ کرنا -  
 چھیچھڑ - (ق - ۱- مذ) زخم - شکات -  
 چھیچھڑ - (۱- مٹ) (۱) آدمیوں کی کی - جوم کا زوال -  
 چھیچھڑ - (۱- ۵) مٹ (۱۱) چھوٹا (۱۲) گدگدائی (۱۳) ہنسی - ٹھٹھا (۱۴) مخالفت - فساد -  
 (۱۵) بڑھانے کی بات (۱۶) نشتر زنی (۱۷) کس بابے کی حرکت -  
 چھیچھڑا - (۱- مٹ) (۱) ہنسی - مذاق - طعن (۱۲) بات چیت (۱۳)  
 خلو دکنا بت (۱۴) لڑائی بھڑائی -  
 چھیچھڑانی - (۱- مٹ) (۱) دل لگی - ٹھٹھا - محول (۱۲) رنج - کاوش (۱۳)  
 اشتعال - بلع -  
 چھیچھڑنا - (۱- محاورہ) طعنہ زنی کرنا - پڑنا -  
 چھیچھڑنا - (چھیچھڑ - نا) (۱- مٹ) (۱) چھوٹا - ہاتھ لگانا (۱۲) گدگدانا (۱۳) بھڑکانا -  
 پڑنا - اشتعال دینا (۱۴) گھوڑا دوڑانا (۱۵) مذاق کرنا - ٹھٹھا کرنا (۱۶)  
 ذکر کرنا - کوئی بات یاد دلانا (۱۷) ستانا - دن کرنا (۱۸) چٹانا - آگاہ کرنا (۱۹)  
 نشتر لگانا - زخم کو پھرا لگانا (۱۰) باجا بجانا (۱۱) ابدان کرنا (۱۲) گانا - لاپتہ -  
 چھیک - (ق - ۱- مذ) چھید - سوراخ - رخنے -  
 چھیکتوت - (چھی - ک - توت) (ق - مٹ) (۱) آوارہ (۱۲) پریشان -  
 چھیل - (۱- مٹ) (۱) رگیلا - اچھا لباس پہن کر بنا ٹھٹھا رہنے والا - حسین - خوبصورت -  
 چھیل چھیلنا - (۱- ۵) مٹ (۱) رگیلا - چھیلنا - بانگا (۱۲) ایک قسم کی خوشبودار  
 گھاس جس سے کپڑے رکتے ہیں -  
 چھیلنا - (چھی - لا) (۱- مٹ) (۱) رگیلا - بانگا (۱۲) مذ) بکرا -  
 چھیلنا پھرے گلی گلی ، جب میں نہیں کھیل کی ڈلی - (۱- مٹ) پاس  
 کچھ نہیں ، شہی اور نود بہت -  
 چھیلن - (چھی - لن) (۱- ۵) مٹ (۱) تراشہ ہو کر ٹی چیز چھیلنے سے نکلے -  
 چھیلنا - (چھیل - نا) (۱- مٹ) (۱) پست آتارنا - ٹھٹھا چٹنا (۱۲) خواش کرنا - بھول  
 کرنا (۱۳) حزن اڑانا -  
 چھیلی - (چھی - لی - چھی - لی - چھی - لی) (۱- ۵) مٹ (۱) بکری - گوسفند -  
 چھیلن - (ق - ۱- مذ) لہ - آن -  
 چھینا چھینٹی - (چھین - نا - چھپ - ٹی) (۱) چھین - بھڑپٹ (۱- ۵) مٹ (۱)  
 زبردستی چھیننا - نوچا کھسوٹی - کشکش -  
 چھینٹ - (۱- ۵) مٹ (۱) ٹوٹنا - قطرہ (۱۲) ایک قسم کا بیل ٹوٹے دار کپڑا -  
 رنگین چھپا ہوا کپڑا (۱۳) دارخ - دھتیا -  
 چھینٹنا - (چھین - ٹا) (۱- ۵) مذ) (۱) پانی کا پھوٹو (۱۲) بگی بارش - خیف سا مینہ (۱۳)  
 فوہب - دھوکا (۱۴) دک یا چند ڈک ایک دم (۱۵) طعنہ - نوکا بھونکی (۱۶) رنج  
 جو ہاتھ سے بکیر کر لیا جاتا ہے -  
 چھینٹنا پڑنا - (۱- محاورہ) خیف سا مینہ برسا - بگی بارش ہونا -

**چھینٹا** دینا - (۱- عمارت) کسی بریلو پھر پانی وغیرہ پھرنے کا پینک کے  
 نہ جانے برسوں کے پانی کا پینے پر پھرنے (۳) فریب دینا - لاکھ دینا -  
**چھینٹا مارنا** - (۱- عمارت) پانی یا رنگ وغیرہ کا چھینٹا دینا (۲) مرد کرنا - نکسین دینا -  
**چھینٹوں میں آنا** - (۱- عمارت) دم میں آنا - فقروں میں آنا -  
**چھینٹے چھینکنا** - (۱- عمارت) الزام لگانا - بہتان لگانا -  
**چھینٹے دینا** - (۱- عمارت) فریب دینا - دھوکا دینا (۲) اشتعال دینا - آگسنا -  
**چھینٹیں اڑانا** - (۱- عمارت) لگاتار ہاتھ سے پانی چھینکنا - کسی چیز کا پانی سے  
 اس طرح گزرنے کہ اس سے پانی کے قطرے اڑیں -

**چھینک** - (۱- مٹ) آواز جو ناک سے زکام یا کسی سلسلہ ہٹ کے  
 باعث نکلے -  
**چھینک آنا** - (۱- عمارت) ناک سے خود بخود آواز نکلنا -  
**چھینک ہونا** - (۱- عمارت) برا ٹنگوں ہونا -  
**چھینک مارنا** - (۱- عمارت) چھینک کا آنا -  
**چھینکنے ہی ناک کٹی** - (۱- مثل) ابتدا ہی خراب ہو گئی -  
**چھینکا** - (پھین - کا) (۱- مٹ) وہ جالی یا کھن جو کھانا وغیرہ رکھنے کے واسطے  
 پخت میں لٹکا دیتے ہیں (۲) وہ جالی جو جو پھولوں کے سبز پر لٹکا دیتے ہیں -  
**چھینکنا** - (۱- مٹ) ناک کی خراش کی وجہ سے ہوا کا زور سے ناک سے نکلنا -  
 پھینک آنا -  
**چھینکیں لینا** - (۱- عمارت) ناک میں کوئی دوائی (ملاس) وغیرہ رکھنا تاکہ  
 پھینکیں آئیں -

**چھین لینا** - (پھین - لے - نا) (۱- مٹ) زبردستی لے لینا - جھپٹ لینا -  
**چھیننا** - (پھین - نا) (۱- مٹ) زبردستی لے لینا - پھین لینا - چھینا مارنا -  
**چھیننی** - (پھنے - نی) (۱- مٹ) ٹانگی - لولا کاٹنے کا اوزار -

**چھینٹا** - (۱- عمارت) (۱) مٹا اٹھنا - درد سے چلانا (۲) ایک زور کی آواز نکالنا -  
**چھینٹا مارنا** - (۱- عمارت) درد سے زور کی آواز نکالنا -  
**چھینٹا چھیننا** - (۱- مٹ) چھین - نا) (۱- مٹ) چھینٹا - پکار پڑنا - پکار پڑنا -  
**چھینٹا دھاڑ چھیننا** - (۱- مٹ) ہنگامہ برپا کرنا - دھوم مچانا -  
**چھینٹا** - (پھین - نا) (۱- مٹ) چھینٹا - شور کرنا (۲) پکارنا - فریاد کرنا -  
**چھیدو** - (پھی - وہ) (۱- مٹ) چھینٹا ہوا - انتخاب کیا ہوا -  
**چھیدو چھیدو** - اچھے اچھے - عمدہ - منتخب -

**چھیر** - (۱- مٹ) (۱) شکاف - زخم (۲) دھجی - کپڑے کی پٹی - کترن (۳) دوپٹہ  
**چھیر آنا** - (۱- عمارت) شکاف ہو جانا - زخم آ جانا -  
**چھیر بھاڑ** - (۱- مٹ) محل جراثیمی -  
**چھیر (Chair)** (پھے - آر) (۱- مٹ) کرسی - کرسی اہلاس -  
 کرسی صدارت -  
**چھیرمین** - (Chairman) صدر - مبر مجلس -  
**چھیرا** - (پھی - را) (۱- مٹ) (۱) شکاف - زخم (۲) ایک قسم کی منتش پگڑی -  
 (۳) دو شیزگی (۴) نوکر - ملازم -  
**چھیرا اتارنا** - چھیر اتورنا - (۱- عمارت) (۱) ازالہ بکارت کرنا - کو اہل اتارنا  
 (۲) بے عزت کرنا - عزت لینا -

## چ - ج - ی

**چی** - (ت - لاصق) اردو اور فارسی میں اسم کے ساتھ مل کر بنا تا ہے جیسے  
 مشعلی - باد پٹی - تفسیر بنا تا ہے جیسے پگلی -  
**چیاں** - (چ - یاں) (۱- مٹ) اعلیٰ کلچر - خم تر ہندی -  
**چیاں سا** - چیاں سی - چھوٹا سا - چھوٹی سی -  
**چیانٹی** - (Chianti) (چ - یاں - تی) (۱- مٹ) سرخ اطالیہ شراب  
**چیپ** - (۱- مٹ) (۱) لیس (۲) لاسا - پچکنے والی (۳) زخم کی ہیپ (۴) طوبت  
 جو یکے ہوئے آموں سے نکلتی ہے -

**چیپ دار** - (۱- مٹ) (۱) صفت - لٹ دار - چیکتا ہوا -  
**چیپ** - (۱- مٹ) (۱) عمارت جو دولت - چھرا یا کڑی سے ٹوٹ کر الگ ہو جانے -  
**چیپ پڑ** - (پھی - پڑ) (۱- مٹ) آنکھ کا میل کیل - وہ طوبت جو آنکھ سے نکلے -  
**چیپٹا بہنا** - (۱- عمارت) آنکھوں کا میل کیل کیل کارواں ہونا -  
**چیپلین** - (Chaplain) (چیپ - لین) (۱- مٹ) (۱) پادری کسی  
 مآدان کا پادری -









حاضرات - (عامہ من - رات) (ع - 1۔ امش) (۱) حاضر کی جمع نمونہ - حاضر عورتیں (۲) جن بھوت و عینہ جمع کرنے کا جلسہ جو عامل کیا کرتے ہیں۔  
حاضرات کرنا - (۱) - (عامہ) بھوت پریت کو جمع کر کے ان سے پریشیدہ حال معلوم کرنا۔

حاضری - (عامہ من - رات) (ق) (اُ - 1) (مذ) جن - بھوت - پریت کو بلانے والا عامل۔

حاضری - (عامہ من - رات) (ری) (ع - 1۔ امش) موجودگی (۲) دکھانا یا نقدی جو میت دلوں کو ان کے رشتے دار جیسے ہیں (۳) ناشتہ (۴) کباب پشورال علوہ جس پر شہدائے کربلا خصوصاً حضرت عباس کی فاتحہ دلاتے ہیں (۵) نام کا پیکارا جانا۔ گنتی ہونا (۶) عدالت یا مدرسہ میں حاضر ہونا۔  
حاضری اصالتاً - (ع - 1۔ امش) خود حاضر ہونا۔

حاضری دینا - (۱) - (عامہ) (۱) میت کے گھر کھانا یا نقدی پہنچانا (۲) ناشتہ کھانا (۳) پکھری، دفتر یا مدرسہ میں حاضر باش کھوانا۔

حاضری لگانا - (۱) - (عامہ) موجودہ شخص کے نام کے سامنے ان کی موجودگی کا نشان لگانا (۲) دفتر یا پکھری میں حاضر باش کھوانا۔

حاضری میں کھڑا رہنا - (۱) - (عامہ) خدمت میں ہر وقت موجود رہنا۔ خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔

حاضریں - (عامہ من - رات) (ع - 1۔ مذ) (۱) موجود لوگ (۲) حاضر کی جمع۔  
حاطب اللیل - (ع - 1۔ صف) رات کو کھڑیاں جمع کرنے والا (۲) اچھے بڑے میں تیز نہ کرنے والا۔

حاطہ - (عامہ) (اُ - 1۔ مذ) (۱) حاطہ کا بگڑا ہوا۔ دیواروں سے گھرا ہوا قطعہ زمین۔

حافظ - (عامہ) (ع - 1۔ صف) (۱) نگبان۔ حفاظت کرنے والا۔ پاسبان۔ (۲) وہ شخص جسے قرآن پاک حفظ ہو (۳) نابینا رکنا (۴) ایران کے مشہور صوفی شاعر شمس الدین محمد شیرازی کا مخلص (۵) خدائے تعالیٰ کا مخلص نام۔  
جمع احتیاط - محافظین۔

حافظ حقیقی - (ع - 1۔ مذ) اصلی نگبان۔ خدائے تعالیٰ۔

حافظہ - (عامہ) (ف - 1۔ مذ) (ع - 1۔ مذ) قوت یا دراشت۔ چیتا۔ یاد (۲) نمونہ عورت جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہو۔

حاکم - (عامہ) (ک - 1۔ مذ) حکومت کرنے والا۔ سردار۔ عامل۔ ناظم (۲) فرمان روا۔ بادشاہ (۳) آقا۔ مالک (۴) زمیندار۔ نمبر دار (۵) حکم کرنے والا۔ جمع: حاکم۔ حاکمین۔

حاکم اعلیٰ (بالا) - (ع - 1۔ مذ) خدائے تعالیٰ بڑا افسر۔

حاکم با اختیار - پورے اختیار والا حاکم۔ اعلیٰ جیٹریٹ۔

حاکم چون کا بھی بڑا - دخل چھوٹے سے چھوٹے افسرے بھی ڈرنا چاہیے۔

حاکم دیوانی - (۱) - (مذ) ایس دین کے مقدمات سننے والا حاکم۔ سب نج۔

حاکم منقطع - (ف - 1۔ مذ) منقطع کا سب سے بڑا حاکم۔ ڈپٹی کمشنر۔

حاکم کی گاڑی اور کھوڑے کی پچھاڑی سے ڈرنا چاہیے (۱) (۲) خواہ خواہ حاکم کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ نہیں معلوم کیں بات پر بگڑ جانے اسی طرح کھوڑے کے پیچھے کھڑے ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ نہیں

حاشیہ لکھنا - (۱) - (عامہ) حاشیہ پرچھانا (۲) بیعت لے جانا۔ امنا فر کرنا۔  
حاشیہ لگانا - (۱) - (عامہ) لکھنے وقت چاروں طرف بگڑ چھوڑنے کے لیے کاغذ پر سطرین کھینچنا۔

حاشیہ نشین - (۱) - (مذ) (۱) پاس بیٹھنے والا (۲) مصاحب۔ معزز ملازم۔

حاصل - (عامہ) (ع - 1۔ مذ) (۱) کسی چیز کا بقیہ (۲) آمدنی۔ نقدی۔ پکھری (۳) پیداوار۔ نتیجہ۔ پھل (۴) مطلب۔ خلاصہ (۵) منافع۔ فائدہ۔

حاصل بازار - (ع - 1۔ مذ) آمدنی جو منڈی یا میلے کی دوکانوں سے بطور محصول وصول ہو۔

حاصل تفریق - (ع - 1۔ مذ) مہنائی کے بعد باقی رہنے والی رقم۔

حاصل تقسیم - (ع - 1۔ مذ) (۱) خارج قسمت (۲) وہ رقم جو تقسیم کے بعد باقی رہے۔

حاصل جمع - (ع - 1۔ مذ) میزان۔ وہ رقم جو جمع کرنے سے آئے۔

حاصل خیز - (ع - 1۔ صف) فزخیز زرزیر۔

حاصل دار - (ع - 1۔ مذ) اکٹھا کرنے والا۔ کلکٹر۔ افسر مال۔

حاصل زمین - (ع - 1۔ امش) وہ زمین جس پر مالگداری دی جائے (۲) وہ زمین جس سے پیداوار یا آمدن حاصل ہو۔

حاصل ضرب - (ع - 1۔ مذ) وہ رقم جو ضرب دینے سے حاصل ہو۔

حاصل کرنا - (ع - 1۔ مذ) (۱) پانا۔ پہنچنا (۲) کھانا۔ پیدا کرنا (۳) جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔

حاصل کلام - (ع - 1۔ مذ) البتہ۔ الغرض۔ خلاصہ کلام۔ حاصل مقصد۔

حاصل مصدر - (۱) - (مذ) قواعد زبان کی اصطلاح میں وہ لفظ جس کی فعل کی کیفیت اثر یا نتیجہ ظاہر کرے۔ مولانا مصدر میں بعد مذمت علامت مصدر کچھ تغیر کر کے بناتے ہیں۔ مثلاً ملنا مصدر سے حاصل مصدر ملین۔

حاصل مطلب - (۱) - (مذ) نتیجہ۔

حاصل نہ حصول - (۱) - (مذ) بے فائدہ۔ فضول۔ بے نتیجہ۔

حاصل ہونا - (۱) - (عامہ) (۱) وصول ہونا (۲) پہنچنا۔ لگنے لگنا۔ فائدہ ہونا۔

حاضر - (عامہ) (ع - 1۔ صف) موجود۔ تیار۔ آمادہ۔ جو سامنے موجود ہو۔

جمع: حاضرین۔ حضرات۔ حاضر۔

حاضر باش - (ع - 1۔ مذ) حاضر ہونے والا۔ موجود رہنے والا۔

حاضر باشی - (ع - 1۔ امش) موجودگی۔ حاضری۔

حاضر جواب - (ع - 1۔ مذ) (۱) بات سننے ہی فوراً محقول جواب لینے والا (۲) فی البدیہہ جواب دینے والا۔

حاضر جوابی - (ع - 1۔ صف) موزوں جواب دینے کی صلاحیت۔

حاضر رہنا - (۱) - (عامہ) موجود رہنا۔ سامنے کھڑے رہنا۔ پاس رہنا۔

حاضر صافی - (ع - 1۔ صف) کسی شخص کو عدالت میں پیش کر دینے کی ضمانت۔

حاضر کرنا - (۱) - (عامہ) (۱) لانا۔ پیش کرنا۔ بلا کر لانا۔

حاضر میں محبت نہیں غیب کی تلاش نہیں - (۱) - (ع) جو موجود ہے اس کے دینے سے انکار نہیں لیکن کہیں اودھے لا کر دینے کی ذمہ داری نہیں۔

حاضر و ناظر - (ع - 1۔ صف) موجود اور دیکھنے والا۔ خدا کی صفت۔

حاضر ہونا - (۱) - (عامہ) موجود ہونا۔ پیش ہو جانا۔ سامنے ہونا۔

معلوم کب دولتی واردے۔  
 حاکم کے تین شخڑے نو۔ (ایش) حاکم کم لیکن اُس کے ماتحت اُس سے زیادہ رشوت لیتے ہیں۔  
 حاکم فوجداری۔ (د۔ ۱۰۔ مذ) ڈرائی جھگڑے اور دنگا فساد کے مقدمات سننے والا حاکم۔ مجسٹریٹ۔  
 حاکم بارے اور مُنہ ہی مُنہ مارے۔ افسر کی غلطی بھی ہو تو ماتحت ہی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔  
 حاکمانہ۔ (حاکم۔ مائے) حرفِ صفت حاکم کی طرح (۲) اقتیارات سے۔  
 حاکمی (حاکمیت)۔ (حاکم۔ سی) (حاکمی۔ میت) (اُڑ۔ ۱۔ مٹ) حکومت۔ سرداری بھگوانی (۲) قانونی اقتدار۔ قوت یا طاقت (۳) حاکم کا کام یا عہدہ۔  
 حال۔ (ح۔ ۱۰۔ مذ) موجودہ زمانہ (۲) حالت۔ کیفیت (۳) حیثیت۔ اسلوب۔ طور طریق (۴) وجہ۔ بخودی۔ وقت (۵) ذکر۔ بیان (۶) طاقت۔ سکت۔ دم (۷) اس وقت (۸) فی الحال۔ اسی وقت (۹) مجذوب ہونے کی کیفیت۔  
 حال آبادی۔ (د۔ ۱۔ ص) جو زمین ابھی کھیتی باڑی کے قابل بنائی گئی ہو (۲) جو علاقہ حال ہی میں آباد ہوا ہو۔  
 حال آنا۔ حال کھیلنا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) قوالی یا لغت سن کر وجد آنا۔ گانائیں کر بے خود ہوجانا۔  
 حال آنکھ۔ حال آنکھ۔ (ح۔ ۱۰۔ ف) حالت تو یہ ہے کہ۔ باوجودیکہ۔ یہ حال ہوتے ہوئے ہی۔  
 حال آئینہ ہونا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) صحیح حالت معلوم ہوجانا۔  
 حال ابتر کرنا (ہونا)۔ (ح۔ ۱۰۔ م) بڑی حالت ہونا۔  
 حال بے حال ہونا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) بڑی حالت ہونا۔  
 حال پتلا ہونا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) بڑی حالت ہونا۔ مالی حالت خراب ہونا۔ صحت خراب ہونا۔  
 حال پروردنا آنا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) کسی کی خراب حالت دیکھ کر افسوس ہونا۔  
 حال بُری۔ (ح۔ ۱۰۔ ف) (ح۔ ۱۰۔ م) عیادت۔ بیمار بُری۔  
 حال پوچھنا۔ مزاج بُری کرنا۔ حقیقت یا سرگذشت دریافت کرنا۔ غیرت معلوم کرنا۔  
 حال حال ہونا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) پریشان ہونا (ق)۔  
 حال دگرگوں ہونا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) حالت خراب ہونا۔  
 حال روشن ہونا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) حالت ظاہر ہونا۔  
 حال سے بے حال ہونا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) اچھی حالت سے بُری حالت ہو جانا۔ حیثیت بگڑ جانا۔  
 حال خیر ہونا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) حالت خراب ہونا۔ مریض کی حالت خطرناک ہونا۔  
 حال کا نالہ۔ (ح۔ ۱۰۔ م) روٹی چھچھ دال کا۔ (ایش) گنہ آدمی۔ جو کام نہ کرے بلکہ صفت پیٹ بھرنے کا ہے۔  
 حال کرنا۔ (ح۔ ۱۰۔ م) کسی حالت کو پہنچانا۔  
 حال کھل جانا (کھلنا)۔ (ح۔ ۱۰۔ م) اصل حالت ظاہر ہوجانا۔ راز افشا ہو جانا۔ تعلق کھل جانا۔  
 حال کیا احوال کیا۔ دل کا خیال نہ گیا۔ (ایش) حالت خراب ہو گئی۔





حارث (حارث کی اکانی حارث کی وہ مقدار جو ایک گرم پانی کو ایک دو چھ سینٹی گریڈ تک کر کے (انگ)۔ (Calorie)  
 حارہ دینا۔ (۱۔ مادہ) بھل دینا۔ فریب دینا۔ چال دینا۔  
 حارہ لانا۔ حارہ لینا۔ (۱۔ مادہ) غصہ دکھانا۔ گرم ہونا۔ بوش دکھانا۔  
 تیزی دکھانا۔

حارست۔ (ج۔ ر۔ است) (۱۔ مٹ) مگرانی۔ چھپائی۔ عافیت (۷)  
 نظر بندی۔ قید۔

حارست میں دینا۔ (۱۔ مادہ) پولیس کے حوالے کر دینا۔ گرفتار کر دینا۔

حارست نا چائز۔ (ف۔ مٹ) خلاف قانون گرفتاری یا قید۔

حراف۔ (ح۔ راف) (۱۔ صفت) (۱۱۔ مکار۔ فریبی۔ چالاک (۷) عیار۔  
 شوخ دیدہ۔

حرافہ۔ (ج۔ ح۔ ا۔ مٹ) چالاک اور شوخ دیدہ عورت۔

حرام۔ (ح۔ رام) (ج۔ صفت) محفل کی ضد (۱) حرمت والا۔ عظمت والا۔

برائی والا (۷) خلاف شرع۔ ناجائز۔ ناروا۔ گناہ۔ غیر مجاہ (۳) ناپاک۔ پلید

بجس (۴) بدکاری۔ زنا۔

حرام چالیس گھر لے ڈوبتا ہے۔ (۱۔ بشل) حرام کاری کا اثر ڈوب تک

پہنچتا ہے۔

حرام خورد۔ (ح۔ ف۔ ن) (۱۔ مردار خورد۔ رشوت خورد (۲) صفت خود (۳) نمک حرام

بے دنا۔ بے مردت۔

حرام خوردی۔ نمک حرامی۔ بد ذاتی۔ بے وفائی۔ صفت خودی۔ رشوت سانی۔

حرام زادہ۔ حرام کا۔ (ح۔ ا۔ صفت) ذلدار زنا۔ وہ شخص جو بے نکاحی ماں سے

پیدا ہوا جو (۲) شدید۔ بد ذات۔ فسادی۔ فتنہ پرماز۔

حرام زادے کی رسی دارا زنا (بشل) بد معاش بہت دیر تک زندہ رہتا ہے۔

حرام زدگی۔ (ح۔ ف۔ ن) (۱۔ مٹ) حرام زادہ ہونے کی حالت (۲) شرارت۔

فتنہ پردازی۔

حرام کار۔ (ح۔ ف۔ صفت) زانی۔ بدکار۔ بد فعل۔

حرام کاری۔ (ح۔ ف۔ ن) (۱۔ مٹ) زنا۔ بدکاری۔ بد فعلی۔

حرام کا مال۔ ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال (۲) رشوت یا حرام کی کمانی۔

حرام کر دینا۔ (۱۔ مادہ) تلخ کر دینا۔ بدمزہ یا ناگوار کر دینا۔

حرام کرنا۔ (۱۔ مادہ) زنا کرنا۔ بدکاری کرنا۔

حرام کوٹھے پر پکارتا ہے۔ (۱۔ بشل) بڑی بات خود بخود دود دود تک ہشور

ہو جاتی ہے۔

حرام کھانا۔ (۱۔ مادہ) زنا کی کمانی کھانا (۲) رشوت لینا۔

حرام کی کمانی حرام میں گنوائی۔ (۱۔ مٹ) حرام کا مال ضائع ہو جاتا ہے اور

بڑے کاموں میں صرف ہوتا ہے۔

حرام مغز۔ (ح۔ ف۔ ن) (۱۔ مذ) وہ گودا جو ریٹھ کی ہڈی یا ہرو مانے پشت میں

ہوتا ہے۔

حرام موت فرنا۔ (۱۔ مادہ) خودکشی کرنا۔ اپنی جان آب لینا۔

حرام میں بڑا مزہ ہے۔ (۱۔ مٹ) مزہ منور کام میں بڑی لذت ہوتی ہے۔

حرام ہو جانا۔ (۱۔ مادہ) تلخ ہونا۔ ناگوار ہونا۔

حدیث فضلی۔ (ح۔ ا۔ مٹ) اس کام کی حدیث جو پیغمبر اسلام صلعم نے کیا ہو۔  
 حدیث قولی۔ (ح۔ ا۔ مٹ) اس کام یا بات کی حدیث جس کے متعلق  
 پیغمبر صلعم نے حکم دیا ہو۔

حدیث (کرنا) چھیننا۔ (۱۔ مادہ) توبہ کرنا۔ چھوڑ کرنا۔ کسی کام کو ترک کرنا۔

حدیث متصل۔ (ح۔ ا۔ مٹ) وہ حدیث جس کی سند میں آدل سے آخر تک

ایک ہی راوی ساقط نہ ہوا ہو۔

حدیث متواتر۔ (ح۔ ا۔ مٹ) وہ حدیث جسے وہ بکثرت لوگ بیان کریں۔

جس کے لیے جھوٹ بولنا امر محال ہو۔

حدیث مرسل۔ (ح۔ ا۔ مٹ) وہ حدیث جس کا تابعی سے اوپر راوی ساقط ہو۔

حدیث مرفوع۔ (ح۔ ا۔ مٹ) وہ حدیث جس کی سند رسول کریم تک پہنچے ہو۔

حدیث مشہور۔ (ح۔ ا۔ مٹ) وہ روایت صحیح جس کو ہر طبقہ میں کم سے کم

تین راویوں نے ضروریان کہا ہو۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ راویوں کا سلسلہ آدل سے آخر

حدیث منقطع۔ (ح۔ ا۔ مٹ) وہ حدیث جس کی سند میں ایک یا زیادہ راوی

مختلف مقامات سے ساقط ہوں۔

حدیث موضوع۔ (ح۔ ا۔ مٹ) بنائی ہوئی حدیث جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

حدید۔ (ح۔ وید) (ح۔ ا۔ مذ) لوہا۔

حدیقہ۔ (ح۔ وی۔ قد) (ح۔ ا۔ مذ) چاروں راوی والا باغ (۲) بھجوروں کا باغ۔

## ح۔ ذ

حذاقت۔ (ح۔ ذ۔ اقت) (ح۔ ا۔ مٹ) حقیقتی۔ دانائی (۲) چالاک۔

حدرد۔ (ح۔ ذ۔ ر) (ح۔ ا۔ مذ) پرہیز۔ انکار۔ احتیاط۔ بچاؤ

حدف۔ (ح۔ ذ۔ مذ) دود کرنا۔ انگ کرنا۔ جبارت سے کسی لفظ کو

ہٹا یا گودینا۔

## ح۔ ر

حر۔ (ح۔ ر۔ ا۔ مذ) آزاد۔ جسکی کا غلام نہ ہو۔ جمع ۱۱ حرار۔

حرا۔ (ح۔ ر۔ ا۔ مذ) (ح۔ ا۔ مٹ) کتے کے نزدیک ایک پہاڑی جہاں پیغمبر خدا صلعم

عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس جگہ پہلے پہل آپ پر

وہی نازل ہوئی۔

حرارت۔ (ح۔ ر۔ ارت) (ح۔ ا۔ مٹ) (۱) گرمی۔ جدت (۲) بوش۔ تجنیر۔

(۳) خضہ (۴) بخار ہونا۔

حرارت دین (دینی)۔ مذہبی بوش۔ مذہبی غیرت۔

حرارت مغربی۔ (ح۔ ر۔ ا۔ مٹ) بیرون حرارت۔ غیر طبی حرارت۔

حرارت مغربی۔ (ح۔ ا۔ مٹ) بدن کی قدرتی گرمی۔

حرارت ہونا۔ (۱۔ مادہ) ہلکا بخار ہونا۔ جسم کا گرم ہونا۔

حرارہ۔ (ح۔ ر۔ ارہ) (ح۔ ف۔ ن) (۱۔ مذ) بوش۔ گرمی۔ غلبہ شوق۔ خضہ تیزی بندی۔

حرف پہچاننا۔ (۱۔ محاورہ) حروف میں تیز کرنا، پڑھ لینا۔ حروف پہچانی کو ذہنی نشیون کرنا۔

حرف تاکید۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ لفظ جو کلام پر زور دینے کے لیے آئے۔ جیسے ضرور۔ ہرگز۔

حرف تردید۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ لفظ جو کسی بات کو رد کرنے کے لیے آئے۔ جیسے چاہے۔ خواہ۔

حرف تشبیہ۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ لفظ جو ایک چیز سے دوسری چیز کی مانند ظاہر کرے مثلاً ایسا۔ ویسا۔ جیسا۔

حرف جہار (جر) ربط۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ لفظ جو کسی فعل کو اسم سے ملائے جیسے سے۔ پر۔ میں۔ تک۔

حرف پہچین۔ (ح۔ج۔ف۔ا۔ مذ) نکتہ پہچین (۲) حرف شناس۔ ایچ۔ ٹی۔

حرف رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) الزام لگانا۔

حرف زن۔ (ح۔ج۔ف۔صفت) باتیں کرنے والا۔ بولنے والا۔

حرف ساکن۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ حرف جس پر اعراب نہ ہو۔

حرف مشروط۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ لفظ جو کسی کام کو دوسرے کام پر موقوف کرنے کے لیے لایا جائے جیسے اگر۔ جب۔ ہر چند۔

حرف شکایت۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) شکوہ شکایت کی بات۔

حرف شناس۔ ایچ۔ ٹی۔ حروف پہچانی لینے والا۔

حرف شنوا۔ (ح۔ج۔ف۔صفت) وہ شخص جس سے سوائے کہا جائے۔

حرف عطف۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ حرف جو دو کلموں یا جملوں کو باہم ملانے مثلاً اور۔ و۔ پھر۔

حرف علت۔ تین حروف ہیں۔ واؤ۔ الق۔ یا۔

حرف گیری۔ (ح۔ج۔ف۔صفت) نکتہ چینی۔ عیب نکالنا۔

حرف لانا۔ (۱۔ محاورہ) الزام لگانا۔ عیب لگانا۔

حرف متحرک۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ حرف جس پر اعراب ہوں۔

حرف مطلب۔ (ح۔ج۔ف۔ا۔ مذ) مطلب کی بات۔

حرف نداء۔ (۱) وہ لفظ جو بلانے کے لیے استعمال ہو جیسے اے۔ او۔

حرف نڈیہ۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ حرف جو افسوس کے لیے بولا جائے مثلاً

ہائے۔ واہ۔ آہ۔

حرف لغی (زہنی)۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) جس میں انکار پایا جائے جیسے نہ۔ نہیں۔

حرف نہ اٹھ سکنا۔ (۱۔ محاورہ) پڑھ نہ سکا۔ پڑھنا نہ جانا۔

حرف وحکایت۔ گو شکوہ۔ بات چیت۔

حرفت۔ (جر۔فت) (ح۔ج۔ا۔ مذ) پیشہ۔ کسب۔ کاریگری (۲) ہنر۔ علم۔

(۳) چالاک۔ عیاری۔ مکاری۔

حرفت بازار۔ (ح۔ج۔ف۔ا۔ مذ) چالاک۔ عیار۔ مکار۔

حرفتی۔ (جر۔فت) (ح۔ج۔ف۔صفت) چالاک۔ عیار۔

حرفیہ۔ (جر۔فت) (ح۔ج۔ا۔ مذ) پیشہ۔ مہنت۔ ہنر۔ کاریگری۔

حرفت۔ (جر۔فت) (ح۔ج۔ا۔ مذ) عین۔ سوزش (۲) جوش۔ حرارت۔

حرکات۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) حرکت کی جمع۔ حرکتیں۔

حرکات و سکنا۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) (۱) اٹھنا۔ بیٹھنا۔ چلنا۔ پھرنا (۲) عادت۔ عیادت۔

حرام ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ناجائز ہونا۔ ممنوع ہونا (۲) تلخ ہونا۔ نفرت اور پرہیزگے قابل ہونا۔

حرامی۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) (۱) حرام (۲) چور۔ شور۔ بدذات (۳) لطف۔ حرام۔ زنا کی اولاد۔

حرب۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) (۱) جنگ۔ کارزار۔

حرب گاہ۔ (ح۔ج۔ف۔ا۔ مذ) میدان جنگ۔

حربا۔ (جر۔با) (ح۔ج۔ا۔ مذ) گرگٹ۔

حربیہ۔ (جر۔بیہ) (ح۔ج۔ا۔ مذ) (۱) جنگ۔ جنگی ہتھیار (۲) پرہیزی۔ نمازیانہ۔

حربہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) وار کرنا۔ حملہ کرنا۔

حربے ضربے۔ ہر وقت۔ گھڑی گھڑی۔ بار بار۔

حرج۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) (۱) مذحکی۔ سختی (۲) نقصان۔ ضرر (۳) تفتیش اوقات۔ دیر۔ کمی۔

حرجز۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) (۱) جانے پناہ۔ عیال (۲) توبہ۔ جنت۔ منتر۔ جمع۔ اجازت۔

حرجز جاں بنانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت عزیز رکھنا۔ بے حد احتیاط سے رکھنا۔

حرجس۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) (۱) طبع۔ خواہش۔ تمنا۔ رغبت۔ ہوس۔

حرجس کرنا۔ (۱۔ محاورہ) لالچ کرنا۔ خواہش کرنا۔ تمنا رکھنا۔

حرجسا حرجسی۔ (جر۔صا۔جر۔سی) (۱) (۱) اڑ۔ (۲) دکھا دیکھی۔ اوروں کو دیکھ کر خود بھی وہی کام کرنے لگنا یا اس چیز کی خواہش کرنا۔

حرجسی۔ (حرجسی) (ح۔ج۔ا۔ مذ) لالچی۔ طامع۔ حریص۔

حرجسی سہو۔ (۱۔ مذ) دوسروں کی دکھا دیکھی لالچ میں آجانے والا۔

حرف۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) لغوی معنی طرف۔ کنارہ۔ پہاڑ کی چوٹی (۲) آواز کو ظاہر کرنے والا نشان۔ حرف پہچانی (۳) علم صرف میں وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے لفظ کے ساتھ بغیر پورے سمجھ میں نہ آسکے (۴) بات۔ لفظ۔ سخن (۵) نقص۔ عیب۔ طنز۔ جمع۔ حروف۔

حرف آشنا۔ (ح۔ج۔ف۔صفت) جو تھوڑا بہت پڑھ سکے۔ بتدی۔ نو آموز۔

حرف آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) الزام لگانا۔ عیب لگانا (۲) عقوڑا سا لگنا پڑھنا۔ آنا۔

حرف اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) پڑھ لینا۔ شناخت میں آنا (۲) حرف کو اس طرح چھیننا کہ نشان باقی نہ رہے۔

حرف اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) حرف کو مٹانا۔

حرف انداز۔ (ح۔ج۔ف۔صفت) فریبی۔ مکار۔ چالاک۔

حرف استغنا۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری سے جدا کرے۔

شکوہ۔ جز۔ سوا۔

حرف استدراک۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) وہ لفظ جو پہلے جملہ کے شبہ کو دور کرے۔

بیسے۔ لیکن۔ البتہ۔

حرف استہنام۔ (ح۔ج۔ا۔ مذ) سوال کے لیے استعمال ہونے والا لفظ جیسے کیا۔ کب۔

حرف بحر۔ ایک ایک حرف۔ لفظ بلفظ۔

حرف بنانا۔ حرف کو درست کرنا۔ حرف کو قاعدے کے مطابق کرنا۔

(۲) چیلے کے پتھر پر حرف درست کرنا (۳) حرف کو کھودنا (۴) حرف بدلنا۔ جملہ سازی کرنا۔ خط میں تبدیلی کرنا۔

حرف پڑانا۔ (۱۔ محاورہ) غلطی پڑانا۔ ٹوکانا۔ نکتہ چینی کرنا۔



**حُرُوفٌ تَشَابِهٌ** - (ح۔ج۔ا۔ذ) وہ حروف جن کی شکل ایک جیسی ہو جیسے  
ر۔ب۔ت۔ث۔

**حُرُوفٌ مُجْتَمِعَةٌ** - حروف منقوطة وہ حروف جن پر ایک یا زیادہ نقطے ہوں جیسے  
جابر، یح، ادرب۔

**حُرُوفٌ مُغَيَّرَةٌ** - وہ حروف جو اپنے ساتھ آنے والے الفاظ میں تبدیلیاں کر  
دیں۔ لڑکے نے، میں لڑکا کی جگہ لڑکے ہو گیا ہے۔ ہونے کے  
آنے سے۔

**حُرُوفٌ مُقَطَّعَاتٌ** - وہ حروف جو قرآن پاک کی بعض سورتوں کے  
شروع میں آتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں اور جن کے معنی

کو کسی معلوم نہیں۔ (ا۔ل۔م۔الم۔ح۔میم)  
**حُرُوفٌ مُهْمَلَةٌ** - حروف غیر منقوطة وہ حروف جن پر کوئی نقطہ نہ ہو جیسے ط  
میں ط۔ تم ادرح۔

**حُرْمَةٌ** - (ح۔ا۔مٹ) - ریاس (۲) پتھر ملی زمین۔  
**حُرْمِيَّتٌ** - (ح۔ری۔یت) - (ح۔ا۔مٹ) آزادی۔ غلامی کے بعد آزادی۔  
**حُرْمِيْرٌ** - (ح۔ری۔ر) - (ح۔ا۔مٹ) (۱) ریشمی کپڑا۔  
**حُرْمِيْرَةٌ** - (ح۔ری۔ر) - (ح۔ا۔مٹ) - (۱) ریشمی اور گاڑھی چیز جو میدے کو کھانڈ میں  
گھول کر پکائی جاتی ہے۔

**حُرْمِيْرِيٌّ** - (ح۔ری۔ری) - (ح۔صفت) (۱) ریشمی۔ ریشم کا (۲) باریک۔ پتلا۔  
ہمیں جیسے حریری کاغذ (۲) ڈبلا پتلا آدمی۔

**حُرْمِيْلِيٌّ** - (ح۔ری۔صفت) (۱) لالچی (۲) حاسد (۳) پیٹو۔ کھاؤ (۴) دیکھا  
دیجی کام کرنے والا۔ جرمی۔

**حُرْمِيْلِيْفٌ** - (ح۔ری۔صفت) (۱) ہمیشہ (۲) دشمن۔ بدخواہ (۳) چالاک۔  
ہوشیار (۴) مقابلہ کرنے والا۔ جمع: حُرْمِيْلِيْفَاتٌ۔

**حُرْمِيْلِيْقٌ** - (ح۔ری۔صفت) (۱) جلی ہوئی چیز۔ سوختہ (۲) آج۔ شعلہ۔  
**حُرْمِيْمٌ** - (ح۔ری۔م) (ح۔ا۔مٹ) (۱) گھر کی چار دیواری (۲) خانہ کعبہ کی بیرونی دیوار  
(۳) مکان۔ گھر۔

**حُرْمَتٌ** - (ح۔ر۔ا۔کٹ) (ح۔ا۔مٹ) (۱) اجنبش۔ رفتار۔ چال۔ گردش (۲)  
دھڑکن۔ تڑپ۔ اضطراب (۳) زیر۔ زیر۔ پیش۔ اعراب (۴) کام۔ کردار  
فضل (۵) ناپسندیدہ بات۔ بے جا کام۔ گناہ (۶) سفر۔ کوچ۔ آمدورفت (۷) بدنقل

**حُرْمَتٌ كَرْنَا** - حرمت دینا۔ (۱) معاہدہ۔ پلانا۔ جُنُبش دینا۔ اعراب لگانا۔  
بنا مٹنا۔ چلنا (۲) بُرَا کام کرنا۔ خفا کرنا (۳) نقصان کرنا۔ دیر کرنا۔ ہرج کرنا (۴) جامع کرنا

**حُرْمَتٌ مَذْمُوْمَةٌ** - (ح۔ف۔ا۔مٹ) ذبح ہونے والے جانور کی طرح  
بے اختیاری کی حرمت۔ بے فائدہ حرمت۔ اضطرابی حرمت۔

**حُرْمَتٌ مِيْنُ بُرْمَتٌ** ہے۔ (پیش) کام کرنے میں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کام  
کرتے رہیں تو خدا مدد کرتا ہے۔

**حُرْمَتِيٌّ** - (ح۔ر۔ا۔کٹ) (تی۔ا۔ر) - (مٹ) شرازت کرنے والا۔ حرمت والا۔  
**حُرْمَتِيْكِيٌّ** - (ح۔ر۔کٹ) (ح۔صفت) حرمت سے منسوب۔  
حُرْمَتِيٌّ كَوَانِيٌّ - وہ طاقت یا قوت جو کسی شے کے حرمت میں آنے سے پیدا  
حُرْمَتِيٌّ نَظَرِيٌّ - حرمت کا قانون۔

**حُرْمَتِيْمٌ** - (ح۔ر۔م) (ح۔ا۔مٹ) خانہ کعبہ کی چار دیواری۔ احاطہ جہاں جاندار کا ماننا  
حرام ہے (۲) شرفاد کا زمانہ گناہ۔ گھر والی منگوتہ بیوی (۳) وہ کبوتر جس سے  
صحت کی گئی ہو (۴) باندی۔ لونڈی۔

**حُرْمَتِيْمٌ (خاندان) سَمْرَةٌ** - (ح۔ف۔ا۔مٹ) - (۱) ذنبا خاندان۔ بیگموں اور حرموں کے رہنے  
کا مکان۔

**حُرْمَانٌ** - (ح۔ر۔مان) (ح۔ا۔مٹ) نامیدی۔ نا اہلی۔ بد قسمتی۔  
**حُرْمَانٌ لَيْسِيْبٌ** - (ح۔ف۔صفت) بد قسمت۔ جس کی قسمت میں محرومی ہو

**حُرْمَتٌ** - (ح۔ر۔مٹ) (ح۔ا۔مٹ) عزت۔ ابر۔ عظمت۔ بڑائی (۲) مذہب  
کی رو سے حرام ہونا۔

**حُرْمَتٌ اِنْمَانِيَّةٌ** - (ح۔م۔ان) (ح۔ا۔مٹ) ابرو لینا۔ عصمت پر دھبہ لگانا۔  
**حُرْمَتٌ نَهْمَةٌ** - (ح۔ن۔ہ) (ح۔ا۔مٹ) جنگ عزت کا نادان۔ ہر جانہ ازالہ حیثیت عزتی۔

**حُرْمَتٌ جَانَانِيَّةٌ** - (ح۔ج۔ان) (ح۔ا۔مٹ) عزت میں فرق آنا۔ عظمت اور عظمت میں  
فرق آنا۔

**حُرْمَتٌ كَالَاكٍ هُوَانَا** - (ح۔م۔ا۔مٹ) عزت و ابرو کے درپے ہونا۔  
**حُرْمَتٌ لِيْنَا** - (ح۔ل۔ان) (ح۔ا۔مٹ) عزت بگاڑنا گستاخی کرنا۔ عصمت پر دھبہ لانا۔

**حُرْمَلٌ** - (ح۔ر۔ل) (ح۔ا۔مٹ) کالا دانہ۔ اسپند۔ ایک جنگلی پودا۔  
**حُرْمِيْنٌ شَرِيْفِيْنٌ** - (ح۔ر۔ر۔م۔ن) (ح۔ا۔مٹ) (۱) فین۔ (۲) ح۔ری۔ (۳) فین۔ (۴) مگر منظر اور دینے سزا  
ددوں کو حرمین شریفین کہتے ہیں۔

**حُرُوفٌ** - (ح۔ر۔و۔ف) (ح۔ا۔مٹ) حروف کی جمع۔  
**حُرُوفٌ بَهِجَةٌ** - حروف بہجا۔ الف۔ بت۔ ت۔ و۔ مزو۔

**حُرُوفٌ حَمِيْنٌ** - (ح۔ف۔صفت) حروف ترتیب دینے والا۔  
(المک) (Composer)

**حُرُوفٌ تَمَسِيٌّ** - وہ حروف جن سے پہلے آل لڑنے میں نہ آئے جیسے بدلاریم  
میں ت۔ اور داتس میں ش۔

**حُرُوفٌ قَرْمِيٌّ** - وہ حروف جن سے پہلے آل تلفظ میں آنے جیسے ابوابہت  
پس ت۔ اور بعد الحسب میں ح۔ جس طرح جانڈ نکلنا ہو تو ت۔ سے بھی نظر  
آتے ہیں اسی طرح حروف قمری کے ساتھ آل پڑھا جاتا ہے۔

## ح۔ز

**حُرْبٌ** - (ح۔ز۔ا۔مٹ) (۱) اجتماع۔ گروہ۔ جماعت (۲) دھپنے یا درد کا جھتہ۔  
(۳) تقسیم۔ جمع، اتراب۔

**حُرْبٌ الْاَحْرَارِ** - آزادوں کی جماعت۔ لبرل پارٹی۔  
**حُرْبٌ الْعَمَالِ** - (ح۔ز۔ا۔مٹ) مزدوروں کی جماعت۔

**حُرْبٌ اِقْتِدَارٌ** - (ح۔ز۔ا۔مٹ) اسمبلی میں اکثریت رکھنے والی جماعت  
جو حکومت کا کام سرانجام دیتی ہے۔

**حُرْبٌ اِتِّدَادٌ** - اللہ والوں کی جماعت۔  
**حُرْبٌ اِسْتَبْدِيْنٌ** - (ح۔ز۔ا۔مٹ) قدامت پسند جماعت۔

**حُرْبٌ مَخَالِفٌ** - (ح۔ز۔ا۔مٹ) پارلیمنٹ یا اسمبلی میں حکومت کی  
مخالف جماعت۔

خرم۔ (ح۔ ا۔ مذ) احتیاط۔ مال اندیشی۔ مستعدی۔ خبرداری۔  
 تخنیر (ح۔ صفت) دیکھیے المیہ (اردناک المیہ)  
 تخن۔ (ح۔ ا۔ مذ) رنگ۔ طال۔ بخر۔ جمع، اتران۔  
 تخین۔ (ح۔ زین) (ح۔ صفت) فلکیں۔ رنجیدہ۔ طول۔ جمع، خزنا۔ جزان۔

## ح۔ ح۔ ح۔ ح۔ ح۔

حس۔ (ح۔ ا۔ مٹ) (ا) محسوس کرنے کی قوت (۲) جنبش۔ حرکت۔  
 جمع، حواس۔

حس باطنی۔ (ح۔ ا۔ مٹ) محسوس کرنے کی اندرونی قوت۔  
 حس ظاہری۔ (ح۔ ا۔ مٹ) محسوس کرنے کی بیرونی قوت جیسے باصرہ  
 دیکھنے کی اور سامعہ سُننے کی قوت۔  
 حس مشترک۔ (ح۔ ا۔ مٹ) ایک قوت جو حواسِ خمسہ کے ذریعے محسوس  
 کی ہوئی صورتوں کو قبول کر کے ایک خزانے میں جمع کر دیتی ہے۔ یہ  
 خزانہ خیال ہے۔ فعل عامر۔

حساب۔ (ح۔ ساب) (ح۔ ا۔ مذ) (ا) گنتی (۲) شمار (۳) علم ریاضی کی ایک شاخ  
 (۴) زرخ۔ بھاؤ۔ قیمت (۵) قاعدہ۔ ڈھنگ۔ طُور (۶) لین دین (۷) سمجھ  
 (۸) میزان۔ بوز (۹) حالت۔ کیفیت۔ جمع، حسابات۔  
 حساب برابر کرنا۔ (ا۔ محاورہ) جمع خرچ نکالنا۔ فیصلہ ہونا۔ کام ختم کر دینا۔  
 حساب بنانا۔ (ا۔ محاورہ) آمد و خرچ کا حساب تیار کرنا۔ بل بنانا۔  
 حساب بے باق کرنا۔ (ا۔ محاورہ) لین دین کا فیصلہ کر دینا۔ اگلا پھیلنا  
 حساب بچا کر دینا۔ پورا قرضہ اُتار دینا۔

حساب پوچھنا۔ (ا۔ محاورہ) حساب مانگنا۔ آمد و خرچ کا حساب لینا۔ مجاہدہ  
 کرنا۔ پوچھ پوچھ کرنا۔  
 حساب پھیلانا۔ (ا۔ محاورہ) شمار کرنا۔ حساب لگانا۔  
 حساب چوڑانا۔ (ا۔ محاورہ) بوز لگانا۔ جمع کرنا۔ میزان دینا۔ متفرق رقم  
 کو ایک جگہ لے آنا۔

حساب جو جو بخشش سوسو۔ (مث) معاملہ صاف ہونا چاہیے جس  
 کوڑی کوڑی کا ہونا چاہیے۔ بخشش اور انعام کا اختیار ہے جس قدر  
 چاہیں دے دیں۔

حساب دار۔ (ح۔ ف۔ صفت) اکاؤنٹ۔ کسی دوکان یا بینک میں  
 حساب رکھنے والا (۲) وہ شخص جس نے بینک میں اپنا حساب کھولا  
 ہوا ہو۔

حساب دان۔ (ح۔ ف۔ صفت) علم حساب کا ماہر۔  
 حساب دو سال دروول (فیش) دوست دل ہی میں حساب کر لیتے  
 ہیں۔ زبان پر نہیں لاتے۔ جو دے دیا سو دے دیا اور جو مل گیا  
 سوں ل گیا۔

حساب دینا۔ (ا۔ محاورہ) حساب بھانا۔ چارج دے دینا۔ آمد و  
 خرچ بتا دینا۔  
 حساب رکھنا۔ (ا۔ محاورہ) آمد و خرچ لکھتے رہنا۔ رجسٹر میں درج کرتے

رہنا (۲) آشنائی رکھنا۔

حساب سے۔ خیال سے۔ رائے میں۔ بھاؤ یا شرح سے۔ انداز سے۔  
 حساب سے باہر۔ (اصف) بے شمار۔ اُن گنت۔ بے اہتہا۔

حساب کتاب۔ (ح۔ ا۔ مذ) لین دین۔ ربط ضبط۔ میل ملاپ۔  
 حساب کتاب میں رہنا۔ (ا۔ محاورہ) آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرنا۔

حساب کرنا۔ (ا۔ محاورہ) حساب سمجھنا (۲) بے باق کرنا۔

حساب لڑانا۔ آشنائی ہونا۔ آنکھ لڑجانا۔

حساب لگانا۔ (ا۔ محاورہ) حساب پھیلانا (۲) آشنائی کرنا۔ دوستی کا ٹھکانا۔  
 (۳) نوکری کرنا (۴) سازش کرنا (۵) حساب کرنا۔

حساب لینا۔ (ا۔ محاورہ) حساب پوچھنا۔ پرتال کرنا۔ آمد و خرچ کا جائزہ لینا۔  
 حساب میں جمع کرنا۔ (ا۔ محاورہ) جس نے ادائیگی کی ہے اس کے حساب میں  
 بکھ لینا۔ کھاتے میں پڑھانا۔

حساب میں لینا۔ (ا۔ محاورہ) حساب میں شمار کرنا۔ معاملے کے سبب پہلوں  
 پر نور کر کے سمجھ لینا۔

حساب میں نہ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) کوئی حیثیت نہ رکھنا۔

حساب نویس۔ (ح۔ ف۔ صفت) حساب رکھنے والا۔ اکاؤنٹنٹ۔

حساب نویس۔ (ح۔ ف۔ ا۔ مٹ) حساب کتاب لکھنا۔

حساب ہو جانا۔ (ا۔ محاورہ) نوکری سے برطرف ہو جانا۔

حساب ہونا۔ (ا۔ محاورہ) بقا یا نکال لینا۔ از روئے حساب یہ معلوم کرنا کہ  
 کیا لینا دینا ہے (۲) قیامت کے دن اچھے بُرے اعمال کی جانچ ہونا۔

حسابی۔ (ح۔ سا۔ بی) (ا) صفت (۲) حساب کی بات۔ حساب کے متعلق۔

قاعدے کی بات (۲) حساب میں ماہر۔

حساد۔ (حس۔ ساد) (ح۔ ا۔ مذ) حاسد کی جمع۔ بہت سے حاسد۔

حساس۔ (حس۔ ساس) زیادہ محسوس کرنے والا (۲) ہوشیار۔ زیرک۔ ذکی الحس۔

حشام۔ (حس۔ سام) (ح۔ ا۔ مٹ) تلوار۔ شمشیر۔ برآن۔

حسان۔ (حس۔ سان) (ح۔ ا۔ مذ) (۱) بہت اچھا۔ بڑا عقلمند (۲) ہمدردی  
 کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت۔

حسب۔ (ح۔ ب) بموجب۔ مطابق۔ موافق۔

حسب اتفاق۔ (ح) اتفاقاً۔ ناگاہ۔ اجانک۔

حسب ارشاد حسب الامر حسب الحکم۔ (ح) کہنے کے مطابق۔ حکم  
 کے بموجب۔

حسب توفیق۔ (ح) اپنی حیثیت کے مطابق۔

حسب حال۔ (ح) حال کے مطابق۔ موقع کے مناسب۔

حسب دستور۔ (ح۔ ف) قاعدے کے مطابق۔ رسم درواج کے مطابق۔

حسب دل خواہ۔ (ح۔ ف) جیسا کہ دل چاہتا ہے۔ دل نشاہ کے مطابق۔

حسب ذیل۔ (ح) نیچے دی ہوئی تفصیل کے مطابق نیچے لکھے ہوئے  
 کے مطابق۔

حسب ضابطہ۔ حسب قاعدہ۔ (ح) قاعدے کے مطابق قانون کی رو  
 سے جیسا کہ قانون اور قاعدے کا نشانہ ہے۔

حسب فرمائش۔ (ح۔ ف) کہنے کے مطابق۔ فرمائش کے مطابق۔

**حَسْبُ مُرَاد** - (ع۔ف) آرزو و خواہش کے مطابق۔  
**حَسْبُ مَعْمُول** - (ع۔ف) دستور کے مطابق جیسا کہ روزانہ کوئی کرتا ہے۔  
**حَسْبُ مَقْدُور** - اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق۔  
**حَسْبُ مَوْجِع** - موقع کے مطابق۔ جیسا موقع ہو۔  
**حَسْبُ** - (ع۔سب) (ع۔۱) مذ [نسل۔ سلسلہ خاندان (۲) ماں کی طرف کا سلسلہ (۳) ماں دجاہ کا شرف (۴) دینی بزرگی۔  
**حَسْبُ نَسَب** - (ع۔۱) مذ [ماں باپ کا خاندانی سلسلہ۔  
**حَسَد** - (ع۔سب) (ع۔۱) مذ [جن کسی کا زوال چاہنا (۲) عداوت۔  
**بَغْض** - کینہ۔  
**حَسْرَت** - (ع۔سب) (ع۔۱) مذ [امسوس کسی چیز کے نہ ملنے کا امسوس۔ پشیمانی (۲) آرزو۔ ارمان۔ شوق۔  
**حَسْرَتِ الْاُودِه** - (ع۔ف) صفت حسرت بھرا۔ غمزہ۔  
**حَسْرَتِ اَنَا** - (ع۔مجاورہ) آرزو ہونا۔ امسوس آنا۔  
**حَسْرَتِ اَبَات** - (ع۔صفت) رنج وہ۔ خسروستک۔  
**حَسْرَتِ اَتِيْخِر** - (ع۔ف) صفت جس کو دیکھ کر دل کے ارمان اُبھر آئیں۔  
**حَسْرَتِ بَاتِي** - (ع۔مجاورہ) ارمان پورا نہ ہونا۔ دل کی دل ہی میں رد جانا۔  
**حَسْرَتِ بَرْنَا** - (ع۔مجاورہ) حسرت ظاہر ہونا۔ امسوس کے آثار پائے جانا۔  
**حَسْرَتِ بَهْرَا** - (ع۔صفت) پُر ارمان۔ پُر شوق۔  
**حَسْرَتِ لَے جَانَا** - (ع۔مجاورہ) دل کی آرزو دل میں ہی رہنا۔ خواہش پوری نہ ہونا۔  
**حَسْرَتِ نِکَالْنَا** - (ع۔مجاورہ) ارمان پورے کرنا۔ خواہش یا آرزو پوری کرنا۔  
**حَسَن** - (ع۔سن) (ع۔صفت) (ع۔۱) مذ [نیک۔ اچھا۔ خوب صورت (۲) خوبصورتی۔ نیکی۔ بھلائی (۳) حضرت علیؑ کے بڑے صاحبزادے کا نام۔  
**حَسَنَات** - (ع۔سن۔نات) (ع۔۱) مذ [نیکیاں۔ بھلائیاں۔  
**حَسَن** - (ع۔۱) مذ [ (۱) خوبی۔ عمدگی۔ بھلائی (۲) خوش نمائی۔ دل رُبائی (۳) خوبصورتی۔ جمال (۴) رونق۔ جون۔ بہار۔  
**حَسَن اَرَا** - حُن کی شان بڑھانے والی۔  
**حَسَن اِنْفَاق** - (ع۔۱) مذ [خوش قسمتی۔ اچھا موقع۔  
**حَسَن اِخْلَاق** - (ع۔۱) مذ [خوش خلقی۔ لطیفی۔ تواضع۔  
**حَسَن اِنْتِقَام** - (ع۔۱) مذ [انتقام کی خوبی۔ خوش انتقامی۔  
**حَسَن بِيَان** - (ع۔۱) مذ [خوش بیانی۔ کسی واقعہ یا منظر کو موثر طریق سے بیان کرنے کا صفت۔  
**حَسَن تَدْبِيْر** - (ع۔۱) مذ [خوش تدبیری۔ عمدہ مشورہ۔  
**حَسَن تَعْلِيْل** - (ع۔۱) مذ [ایک صنعت کا نام ہے۔ شاعر اپنے تمثیل سے کوئی ایسے وجہ رعلت، کسی چیز کی یا امر کی پیش کرتا ہے جو دراصل اُس کی وجہ نہیں ہوتی۔  
**حَسَن خَدَاوَاد** - (ع۔ف) (ع۔۱) مذ [قدتی حُن۔

**حَسَن خُطَاب** - خوش کلامی۔ خوش بیانی۔ موثر تقریر کرنے کی خوبی۔  
**حَسَن خِيَمَر** - (ع۔ف) صفت حُن پیدا کرنے والا۔ وہ خطہ جہاں حسین لوگ پیدا ہوتے ہیں۔  
**حَسَن دَان** - (ع۔۱) مذ [چھوٹا پاندان۔ چھوٹی سی پیاری۔  
**حَسَن دُحْلَانَا** - (ع۔مجاورہ) حُن میں زوال آجانا۔ جوانی کا گزر جانا۔  
**حَسَن سُلُوْک** - (ع۔۱) مذ [برتاؤ کی اچھائی۔ اچھا رویہ۔ اچھا اخلاق۔  
**حَسَن صَبِيْح** - (ع۔۱) مذ [دلکش گوارنگ۔  
**حَسَن طَلَب** - (ع۔۱) مذ [لطیف اشارہ کر کے کوئی شے مانگنا (۲) مانگنے کا اچھا پیرایہ۔  
**حَسَن ظَن** - (ع۔۱) مذ [نیک گمان۔ کسی کے متعلق اچھا خیال۔  
**حَسَن قَبُوْل** - (ع۔۱) مذ [اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ پسندیدہ۔ من بھاؤنا۔  
**حَسَن گُلُوْسُوْز** - (ع۔۱) مذ [نہایت اعلیٰ حُن۔  
**حَسَن گَنَدَمِ گُوْل** - گورا۔ گہوں کی کسی رنگت والا۔  
**حَسَن مَحْضَل** - محض کی رونق۔ (ع۔۱) حق۔  
**حَسَن مَطْلَع** - (ع۔ف) (ع۔۱) مذ [مزل یا قید سے کا دوسرا مطلع۔  
**حَسَن مَطْلَق** - (ع۔۱) مذ [جمال خداوندی۔  
**حَسَن مَلِيْح** - (ع۔۱) مذ [نمکین۔ ملاحمت والا حُن۔ گندم کوں حُن۔  
**حَسَن مَعَاظِم** - (ع۔۱) صفت [پین دین کی صفائی۔  
**حَسَن يُوْسُف** - عمدہ رعبے کا حُن۔ حضرت یوسفؑ کا حُن۔  
**حَسَنَة** - (ع۔سن۔نہ) (ع۔۱) مذ [نیک۔ نیکی۔ بھلائی۔ جمع : حَسَنَات۔  
**حَسَنِي** - (ع۔سن۔نی) (ع۔۱) مذ [امام حُن سے نسبت رکھنے والا۔  
**حَسَنِي** - (ع۔سن۔نا) (ع۔۱) مذ [حُن کا موٹا۔ اچھی۔ خوب صورت۔  
**حَسَنِيْن** - (ع۔۱) مذ [امام حُن اور امام حُسَيْن۔  
**حَسُوْد** - (ع۔سُوْد) (ع۔۱) مذ [بد خواہ۔ بڑا حسد کرنے والا۔  
**حَسُوْد** - (ع۔سُوْد) (ع۔۱) مذ [حساد کی جمع۔  
**حَسِيْب** - (ع۔سِيْب) (ع۔صفت) حساب کرنے والا۔ بزرگوار۔ حساب لینے والا۔ خدا تعالیٰ کا صفاتی نام۔  
**حَسِيْن** - (ع۔سِيْن) (ع۔صفت) خوبصورت۔ نیک۔  
**حَسِيْنِيْن** - (ع۔سِيْن) (ع۔۱) مذ [حضرت علیؑ کے چھوٹے صاحبزادے جنہوں نے ۱۰ محرم اکرام کو میدانِ کربلا میں شہادت پائی۔  
**حَسِيْن مَنَد** - (ع۔ف) (ع۔۱) مذ [چاندی کی بے گیندہ دو انگلیاں جو روزِ عاشورا بچوں کے ہاتھ میں پہناتے ہیں۔  
**حَسِيْنَة** - (ع۔سِيْن) (ع۔۱) مذ [خوبصورت عورت۔  
**حَسِيْنِي** - (ع۔سِيْن) (ع۔۱) مذ [حضرت امام حسین سے منسوب۔  
**حَسِيْنِي بَلِيْل** - ایک خاص قسم کی مہل جس کا جسم سفید اور سرِ سرِ سیاہ رنگ کی پوٹی ہوتی ہے۔  
**حَسِيْنِي کا نَهْرَا** - (ع۔۱) مذ [کانی ٹاٹ کا ایک رنگ جس میں ساتوں رنگ ملتے ہیں۔

**حفت** (بکسرِ اَوَّل) - **حَصْر** - (ح۔ا۔ مذ) ایک مقام پر اجتماع (۱) قیامت۔ (۲) روزِ حساب (۳) شور و غل۔  
 عوفا۔ ہنگامہ۔ فتنہ۔ آفت۔  
**حشر برپا کرنا**۔ حشر توڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) آفت ڈھانا۔ (۳) فساد اٹھانا۔ اُدھم چانا۔  
 (۴) بنایتِ خفا ہونا۔ جھجھلانا (۳) بہت رونانا پینا۔ کھرام چانا۔  
**حشر توڑنا**۔ (۱) محاورہ (۲) جھجھلانا (۳) آفت ڈھانا۔  
**حشر ڈھانا**۔ (۱) محاورہ آفت برپا کرنا۔  
**حشر کا وعدہ**۔ جس وعدے کی زندگی بھر پورا ہونے کی امید نہ ہو۔  
**حشر میں اٹھنا**۔ (۱) محاورہ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے دن مردوں کا زندہ ہو کر اٹھنا۔  
**حشر ہونا**۔ (۱) محاورہ (۲) قیامت پیا ہونا۔ شور و غل ہونا (۳) انجام ہونا۔  
 نیچہ بٹھکانا۔  
**حشرات**۔ (ح۔ش۔ رات) (ح۔ا۔ مذ) چھوٹے چھوٹے ریگنے والے کیڑے کوڑے (۲) ہنگامہ۔ شور و غل۔  
**حشرات الارض**۔ (ح۔ا۔ مذ) برساتی کیڑے کیڑے کوڑے۔ سانپ۔  
 بچھو دینا۔  
**حشرہ**۔ (ح۔ا۔ مذ) ریگنے والا کیڑا۔  
**حشری**۔ (ریش۔ ری) (ف۔ صفت) بیبیت ناک (۲) شرہ بر گھوڑا۔  
**حشری باغی**۔ (ح۔ا۔ مذ) وہ باغی جو اوروں کی دیکھا دیکھی بغاوت کر دے۔  
**حشریات**۔ (ریش۔ ری) (آت) (ح۔ا۔ مذ) کیڑوں کوڑوں کا علم۔  
 (انجک) (Entomology)  
**حشیفہ**۔ (حش۔ ذ) (ح۔ش۔ ذ) (ح۔ا۔ مذ) آلاتِ تناسل کی سپاری۔  
**حشیم**۔ (ح۔ش۔ م) (ح۔ا۔ مذ) نوکر چاکر۔ خدمت گار۔  
**حشیم و خدم**۔ (ح۔ا۔ مذ) نوکر چاکر۔ ملازمان۔  
**حشمت**۔ (حش۔ مت) (ح۔ا۔ مذ) نوکر چاکر۔ خدمت گاروں کا انبوه۔  
 (۲) بزرگی۔ عظمت۔ مرتبہ (۳) دیدہ۔ شان و شوکت (۴) ساز و سامان  
 فرخ و لشکر۔ جلوس۔ سواری۔  
**حشمت**۔ (حش۔ مت) (ح۔ا۔ مذ) (۱) جوڑو۔ قبیلہ (۲) اونٹ کی ہنار۔  
**حشو**۔ (ح۔ا۔ مذ) بھرتی۔ اندھ بھرنے کی چیز (۲) زائد کلام۔ بیہودہ کلام۔  
 بے ضرورت گفتگو۔  
**حشیش**۔ (ح۔شیش) (ح۔ا۔ مذ) سوکھی گھاس (۲) بھنگ۔

ح۔ض

**حصار**۔ (حض۔ ضار) (ح۔ا۔ مذ) حاضریں۔ موجود لوگ۔  
**حصارت**۔ (ح۔ا۔ مذ) شہر میں رہنا۔ شہری زندگی۔  
**حصنا بنت**۔ (ح۔ا۔ مذ) پتے کی پرورش کی ذمہ داری۔  
**حصن**۔ (ح۔ا۔ مذ) ایک جگہ قیام۔ پناہ۔ اقامت۔ سفر کا متضاد۔  
**حصنات**۔ (ح۔ض۔ رات) (ح۔ا۔ مذ) حضرت کی جمع۔ بزرگ۔ مخدوم۔  
**حصرت**۔ (حض۔ رت) (ح۔ا۔ مذ) (۱) قُرب۔ نزدیکی۔ درگاہ (۲) جناب۔  
 حضور۔ قبلہ۔ تعظیم و عزت کا لقب (۳) چالاک۔ بد معاش۔ بد ذات۔ چلن  
 ہوا۔ بے ڈھب۔ ذات شریف۔  
**حضرت پسند**۔ (ح۔ض۔ ف۔ صفت) جوشے بادشاہوں کو پسند آجائے۔  
**حضرت سلامت**۔ (ح۔ا۔ مذ) حضور۔ عالی جناب۔ یار۔ دوست یہ لفظ  
 تخیلاً اور طنزاً برابر دالوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔  
**حضرتِ خاطر** کی جھاڑو پھرسے۔ (بددعا) تباہ ہو جائے۔ کوئی باقی نہ رہے

ح۔ص

**حصار**۔ (ح۔ضار) (ح۔ا۔ مذ) احاطہ۔ گھیرا۔ چار دیواری۔ شہر پناہ (۲) قلعہ (۳)  
 وہ دائرہ جو عامل اپنے گرد حفاظت کے لیے کھینچ لیتے ہیں۔  
**حصار باندھنا**۔ قلعہ باندھنا۔ حصاروں طرف سے گھیرا ڈالنا۔ کوئی دُعا یا  
 افسوس پڑھ کر چاروں طرف خطِ صحیح کر بلاؤں کی روک کر دینا۔  
**حصاری**۔ (ح۔ضار۔ ری) (ف۔ صفت) قلعہ بند۔  
**حصانت**۔ (ح۔ضانت) (ح۔ا۔ مذ) پائیداری۔ مضبوطی (۲) پاک دامن۔

**حُفّ** - (ح.ج.۱۰) مذ. کھاس کا خشک ہو جانا (۲) کسی چیز کا بے کار ہو جانا۔  
 (۳) گھیرا ڈالنا (۴) خدمت اور مہربانی کرنا (۵) ڈاڑھی مٹانے کے  
 بال کو کرنا۔  
**حُفّ نظر** - (ح.ج.۱۰) مذ. چشم بددور۔ ایک تعریفی کلمہ۔  
**حُفّاظ** - (ح.ج.۱۰) مذ. حافظ کی جمع۔ وہ لوگ جنہیں قرآن شریف  
 زبانی یاد ہو۔  
**حُفّاظت** - (ح.ج.۱۰) نا.ظنّت (ح.ج.۱۰) مٹ (۱) نگرانی۔ پاسانی (۲) بچاؤ سلاخی  
**حُفّاظتِ خود اختیاری** - (ح.ج.۱۰) مٹ (۱) اپنے آپ کو بچانا (۲) اپنی  
 جان بچانے کے لیے دوسرے کو مار دینا یا زخمی کر دینا۔  
**حُفّظ** - (ح.ج.۱۰) مٹ (۱) ازبر زبانی یاد (۲) پاس۔ ادب۔ لحاظ (۳) حفاظت۔  
**حُفّظ امن** - (ح.ج.۱۰) مذ. امن قائم رکھنا۔  
**حُفّظ پڑھنا** - (ح.ج.۱۰) محاورہ) حفظ کرنا۔ بے دیکھے پڑھنا۔ ازبر پڑھنا۔ یاد کرنا۔  
**حُفّظ جان** - (ح.ج.۱۰) مذ. جان کی حفاظت۔ بچاؤ۔  
**حُفّظ صحت** - (ح.ج.۱۰) مذ. تندرستی کی حفاظت صحت  
 کا بچاؤ اور قیام صحت کو برقرار رکھنے اور بیماری سے بچنے کے قاعدہ  
 کا علم۔  
**حُفّظ ما تقدم** - (ح.ج.۱۰) مذ. وہ بچاؤ جو پہلے سے کر لیا جائے (۲) کسی امر کی  
 پیش بندی۔  
**حُفّظ مراتب** - (ح.ج.۱۰) مذ. مرتبہ کا لحاظ۔ پاس ادب۔  
**حُفّظ ہونا** - (ح.ج.۱۰) محاورہ) زبانی یاد ہونا۔  
**حُفّظ** - (ح.ج.۱۰) حفظ (۱) محافظ۔ نگہبان (۲) عدلے تعالیٰ کا صفاتی نام۔

پکھ نہ رہے۔  
**حُضری** - (ح.ج.۱۰) مذ. (۱) شہری لوگ۔ ہندی کی ہند۔ عرب کے وہ لوگ جو ایک جگہ  
 مستقل آباد ہوں۔  
**حُضُور** - (ح.ج.۱۰) مذ. موجودگی۔ حاضری۔ حاضر باشی (۲) جناب۔ حضرت۔  
 قبلہ (تعلیم) (۳) دربار مجلس۔ اجلاس (۴) روبرو۔ سامنے۔  
**حُضُور کا نوکر ہوں** یعنی گن کا نوکر نہیں۔ (۱) پیش میں تو حضور کی ہاں میں ہاں  
 ملا جاتا ہوں۔  
**حُضُور والا** - (ح.ج.۱۰) مذ. جناب عالی۔ حضور اقدس۔  
**حُضُوری** - (ح.ج.۱۰) مذ. (۱) حاضری۔ قربت۔ نزدیکی۔ بادشاہی دربار۔ اجلاس۔  
**حُضینیض** - (ح.ج.۱۰) مذ. پستی۔ گڑھا نشیب۔

ح - ط

**حُطاب** - (ح.ج.۱۰) مذ. کھڑا۔ کھڑیاں بیچنے والا۔  
**حُطّام** - (ح.ج.۱۰) مذ. شیر بیز۔  
**حُطّام** - (ح.ج.۱۰) مذ. کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز (۲) کوڑا کرکٹ۔  
**حُطّاب** - (ح.ج.۱۰) مذ. لاغر۔ بہت ڈبلا۔  
**حُطّاب** - (ح.ج.۱۰) ایذا من (۲) ہمت۔ الزام۔  
**حُطّاب** - (ح.ج.۱۰) مذ. تیز آگ (۲) دوزخ کا تیسرا طبقہ۔  
**حُطّیم** - (ح.ج.۱۰) مذ. کعبہ کا وہ پتھر جو زمین اور زمزم کے درمیان ہے۔  
 (۲) پچھلے سال کا پودا (۳) مٹ (۱) خانہ کعبہ سے باہر مغرب کی جانب  
 ایک دیوار۔

**حُطّ** - (ح.ج.۱۰) مذ. (۱) سچ۔ جِدق (۲) لائق۔ واجب (۳) درست۔ بجا۔ ٹھیک (۴)  
 ثابت۔ قائم (۵) فرض۔ ذمہ داری (۶) جائز۔ مباح (۷) انصاف (۸) صلہ  
 بدلہ۔ معاوضہ (۹) مزدوری (۱۰) انعام۔ نیک (۱۱) عدل۔ انصاف (۱۲)  
 اصلیت۔ واقعہ (۱۳) منصف۔ اختیار (۱۴) حکمت (صفت) درست۔  
**حُقّ** آسائش۔ (ح.ج.۱۰) ف۔ (۱) آرام و آسائش کا وہ حق جس کی رو سے کسی  
 کا کوئی ہسیاہ اپنے ملک یا زمین پر کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتا جس سے  
 اُسے تکلیف یا نقصان پہنچے۔  
**حُقّ آسائش** - (ح.ج.۱۰) صفت) غلبہ پرست۔ سچی اور حق بات کہنے والا۔  
**حُقّ ادا کرنا** - (ح.ج.۱۰) محاورہ) (۱) فرض ادا کرنا (۲) نوکری یا خدمت بجالانا (۳)  
 کسی کام کو دیساری کرنا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ بہتر میں طور سے  
 انجام دینا۔  
**حُقّ ارجح** نالیش۔ (ح.ج.۱۰) ف۔ (۱) مذ. ناش یا استغناء داؤ کرنے کا حق۔  
**حُقّ اللہ پاک** ذات اللہ۔ خدا برحق ہے اور اس کی ذات پاک ہے۔  
**حُقّ التخصیص** - (ح.ج.۱۰) مذ. مال گذاری وصول کرنے کا حق جو فہر دار کو ملتا ہے۔

ح - ق

ح - ظ

**حُظّ** - (ح.ج.۱۰) مذ. (۱) لطف۔ مزہ (۲) خوشی (۳) لذت۔ ذائقہ۔ (۴) عیش و نشاط  
 (۵) خوش قسمتی۔  
**حُظّ اٹھانا** - (ح.ج.۱۰) محاورہ) لطف اٹھانا۔ لذت پانا۔ عیش کرنا۔ مزے  
 لوٹنا۔ خوشی کرنا۔  
**حُظّ نفسانی** - حیوانی مزہ۔ مباح۔ بدنی خوشی۔  
**حُظّوظ** - (ح.ج.۱۰) مذ. حظ کی جمع۔ مزے۔ لطف۔  
**حُظّیرہ** - (ح.ج.۱۰) عجمی۔ (۱) مذ. اعطاب جو کلمی یا پانس سے بنا لیا گیا ہو۔  
 (۲) قبرستان کی چار دیواری (۳) مقبرے کا گنبد۔

**ح - ف**

حقّ الشّعی - حقّ الحُجّت - (ع۔ ا۔ مذ) محنت کا حق۔ مزدوری۔  
 حقّ العباد - (ع۔ ا۔ ف۔ مذ) بندوں کا حق۔ انسان کا انسان پر حق۔  
 حقّ الیقین - (ع۔ ا۔ مذ) تصرف کی اصطلاح۔ اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھنا۔  
 اللہ پر پورا یقین۔  
 حقّ بالذات - (ع۔ ا۔ مذ) ظنی یا پیدا نش حق۔  
 حقّ بجانب - (ع۔ ف۔ ص) سزاوار۔ لائق۔ حق پر۔  
 حقّ بمقدار رسید - (م) جس کا حق تھا اُسے مل گیا۔  
 حقّ بین - (ع۔ ف۔ ا۔ ص) بچی بات پر نظر رکھنے والا۔ دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والا۔  
 حقّ پرست - (ع۔ ف۔ ص) حق کی بات کرنے والا۔ سچا آدمی۔  
 حقّ پروردہ - (ع۔ ف۔ ص) حق تلاش کرنے والا۔ سچ کا طالب۔  
 حقّ پہنچنا - (ع۔ محاورہ) کسی کا حق دار ہونا۔ اپنا حصہ مل جانا۔  
 حقّ تصنیف (تالیف) - (ع۔ ا۔ مذ) کتاب لکھنے کا معاوضہ۔ وہ رقم جس کے عوض مصنف کسی کو اپنی کتاب چھپانے کا حق دے دے۔  
 حقّ تعالیٰ - (ع۔ ا۔ مذ) خدا تعالیٰ بزرگ و برتر۔  
 حقّ ظنی - (ع۔ ف۔ ا۔ ص) کسی کا حق مار لینا۔ بے انصافی۔  
 حقّ چھڑانا - (م) حق مقرر کرنا۔ حق کا فیصلہ کرنا۔ کسی بات کو سچا مان لینا۔  
 حقّ ثابت کرنا - (ع۔ محاورہ) دعویٰ کا ثابت کرنا۔ اپنے حق کو منوا لینا۔  
 حقّ حق کرنا - (ع۔ محاورہ) خدا کا نام لینا (۲) انصاف کرنا۔  
 حقّ حلال - (ع۔ ا۔ مذ) جائز۔ مباح (۲) صحیح۔ درست۔  
 حقّدار - (ع۔ ف۔ ص) حقّ مستحقّ رکھنے والا۔  
 حقّ دہانا - (ع۔ محاورہ) حق نہ دینا۔ کسی کا حق مار لینا۔  
 حقّ دہاؤ - دوسرے کا حق مارنے والا۔ (ق)  
 حقّ رسی - (ع۔ ف۔ ا۔ ص) حق کو پہنچنا۔ انصاف۔ عدل۔ نیناؤ۔  
 حقّ شعاع - (ع۔ ا۔ مذ) اپنے مکان سے چلے ہوئے مکان یا زمین سے ملتی ہوئی زمین خریدنے کا قانونی طور پر خالی حق۔  
 حقّ شناسی - (ع۔ ا۔ مذ) حق پہچاننا (۲) خدا شناسی۔ حق قدرت سے واقف ہونا۔ تدریسی۔ جوہر شناسی۔ انصاف پہچاننے کی پہچان۔  
 حقّ فراموش - (ع۔ ف۔ ص) دوسرے کا حق بھول جانے والا۔  
 حقّ فرستی - (ع۔ محاورہ) سچائی کا سودا کرنا۔ بے ایمانی۔ رشوت لے کر بے انصافی کرنا۔ بددیانتی۔  
 حقّ گڑوا ہونا ہے۔ (ا) مثل) سچی بات بڑی گنتی ہے۔  
 حقّ گو - (ف۔ ا۔ ص) سچ کہنے والا۔  
 حقّ گوئی - (ع۔ ف۔ ا۔ ص) سچ کہنا۔ انصاف کی بات کہنا۔  
 حقّ میں کاٹنے بلونا - (ع۔ محاورہ) کسی کے ساتھ بُرائی کرنا۔ ایسے کام کرنا جس سے کسی کو نقصان ہو۔  
 حقّ نامق - بے سبب۔ خواہ مخواہ۔ بونہی۔  
 حقّ ناشناس - (ع۔ ف۔ ص) ناشکر۔ گزار۔  
 حقّ نیک ادا کرنا - (ع۔ محاورہ) نیک آقا سے وفاداری کرنا۔ مالک کی

خدمت بجا لانا۔  
 حقّ نبوش - (ع۔ ف۔ ص) سچی بات سننے والا۔ حق جاننے والا۔ حق پسند۔  
 حقّا - (ع۔ ق۔ ا۔ ف) سچ ہے۔ قسم ہے خدا کی۔  
 حقّاکہ با حقوبت دوزخ برابر است - (ع۔ ف۔ م) مثل) خدا کی قسم ہمارے رفتن بیائے مردکی جہاں رہنیت کی آمد سے بہت میں جانا دوزخ میں چلے جانے کے برابر ہے کسی کا احسان نہ لینا چاہیے۔  
 حقّارت - (ع۔ ق۔ ا۔ رت) (ع۔ ا۔ ص) ذلت۔ ہنگامی۔ بے عزتی۔ خفت۔ لغزت۔ حقّارت کی نظر سے دیکھنا۔ (ع۔ محاورہ) ذلیل سمجھنا۔ کم درجے کا سمجھ کر تو جہ نہ دینا۔  
 حقّانی - (ع۔ ق۔ ا۔ ن) (ع۔ ف۔ ص) حق سے نسبت رکھنے والا۔  
 حقّانیت - (ع۔ ق۔ ا۔ ن) (ع۔ ف۔ ا۔ ص) خدا کی طرف منسوب ہونا۔ سچائی۔ راستی۔ صداقت۔  
 حقّاق - (ع۔ ق۔ ا۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) حقیقت کی جمع۔ حقیقتیں۔ اصل حالات۔ سچی باتیں۔ اصل کیفیت۔  
 حقّضہ - (ع۔ ق۔ ا۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) کسی دوا کی یا پیکاری یا پٹھانے کے مقام میں بڑھانا تاکہ پاخانہ آجائے۔  
 حقّضہ کرنا - پاخانہ آنے کے لیے سزے میں دوا کی پیکاری یا پٹھانا۔  
 حقّوق - (ع۔ ق۔ ا۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) حق کی جمع۔ فرائض۔ ذمہ داریاں۔  
 حقّہ - (ع۔ ق۔ ا۔ ر) (ع۔ ا۔ مذ) ڈیرہ۔ جو اہرات رکھنے کی ڈیریا (۲) تبا کو پینے کا آکر۔ گڑگڑاؤ۔  
 حقّہ باز - (ع۔ ف۔ ص) (ا) بازی گرجھان منی۔ مداری (۲) بہت حقّہ مینے والا۔  
 حقّہ باشد کہ دم بدم باشد - (ع۔ م) مثل) حقّہ مینے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ کہ میراث بعد ادم باشد کس لگایا اور آگے بڑھا دیا نہ کہ باب دارا کی میراث سمجھ کر اکیلے ہی پیتا رہے۔ خود عرض کے متعلق کہنا جاتا ہے۔  
 حقّہ بچانا - (ع۔ محاورہ) کثرت سے حقّہ پینا۔  
 حقّہ بلانا - (ع۔ محاورہ) حقّہ میں سے آواز نکالنا۔  
 حقّہ بھرننا - (ع۔ محاورہ) پلم میں تبا کو جھاڑا رکھنا۔ پینے کے لیے حقّہ تیار کرنا۔  
 حقّہ پانی بند کرنا - (ع۔ محاورہ) ذات برادری سے خارج کرنا۔ تکلیف پہنچانا۔  
 حقّہ پانی پلانا - (ع۔ محاورہ) آؤ بھگت کرنا۔ خاطر تواضع کرنا۔  
 حقّہ تازہ کرنا - (ع۔ محاورہ) حقّہ کا پانی بدلنا اور نیچے کو اور نئے کو تر کرنا۔  
 حقّہ کا پانی اور سو جوتے - (ع۔ م) مثل) ایک قسم کی سزا کوئی بات منوانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ سزا۔  
 حقّہ کی ماری آگ - باقی کا مارا گاؤں - (ع۔ م) مثل) جس آگ میں سے بار بار حقّہ بھرا جائے وہ بجھ جاتی ہے۔ جس گاؤں کی مال گذاری بقایا رہے اور دقت پر ادا نہ ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔  
 حقّیت - (ع۔ ق۔ ا۔ ن) (ع۔ ا۔ ص) حق۔ حق داری۔ ملکیت۔  
 حقّیت اظہاری - (ع۔ ا۔ ص) حق یا دعویٰ کا ثبوت۔  
 حقّیت علمی - (ع۔ ا۔ ص) بڑا۔ جو بڑے دار سے لیا جائے۔  
 حقّیر - (ع۔ ق۔ ا۔ ر) (ع۔ ف۔ ص) چھوٹا۔ ادنیٰ (۲) ذلیل۔ خوار۔ اچھا۔ بے قدر (۳)

حقیقت - رنگ (۴) دُکلا۔  
 حقیقت - (ح-تی-قت) [ح-۱-مٹ] اصل - جڑ - بنیاد (۱۷) اصیت  
 ماہیت (۳) حالت - کیفیت - حال (۴) سہائی - سچ - صداقت (۵)  
 ماجرا - سرگذشت (۶) مجاز کی بند - جمع - حقائق -  
 حقیقت کھل جانا - (۱۱) مجاہدہ - بھید ظاہر ہو جانا - اصل حال معلوم ہو جانا  
 مزہ آ جانا -  
 حقیقت کیا ہے ؟ (۱۱) مجاہدہ - کوئی حیثیت نہیں - ناچیز ہے - کوئی  
 اہمیت نہیں -  
 حقیقت معلوم کرنا - (۱۱) مجاہدہ - اصل حال یا بھید معلوم کرنا -  
 حقیقت میں - اصل میں - واقعی - دراصل -  
 حقیقت نفس الامری - (ح-ف-۱-مٹ) وہ حقیقت جس کو سب  
 تسلیم کرتے ہوں -  
 حقیقت نہ ہونا - (۱۱) مجاہدہ - اصیت نہ ہونا - بے وقعت ہونا -  
 حقیقتاً - (ح-تی-ق-ق-ق) [ح-۱-واقعی] - فی الحقیقت -  
 حقیقی - (ح-تی-تی-ق) [ح-۱-مٹ] اصل - جو بناوٹی نہ ہو - بلا آئینہ (۲)  
 کھرا - صاف - بے تلاوٹ (۳) سگا - اپنا جیسے سگا بھائی -

## ح-ک

حکمت - (ح-۱-۱) مذ - شانہ کھرچنا - چھیلنا - دُکڑنا - دگر - فراش -  
 حُکاک - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - مہر کن - حرف کھودنے والا - ٹیگن ساز -  
 موتی میں چھید کرنے والا -  
 حُکام - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - حاکم کی جمع - حکومت کرنے والے افسران -  
 حکایت - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - کہانی - داستان - بقدرہ - بات - بیان  
 حکایتیں کرنا - (۱۱) مجاہدہ - صحت کی جھٹیں کرنا - دلیلیں چھانڈنا -  
 حکایتاً - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - ذکر کے طور پر - برسیل تذکرہ -  
 حکایتی - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - (۱) صحت - بات بات پر بحث کرنے والا - جوتی -  
 حکم - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - ثالث - مزاج - فیصلہ کرنے والا - منصف -  
 حکم - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - حکمت کی جمع - حکوم - دانائی -  
 حکم - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - فرمان - پروانہ - ارشاد - ہدایت (۲) شرعی فیصلہ - فتویٰ  
 (۳) اجازت - پرمانگی (۴) تماش کے پتوں میں گالے رنگ کے پان کے  
 نشان (۵) سچی - جبر - جمع - احکام -  
 حکم اُتارنا - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - آخری فیصلہ - قطعی فیصلہ -  
 حکم اٹھانا - (۱۱) مجاہدہ - (۱) حکم ماننا - فرمان بجالانا (۲) جھٹنے کے کھیل میں سرکا  
 پتا لینے کے واسطے حکم کا پتا ڈالنا -  
 حکم امتناعی - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - کسی کام سے باز رکھنے کا حکم جو عدالت جاری  
 کرتی ہے -  
 حکم اُتارنا - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - وہ تیرا نماز جس کا نشانہ کہیں نہ پڑے - کہہ کر  
 صبح نشان لگانے والا تیرا نماز -

حکم بجالانا - (۱۱) مجاہدہ - کہنا ماننا - حکم کی تعمیل کرنا -  
 حکم بردار - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - صحت - بات ماننے والا - فرمانبردار - تک حلال -  
 حکم کھینچنا - (۱۱) مجاہدہ - سرکاری طور پر اطلاع دینا - ہدایت کھینچنا -  
 حکم پر چلنا - (۱۱) مجاہدہ - حکم کی تعمیل کرنا - ہدایت کے مطابق کام کرنا -  
 حکم توڑنا - (۱۱) مجاہدہ - حکم نہ ماننا - نافرمانی کرنا -  
 حکم جاری کرنا - (۱۱) مجاہدہ - حکم صادر کرنا - اہتمام دینا - ڈنڈی پٹوانا -  
 حکم چلانا - (۱۱) مجاہدہ - حکومت کرنا - بیٹھے بیٹھے دوسروں سے کام لینا اور  
 خود کام نہ کرنا - سخی کرنا -  
 حکم حاکم مرگِ مفاجات - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - معقولہ - حاکم اچانک جو حکم چاہے دے  
 دیتا ہے اور وہ صحت کی طرح اٹل ہوتا ہے -  
 حکم دینا - (۱۱) مجاہدہ - ارشاد فرمانا - ہدایت دینا (۲) فتویٰ دینا (۳) فیصلہ کرنا  
 (۴) اہتمام دینا (۵) اجازت دینا -  
 حکم رال - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - حکم چلانے والا - بادشاہ - فرمانروا -  
 حکم رانی - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - امرش - فرمانروائی - حکومت - بادشاہی - سلطنت -  
 حکم شرعی - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - وہ حکم جو شرع اسلامی کے مطابق دیا جائے -  
 حکم ظہری - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - وہ حکم جو کسی ریپورٹ یا درخواست کی پشت پر  
 لکھا جائے -  
 حکم قطعی - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - آخری فیصلہ - حکم ناطق -  
 حکم اگشتی - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - سرکاری مراسلہ - وہ حکم جو مختلف دستوں کو  
 بھیجا جائے ہر جگہ -  
 حکم لگانا - پختہ رائے کا ہر کرنا - دعوے جمانا (۲) قانونی دفعہ لگانا -  
 حکم مطلق - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - حکم قطعی (۲) عام حکم -  
 حکم ناطق - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - قطعی حکم - آخری فیصلہ - اٹل فیصلہ -  
 حکم نامہ - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - وہ حکم جو کسی با اختیار حاکم کی طرف سے لکھا جائے  
 تحریری حکم - فرمان -  
 حکمنا - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - حکم کی جمع - دانالوگ - فلسفی -  
 حکمنا - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - حکم کے مطابق - حکم سے -  
 حکمت - (ح-ک-ک) [ح-۱-۱] مذ - (۱) ارشاد - دانائی - عقل - (۲) ہر چیز کی حقیقت -  
 دریافت کرنے کا علم (۳) تدبیر - ترکیب (۴) علاج معالجہ (۵) مطلب -  
 حکمت آمیز - حکمت سے بھرا ہوا - حائقنا -  
 حکمت الہی - اللہ کی مرضی -  
 حکمت بر لہقان اکو سخن - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - داناکو دانائی سکھانا - فضول  
 بات کرنا -  
 حکمت چلنا - (۱۱) مجاہدہ - چالاک کی کامیاب ہونا -  
 حکمت چین و جنت بنگالہ - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - عقل - تمدنی اور دانائی ہیں سے  
 اور بھگواناد بنگال سے منسوب ہے -  
 حکمت عملی - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - (۱) تدبیر - ہوشیاری - دُور اندیشی - پالیسی - عملی  
 مصلحت - چل بل -  
 حکمت مدنی - (ح-۱-۱) [ح-۱-۱] مذ - شہری انتظام کے قوانین - انتظام شہری -  
 حکمت مگرنا - (۱۱) مجاہدہ - (۱) طبابت کرنا (۲) تدبیر کرنا - دانائی کرنا -

حکمتی (حک۔م۔ق) (۱) [ارصفت] (۱) چالاک۔ ہوشیار (۲) فلسفی۔

حکمی (حک۔جی۔ع۔ف۔صفت) (۱) یعنی (۲) بے خطا (۳) فرمانبردار (۴) شرعی۔ ضروری۔ (۵) ہمیشہ۔

حکومت (ح۔ج۔کو۔صفت) (ع۔۱۔مٹ) ملک کا انتظام کرنے والا ادارہ۔ راج فرماں رواں سلطنت۔ حکمرانی (۲) سختی۔ زبردستی (۳) اختیار۔

حکومت آزاد (ح۔ف۔ن۔مٹ) خود مختار حکومت۔

حکومت آمرانہ (ح۔ف۔ن۔۱۔مٹ) شخصی حکومت۔ ایک شخص کی حکومت۔

حکومت آمرانی (ح۔ف۔ن۔مٹ) امیر لوگوں کی حکومت۔

حکومت جتنا (ح۔۱۔مٹ) رعب ڈالنا۔ تندی دکھانا۔

حکومت چھوڑی۔ کسی ملک کے بالغ باشندوں کی رائے سے چینی ہوئی حکومت عوام کی منتخب حکومت۔

حکومت خود اختیاری (ح۔ف۔ن۔۱۔مٹ) وہ حکومت جو خود مختار ہو۔

آزاد حکومت۔

حکومت شخصی (ح۔ف۔ن۔۱۔مٹ) ایک شخص کی مطلق العنان حکومت۔

حکیم (ح۔کیم) (ع۔۱۔نڈ) (۱) دانہ۔ عقلمند۔ ہوشیار (۲) فلسفی (۳) طبیب۔ دید۔ جمع: حکماء۔

حکیمی (ح۔کی۔می) (۱) [ار۔۱۔مٹ] طبابت۔ حکیم کا پیشہ۔

حلال میں حرکت تمام میں برکت۔ (مثل) دیانتدار تکلیف اٹھاتے ہیں بے ایمان مزے اڑاتے ہیں۔

حلالہ (ح۔ج۔لا۔نڈ) (ع۔۱۔مٹ) طلاق دی ہوئی عورت کا عارضی نکاح کرنا تاکہ دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے بعد اپنے پہلے خاوند سے پھر نکاح کر سکے۔

حلالوت (ح۔ج۔لا۔وت) (ع۔۱۔مٹ) [مٹاس۔ شیرینی۔ پکتے پھل کی مٹاس (۲) لذت۔ مزہ۔ ذائقہ (۳) راحت۔ آرام۔ سیکھ۔

حلیت (ح۔ل۔ت) (ع۔۱۔مٹ) حلال ہونا۔ روا ہونا۔ مجاہد ہونا۔ حرمت کی ضد۔

حلیجان (ح۔ل۔جان) (ار۔۱۔مٹ) شادی کے بعد بی بی کا مہاوں سے پیسے جمع کر کے ان کی دعوت کرنا۔

حلیف (ح۔ل۔ف) (ع۔۱۔نڈ) قسم کھانا۔ قسم۔ عہد۔ پیمان۔ جمع: حلیفات

حلیف اٹھانا۔ (۱) معاہدہ۔ قسم کھانا۔ قرآن اٹھانا۔ مذہبی کتاب کی قسم کھانا۔

حلیف دروغی (ح۔ف۔ن۔۱۔نڈ) جھوٹی قسم کھانا۔

حلیف دینا۔ (۱) معاہدہ۔ قسم دینا۔ قرآن اٹھانا۔

حلیف منصب (ح۔ف۔ن۔۱۔نڈ) کسی عہدے کا چارج لینے وقت ادائیگی فرض کا عہد کرنا۔

حلیف نامہ (ح۔ف۔ن۔۱۔نڈ) لکھا ہوا صلیبی بیان۔

حلیف (ح۔ل۔ف) (ع۔۱۔مٹ) قسم۔ از روئے قسم۔

حلیفانہ (ح۔ل۔ف) (ع۔۱۔مٹ) دوست۔ ساتھی۔

حلیفی بیان۔ حلیفہ بیان (ح۔ف۔ن۔۱۔نڈ) قسم کھا کر دیا ہوا بیان۔

حلق (ح۔ل۔ق) (ع۔۱۔نڈ) گلا۔ سینٹھا (۲) ناز گردن (۳) منہ۔ زبان۔

حلق بند کرنا۔ (۱) معاہدہ) خاموش رہنا۔ زبان بندی کرنا۔

حلق پر چھری پھیرنا۔ (۱) معاہدہ) ذبح کرنا۔ حلال کرنا (۲) ظلم کرنا۔ جبر کرنا۔

ستر کرنا (۳) کسی کا حق مار لینا۔ سخت نقصان پہنچانا۔

حلق تنگ بھرنا۔ (۱) معاہدہ) بہت کھا لینا۔ بھوک سے زیادہ کھانا پینا۔

حلق خشک ہونا۔ (۱) معاہدہ) گلاسٹھ جانا۔ گھبرا جانا۔ ڈر جانا۔ پیاس لگنا۔

حلق دبانا۔ (۱) معاہدہ) گلا دبانا۔ بولنے سے زبردستی روک دینا۔ گلا گھونٹنا۔

حلق سے اترنا۔ گلے سے نیچے جانا۔ گوارا ہونا۔

حلق سے نکلنے حلق میں پڑی (۱) [دیش] بات مزے سے بھلی اور مشہور ہونی۔

حلق کا دربان (ح۔۱۔نڈ) وہ شخص جو کھانے پینے سے روکے۔ وہ شخص جو کھانے پینے کے وقت موجود ہو (۲) وہ شخص جو بات بات پر ٹوٹے۔

حلق کا نہ تالو کا۔ یہ مال میاں لالو کا۔ [دیش] جو چیز استعمال نہ کی جائے بلکہ ضائع جائے (۲) بدترین آدمی کے بدترینی سے کھانے کے وقت بھی ہوتے ہیں۔

حلق میں پانی چرانا۔ (۱) معاہدہ) حلق میں پانی پینا۔

حلق میں نوالہ پھینکا یا اٹھنا۔ (۱) معاہدہ) اچھی چیز کھاتے وقت اپنے عزیز یا دوست کا یاد آ جانا۔ گلے سے اترنا۔

حلقوم (ح۔ل۔ق) (ع۔۱۔نڈ) گلا۔ سینٹھا۔ ناز۔ زخروہ۔ سینے اور گلے کے بیچ کا کڑھا۔

## ح۔ل

حَل (ح۔ل) (ع۔۱۔نڈ) کھولنا۔ جھڈے کٹائی۔ انکشاف۔ مشکل کام کو آسان کرنا۔ سلجھاؤ۔ (۲) تحلیل ہونا۔ گھٹنا۔ بلنا (۳) حساب کے سوال کا عمل۔

حَل پذیر (ح۔ل۔ف۔ن۔۱۔مٹ) حل ہو جانے والا۔ کھل جانے والا۔

حَل پذیر (ح۔ل۔ف۔ن۔۱۔مٹ) کسی مادے کے گھٹنے کی صلاحیت۔

حَل کاری (ح۔ل۔ف۔ن۔۱۔مٹ) کتب سازی۔ سونے چاندی کو پگھلا کر پھول پتے بنانا۔

حَل کرنا۔ (۱) معاہدہ) سلجھانا۔ کھولنا۔ آسان کرنا (۲) اجزا اور اجلیوہ کرنا (۳) بلانا۔ پینا (۴) حساب کا سوال نکالنا۔ معترض یا پہیلی پر گھبنا (۵) طبع کرنا۔ (ق)

حَل و عقد (ح۔ل۔ع۔۱۔نڈ) کھولنا یا بندھنا۔ انضمام۔ لگانا اور برطرف کرنا۔ اُدھیر بن

حَلّاج (ح۔ل۔لاج) (ع۔۱۔نڈ) ڈھینا۔ روٹی دھینے والا۔ منصور کا لقب۔

حَلّات (ح۔ل۔مہا۔لفظ) تھیں اٹھانے کا عادی۔

حَلّاق (ح۔ل۔نڈ) بال مونڈنے والا۔ نانی۔ حجام۔

حَلّال (ح۔ل۔لال) (ع۔۱۔مٹ) حرام کی ضد۔ مجاہد۔ درست (۲) ذبح کیا ہوا۔ ذبح (۳) شرح کے مطابق۔

حَلّال خور (ح۔ل۔ف۔ن۔۱۔مٹ) جائز روزی کھانے والا۔ خاکروب۔ مہتر۔ بھنگی۔

حَلّال کا (ح۔ل۔۱۔مٹ) وہ بچہ جو نکاحی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو۔

حَلّال کرنا۔ (۱) معاہدہ) شریعت کے مطابق ذبح کرنا۔ بُری طرح مارنا پیننا۔

(۳) قتل کرنا۔ کاشا (۴) جائز قرار دینا۔

حَلّال کر کے کھانا۔ (۱) معاہدہ) سخت کر کے کھانا۔ جائز کمانی کرنا۔





جنائی کاغذ۔ (ف۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا کاغذ جس کا رنگ جنا کے پھیکے اور بکے رنگ سے ملتا ہے۔

حنبل۔ (م۔ ب۔ لی۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) امام حنبل کا پیر۔  
حنان۔ (ح۔ ن۔ نان۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) بے حد رحمت والا بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔

خخخ۔ (ح۔ ن۔ ج۔ زہ۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) زخروہ۔ معلق۔ گھو۔  
خنظل۔ (ح۔ ن۔ ظن۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) اندرائں کا پھیل جو صفت کڑوا ہوتا ہے۔ (پ۔ نمان۔)

خفتا۔ (ذ۔ ح۔ مینف کی جمع۔ حضرت ابراہیمؑ کے مذہب کے پیرو لوگ۔  
خفتی۔ (ح۔ ن۔ فی۔ ذ۔ ح۔ صفت) کسی مسلمانوں کی وہ جماعت جو امام ابوحنیفہ کی پیروی ہے۔ عقلی معنی۔ صادق۔ سچا۔ جمع احناف۔ حنفیہ۔

خٹوٹ۔ (ح۔ ن۔ ٹوٹ۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب جو مرے کوشل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں۔

خنیف۔ (ح۔ ن۔ بنف۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) حضرت ابراہیمؑ کے دین کا ماننے والا۔ (۲) پکا مسلمان (۳) مذہبی عقیدے کا پختہ۔ دین میں سچا (۴) پکا۔ صادق۔ حضرت ابراہیمؑ کا لقب۔ جمع احنفاء۔

## ح۔ و

خوا۔ (ح۔ و۔ وا۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) باوا آدم کی بیوی کا نام۔ سب انسانوں کی ماں۔  
خواجہ۔ (ح۔ و۔ وا۔ جب۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) حاجب کی جمع۔ دربان۔

خوارش۔ (ح۔ و۔ وا۔ ش۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) حادثہ کی جمع۔ مصیبتیں۔ تکلیفیں۔ حادثے  
خواری۔ (ح۔ و۔ وا۔ ری۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) حضرت عیسیٰ کے اصحاب (۲) حضرت مسیح کے شاگرد جو تعداد میں بارہ تھے۔ (۳) دفا داری سے کام کرنے والے (۴) دوست۔ مددگار (۵) بزرگیدہ۔

خواس۔ (ح۔ و۔ واس۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) وہ وقت جس سے ادراک ہوتا ہے (۲) ہوش۔ اوسان۔ عقل۔ سمجھ۔ عاقلہ کی جمع۔

خواس باختمہ۔ (ح۔ و۔ ف۔ صفت) بے اوسان۔ گھبرایا ہوا۔ غبوظ الحواس ہنگام بگا۔

خواس پر سے صدقہ دینا۔ (ا۔ مادورہ) ہوش درست کرنا۔ عقل کی خبر لینا۔ عقل کے ناخن لینا۔

خواس جانا۔ (ا۔ مادورہ) اوسان نہ رہنا۔ گھبرانا۔  
خواس خمسہ۔ (ح۔ و۔ وا۔ ح۔ ا۔ مذ) پانچ خواس دیکھنے۔ سنے۔ سو گھنے۔ چکھنے اور چھونے کی پانچ قوتیں۔

خواس میں اگر بات کرو۔ (ا۔ مادورہ) نامعقول بات مت کرو۔  
خواسی۔ (ح۔ و۔ وا۔ شی۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) حاشیہ کی جمع۔ کنارے (۲) مصاحب۔ ہم نشین۔ یادداشتیں۔ جو کتاب کے حاشیے پر لکھی جائیں۔

خواسل۔ (ح۔ و۔ واسل۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) ایک سفید آبی پندہ۔ ماہی خور (۲) حوصلہ کی جمع۔ پوٹے۔ پرندوں کے معدے (۳) ذخیرہ۔ میگزین۔

جہانتی۔ (ح۔ با۔ ہی۔ تی۔ ذ۔ ح۔ ف۔ صفت) طرفداری۔ حامی۔ معاون۔ مددگار۔  
جہانتی کا ٹھکانا۔ (ا۔ مادورہ) دوسرے کے بل پر کوڑنے والا۔ کسی کی مدد پر کام کرنے والا۔

جہانتی کی گھوڑی عراقی کے لات مارتی ہے۔ (۱) مثل جس کا کوئی مددگار ہو وہ اسے ہونے کے باوجود بڑوں کا سامنا کر بیٹھتا ہے۔

حمد۔ (ذ۔ ح۔ ا۔ مٹ) خدا کی تعریف۔  
چمرا۔ (ح۔ م۔ را۔ ذ۔ ح۔ صفت) سرخ رنگ کی۔

چمن۔ (ح۔ م۔ ن۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) بے وقوفی۔ نادانی۔  
چمقا۔ (ح۔ م۔ قا۔ ذ۔ ح۔ صفت) احمق کی جمع۔ بیوقوف۔

حمل۔ (ذ۔ ح۔ ا۔ مذ) (۱) بوجھ (۲) پیٹ۔ گرجہ (۳) عورت کے پیٹ میں جو بیٹہ ہو۔

حمل اسقاط (اسقاط) ہوتا۔ (ا۔ مادورہ) پیٹ گرنا۔ قبل از وقت بچے کا دم سے نکل جانا۔

حمل بھرتا۔ حمل رہنا۔ حمل ہو جانا۔ (ا۔ مادورہ) عورت کے دم میں نطفہ پر لڑکر بچہ جانا۔

حمل گرانا۔ پیٹ گرانا۔ اسقاط کرنا۔ مہضہ کا قبل از وقت پیٹ سے نکال دینا  
حمل۔ (ح۔ ا۔ مذ) آسمان کا پہلا برج جس کی شکل مینڈھے کی ہے۔

حملہ مرحوم۔ (ح۔ ا۔ مذ) پڑھائی۔ بیورش۔ ہلہ۔ بھادا (۲) وار۔ حربہ۔ چوٹ۔  
حملہ آرد۔ (ح۔ و۔ ف۔ صفت) پڑھ کر آنے والا۔ حملہ کرنے والا۔

حقوق۔ (ح۔ و۔ مٹ) کھٹائی۔ تڑسی۔ کڑواہٹ۔  
حقوق۔ (ح۔ و۔ مذ) انعام بنانی میں رکھنے کی دوا۔

حقیقت۔ (ح۔ بی۔ یت۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مٹ) عزت۔ شرم۔ ننگ۔  
حقیقہ۔ (ح۔ بی۔ ذ۔ ح۔ صفت) تعریف کیا ہوا (۲) خدا کا ایک صفاتی نام۔

حقیقہ۔ (ح۔ بی۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مٹ) سرخ رنگ کی۔  
حقیقہ۔ (ح۔ بی۔ ذ۔ ح۔ صفت) گرم پانی (۲) دوست۔ رشتہ دار (۳) موسم گرما

کا درمیانی حصہ (۴) گرمیوں کی بارش (۵) وہ گرم پانی جو دوزخیوں کو پلا یا بجائے گا۔

## ح۔ ن

حنا۔ (ح۔ نا۔ ذ۔ ح۔ ا۔ مٹ) ہندی۔  
حنانہ۔ وہ کاغذ جس میں ہندی کی پڑیاں باندھتے ہیں (۲) ہندی لگا ہوا۔

حنانہ ہندی۔ شادی کی ایک رسم جو سچے سے ایک دن پہلے عمل میں آتی ہے اسے ہندی بھی کہتے ہیں (۲) ہندی لگانا۔

حنا کا چور۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ جگہ جہاں ہندی کا رنگ نہ پڑے۔ لائقہ کا وہ سفید حصہ جہاں ہندی نہ لگی ہو۔

حنائی۔ (ح۔ نا۔ ای۔ ذ۔ ح۔ صفت) گیرما۔ نزدیکی۔ سرخ رنگ۔ ہندی کے رنگ کا۔



کمانے کے لیے کچھ کام کرنا۔  
 چیلے رزق بہانے موت۔ (مثل) رزق کوئی نہ کوئی کام کرنے سے  
 ملتا ہے۔ موت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔  
 حین - (ع-۱-۱) مذ [ وقت - زمانہ - عرصہ -  
 حین حیات - (ع-۱-۱) صفت [ عمر بھر - تابہ زندگی - جب تک زندہ ہے -  
 بیٹے جی۔  
 حیوان - (ع-۱-۱) مذ [ جاندار - ذی رُوح (۲) مویشی - چوپایہ (۳)  
 نادان - بے وقوف - وحشی - جمع : حیوانات۔  
 حیوان مطلق - (ع-۱-۱) مذ [ جانور - بے سلیقہ - بدتمیز - بالکل گزار۔  
 حیوان ناطق - (ع-۱-۱) مذ [ بولنے والا جانور یعنی انسان۔  
 حیوانی - (ع-۱-۱) مذ [ صفت [ انسانی کا ہند حیوان سے منسوب (۲) انسانی شرابی  
 حیوانیات - (ع-۱-۱) مذ [ آنت (ع-۱-۱) صفت [ جانوروں کی تاریخ - جسم کی  
 ساخت اور عادات و اطوار کا علم - (انگ) (Zoology)  
 حیوانیت - (ع-۱-۱) مذ [ آنت (ع-۱-۱) صفت [ حیوان کی خاصیت - بے شری  
 بے حیائی - بے وقوفی۔  
 حی علی الصلوٰۃ - اذان کا ایک حصہ - نماز کے لیے جلدی آؤ۔  
 حق و قیوم لایموت - (ع-۱-۱) مذ [ قائم رہنے والا - نذر نے والا - خدا تعالیٰ  
 کی صفت۔

حیرت زدہ - (ع-۱-۱) صفت [ حیران - بھونچکا - حیرت کا مارا ہوا۔  
 حیض بیض - (ع-۱-۱) صفت [ بیض - (ع-۱-۱) صفت [ شور و غوغا - تکرار - لڑائی جھگڑا۔  
 حیض - (ع-۱-۱) مذ [ وہ خون جو عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے - ماہواری۔  
 حیض سے پاک ہونا - (ع-۱-۱) صفت [ عورت کا حیض سے فارغ ہو کر نہانا۔  
 حیض سے ہونا - (ع-۱-۱) صفت [ ماہواری ہونا - حیض کا خون آنا۔  
 حیض کا لنتہ - (ع-۱-۱) مذ [ حیض کی گندی - وہ کپڑا جس سے خون حیض صاف  
 کریں (۲) ذیل - قابلِ لغزت شخص۔  
 حیضی بچہ - (ع-۱-۱) صفت [ بچہ [ وڑ - صفت [ حرامی - ولد اکرم (۲) شریہ۔  
 حیضہ - (ع-۱-۱) صفت [ چار دیواری - احاطہ۔  
 حیض - (ع-۱-۱) مذ [ دریغ - انوس - ہائے [ ظلم و ستم - جبر - تعدی۔  
 حیضی - (ع-۱-۱) مذ [ حق - (ع-۱-۱) صفت [ رنج - انوس۔  
 حیضی کھانا - (ع-۱-۱) صفت [ آسٹ - کھانا - پشیمان ہونا (ع-۱-۱)  
 حیل - (ع-۱-۱) مذ [ حیل کی جمع - بہانے۔  
 حیلہ - (ع-۱-۱) مذ [ بہانہ - فریب - دھوکا - مکر (۲) روزگار - کام - نوکری۔  
 حیلہ باز - حیلہ ساز - حیلہ گر - حیلہ جو - (ع-۱-۱) صفت [ مکار - فریبی۔  
 دغا باز - کام چور۔  
 حیلہ خوالہ - مال منول - ریت و لعل - ہیرا پیری۔  
 حیلہ کرنا - (ع-۱-۱) صفت [ بہانہ کرنا - فریب کرنا (۲) روزگار کرنا - نوکر ہونا - روزی

## خ

خ اٹھے [ع۔ مؤنث] (۱) اُردو کا دسواں۔ فارسی کا نوں۔ عربی کا ساتواں حرف۔ (۲) حساب الجہد میں اس کے پھر سو عدد مقرر ہیں۔ حلقی حرف ہونے کی وجہ سے اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے۔ علم نجوم میں یہ سیارۃ مریخ کی علامت ہے۔ یہ قمری حرف ہے اس سے پہلے ال "اٹھے تو آواز دے گا

## خ-۱

خار نشینت اف۔ ۱۔ (۱) ساہی ایک جنگلی جانور جسم کے جسم پر لیے لپے کانٹے ہوتے ہیں۔ خاردار جنگلی چروا۔

خار خار۔ اف۔ (۱) صفت (۱) سپے چینی۔ پریشانی۔ بیگی۔ ریخ۔ رشک یا حسد کے موقع پر آتا ہے (۲) [صفت] بکثرت۔

خار دار اف۔ (صفت) کانٹوں والا (۲) ڈھنگی والا۔ وہ لڑکاس کے ڈارھی نکل آئے۔

خار دینا (۱) محاورہ) ریخ دینا۔ ستانا۔ تکلیف پہنچانا۔ ایذا دینا۔

خار ناز۔ خار نشان (اف) ۱۔ (۲) کانٹوں کا جنگل۔

خار کش اف۔ ۱۔ (۲) کھڑا بار۔

خار کھانا (۱) محاورہ) حسد کرنا۔ جلنا۔ دشمنی کرنا۔

خار گزرنانا۔ خار لگنا۔ خار معلوم ہونا۔ خار ہونا (۱) محاورہ) بڑا لگنا۔ کھٹنا ناگوار ہونا۔

خار ماہی (اف) ۱۔ (۲) مچھلی کا کاٹا

خار مقعداں (اف) ۱۔ (۲) بول یا کیکر کا کاٹا

خار نکالنا (۱) محاورہ) عداوت پوری کرنا۔ انتقام لینا

خار و خاشاک (اف) ۱۔ (۲) کانٹا اور گھاس کوٹا کر کرٹ پکڑا

خار وطن از سنبل و دیگران خوشتر اف۔ مثل (۱) اچھوٹن کے کانٹے بھی دوسری جگہ کے پھولوں سے بہتر ہوتے ہیں۔

خار ہونا (۱) محاورہ) ناگوار گزرنانا۔ بڑا معلوم ہونا (۲) حسد ہونا۔ جلن ہونا رشک ہونا۔

خارا اف۔ ۱۔ (۲) سخت پتھر۔ نیلا پتھر

خارا تراش اف۔ ۱۔ (۲) صفت) پتھر کاٹنے والا۔ سنگ تراش۔

خارا شگاف اف۔ (صفت) پتھر میں شگاف ڈالنے والا۔

خارخ (خاروخ) (ع۔ صفت) نکالا ہوا۔ علیحدہ۔ باہر نکالا ہوا (۲) کافر تند

خارخ آہنگ اف۔ (صفت) اے سر

خارج از بحث اف۔ ۱۔ (۲) جس کا بحث سے تعلق نہ ہو۔ بحث سے الگ (۲) جملہ معترضہ۔ فضول بات۔

خارج از عقل (ع۔ ف۔ صفت) ۱۱۱ عقل کے خلاف۔ بعید از عقل (۲) (صفت) احمق۔ گاؤری۔

خارج قسمت (ع۔ ۱۔ (۲) دادہ عدد جو مقسوم کو مقسوم علیہ پر تقسیم کرنے سے حاصل ہو۔ حاصل قسمت۔

خارج کرنا۔ (مص۔ مرکب) (۱) نکالنا۔ باہر نکالنا۔ علیحدہ کرنا (۲) مقدمہ کے دعوت کو رد کر دینا۔

خارج ہونا۔ (مص۔ مرکب) نکالنا۔ باہر ہونا۔ جدا ہونا (۲) مقدمہ کو پس ہونا

خاتم (خ۔ ع۔ صفت) ختم کرنے والا۔ اخیر یا انجام کو پہنچانے والا۔ جمع خواتم خاتم الانبیاء۔ خاتم المرسلین۔ خاتم النبیین۔ تمام نبیوں کی نبوت ختم کرنے والے۔ آخری پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم (خ۔ ع۔ صفت) (۱) [صفت] (۱) انگوٹھی۔ انگشتری (۲) چھاپ۔ مجموعہ خواتم خاتم الانبیاء۔ خاتم النبیین (ع۔ ۱۔ (۲) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔ کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نبوت کے اختتام پر عمر کی حیثیت رکھتے ہیں خاتم بندی۔ خاتم کاری (ع۔ ف۔ ۱۔ (۲) صفت) احمق دانست۔ ہشی یا کھڑی پیر پھول پتی بنانے کا فن۔

خاتم سلیمان (ع۔ ف۔ ۱۔ (۲) حضرت سلیمان کی انگوٹھی جس پر کہتے ہیں کہ یا کم اعظم لکھا ہوا تھا اور اس کے باعث تمام مخلوقات آپ کی مطیع تھیں۔ خاتمہ احاطت۔ (ع۔ ۱۔ (۲) [صفت] (۱) انجام۔ عاقبت۔ اخیر۔ تعمیر (۲) موت و رحلت۔ انتقال (۳) وہ عبارت جو اختتام پر لکھی جاتی ہے۔

خاتمہ بالآخر (ع۔ ۱۔ (۲) نیک انجام (۲) اخیر وقت ایمان کی سلامتی اور زیندارگی کے ساتھ گزرنانا۔ کلمتہ مرجعانا۔

خاتمہ ہونا۔ (۱) انجام کو پہنچنا۔ تمام ہونا۔ پورا ہونا (۲) فوت ہونا۔ گزر جانا۔

خاتون (خ۔ ف۔ ۱۔ (۲) صفت) بیوی۔ امیرزادی۔ معزز عورت۔ بیگم جمع خواتین۔

خاتون جنت اف۔ ۱۔ (۲) صفت) جنت کی شہزادی۔ حضرت فاطمہ زہرا کا لقب خاتون عرب (ع۔ ۱۔ (۲) لقب حضرت فاطمہ زہرا (۲) لقب خاتون ملک (ع۔ ۱۔ (۲) صفت) آسمان کی شہزادی (۱) چاند (۲) زہرہ (۳) نامید۔

خادم (خ۔ ع۔ ۱۔ (۲) خدمت کرنے والا۔ نوکر۔ ملازم۔ انکسار کے طور پر اپنے لیے بھی کہا جاتا ہے۔

خادم درگاہ (ع۔ ۱۔ (۲) کسی درگاہ کی خدمت کرنے والا۔ محاورہ۔ خادمان اعلیٰ۔ (ع۔ ۱۔ (۲) صفت) خادم کی ماہر۔ خادمہ۔ (ع۔ ۱۔ (۲) صفت) خادم کی ماہر۔

خادمہ۔ (ع۔ ۱۔ (۲) صفت) خادم کی تائینت۔ جمع خادوات خازن (ع۔ ۱۔ (۲) کانٹا۔ چھانسی (۲) مریخ کے پاؤں کا کاٹا جو مٹنے کے ابھر ہوتا ہے (۲) حسد۔ رشک۔ جلن (۲) ڈارھی کے سخت بال۔

خار بست۔ خار بند اف۔ ۱۔ (۲) کانٹوں کی بارش۔



خاطر خواہ (ف-صف) موافق طبع حسب مرضی۔ حسب منشا۔ خواہش کے مطابق۔

خاطر داری (ع-ف-۱)۔ مٹا (ق)۔ تواضع۔ مدارات۔ جہان نوازی۔ اڈ بھگت خاطر وادشتی (ع-ف-۱)۔ مٹا (ق)۔ خاطر مدارات۔

خاطر سے (ع-۱۱)۔ محاذ سے۔ پاس سے۔

خاطر خاطر (ع-ف-۱)۔ مٹا (ق)۔ پاکیزہ طبیعت

خاطر کرنا (۱)۔ محاورہ اڈ بھگت کرنا۔ جہان نوازی کرنا (۲)۔ دل جوئی کرنا۔

خاطر کی لینا (۱)۔ محاورہ اطر داری کرنا۔

خاطر مدارات (ع-ف-۱)۔ مٹا (ق)۔ جھگت۔ جہان نوازی۔

خاطر میں کرنا (۱)۔ محاورہ اخیال میں آنا۔ عزت ہونا۔

خاطر میں رکھنا (۱)۔ محاورہ ادھیان رکھنا خیال رکھنا۔

خاطر میں گزرنے (۱)۔ محاورہ دل میں خیال گزرنے۔ خیال گزرنے۔

خاطر میں نہ لانا (۱)۔ محاورہ اخیال نہ کرنا۔ عزت نہ کرنا۔ بات نہ پوچھنا۔ پرواہ نہ کرنا۔

خاطر نشان ہونا (۱)۔ محاورہ بات کا دل میں بیٹھ جانا

خاطر کشین (ع-ف-۱)۔ صف (دل میں اترنے والی)۔ ذہن نشین۔ جو دل میں بیٹھ جائے (۲)۔ کنایت پسندیدہ۔ پیارا۔

خاطر ہونا (۱)۔ محاورہ اڈ بھگت ہونا۔ مدارات ہونا۔

خاطر اُٹا۔ (ط-رن) [ع-صف] (۱)۔ دل سے (۲)۔ کسی کا لحاظ کرتے ہوئے۔ پاس کرتے ہوئے۔

خاطفت (خا-طفت) (ع-صف) [اچکے جانے والا۔ چھین لینے والا۔ بجلی کی صفت۔

خاجی (خا-طی) (ع-صف) [گنا بگار۔ خطا کا۔ پاپی۔ مجرم

خانی (خا-نی) (ع-صف) [پوشیدہ۔ چھپا ہوا۔ خفیہ۔

خانان (خا-قان) (ت-۱)۔ [مذ] سلطان۔ بڑا بادشاہ۔ چین اور تانستان کے سابق بادشاہوں کا لقب۔

خاقانی (خا-قانی) (ت-۱)۔ [ت-صف] داؤد (۱)۔ شاہی (۲)۔ ایران کے ایک مشہور نقیدہ گو شاعر کا تخلص۔

خاک (ت-۱)۔ مٹا (۱)۔ مٹی۔ دھول (۲)۔ زمین۔ دھرتی (۳)۔ کچھ۔ ذرا۔ (۴)۔ کچھ نہیں۔ بالکل نہیں (۵)۔ راکھ بھجھوت (۶)۔ کیونکر۔ کس طرح۔

خاک آلودہ (ت-صف) [مٹی سے بھرا ہوا۔

خاک اڑانا (۱)۔ محاورہ اگرد اڑانا (۲)۔ بدنام کرنا۔ (۳)۔ آوارہ پھرنا۔

خاک اڑنا (۱)۔ محاورہ اڈھول اڑنا۔ گرد اڑنا۔ (۲)۔ اڑسوا ہونا۔ مٹی پلید ہونا (۳)۔ تباہ ہونا۔ برباد ہونا۔ کچھ نہ رہنا (۴)۔ پریشان نظر آنا۔ رونق نہ ہونا۔

خاک انداز (ت-۱)۔ [مذ] کوڑا کرکٹ ڈکنے کا بہترین (۲)۔ قلعہ یا مکان میں وہ سوراخ جس سے کوڑا کرکٹ پھینکنے میں بادشمن پر تیر یا پتھر برساتے ہیں۔ یا بندوق چلائے ہیں۔ (۳)۔ بھادڑا۔ بیلچہ (۴)۔ نیچے کا حاشیہ (۵)۔ آدہ۔

کرتن جس سے چوٹھ کی راکھ نکالتے ہیں۔

خاک ایسی زندگی پر (۱)۔ مثل (جب زندگی برسے حالوں گزر رہی ہو تو اس موقع پر بولتے ہیں۔ تعف ہے ایسے جینے پر خاکباز (ت-۱)۔ صف) کھلندڑا۔

خاکبازی (ت-۱)۔ مٹا (مٹی سے کھیلنا۔ ایک دوسرے پر خاک ڈالنا۔

خاک بر زمین (ت-۱)۔ مٹا (مٹی میں خاک۔ مٹے سے بڑی بات نکالنے پر کہتے ہیں

خاک برسنا (۱)۔ محاورہ اڈھول اڑنا۔ گرد اڑنا (۲)۔ دیرانی برسنا۔ بے وقتی ہونا

خاک کسہ (ت-صف) [پریشاں حال۔ غراب و خستہ

خاک پاؤں (ت-صف) [پاؤں کے پچھے کی مٹی (۲)۔ نہایت خفیہ چیز۔ عاجز مسکین۔

خاک بھانگنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آوارہ پھرنا۔ (۲)۔ جھوٹ لونا (۳)۔ ہتھان لگانا۔

خاک توہ (ت-۱)۔ [مذ] نشانہ لگانے کا مٹی کا ڈھیر۔ آماجگاہ۔ چاند ماری کی دیوار

خاک چھڑھنا (۱)۔ محاورہ مار پیٹ کا کوئی اثر نہ ہونا۔

خاک جھونکنا (۱)۔ محاورہ اڈھول دینا۔ خاک ڈالنا۔

خاک جاٹ کر بات کہنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ گرد گڑا کر لونا۔ مجر و انکسار سے بچ کر کہنا۔ دعوے کی بات کو مجر کے ساتھ ظاہر کرنا۔

خاک جاشا (۱)۔ محاورہ (عج)۔ و انکسار کا اظہار کرنا۔

خاک چھٹانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آوارہ پھرنا۔ سرگرداں پھرنا (۲)۔ تباہ و برباد ہونا (۳)۔ خوب تلاش کرنا۔

خاک دان (ت-۱)۔ مٹا (مٹی اور کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ (۲)۔ راکھ ان (۳)۔ ادنیٰ۔

خاک اڈھول (۱)۔ مٹا (۱)۔ کچھ نہیں۔ (۲)۔ گھٹیا اور بے کار چیز

خاک ڈالنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ رفع دفع کرنا۔ لعنت بھیجنا۔ چھوڑنا (۲)۔ کنایت عیب پوشی کرنا۔

خاک ڈالے چاند نہیں پھینچتا (۱)۔ مثل (بڑائی کرنے سے کسی کی خوبی نہیں

خاک راہ (۱)۔ مٹا (ذیل)۔ خفیہ۔ تیرج۔

خاک روپ (ت-۱)۔ [مذ] اہمتر۔ بھگتی۔ حلال خور

خاک سار (ت-صف) [مثل] خاک۔ فروتن۔ عاجز۔ متکلم اپنے لیے اظہار فروتنی کے واسطے استعمال کرتا ہے (۲)۔ علامہ مشرقی کی قائم کردہ ایک سیاسی جماعت۔

خاک ساری (ت-صف) [فروتی]۔ عاجز۔ انکسار۔ عاجزی۔

خاک سیاہ ہو جانا (۱)۔ محاورہ اجل کرنا کہ ہو جانا۔ تباہ و برباد ہو جانا۔

خاک تیسے پاک کرنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ ادنیٰ رتبے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچانا۔

خاک شفا (ت-۱)۔ مٹا (۱)۔ شفا بخشنے اور تندرست کردینے والی مٹی (۲)۔ کرلا کی خاک۔ ملکہ معطل اور مدینہ منورہ کی خاک۔

خاک شوپیش اڑاں کہ خاک شوکی (ت-مقولہ) مرنے سے پہلے مرنا۔ مرنے سے پہلے عاجزی اور فروتنی کی عادت ڈالنی چاہیے۔

خاک کا پینلا (۱)۔ [مذ] آدمی۔ انسان۔

خاک کا پھونڈ ہونا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ زمین میں دفن ہونا۔ خاک میں ملنا۔ مر جانا

خاک کا لے جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ جہاں کی مٹی ہوتی ہے۔ وہیں دفن ہونا ہے

خاک کرنا۔ گردینا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ جلا کر راکھ کرنا۔ برباد کرنا (۲)۔ کچھ نہ کرنا





خاموشی کرنا (۱) محاورہ (۱) چپ کرنا۔ بولنے سے روکنا (۲) جرح کھانا  
خاموشی (خاموشی) (ف) (۱) مٹا۔ چپ۔ سکوت۔ سکون۔ رشتا۔  
خاموشی نیم رضا (۱) مقولہ خاموشی سے رضا مندی کا اظہار ہوتا ہے۔  
خامہ (خامہ) (ف) (۱) مذ [فلم۔ ملک۔ جمع: خامرا  
خامہ آرائی (ف) (۱) مٹا۔ لکھنا۔ عمدہ عبادت تحریر کرنا۔  
خامہ فرسٹ (ف) (۱) صفت لکھنے والا۔  
خامہ فرسائی کرنا (ف) (۱) مٹا۔ لکھنا۔  
خامی (خامی) (ف) (۱) مٹا [کچا پن۔ ناچنگی۔ نا تجربہ کاری (۲) نقص کبی  
خان [خامی] (ات) (۱) مذ سردار۔ رئیس (۱) ہر امیر رئیس کا لقب۔  
پٹھانوں کا لقب۔

خان بہادر۔ ایک عزت کا خطاب جو برطانوی سرکار کی طرف سے دیا  
جاتا تھا۔

خانخاناں (ف) (۱) مذ سرداروں کا سردار۔ امیروں کا امیر (۲) مغلیہ  
خاندان کے عہد میں سپہ سالار کا لقب، بہادر شاہ کے اناستق بیرو  
خان اور اس کے بیٹے عبدالرحیم خان کا لقب۔  
خانخاناں جن کے کھانے میں نطاشہ (۱) (مثلاً) (بطانہ چھپی ہوئی چیز)  
اس موقع پر لائے ہیں جب کوئی شخص پوشیدہ طور سے کسی پر احسان  
کرتے (خانخاناں جب کسی غریب کو کھانا بھیجتے تو اس میں پوشیدہ طور پر  
اشرفیاں رکھ دیتے تھے۔

خانندان (ف) (۱) مذ نسل۔ قبیلہ۔ گھانا۔ گنہ۔  
خانداںی (ف) (۱) مٹا۔ اچھے گھرنے کا کسبی پرانا رئیس۔ قدیم۔ شریف۔  
خان زادہ (ف) (۱) مذ اہخان کا بیٹا۔ شہزادہ۔  
خانسا مال (ف) (۱) مذ (۱) گھر کا سامان کرنے والا۔ داروغہ۔ میر سامان  
(۲) صاحب لوگوں کو کھانا کھلانے والا خدمت گزار۔ میز کھانے والا۔ باؤچی  
خان صاحب (ف) (۱) مذ انگریزوں کے عہد کا خان بہادر سے چھوٹا  
خطاب۔ عزت کا کلمہ۔

خانقاہ (ع) (۱) مٹا اردو لیشوں اور مشائخ کے رہنے کی جگہ۔ صومعہ (۲)  
ہر کسی درویش یا پیر کا مقبرہ۔  
خانگی (خانگی) (ف) (۱) مٹا (۱) گھر لویہ گھر کا (۲) بیچ کا۔ ذاتی۔ خاص۔  
خانگیا (۳) (۱) مٹا [دہ خانہ نشین عورت جو گھر بیچے کسب کرنے  
خانگی جھگڑا (۱) محاورہ (خانگیاں نساہ۔ آپس کا جھگڑا۔ اندرون خانہ ناچاری  
آپس کی کھمبار۔  
خانگیا۔ (ف) (۱) مٹا (۱) اعلیٰ خاندان کی عورتوں کا لقب۔ امیر زادہ  
بیگم۔ بیوی (۲) خانگی کی عورت۔

خانماں (خان۔ مائ) (ف) (۱) مذ گھر کا اسباب۔ مال و متاع۔ اثاثہ البیت  
خانماں آوارہ (ف) (۱) مٹا گھر سے نکلا ہوا گھر سے بے گھر۔ بے ٹھکانہ  
خانماں خراب (ف) (۱) مٹا (۱) صفت اتناہ۔ برباد۔ پریشان۔ ویران۔  
خانوادہ (خان۔ وارہ) (ف) (۱) مذ (۱) خاندان۔ گھرانہ (۲) مشائخ یا  
درویشوں کا وہ خاندان جس سے انہیں توسل ہو۔ فقرا کا سلسلہ  
خانہ (خان۔ نہ) (ف) (۱) مذ (۱) گھر مکان۔ بیت (۲) کبوتروں یا مرغوں

مہینہ ذیقعد۔ یہ نام نور جہاں بیگم نے رکھا تھا۔ عورتیں اس مہینہ کو مغوس  
سمجھتی ہیں (۱) غیر موثر بے اثر (۱) عاری۔ مبرا۔

خالی بلیا کیا کرے اس کو بھی گے دھان اس میں کرے (مثل) کام  
کرنے والا بے کار بیٹھ نہیں سکتا بخراہ اسے فضول ہی کام کرنا پڑے  
خالی بیٹھنا (۱) محاورہ (۱) بے کار رہنا۔ بغیر ملازمت کے ہونا۔ بے مددگار رہنا۔  
خالی پھرنا (۱) محاورہ (۱) غروم واپس ہونا۔ پھرنا۔ پھرنا۔ پھرنا۔

خالی پیٹ (۱) مذ ہمارے۔ بھوکا جس نے صبح سے کچھ نہ کھا یا ہو۔  
خالی جانا (۱) محاورہ (۱) نشا نہ پر بیٹھنا۔ گری نہ لگنا (۲) بے اثر ہونا۔  
خالی خرمی پوری (مضمتنی) (مثلاً) جب آدمی کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تو  
ذیل ہی رہتا ہے۔ مجلسی بہت بڑی ہوتی ہے۔

خالی خولی (۱) صفت (۱) حقیقت کچھ نہ ہو۔ کھوکھلا۔  
خالی دینا (۱) محاورہ (۱) حریت کی منہ پر پچا جانا۔ دشمن کے وار سے  
اپنے آپ کو بچا لینا۔ ٹال جانا۔

خالی سے بیگار کھلی (۱) (مثلاً) بیگار بیٹھے سے کسی کام محنت کرنا اچھا ہوتا ہے  
خالی کا چاند (۱) مذ ماہ ذیقعد۔ گیارہواں قمری مہینہ  
خالی کرنا (۱) محاورہ (۱) انڈیلنا۔ نکالنا۔ تھی (۲) بندوئی بھوڑنا (۳) مکان  
کا قبضہ چھوڑنا۔

خالی ہاتھ (۱) صفت (۱) مفلح۔ نادر۔ تھی دست (۲) محروم (۳) بلا ہمتی یا بغیر کوئی چیز  
خالی ہاتھ منہ کو نہیں جاتا (۱) (مثلاً) بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔  
خام (ف) (۱) مٹا (۱) پچا ناچختہ۔ سبز ہرا۔ ادھو کچرا (۲) بورا۔ کزور (۳)  
نا تجربہ کار۔ ناواقف۔ ناآزمودہ کار۔ اناڑی (۴) فضول۔ بے ہودہ۔

(۵) بند۔ (۶) خالص۔  
خام آمدنی (۱) مٹا (۱) کل آمدنی جس میں خرچ نہ کیا گیا ہو۔  
خام پارہ (۱) مٹا (۱) کچی ٹوٹی ہوئی۔ پھنساں (۲) مکار عورت (۳) ایک  
قسم کی چھوٹی توپ۔

خام تحصیل (۱) مٹا ازبند یا بھیکدار کے توسط کے بغیر سرکاری  
لگان کی وصولی۔  
خام نیسانی (۱) مٹا غلط گمان۔ غلط خیال۔ جھوٹا خیال۔ دہم  
خام دست (ف) (۱) صفت (۱) فضول خرچ۔ نا تجربہ کار۔ اناڑی۔  
خام ریش (ف) (۱) صفت (۱) بے عقل۔ مسخرا۔

خام کار (۱) صفت (۱) نادان۔ ناآزمودہ۔ نا تجربہ کار  
خام کرنا (۱) محاورہ (۱) بند کرنا۔ آٹا کا کرمانڈی کا مٹہ بند کرنا۔  
خام کو کام سکھا لیتا ہے (مثلاً) ناواقف آدمی کام کرنے کرتے سیکھ  
جاتا ہے۔

خاموش (خام۔ مش) (ع) (۱) صفت (۱) پانچواں۔  
خاموش (خام۔ مش) (ف) (۱) صفت (۱) خاموش۔ چپ  
خاموشی (خام۔ مش) (ف) (۱) مٹا (۱) خاموشی۔ چپ  
خامنا (خام۔ نا) (ف) (۱) مٹا (۱) برتن کے منہ کو مٹی یا آٹے سے بند کرنا  
(۲) مہر لگانا۔ بند کرنا

خاموش (خاموش) (ف) (۱) صفت (۱) چپ۔ ساکت (۲) جھا ہوا (۳) مرد

خانہ ویراں اف۔ صف اخانہ بر باد۔  
 خانہ ویرانی اف۔ ۱۰۔ منٹ اگھر کی بنا ہی بر بادی۔  
 خانے دار اف۔ ۱۰۔ صف اوہ چیز جس میں خانے بنے ہوئے ہوں۔  
 خاور (خا۔ و۔ ر) اف۔ ۱۔ مذ [ (۱۱) مشرقی۔ لورب (۲) سورج۔  
 خاوراں (خا۔ و۔ راں) اف۔ ۱۔ مذ [ مشرق اور مغرب۔  
 خاوری (خا۔ و۔ ری) اف۔ ۱۔ صف [ مشرقی۔ مغربی۔ سورج سے منسوب۔  
 خاوند (خا۔ و۔ نڈ) اف۔ ۱۔ مذ [ آقا۔ مالک (خاوند کا مخفف) (۲) شوہر  
 خاوند کرنا ۱۱۔ محاورہ عورت کا اپنے آپ شادی کرنا۔  
 خاوندی (خا۔ و۔ نڈ) اف۔ ۱۔ صی [ (۱) منٹ [ بندہ نوازی۔ مہربانی۔ عنایت  
 خایب (خ۔ ۱۔ منٹ) محروم۔ نا امید (مذ) نادار۔ غریب۔  
 خالض (خ۔ ۱۔ صف) اغور کرنے والا۔  
 خالفت (خا۔ اف) [ (۱) صف [ ڈرنے والا۔ خوف کھانے والا۔  
 خائین (خا۔ ان) [ (ع۔ صف) [ خیانت کرنے والا۔ بددیانت  
 خائتہ (ع۔ صف) [ منٹ [ خائین کی تائیت۔  
 خایہ (خا۔ بیہ) [ (ف۔ ۱۔ مذ) [ (۱) بیضہ (مذ) (۲) خصبہ۔ نوط  
 خایہ بردار (خایہ بوس) اف۔ ۱۔ صف [ خوشامدی۔ چا پلوس۔  
 خایہ غلاماں (ف۔ ۱۔ مذ) [ انگور کی ایک قسم۔

## خ-ب

خباثت (خ۔ با۔ شت) [ (ع۔ ۱۰۔ منٹ) [ (۱) ناپاکی۔ گندگی (۲) بدباطنی۔  
 شرارت۔  
 خباذت (خبا۔ با۔ ذ) [ (ع۔ ۱۰۔ مذ) [ ناپاکی۔ آٹا گوندھنے والا۔  
 خباثت (خ۔ با۔ شت) [ (ع۔ ۱۰۔ منٹ) [ خبثت کی جمع (۲) گندگیاں ناپاکیاں  
 (۳) برائیاں۔ برے کام۔  
 خبثت (خ۔ ۱۔ منٹ) [ (ع۔ ۱۱) پلیدی۔ گندگی (۲) بدباطنی۔ برائی۔ شرارت۔  
 خبثت (خ۔ ۱۔ منٹ) [ (ع۔ ۱۰۔ مذ) [ لوہے کا میل  
 خبثت باطن (ع۔ ف) [ بدباطنی۔ شرارت۔  
 خبیر (خ۔ بر) [ (ع۔ ۱۰۔ منٹ) [ (۱) اطلاع۔ آگاہی۔ واقفیت (۲) پیغام  
 سندھیا (۳) افواہ (۴) حدیث نبوی۔ (۵) پتہ۔ نشان۔ سرخ (۶) ہوش  
 سبھ (۷) بحال (۸) سناؤنی۔ موت کی اطلاع۔ جمع : اخبار  
 خبیرا (۱۱)۔ محاورہ اطلاع آمد موت کی سناؤنی کا آنا۔  
 خبیراٹنا (۱۱)۔ محاورہ الجھوٹی بات مشہور کرنا۔ افواہ اڑانا۔  
 خبیر بھٹی ہے (۱۰)۔ محاورہ تم نہیں جانتے۔ الزام دیتے وقت کہتے ہیں۔  
 خبیر بھڑینا (۱۱)۔ محاورہ معلوم ہونا۔ اطلاع بھینا۔  
 خبیر بھینا (۱۱)۔ محاورہ احوال دریافت کرنا۔ خبر جو عنایت دریافت کرنا۔  
 خبیر بھینا (۱۱)۔ محاورہ کسی واقعہ کی اطلاع کا عالم ہونا۔  
 خبیر دار (ع۔ صف) [ (۱) خبیر کھنے والا۔ واقف۔ آگاہ۔ (۲) ہونہار۔  
 خروس چوکنا (۳) [ تشبیہ کا کلمہ ہے) سرگز۔ زینہار (۴) مخبر۔ جاسوس

کا ڈر بہ (۳) آشیانہ۔ گھونٹلا (۴) صند وچ کے اندر کا حصہ (۵) شطرنج  
 کی بساط کا ایک حصہ (۶) پیٹ۔ ششم (۷) انگوٹھی میں وہ جگہ جہاں  
 نگینہ رکھتے ہیں۔  
 خانہ آباد۔ دولت زیادہ (۱)۔ کلید (مذ) دولت وافر اور گھر بھر ہے۔  
 خانہ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش۔  
 خانہ آبادی اف۔ ۱۰۔ منٹ [ خوشحالی۔ گھر بھرنا۔ شادی۔  
 خانہ باغ (ف۔ ۱۰۔ منٹ) مکان کی چار دیواری کے اندر کا باغ  
 خانہ بدوش (ف۔ صف) [ (۱) آوارہ۔ پریشان بے ٹھکانہ (۲) وہ قوم  
 یا آدمی جو گھر کو ساتھ ساتھ لیے پہلے۔ جس کا کوئی مستقل گھر نہ ہو جاؤ  
 خانہ بر انداز (ف۔ صف) [ (۱) گھر بار اچاڑ دینے والا (۲) کنایت معشوق  
 خانہ بر بادی اف۔ ۱۰۔ منٹ [ گھر کی نجاسی۔ گناہ بیوی کا مہر جانا۔  
 خانہ بڑی (ف۔ ۱۰۔ منٹ) نقشہ بھرنا۔ سرکاری مقررہ نقشوں کا پڑ کرنا۔  
 (۲) کسی کام کو فقط رسمی طور پر کرنا۔  
 خانہ تلاشی (ف۔ ۱۰۔ منٹ) گھر کی تلاشی کسی قابل اعتراض چیز کے ٹھونڈنے  
 کے لیے حکومت کی طرف سے مکان کا سارا سامان الٹ پلٹ کر دینا  
 خانہ جنگی (ف۔ ۱۰۔ منٹ) گھر کے جھگڑے۔ آپس کی لڑائی۔ ملک کے  
 اندر مختلف گروہوں۔ جماعتوں یا فرقوں کی لڑائی۔  
 خانہ مخالی راہ لومی گہرواں (ف۔ منٹ) [ خالی گھر پر دیونقضہ کر لیتے ہیں  
 گھر کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔  
 خانہ خانہ (۱۱)۔ مذ [ ایک ایک خانہ۔ ایک ایک گھر۔  
 خانہ خدا (ف۔ ۱۰۔ مذ) [ خدا کا گھر۔ مسجد  
 خانہ خراب (ف۔ ۱۰۔ صف) [ (۱) اجڑا ہوا۔ تباہ و برباد خستہ حال  
 (۲) آوارہ۔ بد وضع۔  
 خانہ خرابی (ف۔ ۱۰۔ منٹ) ابر بادی۔ تباہی۔ ستیا ناس  
 خانہ خرابی بر پا کرنا (۱۱)۔ محاورہ ابر بادی لانا۔  
 خانہ خراب (ف۔ ۱۰۔ مذ) [ شراب خانہ۔ سے خانہ خرابات۔  
 خانہ داری (ف۔ ۱۰۔ منٹ) گھر بار کا کام کاج۔ گھر کے معاملات انتظام خانہ  
 خانہ داماد (ف۔ ۱۰۔ مذ) گھر داماد۔ داماد جو سسرال میں رہتا ہو۔  
 خانہ زاد (ف۔ صف) [ مالک کے گھر میں پیدا ہونے والا غلام۔ لونڈی  
 کا بچہ۔ پرستار زادہ۔ انکساری کا کلمہ۔  
 خانہ زنجیر (ف۔ ۱۰۔ مذ) [ زنجیر کا حلقہ۔ قید خانہ۔ پاگل خانہ  
 خانہ ساز (ف۔ ۱۰۔ منٹ) گھر کا بنا ہوا۔  
 خانہ شمار (ف۔ ۱۰۔ منٹ) گھروں اور مکانوں کا شمار کرنا۔  
 خانہ شہر (ف۔ ۱۰۔ مذ) [ برج اسد  
 خانہ عقلموت (ف۔ ۱۰۔ منٹ) [ کلمی کا جالا  
 خانہ کمان (ف۔ ۱۰۔ مذ) [ کمان کے دونوں بازو۔  
 خانہ ملاح در چین است۔ و کشتی و فرنگ (ف۔ منٹ) [ جب  
 کوئی تدبیر سمجھیں آئے مگر اس عمل کرنا ممکن نہ ہوتو کہتے ہیں۔  
 خانہ نشین (ف۔ صف) [ (۱) گھر بیٹھنے والا۔ گوشہ نشین (۲) معطل بیجا  
 خانہ دلحد مجھنا۔ اپنا ہی گھر سمجھنا۔ بے تکلفی سے کام لینا۔

ختمہ (۱۔ مذ) عبارت میں وقفہ گانے کی علامت۔  
 ختمی مرتبت (ع۔ صف) دیکھئے خاتم النبیا۔  
 ختم حق (خ۔ ت) [ف۔ ۱۔ مذ] دنیا ترکستان میں ایک علاقہ جہاں کا مشنگ مشہور ہے۔  
 ختم ختم (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مذ] (عربی میں ختم کا ٹیٹا) مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک رسم جس میں بچہ کے عضو تناسل کا زائد چھڑا کاٹا جاتا ہے۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔

خبردار ہونا (مص۔ مرکب) آگاہ ہونا۔ ہوشیار ہونا۔  
 خبرداری (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) [۱۱] نگہبانی حفاظت۔ ہوشیاری۔ احتیاط۔  
 خبر رسال (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) خبر پہنچانے والا۔  
 خبر دہندہ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) اطلاع دینے والا۔ خبر رسال۔ ابلیجی۔  
 خبر رکھنا (۱۔ محاورہ) واقف ہونا۔ خیال رکھنا۔ آگاہ رہنا۔  
 خبر گرم ہونا (۱۔ محاورہ) کسی بات کا مشہور ہونا۔  
 خبر گیری (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) [۱۱] دیکھ بھال۔ خبرداری (۲۱) دستگیری۔ اعانت۔  
 خبر لگانا (۱۔ محاورہ) سراغ لگانا۔ پتہ لگانا۔ کھگانہ معلوم کرنا۔  
 خبر لینا (۱۔ محاورہ) [۱۱] مدد کو آنا۔ دستگیری کرنا (۲۱) پوچھنا۔ دریافت کرنا۔  
 (۳) مارنا۔ مزادینا (۴) نگرانی کرنا (۵) لعنت ملامت کرنا۔ آزاد رہنا۔  
 (۶) حالت بہر خود کرنا۔

## خ۔ ٹ

خٹا (خ۔ ٹ) [۱۔ ۵۔ مذ] خایہ عضو تناسل۔  
 خٹے سیلانا (۱۔ محاورہ) خوشامد و چالپوسی کرنا۔ خایہ پوسی کرنا۔

خبر ہونا (۱۔ محاورہ) آگاہی ہونا۔ اطلاع ہونا۔ معلوم ہونا۔  
 خبط (ع۔ ۱۔ مذ) سودا۔ جنوں۔ دیوانگی۔  
 خبط اچھلنا (۱۔ محاورہ) سودا ہونا۔ جنون ہونا۔ خفقان ہونا۔  
 خبط سوار ہونا (۱۔ محاورہ) اے ہودہ خیال دل میں سمانا۔  
 خبط ہو جانا، ہونا (۱۔ محاورہ) جنون ہونا۔ غلط دھن سمانا۔  
 خبطی اخب۔ طحی (ع۔ صف) اپنا گل۔ سودائی۔ دیوانہ۔ جنون۔  
 خبیث (خ۔ بیث) [ع۔ صف] (۱) ناپاک۔ پلید۔ گندہ (۲) بڑا بد باطن۔ شریر۔  
 خبیثہ (خ۔ بی۔ ث) [ع۔ صف] اخبیث کا مؤنث۔ بد ذات عورت۔  
 خبیہ (خ۔ بیہ) [ع۔ صف] (۱) خبر رکھنے والا۔ جاننے والا۔ (۲) انا خدا تعالیٰ کا صفاتی نام۔

## خ۔ ج

خجالا (خ۔ ج۔ ل) [ا۔ مذ] [ا۔ صف] بے ہودہ۔ بکواسی۔ یادہ گوہ۔  
 خجالت (خ۔ ج۔ ل) [ع۔ مٹ] [۱۔ ۲۔ مٹ] عربی لفظ محبت کا پیرا ہوا۔  
 شرمندگی۔ ندامت۔ (۲) شرم۔ جیا۔ انفعال۔  
 خجالت کھینچنا (۱۔ محاورہ) شرمندہ ہونا۔ نادوم ہونا۔  
 خجستگی (خ۔ جستگی) [ع۔ مٹ] [۱۔ مٹ] سعادت۔ مبارک پن۔  
 خجستہ (خ۔ جس۔ ث) [ع۔ صف] مبارک۔ فرخندہ۔ مسعود۔  
 خجستہ اشرف۔ صف اخوش قیمت۔  
 خجستہ پے (ع۔ صف) مبارک قدم والا۔  
 خجل (خ۔ ج۔ ل) [ع۔ صف] شرمندہ نادوم۔ شرمسار۔  
 خجلت (۱۔ ج۔ ل) [ع۔ مٹ] [۱۔ مٹ] شرمندگی۔ شرمساری۔ ندامت۔ بجات۔  
 خجلت زوہ (ع۔ ف۔ ۱۔ صف) شرمندہ۔

## خ۔ ت

خجائج (خ۔ ج۔ ج) [ع۔ مٹ] [۱۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] تلواریں چلنے کی آواز۔ کچھڑ میں چلنے کی آواز۔  
 خجرائج (خ۔ ج۔ ج) [ع۔ مٹ] [۱۔ ۱۔ مٹ] وہ دوغلا جانور جو گھسے اور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔

ختک۔ ختک (خ۔ ت) [ع۔ مٹ] [۱۔ ۱۔ مٹ] [فارسی لفظ کنگ یا کنگ کی بگڑی ہوئی صورت (۱) سونٹا۔ گد کا (۲) جھگ کھوٹنے کا ڈنڈا۔ (۳) گلوٹھا۔ ٹھینکا (۴) آرتناسل۔  
 ختم (ع۔ ۱۔ مذ) [۱۱] خیر۔ انجام۔ انتہا۔ تمام (۲) قرآن شریف کے ختم ہونے کی رسم (۳) فاتحہ۔ نذر۔ نیاز۔ جمع خواتم۔  
 ختام۔ ختامہ (ع۔ ۱۔ مٹ) اچھڑ کی لاکھ یا چھڑا۔  
 ختیاں (ع۔ ۱۔ مذ) ختم کرنے والا۔  
 ختم الانبیاء ختم المرسلین (الترسل) [ع۔ ۱۔ مذ] دیکھئے خاتم الانبیاء۔  
 ختم کھوجگان (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا خاص عمل جس کا ثواب انواجگان چشت و نقشبند کو پہنچایا جائے۔  
 ختم کرنا (۱۔ محاورہ) تمام کرنا۔ قتل کرنا۔ فاتحہ دلوانا۔ نیاز دلوانا۔ قرآن تمام کرنا۔ قرآن شریف پڑھنا۔  
 ختم ہونا (۱۔ محاورہ) [۱۱] انجام کو پہنچنا۔ تمام ہونا۔ فاتحہ ہونا (۲) نیاز ہونا (۳) کسی ہنری عیب میں بے مثل ہونا (۴) ایک ہی کے حصہ میں ہونا۔ (۵) مرجانا۔ قرآن پاک ختم کرنا۔

## خ۔ د

خدا (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ مٹ] [۱۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] اللہ تعالیٰ۔ (۲) مالک۔ آقا۔ حاکم۔  
 خدا (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ مٹ] [۱۔ ۱۔ مٹ] [۱۱] اللہ تعالیٰ۔ (۲) مالک۔ آقا۔ حاکم۔

خداوند۔ مرکبات کے آخر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً "نا خدا۔ کتخدا  
خدا اٹھلے" اور دعا خدا مار ڈالے۔ موت آجائے۔ مرجائے۔  
خدا امیر کے پڑھوس فیر بھی نہ بولائے (۱)۔ مثل امیر آدمی کی ہسیاگی  
غریب کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔  
خدا اس کا سہرا دکھائے۔ (۱)۔ مقولہ ایسے کی شادی کے لیے دعا۔  
خدا بچھڑی رات نہ کرے لڑائی رات کرے (۱)۔ مثل اکٹھے رہیں  
خواہ رکھتے ہی رہیں۔  
خدا بخشنے اکھڑ دعا خدا گناہوں کو معاف کرے۔ دعائے مغفرت جو  
کسی مڑے کا ذکر کرتے وقت زبان پر لاتے ہیں۔  
خدا بھرے کو بھرتا ہے (۱)۔ مثل اجود و تنمند ہوا اس کو خدا اور بھی دیتا ہے  
خدا بھوکا کا اٹھاتا ہے بھوکا سلاٹا نہیں (۱)۔ مثل خدا ہر ایک کو  
رزق دیتا ہے۔  
خدا پر تکبیر (توکل) خدا پر بھروسہ۔ خدا پر سہارا۔  
خدا پر چھوڑ دینا۔ خدا پر چھوڑنا (۱)۔ محاورہ (کسی کام کو خدا کی مرضی پر  
چھوڑنا۔ توکل کرنا۔ خدا پر بھروسہ کر لینا  
خدا پرست ات ۲۔ خدا کو پوجنے والا۔ زاہد۔ عابد۔ حق پرست۔  
خدا پناہ میں رکھے دعا خدا بچائے۔  
خدا پنج انگشت یکساں نہ کر دات۔ مثل اسب برابر نہیں ہوتے  
ایک سے ایک جدا ہے۔  
خدا جھوٹ نہ بولائے (۱)۔ مثل کوئی غیر معمولی بات کہنے سے پہلے کہتے  
ہیں کہ سچ کہہ رہا ہوں۔  
خدا چاہے۔ اگر خدا کو منظور ہو۔ اگر اللہ نے چاہا۔ انشاء اللہ  
خدا حافظ۔ کلمہ جو کسی کو رخصت کرتے وقت کہتے ہیں اللہ نگہبان۔  
خدا ترس ات ۲۔ صفا (۱)۔ خدا سے ڈرنے والا (۲)۔ رمدل۔ نرم دل۔  
خدا جانے۔ دیکھیے اللہ جانے۔  
خدا خدا کرو (۱)۔ روزمرہ اللہ سے ڈرے۔ توبہ کرو۔  
خدا خود میر سا مان استغاثہ باب توکل را ات۔ مثل اللہ توکل کرنے  
والذی خود مدد کرتا ہے۔  
خدا خدا کر کے۔ مشکل سے۔ وقت سے۔ دشواری سے۔  
خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا (۱)۔ محاورہ (بڑی مشکل سے راضی کیا  
خدا خدا کرنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ خدا کا نام لینا۔ عبادت کرنا۔ اللہ اللہ کرنا  
خدا خیر کرے (۱)۔ دعا (خطرے کے موقع پر بولتے ہیں اللہ بچائے۔  
اللہ محفوظ رکھے۔  
خدا واد ات۔ صفا خدا کی دی ہوئی۔ منجانب اللہ۔ قدرتی فطرتی۔  
خدا واری چیر غم نہ داری ات۔ مثل خدا پر بھروسہ ہونے کا نام ہے۔  
خدا دینا ہے تو چھپتے بھاڑ کر دیتا ہے۔ (مثل خدا جب دیتا ہے تو  
بے سبب بھی دے دیتا ہے۔  
خدا دے کھانے کو بلا جائے کمانے کو (۱)۔ مثل مفت میں مل جائے  
تو کمانے کی کیا ضرورت ہے۔  
خدا را۔ خدا کے لیے۔ اللہ کے واسطے۔

خدا رسیدہ (۱)۔ اللہ تک پہنچا ہوا۔ اللہ والا (۲)۔ نیک۔ پرہیزگار۔ بزرگ  
خدا رکھے (کلمہ دعا) کسی زندہ عزیز کا ذکر کرتے وقت یہ لفظ زبان پر  
لائے ہیں کہ یعنی خدا اسے زندہ رکھے۔  
خدا سازان۔ صفا خدا کا بنایا ہوا۔  
خدا سب کی محنت سوارت کرتا ہے (۱)۔ مثل اللہ لگائے ہر ایک  
کو اس کی محنت کا پھل دیتا ہے۔  
خدا سلامت رکھے (۱)۔ کلمہ دعا) خدا زندہ رکھے۔  
خدا سمجھے (۱)۔ کلمہ بد دعا) خدا سزا دے۔ خدا بدلہ دے۔  
خدا سے بچھڑنا (۱)۔ محاورہ (خدا کو نہ ماننا۔ کافر ہونا۔  
خدا سے خیر مانگو (کلمہ دعا) بری بات کی پیش گوئی کی جائے تو اس وقت  
کہا جاتا ہے۔  
خدا سے ڈرو (کلمہ دعا) توبہ کرو۔ اللہ سے خون کھاؤ۔  
خدا سے کیا پاتا (۱)۔ محاورہ) بدی کا بدلہ ملنا۔  
خدا سے لڑنا (۱)۔ محاورہ) اللہ کی مرضی سے مقابلہ کرنا۔ ناشکری کرنا۔  
خدا سے لوگنا (۱)۔ محاورہ) اللہ کی یاد کرنا۔ (۲)۔ مرنے کے قریب ہونا۔  
خدا شرتے برا نیگزرد کرے جسے مادراں باشند ات (مثل) بعض اوقات  
ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بظاہر ہر وہ مضر ت رساں نظر آتے ہیں۔  
مگر ان میں بھلائی ہوتی ہے۔  
خدا شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے (۱)۔ مثل خدا ہر شخص کو اس کے  
حوصلے کے مطابق دیتا ہے۔  
خدا شناس ات۔ صفا (۱)۔ صفا کو پہچاننے والا۔ عارف۔ نیک۔ پارسا۔  
خدا طلبی ات ۱۰۔ خدا کو چاہنا۔ خدا کی تلاش  
خدا ظالم سے پالا نہ ڈالے (کلمہ دعا) اللہ ظالم سے بچائے۔  
خدا کا دیا سہر (۱)۔ مثل جو مصیبت اللہ کی طرف سے آئے اے مبر شکر سے  
برداشت کرنا چاہیے۔  
خدا کا نام لو (۱)۔ اللہ اللہ کرو (۲)۔ بیخ بولو۔ انصاف کرو۔  
خدا کا غضب (قہر) ٹوٹے (۱)۔ محاورہ) مصیبت پڑے۔ آفت نازل ہو۔  
خدا کا نام لے کر (۱)۔ روزمرہ) اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اللہ کا نام لے کر۔  
خدا کسی کو کسی محتاج نہ کرے (۱)۔ محاورہ) خدا کسی سے کوئی کام نہ ڈالے۔  
خدا کو سونپنا (۱)۔ محاورہ) اللہ کے حوالے کرنا۔ کسی عزیز کے سفر جانے پر  
عورتیں کہتی ہیں  
خدا کو کیا جواب دو گے (۱)۔ مثل)۔ خدا سے ڈرو۔ انصاف کرو۔  
خدا کو مان (۱)۔ محاورہ) اللہ سے ڈرے۔ انصاف کرو۔  
خدا کی باتیں خدا ہی جلتے (مثل) خدا کے بھیدوں کی کسی کو خبر نہیں  
خدا کی حکمت خدا ہی کو معلوم ہے۔  
خدا کی جب نہیں چوری تو بندے کی کیا چوری (۱)۔ مثل گستاخ لوگوں  
کا مقولہ کہ جب گناہ کرتے وقت خدا کا خوف نہیں تو پھر بندوں سے کیوں  
شرم کی جائے  
خدا کی حدائی میں کسے دخل (۱)۔ مقولہ) خدا کے کاموں میں کوئی دخل  
نہیں دے سکتا۔ وہ جو چاہے کرے۔



















خلیقا رخ۔ لی تا (ار۔ ۱۔) مذ [اعربی خریطہ کا بگڑا ہوا (۱۱) تھیلہ۔ تھیلی۔  
 (۲) لیا کرنا۔  
 خلیتی۔ رخ۔ ۱۔ ع۔ ۱۰۔ مٹا (چھوٹی تھیلی۔ بھٹی۔ جس میں سوئی دھاگہ رکھا جاتا ہے  
 خلیج۔ رخ۔ لی۔ ج۔ (ع۔ ۱۰۔) مٹا [پانی کا وہ حصہ جو تین طرف خشکی سے  
 گھرا ہوا اور ایک طرف سمندر سے ملا ہوا۔  
 خلیج ایشیا (ہوجانا) (۱۱) محاورہ (۱) رنجش ہونا۔ اختلاف پیدا ہونا۔  
 خلیفہ کا (ف۔ صفت) چھٹا ہوا۔ سوراخ دار۔  
 خلیفہ بھائی (خ۔ ع۔ ۱۰۔) س۔ ۱۰۔ بھا۔ (ی۔) [ا۔ ۱۔] مذ [خالہ جایا۔ خالہ زاد بھائی  
 خلیفہ (خ۔ لی۔ ف۔) (ع۔ ۱۰۔) مذ [۱۱] پیغمبر صلعم کا قائم مقام بعد میں آنے والا  
 قائم مقام۔ نبی کا جانشین۔ نائب (۲) [۱] مانیٹر (۳) [ا۔ ۱۰] مانی۔ درزی  
 باورچی۔ (۲) استاد کا بیٹا۔  
 خلیفۃ اللہ (ع۔ ۱۰۔) مذ [خدا کا نائب (۲) حضرت آدمؑ کا لقب  
 خلیفۃ المسلمین (ع۔ ۱۰۔) مذ [مسلمانوں کا خلیفہ۔  
 خلیق (خ۔ لی۔ ق۔) (ع۔ ۱۰۔) صفت [اچھے اخلاق والا۔ خوش خلق۔ اچھے  
 سہاؤ والا۔  
 خلیفہ (ع۔ ۱۰۔) مٹا [پیدا کی ہوئی چیز۔ مخلوق۔  
 خلیل (خ۔ لیل۔) (ع۔ ۱۰۔) مذ [سچا دوست۔ یار صادق (۲) حضرت  
 ابراہیمؑ کا لقب۔  
 خلیل اللہ (۱۱) خدا کا دوست (۲) حضرت ابراہیمؑ کا لقب۔  
 خلیہ۔ (غل۔ ینہ۔) (ع۔ ۱۰۔) مٹا [جسم کا مختصر ترین خانہ۔ (انگ)  
 (Call)

## خ م

خم (ف۔ ۱۰۔) مذ [شیر صمد۔ کچی۔ جھکاؤ۔ تڑچھاپن (۲) بل بیج (۳) موڑ  
 اعلیٰ۔ پھیر۔ کھاؤ (۲) اوپر کا بازو۔  
 خم (ف۔ ۱۰۔) مذ [محووں کی کچی۔ یہ ایک قسم کی خوبصورتی ہے۔  
 خم کھونک کر سامنے آتا (۱) محاورہ ہے باک ہو کر مقابلہ کرنا۔  
 خم کھونکنا (۱) محاورہ [کشتی کے وقت بازو یا پھوں پر اس طرح اٹھ  
 امانا کہ آواز نکلتے (۲) لڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔  
 خم جوگاں (ف۔ ۱۰۔) مذ [کڑی جس سے چوگاں (بولوں) کھیلنے ہیں۔  
 خم دار (ف۔ ۱۰۔) صفت [ٹیٹھا۔ تڑچھا۔ کج۔ جھکا ہوا۔  
 خم روم (ف۔ ۱۰۔) مذ [ہمدت۔ جوش۔  
 خم دینا (۱) محاورہ [ٹیٹھا کرنا۔  
 خم رچم (ف۔ ۱۰۔) صفت [حسین رفتار۔ خرام۔ ناز۔ اترا ہدف۔ غرور  
 خم (ف۔ ۱۰۔) مذ [شراب کا مٹکا یا پیپا۔ مٹکا (۱) گنجدے کے کھیل میں وہ پتے  
 جو تقسیم سے پہلے چھاپتے ہیں۔ اور ایک ایک کر کے نکالتے ہیں  
 (۲) خمیر (۳) بڑھی ہوئی مٹی۔  
 خم اٹھنا (۱) محاورہ [خمیر تیار ہونا۔  
 خم پڑھانا (۱) محاورہ [دھوئے سے پہلے کپڑوں کو اُبلانا (۲) بہت ناز

خلفائے راشدین۔ ہدایت پانے والے خلیفے۔ رسول اللہ کے چار خلیفے  
 حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ  
 خلفشار (ع۔ ۱۰۔) مذ [گڑب۔ کھل۔ بلی۔  
 خلق (ع۔ ۱۰۔) مذ [خلقت۔ دنیا کے لوگ۔ مخلوق آفرینش۔ جمع اخلاقی  
 خلق کا خلق کس نے بن دیکھا ہے (۱) مثل، لوگوں کی باتوں کو کوئی نہیں  
 روک سکتا۔  
 خلق (ع۔ ۱۰۔) مذ [خو۔ عادت۔ جنسیت۔ جمع اخلاقی۔ خوش مزاجی  
 خلق محمدی۔ حضرت محمدؐ کے سات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بے مثل اخلاق  
 خلقت (خل۔ نقت۔) (ع۔ ۱۰۔) مذ [فطرت۔ پیدائش۔ سرشت۔ خمیر  
 خلقت (ع۔ ۱۰۔) مذ [مخلوق۔ لوگ۔  
 خلقی (ع۔ ۱۰۔) صفت [پیدا کنسی۔ قدرتی۔ فطرتی۔  
 خلل (خ۔ لیل۔) (ع۔ ۱۰۔) مذ [۱۱] زخم۔ سوراخ۔ درز۔ دراز۔ (۲) خرابی۔  
 بگاڑ۔ فتور۔ ضرر۔ نقصان۔  
 خلل آنا، پڑنا (۱) محاورہ [خرابی پیدا ہونا۔  
 خلل انداز (ع۔ ۱۰۔) صفت [خلل ڈالنے والا۔ زخم انداز (۲) بے جا مداخلت  
 کرنے والا۔ مزاحم۔  
 خلل دماغ (ع۔ ۱۰۔) مذ [دماغ کی خرابی۔ سورا۔ مایخولیا۔ دیوانگی  
 خلوا (خ۔ لو۔) (ع۔ ۱۰۔) مذ [خالی ہونا (۲) خلا۔ جوف۔  
 خلوئے معدہ (ع۔ ۱۰۔) مذ [پیٹ کا خالی ہونا۔  
 خلوت (خل۔ و۔) (ع۔ ۱۰۔) مٹا [تنہائی۔ علیحدگی۔ گوشہ نشینی (۲)  
 خالی جگہ۔ تنہائی کی جگہ (۳) سونے کا گہرا خواب گاہ۔  
 خلوت پسند (ع۔ ۱۰۔) صفت [تنہائی چاہنے والا۔ گوشہ نشین۔  
 خلوت خانہ، خلوت کدہ، خلوت کمرہ، خلوت گاہ (ع۔ ۱۰۔) مذ [تنہائی  
 کی جگہ۔ علیحدگی کا مقام۔  
 خلوت صحیحہ (۱) مٹا [بجری خاندان کا ہم بستری کے لئے تنہا ہونا۔ جائز  
 جنسی تعلقات۔  
 خلوت کریں، خلوت نشین (ع۔ ۱۰۔) مٹا [تنہائی میں بیٹھے والا۔  
 اکیلا رہنے والا۔ گوشہ نشین۔  
 خلوت و جلوت میں۔ خفیہ یا اعلانیہ  
 خلوت ہونا (۱) صفت [اکیلا ہونا۔ تنہائی ہونا۔  
 خلوتی (خل۔ و۔) (ع۔ ۱۰۔) صفت [۱۱] اکیلا رہنے والا۔ تنہا۔ (۲) گوشہ نشین  
 راہب (۳) راز دار۔ دوست۔ جمع خلوتیاں۔  
 خلو (خ۔ لو۔) (ع۔ ۱۰۔) مذ [ہمیشگی۔ دوام۔  
 خلوص (خ۔ لوص۔) (ع۔ ۱۰۔) مذ [۱۱] پاک صاف ہونا (۲) اخلاص بے یابی سچی دوستی۔  
 خلوص قلب (ع۔ ۱۰۔) مذ [سچے دل سے۔  
 خلوص نیت (ع۔ ۱۰۔) مٹا [نیک نیتی۔ خاص نیت۔  
 خلیا ساس (خل۔ یا۔ ساس۔) (ا۔ ۱۰۔) مٹا [ساس کی بہن۔  
 خلیا ساس رکن ساسوں میں۔ کودوں کا بھات کھاتوں میں۔  
 (مثل) خلیا ساس کوئی رشتہ نہیں۔ اور کودوں کا بھات کھاتوں میں  
 ہے۔ دور کے رشتوں کے متعلق کہتے ہیں۔









خود غلط، انشاء غلط۔ امل غلط۔ مثل جو ہر طرح سے غلط ہو اس کے متعلق کہتے ہیں ششتم (ف۔ مثل) ہم جو سمجھتے تھے خود غلط ہو اور آچہ ما پسند اس ششتم (ف۔ مثل) ہم جو سمجھتے تھے خود ایک غلطی تھی خود کرا موش۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنے آپ کو بھولنے والا۔ غافل۔ خود فروش۔ ان۔ صف ۱۱۱ گھنڈی۔ یعنی مارنے والا۔ اپنی تعریف آپ کو بھولا۔ خود کار۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنے آپ کام کرنے والی مشین۔ آٹومیک (انگ) (Automatic) خود کاشت ۱۱۱ وہ زمین جسے مالک خود جوتے، بوئے۔ خود کام۔ ان۔ صف ۱۱۱ خود غرض۔ مطلب درست۔ مطلبی۔ خود کردہ۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنا کیا ہوا۔ اپنا کام۔ خود فیصل۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنے مسائل پر گزارا کرنے والا۔ خود کوزہ، خود کوزہ گرد و خود گل کوزہ۔ ان۔ مغولہ جہاں ایک آدمی تمام انتظامات کرے۔ خود کردہ را علاقے نسبت۔ ان۔ مثل اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ خود کشی۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنے آپ کو ہلاک کرنے خود مختار۔ ان۔ صف ۱۱۱ آزاد۔ با اختیار۔ خود نما۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنی نمائش کرنے والا۔ ۱۲۱ مشہور۔ شیخی خورہ۔ خود پسند۔ خود نمائی۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنی نمود و نمائش (۱۲۱) شیخی۔ خود پسندی۔ خودی (ع۔ دی)۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنا آپ۔ انانیت۔ غرور۔ تکبر۔ ۱۲۱ خود شناسی۔ معرفت نفس۔ خودی اور خدائی میں بیسیں ہے۔ ان۔ مثل خدا غرور کو پسند نہیں کرتا۔ خودی میں نہ رہنا۔ ۱۱۱ محاورہ اپنے آپ میں نہ رہنا۔ خود (خ۔)۔ ان۔ صف ۱۱۱ خورد شد کا مخفف ہے۔ سورج (۲) گر گٹ (۳) مشرق۔ (۳) ہر قسمی ایرانی جیسے کا گیارہواں دن۔ خود (ف۔ صف) کھانے والا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے بیار غور۔ حلال خور خورد و نوش۔ ان۔ صف ۱۱۱ کھانا پینا۔ دانا پانی۔ خوراک اور خوراک۔ ان۔ صف ۱۱۱ کھانے کی چیز۔ کھانا۔ غذا۔ (۲) رسد۔ راشن۔ (۳) دوران کی وہ مقدار جو ایک وقت پی جلتے ایک مرتبہ کا کھانا (۲) کھانے کے قابل چیز خوراک (خ۔ را۔ کی)۔ ان۔ صف ۱۱۱ کھانے کی چیز (۳) روزینہ۔ وظیفہ۔ بڑی خوراک والا۔ بہت کھانے والا۔ خود برد برد۔ ان۔ صف ۱۱۱ کھانا اٹانا۔ نمین۔ تغلب۔ خیانت۔ بربادی بے جا تصرف۔ رشوت۔ خور برد برد کرنا۔ ۱۱۱ محاورہ کھانا اٹانا۔ نمین کرنا۔ کھانا باز تغلب کرنا خور دن بیلے بستین و ذکر کردن است۔ ان۔ مثل کھانا زندقہ تو متفقہ کر زینتن ازہر خوردن است۔ رہنے اور عبادت کرنے کے لیے کھانا چاہیے۔ یہ درست نہیں کہ زندگی محض کھانے کیلئے

خود پسندی۔ ان۔ صف ۱۱۱ ارادہ۔ قصد (۲) حرص۔ لالچ خود اختیار۔ ان۔ صف ۱۱۱ آزاد جس کے ہاتھ میں اختیار ہو۔ خود اختیاری حکومت۔ ان۔ صف ۱۱۱ حکومت جس میں اختیار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ جمہوری حکومت۔ خود ادا دیت۔ ان۔ صف ۱۱۱ عمل و ارادہ کی آزادی۔ اپنے معاملات خود سنبھالنا۔ (انگ) (Self-determinasim) خود اعتمادی۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنی ذات پر بھروسہ خود بخود ۱۱۱ آپ ہی آپ۔ از خود۔ بے کے۔ خود بدولت۔ ان۔ صف ۱۱۱ حضور۔ جناب۔ عالی جناب۔ خود ہیں۔ ان۔ صف ۱۱۱ خود پرست۔ مغرور۔ گھمنڈی۔ متکبر۔ خود پسند خود بینی۔ ان۔ صف ۱۱۱ غرور۔ تکبر۔ فخر۔ گھمنڈ۔ خود پرست۔ ان۔ صف ۱۱۱ مغرور۔ تکبر۔ خود پسند۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا شخص۔ اپنی رائے کو ترجیح دینے والا۔ خود پسندی دلیل نادانی است۔ ان۔ مثل اپنی ہر بات کو اچھا سمجھنا عقل مندی نہیں ہے۔ خود خواہ۔ ان۔ صف ۱۱۱ متلون مزاج۔ وہمی (۲) بد تمیز خود دار۔ ان۔ صف ۱۱۱ رکھ رکھاؤ والا (۲) غیور۔ غیرت مند (۳) فانی۔ صاحب۔ خود داری (۱) رکھ رکھاؤ (۲) غیرت۔ عزت۔ نفس خود را قضی سے دیگرال را بصیحت ۱۱۱ مثل خود برے کام کرنا اور دوسروں کو نصیحت کرنا۔ خود رانی۔ ان۔ صف ۱۱۱ خود سری۔ سرکشی۔ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنا۔ خود راستے۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنی رائے پر چلنے والا۔ کسی کی نہ ماننے والا خود سر۔ خود رفتگی۔ ان۔ صف ۱۱۱ خودی۔ مدہوشی۔ بے خبری۔ خود رفتہ۔ ان۔ صف ۱۱۱ بے خبری۔ خود۔ جسے اپنے آپ کی خبر نہ ہو۔ خود رنگ۔ ان۔ صف ۱۱۱ طبعی رنگ والا۔ جس میں قدرتی رنگ ہو۔ خود روا۔ ان۔ صف ۱۱۱ بے بوئے اگا ہوا۔ اپنے آپ اگا ہوا۔ جنگلی (۲) ہے قاعدہ۔ بد تمیز۔ خود ساختہ۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنا بنایا ہوا۔ اپنا گھر ہوا۔ خود ستا۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنی تعریف آپ کرنے والا۔ اپنے منہ میاں مٹھو لینے والا۔ خود ستائی۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنی آپ تعریف کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو لینا خود سر۔ ان۔ صف ۱۱۱ خود راستے۔ سرکشی۔ ضدی۔ بھٹلا خود کمری۔ ان۔ صف ۱۱۱ خود رانی۔ سرکشی۔ نافرمانی۔ (۲) ضد بہت خود سے۔ اپنے آپ۔ از خود۔ خود بخود۔ مطلبی۔ خود کام۔ مطلب خود غرض۔ ان۔ صف ۱۱۱ اپنی غرض کا آشنا۔ مطلبی۔ خود کام۔ مطلب پرست۔ مطلبی۔ خود غرضی۔ ان۔ صف ۱۱۱ خود کامی۔ مطلب پرستی۔ اپنا دھابی نفسا





خون سر پر لہر کر لہوتا ہے ۱۱۔ مثل قتل چھپا نہیں رہتا  
خون سر پر لینا ۱۱۔ محاورہ ا قتل کا الزام لینا۔  
خون سفید ہونا ۱۱۔ محاورہ امر و محبت نہ رکھنا۔ محبت جاتی رہنا۔  
خون سوار ہونا ۱۱۔ محاورہ ا قتل پر آمادہ ہونا۔  
خون کا پیسا ۱۱۔ صفت ا جان کا لاگو۔ جانی دشمن۔ تشنہ خون  
خون کا جوش ۱۱۔ مذ وہ محبت جو خون کے رشتہ سے عزیزوں،  
رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔

خون کا بدلہ خون ۱۱۔ مقولہ ا جیسی خطا ویسی سزا۔ قصاص۔

خون کا دریا ۱۱۔ مذ بہت خون دیری۔

خون کا دورہ ۱۱۔ مذ خون کا جسم میں گردش کرنا۔ خون کا چکر۔ دوران  
خون کا عوض ۱۱۔ مذ قصاص۔ خون کا بدلہ۔  
خون کرنا۔ قتل کرنا۔

خون کبوتر ۱۱۔ مذ کبوتر کے خون جیسی شراب سرخ۔ نہایت سرخ  
خون کی بو آنا ۱۱۔ محاورہ ا گنتت دخن کی علامت ظاہر ہونا۔ دشمنی  
کی علامت ظاہر ہونا۔  
خون کے گھونٹ پینا ۱۱۔ محاورہ ا غم و غصہ کو برداشت کرنا۔ بڑے  
شدت سے کام لینا۔

خون گردن پر ہونا ۱۱۔ محاورہ ا قتل کا دم دار ہونا۔ قتل کرنا۔  
خون گردن پر سوار ہونا ۱۱۔ محاورہ ا ہاتھ دھو کر کسی کی جان لینے  
کے دیرے ہونا۔

خون گرفتہ ۱۱۔ صفت ا جل رسید۔ قتل کرنے کے قابل  
خون گشتہ ۱۱۔ صفت ا خون میں ڈوبا ہوا۔ ناکام۔  
خون لگنے کے شبیدوں میں داخل ہونا (مثل) ا نئے عمل سے بڑے  
دبے کا طالب ہونا۔

خون لہنا ۱۱۔ محاورہ ا فصد کرنا۔  
خون ملنا ۱۱۔ محاورہ ا ایک خاندان یا کنبے سے ہونا۔  
خون منہ کو لگ جانا (لگنا) ۱۱۔ محاورہ ا مزا پہنچانا۔  
خون میں تھانا ۱۱۔ محاورہ ا کثرت سے خون نکلنا۔ زیادہ زخمی ہونا۔  
خون نکلوانا ۱۱۔ محاورہ ا فصد کھلوانا۔

خون ہلکا ہونا ۱۱۔ محاورہ ا عورتیں اس بچے کے متعلق کہتی ہیں جس کو  
بڑی نظر لگ جلتے (۲) خون دیکھ کر گھرا جانا۔  
خون ہونا ۱۱۔ محاورہ ا زخمی ہونا۔ مجبور ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔ قتل ہونا۔  
خوناب خونابہ ۱۱۔ نخو۔ ناب ا خونابہ ۱۱۔ مذ (۱) خالص خون۔  
(۲) خون کے آنسو۔ پانی ملا ہوا خون۔ ۱۲۱۔ لال۔ سرخ۔

خونابہ فشانی ۱۱۔ صفت ا خون کے آنسو برسنا۔ خون رونا۔  
خونی (خونی) ۱۱۔ مذ (۱) وہ جس نے کسی کو مار ڈالا ہوا (۲) قاتل  
سفاک۔ ظالم۔ جلازم۔

خونی دست ۱۱۔ مذ ا ہوکے دست۔ خونی پیش۔

خونین (خونین) ۱۱۔ صفت ا خون آلود۔ سرخ۔ لال۔

خوپر ۱۱۔ صفت ا ہرے بھریا گھبوں۔

خوشیش انیش ۱۱۔ صفت ا (۱) قریب کا۔ رشتہ کا۔ اپنا (۲) مض ا حلو  
آپسہ (۳) ا ر [ داماد۔ جوالی۔  
خوشیش و اقارب ۱۱۔ مذ ا قریبی رشتہ دار  
خوشیا و ندر ا نھے۔ شاد۔ مذ (۱) ا ر [ تی۔ ۱۔ مذ خوشیش و اقارب۔

## خ. ہ.

خہے ۱۱۔ صفت ا (۱) کمر تھمیں [ واہ۔ مرحبا۔ آفرین۔ سبحان اللہ ہے

## خ. ی.

خیاباں ۱۱۔ صفت ا (۱) پھلوڑی۔ کیداری۔ (۲) بلخ کے درمیان  
سے گزرتا ہوا راستہ

خیار ۱۱۔ صفت ا (۱) ع۔ ۱۔ مذ کھیرا۔ کلکڑی۔ ۲۱۔ خیر کی جمع۔ نیک لوگ۔  
خیارین ۱۱۔ صفت ا (۱) ع۔ ۱۔ مذ خیار کا تشبیہ۔ کھیرے گلڑی دونوں  
کو کہتے ہیں۔

خیاط ۱۱۔ صفت ا (۱) ع۔ ۱۔ مذ کپڑے سینے والا۔ درزی۔

خیاطی ۱۱۔ صفت ا (۱) ع۔ ۱۔ مذ درزی کا پیشہ

خیال ۱۱۔ صفت ا (۱) ع۔ ۱۔ مذ (۱) تصور۔ وہ صورت جو آدمی بے داری  
میں تصور کرے۔ یا طراب میں دیکھے (۲) فکر۔ اندیشہ (۳) دھیان۔  
غور و محض (۴) ا ر [ سمجھ۔ رائے۔ (۵) منشا۔ اواہ (۶) توجہ۔ التفات  
(۷) ا و ہم۔ گمان۔ (۸) ایک ماگ کا نام (۱۱) مضمون (۱۰) پاس۔ لحاظ۔

جمع خیالات

خیال آنا ۱۱۔ مقولہ ا کھیا آنا۔

خیال باطل ۱۱۔ صفت ا جھوٹا خیال۔

خیال بانڈھنا ۱۱۔ محاورہ ا تصور کرنا۔ منصوبہ بانڈھنا سوچنا کسی بات کا  
برابر خیال کرنا۔

خیال بندی ۱۱۔ صفت ا (۱) ع۔ ۱۔ صفت ا سلسلہ خیالات۔ خیالی تصویر۔ سوچ۔  
خیال پر چھٹنا ۱۱۔ محاورہ ا یاد آنا۔ کسی بات کا یاد رہنا۔ ذہن نشین ہونا  
خیال بڑھنا ۱۱۔ محاورہ ا خیال ہونا۔ یاد آنا۔ شہ گزرا۔

خیال پھوڑنا ۱۱۔ محاورہ ا کسی دھیان کو ترک کرنا۔

خیال خام ۱۱۔ صفت ا (۱) ع۔ ۱۔ مذ کچا خیال۔ بیسودہ خیال۔ وہ خیال جس کے پورا  
ہونے کی امید نہ ہو۔

خیال دوڑنا ۱۱۔ محاورہ ا یکایک خیال کسی امر کی طرف جانا۔

خیال رکھنا ۱۱۔ محاورہ ا دھیان رکھنا۔ نہ بھولنا۔ یاد رکھنا۔ لحاظ رکھنا۔  
توجہ رکھنا۔ کسی کام کی فکر رکھنا۔

خیال سے آرزو جانا ۱۱۔ محاورہ ا یاد سے آرزو جانا۔ جھول جانا۔ فراموش  
کر دینا۔

خیال سے باہر ۱۱۔ صفت ا دور از خیال۔ جو سمجھ میں نہ آسکے۔

خیال فاسد ۱۱۔ مذ ا بڑا خیال۔ بے ہودہ خیال۔

خیال کرنا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) سوچنا۔ فکر کرنا (۱۲) قیاس کرنا۔ لحاظ کرنا (۱۳)  
دھیان کرنا۔

خیال میں غور کرنا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) دھیان میں لانا۔ پروا نہ کرنا۔ کچھ نہ سمجھنا۔  
(۲۱) نہ ڈرنا۔

خیالی (خ۔ ی۔ لی) (۱) ف۔ صفت [دعویٰ۔ قیاسی۔ نظنی۔  
خیالی پلاؤ پکاتا (۱۱۔ محاورہ) ایسی باتیں سوچنا جو ممکن نہ ہوں۔  
ختیام (خ۔ ی۔ یام) (۱) (ع۔ ۱۰۔ مذ) غیور بنانے والا۔ غیوروز۔ ایک مشہور فارسی  
شاعر کا خلق۔

خیانت (خ۔ ی۔ انت) (۱) (ع۔ ۱۰۔ مت) (۱) دغا۔ دھوکا۔ (۲) عین۔ نغیب  
بددیانتی۔ بے ایمانی۔ امانت میں چوری  
خیانت بھڑمانہ (قانون) وہ خیانت جو سرکاری جرم میں داخل ہو۔ اس مال  
کو دبا لینا جو کسی نے بطور امانت رکھا ہو۔

خیبر (ع۔ ۱۰۔ مذ) ہماچل کے ایک قلعہ کا نام جسے حضرت علیؑ نے فتح کیا تھا۔ (۲)  
خیبرستان اور افغانستان کو ملانے والا پہاڑی راستہ۔  
خیبر شکن (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) قلعہ خیبر کے فاتح۔ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ  
خیر (ع۔ ۱۰۔ مت) (۱) (ع۔ ۱۰۔ مذ) بھلائی۔ اچھائی (۲) برکت (۳) سلامتی۔ تندرستی۔  
عافیت (۴) طنز (۵) ٹھیک۔ بجا۔ درست۔

خیبر الامور اور وسطیا (مشکل) ہر کام کا اوسط بہتر ہوتا ہے۔ ہر کام میں  
میانہ روی بہتر ہوتی ہے۔

خیبر الانام (خیبر المشرق) مخلوقات میں سب سے بہتر۔ بہترین انسان رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے انقب۔

خیبر النساء (ع۔ ۱۰۔ مت) عورتوں میں سب سے بہتر۔ حضرت فاطمہؑ کا لقب  
خیبر اور (ع۔ ۱۰۔ مذ) بہترین مخلوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب  
خیبر اندیش (ع۔ ۱۰۔ ف۔ صفت) بھلائی چاہنے والا۔ خیبر خواہ۔ وہی خواہ  
خیبر باد (کلمہ ریخت) خدا حافظ۔ اللہ بلی۔  
خیبر باد کھنا (۱۱۔ محاورہ) (۱) رخصت کرنا (۲) کسی چیز کو ترک کرنا۔  
چھوڑ دینا۔

خیبر باشند (۱) خیر تو ہے؟ کسی کو گھبرا یا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں۔  
عجائب علانیہ یا شکایت دوستانہ کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

خیبر باشند کہ ہر کرم کیا۔ خیر تو ہے۔ کیونکر آنا ہوا (۱۱۔ محاورہ) کیا راستہ  
بھول گئے۔ خلاف عادت آئے کا سبب کیا ہے۔

خیبر برکت (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) (۱) برکت (۲) خوشحالی۔  
خیبر تو ہے (کلمہ نغیب) دیکھیے خیر باشند

خیبر جو ہوا سو ہوا (۱۱۔ مقولہ) اچھا ہوا۔ اب پھلی باتوں کو پھوڑو۔  
صلح کے بعد اگر کوئی فریق شکایت کرے تو کہتے ہیں۔

خیبر چاہنا (۱۱۔ محاورہ) بھلائی یا سلامتی چاہنا۔  
خیبر خیر (ع۔ ۱۰۔ مت) (۱) اچھی خبر۔ نیک خبر (۲) خیریت۔ خیر و عافیت  
خیبر سلا۔

خیبر خواہ (ع۔ ۱۰۔ ف۔ صفت) بھلائی چاہنے والا۔ خیبر اندیش۔ وہی خواہ  
خیبر خواہی (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مت) بھلائی چاہنا۔ بہتری چاہنا۔ خیبر اندیشی۔

خیبر سگالی (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مت) بھلائی سوچنا۔

خیبر سلا (عربی خیر و صلاح سے بگڑا ہوا ہے) (۱) خیریت۔ خیر و عافیت  
(۲) مزاج پرستی۔

خیبر سے (۱) خیر و عافیت سے صحیح و سلامت۔ (۲) طنز (۳) ماشاء اللہ۔  
خیبر سے کٹنا۔ خیبر سے گزرنا (۱۱۔ محاورہ) سلامتی سے بسر ہونا۔

خیبر گزرتا۔ خیبر تو ہوا (۱۱۔ محاورہ) آفت سے بچنا۔ دانگمانی صدمے یا حادثے  
سے بچنے کے موقع پر بولتے ہیں

خیبر گزری (۱۱۔ محاورہ) آفت سے بچ جانے پر کہا جاتا ہے۔  
خیبر مانگنا (۱۰۔ محاورہ) (۱) سلامتی چاہنا۔ بھلائی چاہنا (۲) توبہ کرنا۔  
مغفرت چاہنا۔

خیبر مقدم (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) استقبال (۲) وہ کلمہ جو کسی بزرگ یا عالی مرتبہ  
کے تشریف لانے کے وقت کہا جاتا ہے۔ خوش آمدید۔ آپ کا آنا مبارک

بہت اچھے آئے۔  
خیبر منانا (۱۱۔ محاورہ) بھلائی چاہنا۔ سلامتی چاہنا۔ دعائے نیک کرنا۔  
خیبر و عافیت (ع۔ ۱۰۔ مت) خیبر سلا۔ خیریت۔ سلامتی تندرستی۔

خیبر ہے۔ خیبر تو ہے (کلمہ نغیب) اُس جگہ بولتے ہیں جب کوئی بے عمل  
یا بے وقت کوئی کام کرتا ہے

خیبرت (ع۔ ۱۰۔ مت) (ع۔ ۱۰۔ مت) خیر کی جمع۔ نیکیاں۔ بھلائیاں۔  
(۲) [اُر] صدمہ۔ دان۔

خیبرت خانہ۔ محتاج خانہ۔ ننگر خانہ۔  
خیبرت داخل (۱۱) خیرت میں شامل۔ مثل خیرت کے صرف بجا۔

خیبرت دافع آفات ہے (۱۱۔ مقولہ) صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔  
خیبرت دینا (۱۱۔ محاورہ) خدا کی راہ میں دینا۔ صدقہ دینا۔ دان دینا۔

خیبرت کے فکڑے اور بازار میں ڈکارا (۱۱۔ مثل) امانگ مانگ کر گزرتا  
کرے اور اس پر شیشیاں مارے اس کے متعلق کہتے ہیں۔

خیبرتی (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) (ع۔ ۱۰۔ مت) خیرات سے منسوب صفت کا۔  
خیبرت (ع۔ ۱۰۔ مت) آنکھوں کے آگے (صدقہ) حیران۔ پریشان

خیبر (۱۲) بے شرم۔ گستاخ (۱۲) بے فائدہ۔ بے وجہ  
خیبر کی اچی۔ بڑی (۱) (ع۔ ۱۰۔ مت) (۱) چکا چوند۔ آنکھوں کے سامنے انہیل  
آجانے کی کیفیت (۲) بے حیائی۔ شوخ چٹھی۔

خیبر الائم (ع۔ ۱۰۔ مت) بہترین اُمت۔ اُمت مسلمہ۔  
خیبرو (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) [ع۔ ۱۰۔ مذ] خلی۔

خیبرو (ع۔ ۱۰۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) (ع۔ ۱۰۔ مت) (۱) تاریک (۲) بے جیا۔ شوخ چٹم (۳)  
حیران۔ پریشان۔

خیبرو چٹم (ع۔ ۱۰۔ مت) جس کی آنکھ میں چکا چوند ہو۔ چندھیایا ہوا۔  
شوخ چٹم۔ بے جیا۔ گستاخ۔ حیران۔ پریشان۔

خیبرو سرائگاہ (ع۔ ۱۰۔ مت) جس کی آنکھ میں چکا چوند ہو۔ چندھیایا ہوا۔  
شوخ چٹم۔ بے جیا۔ گستاخ۔ حیران۔ پریشان۔

خیبرو سرائگاہ (ع۔ ۱۰۔ مت) جس کی آنکھ میں چکا چوند ہو۔ چندھیایا ہوا۔  
شوخ چٹم۔ بے جیا۔ گستاخ۔ حیران۔ پریشان۔

خیبروت (ع۔ ۱۰۔ مت) (ع۔ ۱۰۔ مت) (۱) نیکی۔ بھلائی (۲) تندرستی۔  
سلامتی۔ جمعیت۔

<p>خیل خیل (ع۔ مذ) گروہ۔ جماعت۔ جماعت۔</p> <p>خیل خانہ (ق۔ ۱۰۔ مذ) خاندان۔ عجم۔</p> <p>خیلا (ط۔ لا) [اڑ۔ صفت] لغو۔ بے ہودہ۔ احمق۔ بے وقوف۔</p> <p>خیلا بنانا (ا۔ محاورہ) بے وقوف بنانا۔</p> <p>خیلا پانچیا (ا۔ مٹ) بھو بھڑ عورت۔</p> <p>خیلا پن اپنا (بے سلیقگی۔ بے وقوفی۔ حماقت۔ نادانی۔ پھوٹ پنی۔ خیلے بٹے۔ لے) [ف۔ صفت] بہت زیادہ۔</p> <p>خیم (ع۔ مذ) خیمہ کی جمع۔</p> <p>خیمہ اسف۔ مہ [ع۔ ۱۰۔ مذ] تینو۔ ڈیرہ۔ خرگاہ</p> <p>خیمہ ازرق (ع۔ مذ) نیلا خیمہ۔ آسمان۔</p> <p>خیمہ استادہ ہونا (ا۔ محاورہ) خیمہ کھڑا ہونا۔ خیمہ لگانا۔</p> <p>خیمہ دوز (ع۔ ف۔ مذ) تینو سینے اور بنانے والا۔ ختام</p> <p>خیمہ زن (ع۔ ف۔ صفت) خیمہ لگانے والا۔</p> <p>خیمہ گاہ (ع۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) لشکر گاہ۔ ڈیرہ۔ پڑاؤ۔ کیمپ</p> <p>خیمے ڈال دینا (ا۔ محاورہ) اتر پڑنا۔ چھانڈنی پھا دینا۔</p> <p>خیول (ع۔ مذ) خیل کی جمع۔ دیکھیے خیل</p>	<p>خیزات (فارسی مصدر خاستن) کا امر۔ کھٹ (۱۲) [مذ] اٹھنا۔ کودنا۔ دوڑنا۔</p> <p>حسٹ لگانا۔ (۱۳) اٹھانا۔ پیدا کرنا۔ (۱۴) پھلانگ (۱۵) پیدا کرنے والا۔</p> <p>مرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حیرت خیز۔ مردم خیز۔ وغیرہ</p> <p>خیزائ (ض۔ زان) [ف۔ صفت] اٹھا ہوا۔ کھڑا ہوا۔ نکلتا ہوا۔</p> <p>خیزگی۔ خیزی (ض۔ زش، ض۔ زی) [ف۔ ۱۰۔ مٹ] [۱۱] اٹھنا۔ کودنا</p> <p>۲۱ امرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فتنہ خیزی (۲۱) مجازاً معضو</p> <p>تناسل کی استادگی۔</p> <p>خیساندہ (ض۔ سان۔ ذہ) [ف۔ ۱۰۔ مذ] دوا جو بھگو کر پی جائے۔</p> <p>خیط (ع۔ مذ) دھاگا۔</p> <p>خیط الا بیض (ع۔ مذ) سفید دھاگا (۲۱) مہج کا اجالا۔</p> <p>خیط الاسود (ع۔ مذ) سیاہ دھاگا۔ (۲۱) شام کے بعد کی تاریکی۔</p> <p>خیف (ع۔ مذ) باپ کی جانب سے سونپنا بھائی۔</p> <p>خیفہ (طی۔ فا) [ع۔ ۱۰۔ مٹ] [۱۱] نظم یا نثر میں ایک لفظ نقطہ دار</p> <p>اور دوسرا بغیر نقطہ کے لانا (۲) وہ گھوڑی جس کی ایک آنکھ نیلی</p> <p>اور ایک سیاہ ہو۔</p> <p>خیل (ع۔ ۱۰۔ مذ) [۱۱] گروہ۔ جماعت (۲) بہت سے سوار بہت سے</p> <p>گھوڑے۔ (۳۱) گھوڑوں کا گتہ۔</p>
--	--







دارالحکامات - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) بدل ملنے کا گھر - عاقبت - مقام جزارد  
سزا (۲) دنیا -

دارالنعیم - (ع-۱-۱۰-۱) مذ مفتوں کا گھر بڑا بہشت -

دارالتکلیف - (ع-۱-۱۰-۱) مذ قیٹوں کے رہنے کی جگہ - تیم خانہ -

دارستش قدر - (۱) چھ دروازوں والا گھر (۲) دنیا جس کے چھ دروازے  
مشرق مغرب شمال جنوب اور اربوبینے ہیں -

دار - (ن-۱-۱) مذ (۱) سولی - وہ نوگدار کو لٹی جسے زمین میں میخ کی طرح گاڑ کر  
اُس پر مجرم کی جان لیا کرتے تھے (۲) فارسی لاحقہ بر معنی رکھنے والا جیسے  
آبادار - دلدار (۳) پھانسی -

دارباز - (ف-صفت) (۱) نٹ (۲) بازی گر - جو بانس پر چڑھ کر تماشا  
کرتا ہے -

داربست - (ن-۱-۱) مذ (۱) کوڑی کا باڑ جس پر بیٹھ کر معمار کام کرتے ہیں -  
(۲) ٹھاٹھ جس پر انگوڑی بیل چڑھاتے ہیں -

دار بر چڑھانا - (۱-۱) محاورہ سولی پر چڑھا کر قتل کرنا - پھانسی دینا -  
دارو کینتر - (ن-۱) مذ (۱) بکرہ دھو کر پربش - مواخذہ (۲) لڑائی کا شور  
کاجو (۳) شکل - وقت - آٹھٹار -

داروگیر کی صدا بلند ہونا - (۱-۱) محاورہ لڑائی کا شور ہونا -

دارو مدار - (ن-۱-۱) مذ (۱) بیج بجاؤ تصفیہ (۲) انحصار - فرار - موقوف  
قرار داد -

دارا سد - (ن-۱-۱) مذ (۱) رکھنے والا (۲) بڑا بادشاہ (۳) ایران کا مشہور  
ہنشاہ جو سکندراعظم کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا -

دارابی - (وا-را-بی) (ن-۱-۱) مذ (۱) سٹہ رتی جس سے توب کھینتے ہیں -

دارائی - (وا-را-ای) (ن-۱-۱) مذ (۱) ایک قسم کا کپڑا جسے دریائے بھی  
کہتے ہیں (۲) حکومت (۳) خدائی -

دارچینی - (وا-ر-چی-نی) (ن-۱-۱) مذ (۱) ایک درخت کی چھال جو دوا  
آدرسلے کے طور پر کام آتی ہے -

دار فلفل - (وا-ر-فل-فل) (ن-۱-۱) مذ (۱) دیکھے فلفل دروازے -

دارکش - (ن-۱-۱) مذ (۱) سولی پر چڑھانے والا - جلاد -

دارکو - (وا-ر-کو) (ن-۱-۱) مذ (۱) دوائی (۲) علاج - درماں - معالجہ - (۳)  
بارود (۴) شراب -

دارو درمن - (ن-۱-۱) مذ (۱) علاج معالجہ - دوا علاج -

داروئے بے ہوشی - (ن-۱-۱) صفت بے ہوشی کی دوا - وہ دوا جسے  
پھینکا کر بے ہوش کرتے ہیں -

داروغلی - داروغائی - (وا-روغ-لی) (وا-روغ-ای) (ن-۱-۱) مذ (۱)  
(۱) داروغہ کے عہدہ کا کام (۲) محاکمت - ہنگامی (۳) انضامی سرکاری -  
(۴) انتظام حکومت -

داروغہ - (وا-روغ-ہ) (ن-۱-۱) مذ (۱) محافظ - نگران (۲) کسی جماعت کا  
سر دار - ملازموں کا سردار (۳) قاتلہ دار - سب انہیکر پولیس -

داروغہ آبکاری - (ن-۱-۱) مذ (۱) مسکات کا داروغہ - نئے والی اشیاء کی  
نقل و حرکت - خرید و فروخت کی نگرانی کرنے والا انسر -

دارالاحقرت - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) دوسرا عالم - عاقبت -

دارالادب - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) تعلیم گاہ - درس گاہ - یونیورسٹی -

دارالاسلام - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) وہ ملک جس میں اسلامی سلطنت ہو -

دارالاقامہ - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) رہنے کی جگہ (۲) کالج کا ہوٹل - بورڈنگ ہاؤس

دارالامارت - دارالخلافہ - دارالسلطنت - دارالحکومت - (ع-۱-۱۰-۱) مذ

پایہ تخت - راہد جانی حکومت کا صدر مقام -

دارالامان - دارالامن - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) وہ مقام جہاں امن ہو -

دارالبعثا - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) جگہ رہنے کا گھر - اگھ جہان - آخرت -

دارالبنوار - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) طاقت کا گھر (۲) دوزخ -

دارالتفخیص - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) شفا خانہ کا وہ مقام جو خاص مریموں کو دیکھنے  
کے لیے ہوتا ہے -

دارالجبہ - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) عالم مکانات - اگھ جہان -

دارالخریب - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) وہ ملک جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو اور  
مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے سے روکا جائے -

دارالحکومت - دارالسلطنت - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) راہد جانی حکومت کا  
صدر مقام - پایہ تخت - بادشاہ کے رہنے کی جگہ -

دارالخلافہ - دارالخلافہ - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) مسلمانوں کے خلیفہ کا صدر مقام  
خلافہ کا مرکزی مقام -

دارالسور - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) خوشی کا گھر (۲) بہشت -

دارالسلام - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) سلامتی کا گھر (۲) بہشت -

دارالشیرع - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) عدالت - مجہری -

دارالشفاء - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) ہسپتال - شفا خانہ -

دارالشوری - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) دربار عام (۲) جلسہ عام کی جگہ (۳) لوگوں  
کے ایک جگہ بیٹھ کر باہم مشورہ کرنے کی جگہ -

دارالصحت - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) شفا خانہ صحت گاہ -

دارالصفا - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) صفائی کا گھر مرد خانہ کعبہ -

دارالغریب - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) محال -

دارالحکوم - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) تعلیم گاہ (۲) کالج (۳) یونیورسٹی -

دارالمعمل - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) عمل کی جگہ (مراون) دنیا -

دارالعوض - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) سزا کی جگہ -

دارالعیار - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) وہ جگہ جہاں کھرا کھوشا رو پیسہ پرکھا جاتا ہے دنیا  
دارالغیاث - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) موت کا گھر بڑا دنیا -

دارالھنون - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) کالج - یونیورسٹی -

دارالقرار - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) ٹھہرنے کی جگہ (۲) بہشت - جنت - فردوس -

دارالقضا - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) قاضی کی جگہ - عدالت -

دارالقہامہ - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) جگہ - قبیہ خانہ - کیسیوں کے رہنے کا مقام  
(۲) وہ جگہ جہاں سٹلا ڈالا جائے -

دارالکتب - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) کتاب گھر - کتب خانہ - لائبریری -

دارالکعبن - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) رنج و آلم کا گھر بڑا دنیا -

دارالمطابعتہ - (ع-۱-۱۰-۱) مذ (۱) مطالعہ کرنے کی جگہ - ریڈنگ روم -



دال نہ گلنا۔ (۱۔ محاورہ) کامیابی نہ ہونا۔

دال۔ (دع۔ صفت) را، دلالت کرنے والا (۲) راہ دکھانے والا (۳) معنی تیز پر معنی (۴) علامت۔ نشان۔

دالان۔ (دع۔ لان) دف۔ ۱۔ مذ۔ بڑا اور لمبا کمرہ جس میں محراب دار دروازے ہوتے ہیں۔

دالان در دالان۔ دوہرا دالان۔ آگے بچھے دو برابر کرے۔

دام۔ (دع۔ ۱۔ مذ) را، دمری۔ چھدام۔ کوڑی (۲) گنڈا۔ پیسے کا پچیسواں جو پیسوں جتہ۔ چار کوڑیاں (۴) قیمت۔ مول۔ زرخ۔ بھاؤ (۵) نقدی۔ رقم دولت۔ روپیہ۔

دام آوے کام۔ (۱۔ مثل) روپیہ بہت نامدہ مند ہوتا ہے۔

دام اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) را، خرچ کرنا (۲) امانت پونے قیمت لے لینا۔

دام اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) چیز بک جانا۔ قیمت حاصل ہونا۔

دام بھرا پانا۔ (۱۔ محاورہ) قیمت وصول ہونا۔ روپیہ وصول ہونا۔

دام بھرتا۔ (۱۔ محاورہ) تاوان دینا۔ قیمت ادا کرنا۔

دام پیٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) قیمت طے ہو جانا۔

دام پھیر لینا۔ (۱۔ محاورہ) قیمت واپس لے لینا۔

دام پچھانا۔ (۱۔ محاورہ) بھاؤ پھیرنا۔ قیمت طے کرنا۔

دام دام۔ کوڑی۔ کوڑی۔ پیسہ۔ پیسہ۔ کل رقم۔

دام دام ادا کیا۔ کل رقم ادا کی۔

دام دیجیے کام لیجیے۔ (۱۔ مثل) جو روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اس کا کام ہو جاتا ہے۔

دام دینا۔ (۱۔ محاورہ) قیمت ادا کرنا۔ مول ادا کرنا۔

دام کرائے کام۔ (۱۔ مثل) جو روپیہ خرچ کرے اسی کا کام ہوتا ہے۔

دام کھرے کرنا۔ (۱۔ محاورہ) نقد قیمت وصول کرنا۔

دام لگانا۔ (۱۔ محاورہ) را، قیمت مقرر کرنا (۲) رقم صرف ہونا۔

دام۔ (دع۔ ۱۔ مذ) را، حال۔ پھندا (۲) محاس کھانے والے صحرائی چوپائے۔

(۳) روپے کا چالیسواں جتہ۔ دواؤں کے تولنے کا ایک وزن (۴)

ایک قدیم سکہ۔ (۵) دھوکا۔ فریب۔

دام پچھانا۔ (۱۔ محاورہ) پھندا لگانا۔ حال لگانا۔

دام پلا۔ (دع۔ صفت) مصیبت کا پھندا۔ مصیبت۔

دام پلا سے رہائی پانا۔ (۱۔ محاورہ) مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا۔

دام ترویر۔ کمر کا جال۔ فریب کا پھندا۔

دام میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) فریب کھانا۔ دھوکا کھانا۔

دام میں پھنسانا۔ دام میں لانا۔ حال میں پھنسانا۔ بس میں لانا۔

دام و کو۔ (دع۔ مذ) بڑے اور درندے۔

دامے۔ درمے۔ قدمے۔ سٹخنے۔ (دع۔ متولد) ہر طرح امداد کرنا۔ روپیہ

پیسہ۔ جان اور زبانی ہر طریقہ سے مدد کرنا۔

دام۔ (دع) ہمیشہ رہے۔ دام رہے۔

دام اقبال کر۔ (دع۔ کلمہ) اقبال ہمیشہ رہے۔

دام ابر کا تہ۔ (کلمہ) حال، اس کی برکتیں ہمیشہ رہیں۔

داغا جانا۔ (دع۔ غا۔ جانا) (اُرمص) (۱) لوہے سے نشان کیا جانا (۲) توپ یا بندوق کا سر ہونا۔ چلایا جانا۔

داغنا۔ (دع۔ غا۔ نا) (اُرمص) (۱) چرکا دینا (۲) جلا کر ٹھل دینا (۳) گرم لوہے سے نشان ڈالنا (۴) توپ۔ بندوق یا پستول چھوڑنا۔ توپ سر کرنا۔

نیز کرنا (۵) چٹنی کھانا۔

داغنی۔ (دع۔ غنی۔ نی) (دع۔ ۱۔ مٹ) وہ لولایا لوہے کا وہ ٹھپتہ جس سے جانوروں کے بدن پر نشان ڈالا جاتا ہے۔

داغی۔ (دع۔ صفت) را، داغدار۔ دجبتے دار۔ جلایا ہوا (۲) معیوب عیبنا (۳) سزا یاب۔ سزا یافتہ۔ قید کھینکا ہوا (۴) شرمندہ۔

داغی غلام۔ وہ غلام جس کے بدن پر لوہے سے داغا ہوا ملکیتی نشان ہو۔

داغ۔ (دع۔ غ) (دع۔ صفت) مذ۔ داغ کرنے والا۔ دودھ کرنے والا۔ ہٹلنے والا۔ باز رکھنے والا۔

داغ البلیات۔ (دع۔ ۱۔ مذ) بلاؤں کو داغ کرنے والا۔ کنیتا خدا تعالیٰ۔

داغہ۔ (دع۔ غ) (دع۔ صفت) دودھ کرنے والی۔ خدا کے فضلہ کو دودھ کرنے والی قوت۔

داگہ۔ (دع۔ ۱۔ مٹ) انگوڑی ایک قسم جس کا رنگ سیاہ یا سرخی مائل سیاہ ہوتا ہے۔

دال۔ (دع۔ ۱۔ مٹ) ڈالا ہوا اناج جو سالن کے طور پر پکایا جاتا ہے جیسے جتنے کی دال (۲) کھڑنڈ۔ زخم کا انگوڑ (۳) آتش شیشہ کا وہ عکس جس سے آہنگ نکلتی ہے۔

دال بندھنا۔ (۱) کھڑنڈ بندھنا (۲) شاعروں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا۔

دال جو تپوں میں بٹنا۔ (۱۔ محاورہ) لڑائی ہونا۔ تھکا نصیبی ہونا۔ خانگی جھگڑا ہونا۔

دال چپاتی۔ (۱۔ مٹ) را، دال روٹی (۲) بچوں کو ڈرانے کا ایک فرضی نام

دال چپو ہونا۔ (۱۔ محاورہ) را، کھم کھٹا ہونا۔ باہم لپٹنا (۲) دو پیشگوں کا باہم

پید کر جانا۔

دال خورد۔ (۱۔ مذ) دال کھانے والا۔ (کلمہ) تھیرا بزدل۔

دال دلایا۔ (۱۔ مذ) را، معمولی خوراک۔ غریبوں کا سا کھانا دکھڑا کھا (۲)

ماہتر۔ تدمکی سوچی روٹی (۳) تھوڑا سا۔

دال دلیا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ نہ کچھ کام بن جانا۔

دال روٹی۔ (۱۔ محاورہ) را، غریبانہ خوراک (۲) رزق۔ روزی۔

دال روٹی سے (آسودہ) خوش۔ (دع۔ صفت) آسودہ حال۔ خوش حال۔

دال روٹی کر دینا۔ (۱۔ محاورہ) ہر وقت استعمال کر کے بے وقت کر دینا۔

دال روٹی کھاتے ٹوٹنا تو بھانڈ میں پڑے۔ (۱۔ مثل) اگر کفایت شعاری

کے باوجود کھانا نہیں ہوتا تو مر جانا بہتر ہے۔

دال فے عین۔ (۱۔ مٹ) دغ۔ دودھ کرنا۔ ہونا کے ساتھ۔

دال گلنا۔ (۱۔ محاورہ) را، دال پک جانا (۲) کامیاب ہونا۔ کام بن جانا۔

(۳) کسی جگہ دخل ہونا (۴) بناہ ہونا۔

دال میں کچھ کالا ہے۔ کچھ خرابی ہے۔ شک و شبہ کی بات ہے۔

مشکوٰۃ کے معاملہ ہے۔

دامن جھانڑنا - (۱) محاورہ (۱) دامن کو گردوغبار سے صاف کرنا (۲) کچھ پاس نہ رکھنا۔ خالی ہاتھ ہونا (۳) مہاسبہ سے پاک ہونا (۴) آزاد ہونا۔ تعلقات چھوڑ دینا۔

دامن جھٹک کر چلے جانا۔ دامن چھڑا کر جانا۔ (۱) محاورہ (۲) ناراض ہو کر چلے جانا۔ پزار ہو کر چلے جانا۔

دامن جھٹک کر کھڑا ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) نفرت کرنا۔ پزار ہونا۔

دامن جھٹکنا۔ (۱) محاورہ (۲) انگ ہونا۔ تعلق ترک کرنا۔

دامن چیلنا۔ دامن نکلنا۔ دامن پھٹ جانا۔

دامن چھٹنا۔ چھوٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) آزاد ہونا۔ تعلق نہ رہنا۔ بری الذمہ ہونا (۳) علمبرہ ہونا۔

دامن چھڑانا۔ (۱) محاورہ (۲) پھینچا چھڑانا۔ قطع تعلق کرنا۔

دامن وار۔ (۱) صفت (۲) چوڑا (۳) دامن والا۔

دامن دراز۔ (۱) صفت (۲) بے وقوف۔ احمق۔

دامن دولت۔ (۱) صفت (۲) بادشاہ یا امیر کا سہارا یا پناہ

دامن دھونا۔ دامن پاک کرنا۔ بدنامی دور کرنا۔

دامن سمیٹنا۔ سمیٹنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن کو ہاتھ سے اکٹھا کرنا (۳) کنارہ کشی کرنا۔

دامن سے بندھنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی کا ہورہنا (۳) کسی سے شادی ہو جانا۔

دامن سے لگا رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) ہر وقت ساتھ رہنا (۳) کسی سے وابستہ رہنا (۴) کسی کا حاجت مند رہنا۔

دامن سے منہ چھپانا (ڈھانکنا)۔ (۱) محاورہ (۲) شرمانا۔ شرمندہ ہونا۔

دامن شب۔ شب کا آخری نصف حصہ۔

دامن صبر۔ (۱) صفت (۲) صبر صبر کی طاقت۔

دامن قیامت۔ دامن محشر۔ (۱) صفت (۲) قیامت کا میدان۔

دامن کشال۔ (۱) صفت (۲) فخریہ انداز سے چلتے ہوئے (۳) ٹھکراتے ہوئے۔ چھوڑتے ہوئے۔

دامن کمر سے باندھنا۔ (۱) محاورہ (۲) کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا۔

دامن کوہ۔ (۱) صفت (۲) پہاڑ سے ظاہر میدان یا وادی۔

دامن کھینچنا۔ (۱) محاورہ (۲) روکنا۔ مزاحم ہونا۔ جانے نہ دینا۔

دامن کی ہوا دینا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی بے ہوش کو دامن سے نکلنا کرنا۔

دامن گردوانا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن اکٹھا کرنا (۳) توجہ ہٹا لینا۔

دامن گیر۔ (۱) صفت (۲) مدد جانے والا (۳) حمایت چاہنے والا (۴) مستفیض۔ مدعی (۵) مزاحم۔ روکنے والا (۶) چُپ کرانے والا۔

دامن گیر ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) مزاحم ہونا۔ معترض ہونا (۳) سر ہونا پچھا کرنا (۴) گردیدہ ہونا (۵) دادخواہ ہونا (۶) تنگ کرنا۔ دکھ دینا۔

دامن گیری۔ (۱) صفت (۲) حمایت چاہنا۔ مدد چاہنا (۳) دوستی۔ محبت (۴) استغاثہ۔ دعوئے۔

دامن لینا۔ (۱) محاورہ (۲) سہارا لینا۔ پناہ لینا۔

دامن محشر۔ (۱) صفت (۲) قیامت کا میدان۔

دامن میر کم۔ (۱) صفت (۲) گناہ سے ہے عصمت سے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

دامن نکلنا۔ (۱) محاورہ (۲) دامن نکلنا۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہے۔

فائق نرنا۔

دانت پلینا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ دکھانا (۲) اوپر اورد  
بچنے کے دانتوں کو آس میں رکھنا۔

دانت تلے انگلی دبانا۔ (۱- محاورہ) (۱) حیران ہونا (۲) تعجب کرنا۔  
(۳) افسوس کرنا۔

دانت تلے چلیچر دینا۔ (۱- محاورہ) ٹھہرنا۔ تھل کرنا تامل کرنا۔ صبر کرنا۔  
دانت تلے ہونٹ دبانا۔ (۱- محاورہ) غصہ میں ہونا۔ غصہ کرنا۔

دانت توڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دانت اکھاڑنا۔ دانت کے ٹکڑے کر دینا۔  
(۲) عاجز کرنا۔ کسی کام کا نہ رکھنا۔

دانت تیز کرنا۔ (۱- محاورہ) لالچ کرنا۔ حرص کرنا (۲) ایذا رسانی کا قصد کرنا  
دانت ٹوٹنا۔ (ص۔ مرکب) (۱) دانت کا گر جانا۔ دانت کا شکستہ ہو جانا  
(۲) بولا ہو جانا۔

دانت ٹوٹے، ٹکڑے اور پیٹھ بوجھ نہ لے آ (۱- مثل) بوڑھا ہو  
ایسے بوڑھے بیل کو کون باندھ جس نے آجانے پر جب اسے  
کسی مفاد کی توقع نہ ہو تو کوئی اسے منہ نہیں لگاتا۔

دانت بھڑھانا۔ (۱- محاورہ) دانت ٹوٹ جانا۔ دانت گرنا۔  
دانت چوسنے کی نذر کر دینا۔ (۱- محاورہ) دانت گر جانا۔ بچوں کی بات  
کہتے ہیں۔

دانت دکھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ڈرانا (۲) عظمت ظاہر کرنا۔ شہی مارنا۔ لگانا  
(۳) کھپائی ہنسی ہنسا۔

دانت دیکھنا۔ (۱- محاورہ) عمر کی شناخت کرنا۔  
دانت رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی چیز کی خواہش کرنا۔ کسی چیز کو لینے کا ارادہ  
رکھنا (۲) بدلہ یا انتقام لینے کا ارادہ رکھنا۔

دانت رسللانا۔ دانتوں میں ہلکا سا درد ہونا۔  
دانت سے دانت بچنا۔ (۱- محاورہ) سردی یا لڑ سے دانتوں کا  
آپس میں ٹکرا کر آواز دینا۔

دانت سے زبان کاٹنا۔ (۱- محاورہ) کوئی بات کہہ کر پھینکانا۔  
دانت کاٹی روٹی۔ (۱- مثل) بے حد دوستی۔

دانت کٹھنا۔ دانت کچکچانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہنایت خفا ہونا (۲)  
غصے سے دانت پینا۔

دانت کر کرے ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) کر کر ہٹ کے سبب دانتوں کا  
کام نہ دینا (۲) عاجز ہونا۔ پار ماننا۔ رک اٹھانا۔

دانت کریدنے کو ترکانہ نہ پینا۔ (۱- مثل) گھر میں کچھ نہ رہنا۔ سب  
اسب جاتا رہنا۔

دانت کڑکڑانا۔ (۱- محاورہ) دیکھنے دانت بچنا۔  
دانت گند ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کاشٹے والی شے کے دندانوں کا سخت  
چیز کو کاشٹے کے قابل نہ رہنا۔

دانت کھٹے کر دینا۔ (۱- محاورہ) عاجز کر دینا۔ ہمت توڑ دینا۔  
دانت کھٹے ہونا۔ (۱- محاورہ) ہمت لارنا۔ عاجز ہونا۔ جی جھوٹ جانا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) زخم لگانا۔ شہ مارنا (۲) لالچ کرنا تاک لگانے جیسا

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔  
دانت لگکانا۔ (۱- محاورہ) ہنایت غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔ غصہ ہونا۔

دانت مارنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) کاٹنا (۲) بھانجی مارنا۔ کسی شے کا حاصل کر لینا۔ قابو میں لانا۔

دانت نکالنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) اشرمندہ ہو کر ہنسنا (۲) بے موقعہ ہنسنا (۳) جوتی کے پھوسڑے نکل آنا۔ ٹانگے ٹوٹ جانا (۴) منت سماجت کرنا۔ بجز غائب کرنا (۵) بچوں کے لیے، دانت پیدا کرنا۔

دانت نکلنا۔ بچے کے دانت نمودار ہونا۔

دانت ٹکوسنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) دانت نکالنا۔ دندے کا ٹھٹھے یا عاجزی سے دانت دانت نہ لگانا۔ ۲۔ محاورہ (۲) ثابت نکل جانا۔ بغیر چبائے نکل جانا۔

دانت ہونا۔ ۱۔ محاورہ (۱) کسی چیز کی بہت خواہش ہونا (۲) صدر پہنچانے کا ارادہ ہونا (۳) دانتوں کا موجود ہونا (۴) تاک میں ہونا۔ (۵) عداوت ہونا۔

دانتوں اُنکلی کاٹنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) ناراض ہونا۔ غصے ہونا (۲) افسوس کرنا تاسف کرنا (۳) حیران ہونا۔ متوجہ ہونا۔

دانتوں پر ہونا۔ ۱۔ محاورہ (۱) بچے کا دانت نکلنے کے قریب ہونا۔

دانتوں نیلے انگلی داہنا (کاٹنا)۔ ۱۔ محاورہ (۱) تعجب ہونا۔ حیرت میں آنا۔

دانتوں پڑھنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) کوکے سننا (۲) ٹوک میں آنا (۳) ہوجب رشک ہونا۔

دانتوں سے پکڑنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) سخت کبوتری کرنا (۲) حصول مطلب کے لیے بے حد کوشش کرنا۔

دانتوں سے پسینہ آنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) مشکل کام کرنے سے عاجز آنا۔

دانتوں سے زمین پکڑنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ زمین کو مضبوط پکڑنا۔

دانتوں سے کوڑھی اُکھٹانا۔ ۱۔ محاورہ (۱) سخت کبوتری کرنا۔

دانتوں سے ہاتھ کاٹنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) سخت افسوس کرنا (۲) سخت غصے میں ہونا۔

دانتوں سے ہونٹ چباننا۔ افسوس حیرت یا غصے میں ہونا۔

دانتوں کا جوکا۔ ۱۔ مذ (۱) بچے کے اگلے چار دانت جو ایک جیسے جوتے ہیں دانتوں کے نیچے زبان دباننا۔ ۱۔ محاورہ (۱) کہتے کہتے زبان روک لینا حیرت۔ تعجب اور افسوس ظاہر کرنا۔

دانتوں میں انگلی دباننا۔ ۱۔ محاورہ (۱) حیرت۔ افسوس۔ گھبراہٹ یا شرم ظاہر کرنا۔

دانتوں میں تینکا لینا۔ ۱۔ محاورہ (۱) عاجزی کرنا (۲) امان مانگنا۔ (۳) اطاعت کرنا۔

دانتوں میں زبان کی طرح رہنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) دشمنوں میں رہ کر بچے رہنا۔

دانتا۔ (دال - تا) (س - ا - مٹ) فیاضی۔ داد و دہش۔ دان پُر (۵ - ا - مذ) دنانہ۔ خار۔

دانتا بابے گھر پڑے اور کھانڈا بابے رُن پڑے۔ (مثل)

زبان درازی سے گھر میں لڑائی رہتی ہے اور ہنسی مذاق میں دوستوں سے دشمنی ہوجاتی ہے۔

دانتا کلکل۔ (۵ - ا - مٹ) (۱) جھگڑا۔ تکرار۔ لڑائی۔ مٹنا۔ تصفیہ۔ مناشہ۔ دنگ فساد (۲) کج بھئی۔ نکتہ چینی۔ حرف گیری۔ عیب جوئی۔

دانتین۔ (دان - تن) (۵ - ا - مٹ) سواک۔

دانتو۔ (دال - تو) (۵ - ا - مذ) آگے کو نکلے ہونے یا بڑے بڑے دانتوں والا مرد۔

دانتو۔ (دال - تو) (۵ - ا - مٹ) آگے کو نکلے ہوئے یا بڑے بڑے دانتوں والی عورت۔

دانتو۔ (دانت - وا) (۵ - ا - مذ) پھکڑے کے پھلے حصے میں اسباب رکھنے کی جگہ۔

دانتی۔ (دال - تی) (۵ - ا - مٹ) (۱) بیسی۔ دانتوں کا جوکا (۲) درانتی یعنی گھاس کاٹنے کا اوزار۔ ہنسیا (۳) آرسے کا دندانہ۔

دانتے۔ (دال - تے) (۵ - ا - مذ) دندانے۔

دانتے پڑ جانا۔ دندانے پڑ جانا۔ دھار گر جانا۔

دانبتیا۔ (دال - بت - یا) (۵ - ا - مذ) (۱) ایک قسم کا ننگ جو تبا کو کو تیز کرنے کے کام آتا ہے (۲) دانتوں کا مین۔

دانست۔ (وا - نست) (۵ - ا - مٹ) (۱) دانش۔ واقفیت۔ علم شناست سمجھ۔ ادراک۔

دانستہ۔ (وا - نس - تہ) (ف - صفت) [جانا ہوا۔ بچانا ہوا۔ جان بوجھ کر۔ دانش۔ (وا - نش) (ف - ا - مٹ) علم عقل۔ دانائی۔ حکمت۔ ادراک۔

دانیش مند۔ (ف - صفت) عالم۔ فاضل۔ عاقل۔ ہوشیار۔ سمجھ دار۔ زیرک۔

دانیش مندانہ۔ (ف - صفت) عقل مندوں کی طرح۔

دانیش مندی۔ (ف - ا - مٹ) (۱) دانائی عقل مندی۔ ہم دہراست حکمت۔

دانیش ور۔ (ف - صفت) عقل مند۔ اہل علم۔ ذہین۔ (انگ (Intelligent)

دانش وری۔ (ف - ا - مٹ) عقل مندی۔ دانائی۔ حکمت۔

دانگ۔ (ف - ا - مذ) (۱) پھرتی کا وزن۔ مشقال یا دروم کا چوتھا حصہ (۲) طرف بہمت۔ جانب (۳) کسی شے کا چھٹا حصہ (۴) حصہ ٹکڑا (۵) (۱) پہاڑی چٹان (۲) چوٹی (۳) دریا کا اُوندھا کنارہ۔

دانوری۔ (دال - وری) (۵ - ا - مٹ) وہ رسی جس سے غلہ اڑاتے وقت نیل باندھتے ہیں۔

دانہ۔ (وا - نہ) (ف - ا - مذ) (۱) اناج۔ غلہ (۲) بیج۔ تخم (۳) گول ٹکڑا۔ (۴) انگوٹیا یا م کا پھیل (۵) چھوٹی پینسی (۶) چھوٹے اور گول کنکو۔ پتھر (۷) پالنے۔ چھوٹی چھوٹی گڑیاں (۸) خشخاش (۹) چنا (۱۰) کچی وغیرہ کا ذرہ۔

دانہ اُکھٹانا۔ ۱۔ محاورہ (۱) پرندوں کا دانہ چکنا۔

دانہ اُکلنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) پرندہ کا پوٹے سے دانہ نکالنا۔

دانہ پھکانا۔ ۱۔ محاورہ (۱) پرندوں کو کولنے کے لیے حال کے نیچے دانہ ڈالنا۔

دانہ بدلنا۔ ۱۔ محاورہ (۱) پرندوں کا ایک دوسرے کو منہ سے دانہ نکال کر کھلانا۔



داڑھہ - (دا۔ بر۔ سر۔) ۱۔ (۱) مذ (۱) معلقہ کنڈل۔ پکڑ۔ دور۔ محیط (۲) منڈلی۔  
 عیلمس (۳) اقلیدس کی شکل (۴) خانقاہ۔ ڈبرہ۔ مکر۔ ٹولہ (۵) ڈغلی۔  
 ایک باجر کا نام جو ایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ چنگ (۶) ترفوں  
 کی گولائی جسے چ یاغ کا دائرہ۔ جمع : دواڑ۔  
 دائرہ اہلیار۔ (ع۔ ۱۔) مذ معلقہ اختیار۔ وہ علاقہ جس میں کسی کو کسی قسم  
 کا اختیار حاصل ہو۔ حدود اختیارات۔  
 دائرۃ المعارف - (ع۔) مذ معلومات عامہ کی کتاب۔ وہ کتاب جس میں  
 بترتیب حروف تہجی مختلف موضوعات یا کسی خاص موضوع کے متعلق  
 تمام معلومات جمع کر دی گئی ہوں۔ مخزن العلوم۔  
 دائرہ قطبی - (ف۔ ۱۔) مذ وہ فرضی خط جہاں سے قطب شمالی اور جنوبی  
 کی مدد شروع ہوتی ہے۔  
 دائرہ کش - (ع۔ ف۔) مذ بیکار۔  
 دائرہ کھینچنا - (ع۔) صفت بیکار سے دائرہ بنانا۔  
 دائرہ وسیع ہونا - (۱) محاورہ (۲) سوخ زیادہ ہونا۔ بہت سے لوگوں سے ملنا ہونا  
 دائرہ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) (۱۳۵۳) (۱۳۵۴) (۱۳۵۵) (۱۳۵۶) (۱۳۵۷) (۱۳۵۸) (۱۳۵۹) (۱۳۶۰) (۱۳۶۱) (۱۳۶۲) (۱۳۶۳) (۱۳۶۴) (۱۳۶۵) (۱۳۶۶) (۱۳۶۷) (۱۳۶۸) (۱۳۶۹) (۱۳۷۰) (۱۳۷۱) (۱۳۷۲) (۱۳۷۳) (۱۳۷۴) (۱۳۷۵) (۱۳۷۶) (۱۳۷۷) (۱۳۷۸) (۱۳۷۹) (۱۳۸۰) (۱۳۸۱) (۱۳۸۲) (۱۳۸۳) (۱۳۸۴) (۱۳۸۵) (۱۳۸۶) (۱۳۸۷) (۱۳۸۸) (۱۳۸۹) (۱۳۹۰) (۱۳۹۱) (۱۳۹۲) (۱۳۹۳) (۱۳۹۴) (۱۳۹۵) (۱۳۹۶) (۱۳۹۷) (۱۳۹۸) (۱۳۹۹) (۱۴۰۰) (۱۴۰۱) (۱۴۰۲



## د۔ ب۔

دُب (د۔ ب۔ ا۔ ع۔ ۱۔ ۱۰) دُب (۱) کچھ (۲) قطب شمالی کے قریب کچھ سے مشابہ کچھ ستاروں کے مجموعے جن میں سے بڑے کو دُب اکبر اور چھوٹے کو دُب اصغر کہتے ہیں۔

دُبِ اکبر۔ دُبِ اصغر۔ (ع۔ ۱۔ ۱۰) دُب دیکھیے دُب نمبر ۲۔

دُب۔ (دق۔ صفت) دباؤ (۲) دبا کا امر۔

دُب آنا۔ (۱۔ محاورہ) بڑھ آنا۔ آگے بڑھنا۔

دُب جانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز کے نیچے آجانا۔ مغلوب ہوجانا۔

دُب دبا جانا۔ (۱۔ محاورہ) معاملہ رفت گذشت ہوجانا۔

دُب کر (کے)۔ (۱) مرعوب ہوجانا۔ ڈر کر۔

دُب کے چلنا۔ (۱۔ محاورہ) کتر کے چلنا۔ ڈرک کے چلنا۔

دُب نکلنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عاجز ہوجانا۔ پست ہوجانا (۲) مغلوب ہوجانا (۳) ڈر جانا۔

دُبا۔ (د۔ با۔ ۱۔ ۱۰) (۱) گرنا ہوا (۲) تاک لگائے ہوئے (۳) ڈرا ہوا۔ رُعب

میں آیا ہوا (۴) قابو میں آیا ہوا (۵) ڈگا ہوا (۶) زیر۔

دُبا بننا۔ پورا ٹولے۔ (پیش) جب کسی پر دباؤ پڑے تو وہ حق ادا کرتا ہے۔

دُبا بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دلچ لپنا (۲) مال مار لینا۔ زبردستی قبضہ کر لینا۔

دُبا جانا۔ (۱۔ محاورہ) چھپا جانا۔ نظروں میں نہ آنے دینا۔

دُبا دیا یا۔ (۱۔ صفت) دبا ہوا۔ گرا ہوا۔ چھپا ہوا (۲) مغلوب ہوجانا۔

دُبا دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گاڑ دینا (۲) فرو کر دینا۔ روک دینا (۳) چھپا دینا۔

دُبا ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات کو چھپا دینا (۲) کسی تحریک کو کچل دینا۔

دُبا رہنا۔ (۱۔ محاورہ) مغلوب رہنا۔ دبا رہنا۔ چھپا رہنا۔

دُبا کر۔ جبر سے۔ زبردستی سے۔ محکم سے۔

دُبا لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مال مار لینا (۲) دلچ لپنا (۳) مغلوب کر لینا۔

دُبا۔ (دب۔ با۔ ۱۔ ۱۰) (۱) درخت کی شاخ جس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں کہ

بڑیں نکال کر نیا پودا بن جائے (۲) گھات۔ تاک (۳) غوطہ۔

دُبجی۔

دُبا مارنا۔ (۱۔ محاورہ) گھات لگانا۔ تاک میں بیٹھنا۔

دُبا زیت۔ (ع۔ ۱۔ ۱۰) (۱) گندگی۔ گنداپن (۲) موٹاپن۔ موٹائی۔ حجم۔

دُبا سٹی۔ (دق۔ ۱۰) (۱) دوزخ میں جانے والا۔ دو بھاشی۔ ترجمان۔

دُبا س۔ (دب۔ با۔ ۱۰) (۱) چڑھ بنانے والا۔ چرم ساز۔

دُبا سخت۔ (دب۔ با۔ ۱۰) (۱) چڑھ کمانا۔ چڑھ کمانے کا فن۔

چرم سازی۔

دُبا نا۔ (دب۔ با۔ ۱۰) (۱) مصل (۲) گاڑنا۔ چھپانا۔ دفن کرنا (۳) بیج بونا (۴)

مغلوب کرنا۔ مال مارنا۔ زبردستی قبضہ کرنا (۵) تنگ کرنا (۶) دباؤ

ڈالنا (۷) ناراض ہونا (۸) ٹھوٹنا۔ زور سے بھرنا (۹) کمی کرنا۔

(۱۰) بدن کو پتی کرنا (۱۱) شکست دینا (۱۲) تعاقب کرنا (۱۳) دبوچنا۔

(۱۴) چھیننا۔

دُباؤ۔ (دب۔ با۔ ۱۰) (دہ۔ صفت) (۱) بوجھ۔ بار۔ وزن۔ زور۔ ظہر (۲) خوف۔

دہشت (۳) رعب (۴) روک۔ پابندی (۵) عزت۔ حرمت (۶)

اطاعت۔ رضا جوئی (۷) جھکاؤ۔

دُباؤ ڈیڑھنا۔ (۱) اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بوجھ ڈالنا۔ زور ڈالنا (۲) جبر کرنا

سختی کرنا (۳) رعب ڈالنا۔

دُباؤ کھانا۔ (۱۔ محاورہ) رعب ماننا۔

دُباؤ ماننا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اطاعت کرنا (۲) رعب ماننا۔

دُباؤ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بوجھ ہونا۔ زور ہونا (۲) رعب ہونا۔ اثر ہونا۔

(۳) روک ہونا۔ پابندی ہونا۔

دُباؤ۔ (۱۔ صفت) بھاری۔ بوجھل۔

دُباؤ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) چھپا کر رکھنا۔ ظاہر نہ ہونے دینا۔

دُبتے کو سب دباتے ہیں۔ (پیش) غریب کو سب ستاتے ہیں۔

دُبدبہ۔ (دب۔ دب۔ ۱۰) (۱) شور۔ آواز (۲) رعب۔

شان۔ شوکت۔

دُبدبہ بٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) رعب جمانا (۲) خوف زدہ کرنا۔

دُبدبہ دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) رعب دکھانا۔

دُبدبھا۔ (دب۔ دھا۔ ۱۰) (۱) تذبذب۔ شک۔ شبہ۔ پس و پیش۔

(۲) گھبراہٹ۔ پریشانی (۳) دم۔ دوسرے۔

دُبدھامیں دونوں گئے۔ مایا میں نہ آرام۔ (پیش) شکی آدمی ہمیشہ

نقصان اٹھاتا ہے۔

دُبر۔ (دب۔ بر۔ ۱۰) (۱) مٹا۔ (۲) پیٹھ۔ پیچھا۔ پشت (۳) کسی چیز کا پھلنا۔

دُبر۔ (۳) چوڑا۔ گانڈ۔ مقعد۔ سفرو۔ کون۔

دُبرو گھسٹو۔ (دب۔ ڈو۔ گھس۔ ڈو) (۱) معنی (۲) بڑول۔

دُبروک۔ (۱۳) شکی (۱۴) زبردستی گھسا ہوا۔

دُپستان۔ (دب۔ پس۔ تان۔ ۱۰) (۱) سکول۔ مدرسہ۔ مکتب۔

دُپستانی۔ (دب۔ پس۔ تان۔ ۱۰) (۱) طالب علم (۲) سکول

کے متعلق۔

دُبق۔ (ع۔ ۱۰) (۱) لاسہ جس سے جانوروں کو پکڑتے ہیں (۲)

سرسپس۔

دُبک۔ (دبک۔ ۱۰) (۱) ڈانٹ۔ (۲) دھکی (۳) دُکنا کا امر۔

دُبک آنا۔ دُبک بیٹھنا۔ دُبک (جاننا) رہنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پیٹ

زمین سے لگا کر بیٹھنا۔ گھات میں بیٹھنا (۲) چھپنا۔ چھپ کر چلے آنا۔

دُبک شیرے کے منگے میں۔ (پیش) موقع ملاخت سے نہ جانے دینا۔

دُبکا۔ (دب۔ کا۔ ۱۰) (۱) چوہے مارنے کا آلہ (۲) ڈرا ہوا (۳)

کسی کو ڈرا۔ دھکی دے۔

دُبکانا۔ (دب۔ کانا۔ ۱۰) (۱) چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ (۲) روکنا۔

(۳) دباننا۔ ناراض ہونا (۴) دھکانا۔ ڈرانا (۵) سینے

سے لگانا۔

دُبکنا۔ (دبک۔ نا۔ ۱۰) (۱) چھیننا۔ رُو پوش ہونا (۲) ڈرنا۔ ٹنہ

پھیرنا (۳) سونے چاندی کے تاروں کو کوٹ کوٹ کر جوڑنا کرنا۔

دبے پر چوٹی بھی کاٹتی ہے۔ (ایشل) تنگ اگر کمزور بھی حملہ کر دیتا ہے۔  
 دبے پر سب شیریں ہیں۔ (ایشل) کمزور پر سب حکم چلاتے ہیں۔  
 دبے رہنا۔ (۱-۱) عاودہ، بوجھ کے نیچے رہنا۔ مغلوب رہنا۔  
 ڈبے۔ (دب - بے) (۱-۱) مذ (۱) دو دید جاننے والا بہن۔  
 ڈبیر۔ (ڈبیر) (ع-۱-۱) مذ (۱) مصنف۔ مؤلف۔ انشا پرداز (۲) منشی۔ محرز۔  
 راقم۔ سیکریٹری (۳) ہنڈیاں تصدیق کرنے والا (۴) منسٹر (۴) مشہور شاعر  
 مرزا سلامت علی گھنوی کا تخلص۔  
 دبیر الحکومت۔ (ع-ص) (۱) سیکریٹری آف سیٹلٹ (۲) شاہی محرز۔  
 (۳) عہد منغلیہ کا ایک خطاب۔  
 دبیر فلک۔ (ع-ف-۱) مذ (۱) ستارہ عطارد۔  
 دبیز۔ (دبیز) (ف-ص) موٹا۔ گت۔ مضبوط۔  
 دبیل۔ (دبیل) (۱) ص (۱) ماتحت۔ تابع (۲) کمزور۔ ضعیف۔

## دب

دبانہ۔ (دب - مص) روشن کرنا۔ چراغ جلانا۔  
 دبٹ۔ (دب - پٹ) (۱) ص (۱) دوش (۲) جھپٹ (۳) گھر کی۔  
 دبٹانا۔ (دب - ٹانا) (۱) ص (۱) سر پٹ دوڑانا (۲) حملہ کرنا۔ ڈاشنا۔  
 دبٹنا۔ (دب - پٹ) (نا) (۱) ص (۱) حملہ کرنا۔ بڑ کرنا (۲) ڈاشنا۔ دھمکانا۔  
 (۳) تیز چلانا۔

## دب

دب۔ (۱) ص (۱) مذ (۱) عطا کیا ہوا۔ ہبہ کیا ہوا (۲) ویش قوم  
 کے ہندوؤں کا نام۔  
 دب۔ (۱) ص (۱) مذ (۱) دور۔ پرے۔ ہٹ (۲) گئے کو جگانے کی آواز  
 دب تیرے کی۔ (۱) ص (۱) مذ (۱) تیرے کی۔  
 دب تکار۔ (۱) ص (۱) مذ (۱) دھتکار۔ لعنت۔ ملامت۔ گھر کی۔  
 دب تکارنا۔ (۱) ص (۱) مذ (۱) دھتکارنا۔ گھر کرنا۔ لعنت ملامت کرنا۔  
 دب ترا۔ (دب - ترا) (نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) لڑائی کا بڑا پنجہ جس سے گھاس اکھی کرتے ہیں۔  
 دب تو۔ (دب - تو) (۱) ص (۱) مذ (۱) پتوں کا ایک ڈھیر اونی والا کپڑا۔  
 دب توں۔ (دب - توں) (۱) ص (۱) مذ (۱) دان۔ مسواک۔

## دب

دبنا۔ (دب - نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) وہ کپڑا جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنا

دبکشی۔ (دب - ک - ای) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) مسلمان بنانے کے لیے تار کے کونے کا  
 کام تار کے کونے کا پیشہ۔  
 دبکی۔ (دب - کی) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) مس (۱) گھات۔ تاک۔  
 دبکی لگانا۔ دبکی مارنا۔ (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانا۔  
 دبکیا۔ (دب - کی) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانا۔  
 (۲) دبکی۔  
 دبکیل۔ (دب - کیل)۔ (دب - کیل) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 دبگر۔ (دب - گر) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 بنائے (۲) دھائیں بنانے والا (۳) گتے بنانے والا۔  
 دبلا۔ (دب - لا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 دبلا یا۔ (دبلا - یا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 دبلا کرنا۔ (دبلا - نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 کمزور کرنا۔

دبلی۔ (دب - لی) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔

دبنا۔ (دب - نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 (۲) دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔  
 دبنا۔ (دب - نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 (۲) دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔  
 دبنا۔ (دب - نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 (۲) دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔

دبونا۔ (دب - نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 (۲) دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔  
 دبونا۔ (دب - نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 (۲) دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔  
 دبونا۔ (دب - نا) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 (۲) دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔

دبلی۔ (دب - لی) (۱) ص (۱) مذ (۱) مس (۱) گھات لگانے والا۔  
 دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔  
 دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔  
 دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔  
 دہلی بلی جو ہوں سے کان کٹوائی ہے۔ (دبلی) زبردست قابو میں  
 اگر کمزور کا تابع ہو جاتا ہے۔





دُر بارہ - (ف) نسبت - بابت۔  
 دُر بستہ - (ف) صفت) بندھا ہوا، جکڑا ہوا۔  
 دُر بردہ - (ف) (۱) خینہ طور پر پوشیدہ (۲) غائبانہ - پیٹھ پیچھے۔  
 دُر لیے - (ف) (۱) گھات میں (۲) خواہاں - پیچھے۔  
 دُر لے آزار - (ف) صفت) تکلیف پہنچانے کے خیال میں، صدمہ پہنچانے کا خواہاں۔  
 دُر لے جان - (ف) - (ع) صفت) کسی کی جان لینے کے لیے اسکے پیچھے لگا ہونا۔  
 دُر لیے ہونا - (۱) - (ع) مادہ) بھیجا کرنا۔ گھات میں ہونا۔  
 دُر پیش - (۱) - (ع) سامنے، رُو برُو۔ آگے (۲) زیر بحث - زیر تجویز۔  
 دُر پیش آنا - (۱) - (ع) مادہ) لاحق ہونا۔ واسطہ پڑنا۔  
 دُر حالیکہ - (ف) اس صورت میں - اس حال میں - یہ لحاظ کر کے۔  
 دُر حقیقت - (ف) حقیقت میں - اصل میں۔  
 دُر دست - (۱) - (ع) قبضہ میں۔  
 دُر عمل کوشش ہر سچ خواہی پوش (ف) پیش اعمال اچھے ہونا لازم ہے۔  
 لباس چاہے کیسا ہی ہو۔  
 دُر کار - (ف) صفت) ضروری، مطلوب۔  
 دُر کار ہونا - (ف) صفت) مطلوب ہونا۔  
 دُر کار خیر حاجت بیج استخارہ نیست - (ف) پیش اچھے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔  
 دُر کنار - (ف) صفت) علاوہ (۲) جدا - الگ (۲) نسل میں - ہم نسل۔  
 دُر گرفت - (ف) صفت) (۱) قبضہ میں (۲) پکڑ میں۔  
 دُر گور - (ف) صفت) (۱) لب مرگ (۲) مرلیں جو کچھ مرے کا جہان ہو۔  
 دُر لانا - (ف) صفت) (۱) اندیا نیچے لانا (۲) شامل کرنا۔  
 دُر میان - (ف) - (۱) - (۲) بیچ - وسط (۲) بیچ میں - وسط میں (۳) سامنے خیال میں (۴) دوران میں - میں متعلق - اندر۔  
 دُر میان آنا - (۱) - (ع) مادہ) (۱) بیچ میں پڑنا (۲) واقعہ جہاں (۳) مداخلت کرنا۔  
 دُر میان دینا - (۱) - (ع) مادہ) (۱) صنایع دینا - بیچ میں ڈالنا۔  
 دُر میان لانا - (۱) - (ع) مادہ) (۱) بیچ میں لانا۔ گفتگو میں ذکر کرنا - پیش کرنا۔  
 دُر میانی - (ف) صفت) (۱) بیچ کا - جو بیچ میں آجائے (۲) معمولی - اچھا (۳) اندرونی - اندکا (۴) جو اندر ہو (۵) صلح کرانے والا۔  
 دُر و بست - (ف) - (۱) - (۲) بالکل - تمام - انتظام۔  
 دُر یافت - (۱) - (ع) نقیض - تحقیق - ٹوہ (۲) جانچ - پڑتال۔  
 دُر یافت طلب آمر - (ف) - (۱) - (۲) بوجھے والی بات۔  
 دُر یافت کرنا - (۱) - (ع) مادہ) تحقیق کرنا - معلوم کرنا - پتا لگانا - کھوج لگانا استفسار کرنا - پوچھنا۔  
 دُر یافت گندہ - (ف) - (۱) - (۲) دریافت کرنے والا نقیض کرنے والا۔  
 دُریش - اس میں۔  
 دُریش اثنا - اسی عرصے میں۔  
 دُریش چہ شک - (ف) - (ع) مادہ) اس میں کیا شک ہے۔  
 دُریش صورت - (ف) - (۱) - (۲) اس صورت میں - اس حالت میں۔

دُر - (۱) - (۲) نرغ - بھاؤ (۲) عزت - آبرو - قدر۔  
 دُر پڑنا - (۱) - (ع) مادہ) نرغ مقرر کرنا - قیمت مقرر کرنا۔  
 دُر - (۱) - (۲) صفت) خراب - بُرا - بد قسمت - گھٹیا (۲) دُر ہٹ - پُرے ہٹ - کھڑے تختیر (۳) زیادہ (۴) (ف) دُر بچن - (۱) کھوئی بات - بُری بات - بدگامی - بد زبانی (۲) بد لگام - مُنہ بھٹ - مُنہ کا پھوٹنا - دریدہ دہن۔  
 دُر دُر کرنا - (۱) - (ع) مادہ) دھتکارنا۔  
 دُر دُر پھٹ کرنا - (۱) - (ع) مادہ) لعنت ملامت کرنا - دھتکارنا۔  
 دُر دُر ہونا - (۱) - (ع) مادہ) (۱) دھتکار پڑنا (۲) نکالا جانا (۳) نفرت کرنا۔  
 دُر کامی - (۱) - (ع) صفت) بد چلن - بدکار۔  
 دُر کند - (۱) - (ع) صفت) (۱) بوسے بد - بد بُو - حفوظ۔  
 دُر متی - (۱) - (ع) صفت) (۱) کوڑھ مغز (۲) بے وقوف - نادان (۳) احمق (۴) بُری سمجھ والا۔  
 دُر مونسے - (کھڑے حقیقت) دُر ہو کم نبت۔  
 دُر - (۱) - (۲) نرغ - (۱) موتی - گوہر (۲) کان میں پہننے کا ایک زیور۔  
 دُر افشال - (ع) - (ف) صفت) (۱) موتی بھرنے والا (۲) خوش بیان۔  
 دُر افشانی - (ف) - (۱) - (۲) موتی بھیرنا (۲) خوش بیانی۔  
 دُر بار - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) موتی برسانے والا۔  
 دُر بچہ - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) کان میں پہننے کا ایک موتی - گوشوارہ۔  
 دُر خوش آب - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) بہت قیمتی موتی (۲) عمدہ شعر۔  
 دُر دانہ - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) موتی کا ایک دانہ۔  
 دُر ریز - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) موتی بھیرنے والا (۲) خوش بیان۔  
 دُر ریزی - خوش بیانی۔  
 دُر شہوار - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) بہت بڑا موتی (۲) بادشاہوں کے قابل موتی۔  
 دُر نا سفتر - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) بغیر سُوران کے موتی (۲) کنواری موتی دو مشیزہ۔  
 دُر نا باب - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) بے مثل موتی (۲) فرزند ارجمند۔  
 دُر بخت - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) ایک قسم کا سفید پتھر (۲) بنیاب - شریف - اصلی نسلی سید۔  
 دُر یتیم - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) وہ موتی جو سیب کا پیٹ چاک کر کے نکالتے ہیں۔  
 دُر یکتا - (ع) - (ف) - (۱) - (۲) ایکلا موتی۔  
 دُر آ - (دُر آ) - (ف) - (۱) - (۲) گھنٹہ - گھنٹی - جرس۔  
 دُر آ - (ف) - (۱) - (۲) آقا - نامک۔  
 دُر آج - (دُر - راج) - (ع) - (۱) - (۲) تیر۔  
 دُر آڑ - (دُر - راز) - (ع) - (۱) - (۲) شگاف - درز - رخسہ۔  
 دُر آڑ - (دُر - راز) - (ف) - (۱) - (۲) طویل (۲) پھیلا ہوا (۳) میز یا الماری کا لمبا خانہ جسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔  
 دُر آڑ دست - (ف) - (۱) - (۲) بے لطفوں والا (۲) ظالم - سفاک زبردست۔

دراز دوستی - (ف-۱- مش) علم و ستم - بے انصافی - زبردستی -  
 دراز قدم - (ف-صفت) بے قدم والا - طویل القامت -  
 دراز کرتا - (مص مرکب) پھیلا نا -  
 دراز گوش - (ف-صفت) (۱) گدھا (۲) خرگوش -  
 دراز نفسی - (ف-۱- مش) (۱) بہت کہنا - کلام کو طول دینا (۲) سانس کو روکنا - دم بڑھانا -  
 دراز ہونا - (۱- محاورہ) لیٹنا - سونا -  
 درازی - (د-۱- را- زی) (ف-۱- مش) لمبائی - طوالت -  
 دراک - (د-۱- راک) (ع-صفت) ذہین - ہیشیار - بڑی سمجھ بوجھ والا - بات کی تہ پانے والا -  
 درال - (د-۱- رال) (ف-صفت) پھاڑنے والا -  
 درانا - (د-۱- رانا) (و-۱- مس) (۱) بے دھڑک چلے آنا (۲) بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا (۳) [صفت] بے دھڑک - بے خوف بے خطر - بلا اجازت -  
 درانتی - (د-۱- رال- تی) (و-۱- مش) گھاس کاٹنے کا اوزار -  
 درانتی پڑنا - (۱- محاورہ) فضولوں کی کٹائی شروع ہونا -  
 درانی - (د-۱- رانی) (ف-۱- مذ) ایک افغان قبیلہ -  
 دراوڑ - (د-۱- دراوڑ) (و-۱- مذ) ہندوستان کے قدیم باشندے جو جنوب میں آباد ہیں -  
 دراہم - (د-۱- رام) (ع-۱- مذ) درہم کی جمع -  
 دراہی - (۱- مش) آسانی - حکومت (ف-۱) -  
 درایت - (و-۱- را- یت) (ع-۱- مش) عقل - سمجھ - دانش - حدیث (وہ اصول جن کا مقصد کسی روایت کو عقل طور پر رکھنا ہے -  
 دربار - (د-۱- بار) (ف-۱- مذ) (۱) بادشاہ کی مجلس پیش (۲) شاہی عدالت یا کچری (۳) بادشاہوں کی ملاقات (۴) وہ مکان جہاں بادشاہوں کی مجلس ہو (۵) آستانہ - بارگاہ - محل - قصر (۶) محاضری - حاضر باشی - مجلس جو بڑے افسر سرکاری طور پر منعقد کریں (۷) امرتس میں سکھوں کا مشہور و معروف مذہبی مقام -  
 دربار باندھنا - (۱- محاورہ) رشوت دینا - رشوت دے کر کام نکالنا -  
 دربار برخاست ہونا - (۱- محاورہ) دربار ختم ہونا -  
 دربار خاص - (ف-۱- ع- مذ) وہ دربار جس میں امراء و رؤساء حاضر ہوں یا وہ عمارت جس میں اس قسم کا دربار لگے (۲) ملاقات شاہی -  
 دربار خداوندی - (ف-۱- صفت) بارگاہ الہی - خدا کے سامنے -  
 دربار واری کرنا - (۱- محاورہ) (۱) سخت خوشامد کرنا (۲) محاضری دینا - محاضری باشی -  
 دربار رسالت - (ف-۱- ع- مذ) حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس -  
 دربار عام - (ف-۱- ع- ۱- مذ) شاہی مجلس جس میں عام لوگوں کو اپنی فریاد پیش کرنے کی اجازت ہو -  
 دربار کرنا - (۱- محاورہ) (۱) بادشاہ کا وزیروں اور امیروں کا سلام لینا (۲) عدالت کرنا - اجلاس کرنا (۳) مصاحبت کرنا (۴) حاضر باشی کرنا -

دربار لگانا - (۱- محاورہ) (۱) مجراٹوں کا مجلس میں اکٹھا ہونا (۲) بیٹھنا یا جمع ہونا -  
 دربار مصیاف کرنا - (۱- محاورہ) دربار سے غیر حاضر ہونے کی اجازت دینا -  
 دربار موقوف رکھنا - (۱- محاورہ) بادشاہ کا دربار نہ لگانا -  
 درباری - (د-۱- با- ری) (ف-۱- مذ) (۱) ملازمان شاہی - سلام کرنے والے (۲) ندیم - مصاحب - دربار سے نسبت رکھنے والا -  
 درباری زبان - (ف-۱- مش) (۱) وہ زبان جو دربار عدالت میں بولی جائے (۲) فصیح اور شائستہ زبان -  
 دربان - (د-۱- بان) (ف-۱- مذ) چوکیدار - پہرے دار - سنتری -  
 دربابی - (د-۱- بابی) (ف-۱- مش) پہرہ داری - چوکیداری -  
 در بند - (د-۱- بند) (ف-۱- مذ) (۱) وہ پہاڑی درہ جس سے گزرتا بہت مشکل ہو (۲) وہ سڑک جس پر ڈاکے پڑیں (۳) وہ علاقہ جو سرحد کے قریب واقع ہو اور وہاں حفاظتی فوج رکھی جائے (۴) گیل (۵) قلعہ کا دروازہ -  
 در بندی - (د-۱- بند- ی) (ف-۱- مش) (۱) تلاشی سے پہلے مکان کے دروازے بند کر دینا (۲) قید - حراست (۳) فیکٹری کو مزدوروں کی فوجی کے خلاف بند کر دینا -  
 در (۴) (۱- مش) گاؤں کے مختلف زرخوں کی فہرست (۵) زرخ جن پر مالگذاری کی تجویز ہو (۶) فصل کی قیمت مقرر کرنا -  
 در بندی کرنا - (۱- محاورہ) تلاشی کے پہلے کسی جگہ یا مکان کا محاصرہ کر لینا -  
 در بہشت - (ف-۱- مش) ایک قسم کی مٹھائی - شیرینی -  
 در پین - (د-۱- پین) (ع-۱- مذ) (۱) آئینہ - آرسی (۲) ایک وزن -  
 در پچ - (ع-۱- مذ) (۱) تحریر - لکھائی (۲) وہ چیز جس پر لکھا جائے (۳) تحریر جس کو لپیٹا جائے -  
 درج کرنا - (۱- محاورہ) شامل فہرست کرنا - رجسٹر پر چھٹانا -  
 درج - (د-۱- درج) (ع-۱- مذ) (۱) راہ (۲) میزک (۳) دراز - میز کا خانہ (۴) سیرٹی کا ڈنڈا (۵) مرتبہ -  
 درج - (ع-۱- مذ) زیور رکھنے کا ڈبہ -  
 درجہات - (د-۱- را- جات) (ع-۱- مذ) درجہ کی جمع -  
 درجن - (د-۱- جن) (ا-۱- مش) (۱) بارہ (۲) بارہ کا مجموعہ - ایک جنس کی بارہ چیزیں (۲) انگریزی ڈون (Dozen) کا بگڑا ہوا -  
 درجن - (ف-۱- صفت) بڑا آدمی - دستن -  
 درجہ - (د-۱- جہ) (ع-۱- مذ) (۱) سیرٹی (۲) قدم (۳) چھت - منزل (۴) چھوٹا (۵) کمرہ - کوٹھڑی (۶) تماشا گاہ کا ایک حصہ (۷) قسم - نوع - (۸) مرتبہ - رتبہ (۹) عہدہ - منصب (۱۰) جماعت - زمرہ (۱۱) منٹ - دقیقہ (۱۲) کلاس -  
 درجہ اترنا - (۱- محاورہ) ایک جماعت نیچے ہو جانا (سکول میں) (۲) بڑھکھٹا ہونا -  
 درجہ اشتعال - (ع-۱- ف- صفت) وہ درجہ یا مقام جس پر پہنچ کر کوئی خاص مادہ مشتعل ہو جائے -  
 درجہ بدرجہ - (ع-۱- ف) رفتہ رفتہ - آہستہ آہستہ - ترتیب وار -  
 درجہ برابر ہونا - (۱- محاورہ) ایک جیسی عزت یا قدر ہونا -  
 درجہ بندی - (ع-۱- ف- ۱- مش) خاص درجہ یا مقام متعین ہونا -

(۷) چیزوں کو قسم دار کرنا۔  
 درجہ کوٹنا - (۱) محاورہ) تہترل ہونا۔  
 درجہ دینا - (۱) محاورہ) ترقی دینا۔  
 درجہ کرنا - (۱) عزت دینا - (۲) ترقی دینا۔  
 درجہ گھٹانا - (۱) محاورہ) تہترل کرنا۔  
 درجہ بلنا - (۱) محاورہ) مرتبہ حاصل ہونا۔  
 درجہ دار - (ع. ف.) (۱) سلسلہ دار (۲) رتبے کے مطابق (۳) درجہ بدرجہ۔  
 درجہ ہونا - (۱) محاورہ) عزت ہونا۔ قدر ہونا (۲) گت ہونا۔ بے عزت ہونا۔

درخت - (د. رخت) (ف. ا. مذ) پھل، شجر، بنال، پھل۔  
 درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ (۱) مثل) انسان اپنے عمل کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر چیز اس کے پھل سے عیاں ہوتی ہے۔  
 درخت بوئے تھے آم کے ہو گئے بھول - (۱) مثل) نفع کی امید تھی مگر نقصان ہوا۔

درخش - (ف. مذ) چمک - روشنی - بجلی۔  
 درخشاں - (د. رخ - شان) (ف. صفت) چمکتا ہوا (۲) تاباں - روشن۔  
 درخشانی - (د. رخ - شان) (ف. ا. صفت) چمک - دمک - روشنی۔  
 درخشندہ - (د. رخ - شن - دکا) (ف. صفت) چمکتا ہوا - تاباں - نورانی۔  
 درخواست - (د. رخ - خاست) (ف. ا. صفت) (۱) التماس - گزارش (۲) عرضی عرضداشت - سوال (۳) خواست گاری - آرزو - تمنا۔  
 درخواست دینا - (۱) محاورہ) (۱) عرضی بھیجنا (۲) تلاش کرنا۔  
 درخواست کنندہ - (ف. ا. مذ) عرضی بھیجنے والا - درخواست کرنے والا  
 درخواست - (د. رخ - خاست) (ف. صفت) (۱) لائق - قابل - سزاوار (۲) رسائی پہنچ - دخل۔  
 درخواست عینا - (ف. صفت) توجہ کے قابل۔

درود - (ف. ا. مذ) (۱) تکلیف - ڈکھ (۲) ٹیس - ہوک - کسک (۳) افسوس۔  
 سوز و گداز (۵) رحم - ترس - ہمدردی (۶) غم - رنج (۷) خواہ میر پوری کا تعلق۔  
 دردا آتشا - (ف. صفت) درد سے واقف - ہم درد۔  
 دردا آگین - (ف. صفت) (۱) درد سے بھرا ہوا - (۲) تکلیف دہ۔  
 دردا آلود - (ف. صفت) (۱) گمزدہ (۲) جسے سخت تکلیف ہو (۳) تکلیف دہ۔

دردا آمیز - (ف. صفت) برقت الگیز - دردناک - قابلِ رحم۔  
 دردا آنا - (۱) محاورہ) (۱) افسوس آنا - رحم آنا - ترس آنا۔  
 دردا گھٹنا - (۱) محاورہ) کسی عضو میں درد محسوس ہونا - ٹیس پڑنا۔  
 دردا انگیز - (ف. صفت) (۱) درد پیدا کرنے والا (۲) دردا آمیز۔  
 دردا پٹنا - (۱) محاورہ) ہمدردی کرنا - ڈکھ میں شریک ہونا۔  
 دردا کو چھنا - (۱) محاورہ) ہمدردی کرنا - تنگساری کرنا۔  
 دردا جانا - (۱) محاورہ) درد رنج ہونا۔  
 دردا جانا - (۱) محاورہ) کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا۔  
 دردا چھنا - (۱) محاورہ) درد کو کم کرنا یا رنج کرنا۔

درد خوردہ - (ف. ا. مذ) وہ جسے تکلیف ہو۔  
 درد بدل - (ف. ا. مذ) رنج و غم - دلی صدمہ۔  
 درد ڈرس - (ف. ا. مذ) غم زدہ - مصیبت زدہ۔  
 درد زہ - (ف. ا. مذ) بچہ پیدا ہونے کا درد - جینے کا درد۔  
 درد سہ - (ف. ا. مذ) (۱) سہرا کا درد (۲) تکلیف (۳) وقت - مشکل۔  
 درد سہرا گھٹنا - (۱) محاورہ) (۱) سہرا کا درد شروع ہونا (۲) تکلیف برداشت ہونا (۳) ذمہ داری لینا۔  
 درد سہرا جانا - (۱) محاورہ) (۱) جھگڑا مٹ جانا (۲) مصیبت رنج ہو جانا۔  
 (۳) سہرا کا درد جاتا رہنا۔

درد سہرا خریدنا - (۱) محاورہ) کسی جھگڑے میں پڑنا۔  
 درد سہرا دینا - (۱) محاورہ) (۱) دق کرنا - تنگ کرنا - تکلیف دینا۔  
 درد سہرا کرنا - (۱) محاورہ) محنت یا شہقت کرنا - کسی کام کی انجام دہی کی فکر کرنا۔  
 درد سہرا ٹول لینا - (۱) محاورہ) درد سہرا ٹول لینا - کوئی کام اپنے ذمہ لینا۔  
 درد سہرا - (۱) محاورہ) (۱) تکلیف - مصیبت (۲) محنت مشقت کا کام۔

درد شریک - (ف. صفت) (۱) ہمدرد (۲) غم گسار - غم خوار۔  
 درد قویج - (ف. ا. مذ) پسلی کا درد۔

درد کرنا - (۱) محاورہ) (۱) تکلیف ہونا (۲) ہمدردی کرنا۔  
 درد کھانا - (۱) محاورہ) رحم کھانا - ترس کھانا - افسوس کرنا۔  
 درد کے مارے - (۱) درد یا تکلیف کی وجہ سے (۲) مصیبت زدہ۔  
 درد لگیں - (ف. صفت) تکلیف دہ۔

درد لا دوا - (ف. ا. مذ) ایسی تکلیف جس کا کوئی علاج نہ ہو۔  
 درد لگنا - (۱) محاورہ) درد ہونا - بچہ جینے کی تکلیف شروع ہونا۔  
 درد مند - (ف. صفت) ہمدرد - غم گسار - غم خوار۔  
 درد مندی - (ف. ا. صفت) ہمدردی - تنگساری - رحم دلی - ترس۔  
 دردناک - (ف. صفت) (۱) درد بھرا (۲) رنج دہ۔  
 دردیں لگنا - (۱) محاورہ) درد زہ ہونا - بچہ جینے کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔  
 درد - (ف. ا. صفت) تکلیف دہ۔

درد آتش یا درد کش - (ف. صفت) (۱) پھٹ پینے والا (۲) خوشبین (۳) بڑا شہرا بی۔  
 درد خوار - (ف. صفت) (۱) عزیز - عاجز - بے چارہ۔

دردا - (د. ر. وا) (ف. ا. صفت) افسوس - آہ - پائے۔  
 درد آ - (د. ر. وا) (ف. صفت) (۱) مٹا مٹا - پسا ہوا - کٹا یادلا ہوا - دانہ دار۔  
 (۲) دندانہ دار۔

درد زہ - (ف. ا. صفت) (۱) دناؤ - شگفت (۲) چہرے اور کھوپڑی کی پٹیوں کا جوڑ (۳) سیون - کپڑے کی کھونچ جو بلی ہوتی ہو۔  
 درد زہن - (د. زہ - زن) (ف. ا. صفت) (۱) درد زہ کی بیماری - کپڑا سینے کا کام کرنے والی عورت (د. زہ - زن) - گندھی۔

درد زہی - (د. زہ - زہ) (ف. ا. مذ) کپڑا سینے کا کام کرنے والا مرد۔  
 درد زہی کی سونے کھی ٹاٹ میں بھی خواب میں - (دیش) انسان کو ہر کام کرنا چاہیے چاہے ادنیٰ ہو چاہے اعلیٰ۔

دُرس - ذرع - ۱۔ مذ (۱) سبق - تعلیم (۲) وعظ - نصیحت - بیکچر - کتھا۔  
 دُرس دینا - (۱) معاوہ (۲) دُرس پڑھانا - سبق دینا۔  
 دُرس کہنا - (۱) معاوہ (۲) وعظ کہنا - نصیحت کرنا (۳) بیکچر دینا - سبق پڑھانا۔  
 دُرس دُندریس - (۱) ذ - ف - مذ (۲) پڑھنا پڑھانا۔  
 دُرس ہونا - (۱) معاوہ (۲) سبق پڑھایا جانا - پڑھائی ہونا۔  
 دُرس - (۱) مذ - (۲) نظارہ (۳) درشن - دیدار۔  
 دُرس دکھانا - (۱) معاوہ (۲) دیدار کرنا - درشن دینا۔  
 دُرسست - (دُ - رُست) (۱) ف - صفت (۲) ٹھیک - بجا - صحیح - موزوں۔  
 دُرسست آنا - دُرسست ہونا - (۱) معاوہ (۲) ٹھیک ہونا - صحیح ہونا۔  
 موزوں ہونا - مناسب ہونا (۳) عاید ہونا۔  
 دُرسست بنانا - (۱) معاوہ (۲) ٹھیک بنانا - گوشائی کرنا۔  
 دُرسست فرمانا - (۱) معاوہ (۲) (تعلیم) ٹھیک بات کہنا - صحیح کہنا۔  
 دُرسست پیمان - (۱) ف - صفت (۲) وعدے کا پکا۔  
 دُرسست رہنا - بجا رہنا - ٹھیک رہنا۔  
 دُرسست کرنا - (۱) معاوہ (۲) ٹھیک کرنا - سیدھا کرنا (۳) سوارنا - سدا  
 (۳) گوشائی کرنا - تادیب کرنا (۴) انتظام کرنا (۵) مرتت کرنا۔  
 دُرسست لگانا - (۱) معاوہ (۲) قاعدے سے لگانا (۳) سجانا (۴) قرینے  
 سے لگانا۔  
 دُرسست ہو رہنا - (۱) معاوہ (۲) آراستہ ہونا - بناؤ سنگار کر لینا۔  
 (۳) تیار ہو جانا۔  
 دُرسست ہے - (۱) ف - (۲) صفت (۳) ٹھیک ہے - بجا ہے۔  
 دُرسستی - (دُ - رُست) (۱) ف - (۲) صفت (۳) سہمی - راستبازی (۴) معقولیت  
 موزونیت - صحت - تعلیم - اصلاح (۳) مرتت - ترتیب - تربیم -  
 (۴) گوشائی - تادیب۔  
 دُرسی - (۱) صفت (۲) پڑھانے سے متعلق (۳) نصیاتی کتب۔  
 دُرسیات - (دُ - رُسی) (۱) بات (۲) ذ - (۳) (۱) اسکولوں میں پڑھنے پڑھانے  
 سے متعلقہ اشیاء - کتابیں۔  
 دُرشست - (دُ - رُشت) (۱) ف - صفت (۲) سخت - کسخت - کھڑا - بجاری  
 دُرشست مزاج - (۱) ف - صفت (۲) تند مزاج۔  
 دُرشستی - (دُ - رُش) (۱) ف - (۲) صفت (۳) سختی - بے رحمی - بد خلقی۔  
 دُرشستی سے پیش آنا - (۱) معاوہ (۲) سختی سے پیش آنا - بد خلقی سے ملنا۔  
 دُرسن - (دُ - رُسن) (۱) ذ - (۲) دیدار - نظارہ - زیارت - ملاقات۔  
 دُرسن (بانا کرنا) - (۱) معاوہ (۲) دیدار کرنا (۳) ملاقات ہونا - ملنا۔  
 دُرسن تھوڑے نام بہت - (ایش) شہرت تو بہت ہے مگر حقیقت  
 کچھ بھی نہیں۔  
 دُرسن کے فیئال لوجھی - (ایش) دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔  
 دُرشنا - (۱) ف - (۲) صفت (۳) نظر - روشن۔  
 دُرشنی - (دُ - رُش) (۱) ف - (۲) صفت (۳) قابل دیدار (۴) خوبصورت - حسین۔  
 جوان (۳) فوراً قابل ادراکی (۴) عمدہ ملاقات۔  
 دُرشنی جوان - (۱) ذ - (۲) خوبصورت آدمی - خوبصورت مگر بڑل جوان۔

دُرشنی ہنڈی - (۱) ہ - (۲) ہنڈی جس کا روپیہ ہنڈی دکھاتے  
 ہی مل جائے۔  
 دُرش - (۱) ذ - (۲) پیرہن - لباس - پوشاک (۳) زردہ جو لڑائی کے  
 وقت پہنتے تھے۔  
 دُرش پوس - (۱) ف - (۲) صفت (۳) زردہ پوش - سیاہی۔  
 دُرش - (۱) ذ - (۲) (۳) کپڑا یا زمین ناپنے کا آلہ - گز۔  
 دُرش - (دُ - رُش) (۱) ف - (۲) (۳) جھنڈا - پرچم - علم - پھر رہ (۴) رومان  
 جو سر پر لڑائی کے وقت باندھے لیتے تھے (۳) روشنی - چمک - دمک۔  
 بجلی کوئی چمکنے والی چیز۔  
 دُرش کا ویانی - (۱) ف - (۲) (۳) ضحاک بادشاہ کے ہمد میں ایران کے  
 لوہار کا وہ کا انقلابی جھنڈا (۲) سگوشہ پٹرا جو جھنڈے کے سرے پر  
 لگایا جاتا تھا (۳) ایران کے ساسانی بادشاہوں کا جھنڈا۔  
 دُرش - (۱) ذ - (۲) عقل - سمجھ - تیز - واقفیت (۳) دخل  
 دُرش دینا - (۱) معاوہ (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) مزاحمت کرنا  
 (۳) دست اندازی کرنا۔  
 دُرشک ہونا - (۱) معاوہ (۲) واقفیت ہونا - علم ہونا - ہمارت ہونا۔  
 دُرشکات - (۱) ف - (۲) (۳) دوزخ کی منزلیں۔  
 دُرشکنا - (۱) ہ - (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱









دست جالاک - (ف. صفت) چورہ آنکھ بھا کر جڑا لینے والا۔  
دست چالاک - (ف. صفت) (۱) ہاتھ کی چالاک۔ چوری۔ ہاتھ کی صفائی  
(۲) داخل کرنے کی پھرتی۔ (۳) زمانہ جنگ (۴) دو شخصوں کی لڑائی۔  
دست چھوٹا - (ا. محاورہ) دست آنا۔ اہمال لگانا۔

دست خیر - غالب۔

دست خط - دستخط - (ف. صفت) (۱) اپنے ہاتھ کی علامت یا نشانی۔  
اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نام۔

دست خطر - (ف. صفت) (۱) ہڈ پلنے کا لائق جس پر بہت سال لگا ہو (۲) اپنی اونٹن لگانا  
دست خطی - (ف. صفت) ہاتھ کا لکھا ہوا۔ ہاتھ کے دستخطوں کے ساتھ۔

دست خود دہان خود زون مثل - خود مختار ہوتے ہوئے نہ کھانا اپنا  
نقصان آپ کرنا ہے۔ اپنا ہاتھ اور اپنا منہ سے خوب کھاؤ۔

دست دراز - (ف. صفت) (۱) بے باک - بند (۲) ہر کسی کو دکھ دینے  
والا (۳) ظالم (۴) بے رحم۔

دست درازی - (ف. صفت) (۱) مار پیٹ (۲) بے باکی (۳)  
مداخلت بے جا۔ بے جا دخل اندازی (۴) زیادتی (۵) غلم و تہم۔

دست دغا دراز کرنا - (ا. محاورہ) دغا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔

دست دہی - (ف. صفت) (۱) ادا۔ مدد (۲) اقرار یا وعدہ پر ہاتھ دینا۔  
دست راست - (ف. صفت) (۱) دایاں ہاتھ (۲) فرج کا دایاں بازو (۳)  
عامی۔ مددگار۔

دست رس - دسترس - (ف. صفت) (۱) مذومش (۲) پہنچ۔ رسائی (۳)  
بساط۔ حیثیت۔ طاقت۔ قدرت۔ مقدور۔ قابلیت (۴) ہمارت بشق

چاہک دستی (۴) مدد (۵) صفت) طاقت میں (۶) ملامت۔

دسترس پہنچنا (پھلنا) - (ا. محاورہ) قابو پانا۔ قابو چلنا۔

دسترس حاصل ہونا - (ا. محاورہ) ہمارت ہونا۔ مشق ہونا۔ رسائی ہونا۔

دست رنگین - (ف. صفت) ہندی لگے ہاتھ۔

دست سب - (ف. صفت) مکمل ذرہ۔

دست سوال دراز کرنا - (ا. محاورہ) مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ اپنی  
حاجت کسی کے سامنے لانا۔

دست شانہ - (ف. صفت) (۱) ایک قسم کی کنگھی جس سے ریشم صاف  
کرتے ہیں۔

دست شفا - (ف. صفت) (۱) وہ ہاتھ جو صحت بخشنے۔ اچھے طبیب  
کے لیے کہتے ہیں۔

دست شفا پھیرنا - (ا. محاورہ) اچھا کر دینا۔

دست شفقت - (ف. صفت) (۱) پیار کا ہاتھ (۲) ہرمانی عنایت و شفقت

دست طلب - (ف. صفت) (۱) مانگنا۔ حاجت۔ ضرورت۔

دست طلب دراز کرنا - (ا. محاورہ) مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔

دست غیب - (ف. صفت) (۱) وہ آمدنی جو بیکری یا غامبی کے ذریعے کے  
حاصل ہو (۲) حرام کی کمانی۔

دست فروش - (ف. صفت) (۱) وہ شخص جو چیزیں ہاتھ میں لے کر بازار  
میں بیچتا پھرے۔ خوردہ فروش۔

دست افسوس ملنا - (ا. محاورہ) پھیتانا۔ افسوس کرنا۔

دست افتال - (ف. صفت) اپنے والا۔ رفاص۔

دست افکن - (ف. صفت) (۱) نوکر (۲) نشانی (۳) مشغول (۴) کمزور۔

دست انداز - (ف. صفت) (۱) کسی کام میں دخل دینے والا۔ خلل انداز  
(۲) مزاحم۔

دست اندازی - (ف. صفت) (۱) دخل۔ مداخلت (۲)  
مزاحمت۔ تفریق۔

دست اندازی کرنا - (ا. محاورہ) (۱) ہاتھ ڈالنا۔ مداخلت کرنا۔ دخل دینا۔  
(۲) مزاحمت کرنا۔ رکاوٹ ڈالنا۔ تفریق کرنا۔

دست باورینا - (ف. صفت) (۱) ہاتھ جو ہوا میں بے جیسے شرابی کا ہاتھ۔

دست باز - (ف. صفت) (۱) چالاک۔ ہوشیار۔ کاریگر (۲) وہ جو سب  
کچھ فرج کر دے (۳) شطرنج کا کھلاڑی۔

دست بدست - (ف. صفت) ہاتھوں ہاتھ۔ بہت جلد۔

دست بدعا - (ف. صفت) دغا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہوئے۔

دست برمود - (ف. صفت) (۱) غبن۔ خیانت (۲) ٹوٹ مار۔ ٹوٹ  
کھسوٹ (۳) تصرف بے جا۔

دست بردار - (ف. صفت) چھوڑنے والا۔ باز آنے والا۔

دست برداری - (ف. صفت) (۱) علیحدگی۔ برطرفی (۲) چھوڑ دینا۔  
ترک کرنا۔

دست بستہ - (ف. صفت) ہاتھ باندھ کر۔ ہاتھ جوڑ کر۔ مت کر کے۔

دست بقبضہ ہونا - (ا. محاورہ) لڑنے کے لیے تیار ہونا۔

دست بفرج - (ف. صفت) (۱) چھوٹا۔ پھینڈ بیگ۔

دست بگاردل بیار - (ف. صفت) کام کرتے ہوئے بھی محبوب کی یاد  
دل میں رہتی ہے۔ ایسی چیز کا خیال کسی وقت دل سے دور نہیں ہوتا۔

دست بند - (ف. صفت) (۱) موتی اور جوہرات کا پتھا جو عورتیں ہاتھوں  
میں پہنتی ہیں (۲) سونے چاندی کے زیور جو ہاتھ کی پشت پر پہنا جاتا ہے۔

(۳) ایک قسم کے گڑے (۴) ایک نایاب جس میں ہاتھ بلاتے ہیں۔

دست بندھک - (ف. صفت) رہن۔ گرو۔

دست بوس ہونا - (ا. محاورہ) (۱) ہاتھ چومنا (۲) ملاقات کرنا۔

دست بیع ہونا - (ا. محاورہ) مرید ہونا۔ چیلنا۔

دست باچہ ہونا - (ا. محاورہ) سست پٹا نا۔ گھبرانا۔

دست باک - (ف. صفت) (۱) رومال (۲) تولیا۔ انگوچھا۔

دست پٹا - (ف. صفت) (۱) ہاتھ پٹا۔

دست پرورد (بگوردہ) - (ف. صفت) ہاتھ کا پلا ہوا۔ ناز و نعمت کا پلا ہوا  
دست پیرا - (ف. صفت) (۱) پیرا۔

دست پیمان - (ف. صفت) (۱) ہر شخص۔ وہ نقد جنس یا زیور جو شب عروسی  
مڈھما دوڑاؤں کو بطور تحفہ دیتا ہے۔

دست تاسف ملنا - (ا. محاورہ) افسوس سے ہاتھ ملنا۔ افسوس کرنا۔

دست ہی - (ف. صفت) (۱) خالی ہاتھ۔

دست جامہ - (ف. صفت) (۱) مکمل خلعت۔

**دست قدرت** - (ف-۱-صفت) طاقت - قدرت - مقدور - اختیار - بس - قابو۔  
**دست کار** - (ف-صفت) کارگر (۲) وہ شخص جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو۔  
**دست کاری** - (ف-۱-صفت) (۱) ہنر - کاری گری - ہاتھ کا کام (۲) عمل چترائی - چابک دستی۔  
**دست کش** - (ف-صفت) (۱) کسی کام سے ہاتھ کھینچ لینے والا۔ انگ ہوجانے والا (۲) باز رہنے والا۔ تعلق نہ رکھنے والا۔  
**دست کسی** - (ف-۱-صفت) ہاتھ کھینچ لینا۔ تعلق نہ رکھنا۔  
**دست کوتاہ کرنا** - (۱-عامورہ) ہاتھ روک لینا۔  
**دست گاہ** - (ف-۱-صفت) (۱) طاقت - قدرت (۲) ہمارت - مشق۔  
**دست گردال** - (ف-صفت) بغیر تحریر کے قرضہ - بغیر کسی لکھت کے اڈھار۔  
**دست گرفتہ** - (ف-صفت) جس کی مدد کی جائے۔  
**دست گیر** - (ف-صفت) مددگار - حامی۔  
**دست گیری** - (ف-۱-صفت) مدد - معاونت - حمایت۔  
**دست لگنا** - (۱-عامورہ) متواتر دست آنا۔ اسپہال ہونا۔  
**دست بال** - (ف-۱-صفت) برتن صاف کرنے کا کپڑا۔ صافی - رومال۔  
**دست نگر** - (ف-صفت) محتاج - حاجت مند۔  
**دست و بعل ہونا** - (۱-عامورہ) بھل گئے ہونا۔  
**دست و پا بھول جانا** - (۱-عامورہ) ہوش و حواس گم ہوجانا۔  
**دست و پا نکشتہ** - (ف-صفت) بے پار و مددگار - کمزور - ناتواں۔  
**دست و پایا مارنا** - (۱-عامورہ) جان توڑ کوشش کرنا۔  
**دست و گریباں ہوجانا** - (۱-عامورہ) لڑنا - ہاتھ پائی کرنا۔  
**دست یاب ہونا** - (۱-عامورہ) حاصل ہونا۔ وصول ہونا۔ میسر آنا۔  
**دست یاری** - (۱) مدد - امداد (۲) بچاؤ - حفاظت - قوت - طاقت۔  
**دستا** - (دس - تنہا) (ف-۱-صفت) (۱) رومال - تولیہ - سنجاف (۲) ایک کپڑا جو پگڑی کے گرد باندھتے ہیں (۳) جھت (۳) لوہے کا ایک گول اوزار جو کوٹنے کے کام آتا ہے۔  
**دستار** - (دس - تنہا) (ف-۱-صفت) (۱) پگڑی - عمامہ - پینٹا - چیرا۔  
**دستار باندھنا** - سر پر خوبصورتی سے پگڑی لپیٹنا (۲) جانشین بنانا۔  
**دستار بدل** - آپس میں پگڑیاں بدل کر بھائی بھائی بننے والے۔  
**دستار بند** - (۱) پگڑی باندھنے کا پیشہ کرنے والا شخص - چیرا بند۔  
**دستار بندی** - (۱) مسلمان رومال کی ایک رسم جس میں مرے والے رئیس کے بڑے بیٹے یا وارث کو پگڑی باندھتے ہیں (۲) دینی مدرسہ کے فارغ التحصیل طلبہ کو غنیمت کے طور پر پگڑی باندھانا۔  
**دستار بچہ** - چھوٹی پگڑی - رومال (۲) کمر بند۔  
**دستار غنیمت** - وہ پگڑی جو تعلیم کی تکمیل پر باندھی جاتی ہے عطا غنیمت دستار کرنا۔ پگڑی باندھنا۔  
**دستار کفتار آپسے ہی کام آتی ہے** - (دیش) اپنی پگڑی اور اپنی کشتگو

اپنے مطلب کے موافق ہوتی ہے۔  
**دستال** - (دس - تنہا) (ف-۱-صفت) (۱) نغمہ - آواز (۲) ساز کی چابی (۳) دھوکا دینا - فریب (۴) رسم کے باپ ڈال کا لقب۔  
**دستا نہ** - (دس - تنہا) (ف-۱-صفت) (۱) ہاتھ میں سینے کا بٹنا ہوا یا چمڑے کا غلاف (۲) ایک لوہے کی زردہ جو ہاتھ پر پہنتے تھے (۳) تلوار کا قبضہ۔  
**دستا نہ مارنا** - چھٹی ہوتی تلوار کو ہاتھ سے الگ کرنا۔  
**دستا ویز** - (ف-۱-صفت) تنگ - قبلاہ - نوشتہ (۲) کسی امر کا تحریری ثبوت (۳) وہ سند جس سے اپنا حق ثابت کر سکیں۔  
**دستہ** - (دس - تنہا) (ف-۱-صفت) دسترخوان۔  
**دستہ خوان** - (دس - تنہا) (ف-۱-صفت) (۱) مذہبی یا چادر جس پر کھانا پختہ ہیں۔  
**دستہ خوان بچھانے میں سو عیب نہ بچھانے میں ایک عیب**  
 ۱- مثل (۱) اگر لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تو سیکڑوں نقص نکالتے ہیں۔ اگر نہ کھلایا جائے تو ایک ہی نقص ہے نہ کھلانا (کنجوسی)۔  
**دستہ خوان بڑھانا** - (۱-عامورہ) کھانے کے بعد دستہ خوان اٹھانا۔  
**دستہ خوان چھیننا** - دستہ خوان پر کھانے کی چیزیں رکھی جانا۔  
**دستہ خوان کا توبہ توبہ کرنا** - (۱-عامورہ) جب کھانا چھینا ہوا ہو اور کوئی چٹنے پر نہ بیٹھے تو کہتے ہیں۔  
**دستہ خوان کرنا** - (۱-عامورہ) بزرگان دین کی نیا ز کرنا۔ ہاتھ لاکھانا کھلونا۔  
**دستہ خوان کی بلی** - (۱-صفت) (۱) کام چور۔ جو کام سے تومی چرائے، لیکن کھانے پر موجود ہو۔  
**دستہ خوان کی کھٹی** - (۱-صفت) ہر وقت کھانے پر موجود ہونے والا۔  
**دستگ** - (دس - تنگ) (ف-۱-صفت) (۱) تالی - ہاتھ پر ہاتھ مارنا (۲) کسی چیز پر ہاتھ مارنا کہ آواز نکلے (۳) دستہ (۴) پر دانہ زراہداری (۵) محصول (۶) مہری کاغذ جو حاکم کے حکم سے لکھا جائے (۷) سن - وارنٹ - حکم نامہ (۸) فیس جو سمنوں کی تعمیل کے لیے دی جائے (۹) کیش - دستوری (۱۰) قرنی۔  
**دستگ آنا** - (۱-عامورہ) قرنی کا حکم نامہ آنا۔  
**دستگ باندھنا** - (۱-عامورہ) (۱) محصول لگانا (۲) بے ضرورت خرچ کرنا۔  
**دستگ دینا** - (۱-عامورہ) (۱) تالی بجانا (۲) لگانا (۳) دروازہ کھٹ کھٹانا۔  
**دستگ لگانا** - (۱-عامورہ) (۱) محصول لگانا (۲) سمن دروازے پر چھپا کرنا۔  
**دستگلی** - (دس - تنہا) (ف-۱-صفت) (۱) پاکٹ بک - یادداشت کی چھوٹی دستگلی (۲) شکرے بازوں کا دستہ۔  
**دستگلی** - (دستگلی) (ف-۱-صفت) (۱) دستہ دار لوٹا (۲) تلوار کا تسمہ جو دستے سے لٹکا ہوتا ہے (۳) وہ چیز جو گرفت کے واسطے لگی ہو۔ دستہ (۴) کپڑا جو تھے میں منہال سے بالشت تک باندھتے ہیں (۵) دستا نے جس پر شکاری پرند کو بٹھاتے ہیں (۶) تھیلا جس میں کاغذات رکھتے ہیں۔  
**دستنبو** - (دس - تنہا) (ف-۱-صفت) (۱) چھوٹا پھل جو خوشبو کے لیے ہاتھ میں رکھتے ہیں (۲) میرزا غالب کا تحریر کردہ مشہور رسالہ۔

دستوانہ - (دس رتے، وا۔ نہ) - (ذ۔ ہاتھ میں پہننے کا زیور۔ لنگن۔  
دستور - (دس۔ توں) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) طرز۔ روش۔ آئین۔ قانون (۳) رسم و  
رداع (۴) عادت۔ ڈھنگ (۵) کمیشن۔ دستوری (۶) پارسیوں کا مذہبی  
پیشوا (۷) بنیادی اصول جن کے مطابق ملکی قوانین بنائے جاتے  
ہیں۔ (انگ) (Constitution)  
دستور العمل - (ع۔ ۱۔ مذ۔ ۱) قانون۔ قاعدہ (۲) رواج (۳) قانون کی کتاب  
(۴) سلطنت کا طریقہ اصول۔  
دستور باندھنا - (۱۔ محاورہ) (۱) قاعدہ مقرر کرنا۔ قانون بھرانا (۲) معمول  
باندھنا۔

دستور جاری کرنا - (۱۔ محاورہ) (۱) قاعدہ مقرر کرنا (۲) رواج ڈالنا یا نکلانا۔  
دستور ہونا - (۱۔ محاورہ) رواج ہونا۔  
دستوری - (دس۔ توں) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (۱) فیس۔ کمیشن۔ دلالی (۲) اجازت  
خصت (۳) وزارت۔  
دستوری حکومت - آئینی حکومت۔ ملکی آئین یا دستور کے مطابق ملک  
کا نظرداشت  
دستوری کا شکل مل گیا - (۱۔ مثل) سزا پائی۔ اپنی سزا کو پہنچ گیا۔  
دستوریہ - (ع۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (۱) مجلس دستور ساز۔ آئین و قوانین بنانے والی  
مجلس۔ اسمبلی۔

دستہ - (دس رتے، ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) لکڑی کا لکڑا جو کسی ادارے کے ساتھ پکڑنے  
کے لیے لگا ہو (۲) کوئی چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ پکڑنے کے  
لیے لگی ہو (۳) فوج کا ایک حصہ (۴) کاغذ کے جوہر میں تختوں کی اکائی  
(۵) ۲۴ تیروں کا ٹکٹا (۶) ایک قسم کی گھنڈی جو اکثر قبیلے پر  
لگاتے ہیں (۷) سفنات (۸) چھوٹوں کا چمچا (۹) آہنی موٹیل (۱۰)  
لوگوں کا گروہ۔

دستہ ریسمان - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) ریل جس پر دھاگا لپیٹتے ہیں۔  
دستہ ساعت - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) گھڑی کے بارہ نشان۔  
دستہ گل - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) گل دستہ۔

دستی - (دس۔ تی) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) ہاتھ کے متعلق (۲) ہاتھ کے ذریعہ ہاتھ  
سے (۳) مشعل۔ فلیٹہ (۴) چھوٹا دستہ۔ چھوٹا قبضہ (۵) کشتی کا ایک داؤں  
(۶) چھوٹا سا قلمدان جو ہاتھ میں رہے (۷) پیالہ یا مٹی کا گلاس جس کے  
دوستے ہوتے ہیں (۸) چھوٹا رومال (۹) مدد۔ امداد۔  
دستی بھیننا - (۱۔ محاورہ) کسی کے ہاتھ کچھ بھیننا۔  
دستی پروانہ - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) جو پروانہ کسی کے ہاتھ بھجا جائے۔  
دستی کرنا - (۱۔ محاورہ) ہاتھ سے ہاتھ ملا کر زور کرنا۔  
دستیاں پھونکنا - (۱۔ محاورہ) مشعلیں جھلانا۔  
دستیم - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دسمبر - (December) (دس۔ سم۔ بر) - (۱۔ مذ۔ انگریزی سال  
کا بارہواں مہینہ جو اکتیس دن کا ہوتا ہے۔  
دسویں - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)  
دسویں - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دسنا - (دس۔ نا) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) دکھائی دینا۔

دسواں - (دس۔ وا۔ نا) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) دسواں دن کا فاتحہ۔

دسواں - (دس۔ وا۔ نا) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) دسواں حصہ جو مالگذاری کے ساتھ جمع  
کیا جائے۔

دسوترا - (دس۔ صفت) دس فیصدی۔

دسوتھ - (دس۔ صفت) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱)  
دسوکھا - (دس۔ صفت) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (ذ۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دسوں - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دسویں - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دسہرا - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دسیسہ - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

## دس

دشا - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشت - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشت پیمانہ - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشت پیمائی - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشت سواراں - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشت کر بلا - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشت لوردی - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشتی - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشتی - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشمن - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشمن - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دشمن - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱) - (دس۔ ۱۔ مذ۔ ۱)

دُعا سے گزر جائے۔ (دُعائے) ایک دُعا جو کسی کے سفر جانے پر پڑھتے ہیں۔  
 دُعا دینا۔ (۱- عمارہ) برکت کے الفاظ کہنا۔ اسیس دینا۔  
 دُعا سلام کہنا۔ (۱- عمارہ) کسی کے ذریعہ دُعائے پیتا پیتا پیتا۔  
 دُعا قبول ہونا۔ (۱- عمارہ) مراد پوری ہونا۔  
 دُعا کرنا۔ (۱- عمارہ) خدا سے درخواست کرنا۔ دُعا مانگنا۔  
 دُعا گو۔ (ع- ف- صفت) (۱) دُعا کرنے والا (۲) خیر خواہ بہتری چاہنے والا۔  
 دُعا لگنا۔ (۱- عمارہ) دُعا کا اثر ہونا۔  
 دُعا مانگنا۔ (۱- عمارہ) خدا سے بھلائی کی التجا کرنا۔  
 دُعا مستجاب ہونا۔ (۱- عمارہ) دُعا قبول ہونا۔  
 دُعا وی۔ (ع- ا- مذ) دعویٰ کی جمع۔  
 دُعا سے خیر۔ (ع- ف- ا- مٹ) اچھی دُعا۔ فاتحہ۔ ایصالِ ثواب۔  
 دُعا سے دولت۔ کسی کے لیے ترقی اور اقبال کی دُعا۔  
 دُعا سے عاقبت۔ (ع- ا- مٹ) صحت و تندرستی کی دُعا۔  
 دُعا سے قنوت۔ دُعا جو نماز عشاء میں وتروں کی تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں۔  
 دُعا میں دینا۔ (۱- عمارہ) کسی کے حق میں بہت سے کلمات خیر کہنا۔  
 دُعا ٹیہ۔ (دُعا۔ ای۔ یہ) (ع- صفت) دُعا سے منسوب۔  
 دُعاوت۔ (دُعا۔ وت) (ع- ا- مٹ) (۱) کھانے کے واسطے بُلانا (۲) کسی مذہب کی طرف بُلانا (۳) کھانا ضیافت (۴) طلبی۔  
 دُعاوتِ اسلام۔ (ع- ا- مٹ) کسی کو مسلمان ہونے کی ترغیب دینا۔  
 دُعاوتِ بزرگانا۔ (۱- عمارہ) کھانے پر بُلانا۔  
 دُعاوتِ جنگ۔ (ع- ف- ا- مٹ) لڑائی کے لیے بُلانا۔ اعلانِ جنگ۔  
 دُعاوتِ دینا۔ (۱- عمارہ) (۱) کھانے کے لیے بُلانا (۲) کھانا۔ ضیافت (۳) طلبی۔  
 دُعاوتِ سمرقند۔ (ع- ف- ا- مٹ) ایک دن پر تکلفِ دعوت۔ دوسرے دن فاتحہ۔  
 دُعاوتِ شہرازیہ۔ (ع- ف- ا- مٹ) سادہ کھانا۔ بے تکلفی کی دعوت۔  
 دُعاوتِ کتھے۔ (۱- مذ) دوسرے کے گھر کا کھانا۔  
 دُعاوتِ ولیمہ۔ (ع- ف- ا- مٹ) وہ ضیافت جو مسلمانوں میں نکاح کے دو ایک دن بعد ہوتی ہے۔  
 دُعاوی۔ (دُعا۔ و) (ع- ا- مذ) درخواست۔ خواہش۔ مطالبہ۔ مانگ۔  
 استحقاق (۱۷) استغناء (ق) دشمن۔  
 دُعاوی اٹھنا۔ (۱- عمارہ) دُعا کے ساتھ ہونا یا جواب دیا جانا۔  
 دُعاوی باطل۔ (ع- ف- ا- مذ) ہٹوٹا دُعاوی۔  
 دُعاوی باندھنا۔ (۱- عمارہ) دُعاوی کرنا۔ شرطیہ کوئی کام کرنے کا دُعاوی کرنا۔  
 دُعاوی پیش ہونا۔ (۱- عمارہ) حاکم کے سامنے مطالبہ کا پیش ہونا۔  
 دُعاوی جمانا۔ (۱- عمارہ) مقدمہ جمانا۔ دلیل قائم کرنا۔ ملکیت ظاہر کرنا۔ قبضہ جتانا۔  
 دُعاوی چلنا۔ (۱- عمارہ) دُعا کے قابلِ سماعت ہونا۔  
 دُعاوی خدائی۔ (ع- ا- مذ) خدا ہونے کا دُعاوی کرنا جیسے فرعون نے کیا تھا

زبردست ہے تو خدا جو بنگبان ہے اس سے بھی زبردست ہے۔  
 دشمنِ ایمان۔ (ع- ف- ن) (۱) جو کسی کے مذہب کو زبردستی بدلوانا چاہے (۲) جو کسی سے بددلیتی کرنا چاہے (۳) مشرقت۔  
 دشمنِ جان (جانی)۔ (ف- صفت) جان کا دشمن۔ سخت دشمن۔  
 دشمنِ حیرت کُند جو ہر ماں باشد دوست۔ (ف- مقولہ) اگر خدا ہر ماں نہ ہو تو دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔  
 دشمن کو بھی خدا نصیب نہ کرے۔ (مذہب دُعا) انتہائی مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت میں خدا دشمن کو بھی نہ ڈالے۔  
 دشمن کو کم نہ سمجھے۔ (۱- مٹ) دشمن چاہے کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو اس کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔  
 دشمن کو نہ ہاں کا پیٹ۔ (۱- مٹ) بھائیوں میں اگر دشمنی ہو جائے تو سخت ہوتی ہے۔  
 دشمن تو الٰہی حقیر بولے چارہ شمر۔ (ف- مٹ) دشمن کو کبھی کرد اور حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔  
 دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ (۱- مٹ) خود بیمار ہیں۔  
 دشمنوں کے کان بہرے۔ (۱- مقولہ) خدا نخواستہ۔  
 دشمن کی نگاہ سے۔ تیز نگاہ سے۔ غصے کی نظر سے۔  
 دشمنی۔ (دُش۔ م۔ ن۔ گی) (ق- ا- مٹ) دشمنی۔  
 دشمنی۔ (دُش۔ م۔ ن) (ف- ا- مٹ) بیز۔ بدخواہی۔ عداوت۔ مخالفت۔  
 دشمن رکھنا۔ (۱- عمارہ) دشمن ہونا۔ عداوت رکھنا۔ بیز رکھنا۔  
 دشمنی نکالنا۔ (۱- عمارہ) دشمن کو تکلیف دینا۔ بدل لینا۔  
 دشنام۔ (دُش۔ نام) (ف- ا- مٹ) گالی۔ گالی گوج۔  
 دشنام طرازی کرنا۔ (۱- عمارہ) گالی بکنا۔  
 دشمنہ۔ (دُش۔ نہ) (ف- ا- مذ) خنجر گٹاری۔  
 دشوار۔ (دُش۔ وار) (ف- صفت) مشکل۔ ٹھن۔ دوکھ۔ بھاری۔ سخت۔  
 دشوار پسند۔ (ف- صفت) وہ جو شکل اور دقیق باتوں کو پسند کرے۔  
 دشوار گزار۔ (ف- صفت) وہ راستہ یا جگہ جہاں سے گزرنا مشکل ہو۔  
 دشوار ہونا۔ مشکل ہونا۔  
 دشواری۔ (دُش۔ واری) (ف- ا- مٹ) وقت مشکل۔ سختی۔  
 دشواری پڑنا۔ (۱- عمارہ) وقت پڑنا۔ مشکل پڑنا۔  
 دشیا۔ (دُش۔ یا) (ق- ا- مذ) اچھے دن۔ مبارک دن۔

## د - ع

دُعا۔ (ع- ا- مٹ) (۱) خدا سے مانگنا۔ التجا۔ التماس۔ استدعا (۲) دُعا کی عبادت (۳) مناجات۔ مغفرت کی طلب۔ کسی کی بہتری کی خواہش۔ مراد (۶) سلام۔ مبارک۔ اشیر باد۔ جمع: آدوید۔  
 دُعا لگنا۔ (۱- عمارہ) دُعا کا لٹ نتیجہ نکالنا۔  
 دُعا چلنا۔ (۱- عمارہ) دُعا کا اثر ہونا۔







دُکھ اٹھانا۔ (۱- محاورہ) تکلیف اٹھانا۔ مصیبت بھرنے۔ بیماری بھگتنا۔ ایذا پانا  
 دُکھ ہٹانا۔ (۱- محاورہ) ہمدردی کرنا۔ غم خواری کرنا۔  
 دُکھ بسرانا۔ (مصنوعی مرکب) رنج بھلانا۔  
 دُکھ بھرنے۔ دُکھ بھگتنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت اٹھانا۔ تکلیف ہسنانا۔  
 دُکھ بھرنے کی فاختہ کوئے اندھے کھائیں۔ (۱- مثل) مصیبت کوئی  
 اٹھانے۔ فائدہ کوئی حاصل کرے۔  
 دُکھ پر دُکھ بھرنے۔ (۱- محاورہ) سخت تکلیف اٹھانا۔ تکلیف پر تکلیف اٹھانا  
 دُکھ ڈرد۔ (۱- انداز) آفتیں۔ مصیبتیں۔  
 دُکھ درد کا شریک (ساختی)۔ (۱- صفت) رنج و غم کا ساختی۔ ہمدرد۔  
 دُکھ درد میں شریک ہونا۔ (۱- محاورہ) رنج و غم کا ساتھ دینا۔ دُکھ بٹانا۔  
 دُکھ دھندہ۔ (۱- انداز) دنیا کی تکلیفیں اور کام۔  
 دُکھ دینا۔ (۱- محاورہ) تکلیف دینا۔  
 دُکھ روونا۔ (۱- محاورہ) (۱) بگڑنا۔ (۲) دُکھ کا حال بنانا۔  
 دُکھ ساگر۔ (۱- انداز) مصیبت کا گھر۔ دنیا۔  
 دُکھ سگھ۔ (۱- انداز) رنج و راحت۔  
 دُکھ سگھ بھائی بہن میں۔ (۱- مثل) دُکھ کے ساتھ سگھ اور سگھ کے  
 ساتھ دُکھ ضرور ہوتا ہے۔  
 دُکھ سگھ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ (۱- مثل) ہر شخص کو تکلیف  
 بھی ہوتی ہے اور سگھ بھی ملتا ہے۔  
 دُکھ کا مارا۔ (۱- محاورہ) مصیبت زدہ۔  
 دُکھ کی لوٹ۔ (۱- امث) سرتاپا دُکھ۔ دائم المرض۔  
 دُکھ کی ماری۔ (۱- محاورہ) مصیبت زدہ (عورت)۔  
 دُکھ لگنا۔ (۱- محاورہ) (۱) روگ لگنا۔ روگ ہونا (۲) مصیبت پڑنا۔  
 دُکھ میں سگھ کی قدر ہوتی ہے۔ (۱- مثل) جب تک تکلیف نہ ہو  
 آدمی آرام کی قدر نہیں کرتا۔  
 دُکھ ہیرتا۔ دُکھ دُور کرنے والا۔ غم مٹانے والا۔ مصیبت سے نجات دلائی والا  
 دُکھ ہیزن۔ دُکھ دُور کرنے والا (ق)۔  
 دُکھال۔ (ق)۔ (۱- امث) تے۔ مثلی۔  
 دُکھانا۔ (د- کھانا)۔ (۱- مص) (۱) آنکھوں کے سامنے کرنا۔ رُو برُو کرنا۔  
 پیش کرنا (۲) ملاحظہ کرنا۔  
 دُکھانے کے دانت ہیں۔ نائش بائیں ہیں۔  
 دُکھانا۔ (د- کھانا)۔ (۱- مص) (۱) تکلیف دینا۔ ایذا دینا (۲) رنج دینا۔  
 غم دینا (۳) زخم کو پھیرنا۔ زردی جگہ کوئی چیز مارنا۔  
 دُکھاوا۔ (د- کھانا)۔ (۱- انداز) نمود۔ نائش۔ تکلیف۔ تصنع۔ بناوٹ۔  
 ظاہری شیب ٹاپ (۲) ظاہر ہونا۔ معلوم دینا۔ نمودار ہونا۔  
 دُکھاوٹ۔ (د- کھانا)۔ (۱- امث) (۱) نمود۔ نائش۔ ظاہر داری۔  
 (۲) تکلیف۔ بناوٹ (۳) ظہور۔ درشن۔  
 دُکھاؤ۔ (د- کھانا)۔ (۱- انداز) (۱) دُور کی چیز کا نظر آنا (۲) سامنا ہونا۔  
 (۳) دیدار۔ خوشنما۔  
 دُکھائی۔ (د- کھانا)۔ (۱- امث) (۱) نمودنائی (۲) ظہور۔ درشن (۳)

نائش۔ نمود (۲) معاینہ۔ معاینہ کرنے کی اُمرت۔  
 دکھائی پڑنا۔ دکھائی دینا۔ (مصنوعی مرکب) (۱) نظر آنا۔ بھائی دینا۔  
 (۲) معلوم ہونا۔ احوال ہونا۔  
 دُکھت۔ (د- کھت)۔ (۱- صفت) دُکھیا۔ مصیبت کا مارا۔  
 دُکھتی۔ (د- کھتی)۔ (۱- صفت) (۱) تکلیف دینے والی۔ دُکھ دینے والا۔  
 دُکھتی جوٹ کی بیس۔ (۱- امث) پتے کی بات۔  
 دُکھتی رنگ۔ (۱) اخلاقی کمزوری (۲) ذلی احساس۔  
 دُکھتی رنگ پر لاکھ رکھنا۔ (۱- محاورہ) کسی کے عیب یا کمزوری پر  
 گرفت کرنا۔  
 دُکھتی رنگ چھپڑنا (دوبانا)۔ تکلیف دہ بات شروع کرنا۔ ناگوار  
 بات چھپڑنا۔  
 دُکھتی کہنا۔ (۱- محاورہ) ایسی بات کہنا جو مخاطب کو ناگوار کرے۔  
 دُکھتے دانت کو اٹھیرنا چاہیئے۔ (۱- مثل) دُکھ دینے والی شے کو دُور  
 ہی کر دینا بہتر ہے۔  
 دُکھڑا۔ (د- کھڑا)۔ (۱- انداز) (۱) بیماری۔ مرض (۲) رنج و غم کا بیان۔ درد بھرا  
 قصہ۔ (۳) بگڑنا۔ (۴) غمت و مشقت۔  
 دُکھڑا پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مصیبت یا پتہ کا آنا (۲) غمناک کامر جانا۔  
 دُکھڑا پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) غمت و مشقت کرنا (۲) مصیبت میں  
 زندگی گزارنا۔  
 دُکھڑا روونا۔ (۱- محاورہ) مصیبت بیان کرنا۔  
 دُکھلانا۔ (د- کھلانا)۔ (۱- مص) (۱) ملاحظہ کرنا۔ دُکھانا (۲) آگاہ کرنا (۳)  
 پیش کرنا (۴) رہنمائی کرنا۔ راستہ بتانا۔  
 دُکھن۔ (د- کھن)۔ (۱- مص) (۱) جنوں کی سمت۔  
 دُکھن پیٹ۔ دکن کا پتی یعنی حاکم۔ (ق)۔  
 دُکھن۔ (۱- امث) (۱) زرد۔ تکلیف۔  
 دُکھنا۔ (د- کھنا)۔ (۱- امث) (۱) جنوں ہوا۔  
 دُکھنا۔ (د- کھنا)۔ (۱- مص) (۱) دکھائی دینا۔ نظر آنا۔  
 دُکھنا۔ (د- کھنا)۔ (۱- مص) (۱) زرد کرنا۔ زرد ہونا (۲) غمگین ہونا۔ غم ہونا۔  
 (۳) تھک جانا۔  
 دُکھنے آنا۔ (۱- مص) (۱) آنکھ کی تکلیف ہونا۔  
 دُکھنی۔ (د- کھنی)۔ (۱- صفت) (۱) دُکھن سے منسوب۔ دُکھن کا۔ جنوں ہند  
 میں اُردو زبان کی ابتدائی صورت۔  
 دُکھی۔ (د- کھی)۔ (۱- انداز) (۱) بیمار (۲) مصیبت زدہ۔ رنجیدہ۔  
 دُکھی ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) رنجیدہ ہونا۔ عاجز آنا۔ نہایت تکلیف میں  
 ہونا (۲) مریض ہونا۔ روگ ہونا۔  
 دُکھیا۔ (د- کھی)۔ (۱- امث) (۱) درد مند عورت۔ جنوں کی ماری عورت۔  
 دُکھیا دُکھ رووے کھیا کمر لووے۔ (۱- مثل) مصیبت زدہ اپنا  
 دُکھ بیان کرنا۔ کھیا کمر لووے اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچتا ہے۔  
 دُکھیا رووے کھیا سووے۔ (۱- مثل) مصیبت زدہ تکلیف میں  
 اور خوش قسمت مرتے میں زندگی گزارتا ہے۔



دل افروز - (ف - صفت) دل کو روشن کرنے والا۔  
 دل افکار - (ف - صفت) رنجیدہ - غمگین۔  
 دل افکندیم لیسیم اللہ محجر بہا و مرسہا - (ف - ص - مقولہ) جب کوئی کام شروع کرنے میں تویہ مصرعہ پڑھا جاتا ہے (ترجمہ) اب تو ارادہ کر لیا ہے اللہ مالک ہے۔  
 دل آگتنا - (ا - محاورہ) دل اُچھاٹ ہو جانا - جی بھر جانا۔  
 دل اکھڑ جانا - (ا - محاورہ) طبیعت اُچھاٹ ہو جانا - دل نہ لگنا۔  
 دل الٹ ٹپٹ ہو جانا - (ا - محاورہ) دل کا گھبرانا - بے چین ہونا۔  
 دل الٹنا - (ا - محاورہ) دیوانہ ہونا - پاگل ہونا (۲) دل گھبرانا نقصان ہونا  
 دل اُلٹھانا - (ا - محاورہ) (۱) عاشق ہونا (۲) سیراز ہونا - اکتنا۔  
 دل اُمنڈ آنا - (ا - محاورہ) رقت طاری ہونا - رونے کے قریب ہونا۔  
 دل اور ہونا - (ا - محاورہ) خیال مختلف ہونا۔  
 دل اُند آنا - (ا - محاورہ) دل بھر آنا - رونے کے قریب ہونا۔  
 دل ایک ہونا - (ا - محاورہ) ہم خیال ہونا۔  
 دل اُنیٹھ لینا - (ا - محاورہ) فریفتہ کر لینا۔  
 دل باختمہ - (ف - صفت) پریشان - گھبرا یا ہوا - بدحواس۔  
 دل باخ باخ ہونا - (ا - محاورہ) بہت خوش ہونا۔  
 دل باندھنا - (ا - محاورہ) دل کو مائل کر لینا۔  
 دل بٹورنا - (ا - محاورہ) ہمت توڑنا - بے دل کرنا۔  
 دل بچھانا - (ا - محاورہ) ہمت توڑ دینا - افسردہ کر دینا۔  
 دل بچھنا - (ا - محاورہ) اُمنگ جاتی رہنا۔  
 دل بجال ہونا - (ا - محاورہ) (۱) دل کی کدویت دُور ہونا (۲) دل کو چین آنا۔  
 دل بدست آور کہ رنج اکبر است - (ف - مثنیٰ) دلجوئی کرنا رنج اکبر کے برابر ہے۔  
 دلبر - (ف - صفت) دل لے لینے والا (۲) پیارا - محبوب - مشوق۔  
 دلبری - (ف - ا - مثنیٰ) (۱) دل کو موہ لینا - دل شش (۲) محبوبیت - معشوقیت - پیارا ہونا۔  
 دل بڑا کرنا - (ا - محاورہ) رنجیدہ ہونا۔  
 دل بڑا ہونا - (ا - محاورہ) (۱) دل ناراض ہونا - جی کھٹا ہونا - تسلی ہونا۔  
 دل بڑا ہونے والا - (ف - ا - مثنیٰ) (۱) نفرت - کماہیت - تنفر (۲) دل کا ہٹ جانا۔  
 دل بڑا ہونے والا - (ف - صفت) دل ہٹ جانا - غمگین - آزرده۔  
 دل برشتہ - (ف - صفت) غمگین - رنجیدہ۔  
 دل برمانا - (ا - محاورہ) فریفتہ کرنا - رنج دینا۔  
 دل بڑھانا - (ا - محاورہ) حوصلہ دلانا - ہمت بندھانا۔  
 دل بڑھنا - (ا - محاورہ) حوصلہ بڑھنا - دلیر ہونا۔  
 دل بستگی - (ف - ا - مثنیٰ) دل لگنا - جی بہلنا۔  
 دل بچھنا - (ا - محاورہ) افسردہ خاطر ہونا۔

دل بلیوں اُچھلنا - (ا - محاورہ) بہت بے تاب ہونا - گھبرانا۔  
 دل بند - (ف - صفت) (۱) پیارا - محبوب (۲) بیٹا۔  
 دل بند ہونا - (ا - محاورہ) ڈم گھٹنا - دل گھبرانا۔  
 دل بودا ہونا - (ا - محاورہ) دل کو درد ہونا - تکلیف نہ اٹھا سکتا۔  
 دل بھاری ہونا - (ا - محاورہ) رنجیدہ ہونا - غموم ہونا۔  
 دل بھٹکنا - (ا - محاورہ) دل کا کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف مائل ہونا۔  
 دل بھینا - (ا - محاورہ) ڈرنا - بچھکانا۔  
 دل کھڑ آنا - (ا - محاورہ) آنکھوں میں آنسو آنا - رقت ہونا۔  
 دل گھڑ گھڑانا - (ا - محاورہ) لالچ پیدا ہونا - جی لچکانا - شوق پیدا ہونا۔  
 دل گھبر جانا - (ا - محاورہ) سیر ہو جانا۔  
 دل گھڑ دینا - (ا - محاورہ) دل پھیر دینا - لگائی بھائی کر کے نفرت پیدا کر دینا۔  
 دل گھڑ گئے - (ا) جی بھر کے - اچھی طرح سیر ہو کر۔  
 دل بہلنا - (ا - محاورہ) (۱) دل کا کسی کام میں مشغول ہونا (۲) پریشان دور ہونا۔  
 دل لے ایمان ہونا - (ا - محاورہ) (۱) بددیانتی کرنا (۲) دل میں بُرا خیال آنا۔  
 دل بیٹھا جانا - (ا - محاورہ) کمزوری محسوس ہونا - اختلاج قلب کی حالت ہونا۔  
 دل پیٹھ جانا (بیٹھنا) - (ا - محاورہ) ہمت نہ رہنا - افسردہ ہونا - خوشی نہ رہنا۔  
 دل بے چین (بے کلی) ہونا - (ا - محاورہ) مضطرب ہونا۔  
 دل یازہ پاتہ (پاشن پاش) ہونا - (ا - محاورہ) روحانی صدمہ ہونا۔  
 دل پانا - (ا - محاورہ) عمدتہ معلوم کرنا - خوشی پانا - حوصلہ ہونا۔  
 دل پانی پانی ہونا - (ا - محاورہ) دل نرم ہونا۔  
 دل پیٹھ ہو جانا - (ا - محاورہ) مصیبتیں پھیل جھیل کر دل کا سخت ہو جانا۔  
 دل پیرا اُختیا رہ جانا - (ا - محاورہ) دل قابو میں ہونا۔  
 دل پیر بار ہونا - (ا - محاورہ) دل پر جو مجھ معلوم ہونا۔  
 دل پیر پیٹھ رکھ لینا - (ا - محاورہ) صبر کر لینا - دل سخت کر لینا۔  
 دل پیر سوٹ لگنا - (ا - محاورہ) صدمہ پہننا - دل پر اثر ہونا۔  
 دل پیر چھریاں چلنا - (ا - محاورہ) اندرونی صدمہ پہننا۔  
 دل پیر سب توڑنا - (ا - محاورہ) افسوس ہونا پھٹنا ہونا - صدمہ ہونا۔  
 دل پیر شگ ہونا - (ا - محاورہ) دل کے راز کو پوشیدہ رکھنا۔  
 دل پیر کندہ ہونا - (ا - محاورہ) کسی بات کا دل میں اثر ہونا - دل میں پیٹھ جانا۔  
 دل پیر گھیلنا - (ا - محاورہ) جان بوجھوں میں ڈال کر کوئی کام کرنا۔  
 دل پیر گھونسا پڑنا - (ا - محاورہ) اچانک کوئی صدمہ پہننا۔  
 دل پیر گھر ہو جانا - (ا - محاورہ) دل ایسا سخ ہو جانا کہ اس پر کسی بات کا اثر نہ ہو۔  
 دل پیر میل آنا - (ا - محاورہ) دل کو ناکوار کرنا - کسی کی بات کو پسند نہ کرنا۔

دل پر میل نہ لانا۔ (۱۔ محاورہ) خیال نہ کرنا۔ بڑا نہ ماننا۔  
 دل پر نشتر مارنا۔ (۱۔ محاورہ) بچھتی ہوئی بات کہنا۔ تکلیف دہ بات کہنا  
 دل پر نقش ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بات کا دل میں بیٹھ جانا۔  
 دل پر پتھر رکھ رکھ کے دیکھو۔ (۱۔ محاورہ) اپنی حالت کا اندازہ کر کے دوسرے  
 کی نسبت کچھ کہو۔  
 دل پر پتھر رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) قتل اور تسکین دینا۔  
 دل پر جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل پہلانا۔  
 دل پر لیشان ہونا۔ نگر ہونا۔ رنج ہونا۔  
 دل پذیر۔ (اصف) مرغوب۔ پسندیدہ۔  
 دل پذیر۔ (ف۔ ا۔ مٹ) رغبت۔ پسندیدگی۔  
 دل پختہ مژدہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) افسردہ ہونا۔ غمگین ہونا۔  
 دل پستان۔ (۱۔ محاورہ) فریشتہ ہونا۔  
 دل پسند۔ (ف۔ صفت) مرغوب۔ پسندیدہ۔  
 دل پسندی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) محبت۔ رغبت۔  
 دل پسینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دم آنا (۲) سخاوت پر آمادہ ہونا۔  
 دل پکا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دل مضبوط کرنا۔ حوصلہ کرنا۔  
 دل پاک جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) صدقوں سے دل کو سخت رنج ہونا (۲)  
 طینے میں سن کر دل کو تکلیف ہونا۔  
 دل پکڑا جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) شبہ پڑنا۔ شک پڑنا (۲) ارادہ ظاہر ہو  
 جانا۔ عمدہ معلوم ہونا۔  
 دل پکڑ کر اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) بے قرار ہو کر اٹھنا۔  
 دل پکڑ کر بیٹھ جانا۔ (۱۔ محاورہ) صدمے کی وجہ سے بول نہ سکتا یا  
 گھبرا جانا۔  
 دل پکڑ لینا۔ (۱۔ محاورہ) صدمے کی تاب نہ لا سکتا۔  
 دل پکڑے پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) بے تاب ہونا۔ مضطرب ہونا۔  
 دل پاک کے پھوڑا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) صدقوں کی وجہ سے زیادہ  
 برداشت کی طاقت نہ ہونا۔  
 دل پھلنا۔ (۱۔ محاورہ) رحم آنا۔ ترس آنا۔  
 دل پھلنا۔ (۱۔ محاورہ) دل کا بیزار کرنا۔ طبیعت کو متنفر کرنا۔  
 دل پھٹا جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہمدردی کی وجہ سے صدمہ ہونا۔  
 دل پھٹ جانا (پھٹنا)۔ (۱۔ محاورہ) دل متفرق ہونا۔ دل بیزار ہونا۔  
 دل پھیر جانا (پھیرنا)۔ (۱۔ محاورہ) بیزار ہونا۔ کراہت ہونا۔  
 دل پھڑکانا۔ (۱۔ محاورہ) خوشی سے بے تاب ہو جانا۔  
 دل پھسلنا۔ (۱۔ محاورہ) دل کا بے اختیار مائل ہونا۔  
 دل پھنسا۔ (۱۔ محاورہ) عاشق ہونا۔ مائل ہونا۔  
 دل پھینک جانا۔ (۱۔ محاورہ) بھل جانا۔ دل میں جلیں ہونا۔  
 دل پھیر لینا۔ (۱۔ محاورہ) دل ہٹا لینا۔ نفرت کرنا۔  
 دل پھینکا ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) توجہ ہٹ جانا۔ کسی چیز کا خیال  
 جانا نہ رہنا۔  
 دل تازہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) خوش ہونا۔ دل کو فرحت ہونا۔

دل تڑپنا۔ (۱۔ محاورہ) بے تاب ہونا۔ مضطرب ہونا۔  
 دل لغتہ۔ (ف۔ صفت) صمیمیت زدہ۔ دل جلا۔ عاشق  
 دل تلملانا۔ (۱۔ محاورہ) دل کا بے قرار ہونا۔  
 دل تلے اوپر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دل گھبرانا۔ پریشان ہونا۔  
 دل تنگ۔ (ف۔ صفت) طول۔ رنجیدہ۔ ناخوش۔  
 دل تنگ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مضطرب ہونا۔ پریشان ہونا (۲)  
 غمیس ہونا۔ بخیل ہونا۔  
 دل توڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بایوس کرنا۔ نا امید کرنا (۲) بے تعلق ہو جانا۔  
 دل تولنا۔ (۱۔ محاورہ) آزمائش کرنا۔  
 دل توڑ کر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سستی ہونا۔ عزیت کا رنج نہ ہونا۔  
 دل تھام لینا۔ (۱۔ محاورہ) مضبوط کرنا۔ دل کو قابو میں رکھنا۔  
 دل تھکھڑا۔ (۱۔ محاورہ) ڈرنا۔ خوف کھانا۔  
 دل تھوڑا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہمت نہ ہونا۔ ہمت ٹوٹ جانا۔  
 دل ٹوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) مرضی دریافت کرنا۔  
 دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سخت صدمہ ہونا۔  
 دل ٹوٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہمت ٹوٹ جانا۔ بایوس ہو جانا۔  
 دل ٹوٹ کر آنا۔ (۱۔ محاورہ) سخت فریشتہ یا مائل ہونا۔  
 دل ٹھکانے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) اطمینان ہونا۔ تسکین ہونا۔  
 دل ٹھکانا۔ (۱۔ محاورہ) اطمینان ہونا۔ تسکین ہونا۔  
 دل ٹھنڈا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) خوش ہونا (۲) شقی ہونا۔ اطمینان ہونا۔  
 دل ٹھوکتا۔ (۱۔ محاورہ) اطمینان کر لینا۔  
 دل ٹھہرنا۔ (۱۔ محاورہ) تسکین ہونا۔ صبر آ جانا۔ دل جمعی ہونا۔  
 دل جانا۔ (۱۔ محاورہ) عاشق ہونا۔  
 دل جانتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) دل واقف ہے۔ حقیقت معلوم ہے۔  
 دل جگر دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) حوصلہ یا ہمت دیکھنا۔  
 دل جلا۔ (ف۔ ا۔ صفت) عاشق۔ فریفتہ۔ مغزودہ۔ دل سوختہ۔  
 دل جلا کر خاک کرنا۔ (۱۔ محاورہ) سخت صدمہ پہنچانا۔ سخت رنج دینا۔  
 دل جلا لانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سخت رنج دینا (۲) رشک دلانا۔ رنج اٹھانا۔  
 دل جل کر کباب ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سخت رنج یا صدمہ ہونا۔ رشک  
 سے جانا۔  
 دل جلنا۔ (۱۔ محاورہ) رنج ہونا۔ غم ہونا۔  
 دل جھنا۔ (۱۔ محاورہ) دل لگنا۔ کسی کام کو توجہ سے کرنا۔  
 دل جمعی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) شقی۔ اطمینان۔ بے فکری۔  
 دل جوان رہنا۔ (۱۔ محاورہ) ہر وقت خوش رہنا۔  
 دل جو۔ (ف۔ صفت) پیارا۔ محبوب۔  
 دل جونی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) شقی۔ تسکین۔  
 دل جونی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دل ہاتھ میں لینا۔ شقی دینا۔  
 دل جھکنا۔ (۱۔ محاورہ) مائل ہونا۔  
 دل جھٹانا۔ (۱۔ محاورہ) وجد میں آنا۔  
 دل جھینے سے خفا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زندگی سے بیزار ہونا۔

دل داری۔ دل داری۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) تسلی تیشی۔ تسکین (۲) ہمدردی  
دفا داری۔  
دل دا غدار ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) دل پر بہت حد سے پہنچنا۔ مغموم ہونا۔  
دل دریا۔ (ف۔ صفت) نیاض۔ سخی۔  
دل دریا ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) بہت سخی یا فیاض ہونا۔  
دل دکھنا (گرگھنا)۔ (۱)۔ محاورہ) غم ہونا۔ تکلیف ہونا۔  
دل دوڑنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱) بے اختیار دل چاہنا۔ بے اختیار فریفتہ ہونا۔  
دل دوڑ۔ (ف۔ ا۔ صفت) دل پر اثر کرنے والا۔ پسندیدہ۔ مرغوب۔  
دل دو نیم ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) سخت صدمہ ہونا۔  
دل دھڑکنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱) دل کی حرکت کا تیز ہو جانا (۲) دوسرے پیدا  
ہونا۔ خوف ہونا۔ اضطراب ہونا۔ دوسرے پیدا ہونا۔  
دل دھک دھک کرنا۔ (۱)۔ محاورہ) بیماری ڈر یا اضطراب سے دل کی  
حرکت تیز ہو جانا۔  
دل دھکڑ پکڑ ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) خوف کھانا۔ ڈرنا۔ اضطراب ہونا۔  
دل دھک سے ہو جانا۔ (۱)۔ محاورہ) اچانک صدمہ ہونا۔  
دل دہل جانا (دہلنا)۔ (۱)۔ محاورہ) خوف کھانا۔ ڈرنا۔  
دل دہی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) تسلی۔ تیشی۔ دلاسا۔  
دل دیکھنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱) حوصلے کی آزمائش کرنا (۲) منشا دریافت کرنا۔  
دل دینا۔ (۱)۔ محاورہ) فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔  
دل ڈال ڈال ڈال ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) دل بے اختیار ہونا۔ دل تباہ  
میں نہ ہونا۔  
دل ڈوبنا۔ (۱)۔ محاورہ) غشی طاری ہونا۔ کمزوری کی وجہ سے دل گنا۔  
دل ذرا سا ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) دل کا نازک ہونا۔ دل میں برداشت کی  
حلاقت نہ ہونا۔  
دل گرنا۔ (ف۔ صفت) دل بھانے والا۔ دلبر۔ معشوق۔  
دل رانی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) دلبری۔ معشوقیت۔ محبوبیت۔  
دل رینا۔ (۱)۔ محاورہ) مائوس ہونا۔  
دل رقتہ۔ (ف۔ صفت) جس کا دل گما ہوا ہو۔ عاشق۔ فریفتہ۔  
دل رابدل راہیمست۔ (ف۔ موقوفہ) دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔  
ایک طرف محبت ہو تو دوسری طرف بھی ہو جاتی ہے۔  
دل رگنا۔ آندہ ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔  
دل رکھنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱) آرزو پوری کرنا (۲) تسلی کرنا (۳) حوصلہ رکھنا۔  
دل رنڈھنا۔ (۱)۔ محاورہ) نکلین ہونا۔  
دل روشن ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱) معلوم ہونا۔ واقفیت ہونا (۲) دل کا نور  
عرفان سے منور ہونا۔  
دل روندنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱) صدمہ پہنچانا (۲) فریفتہ کرنا۔  
دل ریش۔ (ف۔ صفت) زخمی دل۔ ٹکنا تیا عاشق۔  
دل زار۔ (ف۔ صفت) پریشان دل۔ تکلیف میں۔  
دل زندگی سے کچھ پانا۔ (۱)۔ محاورہ) ناامید ہو جانا یا اوس ہو جانا۔  
دل زندہ ہو جانا۔ (۱)۔ محاورہ) بہت خوش ہونا۔

دل چار چار ہاتھ اٹھلنا۔ (۱)۔ محاورہ) بے تاب ہونا۔ گھبرانا۔  
دل چاک کرنا۔ (۱)۔ محاورہ) صدمہ پہنچانا۔ رنج دینا۔  
دل چاہتا ہے۔ (۱)۔ محاورہ) دل میں آرزو ہے۔  
دل چاہیے۔ (۱)۔ محاورہ) حوصلہ یا ہمت درکار ہے۔  
دل چڑانا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱) فریفتہ کر لینا (۲) کام کرنے کو بھی نہ چاہنا (۳)  
کو تباہی کرنا۔  
دل چسپ۔ دلچسپ۔ (ف۔ صفت) دل بھانے والا۔ خوشنما۔  
خوبصورت۔ مزیدار۔  
دل چسپی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) شوق۔ رغبت۔ چاہت (۲) مزہ۔ خوشی۔ لطف  
دل چلا۔ (ف۔ ا۔ صفت) دلبر۔ بہادر۔ مہیلا۔ بزمی (۲) صاحب ہمت۔  
(۳) سخی۔ فیض (۴) پاگل۔ دیوانہ۔  
دل چلنا۔ (۱)۔ محاورہ) خواہش کرنا۔ چاہنا۔  
دل چور۔ (ف۔ صفت) کم ہمت۔ بزدل۔  
دل چھان دینا۔ (۱)۔ محاورہ) سخت رنج پہنچانا۔  
دل چھیننا۔ (۱)۔ محاورہ) پہلو ہتی کرنا۔  
دل چھینتی کرنا۔ (۱)۔ محاورہ) سخت رنج دینا۔  
دل چھوٹا ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) پست ہمت ہو جانا۔  
دل چھوٹ جانا۔ (۱)۔ محاورہ) ہمت ٹوٹ جانا۔ گھبر جانا۔  
دل چھوڑنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱) عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا (۲) ہمت مارنا۔  
دل چھیننا۔ (۱)۔ محاورہ) دل کو زخمی کرنا۔ عاشق بنا لینا۔  
دل چھین لینا۔ (۱)۔ محاورہ) عاشق بنا لینا۔  
دل چسیر کر دیکھنا۔ (۱)۔ محاورہ) راز کا ہر کرنا۔  
دل چسیر کر دیکھنا۔ (۱)۔ محاورہ) دل کا حال معلوم کرنا۔  
دل حاضر ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) متوجہ ہونا۔ دل چسپی لینا۔  
دل تزنس۔ (ف۔ ا۔ مٹ) غم زدہ دل۔ مغموم دل۔  
دل خاک ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) شگفتگی حالی رہنا۔ آرزو نہ رہنا۔  
دل خالی کرنا۔ (۱)۔ محاورہ) رودھو کر یا غصتہ نکال کر دل کا غبار نکالنا۔  
دل خانہ خدا ہے۔ (۱)۔ محاورہ) دل اللہ کا گھر ہے کیونکہ دل میں اللہ کی یاد  
رہتی ہے۔  
دل خراس۔ (ف۔ صفت) جانکاہ۔ تکلیف دہ۔  
دل خستہ۔ (ف۔ صفت) کسیدہ۔ رنجیدہ خاطر۔ مصیبت زدہ۔  
دل خشک ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) راحت پانا۔ خوش ہونا۔  
دل خواہ۔ (ف۔ صفت) مرضی کے موافق۔ پسندیدہ۔  
دل خوش کرنا۔ (۱)۔ محاورہ) راضی کرنا۔ آند کرنا۔  
دل خوش کن۔ (ف۔ صفت) دل کو مسرت اور خوشی بخشنے والا۔  
دل خون کرنا۔ (۱)۔ محاورہ) بے حد غمت و مشقت کرنا۔  
دل خون ہو کے بہ جانا۔ (۱)۔ محاورہ) اُننگ جاتی نہنا شوق نہ رہنا۔  
دل خون ہونا۔ (۱)۔ محاورہ) سخت رنجیدہ ہونا۔  
دل دادہ۔ (ف۔ صفت) عاشق۔ فریفتہ۔  
دل دار۔ (ف۔ ا۔ مٹ) تسلی دینے والا (۲) معشوق۔ پیارا۔ محبوب۔

دل شیر ہونا۔ (۱- محاورہ) دل مضبوط ہونا۔ حوصلہ ہونا۔  
 دل صاف ہو جانا۔ (۱- محاورہ) کدورت دور ہو جانا۔ طلال نہ رہنا۔  
 صلح ہو جانا۔  
 دل صدھیاک۔ (ف- صفت) دل جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔  
 سخت دھنی دل۔ یاوسی۔  
 دل صیفا چوٹا۔ (۱- محاورہ) دل صاف ہونا۔  
 دل ٹمگین۔ (ف- صفت) رنجیدہ یا معنوم ہونا۔  
 دل غنی ہو جانا۔ (۱- محاورہ) سخی ہونا۔ دل کا امیر ہونا۔  
 دل فروش۔ (ف- صفت) دل بیچنے والا۔ عاشق۔  
 دل فریب۔ (ف- صفت) (۱) دل کو بٹھا لینے والا۔ سن موہن۔ (۲) ڈرنا۔  
 دل فریبی۔ (ف- صفت) خوبصورتی۔ دلربائی۔ دل کو بٹھانا۔ سن  
 موہ لینا۔  
 دل فگار۔ (ف- صفت) جس کا دل زخمی ہو۔ ٹمگین۔ محزون۔  
 دل قیاب میں چوٹا۔ (۱- محاورہ) دل کا اپنے بس میں ہونا۔  
 دل قوی کرنا۔ (۱- محاورہ) حوصلہ کرنا۔ دل کو مضبوط کرنا۔  
 دل کا آجانا۔ (۱- محاورہ) عاشق ہونا۔  
 دل کا ارمان نکلنا۔ (۱- محاورہ) آرزو پوری ہونا۔ حوصلہ نکلنا۔  
 دل کا بادشاہ۔ (۱- مذ) آزاد۔ خود مختار۔  
 دل کا بخارا۔ (۱- مذ) غصہ۔ رنج۔ کدورت۔ طلال۔  
 دل کا بودا۔ (۱- صفت) کم ہمت۔ بڑا دل۔ پست حوصلہ۔  
 دل کا ٹکڑا۔ (۱- مذ) بہت پیارا۔ نعت جگر۔  
 دل کا حوصلہ نکلنا۔ (۱- محاورہ) آرزو یا خواہش پوری ہونا۔  
 دل کا خون پینا۔ (۱- محاورہ) غم کھانا۔ رنج کرنا۔  
 دل کا دل آئینہ سے۔ (۱- مش) جیسا کوئی کسی کے متعلق سوچے گا دیا  
 ہی اُسے اس سے جواب بھی ملے گا۔  
 دل کا دو دو لاکھ اچھلنا۔ (۱- محاورہ) بہت بے قرار ہونا۔ مضطرب ہونا۔  
 دل کا دھڑکا۔ (۱- مذ) اختلاج قلب۔ بھقان۔  
 دل کا عالم۔ (ف- صفت) دل کی حالت۔  
 دل کا عنبر۔ (۱- مذ) رنج۔ غصہ۔ کدورت۔ طلال۔  
 دل کا عنبر نکلنا۔ (۱- محاورہ) کدورت دور ہونا۔  
 دل کا عنبر وصل جانا۔ (۱- محاورہ) دل صاف ہو جانا۔ غصہ دور ہو جانا  
 کدورت ختم ہو جانا۔  
 دل کا کاٹنا۔ (۱- مذ) دل کی غمش۔ رنج۔ طلال۔  
 دل کا کچا۔ (۱- صفت) کم ہمت۔ بڑا دل۔ بودا۔  
 دل کا کچھ اور نقشہ ہونا۔ (۱- محاورہ) مضطرب ہونا۔ پریشان ہونا۔ گھبرانا  
 دل کا کجرا۔ (۱- صفت) دل پکا رکھنے والا۔ وہ جس کے دل پر اثر نہ ہو۔  
 دل کا کھول کھلنا۔ (۱- محاورہ) خوش ہونا۔ شگفتہ خاطر ہونا۔  
 دل کا کھوٹا۔ (۱- صفت) دغا باز۔ فریبی۔  
 دل کا گھارا نی جانے یا راؤ۔ (۱- مش) رنج عالم کا اُسے ہی پتہ

دل بہاں۔ دل پھین لینے والا۔ خوبصورت۔ ڈرنا۔ مشوق۔  
 دل ستانی۔ (ف- صفت) دل موہ لینا۔ فریختہ کر لینا۔  
 دل سخت کر لینا۔ (۱- محاورہ) بے رحم اور سنگ دل ہو جانا۔  
 دل سپرد ہو جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) منتظر ہو جانا (۲) دلولہ اور جوش جاتا رہنا۔  
 دل سلگنا۔ (۱- محاورہ) دل میں جلن ہونا۔ سوز و گداز ہونا۔  
 دل سینھالنا۔ (۱- محاورہ) ہمت کرنا۔ تیار ہونا۔  
 دل سینھلنا۔ (۱- محاورہ) دل کو قرار یا تسکین ہونا۔  
 دل سوختہ۔ (ف- صفت) دل جلا۔ غم زدہ۔ محسوس زدہ۔  
 دل سوڑ۔ (ف- صفت) (۱) کڑا لے والا۔ رقت انگیز۔ درد انگیز (۲)  
 ہمدرد۔ غم خوار (۳) سرگرم۔ پرجوش۔ مشتاق (۴) دل کو جلانے والا۔  
 (۵) دوست۔ مشوق۔  
 دل سوزی۔ (ف- صفت) (۱) ہمدردی۔ غم خوری (۲) اشتیاق۔ سرگرمی  
 (۳) دل کا جلنا۔  
 دل سے۔ (۱) (۱) شوق سے۔ رعبت سے (۲) توجہ سے۔  
 دل سے اتارنا۔ (۱- محاورہ) نظروں سے گزانا۔ بے وقعت کر دینا۔  
 دل سے اتر جانا۔ (۱- محاورہ) بے وقعت ہو جانا۔ بھول جانا۔  
 دل سے پائیں کرنا۔ (۱- محاورہ) خود بخود کچھ کہنا۔ سوچتے رہنا۔  
 دل سے بھلا دینا۔ (۱- محاورہ) خیال بھول دینا۔ بالکل یاد نہ رکھنا۔  
 دل سے تنگ آنا۔ (۱- محاورہ) عاجز آنا۔ دکھی ہو جانا۔  
 دل سے دل اٹھنا۔ (۱- محاورہ) آپس میں محبت ہو جانا۔  
 دل سے دل ہلنا۔ (۱- محاورہ) دو شخصوں میں بہت محبت ہونا۔ ایک  
 دوسرے کا عاشق ہونا۔  
 دل سے دھواں نکلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) آہ نکلنا (۲) بے حد غم ہونا۔  
 دل سیر ہونا۔ (۱- محاورہ) دل بھر جانا۔  
 دل سے صاف ہونا۔ (۱- محاورہ) رنج و طلال جاتا رہنا۔  
 دل سے عنبر نکلنا۔ (۱- محاورہ) طلال نہ رہنا۔ غصہ اتر جانا۔  
 دل سے کاٹنا نکلنا۔ (۱- محاورہ) دل کی غمش جاتی رہنا۔  
 دل سے لگنا۔ (۱- محاورہ) بہت خیال ہونا۔ ٹکر ہونا۔ دُصن ہونا۔  
 دل سے مجبور ہونا۔ (۱- محاورہ) دل پر قابو نہ ہونا۔  
 دل سے ہلنا۔ خلوص اور محبت سے ملاقات کرنا۔  
 دل سے نکال دینا۔ (۱- محاورہ) بھلا دینا۔ دل سے مو کر دینا۔  
 دل سے نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) ظاہر طور پر ہونا۔ نام کو ہونا۔  
 دل سیاہ کرنا۔ (۱- محاورہ) بے رحم ہونا۔  
 دل سینے میں الجھنا۔ (۱- محاورہ) دل گھبرانا۔ اضطراب ہونا۔  
 دل شاد۔ (ف- صفت) خوش۔ بانش۔  
 دل شکستہ۔ (ف- صفت) رنجیدہ۔ افسردہ۔ یاوس۔ کنارتہ عاشق۔  
 دل شکن۔ (ف- صفت) دل توڑنے والا۔ ہمت پست کرنے والا۔  
 بنا راض کرنے والا۔  
 دل شگفتی۔ (ف- صفت) دل توڑنا۔ بہت توڑنا۔  
 دل شگفتہ۔ (ف- صفت) خوش۔ بانش۔

ہوتا ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔  
**دل کا لہری** - دل کا موجی - (۱۔ صفت) (۱) آزاد - بے پروا (۲) خوش مزاج۔  
**دل کا پینا** - (۱۔ محاورہ) دل گھبرانا - ڈرنا۔  
**دل کی تاب** ہونا - (۱۔ محاورہ) جلتا - رنجیدہ ہونا - تلکین ہونا۔  
**دل کی بندہ** - (۱۔ صفت) رنجیدہ - تلکین۔  
**دل کرنا** - (۱۔ محاورہ) (۱) فاضلی کرنا - سخاوت کرنا (۲) بہادری کرنا - جرأت کرنا - جہت کرنا (۳) خواہش کرنا۔  
**دل کو گڑا کرنا** - (۱۔ محاورہ) (۱) دل کو سخت کر لینا (۲) جرات کرنا (۳) مہربان برداشت کرنا۔  
**دل کو گھٹنا** - (۱۔ محاورہ) افسوس ہونا - غم ہونا - جلتا۔  
**دل کش** - (۱۔ صفت) (۱) دل کو پھیننے والا - دل بھانے والا (۲) دل پسند - مرغوب - پسندیدہ (۳) خوبصورت - خوش نما۔  
**دل کشا** - (۱۔ صفت) (۱) دل کو خوش کرنے والا - دل شگفتہ کرنے والا۔ (۲) روشن - فراخ۔  
**دل کشائی** - (۱۔ صفت) خوشی - فرحت - شگفتگی۔  
**دل کشی** - (۱۔ صفت) (۱) دل کو بھگانا - دل کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔  
**دل کشیدہ** ہونا - (۱۔ محاورہ) بیزار ہونا - رنجیدہ ہونا۔  
**دل کلانا** - (۱۔ محاورہ) ہمنوم ہونا - نا امید ہونا - افسردہ ہونا۔  
**دل کو پانا** - (۱۔ محاورہ) عاشق پرہیز کرنا۔  
**دل کو پانی** کرنا - (۱۔ محاورہ) مانگ کرنا - فریضہ کرنا۔  
**دل کو پتھر** کرنا - (۱۔ محاورہ) دل کو سخت کر لینا۔  
**دل کو پھینا** لگنا - (۱۔ محاورہ) بے قرار ہونا - بے چین ہونا۔  
**دل کو چھوڑا** بیٹا نا - (۱۔ محاورہ) بہت رنج دینا۔  
**دل کو کتاب** آنا (ہونا) - (۱۔ محاورہ) اطمینان ہونا - سکون ہونا - تسکین ہونا۔  
**دل کو پھٹا** منا - (۱۔ محاورہ) صبر کرنا - ضبط کرنا۔  
**دل کو چوٹ** لگنا - (۱۔ محاورہ) صدمہ پہنچنا۔  
**دل کو خون** کرنا - (۱۔ محاورہ) تلکین کرنا - سخت رنج دینا - جلانا۔  
**دل کو دل سے** راہ ہوتی ہے - (۱۔ مثل) محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔  
**دل کو سمجھانا** - (۱۔ محاورہ) تسلی دینا۔  
**دل کو بندھنا** لگنا - (۱۔ محاورہ) ضبط کرنا - صبر کرنا۔  
**دل کو قرار** ہونا - (۱۔ محاورہ) اطمینان و تسلی ہونا - صبر ہونا - دلچسپی ہونا۔  
**دل کو لینا** - (۱۔ محاورہ) (۱) دھن ہونا (۲) خواہش ہونا (۳) صدمہ ہونا۔  
**دل کو ٹوٹنا** - (۱۔ محاورہ) دھن ٹک جانا - ایک ہی طرف توجہ ہوجانا۔  
**دل بخت** ہوجانا۔  
**دل کو مسوسنا** - (۱۔ محاورہ) بے قراری کی حالت میں دل پر یا تھک کر کتلی ماحول کرنا۔  
**دل کو تانہ** بنانا - (۱۔ محاورہ) مانگ کرنا - فریضہ کرنا۔  
**دل کو پھولوں سے** مسلکنا - (۱۔ محاورہ) سخت رنج پہنچانا - خوب ستلنا۔

دل کو ہوا قرار تو سب کو سوچیں تو لا رہا - (۱۔ مثل) جسے کوئی فکر نہ ہو وہی ہر بات میں لطف اٹھا سکتا ہے۔  
**دل کھینٹا** بیٹھا ہونا - (۱۔ محاورہ) جی پھلانا - بہت رنجت ہونا۔  
**دل کھٹا** ہونا - (۱۔ محاورہ) دل بیزار ہونا - حوصلہ نہ ہونا۔  
**دل کھٹک** جانا - (۱۔ محاورہ) شہ پڑنا - شک پڑنا۔  
**دل کھٹکنا** - (۱۔ محاورہ) ڈرنا - کھٹکا ہونا۔  
**دل کھر** اکھوٹا ہونا - (۱۔ محاورہ) نیت میں فرق آنا - خیال نامہ پیدا ہونا۔  
**دل کھلانا** - (۱۔ محاورہ) شگفتہ ہوجانا - خوش ہونا۔  
**دل کھلنا** - (۱۔ محاورہ) (۱) خوش ہوجانا - رنج دور ہوجانا (۲) خوف جاتا رہنا (۳) حوصلہ بڑھنا - جہت پیدا ہونا (۴) روشن منیر ہوجانا۔  
**دل کھول** کر - **دل کھول** کے - بے دھڑک - خاطر خواہ۔  
**دل کے** میں نہ ہونا - (۱۔ محاورہ) دل کا قابو میں نہ ہونا۔  
**دل کھینچ** لینا - (۱۔ محاورہ) دل کو فریضہ کر لینا - مانگ کر لینا۔  
**دل کی** (۱۔ صفت) (۱) دل - خواہش۔  
**دل کی آگ** بجھانا - (۱۔ محاورہ) خواہش پوری کرنا - تسکین پانا۔  
**دل کی آڑ** لینا - (۱۔ محاورہ) دل کا مطلب سمجھ لینا۔  
**دل کی بھڑاس** - (۱۔ صفت) رنج - غم - سخت۔  
**دل کی بے تابی** - (۱۔ صفت) گھبراہٹ - بے چینی - بے قراری۔  
**دل کی پھانس** - (۱۔ صفت) غش - رنج - غم - صدمہ۔  
**دل کی جلتن** - (۱۔ صفت) رنج - غم۔  
**دل کی حسرت** نکھلنا - (۱۔ محاورہ) خواہش پوری ہونا - مُراد حاصل ہونا۔  
**دل کی دل میں** رہنا - (۱۔ محاورہ) خواہش پوری نہ ہونا۔  
**دل کی رُکاوٹ** - (۱۔ صفت) آڑوگی - افسردگی۔  
**دل کی سادھی** - (۱۔ صفت) بھولی - صاف دل۔  
**دل کی صفائی** - (۱۔ صفت) دل کا بڑی باتوں سے مُتبرہ ہونا۔  
**دل کی طرح** رکھنا - (۱۔ محاورہ) عزیز رکھنا۔  
**دل کی دلی** کھلنا - (۱۔ محاورہ) آڑو پوری ہونا۔  
**دل کی جی** - (۱۔ صفت) ہم راز - صلاح کار - مشیر۔  
**دل کی کہنا** - (۱۔ محاورہ) (۱) صاف بات ظاہر کر دینا (۲) وہ بات جو دگر کے دل میں ہوتا دینا۔  
**دل کی گانٹھ** - **دل کی گرہ** - (۱۔ صفت) رنج - شکوہ - شکایت۔  
**دل کی گانٹھ** کھولنا - (۱۔ محاورہ) عداوت دور کرنا - چھٹے ہونے کیلئے کو دینا کرنا۔  
**دل کی گرہ** (کھنڈی) کھلنا - رنج دور ہونا - عقدہ کشائی ہونا - ازل ظاہر ہونا۔  
**دل کی لگن** - **دل کی لاگ** - (۱۔ صفت) عشق - محبت - عاشقی۔  
**دل کی ملی** - (۱۔ صفت) غم - رنج - عشق - دل کی چوٹ۔  
**دل کی ملی** بچھنا - (۱۔ محاورہ) حسرت نکھلنا۔  
**دل کے مار** ہونا - (۱۔ محاورہ) دل پر ہاتھ کرنا - پورا اڑ کرنا۔  
**دل کے پرتے** ہونا - **دل کے لڑے** ہونا - (۱۔ محاورہ) سخت



دل مٹھی میں لینا۔ (۱) محاورہ کسی کو قابو کرنا۔ گرویدہ کر لینا۔  
 دل مٹی ہونا۔ (۱) محاورہ خواہش نہ رہنا۔  
 دل مچلنا۔ (۱) محاورہ کسی خواہش پر لبند ہونا۔  
 دل مرتھانا۔ (۱) محاورہ دل میں کوئی خواہش نہ رہنا۔ مفسرہ ہونا۔  
 دل مرحوم۔ (۱) ف۔ (۱) مدعا عاشق کا دل۔ نامراد دل۔  
 دل مسکنا۔ (۱) محاورہ دل کا بڑا پہنچانا۔ رنج دینا۔  
 دل مسوس کر رہ جانا۔ (۱) محاورہ دل پکڑ کر رہ جانا۔ کسی صدمہ کے باعث چنپ رہ جانا۔  
 دل مضبوط رکھنا۔ (۱) محاورہ پروا نہ کرنا۔ حوصلہ رکھنا۔  
 دل مضطر۔ (۱) ف۔ (۱) مدعا بے چین دل۔  
 دل مکدر ہونا۔ (۱) محاورہ دل میں ملال آجانا۔ دل صاف نہ رہنا۔  
 دل ملا۔ ہینا۔ وہ باہمی رشتہ جو دو سہیلیاں آپس میں جوڑ لیتی ہیں۔  
 دل نکلنا۔ (۱) محاورہ دل مسوسا۔ دل مروڑنا۔  
 دل ملنا۔ (۱) محاورہ دل کا موافق ہونا۔ یک جہان دو قالب ہونا۔  
 دل موم ہونا۔ (۱) محاورہ ترس آنا۔ دم آنا۔ دل کا نرم ہونا۔  
 دل موہ لینا۔ (۱) محاورہ کسی کا دل اپنی طرف مائل کر لینا۔ عاشق بنا لینا۔  
 فریفتہ کر لینا۔  
 دل میلا کرنا۔ (۱) محاورہ رنج کرنا۔ دل اُداس کرنا۔ دل کو متفکر کرنا۔ دل پر غم لانا۔  
 دل میں آنا۔ (۱) محاورہ خیال گزرنے۔  
 دل میں باب لانا۔ (۱) محاورہ بدگمان ہونا۔ بدظن ہونا۔ تہذیب میں پڑنا۔  
 دل میں آجھو۔ (۱) محاورہ (۱) کبھی تو شر یا کرا۔ (۲) دل میں قابل تو ہو۔  
 دل میں ٹھنڈنا۔ (۱) محاورہ پکا ارادہ ہونا۔ قائم رہنا۔  
 دل میں جگہ کرنا۔ (۱) محاورہ (۱) راہ دور سم بڑھانا۔ دوست ہونا (۲) خصوصیت پیدا کرنا۔  
 دل میں چھیننا۔ (۱) محاورہ اثر کرنا۔ پسند آنا۔  
 دل میں چٹھیاں لینا۔ (۱) محاورہ طعنے دینا۔ درپردہ آزار پہنچانا۔  
 دل دکھانا۔  
 دل میں چوٹ لگنا۔ (۱) محاورہ صدمہ پہنچنا۔ رنج ہونا۔  
 دل میں چور پیچھنا۔ (۱) محاورہ بدگمانی ہونا۔ بدظنی ہونا۔  
 دل میں پھید ہونا۔ (۱) محاورہ سخت صدمہ پہنچنا۔  
 دل میں ڈانچ پڑنا۔ (۱) محاورہ صدمہ ہونا۔ رنج ہونا۔  
 دل میں دل ڈالنا۔ (۱) محاورہ اپنی بات کا دوسرے کو یقین دلانا۔  
 دل میں ڈالنا۔ (۱) محاورہ دوسرے کے ذہن میں ڈالنا۔ خدا کی طرف سے اہام ہونا۔ القا ہونا۔  
 دل میں ڈرنا۔ (۱) محاورہ اندھی اندر خوف کھانا۔  
 دل میں راہ کرنا۔ (۱) محاورہ دوست بنا۔ رسائی پیدا کرنا۔  
 دل میں رکھنا۔ (۱) محاورہ پوشیدہ رکھنا۔ ظاہر نہ کرنا۔ گپٹ رکھنا۔  
 دل میں زہر بھرا ہونا۔ (۱) محاورہ دل میں کسی کے متعلق دشمنی یا بدی ہونا۔  
 دل میں سمانا۔ (۱) محاورہ (۱) کبھی بات کا یقین ہونا (۲) ہر وقت خیال

صدمہ ہونا۔ بے حد رنج ہونا۔  
 دل کے پھپھولے (اٹلے) پھوڑنا۔ (۱) بڑا بھلا کر کے دل کا عتقہ نکالنا۔  
 رنج و غم کے باعث جلی ٹھی بائیں کرنا (۲) بدلہ لینا۔ زہرا لگنا (۳)  
 درد دل قابو کرنا۔  
 دل گداز۔ (۱) ف۔ (۱) صفت دل کو نرم کرنے والا۔  
 دل گداز ہونا۔ (۱) محاورہ دل نرم ہونا۔  
 دل گروہ۔ (۱) ف۔ (۱) مدعا (۱) حوصلہ۔ جزا (۲) تاب۔ طاقت (۳) صبر برداشت۔  
 دل گشتگی۔ (۱) ف۔ (۱) صفت غم۔ رنج۔  
 دل گرفتہ۔ (۱) ف۔ (۱) صفت غمگین۔ مغموم۔ عاشق۔  
 دل گرم۔ (۱) ف۔ (۱) صفت (۱) پرغوش۔ شائق (۲) پُر آرزو (۳) بہادر۔  
 دل گرم ہونا۔ (۱) محاورہ اُمنگ پیدا ہونا۔ جوش پیدا ہونا۔  
 دل گرما جانا۔ اُمنگ پیدا ہونا۔ خواہش پیدا ہونا۔  
 دل گرمی۔ (۱) ف۔ (۱) صفت (۱) شوق۔ جوش (۲) دوستی۔  
 دل گمراہ ہونا۔ (۱) محاورہ ہیبت میں فرق آنا۔ دل بھٹکنا۔  
 دل گواہی دیتا ہے۔ (۱) محاورہ دل تائید کرتا ہے۔  
 دل گھبرانا۔ (۱) صفت (۱) دل بے قرار ہونا۔ دل مضطرب ہونا (۲) دل نہ نکلنا۔  
 دل گیر۔ (۱) ف۔ (۱) صفت مغموم۔ غمگین۔  
 دل چھٹانا۔ (۱) محاورہ دل کو مائل کرنا۔ دل کو فریفتہ کرنا۔  
 دل لٹو ہونا۔ (۱) محاورہ فریفتہ ہونا۔  
 دل لرزنا۔ (۱) محاورہ ڈرنا۔ خوف کھانا۔  
 دل لگا بیٹھنا۔ (۱) محاورہ عاشق ہونا۔ محبت کرنے لگنا۔  
 دل لگا رہنا۔ (۱) محاورہ فکر رہنا۔ تشویش ہونا۔  
 دل لگا کر۔ (۱) تابع فعل (تو جہ سے۔  
 دل لگانا۔ (۱) محاورہ (۱) عاشق ہونا۔ محبت کرنا (۲) کسی کام پر متوجہ ہونا۔  
 دل لگ جانا۔ (۱) محاورہ (۱) جی بہلنا (۲) کسی کام میں مشغول ہو جانا (۳) غش ہونا۔ محبت ہونا۔  
 دل لگی۔ (۱) صفت (۱) ہنسی۔ مذاق۔ چہل (۲) معمول بات۔ آسان بات (۳) مشغول۔ دل چوپی (۴) عشق۔ محبت۔ لگاؤ۔  
 دل لگی باز۔ (۱) مدعا فریفت۔ مسخرا۔  
 دل لوٹ لوٹ ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔ شیا ہونا۔  
 دل لوٹنا۔ (۱) محاورہ مائل کرنا۔ فریفتہ کرنا۔  
 دل لہرانا۔ (۱) محاورہ (۱) دل خوش کرنا (۲) اُمنگ پیدا ہونا۔ دل خوش ہو جانا۔  
 دل لہو ہونا۔ (۱) محاورہ سخت رنج ہونا۔ سخت صدمہ گزرنے۔  
 دل لینا۔ (۱) محاورہ (۱) مائل کر لینا۔ عاشق بنا لینا (۲) منشا و دریافت کرنا۔ غدیہ معلوم کرنا۔  
 دل ماننا۔ (۱) محاورہ خواہشوں کو روکنا۔ ضبط کرنا۔





دم پر بننا۔ دم پر بن جانا۔ (۱- محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔  
انصیب پڑنا۔

دم پر چڑھنا۔ (۱- محاورہ) دھوکے میں آجانا۔

دم پر چھوڑ دینا۔ (۱- محاورہ) کھانے کو جیسی آج پر رکھ دینا۔

دم پر لانا۔ (۱- محاورہ) فریب میں پھنسانا۔

دم پسپا۔ (ف- ۱- مذ) حالت نزع۔ آخری دم۔

دم پھڑکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا (۲) خواہش سے بے تاب ہونا۔ مضطرب ہونا۔

دم پھولنا۔ (۱- محاورہ) سانس پڑھنا۔

دم پھونکنا۔ (۱- محاورہ) رُوح ڈالنا۔ جسم میں جان ڈالنا۔

دم تنگ۔ (۱) جیتنے جی۔ زندگی میں۔

دم توڑنا۔ (۱- محاورہ) نزع کی حالت میں ہونا۔ جان کنی کی حالت میں ہونا۔ سانس اکھڑنا۔

دم تیخ۔ (ف- ۱- مذ) تلوار کی کاٹ۔ تیزی یا دھار۔

دم تیخ پر راہ ہونا۔ (۱- محاورہ) موت کا خطرہ ہونا۔

دم ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تیراک یا بھاگنے والے کا سانس پھولنا۔ (۲) سانس اکھڑنا (۳) حالت نزع میں ہونا۔

دم ٹھہرنا۔ (۱- محاورہ) سانس کا ٹھکانے سے ہونا یا قرار پکڑنا۔

دم بھانسا دینا۔ (۱- محاورہ) دھوکہ دینا۔ فریب دینا۔ بھل دینا۔

دم چرانا۔ (۱- محاورہ) ایسے تین مردہ ظاہر کرنا۔ دم روک لینا (۲) پہلو پی کرنا۔ ٹالنا۔ کسی کام کے کرنے سے گھڑانا۔

دم چڑھنا۔ (۱- محاورہ) سانس پڑھنا۔ پاؤنا۔

دم چلا جانا۔ (۱- محاورہ) فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔

دم چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) مرجانا۔

دم خشک ہونا۔ (۱- محاورہ) ڈرنا۔ خوف کھانا۔

دم تنھا ہونا۔ (۱- محاورہ) جی گھبرانا۔ سانس رگنا۔

دم تھم۔ (ف- ۱- مذ) (۱) طاقت۔ قوت۔ (۲) استواری۔ مضبوطی (۲) تلوار کی دھار اور تندی (۳) اوسان۔ ہوش۔ حواس۔

دم خنجر۔ (ف- ۱- مذ) خنجر کی دھار۔

دم دار۔ (ف- ۱- مذ) (۱) جائدار۔ مضبوط۔ طاقت دار۔ مدتوں رہنے اور چلنے والی چیز۔ (۲) باڈھ دار۔ دھار دار۔

دم دار بھیمہ۔ (ف- ۱- مذ) دعویٰ۔ حوصلہ۔

دم دروونہ ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) مردہ ہونا (۲) مرنے کے قریب ہونا (۳) طاقت نہ ہونا۔

دم دلاسا۔ (ف- ۱- مذ) کئی چوڑی باتیں۔ تسلی۔ تسلی۔ بھلاؤ اور پھسلاؤ خوش آمد۔

دم دم کی۔ ہر وقت کی۔ ہر لحظہ کی۔

دم دھاگہ۔ (۱- مذ) فریب۔ دھوکہ۔ جھانسا۔

دم دھانکے بتانا۔ (۱- محاورہ) دھوکہ دینا۔ جھانسانا۔

دم دھکدکی میں ہونا۔ (۱- محاورہ) جان کنی کا عالم ہونا۔ نزع میں ہونا۔

دم آخری۔ (ف- ۱- مذ) نزع کا وقت۔ آخری سانس۔

دم آنا۔ (۱- محاورہ) تک جانا۔

دم آنکھوں میں اٹکنا۔ (۱- محاورہ) کچھ زندگی باقی رہنا۔

دم آنکھوں میں ہونا۔ (۱- محاورہ) حالت نزع میں ہونا۔

دم اٹکا ہونا۔ (۱- محاورہ) دم رکا ہونا۔ ذرا سی سانس باقی رہنا۔

دم اٹک کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) سانس کا سینے میں رُک کر رہ جانا۔

دم اٹکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانس کا سینے میں رُکنا (۲) وقت نزع آہستہ آہستہ جان نکلنا۔

دم اختصار۔ (ف- ۱- مذ) نزع کا عالم۔

دم اکھڑ جانا۔ (۱- محاورہ) تھکاوٹ کی وجہ سے سانس کا بہت تیز چلنا۔ سانس چڑھ جانا۔

دم اکھڑنا۔ (۱- محاورہ) سانس کا بے قاعدہ چلنا۔

دم اٹکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانس رگنا (۲) وقت نزع سانس کا بے قاعدہ ہونا (۳) دل گھبرانا۔

دم اچھینا۔ (۱- محاورہ) جی گھبرانا۔ جی اٹکنا۔

دم اوپر کو کھینچنا۔ (۱- محاورہ) دور سے سانس لینا۔

دم باز۔ (ف- ۱- صفت) (۱) مگھار۔ فریبی۔ دھوکہ باز (۲) جھلسا۔ جھلگ (۳) تھے کام لگانے والا۔

دم بازی۔ (ف- ۱- صفت) دھوکہ بازی۔ دغا بازی۔ مگھاری۔

دم باقی نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہٹکا بٹکا رہ جانا۔ سانس باقی نہ رہنا۔ (۲) حوصلہ نہ رہنا۔

دم باندھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانس روک لینا (۲) متوجہ ہونا۔

دم بخود۔ (ف- ۱- صفت) چُپ چاپ۔ ساکت و صامت۔

دم بدم۔ (ف- ۱) ہر گھڑی۔ ہر وقت۔ برابر (۲) متواتر۔ بے درپے۔

دم بڑھانا۔ (۱- محاورہ) بے لہجے سانس لینے کی مشق کرنا۔

دم بڑھ جانا۔ (۱- محاورہ) قوت زیادہ ہونا۔

دم بنا رہے۔ (کلمہ دہا) جیتنے رہو۔ سلامت رہو۔

دم بند ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) چُپ ہونا۔ ساکت ہونا۔ خاموش ہونا (۲) سانس رگنا (۳) تنگ ہونا۔ عاجز ہونا (۴) گھبرانا۔ جی گھبرانا۔

دم بولانا۔ (۱- محاورہ) جی گھبرانا۔ وحشت ہونا۔

دم بھر۔ (۱- تابع فعل) ذرا۔ لحظہ بھر۔ تھوڑی دیر کے لیے۔

دم بھرانا۔ دم بھر جانا۔ (۱- محاورہ) سانس پھول جانا۔

دم پھڑانا۔ (۱) کپوتر کے پوٹے میں ہوا بھرنے (۲) پہلوؤں کا اپنے شانگروں کو زور کر کے تھکا دینا۔

دم پھڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانس پڑھنا یا پھولنا (۲) ہر وقت کسی کی تعریف کرنا (۳) محنت کا دعویٰ کرنا (۴) کیڑا بولنا (۵) جیتنے کرنا۔ ایمان لانا۔

دم پخت۔ (ف- ۱- مذ) بھاپ میں پکا ہوا کھانا۔

دم پخت ہو کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) ناراض ہو کر یا غصہ مضطرب کر کے چُپ ہو رہنا۔

دم پیرانا۔ (۱- محاورہ) پکنے کے قریب ہونا۔

دم دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) تیزی کی جانچ کرنا۔ نزع کے وقت سانس دیکھنا  
 دم دینا۔ (۱۔ مرہانا (۲) فریب دینا (۳) فریفتہ ہونا (۴) کھانے کو  
 ہلی آج پر رکھنا۔ تلوار کو دم کر کے دیکھنا۔ کسی چنگی ہوئی شے میں ہونا  
 بھرنے (۵) تلوار کو آب دینا (۶) حقہ کی ہوا خارج ہونا۔  
 دم گرفت۔ (ف۔ ۱۔ مذ) گرفت کا وقت۔ ہنگام موت۔  
 دم رفقار۔ پلنے کے وقت۔  
 دم زگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سانس زگ زگ کے آنا (۲) مینق النفس کا عارضہ  
 ہونا (۳) دل گھبراتا (۴) عاجز ہونا۔ تنگ آنا۔  
 دم روکنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جس دم کرنا (۲) عاجز کرنا۔  
 دم رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) طاقت رکھنا (۲) چپ رہنا (۳) حرکت نہ کرنا۔  
 دم زدن۔ (ف۔ محاورہ) (۱) دم مارنا۔ سانس لینا (۲) کچھ کہنا۔  
 دم زدن میں۔ (ف۔ ۱۔ مذ) فوراً بہت جلدی۔  
 دم زنی۔ (ف۔ صفت) چپ رہنا۔  
 دم سادھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جس دم کرنا (۲) چپ رہنا (۳) حرکت نہ کرنا۔  
 دم ساز۔ (ف۔ صفت) (۱) رازدار۔ ہمزاز (۲) اس دینے کے لیے ساتھ گانے  
 والا۔ شامل آواز (۳) متفق۔ موافق (۴) دوست۔ ہمد۔ یار۔  
 دم سازی۔ (ف۔ ۱۔ صفت) (۱) دوستی۔ بے تکلفی (۲) اتفاق (۳) میل  
 کرنا۔ کابل۔  
 دم سحر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) صبح کے وقت۔  
 دم سرد۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ٹھنڈی سانس۔ آو سرد۔  
 دم شکھانا۔ (۱۔ محاورہ) ڈرانا۔ دھمکانا۔  
 دم سوکھنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈرنا۔ خوف کھانا۔ کبھی کرنا۔  
 دم سولی پر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت پریشان ہونا۔ جان کو  
 خطرہ ہونا۔  
 دم سیندنا۔ (۱۔ محاورہ) دم سادھنا۔ خاموشی اختیار کرنا (ق)۔  
 دم ستاری۔ (ف۔ ۱۔ صفت) مرتے وقت کے سانس رگنا۔  
 دم صبح۔ (ف۔ ۱۔ مذ) صبح کا وقت (۲) ٹوٹنا۔  
 دم ضیق میں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تنگ کرنا۔ زنج کرنا۔  
 دم عیسیٰ گ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) حضرت عیسیٰ کی پھونک جس سے مرگہ زندہ ہو  
 جاتا تھا (۲) صحت بخش۔ جان ڈالنے والا۔  
 دم غیبت ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مبتزک ہونا۔ قابل قدر ہونا۔  
 دم قتا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مزاجنا (۲) ڈرنا۔ خوف کھانا۔ رعب  
 غالب ہونا۔  
 دم قدم۔ (ف۔ ۱۔ ع۔ ۱۔ مذ) (۱) سانس اور پلنے کی طاقت (۲) زندگی۔ ذات  
 ہستی۔ درگد (۳) سلامتی۔  
 دم قدم کی برکت۔ (۱۔ صفت) کسی کی ذات کی وجہ سے بہتری ہونا۔  
 دم قدم کی غیر۔ (۱۔ صفت) جان کی سلامتی۔ فیروز کی دعا۔  
 دم کا دام سے۔ (۱۔ صفت) زندگی کے ساتھ دنیا کی رونق ہے۔  
 دم کا کیا بھروسہ۔ (۱۔ صفت) زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔

دم کا جھمان۔ (۱۔ صفت) (۱) جلد جانے والا شخص۔ مرنے کے قریب شخص۔  
 دم گھرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چادوں کا پکھانا (۲) دغا یا انمول پڑھ کر چھوٹنا  
 (۳) آگ بجھانا۔  
 دم کش۔ (ف۔ صفت) (۱) گیتے کی آواز کے ساتھ آواز ملانے والا (۲)  
 دم بچھنے والا یا دم لینے والا (۳) بلا پینے والا۔  
 دم کشی۔ (ف۔ ۱۔ صفت) مینق النفس کی بیماری۔ دمہ (۲) چپ۔  
 دم لینا۔  
 دم کو لے رہنا۔ دم لے کر بیٹھ جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سانس نہ لینا (۲)  
 چپ ہو جانا (۳) ٹال جانا (۴) سنی ان سنی کرنا۔  
 دم کھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دھوکہ کھانا (۲) تنگ کرنا (۳) بار بار تھکانا کرنا  
 (۴) کھانے کا ہلی آج پر چھوڑا جانا (۵) خاموش رہنا (۶) صبر کرنا۔  
 دم لینا۔  
 دم کھینکے میں پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تذبذب میں پڑنا۔  
 دم کھینا۔ (۱۔ محاورہ) نزع کے وقت سانس کا اوپر پڑنا۔ دم ٹٹنا۔ دم اگھرنا۔  
 دم کھیننا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چپ رہنا (۲) سنے کا ٹھونٹ لینا۔  
 دم کی روشنی۔ (۱۔ صفت) ذات کا فیض۔  
 دم کے دم میں۔ تھوڑی سی دیر میں۔ فوراً۔  
 دم کے ساتھ۔ زندگی بھر۔ تاحیات۔  
 دم کے ساتھ لگا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہر وقت ساتھ رہنا۔ پچھانہ چھوڑنا۔  
 دم گے میں اٹکنا۔ (۱۔ محاورہ) نزع کی حالت میں سانس رگنا۔  
 دم گھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) وحشت ہونا (۲) تھکان ہونا۔  
 دم گھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سانس رگنا۔ دم بند ہونا (۲) گھبراہٹ ہونا۔  
 دم گھونٹ گھونٹ کر رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زبردستی رکھنا (۲)  
 دم گھونٹ گھونٹ کر مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جلا جلا کر مارنا (۲)  
 دم گھونٹنا۔ (۱۔ محاورہ) سانس روکنا۔  
 دم لیوں پر آ جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جاں بلب ہونا۔ سخت تکلیف میں جانا  
 دم لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) حقہ پینا (۲) چوس پینا۔  
 دم لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) حقہ کا دھواں دماغ کو چڑھانا (۲) چوس کے نشے  
 کا اثر ہونا (۳) حقہ کا پیا جانا۔  
 دم لو۔ (۱۔ محاورہ) جلدی نہ کرو۔ صبر کرو۔  
 دم لے لو۔ (۱۔ محاورہ) آرام کرو۔ ریستہ لو۔  
 دم لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سانس لینا (۲) سستا نا۔ ٹھہرنا (۳) باز رہنا (۴)  
 چپکا ہو رہنا۔  
 دم لینے کی فرصت نہیں۔ (۱۔ صفت) بہت کم فرصت ہے۔  
 دم مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لولنا (۲) شیخی مارنا۔ دعوئی کرنا۔  
 دم مارنے کی بات نہیں۔ (۱۔ محاورہ) مذکورہ کرنے کا عمل نہیں۔  
 دم مارنے کی جگہ نہیں۔ (۱۔ محاورہ) کچھ بس نہیں چلتا۔ کچھ کہا نہیں جاتا۔

لگاتے ہیں (۲) وہ شخص جو کسی کے ساتھ ساتھ رہے (۳) چھوٹی دُم۔ پونچھڑی۔

دُم دار۔ (ف۔ صفت) پونچھ والا۔

دُم دار تارا۔ (۱) مذ۔ وہ تیار جس کے پیچھے روشن لکیر ہے۔

دُم ڈبا کر بھاگنا۔ (۱) محاورہ) ڈر کر بھاگ جانا۔

دُم دبانا۔ (۱) محاورہ) (۲) بھاگنا (۳) مطلوب ہونا۔

دُم ریز۔ آخر موسم پر یا دوسری بار پھل دینے والا درخت۔

دُم ستم سے اچھا ہے۔ (۱) مقولہ) (۲) موٹا تازہ ہے۔ نر بہر ہے۔ اسی حالت میں ہے۔

دُم علم کرنا۔ (۱) مذ۔ (۲) باقی کا بھاگتے ہوئے دُم اُدھان کرنا (۳) بچھوٹے ڈانک کو اُدھان کرنا۔

دُم کٹا بھینسا۔ (۱) صفت) فزہ اور سیاہ نام آدمی۔

دُم کے پیچھے پھرنا۔ (۱) محاورہ) ساتھ ساتھ لگا پھرنا۔ پیچھے پیچھے پھرنا۔

دُم گرا۔ (۱) مذ۔ (۲) وہ جگہ جہاں سے دُم نکلی ہو (۳) کپڑے یا کاغذ کی

دھجی جو چھوٹی لکیر میں لگاتے ہیں (۳) رکنایتہ) جو ہر وقت ساتھ رہے۔

دُم لگ گئی۔ (۱) محاورہ) نئی بات پیدا ہو گئی۔

دُم میں گھٹنا۔ (۱) محاورہ) (۲) پناہ لینا (۳) خوش آمد میں ہر وقت ساتھ

رہنا (۳) اپنے کاموں کے پیچھے رہنا۔

دُم میں مذا بانڈھنا۔ (۱) محاورہ) مضمحلہ اڑانا۔ مذاق اڑانا۔

دُم ہلانا۔ (۱) محاورہ) دُم کو حرکت دینا (۲) خوش آمد کرنا۔ چا پلوس کرنا۔

دُم او دم۔ (دُم۔ م۔) (ف) پے در پے۔ متواتر۔

دُم باغ۔ (د۔ باغ) (ز۔ م۔) (۱) مذ۔ (۲) سرنگا گودا۔ بھینسا۔ مغز (۳) عقل۔

دُم۔ (۱) وانی (۲) برداشت۔ تاب۔ طاقت (۳) اوسان۔ ہوش

حواس (۴) مزور۔ تکتہ۔ گھنڈ۔

دُم باغ آسمان پر ہونا۔ (۱) محاورہ) مغز ہونا۔ خود پسند ہونا۔

دُم باغ اٹھانا۔ (۱) محاورہ) ناز اٹھانا۔

دُم باغ اٹھنا۔ (۱) محاورہ) ناز برداری ہونا۔

دُم باغ اور ہونا۔ (۱) محاورہ) عزت ہونا۔

دُم باغ بڑھنا۔ (۱) محاورہ) (۲) زیادہ مغز ہونا (۳) نازک دُم باغ ہونا۔

دُم باغ بہکنا۔ (۱) محاورہ) پاگل ہو جانا۔

دُم باغ بھونک بھونک کے خالی کرنا۔ (۱) محاورہ) بک بک کر کے

تھک جانا یا دوسرے کو تھکا دینا۔

دُم باغ پریشان کرنا۔ (۱) محاورہ) بک بک کر کے یا شوہا کرتنگ کرنا۔

(۲) حواس ہنڈ کرنا۔

دُم باغ پھرنا۔ (۱) محاورہ) (۲) دُم باغ پریشان ہونا (۳) سڑی ہونا۔

باؤلا ہونا۔

دُم باغ تر ہونا۔ (۱) محاورہ) دُم باغ کو تازگی اور آرام پہنچانا۔

دُم باغ تیز ہونا۔ (۱) محاورہ) دُم باغی قوت زیادہ ہونا۔

دُم باغ جھڑنا۔ (۱) محاورہ) عزت دور ہونا۔ گھنڈ ٹھکانا۔

دُم مارنے والا۔ (۱) صفت) دُم دینے والا۔ بولنے والا۔ منہ سے بات نکالنے والا۔

دُم مردن۔ (ف۔ م۔) مرنے کے وقت۔ نزع کے وقت۔

دُم مست قلندر دھڑ رگڑا۔ (۱) مقولہ) قلندر کھنگ گھومتے وقت

کہتے ہیں۔

دُم میں۔ (۱) فوراً۔ فی الفور۔ پل بھر میں۔ لمحہ بھر میں۔

دُم میں آنا۔ (۱) محاورہ) دھوکہ کھانا۔

دُم میں دُم آنا۔ (۱) محاورہ) ایمان ہونا۔ جان میں جان آنا۔ زندگی کی

اُمید ہونا۔ تسلی ہونا۔

دُم میں دُم رہنا۔ (۱) محاورہ) جیتے رہنا۔ زندگی رہنا۔

دُم میں دُم نہ ہونا۔ (۱) محاورہ) سکت نہ ہونا۔ قوت نہ ہونا۔

دُم میں لانا۔ (۱) محاورہ) فریب دینا۔ بھگانا۔

دُم ناک میں کرنا۔ (۱) محاورہ) تنگ کرنا۔ عاجز کرنا۔ ستانا۔

دُم ناک میں ہے۔ (۱) محاورہ) سخت تنگ ہے۔ عاجز ہے۔

دُم نکالنا۔ (۱) جان نکالنا (۲) ڈرا دینا۔

دُم شکل جانا۔ (۱) محاورہ) (۲) جان نکالنا (۳) نزع میں ہونا (۳) ڈر جانا۔

دُم نہ مارنا۔ (۱) محاورہ) (۲) کچھ نہ بولنا۔ چُپ رہنا (۳) مان کر قائل ہو جانا

(۳) اُٹ نہ کرنا۔

دُم نہ ہونا۔ (۱) محاورہ) (۲) طاقت نہ ہونا (۳) جان نہ ہونا۔

دُم نہیں بدن میں نام زور اور خال۔ (۱) مثل) دیکھیے برعکس

نام ہنڈ زنگی کا زور۔

دُم واپس۔ (ف۔ م۔) (۱) مذ۔ نزع کا وقت۔ آخری وقت۔

دُم پائنتا۔ (۱) محاورہ) دُم پڑھنا۔

دُم ہوا ہونا۔ (۱) محاورہ) (۲) جان نکالنا (۳) ڈرنا۔

دُم ہونا۔ (۱) محاورہ) (۲) ہمت ہونا (۳) دُم بخت ہونا۔ چا دلوں کا پکنا۔

دُم ہونٹوں پر آنا۔ (۱) محاورہ) نزع کا عالم ہونا۔

دُم ہی دُم میں رکھنا۔ (۱) محاورہ) ٹال مٹول کرنا۔ جیلے حوالے بتانا۔

دھوکے میں رکھنا۔

دُم سے تو کیا علم ہے۔ (۱) محاورہ) زندگی ہے تو کوئی پروا نہیں۔

دُم۔ (ز۔ م۔) (۱) مذ۔ (۲) خون۔ لہو (۳) جان۔ زور۔ زندگی۔

دُم الالوین۔ (۱) دھائیوں کا خون (۲) سرخ رنگ کا ایک گند جو اکثر

رنگے اور ددا کے کام آتا ہے۔

دُم۔ (ف۔ م۔) (۱) پونچھ۔ ڈنباہ (۲) پچھلا حصہ (۳) انجام (۴) پیرو۔

(۵) سینہ لکیر جو دُم دار ستارے کے پیچھے ہو۔

دُم بریدہ۔ (ف۔ صفت) دُم کٹا ہوا۔

دُم پر یاؤں رکھنا۔ (۱) محاورہ) تنگ کرنا۔ تکلیف دینا۔ پھیڑنا۔

دُم چھاڑنا۔ (۱) محاورہ) دُم ہلانا۔

دُم چنور کرنا۔ (۱) محاورہ) گھوڑے کا دُم اٹھا کر چلنا۔

دُم چھلا۔ (۱) مذ۔ (۲) وہ لہا کاغذ جو کنگوے کے پچھلے سرے پر



داحت ہونا۔

دن پھرنا۔ (۱) محاورہ) بڑے اور نوس دنوں کو دکرنا۔

دن لکنا۔ (۱) محاورہ) عرض کار آنا۔ ممول کے دن گذر جانا۔

دن جاتے در نہیں لکتی۔ (دش) دقت جلد گز جاتا ہے۔

دن پڑھانا۔ (۱) محاورہ) دکرنا۔ دھوپ پڑھانا۔ صبح کا وقت گزارنا

دن چڑھے۔ سورج نکلنے پر۔ آفتاب کے بند ہو جانے پر۔

دن چھینا۔ (۱) محاورہ) سورج ڈوبنا۔ شام ہونا۔

دن دکھانا۔ (۱) محاورہ) خوشی کا موقع نصیب کرنا۔

دن دکھلوانا۔ (۱) محاورہ) بخوشی سے ساعت معلوم کرنا۔

دن ڈونڈا رات چوگنا۔ (۱) محاورہ) زیادہ سے زیادہ۔ بہت زیادہ۔

دن دلاڑے۔ (۱) دن میں سب کے سامنے۔ کھلے بندوں۔ علانیہ۔

دن دیکھاتے رات۔ (۱) روزمرہ) وقت بے وقت کا خیال نہ کرنا۔

دن دکھلنا۔ سورج کا زوال شروع ہو جانا۔ دن گھٹنا۔

دن ڈھلے۔ (۱) دوپہر کے بعد۔

دن رات۔ (۱) شب دروز۔ چوپیس گھنٹے۔ ہر وقت۔

دن رات کا بکھڑا۔ (۱) اشل) ہر وقت کا بکھڑا

دن رہے۔ (۱) شام سے کچھ پہلے۔

دن سن۔ سن دسال۔

دن سدھارنا۔ (۱) محاورہ) زمانہ چلا جانا۔

دن سے۔ (۱) دن پھینے سے پہلے۔ سر شام۔

دن سیدھے ہونا۔ (۱) محاورہ) فارغ ابالی ہونا۔ بجلے دن آنا۔

دن صاف گذر جانا۔ (۱) محاورہ) کھانے کو کچھ نہ ملنا۔ ناقہ ہونا۔

دن بعد رات شب برات۔ (۱) اشل) رات دن عیش و نشاط۔

دن قرار پانا۔ (۱) محاورہ) کسی کام کے لیے دن مقرر ہونا۔ دن ٹھہرنا۔

دن کاٹنا۔ (۱) محاورہ) مصیبت سے بستر کرنا۔

دن لکنا۔ (۱) محاورہ) وقت گزرنا۔

دن گڑا ہونا۔ (۱) محاورہ) مصیبت کا زبانا ہونا۔

دن کو آونی آونی رات کو پڑھ لوئی۔ بے موقع کام کرنے کی نسبت کہتے ہیں۔

دن کوتارے دکھانا۔ صدرہ دماغی پہنچانا جس سے سر پیکا جائے (۱) خوب مارنا۔

دن کوتارے نظر آنا۔ (۱) بہت تیز نظر ہونا (۲) سخت تارکی ہو جانا۔

دن کو دن رات کو رات نہ جانا۔ (۱) محاورہ) کسی کام میں بہت مشغول ہونا۔ دن رات کام کرتا۔

دن کو رات کہنا۔ (۱) محاورہ) اٹنی بات کہنا۔

دن کی پوچی رات کی کہی۔ (۱) اشل) جب کوئی بے تکی بات بجا میں کہے تو اس وقت کہتے ہیں۔

دن کے دن۔ (۱) اسی دن۔ جلدی۔

دن گھٹنا۔ (۱) محاورہ) انکسار کرنا۔

دن گھنونا۔ (۱) محاورہ) وقت ضائع کرنا۔ عمر برباد کرنا۔

دہرا ہو جانا (۴) اگنا دیمدن سے

دہمنہا۔ (د۔ منہ۔ ہا) (۱) مذ) دومنہ کا۔ دومنہ والا سانپ۔

دھوکھی۔ (د۔ م۔ دی) (ع۔ صفت) خونی۔ خون کا۔ منسوب بہ خون۔

دھوکھی مزاج۔ (ع۔ صفت) وہ شخص جس میں خون کی فطرت بڑھ جائے۔

دھوکھا۔ (د۔ منہ۔ ف۔ ہا) (۱) مذ) دھوکھی۔ دھوکھی کا جوڑا (۲) سانس کا روگ۔

عینق النفس۔ وہ بیماری جس میں سانس رگ رگ کر آئے۔

دھم کے ساتھ۔ (۱) مثل) دھم کا مرض ہرتے دم تک نہیں جاتا۔

دھمی۔ (د۔ ف۔ ا۔ مٹ) چھوٹی سی گڑاگڑی۔ ایک قسم کا چھوٹا مٹہ۔

دھیتا۔ (د۔ نئے۔ تا) (ق۔ صفت) مال دار۔ امیر۔

دھیدلی۔ (د۔ بی۔ ڈ۔ گی) (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) ہوا کا چلنا۔ پھولوں کا کھلنا

پاروں کا پھوٹنا۔ شاخوں کا کھلنا۔ خوشبوؤں کا پھیلنا (۲) غارش۔

ہما سے۔ کوئی چیز جو بدن پر چھوٹے۔

دھیدہ۔ (د۔ می۔ دہ) (ف۔ صفت) کھلا ہوا۔ پھوٹا ہوا۔ چھوٹے والا

کھلنے والا۔

## د - دن

دن۔ (۱) مٹ) پٹا۔ بندوق یا توپ کی آواز۔

دن سے۔ (۱) متعلق فعل) تڑاق سے۔ زندگی آواز کے ساتھ۔

دن۔ (۱) مذ) (۱) سورج کے نکلنے سے غروب ہونے کا عرصہ (۲) روز۔

(۳) روشنی کا وقت (۴) صبح۔ ترکا (۵) زمانہ۔ دور۔ وقت۔

(۶) ساعت۔ گھڑی (۷) موسم۔ رُت (۸) واقعات (۹)

بخت۔ نصیب۔

دن آنا۔ (۱) محاورہ) (۱) رُت آنا (۲) موت کا وقت آنا (۳) جین آنا۔

(۴) شامت آنا۔ بڑے دن آنا۔

دن بدن۔ روز بروز۔ ہر روز۔ رفتہ رفتہ۔ شدہ شدہ۔

دن بدنا۔ (۱) محاورہ) تالیخ مقرر کرنا۔

دن بھاری (ہونا) رہنا۔ (۱) محاورہ) سختی کے دن آنا۔ تنگ دستی ہونا۔

دن بھر۔ تمام دن۔ تمام روز۔

دن بھرنا۔ (۱) محاورہ) مصیبت کے دن پورے کرنا۔ مصیبت میں

دوسر کرنا۔

دن بھرنا۔ (۱) محاورہ) اچھے دن آنا۔ قیمت کھلنا۔

دن بڑا ہے۔ (۱) محاورہ) ابھی بہت وقت باقی ہے۔

دن پڑنا۔ (۱) محاورہ) (۱) مصیبت آنا۔ بڑا وقت آنا (۲) رائڈ ہونا۔

بیوہ ہونا۔

دن پورے کرنا۔ (۱) محاورہ) مصیبت کے دن کاٹنا۔ زندگی جو

قوت بسر کرنا۔

دن ہٹا ہو جانا۔ (۱) محاورہ) دن کاٹنا دشوار ہو جانا۔

دن پڑنا۔ (۱) محاورہ) اچھے دن آنا۔ خوش حال ہونا۔ مصیبت کے بعد





دُنیا کے دُنئی - (ع-ن-ا-مٹ) کینی دُنیا -  
 دُنیا دوی - (دُن-یا-وی) (ع-صفت) دُنیا کا - دُنیا سے نسبت  
 رکھنے والا -  
 دُنیا دوی - (دُن-ئی-وی) (ع-صفت) دُنیا کا فیض - دُنیا سے  
 منسوب - دُنیا کا -

د-و

دو - (ن-صفت) (۱) ایک اور ایک کا مجموعہ (۲) جوڑا - جفت (۳) الگ - جُدا  
 خیز (۴) چند -  
 دو آب - دو آبہ - (ن-ا-مذ) زمین جو دو دریاؤں کے درمیان ہو -  
 دو آتشہ - (ن-صفت) (۱) وہ عرق یا شراب جو دو دفعہ آگ پر لکھ کر کشید  
 کی جائے (۲) تیز تند -  
 دو آتشہ پلانا - (مجاورہ) اشتعال دینا -  
 دو آشنانہ - ایک تم کا خیمہ جس میں دو کمرے ہوتے ہیں -  
 دو آتسو گرانٹا - (۱) مجاورہ ہتھوڑا سارونا -  
 دو اسیبہ - (ن-صفت) (۱) دو دھوکوں کے جوت کی سواری (۲) دو گھوڑوں  
 کی ڈاک (۳) جلد - فورا -  
 دو اک - دو ایک - (۱) صفت چند تھوڑے - دو تین -  
 دو انگلی کی بچی - (۱) مٹھی چھوٹی سی لڑکی -  
 دو انگلیاں مانتے پر رکھنا - (۱) مجاورہ لا پرہا ہی سے سلام کرنا -  
 دو بادشاہ درائیلیے نہ کھنڈ (ن-مٹ) ایک ملک میں دو بادشاہ  
 وہ درویش در گھنے کھنڈ ہوں تو ان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا  
 رہتا ہے مگر دس فقیر ایک گڈڑی میں سو جاتے ہیں -  
 دو ہاتوں میں - (۱) چند فقروں میں -  
 دو ہار - (۱) دو دفعہ -

دو ہارہ - (ن-صفت) دوسری مرتبہ یا دوسری دفعہ - کترہ -  
 دو ہارہ - (ن-ا-مذ) (۱) انگلیاں جس کے دو گنڈے رنگ دار ہوں (۲) ایک  
 قسم کا باز (۳) دو رنگے بازو کا کبوتر -  
 دو ہالہ - (ن-صفت) دگن - دو چند - دونا -  
 دو ہار - دو ہار - (ن-صفت) دو پاٹ کا -  
 دو ہلدا - (۱) مذ - دو بیوں کا چکڑا -  
 دو ہول پڑھانا - (۱) مجاورہ نکاح پڑھانا - لڑکی کا عزیز بیو جب  
 نکاح کر دینا -  
 دو بھیل یا دو بھیسیا - (۱) صفت (۱) دورنگی (۲) منافق -  
 دو بھیلی بات - (۱) مٹھی پہلو دار بات -  
 دو پتی - (۱) صفت رُبا بی -  
 دو پائی - (۱) مٹھی دو عرض کا - دو پاٹ کا -  
 دو پارہ - (ن-صفت) دو مگرے - مگرے مگرے - چٹا ہوا -

دُنیا ادھر کی ادھر ہو جانا - (۱) مجاورہ انقلاب عظیم ہونا -  
 دُنیا اندھیر ہو جانا - (۱) مجاورہ غم کے باعث کچھ نہ سوجھنا بہت جھلجھل ہونا  
 دُنیا بے امید قائم - (مٹ) انسان امید کے سبب زندگی بسر کرتا ہے -  
 دُنیا بھر کی خاک چھانٹنا - (۱) مجاورہ بہت تلاش و جستجو کرنا -  
 دُنیا بھر کے (۱) بہت سے - بہت ہی کمال - بے انتہا -  
 دُنیا بھر کے چین - (۱) مذ - ہر قسم کی تدبیریں -  
 دُنیا پرست - (ن-صفت) دُنیا دار - لالچی -  
 دُنیا پر لات مارنا - (۱) مجاورہ دنیا کو ترک کر دینا - گوشہ نشین ہو جانا -  
 دُنیا جہاں - (ن-ا-مذ) تمام عالم -  
 دُنیا چھانٹنا - (۱) مجاورہ بہت تلاش کرنا -  
 دُنیا چھوڑنا - (۱) مجاورہ اختیار ہو جانا - گوشہ نشینی اختیار کرنا -  
 دُنیا دار - (ن-صفت) (۱) دُنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا آدمی (۲) ظاہری  
 افلاک کا آدمی - طسار آدمی (۳) چالاک آدمی - امیر آدمی -  
 دُنیا داری - (ن-ا-مٹ) (۱) دنیا کے دھندے - تعلقات (۲) کلبہ -  
 بال بچہ - رشتہ داریاں (۳) خانہ داری (۴) طساری - میل جول -  
 دُنیا دیکھنا - (۱) مجاورہ تجربہ کار ہونا -  
 دُنیا ساز - (ن-صفت) ظاہر داری کرنے والا - دُنیا دار -  
 دُنیا سازی - (ن-ا-مٹ) ظاہر داری کی باتیں - بناوٹ - نمائش -  
 دُنیا سازی کی باتیں - (۱) مجاورہ ظاہر داری کی باتیں -  
 دُنیا سے اٹھ جانا - (۱) مجاورہ سدا ہارنا - کوچ کرنا - مرجانا -  
 دُنیا سے اڑ جانا - (۱) مجاورہ معدوم ہونا - غائب ہونا -  
 دُنیا سے الگ ہونا - (۱) مجاورہ سب سے بے تعلق ہونا -  
 دُنیا سے دل اٹھانا - (۱) مجاورہ دُنیا چھوڑ دینا -  
 دُنیا سے روانہ ہونا - (۱) مجاورہ مرجانا -  
 دُنیا سے ہاتھ دھونا - (۱) مجاورہ دُنیا کی معاملات سے دست بردار ہونا  
 دُنیا عرض کی ہے - (۱) مقولہ مطلب نکل جانے کے بعد کوئی کسی کو  
 نہیں پوچھتا -  
 دُنیا کا اچھی کیا دیکھا - (۱) مجاورہ کم عمر سے - نا تجربہ کار ہے -  
 دُنیا کا کتا - (۱) مجاورہ طالب دُنیا - لالچی - ذلیل - دُنیا کی فائدوں کو  
 فاقیت پر ترجیح دینے والا -  
 دُنیا کا کہنا - (مٹ) سب لوگوں کا کہنا -  
 دُنیا کا ابو سفید ہونا - (۱) مجاورہ لوگوں میں محبت نہ رہنا -  
 دُنیا کی ٹھوکریں کھانا - (۱) مجاورہ مارا مارا پھرنانا -  
 دُنیا کی ہوا کھانا - (۱) مجاورہ مزے اُڑانا -  
 دُنیا کی ہوا لگنا - (۱) مجاورہ دُنیا کا اثر ہونا - دنیا کا مزہ پڑنا -  
 دُنیا کے عیب - (۱) مذ - ہر قسم کی بُری باتیں -  
 دُنیا میں نام کر جانا - (۱) مجاورہ کوئی بڑا کام کر کے اچھی شہرت حاصل کرنا  
 دُنیا و ما فیہا - (ع-ا-مٹ) دنیا اور جو کچھ اس میں ہے -  
 دُنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہونا - (۱) مجاورہ کسی چیز کا ہوش نہ ہونا -  
 دُنیا کے بے ثبات - (ع-ا-صفت) یہ عالم جو فانی ہے -

دو باڑا۔ کام کرتے ہوئے لہنگا ٹانگوں کو لپیٹ لینا۔  
 دو چٹائے پر چڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱۱۔ ڈاڑھی چڑھالینا (۲) ہندوق کے  
 دونوں گھوڑے انتہائی سہر پر چھالینا۔  
 دو پائے کا تعویذ۔ دو پائے کا نقش۔ (۱۔ مذ) ایک قسم کا نقش مشق  
 دو پیٹا۔ (۱۔ مذ) (۱) دو پاٹ کا چادر (۲) عورتوں کی اوڑھنی (۳) وہ چادر جو مرد  
 کو کہیں باندھتے ہیں۔  
 دو پیٹا اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) عورتوں کا کوسنے یا دُعا دینے کے لیے دونوں  
 ہاتھوں سے دوپٹے کو اُدھنا کرنا۔  
 دو پیٹا بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) مینا پاکرنا۔  
 دو پیٹا تان کے سوننا۔ (۱۔ محاورہ) بے فکری سے سوننا۔  
 دو پیٹا ڈھلنا۔ ڈھلکانا۔ (۱۔ محاورہ) دوپٹے کا سینے سے ہرک جانا۔  
 دو پیٹا گردن میں ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) پکڑ لینا۔ گرفتار کر لینا۔  
 دو پیٹا ہلانا۔ (۱۔ محاورہ) مینا مانگنا۔ ڈراما۔ صلح کا خواہاں ہونا۔  
 دو پیٹا۔ (۱۔ مذ) (۱) کبوتر جس کا پیٹ سفید ہو (۲) ایک قسم کا پتنگ جس میں  
 دو رنگ کی پٹیاں ہوں (۳) دو پٹیاں کی تصویر۔ اوڑھنی۔ چٹری۔  
 دو پرتا۔ (ف۔ صفت) دوہرا۔ دو تہہ کا۔  
 دو پرتے۔ (ف۔ صفت) دونوں طرف چھپا ہوا (۲) دو رخ۔ دو طرفہ۔  
 دو پشتہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کاغذ کو ایک طرف چھاپ کر دوسری طرف  
 چھاپنا۔ دو رخ بنانا۔  
 دو پلڑی۔ (۱۔ صفت) دو پلڑوں کی چھوٹی ٹولی۔  
 دو پلکا۔ (۱۔ مذ) (۱) ایک قسم کا کبوتر (۲) ایک قسم کا پتنگ (۳) ایک قسم کا گیند۔  
 دو پتھی۔ (۱۔ صفت) ایک قسم کی جالی جس کا دوہرا خانہ ہوتا ہے۔ اس کی  
 کڑتیاں بنتی ہیں۔  
 دو پہر (۱۔ صفت) (۱) بارہ بجے دن کا وقت، جب سورج عین سر پر ہو۔  
 (۲) ایک پہر کا دوگنا۔  
 دو پہر آنا۔ (۱۔ محاورہ) سورج کا عین سر پر ہونا۔ نصف دن کا گذر جانا۔  
 دو پہر بچنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دن کے بارہ بجنا (۲) دو پہر کا گھنٹہ بچنا۔  
 دو پہر ڈھلنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زوال کا وقت ہونا (۲) دن ڈھلنا۔  
 دو پہر کی جیل۔ وہ لڑکا جو دو پہر کو مارا مارا پھرے۔  
 دو پہر ہیا۔ (۱۔ صفت) (۱) ایک پھول جو اکثر دو پہر کو کھلتا ہے (۲) پچھو  
 دن کے بارہ بجے پیدا ہو (۳) دو پہر کا وقت۔  
 دو پیازہ۔ (۱) سالن جس میں دو دفعہ پیاز ڈالتے ہیں اور ترکاری  
 نہیں ڈالتے۔  
 دو تیا۔ (ف۔ صفت) (۱) دوگنا۔ دُہرا (۲) ڈیرھا (۳) گھبرا۔  
 دو تارا۔ (۱۔ مذ) ایک قسم کی چھوٹی سی سازنگی جس میں دو تار ہوتے ہیں۔  
 دو تہی۔ (۱۔ صفت) وہ مٹکا پڑا جو بہت سی بجائے دہرا بچھا جاتا ہے۔  
 دو ٹوک۔ (۱۔ صفت) (۱) دو پارہ۔ دو ٹوکے (۲) صاف۔ گھرا (۳) فیصلہ  
 کرنا۔  
 دو ٹوک جواب دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) صاف انکار کرنا۔ صاف جواب  
 دینا (۲) مختصر جواب دینا۔

دو ٹوک ہونا۔ (۱) فیصلہ ہونا (۲) رشتہ یا دوستی ٹوٹنا۔  
 دو وہاں۔ (ف۔ صفت) (۱) دنیا اور آخرت۔  
 دو وہاں سے جانا۔ (۱۔ محاورہ) دین دنیا سے جانا۔ دین و دنیا  
 برباد ہو جانا۔  
 دو وہاں سے کھونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کام کا نہ کھنا۔ بیکار کر دینا۔  
 دو وہلیا۔ (ف۔ صفت) (۱) دو زبانوں والا (۲) برہمہ۔ منافق۔  
 دو وہو رو کا حکم جو مسر کا پانسا۔ (۱۔ مثل) دو بیروں والا ہمیشہ  
 تکلیف میں رہتا ہے۔  
 دو وچیا۔ (۱۔ محاورہ) دو وچیا۔  
 دو وچار۔ (ف۔ صفت) (۱) چند۔ دو ایک۔ دو تین (۲) آمنے  
 سامنے۔ ملائی۔  
 دو وچار گھڑی رات رہے۔ (۱۔ محاورہ) سہی کے وقت۔  
 دو وچار ہاتھ رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) تھوڑا سا فاصلہ رہ جانا۔ تھوڑی  
 سی کسر رہ جانا۔  
 دو وچار ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ملاقات ہونا۔ سامنا ہونا (۲) آنکھیں ملنا۔  
 دو وچتا۔ (۱۔ صفت) (۱) خیالات کی یکسوئی نہ رکھنے والا  
 سرتند بذب (۲) پریشان۔ مضطرب۔  
 دو وچھی۔ (ف۔ صفت) (۱) وہ تصویر جس میں پورے چہرے کا عکس  
 ہوتا ہے (۲) کائے ہوز۔ مخلوط (۳)  
 دو وچلو۔ (۱۔ صفت) تھوڑا سا۔ ذرا سا۔  
 دو وچلو میں (۱) تو ہونا، بہک جانا۔ (۱۔ محاورہ) تھوڑی سی شراب  
 پنی کر بہک جانا۔  
 دو وچنتا۔ (ف۔ صفت) (۱) دو دلا۔ پریشان (۲)  
 دو وچند۔ (ف۔ صفت) (۱) دوگنا۔ دوہرا۔  
 دو وچوبہ۔ (ف۔ صفت) (۱) دو چوب والا (۲) ایسا نیمہ جس میں دو  
 ڈنڈے ہوں۔  
 دو وچنتا۔ (۱۔ مذ) وہ مکان جس کی اُپر تلے دو چھتیں ہوں۔  
 دو وخرت۔ (ف۔ صفت) (۱) مختصر۔ تھوڑا سا۔  
 دو وخرت بھینجا۔ (۱۔ محاورہ) لعنت بھینجا۔ نفرین بھینجا۔  
 دو وخرتی۔ (ف۔ صفت) بہت مختصر۔  
 دو وحصی۔ وہ عورت جس نے دوسرا بیاہ کیا ہو۔ دو خانہ والی۔  
 دو وداہر۔ (ف۔ صفت) (۱) مذ) (۱) ایک قسم کا بیل (۲) ایک بیل دار کرپڑا۔  
 دو وداہرے کو محتاج ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سخت محتاج ہونا۔  
 دو و دستہ۔ (ف۔ صفت) دونوں طرف۔  
 دو و دستہ خلال۔ (ف۔ صفت) (۱) وہ بازی جس میں دو آدمیوں کو ایک  
 ساتھ شکست دی جائے۔  
 دو و دستی۔ (ف۔ صفت) (۱) دستی کا ایک بیج (۲) دو لٹھ کا توار کا دار۔  
 دو و دل راضی تو کیا کرے کا قاضی۔ (۱۔ مثل) فریقین کی رضامندی  
 میں حاکم دخل نہیں دے سکتا۔  
 دو و دل ملنا۔ (۱۔ محاورہ) دو شخصوں کا اتحاد۔ دو طرفہ محبت ہونا۔

دو سالہ - (ف - صفت) (۱) دو سال کی عمر کا (۲) وہ زمین جو دو سال بوئی گئی ہو (۳) وہ غالب علم جو پیش ہو کر دوسرے سال پھر اسی درجہ میں بڑھ رہا ہو۔

دو سونہ - (ف - ۱) مذ ایسے مصرعے (چٹکے) جن کا جواب ایک ہو۔  
ایسر شکر کی ایجاد ہے جیسے ڈوم گیوں نہ گایا گوشت کیوں نہ کھایا جواب گلا نہ تھا۔

دوسرا - (ف - ۱) مذ دونوں جہان۔

دوسری - (۱) صفت (۱) دو زمین ہیں میں دو مرتبہ بل چلا یا گیا ہو۔

دوسرے ملو اوینا - (۱) محاورہ (۱) نکاح کر دینا (۲) صلح کر دینا۔

دوسوٹی - (۱) صفت (۱) دوست کا بنا ہوا کپڑا۔ ایک قسم کا موٹا کپڑا جو فرشوں جنموں وغیرہ کے بنانے میں کام آتا ہے۔

دوسے تین بھلے - (۱) مثل (مشورے کے لیے جتنے آدمی زیادہ ہوں بچتے ہوتے ہیں۔

دوسیرا (دوسیری) - (۱) دوسیر کا باٹ (۲) روئے کا دوسیر والا۔

دوشاخہ - (ف - صفت) (۱) دوشاخ والا (۲) دوشاخوں کی کڑھی (۳) دو شاخوں کا درخت (۴) دوشاخوں کا شیخ دان (۵) دوشاخوں کی مشعل۔

(۶) جنگ چھانسنے کی کڑھی جس کی دوشاخیں ہوتی ہیں۔

دوشالہ - (ف - ۱) مذ شیشیے کی دوہری چادر۔

دوشالے میں لپیٹ کر (لگانا) مارنا - (۱) محاورہ (۲) بھولنے کا دہرہ ذیل کرنا۔

دوشنبہ - (ف - ۱) مذ پیر کا دن - سوموار۔

دو طرفہ - (ف - ۱) صفت (دورویہ) دونوں طرف۔ دونوں جانب۔

دو عالم پر - (ف - ۱) مذ دونوں جہان۔

دو عالم لٹ جانا - (۱) محاورہ (۱) سنت تباہی ہونا۔ قیامت آجانا۔

دو عالم سے گزر جانا - (۱) محاورہ (۱) دنیا اور جتنے کی پروا نہ کرنا۔

دو عالم فراموش ہو جانا - (۱) محاورہ (۱) محبت میں سب کچھ بھول جانا۔  
دین دُنیا کا ہوش نہ رہنا۔

دو عملہ - (ف - ۱) مذ وہ چیز یا مکان جو دو آدمیوں کی ملکیت ہو۔ دو

شخصوں کی حکومت۔

دو عملی - (ف - ۱) صفت (۱) دو شخصوں کی حکومت (۲) بدانتظامی (۳)

اختلاف رائے۔

دو سزا - (ف - ۱) مذ ایک بحر اور ایک ہی روایت و قافیہ کی دو غزلیں۔

دو غلہ - (۱) صفت (۱) دو نسل کا جس کے ماں باپ کی نسل الگ الگ ہو (۲)

بکینہ - بد اصل۔ بد ذات۔

دو چوڑے - (۱) مذ ایک پہاڑ جس سے دو طرف تک ناپا جاتا ہے۔

دو فصلہ - (ف - ۱) صفت (۱) یکسوئی نہ رکھنے والا۔ دو رنگ (۲) وہ درخت

جس میں سال میں دو بار پھل لگے۔

دو فصلی - (ف - ۱) صفت (۱) وہ زمین جو سال میں دو بار بوئی جائے۔

(۲) دو فصلہ (۳) گول مول۔ دو پہلو کی۔

دو فصلی بائیں - (۱) صفت (۱) ایسی بائیں جن کے دو طلب ہوں۔ ظاہر کچھ اور

دو دلا - (ف - صفت) (۱) مثل (۲) فحشی (۳) متکبر۔ حیران (۴) متذبذب۔

دو دن - (ف - ۱) مذ تیس عرصہ۔ تھوڑا سا زمانہ۔

دو دن بہار دس دن پت جھڑ (مثل) پیش کم تکلیف زیادہ۔

دو دن کا بھجان - (ف - صفت) (۱) عارضی - فانی۔ ناپائیدار (۲)

مرنے کے قریب۔

دو دن کی بات ہے - (ف - ۱) صفت (۱) چند روز کا معاملہ ہے۔

دو دن کی جان دنی - (ف - ۱) صفت (۱) صحت (۲) چنڈرونہ (۳) عارضی خوبی۔

دو دن (بہی) میں - (۱) تھوڑی سی مدت میں۔

دو دن یہ بیکرنا - (۱) محاورہ (۱) جلد مر جانا۔ جوان مر جانا۔

دو دو پائیں - (۱) صفت (۱) مختصر سوال و جواب۔ چند باتیں۔

دو دو لاکھ اچھلنا - (۱) محاورہ (۱) سخت مضطرب ہونا۔ بہت بے تاب

ہونا۔ کچھ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔

دو دو لاکھ کرنا - (۱) محاورہ (۱) لڑائی کرنا (۲) آزمائش کے لیے تھوڑی سی

لڑائی کرنا۔

دو دھارا - (۱) صفت (۱) تین دو دم۔ دہری دھار کی (۲) وہ جگہ جہاں سے

دو یا کی دوشائیں ہوں (۳) ایک قسم کا تھوہر جس کی دہری شاخیں

ہوتی ہیں۔

دو دھاری تلوار - (۱) صفت (۱) دو سیدی تلوار جس کے دونوں طرف باڑ ہو۔

دو دریا - (۱) مذ وہ جگہ جہاں دو راستے ملیں یا نکلیں۔

دو درختا - (۱) صفت (۱) دو درخت (۲) دو پہلو والا (۳) منافق۔ دو رنگ۔

دو درختی - (۱) صفت (۱) تصویر جس میں دونوں رخ نظر آئیں (۲) ایک قسم

کی کمان (۳) منافقانہ۔

دو درسا - (۱) مذ (۱) دو قسم کا لاکھ ہوتا تھا کہ (۲) غیر دو تباکو۔

دو درگا - (۱) صفت (۱) دو غلہ آدمی (۲) دو نسل کا مرخ (۳) دو

نسل کا گھوڑا۔

دو رنگا - (ف - صفت) (۱) دو رنگ کا (۲) ابلق (۳) منافق (۴)

تلون مزاج۔

دو رنگی - (ف - ۱) صفت (۱) بیگانگی۔ دوئی۔ منافرت۔ منکاری۔ منافقت۔

دو رو - (ف - صفت) (۱) دو رخ کا (۲) منافق (۳) ایک پھول جس کا ایک

رخ سرخ اور دوسرا زرد ہوتا ہے۔ گل رعنا۔

دو روز - (ف - ۱) مذ چند روز۔

دو روز کا بھجان - (ف - ۱) مذ (۱) تھوڑا قیام کرنے والا شخص (۲) فانی۔

دو روزہ - (ف - صفت) مختصر وقت کا۔ تھوڑی مدت کا۔

دو رویہ - (ف - صفت) (۱) دونوں جانب سے۔ دونوں طرف سے

(۲) منافقانہ۔

دو زانو - (ف) گھٹنوں کے بن۔

دو زانو بیٹھنا - (۱) محاورہ (۱) گھٹنوں کے نل بیٹھنا۔ ادب سے بیٹھنا۔

دو سار ہونا - (۱) محاورہ (۱) تیرا نیزے کا کسی چیز یا بدن کے پار ہونا۔

دو ساکھی - دو ساہی - دو ساکی - (۱) صفت (۱) دو فصلی۔ وہ زمین جس میں

دو فصلیں ہوں۔ وہ زمین جس کے نیچے سخت مٹی اور اُپر ریت ہو۔





(۴) چیل خورعت (۵) باز (شکاری پرندہ) ق -  
 دُوج - (۵-۱-مٹ) قمری ماہ کی دوسری اور سترھویں تاریخیں۔  
 دُوجا - (دُوجا) وہ صفت دوسرا۔ ثانی۔  
 دُوخت - (۵-۱-مٹ) سلائی۔ سیون۔  
 دُور - (۱-۱-مٹ) (۱) دھواں (۲) دھند۔ خبار (۳) بھارات۔ بھاب۔  
 دُودھ پیرا - (۱-۱-مٹ) دینے کی سیاہی۔  
 دُودکش - (۱-۱-مٹ) دھواں نکلنے کا سوراخ۔ چینی۔  
 دُودمان - (دُودمان) (۱-۱-مٹ) (۱) بڑا قبیلہ۔ خاندان۔ گنبد (۲) نسل۔  
 قوم (۳) خوشبو۔  
 دُودہ - (دُودہ) (۱-۱-مٹ) (۱) قوم۔ قبیلہ (۲) گنبد۔ خاندان (۳) چینی (۴)  
 بڑا لٹکا (۵) گول چھوٹی (۶) پیرا کی سیاہی۔ کاجل۔  
 دُودھ - (۱-۱-مٹ) (۱) شیر۔ لبن۔ وہ سفید سیال چیز جو مادہ کے پستانوں سے  
 نکلتی ہے (۲) درخت یا پودے کا گڑھا رس۔  
 دُودھ اُترنا - (۱-۱-مٹ) دُودھ پیدا ہونا۔ دُودھ کا متن یا پستان میں آجانا۔  
 دُودھ اُدھاری - (۱-۱-مٹ) صرف دُودھ پر گزارہ کرنے والا۔ وہ شخص  
 جو اناج چھوڑ کر صرف دُودھ پر گزارہ کرے۔  
 دُودھ اُگلنا - (۱-۱-مٹ) بچوں کا مٹھ سے دُودھ پھینکنا۔  
 دُودھ بچا کر - (۱-۱-مٹ) دُودھ کا رشتہ چھوڑ کر۔  
 دُودھ بخشنا - (۱-۱-مٹ) دُودھ پلانے کا حق معاف کرنا۔  
 دُودھ بڑھانا - (۱-۱-مٹ) بچے کا دُودھ پھرانے۔  
 دُودھ بڑھائی - (۱-۱-مٹ) بچوں کا دُودھ پھرانے کی رسم۔  
 دُودھ بڑھنا - (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ زیادہ ہونا (۲) دُودھ چھوٹنا۔  
 دُودھ بھائی - (۱-۱-مٹ) وہ اشخاص جنہوں نے ایک عورت کا دُودھ  
 پیا ہو۔ رضاعی بھائی۔ دُودھ شریک۔ کوکا۔  
 دُودھ بھرانے - (۱-۱-مٹ) مانتا سے چھاتیوں میں دُودھ اُترانا۔ مادری  
 محبت کا جوش میں آنا۔  
 دُودھ بھری کٹوریال - (۱-۱-مٹ) دُودھ کی بھری ہوئی چھاتیاں۔  
 دُودھ بہن - (۱-۱-مٹ) وہ لڑکی جس نے کسی بچے کے ساتھ ایک ہی عورت  
 کا دُودھ پیا ہو۔ رضاعی بہن۔  
 دُودھ بڑنا - (۱-۱-مٹ) (۱) اناج میں رس پیدا ہونا (۲) چمک کے ازل  
 میں پیپ بڑنا۔  
 دُودھ پلانا - (۱-۱-مٹ) بچے کو دُودھ پھرانے۔  
 دُودھ پلائی - (۱-۱-مٹ) (۱) دایہ (۲) وہ نقدی جو دُودھ کھانے کے گھر سے سابقہ  
 کے روز آتی ہے یا گھنٹے کے رشتہ دار دُودھ کھانے کو دیتے ہیں۔  
 دُودھ پوت - (۱-۱-مٹ) (۱) دھن دولت۔ آل اولاد۔  
 دُودھ پوت والی - (۱-۱-مٹ) آل اولاد والی۔ صاحب نصیب۔  
 دُودھ پھرانے - (۱-۱-مٹ) (۱) بچے کو دُودھ میں کھنی چیز ڈال کر دُودھ سے  
 پانی الٹ کر دینا۔  
 دُودھ پھینا - (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ کے اجزا الگ الگ ہونا (۲) دُودھ  
 کا خراب ہو جانا۔

دُودھ پیتا - (۱-۱-مٹ) (۱) شیر خوار (۲) نختا۔ نادان۔ بے سمجھ۔  
 دُودھ پیتے روئے - (۱-۱-مٹ) (۱) روپے مع میاج (۲) سوڈ کے روپے۔  
 دُودھ چھاتا رہنا۔ دُودھ کا خشک ہو جانا۔  
 دُودھ پھرانے - (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ سے کھینک کر دُودھ سے  
 دُودھ اُپر کر چھاننا۔  
 دُودھ پڑھنا - (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ خشک ہونا (۲) چھاتیوں کا دُودھ  
 سے تن جانا۔  
 دُودھ دوہنا - (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ سے کھینک کر دُودھ نکالنا (دُودھ کی بھاری  
 دُودھ دیا لینکوں بھرا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) کام کرنا، مگر خراب طریقے سے۔  
 دُودھ ڈالنا۔ بچے کا دُودھ کی تے کرنا۔  
 دُودھ سا۔ بنایت سفید۔ دُودھ کی مانند۔  
 دُودھ کا جلا چھچھو چھونک پھونک کر پیتا ہے۔ (۱-۱-مٹ) ایک چیز  
 سے ڈرا ہوا اُس کی ہم شکل چیز سے بھی ڈرتا ہے۔  
 دُودھ کا دُودھ پانی کا پانی - (۱-۱-مٹ) (۱) بھوٹ اور سچ الگ الگ۔  
 بلدا پورا انصاف۔  
 دُودھ کا سا اُبال - (۱-۱-مٹ) جلد رنچ ہو جانے والا جوش یا غصہ۔  
 دُودھ کی بومٹھ سے آنا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) بچہ اور نا تجربہ کار ہونا۔  
 دُودھ کی طرح اُچھان آنا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) غصے کا سنت جوش تھوڑی دیر  
 کے لیے آنا۔  
 دُودھ کی کھنی کی طرح نکال کر کھینک دینا۔ (۱-۱-مٹ) بے دخل  
 کر دینا۔ نکال دینا۔ بچے تعلق کر دینا۔  
 دُودھ کی کھنی کس نے چھین - (۱-۱-مٹ) (۱) خراب چیز کوئی استعمال نہیں کرنا۔  
 دُودھ کے دانت۔ شیر خوار کی کا زمانہ۔  
 دُودھ کے دانت نہ ٹوٹنا۔ (۱-۱-مٹ) کم عمر ہونا۔  
 دُودھ ہال - (۱-۱-مٹ) آنا۔  
 دُودھ مہسری - (۱-۱-مٹ) ایک قسم کا لٹھی کپڑا۔  
 دُودھ ٹیندہ کھانا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) عمدہ اور نرم غذا کھانا۔  
 دُودھ موت کرنا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) بچے کی پرورش اور خدمت کرنا۔  
 دُودھ نہ بخشنا۔ (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ کا حق معاف نہ کرنا۔ مال کا اولاد سے  
 سخت ناواض ہونا۔  
 دُودھوں گلیاں کرو۔ (دُعا) خدا تمہیں اتنی دولت دے کہ پانی کے بجائے  
 دُودھ سے گلیاں کرو۔  
 دُودھوں نہا قوتوں پھلو۔ (کلمہ دعا) ہمیشہ دولت اور اولاد میں  
 کھیلتی رہو۔  
 دُودھنگ - (۱-۱-مٹ) (۱) چینی۔ دھواں نکلنے کا روزن جو گھروں میں  
 بنایا جاتا ہے۔  
 دُودھی - (دُودھی) (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ والی۔ دُودھ دینے والی (۲)  
 جس میں دُودھ یا رس ہو (۳) چھاتی۔ پستان یعنی (۴) ایک بوٹی۔  
 دُودھیہ - (دُودھیہ) (۱-۱-مٹ) (۱) دُودھ سے بھرا ہوا (۲) دُودھ کا  
 سارنگ (۳) کچا۔ بزر (۴) ایک قسم کا پتھر۔

**دو دوہیل** - (دو-دوہیل) وہ صفت [دو دھ دینے والی۔  
**دو دوہیل** گائے کی لائیں بھی بھلی۔ (۱-۱) [ش] جس سے فائدہ ہو۔  
 اس کی گڑھی بات بھی بہنی پڑتی ہے۔  
**دوڑ** - (دو-دو) (۱) چکر گردش (۲) رفتار۔ (۳) حال (۴) حاشیہ۔ (۵) کنارہ (۶)  
 باری۔ (۷) ذہنیت (۸) مصلحت۔ (۹) گھیرا (۱۰) چاروں طرف (۱۱) شراب کے  
 پیالے کی گردش (۱۲) انقلاب (۱۳) زمانہ۔ (۱۴) جہد (۱۵) سبق کو بار بار  
 دہرانا (۱۶) حافظ کا قرآن شریف حفظ کرنا (۱۷) محیط۔ (۱۸) پھیلاؤ (۱۹)  
 رسی کا نل۔ جمع، آدوار۔  
**دوڑا آنا** - (۱) محاورہ، (۲) باری آنا (۳) شراب کا پیالہ آنا (۴) وقت آنا۔  
**دوڑا بندھنا**۔ دوڑ بندھنا۔ (۱) محاورہ، (۲) شراب کا گردش کرنا۔  
**دوڑ چلنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) شراب کا باری باری ہر ایک کے دوڑوانا۔  
**دوڑ دوڑا**۔ (۱) مذ (۲) حکومت، سلطنت (۳) رواج۔ (۴) طریقہ۔ طور۔  
**دوڑ کرنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) دو شخصوں کا باری باری سے ایک دوسرے کو  
 قرآن کا سبق سنانا۔  
**دوڑ میں آنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) گردش میں آنا۔  
**دوڑ**۔ (دو-دو) (۱) بید۔ (۲) فاصلے پر (۳) علیحدہ۔ (۴) الگ۔ (۵) جدا۔ (۶) پرے  
 (۷) دشوار۔  
**دوڑا از حال**۔ (دو-دو) (۱) اب سے دوڑ۔ (۲) خدانہ کرے۔ خدا محفوظ رکھے۔  
**دوڑا از کار**۔ (دو-دو) (۱) مخالفت (۲) مرضی کے خلاف (۳) مطلب  
 سے دوڑ۔ (۴) بیکار۔  
**دوڑا آتا**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) فاصلے پر واقع ہو۔ (۳) بہت دور کے۔ (۴) توجہ بخیر  
**دوڑا اندیش**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) متفکد۔ (۳) دانا۔  
**دوڑا اندیشی**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) متفکدی۔ (۳) دانائی۔  
**دوڑا باد**۔ (دو-دو) (۱) خدانہ کرے۔ (۲) اب سے دوڑ۔  
**دوڑا باش**۔ (دو-دو) (۱) کلمہ خدا، (۲) دُور ہو۔ (۳) بادشاہوں کے آگے جو بدار۔  
 "دُور باش! دُور باش! پکارا کرتے تھے (۴) ایک دوشا خدیزہ جو  
 بادشاہوں کی سواری کے آگے لے کر چلتے تھے (۵) میر کارواں (۶)  
 چھڑی لاٹھی۔  
**دوڑ بھاگنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) پرہیز کرنا۔ (۳) لغزت کرنا۔ (۴) الگ رہنا۔ (۵) دوڑ رہنا۔  
**دوڑ بین**۔ (۱) دوڑا اندیش۔ (۲) بات کو تازہ جانے والا (۳) اگر جس میں دوڑ  
 کی چیز بڑی اور نزدیک نظر آتی ہے۔  
**دوڑ پھینکی**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) دوڑا اندیشی۔  
**دوڑ پار**۔ (۱) محاورہ، (۲) خدانہ کرے۔ (۳) خدانہ کرے۔ (۴) زنا نہ۔ (۵) زنا۔  
**دوڑا پہنچنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) دوڑ جلا جانا (۳) بلند پروازی۔ (۴) باریک بات  
 خیال میں آنا (۵) درجہ کمال کو پہنچنا۔ (۶) دوڑ اندیش کرنا (۷) حسب  
 نسب کو گالی دینا (۸) شہرت ہونا۔  
**دوڑ پھینکنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) فاصلے پر پہنچنا (۳) علیحدہ کر دینا (۴) بھال دینا  
**دوڑ تک پہنچنا** (جلا جانا)۔ (۱) محاورہ، (۲) بزرگوں کو گالی دینا (۳)  
 فاصلے پر چلا جانا۔  
**دوڑ دوک**۔ (۱) صفت، (۲) ٹانٹ ڈپٹ۔ (۳) دھتکار۔

**دوڑ دراز**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) بہت فاصلے پر۔ (۳) کالے کوسوں۔ (۴) بعد از قیاس۔  
**دوڑ دست**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) بہت دور۔ (۳) کالے کوسوں پر۔ (۴) دور جگہ  
 جہاں پہنچنا دشوار ہو۔  
**دوڑ دفان**۔ (۱) صفت، (۲) دور۔ (۳) غائب (۴) الگ۔ (۵) علیحدہ۔  
**دوڑ دوڑ**۔ (۱) کافی فاصلے کے مقامات تک۔  
**دوڑ دوڑا پہنچنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) شہرت ہونا (۳) دوڑ کی سوچنا۔ (۴) بلند  
 پروازی۔  
**دوڑ دوڑ رہنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) کچھ کچھ رہنا۔ (۳) الگ رہنا۔  
**دوڑ رُس**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) دوڑ تک پہنچنے والا (۳) بلند خیال۔  
**دوڑ رسی**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) بلند خیالی (۳) دوڑ تک پہنچنے کی قوت۔  
**دوڑ سے قریب آنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) دوڑ سے کوئی چیز دکھانے دینا۔  
**دوڑ سے تماشہ دیکھنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) کسی جھگڑے میں دخل نہ دینا۔  
**پاس نہ مانا**۔  
**دوڑ سے معلوم کرنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) بیزاری ظاہر کرنا۔ (۳) دوڑ رہنا۔  
**دوڑ سے لینا**۔ (۱) محاورہ، (۲) پاس آنے سے پہلے ہی لغت ملامت  
 شروع کر دینا۔  
**دوڑ کا**۔ (۱) صفت، (۲) بید (۳) ایسا رشتہ جو قریب کا نہ ہو (۴) گہرا۔  
**دوڑ حقیق** (۵) بعد از قیاس۔ (۶) بعد از قیاس۔  
**دوڑ کرنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) الگ کرنا۔ (۳) علیحدہ کرنا (۴) دفع کرنا۔  
**دوڑ کھینچنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) تخت و عجز کرنا۔ (۳) دوڑ دوڑ رہنا۔  
**دوڑ کی بات**۔ (۱) صفت، (۲) نکتہ۔ (۳) باریک بات۔  
**دوڑ کی ستانا**۔ (۱) محاورہ، (۲) بزرگوں کو گالیاں دینا۔  
**دوڑ کی سوچنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) خیال میں کوئی باریک بات آنا (۳)  
 کوئی نکتہ سوچنا۔  
**دوڑ کی صاحب سلامت**۔ (۱) صفت، (۲) معمولی واقفیت۔  
**دوڑ کی کوڑی لانا**۔ (۱) محاورہ، (۲) باریک بینی۔ (۳) کوئی نئی اور باریک بات کو  
**دوڑ کی کہنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) معمولی سمجھ سے باہر کی بات کہنا (۳) سمجھ یا  
 عقل کی بات کہنا۔  
**دوڑ کی مانگنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) ہیشی مانگنا۔ (۳) ڈینگ مانگنا۔ (۴) دون کی لینا۔  
**دوڑ کے ڈھول سہالے**۔ (۱) صفت، (۲) دوڑ کی سنی ہوئی بات اچھی معلوم  
 ہوتی ہے۔ (۳) دیکھنے پر چیز اچھی ثابت نہ ہونا۔ (۴) حالانکہ پہلے بہت  
 تعریف سنی ہو۔  
**دوڑ کیوں جاؤ**۔ (۱) محاورہ، (۲) ایسے موقع پر کہا جاتا ہے۔ (۳) جہاں قریب  
 کی مثال موجود ہو۔ (۴) دوڑ نہ جاؤ۔  
**دوڑ نکل جانا**۔ (۱) محاورہ، (۲) فاصلے پر چلا جانا (۳) موضوع سے ہٹ جانا۔  
**دوڑ ہوسا مننے سے**۔ (۱) محاورہ، (۲) دفع ہو۔ (۳) چل ہٹ ہال سے۔  
**دوڑ ہی سے سلام کرنا**۔ (۱) محاورہ، (۲) بیزاری ہونا۔ (۳) پناہ مانگنا۔  
**دوڑا**۔ (دو-دو) (۱) مذ (۲) بڑا ٹوکرا (۳) بڑا کونڈا۔  
**دوڑا**۔ (دو-دو) (۱) صفت، (۲) دوہرا۔  
**دوڑاں**۔ (دو-دو) (۱) مذ (۲) گردش۔ (۳) دورہ۔ (۴) وقت۔ (۵) زمانہ



دورادینا۔ (۱۔ محاورہ) بہت جلدی چھینا (۲) بھگانا۔  
 دوڑاگ۔ (دوڑ۔ ڈاگ)۔ (۱۔ مذ) بہت دوڑنے والا۔  
 دوڑانا۔ (دوڑ۔ ڈانا)۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) بھگانا۔ جلدی چلانا (۲) پھراننا۔ حیران  
 کرنا (۳) محنت کرنا۔ مشقت لینا (۴) روانہ کرنا۔ چھیننا (۵) پھیلانا۔  
 بھگانا (۶) لگانا۔ چپکانا۔  
 دوڑنا۔ (دوڑ۔ ڈنا)۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) بھگانا۔ جلدی جلدی قدم اٹھانا (۲)  
 پھیلنا۔ پھیننا (۳) حملہ کرنا (۴) سرایت کرنا۔ اثر کرنا۔  
 دوڑ۔ (ف۔ لاحقہ) دو وقت مصدر کا ماضیہ امر۔ اسم کے بعد اگر فاعل ترکیبی۔  
 بنا دیتا ہے اور بیسنے والے کے معنی دیتا ہے جیسے نیم دوڑ کھینش دوڑ۔  
 دوڑخ۔ (دوڑ۔ ڈخ)۔ (ف۔ ۱۔ مذ)۔ (۱) جہنم۔ زک (۲) وہ جگہ جہاں گناہ گار  
 قیامت کے بعد رکے جائیں گے (۳) رکنائیت، پیٹ، شکم۔  
 دوڑخ بھرنا۔ (۱۔ محاورہ) پیٹ بھرننا۔  
 دوڑخ کا گندہ (اینڈھن)۔ (۱۔ مذ) بڑا بھنگار۔  
 دوڑخ کا نمونہ۔ (۱۔ مذ) بڑی تکلیف کی جگہ۔  
 دوڑخ کی آبیج۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) آتش جہنم۔ تیزاگ۔  
 دوڑخ کی ٹلی۔ (۱۔ محاورہ) پیٹ کی ٹکر۔  
 دوڑخ میں پرٹنا (جھانا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جہنم میں داخل ہونا (۲)  
 مصیبت میں پڑنا۔  
 دوڑخ میں ٹپے (جھائے) (بددعا) بھاڑ میں جھائے۔  
 دوڑخ میں ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) عذاب جہنم میں گرفتار کرنا۔  
 دوڑخ میں گھر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) گناہ کر کے سزا کا مستحق ہونا۔  
 دوڑخی۔ (دوڑ۔ ڈخی)۔ (ف۔ مصل)۔ (۱) جہمی۔ گناہ گار (۲) سخت پٹیو۔  
 دوس۔ دوش۔ (۱۔ مذ)۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) قصور۔ خطا۔ عیب۔ گناہ (۲) علی العیض۔  
 دوس دینا۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) الزام لگانا (۲) قصور دار پھرنانا۔  
 دوست۔ (ف۔ ۱۔ مذ)۔ (۱) آشنا۔ پیار۔ خیر خواہ۔ محبوب۔  
 دوست اک باشد کہ گیر دوست دوست۔ (ف۔ مثل) دوست  
 دل پریشاں حال و در ماندگی آدہ ہوتا ہے جو مصیبت  
 کے وقت کام آئے۔  
 دوست بنانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) یار بنانا۔ بہراذ بنانا۔ طرفدار بنانا (۲) گانٹھنا  
 ملانا۔ سازش کرنا۔  
 دوست دار۔ (ف۔ ۱۔ مذ)۔ (۱) دوست۔ خیر خواہ۔ بہراز۔  
 دوست داری۔ (ف۔ ۱۔ مصل)۔ (۱) دوستی۔  
 دوست رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) عزیز بھگنا۔ پسند کرنا۔  
 دوست شاد ہوں دشمن پامال ہوں۔ (کلمہ دعا) بڑے آدمیوں کو دی  
 جانے والی دعا۔  
 دوست کا دشمن دشمن کا دشمن دوست۔ (۱۔ مقولہ) دوست  
 کے دشمن کو دشمن اور دشمن کے دشمن کو دوست سمجھنا چاہیے۔  
 دوست کامی۔ (۱) اپنا حصہ دوسرے کو دینا (۲) شراب سے دوست  
 کی تواریخ کرنا۔  
 دوست نما۔ (ف۔ صفت) (۱) ظاہر میں دوست (۲) اپنے آپ کو

محر (۳) انقلاب (۴) ہیر پھیر (۵) قسمت۔ نصیب (۶) اثنائیں۔  
 دوران خون۔ (ف۔ مذ) جسم میں خون کی گردش۔  
 دوران سسر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) سسر کا ٹھوسنا۔ سسر کا پکڑ۔  
 دوراؤ۔ (ف۔ مصل) اُٹھانے والا۔  
 دورائی۔ (ف۔ ۱۔ مصل) خداوندی۔ بادشاہی۔  
 دورہ۔ (دوڑ۔ ڈرہ)۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) پیکر گردش (۲) نوبت۔ باری (۳)  
 شراب کا دور (۴) گشت یعنی حکام کا اپنے اپنے علاقہ میں پھر کر  
 حالات کا جائزہ لینا۔  
 دورہ باندھنا۔ دورہ بندھنا۔ (۱۔ محاورہ) پکڑ باندھنا۔ حلقہ بنانا۔  
 دورہ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) مرض کا وہ رہ کر لوڈ کرنا۔ بیماری کی تکلیف کا  
 اہتیار چھیننا۔  
 دورہ تمام کرنا۔ (۱۔ محاورہ) جس قدر گشت مقرر ہو اس کو پورا کرنا۔  
 دورہ سپرد کرنا۔ دورہ سپرد ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مقدمہ کا سیشن نج  
 کسے سپرد ہونا۔  
 دورہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) حکام کا اپنے علاقے میں پھرنا۔ گشت کرنا۔  
 دوری۔ (دوڑ۔ ڈری)۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) چھوٹی ڈوڑی (۲) گوڑی۔  
 دوری۔ (دوڑ۔ ڈری)۔ (ف۔ ۱۔ مصل)۔ (۱) فاصلہ۔  
 دوری نظام۔ (Periodic System) ایسا نظام جو زمان  
 و مکان کے بعد و فاصلہ سے متعلقہ سائنسی حقائق پر مبنی ہو۔  
 دور۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) بھاگ (۲) پہنچ۔ (۳) رسائی (۴) کوشش۔ سعی۔ (۵)  
 حملہ۔ دھاوا۔ پڑھانی (۵) جلدی سے۔ سُرعت سے۔ تیزی سے۔  
 فرار۔ شوق سے (۶) بھگانا۔  
 دوڑا دوڑی۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) بھاگ۔ تیزی جلدی۔ مقابلہ کی دوڑ۔  
 دوڑ بھیننا۔ (۱۔ محاورہ) طریم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے سپاہیوں  
 کو بھیننا۔  
 دوڑ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جلدی کرنا (۲) کسی مقام پر جلدی جانا یا جلدی  
 سے جمع ہونا۔  
 دوڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) منتشر ہونا۔ پھیل جانا (۲) شہر ہو جانا (۳)  
 پولیس کا گرفتاری ملزمان کے لیے جانا۔  
 دوڑ چلنا۔ دوڑ کر چلنا۔ (۱۔ محاورہ) روف پکڑ ہونا۔ بھاگ چلنا۔  
 دوڑ دوڑ آنا۔ (۱۔ محاورہ) بار بار آنا۔ جلد جلد آنا۔  
 دوڑ دھوب۔ (۱۔ مصل)۔ (۱) محنت۔ جھٹکت (۲) کوشش۔ سعی۔  
 دوڑ چلے نہ گھر پڑے۔ (۱۔ مثل) اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آدمی  
 جدی اعتدال سے بڑھ کر کوئی کام کرے اور کامیاب نہ ہو۔  
 دوڑ لے کر دوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) طریموں کی گرفتاری کے لیے بہت جلد  
 سپاہی لے کر جانا۔  
 دوڑ مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لے تیزی میں حملہ کرنا۔ تاخت و تاراج  
 کرنا (۲) چھاپہ مارنا۔ دھاوا کرنا (۳) بہت کوشش یا محنت کرنا (۴)  
 لمبا سفر کرنا۔ سافت لے کرنا۔  
 دوڑا۔ (دوڑ۔ ڈرا)۔ (۱۔ مذ) (۱) دوڑنے والا (۲) سوار۔ ڈاکو۔





دوہر - (ج - ۱ - مذ) (۱) وقت - زمانہ (۲) مدت العمر (۳) قسمت نصیب  
(۴) اتفاق - بد قسمتی - مصیبت - خطرہ (۵) طرز - طریقہ - رسم  
روح (۶) حفاظت - تر و در - فکر (۷) دنیا (۸) چکنی مٹی -  
جمع : دوہور -

دوہرا - (رہ - را - ذہ - صفت) (۱) دو چند - ڈگنا (۲) دو تہہ کا (۳) ڈیڑھا -  
خمیدہ (۴) سپاری کا ٹکڑا (۵) پتنگ بازی کا ایک بیج -  
دوہرا بدن - (۱) مذ) ٹوٹا بدن - بھرا جسم -  
دوہرا ہترا - دو چند - سر چند - ڈگنا - ٹکنا -  
دوہرا ہوجانا - ٹکنا - ڈیڑھا ہوجانا (۲) ڈونا ہوجانا -

دوہرانہ - (رہ - را - نا) (۱) کسی عبارت کو بار بار پڑھنا - دوبارہ  
کہنا (۲) دو تہہ کرنا (۳) کوئی کام دوبارہ کرنا (۴) کسی بات کی نقل کرنا -  
دوہرائی - (رہ - را - ای) (۱) - امت) سبق یا کتاب کو دوسری بار پڑھ لینا یکرار  
دوہرا - (رہ - رم) (۱) - مذ) پتنگ کا دوہرا بیج -

دوہری - (رہ - ری) (۱) - صفت) (۱) دو تہہ کی (۲) ڈگنی (۳) سوٹی -  
دوہری بات - (۱) - امت) پہلو دار بات - ذومعنی بات -

دوہریت - (رہ - ری) (۱) - صفت) (۱) - امت) خدا کو نہ ماننا -  
دوہریہ - (رہ - ریر) (۱) - مذ) خدا کو نہ ماننے والا - ٹکدہ - لاندھب -

دوہش - (دہ - ہش) (۱) - مذ) (۱) حیرانگی - حیرت - تعجب (۲) حیران  
متیز - تعجب - ٹھیرایا ہوا -

دوہش - (دہ - ہش) (۱) - صفت) (۱) - امت) بخشش - انعام -  
دوہشت - (دہ - ہشت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) ڈر - خوف - خطرہ -

دوہشت انگیز - ڈراؤنا - خوف ناک - بھیانک -  
دوہشت پسند - (۱) - صفت) خوف و ہراس پھیلانے والا حکومت تبدیل  
کرنے والا -

دوہشت زدہ - خوف کا مارا - ڈٹا ہوا -  
دوہشت سگانا - (۱) - صفت) دل میں خوف سمانا -

دوہشت کھانا - (۱) - صفت) (۱) - صفت) ڈرنا (۲) رعب میں آنا -  
دوہشت گردی - (۱) - صفت) خوف و ہراس پھیلانا -

دوہشت لگنا - (۱) - صفت) (۱) - صفت) ڈرنا -  
دوہشت ناک - (۱) - صفت) بھیانک - ڈراؤنا -

دوہقان - (دہ - تان) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) ڈرنا یا گاؤں کا باشندہ  
کسان - کاشت کار (۲) گنوار - اُجڑا - ناشائستہ - جاہل (۳)

دوہقانیت - (دہ - تان) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) گنوار پن -  
دوہک - (دہ - ہک) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہک - (دہ - ہک) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہک - (دہ - ہک) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہکانا - (دہ - کان) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہکدہ - (دہ - کد) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہکنا - (دہ - کن) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہکنا - (دہ - کن) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہکنا - (دہ - کن) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہکنا - (دہ - کن) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ مٹی - (دہ - مٹی) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ یک - (دہ - یک) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ - (دہ - ہ) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ - (دہ - ہ) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ خدا - (دہ - خدا) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ خدا - (دہ - خدا) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دھارنا - (دہ - دھار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ ڈنڈ - (دہ - ڈنڈ) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ ڈال - (دہ - ڈال) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ ڈال - (دہ - ڈال) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ تاریخ - (دہ - تاریخ) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ تاریخ - (دہ - تاریخ) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیہات - (دہ - دیہات) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیہات - (دہ - دیہات) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیہاتی - (دہ - دیہاتی) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیہاتی - (دہ - دیہاتی) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)  
دوہ دیوار - (دہ - دیوار) (۱) - صفت) (۱) - صفت) (۱) - صفت) شوخ - تیش - آگ کی روشنی (۲)

دُہل - ۱-۵- (دہشتا) خوف - ڈر - تردد - گھبراہٹ (۷) دُکندل -  
 دُہل جانا - (امحاورہ) دُرجانا - رُعب کھا جانا -  
 دُہل - (دہ) - (۱- مذ) دُصول - نفاذہ -  
 دُہل زنی ہونا - دُصول ہونا -  
 دُہلا - (دہ) - (لا) - (۱- مذ) تاش کا پتہ جس پر دس نشان ہوں -  
 دُہلنا - (دہ) - (نا) - (۱- مص) رُعب کھانا - دُرنا (۲) زمین کا پھٹ جانا  
 یا جنبش میں آنا -  
 دُہلوی - (دہ) - (ن) - (دی) [اُرُصف] دہلی کا باشندہ - دہلی سے مستقیم -  
 دہلی سے نسبت رکھنے والا -  
 دُہلی - (دہ) - (لی) - (۱- مذ) [ا] گنوار - چوکھٹ - دہلیز (۲) ہندوستان  
 کا دارالحکومت - دیکھیے دہلی -  
 دہلی کا کوٹوال - (۱- مذ) [ا] مغرور آدمی (۲) نازک مزاج -  
 دہلی کے لیوے لے ڈالنا - (امحاورہ) [ا] کسی کے مال بار بار جانا -  
 (۲) بے حد تقاضے کرنا -  
 دُہلیز - (دہ) - (لیز) - (ف) - (۱- مذ) [ا] چوکھٹ (۲) ڈیڑھی - دروازہ -  
 دہلیز لانا لگنا - (امحاورہ) چوکھٹ کو محور کرنا - دروازے میں سے نکلنا -  
 دہلیز چھانکنا - کسی کے پاس کسی کام کے لیے جانا -  
 دہلیز چومنا - (۱- مذ) بے حد عزت کرنا - قدم بوس ہونا -  
 دہلیز کا گنا - (۱- مذ) [ا] پالتو گنا - گھر کا گنا (۲) مُفت خورا -  
 دہلیز کھندلانا - (امحاورہ) سنگی کے بعد لڑکے کے اپنے سسرال جانے  
 کی ایک رسم -  
 دہلیز کی مٹی لے ڈالنا - (امحاورہ) بہت سے پھیرے کرنا - کسی چیز یا  
 کسی کام کے تقاضے کے لیے کسی کے گھر بار بار آنا -  
 دہلیز کے گے سے بے خبر نہیں جانا - (امثل) بے وقوفی کی حرکتوں سے  
 دستبرداشت نہیں جاتی -  
 دہلیز لانا کھنڈنا - دہلیز نہ کھنڈنا - دروازے سے باہر قدم رکھنا - ایک  
 گھر سے دوسرے گھر جانا -  
 دہلیز نہ چھانکنا - (امحاورہ) دروازے تک نہ جانا - پردے میں رہنا -  
 دہیم - (دہ) - (ہم) - (ف) - (صفت) [ا] دسواں (۲) محترم کی دسویں تاریخ -  
 دُہن (دہان) - (دہ) - (۱- مذ) مُنہ -  
 دُہن بند - نقاب - مُنہ پر باندھنے کا پھندا -  
 دُہن بندی - (ف) - (۱- مذ) تقریر کی حماقت - زبان بندی -  
 دُہن تینگ - (ف) - (۱- صفت) چھوٹا مُنہ -  
 دُہن تیخ - (ف) - (۱- مذ) تلوار کی دھار -  
 دُہن دریدہ - (ف) - (صفت) مُنہ پھٹ - گستاخ - بے شرم -  
 دُہن زخم - (ف) - (۱- مذ) زخم کا مُنہ یا سوراخ -  
 دُہن زخم کا ہینٹنا - (امحاورہ) زخم کا کھل جانا -  
 دُہن سگ بہ لقمہ دوختہ بہ - (ف) مثل کسی شخص کی ایذا ہی سے بچنے  
 کے لیے کچھ دے دینا چھتا ہوتا ہے - کئے کا مُنہ روئی کا گھرا ڈال کر ہی  
 دینا چاہیے -

دُہن کھولنا - (امحاورہ) مُنہ کھولنا - بات کرنا -  
 دُہنا - (دہ) - (نا) - (۱- صفت) راست - سدھا ہاتھ -  
 دہنا قدم لینا - (امحاورہ) [ا] چالاک یا شہرت کا قابل ہونا (۲) طنزاً  
 تنظیک کرنا -  
 دُہندہ - (دہ) - (ہند) - (ف) - (صفت) دہندہ کا مختلف - دینے والا - (۱)  
 کرنے والا -  
 دُہندگان - (دہ) - (ہن) - (د) - (گان) - (ف) - (صفت) [ا] دہندہ کی جمع -  
 دینے والے -  
 دُہندہ - (دہ) - (ہن) - (دہ) - (ف) - (صفت) [ا] ادا کرنے والا - دینے والا -  
 دُہنی - (دہ) - (نی) - (۱- مذ) [ا] دُودھ کا برتن -  
 دُہنیت - (دہ) - (نی) - (یت) - (ع) - (۱- صفت) [ا] چکنائی - چکنا ہٹ - روغن - چربی -  
 دہی - (دہ) - (ہی) - (دہ) - (۱- مذ) جما ہوا دُودھ -  
 دہی جمانا - (امحاورہ) دُودھ میں تھوڑی کھٹائی ڈالنا تاکہ وہ جم جائے -  
 دہی دہی کرنا - (مثل) کسی پوشیدہ بات کو جاہی مشہور کرتے پھرنا -  
 دہی پھلی - نیک نکلون -  
 دہی پھلی کی مٹی - (امثل) ساجت کے روز مٹی میں دہی بھر کر اور ساتھ  
 ایک پھلی لٹکا کر دُودھ کے گھر لے جانے کی رسم -  
 دہسے - (دہ) - (سے) - (۱- مذ) [ا] محرم کے پہلے دس دن (۲) تعزیتے -  
 دُہیا - (دہ) - (یا) - (۱- صفت) [ا] دُودھ دینے والا جانور -  
 دہیج - (دہ) - (یج) - (۱- مذ) [ا] دہیز کا بگڑا ہوا لفظ - جہیز -  
 دہیز - (دہ) - (یز) - (۱- مذ) [ا] چہیز (۲) لڑکی کو رخصت کرتے وقت جو  
 سامان دیتے ہیں -  
 دُہیلا - (دہ) - (ہے) - (لا) - (ق) - (صفت) [ا] سنجھی جھیلنے والا (۲) نیند بھرا -  
 دہیم - (دہ) - (ہیم) - (ف) - (۱- مذ) شاہان ایران کا تاج -  
 دہیندگی - (دہ) - (ہی) - (گی) - (۱- صفت) [ا] دہ برتن جس میں دُودھ جائیں  
 مٹی کی بڑی سی ٹانڈی -  
 دہینگہ - (دہ) - (ہیں) - (گر) - (۱- مذ) [ا] دہ برتن جس میں دہی رکھتے ہیں -

دھ

دھا - (دہ) - (۱- مذ) [ا] ترانہ - لے - سُر - آہنگ (۲) چھٹا سُر (۳) دُودھ  
 پلانے والی -  
 دھابا - (دھا) - (با) - (۱- مذ) [ا] مٹی کی ہموار چھت (۲) مکان جس کی  
 چھت ہموار ہو اور مٹی کی مٹی ہو (۳) پہلی نظر (ق) -  
 دھاب - (دہ) - (۱- مذ) [ا] دھاب جو انسان بغیر ٹھہرنے کے دوڑے (۲)  
 فاصلہ - دُوری (۳) میدان (۴) گھات - رستہ (۵) بارہ انچ -  
 دھاپنا - (دھاب) - (نا) - (۱- صفت) [ا] تسلی کرنا (۲) سیر کرنا (۳) بھرنے -  
 دھات - (دہ) - (۱- صفت) [ا] وہ معدنی جو ہر جس میں پھلنے کی خصوصیت ہو -  
 جیسے سونا - چاندی (۲) پیشاب کے ساتھ خارج ہونے والا سفید مادہ -

(۳) طریقت - طور (ق)۔

دھات آنا۔ (۱) محاورہ، پیشاب کے ساتھ منی نکلنا۔

دھا چک۔ (دھا۔ چک) (ق)۔ ۱۔ مذ انلیشہ۔ دہشت۔ خوف۔

دھار۔ (دھ۔ ۱۔ مٹ) (۱) کسی گرتی ہوئی سیال چیز کا تار (۲) خط۔ کیر (۳)

تھوار کی باڑھ یا تیزی (۴) دریا کا وسط یا بہاؤ (۵) پہاڑوں کا سلسلہ۔

(۶) دودھ یا شراب جو روٹا کو پڑھائی جائے (۷) بارش کا

پھینسا (۸) حمد۔

دھار لٹ جانا۔ (۱) محاورہ، باڑھ گنڈ ہو جانا۔

دھار بانڈھنا۔ (۱) محاورہ، سحر یا اشوں کے زور سے تھوار کی دھار گنڈ

کر دینا (۲) پانی یا کسی سیال چیز کو لگاتار گرانا۔

دھار پیٹھ جانا۔ (۱) محاورہ، باڑھ گنڈ ہو جانا۔

دھار پر مارنا۔ (۱) محاورہ، (۱) پرانہ کرنا۔ خاطر یا خیال میں نہ لانا۔

(۲) ٹالائی سمجھنا۔

دھار چڑھانا۔ (۱) محاورہ، دیتا یا گنگا جنتا پر منت مان کر دودھ

کھردھار ڈالنا۔

دھار چھوٹنا۔ (۱) محاورہ، زور سے دھار نکلنا۔

دھار دار۔ (ف) صفت، تیز۔ باڑھ دار۔

دھار دھرنا (رکھنا)۔ (۱) محاورہ، (۱) تیز کرنا (۲) پھینکنا۔

دھار کرنا۔ (۱) محاورہ، گنڈ ہونا۔ دانستہ بڑھنا۔

دھار لگانا۔ دھار مارنا۔ (۱) محاورہ، مٹھنا۔ پیشاب کرنا۔

دھار لینا۔ (۱) محاورہ، (۱) منہ میں دودھ کی دھار لینا (۲) تھنوں سے منہ

لگا کر دودھ پینا۔

دھار نکلنا۔ (۱) محاورہ، (۱) دودھ دوہنا۔ دودھ نکلنا (۲) تیز کرنا۔

دھار نہ مارنا۔ (۱) محاورہ، پروا نہ کرنا۔

دھار رول روٹنا۔ (۱) محاورہ، بہت رونا۔ آنسوؤں کا تار لگانا۔

دھارا۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ۔ (۱) چشمہ۔ سوتا۔ بہاؤ۔ منبع۔ آبشار۔ پانی بہنے

کی جگہ (۲) دریا کے وسط میں پانی کا بہاؤ۔

دھار بک۔ (دھا۔ بک)۔ (۱) صفت (۲) صالح۔ نیک۔ عین (۳) مذہبی۔

دھارن۔ (دھا۔ رن)۔ (۱) مذ۔ (۱) پڑ (۲) برداشت (۳) قبضہ (۴)

حصول (۵) ذمہ (۶) پھاؤ (۷) بہناؤ (۸) سوچ۔

دھارن کرنا۔ (۱) محاورہ، (۱) اختیار کرنا (۲) قبول کرنا (۳) ٹولنا۔

دھارنا۔ (دھا۔ نا)۔ (۱) مصل (۲) اختیار کرنا (۳) رکھنا (۴) کسی عضو پر گرم

پانی کی دھار ڈالنا (۵) پرورش کرنا۔ پالنا۔ سنبھالنا۔

دھاری۔ (دھا۔ ری)۔ (۱) مذ۔ (۱) مٹ (۲) کیر۔ خط (۳) نالی (۴) چھوٹا پتہ

(۵) فوج (۶) حمد۔ کنارہ (۷) صفت (۸) کھڑے والا۔

دھاری دار۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) صفت، وہ شے جس پر خط بڑے ہوئے ہوں۔

دھاڑ۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مٹ (۲) ہجوم۔ انہوہ۔ مجمع۔ چوروں کا جھنڈا (۳) جلدی۔

اشد ضرورت (۴) مشکل۔ مصیبت (ق)۔

دھاڑ پڑنا۔ (۱) محاورہ، (۱) چوروں کے گروہ کا حملہ آور ہونا۔ (۲)

دھاڑ کی دھاڑ۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مٹ (۲) مجمع۔ انہوہ۔ جمع۔ خلیفہ۔

دھاڑ مارنا۔ (۱) محاورہ، (۱) ڈاکہ مارنا (۲) دھاوا کرنا۔ حملہ کرنا۔

دھاڑا۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ (۲) ظلم۔ زبردستی (۳) ڈاکہ۔

دھاڑنا۔ (دھاڑنا)۔ (۱) مصل (۲) شیر کا گرجنا (۳) چلانا۔ ٹل پھانا (۴)

بچوں کا تیز آواز سے رونا۔

دھاڑی۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ (۲) نامی چور۔ گھبرا۔ ڈاکو۔

دھاگ۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مٹ (۲) شہرت۔ شہرہ۔ غلغلہ۔ دھوم (۳) ڈر۔ خوف۔

(۴) رعب دلب۔ دیدار (۵) شان و شوکت۔

دھاگ بندھنا۔ (۱) محاورہ، (۱) رعب ہونا۔ سکتہ بیٹھنا۔

دھاگ بیٹھنا۔ دھاگ جھنا۔ (۱) محاورہ، رعب قائم ہونا۔

دھاگ ہونا۔ (۱) محاورہ، (۱) شہرہ ہونا (۲) رعب ہونا۔

دھاگا۔ (دھا۔ گا)۔ (۱) مذ (۲) ڈور۔ سوت۔ تاگا۔ تامہ (۳) دھوکا۔ فریب۔

دھام۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ (۲) گھر۔ خانہ۔ مکان (۳) بہشت۔

دھامین۔ (دھا۔ مین)۔ (۱) مذ (۲) ایک قسم کا آڑھہ (۳) ایک قسم

کا بائس جس کی کمان اور غیل بناتے ہیں (۴) ایک قسم کی عمدہ گھاس

(۵) قاصد۔

دھان۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ (۲) چاول کا پودا (۳) جھلکے دار چاول۔

دھان بان۔ (۱) مذ، نازک اندام۔ ڈھلا پتلا۔

دھان کا گاؤں پوال سے پچایا جاتا ہے۔ (۱) مثل (آثار سے ہی

کسی کی خصلت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

دھان کٹا۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ، دھان کوٹنے کا موسم۔

دھانڈل۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ (۲) جھگڑا۔ جھگڑا۔ بھگڑا (۳) بے ایمانی

دھوکا۔ فریب۔

دھانڈل کرنا۔ دھانڈل پھانا۔ (۱) محاورہ، (۱) جھگڑا کرنا (۲) زبردستی کرنا

بے ایمانی کرنا۔ بد معاملی کرنا۔

دھانڈلی۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ (۲) جھگڑا (۳) بے ایمانی فریب

(۴) ناحق کام۔

دھانڈلی کرنا۔ (۱) مذ، دغا بازی کرنا۔ زبردستی کوئی چیز چھین لینا۔

دھانڈلیا۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مذ (۲) دھانڈلی کرنے والا۔ دھوکا

دینے والا۔

دھانس۔ (دھا۔ ۱)۔ (۱) مٹ (۲) مزع یا تمباکو کی تیز بو جس سے کھانسی آنے لگے۔

(۳) کسی تیز بو سے گلے میں پیدا ہونے والی خراش (۴) جھلک کھانسی۔

دھانسانا۔ (دھانسنا)۔ (۱) مصل (۲) گھوڑے یا بیل کا کھانسانا۔

دھانسی۔ (دھا۔ سی)۔ (۱) مٹ (۲) گھوڑے وغیرہ کی کھانسی۔

دھاننگ۔ (دھا۔ نک)۔ (۱) مذ (۲) تیر انداز۔ کمان دار (۳) تیر کمان

سے مسلح ہو کماندار۔

دھانگڑ۔ (دھا۔ گڑ)۔ (۱) مذ (۲) ایک قوم جو کنوئیں اور تالاب

کھودتی ہے۔

دھان لٹ۔ (ق)۔ (۱) مذ (۲) دھاوا (۳) دوڑ۔ راستہ (۴) عزم۔ ارادہ۔

دھانی۔ (دھا۔ نی)۔ (۱) مصل (۲) دھان کے رنگ کا (۳) ہلکا سبز رنگ



دھجیاں کرنا۔ دھجیاں اڑانا۔  
 دھجیاں لگانا۔ (۱- محاورہ) پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔  
 دھجیاں لگانا۔ (۱- محاورہ) نہایت محسوس یا غریب ہونا (۲) کپڑے پھٹ جانا۔  
 دھجیاں لینا۔ (۱- محاورہ) کپڑوں کا پھاڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔  
 شرمندہ کرنا۔

دھجیاں ہونا۔ (۱- محاورہ) پرزہ پرزہ ہونا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔  
 دھجیر۔ (دھ- جیر) (۱- امت) دھجی کا غذا پکڑنے کی لمبی کترن۔  
 دھجیلا۔ (دھ- جی- لا) (۱- صفت) (۱) خوش اندام۔ سچھیلا۔ جامہ زیب۔  
 دھجکا۔ (دھج- کا) (۱- مذ) (۱) صدر۔ دھکا (۲) جھٹکا۔ جھکولا (۳)  
 نقصان۔ گھاٹا۔

دھجکا دینا۔ (۱- محاورہ) نقصان پہنچانا۔  
 دھجکا لگنا۔ (۱- محاورہ) صدر ہونا۔ نقصان ہونا (۲) جھکولا لگنا۔  
 دھکا لگنا۔

دھجکانا۔ (دھج- کان- نا) (۱- ق- معن) ڈرنا۔ ڈرنا۔  
 دھدھکا۔ (دھ- دھک) (۱- صفت) جلتی ہوئی آگ کا شعلہ۔  
 دھہ۔ (۱- حرف اشخاص) (۱) مصدر دھہنا کا مصدر امر جو دوسرے مصدروں  
 کے ساتھ مل کر معنوں میں زور پیدا کرتا ہے جیسے دھہ گھسیٹنا (۲)  
 طرف۔ نزدیک (ق)۔

دھہ بکڑ۔ (۱- امت) گرفتاری۔  
 دھہ بکڑے۔ (۱- امت) زبردستی۔  
 دھہ بکڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) گرفتار کر لینا۔ جلدی سے پکڑ لینا (۲) پھانس لینا  
 دھہ چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) رکھ لینا۔  
 دھہ دباننا۔ (۱- محاورہ) دبوچ لینا۔ مغلوب کر لینا۔  
 دھہ دھہ بھولو۔ (کھڑ دھما) بہت دولت مند ہو۔ بہت امیر ہو۔ خوب  
 دولت بڑے۔

دھہ دھہ کے پینا۔ (۱- محاورہ) (۱) زور سے پینا (۲) غلم کرنا۔  
 دھہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) رکھ چھوڑنا۔ نہ دینا (۲) مقام لینا۔  
 پکڑ رکھنا۔

دھہ رگڑنا۔ (۱- محاورہ) بُری طرح رگڑنا۔ خوب ذلیل کرنا۔  
 دھہ کے گنا۔ (۱- محاورہ) سخت تابو کرنا۔  
 دھہ کے مروڑنا۔ (۱- محاورہ) زور کر کے مروڑنا۔  
 دھہ گھسیٹنا۔ (۱- محاورہ) زور سے گھسیٹنا۔  
 دھہ لگنا۔ (۱- محاورہ) سب کام چھوڑ چھوڑ کر بھگانا۔  
 دھہ لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) رکھ لینا (۲) خوب خبر لینا (۳) قائل کرنا (۴)  
 متواتر عمل کرنا۔ پکڑ لینا۔

دھہ۔ (۱- مذ) (۱) اتمام۔ اخیر۔ انتہا (۲) سیدھا راستہ جو منزل مقصود  
 پر پہنچ جائے (۳) فاصلہ۔ (۴) شروع۔ ابتداء۔  
 دھہ درگاہ۔ (۱- امت) منزل مقصود۔  
 دھہ سے۔ (۱) ابتداء سے۔ شروع سے۔

دھہ سے دھہ تک۔ (۱) شروع سے آخر تک۔  
 دھہ کی لڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شروع سے ہی کام خراب ہو جانا (۲)  
 زندگی کا خاتمہ ہو جانا۔  
 دھہ کی ٹوٹی نہیں جڑتی۔ (۱- مثل) [تقدیر ہی خراب ہو تو کچھ  
 نہیں ہو سکتا۔  
 دھہ۔ (۱- مذ) رکھا۔

دھہا جانا۔ (۱- محاورہ) پکڑا جانا۔ مصیبت میں پھنسا۔  
 دھہا دھنگا۔ (۱- محاورہ) لکھا رکھا یا۔ بچا لکھا۔  
 دھہا رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) لکھا رہنا (۲) سیکار ہونا۔  
 دھہا گیا ہے۔ (۱- محاورہ) (۱) کیا خاص بات ہے (۲) کچھ طاقت نہیں  
 (۳) کچھ موجود نہیں۔

دھہا۔ (دھہ- دا) (۱- مذ) (۱) لوہے کی سلاح جس پر پتیا پھرتا ہے۔  
 (۲) زمین کا محور جس پر زمین گردش کرتی ہے (۳) ڈانڈا۔

دھہا۔ (دھہ- ل) (۱- امت) دھجی۔ چھینٹا۔  
 دھہے اڑانا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت مار پڑنا۔ رُوا ہونا (۲)  
 دھجیاں اڑنا۔

دھہا دھہ۔ (۱) شروع سے آخر تک۔  
 دھہ پت۔ دھہ پت۔ (دھہ- پت) (دھہ- پت) (۱- صفت) کلاسیکی موسیقی  
 کا ایک قدیم انداز یا انگ۔

دھہرت۔ (دھہ- رت) (ق- ا) (۱- صفت) دھرتی۔ زمین۔  
 دھہرتا۔ (دھہ- رتا) (۱- صفت) (۱) مدوگار۔ بچانے والا۔ محافظ (۲) مقروض  
 (۳) پڑنے والا (۱- صفت) [بھائی۔ کھوتی۔ گیشن۔

دھہرتی۔ (دھہرت- ری) (ق- ا) (۱- صفت) (۱) دھرتی۔ زمین (۲) دُنیا۔  
 دھہرتی۔ (دھہرتی- ق) (۱- صفت) (۱) زمین (۲) مٹی۔ اراضی (۳) رُینا۔  
 دھہرتی کا پھول۔ (۱- مذ) (۱) بینڈک (۲) لکڑتا۔ گھنٹی (۳)  
 نو دولت۔

دھہرتی کے پورے پورے زمین کے اوپر۔ اس دنیا میں۔  
 دھہ کار۔ (دھہ- کار) (۱- مذ) وہ شخص جو نقل سے چیزیں بناتا ہے۔  
 دھہکت۔ (ق- صفت) خیر۔ اچھائی۔ بھلائی۔

دھہرم۔ (دھہ- رم) (۱- صفت) (۱) پکا حکم یا قانون (۲) رسم۔ رواج (۳)  
 مذہب۔ ملت (۴) ایمان۔ عقیدہ (۵) دستور۔ قاعدہ (۶) حق۔ انصاف (۷)  
 نیکی۔ نیک کام (۸) خصوصیت۔ نشان (۹) ایک خاص رسم (۱۰) بھینٹ۔

دھہرم آتما دھہر ماتا۔ (۱- صفت) سخی۔ فیاض۔ نیک۔  
 دھہرم اُبدیش۔ (۱- مذ) (۱) مذہبی وعظ (۲) اخلاق و ادب۔  
 دھہرم اٹھاتا۔ (۱- محاورہ) قسم کھانا۔

دھہرم ارتھ۔ خیراتی روپیہ۔ مال وقف۔  
 دھہرم اوتار۔ (۱- مذ) مقدس۔ پاک۔ پوتر۔  
 دھہرم باب۔ (۱- مذ) وہ شخص جو مینٹی بنائے۔ مَنہ بولا باب۔  
 دھہرم بگاڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ایمان کھونا (۲) دوسرے کا ایمان خراب کرنا  
 (۳) عورت سے زبردستی زنا کرنا۔







دھکم دھکا۔ (دھک۔ کم۔ دھک۔ کا) (ہ۔ ا۔ مذ) دھکے پہ دھکا۔ دھکا پیل۔  
 دھکے کھاتے پھرنا۔ (ا۔ می داردہ) مارے مارے پھرنا۔  
 دھکنا۔ (دھک۔ یا۔ نا) (ہ۔ میص) دھکا دینا۔ ریلنا۔  
 دھکیل۔ (دھ۔ کیل) (ہ۔ ا۔ مذ) دھکا۔ صدمہ۔  
 دھکیلنا۔ (دھ۔ کیل۔ نا) (ہ۔ میص) دھکا دینا۔ ریلنا۔ پیلنا۔  
 دھکیتلو۔ (دھ۔ کے۔ ٹو) (ا۔ ا۔ مذ) (ا) دھکا (۲) دھکا دینے والا (۳)  
 آشنا۔ یار۔  
 دھکیلوان۔ (دھ۔ کیل۔ وال) (ہ۔ تابع فعل) (ا) دھکا دیتے ہوئے۔  
 دھکڑھکی۔ (۲) انفرادی سے۔ بہتات سے۔ بہت۔  
 دھکڑھکی۔ (۲) خوردنکر (۳) گئے کا ایک زبور۔  
 دھکڑا۔ (دھک۔ را) (ہ۔ ا۔ مذ) (ا) شوہر۔ خاوند (۲) یار۔ آشنا (۳)  
 زن خاشترے نا جاؤ تعلق رکھنے والا۔  
 دھکی۔ (دھ۔ گی) (ق۔ ا۔ مٹ) آتش زن۔ آگ لگانے والا۔  
 دھلانا۔ (دھ۔ لا۔ نا) (ہ۔ میص) کپڑے یا کسی شے کو پانی سے صاف کرنا۔  
 دھلنا۔ (ا۔ میص) دھویا جانا۔ پانی سے کپڑے یا کسی اور شے کا صاف  
 کیا جانا۔  
 دھلاتی۔ (دھ۔ لا۔ ای) (ہ۔ ا۔ مٹ) کپڑے یا کسی دوسری شے کے  
 دھلانے کی اُجرت۔  
 دھل وھل۔ (ہ۔ صفت) زور سے بننے والا۔  
 دھلوانا۔ (دھل۔ نا۔ نا) (ہ۔ میص) صاف کرنا۔  
 دھلوانی۔ (دھل۔ وا۔ ای) (ہ۔ ا۔ مٹ) کپڑے دھلوانے کی اُجرت۔  
 دھلے دھلائے۔ (ا۔ صفت) دھوئے ہوئے۔ صاف کیے ہوئے۔  
 دھیلنڈی۔ (دھ۔ لیں۔ ڈی) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) چیت کا پہلا دن جب  
 لوگ ایک دوسرے پر دھول پھینکتے ہیں (۲) ہولی کا دوسرا دن۔  
 دھم۔ (ق۔ ا۔ مٹ) دھوم۔  
 دھم۔ (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) آواز۔ شور۔ زور کی آواز۔ دھول کی آواز۔ گرنے  
 یا گونڈنے کی آواز (۲) پھونک مارنے والا (۳) پگھلانے والا  
 (۴) چاند۔  
 دھم دھم۔ (ا۔ صوت) (ا) زور سے زمین پر مارنے کی آواز (۲) دھول  
 کی آواز۔  
 دھم دھمانا۔ (ہ۔ میص) (ا) پاؤں کو کھوکھلی زمین پر مار کر آواز نکالنا۔  
 (۲) دھول بھانا (۳) دروازے پر ہاتھ مارنا۔  
 دھم دھما ہٹا۔ (ا۔ صوت۔ مٹ) سر کے اوپر کوئی آواز۔  
 دھم سے۔ (ا) (۱) زور کی آواز کے ساتھ۔ شور کرتے ہوئے۔  
 (۲) بیکایک۔ فوراً۔  
 دھم سے آمو جو ہونا۔ (ا۔ محاورہ) فوراً آجانا۔  
 دھم سے گوننا۔ (ا۔ محاورہ) زور سے یا آواز کے ساتھ گوننا۔  
 دھما چو اگڑی۔ (دھ۔ ما۔ چوک۔ ٹی) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) شور وغل۔ ہنٹارہ

گود پھانڈ۔  
 دھما دھم۔ (دھ۔ ما۔ دھم) (ہ۔ ا۔ مٹ) متواتر زور کی آواز۔  
 دھما کا۔ (دھ۔ ما۔ کا) (ہ۔ ا۔ مذ) (ا) گرنے یا گونڈنے کی آواز (۲) توپ۔  
 پٹانے یا بم کی آواز (۳) دروازہ گرنے کی آواز (۴) زور  
 کا طہانچہ (۵) ایک قسم کی توپ جو ہاتھیوں پر لادی جاتی تھی۔  
 (۶) پتھر۔ بندوق۔  
 دھما کو۔ (دھ۔ نا۔ کو) (ہ۔ صفت) (ا) دھماکے سے پھٹنے والا (۲)  
 آتش گیر مادہ۔  
 دھمال۔ (دھ۔ مال) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) اُچھل۔ گود۔ شور وغل۔ دھما چوڑی  
 (۲) ایک قسم کا راگ۔ (ہیلنڈی کے دن کا راگ (۳) قلدندوں اور  
 فیتروں کا ایک رقص (صفت) (۴) موٹا۔ ہٹا کٹا۔  
 دھمالیا۔ (ا۔ صفت) دھمال کھیلنے والا۔  
 دھمپال۔ (دھم۔ پال) (ق۔ صفت) بہت موٹا۔  
 دھمک۔ (دھ۔ تک) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) آہٹ (۲) پاؤں کی آواز (۳)  
 صدمہ جو سخت آواز سے دماغ کو پہنچے (۴) ہٹکا درد ستر۔ میس۔  
 (۵) دھڑکن (۶) گرم ہوا (۷) چمک (۸) دھمکی۔ خوف (۹) زمین  
 کی ناہمواری۔  
 دھمکانا۔ (دھم۔ کا۔ نا) (ہ۔ میص) (ا) ڈرانا۔ خوف دلانا۔ ڈرانا۔  
 دھمکنا۔ (دھم۔ تک۔ نا) (ہ۔ میص) (ا) خیف درد ستر ہونا (۲) کوئی چیز  
 کوٹنا (۳) بیکایک کہیں پہنچ جانا۔  
 دھمکی۔ (دھم۔ کی) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) خوف۔ ڈر (۲) گھر کی۔  
 دھمکی میں آنا۔ (ا۔ محاورہ) ڈرجانا۔ رعب مان جانا۔  
 دھملا۔ (دھم۔ لا۔ ہ۔ صفت) (ا) دھند۔ غبار آلود۔ تاریک۔  
 دھموکا۔ (دھم۔ مو۔ کا) (ہ۔ ا۔ مذ) (ا) مٹکا۔ گھونا (۲) ایک قسم کا دف۔  
 دھمن۔ (دھم۔ ا۔ مذ) (ا) مال۔ دولت۔ جائداد (۲) قسمت (۳) مظہر البرج  
 کا نواب بروج (۴) عورت۔ محبوب (ق)  
 دھن آگن۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (ہ۔ مٹ) جیسے آنکھوں میں لگانے سے پریشہ  
 خوانے نظر آئیں۔  
 دھن باو۔ (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) شکر یہ (۲) تعریف۔ حمد۔  
 دھن بھاگ۔ (دھم۔ بھاگ) (ہ۔ مٹ) خوش قسمتی۔ خوش نصیبی۔  
 دھنپال۔ (ا۔ صفت) (ق) (ا) شہوت پرست (۲) عورتوں کا شیدائی۔  
 دھن پسانی۔ (ا۔ صفت) (ق) جو دولت کے خیال میں مست رہے۔  
 دھن دولت چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ (ا۔ مٹ) دولت کا کوئی  
 بھروسہ نہیں۔ آج ہے تو کل نہیں۔  
 دھن ماننا۔ (ہ۔ محاورہ) شکر یہ ادا کرنا۔ شکر گزار ہونا۔  
 دھن دان۔ (ہ۔ صفت) دولت مند۔ امیر۔  
 دھن ہے۔ (ہ۔ مٹ) (ا) آفرین ہے شہ باش (۲) طنز۔ یہ کیا  
 کیا۔ کام خراب کر دیا۔  
 دھن۔ (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا) دھیان۔ خیال (۲) شوق۔ سرگرمی (۳) عادت۔  
 (۴) خواہش (۵) گانے کی طرز (۶) گے (۷) گھبراہٹ (۸) تیز درد۔



دھوپ چھاؤں - (۱۔ مٹ) ایک قسم کا ریشمی کپڑا جس میں دو رنگ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ انڈھیرا اُجالا۔

دھوپ چھینا - (۱۔ محاورہ) شام ہونا۔ بادل گھر آنا۔

دھوپ چھوڑنا - (۱۔ محاورہ) سورج کے اُگنے سے ہٹ جانا۔ دھوپ پڑنے دینا۔

دھوپ دان - دھوپ دانی - (۱۔ مذ۔ مٹ) وہ برتن جس میں دھوپ یا خوشبو دار چیزیں ڈال کر جلاتے ہیں۔

دھوپ دکھانا - دھوپ دینا - (۱۔ محاورہ) کسی چیز کو دھوپ میں رکھ کر دکھانا۔

دھوپ ڈھل جانا - (۱۔ محاورہ) زوال آفتاب ہونا۔

دھوپ سہنا - (۱۔ محاورہ) دھوپ میں کام کرنا۔ دھوپ برداشت کرنا۔

دھوپ کھانا - (۱۔ محاورہ) دھوپ میں بیٹھا رہنا۔ دھوپ میں گرمی برداشت کرنا (۲) کسی چیز کو دھوپ لگانا۔

دھوپ کھلنا - (۱۔ محاورہ) دھوپ پھیلنا۔

دھوپ گھڑی - ایک آکر جس پر دھوپ پڑے تو مختلف نشانات مختلف اوقات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ گھڑی مقامی وقت بتلاتی ہے۔

دھوپ لگانا - (۱۔ محاورہ) دھوپ کا اثر ہونا۔

دھوپ لینا - (۱۔ محاورہ) دھوپ کھانا (۲) دھوپ کا اثر حاصل کرنا۔

دھوپ میں بال سفید کرنا - (۱۔ محاورہ) بڑھاپے تک ناتجربہ کار رہنا۔

دھوپ نکلنا - (۱۔ محاورہ) سورج چڑھنا (۲) سورج کا بادلوں میں سے نکلنا (۳) روشنی پھیلنا۔

دھوپ - (۵) گتے کو بیٹے کی آواز۔ دور۔ بھاگ۔ ہٹ۔

دھوپ تر - (۱۔ مٹ) ایک قسم کا موٹا اور چھدا کپڑا۔

دھوپ تو - (دھوپ تو) وہ - (۱۰۔ مذ) بھگ۔ ٹرٹی۔ نرسنگھا۔ بھگ کی آواز۔

دھوپ تو بیک - موٹا۔ چھپٹھا آدمی۔

دھوپتی - (دھوپتی) وہ - (۱۔ مٹ) (۱) ہاریک لبا کپڑا جو کر سے

باندھا جائے (۲) نگلی۔

دھوپتی پر شاو - (۱) ہندوؤں کو حقارت سے کہتے ہیں (۲) بنیا بقال

دھوپتی میں سب ننگے - (مثل) اندرونی حالت سب کی ایک جیسی ہے۔

دھوپ - (۵۔ ۱۔ مٹ) دھوپ (۲) ایک بسوٹے کا بیسواں حصہ۔ ایک قسم

کی ناقص گھاس۔

دھوپا - (دھوپا) وہ - (۱۔ مذ) دھوپا۔ دھوکہ۔ دغا (۲) پسپ ہوئی دوا

جو کسی زخم وغیرہ پر چھڑکی جائے۔ دھوپا۔

دھوپا رے - (دھوپا رے) وہ [۵] (۱) نزدیک - قریب - سامنے - تقریباً

قریب - قریب۔

دھوپا - (دھوپا) وہ - (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) ٹھونسا۔ گھیسٹنا۔ بھرنا (۲)

مردہتی کا مگر مار کر زخمی کرنا۔

دھوک - (۵۔ ۱۔ مٹ) کلابتون بننے کی سلائی۔

دھوکا - (دھوکا) وہ - (۱۔ مذ) دغا - قریب - مگر (۲) غلط فہمی - شبہ۔

پچھا ہٹ (۳) پرندوں کو ڈرانے کا پتلا (۴) سراب (۵) ڈر۔

دھوپا نکلنا - (۱۔ محاورہ) چلنا۔ سگنا۔ دھوپا اُٹھنا۔

دھوپا چو جانا - (۱۔ محاورہ) (۱) بھاپ بن کر اُڑ جانا (۲) رنگ کالا ہو جانا۔

دھوپا چوٹا - (۱۔ محاورہ) دھوپا کا پیدا ہونا۔

دھوپا میں اڑانا - (۱۔ محاورہ) (۱) جلا کر خاک سیاہ کر دینا (۲)

دھوپا میں اڑانا۔

دھوپا میں بھرنے - (۱) تباہ کرنا (۲) تڑپنا۔

دھوپا میں باقی کا شربک - (۱۔ مذ) ہمایہ۔ پڑوسی۔

دھوپا میں تھے بادل اڑانا - (۱) تھتھے یا سگرت کاکش لگا کر مٹنے سے

بہت سا دھوپا نکلنا (۲) بے سرو پا خبریں مشہور کرنا۔

دھوپا نسا - (دھوپا - وال - سا) وہ - (صفت) جس میں دھوپا اثر کر گیا ہو۔

دھوپا - (دھوپا - آنا) وہ - (مض) (۱) کھانے میں دھوپا کی بو آ جانا (۲)

دھوپا کی سیاہی جم جانا۔

دھوپ - (۵۔ ۱۔ مذ) دھوپا - شوب۔

دھوپا - (دھوپا - بن) وہ - (۱۔ مٹ) (۱) کپڑے دھونے والی عورت۔

دھوپا کی بیوی (۲) ایک قسم کا پرند۔

دھوپا - (دھوپا - بن) وہ - (۱۔ مذ) کپڑے دھونے والا۔

دھوپا یاٹ - دھوپا پیٹا - (۱۔ مذ) وہ سب یا نکلنے کا تختہ جس پر

دھوپا کپڑے دھوتے ہیں (۲) گشت کا ایک داڑی۔

دھوپا پر بس نہ چلا گدھیا کے کان مروڑے (ایٹھے) - (۱۔ مثل)

زبردست سے بس نہیں چلنا۔ کمزور کو دباتے ہیں۔

دھوپا کا پھیلا آدھا آدھا میللا - (۱۔ مثل) عیروں کا لباس

مروڑا بنیں ہوتا۔

دھوپا کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا - (مثل) جس کا کوئی ٹھکانا نہ ہو۔

نگا اور بیکار آدمی نہ اُدھر کا نہ اُدھر کا۔

دھوپا کے گھر پر پڑے چور (۱۔ مثل) دوسرے کا مال لٹانے

وہ نہ لٹا لٹے اور (۲) دالے کو کہتے ہیں۔

دھوپ - (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) سورج کی تیز روشنی (۲) ایک قسم کی خوشبو۔

دھوپ آنا - (۱۔ محاورہ) دھوپ پہنچنا۔ سورج کا سامنے آ جانا۔

دھوپ اترنا - (۱۔ محاورہ) (۱) دھوپ کا کسی بلند جگہ سے پینے آنا۔

(۲) دھوپ کی تیزی کم ہونا۔

دھوپ اٹھانا - (۱۔ محاورہ) (۱) تکلیف برداشت کرنا (۲) دھوپ میں سفر کرنا

دھوپ ادا س ہونا - (۱۔ محاورہ) دھوپ کی تیزی کم ہونا۔

دھوپا پڑنا - (۱۔ محاورہ) گرمی ہونا - سخت دھوپ ہونا۔

دھوپا پھیلنا - (۱۔ محاورہ) سورج کی روشنی پھیلنا۔

دھوپا ٹلنا - (۱۔ محاورہ) دھوپ کا کسی جگہ سے ہٹ جانا۔

دھوپا چلانا - (۱۔ محاورہ) خوشبو چلانا۔

دھوپا چڑھنا - (۱۔ محاورہ) (۱) دن چڑھنا (۲) دھوپ کا کسی بلند

مقام پر پہنچ جانا۔

دھوپا پڑے - (۱) دن پڑے۔

گھبراہٹ - مایوسی (۶) مٹا ہری صورت (۷) کوئی چیز جو دُور سے صاف نظر نہ آئے۔  
 دھوکا کھانا - (۱) محاورہ) دھوکا کھانا۔  
 دھوکا دھڑکی - (۱) مٹا) دُعا - فریب۔  
 دھوکا دہی - (۱) ف - مٹا) فریب دینا۔  
 دھوکا دینا - (۱) محاورہ) (۱) فریب دینا۔ پھل کرنا (۲) مغالطہ دینا۔  
 دھوکا کھانا - (۱) محاورہ) (۱) غلطی کرنا۔ چوکنا (۲) فریب میں آنا۔  
 دھوکا ہونا - (۱) محاورہ) (۱) غلطی ہونا۔ سہو ہونا (۲) شائبہ ہونا۔  
 شک ہونا۔

دھوکے باز - (۱) مذ) دغا باز۔ مکار۔ فریبی۔  
 دھوکے بازی - (۱) ف - مٹا) فریب۔ دغا بازی۔  
 دھوکے کی طوطی - (۱) مٹا) فریب میں لانے والی یا مغالطہ دینے والی شے (۲) مٹی جس کی اوٹ میں شکار کیلتے ہیں۔  
 دھوکے میں - (۱) (۱) دھوکا کھا کر (۲) کسی اور کے گمان سے۔  
 دھوکے میں آنا - (۱) محاورہ) دھوکا کھانا۔  
 دھوکے میں رہنا - (۱) محاورہ) جھوٹی امید میں رہنا۔ مغالطہ ہونا۔  
 جھوٹے وعدے پر یقین کرنا۔  
 دھوکہ پینا - (۱) مٹا) صاف کر کے پینا۔  
 دھول - (۱) مذ) مٹا) (۱) جوار کا بہرا پتھا جسے چوستے ہیں (۲) ایک قسم کا گٹا (۳) دھب - قطرہ۔ چانٹا۔  
 دھول دھپنا - (۱) مذ) (۱) ایک دوسرے کو قطرہ مارنا (۲) پھٹ پھاڑ۔  
 دھول - (۱) مٹا) خاک - گرد - راکھ - مٹی۔  
 دھول اُڑا دینا - (۱) محاورہ) مٹا دینا۔ خاک میں ملا دینا۔  
 دھول اُڑانا - (۱) محاورہ) (۱) خاک اُڑانا (۲) بدنام کرنا۔ رسوا کرنا۔  
 (۳) آوارہ پھرنا۔  
 دھول اُڑنا - (۱) محاورہ) (۱) خاک اُڑنا (۲) تباہی مچنا۔  
 دھول بھڑنا - (۱) گرد دُور ہونا (۲) پٹنا۔ پٹانی ہونا۔  
 دھولا - (دھو - لا) (۱) صفت) سفید - روشن - چمکدار۔ کوئی سفید چیز۔  
 دھولا پڑنا - (۱) محاورہ) رنگ سفید یا زرد ہونا۔  
 دھولا پینا - (۱) مذ) سفیدی - چمک - صفائی۔  
 دھولے آجانا - (۱) محاورہ) سفید بال نکلنے شروع ہونا۔  
 دھولانا - (دھو - لا) (نا) (۱) مٹا) دھول مارنا۔ چانٹا رسید کرنا۔  
 دھولی - (۱) مٹا) شرمندگی۔  
 دھولیا - (دھول - یا) (۱) مٹا) (۱) دھول یا خاک کا بنا ہوا (۲) مٹی کی بنی ہوئی کوئی شے۔ مٹی۔  
 دھولیا بیٹا کرنا - کسی معاملہ کو دبا لینا یا لمبا میٹ کرنا۔  
 دھوم - (۱) مٹا) (۱) شور وغل - افواہ - ہنگامہ (۲) شہرت۔ غلغلہ۔  
 شان و شوکت (۳) ایک قسم کا چمک کا کام۔  
 دھوم اٹھنا - (۱) محاورہ) (۱) دھوم ہونا (۲) شوری مچانا۔  
 دھوم اُڑنا - (۱) محاورہ) شہرت ہونا۔

دھوم پڑنا - (۱) محاورہ) شہرت ہونا۔  
 دھوم دھام - (۱) مٹا) زور شور۔ دھام تابع موضوع ہے۔  
 دھوم دھامی - (۱) صفت) (۱) بھڑکیلا۔ خوب صورت (۲) بڑی دھوم دھام سے۔  
 دھوم دھڑکا - (۱) مذ) ہنگامہ۔ شور۔ غلغلہ۔  
 دھوم ڈالنا - (۱) محاورہ) شور مچانا۔ ہنگامہ برپا کرنا۔  
 دھوم کرنا - (۱) محاورہ) (۱) ہنگامہ برپا کرنا (۲) شہور کرنا۔  
 دھوم مچانا - (۱) محاورہ) (۱) شور کرنا۔ غل کرنا (۲) فریاد کرنا۔  
 دھوم مچنا - (۱) محاورہ) (۱) شہرت ہونا (۲) ہنگامہ برپا ہونا۔  
 دھوم ہونا - (۱) محاورہ) شہرت ہونا۔  
 دھومیا - (دھو - نا) (۱) مذ) (۱) دھوئیں کا رنگ۔ سُرخ اور سیاہ ملا ہوا رنگ۔ آدرا رنگ۔ سیاہ رنگ (۲) ایک قسم کا بوتل۔  
 دھومک دھپنا - (دھو - مک - دھی - یا) (۱) مٹا) غل - شور۔ داد دینا۔  
 شور و غوغا۔  
 دھون - (۱) مذ) (۱) مٹا) (۱) دھونیں سیر کا وزن۔ آدھامن۔  
 دھون - (۱) مٹا) کھانسنے کی آواز۔  
 دھون دھون کرنا - (۱) محاورہ) بار بار کھانا۔ کھانسی کا عارضہ ہونا۔  
 دھون - (۱) مٹا) (۱) توپ یا بندوق کی آواز۔ پٹانے یا بمب کے چلنے کی آواز۔ دھماکا۔ دھول کی آواز۔  
 دھون دھون - (۱) صحت) مٹا) توپ یا بندوق کی متواتر آواز۔  
 دھوننا - (دھو - نا) (۱) مٹا) (۱) پانی سے صاف کرنا۔  
 دھوننا - (دھو - نا) (۱) مذ) (۱) ایک قسم کا گوند جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے۔  
 دھوننا - (دھون - تال) (۱) مٹا) (۱) دولت مند (۲) فیاض۔ دانا (۳) طاقت ور۔ بہادر (۴) عیاش۔ شریر۔  
 دھونٹی - (دھون - ٹی) (۱) مٹا) (۱) چرواہے کی نکرالی۔  
 دھونڈھا - (دھون - دھا) (۱) مذ) (۱) مٹا) (۱) تودہ۔  
 دھونس - (دھو - نا) (۱) مٹا) (۱) دھمکی۔ ڈراوا (۲) دھوکا۔ فریب۔  
 دھونس پی - (۱) مٹا) (۱) دھوکا۔ جھانسا۔ دم دلاسا۔  
 دھونس دینا - (۱) محاورہ) دھمکی دینا۔  
 دھونس میں آنا - (۱) محاورہ) (۱) ڈر جانا (۲) فریب میں آنا۔  
 دھونسنا - (دھون - سا) (۱) مذ) (۱) بڑا فقارہ (۲) صدر۔  
 دھونسا کھانا - (۱) محاورہ) (۱) شامت آنا (۲) صدر اٹھانا۔  
 دھونسا - (دھون - نا) (۱) مٹا) (۱) دھوننا۔ دبانا (۲) سزا دینا۔  
 پٹنا۔ مارنا۔  
 دھونسا - (دھون - سی - آ) (۱) مذ) (۱) مٹا) (۱) فریبی (۲) مانگداری وصول کرنے والا۔  
 دھونک (دھونکن) - (۱) مٹا) (۱) ریاس کی شدت (۲) ذمہ کارمن۔  
 دھونکن - (دھون - کن - نا) (۱) مٹا) (۱) دھونکنی سے پھونکنا۔ ہوا دے کر آگ تیز کرنا۔

دھونگنی - (دھوں بک - نی) (دہ - ۱ - مٹ) آگ چھو بچنے کا چڑے کا ہشک کی شکل کا آکر۔

دھونگنی لگانا - (۱ - محاورہ) سانس چھوٹنا۔

دھوئی - (دھو - نی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) خوشبو جلانا۔ دھوواں اٹھنے کے لیے کوئی چیز آگ میں ڈالنا (۲) سادھوؤں کا الاؤ۔

دھوئی تیکانا - (۱ - محاورہ) سادھوؤں کا آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھ کر بیٹا کرنا۔

دھوئی رمانا - (۱ - محاورہ) آگ کا الاؤ جلا کر سادھوؤں کی طرح بیٹھ جانا۔ کسی جگہ بیٹھ جانا۔

دھوئی لگا کر بیٹھنا - (۱ - محاورہ) کسی پر پختہ اعتماد کرنا۔

دھوئی لینا - (۱ - محاورہ) ناک میں دھواں لینا۔

دھوون - (دھو - ون) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) وہ پانی جس میں کوئی چیز دھوئی گئی ہو اور اس میں کثافت آگئی ہو۔

دھوئی - (دھو - ای) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) دھلی ہوئی۔ پاک کی ہوئی۔ صاف کی ہوئی۔ دھوئی دھلائی آنکھ - (۱ - مٹ) بے شرم آنکھ۔

دھوئی ہوئی زبان - (۱ - مٹ) (۱) پاک کی ہوئی زبان۔ شستہ زبان۔ فصیح زبان۔

دھویا جانا - (۱ - محاورہ) بے شرم ہونا۔ بے باک ہونا۔

دھویا دھایا - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) صاف ستھرا۔ پاک و صاف (۲) بے شرم۔ بے غیرت۔

دھویا دیدہ - (۱ - مٹ) بے غیرت۔ بے حیا۔

دھی - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) بیٹی (۲) سمجھ عقل۔

دھی دھیانی - (دہ - ۱ - مٹ) بیٹی۔ خاندان کی بیٹی۔ علقہ یا گاؤں کی بیٹی۔

دھی چھوڑ داما داسیا - (۱) بیٹی کی نسبت (۲) داماد کی زیادہ خاطر ملحوظ رکھی جاتی ہے۔

دھیان - (دھ - یان) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) خیال۔ توجہ۔ فکر۔ سوچ۔ لحاظ۔

دھیان لگانا - (۱ - محاورہ) خیال آنا۔ یاد آنا۔

دھیان بٹنا - (۱ - محاورہ) دوسری طرف متوجہ ہونا۔ خیال کا پراگندہ ہونا۔

دھیان بندھنا - (۱ - محاورہ) کسی کا تصور بندھنا۔ کسی کا خیال آنا۔

دھیان پر چڑھنا - (۱ - محاورہ) کسی بھولی بسری بات کا یاد آ جانا۔

دھیان پیر جانا - (۱ - محاورہ) طبیعت کا میلان ہٹ جانا۔ توجہ نہ رہنا۔

دھیان دور کرنا - (۱ - محاورہ) یاد کرنا۔ یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر پہلو پر نگاہ کرنا۔

دھیان دھرنا - (۱ - محاورہ) تصور جمانا۔ مراقبہ میں بیٹھنا۔

دھیان دینا - (۱ - محاورہ) توجہ سے کام کرنا۔ خیال کرنا۔

دھیان رکھنا - (۱ - محاورہ) خیال رکھنا۔ نگاہ میں رکھنا۔

دھیان رہنا - (۱ - محاورہ) خیال رہنا۔ یاد رہنا۔

دھیان سے - (۱) توجہ سے۔ سوچتے ہوئے۔

دھیان سے اترنا - (۱ - محاورہ) یاد نہ رہنا۔ بھول جانا۔

دھیان کرنا - (۱ - محاورہ) سوچنا۔ فکر کرنا۔ مراقبہ میں جانا۔ توجہ کرنا۔

دھیان لڑانا - (۱ - محاورہ) عجز کرنا۔ فکر کرنا۔ یاد کرنے کی کوشش کرنا۔

دھیان لگانا - (۱ - محاورہ) توجہ کرنا۔ خیال کرنا۔

دھیان میں آنا - (۱ - محاورہ) سمجھ میں آنا۔ خیال میں آنا۔ یاد آ جانا۔

دھیان میں لانا - (۱ - محاورہ) خاطر میں لانا۔ قابل توجہ۔ خیال کرنا۔

دھیان میں ہونا - (۱ - محاورہ) یاد ہونا۔

دھیانی - (دھ - یان) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) خدا سے لو لگانے والا۔ گیانی (دہ - ۱ - مٹ) (۱) بیٹی۔ بیٹی یا بہن کی بیٹی۔

دھیرو - (دھ - ص) (۱) صبر۔ تحمل۔ ثابت قدم۔ مستقل مزاج (۲) دلیری۔ جوش۔ دھیروا - (دھی - وا) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آہستہ چلنے والا۔ نرم مزاج (۲) وحشی جانور۔ جسے رام رکھ لیا گیا ہو (۳) وہ شخص جس کا ہفتہ آرتھکا ہو۔

دھیروا سوٹھیرا - (۱ - مٹ) (۱) نرم مزاج گہرا ہوتا ہے جو پانی آہستہ چلے وہ گہرا ہوتا ہے۔ مستقل مزاج آدمی کا میاب رہتا ہے۔

دھیروج - (دھی - روج) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) حوصلہ۔ جرأت۔ استقلال۔ مضبوطی۔ دھیروج بندھانا - (۱ - محاورہ) حوصلہ افزائی کرنا۔ تسلی دینا۔

دھیروج کرنا - (۱ - محاورہ) صبر کرنا۔ بہت کرنا۔

دھیروگ - (دھی - رگ) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) تسلی۔ سہارا۔

دھیروی - (دھی - ری) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آنکھ کی پتلی (۲) مستقل مزاجی (۳) پتنگ بازی میں مارنے والا شخص۔

دھیروی دھیرو پکارنا - (۱ - محاورہ) پتنگ بازی میں اپنی فتح کا اعلان کرنا۔ دھیروی دھیرو کہنا۔

دھیروے دھیروے - (۱) (۱) آہستہ آہستہ۔

دھیروے سے - (۱) آہستہ سے۔ دہلی آواز سے۔

دھیلا - (دھ - لا) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آدھا پیسہ۔

دھیلا دھری - (۱ - مٹ) قلیل رقم۔

دھیلاؤ - (دھ - لا) (۱) (۱) (۱) صفت ڈھلان۔ نشیب۔

دھیلا - (دھ - لی) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) اٹھتی۔

دھیما - (دھ - ما) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آہستہ آہستہ۔ تاخیر (۲) حلیم۔ شرافت۔

دھیما بازار - (۱ - مٹ) (۱) مندر بازار (۲) ایسی منڈی جس کے نرخ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہوں۔

دھیما بڑھانا - (۱ - محاورہ) کم ہو جانا۔

دھیما کرنا - (۱ - محاورہ) (۱) گھٹانا۔ نرم کرنا (۲) ہفتہ ٹھنڈا کرنا۔

دھیرو - (دھی - مر) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) ہندو کہاروں کی ایک ذات (۲) ماہی گیر (۳) کالا آدمی۔

دھیرو دھوکڑ - (دھ - ص) (۱) موٹا اور سست (۲) بے فکر۔ خود رائے۔

دھیرو دھوکڑ اللہ میاں کے نوکر - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) آزاد اور خود ستر کی نسبت لیتے ہیں۔

دھیرو دھوکڑی - (دہ - ۱ - مٹ) (۱) زبردستی۔ خود ستری۔

دھیرونگ - (دھ - نگ) (دہ - ۱ - مٹ) (۱) موٹا تازہ آدمی (۲) بد ماسح۔ عورت کا آشنا۔ مستنڈا۔

دیانت - (دی-یا-نت) (ع-ا-مٹ) (۱) ایمانداری - راستی (۲) امانت -  
 دیانتدار - (ع-ف-ص) ایماندار - راستباز -  
 دیانتداری - (ف-ن-ا-مٹ) ایمانداری - راستی -  
 دیادنت - (دی-یا-ذنت) (و-ص) رحمدل - مہربان -  
 دیسا - (دی-با-ف) (۱) مذ [ ایک قسم کا دشمنی کپڑا -  
 دیباجر - دیباچہ - (دی-با-جر) (ع-ا-مٹ) (۱) کتاب کا مقدمہ -  
 پیش لفظ - ہمد (۲) آراستہ -  
 دیسی - (و-ا-مٹ) مگھ - رانی - دیوی -  
 دیپ - (و-ا-مٹ) (۱) چراغ - روشنی - چمک (۲) چھوٹی دیوالی (۳) ایک  
 راگ - دیپک -

دیپ مالا - (و-ا-مٹ) چراغوں کی قطار - چراغاں -  
 دیپک - (دی-پ-ک) (س-ا-مٹ) (۱) روشنی - چراغ (۲) ایک قسم کی آتش  
 بازی (۳) ایک قسم کا راگ کہتے ہیں اس کی تاثیر سے آگ لگ جاتی ہے -  
 دینا - (دی-پ-نا) (و-ص) (۱) روشن کرنا (۲) چمکانا -  
 دینت - (دی-نت) (ع-ا-مٹ) (۱) خون بہا (۲) جرمناہ -  
 دیتا بھولے نہ لیتا - (مٹ) (۱) معاملہ صاف اور سیدھا ہے -  
 دسے چمکانا - (دسے-پ-مگ-نا) (و-ص) (۱) اُدھر سے نیچے گرانا -  
 دیج کور - (دی-جور) (ف-ص) (۱) سیاہ - تاریک (۲) اماؤس کی رات -  
 (۳) سیاہ چیز - سیاہی -  
 دیدر - (ف-ا-مٹ) (۱) نگاہ - نظر (ص) دیکھا ہوا - مرکبات میں استعمال  
 ہوتا ہے جیسے چشم دید -

دید باز - (ف-ص) دیکھنے والا - تاک جھانک کرنے والا -  
 دید بازی - (ف-ا-مٹ) آنکھیں لڑانا - تاک جھانک کرنا -  
 دید بان - (و-مٹ) (۱) سوراخ جس میں سے تاک کرتا نہ باندھتے ہیں -  
 دید بانی - (ف-ا-مٹ) (۱) محفلت - بچھاؤ -  
 دید خواہ - (ف-ص) (۱) ملاقات کا خواہش مند -  
 دید شنید - (ف-ص) (۱) جان پہچان - واقفیت -  
 دید نہ شنید - (ف-ص) (۱) دیکھی نہ سنی - عجیب - اڑکھا - نادر - نایاب -  
 دید و باز دید - (ف-ا-مٹ) (۱) آمد و رفت رکھنا - ایک دوسرے سے  
 ملنے کے لیے جانا -

دیدار - (دی-دار) (ف-ا-مٹ) (۱) جلوہ - درشن - نظارہ - صورت - چہرہ -  
 دیدار بازی - (ف-ا-مٹ) (۱) نظر بازی - تاک جھانک -  
 دیدار بانا - (۱) محاورہ) محبوب کی صورت دیکھنا -  
 دیدار دکھانا - (۱) محاورہ) صورت دکھانا - محبوب کا آنا -  
 دیدار کا بھوکا ہونا - (۱) محاورہ) محبوب کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جانا  
 دیدار کرنا - (۱) محاورہ) محبوب کی صورت دیکھ جانا -  
 دیدار ہونا - (۱) محاورہ) محبوب سے اتفاقاً ملاقات ہو جانا یا اُسے  
 دیکھ جانا -

دیدارو - (دی-ارو) (و-ا-مٹ) (۱) ڈر - ڈر (ص) (۱) شکل - وچہرہ -  
 دیدنی - (دید-نی) (ف-ن-ص) (۱) دیکھنے کے قابل (۲) دیکھا ہوا -

دھینکا دھانگی - (و-ا-مٹ) دست درازی - جھوٹا کھیل - ہاتھ پائی -  
 دھینکا گشتی - (و-ا-مٹ) ہاتھ پائی - دست درازی - دنگنا -  
 دھینور - (دھیں - زور) (و-ا-مٹ) پھیلا - ایک ذات -  
 دھیوت - (دھے - وک) (و-ا-مٹ) سات مڑوں میں سے ایک کا نام

## د - د

دُئی - (د-ای) (و-ا-مٹ) (۱) خدا - جھگوان (۲) دیوتا - پیغمبر -  
 دُئی مارا - (۱) اللہ مارا (۲) بد قسمت -

## د - دی

دی - (ف-ن-ا-مٹ) گڈا ہوا گل -  
 دیروز - (ف-ن-ا-مٹ) گڈا ہوا گل -  
 دیروزہ - (ف-ص) گڈے ہوئے گل سے متعلق - گذشتہ -  
 دیشب - (ف-ن-ا-مٹ) گڈے ہوئے گل کی رات -  
 دے - (ف-ن-ا-مٹ) (۱) شش سال کا دسواں مہینہ - ماگھ -  
 دیا - (و-ا-مٹ) (۱) بخشش - عطا (۲) ہمد دی - رحمدلی - مہربانی -  
 دیا کرنا - (۱) محاورہ) مہربانی کرنا - عطا کرنا -  
 دیا دیوا - (و-ا-مٹ) (۱) چراغ (۲) دینا کا ماضی مطلق - دیا ہوا -  
 دیا پتی کرنا - (۱) محاورہ) چراغ جلانا - چراغ روشن کرنا -  
 دیا سلائی - (۱) (مٹ) (۱) چراغ جلانے کی تیلی - جس میں مسالا لگا ہوتا  
 ہے (۲) وہ عورت جو لڑائی کی آگ لگاتی پھرے -  
 دیا کھانا - (۱) محاورہ) کسی کی امداد پر سہ اوقات کرنا کسی کا محتاج ہونا -  
 دیا لیا - خدا کی راہ پر دیا ہوا - بھلائی - نیک سلوک -  
 دیا لیا اڑے آنا - (۱) محاورہ) خیر خیرات کی وجہ سے کسی مصیبت  
 سے بچ جانا -  
 دیے کا چراغ نہیں بڑھتا - (۱) محاورہ) سعادت کی یادگار کبھی نہیں مٹتی -  
 دیے کی روشنی عشرتک - (۱) مٹل) خیرات اور بخشش کرنے والے  
 کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے -

دیوار - (دی-یار) (ع-ا-مٹ) شہر - علاقہ - ملک -  
 دیوار - (دی-یار) (و-ا-مٹ) (۱) دیوار برآمد - وہ زمین جو دریا کے مٹ جانا  
 سے نکل آئے -  
 دیا قوزہ - (دی-یا-قوزہ) (و-ا-مٹ) (۱) ایک مرکب دوا (۲)  
 خشک شش کا شربت -

دیوال - (دی-وال) (و-ص) (۱) رحمدل - مہربان -  
 دیوالو - (دی-وا-لو) (و-ص) (۱) سخی - ہمدرد - فیاض -  
 دیوانا - (دی-وا-نا) (و-ص) (۱) روشن کرنا -



دیدوں سے کاجل چرانا۔ (۱- محاورہ) صفائی سے چوری کرنا۔  
 دیدوں میں چربی چھانا۔ (۱- محاورہ) اہمیت نظر نہ آنا۔ بُرائی  
 بھلائی نہ سونھنا۔  
 دیدوں کی صفائی۔ (۱- محاورہ) لے شرمی۔ بے حیائی۔  
 دیدوں کی قسم۔ (۱- معنی) آنکھوں کی قسم۔  
 دیدوں میں سرمسوں پھولنا۔ (۱- محاورہ) گھبراہٹ میں کچھ نظر نہ آنا۔  
 دیدہ۔ (دی-دہ) ذن (۱- مذ) (۱) آنکھ چشم (۲) دیری بے باکی۔ جرأت۔  
 دیدہ بڑا ہے۔ (۱- محاورہ) بہت ڈھیٹ ہے۔  
 دیدہ بیٹا۔ (ف-۱- مذ) گرائی تک دیکھنے والی آنکھ۔ دیکھے چشم بیٹا۔  
 دیدہ پیچھ جانا۔ (۱- محاورہ) آنکھ کا مناع ہوجانا۔ بصارت جاتی رہنا۔  
 دیدہ پیشا ہونا۔ (۱- محاورہ) گستاخ ہونا۔ بے باک ہونا۔  
 دیدہ بھٹ جانا۔ (۱- محاورہ) حیرت سے آنکھیں کھلی رہ جانا۔  
 دیدہ بھٹی۔ (۱- معنی) بڑی بڑی اور بے رس آنکھوں والی۔  
 دیدہ درائی۔ (ف-۱- معنی) دیری۔ لے باکی۔ لے لہجی۔  
 دیدہ جوہر۔ (ف-۱- مذ) وہ سلتے جو تلوار کی آب میں نظر آتے ہیں۔  
 دیدہ دل۔ (ف-۱- مذ) دل کی آنکھ۔ باطنی آنکھ۔  
 دیدہ دلیر۔ بے باک۔ بے حیا۔  
 دیدہ دلیری۔ (ف-۱- معنی) بے باکی بے حیائی۔  
 دیدہ دلیل۔ (ف-۱- معنی) (۱) بے حیا۔ نڈر۔ بے باک (۲) دلیر۔  
 دیدہ دلیل۔ (ف-۱- معنی) بے باکی۔ دلیری۔  
 دیدہ دھوئی۔ (ف-۱- معنی) بے حیا عورت۔ بے غیرت۔  
 دیدہ ریزی۔ مینا کاری۔ باریک کام جس میں آنکھوں پر زور ڈالنا پڑے۔  
 دیدہ وا ہونا۔ (۱- محاورہ) آنکھ کھلی ہونا۔  
 دیدہ نہ چھٹنا۔ (۱- محاورہ) دل نہ لگانا۔  
 دیدہ نہ لگانا۔ (۱- محاورہ) توجہ نہ کرنا۔ دل نہ لگانا۔  
 دیدہ و دانستہ۔ (ف) جان بوجھ کر۔  
 دیدہ و دل فرس کرنا۔ (۱- محاورہ) تواضع کرنا۔ بہت آؤ بھگت کرنا۔  
 دیدہ و۔ (ف-۱- معنی) دانہ۔ جوش مند۔ صاحب نظر۔  
 دیدہ وری۔ (ف-۱- معنی) (۱) دانائی۔ عقلمندی۔  
 دیدہ ہوائی ہونا۔ (۱- محاورہ) بے باک اور چالاک ہونا۔  
 دیدے اُلٹ جانا۔ (۱- محاورہ) نزع کی کیفیت طاری ہونا۔  
 دیدے بدلنا۔ (۱- محاورہ) بے مروتی کرنا۔ بے نرمی اختیار کرنا۔  
 دیدے بھر آنا۔ (۱- محاورہ) آنکھوں میں آنسو آنا۔  
 دیدے پتھر اچھانا (چشم ہونا)۔ (۱- محاورہ) آنکھوں کی روشنی جاتی رہنا۔  
 اندھا ہوجانا۔  
 دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔ (۱- محاورہ) گھوٹنا۔ غور سے دیکھنا۔  
 دیدے پھرانا۔ (۱- محاورہ) لحاظ نہ کرنا۔ بے مروت ہونا۔  
 دیدے پھوڑنا۔ (۱- محاورہ) دیدہ ریزی کرنا۔ باریک کام محنت سے کرنا۔  
 دیدے تلوں سے کلنا۔ (۱- محاورہ) کمال درجہ خوشامد کرنا۔  
 دیدے چار ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) جوشیا اور چالاک ہونا (۲) ملاقات ہونا۔

دیدے چکانا۔ (۱- محاورہ) ناز و ادا سے آنکھوں کو گردش دینا دیدے شکانا۔  
 دیدے دکھانا۔ (۱- محاورہ) آنکھیں دکھانا۔ غصے کا اظہار کرنا۔  
 دیدے سفید ہونا۔ (۱- محاورہ) اندھا ہوجانا۔  
 دیدے کا بانی ٹھیل جانا۔ (۱- محاورہ) بے حیا اور بے غیرت ہوجانا۔  
 دیدے شکا تپا۔ چشم و ابرو کے اشاروں سے باتیں کرنا۔  
 دیدے نکالنا۔ (۱- محاورہ) ختم کیں ننگا ہوں سے دیکھنا۔ آنکھوں ہی  
 آنکھوں میں ننگی کا اظہار کرنا۔  
 دیدے نیلے نیلے کرنا۔ (۱- محاورہ) دیکھے دیدے نکالنا۔  
 دیدے دھوینا۔ (۱- معنی) بے لحاظ۔ مروت۔  
 دے دے ٹنگنا۔ دے دے مارنا۔ (۱- معنی) کسی چیز کو متواتر کرنا۔  
 دے ڈالنا۔ (دے۔ ڈال۔ نا) (۱- معنی) دے دینا بخش دینا۔ عطا کرنا۔  
 ڈیر۔ (ف-۱- مذ) مندر۔ جت خانہ۔  
 ڈیر کھن۔ (۱- معنی) مکافات۔ (دکائی) دنیا۔  
 ڈیر۔ (ف-۱- معنی) قطر۔ عرصہ۔ مدت۔  
 ڈیرا شتا۔ (۱- معنی) مدت کے بعد بے تکلف ہونے والا شخص۔  
 ڈیر آید دُرست آید۔ (ف-۱- معنی) جو کام آہستہ آہستہ اور سہولت سے ہو رہا  
 اچھا اور دُرست ہوتا ہے۔  
 ڈیر پیا۔ (ف-۱- معنی) پائیدار۔ مضبوط۔  
 ڈیر سویر۔ (۱- معنی) وقفہ۔ ڈیر۔  
 ڈیر کرنا (لگانا)۔ (۱- محاورہ) تاخیر کرنا۔ ڈھیل ڈالنا۔  
 ڈیر ہونا۔ (۱- معنی) وقت زیادہ لگ جانا۔ مقررہ وقت سے زیادہ عرصہ ہوجانا۔  
 ڈیرا۔ (دے۔ را) (۱- مذ) (۱) خیمہ۔ رہنے کی جگہ۔ مکان (۲) مکان سے بلا ہوا  
 چھوٹا مکان جہاں جہاں وغیرہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ڈیرا۔  
 ڈیرا نہ۔ (دے۔ را۔ نہ) (ف-۱- معنی) ڈیر کے بعد عاید ہونے والی نیس۔  
 ڈیر ری۔ (دے۔ ری) (۱- معنی) (۱) تاخیر۔ توقف۔ در۔  
 ڈیر سینہ۔ (دے۔ ری۔ نہ) (ف-۱- معنی) قدیم۔ بڑانا۔ بزرگ۔ بڑا حصہ۔ تجربہ کار۔  
 ڈیر گڑھ۔ (دے۔ گڑھ) (ف-۱- معنی) بڑا پیٹ۔ عمل۔  
 ڈیر۔ (ف-۱- معنی) (۱) بھینر۔  
 دیس۔ (۱- مذ) (۱) ملک۔ وطن۔ علاقہ (۲) ایک راگ کا نام جو نصف  
 شب کے وقت گایا جاتا ہے۔  
 دیس انتر۔ دیس نکالا۔ جلا وطنی (ف)۔  
 دیس بدلیس پھرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سیر دیساحت کرنا (۲) مارا مارا پھرنا۔  
 دیس بھاشا۔ (۱- معنی) اپنے وطن کی زبان۔  
 دیس بھائی۔ (۱- معنی) ہم وطن۔ اپنے ملک کا رہنے والا۔  
 دیس چوری پر دیس بھکشا۔ (۱- معنی) اپنے وطن اور جان پہچان  
 والوں میں وضع اور وقار قائم رکھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی خاطر  
 لوگ چوری تک کرنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں، لیکن پرانے ملک میں  
 جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا بھیک تک مانگنے میں عار نہیں ہوتی۔  
 دیس نکالا۔ (۱- محاورہ) جلا وطن کر دینا۔  
 دیسا۔ (دے۔ سا) (۱- مذ) مُردے کی سال بسال یادگار۔ بڑی۔

دیکھتی آنکھوں سمجھتی نہیں رنگی جاتی۔ (۱۔ مثل) جان بوجھ کر نقصان نہیں اٹھایا جاتا۔

دیکھتے جاؤ۔ (مکمل تہیہ) آگاہ رہو۔ خیال رکھو۔

دیکھتے دیکھتے۔ (۱) بہت جلد۔ فوراً (۲) آنکھوں کے سامنے بوجھگی میں (۳) لگاتار دیکھنے کی وجہ سے۔

دیکھتے رہ جانا۔ (۱) عمارت، حیران رہ جانا۔ ہلکا بھکا رہ جانا۔

دیکھتے کا دیکھتا رہ جانا۔ (۱) عمارت، حیرت میں رہ جانا۔ دیکھتے ہی۔ (۱) فوراً۔ نظر ڈالتے ہی۔

دیکھنا۔ (دیکھنا، دیکھنا) (۱) مس (۲) نظر ڈالنا۔ نگاہ کرنا۔ خیال رکھنا۔ غور کرنا۔ سوچنا سمجھنا (۳) دھونڈنا (۴) آزمائنا۔ جانچنا (۵) لحاظ کرنا (۶) معائنہ کرنا۔

(۷) خبردار ہونا۔ ہوشیار ہونا (۸) بدلہ لینا۔

دیکھنا بھالنا۔ (۱) عمارت، غور کر کے دیکھنا۔ تلاش کرنا۔

دیکھنے کو۔ (۱) برائے نام۔ بہت کم۔

دیکھنے کو نہیں۔ کم یاب۔ نایاب۔

دیکھنے کی۔ (۱) معنی، فائنٹی۔ مصنوعی۔ بیکار۔

دیکھنے میں آنا۔ (۱) معنی، تجربہ ہونا۔ ظاہر ہونا۔

دیکھنے والا۔ (۱) معنی، صحبت یا فتنہ۔ فیض یافتہ۔ ہم عصر معتقد۔

دیکھو دیکھو۔ (۱) کلمہ نما، خبردار ہو۔ ہوشیار رہو۔

دیکھیں۔ (۱) آزمائنا یا تجربہ کرنے کی جگہ کہتے ہیں۔

دیکھے۔ (دے۔ بکھ۔ بے) (۱) شاید۔ خدا جانے۔ واللہ اعلم (۲)

دیکھنا چاہئے۔

دیکھے اوتھ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ (مثل) خدا جانے

تہیہ کیا ہو۔

دیکھنے شیر کی نظر کھلائے سونے کا نوالہ۔ (مثل) اولاد کے متعلق

کہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کھلیں، اگر اپنے زیر اثر اور رعب

کے نیچے رکھیں۔

دیکھنے قسمت میں کیا بدا ہے۔ (مثل) اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔

دیکھتے یہ کلی کہاں کرتی ہے۔ (مثل) خدا جانے یہ مصیبت کس پر

پڑتی ہے۔

دیکھے۔ (۱) نظر آنا (۲) امر، سامنے آ کے نظر آئے۔

دیکھیں۔ (۱) آزمائیں۔ تجربہ کریں۔

دیگ۔ (د)۔ (مثل) اٹھانے پکانے کا بہت بڑا برتن۔ (د)۔ (مثل) بڑی مقدار میں سے

پکا پکایا بھی بہت ہوتا ہے۔

دیگ میں سے ایک ہی چاول دیکھتے ہیں۔ (مثل) دیگ میں سے

ایک ہی دانہ ٹوٹتے ہیں۔ (مثل) ایک سے سب کی جانچ

ہو جاتی ہے۔

دیگیں کھنکنا۔ (۱) عمارت، دیگیں پکنا۔ دیگوں میں پچھ چلنے کی آواز۔

دیگ کب۔ (۱) مذ، وہ کبڑا جس سے دیگ اٹھاتے ہیں۔

دیگ پچ۔ (دیگ پچ) (د)۔ (مثل) دیگ سے چھوٹا پکانے کا برتن۔ پتلا۔

دیسی۔ (دے۔ سی) (د)۔ (معنی) دیس سے متعلقہ۔ وطنی۔ وطن کی بنی ہوئی اپنے ملک کی شے۔

دیخ۔ (د)۔ (مثل) دیگ۔ پکانے کا بڑا برتن۔

دیگ۔ (د)۔ (مثل) دیگ۔ دے کر۔ دے کے۔

دیگھ۔ (د)۔ (معنی) فریاد دوس۔

دیگھ۔ (۱) دیکھنا کا امر۔ کلمہ تاکید و تہیہ۔ مخاطب کو کسی امر کی طرف متوجہ

کرنے، خبردار کرنے اور دھمکانے کے لیے کہتے ہیں۔

دیگھ بھال۔ (د)۔ (مثل) (د) نگرانی۔ بغور دیکھنا (۲) تلاش۔

دیگھ بھال کرنا۔ (۱) عمارت، نگرانی کرنا۔

دیگھ بھال لینا۔ (۱) عمارت، اچھی طرح دیکھ لینا۔ غور کرنا۔

دیگھ پانا۔ (د)۔ (معنی) دیکھ لینا۔ اچانک نظر پڑنا۔

دیگھ دکھ۔ (۱) دیکھ کر۔

دیگھ دیکھ۔ (مکمل تہیہ) کیا کرتا ہے۔ ہوش میں آ۔

دیگھ ڈالنا۔ (د)۔ (معنی) پڑھ کر ختم کر دینا۔ پڑھ لینا۔

دیگھ کر مینا۔ (۱) عمارت، بہت محنت کرنا کسی کے دیدار کو اپنی زندگی بنالینا

دیکھ کیسا علاج کرتا ہوں۔ (۱) عمارت، قرار واقعی سزا دینے کی جگہ کہتے ہیں

دیکھ لینا۔ (۱) عمارت، آزمائنا۔ دیکھنا۔ سمجھنا۔

دیگھا۔ (دے۔ بکھا) (د)۔ (۱) یہ دیکھ لیا کسی کو کسی بات سے منع کیا جائے اور وہ

اسے کسے تو برا نتیجہ سنبھلے پڑتے ہیں (۲) دیکھنا کی ماضی (۳) آزمایا ہوا۔

دیگھا آؤ نہ دیکھا تاؤ۔ (۱) عمارت، موقع عمل نہیں دیکھا۔

دیگھا بھالا۔ (۱) معنی، آزمودہ۔ جانا پہچانا۔ تجربہ کیا ہوا۔

دیگھا بھالی۔ (۱) (مثل) تلاش۔ جستجو۔ کسی چیز کو غور سے دیکھنا۔

دیگھا جائے گا۔ (۱) عمارت، (۲) پھر غور کیا جائے گا (۳) بدلہ لیا جائے

گا۔ خیال رہے گا (۴) کوئی پروا نہیں۔

دیگھا چاہئے۔ (۱) عمارت، (۲) امید نہیں دیکھیے شاید۔ دیدہ باید (۳)

قابل تعریف۔ سراہنے کے قابل۔ قابل دید۔

دیگھا دیکھی۔ (۱) ایک دوسرے کی ریس کے کوئی کام کرنے لگنا۔

دیگھا کرنا۔ (۱) عمارت، لگاتار دیکھنا۔ دیکھنے کی عادت ہونا۔

دیگھا کرے۔ (مکمل تہیہ) ہر وقت دیکھتا رہے کسی چیز کی تعریف میں کہا

جاتا ہے۔

دیگھانہ بھالا۔ (۱) معنی، دیدہ شنید۔ جان نہ پہچان۔

دیگھانہ بھالا صدتے کی خالہ۔ (مثل) خواہ خواہ واقفیت جتنا۔

اور خوشاد کرنا۔

دیگھانہ نشا۔ (۱) معنی، لاتانی عجیب۔ بے نظیر۔ اٹکھا۔ دیدہ شنید۔

دیگھا تہیں جاتا۔ (۱) عمارت، برناشت نہیں ہوتا۔ دیکھ کر رنج ہوتا ہے۔

دیگھا ہوا۔ (۱) معنی، آزمایا ہوا۔ نظر آیا ہوا۔

دیگھا ہے۔ (۱) عمارت، دیکھ لیا ہے۔ تہیہ کے طور پر۔

دیگھتا کیا ہے۔ (۱) عمارت، (د) کیا تاہل ہے۔ کیا سوچ رہا ہے۔

دیگھتے دیکھتے۔ (د) آنکھوں کے سامنے۔ آن کی آن میں۔ آنا فنا۔

دیگھتے رہ جانا۔ (د)۔ (معنی) حیران رہ جانا۔ ہلکا بھکا رہ جانا۔

دیگی - (دیگ پی) (ف - ۱-۱) پکانے کا چھوٹا برتن - پتیلی۔

دیگردان - (دیگ دان) (ف - ۱-۱) چولہا۔

دیگر - (دی گر) (ف - ۱-۱) دوسرا (۲) اور (۳) بعد دوپہر کا

وقت۔ عصر۔

دیگر بخودمتاز کرتی تمام شدہ۔ (ف - ۱-۱) اب اتارنے سے کیا

فائدہ وقت گزر چکا ہے۔

دیگ - (دی نگ) (ف - ۱-۱) چیتھی کی شکل کا سفید کپڑا جو لکڑی

کتابوں وغیرہ کو لکھا جاتا ہے (۲) سیونگ۔

دیگ کا کیا (خورده) - (۱) جسے دیگ نے چاٹ لیا ہو (۲)

چھیک دار چہرہ۔

دیگ کے سے دانست - (۱) مثل تیز دانست۔

دیگ لگنا - (۱) عمارت (۲) کسی چیز میں دیگ کا داخل ہونا (۲) گھن

لگنا (۳) کوئی خرابی شروع ہونا (۴) محنت میں فتور پڑنا۔

دین - (۱) مذہب - مسک - دھرم - ایمان - جمع : ادیان۔

دین پناہ - دین کا حامی - وہ عالم جو دین کا معاون دماغ نظر ہو۔

دین حنیفی - (۱) حضرت ابراہیم کا دین - دین اسلام۔

دین دار - (۱) مذہب کا پابند - متقی - پرہیزگار - پابند شریعت۔

دین داری - (۱) مذہب کا پابند کی پابندی - پرہیزگاری

شریعت کی پابندی۔

دین دینا - (۱) مثل دونوں جہان - دُنیا اور عاقبت -

دین دینا سے جانا - (۱) عمارت - دونوں جہان کے فائدے سے

محروم ہونا (۲) کسی کام کا نہ رہنا۔

دین دنیا کی تہمت نہیں - بالکل لاپرواہ ہے - بے ہوش ہے۔

دین دین پیکارنا - (۱) عمارت - مذہب کے نام پر اعلان جنگ کرنا۔

دین کا دعویٰ کرنا۔

دین کا جھنڈا - مذہبی جھنڈا - مذہب کی عظمت۔

دین کا نہ دینا کا - (۱) عمارت - کسی کام کا نہیں - نکتا۔

دین - (۱) مثل (۲) بخشش - عطیہ - احسان (۲) دینا۔

دین - (۱) مثل قرض - ادھار - جمع : دیون۔

دینا - (۱) مثل (۲) بخشا - عطا کرنا - سونپنا (۳) بیچنا (۳)

مقرر کرنا - پیش کرنا (۲) جتنا - پتے تک لگانا (۳) ادا کرنا - بیباق کرنا۔

(۲) بھرنا - تاوان دینا (۳) مارنا۔

دینا بھلا نہ باپ کا، بیٹی بھلی نہ ایک - (۱) مثل قرض اور بیٹی

اچھے نہیں ہوتے۔

دینا نہ لگنا - (۱) مثل مفت میں - ناحق - بے فائدہ۔

دینے کے ہزاروں لگا نہیں - (۱) مثل خدا ہزاروں جیلوں سے دیتا ہے

دینار - (دی نار) (۱) مذہب میں سونے کا ایک ٹکڑا جو تقریباً

تین روپے کے برابر ہوتا ہے (۲) ایک دوکان نام (۳) ۱/۲ درہم

کے برابر ایک وزن (۴) کسی کی بڑھتی ہوئی شکل ڈال رہے۔

دینار سُرخ - (۱) مثل (۲) سُرخ - سونے کا ٹکڑا۔

دینی - (دی نی) (ف - ۱-۱) مذہبی - دین سے تعلق رکھنے والا۔

دینی باپ - (۱) مذہب سے تعلق رکھنے والے باپ۔

دقت مذہبی لحاظ سے باپ بنائیں - پادری - روحانی باپ۔

دینی بھائی - (۱) مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائی۔

دینیات - (دی نی) (۱) مثل (۲) دین کے متعلق - مذہب

سے تعلق رکھنے والی باتیں - مذہبی علم۔

دیو - (۱) مذہب (۲) مثل (۳) قوی ہیکل۔

(۳) پہلوان - جمع : دیوان۔

دیو پیکر - (۱) مذہب (۲) مثل (۳) دیو کا ساہم رکھنے والا۔

دیو دار - (۱) مذہب (۲) مثل (۳) دیو کا ساہم رکھنے والا۔

دیو زادہ - (۱) مثل (۲) دیو کا بیٹا - بلند قامت - پہلوان۔

دیو زدہ - (۱) مثل (۲) آسیب زدہ - جس پر بھوت کا سایہ ہو۔

دیو سار - (۱) مثل (۲) دیو کی مانند - قوی ہیکل - بلند قامت۔

دیو - (۱) مذہب (۲) مثل (۳) قابل پرستش۔

دیو بانی - دیوتاؤں کی زبان - مقدس زبان - سنسکرت۔

دیو داسی - مندر میں رہنے والی کنواری بچکان۔

دیو مالہ - (۱) مثل (۲) دیوتاؤں کے قصے - خیالی کہانیاں - علم الاقسام۔

دیو ناگری - (۱) مثل (۲) سنسکرت رسم الخط۔

دیو - (۱) مثل (۲) دیو - (۱) مثل (۲) پیراج۔

دیوار - (دی وار) (۱) مثل (۲) اوٹ - پرودہ - پختہ پردہ - مکان

یا چار دیواری کا ایک پہلو (۲) حد - رکاوٹ۔

دیوار اٹھانا - (۱) عمارت - اینٹ - پتھر - مٹی وغیرہ سے دیوار کھڑی

کرنا (۲) مثل (۳) کناٹہ میٹر (۴) اٹھانے کا پان۔

دیوار بن جانا - (۱) دیوار تیار ہو جانا (۲) بے حس و حرکت ہو جانا۔

دیوار بہ دیوار - (۱) مثل (۲) متصل - قریب - ملا ہوا۔

دیوار بیچ - (۱) مثل (۲) بہت قریب۔

دیوار چٹنا - (۱) مثل (۲) دیوار بنانا۔

دیوار چین - ملک چین کی مشہور دیوار جو شمال میں واقع ہے۔

دیوار تھنے لٹنا - (۱) عمارت - اکیلے - بیٹھے شور مچانا - تہنائی میں خفا ہونا۔

دیوار تھمنا - (۱) مثل (۲) ایک روایتی دیوار جس کے متعلق کہتے ہیں۔

جو اس کے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھے بے اختیار سینے لگتا ہے۔

دیوار کھل جانا - (۱) عمارت - دیوار میں آپ ہی آپ شگاف ہو جانا۔

دیوار کھینچنا - (۱) عمارت - (۲) حد بندی کرنا - پردہ یا علیحدگی کے لیے دو نظروں

کے درمیان دیوار بنا دینا (۲) حاصل ہونا - جدا کرنا۔

دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں - (۱) مثل (۲) راز کی بات اکیلے میں بھی

آہستہ آہستہ چاہیے - شاید کوئی دیوار کے پار سن رہا ہو۔

دیوار گیری - (۱) دیوار میں لگانے کا ایسپ (۲) خوشنما کے لیے

دیوار پر لگانے کا کپڑا۔

دیوار میں جینا جانا - (۱) عمارت - پڑانے زمانے کی ایک سزا جس میں

مجرم کو زندہ دیوار میں پھنسا دیا جاتا تھا۔



ط  
د

ڈ ڈال - ۵۔ مٹ [ اردو کا بارھواں اور ہندی کا تیرھواں حرف - اجد کے حساب میں بٹکے تحت اس کے چار عدد مقرر ہیں۔ زبان کی نوک تانوسے لگ کر اس آواز کو ادا کرتی ہے یہ حرف عربی اور فارسی میں نہیں ہے۔

ط  
د

جاتا ہے۔  
ڈاڑھی سپٹ میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کم سنی میں عقلمند ہونا چھوٹی عمر میں بڑوں جیسی باتیں کرنا۔  
ڈاڑھی پیشاب سے منسڈ وانا۔ (۱۔ محاورہ) ذلت اٹھانا۔ ذیل ہونا بے عزت ہونا یا کرنا۔ بطور شرط بھی آتا ہے۔  
ڈاڑھی چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈاڑھی بڑھانا۔ لمبی ڈاڑھی رکھنا۔  
ڈاڑھی خدا کا ٹوٹے۔ (۱۔ مقولہ) ڈاڑھی کی تعریف میں کہا جاتا ہے۔  
ڈاڑھی دھوپ میں سفید کرنا۔ (۱۔ محاورہ) نا تجربہ کاریا کم متعل ہونا۔  
ڈاڑھی رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈاڑھی منڈوانا ترک کر دینا۔  
ڈاڑھی رنگنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈاڑھی کو ہندی یا خضاب سے سرخ یا سیاہ کرنا۔  
ڈاڑھی کا ایک ایک پال کرنا۔ ڈاڑھی نونچا۔ بے عزتی کرنا۔  
ڈاڑھی نونچا۔ (۱۔ محاورہ) بے عزتی کرنا۔  
ڈاک - ۵۔ (۱۔ مٹ) چھٹی رسائی کا محکمہ۔ پش (۲) سواری بدلنے کے مقامات (۳) خبر رسائی کا سلسلہ (۴) گھوڑے یا پاکی وغیرہ کی چوکی (۵) لگاتار سلسلہ (۶) تے۔ اٹھی۔  
ڈاک آنا۔ (۱۔ محاورہ) خطوط آنا۔ متواتر خبر ملنا۔  
ڈاک بٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) چوکی بٹھانا۔ ہر کاروں کی بند آمد و رفت کا جاری رہنا۔ تقاضے پر تقاضے کرنا۔  
ڈاک منگولہ۔ (۱۔ مذ) سرکاری افسروں کے بٹھرنے کی جگہ۔  
ڈاک بولنا۔ (۱۔ محاورہ) نیلام کی بولی دینا۔  
ڈاک جوکی۔ (۱۔ مٹ) وہ جگہ جہاں ہر کارہ گھوڑا بدلے۔  
ڈاک چخانہ۔ (۱۔ ف۔ مذ) پوسٹ آفس۔ ڈاک گھر جہاں ڈاک کی آمد و رفت کا انتظام کیا جاتا ہے۔  
ڈاک کاٹھکٹ۔ (۱۔ مذ) وہ سرکاری مہر شدہ کاغذ کا پڑھ جو ڈاک کا حصول ادا کرنے کے لیے چھٹیوں پر لگایا جاتا ہے۔  
ڈاک گاڑی۔ (۱۔ مٹ) وہ گاڑی جس میں ڈاک جاتی ہے۔ سیل گاڑی تیز رو گاڑی۔  
ڈاک لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) خلوں اور خبروں کا متواتر آنا (۲) بار بار تے آنا (۳) ڈاک کا حصول۔ (۱۔ مذ) ڈاک کا حصول۔ ڈاک کے ٹکٹ۔ ڈاک کا خرچ۔  
ڈاک والا۔ (۱۔ مذ) پوسٹ مین۔ چھٹی رساں۔ قاصد۔ ہر کارہ۔ ڈاکیا۔  
ڈاک۔ (Dock) (۱۔ مذ) گودی۔ بندر۔  
ڈاک یارڈ۔ (Dockyard) بندرگاہ کے قریب کھلی جگہ جہاں جہاز کھڑے رہتے اور ان کی مرمت وغیرہ ہوتی ہے۔

ڈا۔ (۱۔ مٹ) ستار کی گت کا ایک توڑا۔  
ڈاب۔ (۱۔ مٹ) (۱) ایک قسم کی لمبی گھاس جس کا بان بٹا جاتا ہے۔ پتلا (۲) کچا تاریل (۳) کر بند۔  
ڈا بر۔ (ڈا۔ بر) (۱۔ مٹ) (۱) چھوٹی سی جھیل (۲) جوہڑ (۳) تالاب (۴) نشیب جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے (۵) لٹھ دھونے کا برتن۔ سلجی۔  
ڈا بک۔ (ڈا۔ بک) (۱۔ مٹ) کنویں کا تازہ پانی (۲) خوف۔ ڈر۔  
ڈاٹ۔ (۱۔ مٹ) (۱) سوراخ بند کرنے کی چیز۔ کاک (۲) محراب دار پختہ دروازہ (۳) میخ۔ کیل (۴) محراب کے درمیان کا پتھر (۵) لداؤ کی روک (۶) محراب (۷) نجوم۔ گہرا۔ سمت۔ گھنا (رق)  
ڈاٹ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) روکنا۔ بند کرنا (۲) محراب بنانا۔ لداؤ کی چھت کے نیچے عارضی دیوار یا ستون بنانا۔  
ڈاٹنا۔ (ڈا۔ ٹ۔ نا) (۱۔ مٹ) (۱) ڈاٹ لگانا۔ بند کرنا (۲) کستا۔ خوب بھرتا (۳) گھوڑے کو روکنا۔ لگام کھینٹنا (۴) ڈرانا۔ دھکانا۔  
ڈار۔ (۱۔ مٹ) (۱) پرندوں کا پیرا (۲) جانوروں کا جھنڈ (۳) ہرنوں کی قطار۔  
ڈارلنگ۔ (Darling) (ڈار۔ لنگ) (۱) لنگ۔ صفت۔ پیارا۔ پیاری محبوب۔  
ڈاڑھ۔ (۱۔ مٹ) (۱) جبرے کے موٹے دانت، دانت جن سے غذا چبائی جاتی ہے۔  
ڈاڑھ گرم ہونا۔ ڈاڑھ گرم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ کھانے کو بل جانا۔ رشوت ملنا۔  
ڈاڑھ نہ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) بیزر پائے نکل جانا۔  
ڈاڑھیں مار مار کر روٹنا۔ بلند آواز سے رونا۔  
ڈاڑھا۔ (ڈا۔ ڈھا) (۱۔ مٹ) (۱) لمبی اور بڑی ڈاڑھی (۲) بڑھی ہوئی اینٹیں جو آئندہ بننے والی دیوار کو ساتھ ملانے کے لیے کھلی چھوڑی جاتی ہیں۔ (۳) باہر کو نکلا ہوا دانت (۴) زیادتی۔  
ڈاڑھی۔ (ڈا۔ ڈھی) (۱۔ مٹ) (۱) گھوڑی اور رخساروں کے بال۔ ریش (۲) بڑیاہیل کے درخت کی جٹائیں۔  
ڈاڑھی پھسکا کرنا۔ ڈاڑھی صاف کرنا۔ ڈاڑھی کے بالوں کو ہاتھ سے جھٹکانا۔  
ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی اہم یا بڑے کام پر تیار ہونا مستعد ہونا۔ بعض اوقات کسی پختہ ارادہ کا اظہار کرنے ہونے ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرا





**ڈرائی کلیئین** - (Dryclean) (انگ - مسٹ) پانی کے بغیر کپڑوں کی دھوئی اور دیکھنے سے صاف کرنا۔  
**ڈرائیور** - (Driver) (ڈا - ما - ای - وڈ) (انگ - ا - مذ) گاڑی چلانے والا۔ گاڑی ہانکنے والا۔ گاڑی بان۔ کوچ بان۔  
**ڈربی** - (Derby) (ڈر - بی) (انگ - ا - مسٹ) انگلستان کی سالانہ گھوڑ دوڑ۔  
**ڈریپ لوک** - (ڈریپ لوک) (وہ - صف) بزدل - کم جہمت - بولدا۔  
**ڈرگ** - (Drug) (ڈر - گ) (انگ - ا - مذ) مفرد دوا۔  
**ڈرگسٹ** - (Druggist) (ڈر - گسٹ) (انگ - ا - مذ) دوا فروش دواساز - عطاری۔

**ڈھٹیا رسی** - (ڈھٹ - یا - ری) (وہ - ا - مسٹ) آنکھوں والی عورت - بیٹا (۲) ایک شرم کی سیپلی۔  
**ڈیکٹو** - (Detective) (ڈ - ٹیک - ٹو) (انگ - صف) سڑاخ رسال - جاسوس۔  
**ڈیکٹو پولیس** - خفیہ پولیس۔ پولیس کا محکمہ سڑاخ رسالی۔  
**ڈٹے رہینا** - (ا - محاورہ) جگہ سے نہ ہٹنا - جم کر بیٹھ جانا۔

ط  
د

**ڈرل** - (Drill) (ڈر - ریل) (انگ - ا - مسٹ) فوجی تربیت - قواعد۔  
**ڈرل ماسٹر** - (Drill Master) قواعد سکھانے والا استاد۔  
**ڈرم** - (Drum) (ڈر - ڈم) (انگ - ا - مذ) (۱) ڈھول - ڈھولک - نقارہ (۲) تاشہ (۳) کان کا پردہ (۴) بڑا پیلا۔  
**ڈرنا** - (ڈر - نا) (وہ - مص) خوف کھانا۔ ڈھکی میں آنا۔  
**ڈری** - (ڈر - ری) (وہ - ا - مسٹ) خوف۔ ڈر - خوف کھاٹی ہوئی۔  
**ڈریپر** - (ڈر - پے) (وہ - ا - مذ) عینہ کی بوچھاڑ - بہت زور کی بارش۔  
**ڈریس** - (Dress) (ڈر - ریس) (انگ - ا - مذ) لباس - پوشاک۔  
**ڈریسنگ** - (Dressing) (ڈر - رے - سینگ) (انگ - ا - مسٹ) (۱) آرائشی (۲) مرہم پٹی۔  
**ڈریسنگ ٹیبل** - (Dressing Table) (انگ - مذ) سنگار میز۔  
**ڈریسنگ روم** - (Dressing Room) (انگ - مذ) کپڑے پہننے کا کمرہ۔  
**ڈریسنگ گون** - (Dressing Gown) (انگ - مذ) ایک ڈھیلے ڈھلا پنچہ جو بیچ اٹھ کر یا نہانے کے بعد پہنا جاتا ہے۔  
**ڈریسی** - (ا - مسٹ) روڈی ایک جیسا کہ بھانا (۲) ہنر کے کناروں پر مٹی کو دست طریقے سے جمانا (ب) درسی۔  
**ڈریس لومٹری** سے نام **ڈریس خال** - (ڈریس خال) شہرت کے برعکس ہنر اور خوف۔

**ڈر** - (وہ - ا - مذ) خوف - اندیشہ - خطرہ۔  
**ڈر ٹوٹ جانا** - (ا - محاورہ) جھک مٹ جانا۔ خوف ڈر ہونا۔  
**ڈر دکھانا** - (ا - محاورہ) خوف دلانا۔ ڈر ب جانا۔  
**ڈر ڈر کے پاؤں رکھنا** - (ا - محاورہ) جھکتے ہوئے آگے بڑھنا۔  
**ڈراپ سین** - (Dropscene) (انگ - مذ) ایٹھ کے خاتمے کا پردہ (۲) ڈرے کا خاتمہ یا آخری منزل۔  
**ڈراپر** - (Droper) (انگ - مذ) شیشے کی نلی جس کی ایک طرف رز کو ٹپتی ہوتی ہے اس سے سیال چیز خاص طور پر دوا قطرہ قطرہ چکاتے ہیں۔  
**ڈرا سومرا** - (ا - مثل) ڈرنے والا نقصان اٹھانے والے۔  
**ڈرافٹ** - (Draft) (ڈر - افٹ) (انگ - ا - مذ) (۱) خاکہ مسودہ۔  
**ڈرا فٹنگ** سے روپیہ نکالنے کا تحریری حکم - پیکی - ہنڈی (۳) ایک ٹھیل۔  
**ڈرافٹس مین** (ڈرافٹس مین) - (۱) نقشہ نویس - خاکہ بنانے والا مسودہ نویس۔  
**ڈرا لو** - (ڈر - لو) (وہ - جق - صف) ڈریپ لوک۔  
**ڈراما** - (Drama) (ڈر - ما - ما) (انگ - ا - مذ) سوانگ - ناٹک۔  
**ڈراماٹسٹ** - (Dramatist) (ڈر - ماٹسٹ) ڈراما نویس - ڈراما لکھنے والا۔ ڈراما نگار۔  
**ڈرامائی** - (ا - مسٹ) ڈراما سے منسوب - جبریت انگیز - خلاف توقع۔  
**ڈرانا** - (ڈر - نا) (وہ - مص) دھکنا - دھکی دینا - خوف دلانا۔

ط  
و

**ڈراوا** - (ڈر - وا) (وہ - ا - مذ) خوف۔ ڈر - دھکی۔  
**ڈرائنگ** - (Drawing) (ڈر - وا - انگ) (انگ - ا - مسٹ) نقشہ کشی نقشہ خاکہ - تصویر (جو بے رنگ یا اکرتگی ہو)۔  
**ڈرائنگ روم** - (Drawing Room) (انگ - مذ) گول کمرہ۔ دیوان خانہ۔ ملاقات کا کمرہ۔  
**ڈرائنگ ماسٹر** - (Drawing Master) نقشہ کشی یا تصویر کشی سکھانے والا استاد۔  
**ڈرا ڈنا** - (ڈر - اونا) (وہ - صف) خوفناک - بھیانک جیسے دیکھ کر ڈرانے۔  
**ڈرائی** - (Dry) (ڈر - ای) (انگ - صف) سوکھا خشک - پیاسا۔

ڈ





# ڈ

ڈل - (1-1) مذ - دستہ - گروہ (2) کشمیر کی ایک مشہور جھیل (3) دولت (4) سوکھا کنواں  
 ڈلا - (ڈولا) (1-1) مذ - بڑا سا ٹکڑا (2) بڑے حجم کی چیز (3) ڈھیلا -  
 ڈلاسا - (1-1) مذ (1) بڑا سا (2) سونے کے ڈلے جیسا (3) خالص (4)  
 چمکدار رنگ والا -  
 ڈلا - (ڈل) (1-1) مذ (1) شاخوں کا بنا ہوا ٹوکرا (2) ٹوکرا جو شادی کے  
 دن دولہا کے ساتھ دلہن کے ہال آتا ہے - (3) مٹ گئی - فریبی عورت -  
 ڈلانا - (ڈلانا) (1-1) مذ - مص [ ہانا - جنبش دینا - پھرانا (2) حیران کرنا -  
 ڈلاؤ - (ڈلاؤ) (1-1) مذ - غفلت پھینکنے کی جگہ - کھورا -  
 ڈنگ - (ڈنگ) (1-1) مذ - (1) مٹ چک ڈنگ - آب و تاب -  
 ڈنگنا - (ڈنگنا) (1-1) مذ - (1) مٹ چکنا - (2) مٹنا - جگمگانا -  
 ڈلنا - (ڈلنا) (1-1) مذ - (1) مٹ کرنا کسی چیز میں پڑنا -  
 ڈلوری - (Delivery) (1) مٹ (2) وضع عمل (3) ڈاک  
 کی تقسیم (4) کسی چیز کی تفویض -  
 ڈلی - (ڈلی) (1-1) مذ - (1) کسی چیز کا ٹکڑا (2) خرما - بالوشا ہی یا مری  
 کا ٹکڑا -  
 ڈلیا - (ڈلیا) (1-1) مذ - (1) چھوٹی ٹوکری (2) ذرا سا ٹکڑا -

# ڈ

ڈگیت - (ڈگیت) (1-1) مذ - گیترا - رہزن - ڈاکو -  
 ڈگیتی - (ڈگیتی) (1-1) مذ - (1) مٹ - (2) قزاقی - رہزنی (3) چار سے زیادہ -  
 پھولوں کا ڈاکہ ڈالنا - سرقہ بالاجیر -  
 ڈگ - (1-1) مذ - لمبا قدم -  
 ڈگ بھرنا - (1-1) مذ - (1) قدم اٹھانا - تیز چلنا -  
 ڈگ - (1-1) مذ - مٹا گھوسنا -  
 ڈگانا - (ڈگانا) (1-1) مذ - مص [ جگہ سے بٹانا - جگہ سے بے جگہ کرنا - پھسلانا -  
 ڈگڈگ کرنا یا پی پینا - (1-1) مذ - مص [ ایک دم میں بہت سا پانی پینا - بڑے  
 بڑے گھونٹ تے کر پانی پینا -  
 ڈگڈگانا - (ڈگڈگانا) (1-1) مذ - مص [ بڑے بڑے گھونٹ لینا - ایک سانس  
 میں پی جانا -  
 ڈگڈگی - (ڈگڈگی) (1-1) مذ - (1) بندر والوں کی ڈنگلی - ڈوڑ -  
 (2) ڈونڈی - ڈھنڈورا - کھنچری -  
 ڈگڈگی بجانا - (1-1) مذ - (1) ڈھنڈورا بیٹنا - تہنیر کرنا -  
 ڈگر - (ڈگر) (1-1) مذ - راستہ - راہ - سڑک (2) روش - انداز - طرز -  
 ڈگر بٹانا - (1-1) مذ - راستہ بٹانا - روش بڑھانا - ہدایت کرنا -  
 ڈگرا - (ڈگرا) (1-1) مذ - ٹوکرا - بانس کا بڑا سا چھابہ -  
 ڈگرنا - (ڈگرنا) (1-1) مذ - مص [ چلا جانا - رو پھرتے ہونا -  
 ڈگری - (Degree) (1-1) مذ - (1) کامیابی کی سند -  
 درجہ - منزل -  
 ڈگری کالج - (1-1) مذ - وہ کالج جہاں بی - اے اور اُس سے اوپر کی تعلیم دی جاتی ہو -  
 ڈگری - (ڈگری) (1-1) مذ - (1) انگریزی (Decree) کا بڑا ہوا  
 حکم - سرکاری فیصلہ - جیت -  
 ڈگری اجالی - (1-1) مذ - مشترک ڈگری -  
 ڈگری اقبالی - (1-1) مذ - اقبال پر دی ہوئی ڈگری -  
 ڈگری مانا - (1-1) مذ - (1) عاوردہ - مقدمہ جیتنا - فتح پانا - قطعی فیصلہ حاصل کرنا -  
 ڈگری جاری کرنا - (1-1) مذ - عاوردہ - حکم دینا - فیصلہ کرنا -  
 ڈگری وار - (1-1) مذ - وہ شخص جس نے مقدمہ پر ڈگری حاصل کی ہو -  
 ڈنگ - (ڈنگ) (1-1) مذ - مص [ ہلنا ہوا - ڈولتا ہوا - لرزاں - کا پنتا ہوا -  
 ڈنگنا - (ڈنگنا) (1-1) مذ - مص [ ڈنگنا - کا پنتا - ہلنا - لرزنا - لٹکھڑانا -  
 ڈنگن - (1-1) مذ - پھیلی کے شکار کا ایک آلہ -  
 ڈنگنا - (ڈنگنا) (1-1) مذ - مص [ سبر کرنا - ہٹنا - جگہ سے کھسکنا - بے جگہ ہونا -  
 پھسل کر نیچے کرنا -  
 ڈنگ - (ڈنگ) (1-1) مذ - (1) اعلان - ڈھنڈورا -  
 ڈنگے ڈنگ - (1) قدم قدم - قدم قدم پر -

# ڈ

ڈسم (Dim) (1) مٹ (2) صفت [ ڈھنڈلا - پھیکا - بے نور - دھیمی - مدغم -  
 ڈسم - (ڈسم) (1-1) مذ - ڈگڈگی - ڈور -  
 ڈربی - (Dummy) (1-1) مذ - (1) مٹ (2) جعلی یا مصنوعی چیز  
 جھوٹ ٹوٹ کا پلندہ (3) تماش [ فرضی کھلاڑی جس کی بازی کھول  
 دی جاتی ہے اور اس کا ساقی اُسے کہتا ہے (4) اخبار یا کتاب  
 کا نمونہ -

# ڈ

ڈینٹسٹ - (Dentist) (1) مٹ (1-1) مذ - دندان ساز - مصنوعی دانت  
 بنانے والا - دانتوں کے علاج کا ماہر -  
 ڈینٹل ہسپتال - (Dental Hospital) (1) مٹ - (1) ہاس - پینل  
 (1) مٹ (1-1) مذ - دانتوں کے امراض کا ہسپتال -  
 ڈنٹھل - (ڈنٹھل) (1-1) مذ - جڑوں والی سبزی کی وہ شاخ جس پر پھول  
 اچلتے ہیں (2) ٹہنی - شاخ -  
 ڈنڈ - (1-1) مذ (1) ڈنڈ - بانو (2) ایک قسم کی درزش جو پہلوان کرتے ہیں (3)



دور پر لگانا۔ (۱)۔ محاورہ) راہ پر لانا۔ ڈھب پر لانا۔ مانوس کرنا۔ ہلانا۔

سدا جانا۔

دور کو مانجھا دینا۔ (۱)۔ محاورہ) پسا ہوا شیشہ چاولوں کی بیج میں ملا کر دھاگے ملنا۔

دور کو سلجھانا۔ (۱)۔ محاورہ) الجھی ہوئی دور کے پھندے نکالنا (۲)۔ کسی مشکل کے حل کی تدبیر سوچنا۔

دور ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ عاشق ہونا۔ مائل ہونا (۲)۔ غالب ہونا۔

دورا۔ (دور)۔ (۱)۔ مذ [ ۱۱ ] دھاگا (۲)۔ تار (۳)۔ خط۔ لکیر (۴)۔ تلوار کی دھار (۵)۔ ڈنڈی والا کٹورا (۶)۔ وہ ناپ جو دورے سے لیتے ہیں (۷)۔ گرم گھی

کو پکے ہوئے حادوں میں ڈالنا (۸)۔ آنکھ کی سُرخ رگیں (۹)۔ کسی کو محبت کی نظر سے دیکھ کر اپنی طرف مائل کرنا (۱۰)۔ سُرخ لکیر (۱۱)۔ جال۔ دام۔ فریب

دورا ڈالنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱)۔ دام محبت میں پھنسانا (۲)۔ مائل کرنا (۳)۔ دھاگا بردنا۔

دورے ٹھوٹھا۔ نثار یا بیداری سے آنکھوں کا سُرخ ہو جانا۔

دورے چھوڑنا۔ جامل یا سُرخ لکیر آنکھ کے کوباسے باہر تک کھینچنا۔

دورے ڈالنا۔ (۱)۔ محاف میں تانگے ڈالنا (۲)۔ فریب دے کر تادہ محبت کرنا (۳)۔ بال گو دھنا (۴)۔ چڑیا یا مینا کا پے در پے چھپانا۔

دورا۔ (۱)۔ مٹ [ ہک ]۔ خوشبو۔

دورا۔ (۱)۔ مذ [ آنکھ کا ڈھلا۔

دور۔ (دور)۔ (۱)۔ مذ [ ڈنگی۔ ڈر۔

دوری۔ (دور)۔ (۱)۔ مٹ [ رسی دھاگا (۲)۔ پانی بھرنے کی رسی (۳)۔

جاری پانی کی باشتی (۴)۔ جسم ریب (۵)۔ وہ نیشہ جس سے کاغذ باندھتے ہیں۔ دوری دھینٹی چھوڑنا۔ (۱)۔ محاورہ) کسی کی طرف سے غفلت برتنا (۲)۔

بے نوجہ ہو جانا۔

دوری کھینچنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱)۔ یاد کرنا۔ طلب کرنا۔ بلانا۔

دوریا۔ (دور)۔ (۱)۔ مذ [ ایک قسم کا باریک دھاری دار کپڑا (۲)۔ کتوں کا محافظ۔ شکاری کتوں کو سدھانے والا۔

دورسا۔ (۱)۔ مٹ [ بڑھا۔

دورسد۔ (۱)۔ مٹ [ حیوانات میں پھیپھڑوں کی ایک بیماری (۲)۔ بڑاسا گہرا گڑھ۔

دورکر۔ (۱)۔ مٹ [ کینہ۔

دورکرا۔ (دور)۔ (۱)۔ مذ [ بڑھا۔ معنیف آدمی۔

دورکنا۔ (دور)۔ (۱)۔ مٹ [ تے کرنا۔ واپس پلٹ دینا (۲)۔ پینا۔ بہت سا پانی یکدم لی جانا۔ چوستا۔ برتن۔

دور۔ (۱)۔ مذ [ کونیش سے پانی نکالنے کا برتن جو لوہے یا چمڑے کا ہوتا ہے۔

دور۔ (۱)۔ مذ [ ۱۱ ] ڈھنگ۔ طور۔ طریقہ انداز۔ وضع۔ قطع۔

دھا پنر کسی چیز کا کچا نقشہ (۳)۔ نمونہ۔ شکل۔ صورت (۴)۔ تمیز کا۔

دھ (۵)۔ کھیت کی ادھی حد۔ بارھ (۶)۔ جماع۔ مباشرت۔ دوری پر لانا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱)۔ سڈول بنانا (۲)۔ ڈھب پر لانا (۳)۔ کام

کے قابل بنانا۔ راہ پر لے آنا۔

دول ڈالنا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱)۔ بنیاد قائم کرنا۔ ڈھا پنر تیار کرنا (۳)۔ ڈھب نکالنا۔

دول سے لگانا۔ موقع سے لگانا۔ ڈھنگ سے لگانا۔ ترتیب سے کرنا ڈولا۔ (ڈولا)۔ (۱)۔ مذ [ ۱۱ ] کھیت کی باڑھ۔ مینڈھ۔ کھیت کی چادر باری

(۲)۔ خراج کا تخمینہ (۳)۔ ایک قسم کی پھلی (۴)۔ شانے اور کہنی کا درمیانہ حصہ۔

ڈولا۔ (ڈولا)۔ (۱)۔ مذ [ ۱۱ ] زانی سواری کا نام (۲)۔ ایک قسم کی گول پانکی۔ گھپال (۳)۔ جھولا۔

ڈولا اچھلنا۔ (۱)۔ محاورہ) کسی عورت کا دوسری عورت کے شوہر سے آشنائی یا شادی کر لینا (۲)۔ ڈولی میں بیٹھنے کو طنزاً اور سخاوت سے کہتے ہیں۔

ڈولا جانا۔ (۱)۔ محاورہ) ڈھن کی سواری جانا۔

ڈولا دینا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱)۔ کسی بادشاہ یا امیر کی زوجیت میں فخر کے ساتھ بیٹی دینا (۲)۔ عزیز آدمی کا کسی امیر سے بیٹی بیاہنا۔

ڈولچی۔ (ڈول)۔ (۱)۔ مٹ [ ۱۱ ] ڈول کی تصنیف (۲)۔ پانی کھینچنے کا پھیرا برتن ڈولن مار۔ (۱)۔ مٹ [ ڈولنے والا۔

ڈولنا۔ (ڈول)۔ (۱)۔ مٹ [ ۱۱ ] چلنا پھرنے۔ ہلنا (۲)۔ آوارہ پھرنا منڈلانا۔ بھٹلانا (۳)۔ حرکت کرنا (۴)۔ ڈولا۔ گہوارہ۔ ایک قسم کا برتن۔

گھی ڈالنے کا برتن۔

ڈولنا۔ (ڈول)۔ (۱)۔ مٹ [ ۱۱ ] گھڑنا۔ ڈول بنانا (۲)۔ ڈھا پنر تیار کرنا۔ خاکہ بنانا۔

ڈولی۔ (ڈولی)۔ (۱)۔ مٹ [ پردوں والی زانہ سواری۔ محافظ (۲)۔ جہاز کا مستول (۳)۔

ڈولی نہ کہا رنی بی بی بھی میں تیار۔ (۱)۔ مٹ [ سامان کچھ نہیں ارادے بڑے بڑے۔

ڈوم۔ (۱)۔ مذ [ ۱۱ ] منفی۔ میراثی۔ قوال۔ کبیر ایک قوم جس کا پیشہ گانا بجانا ہے۔

ڈوم اور جینا منہ لگا بڑا۔ (۱)۔ مٹ [ دونوں کا شوق پڑ جائے تو چھوٹتا نہیں۔

ڈوم پینا۔ ڈوم کا پیشہ (۲)۔ ڈوم جیسی حرکات و عادات (۳)۔ بے جا و خوشامد اور چاپلوسی۔

ڈومنی۔ (ڈوم)۔ (۱)۔ مٹ [ ۱۱ ] منفی۔ میراثی۔ ڈوم کی بیوی (۲)۔ ایک قسم کا برندہ۔ ٹیلے رنگ کی پڑا بجھے ڈھلے بھی کہتے ہیں۔

ڈومنی کا گوت چھپنی بجائے آ (۱)۔ مٹ [ آدمی کی اعلیت اس کے دو اپنی ذات آپ ہی بتائے [ قول و فعل سے ظاہر ہو جاتی ہے۔

ڈونڈا۔ (ڈون)۔ (۱)۔ مذ [ ۱۱ ] مڑے ہوئے سینگوں والا بیل یا گائے (۲)۔ ایک سینگ والا بیل۔

ڈونڈی۔ (ڈون)۔ (۱)۔ مٹ [ ۱۱ ] ڈھنڈورا۔ منادی۔ شہرت۔

ڈونڈی سینا۔ (۱)۔ محاورہ) (۱)۔ کسی چھپے معاملے کو شہرت دینا (۲)۔ منادی کرنا۔ ڈھنڈورا بیٹنا۔ اعلان کرنا۔





ٹھنکتے ہیں۔

ڈھنگ - ذق - ۱- مذق ڈھیر - انبار۔

ڈھنگ - ۱- ۱- مٹھ [ نزدیک - قریب - پاس۔

ڈھنگا - (ڈھنگ - گا) - ۱- مذق (۱) ڈبلا اور پتل ٹانگوں والا گھوڑا (۲) بے وقت - اتحق - بیل

ڈھنگار - (ڈھ - گار) ذق - ۱- مذق ڈھیر - انبار۔

ڈھلان - (ڈھ - لان) - ۱- مٹھ (۱) ڈھال - نشیب - نیچی زمین (۲) میلان - طبع - رجحان۔

ڈھلانا - (ڈھ - لانا) - ۱- مٹھ [ ساپنے یا قالب میں ہونا۔

ڈھلا ہوا - (۱) صفت [ وہ منہمک یا شہر بولے ساختہ ہو۔

ڈھلائی - ڈھلائی - (۱) مٹھ [ ڈھلائی کے اہمیت۔

ڈھلت - (ڈھ - لت) - ۱- مٹھ [ قالب یا ساپنے میں ڈھل جوں چیز ڈھلتی پھرتی چھاؤں ملائش [ زمانہ اور دولت کبھی ایک حالت پر نہیں رہتے۔ کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے۔

ڈھیل جانا - (۱) مٹھ [ مائل بہ زوال ہونا - کم ہونا۔

ڈھیل - (ڈھیل - ل) - ۱- مذق ڈھلا - ڈھالارست - کابل۔

ڈھلک - (ڈھ - نک) - ذق - ۱- مٹھ [ توجہ۔

ڈھلکا - (ڈھل - کا) - ۱- مذق آنکھ سے پانی بہتے رہنے کا مرض۔

ڈھلکانا - (ڈھل - کاننا) - ۱- مٹھ [ (۱) لٹکانا (۲) لٹھکانا - بہانا (۳) رجعت دلانا بخوابش پیدا کرنا۔ (ق)

ڈھل کرنا - (ڈھل - کم - نا) - ۱- صفت [ نامرد - محنت۔

ڈھلکانا - (ڈھ - نک - نا) - ۱- مٹھ [ اوپر سے نیچے آنا - ٹپکانا - بہنا۔

ڈھلکانا - (ڈھ - نک - نا) - ۱- مٹھ [ ٹھکانا۔

ڈھلپل - (ڈھل - پل) - ۱- صفت [ (۱) ہلنا ہونا (۲) لٹھکانا ہونا (۳) مذذب۔

ڈھلپل یعنی - (۱) صفت [ (۱) مذذب (۲) متلون مزاج - ضعیف الاعتقاد

ڈھان ڈول - غیر یقینی - ایمان کا گمنا۔

ڈھلکانا - (ڈھل - ہم - لانا) - ۱- مٹھ [ (۱) ڈھلکانا - لٹھکانا (۲) ڈھان ڈول ہونا (۳) پس و پیش کرنا - مذذب ہونا - متشدد ہونا۔

ڈھلنا - (ڈھل - نا) - ۱- مٹھ [ (۱) رواں ہونا - بہنا لگانا (۲) گھٹنا اترنا۔

کم ہونا (۳) بھول جانا (۴) لٹھکانا - گزنا (۵) ساپنے یا قالب میں تیار ہونا - اٹھایا جانا (۶) پیلے ہونا - گل جانا۔

ڈھلنا - (ڈھل - نا) - ۱- مٹھ [ (۱) نیچے کی طرف جانا پھلنا (۲) مائل ہونا۔

متوجہ ہونا (۳) لا دا جانا۔

ڈھلوان - (ڈھل - وال) - ۱- صفت [ پھلوان جھکوان - ڈھلوان۔

ڈھلوانا - (ڈھل - واننا) - ۱- مٹھ [ ساپنے یا قالب میں ہونا۔

ڈھلوانا - (ڈھل - واننا) - ۱- مٹھ [ اسباب اٹھوانا - بوجھ ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ لدوانا۔

ڈھلوانس - (ڈھل - وانس) - ۱- مٹھ [ ڈھیل یا پتھر کے ٹکڑوں کا پھینکانا۔

ڈھیلے پھینک کر بارنا۔

ڈھلوانسی - (ڈھل - وان - سی) - ۱- مٹھ [ گویا - فلائٹ۔

ڈھلوانی - (ڈھل - وان - ی) - ۱- مٹھ [ بوجھ اٹھوا کر لے جانے کی مزدوری۔

ڈھلوانا - (ڈھل - وان - ی) - ۱- مذق ڈھالنے والا۔

ڈھلوانت - (ڈھل - وانت) - ۱- مذق [ وہ شخص جو ہر وقت ڈھال تلوار باندھے رہے (۲) گاؤں کا چوکیدار (۳) ساپنے میں ڈھالنے والا۔

ڈھلوانی - (ڈھل - وان - ی) - ۱- مٹھ [ ڈھل - چھو ڈھانوت۔

ڈھنڈار - (ڈھن - ڈار) - ۱- مذق [ ویران مکان - ڈراؤنا گھنڈر۔

ڈھنڈلاٹ - ذق - ۱- مٹھ [ آوارہ گردی - بے مقصد آمدورفت۔

ڈھنڈلنا - (ڈھنڈل - نا) - ذق - مٹھ [ ڈھونڈنا - تلاش کرنا۔

ڈھنڈلنا - (ڈھنڈل - نا) - ۱- مٹھ [ تلاش کرنا - جستجو کرنا۔

ڈھنڈوانا - (ڈھنڈل - واننا) - ۱- مٹھ [ تلاش کرنا۔

ڈھنڈورا - (ڈھن - ڈور - را) - ۱- مذق [ (۱) ڈھنگی - ڈھول (۲) منادی

تشبیر۔

ڈھنڈورا پیلنا - (۱) محاورہ [ منادی کرنا۔ تشبیر کرنا۔ جا بجا کہتے پھرنا۔

ڈھنڈورا شہر میں لڑکا بھل میں - (۱) مثل [ چیز پاس ہوتے ہوئے

ادھر ادھر تلاش کرتے پھرنا۔

ڈھنڈورچی - (ڈھنڈور - یا) - (ڈھن - ڈور - چی) (ڈھن - ڈور - یا) منادی

کرنے والا - ڈھنڈور دینے والا۔

ڈھنڈو یا لٹنا - (ڈھن - ڈھال - نا) - مٹھ [ آوارہ پھرنا - مارے مارے پھرنا۔

ڈھنڈو یا - (ڈھنڈو - یا) - ۱- مٹھ [ تلاش - جستجو۔

ڈھنگ - ۱- مذق [ (۱) طریقہ - طرز - طور (۲) روش - چال چلن - رویہ (۳) وضع قطع (۴) سیرت - عادت (۵) سہز سلیقہ (۶) انداز۔

ڈھنگ اٹرانا - (۱) محاورہ [ رنگ اختیار کرنا - نقل کرنا۔

ڈھنگ بڑتنا - (۱) محاورہ [ وضع داری نہا بہنا چال چلنا - برابر بڑنا ڈگرنا۔

ڈھنگ بگڑنا - (۱) محاورہ [ طور طریقہ بدلنا - حال خراب ہونا۔

ڈھنگ پرلانا - (۱) محاورہ [ موافق بنانا - کسی راستہ پر لانا۔

ڈھنگ ڈالنا - (۱) محاورہ [ بنیاد ڈالنا - کوئی نیا کام شروع کرنا - راستہ

پیدا کرنا - طریقہ وضع کرنا۔

ڈھنگ سیکھنا - (۱) مذق [ کسی کی روش اختیار کرنا۔

ڈھنگ نکالنا - (۱) محاورہ [ طرز نکالنا۔

ڈھنگ کی بات - (۱) مٹھ [ محوڑوں و مناسب بات۔

ڈھنگ ہلنا - (مٹھ - مرکب) یکساں طریقہ ہونا - ایک ہی طرح کے انداز ہونا۔

ڈھنگ بڑالے - (۱) صفت [ (۱) عجیب عادت (۲) اونکے اور ناقابل

فہم طریقے (۳) قابل اعتراض چال چلن۔

ڈھنگار - (ڈھن - گار) ذق - ۱- مذق ڈھیر - انبار۔

ڈھنگڑا - (ڈھنگ - ڈا) - ۱- صفت [ جوان - مضبوط۔

ڈھنگی - (۱) مذق [ حالاک - فریب کرنے والا۔

ڈھو - (ق - ۱) - مذق [ دلدار - گہرا پانی۔

ڈھو - ۱- صفت [ قوی - تنومند (۲) کبڈی۔

ڈھوانا - (ڈھ - وان - نا) - ۱- مٹھ [ ہمار کرنا - گردانا - منہدم کرنا۔

ڈھوننا۔ (ڈھو۔ نا)۔ (ہ۔ مع) (۱) بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ لا۔ دنا۔ اٹھا کر لے جانا (۲) چوری لے جانا۔  
 ڈھونچنا۔ (ڈھو۔ چ)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ساٹھے چار کا پھاڑا۔  
 ڈھونڈنا۔ (ہ۔ ا۔ مذ) تلاش۔ سرائخ۔ جستجو۔ کھوج۔  
 ڈھونڈ پھرنا۔ (۱) محاورہ) تلاش کر کے ناکام آنا۔  
 ڈھونڈ ڈھانڈنا۔ (۱) (مشت) تلاش۔ جستجو۔ سرائخ۔ کھوج۔  
 ڈھونڈ ڈھانڈ کر۔ (۱) دیکھ بھال کر۔ سرائخ لگا کر تلاش کر کے۔  
 ڈھونڈ نکالنا۔ (۱) محاورہ) سرائخ لگانا۔  
 ڈھونڈنا۔ (ڈھونڈنا)۔ (ہ۔ مع) تلاش کرنا۔ کھوج لگانا۔ پتہ لگانا۔  
 ڈھونڈ سے نہ پانا۔ (۱) محاورہ) بہت تلاش کے باوجود نہ پانا۔  
 ڈھونگ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) تماش (۲) فریب۔ ریاکاری۔ بناؤٹی۔ باتیں۔  
 ڈھونگ رجانا۔ (۱) محاورہ) فریب کا وبال پھیلانا۔  
 ڈھونگی۔ (ڈھو۔ گی)۔ (ہ۔ صفت) ڈھونگ رچانے والا۔ مکار۔  
 ڈھوہ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ٹیلہ، تودہ (۲) گراں ڈیل آدمی۔  
 ڈھویا۔ (ڈھو۔ یا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) چھل۔ چھول اور موسیٰ بنری کی ڈالی۔  
 ڈھسی۔ (ڈھ۔ ای)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا۔ ڈھرنادے کر بیٹھ جانا۔  
 ڈھسی دینا۔ (۱) محاورہ) (۱) جم کر بیٹھنا (۲) ایسا بیٹھنا کہ اٹھنے کا نام نہ لینا (۳) کسی کے ہاں کھانے کے خیال سے اڑ بیٹھنا (۴) ذبردستی رہ پڑنا۔  
 ڈھسی۔ (ہ۔ ا۔ مذ) دریا کا اونچا کنارہ۔ تودہ۔ انبار۔  
 ڈھے پڑنا۔ ڈھے جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) گر پڑنا۔ مکان کا شمار ہو جانا (۲) رہ پڑنا۔ اتر پڑنا۔  
 ڈھیتا۔ (ڈھی۔ یا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) اڑھائی سیر کا باٹ (۲) گاؤں۔ پاس کا گاؤں۔  
 ڈھیٹ۔ (ڈھیٹھ۔ ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ضدی۔ سرکش۔ اڑیل (۲) بیباک۔ ڈھیٹھ۔  
 ڈھیر۔ (ہ۔ ا۔ مذ) تودہ۔ انبار (۲) کھلیان (۳) انبودہ۔ ہجوم۔ بھیڑ۔ مجمع۔ (۴) قبر (۵) ہیئت۔ کثرت۔ افراط۔  
 ڈھیر کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) جمع کرنا۔ فراہم کرنا (۲) مار ڈالنا (۳) مٹی کا تودہ بنانا۔  
 ڈھیر ہو جانا۔ (۱) محاورہ) (۱) تنگ جانا (۲) مکان کا ٹوٹ چھوٹ کر گر پڑنا (۳) انبار لگ جانا (۴) مرکز قبر میں جانا۔ بیجان ہو کر گر پڑنا۔  
 ڈھیرا۔ (ڈھی۔ را)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) بھینٹا۔ (۲) جمع کا نشان۔ الجبرے میں (۳) موٹی جوں۔  
 ڈھیری۔ (ڈھے۔ ری)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) بھینٹ عورت (۲) چھوٹا سا انبار (۳) گاؤں یا جاڈاد میں جتتہ۔  
 ڈھیڑ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) کوتا (۲) ہنڈوؤں کی ایک بیج قوم چمار (۳) اتھ۔ بے وقف۔  
 ڈھیل۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) دیر۔ وقفہ۔ تامل۔ ہستی۔ کاہلی (۲) فرصت۔

ڈھوائی۔ (ڈھو۔ وا۔ ای)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ڈھونے کی اجرت۔ سامان اٹھانے کا معاوضہ۔  
 ڈھوبرا۔ (ڈھوب۔ را)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مٹی کا بڑا پیالہ (۲) پڑانا برتن۔ (۳) پڑانا اور کچا مکان۔  
 ڈھوٹا۔ (ڈھو۔ ٹا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) لڑکا۔ بیٹا۔ معنوب اور موٹا تازہ بیٹہ۔  
 ڈھوڑا۔ (ڈھو۔ ڈا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ڈھانچا۔ قالب (۲) گھر۔ جھونپڑا۔ (۳) کارخانہ کا روبر (۴) دکھاوا۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ۔  
 ڈھوڑا بنانے رکھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) قدیمی عزت یا حالت کو بنانے رکھنا (۲) ظاہری حالت درست رکھنا۔ ٹیپ ٹاپ رکھنا۔  
 ڈھور۔ (ہ۔ ا۔ مذ) موشی۔ چوپائے۔  
 ڈھور مے نہ کو اٹھائے۔ (ایشل) فضول امید کی توقع پر کہتے ہیں ڈھورا۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ایک کپڑا جو چنے کو لگ جاتا ہے (۲) مٹی کا بند جو کسی نالی کے کنارے بنایا جائے۔  
 ڈھوسر۔ (ڈھو۔ سر)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ہندوؤں کی ایک ذات۔ ویش۔ بنیا۔ ڈھوک۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ٹال ٹول۔ تذبذب۔  
 ڈھوکا۔ (ڈھو۔ کا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) پانچ گنڈوں کا مجموعہ۔ نقدی کی ایک قدیم اکائی (۲) پھینے کی جگہ۔ خار (۳) دھکا۔ گھات۔  
 ڈھوکنا۔ (ڈھوک۔ نا)۔ (ہ۔ مع) چھپ کر شکار کرنا۔  
 ڈھول۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مشہور ساز۔ طبل۔ مردنگ۔  
 ڈھول ڈھکنا۔ (۱) (ہ۔ مذ) ڈھوم ڈھام۔ ڈھوم دھڑکا۔ باجا لگانا۔  
 ڈھول کی آواز دُور سے سہمانی دیتی ہے۔ (۱) (ش) دیکھیے دُور کے ڈھول بہانے۔  
 ڈھول کے اندر بول۔ (۱) (ش) اصل میں کچھ نہیں رہا دکھاوا اور رعب۔  
 ڈھولا۔ (ڈھو۔ لا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) کھیت اور زمین کی سرحد دکھانے کا نشان (۲) طاق یا گیند کا قالب (۳) اتھن آدمی۔  
 ڈھولا بندی۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) (مشت) حد بندی۔ کھیت یا زمین کی سرحد کا نشان بنانا۔  
 ڈھولا۔ (ڈھو۔ لا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مشہور پنجابی عاشق (۲) ایک پنجابی عشیقہ گیت (۳) عاشق۔ دھوکا دینے والا عاشق (۴) پیارا (۵) محبوب (۶) بیٹہ۔ لڑکا۔  
 ڈھولک۔ (ڈھو۔ نگ)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مٹھوٹا ڈھول۔ ڈھولکی۔  
 ڈھولکی۔ (ڈھول۔ کی)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مٹھوٹا ڈھولک۔  
 ڈھولکیا۔ (ڈھو۔ نگ۔ یا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ڈھول بجانے والا۔  
 ڈھولنا۔ (ڈھول۔ نا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) ڈھول کی شکل کا گٹھے میں بہنے کا ایک زور (۲) چھوٹی جمائل۔ چھوٹی تقطیع کا قرآن شریف جو بطور تعویذ گٹھے میں ڈالا جاتا ہے۔  
 ڈھولنا لٹھول پر ہونا۔ (۱) محاورہ) سرگھڑی قرآن شریف کی قسم کھانا۔  
 ڈھولی۔ (ڈھو۔ لی)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) مٹھوٹا پانوں کا ٹھٹھا جس میں زیادہ سے زیادہ ہزار اور کم سے کم دوسو پان ہوتے ہیں۔



# ڈ

**ڈی۔ ایس۔ پی۔** (D.S.P.) (انگ۔ ۱۔ مٹ) ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس۔ چھوٹا پولیس کپتان۔

**ڈی۔ سی۔** (D'C) (انگ۔ ۱۔ مڈ) ڈپٹی کمشنر۔ ضلع کا حاکم۔

**ڈیپارٹمنٹ۔** (Department) (انگ۔ ۱۔ مڈ) محکمہ۔ شعبہ۔

**ڈیپٹ۔** (۱۔ مٹ) نظر بند۔

**ڈیپٹ۔** (۱۔ مٹ) نظر بند۔

**ڈیڈ لیٹر آفس۔** (Dead Letter Office) (انگ۔ ۱۔ مڈ) ڈاک گاہ دفتر جہاں لاوارث یا واپسی چھٹیاں بھیجی جاتی ہیں اور پرنٹل کے بعد جلا دی جاتی ہیں۔

**ڈیڈی۔** (Daddy) (انگ۔ ۱۔ مڈ) بابا۔

**ڈیڈی کیٹ۔** (Dedicate) (انگ۔ ۱۔ مڈ) کسی چیز یا کتاب کو کسی کے نام کرنا۔

**ڈیڈی کیشن۔** (Dedication) (انگ۔ ۱۔ مڈ) نامزدگی۔ نذر گزارنا۔

**ڈیر۔** (Dear) (انگ۔ صفت) (۱) پیارا۔ عزیز (۲) قیمتی۔ گراں۔ ہنگامہ۔

**ڈیرا۔** (ڈیرے۔ نا) (۱۔ مڈ) (۱) خیمہ۔ تینو (۲) عارضی قیامگاہ (۳) گھر مکان۔

**ڈیرا ڈالنا۔** (۱۔ مڈ) (۱) عارضی قیامگاہ ڈال لینا۔ رہ پڑنا۔

**ڈیرا کرنا۔** (۱۔ مڈ) (۱) آرتنا۔ رہنا۔ بھرتنا۔ عارضی قیام کرنا۔

**ڈیرے دار۔** (۱۔ مٹ) ڈیرے وال۔ خوشحال طوائف۔

**ڈیری۔** (Dairy) (انگ۔ ۱۔ مٹ) شیرخانہ۔ دودھ، مکھن، پنیر تیار کرنے کا کارخانہ۔

**ڈیری فارم۔** (Dairyfarm) (۱۔ مڈ) دودھ دینے والے جانور پالنے کی جگہ۔

**ڈیرھ۔** (۱۔ مٹ) ایک پورا اور دھما۔ ۱۔

**ڈیرھ اچھڑ پڑھانا۔** (۱۔ مڈ) (۱) ترکیب بتانا۔ ہوشیار کر دینا۔

**ڈیرھ اینٹ کی مسجد بنانا۔** (۱۔ مڈ) (۱) حوصلہ کام کر کے دل کا حوصلہ نکالنا۔

(۲) کسی کی رائے سے متفق نہ ہونا اور اپنی الگ رائے قائم کرنا (۳) کسی کے ساتھ شرکت پسند نہ کرنا۔ اپنے طور پر الگ کام کرنا۔

**ڈیرھ بکان میاں باغ میں۔** (۱۔ مٹ) (۱) حوصلہ کی کمی پر اترنا۔

**ڈیرھ اور کم حوصلہ کی نسبت کہتے ہیں۔**

**ڈیرھ پاؤ۔** (۱۔ مڈ) (۱) ایک پاؤ اور آدھ پاؤ۔

**ڈیرھ پاؤں چون چوبارے رسوئی۔** (۱۔ مٹ) (۱) ذرا سے کام کے لیے بڑا ہتنام۔

**ڈیرھ چلو اہو پلینا۔** (۱۔ مڈ) (۱) غصہ کھا کر برداشت کر جانا (۲) دل ہی دل میں گڑھ کر دھانا۔

**ڈیرھ کرہ۔** (۱۔ مڈ) (۱) ایک اور آدھی کرہ (۲) وہ گڑھ جو آسانی سے کھل سکے۔

**ڈیرھ کرہ کی زبان۔** (۱۔ مٹ) (۱) صفت۔ گستاخی۔ زبان درازی۔ بدزبانی۔

**ڈہلت۔** (۳) بے توجہی۔ لاپرواہی (۴) بھول۔

**ڈھیل دینا۔** (۱۔ مڈ) (۱) ڈھل دے کر تھک کر بڑھانا (۲) بے پرواہی برتنہ۔ توجہ نہ دینا (۳) دانستہ چشم پوشی کرنا (۴) بھلت دینا۔

**ڈھیل کرنا۔** (۱۔ مڈ) (۱) دیر کرنا۔ تاخیر کرنا (۲) وقت گزارنا۔

**ڈھیل اوقات کرنا۔**

**ڈھیل۔** (۱۔ مڈ) (۱) صفت۔ (۲) سست۔ کاہل (۳) کھلکھلا (۴) نامرد۔

**ڈھیل یا جاہل۔** (۱۔ مڈ) (۱) کھلکھلا ہوا جاہل۔ عذارہ۔ کھلے پانچوں کا جاہل۔

**ڈھیل پڑھانا (ہوجانا)۔** (۱۔ مڈ) (۱) پخت یا تنگ نہ رہنا (۲) نرم پڑھانا۔ غصہ کم ہوجانا (۳) شہوت نہ رہنا (۴) سست یا کمزور ہوجانا۔

**ڈھیل پن۔** (۱۔ مڈ) (۱) سستی۔ کاہلی (۲) نامرد ہوجانا۔

**ڈھیل پیچ۔** (۱۔ مڈ) (۱) وہ گندے ہونے والے جوہروں تک ہوں (۲) پگڑی کا وہ بیج جو جوہروں پر پڑے (۳) پڑھ ہو سکتا ہو۔

**ڈھیل۔** (۱۔ مڈ) (۱) ڈھل۔ ڈھل۔ مٹی کا بڑا ٹکڑا۔ کوٹھ (۲) آنکھ کے اندر کا گول حصہ۔

**ڈھیل لینا۔** (۱۔ مڈ) (۱) پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے سے نئی شکر کرنا۔ استنہا کرنا۔

**ڈھیلی۔** (۱۔ مڈ) (۱) صفت۔ (۲) گشادہ۔ فراخ (۳) سست۔ کاہل (۴) نازک۔ کمزور۔ ناتواں۔

**ڈھیلی (چھوڑنا) دینا۔** (۱۔ مڈ) (۱) بھلت دینا (۲) خبر نہ لینا (۳) تاخیر کرنا۔ بے توجہی برتنہ (۴) آزادی دینا۔

**ڈھیلی (ڈھیلے) زناح۔** (۱۔ مڈ) (۱) صفت۔ (۲) سست اور کاہل عورت (۳) زنا نہ عادات کا مرد۔

**ڈھیم۔** (۱۔ مٹ) (۱) صفت۔ (۲) مٹی کا بڑا ڈھلا۔

**ڈھینا۔** (۱۔ مٹ) (۱) صفت۔ (۲) گناہ۔ سہارا ہونا۔ ہندم ہونا (۳) اینٹ سے اینٹ بچنا (۴) مارنا۔ دل چھوڑ دینا (۵) ڈھلا اور کمزور۔

**ڈھینڈا۔** (۱۔ مڈ) (۱) صفت۔ (۲) توند۔ حمل۔ بڑا پیٹ۔ ناجائز حمل۔

**ڈھینڈا اٹھلانا۔** (۱۔ مڈ) (۱) عمارت کا طاق ہونا۔ حمل رکھوانا۔

**ڈھینڈا چھو لینا۔** (۱۔ مڈ) (۱) عمارت کا پیٹ رہنا۔

**ڈھینڈا۔** (۱۔ مڈ) (۱) صفت۔ (۲) ایک قسم کا گول کدو (۳) خایہ خسیہ (۴) موٹا آدمی۔

**ڈھینک۔** (۱۔ مڈ) (۱) ایک آبی پرندہ سارس۔ لم ڈھینک کا مختلف ڈھینکا۔ (۲) صفت۔ (۳) مڈ (۱) کوہلو کی لاٹھ۔ آب کش (۲) سارس ایک بڑی ٹانگوں والا مردار خور جانور۔ کلنگ۔

**ڈھینکلی۔** (۱۔ مڈ) (۱) صفت۔ (۲) پانی کھیننے کی لمبی لکڑی۔

**آب کش (۱) ڈھینکلی۔** (۱۔ مڈ) (۱) پڑے سے سے کا ایک خاص طریقہ (۳) دھان کوٹنے کا آلہ (۴) قلابازی۔

**ڈھینکلی کھانا۔** (۱۔ مڈ) (۱) عمارت کا قلابازی کھانا۔

**ڈھینک۔** (۱۔ مڈ) (۱) صفت۔ (۲) سارس کلنگ ایک لمبی ٹانگوں والا آبی پرندہ۔ لم ڈھینک۔

**ڈھینک۔** (۱۔ مڈ) (۱) صفت۔ (۲) کمزور۔ ڈھلا پتلا (۳) کانٹے دار سونھی لکڑی۔

**ڈیموکریسی** - (Democracy) (انگ۔ ۱۔ مٹ)۔ جمہوری مملکت جمہوریت  
**ڈیمو** (Demy) (انگ۔ صفت) آدھا۔ نیم۔ نصف۔  
**ڈیمو آفیشل** - (Demy Official) نیم سرکاری خط۔ اسے  
 مختصر کر کے ڈی۔ او (D-O) بھی کہتے ہیں۔  
**ڈین** - (Dean) (انگ۔ ۱۔ مٹ)۔ بڑے گرجا کا افسر اعلیٰ۔ بڑا پادری۔  
 (۲) کالج کا مقیم رفیق جس کے سپرنٹنڈنٹ کی نگرانی کی خدمت ہو (۳)  
 یونیورسٹی کے کسی شعبہ کا صدر۔  
**ڈینا** (ڈی۔ ٹی۔ نا) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) وہ ڈنڈا جو میل کی گردن میں باندھ  
 دیتے ہیں۔  
**ڈیننگ** - (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ شنی۔ تعلق۔ لاف زنی۔  
**ڈیننگ ہاٹھنا**۔ ڈیننگ کی لینا۔ ڈیننگ مارنا۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔  
 بھگانا۔ اترانا۔  
**ڈینگیا** - (ڈیں۔ گ۔ یا) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ شنی خورا۔ بڑبولا۔ لاف زن۔  
 اترانے والا۔  
**ڈیو** - (Dye) (انگ۔ صفت) (۱) حاجب الادا (۲) لازم۔ ضروری  
 (۳) درست۔  
**ڈیوٹ** - (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ پرائی قسم کا چربی چرا خندان (۲) (صفت)  
 بے وقوف۔ احمق۔  
**ڈیوٹی** - (Duty) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) فرض منصبی۔ کام خدمت  
 (۲) جنگی کام حصول۔  
**ڈیوٹھا** - (ڈیو۔ ٹھا) (۱۔ ۵۔ صفت) (۱) ایک اور آدھا۔ ایک و نیم (۲) ایک  
 قسم کا سوڈو چھاس فیصد لیا جاتا ہے (۳) ریل کاروریمانہ درجہ۔ انٹر کلاس۔  
**ڈیوٹھا لیکھا** برابر ہونا۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ حساب میناق ہونا۔  
**ڈیوٹھی** - (ڈیو۔ ٹھی) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ ڈیوٹھ جھتہ۔ ٹپا۔ ایک و نیم۔  
**ڈیوٹھی** - (ڈیو۔ ٹھی) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) مکان میں داخل ہونے کا کرہ۔  
 صدر دروازہ کے سامنے کا کرہ (۲) دلہیز۔ آستانہ۔ درگاہ (۳) دخل  
 باریابی۔ آمد و رفت۔ دربار داری۔  
**ڈیوٹھی بند ہونا**۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ دربار شاہی یا کسی امیر کے سامنے باریابی  
 نہ پاسکنا۔ ڈیوٹھی پر روک دیا جانا۔  
**ڈیوٹھی دار**۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ صفت۔ دربان۔ پہرہ دار۔ حاجب۔  
**ڈیوٹھی کھلنا**۔ (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ دربار باریاب ہونا۔ باریابی کی اجازت ملنا۔ سرکار  
 میں آمد و رفت کی اجازت پانا۔  
**ڈیوک** - (Duke) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) نواب۔ بڑے درجے کا امیر۔  
 رئیس اعظم (۲) انگریزی خطاب۔  
**ڈیوہ** - (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ کھنڈروں کا ٹیلا۔  
**ڈیسری** - (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ)۔ دلدلی زمین۔

**ڈیزائن** - (Design) (انگ۔ ۱۔ مٹ) نقشہ۔ خاکہ۔ نقش و نگار۔  
 ترکیب۔ ڈول۔ ڈھانچا۔  
**ڈیزائنر** - (Designer) (انگ۔ ۱۔ مٹ) خاکہ تیار کرنے والا۔ نقشہ کش۔  
**ڈیسک** - (Desk) (انگ۔ ۱۔ مٹ) سکول کے بچوں کی ڈسٹوان میز۔  
**ڈیفنس** - (Defence) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) بچاؤ۔ ملاحفت (۲) مخالفت متقابلہ  
**ڈیک** - (Deck) (انگ۔ ۱۔ مٹ) عرشہ جہاز۔ تختہ جہاز۔  
**ڈیک آنہ** - (ڈیک۔ آنہ) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) چھ آنہ۔ دلالوں کا محاورہ۔  
**ڈیک روپن** - (ڈیک۔ روپن) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) پتھ روپے  
 دلالوں کی زبان میں محاورہ۔  
**ڈیکلریشن** - (Declaration) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) بیان۔ اقرار  
 (۲) اعلان (۳) اقرار نامہ (۴) عوامی دعویٰ (۵) اخبار یا رسالہ جاری کرنے کا اجازت نامہ  
**ڈیل** - (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) جسم۔ پنڈا۔ تن۔ کاٹھی۔ قد و قامت۔ جسامت (۲) گنتا۔  
**ڈیل ڈول** - (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) قد و قامت۔ تن و نوش (۲) جسامت۔  
**ڈیلٹا** - (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈھیلا (۲) ایک قسم کا گھاس (۳) ناگرمٹھا (۴) کرکرا کیل۔  
**ڈیلٹا** - (Delta) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) نمونی زمین جو کسی دریا کے دلتانہ پر واقع ہو  
**ڈیلر** - (Dealer) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) تقسیم کرنے والا (۲) بیوپاری۔  
 کاروباری۔ سوداگر۔ فروشنده۔  
**ڈیلی** - (Daily) (انگ۔ صفت) (۱) روزانہ۔ روزمرہ (۲)  
 (انگ۔ ۱۔ مٹ) روزنامہ۔ روزانہ اخبار۔  
**ڈیلیا** - (ڈیے۔ ل۔ یا) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ) ایک بوٹا جس میں زرد اور سرخ پھول  
 ہوتے ہیں۔  
**ڈیلیگٹ** - (Delegate) (انگ۔ ۱۔ مٹ) مختار۔ دکیل۔  
 نمائندہ۔ مندوب۔  
**ڈیلیگیشن** - (Delegation) (انگ۔ ۱۔ مٹ) جماعت مندوبین  
 نمائندوں کی جماعت۔  
**ڈیم** - (Dame) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) پشتر۔ بند۔ روک۔ بینڈھ (۲)  
 پانی جو بند باندھ کر روک دیا جائے۔  
**ڈیم فول** - (Damn Fool) (انگ۔ ۱۔ مٹ) باجی۔ احمق۔ نالائق  
**ڈیمانسٹریٹر** - (Demonstrator) (انگ۔ ۱۔ مٹ) مثال  
 اور تجربے کے ذریعے۔ عمل تعلیم دینے والا۔  
**ڈیمورن** - (Demurrage) (انگ۔ ۱۔ مٹ) ریل یا جہاز کے حدود  
 سے وقت مقررہ کے بعد مال لے جانے کا محصول۔  
**ڈیموکریٹ** - (Democrat) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) جمہوریت پسند۔  
 جمہوریت کا حامی (۲) امریکہ میں جمہوری پارٹی کا نام۔

## ذ

ذ- (ذال) (ع۔ مذ) اردو کا تیرھواں۔ فارسی کا لگیا رھواں اور عربی کا نواں حرف۔ ہندی اور سنسکرت میں استعمال نہیں ہوتا۔ اسے ذال مجتہ یا منقوٹ بھی کہتے ہیں۔ اجمکے حساب میں اس کے ۷۰۰ عدد ہیں۔ عربی کا مخصوص حرف ہے۔ یہ شمسی حرف ہے جس میں لام آواز نہیں دے گا جیسے الذکر۔

## ذ

ذاب - (ع۔ صفت) (۱) پیاسا (۲) پھلا ہوا۔

ذابح - (ذ۔ ذبح) (ع۔ صفت) ذبح کرنے والا۔ قربانی کرنے والا۔

ذابجر - (ذ۔ ذ۔ جر) (ع۔ صفت) عالم۔ فاضل۔

ذابح - (ذ۔ ذ۔ ح) (ع۔ صفت) (۱) فاش (۲) پراگندہ۔

ذات - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) حقیقت۔ اصلیت۔ ماہیت۔ مادہ۔ روح۔

(۲) بدن۔ شخصیت (۳) وجہ۔ (۴) قسم۔ نوع۔ (۵) عزت۔ آبرو۔

(۶) حیثیت۔ وقعت (۷) قوم۔ جمع : ذوات۔

ذات البین - (ع۔ مٹ) (۱) دوستی۔ اتفاق (۲) معاملہ جو دو شخصوں کے مابین ہو۔

ذات الجنب - (ع۔ ۱۔ مذ) پہلی کا در۔ پہلو کا در۔

ذات الذواجب - (ع۔ ۱۔ مذ) برگد۔ بڑگا پٹیر۔

ذات الرقاق - (ع۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا استوارہ۔ کاغذ کے پرزوں

پر افعال دلا تعلق لکھ کر جانا کے نیچے رکھ دیتے اور بعد نماز ایک

پرزہ اٹھاتے ہیں اگر افعال نکل آئے تو اجازت سمجھتے ہیں (۲) ایک

غزوہ جو سگڑ کو پیش آیا۔

ذات الریح - (ع۔ ۱۔ مذ) نونیر کا مرض۔

ذات الشمال - (ع۔ ۱۔ صفت) بائیں جانب۔

ذات الصدر - (ع۔ ۱۔ مذ) سینے کا در۔ سینے کا درم۔

ذات العماد - (ع۔ مذ) بارخ ارم۔ وہ بارخ جسے کہتے ہیں کہ شاد نے بنو امیاطا

ذات النطاقین - (ع۔ صفت) حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے لقب ہے

ذات الیمین - (ع۔ ۱۔ صفت) داہنی طرف۔

ذات باہر - (ع۔ ۱۔ صفت) ذات سے نکالا ہوا۔

ذات بات - (ع۔ ۱۔ مٹ) قوم۔ قبیلہ۔ گنم۔

ذات پھر جانا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) کسی سے ذلیل حرکت کا اُس کے کینہ ہونے

کے باعث سرزد ہونا۔

ذات دینا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) کسی کے ساتھ کھاپی کر ذات کو خراب کرنا (۲)

کسی کو ذات میں شامل کرنا۔

ذات رات - (ع۔ ۱۔ مٹ) حسب و نسب۔

ذات سے گرا ہوا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) ذات سے خارج۔ برادری سے نکالا ہوا

ذات سے نکال دینا - برادری سے خارج کر دینا۔

ذات شریف - (۱۔ صفت) پمالک۔ بے سند۔ شرارتی۔

ذات کی بیٹی ذات میں جاتی ہے - (۱۔ مثل) شریف کا پیروند

شریف سے ہوتا ہے۔

ذات میں بٹا لگنا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) نسل میں عیب لگنا۔

ذات میں ملنا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) برادری میں شامل ہونا۔

ذات و نسا - ذات و نسی - (ع۔ ۱۔ صفت) اچھی ذات والا۔ اچھی ذات والی۔

ذات ہمالول - (ع۔ صفت) (۱) مبارک شخصیت (۲) بادشاہ سلامت

بادشاہ کی اپنی شخصیت۔

ذاتی - (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) اصل جنیتی (۲) شخصی۔ بچی۔ اپنی۔

ذاتی حقوق ملک خیر - (ع۔ ۱۔ مقولہ) وہ حقوق جو کسی شخص کو ایک شے

پر دوسری شے کی ملکیت سے تعلق کے بغیر حاصل ہوں۔

ذاتی حیثیت - (ع۔ ۱۔ مذ) اصل پر بچی۔ خاص سرمایہ۔

ذاتی معاملات - (ع۔ ۱۔ مذ) گھر کے معاملے۔ خانگی امور۔

ذاتیات - (ذ۔ ذ۔ ق۔ یات) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) عنایت (۲) شخصیت۔

(۳) کسی ذات سے متعلقہ باتیں۔

ذاکر - (ذ۔ ذ۔ ک۔ ر) (ع۔ صفت) (۱) ذکر کرنے والا (۲) وہ شخص جو مجلس میں

مصائب اہل بیت بیان کرتا ہے۔

ذائب - (ذ۔ ذ۔ ب) (ع۔ صفت) [تپچے چلنے والا۔

ذالقبہ - (ذ۔ ذ۔ ہ۔ قد) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) مزہ۔ لذت (۲) لطف۔ چسکا (۳)

مچھنے کی قوت۔

ذالقبہ ٹرنا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) چسکا پڑنا۔

ذالقبہ چکھنا - (ع۔ ۱۔ محاورہ) (۱) مزہ چکھنا (۲) سزا چکھنا۔

ذالقبہ دار - (ع۔ ۱۔ صفت) مزیدار۔ لذیذ۔

ذالقبہ شناس - (ع۔ ۱۔ صفت) مزہ پہچاننے کا ماہر۔

## ذ

ذبح - (ع۔ ۱۔ مذ) شرعی طور پر جانور کو حلال کرنا۔ گلا گٹنا۔

ذبح ہونا - (ع۔ ۱۔ مذ) شرعی طور پر حلال ہونا (۲) قتل ہونا۔ نقصان پہنچنا۔

ذبیح - (ع۔ ۱۔ صفت) (ع۔ ۱) ذبح کیا ہوا۔ حلال کیا ہوا۔

ذبیح اللہ - اللہ کے راستے میں ذبح کیا ہوا۔ حضرت اسماعیل کا لقب۔

ذبیح فرات - حضرت امام حسین کا لقب۔ آپ دریائے فرات کے

کنا سے کر بلا میں شہید کیے گئے تھے۔

ذبیحہ - (ذ. بی. بح) (ع - ۱ - مذ) قربانی کا جانور۔ شرعی طور پر ذبح کیا ہوا جانور۔

## ذخ

ذخائر - (ذ. خا. ا) (ع - ۱ - مذ) وہ جگہ جہاں اشیاء کا ذخیرہ کیا گیا ہو۔ ذخیرہ کی جمع۔

ذخیرہ - (ذ. ری. رہ) (ع - ۱ - مذ) (۱) خزانہ (۲) گودام (۳) پونجی۔ جمع جتھہ۔

(۴) وہ جگہ جہاں پودوں کی بیجیاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ جمع ذخائر۔

ذخیرہ اندوزی - (ع - ۱ - صفت) اشیاء کا ذخیرہ کر لینا تاکہ مانگ زیادہ ہونے پر انہیں ہنگے داموں بیچا جاسکے۔

ذخیرہ ہونا - (۱ - محاورہ) (۲) جمع ہونا (۳) گودام میں رکھا جانا (۴) پونجی ہونا

## ذرا

ذرا - (ذ. را) (ع - ۱ - مذ) (۱) تھوڑا (صفت) (۲) بہت کم۔ تھوڑا۔

ذرا خشکا کھاؤ - (۱ - محاورہ) چلتے پھرتے نظر آؤ۔

ذرا دانتوں تلے زبان دے - (۱ - محاورہ) کچھ تامل کرو۔

ذرا ذرا - (۱) تھوڑا تھوڑا (۲) کل۔ تمام۔

ذرا ذرا کر کے - (۱) تھوڑا تھوڑا کر کے۔

ذرا سا - (۱) صفت۔ چھوٹا۔ تھوڑا سا۔

ذرا سا منہ نکل آنا - (۱ - محاورہ) بیماری، گھبراہٹ یا خوف سے چہرہ اُترانا

ذرا سی بات ہے - (۱ - محاورہ) بہت آسان کام ہے۔ معمولی کام ہے۔

ذرا ظہور - (۱ - صفت) تھوڑا۔ کچھ۔ کسی قدر۔

ذرا عقل کے ناخن لو - (۱ - محاورہ) سوچ سمجھ کر بات کرو۔

ذرا کی ذرا - (۱) تھوڑی دیر کے لیے۔

ذرا منہ دھو رکھو - (۱ - محاورہ) ایسی بات کی امید نہ رکھو۔

ذرا منہ سنبھالو - (۱ - محاورہ) جب کوئی شخص بدزبانی کرتا ہو تو اسے بطور

دھمکی کے کہتے ہیں۔

ذرا میں - (۱) تھوڑی سی دیر میں۔

ذرا ہوش میں آؤ - (۱ - محاورہ) سوچ سمجھ کر باتیں کرو۔ عقل کے ناخن لو۔

ذرات - (ذ. رات) (ع - ۱ - مذ) ذرہ کی جمع۔ چھوٹے چھوٹے ریزے

جو قابل تقسیم نہ ہوں۔

ذراع - (ذ. راع) (ع - ۱ - مذ) (۱) بازو درمیانی انگلی کے سرے سے

کہنی تک (۲) ایک ایک ہاتھ ایک گز (۳) گھوڑے کی اگلی ٹانگ ٹخنے سے اُپر

(۴) نشان جو اونٹ کی ٹانگ پر لگاتے ہیں (۵) تیزے کا حصہ سرے سے

ذراع کے درمیان تک۔

ذراع - (ذ. راع) (ع - ۱ - مذ) ذریعہ کی جمع طریقے۔ راستے۔ وسائل۔

ذروت - (ذ. رت) (ع - ۱ - صفت) (۱) اُونچی چیز (۲) پہاڑ کی چوٹی۔

ذرة - (ذ. رہ) (ع - ۱ - مذ) (۱) مادے کا نہایت چھوٹا ذرہ (۲) ریزہ (۳) تھوڑا۔

قبیل۔ جمع ذرات۔

ذرة بھر - (ع - ۱ - مذ) تھوڑا سا۔ ناسا۔

ذرة لیے مقدار - (ع - صفت) بے وقعت شے۔

ذرة بین - (۱ - مذ) وہ آلہ جس سے ذرات کی شناخت کی جاتی ہے۔

ذرة پر زور - (ع - ف - صفت) ناچیز کی قدر کرنے والا۔ معمولی آدمی کا

خیال کرنے والا۔

ذرة ذرة - (ع - ۱ - صفت) تفصیل کے ساتھ۔ سب کچھ۔

ذرة صفت - (ع - ف - صفت) ذرے کی طرح چھوٹا سا۔

بے وقعت۔ ناچیز۔

ذرة نواز - (ع - ف - صفت) ناچیز کو اعلیٰ مرتبہ پر پہنچانا۔

ذروہ - (ذ. رہ) (ع - ۱ - صفت) (۱) پہاڑ کی بندی۔ پہاڑ کی چوٹی لنگرہ۔

اُونچی جگہ۔ جمع ذرئی۔

ذری - (ذ. ری) (ع - ۱ - صفت) ذرا کے بجائے استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑی۔

ذریعت - (ذ. ری) (ع - ۱ - صفت) اولاد۔ نسل۔ تخم۔ جمع ذریعات

ذریعہ - (ذ. ری) (ع - ۱ - مذ) (۱) وسیلہ۔ واسطہ (۲) طریقہ معرفت (۳)

موقع۔ پہنچنے کا طریقہ۔ تعلق۔ سبب۔ وجہ۔ جمع ذرائع۔

ذریعہ بنانا - (۱ - محاورہ) وسیلہ پیدا کرنا۔

ذریعہ پیدا ہونا - (۱ - محاورہ) وسیلہ پیدا ہونا۔ طریقہ نکل آنا۔ موقع ہونا۔

ذریعہ رکھنا - (۱ - محاورہ) دلچسپی لینا۔

ذریعہ نکالنا - (۱ - محاورہ) وسیلہ پیدا کرنا۔

ذریعہ ہونا - (۱ - محاورہ) ذریعہ بنانا۔ وسیلہ ہونا۔

## ذق

ذقن - (ذ. قن) (ع - ۱ - مذ) تھوڑی۔ جمع اذقان۔

## ذک

ذکا - (ذ. کا) (ع - ۱ - صفت) ذکاوت۔ ذہانت۔ دانائی۔ فراست۔ عقلمندی۔

ذکا - (ذ. کا) (ع - ۱ - مذ) سورج۔ آفتاب۔

ذکاوت - (ذ. کا) (ع - ۱ - صفت) ذہن کی تیزی۔ ذہانت۔ تیزی۔

ذکر - (ذ. کر) (ع - ۱ - مذ) (۱) مرد (۲) آلہ تناسل (۳) فلاں (۴) فلاں کی

بجی ہوئی تلوار۔ جمع ذکور۔

ذکر - (ع - ۱ - مذ) (۱) تذکرہ۔ چرچا۔ بیان (۲) زبان اور دل سے نکلنے والی بات

ذکر - (ع - ۱ - مذ) (۱) تذکرہ۔ چرچا۔ بیان (۲) زبان اور دل سے نکلنے والی بات

ذکر - (ع - ۱ - مذ) (۱) تذکرہ۔ چرچا۔ بیان (۲) زبان اور دل سے نکلنے والی بات

(۴) قرآن پاک کی تلاوت (۵) تعریف - شہرت - حمد - خدا کا شکر ادا کرنا۔  
 ذمعا نماز - جمع ۱ اذکار - جمع ۱ اذکار۔  
 ذکر آنا - (۱) محاورہ) کسی کی بابت کچھ گفتگو ہونا۔ تذکرہ ہونا۔  
 ذکر آردہ - جوئیوں کا ایک ذکر جس میں حق حق کی آواز ملتی ہے نکالی جاتی ہے  
 ذکر العیش نصف العیش - (ش) عیش و عشرت کے تذکرے سے  
 بھی بہت سا کھٹ حاصل ہوتا ہے۔  
 ذکر بالخیسر - ذکر جمیل - ذکر خیر - (۱) مذ) کسی کے متعلق اچھی بات کہنا۔  
 کسی کا تذکرہ جو نیک بات سے کیا جائے۔  
 ذکر حلینا - (۱) محاورہ) تذکرہ ہونا۔ بات پھڑنا۔  
 ذکر کھچیرنا - (۱) محاورہ) بات چیت ہونا کسی بات کی ابتداء ہونا۔  
 ذکر کیفیت - (۱) مذ) مشوق کی باتیں۔ معشوق کا تذکرہ۔  
 ذکر حق - (۱) مذ) زبان و دل سے خدا کی یاد۔  
 ذکر خوال - (۱) مذ) صفا) خدا کا ذکر کرنے والا۔  
 ذکور - (ذ) کؤد) (۱) مذ) ذکر کی جمع - بہت سے مرد۔  
 ذکی - (۱) صفا) تیز فہم - ذہین - ہوشیار - زیرک - زود فہم - جمع : اذکیا۔  
 ذکیسر - (ذ) کیسر) (۱) صفا) بہت یاد کرنے والا۔  
 ذکیتمہ - (ذ) کی) (۱) صفا) تیز فہم عورت۔

(۳) سپردگی - تحویل - امانت (۴) جواب دہی - مواخذہ - بار (۵)  
 فرض - فوری (۶) وفاداری - پناہ -  
 ذمہ دار - (۱) صفا) (۲) ضامن - کفیل - جوابدہ - فرض شناس۔  
 ذمہ دارانہ - (۱) صفا) (۲) ذمہ داری کے ساتھ۔  
 ذمہ داری - (۱) صفا) (۲) امانت - کفالت - فرض شناسی۔  
 جواب دہی۔  
 ذمہ کرنا - (۱) محاورہ) (۲) ذمہ لینا سپرد کرنا۔ تحویل میں دینا (۳) حامی بھرنا۔  
 ذمی - (ذ) می) (۱) مذ) غیر مسلم جو اسلامی سلطنت میں رہے اور  
 جزیہ ادا کرے۔  
 ذمیمہ - (ذ) می) (۱) صفا) (۲) برائی - خرابی - جمع : ذمام۔

## ذ ن

ذنب - (ذ) نب) (۱) مذ) گناہ - قصور - جرم - جُرکام۔  
 ذنوب - (ذ) نب) (۱) صفا) (۲) ذنب کی جمع - گناہ

## ذ و

ذو - (ذ) و) (۱) مذ) مالک - آقا - والا - صاحب۔  
 ذو الریضہ الاضلاع - (ذ) و) (۱) صفا) چار پہلوؤں یا چار اضلاع والی شکل  
 ذواضعاف - (ذ) و) (۱) صفا) جب ایک عدد کوئی عددوں پر پورا تقسیم ہو سکے  
 تو اسے اُن عددوں کا ذواضعاف کہتے ہیں۔  
 ذواضعاف اقل - (ذ) و) (۱) صفا) سب سے چھوٹا ذواضعاف - وہ عدد  
 جو کوئی عددوں پر پورا تقسیم ہو سکے اور اُس سے کوئی چھوٹا عدد ایسا نہ ہو  
 کہ اُن عددوں پر پورا تقسیم ہوتا ہو۔ اس عدد کو اُن عددوں کا ذواضعاف  
 اقل کہتے ہیں۔  
 ذوالاحترام - (ذ) و) (۱) صفا) صاحب احترام - مرتبے والا - صاحب عزت۔  
 ذوالجلال - (ذ) و) (۱) صفا) صاحب جلال - مرتبے والا - دب دبے والا۔  
 خدائے تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام۔  
 ذوالجناح - (ذ) و) (۱) صفا) پرندوں والا - حضرت امام حسینؑ کے اُس گھوڑے  
 کا نام جس پر آپ معرکہ کربلا میں سوار تھے۔

## ذ ل

ذلت - (ذ) ل) (۱) صفا) کمینہ پن۔  
 ذلالت - (ذ) ل) (۱) صفا) (۲) ذلت - رسوائی - خواری (۳)  
 جنگ - توہین (۳) کمینہ پن - رذالت (۴) حقارت۔  
 ذلت - (ذ) ل) (۱) صفا) (۲) رسوائی - توہین - بدنامی۔  
 ذلت اٹھانا - (۱) محاورہ) ذلیل وغوار ہونا۔ شرمندہ ہونا۔  
 ذلت چھانا - (۱) محاورہ) محنت برسانا - تکلیت چھانا۔  
 ذلت دینا - (۱) محاورہ) (۲) شرمندہ کرنا - خجیف کرنا۔  
 ذلت ہونا - (۱) محاورہ) رسوائی ہونا۔ جنگ ہونا۔ شرمندگی ہونا۔  
 ذلیل - (ذ) لیل) (۱) صفا) (۲) خوار - خستہ (۳) رسوا - بدنام (۴) کمینہ  
 پن - ذلیل - باجی - سفلہ - جمع : اذلتہ۔  
 ذلیل کرنا - (۱) محاورہ) رسوا کرنا - خجیف کرنا۔ شرمندہ کرنا۔

## ذ م

ذوالجمال - (ذ) صفا) بد مزاج - سخت دل۔  
 ذوالحج - ذوالحجہ - قمری سال کا بار ہواں مہینہ جس میں حج بیت اللہ اور  
 عید الاضحیٰ کی تقاریب ہوتی ہیں۔  
 ذوالفقار - (ذ) و) (۱) صفا) حضرت علیؑ کی تلوار کا نام۔  
 ذوالقرنین - (ذ) و) (۱) صفا) دو گیسوؤں یا دو سنگوں والا - ایک بادشاہ  
 کا نام جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اسکندر۔ لیکن یہ تحقیق نہیں  
 ہو سکا کہ وہ اسکندر کون تھا۔

ذم - (ذ) م) (۱) صفا) مذمت - ہجو - برائی۔  
 ذم کا پہلو نکلنا - (۱) محاورہ) برائی یا مذمت کی صورت ہونا۔  
 ذمام - (ذ) م) (۱) صفا) (۲) حق (۳) عزت - جمع : اذمتہ۔  
 ذمہ - (ذ) م) (۱) صفا) (۲) امانت - کفالت - ضمانتی (۳) عہد پیمان

ذہن نشین - (رع۔ ف۔ صفت) سمجھا ہوا۔ یاد رکھا ہوا۔ سمجھ میں آیا ہوا۔  
 ذہن نشین کرنا - (ام۔ محاورہ) (۱) سمجھانا (۲) تشفی کر دینا۔  
 ذہن نشین ہونا - (ام۔ محاورہ) (۱) سمجھ میں آنا (۲) یاد ہو جانا (۳) تشفی ہو جانا۔  
 ذہینی - (ذہ۔ فی) (رع۔ صفت) (۱) ذہن کے متعلق (۲) دماغی عقلی۔  
 ذہنیات - (ذہ۔ فی۔ یات) (رع۔ ام۔ صفت) ذہن سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔  
 ذہنیست - (ذہ۔ فی۔ یت) (رع۔ ام۔ صفت) طبیعت کا رجمان۔ تیزی طبع۔  
 طبیعت کا میلان۔ مزاج۔  
 ذہیب - (ذہ۔ بیب) (رع۔ صفت) سہنہرا۔ سونے کا۔  
 ذہین - (ذہ۔ ین) (رع۔ صفت) وہ شخص جس کا ذہن تیز ہو۔ ذکی۔ ہوشیار۔ تیز فہم۔

ذوالکفل - (ذ۔ کلام پاک میں ایک پیغمبر کا نام۔  
 ذوالمنن - (رع۔ صفت) بخشش اور احسان کرنے والا۔ خدا کی صفت ہے۔  
 ذوالنورین - (رع۔ صفت) دونوں والا۔ حضرت عثمانؓ کا لقب کیونکہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔  
 ذوالنون - (رع۔ مذ) حضرت یونسؑ کا لقب کیونکہ آپ پھلی کے پیڑ میں رہے تھے۔ نون بمعنی پھلی۔ ایک مسلمان بزرگ کا نام۔ ذوالنون صہری۔  
 ذو زناہبہ - (رع۔ ام۔ مذ) دم دار ستارہ۔  
 ذوشون - (رع۔ صفت) (۱) وہ جو کئی فن جانتا ہو۔ عالم۔ فاضل (۲) پرنسپل۔  
 ذومعنی - (رع۔ صفت) یا معنی۔ عموماً ذومعنی کے بجائے استعمال ہوتا ہے یعنی دو معنوں والا۔ وہ بات جس میں کئی پہلو یا معنی نکلتے ہوں۔  
 ذومعنی کہنا - (ام۔ محاورہ) ایسی بات کہنا جس کے کئی معنی نکلتے ہوں۔

## ذی

ذی - (رع۔ ام۔ مذ) دیکھئے "ذو" صاحب مالک۔ رکھنے والا۔  
 ذی ابرو - (رع۔ صفت) آبرو والا۔ عزت دار۔  
 ذی اختیار - (رع۔ صفت) اختیار والا۔ حکمت والا۔ حاکم۔  
 ذی استعداد - (رع۔ صفت) (۱) قابل۔ لائق (۲) امیر۔ دولت مند۔  
 ذی اقتدار - (رع۔ صفت) حکومت والا۔ اقتدار والا۔ حاکم۔  
 ذی جہاد - (رع۔ صفت) مرتبے والا۔ افسر۔  
 ذی ارج - (رع۔ ام۔ مذ) قمری سال کا بار ہواں مہینہ جس میں مسلمان حج ادا کرتے ہیں۔  
 ذی القعد - (رع۔ ام۔ مذ) قمری سال کا گیارہواں مہینہ۔  
 ذی حرمت - (رع۔ صفت) عزت دار۔ باعزت۔  
 ذی جس - (رع۔ صفت) جاندار۔ احساس رکھنے والا۔  
 ذی حشم - (رع۔ صفت) حشمت والا۔  
 ذی حیات - (رع۔ صفت) (۱) جاندار۔ زندہ۔  
 ذی خرد - (رع۔ صفت) عقل مند۔ دانہ۔  
 ذی رتبہ - (رع۔ ف۔ صفت) عمدہ دار۔ صاحب منصب۔ افسر۔ حاکم۔  
 ذی روح - (رع۔ صفت) جاندار۔  
 ذی شان - (رع۔ صفت) شان و شوکت والا۔  
 ذی شعور - (رع۔ صفت) عقل مند۔ دانہ۔ ہوشیار۔ سمجھدار۔  
 ذی عزت - (رع۔ صفت) عزت دار۔ مغزز۔  
 ذی قعد - (رع۔ مذ) سن بھری کا گیارہواں مہینہ۔  
 ذی وقار - (رع۔ صفت) معزز۔ صاحب وقار۔  
 ذی ہوش - سمجھدار۔ ہوشیار۔ ذہین۔ حاققت اندیش۔ ہوش مند۔  
 ذیابیطس - (ذہ۔ بی۔ طس) (رع۔ ام۔ مذ) پیشاب کی بیماری جس میں پیشاب کے ساتھ شکر آتی ہے۔  
 ذیل - (رع۔ ام۔ مذ) (۱) دامن نیچے کا حصہ (۲) وہ جو نیچے درج ہو (۳) علاقہ۔ حلقہ (۴) گروہ۔ زمرہ (۵) واسطہ۔ آڑ۔  
 ذیل دار - (رع۔ ف۔ صفت) ایک سرکاری عہدہ دار جس کے حلقہ میں

ذوات - (ذ۔ ذات) (رع۔ ام۔ مذ) جمع ذات کی معنی صاحبان۔ مالکان۔  
 ذوق - (رع۔ ام۔ مذ) (۱) مزہ۔ بھگت (۲) شوق۔ خوشی (۳) شغیر اور اہم دہلوی کا غرض  
 ذوق رکھنا - (ام۔ محاورہ) شوق رکھنا۔  
 ذوق سلیم - (ام۔ صفت) صحیح ذوق۔ درست ذوق۔  
 ذوق و شوق - (رع۔ ام۔ مذ) ارج۔ رچاؤ۔ خوشی۔  
 ذوی - (رع۔ ام۔ مذ) ذوق جمع۔ مالکان۔ صاحبان۔  
 ذوی الارحام - (رع۔ صفت) رحموں والے۔ وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف منسوب نہ ہوں۔ وہ رشتہ دار جو ماں، بہن، بیوی یا لڑکیوں کی طرف سے منسوب ہوں۔ ذوالارفاق اور مصعبہ نہ ہوں۔  
 ذوی الاکرام - (رع۔ ام۔ صفت) وہ جن کی عزت کی جائے معززین۔  
 ذوی الفرائض - (رع۔ صفت) شرعی وارث جن کے حصے مقرر ہیں۔  
 ذوی القربی - قربت والے لوگ یعنی جدی رشتہ دار۔

## ذہ

ذہانت - (ذہ۔ انت) (رع۔ ام۔ صفت) ذہن کی تیزی و فرا سمجھ جانے کا ملک۔  
 ذہیب - (رع۔ ام۔ مذ) (۱) سونا۔ طلا۔ انڈے کی زردی۔ جمع: اذیاب۔  
 ذہین - (رع۔ ام۔ مذ) (۱) حافظہ۔ یاد (۲) ادراک یا سمجھ کی قوت (۳) زیر کی دانائی سمجھ (۴) قابلیت۔ ذکا۔ جمع: اذیان۔  
 ذہین رسا - (رع۔ ام۔ صفت) تیز ذہین۔  
 ذہین سے اتر جانا - (ام۔ محاورہ) بھول جانا۔ دھیان نہ رہنا۔  
 ذہین گند ہونا - (ام۔ محاورہ) جہمی ہونا۔  
 ذہین کھلنا - (ام۔ محاورہ) عقل کا تیز ہونا۔  
 ذہین لڑانا - (ام۔ محاورہ) سوچنا۔ غور کرنا۔  
 ذہین لڑنا - (ام۔ محاورہ) خیال کی رسائی ہونا۔  
 ذہین منتقل ہونا - (ام۔ محاورہ) کسی بات کی طرف خیال جانا۔  
 ذہین میں نہ بیٹھنا - (ام۔ محاورہ) کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا۔

صغیر دفترات۔ (انگ) (Sub clause)  
 ذیلی طیفیلی۔ (ر۔ج۔ف۔صفت) ماتحت۔  
 ذیلی گرفت۔ اے۔سی۔ بجلی کی تبادل برقی رو کی گرفت کو کہتے ہیں۔  
 جس کی لہریں ایک دوسری کی معاونت کرتی ہیں۔ انگریزی میں اُسے  
 سبڈیری وینس (Subsidiary Valency) بھی کہتے ہیں  
 ذیلی عنوان۔ (ر۔ج۔ا۔ مذ) کسی مضمون کی بغلی سرفی۔  
 ذیلی قواعد۔ (ر۔ج۔ا۔ مذ) قوانین کی مزید وضاحت کے لیے چھوٹے  
 بڑے قاعدے۔  
 ذیلی ممتحن۔ ماتحت ممتحن۔ (انگ) (Sub Examiner)

کئی گاڑیں ہوتے تھے۔  
 ذیلی گھر۔ (ر۔ج۔ف۔ا۔ مذ) ایک مکان جس میں معزز آدمی فریڈار فریڈار  
 وغیرہ آکر ٹھہرتے ہیں۔  
 ذیلی میں۔ ماتحت میں۔ پیچھے۔  
 ذیلی وار۔ (ر۔ج۔ف۔ا۔ مذ) ذیل کے حساب سے۔  
 ذیلی۔ (ر۔ج۔ف۔ا۔ مذ) ذیل کے حساب سے۔  
 ذیلی تقسیم۔ (ا)۔ نیچے کی تقسیم (ب)۔ کمزور درج کی تقسیم انگریزی اصطلاح میں  
 اسے سب ڈویژن (Sub Division) کہتے ہیں۔  
 ذیلی حاشیہ۔ (ر۔ج۔ا۔ مذ) پاسے وقت پر لکھی ہوئی عبارت (انگ)

(Foot Note)

ذیلی دفعہ۔ تازنی دفترات کی مزید وضاحت کے لیے چھوٹی چھوٹی





رات رہنا۔ (۱۔ عمارت) رات باقی ہونا (۲) رات کو قیام کرنا (۳) عورت کا مرد کے پاس رات کو سونا۔  
 رات رہے (سے)۔ (۱) ایسے وقت جب تھوڑی رات باقی ہو۔  
 رات زیادہ آنا۔ (۱۔ عمارت) رات کا بڑھتہ گزر جانا۔  
 رات کا بڑھ جانا۔ (۱۔ عمارت) رات کا موسم سراسیمہ لبا ہونا (۲) تکلیف یا انتظار کی وجہ سے رات کا لبا معلوم ہونا۔  
 رات کا پیٹ بھاری سے (۱) رات (۲) رات سب عیبوں کو بھالیتی ہے رات کا کاٹے کھانا۔ (۱۔ عمارت) رات کو تنہائی میں فرقت کی تکلیف ہونا رات کا کھانا یا دینیس رہتا۔ (۱) رات (۲) بہت بھول جانے والا آدمی ہے رات کٹ جانا۔ (۱۔ عمارت) رات بسر ہونا۔  
 رات کو جمانی آئے دن کو مرنے پھیلانے۔ (۱) رات (۲) کام میں عجلت کرنے والا۔  
 رات کو پھیر کی ٹانگ پکڑیں، دن کو اونٹ نہ بھائی دے۔ (۱) رات (۲) اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جسے رات کو زیادہ نظر آتا ہے اور دن میں کم۔  
 رات کی رات۔ (۱) رات (۲) صرف ایک رات۔  
 رات کی نیت حرام۔ (۱) رات (۲) عورتوں کا خیال ہے کہ رات کو کوئی تجویز کرنا منحوس ہوتا ہے۔  
 رات گئی بات گئی۔ (۱) رات (۲) موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔  
 رات گئے۔ ایسے وقت جب رات کا بڑھتہ گزر چکا ہو۔  
 رات ماں کا پیٹ ہے۔ (۱) رات (۲) اس کو سب آرام پاتے ہیں رات کو عیب پھینچ رہتے ہیں۔  
 رات نر بڑا اتری، صبح اٹھ کو میں سے ڈری، کواں دیکھ ڈری۔ (۱) رات (۲) خواہ مخواہ غمزے بگھارتی ہے۔ دکھانے کو ڈرتی ہے۔ خطرناک کام کر جائے اور تھوڑے خطرے سے ڈر جائے۔  
 رات نہ پکڑنا۔ (۱۔ عمارت) رات ہونے سے پہلے مر جانا۔ رات تک زندہ نہ رہنا۔  
 رات والا۔ (۱۔ مذ) (۲) رات (۳) بیضہ (۴) جاند۔  
 رات ہٹانی تڑکے آئی۔ بھوک بید نا بھری رے بھائی (۱) رات (۲) بھوک بڑی بلا ہے ہر وقت لگی رہتی ہے۔  
 راتوں رات۔ (۱) رات (۲) رات ہی رات میں۔ ایک رات میں۔  
 راتوں روئی ایک ہی سزا (موما)۔ (۱) رات (۲) بہت محنت کی فائدہ تھوڑا ہوا۔  
 راتوں کا نا کا تانا۔ سکر پرنیس ناتنا، رات (۲) بہت محنت کرتی ہے۔ پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔  
 راتا۔ (۱) رات (۲) (۳) صفت (۴) صرخ لال۔ قرمز (۵) صرخ رنگا ہوا۔  
 راتب۔ (۱) رات (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳

راج سبھا - (۵-امٹ) (۱) راجہ کادربار (۲) شاہی مجلس -  
 راج سبھاگ - (۵-۱-۱) مذ (۱) وہ زمانہ جس میں عورت کا خاندان زندہ سہو -  
 راج سبھاگ قائم رہے - (۱-۱-۱) معادہ) شادی شدہ عورت کے لیے دُعا -  
 راج کا راج میں - تاج کا تاج میں - بیاج کا بیاج میں -  
 سماج کا سماج میں - (ش) جس قسم کی آمدنی ہو ویسی ہی خرچ ہوتا ہے -  
 راجا کا سلطنت کے کاموں میں - ساہوکار کا فرضہ دینے میں اور  
 غلہ فروش کا تاج خریدنے میں (۲) ہر سات اپنے محل پر ہونی  
 چاہیے -  
 راج کرنا - (۱-۱-۱) معادہ) (۱) حکومت کرنا (۲) عیش میں زندگی بسر کرنا -  
 خوشی ہونا -  
 راج کمار - (۵-۱-۱) مذ) راجہ کا بیٹا - راجپوت - کنور - شہزادہ -  
 راج گماری - (۵-۱-۱) معادہ) راجا کی بیٹی - شہزادی -  
 راج کوی - (۵-۱-۱) مذ) (۱) درباری شاعر - ملک الشعراء - تمام شاعروں  
 سے بلند پایہ شاعر -  
 راج گدی - (۵-۱-۱) معادہ) تخت شاہی - تخت سلطنت -  
 راج گری - راج گیری - (۵-۱-۱) معادہ) معماری - عمارت یا تہہ کا کام -  
 راج گھاٹ - (۵-۱-۱) مذ) راجا کے بنانے کا گھاٹ - بہت بڑا گھاٹ -  
 راج نیتک - (۵-۱-۱) معادہ) سیاسی -  
 راج نیستی - (۵-۱-۱) معادہ) سیاست - نظام حکومت -  
 راج ہنٹ - بالک ہنٹ - تم یا ہنٹ - جوئی ہنٹ - (۵-۱-۱) معادہ)  
 راجہ پنجم - عورت اور فیروز جوں میں آئے کتے ہیں - کسی کی نہیں مانتے -  
 راج پھس - (۵-۱-۱) مذ) (۱) ایک قسم کی مرفانی - بڑی بٹ -  
 راجا - (۱-۱-۱) معادہ) (۱) بادشاہ - فرمان روا - حکمران (۲)  
 سنی - فیاض -  
 راجا آگے راج - پیچھے نہ چھلنی نہ چھاج - (ش) بیوہ عورت کہتی  
 ہے کہ خاندان کی زندگی میں بڑے مزے تھے اسکی دفات کے بعد کچھ بھی نہیں  
 راجا اندر کا اکھاڑہ (مجلس) - (۵-۱-۱) معادہ) راجا اندر کی کھل رخص  
 دسرود جو تمام دیوتاؤں اور پریوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے (۲) عیش و  
 نشاط (۳) خوبصورت عورتوں کا مجمع -  
 راجا ادھیراج - (۵-۱-۱) مذ) راجوں کا راجا - شہنشاہ -  
 راجا بلاوے ٹھاڑے آوے - (۵-۱-۱) معادہ) راجا بلاوے تو جلدی آتا  
 ہے - حاکم کی بہت تابعداری کرتا ہے -  
 راجا بھنے تو کیا ہوا انت جاٹ کے جاٹ - (۱-۱-۱) معادہ) باوجود  
 نودرتی کے قدیم عادت نہ بدلی -  
 راجا جوگی کس کے میست - (ش) بادشاہ اور جوگی کسی کے دست  
 پیش ہوتے -  
 راجا چھوڑے نگری جو بھاوے سولے - (ش) راجا سلطنت  
 چھوڑ دے تو جو چاہے کرے (۲) راجا اگر شہر چھوڑ دے تو جس کا دل  
 چاہے قبضہ کرے -  
 راجا راج پر جا (چین) سکھی - (ش) حاکم اچھا ہو تو رعیت آرام

سے رہتی ہے -  
 راجا رکھے رانی کھاوے (۱-۱-۱) معادہ) کتا کوئی ہے - اڈا تا کوئی ہے -  
 راجا روٹھے گا اپنی شوگر لے گا - (۱-۱-۱) معادہ) راجا ناراض ہوگا تو شہر  
 بدر کر دے گا وہاں بکتے ہیں بھانسی کی ناراضی کی پر داہنیں ہوتی -  
 راجا کا پرچا نا اور سانپ کا کھلانا برابر ہے (۱-۱-۱) معادہ) بادشاہوں  
 کی صحبت میں ہر وقت نظر ہوتا ہے -  
 راجا کا دان پر جا کا اشان - (۱-۱-۱) معادہ) خیرات اپنی حیثیت کے موافق  
 ہونی چاہیے - غریب بنانے تو وہی اس کی خیرات ہے -  
 راجا کا دو جا بکری کا بیجا دو نوں خراب - (ش) راجا کا دو سرا بیٹا  
 سلطنت کے لیے جھگڑا کرتا ہے اور بکری کا تیسرا بچہ بھوکا رہتا ہے کہ بچہ  
 بکری کے دو ہی تھن ہوتے ہیں -  
 راجا کو موتی کا دکھ - (۱-۱-۱) معادہ) جہاں افراط ہونی چاہیے وہاں کوئی چیز  
 نہ ملے تو بکتے ہیں -  
 راجا کیا جانے بھوکے کی سار - (۱-۱-۱) معادہ) بھوک کی قدر امیر آدمی  
 نہیں جان سکتا -  
 راجا کی بیٹی - قسمت (کرم) کی بیٹی - (۱-۱-۱) معادہ) امیر کی لڑکی غریب کے  
 گھر بیایا جاتے تو بکتے ہیں -  
 راجا کے گھر کا ج - ہمارے گھر ٹھک ٹھکا - (۱-۱-۱) معادہ) بادشاہوں کے  
 اخراجات کا بوجھ رعیت پر پڑتا ہے - بادشاہ مزے اڑائیں - غریب  
 بھوکے مرتے ہیں -  
 راجا کے گھر (آئی) گئی تروت رانی کہلائی - (۱-۱-۱) معادہ) جب غریب کی بیٹی  
 امیر کے گھر بیایا جاتے تو بکتے ہیں -  
 راجا کے گھر موتیوں کا کال - (۱-۱-۱) معادہ) کیا پر دابے - کیا کسی ہے -  
 (۲) جس کے پاس کوئی چیز کثرت سے ہو اور وہی نہ ملے، تو تعظیماً جھگڑا  
 ہونے لگتے ہیں - بھلا یہ بھی کیا بات ہے کہ یہ چیز آپ کے بس  
 کی نہیں -  
 راجا نل پر پینا پڑی بھونی پھل جل میں پڑی - (۱-۱-۱) معادہ) بُرے دن  
 آئیں تو ہر کام میں نقصان ہوتا ہے -  
 راجا جو کر چوری کرے نیا و کون کرے - (۱-۱-۱) معادہ) حاکم ہی ظلم کرے  
 تو انصاف کہاں ہے -  
 راجا جانی - (۱-۱-۱) معادہ) (۱) سلطنت - بادشاہی - فرمانروائی  
 حکومت (۲) امیری - دولت مند -  
 راج - (۱-۱-۱) معادہ) (۱) بہتر - غالب - فائق - پسندیدہ -  
 راجس - (۱-۱-۱) معادہ) (۱) راجرس (Rogers) کا ہنڈ - (۱-۱-۱) معادہ) لوہے  
 کے ایک انگریزی کارخانے کا مالک جس کے چاقو مشہور ہیں -  
 راج - (۱-۱-۱) معادہ) (۱) راجس (۲) راجس کرنے والا - پھرنے والا (۲) وہ  
 عورت جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے گھر واپس آجائے (۳)  
 وہ ادھنی جو معاملہ نہ ہو مگر معاملہ معلوم ہو -  
 راجل - (۱-۱-۱) معادہ) (۱) سوار کی جند -  
 راجوٹ - (۱-۱-۱) معادہ) (۱) حق - (۱-۱-۱) معادہ) حکومت - جگرانی -



راہِ سب - (راہِ سب) (ع۔ صفت) پکا مضبوط۔ اٹل۔

راہِ الاعتقاد - (ع۔ صفت) پکے ارادے کا۔ مضبوط ایمان کا۔

راسو - (ف۔ ا۔ مذ) نیولا۔

راسی - (راسی) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) اوسط نسل کا گھوڑا (۲) بے پروا (۳)

[صفت] معمولی۔

راشد - (راہِ رشد) (ع۔ صفت) ہدایت پانے والا۔ ہدایت یافتہ۔

راشن - (Ration) (راہِ رشن) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) لاتب۔ خوراک

(۲) مقررہ مقدار جو ایک بار ملے۔

راشن ڈپو - (Ration Depot) (انگ۔ ا۔ مذ) راشن کی دکان۔

راشن کارڈ - (Ration Card) (انگ۔ ا۔ مذ) وہ پروانہ جس

پر راشن کی مقدار اور کارڈ والے کا نام و پتہ درج ہو۔

راستی - (راستی) (ع۔ صفت) رشوت دینے والا (عام بول چال میں رشوت

لینے والا۔

راضی - (ع۔ صفت) (۱) شاد۔ خوش۔ رضامند (۲) [اُر] صابر۔ شاکر۔

(۳) تندرست۔

راضی برضا - (ع۔ صفت) خدا کے حکم پر راضی۔ خدا کی مرضی کو تسلیم

کرنے والا۔

راضی خوشی - (۱) ٹھیک ٹھاک۔ تندرست۔ رضامندی سے۔

راضی نامہ - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) باہمی فیصلے کی وہ تحریر جو سرکار میں فریقین

کی رضامندی سے داخل کی جاتی ہے۔ صلح نامہ۔

راعی - (راہِ عی) (ع۔ ا۔ مذ) چرواہا (کنایتاً) بادشاہ۔

راہ - (ف۔ ا۔ مذ) (۱) پھاڑ کے نیچے کامیدان (۲) سبزہ زار (۳) جنگل۔

راغب - (راہِ رغبت) (ع۔ صفت) مائل۔ خواہش مند۔

رافت - (راہِ رفت) (ع۔ ا۔ مذ) مہربانی۔ رحمت کی شدت۔

راہِ فنی - (راہِ فنی) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) وہ گروہ جو اپنے سردار کو چھوڑ

دے (۲) سردار آج وہ پروانہ زید بن علی بن حسین جنہوں نے آپ کا

ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جمع، روافض

رایف - (راہِ رف) (ع۔ صفت) (۱) بلند کرنے والا (۲) حرف کو پیش لینے والا

رایف - (ع۔ صفت) رقیب (۲) دیکھنے والا۔ نگاہ رکھنے والا۔

راجم - (راہِ رجم) (ع۔ ا۔ مذ) کاتب۔ لکھنے والا۔ نویندہ۔

راقم الحروف - (ع۔ ا۔ مذ) حرفوں کا لکھنے والا۔ نویندہ۔

راکب - (راہِ راکب) (ع۔ ا۔ مذ) جانور یا جہاز پر سوار ہونے والا۔ سوار۔

راکٹ - (Raket) (راہِ راکٹ) (انگ۔ ا۔ مذ) جوائی۔ بان۔ گول اور

مخروطی شکل کا خود کار بم۔

راکٹ - (راہِ راکٹ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) کم درجے کی زمین جس میں صرف خلیق کی

فصل بونی جاتی ہے۔

راکد - (ع۔ صفت) رُکا ہوا۔ پانی۔ بند پانی۔

راکب - (راہِ راکب) (ع۔ ا۔ مذ) جنگلوں میں رہنے والا وحشی آدمی۔

راہ - (راہِ راکب) (ع۔ صفت) رکوع کرنے والا۔ عبادت کرنے والا۔

راکھ - (ع۔ ا۔ مذ) خاکستر۔ جھسم۔ بھبھوت۔ بھو بل۔ کسی جلی ہوئی چیز کی خاک

راس لیلیا - (ع۔ ا۔ مذ) کرشن جی اور ان کی گویوں کا کھیل۔

راس ملنا - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) دو شخصوں کے طالع کا یکساں ہونا (۲) متفق

ہونا۔ موافقت ہونا۔

راس نشین - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) گودلیا جو اڑا کا۔

راس نہ ہونا - (ع۔ ا۔ مذ) موافق نہ ہونا۔ مزاج کے خلاف ہونا (۲)

کاروبار کے لیے رہ پیم نہ ہونا۔

راست - (ع۔ صفت) (۱) سیدھا۔ دیاں (۲) سچ۔ ٹھیک۔ درست۔

(۳) سازگار۔ موافق۔

راست آنا - (ع۔ ا۔ مذ) سازگار ہونا۔

راست اقدام - (ع۔ ا۔ مذ) صحیح اقدام (۲) براہ راست کارروائی

جو کسی مطالبہ کے منانے کے لیے کی جائے (انگ) (Direct Action)

راست باز - (ع۔ صفت) سچا۔ ایماندار۔ دیانت دار۔

راست بازی - (ع۔ ا۔ مذ) ایماندار۔ سچائی۔ دیانت داری۔

راست رو - (ع۔ صفت) (۱) سیدھا چلنے والا (۲) ایماندار۔

راست گفتار - (ع۔ صفت) سچ بولنے والا۔ صاف گو۔

راست گفتاری - (ع۔ صفت) سچ بولنا۔ سچ بولنا۔

راست معاملہ - (ع۔ صفت) وہ جو بین دین میں صاف یا

ایماندار ہو۔

راستہ - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) سڑک۔ راستہ۔ راہ (۲) رسم۔ رواج۔ دستور

قاعدہ (۳) ڈھنگ۔ طریقہ۔

راستہ بتانا - (ع۔ ا۔ مذ) راستہ دکھانا۔ راستے پر ڈالنا (۲) ہدایت کرنا۔

(۳) مثال دینا۔ چلنے والے کرنا۔

راستہ بچانا - (ع۔ ا۔ مذ) راستہ بچانا۔ ایک طرف ہونے کے نکل جانا۔

راستہ بھنگنا - (ع۔ ا۔ مذ) راہ جو جانا۔ سیدھے راستے پر

نہ رہنا۔

راستہ دکھانا - (ع۔ ا۔ مذ) راہ بتانا۔ راہنمائی کرنا (۲) انتظار کروانا۔

راستہ دیکھنا - (ع۔ ا۔ مذ) انتظار کرنا۔

راستہ کاٹ کے چلنا - (ع۔ ا۔ مذ) راہ بچانا۔ راستہ بچا کر

چل جانا۔

راستہ کو (ناپو) - (ع۔ ا۔ مذ) چلے جاؤ۔ چلتے ہو۔

راستہ لینا - (ع۔ ا۔ مذ) راہ بچانا۔ چلے جانا۔

راستہ ناپنا - (ع۔ ا۔ مذ) چلے جانا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنا۔

راستی - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) سچائی۔ صدق (۲) ایماندار۔ دیانتدار

(۳) سیدھا ہونا (۴) درست ہونے کی حالت۔

راستی پر آنا - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) سچ بولنا (۲) سیدھے راستے پر آنا۔

راستی سے - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) راستی سے (۲) ایماندار سے۔ دیانت داری سے (۳)

انصاف سے۔ سچائی سے۔

راستی کا چلنا - (ع۔ ا۔ مذ) ٹھیک چلنا۔

راستی موجب رضا کے خدا راست۔ (ع۔ صفت) سچائی سے خدا

خوش ہوتا ہے۔

اس کو دیت - (رشل) خدا سر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق دیتا ہے۔  
 رام چھوڑی ابو دھیا کن بھاوے سولے - (رشل) جو چیز چھوڑ  
 دی اس سے کچھ مطلب نہیں - خواہ اسے کوئی لے لے۔  
 رام دانہ - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ایک قسم کا بیج جس کی مالابنا تے ہیں۔  
 رام کوٹلی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) خدا کی قسم (۲) خدا کی پناہ۔  
 رام راج - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ہندوؤں کی مذہبی حکومت۔  
 رام رام - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ہندوؤں کا باہمی سلام (۲) صاحب سلامت  
 (۳) توبہ توبہ۔  
 رام رام چینا - پرایا مال اپنا - (رشل) بظاہر ہر میزگاری اور باطن  
 میں بے ایمانی۔  
 رام ریس - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ذوق الہی (۲) نمک۔  
 رام رنگی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) مشرب - مشرب - شراب کو یہ نام بھی لکھنے دیا تھا۔  
 رام رولا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) مذہبی جوش (۲) مناجات خوانی (۳) محل شور۔  
 رام گلی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ایک راگنی کا نام جو صبح کے وقت گائی جاتی ہے۔  
 رام کی مایا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) قدرت کے کہیں۔  
 رام کی مایا کہیں دھوپ کہیں چھایا - (رشل) خدا کی قدرت ہے۔  
 کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں - کہیں دکھ ہے کہیں مجھ۔  
 رام لیلا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) دہرے کا لیلا - رام چندر جی کی فتوحات کی نقل  
 جو ہندو دہرے کے مرتبہ پر کرتے ہیں۔  
 رام ملانی جوڑی - ایک اندھا ایک کوڑی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) دونوں ایک  
 بیسے بد معاش۔  
 رام نومی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) رام چندر جی کا جنم دن - ہندوؤں کا وہ تہوار جو چیت  
 کے پھلے پاکھ کی نویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔  
 رامانندی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ہندو فیتروں کا وہ گروہ جو رام  
 کے سوا دوسرے کو نہیں مانتا۔  
 رامائین - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) نظم کی کتاب جو پہلے بائبلک جی نے سنسکرت  
 میں اور پھر تسمی داس نے ہندی میں رام چندر جی کے حالات میں لکھی۔  
 رامش - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) دف - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) آرام - آسائش - استراحت (۲)  
 خوشی - مسرت (۳) خوشی میں گانا (۴) صلاح - مشورہ (۵) سردوں کا  
 میل - ہم سازی۔  
 رامش جان - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ایک مسر کا نام (۲) تیس میں سے آٹھویں  
 نئے کا نام جو بارہ پڑنے ایجاد کے تھے۔  
 رامش گر - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) گویا - مغرب - گانے والا (۲) عیاش۔  
 رامش گری - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) گانا بجانا (۲) گفتگو۔  
 رامش دلنگ - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ناچ گانا - عیش و عشرت۔  
 ران - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) مٹا ٹانگ کا گھٹنے سے اُپر کا حصہ (۲) [اگر] آسن  
 پیٹک۔  
 ران اکھڑنا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) گھوڑے پر سوار کی ران کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔  
 ران تلے آنا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) سوار کے نیچے آنا - سواری دینا (۲) قابو  
 میں آنا۔

راکھ جھاڑنا - کوٹلوں یا اٹیوں سے راکھ میلخہ کرنا۔  
 راکھ سر پر ڈالنا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) سخت علم کا اظہار۔  
 راکھی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) [۱] ہاتھ رکھا یعنی محافظت کرنے والا ڈورا - ہندو  
 یہ رنگین ڈورا سلونکے تہوار میں کلائی پر باندھتے ہیں - رکھڑی۔  
 راگ - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) نغمہ - ترانہ - لے - سر (۲) قصہ - کہانی (۳) جھگڑا -  
 فساد (۴) رنگ - برن (۵) جوش - دلولہ (۶) محبت - اُلفت شفقت  
 (۷) رنج و غصہ (۸) خواہش۔  
 راگ الاپنا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) اپنی ہی کہے جانا۔  
 راگ دینا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) دم دینا - دھوکا دینا (۲) بیٹک دینا - کسی  
 کے نام کا گانا کرنا۔  
 راگ رنگ - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) رنگ رلیاں عیش و عشرت - کھیل - تماشا۔  
 راگ گانا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) قصہ سنانا - سرگزشت سنانا -  
 بیچوں کا رونا۔  
 راگ لانا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) جھگڑا نکالنا - سنانا - جھگڑا پھیلانا (۲) کھیلنا (۳)  
 جوش اور دلولے میں آنا۔  
 راگ مالا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) وہ کتاب جس میں راگ کے اصول اور مختلف  
 وانگنیوں کا بیان درج ہو (۲) لمبا قصہ۔  
 راگنی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) [۱] راگ کی ایک شاخ (۲) راگ کا ہر  
 شعبہ (کل راگوں کی چھتیس راگنیاں ہیں (۳) بدکار عورت۔  
 راگی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) [۱] کلاسیکی موسیقی کا ماہر - گویا۔  
 رال - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) [۱] کتاب دہن - منہ کا بیج (۲) چیز کا گوند۔  
 رال بہنا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) منہ سے نماب نکلنا۔  
 رال ٹپکنا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) منہ سے رطوبت کا ٹپکنا (۲) مزے کے مارے  
 منہ میں پانی بھر آنا - (۳) عاشق ہونا۔  
 رام - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) صفت - تابع - مطیع - فرمانبردار  
 رام کرنا - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) [۱] ہمارے تابع کرنا - قابو میں لانا - راضی کرنا۔  
 رام - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) [۱] پریشور - پروردگار (۲) پر سرام - دشمن اور رام  
 چندر جی کا خطاب (۳) [۱] خوشگوار (۲) خوبصورت (۵) سیاہ۔  
 رام بھجن - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) یاد خدا - مناجات۔  
 رام بھجو - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) روزمرہ خدا کا نام لو - باز آؤ۔  
 رام بنا دکھ کون ہرے - برکھا پن ساگر کون بھرے {  
 پھی پی بن ادر کون کرے - ماتا پن بھجو جن کون دھرے {  
 [۱] خدا دکھ کو دور کرتا ہے - بارش سندر کو بھرتی ہے۔  
 دولت عزت کراتی ہے - اور ماں کھانے کو دیتی ہے۔  
 رام بھر دسا بھاری ہے - [۱] خدا پر بھر دسا کرنا بہت اچھی بات ہے  
 رام پھل - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ایک قسم کا مسرخ رنگ - ترشی مائل شریف جو  
 رام چندر جی کو بہت مرعوب تھا۔  
 رام تری - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) ایک قسم کا کدو - گھٹیا۔  
 رام جتی - (۱-۱۰-۱۱-۱۲) [۱] ہندو زندگی - بیوا۔  
 رام بھر دے بیٹھ کے سب کا بھرا لیت جیسی جاکی چاکری دیا

رانڈکے چرنے کی طرح چلا ہی جا رہا ہے۔ (ایشل) بہت بک  
بک کرتا ہے۔ بڑا بکواسی ہے۔

رانڈا۔ (ران۔ ڈا)۔ (۱) مذ [ ۱۱ ] بجز زمین (۲) وہ شخص جس کی بیوی  
مرگئی ہو۔ رنڈو (۳) درخت جو پھل نہ دے۔

رانڈا گیا سگائی کو۔ آب کو لائے یا بھائی کو (ایشل) جہاں کوئی کام  
کرنے والا چلے اپنے لیے کرے اور پھر دوسرے کے لیے دہاں کہتے  
ہیں۔ ایسے آدمی کو کام نہیں کہنا چاہیے۔

رانگ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ایک نرم دھات۔ قلعی۔ رانگا (۲) ایک قسم کا عمدہ سیسہ  
رانگ بھریا۔ رنگ بھریا۔ (ہ۔ ا۔ مذ) وہ شخص جو رانگ کا زیور اور  
کھلونے بنا کر بیچتا ہے۔

رانگ ہونا۔ (ا۔ ا۔ مذ) نرم ہونا۔ پگھلنا (۲) غصہ ڈور ہونا۔

رانگ ہیرے کو کاٹتا ہے۔ (ایشل) بھی ناتواں زبردست پر غالب آجاتا  
رانگ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) قلعی۔ رانگ۔

رانگھڑ۔ (ران۔ گھڑ)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) ایک نوسلم قوم جو پہلے راجپوتوں میں  
شمار کی جاتی تھی۔

رانوال۔ (راوال۔ راون۔)۔ (ق۔ ا۔ مذ) طوطا۔

رانوں پر ہاتھ مارنا۔ (ا۔ ا۔ مذ) افسوس کرنا۔ ماتم کرنا۔

رانی۔ (را۔ نی)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) [ ۱ ] ملک۔ راجا کی بیوی (۲) معزز ہندو  
عورتوں کا خطاب۔

رانی خاں کا سالار۔ (امد) (خاترا) زبردست بکتیر میمنزور۔ بیشی باز۔

رانی دیوانی ہوئی اوروں کو پتھر اپنوں کو لڈو مارے۔ (ایشل)

دیوانہ بکار خویش ہو شار۔ اندر کی دیوانگی میں بھی اپنا ہی فائدہ ہے۔

رانی روٹنے کی۔ اپنا سہاک لے کی۔ کیا کسی کا بھاگ لے گی

(ایشل) رانی ناراض ہوگی تو اپنا ہی نقصان کرنے لگی۔ کسی کا نصیب نہیں چھین

سکتی۔ کسی کے روٹھ جانے کی پروا نہ ہونے کے موقع پر یہ مثل

کہتے ہیں۔

رانی کو بانڈی کہا۔ مس دی۔ بانڈی کو بانڈی کہا۔ رودی۔ (ایشل)

شریف کو کینڈہ ہو تو وہ پروا نہیں کرتا، لیکن کینڈے کو کینڈہ کہو تو اسے بڑا

معلوم ہوتا ہے۔

رانی کو رانا پیارا۔ کافی کو کانا پیارا۔ (ایشل) ہر شخص کو اپنا ہم جنس

پیارا ہوتا ہے۔

رانی کو کون کے آگ ڈھک۔ (ایشل) بڑے آدمیوں کو غلطی کرتے

ہوئے دیکھ کر کون ٹوک سکتا ہے۔

رانی کھیت۔ (ہ۔ ا۔ مذ) مرغیوں کی ایک عام بیماری۔

رانی کھن۔ وہ خانگی لڑائی جو مدت تک ٹھہریں رہے (بچانے کے ساتھ)۔

رانی گئیں پاٹ۔ لائیں رکھ کر چلی کے پاٹ۔ (ایشل) بڑے

آدمی بعض وقت فضول چیزیں خریدتے ہیں۔

راوت۔ (را۔ وت)۔ (ہ۔ ص) [ ۱ ] بہادر۔ شجاع۔ سورما (۲)

راجپوتوں کی ایک قوم (۳) خاکدہوں کی ایک اعلیٰ قوم جو دوسروں کا

جوٹا نہیں کھاتی۔

ران جمانا۔ (ا۔ ا۔ مذ) سوار کاران کو مضبوطی سے جمانا۔ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا  
ران سے ران بانڈھنا۔ (ایشل) زانوسے زانوا بانڈھ کر بچنا نا۔ گھٹنے  
سے لگا کر بٹھانا (۲) دُور نہ ہونے دینا۔

رانانا۔ (رانانا)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) چھوٹا سا راجا۔ ٹھاکر (۲) راجپوتوں کا  
ایک فرقہ (۳) راجپوتوں کا ایک خطاب جو راجا کے بیٹے کو  
کہتے ہیں۔

رانبھنا۔ (رانبھنا)۔ (ہ۔ ص) گائے کا چلانا۔ گائے کا صبح کے وقت بولنا۔

رانپنی۔ (ران۔ پی)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) [ ۱ ] دیکھنے والا۔

رانپنجا۔ (پ۔ ا۔ مذ) ایک پنجابی عاشق جس کی محبوبہ میر تھی۔

رانپھن۔ (ران۔ پھن)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) مٹی کا بڑا ٹکڑا۔

رانپھن۔ (رانپھن)۔ (ران۔ پھن)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) [ ۱ ] عاشق۔ محبوب۔

پیارا۔ مستحق (۲) عزت والا شخص۔

راندر۔ راندر۔ (ہ۔ ا۔ مذ) [ ۱ ] مٹھا۔ مٹھا۔ بچھڑا۔

راندر کاٹنا۔ (ا۔ ا۔ مذ) چھکڑا ختم کرنا۔ فیصلہ کرنا۔

راندر۔ (ران۔)۔ (ہ۔ ا۔ مذ) [ ۱ ] نکالا ہوا۔ دھتکارا ہوا۔ خارج۔

راندر درگاہ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) وہ شخص جو درگاہ الہی یا دربار بادشاہی سے نکالا

گیا ہو۔ مردود۔

راندرھنا۔ (راندرھنا)۔ (ہ۔ ص) [ ۱ ] پکانا۔ ریندھنا (۲) پرخہ چلانا۔

راندر۔ (ہ۔ ا۔ مذ) [ ۱ ] بیوہ عورت۔ وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو (۲)

مناج۔ دست نگر (۳) رنڈی۔ کسی۔ بیوا (۴) لونڈی۔ کینز۔

رانڈ اور کھانڈ کا جو بن رات کو۔ (ایشل) عورت اور کھانڈرات

کے وقت اچھی معلوم ہوتی ہیں۔

رانڈر ہے جو رنڈو سے رہنے دیں۔ (ایشل) عورتیں بد چلن نہ

ہوں اگر مردان کا پتھر کرنا چھوڑ دیں۔

رانڈ۔ بھانڈ۔ سانڈ۔ بگڑے بڑے۔ (ایشل) ان تینوں کے ساتھ

دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ رانڈ بھاگ جاتی ہے۔ بھانڈ بدنام کرتا ہے۔

سانڈ مارتا ہے۔

رانڈر رونا۔ (ہ۔ ا۔ مذ) [ ۱ ] عورتوں کا سارونا۔ بیوہ کی طرح رونا (۲) بے لطف

اور بے مزہ کہانی (۳) قصہ تم۔ پیتا۔

رانڈر رووے۔ کواری رووے، ساتھ لگی ست خصمی رووے

(ایشل) رانڈر روتی ہے اس کا خاوند مر گیا۔ کواری روتی ہے اس کا باپ

مر گیا۔ ست خصمی کیوں روتی ہے دہاں کہتے ہیں جہاں کوئی دکھانے

کے لیے ہمدردی ظاہر کرے۔

رانڈ کا سانڈ۔ (ا۔ ص) [ ۱ ] وہ شخص جو بیوہ ماں کی کمانی کھا کر پلا ہو۔

نالائش بیٹ (۲) بے پروا۔ نڈر۔ بے باک۔ آوارہ۔

رانڈ کا سانڈ سوداگر کا کھوڑا۔ کھاوے بہت چلے تھوڑا (ایشل)

خود سہ اور ناز پروردہ آدمی اور سوداگر کا کھوڑا دیکھنے کی چیزیں ہیں۔

کام کو نہیں۔

رانڈ کی کاٹھ میں مال کا لوک۔ (ایشل) رانڈ کے پاس روپے پیسے

کی بہت کمی ہوتی ہے۔

راہ حقیقت - (ف - ح - ج - د) سچائی کا راستہ - درست راستہ -  
 راہ دار - چوکیدار - مرگ کا رکھوالا - راستے کا حصول لینے والا -  
 راہ داری - (ف - ا - مٹ) راستے پر چلنے کا اجازت نامہ (۲) پاسپورٹ  
 (۳) راستے کا حصول -  
 راہ داری کا پروانہ - وہ اجازت نامہ جو کسی حاکم کی طرف سے کسی شخص  
 کے لیے راستے سے گزر جانے کی غرض سے محافظانِ راہ کے نام  
 لکھا جائے -  
 راہ درپیش ہونا - (۱) محاورہ) سفر آگے ہونا -  
 راہ دکھانا - راہ دکھلانا - (۱) محاورہ) (۱) انتظار کرنا (۲) راستہ بتانا -  
 راہ دیکھنا - (۱) محاورہ) انتظار کرنا - آس کرنا -  
 راہ دینا - (۱) محاورہ) (۱) آنے جانے کے لیے راستہ چھوڑنا (۲) فال یا  
 استخارے کی اجازت دینا -  
 راہ راست - (۱) محاورہ) سیدھا راستہ - صراطِ مستقیم - نیک چلنی -  
 راہ راہ جانا - (۱) محاورہ) (۱) سیدھے راستے جانا (۲) چال چلن نیک رکھنا  
 (۳) متوسط طریقہ اختیار کرنا -  
 راہ رسم کرنا - (۱) محاورہ) دوستی پیدا کرنا - شناسائی کرنا -  
 راہ رکھنا - (۱) محاورہ) تعلق رکھنا - دوستی رکھنا - میل جول رکھنا -  
 راہ رو - (د) راہ گیر - مسافر - راہی -  
 راہ روشن - (ف - ا - مٹ) (۱) چال چلن - برتاؤ (۲) ڈھنگ (۳) ادب  
 (۴) قاعدہ (۵) خصلت -  
 راہ ریت - (۱) مٹ) (۱) راہ اور دروازہ (۲) ضابطہ (۳) معمول -  
 راہ زن - (ف - ا - مٹ) (۱) بیٹا - ڈاکو - بیٹ مار - قزاق -  
 راہ زنی - (ف - ا - مٹ) قزاقی - ڈکیتی -  
 راہ سر - راہ سے - ڈھنگ سے - سیدھی طرح - انصاف سے -  
 راہ سوجھنا - (۱) محاورہ) سمجھ میں آنا - تدبیر سوجھنا -  
 راہ سے لے راہ ہونا - (۱) محاورہ) سیدھا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ چلنا -  
 راستہ تبدیل کرنا - بد وضع و ادب باش ہونا - گمراہ ہونا -  
 راہ سے پھرنا - (۱) محاورہ) آتے آتے راستے میں سے لوٹ جانا کسی  
 مسلک یا نظریہ کو چھوڑ دینا -  
 راہ طے کرنا - (۱) محاورہ) راستہ چلنا -  
 راہ فرار اختیار کرنا - (۱) محاورہ) بھاگ جانا -  
 راہ کاٹنا - راستہ چلنے کے آگے سے نکل جانا - ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے  
 سے جانا - راہ چلنے میں مانع ہونا -  
 راہ کتر کر نکل جانا - (۱) محاورہ) کسی کو دیکھ کر دوسرے راستے کی طرف  
 چلے جانا -  
 راہ کٹنا - (۱) محاورہ) منزل طے ہونا - راستہ لورا ہونا -  
 راہ کھلنا - راستہ پیدا ہونا - تدبیر نکلنا -  
 راہ کھولی کرنا - (۱) محاورہ) (۱) چلنے میں دیر لگانا (۲) چلنے کام میں روٹا  
 اٹکانا - حرج کرنا - نخل انداز ہونا کسی کام بگاڑنا -  
 راہ کی بات - (۱) مٹ) (۱) کنایت) (۱) اچھی بات - سخن شناسنتہ -

راول - (۱) اول) (۱) مذ) (۱) سردار - افسر - زور آور (۲) سپاہی - پیادہ -  
 (۳) دین) جوگی (۴) تڑال - جوتشی -  
 راوی - (۱) راوی) (۱) مع - ۱ - مذ) (۱) روایت کرنے والا - سن کہنے والا -  
 ناقل - مؤرخ - مصنف -  
 راہ - (ف - ا - مٹ) (۱) راستہ - مرگ - طریقہ (۲) غرض - مطلب (۳)  
 ڈھب - وضع (۴) میل جول - آشنائی - دوستی (۵) خبر - آگاہی (۶)  
 موقع - محل - تدبیر (۷) حیلہ - بہانہ -  
 راہ باندھنا - (۱) محاورہ) راستہ روکنا - داخل نہ ہونے دینا - روکنا -  
 راہ بنانا - (۱) محاورہ) (۱) راستہ دکھانا - ہدایت کرنا - طریقہ بتانا (۲) مال دینا  
 (۳) نکال دینا - موقوف کر دینا (۴) دھوکا دینا - دم دینا (۵) ڈھنگ دکھانا  
 (۶) رشتہ کرنا - ٹالنا -  
 راہ بڑ - راہنما - (۱) راہی - راہنما - پیشوا (۲) سردار -  
 راہ بزمی - (۱) مٹ) راہنمائی - ہدایت - راستہ دکھانا -  
 راہ بند کرنا - (۱) محاورہ) راستہ روکنا - کوئی طریقہ باقی نہ رہنے دینا -  
 راہ بھٹکنا - (۱) محاورہ) غلط راستے پر چل نکلنا -  
 راہ بانا - (۱) محاورہ) موقع پانا - گنجائش پانا -  
 راہ پرا آنا - (۱) محاورہ) کہنا ماننا - موافق ہو جانا - نیک بننا - سیدھے  
 راستے پر آ جانا -  
 راہ پر لانا - (۱) محاورہ) (۱) سیدھا راستہ بتانا - ڈھب پر لانا (۲) اصلاح  
 کرنا - نیک بنانا (۳) راضی کرنا - یار بنانا -  
 راہ پر لگانا - (۱) محاورہ) اپنے ڈھب پر لے آنا - اپنی مرضی کے مطابق  
 بنا لینا -  
 راہ پڑنا - (۱) محاورہ) درست راستے پر آ جانا - ایک دوسرے پر اعتبار کرنا -  
 راہ پھٹنا - (۱) محاورہ) ایک راستے کا دوسرے سے علیحدہ ہو جانا -  
 راہ پڑے چھینے یا باہ پڑے چھینے - (۱) ایشل) نئے آدمی کی اصلیت  
 ہم سفر ہونے یا واسطہ پڑنے سے معلوم ہوتی ہے -  
 راہ پیدا کرنا - (۱) محاورہ) راستہ دریافت کرنا - دوستی پیدا کرنا - کسی کام  
 میں واقفیت حاصل کرنا -  
 راہ پیمیا - (ف - صغ) راہ رو - راستہ چلنے والا - مسافر -  
 راہ تکنا - (۱) محاورہ) انتظار کرنا - دیکھنے راہ دیکھنا -  
 راہ چینی - (۱) مٹ) (۱) نشتر آختر - وہ تمھاری جو ہندو مڑو سے کی  
 نجات کے لیے برہمنوں کو دیتے ہیں -  
 راہ چلتا - (۱) مذ) راہ گیر - مسافر - راہ رو - راستے میں گزرنے والا -  
 راہ چلتوں کا پلہ پکڑنا - (۱) محاورہ) راہ گیروں کے سر ہونا - خواہ مخواہ  
 کسی سے لڑنا -  
 راہ چلنا - (۱) محاورہ) راستے پر چلنا - طریقہ یا ڈھنگ اختیار کرنا -  
 راہ چھوڑ کر گمراہ چلنا - (۱) محاورہ) راہ راست سے بھٹکنا - گمراہ ہونا -  
 بڑے ڈھنگ سے چلنا -  
 راہ چلے یا پاس لے جب جانیے - (۱) ایشل) دیکھے راہ پڑے جانیے  
 یا باہ پڑتے جانیے -

راہجو۔ (را۔ ہجو) (۵۔ ۱۔ مذ) (۱) دیو۔ مجھوت۔ جتن (۲) ایک ستارہ۔ راس۔  
 راہی۔ (را۔ ہی) (ف۔ ۱۔ مذ) مسافر۔ راہ رُو۔ راہ گیر۔  
 راہشا۔ (را۔ شا۔ تا) (۵۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کی خرداک جو بینگن۔ کتدو وغیرہ کو گرم  
 رکھ جس مجلس کر یا بال کر دی میں ڈال کر بناتے ہیں۔  
 راہشا بنانا۔ (را۔ محاورہ) (۱) بھرتا بنانا (۲) خوب مارنا پیشنا۔ کچور نکالنا۔  
 راہشٹر۔ (Writer) (انگ۔ ۱۔ مذ) محتر۔ منشی۔ کلرک۔ کاتب۔  
 راقم (۲) مصنف۔ ادیب۔  
 راج۔ (را۔ اج) (ج۔ صفت) (۱) جاری۔ رواں۔ عام (۲) رسمی۔ دستور  
 کے مطابق۔  
 راج الوقت۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) زمانے کا دستور یا فیشن (۲) سکہ جو  
 جاری ہو۔  
 راج کرنا۔ (ممن۔ مرکب) جاری کرنا۔ رواج دینا۔  
 راجھ۔ (ج۔ ۱۔ مذ) چاک سوار۔ گھوڑے کو مدھانے والا۔  
 راجھ۔ (را۔ اج۔ ج) (ج۔ ۱۔ مذ) خوشبو۔ جمع۔ راجھات۔  
 راجھل۔ (Rifle) (را۔ اے۔ فل) (انگ۔ ۱۔ صفت) ایک نالی بندش  
 جس کے اندر دنی جھتے میں چھریاں بنی ہوتی ہیں جن سے گولی پکڑ  
 کھاتی ہوئی بھکتی ہے۔  
 راجگان۔ (را۔ اے۔ گان) (ف۔ صفت) (۱) بے کار۔ فضول۔ اکارت  
 (۲) [اُر] ضائع۔ لا حاصل۔ عبث۔  
 راجلیٹی۔ (Royalty) (را۔ ال۔ ٹی) (انگ۔ ۱۔ صفت) معاوضہ جو  
 نامشرف صنف کو یا کان کنی کا ٹیکس دوار زمیندار کو دے۔  
 راؤ۔ (۵۔ ۱۔ مذ) (۱) کنور۔ راجا کا بیٹا (۲) ہندوؤں کے لیے ایک سرکاری  
 خطاب (۳) بڑا (۴) سردار۔  
 راؤ جاؤ۔ (۵۔ ۱۔ مذ) لاؤ پیار۔ اخلاص۔ ناز و خزا۔ پہل۔ مزاج۔  
 دل لگی۔  
 راؤٹی۔ (را۔ اُ۔ ٹی) (۵۔ ۱۔ صفت) (۱) چھوٹا تنبو۔ چھوٹا داری (۲)  
 بالا خانہ۔ چوبارا۔  
 راؤنڈ۔ (Round) (را۔ اُنڈ) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) دُور۔ پھیرا (۲)  
 چکر۔ دائرہ۔ گھیرا۔ جلقہ (۳) صفت) گول۔ مدور۔ بیضی۔  
 راؤنڈ اباؤٹ۔ (Round About) (۱) وہ جگہ جہاں سے گاڑیوں  
 کو چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہے۔ چکر چوک۔  
 راٹی۔ (را۔ ائی) (۵۔ ۱۔ صفت) (۱) ایک قسم کی سرسوں۔ خردل (۲) ذرا  
 سی مقدار۔  
 راٹی اتارنا۔ (۱) (۱) محاورہ) کسی کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے  
 اس کے سر پر سے راٹی اتار کر جلانا۔  
 راٹی بھر۔ (۱) صفت) ذرا سا۔ قدر سے۔ قلیل۔  
 راٹی بھر سگائی۔ پیٹھا بھر چریت۔ راٹی بھرنا طہ گاڑی بھر آسانی۔  
 (۱) (۱) صفت) ذرا سا رشتہ بہت سی محبت سے بہتر ہے۔  
 راٹی سے پریت ہونا۔ (۱) محاورہ) نہایت چھوٹے سے بہت بڑا ہو  
 جانا۔ بڑھ جانا۔

راہ گریزا اختیار کرنا۔ (۱) محاورہ) بھاگ جانا۔ فرار ہونا۔  
 راہ گزر۔ (۱) (۱) مذ) راستہ۔ مرگ۔ شارع۔  
 راہ گلی میں۔ (۱) (۱) صفت) راستے میں۔  
 راہ گیر۔ (۱) (۱) مذ) راہی۔ راہ رُو۔ مسافر۔  
 راہ لگانا۔ (۱) محاورہ) رہنمائی کرنا۔ ڈھنگ پر لانا۔ اپنے موافق کر لینا۔  
 راہ لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) چل دینا۔ راستہ پکڑنا (۲) اپنا کام کرنا (۳)  
 پڑے بسر کرنا۔  
 راہ مار۔ (۱) (۱) مذ) راہ زن۔ لٹیرا۔ قزاق۔  
 راہ ملنا۔ (۱) محاورہ) کوئی تدبیر شکل آنا۔ راستہ پانا۔  
 راہ میں آنکھیں کھینا۔ (۱) محاورہ) پذیرائی کرنا۔ نہایت مجز و تواضع  
 سے استقبال کرنا۔  
 راہ میں کچھ جانا۔ (۱) محاورہ) بہت تواضع کرنا۔ بڑی عاجزی سے استقبال کرنا  
 راہ میں ٹھوکریں کھانا۔ (۱) محاورہ) جھٹکنا۔ منزل پر نہ پہنچ سکا۔  
 راہ میں حائل ہونا۔ (۱) محاورہ) راستہ روکنا۔ راستے میں آجانا۔  
 راہ میں رہ جانا۔ (۱) محاورہ) ساتھ چھوڑ دینا۔ تنگ کر دینا۔  
 راہ میں کانٹے پھینا۔ (۱) محاورہ) رستہ دشوار گزار ہونا (۲) دشمنی یا  
 تکلیف کی بات ہونا۔  
 راہ میں لینا۔ (۱) محاورہ) راستے میں اگر بل مانا۔ پیشوائی کرنا۔  
 راہ ناپنا۔ (۱) محاورہ) اگر جلد چلے جانا۔ کھڑے کھڑے آنا (۲) مارے  
 مارے پھرنے (۳) بے فائدہ پھرنے۔  
 راہ نامہ۔ (۱) (۱) مذ) مرگوں کا نقشہ یا کتاب۔  
 راہ نجات۔ (۱) (۱) صفت) (۱) انکھی کا طریقہ۔ پھسکار سے کا ڈھنگ (۲) بخشش  
 کا ذریعہ۔  
 راہ نکالنا۔ (۱) محاورہ) (۱) راستہ بنانا۔ رشک نکالنا (۲) تدبیر یا تجویز نکالنا  
 (۳) وسیلہ پیدا کرنا (۴) رسائی حاصل کرنا۔  
 راہ نما۔ (۱) (۱) مذ) فادی۔ راستہ دکھانے والا۔ رہبر۔  
 راہ نمائی۔ (۱) (۱) صفت) ہدایت۔ رہبری۔  
 راہ نورد۔ (۱) (۱) صفت) راستہ چلنے والا۔ تیز چلنے والا (۲) مسافر۔ راہ رُو۔  
 راہ نوردی۔ (۱) (۱) صفت) سفر مسافت۔  
 راہ دار۔ (۱) (۱) مذ) (۱) گھوڑا۔ تیز چلنے والا گھوڑا (۲) پتھا گھوڑا۔  
 راہ داہونا۔ (۱) محاورہ) رستہ کھلنا۔  
 راہ در لبط (وسم)۔ (۱) (۱) صفت) واقفیت۔ صاحب سلامت  
 میل جول۔ آندورفت۔  
 راہ ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) محبت ہونا۔ دوستی ہونا (۲) معاملہ ہونا (۳)  
 چلنے کو جگہ ہونا۔ راستہ ہونا۔  
 راہ میں تانا۔ تدبیر میں تانا۔ شہو سے دینا۔  
 راہب۔ (را۔ ہب) (ج۔ ۱۔ مذ) (۱) عیسائی عابد یا زاہد (۲) تارک الدنیا۔  
 راہبہ۔ (را۔ ہب) (ج۔ ۱۔ صفت) عیسائی تارک الدنیا عورت۔  
 راہین۔ (راہین) (ج۔ ۱۔ مذ) رہیں کرنے والا۔ گردی رکھنے والا شخص۔  
 راہشا۔ (راہ۔ شا) (۵۔ ۱۔ صفت) (۱) پگوں کے پاؤں کو لوہے کے اوزار سے کھردرا کرنا۔



رُبَاعِي (رُب - با - عی) [ج - ۱ - مِث] دہ چار مصرعے جو اوزان مخصوص پر ہوتا ہے اس میں پہلے اور چوتھے مصرعے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ رُبَاعِي کے چوبیس اوزان ہیں۔  
رُبَاعِي ترانہ - دہ رُبَاعِي جس کے چاروں مصرعے ہم قافیہ ہوں۔  
رَبَانَا (رَب - بَا - نَا) [ر - ۱ - نَا] ایک قسم کا چھوٹا ڈف یا دائرہ جس میں بھانجہ وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔

رَبَانِي (رَب - بَا - نِي) [ج - مِث] [۱] رِب کا - رِب کی طرف منسوب (۲) علم الہی جاننے والا۔

رَبِيْط (رَب - يِط) [۱ - نَا] [مِث] [۱] نَصَاب - رُجُوط - قِصَائِي۔

رَبِيْط (رَب - يِط) [۱ - نَا] [مِث] [۱] نَعْت - مِشَقَّت (۲) تَحَاوِط - مَانَدِي - (۳) بے فائدہ محنت - لَاعَاصِل دُور دُحُوْب۔

رَبِيْط (رَب - يِط) [۱ - نَا] [مِث] [۱] رُبْر (Rubber) کا ہند - ۱۰ [مِث] [۱] حَرْف مِثَانِي کے چیز جو ایک درخت کا دودھ پکا کر جالیٹے ہیں یہ لچکدار شے کچی ساہی اور مِشَقِل کے نشانات مٹا دیتی ہے اور سِیَسْتَرِي وغیرہ سینکڑوں اشیاء میں استعمال کی جاتی ہے۔

رَبِيْطِي (رَب - يِطِي) [۱ - نَا] [مِث] [۱] رَابِيْطِي - گَاٹھا کیا ہوا دُودھ۔

رَبِيْط (رَب - يِط) [۱ - نَا] [مِث] [۱] بَنْدِش - لَکَاؤ - تَعْلِق (۲) مِیل طَلَب - رَاہ دُورَم -

(۳) نَبِيْت - تَنَاسُب - مِجْت - دُوسْتِي (۴) بِيَار - اِغْلَاص۔

رَبِيْط بَرُصْحَانَا (۱) عَادِرہ - تَعْلِق پیداکرنا - دُوسْتِي بَرُصْحَانَا - مِشَق بَرُصْحَانَا۔

رَبِيْط صَنْبَط (رَب - يِط) [۱ - نَا] [مِث] [۱] مِیل طَلَب - اَدُورُف - رَاہ دُورَم۔

رَبِيْط هُونَا (۱) عَادِرہ (۲) اَشْتَانِي هُونَا - دُوسْتِي هُونَا (۲) عَادِت هُونَا مِشَق هُونَا۔

رَبِيْطِي (رَب - يِطِي) [۱ - نَا] [مِث] [۱] جُوڑ - تَعْلِق (۲) مَرْکَبَات میں استعمال ہوتا ہے جیسے بے رِطِي۔

رَبِيْع (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] چوتھا چہارم - پُل - چہارمیک۔

رَبِيْع دَاوِرہ (۱) شَکْلِ جُو قُوس اُور اِن دُو نِصْف قَطْرُوں سے مَحْصُوْر ہُو جو ایک دوسرے کو زواوہ قائم بنا کر کاٹتے ہوں (۲) کوئی چیز رُصْحَانَا

دِھَات کا ڈھلوان ٹکڑا جس کی شَکْلِ رَبِيْع دَاوِرہ کی سی ہو۔

رَبِيْع مَسْکُوْن (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] دُنیا کا چوتھا حصہ جو خشکی پر ہے اور آہاد خیال کیا جاتا ہے۔

رَبِيْقہ (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] طُوق۔

رَبِيْن (Ribbon) (رَب - يِن) [۱ - نَا] [مِث] [۱] رِبِيْنہ - پَتِي بِيَسِي پَتِي - دِجِي۔

رَبُوْبِيْت (رَب - يِطِي) [۱ - نَا] [مِث] [۱] پُر دُور دُگاری۔

رَبُوْدُوْگِي (رَب - يِطِي) [۱ - نَا] [مِث] [۱] عُنُوْدُوْگِي یا مِخْلَفَت جو بیمار کو ہوتی ہے (۲) لُوْٹ کھسوٹ۔

رَبُوْدُو (رَب - يِط) [۱ - نَا] [مِث] [۱] تُوْدہ - اُوْنِجِي زَمِيْن - طِيْلَا (۲) مِرَادِ اَیْم۔

رَبِيْت المَقْدِس (۳) مِشَق جِھَنگ (پنجاب) میں مزایاؤں کا بسا یا ہوا ایک شہر۔

رَبِيْب (رَب - يِط) [۱ - نَا] [مِث] [۱] سُوْتِيْلَا بِيَا - بُوِي کا بیٹا کھلے خاوند سے۔

رَبِيْبِيہ (رَب - يِطِي) [۱ - نَا] [مِث] [۱] سُوْتِيْلَا بِيَا (۲) بُوِي کی بیٹی۔

رَبِيْبِيْع (رَب - يِطِي) [۱ - نَا] [مِث] [۱] سُوْتِيْلَا بِيَا (۲) سَاوِطِي - دہ فصل جو

راٹھی کا پہاڑ (پرست) بنانا - (۱) عَادِرہ) بات کا بنگلہ بنانا - چھوٹی سی بات کو بہت بڑھا دینا۔

راٹھی کاٹنی - (۱) مِث] [۱] رِيْزہ - رِيْزہ چُوْرَا - مِگْلَا ہُوَا۔

راٹھی نُون تِرے دِیْدُوں میں - (۱) مِث] [۱] چِشْم بَد دُور - جِب کوئی کسی کی تعریف کرے تو اسے نظر بد سے بچانے کے لیے کہتے ہیں۔

راٹھے - (۱) مِث] [۱] جُوِيْز (۲) دَانَا نِي مِثَقِل (۳) خِيَال - (۴) مِشُوْرہ (۵) قِيَاس۔

راٹھے دہندہ - (رَب - ف - مِث) [۱] رَاٹھے دِیْنے دَالَا دُوْرُوڑ - دُوْٹ دِیْنے دَالَا۔

راٹھے دہی - (رَب - ف - مِث) [۱] رَاٹھے دِیْنے کَا فَعْل۔

راٹھے دینا - (۱) عَادِرہ) مِصْلَاح دِیْنَا - مِشُوْرہ دِیْنَا - جُوِيْز بِنَانَا۔

راٹھے زنی - (رَب - ف - مِث) [۱] اِمْرِي کَا بَارے میں اِتھَار رَاٹھے۔

راٹھے عامہ - (رَب - ف - مِث) [۱] پَبَلک کی رَاٹھے - عَوَام کَا خِيَال - جَمَاعَت کی مِصْلَاح۔

راٹھے - (رَب - ف - مِث) [۱] رَاو (۲) رَاجَا (۳) شہزادہ (۴) سُرُوَار (۵) اِیک سُرکَارِي مِخْلَاح۔

راٹھے بیل - (۱) مِث] [۱] اِیک قِصْم کی چِنبیلی کے پھُوْل اُور اِس کی مِیل۔

راٹھے جامن - (۱) مِث] [۱] بُوِي اُور مَوْنِي جَامِن۔

راٹھے رابان - (۱) مِث] [۱] مِذَر رَاجَا اُدِھِرَا ج - شہنشاہ

راٹھے راباں رَاٹھے کھن چکر - اُدھی رُوٹِي ڈِیْطھ بَاوِشْکَر - (مِث] [۱] بَاوِجُو دِوْر بے دَاے ہونے کے مِثَل مَارُو (۲) بے مِیل کَام۔

راٹھے مینا کی چوڑیاں - (۱) مِث] [۱] اِیک قِصْم کی نَمْدہ چُوڑِيَاں۔

راہت - (رَب - يِط) [۱ - نَا] [مِث] [۱] جِھَنڈَا - عِلْم - جَمِيع : رَايَات۔

## ر ب

رَب (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] پالنے والا - پُر دُور دُگَار (۲) مَالِک - صَاَحِب (۳) خُدَاے تَعَالِي - جَمِيع : اَرْبَاب۔

رَبُّ اللارِبَاب - (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] تَمَام پالنے والوں کا پالنے والا۔

رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] جَمَانُوں کا پالنے والا - کُل عَالَم کَا پُر دُور دُگَار

رَبُّ يَسْتُرُوْتَم بَا اَلْمِيز - (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] اَسَان اُور رَاجِي طَرِج اِنجَام سے کِتَاب شَرُوع کرتے وقت پُچُوں کُو بَرُصْحَانِي جَانِي ہے۔

رُب (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] پِکَا کر گَاٹھا کِیا ہوا اَمْر شَرِيْط جو جَمَالِيَا جَانے۔

رَبَا - رَلُو - (رَب - بَا - رَلُو) [۱ - نَا] [مِث] [۱] سُوْد - بِيَا ج۔

رَبَا (رَب - بَا) [۱ - نَا] [مِث] [۱] چِھِيْنے دَالَا مَرْکَبَات میں اسْتِعْمَال ہُو تَا ہے جِیسے دَل رُبَا۔

رَبَاب (رَب - بَاب) [۱ - نَا] [مِث] [۱] اِیک قِصْم کی سَارُوْگِي رِخَارِسی میں بَالِغَم ہے۔

رَبَانِي - (رَب - ع) [۱ - نَا] [مِث] [۱] رَبَاب بِنَانے دَالَا۔

رَبَاظ (رَب - بَاظ) [۱ - نَا] [مِث] [۱] سَا فَرِخَانہ۔

اکتوبر اور نومبر میں ہوئی اور مارچ اور مئی میں کاٹی جاتی ہے۔  
ربیع الآخر - ربیع الثانی - (ع۔ ۱۔ مذ) عربی سال کا چوتھا مہینہ۔  
ربیع الأول - (ع۔ ۱۔ مذ) عربی سال کا تیسرا مہینہ۔

## ر پ

رپ - (۱۔ ۵۔ امٹ) [ (۱) تیز چلنے میں پاؤں کی آواز (۲) تپتی سے کسی شے کے کاٹنے کی آواز۔  
رپا - (ق۔ ۱۔ امٹ) چاندی۔  
رپیٹ - (ر۔ پٹ) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) (۱) پھلن - پھللاٹ (۲) انگریزی لفظ رپورٹ (Report) کا بگاڑ۔ خبر۔ اطلاع۔ کسی جرم یا وقوعہ کی خبر پولیس کو دی جائے۔  
رپیٹ - (Rivot) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) کیل یا ٹیپ جس کی بلا ٹیپ والی سمت کو پیٹ کر چوڑا کر دیا جائے۔  
ریشا نا - (ر۔ نا) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) پھلانا۔ دوڑانا۔  
ریشنا - (ر۔ پٹ) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) پھلانا۔ ٹھکانا۔ کھسکانا۔  
رپ رپ - (۵۔ ۱۔ امٹ) ڈنگلی چال۔  
رپلی - (ر۔ پل) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) روپے کی تصنیف بالتحقیق۔  
رپورٹاژ - (۱۔ مذ) کسی واقعہ کو دلچسپ اور افسانوی انداز میں لکھنا (انگ) (Reportage) کا مترادف۔  
رپورٹ - (Report) (ر۔ پورٹ) [ (انگ) ۱۔ امٹ] [ (۱) باصنا بلط بیان۔ رواداد (۲) اطلاع۔ خبر۔ رپٹ (۳) اخباری بیان۔  
رپورٹر - (Reporter) (ر۔ پور۔ ٹر) [ (انگ) ۱۔ مذ] اطلاع دینے والا۔ خبر نگار۔ نامہ نگار (اخبار کا)۔  
رپہلی - (ر۔ پہ۔ لی) [ (۵۔ صفت) دیکھے روپہلی۔  
رپہیہ - (ر۔ پ۔ یہ) [ (۵۔ ۱۔ مذ) دیکھے روپہیہ۔

## ر ت

رت - (۵۔ ۱۔ امٹ) [ (۱) خوش۔ مسرور (۲) رات کا مختلف۔ درمکبات میں استعمال ہوتا ہے۔  
رت جگا یا شب بیداری۔ خوشی یا عبادت میں رات بھر جاگنا۔  
(۲) ایک قسم کی خوشی کی نیاز جو عورتیں دلاتی ہیں (۳) ہندوؤں کی ایک عبادت جو رات بھر جاگنے اور کھٹا کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔  
رت - (۵۔ ۱۔ امٹ) [ (۱) موسم۔ سال۔ زمانہ۔ فصل (۲) عورت کے ماہرہری ایام (۳) جانوروں کی جنسی کاموسم۔  
رت آنا - (۱۔ ۵۔ امٹ) [ (۱) ماہرہری موسم ۱۲۔ بہار آنا۔ زمانہ آنا۔

رت بدلتا۔ پھرنا۔ (۱۔ ۵۔ امٹ) موسم کا تبدیل ہونا۔  
رت کڑھی ہونا۔ موسم خراب ہونا۔  
رتا - (ر۔ تا) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) ایک قسم کا کھڑا جو گھبوں وغیرہ کو لگا جاتا ہے۔  
رتا لو - (ر۔ تا۔ لو) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) اردو کی مانند ایک قسم کی بڑ۔  
رتا وا - (ر۔ تا۔ وا) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) [ (۱) مٹل۔  
رتائی - (ر۔ تا۔ ای) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) ریشنے کی اُجرت۔  
رتبہ - (رت۔ تہ) [ (ع۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) [ (۱) مہندہ۔ درجہ۔ مرتبہ (۲) عزت۔ برکت (۳) قدر۔ منزلت۔ پایہ۔  
رتبہ بڑھانا۔ (۱۔ ۵۔ امٹ) ترقی دینا۔ درجہ زیادہ کرنا۔  
رتبہ پانا۔ (۱۔ ۵۔ امٹ) عزت حاصل کرنا۔ مرتبہ حاصل کرنا۔  
رتبہ دار - (ر۔ تہ) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) مرتبہ والا۔ صاحبِ حیثیت۔ ممتاز۔  
رتق و ترق - (رت۔ ق۔ ت۔ ق) [ (ع۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) باندھنا اور کھولنا۔ بست و کشاد۔ انتظام۔  
رتق - (رت۔ ق) [ (۱۔ ۵۔ امٹ) [ (۱) جواہرات۔ قیمتی پتھر۔ نگ (۲) آنکھ کی پتلی (۳) منی۔ دھات۔ لطف (۴) عطر۔ مست۔ چوڑ۔ خلاصہ۔ مٹ۔ لباب (۵) جوہن۔  
رتق پاک - (۱۔ ۵۔ امٹ) جواہر۔  
رتق جوت - (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) ایک پودا جس کے پتے پاکڑی تیل میں ڈالنے سے تیل سرخ ہو جاتا ہے (۲) آنکھوں کی ایک دوا۔  
رتق دیب - (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) پزرا جس میں جواہرات بڑے ہوں اور روشنی دیتے ہوں۔  
رتق ماللا - (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ امٹ) [ (۱) ہیروں کا لار (۲) ایک قسم کا پھول۔ علم نجوم پر ایک کتاب کا نام۔

رتنا - (رت۔ نا) [ (۵۔ ۱۔ امٹ) [ (۱) ریتی سے رگڑا جانا (۲) خالی ہونا۔ (۳) سادھی بچنا۔  
رتناولی - (رت۔ نا۔ ولی) [ (۵۔ ۱۔ امٹ) [ (۱) مرصع ہار۔ ہیروں کا لار۔  
رتنیاں - (رت۔ نیاں) [ (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) ایک قسم کا جاول۔  
رتوا - (رت۔ وا) [ (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) ایک سرخ پتھر جو بچوں کو بخسار وغیرہ سے بچانے کے لیے لگاتے ہیں (۲) ایک قسم کا سرخ کھڑا۔  
رتوانا - (رت۔ وا۔ نا) [ (۵۔ ۱۔ امٹ) [ (۱) صاف کرنا۔ کسی سخت چیز کو خوار دار آہنی اوزار سے چھلوانا۔  
رتواہی - (رت۔ وا۔ ہی) [ (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ امٹ) [ (۱) رات کا حملہ (۲) رات کو آنے والی بہلی۔  
رتو ندھا - (ر۔ تو۔ نھا) [ (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ مذ) شب کو رسی۔ آنکھ کی ایک بیماری جس کے سبب رات کو دکھائی نہیں دیتا۔  
رتو ندھیا - (ر۔ تو۔ نھا) [ (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ امٹ) [ (۱) رتو ندھے کا مرین۔ شب کو رتو ندھ - (۵۔ ۱۔ ۱۰۔ امٹ) [ (۱) ایک قسم کی دیسی گاڑی جس کے اوپر بڑھی





رضعت اتفاقی - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) غیر سفرہ رضعت - بنگلی رضعت -  
رضعت استحقاقی - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) وہ چھٹی جس کا حق ہو۔  
رضعت دینا - (۱۔ محاورہ) اجازت دینا۔ چھٹی دینا۔  
رضعت طبعی - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) جانے کی اجازت پہننا۔ چھٹی مانگنا۔  
رضعت کرنا - (۱۔ اجازت دینا) (۲۔ روانہ کرنا۔ چھینا) (۳۔ موافق کرنا) (۴۔ مانگنا)  
رضعت لینا - (۱۔ محاورہ) اجازت لینا۔ چھٹی لینا۔

رضختانہ - (رُخ۔ ص۔ تانہ) (۱۔ مٹ) وہ نقدی جو پتلے وقت کسی رئیس  
کے دربار سے عطا ہو۔ انعام رضعت -

رضختی - (رُخ۔ ص۔ تی) (۱۔ مٹ) (۲۔ دوا) - دوا کے دواہن کی روانگی (۳) وہ  
روپیہ جو دوا کے ہوتے وقت دیا جائے۔ سلامی (۴) صفت [چھٹی پر۔  
رضختہ - (رُخ۔ مٹ) (۱۔ مٹ) (۲) چھید - سودا (۳) روغن - شگاف -  
دریچہ کھڑکی (۴) بڑی کا ٹوٹا (۵) تلوار کا نشان (۶) نقص - عیب (۷)  
نقزہ - خاد (۸) غل - مزاحمت -

رضختہ انداز - (۱۔ مٹ) (۲) مزاحمت کرنے والا۔ بجا بنی مارنے والا۔  
رضختہ اندازی - (۱۔ مٹ) (۲) مزاحمت - غل -  
رضختہ پڑنا - (۱۔ محاورہ) غل پڑنا۔ چھڑا پڑنا۔ عیب نکلنا۔  
رضختہ ڈالنا - (۱۔ محاورہ) غل پیدا کرنا۔ روٹا ڈالنا۔ بجا بنی مارنا۔  
رضختہ (رضختے) نکالنا - (۱۔ محاورہ) نقص نکالنا۔ عیب نکالنا۔  
(۲) نکتہ چینی کرنا (۳) جیلہ حوالا کرنا۔ مڈر کرنا۔

ر۔د

ردّ - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) واپس کرنا۔ موٹوٹا۔ پھیرنا (۲) انکار۔ تردید۔ دلیل توڑنا۔  
(۳) (اُڑ) تے۔ الٹی۔

ردّ بِلّ - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) مصیبت کا دُور ہونا۔  
ردّ جوت - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) جوت کو توڑنا۔  
ردّ خلق - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) مردود۔  
ردّ دعوت - دعوت نام منظور کرنا۔

ردّ سلام - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) سلام کا جواب۔  
ردّ عمل - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) جوابی عمل۔ تاثیر دنا۔ اثر الٹ کرنا۔  
ردّ کرنا - (۱۔ محاورہ) (۲) واپس کرنا۔ پھیرنا (۳) تردید کرنا۔ اعتراض اٹھانا۔  
(۴) ترک کرنا۔ نام منظور کرنا (۵) تے کرنا۔ اُلٹی کرنا۔

ردّ و بدل - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) الٹ پلٹ (۲) ٹکڑا (۳) واپس کرنا (۴)  
بدلنا (۵) دینے کرنا (۶) تبدیلی (۷) لڑائی میں حملہ اور اس کا توڑ۔  
ردّ و قدح - ردّ و کد - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) بخت - بخت - ٹکڑا۔  
ردّ ہونا - (۱۔ محاورہ) خسوں ہونا۔ دینے ہونا۔ باطل ہونا۔

ردا - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) چادر۔ اوڑھنی۔  
ردایت - (ر۔د۔ بیت) (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) فائدہ ہونا۔ خراب ہونا۔  
ردّوا کھدوا - (ر۔د۔ واکھد - واکھد) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

رحمت خدا کی - (۱۔ مٹ) تمہیں آفریں ہے شاہد - آپ کا کیا کہنا۔  
رحیق - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) خالص شراب۔  
رحیل - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) کوچ - کوچ کرنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔  
رحیم - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) صفت [مہربانی فرمانے والا۔ مہربان (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ر۔خ

رُخ - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) رُخسار۔ مٹ۔ گال (۲) طرف۔ جانب۔ سمت (۳)  
ایک فرعی جانور جو بہت بڑا ہوتا ہے اور جس کا ذکر الف بیلہ  
میں آتا ہے۔ سیرخ (۴) ایک تاج جو شاہان ایران پہنا کرتے  
تھے (۵) (اُڑ) کنارہ۔ حاشیہ۔ آفت (۶) شطرنج کا ایک مہر (۷)  
توجہ التفات - رحمان (۸) سامنا۔ آگ۔

رُخ بدلنا - (رُخ۔ مٹ) پھیرنا - (۱۔ محاورہ) (۲) مٹ۔ لگانا۔ کم توجہ کرنا (۳)  
سمت بدلنا (۴) دوسری طرف ہو جانا (۵) دکھائی کرنا۔

رُخ دے کر بات نہ کرنا - (۱۔ محاورہ) توجہ سے بات نہ کرنا۔ بدل  
دے کر نہ بولنا۔ خاطر میں نہ لانا۔

رُخ دیکھنا - (۱۔ محاورہ) توجہ دیکھنا۔  
رُخ زرد ہو جانا - (۱۔ محاورہ) ڈر جانا۔ خوف کھانا۔  
رُخ کرنا - (۱۔ محاورہ) (۲) مٹ کرنا (۳) توجہ کرنا (۴) پھیرنا۔ لوٹنا۔

رُخام - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) سنگ مرمر۔  
رُخت - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) اسباب۔ اثاثہ (۲) لباس۔ پوشاک (۳)  
لازمہ۔ ساز و سامان (۴) (اُڑ) جوتی کا چمڑا (۵) ٹھاٹ۔ دج۔

رُخت ہینت -  
رُخت سفر باندھنا - (۱۔ محاورہ) سفر کی تیاری کرنا۔ مرنے کی تیاری کرنا۔  
رُخت سلامی - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) درباری لباس۔

رُخت عروس - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹ۔  
رُخت عریانی پھاڑنا - (۱۔ محاورہ) بدن کو زخمی کرنا۔

رُخت ہستی - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) عقل۔ سمجھ۔  
رُخسار - (رُخ۔ مٹ) (۱) مٹ۔ گال۔ حصار۔

رُخسارہ - (رُخ۔ مٹ) (۱) مٹ۔ گال۔ حصار۔  
رُخش - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) گھوڑا (۲) رستم کا گھوڑا (۳) مٹ۔ گال۔ حصار۔

رُنگ - (ر۔ج۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹ۔ گال۔ حصار۔  
رُخشاں - (رُخ۔ مٹ) (۱) مٹ۔ گال۔ حصار۔

رُخشگی - (رُخ۔ مٹ) (۱) مٹ۔ گال۔ حصار۔  
رُخشہ - (رُخ۔ مٹ) (۱) مٹ۔ گال۔ حصار۔

رُخصت - (رُخ۔ مٹ) (۱) مٹ۔ گال۔ حصار۔  
(۲) (اُڑ) روانگی۔ کوچ۔ چلنا۔ جانا (۳) دوا۔ بخار۔ اٹھنے کا وقت۔  
(۴) دفعہ۔ بخت۔ فرست (۵) جائیں ہر اجازت ہے ؟











رطوبت اصلیت۔ وہ تری جو غلطی طور پر عضو بدن میں ہوتی ہے۔  
رطوبت پیمیا۔ رطوبت کا اندازہ کرنے والا آلہ (Hygrometre)

## ر - ع

رعایا۔ (ر۔ عا۔ یا) (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) (۱) رعیت کی جمع۔ محکم لوگ (۲) آسامی۔ کاشت کار۔  
رعایت۔ (ر۔ عا۔ یت) (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) (۱) پاس رنگھائی۔ لحاظ۔ خیال۔ نگہداشت (۲) مناسبت (۳) طرفداری (۴) مہربانی (۵) توجہ (۶) کمی۔ تخفیف۔ (۷) نرم۔ نرمی (۸) ایک قسم کی تحریر جس میں الفاظ شیبہاں اور استعارے پہلے لفظ کی مناسبت سے آتے ہیں۔  
رعایت کرنا۔ (ا۔ عا۔ و) طرفداری کرنا۔ کسی بات کا خیال یا لحاظ رکھنا۔  
رعایتی۔ (ر۔ عا۔ ی۔ تی) (ر۔ ع۔ صفت) (۱) وہ شخص جس کے ساتھ کچھ لحاظ کیا جائے۔ آورده (۲) سفارشی۔  
رعایتی پٹا۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ نذ) کاشتکاروں کو دی ہوئی رعایتی تحریر جس میں لگان کی تخفیف درج کی جاتی ہے۔  
رعایتی رخصت۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ مٹ) ایک قسم کی رخصت جو گیارہ مہینے کی زکری کے بعد پوری تنخواہ پر ملتی ہے۔  
رعب۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) ڈر۔ خوف۔ ترس (اُز) دبدبہ۔ شان و شوکت۔ شکوہ۔ دھاک۔ جلال۔  
رعب باندھنا۔ رعب بٹھانا۔ (ا۔ عا۔ و) خوف بٹھانا۔ ہیبت بٹھانا۔ دھاک باندھنا۔  
رعب بٹھانا۔ (ا۔ عا۔ و) خوف غالب ہونا۔ دہشت غالب ہونا ہیبت آنا۔  
رعب حسن۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ نذ) حسن کی دھاک۔ حسن کا دبدبہ۔  
رعب دار۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ نذ) دبدبہ۔ شان و شوکت۔ جاہ و جلال۔  
رعب دار۔ (ر۔ ع۔ صفت) دبدبہ والا۔ خوفناک۔ ڈراؤنا۔ بھیانک۔  
رعب ماننا۔ (ا۔ عا۔ و) خوف میں آجانا۔ دہشت میں آجانا۔  
رعب ہونا۔ (ا۔ عا۔ و) دبدبہ ہونا۔ ڈر ہونا۔  
رعد۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) بجلی کی کوک۔ گروگرگراہٹ (۲) آواز جو ابر سے پیدا ہوتی ہے۔

رعد و برق۔ (ر۔ ع۔ نذ۔ مٹ) بجلی اور کوک۔  
رعشہ۔ (ر۔ ع۔ شہ) (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) (۱) لرزہ۔ تھرتھراہٹ۔ کپکپی (۲) ایک بیماری جس سے خود بخود ہاتھ و پیروں کا پتہ پتہ ہے۔  
رعشہ براندام۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) بدن پر کپکپی طاری ہونا۔  
رعشہ دار آواز۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ مٹ) وہ آواز جس میں کپکپی ہٹ ہو۔  
لرزی ہوئی آواز۔  
رعنا۔ (ر۔ ع۔ نا) (ر۔ ع۔ صفت) [انداز سے چلنے والا۔ خوش خرام (۲) خوشنما۔ زبیا (۳) خوبصورت۔ حسین (۴) نازک۔ نرم (۵) ایک پھول (۶) چالاک۔ طرار۔

رعنا۔ (ر۔ عا۔ ن) (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) (۱) خوشنودی۔ خوشی۔ مرضی (۲) اجازت۔ مہلت۔ رخصت (۳) دیکھی جس کی تنخواہ نہیں کاٹی جاتی۔  
رعنا۔ (رعنا) (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) راضی ہونا۔ خوش ہونا۔  
رعنا بقضا۔ (ر۔ ع۔ نذ) [جو خدا کی مرضی ہے اس پر راضی ہیں۔ تقدیر پر راضی ہونا رعنا پانا۔ (ا۔ عا۔ و) اجازت پانا۔  
رعنا جو۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) دوسرے کی رضا مندی چاہنے والا۔ دوسرے کو خوش کرنے والا۔  
رعنا کار۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خدمت ملک و قوم کے لیے پیش کرنے والا۔ والنٹر۔ (Volunteer)  
رعنا کارانہ۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) اپنی مرضی سے۔ بلا جبر و اکراہ۔  
رعنا مند۔ (ر۔ ع۔ ن۔ صفت) راضی۔ خوش۔ منظور کرنے والا۔  
رعنا مندی۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ مٹ) خوشنودی۔ منظور۔  
رعنائے مولیٰ از ہمہ اولیٰ (نذ) [خدا کی مرضی سب سے بہتر ہے۔  
رعنا عت۔ (ر۔ عا۔ عت) (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) شیر خواری۔ دودھ پلانا۔ بچوں کے دودھ پلانے کا زمانہ جو دو سال کا ہے۔  
رعنا عی۔ (ر۔ عا۔ عی) (ر۔ ع۔ صفت) دودھ شریک۔ وہ بچے جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو۔  
رعنا عی بھائی۔ (ر۔ ع۔ ن۔ ا۔ مٹ) دودھ شریک بھائی۔ کوکا۔  
رعنائی۔ (ر۔ عا۔ ای) (ا۔ نذ۔ ا۔ مٹ) (۱) رنگے ہوئے کپڑے کی روئی والی ڈولائی (۲) چھوٹا لحاف (۳) گدگدھی۔  
رعناون۔ (رض۔ وان) (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) (۱) ایک فرشتہ جو بہشت کا دربان اور نواہل ہے (۲) بہشت (۳) برکت (۴) رضا مندی۔  
رضوی۔ رضویہ۔ (رض۔ وی۔ رض۔ وی۔ ریہ) (ر۔ ع۔ صفت) امام علی رضنا سے نسبت رکھنے والا۔ ان کی اولاد۔  
رضی۔ (ر۔ ع۔ صفت) پسندیدہ (۲) خوشنود۔  
رضی اللہ عنہ۔ (ر۔ ع۔ کلہ) دُعا۔ کلہ دُعا جو صرف صحابہ رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔  
رضیع۔ (ر۔ ع۔ صفت) (ر۔ ع۔ صفت) (۱) دودھ شریک (۲) دودھ پینا بچہ۔  
رضینا بقضا۔ (ر۔ ع۔ مقولہ) ہم اللہ کے حکم پر راضی ہوئے۔

## ر - ط

رطب۔ (ر۔ ع۔ صفت) تازہ۔ نرم۔ بگلا۔  
رطب اللسان۔ (ر۔ ع۔ صفت) بہت تعریف کرنے والا۔ مداح۔ تر زبان۔  
رطب ویابس۔ (ر۔ ع۔ صفت) تر و خشک۔ بڑا بھلا۔ نیک و بد۔  
رطب۔ (ر۔ ع۔ نذ) (۱) نذ تازہ اور تر کھجور۔  
رطل۔ (ر۔ ع۔ ا۔ نذ) (۱) جام شراب (۲) آدھے سیر کا وزن۔ جمع : ارطال۔  
رطوبت۔ (ر۔ ع۔ نذ) (ر۔ ع۔ ا۔ مٹ) (۱) تری۔ نمی۔ نیل (۲) شوک۔ (۳) نرمی۔ تازگی۔

بہتری (۴) آرام۔

رُفت - (ف۔ مٹ) رفتن مصدر سے ماضی مطلق (۲) چلنا۔ روانگی۔ اُردو میں

زیادہ تر آدورفت میں استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ کا محقق کیا ہوا۔

رُفت گزشت - (رُفت۔ گ۔ زشت) (ف۔ مٹ) (۱) گئی گذری

رُفت دُفع (۲) نال مٹول۔

رُفت گزشت کرنا۔ (۱) معاورہ) باز آنا۔ معاف کرنا۔ خیال نہ کرنا۔ دہانا

آیا گیا کرنا۔ جانے دینا۔

رُفتار - (رُفت۔ تار) (ف۔ مٹ) (۱) چال (۲) چلن۔ رُوش۔

رُفتار اُڑانا۔ (۱) معاورہ) چال یا دُفع کی نقل کرنا۔

رُفتار و گُفتار۔ (ف۔ مٹ) (۱) چال چلن۔ طور طریقہ۔

رُفتگان - (رُفت۔ گان) (ف۔ مٹ) رفتہ کی جمع۔ گئے ہوئے یا مرے

ہوئے لوگ۔

رُفتگی - (رُفت۔ گ) (ف۔ مٹ) (۱) بخودی (۲) نقصان۔ جاتے رہنا

رُفتگی - (رُفت۔ رنی) (ف۔ مٹ) جانے کے قابل۔ جانے پر مجبور

(۲) جانے والا (۳) عارضی۔

رُفتہ - (رُفت۔ تہ) (ف۔ مٹ) (۱) بخود۔ عاشق (۲) گیا ہوا (۳) مرا ہوا۔

(۴) کھویا ہوا۔ جمع، رُفتگان۔

رُفتہ رفتہ - آہستہ آہستہ۔ ہولے ہولے۔ بتدریج۔

رُرف - (رُف۔ رُف) (ف۔ مٹ) (۱) لہروں کی تیز حرکت (۲) پروں کی

پھڑپھڑاہٹ (۳) ایک چوڑا طاقہ جس پر گھر میں قیمتی اشیاء رکھتے

ہیں (۴) سبز پڑا جس کے فرش وغیرہ بیٹے ہیں (۵) ٹیکہ۔ سرلانہ۔ فرش

(۶) کوئی نالتو چیز جو ٹھکتی رہے (۷) بیٹے کے نیچے کا کپڑا (۸) زدہ

کے پہلو جو نیچے لگے رہیں (۹) کوئی چیز جو خود کے پچھل طرف لگائی

جائے اور ٹھکتی رہے (۱۰) حضرت امراٹیل کے رہنے کا مقام (۱۱)

ایک درخت جو زمین میں ہوتا ہے (۱۲) ایک قسم کی پھلی (۱۳) وہ

جاوڑ جس پر پیچیر صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سوار ہوئے تھے۔

رُرفض - (رُف۔ رُف) (ف۔ مٹ) (۱) چھوڑنا (۲) راضی ہونا (۳) اختلاف۔ بدعت۔

رُرفح - (رُف۔ رُف) (ف۔ مٹ) (۱) اٹھانا۔ بلندی۔ اُوچائی۔ اُٹھان (۲) باز رہنا۔

چھوڑنا (۳) منہ۔ پیش۔

رُرفح احتیاج (حاجت)۔ (رُف۔ مٹ) (۱) پیشاب پاخانہ کرنا۔

رُرفح دُفع - (رُف۔ مٹ) (۱) دُور کرنا۔ ہٹانا۔ دہانا۔ معاف کرنا۔ باز رہنا۔

رُرفح یدین - (رُف۔ مٹ) (۱) نماز میں تجھیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانا۔

(۲) نماز میں ہر دفعہ تجھیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا۔

اہل حدیث اسے ضروری سمجھتے ہیں۔

رُرفعت - (رُف۔ رُف) (ف۔ مٹ) (۱) بلندی۔ اُوچائی (۲) ترقی۔

رُرفعت کی بلندی (۳) بزرگی۔ عزت۔ شان۔

رُرفق - (رُف۔ مٹ) (۱) نرمی۔ مہربانی۔

رُرفقاہ - (رُف۔ مٹ) (۱) رُفقاہ کی جمع۔ ساتھی۔ دوست۔

رُرفل - (رُف۔ مٹ) (۱) رائفل (Rifle) کا کپڑا ہوا (۲) ایک قسم کا

باریک کپڑا۔ ایک قسم کی ایک نالی بندی جس میں سے گولی بھگ کر نکلتی ہے

رُرعنا زبیا۔ (رُع۔ ف۔ ا۔ مذ) ایک قسم کے ریشمی کپڑے کا نام۔

رُرعنائی - (رُع۔ نا۔ ای) (رُع۔ مٹ) خود آرائی۔ وضع داری۔ دورنگی

چالاک۔ طراری۔ خوش خرمی۔

رُرعونت - (رُع۔ مٹ) (رُع۔ مٹ) (۱) عذوبہ سرکشی۔ گھمبہ دماغ (۲) شیخی۔

رُرعی بندہ - (رُع۔ بی۔ بن۔ وہ) (رُع۔ ا۔ مذ) زمینوں کے زرخوں کا نقشہ۔

رُرعیت - (رُع۔ بی۔ بیت) (رُع۔ مٹ) (۱) اسی (۲) کرایہ دار (۳) کاشتکار

(۴) دنیا کے لوگ جو کسی حاکم کے ماتحت ہوں (۵) وہ شخص جو لیڈر کرانے

کے کسی مکان میں رہے۔

رُرعیتی - (رُع۔ بی۔ ی۔ تی) (رُع۔ مٹ) (۱) رعیت کا۔ رعیت کی ملکیت

(۲) جو کاشتکار یا آسامی کو دی جائے (۳) اُڑ۔ مٹ) دخل کاری۔

بقصد کرایہ داری (۴) اطاعت۔ تابعداری (۵) زمین جس کی مالکداری

نقدی میں دی جائے (۶) زمین جو براہ راست کاشتکار کو کاشت کے

لیے دی جائے (۷) زمین جس پر کاشتکار رہے اور کاشت کرے۔

## ر-ع

رُرعنت - (رُع۔ بت) (رُع۔ مٹ) (۱) خواہش۔ آرزو (۲) رُرجان

میلان۔ توتہ (۳) شوق۔ پیار۔ جاؤ۔

رُرعنت دلانا۔ (۱) معاورہ) خواہش پیدا کرنا۔ اُگسانا۔

رُرعنت رکھنا۔ (۱) معاورہ) میلان ہونا۔ خواہش کرنا۔

رُرعنت کی آنکھ سے دیکھنا۔ (۱) معاورہ) پسند کرنا۔ خواہش کرنا۔

رُرعنم - (رُع۔ ا۔ مذ) (۱) نفرت۔ حقارت۔ تجھیر (۲) مجازاً کسی کے

بُرخلاف کام کرنا۔

## ر-ف

رُرف - (Rough) (انگ صفت) (۱) کھُور۔ نالٹام۔ ناہموار (۲) ابتدائی

حالت میں۔ اندازے پر مبنی۔ تجھینی (۳) گنا پھنا۔ نامرتب۔ بھونڈا۔

رُرفاقت - (رُف۔ فا۔ قت) (رُف۔ مٹ) (۱) ہجرابی۔ ساتھ (۲) محبت۔ دوستی

اتحاد (۳) اُڑ) دُفاداری۔ خیر خواہی (۴) ہمدردی۔ معاونت۔

رُرفاقت سے مُرُتہ موڑنا۔ (۱) معاورہ) ساتھ چھوڑنا۔

رُرفاقت کرنا۔ (۱) معاورہ) (۱) ساتھ دینا۔ ہمراہ رہنا (۲) دُفاداری کرنا

خیر خواہی کرنا۔

رُرفاہ - (رُف۔ مٹ) (۱) آرام۔ چین (۲) وہ کام جس سے لوگوں کو آرام

ہے (۳) نیکی۔ بھلائی۔ بہتری۔

رُرفاہ عام - رُرفاہ خلایق - (رُف۔ مٹ) عام لوگوں کی بھلائی۔ سب

یکے آرام کا کام۔

رُرفاہیت - (رُف۔ ہی۔ بیت) (رُف۔ مٹ) (۱) خوشی (۲) بھلائی (۳)



رکابی - (رکاب، بی،) (ف، ا، مٹ) (۱) قتالی، پشتری (۲) ساتی - پیالہ بردار (۳) گھوڑا جسے پر بڑبڑ کر کے جاہل (۴) تھار جو گھوڑے کے پہلو میں لگتی ہے (۵) ایک قسم کا روپیہ جو لکھنؤ میں راج تھا (۶) ایک قسم کا تیل جو دمشق سے آونٹوں پر آتا تھا۔  
رکابی چہرہ - (۱) مذ، پوڑا، گول منہ۔  
رکابی مذہب - (۱) مذ، ہردیگی، بچہ، طفیل - لاپھی - خوشامدی - قتالی کا بیٹن - بے اصولا۔

رکابی میں جب تک بجات میرا تیرا ساتھ (ایشل، ٹانڈے کا لالچ ساتھ رکھتا ہے، مطلب کا بار ہے۔  
رکاکت - (رک، کاکت) (ع، ا، مٹ) (۱) سستی - کمزوری (۲) بے عزتی (۳) کینٹی۔

رکان - (رک، کان،) (ع، ا، مٹ) (۱) طریقہ (۲) ڈھنگ (۳) لگام۔  
رکاوٹ - (رک، کاوٹ) (ع، ا، مٹ) (۱) ٹکاؤ، ٹھراؤ، روک - توقف (۲) تقرض - مزاحمت۔  
رکاؤ - (رک، کا،) (ع، ا، مٹ) (۱) دیکھے رکاوٹ۔  
رککت - (رک، کت) (ع، ا، مٹ) (۱) بو، خن (۲) سرخ رنگ (۳) صفت [رنگ دار رنگین (۴) بے حد شاق - فریفتہ۔

رکٹس - (Rickets) (رک، کٹ) (انگ، ا، مذ) [دق الاطفال۔  
رکٹے کی بیماری (بچوں کی)  
رک رک کر - (رک، رک، فعل) (۱) گھٹ گھٹ کر (۲) ٹھہر ٹھہر کر (۳) لگنت سے - ہسلا کر۔

رکشا - (رک، شا) (س، ا، مٹ) (۱) امان - حفاظت - پناہ - بچگانی - بچاؤ۔  
رکشابندھن - (۱) ماگھی باندھنے کی رسم (۲) تھرا جس میں ہندو لوگ اپنے ہاتھوں پر راگھی باندھتے ہیں۔  
رکشاشا - (Rikshaw) (رک، شا) (انگ، ا، مٹ) (۱) ہلکی دوپاتیں پہنتوں کی چھتری دار چھوٹی گاڑی۔

رکعت - (رک، عت) (ع، ا، مٹ) (۱) ٹھکاؤ - نمیدگی (۲) نماز کا ایک حصہ کھڑے ہونے سے لے کر بیٹھنے تک جس میں ایک رکوع آجاتے۔ جمع، رکعات۔

رکن - (رک، کن) (ع، ا، مٹ) (۱) ستون - قہم - پیل پایہ (۲) ضروری حصہ (۳) (اثر) کارندہ - سربراہ (۴) کسی جماعت کا نمبر (۵) امیر - سردار (۶) (عوض) وہ لفظ جو دو یا تین اجزائے اوتاد سے بنے۔ ارکان عربی میں دس ہیں (۷) باہر کا حصہ - کوندہ - زادبہ - جمع، ارکان۔

رکن الدولہ - (رک، صفت) امیر - وزیر۔  
رکن رکین - (رک، صفت) بڑا رکن مضبوط رکن۔  
رکن سلطنت - (رک، صفت) حکومت کے امیروں وزیروں میں ایک۔  
رکن میانی - (رک، صفت) مذ، کبہ شریف کے رکنوں میں سے ایک رکن۔  
رکنا - (رک، نا،) (ع، ا، مٹ) (۱) ٹھہرنا، ٹھہنا (۲) سنانا - لگنت کرنا (۳) کشیدہ ہونا، ٹھہرنا (۴) بازرگنا (۵) ٹھکانا - ٹھکانا (۶) دم لینا - توقف کرنا (۷) شش و پنج میں ہونا - پس دوپیش کرنا (۸) جمانا - رٹنا (۹)

رکیم - کسی - نوچی - جمع، رقوم۔  
رکیم اول - (رک، ع، ا، مٹ) خدا کا تخت (رکیمی (۲) کنایتہ نذر محمدی۔  
رکیم پزیر - رقم زدہ - (رک، ع، ا، مٹ) لکھا ہوا - تحریر شدہ۔  
رکیم زن - رقم سنج - رقم طراز - (رک، ع، ا، مٹ) لکھنے والا کاتب - محتر۔  
رکیم ساڑھ - رقم سوائے - (رک، ع، ا، مٹ) متفرق رقم - وہ آمدنی جو زیندار کو لگان کے علاوہ موصول ہوتی ہے۔

رکیم کاٹنا - (رک، ع، ا، مٹ) روپیہ کم کر دینا۔  
رکیم کرنا - (رک، ع، ا، مٹ) لکھنا - تحریر کرنا۔  
رکیم ماری جاننا - (رک، ع، ا، مٹ) روپے کا نقصان ہو جاننا۔  
رکیم وار - (رک، ع، ا، مٹ) تفصیل دار۔  
رکیم مشقیہ الوصول - وہ رقم جس کا وصول ہونا مشکوک ہے۔  
رکیمیں سپرنا - (رک، ع، ا، مٹ) روپیہ کمانا - مال حاصل کرنا۔

رکمی - (رک، می،) (ع، ا، مٹ) نشان کیا ہوا - لکھا ہوا۔  
رکوم - (رک، قوم،) (ع، ا، مٹ) رقم کی جمع - روپیہ۔  
رکیب - (رک، قیب،) (ع، ا، مٹ) (۱) بچگان - پاسان - محافظ (۲) ہم پیشہ توفیق (۳) ایک عاشق کے عاشقوں میں سے کوئی ایک (۴) خدا کا ایک صفاتی نام۔

رکیتق - (رک، عت،) (ع، ا، مٹ) (۱) تپلا - لطیف (۲) نرم - ملائم۔  
رکیت قلب - (رک، عت،) (ع، ا، مٹ) (۱) نرم دل - رحم دل - وہ شخص جس کا دل جلد بھرائے - ترس کھانے والا۔  
رکیتقہ - (رک، مٹ،) (ع، ا، مٹ) (۱) ٹونڈی - کینز۔

رکیم - (رک، قیم،) (ع، ا، مٹ) (۱) تحریر - کتاب - خصوصاً وہ جس میں اصحاب کتب کا نکتہ درج ہے (۲) ان کا گول یا پہاڑ (۳) غار جس میں وہ سوتے تھے۔  
رکیمہ - (رک، بی،) (ع، ا، مٹ) (۱) جمعی، رقعہ - خط - جمع، رقام۔

# رک

رکاب - (رک، اب،) (ع، ا، مٹ) (۱) وہ آہنی حلقہ جو گھوڑے کے زین میں دونوں طرف لگتا رہتا ہے اور سوار اس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے (۲) (مذ) بادشاہوں کی سواری کا گھوڑا (۳) بڑی رکابی۔  
(۴) قتالی (۵) طباق (۶) وہ لفظ جو درق کے دوسرے صفحے کے نیچے اور صفحہ اول کی ابتدا میں لکھا جاتا ہے۔

رکاب میں - (۱) جہاز - ہم رکاب۔  
رکاب دار - (۱) گھوڑے پر چڑھانے والا ذکر (۲) ماہر یا درچی (۳) وہ شخص جو اجارہ چینیال مرتبے وغیرہ بنا کر بیچے۔  
رکاب ودال - وہ چڑھا جس میں رکاب لگتی ہے۔  
رکاب سعادت - بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑنے والا ملازم رکاب میں پاؤں رکھنا۔ بردقت چلنے کے لیے تیار رہنا۔

رکھو اس مقولے پر دار و مدار۔ کہ نونفہا پختے نہ تیرہ اُدھار۔ اُدھار (۱۲) جہاں جو چیز فزائل جائے وہ اس اچھی چیز سے جس کا وعدہ کیا جائے بہتر ہے۔

رکھوالا۔ (رکھ۔ وا۔ لا۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) محافظ۔ نگہبان۔ چوکیدار۔ نگران۔ رکھوالی۔ (رکھ۔ والی) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) محافظت۔ پاسبانی (۲) چوکیداری کی تخریہ (۳) رکھوالا کی تائینٹ۔

رکھوالینا۔ (رکھ۔ وا۔ لے۔ نا) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) واپس لینا۔ لے لینا۔ دھروالینا۔ رکھوانا۔ (رکھ۔ وا۔ نا) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) رکھنا کا متعدی (۲) جمع کرنا (۲) دھرانا (۳) گرد کرنا (۴) نوکر کرنا۔

رکھو نچا۔ (رکھ۔ نچا) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذکورے جو مونگ یا ماش کی دھوٹی چوٹی والی پیس کر بناتے ہیں۔ برٹیاں۔

رکھیب۔ (رکھ۔ کیب) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) سوار کے ساتھ جو دو سر سوار بیٹھے۔ رکھیبی۔ (رکھ۔ کے۔ بی) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) رکا بی۔

رکھیک۔ (رکھ۔ کیگ) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) صفت (۱) مسٹ (۲) دُہلا پتلا۔ نازک۔ (۳) ناچیز۔ ادنیٰ (۴) نفیس۔

رکھیللا۔ (رکھ۔ کی۔ لا) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) صفت (۱) بذات مرد۔ رکھین۔ (رکھ۔ کین) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) صفت (۱) سنجیدہ۔ متین (۲) استوار۔ محکم مضبوط۔

## رنگ

رنگ۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) نس۔ عرق۔ جنس۔ جسم کی وہ نلیاں جن میں خون رہتا ہے (۲) ڈار (۳) پچھا۔ محصب (۳) پھول یا پتے کا ریشہ (۴) آنکھ کا ڈورا (۵) اصل۔ نسل۔ ذات (۶) تار۔ تاگا۔ دھاگا (۷) ہند۔ ڈھیل (۸) رنگ۔ ابر۔ (ن۔ ا۔ مٹ) بادل کی سیاہ دھاری۔

رنگ آترنا۔ (ا۔ مجا درہ) (۱) ضد آترنا (۲) عقدہ جاتا رہنا (۲) آنت کا فٹے میں اتر آنا۔

رنگ بانا۔ (ا۔ مجا درہ) اصل بات معلوم کرنا۔ رنگ پٹھنے سے واقف ہونا۔ (ا۔ مجا درہ) اصلیت سے واقف ہونا۔ ذات بنیاد سے واقف ہونا۔

رنگ پھیرکنا۔ (ا۔ مجا درہ) ہاتھ ٹھکننا۔ کسی ہونے والے امر سے آگاہ ہونا۔ شدنی امر سے واقف ہونا۔

رنگ پھولنا۔ (ا۔ مجا درہ) جوش خون سے رنگ کا موٹا ہونا۔ رنگ مجال۔ (ن۔ ا۔ مٹ) وہ بڑی رگ جس سے تمام رگوں میں خون پہنچتا ہے۔

رنگ مجال سے نزدیک ہونا۔ (ا۔ مجا درہ) (مذاک کی تعریف ہے) بہت قریب ہونا۔

رنگ پڑھ جانا۔ (ا۔ مجا درہ) کسی رگ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ ہند کرنا۔ کوئی بڑی عادت ہونا۔

رنگ پڑھ گئی۔ (ا۔ مجا درہ) غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ مانتے نہیں۔

معمور ہونا۔ پڑ ہونا (۱۰) بند ہونا۔ مسدود ہونا (۱۱) حیض نہ آنا (۱۲) جماع نہ کرنا (۱۳) جھکنا۔ بھگنا۔ بھگنا۔ بھگنا (۱۴) مٹنے یا سینے سے رہ جانا (۱۵) بیچ دقاب کاٹنا (۱۶) خفا ہونا۔ ترک طاقات کرنا۔ اعراض کرنا۔

رگنیت۔ (رگ۔ بی۔ نیت) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مٹ (۲) رگن ہونا۔ مبری۔ رگوانا۔ (رگ۔ وا۔ نا) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مٹ (۲) رگن کا متعدی (۳) متعدی۔

رگوب۔ (رگ۔ کوب) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) سوار (۲) سواری کا اونٹ۔ رگوع۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گھٹنا۔ جھکاؤ۔

رگ۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذ۔ جنگل۔ وہ جنگل جس میں سے عوام کو گھاس یا کھلٹی کاٹنے کی ممانعت ہو (۲) رکھنا مصدر کا صیغہ امر۔

رگہ پت۔ رکھا پت۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) متعدی (۲) دوسروں کی عزت کو اپنی عزت کروا رکھ پھوڑنا۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) جمع رکھنا (۲) نہ دینا۔ دبا لینا۔

رگھ دینا۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مجا درہ کسی جگہ کوئی چیز رکھ دینا (۲) لانا۔ ہتھیار ڈال دینا۔ رکھ رکھاؤ۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) تکلف۔ خاطر داری۔ دیکھ بھال۔

رگھ۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذ۔ رگھ کا مختلف۔ درخت۔ رکھا رکھا یا۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذ۔ رکھا ہوا (۲) باسی۔

رگھانی۔ (رگھانی۔ بی۔ رگھانی) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مٹ (۲) بڑھنی کا ایک اوزار۔ برما۔

رگھاوت۔ (رگھانی۔ وت) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مٹ (۲) رگھاپن۔ بے مردتی۔ رکھا ہونا۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) کچھ موجود ہونا۔ طاقت ہونا (۲) قائم ہونا (۳) باقی رہنا۔

رکھاؤ۔ (رکھ۔ او) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مٹ (۲) رکھی ہوئی عورت۔ ملازم۔ لوٹڈی۔ رگھانی۔ (رگھانی۔ ای) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مٹ (۲) رگھاپن۔ بے اتفاق۔ بد اتفاق (۳) بے وفائی۔ بے مردتی۔ اعراض۔ انکار۔

رگھانی کی لینا۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مجا درہ بد مزاجی ظاہر کرنا۔ بے پردائی کرنا۔ رکھیب۔ (رکھیب۔ ۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذ۔ ایک سر کا نام۔

رگھنتنی۔ (رگھنتنی۔ بی) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مذ۔ وہ روپیہ جو صدقہ کر کے نوکروں کو دیا جائے۔

رگھ کے کہنا۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مٹ (۲) کسی پر ڈال کر کوئی بات کہنا۔ اشارتاً کوئی بات کہنا۔ رکھ لینا۔ (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) لے لینا۔ قبول کر لینا۔ بچا لینا (۲) زد پر رکھنا۔ متواتر وار کرنا۔

رکھنا۔ (رکھ۔ نا) (۱۔ ۱۔ ۱۔ ۱) مٹ (۲) دھرنا۔ لگانا (۳) بھانا۔ خبر داری کرنا (۴) جمع کرنا (۵) چھوڑنا۔ موقوف کرنا (۶) دفن کرنا (۷) رہن کرنا (۸) داخل کرنا (۹) دبا لینا۔ مار لینا (۱۰) روکنا۔ پھرانا (۱۱) مقرر کرنا (۱۲) نطفہ ڈالنا (۱۳) نصب کرنا۔ کھڑ کرنا (۱۴) لگانا۔ مارنا (۱۵) مرغی کے نیچے اٹھ سے رکھنا (۱۶) مقرر ہونا۔ قرض دار ہونا (۱۷) لے کرنا۔ پیش کرنا (۱۸) نذر کرنا۔ بیعت پڑھانا (۱۹) ٹالنا۔ آلا بالا بتانا (۱۹) قرض نہ ہونے دینا (۲۰) پیر دکرنا (۲۱) شرط پر لگانا (۲۲) برتن میں ڈالنا (۲۳) پرورش کرنا (۲۴) قبول کرنا (۲۵) ذمہ ڈالنا (۲۶) برانا۔

رخانت کرنا (۲۷) مدخل بنانا۔ محبت کرنا (۲۸) طواف یا نوکر رکھنا۔ دلکاری کرنا۔



رِیالیں - (رل - یال) (ق. ۱-مٹ) خوشی (اب رنگ کے ساتھ بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے۔

## ر م

رَم - (Rum) (رنگ - ۱-مٹ) گڑکی شراب۔  
رَم - (ر - ۱-مٹ) ڈر - خوف - دہشت (۲) دشت - لغزت (۳) گردبز - بھگانا (۴) چھینا۔

رَم بھول جانا - (۱- محاورہ) چرکڑھی بھول جانا۔ گھبر جانا۔ شش و پنج میں پڑ جانا۔  
رَم خوردہ - رَم ویدہ - رَم زدہ - رَم کردہ - (صفت مفعول) بھاگا ہوا۔ دشت زدہ۔

رَم کرنا - بھاگ جانا۔ دوڑ جانا۔  
رَم - (انگریزی ریم (Ream) کا محاورہ - ۱- مٹ) کاغذوں کے بیس دستوں کا بندل۔

رِم - (Rim) (رنگ - ۱-مٹ) پیتے کا حلقہ یا گھیرا۔ خاص طور پر سائیکل کا پیتا۔ جس پر ٹائر اور ٹیوب پڑھاتے ہیں۔

رَماء - (۱- مٹ) (۱) بیوی (۲) مشوقہ (۳) تکشی کا ایک نام (۴) خوش نصیبی - اقبال (۵) دولت مندی - امارت - شان و شوکت - (۶) کالمک بڈی کی گیارھویں تاریخ۔

رَماء - (ر - ۱- مٹ) راکھ - خاکستر۔  
رَماز - (رَم - مان) (ر - ۱- مٹ) وہ شخص جو اشاروں سے یا خفیہ طور پر گفتگو کرے (۲) پہلیاں کہنے والا شخص۔

رَمال - (رَم - مال) (ر - ۱- مٹ) علم رمل کا ماہر - جوتشی - جُوی۔  
رَمالی - (رَم - مالی) (ر - ۱- مٹ) رمل - نجوم - جوتش۔  
رَمان - (رَم - مان) (ر - ۱- مٹ) انار۔

رَمانا - (رَم - مانا) (ر - ۱- مٹ) پھرانا۔ گھٹانا (۲) دل بہلانا۔ بات چیت میں لگانا (۳) جوگ، اختیار کرنا (۴) آگ جلانا جوگی کا (۵) رچانا۔  
رَمانی - (ر - ۱- مٹ) انار کے رنگ کا - انار سے منسوب۔

رَمبیا - (رَم - با) (ر - ۱- مٹ) کھر با۔  
رَمبھانا - (رَم - بھانا) (ر - ۱- مٹ) گانے کا لونا۔ بھینس کا ڈرانا۔

رَمبیا - (رَم - با) (ر - ۱- مٹ) چڑا چھینے کا آلہ۔  
رَمپتی - (رَم - پتی) (ر - ۱- مٹ) رسی کی تصنیف چڑا ترانے کا چھوٹا آکر۔  
رَمتا - (رَم - تتا) (ر - ۱- مٹ) چلتا پھرتا۔ گھومنے والا - ادارہ۔

رَمتا جوگی - (ر - ۱- مٹ) پھرتا پھرتا جوگی - سیاح - درویش۔  
رَم جھم - (ر - ۱- مٹ) بارش کی خفیف آواز۔  
رَم جھمیلنہ برسنا - (۱- محاورہ) آہستہ آہستہ میز برسنا۔

رَمچیرا - (رَم - چیرا) (ر - ۱- مٹ) (۱) غلام - نوکر۔  
رَمند - (ر - ۱- مٹ) ایک بیماری جس سے آنکھیں سرخ رہتی ہیں۔

رَمدو پھینگو - (رَم - دو - پھٹ - ٹو) (ر - ۱- مٹ) ابر سے غیرے ٹھنڈا ہونے سے۔  
عام لوگ - خلقت۔

رَمز - (ر - ۱- مٹ) (۱) آنکھوں - بھوؤں یا ہونٹوں کا اشارہ - غمزہ - عشوہ (۲) ایما - اشارہ (۳) ڈاڑھ - ممتا - پیلی - بیچ دار بات (۴) بھید - راز (۵) نکتہ - باریکی (۶) لوگ بھونگ (۷) طعنہ ہنس (۸) علامت - نشان (۹) بات - معاملہ (۱۰) پوشیدہ بات - مخفی بات۔

(۱۱) ذومعنی بات - پہلو دار بات (۱۲) بات کی جڑ - مہنوم - مُراد - جمع - رُموز۔

رَمز آمیز - (ر - ۱- مٹ) اشارے کنائے سے - طنزیہ کلام۔  
رَمز پیمان جانا - (۱- محاورہ) اصل نشان معلوم کر لینا۔ بات تازہ جانا۔  
رَمز پھینکنا - رَمز مارنا - (۱- محاورہ) (۱) اشارہ کنایہ کرنا (۲) آواز توارہ کننا (۳) طعنہ دینا۔

رَمز شناس - (ر - ۱- مٹ) اشارہ پہچاننے والا۔  
رَمز کی باتیں - رَمز کی گھاتیں - (ر - ۱- مٹ) (۱) بھید کی باتیں (۲) اشارے کنائے کی باتیں (۳) طعنہ ہنس (۴) نکتے کی باتیں۔

رَمضان - (رَم - ضان) (ر - ۱- مٹ) (۱) اجلانے والا (۲) مسلمانوں کا نواں قریبینہ - ماہ صیام - وہ مہینہ جس میں اہل اسلام روزے رکھتے ہیں۔  
رَمضان کے نمازی - چند روزہ نمازی۔

رَمضان کے نمازی تحرم کے سپاہی - (مٹ) ظاہر دار کی نسبت برتے ہیں۔  
رَمضانی - (رَم - ضانی) (۱) اور صفت (۲) ماہ رمضان کا (۳) رمضان کے متعلق (۴) روزوں کا یان کے متعلق (۵) جو رمضان میں پیدا ہوا ہو۔

رَمق - (رَمق - ۱- مٹ) (۱) تھوڑی سی جان - رہی سہی جان - اخیر سانس (۲) ذرا سا (۳) چاشنی کا کچھ اڑ۔

رَمل - (ر - ۱- مٹ) (۱) ایک علم کا نام جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعے حجب کی بات دریافت کرتے ہیں - نجوم - جوتش۔  
جمع : رَمال۔

رَمل - (ر - ۱- مٹ) (۱) علم عرض کی ایک بحر کا نام۔  
رَمنا - (رَم - نا) (ر - ۱- مٹ) (۱) مہن - (۲) مہن - (۳) مہن - (۴) مہن - (۵) مہن - (۶) مہن - (۷) مہن - (۸) مہن - (۹) مہن - (۱۰) مہن - (۱۱) مہن - (۱۲) مہن - (۱۳) مہن - (۱۴) مہن - (۱۵) مہن - (۱۶) مہن - (۱۷) مہن - (۱۸) مہن - (۱۹) مہن - (۲۰) مہن - (۲۱) مہن - (۲۲) مہن - (۲۳) مہن - (۲۴) مہن - (۲۵) مہن - (۲۶) مہن - (۲۷) مہن - (۲۸) مہن - (۲۹) مہن - (۳۰) مہن - (۳۱) مہن - (۳۲) مہن - (۳۳) مہن - (۳۴) مہن - (۳۵) مہن - (۳۶) مہن - (۳۷) مہن - (۳۸) مہن - (۳۹) مہن - (۴۰) مہن - (۴۱) مہن - (۴۲) مہن - (۴۳) مہن - (۴۴) مہن - (۴۵) مہن - (۴۶) مہن - (۴۷) مہن - (۴۸) مہن - (۴۹) مہن - (۵۰) مہن - (۵۱) مہن - (۵۲) مہن - (۵۳) مہن - (۵۴) مہن - (۵۵) مہن - (۵۶) مہن - (۵۷) مہن - (۵۸) مہن - (۵۹) مہن - (۶۰) مہن - (۶۱) مہن - (۶۲) مہن - (۶۳) مہن - (۶۴) مہن - (۶۵) مہن - (۶۶) مہن - (۶۷) مہن - (۶۸) مہن - (۶۹) مہن - (۷۰) مہن - (۷۱) مہن - (۷۲) مہن - (۷۳) مہن - (۷۴) مہن - (۷۵) مہن - (۷۶) مہن - (۷۷) مہن - (۷۸) مہن - (۷۹) مہن - (۸۰) مہن - (۸۱) مہن - (۸۲) مہن - (۸۳) مہن - (۸۴) مہن - (۸۵) مہن - (۸۶) مہن - (۸۷) مہن - (۸۸) مہن - (۸۹) مہن - (۹۰) مہن - (۹۱) مہن - (۹۲) مہن - (۹۳) مہن - (۹۴) مہن - (۹۵) مہن - (۹۶) مہن - (۹۷) مہن - (۹۸) مہن - (۹۹) مہن - (۱۰۰) مہن - (۱۰۱) مہن - (۱۰۲) مہن - (۱۰۳) مہن - (۱۰۴) مہن - (۱۰۵) مہن - (۱۰۶) مہن - (۱۰۷) مہن - (۱۰۸) مہن - (۱۰۹) مہن - (۱۱۰) مہن - (۱۱۱) مہن - (۱۱۲) مہن - (۱۱۳) مہن - (۱۱۴) مہن - (۱۱۵) مہن - (۱۱۶) مہن - (۱۱۷) مہن - (۱۱۸) مہن - (۱۱۹) مہن - (۱۲۰) مہن - (۱۲۱) مہن - (۱۲۲) مہن - (۱۲۳) مہن - (۱۲۴) مہن - (۱۲۵) مہن - (۱۲۶) مہن - (۱۲۷) مہن - (۱۲۸) مہن - (۱۲۹) مہن - (۱۳۰) مہن - (۱۳۱) مہن - (۱۳۲) مہن - (۱۳۳) مہن - (۱۳۴) مہن - (۱۳۵) مہن - (۱۳۶) مہن - (۱۳۷) مہن - (۱۳۸) مہن - (۱۳۹) مہن - (۱۴۰) مہن - (۱۴۱) مہن - (۱۴۲) مہن - (۱۴۳) مہن - (۱۴۴) مہن - (۱۴۵) مہن - (۱۴۶) مہن - (۱۴۷) مہن - (۱۴۸) مہن - (۱۴۹) مہن - (۱۵۰) مہن - (۱۵۱) مہن - (۱۵۲) مہن - (۱۵۳) مہن - (۱۵۴) مہن - (۱۵۵) مہن - (۱۵۶) مہن - (۱۵۷) مہن - (۱۵۸) مہن - (۱۵۹) مہن - (۱۶۰) مہن - (۱۶۱) مہن - (۱۶۲) مہن - (۱۶۳) مہن - (۱۶۴) مہن - (۱۶۵) مہن - (۱۶۶) مہن - (۱۶۷) مہن - (۱۶۸) مہن - (۱۶۹) مہن - (۱۷۰) مہن - (۱۷۱) مہن - (۱۷۲) مہن - (۱۷۳) مہن - (۱۷۴) مہن - (۱۷۵) مہن - (۱۷۶) مہن - (۱۷۷) مہن - (۱۷۸) مہن - (۱۷۹) مہن - (۱۸۰) مہن - (۱۸۱) مہن - (۱۸۲) مہن - (۱۸۳) مہن - (۱۸۴) مہن - (۱۸۵) مہن - (۱۸۶) مہن - (۱۸۷) مہن - (۱۸۸) مہن - (۱۸۹) مہن - (۱۹۰) مہن - (۱۹۱) مہن - (۱۹۲) مہن - (۱۹۳) مہن - (۱۹۴) مہن - (۱۹۵) مہن - (۱۹۶) مہن - (۱۹۷) مہن - (۱۹۸) مہن - (۱۹۹) مہن - (۲۰۰) مہن - (۲۰۱) مہن - (۲۰۲) مہن - (۲۰۳) مہن - (۲۰۴) مہن - (۲۰۵) مہن - (۲۰۶) مہن - (۲۰۷) مہن - (۲۰۸) مہن - (۲۰۹) مہن - (۲۱۰) مہن - (۲۱۱) مہن - (۲۱۲) مہن - (۲۱۳) مہن - (۲۱۴) مہن - (۲۱۵) مہن - (۲۱۶) مہن - (۲۱۷) مہن - (۲۱۸) مہن - (۲۱۹) مہن - (۲۲۰) مہن - (۲۲۱) مہن - (۲۲۲) مہن - (۲۲۳) مہن - (۲۲۴) مہن - (۲۲۵) مہن - (۲۲۶) مہن - (۲۲۷) مہن - (۲۲۸) مہن - (۲۲۹) مہن - (۲۳۰) مہن - (۲۳۱) مہن - (۲۳۲) مہن - (۲۳۳) مہن - (۲۳۴) مہن - (۲۳۵) مہن - (۲۳۶) مہن - (۲۳۷) مہن - (۲۳۸) مہن - (۲۳۹) مہن - (۲۴۰) مہن - (۲۴۱) مہن - (۲۴۲) مہن - (۲۴۳) مہن - (۲۴۴) مہن - (۲۴۵) مہن - (۲۴۶) مہن - (۲۴۷) مہن - (۲۴۸) مہن - (۲۴۹) مہن - (۲۵۰) مہن - (۲۵۱) مہن - (۲۵۲) مہن - (۲۵۳) مہن - (۲۵۴) مہن - (۲۵۵) مہن - (۲۵۶) مہن - (۲۵۷) مہن - (۲۵۸) مہن - (۲۵۹) مہن - (۲۶۰) مہن - (۲۶۱) مہن - (۲۶۲) مہن - (۲۶۳) مہن - (۲۶۴) مہن - (۲۶۵) مہن - (۲۶۶) مہن - (۲۶۷) مہن - (۲۶۸) مہن - (۲۶۹) مہن - (۲۷۰) مہن - (۲۷۱) مہن - (۲۷۲) مہن - (۲۷۳) مہن - (۲۷۴) مہن - (۲۷۵) مہن - (۲۷۶) مہن - (۲۷۷) مہن - (۲۷۸) مہن - (۲۷۹) مہن - (۲۸۰) مہن - (۲۸۱) مہن - (۲۸۲) مہن - (۲۸۳) مہن - (۲۸۴) مہن - (۲۸۵) مہن - (۲۸۶) مہن - (۲۸۷) مہن - (۲۸۸) مہن - (۲۸۹) مہن - (۲۹۰) مہن - (۲۹۱) مہن - (۲۹۲) مہن - (۲۹۳) مہن - (۲۹۴) مہن - (۲۹۵) مہن - (۲۹۶) مہن - (۲۹۷) مہن - (۲۹۸) مہن - (۲۹۹) مہن - (۳۰۰) مہن - (۳۰۱) مہن - (۳۰۲) مہن - (۳۰۳) مہن - (۳۰۴) مہن - (۳۰۵) مہن - (۳۰۶) مہن - (۳۰۷) مہن - (۳۰۸) مہن - (۳۰۹) مہن - (۳۱۰) مہن - (۳۱۱) مہن - (۳۱۲) مہن - (۳۱۳) مہن - (۳۱۴) مہن - (۳۱۵) مہن - (۳۱۶) مہن - (۳۱۷) مہن - (۳۱۸) مہن - (۳۱۹) مہن - (۳۲۰) مہن - (۳۲۱) مہن - (۳۲۲) مہن - (۳۲۳) مہن - (۳۲۴) مہن - (۳۲۵) مہن - (۳۲۶) مہن - (۳۲۷) مہن - (۳۲۸) مہن - (۳۲۹) مہن - (۳۳۰) مہن - (۳۳۱) مہن - (۳۳۲) مہن - (۳۳۳) مہن - (۳۳۴) مہن - (۳۳۵) مہن - (۳۳۶) مہن - (۳۳۷) مہن - (۳۳۸) مہن - (۳۳۹) مہن - (۳۴۰) مہن - (۳۴۱) مہن - (۳۴۲) مہن - (۳۴۳) مہن - (۳۴۴) مہن - (۳۴۵) مہن - (۳۴۶) مہن - (۳۴۷) مہن - (۳۴۸) مہن - (۳۴۹) مہن - (۳۵۰) مہن - (۳۵۱) مہن - (۳۵۲) مہن - (۳۵۳) مہن - (۳۵۴) مہن - (۳۵۵) مہن - (۳۵۶) مہن - (۳۵۷) مہن - (۳۵۸) مہن - (۳۵۹) مہن - (۳۶۰) مہن - (۳۶۱) مہن - (۳۶۲) مہن - (۳۶۳) مہن - (۳۶۴) مہن - (۳۶۵) مہن - (۳۶۶) مہن - (۳۶۷) مہن - (۳۶۸) مہن - (۳۶۹) مہن - (۳۷۰) مہن - (۳۷۱) مہن - (۳۷۲) مہن - (۳۷۳) مہن - (۳۷۴) مہن - (۳۷۵) مہن - (۳۷۶) مہن - (۳۷۷) مہن - (۳۷۸) مہن - (۳۷۹) مہن - (۳۸۰) مہن - (۳۸۱) مہن - (۳۸۲) مہن - (۳۸۳) مہن - (۳۸۴) مہن - (۳۸۵) مہن - (۳۸۶) مہن - (۳۸۷) مہن - (۳۸۸) مہن - (۳۸۹) مہن - (۳۹۰) مہن - (۳۹۱) مہن - (۳۹۲) مہن - (۳۹۳) مہن - (۳۹۴) مہن - (۳۹۵) مہن - (۳۹۶) مہن - (۳۹۷) مہن - (۳۹۸) مہن - (۳۹۹) مہن - (۴۰۰) مہن - (۴۰۱) مہن - (۴۰۲) مہن - (۴۰۳) مہن - (۴۰۴) مہن - (۴۰۵) مہن - (۴۰۶) مہن - (۴۰۷) مہن - (۴۰۸) مہن - (۴۰۹) مہن - (۴۱۰) مہن - (۴۱۱) مہن - (۴۱۲) مہن - (۴۱۳) مہن - (۴۱۴) مہن - (۴۱۵) مہن - (۴۱۶) مہن - (۴۱۷) مہن - (۴۱۸) مہن - (۴۱۹) مہن - (۴۲۰) مہن - (۴۲۱) مہن - (۴۲۲) مہن - (۴۲۳) مہن - (۴۲۴) مہن - (۴۲۵) مہن - (۴۲۶) مہن - (۴۲۷) مہن - (۴۲۸) مہن - (۴۲۹) مہن - (۴۳۰) مہن - (۴۳۱) مہن - (۴۳۲) مہن - (۴۳۳) مہن - (۴۳۴) مہن - (۴۳۵) مہن - (۴۳۶) مہن - (۴۳۷) مہن - (۴۳۸) مہن - (۴۳۹) مہن - (۴۴۰) مہن - (۴۴۱) مہن - (۴۴۲) مہن - (۴۴۳) مہن - (۴۴۴) مہن - (۴۴۵) مہن - (۴۴۶) مہن - (۴۴۷) مہن - (۴۴۸) مہن - (۴۴۹) مہن - (۴۵۰) مہن - (۴۵۱) مہن - (۴۵۲) مہن - (۴۵۳) مہن - (۴۵۴) مہن - (۴۵۵) مہن - (۴۵۶) مہن - (۴۵۷) مہن - (۴۵۸) مہن - (۴۵۹) مہن - (۴۶۰) مہن - (۴۶۱) مہن - (۴۶۲) مہن - (۴۶۳) مہن - (۴۶۴) مہن - (۴۶۵) مہن - (۴۶۶) مہن - (۴۶۷) مہن - (۴۶۸) مہن - (۴۶۹) مہن - (۴۷۰) مہن - (۴۷۱) مہن - (۴۷۲) مہن - (۴۷۳) مہن - (۴۷۴) مہن - (۴۷۵) مہن - (۴۷۶) مہن - (۴۷۷) مہن - (۴۷۸) مہن - (۴۷۹) مہن - (۴۸۰) مہن - (۴۸۱) مہن - (۴۸۲) مہن - (۴۸۳) مہن - (۴۸۴) مہن - (۴۸۵) مہن - (۴۸۶) مہن - (۴۸۷) مہن - (۴۸۸) مہن - (۴۸۹) مہن - (۴۹۰) مہن - (۴۹۱) مہن - (۴۹۲) مہن - (۴۹۳) مہن - (۴۹۴) مہن - (۴۹۵) مہن - (۴۹۶) مہن - (۴۹۷) مہن - (۴۹۸) مہن - (۴۹۹) مہن - (۵۰۰) مہن - (۵۰۱) مہن - (۵۰۲) مہن - (۵۰۳) مہن - (۵۰۴) مہن - (۵۰۵) مہن - (۵۰۶) مہن - (۵۰۷) مہن - (۵۰۸) مہن - (۵۰۹) مہن - (۵۱۰) مہن - (۵۱۱) مہن - (۵۱۲) مہن - (۵۱۳) مہن - (۵۱۴) مہن - (۵۱۵) مہن - (۵۱۶) مہن - (۵۱۷) مہن - (۵۱۸) مہن - (۵۱۹) مہن - (۵۲۰) مہن - (۵۲۱) مہن - (۵۲۲) مہن - (۵۲۳) مہن - (۵۲۴) مہن - (۵۲۵) مہن - (۵۲۶) مہن - (۵۲۷) مہن - (۵۲۸) مہن - (۵۲۹) مہن - (۵۳۰) مہن - (۵۳۱) مہن - (۵۳۲) مہن - (۵۳۳) مہن - (۵۳۴) مہن - (۵۳۵) مہن - (۵۳۶) مہن - (۵۳۷) مہن - (۵۳۸) مہن - (۵۳۹) مہن - (۵۴۰) مہن - (۵۴۱) مہن - (۵۴۲) مہن - (۵۴۳) مہن - (۵۴۴) مہن - (۵۴۵) مہن - (۵۴۶) مہن - (۵۴۷) مہن - (۵۴۸) مہن - (۵۴۹) مہن - (۵۵۰) مہن - (۵۵۱) مہن - (۵۵۲) مہن - (۵۵۳) مہن - (۵۵۴) مہن - (۵۵۵) مہن - (۵۵۶) مہن - (۵۵۷) مہن - (۵۵۸) مہن - (۵۵۹) مہن - (۵۶۰) مہن - (۵۶۱) مہن - (۵۶۲) مہن - (۵۶۳) مہن - (۵۶۴) مہن - (۵۶۵) مہن - (۵۶۶) مہن - (۵۶۷) مہن - (۵۶۸) مہن - (۵۶۹) مہن - (۵۷۰) مہن - (۵۷۱) مہن - (۵۷۲) مہن - (۵۷۳) مہن - (۵۷۴) مہن - (۵۷۵) مہن - (۵۷۶) مہن - (۵۷۷) مہن - (۵۷۸) مہن - (۵۷۹) مہن - (۵۸۰) مہن - (۵۸۱) مہن - (۵۸۲) مہن - (۵۸۳) مہن - (۵۸۴) مہن - (۵۸۵) مہن - (۵۸۶) مہن - (۵۸۷) مہن - (۵۸۸) مہن - (۵۸۹) مہن - (۵۹۰) مہن - (۵۹۱) مہن - (۵۹۲) مہن - (۵۹۳) مہن - (۵۹۴) مہن - (۵۹۵) مہن - (۵۹۶) مہن - (۵۹۷) مہن - (۵۹۸) مہن - (۵۹۹) مہن - (۶۰۰) مہن - (۶۰۱) مہن - (۶۰۲) مہن - (۶۰۳) مہن - (۶۰۴) مہن - (۶۰۵) مہن - (۶۰۶) مہن - (۶۰۷) مہن - (۶۰۸) مہن - (۶۰۹) مہن - (۶۱۰) مہن - (۶۱۱) مہن - (۶۱۲) مہن - (۶۱۳) مہن - (۶۱۴) مہن - (۶۱۵) مہن - (۶۱۶) مہن - (۶۱۷) مہن - (۶۱۸) مہن - (۶۱۹) مہن - (۶۲۰) مہن - (۶۲۱) مہن - (۶۲۲) مہن - (۶۲۳) مہن - (۶۲۴) مہن - (۶۲۵) مہن - (۶۲۶) مہن - (۶۲۷) مہن - (۶۲۸) مہن - (۶۲۹) مہن - (۶۳۰) مہن - (۶۳۱) مہن - (۶۳۲) مہن - (۶۳۳) مہن - (۶۳۴) مہن - (۶۳۵) مہن - (۶۳۶) مہن - (۶۳۷) مہن - (۶۳۸) مہن - (۶۳۹) مہن - (۶۴۰) مہن - (۶۴۱) مہن - (۶۴۲) مہن - (۶۴۳) مہن - (۶۴۴) مہن - (۶۴۵) مہن - (۶۴۶) مہن - (۶۴۷) مہن - (۶۴۸) مہن - (۶۴۹) مہن - (۶۵۰) مہن - (۶۵۱) مہن - (۶۵۲) مہن - (۶۵۳) مہن - (۶۵۴) مہن - (۶۵۵) مہن - (۶۵۶) مہن - (۶۵۷) مہن - (۶۵۸) مہن - (۶۵۹) مہن - (۶۶۰) مہن - (۶۶۱) مہن - (۶۶۲) مہن - (۶۶۳) مہن - (۶۶۴) مہن - (۶۶۵) مہن - (۶۶۶) مہن - (۶۶۷) مہن - (۶۶۸) مہن - (۶۶۹) مہن - (۶۷۰) مہن - (۶۷۱) مہن - (۶۷۲) مہن - (۶۷۳) مہن - (۶۷۴) مہن - (۶۷۵) مہن - (۶۷۶) مہن - (۶۷۷) مہن - (۶۷۸) مہن - (۶۷۹) مہن - (۶۸۰) مہن - (۶۸۱) مہن - (۶۸۲) مہن - (۶۸۳) مہن - (۶۸۴) مہن - (۶۸۵) مہن - (۶۸۶) مہن - (۶۸۷) مہن - (۶۸۸) مہن - (۶۸۹) مہن - (۶۹۰) مہن - (۶۹۱) مہن - (۶۹۲) مہن - (۶۹۳) مہن - (۶۹۴) مہن - (۶۹۵) مہن - (۶۹۶) مہن - (۶۹۷) مہن - (۶۹۸) مہن - (۶۹۹) مہن - (۷۰۰) مہن - (۷۰۱) مہن - (۷۰۲) مہن - (۷۰۳) مہن - (۷۰۴) مہن - (۷۰۵) مہن - (۷۰۶) مہن - (۷۰۷) مہن - (۷۰۸) مہن - (۷۰۹) مہن - (۷۱۰) مہن - (۷۱۱) مہن - (۷۱۲) مہن - (۷۱۳) مہن - (۷۱۴) مہن - (۷۱۵) مہن - (۷۱۶) مہن - (۷۱۷) مہن - (۷۱۸) مہن - (۷۱۹) مہن - (۷۲۰) مہن - (۷۲۱) مہن - (۷۲۲) مہن - (۷۲۳) مہن - (۷۲۴) مہن - (۷۲۵) مہن - (۷۲۶) مہن - (۷۲۷) مہن - (۷۲۸) مہن - (۷۲۹) مہن - (۷۳۰) مہن - (۷۳۱) مہن - (۷۳۲) مہن - (۷۳۳) مہن - (۷۳۴) مہن - (۷۳۵) مہن - (۷۳۶) مہن - (۷۳۷) مہن - (۷۳۸) مہن - (۷۳۹) مہن - (۷۴۰) مہن - (۷۴۱) مہن - (۷۴۲) مہن - (۷۴۳) مہن - (۷۴۴) مہن - (۷۴۵) مہن - (۷۴۶) مہن - (۷۴۷) مہن - (۷۴۸) مہن - (۷۴۹) مہن - (۷۵۰) مہن - (۷۵۱) مہن - (۷۵۲) مہن - (۷۵۳) مہن - (۷۵۴) مہن - (۷۵۵) مہن - (۷۵۶) مہن - (۷۵۷) مہن - (۷۵۸) مہن - (۷۵۹) مہن - (۷۶۰) مہن - (۷۶۱) مہن - (۷۶۲) مہن - (۷۶۳) مہن - (۷۶۴) مہن - (۷۶۵) مہن - (۷۶۶) مہن - (۷۶۷) مہن - (۷۶۸) مہن - (۷۶۹) مہن - (۷۷۰) مہن - (۷۷۱) مہن - (۷۷۲) مہن - (۷۷۳) مہن - (۷۷۴) مہن - (۷۷۵) مہن - (۷۷۶) مہن - (۷۷۷) مہن - (۷۷۸) مہن - (۷۷۹) مہن - (۷۸۰) مہن - (۷۸۱) مہن - (۷۸۲) مہن - (۷۸۳) مہن - (۷۸۴) مہن - (۷۸۵) مہن - (۷۸۶) مہن - (۷۸۷) مہن - (۷۸۸) مہن - (۷۸۹) مہن - (۷۹۰) مہن - (۷۹۱) مہن - (۷۹۲) مہن - (۷۹۳) مہن - (۷۹۴) مہن - (۷۹۵) مہن - (۷۹۶) مہن - (۷۹۷) مہن - (۷۹۸) مہن - (۷۹۹) مہن - (۸۰۰) مہن - (۸۰۱) مہن - (۸۰۲) مہن - (۸۰۳) مہن - (۸۰۴) مہن - (۸۰۵) مہن - (۸۰۶) مہن - (۸۰۷) مہن - (۸۰۸) مہن - (۸۰۹) مہن - (۸۱۰) مہن - (۸۱۱) مہن - (۸۱۲) مہن - (۸۱۳) مہن - (۸۱۴) مہن - (



رُنج کھینا - رنج کھینچنا - رنج لینا - (۱- محاورہ) رنج اٹھانا - صد مہر برداشت کرنا۔  
 رُنج مٹنا - (۱- محاورہ) تکلیف دُور ہونا۔  
 رُنج مول لینا - (۱- محاورہ) اپنے سر کوئی دُکھ لینا خواہ مخواہ تکلیف اٹھانا۔  
 رُنج دُمن - (رن - مذ) دُکھ - درد - تکلیف - مصیبت۔  
 رُنجش - (رن - جنس) رن (۱- صفت) غم (۲) آزدگی - بکاڑ - اُن بنی نا خوشی۔  
 رُنجشی - (رنج - شش) (رن - صفت) سستی - بُرا وقت۔

رُنجک - (رن - جنک) رن (۱- صفت) (۱) بارود جو بندوق یا توپ کے پیالے میں آگ دینے کے لیے رکھی جاتی ہے (۲) تحریک - اغوا (۳) ہولن - سفوف۔

رُنجک اڑانا - (۱- محاورہ) (۱) بندوق یا توپ کے پیالے کی بارود میں آگ لگانا (۲) ہتی لگانا - فیکلہ دینا (۳) چکانا (۴) گز اڑانا - پھسکی لگانا۔  
 رُنجک پلانا - رنجک ڈالنا - رنجک رکھنا - (۱- محاورہ) بندوق یا توپ کے پیالے میں بارود رکھنا۔  
 رُنجک چاٹ جانا - (۱- محاورہ) (۱) توپ یا بندوق کا سر نہ ہونا (۲) رنجک کا دھواں دے کر رہ جانا۔

رُنجک دان - (رن - ا) (مذ) رنجک رکھنے کا پیالہ۔  
 رُنجش - (رن - جن) (رن - جنس) (۱- مذ) بُرا مشکا۔  
 رُنججور - (رن - جوڑ) (رن - صفت) اصل میں رنج دُر تھا - جیم کو پیش دے کر واڈ ساکن کر دیا (۱) بیمار - افسردہ - مغموم۔  
 رُنججوری - (رن - جوڑی) (رن - صفت) بیماری - روگ - مصیبت - تکلیف۔  
 رُنججہ - (رن - جن) (رن - صفت) (۱) رنجیدہ - مغموم (۲) (مذ) رنج (۳) نزاکت رکھنے والی۔

رُنجیدگی - (رن - جی - ڈگی) (رن - صفت) رنجش - ملال۔  
 رُنجیدہ - (رن - جی - ڈہ) (رن - صفت) (۱) خفا - ناراض - ہزار اُداس (۲) اُداس افسردہ۔  
 رُنجیدہ خاطر - (رن - صفت) ناخوش - دکھی - ناراض - افسردہ - اُداس۔  
 رُنجیدہ - (رن - ا) (مذ) دیوار قلعہ یا شہر پناہ کے وہ موکے جو قسیم پر اندر سے بند تھیں چلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔

رُنجہ - (رن - صفت) (۱) آزاد - بے قید شخص (۲) جس شخص کا ظاہر خراب باطن اچھا ہو (۳) شرابی (۴) صوفی (۵) عیاش (۶) آوارہ (۷) (۸) جو شیار - چالاک۔  
 رُنجہ مذہب - (رن - صفت) (۱) آزاد (۲) اوباش وضع۔  
 رُندان سیاہ مست - (رن - ا) (صفت) بد کار آدمی - شرابی۔  
 رُندانہ - (رن - ا) (مذ) (۱) رن - صفت (۲) رند سے نسبت رکھنے والا۔  
 آزادانہ (۲) اوباشانہ۔

رُندانہ - (رن - ا) (مذ) (۱) رن - صفت (۲) رند سے چھٹا - صاف کرنا۔  
 رُندانہ - (رن - ا) (مذ) (۱) پامال ہونا - پست (۲) قید ہونا (۳) روکا جانا۔  
 (۴) عملیں ہونا (۵) گھر آنا - چھا جانا۔

رُنجی - (رنک - ۱- صفت) تاش کا ایک کھیل۔  
 رُنجیدگی - (رن - جی - ڈگی) (رن - ا) (مذ) (۱) بھانگ (۲) دشت (۳) تنفر۔  
 رُنجیدہ - (رن - جی - ڈہ) (رن - صفت) (۱) نرم کیے ہوئے - بھالا ہوا (۲) دشتی۔  
 رُنجیم - (رن - جیم) (رن - صفت) گلی ہونی - بوسیدہ - کہنہ - بیج اڑنا۔

## رن

رُن - (رس - ا) (مذ) (۱) لڑائی - جنگ - رزم - کارزار - معرکہ - کھیت (۲) میدان جنگ - رزم گاہ - میدان کارزار - مقتل (۳) (۱-۰-۱) (مذ) جنگل - بیابان۔

رُن بن - (۱-۰-۱) (مذ) جنگل بیابان۔  
 رُن بھومی - (۱-۰-۱) (مذ) میدان جنگ۔  
 رُن پر چڑھنا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) جنگ کے لیے جانا (۲) جنگ کرنا - لڑنا۔  
 رُن پر لڑنا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) جنگ ہونا - لڑائی ہونا (۲) بہت سے آدمیوں کا مارا جانا۔

رُن جیت (رُنجیت) - (۱-۰-۱) (مذ) فاتح - جنگ جیتنے والا۔  
 رُن دھیر (رُندھیر) - (۱-۰-۱) (مذ) ثابت قدم - با حوصلہ - مستقل مزاج۔  
 رُن کا کھیت - میدان جنگ۔  
 رُن کی فکر نہ دھن کی چوٹ - یہ دُھم دھو سر کا موٹ - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) یہ ٹکرو مٹاؤ۔

رُن لڑکھ - (۱-۰-۱) (مذ) لڑائی کا قلعہ - وہ جگہ جس کے گرد روپے بنائے جائیں۔  
 رُن لکھن - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) (مذ) قتل عام۔  
 رُن ہتاب - (۱-۰-۱) (مذ) روشنی کا گولا جو میدان جنگ میں روشنی کے لیے دات کو چھوڑتے ہیں۔

رُن ہلا دینا - (۱-۰-۱) (مذ) میدان جنگ میں لرزہ پیدا کرنا۔  
 رُن (Run) (۱-۰-۱) (مذ) (۱) دوڑ - جھٹ (۲) کرکٹ کے کھیل میں ایک وکٹ سے دوسرے وکٹ تک کی دوڑ۔  
 رُن آؤٹ - (Runout) کھلاڑی کا ایک وکٹ سے دوسری وکٹ تک دوڑتے ہوئے آؤٹ ہو جانا۔

رُنج - (رن - ا) (مذ) (۱) حقہ - غضب - کردوہ (۲) دُکھ - درد - بیماری (۳) غم - ملال - افسردہ (۴) افسوس - پینچاؤ۔  
 رُنج آنا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) ملال ہونا۔  
 رُنج اٹھانا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) صدمہ برداشت کرنا۔  
 رُنج بھولنا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) صدمہ - ملال اور تکلیف کا دل سے محو ہونا۔  
 رُنج پہنچانا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) اذیت دینا - ملول کرنا۔  
 رُنج دینا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) آزدہ کرنا - ستانا - ہزار کرنا۔  
 رُنج سہنا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) رنج برداشت کرنا۔

رُنج سے چھوٹنا - (۱-۰-۱) (مذ) (۱) افسردگی - غم سے نجات پانا۔  
 رُنج کرنا - (مض - مرکب) غم کرنا - افسوس کرنا - کڑھنا۔







رُوساہ - (ن - صف) شرمندہ - گنگار - کلامنہ - کالے منہ کا  
 رُوساہی - (ن - ۱ - مٹ) ذلت - رسوائی - بدنامی -  
 رُوشناس - (ن - صف) جان پہچان والا - واقف کار -  
 رُوشناسی - (ن - ۱ - مٹ) واقف کاری - صاحب سلامت - جان پہچان  
 رُودکار - (ن - ۱ - مٹ) اگلا جتہ - سامنے کا جتہ -  
 رُوکش - (ن - صف) مقابل - حریف - ہمسر - مانند - مشابہ - آئینہ - کاغذات -  
 رُودگرداں - (ن - صف) (۱) منہ پھیرنے والا - ناراض - ناخوش - مغرور  
 (۲) بے رواج -

رُودگردانی - (ن - ۱ - مٹ) اعتراف - گنہ پھیرنا - نافرمانی -  
 رُودمال - (۱) کپڑے کا ٹکڑا جو منہ وغیرہ صاف کرنے کے کام آتا ہے -  
 دست مال (۲) وہ اونی یا ریشمی کپڑا جو ٹکڑا اور ڈھا جاتا ہے (۳)  
 وہ کپڑا جو تلوار کے قبضے میں باندھتے ہیں -  
 رُودمال پر رُودمال بھگوننا - (۱ - محاورہ) اس قدر رونا کہ رومال تر ہو جائیں -  
 رُودمالی - (۱) اور ہنسی - لڑکیوں کے اور بھنے کا دوپٹا (۲) میانی کا کپڑا -  
 (۳) وہ سرگوشی کپڑا جو پہلوان بوقت ورزش باندھتے ہیں (۴)  
 نگہ بند (۵) وہ رومال جو عمدتیں سر سے باندھ لیتی ہیں (۶) ایک قسم کا  
 کبوتر - گدڑ کی ایک ورزش -

رُودمالی سویاں - (۱ - مٹ) بہت باریک ہوتیاں جنہیں رومال میں باندھ  
 کر کھولتے پانی میں غوطہ دین تو پک جاتیں -  
 رُودنما - (ن - صف) جو منہ دکھانے جو ظاہر ہو -  
 رُودنما ہونا - (۱ - محاورہ) ظاہر ہونا - منہ دکھانا - وقوع پذیر ہونا -  
 رُودنمائی - (ن - ۱ - مٹ) (۱) منہ دکھانا (۲) وہ نقدی جو خاندان یا اس کے  
 رشتے دار کو دین کو منہ دکھانے کی دیتے ہیں - منہ دکھائی - سلامی -  
 رُودٹے سخن - (ن - ۱ - مذ) بات کا طرح - خطاب سخن -  
 رُودیش میں حالش پُرس - (ن - مثل) صورت دیکھنے سے حال  
 ظاہر ہے - دریافت کرنے کی ضرورت کیا -

رُودا - (ن - ۱ - مذ) (۱) سوچی (۲) ریت کا ذرہ (۳) چاندی یا سونے  
 کے دانے (۴) بارود کا دانہ (۵) چترا جو پازیب میں آواز کے لیے  
 ڈالتے ہیں -  
 روٹے دار - (ن - ۱ - مذ) دانہ دار - خستہ -

رُودا - (ن - ۱ - مذ) (۱) جائز - مجاز - درست - ٹھیک (۲)  
 (مرکبات میں) پورا کرنے والا (جیسے حاجت روا) جاری کرنے والا -  
 نافذ کرنے والا (جیسے فرمان روا) -  
 رُودا دار - (ن - صف) جائز رکھنے والا - مجاز رکھنے والا -  
 رُودا دار نہ ہونا - (۱ - محاورہ) خواہاں نہ ہونا - یقین نہ رکھنا - ساقی نہ ہونا -  
 رُوداداری - (ن - ۱ - مٹ) کسی بات کو رعایت سے جائز رکھنا بے یقینی -  
 رُودا رکھنا - (۱ - محاورہ) جائز رکھنا - منظور کرنا - ماننا - قبول کرنا -

رُودابط - (ن - ۱ - مذ) رابطہ کی جمع - تعلقات - میل جول -  
 رُودابج - (ن - ۱ - مذ) (۱) عام دستور - ریت - رسم (۲) منابطہ -  
 قاعدہ - معمول -

رُنگین زبانی (سخنی) - شوخ زبانی - خوش زبانی -  
 رُنگین کمان - (ن - ۱ - مٹ) قوس قزح -  
 رُنگین مزاج - (ن - صف) خوش طبع - ہنس مکھ - زندہ دل -  
 رُنگینی - (ن - ۱ - مٹ) (۱) تلون (۲) بھڑک - آرائش - نمائش  
 بناؤ سنگار (۳) خوش مزاجی - خوش طبعی (۴) بانگ پن -  
 رُنگین سخن - (ن - ۱ - مٹ) کلام کا رنگین ہونا -  
 رُنگ گسٹری (Running commentary) - رُنگ گسٹری - مٹ - (ری)  
 ڈانگ - (۱ - مذ) فی البدیہہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا -  
 رُنگی - (رُنگی) (۱ - مٹ) (۱) اردو -

رو

رُو - (۱ - مٹ) (۱) پانی کا بہاؤ - سیلاب - دھار (۲) بوش - دلولہ - غصہ -  
 (۳) دھن - خیال (۴) فوج - لشکر - بھیڑ - انہو -  
 رُو - (ن - صف) چلنے والا (مرکبات میں مستقل ہے جیسے راہ رُو) -  
 رُو - (ن - صف) اُگنے والا (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے خود رو -  
 رُو - (ن - ۱ - مذ) (۱) چہرہ - مچھڑا - رُخ - صورت - شکل (۲) مذومٹ  
 سبب - وجہ - باعث (۳) بساط - سطح - تختہ (۴) سامنا - آگاہ (۵)  
 (۱) امید - تمنا (۶) رعایت -

رُو براہ - (ن - صف) (۱) تیار - مستعد - کمر بستہ (۲) اصلاح کیا ہوا - درست -  
 رُو برو - (ن - صف) منہ در منہ - آنے سے سامنے - مقابل -  
 رُو برو کرنا - (۱ - محاورہ) (۱) سامنے کرنا - مقابل کرنا (۲) سپرد کرنا (۳)  
 صورت دکھانا (۴) پیش کرنا -  
 رُو بکار - (ن - ۱ - مذ) پیشی - عدالتی حکم - پرواز -  
 رُو نبہ صحت - (ن - صف) صحت کی طرف مائل -  
 رُو نہ قفا - (ن - صف) سر جھکائے ہوئے -

رُو پاک - (ن - ۱ - مذ) رُو مال -  
 رُو پوش - (ن - صف) چھپا ہوا - مخفی - پوشیدہ -  
 رُو پوشی - (ن - ۱ - مٹ) منہ چھپانا - غائب رہنا -  
 رُو پیٹ کر پیٹھ رہنا - (۱ - محاورہ) صبر کرنا -  
 رُو داد - (ن - ۱ - مٹ) (۱) کیفیت - حالت - حقیقت (۲) عدالت کی  
 کارروائی (۳) وہ تحریر جس میں کارروائی درج ہو (۴) رپورٹ -  
 رُو داد مقدمہ - (ن - ۱ - مذ) مقدمے کی کیفیت - عدالت کی کارروائی -  
 رُو دار - (ن - صف) وجہ - شکیلی - خوبصورت -  
 رُو داری - (ن - ۱ - مٹ) کسی کی موجودگی کی شرم - وجاہت -  
 لحاظ - پاس -

رُو درُو - (ن - صف) مزہ پر - علانیہ - کسی کے رُو برو -  
 رُو رعایت - (ن - ۱ - مٹ) پاس - لحاظ - مہربانی -  
 رُو روکے - (۱ - تاج فعل) بشکل تمام بڑی دقت اور محبت سے -



پیسوں یا زرگاری سے بدلنا  
 روپیہ پرکھن بار بار۔ آدمی پرکھن ایک بار۔ (ایش) روپے کو ہر بار  
 اور آدمی کو ایک ہی دفعہ آزمانا کافی ہے۔  
 روپیہ پیسا۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) ذہن۔ دولت۔ مال و زر۔  
 روپیہ پیتا یا تھک کی میل سے۔ (ایش) روپیہ پیسا قابل قدر چیز نہیں۔  
 روپیہ ٹوٹنا بھیل پھوٹی پھر نہیں رہتی۔ (ایش) ٹوٹنا ہوا روپیہ جلد خرچ  
 ہو جاتا ہے۔ توڑی ہوئی بھیل میں کالی جاتی ہے۔  
 روپیہ ٹھیکری کر دینا۔ روپیہ کنکریاں کر دینا۔ (امداد) فضول خرچی  
 یا بیماری دینے میں کثرت سے روپیہ صرف کر دینا۔  
 روپیہ دیکھا تو ہنس دیا۔ لہو دیکھا تو رو دیا۔ (ایش) لالچی آدمی کی  
 نسبت بولتے ہیں۔  
 روپے کو روپیہ مکتا ہے۔ (امداد) روپیہ خرچ کرنے سے اور  
 روپیہ وصول ہوتا ہے۔  
 روپے کو روپیہ نہ سمجھنا۔ روپے کی قدر نہ جاننا۔  
 روپے کے چار آنے۔ (بول چال) سنت گھانا پڑنا۔ رقم کا چوتھا رہ جانا  
 روپیہ ننگ لگنا۔ (امداد) روپیہ کسی اچھے کام میں صرف ہونا۔  
 روپے والا۔ (اصف) دولت مند۔ مال دار۔ تو شکر۔ متمول۔  
 روتا۔ (اصف) روتا ہوا۔ گریاں۔  
 روتی پیشانی (صورت)۔ (امداد) ہر وقت طول اور نگیں رہنے والا۔  
 روتے پھرنا۔ (امداد) زیاد کرنا۔ کتے پھرنا۔  
 روتے بیٹھتے۔ (دائر) تابع فعل، آؤ و فغان کرتے۔  
 روتے کیوں ہو کہا صورت ہی ایسی ہے۔ (ایش) اس شخص کی نسبت  
 بولتے ہیں جو ہر وقت روتی صورت بنائے رہے۔  
 روتے روتے آنکھیں لال ہونا۔ (امداد) اتنا زیادہ رونا کہ آنکھیں سرخ  
 ہو جائیں۔  
 روتے گئے موٹے کی خبر لائے۔ (ایش) جس بدشگون سے گئے ویسی  
 ہی بد خبر لائے۔  
 روٹ۔ (Route) (انگ۔ ۱۔ مذ) راستہ۔ راہ۔ طریق۔  
 روٹ پر مٹ۔ (انگ۔ ۱۔ مذ) گاڑی ایس۔ ٹرک۔ ٹانگہ کا کسی خاص  
 راستے پر چلنے کا اجازت نامہ۔  
 روٹ۔ روٹا۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) بڑی روٹی۔ موٹی روٹی۔  
 روٹری کلب۔ (Rotary club) (روٹ۔ ری۔ ک۔ لب، وانگ، مایا)  
 ایک فلاحی انجمن جس کی شاخیں متعدد ممالک میں قائم ہیں۔  
 روٹھا۔ (دہ۔ ۱۔ صفت) خفا۔ ناراض۔  
 روٹھے کو منائے جھٹے کو سلائیے۔ (ایش) صلح ہی رکھنا مناسب ہے  
 روٹھا روٹھی۔ روٹھا روٹھی۔ (دہ۔ ۱۔ صفت) ان بن۔ خنقی۔ رنجیدگی۔  
 آزدگی۔  
 روٹھنا۔ (روٹھ۔ نا، دہ۔ ۱۔ صفت) خفا ہونا۔ ناراض ہونا۔ بگڑنا۔  
 روٹی۔ (دو۔ ۱۔ مذ) (دہ۔ ۱۔ صفت) نان۔ چپاتی۔ پھلکا (۲) چہلم کا کھانا۔  
 (۳) غذا۔ برزق۔

روٹی اڑ جانا۔ (امداد) رزق ناپید ہو جانا۔  
 روٹی پر روٹی رکھ کر کھانا۔ (امداد) فارغ ابالی میں گزارنا۔ فراغت  
 داخلین سے زندگی بسر کرنا۔  
 روٹی ٹکڑا ہو جائے گا۔ گھوڑا ٹوٹ ہو جائے گا۔ کیڑا تباہ جائے گا  
 (ایش) یوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ مطلب براری مطلق نہ ہوگی۔ دم  
 بھانے میں امید و آری رکھنا۔  
 روٹی ڈال۔ (امداد) نان نفقہ (۲) متمول غذا (۳) گزارہ۔ خرچ۔  
 روٹی ڈال سے خوش۔ (اصف) آسودہ۔  
 روٹی دینا۔ (امداد) برادری کو کسی تقریب پر کھانا کھلانا (۲) کھانا  
 کھلانا پرورش۔  
 روٹی ڈالنا۔ (امداد) روٹی پکانا۔  
 روٹی سے لگنا۔ (امداد) (۱) کاروبار سے لگنا۔ ملازمت ملنا (۲) کہیں  
 سے رزق روزمرہ مقرر ہو جانا۔  
 روٹی کا مارا۔ روٹیوں کا مارا۔ (اصف) ناقہ زدہ۔ بھوکا۔ کنگال۔  
 روٹی کیڑا۔ نان نفقہ۔ گزارہ۔  
 روٹی کیڑے سے خبر لینا۔ (امداد) کھانے کیڑے سے مدد کرنا۔  
 روٹی کیڑے کو ترسنا۔ (امداد) نہایت غریب ہونا۔ پریشانی  
 میں بسر کرنا۔  
 روٹی کو روٹنا۔ (امداد) بھوکا مرنا۔ رزق کی تلاش میں پھرنا۔ رزق نہ  
 ملنے سے غم کھانا۔  
 روٹی کو روٹتے ہیں کھڑے ہو کر۔ مردے کو روٹتے ہیں بیٹھ کر۔  
 (ایش) عتاجی کی میسبت سب سے بڑھ کر ہے اور بے روزگاری  
 سخت آفت ہے۔  
 روٹی کو روٹے اور چوڑھے پیچھے سووے۔ (ایش) روٹی کا مارا  
 ایسا کی تجربہ رہتا ہے۔  
 روٹی کھائیے ٹکڑے اور دنیا لیجیے مگر سے۔ (ایش) دنیا میں مٹار  
 اور جلاک میٹ کر تے ہیں۔  
 روٹی کی خاک جھاڑنا۔ (امداد) (۱) بیجا خوشامد کرنا۔ خدمت کرنا۔  
 (۲) مزے سے زندگی بسر کرنا۔  
 روٹی دیاں کھاؤ تو پانی یہاں پیو۔ (ایش) جس قدر جلد ممکن ہو  
 سکے واپس آؤ۔  
 روٹیاں توڑنا۔ (امداد) محنت کی روٹیاں کھانا۔ دوسرے کے سر سے کھانا  
 روٹیاں لگنا۔ (امداد) (۱) تنور میں روٹیاں پکانا (۲) شامت آنا۔  
 روٹیوں پر پڑنا۔ (امداد) غصیل ہونا۔ دوسرے کی کالی کھانا۔  
 روٹین۔ (Routine) (رو۔ ۱۔ صفت) (۱) معمول کا کام۔  
 بندھا ہوا کام۔ روز کا کام (۲) دستور۔ قاعدہ۔ ضابطہ۔  
 روچ (Rouge) (انگ۔ ۱۔ صفت) رخساروں پر لگانے والی سُرخ۔  
 روچ۔ (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) بیل گائے (۲) ایک قسم کا کیڑا جو پرندوں کے روٹیں  
 میں ہوتا ہے۔  
 روچھنا۔ (روچھ۔ نا، ذق۔ صفت) مُندل ہونا۔ بھرنانا (۲) تنگ کرنا۔ ستانا۔

رُود۔ (ف۔ ۱۔ مذ۔ مذی۔ ہنر۔ نالا۔

رُود پار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ مقام جہاں سے بہت سی نہریں جاری ہوں۔  
پانی کا وہ بڑا حصہ جو عموماً آبنائے سے چوڑا ہوتا ہے اور دو سمندوں  
کو ملاتا ہے۔

رُودہ۔ (رُود۔ ذہ) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) انگریزی (۲) ساز کی تانت (۳) میل یا  
درخت کی شاخ۔

رودینا۔ (رود۔ دے۔ نا) (ذہ۔ مص) (۱) بے اختیار رونا۔ رونا شروع کرنا۔  
(۲) اپنی دفعہ بگڑنا۔ نامناسب ہونا۔ مٹنے ہونا (۳) عاجز ہونا۔ ہمت  
ٹارنا (۴) دب جانا۔ بارمانا (۵) مذاق وغیرہ برداشت نہ کرنا۔  
روڈ۔ (Road) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سڑک۔ راستہ۔ شارع عام۔  
روڈا۔ (صفت۔ منڈے ہوئے سرد والا۔

رود و دینا۔ (رود۔ دے۔ نا) (ذہ۔ مص) عاجز آجانا۔ نہایت پریشان ہونا۔  
رود و گئے کاٹنا۔ (ذہ۔ مص) مسیت کے ساتھ گزارنا۔ مشکل بساوات کرنا۔  
رود میں آئے تو آنے دو۔ (۱۔ نفل) جو چیز خود بخود اور صفت بل جلتے  
اُسے لے لینا چاہیے۔

روڈا۔ (رود۔ ڈا۔ ذہ) (۱۔ مذ) ٹی یا اینٹ کا ٹکڑا۔ سنگ دینہ (۲) کھتریوں کی  
ایک ذات (۳) مزاج۔ سداہ۔ روک (۴) جانوروں کی ایک بیماری  
جو برسات میں ہوتی ہے۔

روڈا اٹکانا۔ (۱۔ محاورہ) رکاوٹ پیدا کرنا۔ رخنہ ڈالنا۔

روڈی۔ (رود۔ ڈی) (ذہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) پتھر یا چونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے  
جو مکان کی منڈیروں۔ کچے فرشوں اور پکی سڑکوں کے اوپر لنگروں  
کے نیچے بکھائے یا عمارتوں کی بنیاد میں کوٹے جاتے ہیں (۲)  
گرد کی بھیلی۔

روز۔ (رُود۔ روز) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) دن۔ وار۔ یوم۔ بار۔ تاریخ۔ شہ (۲) مزدوری  
دن بھر کی اجرت۔ روزینہ (۳) وقت۔ زمانہ (۴) اُڑا مرنے کا دن۔  
تاریخ وفات۔ یوم فاتحہ (۵) ہمیشہ۔ ہر روز۔ سدا۔  
روزِ استفتاح۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) خوشی کا دن (۲) رجب کی ۱۵ تاریخ۔  
روزِ افزائے۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) دن کو بڑھانے والا (۲) پارسیوں کے  
سال کا چوتھا مہینہ۔

روزِ افزوں۔ (ف۔ صفت) آٹے دن زیادہ۔ روزانہ ترقی۔

روزِ اُست۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ دن جب کہ خدا اور انسان کے درمیان  
مبادیہ ہوا تھا۔

روزِ امید و بیم۔ (ف۔ ۱۔ مذ) قیامت کا دن۔ روزِ محشر۔

روزِ بازار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بازار لگنے کا دن (۲) گرم بازاری۔

روزِ بٹنا۔ (۱۔ محاورہ) یومیہ تقسیم ہونا۔ روز کے روز مزدوری کا دیا جانا۔

روزِ بد دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) مصیبت و پریشانی میں ڈالنا۔

روزِ بہ روز۔ (ف) آٹے دن۔ ہر روز۔ مسلسل۔ بے درپے۔

روزِ پسین۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) عمر کا آخری دن (۲) قیامت کا دن۔

روزِ جزا۔ (ف۔ ۱۔ مذ) اعمال کا حساب پیش ہونے، بدلے ملنے اور ارضاف  
کا آخری دن۔ قیامت کا دن۔

رُوجی۔ رُوجیاں۔ (رُود۔ جی۔ رُود۔ جی۔ آل) (ذہ۔ ۱۔ مٹ) وہ کپڑے جو پرند  
کے پر میں پیدا ہوتے ہیں۔

رُوح۔ (ر۔ ۱۔ مٹ) جان۔ جیو۔ آتما (۲) اُڑا۔ مٹ۔ جوہر (۳) دل۔  
(۴) انہرونی خواہش۔ نیت۔

رُوحِ اٹکنا۔ (۱۔ محاورہ) دم اٹکنا۔

رُوحِ افزا۔ (ر۔ ۱۔ صفت) فرحت و تازگی بخشنے والا۔ رُوح کو  
وقت دینے والا۔

رُوحِ الامین۔ (ر۔ ۱۔ ف۔ ۱۔ مذ) امانت دار رُوح۔ حضرت جبریلؑ مرتبہ کا لقب

رُوحِ القدس۔ (ر۔ ۱۔ ف۔ ۱۔ مذ) پاک رُوح۔ لقب حضرت جبریلؑ۔ نیز وہ  
خدا کی پاک رُوح جو نبی مریمؑ میں پھونکی گئی تھی۔ جس سے حضرت عیسیٰؑ  
پیدا ہوئے۔

رُوحِ اُتد۔ (ر۔ ۱۔ مذ) حضرت عیسیٰؑ کا لقب جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے  
رُوحِ بھالنا۔ (۱۔ محاورہ) متنفر ہونا۔

رُوحِ بھگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مدد پر کاشتا قی ہونا۔ کسی کے دیکھنے یا  
سننے کو رزنا۔ (۲) جان کا جسم سے نکلنے کے بعد گمراہ ہونا۔

رُوحِ پرواز کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جان نکلنا۔

رُوحِ بڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) جسم میں جان بڑھنا۔

رُوحِ بھڑکنا۔ (۱۔ محاورہ) رُوح بے تاب ہونا (۲) کمال خوشی اور سرت ہونا

رُوحِ بھوکنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز میں جان ڈالنا۔ رونق دینا۔

رُوحِ تڑپنا۔ (۱۔ محاورہ) دل بے قرار ہونا۔

رُوحِ تھڑانا۔ (۱۔ محاورہ) رُوح کا پینا۔ اہتمام درجہ کا خوف کھانا۔ خوف  
سے بن لرزنا۔

رُوحِ رواں۔ (ر۔ ۱۔ ف۔ ۱۔ مذ) زندہ رُوح۔ اصل چیز۔ وہ چیز یا شخص  
جس پر کسی امر کا دارومدار ہوتا ہے۔

رُوحِ فرسا۔ (ر۔ ۱۔ ف۔ ۱۔ صفت) رُوح تباہ کرنے والا۔ خطرناک۔

رُوحِ فنا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سخت خنجر ہونا۔ ڈر کے بارے جان نکلنا

رُوحِ قالب میں بے چین ہونا۔ (۱۔ محاورہ) رُوح کا گھبرانا (۲)  
سخت گھبراہٹ ہونا۔

رُوحِ قبض ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بے حد خوف ہونا۔ ڈر کے مارے جان نکلنا۔

رُوحِ کا پینا۔ (۱۔ محاورہ) سخت ڈرنا۔

رُوحِ کھینچنا۔ (۱۔ محاورہ) است نکالنا۔ جوہر نکالنا۔

رُوحِ کھیرانا۔ (۱۔ محاورہ) پریشانی اور بے چینی ہونا۔

رُوحِ گلی رہنا۔ (۱۔ محاورہ) مشتاقی ہونا۔ انتظار ہونا۔

رُوحِ بلنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت دوستی ہونا۔ دلی محبت ہونا۔

رُوحِ نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز کا ست نکالنا۔ جوہر نکالنا (۲)  
جان لینا۔ رُوح قبض کرنا (۳) مُردہ کا چالیسواں کرنا۔

رُوحِ عالی۔ (رُود۔ عالی) (ر۔ ۱۔ صفت) رُوح سے متعلق۔ پاک۔ صاف۔ مقدس

رُوحِ اُست۔ (رُود۔ عالی) (ر۔ ۱۔ مٹ) اُردو قوت یا خاصیت۔

رُوحِ فداک۔ (کھڑکتیں) میری رُوح تجھ پر نذر ہو۔ خوشی اور  
پسندیدگی کا اظہار۔ رسول خدا کے لیے کہا جاتا ہے۔



گزرنے کے بعد کھانا پینا۔

روزہ پہلنا۔ (۱- محاورہ) روزہ کا وقت کسی شے میں گنا۔

روزہ پر روزہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) غارتے پر غارتے کرنا۔

روزہ ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) کوئی ایسا فعل کرنا جس سے روزہ نہ رہے۔

روزہ دار۔ (ف- ۱- مذ) روزہ رکھنے والا۔

روزہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) مذہبی فرض کے بموجب سترہ وقت پر

کھانے پینے سے پرہیز کرنا (۲) ناکرنا۔

روزہ کشانی۔ (ف- ۱- ممت) (۱) افطاری (۲) روزہ کھلانے کی تقریب۔

روزہ کھانا۔ (۱- محاورہ) ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھنا۔

روزے بچھڑانے گئے تھے نماز گلی پڑی۔ (۱) (۱) ایک آفت

سے بچنے کی کوشش کی دوسری میں پھنسے۔

روزے خود۔ (ف- ۱- مذ) رمضان کے روزے نہ رکھنے والا شخص۔

روزے خور خدا کا چور۔ (۱) (۱) جو شخص روزے نہیں رکھتا وہ

خدا کا گنہگار ہے۔

روزہ (روزہ) (ف- ۱- ممت) (۱) رزق۔ حصہ۔ نصیب (۲)

روزہ گار۔ ملازمت۔

روزہ وہ۔ روزہ رسال۔ (ف- ۱- مذ) روزہ دینے والا (بمازا) خدا۔

روزہ کا ٹھیکرا۔ (۱- مذ) معاش و بسر اوقات کا ذریعہ۔

روزہ کا مارا در در رووے۔ پُوت کا مارا بیٹھ کے رووے۔

(۱) (۱) جس کو روزہ نہ لے وہ در در پھرتا ہے۔ جسے بیٹے کے لائق

سے تکلیف پہنچے یا جس کا بیٹا مر جائے وہ گھر میں بیٹھ کر روتا ہے

روزہ کی مارا دلاد کی تکلیف سے بھی بڑی ہے۔

روزہ کو رووتے ہیں کھڑے ہو کر مروے کو بیٹھ کر۔ (۱) (۱) بیکاری

کا ظم کسی کے مرجانے سے زیادہ ہوتا ہے۔

روزہ کھلنا۔ (۱- محاورہ) رزق کا کوئی ذریعہ بن جانا۔

روزہ زینہ۔ (روزہ زینہ) (ف- ۱- مذ) (۱) روزہ زینہ۔ روزہ کی مزدوری۔

یومیہ (۲) خوراک جو روزانہ دی جائے (۳) پیش۔ وظیفہ۔

روزہ دار۔ (ف- ۱- مذ) (۱) پیش خوار (۲) تنخواہ دار۔ وظیفہ خوار۔

روزہ (Rouge) (۱) (۱- مذ) (۱) گلگونہ۔ غارہ۔ سرخی۔

رُوستا۔ (روس) (تا) (ف- ۱- مذ) (۱) گاؤں۔ (۲) گنوار۔ دہقان۔

رُوستائی۔ (روس) (تائی) (ف- ۱- مذ) (۱) دہقان۔ دیہات کے رہنے

والے (۲) خوشامد کرنا۔

رُوسلی۔ (روس) (لی) (۱- ممت) (۱) جگی اور کم فصلی زمین۔

رُوش۔ (رُوش) (ف- ۱- ممت) (۱) طور۔ طریقہ۔ رفتار۔ دھنگ۔ وضع

(۲) مثل۔ مانند (۳) باس کی پیڑی۔

رُوش بگڑنا۔ (۱- محاورہ) انداز خراب ہونا۔ وضع بگڑنا۔

رُوش نکالنا۔ (۱- محاورہ) دھنگ اختیار کرنا۔ باغ کی پیڑی بنانا۔

رُوشن۔ (رُوشن) (ف- ۱- صفت) (۱) چمکتا ہوا۔ تاباں۔ بظاہر۔ آشکارا۔ کشادہ۔

روشن ہو کر۔ (۱- ممت) (۱) ایک قسم کے باجے والوں کی چوکی۔

روشن جنیں۔ (ف- ۱- صفت) حسین۔ خوبصورت۔

روز حساب۔ روز تشر۔ روز شمار۔ روز قیامت۔ روز دار۔

رن۔ (۱- مذ) انصاف کا دن۔ اعمال کا بدلہ ہونے کا دن۔ قیامت کا دن۔

روزہ روز۔ (ف) آئے دن۔ ہر روز۔ ہمیشہ۔

روزہ روز کی دوا بھی غذا ہو جاتی ہے ملائیل اگر عام طور پر دوا

استعمال کی جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔

روزہ روشن میں۔ (ف- ۱- مذ) عین دن کے وقت۔ دن دکھارے۔

روز سیاہ۔ (ف- ۱- مذ) مصیبت کا دن۔ ادب اور بد اقبالی کا زمانہ۔

روز سیاہ دیکھنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت میں مبتلا ہونا۔

روز کا قہقہہ۔ (۱- مذ) ہر گھڑی کا جھگڑا۔

روز کموال کھودنا۔ روز پانی پلینا۔ (۱) (۱) جتنا کھانا آتا ہی کھانا۔

روز کھانا۔ روز کھانا۔

روز کی جھک جھک۔ (۱- ممت) (۱) روز کی لڑائی۔ ہر دم کی دانٹا کل کل

بگ بگ۔

روز کی ہونا۔ (۱- محاورہ) آئے دن ہوتی رہنا۔

روز کے حد سے۔ (۱- مذ) لگاتار مصیبتیں۔

روز کے سلامی۔ روزانہ سلام کو آنے والے۔

روز مہرہ۔ (۱) ہر روز۔ ہمیشہ۔ متواتر۔ آئے دن (۲) ہر روز کی گفتگو۔

بول بھال۔ محاورہ۔ اصطلاح (۳) نیک کلام۔

روز نامہ۔ ہر روز کے حساب لکھنے کی کتاب۔ ڈائری۔ کھانا۔

روز نامہ۔ (۱) روزانہ شائع ہونے والا اخبار (۲) کیلنڈر۔

روز نامہ نویس۔ (ف- ۱- مذ) اخبارات میں روزناموں لکھنا۔ رپورٹر۔

روز نامہ نویس۔ (۱- مذ) سیاہم نویس۔ کھانے میں روزنامہ لکھنے والا

روز نشست۔ (ف- ۱- مذ) پیدا نش کا دن۔

روز و شب۔ رات دن۔ مدام۔ ہمیشہ۔ سدا۔ ہر وقت۔

روزانہ۔ (روزانہ) (ف- ۱- مذ) (۱) ہر روز۔ ہمیشہ (۲) یومیہ۔ روزینہ۔

روز گار۔ (روز گار) (ف- ۱- مذ) (۱) زمانہ (۲) نوکری۔ پیشہ۔ شغل (۳)

کمانی۔ گزارا (۴) موقع میل (۵) قیمت۔

روز گار اور دستمن بار بار نہیں ملتا (۱) (۱) موقع ملنے سے نہیں چھوڑنا

جائے کہ شاید ہی دوبارہ ملے آئے۔

روز گار پیشہ۔ (ف- ۱- صفت) نوکری پیشہ۔

روز گار حجام کی لنگی ہے۔ (۱) (۱) نوکری ایک کی نہیں ہوتی۔ کبھی

کوئی اس جگہ پر ہوتا ہے کبھی کوئی۔

روز گار سے ہونا۔ (۱- محاورہ) ملازم ہونا۔

روز لکنا۔ (۱- محاورہ) نوکری لکنا۔ نوکری ہونا۔ مزدوری لکنا۔

روزن۔ (روزن) (ف- ۱- مذ) سوراخ۔ روشندان۔ شکاف۔

روزہ۔ (روزہ) (ف- ۱- مذ) برت۔ صوم۔ صبح صادق سے لے کر

غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع سے رُکنا (۲) ناکر (۳)

روزے کا دن (۵) روزوں کا ہمینہ۔ رمضان۔

روزہ اچھلنا۔ روزے میں جھٹلا کر بائیں کرنا۔

روزہ افطار کرنا۔ روزہ کھولنا۔ (۱- محاورہ) روزہ کا عیدت و وقت

رُوشن دال - (ف - ا - صفت) روغن پڑھا ہوا (۲) وہ سالن جس میں گھی زیادہ ڈالا گیا ہو۔  
 روغن داغ - ایک قسم کا کڑھا جس میں گھی یا تیل گرم کرتے ہیں۔  
 روغن سیاہ - (ف - ا - صفت) اسی کا تیل - کڑوا تیل۔  
 روغن فروش - (ف - ا - مذ) تیل بیچنے والا۔  
 روغن زرد - (ف - ا - مذ) گھی - گائے کا گھی۔  
 روغن قاز - (ف - ا - مذ) راج ہنس کی چربی جو نہایت آبدار اور چکنی ہوتی ہے۔  
 روغن تاز ملنا - (ا - محاورہ) (۱) مدد دینا (۲) خوشامد کرنا - چاہدوسی کرنا۔  
 روغن چھڑی بایش کرنا۔  
 روغن نفست - (ف - ا - مذ) مٹی کا تیل - کر دین ائل۔  
 روغنی - (روغن - نی) (ف - صفت) گھی یا تیل سے چھڑا ہوا (۲) پالش یا دارش کی ہوئی شے (۳) چکنی۔  
 روگ - (۱) (صفت) (۱) آڑ (۲) ممانعت - مزاحمت - اشکا ڈور (۳) احاطہ بندی (۴) بند (۵) مناسی (۶) آسرا - جیک (۷) روگن کا امر۔  
 روگ تھام - (۱) (صفت) (۱) اسناد (۲) وہ تدابیر جن سے معاملہ یا بیماری وغیرہ بڑھنے نہ پائے (۳) روگ ٹوک (۴) اسناد (۵) عارضی بچاؤ۔  
 روگ ٹوک - (ا - صفت) ممانعت - مزاحمت - پوچھ گچھ - ٹھہرا لینا۔  
 باز رکھنا۔  
 روگ روگ کے - (۱) ٹھہرا ٹھہرا کے - احتیاط سے۔  
 روگڑ - روگڑی - (روگڑ - روگ) (۱) (صفت) (۱) روپیہ پیسہ - نقد - دھن دولت (۲) تحویل - نقد روپیہ جو کسی کی تحویل میں ہو۔  
 روگڑ بگری - (۱) (صفت) نقد بگری - نقد فروخت۔  
 روگڑا ہوی - (۱) (صفت) وہ کتاب جس میں نقد کا حساب درج ہو کہیں بگ روگڑا یا - (روگڑا - یا) (صفت) (۱) مذخرانجی - تحویل دار۔  
 روگن - (روگن) (صفت) (۱) اوپر - علاوہ (۲) کسی چیز کی وہ مقدار جو اس کے خریدنے کے بعد بلا قیمت اوپر سے لے لیں - روگنا۔  
 روگنا - (روگ) (صفت) (۱) باز رکھنا کسی فعل سے منع کرنا - کسی خیال سے باز رکھنا (۲) راستہ بند کرنا (۳) ٹکانا - ٹھہرانا (۴) بات کا ٹکانا (۵) پردہ کرنا (۶) احاطہ کرنا - نہ دینا (۷) چھاؤ کرنا - وار بچانا (۸) قبضہ کرنا (۹) دیر میں دینا (۱۰) چھیننا - اٹھانا (۱۱) بچانا - حفاظت کرنا۔  
 روگنا - (۱۲) چھوڑنا - ہنسی کرنا (۱۳) ساکن کرنا - حرکت نہ کرنے دینا (۱۴) نسبت کرنا (۱۵) معاملہ قابو سے نہ جانے دینا۔  
 روگن ٹوگنا - پوچھنا - منع کرنا۔  
 روگھ - (۱) (صفت) (۱) مذخرانجی - تحویل۔  
 روگھا - (روگھا) (صفت) (۱) خشک - سوکھا (۲) سادہ (۳) بے رس (۴) پھیکا (۵) خشک - داغ (۶) بدخلق (۷) بے رحم - سنگ دل۔  
 روگھ در - (۱) (صفت) (۱) بلا روغن۔  
 روگھاپن - (۱) (صفت) کھڑاپن - ناہمواری (۲) سختی - درستی (۳) غشی - سوکھا۔

رُوشن دال - (ف - ا - مذ) وہ مکھا جو مکان میں روشنی آنے کے لیے بناتے ہیں - روذن۔  
 رُوشن دل - (روشن ضمیر - ف - صفت) عقلمند - زود فہم - عارف - صاحب دل - صاحب بصیرت۔  
 رُوشن دماغ - (ف - صفت) عالی دماغ (۲) دکنایتہ (۳) ناس - بلاس - نسوار۔  
 رُوشن سواد - (ف - ا - مذ) خوش نوں۔  
 رُوشن ضمیری - (ف - ا - صفت) عقلمندی - فراست (۲) دوسرے کے دل کی بابت معلوم کرنا۔  
 رُوشن گہر - (ف - صفت) نیک طینت۔  
 رُوشن نگاہ - (ف - صفت) بادشاہوں کے سامنے کوئی شخص حاضر ہوتا تھا تو نقیب یہ کلمہ کہتے تھے۔  
 رُوشن ہو جانا - (ا - محاورہ) ظاہر ہو جانا - نتیجہ نکل آنا۔  
 روشناسکی - (روش - ناسکی) (ف - صفت) روشنی - چمک۔  
 روشناسکی - (روش - ناسکی) (ف - ا - صفت) (۱) نور - تجلی - روشنی - اُجالا۔  
 (۲) بچنے کی سیاہی۔  
 روشناسکی اٹھانا - (ا - محاورہ) روشناسکی جذب کرنا۔  
 روشناسکی - (روش - ناسکی) (ف - ا - صفت) (۱) ایک دو (۲) شعلی۔  
 روشناسکی - (روش - ناسکی) (ف - ا - صفت) (۱) نور - چمک (۲) بصارت (۳) روغن - آبادی (۴) چراغاں۔  
 روشناسکی دکھانا - (ا - محاورہ) قابلیت دکھانا (۲) روشنی پڑنا۔  
 روشناسکی ڈالنا - (ا - محاورہ) وضاحت کرنا۔  
 روشناسکی طبع - (ف - ا - صفت) ذہانت - طباطبی۔  
 رُوضہ - (روضہ) (صفت) (۱) باغ - مرغزار - سبزہ زار (۲) وہ مقبرہ جس پر گنبد بنا ہوا ہو (۳) کھڑکی کا بنا ہوا کس جس کو عورتیں لیے پھرتی ہیں اور اس میں تصویریں دکھاتی ہیں اور اس کو حضرت بی بی کا روضہ کہتی ہیں - جمع : ریاض۔  
 رُوضہ خواں - (روضہ - ف - صفت) معرکہ کر بلا اور مصائب اہل بیت پڑھ کر مٹانے والا - ابتدا میں صرف کتاب روضہ الشہداء پڑھی جاتی تھی اس وجہ سے روضہ خواں کہنے لگے۔  
 رُوضہ رضواں - (روضہ - ف - صفت) (۱) مذراہ - پشت - باغ - فردوس بریں۔  
 رُوضہ طیبہ - (روضہ - ف - صفت) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ۔  
 رُوشن - (روغن - ف - ا - صفت) (۱) تیل - گھی - چکنائی (۲) چمک - دمک۔  
 روشنی (۳) دمک - دارش۔  
 رُوشن اٹھانا - (ا - محاورہ) پالش جاتی رہنا - آب و تاب کا زائل ہو جانا۔  
 رُوشن پانی میں ڈالنا - (ا - محاورہ) پانی میں تیل ڈالنا - ایک قسم کا ٹونکا۔  
 رُوشن کی جھڑی گنتی سے تو پانی میں تیل ڈالتے تھے۔  
 رُوشن رخ - (روغن - ف - ا - صفت) (۱) تیل - گھی - چکنائی (۲) چمک - دمک۔  
 رُوشن جوش - (ف - ا - مذ) بھار - ایک قسم کا قورمہ جو بھگا کر تیار کیا جاتا ہے۔  
 رُوشن پڑھانا - (ا - محاورہ) جلا دینا - اُجالا کرنا - چمکدار کرنا۔

رُوئنگ (Ruling) (رُوئنگ) (انگ) (۱۔ مذ) (۱) سطروں

کاشان (۲) قانونی نظر (۳) قطعی رائے۔ فیصلہ۔

رُوئلی (رُوئلی) (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) ایک قسم کی سرخ اور خشک چیز جس کا ہندو تک لگاتے ہیں۔ کنگو۔

رُووم (دھ۔ ا۔ مذ) رُوومنگ۔ رُوومنگ۔ مونسے تن۔

رُووم (دع۔ ا۔ مذ) بازنطینی (عیسائی) مملکت جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا (۲) ترکوں کی مملکت (۳) ایشیائے کوچک (۴) شہر روم۔

رُووم (Room) (انگ۔ ا۔ مذ) کمرہ۔ حجرہ۔ کونٹری۔

رُوومال سے رومال بدلنا۔ رومال (دھ۔ ا۔ مٹ) دوستی کا پکا کرنا۔

رُوومال رکھنا۔ رومال (دھ۔ ا۔ مٹ) ایام جمع میں گدی کا استعمال کرنا۔

رُوومان (رُوومان، مان) (انگ) رومانس (Romance) کا مرد (۱۔ مذ)

ادب کی وہ صنف جس میں حقیقی زندگی سے غیر متعلق واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ فرضی داستان۔ حیرت انگیز واقعہ۔ عشق و محبت کی داستان۔

رُوومانی (رُوومان، بی) (رُوومان، صفت) (۱) رومان سے متعلق (۲) رومان پسند۔

رُوومانی پرست۔ خیالی دنیا میں رہنے والا۔ عیشیتہ۔

رُوومن (رُوومن، من) (انگ) (صفت) (۱) روم سے منسوب۔ اٹلی

کا باشندہ (۲) اردو یا ہندی کی عبارت کو انگریزی حروف میں لکھنا۔

رُوومن کیتھولک (Roman Catholic) جیسا میں کا ایک فرقہ

جو پاپائے روم (پوپ) کو حضرت عیسیٰ کا جانشین مانتا اور اس کی

پیروی کرتا ہے۔

رُوومن گیر کیرکٹر (Roman Character) انگریزی حروف قبلی۔

رُوومی (رُوومی، می) (دع۔ صفت) (۱) روم کا باشندہ (۲) روم کے متعلق۔

رُووٹا (رُووٹا، ون) (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) وہ ملازم جو محروموں کا کام کاج کرنے کو

دروازے پر رہتا ہے (۲) وہ کاغذ جس پر مال کی تعداد لانے والے

کا نام۔ چیز کا نام۔ محصول درج ہو (۳) پروانہ راہ داری۔

رُوونا (رُوونا، نا) (دھ۔ ا۔ مذ) (۱) گھنگرو یا جھانجر کے اندر کے دانے جن کی حرکت

سے آواز نکلتی ہے (۲) مہاہ کے بعد تیسری مرتبہ بیوی کو گھر

میں لانا۔

رُوونا (رُوونا، دھ) (صفت) (۱) آنسو بہانا (۲) شکایت کرنا (۳) رگہ کرنا۔

بھینکنا (۳) سوگ کرنا (۴) داد دینا کرنا۔ فریاد و فغان کرنا (۵) آنسو

کرنا۔ تلف شدہ چیز کا رنج کرنا (۶) ذکر پھیلنا۔ افواہ ہونا (۷)

پھپھٹانا (۸) صدر مٹھانا (۹) گھگھ بیان کرنا جیسے ڈکڑا کرنا (۱۰)

رونے کی شکل بنانا (۱۱) کنایت، بڑی طرح پڑھنا۔ برآوازی سے

بولنا۔ کلام کو بگاڑ کر پڑھنا (۱۲) (دھ) شکوہ۔ گلہ۔ صدر (۱۳) گریہ و

زاری۔ ماتم۔ فوج (۱۴) (صفت) (دھ) بچہ جو بہت روتا ہو (۱۵) ماتم۔

گریہ و زاری پھپھٹانا۔ فوج۔

رُوونا آنا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) دل بھر آنا۔ آنسو ہونا۔

رُوونا پڑنا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) ماتم ہونا۔ کہرام مچنا۔

رُوونا پھٹنا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) گریہ و زاری۔ ماتم۔ کہرام (۲) ماتم کرنا۔ فوج مٹونا۔

رُوونا توڑتی بات کا ہے۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) پھٹنا۔ پھاٹنا۔ پھٹنا۔

رُووکھا جواب۔ (دھ۔ صفت) انکار۔

رُووکھا سوکھو کا پیش، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آنے والا بھوکا رہتا

ہے (۲) رُووکھی روٹی کھانے والے کا پیش نہیں بھرتا۔

رُووکھا سوکھا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) بے سامن کا۔ بڑا بھلا۔ دال دلیا۔

رُووکھا ہونا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) کج خلق ہونا۔

رُووکھے سوکھے کھڑے۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) نہایت معمولی غذا۔

رُووکھی۔ (رُووکھی، کی) (دھ۔ صفت) رُووکھی کی تائیت۔

رُووکھی روٹی۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) وہ روٹی جس کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز نہ ہو۔

رُووکھی رُووکھی باتیں۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) وہ باتیں جن سے دلکش ظاہر ہو۔

رُووکھی سوکھی۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) بری اور فراب غذا۔

رُووک۔ (دھ۔ ا۔ مذ) (۱) دکھ۔ درد۔ بیماری۔ مرض (۲) دبا۔ مری (۳) دبا۔

بجھال (۴) ہتھیار۔ شاد (۵) رُووکھل (۶) عجیب۔ بڑائی۔ نقص۔

رُووک پالنا۔ رُووک لگایا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) جھگڑے میں بڑنا بچنے میں

بڑھنا (۲) دشمن کر لینا۔ بری عادت ڈال لینا (۳) کوئی مرض پیچھے لگا لینا۔

رُووک دھوک۔ (دھ۔ ا۔ مذ) جھگڑا۔ مصیبتیں۔

رُووک راج۔ (دھ۔ ا۔ مذ) بیماریوں کا سردار۔ بڑا آزار۔ تپ دق۔

رُووک کاٹنا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) جھگڑا چکانا۔ تعزیر پاک کرنا۔ دکھ دینے والی

چیز دُور کرنا۔

رُووک کا گھر۔ رُووک کی بڑ۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) دکھ کی پرٹ (۲) بیماری کا

باعث۔ بیماری پیدا کرنے والی چیزیں۔

رُووک کا گھر کھانسی اور لڑائی کا گھر لائسی (دھ۔ ا۔ مٹ) کھانسی تمام بیماریوں

کی بڑ اور ہنسی دل کی لڑائی کا سبب ہے۔

رُووک ہے۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) جھگڑا ہے مصیبت ہے۔

رُووگی۔ رُووگیلا۔ رُووگیلا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) (۱) رُووگی۔ رُووگی۔ (دھ۔ صفت) (۱) مریض۔

(۲) دھکی (۳) دائم المرض (۴) جھگڑا (۵) کوڑھی۔ جذامی۔

رُوول۔ (دھ۔ ا۔ مذ) کتری ہونی پھیلنا ہونا نقص ہو۔

رُوول۔ (Role) (انگ۔ ا۔ مذ) کارنسٹی۔ مفروضہ کام۔ ایکٹ کا پارٹ۔

رُوول۔ (Roll) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) دفتر کی وہ فہرست جس میں ترقی اور

مارن و مناصب کے لیے ملازموں کے نمبر در نام لکھے ہوتے ہیں

(۲) فرودگاہ۔

رُوول نمبر۔ (Roll number) (انگ۔ مذ) دفتر کے حساب سے جو نمبر ہو۔

رُوول۔ (Rule) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) قاعدہ۔ قانون۔ ضابطہ۔ دستور (۲)

نیکر۔ جدول جو کتاب کے حاشیے پر لکھینا جائے (۳) (دھ) نیکر میں

لکھنے کا گول ڈنڈا۔ جدول کش۔

رُوولا۔ (رُوولا، لا) (دھ۔ ا۔ مذ) (۱) غل شور۔ غوغا (۲) جھگڑا بکھیرا۔ بلوہ۔ بناوت۔

رُوولا ڈالنا۔ رُوولا کرنا۔ رُوولا مچانا۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) غل مچانا۔ پھل ڈالنا۔ غز

کرنا۔ بلوہ کرنا۔

رُوولر۔ (Ruler) (انگ۔ ا۔ مذ) جدول کش۔ نیکر میں لکھنے کا گول ڈنڈا۔

رُوولن۔ (رُوولن، من) (دھ۔ ا۔ مٹ) وہ چیز جو رونے کے بعد نہ جائے۔ چھین۔

رُوولنا۔ (رُوولن، نا) (دھ۔ مٹ) (۱) پھٹنا۔ پھاٹنا۔ پھٹنا۔

















## ز

ز (زرے) (ع۔ ا۔ مٹ) اُردو کا سولہواں۔ فارسی کا تیرھواں اور عربی کا گیارھواں حرف (۲) حساب الجبہ میں اس کے سات عدد مقرر ہیں۔ شمسی حرف ہے۔ اس سے پہلے جوال آتا ہے۔ بولانہیں جاتا اور اس سے اگلا حرف مشدد ہو جاتا ہے جیسے الزابد۔ ہندی اور سنسکرت میں یہ حرف نہیں ہے البتہ ان زبانوں میں یہ جیم کے تلفظ سے بولا جاتا ہے۔ تقویم میں یہ شنبہ اور برج عقرب کی علامت ہے۔

زارینہ (Czarina) (زا۔ ری۔ نہ) (انگ۔ ا۔ مٹ) روس کی ملکہ کا خطاب۔

زارخ۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (۱) کوآ۔ گاک (۲) کمان کے گوشے کی نوک (۳) موسیقی کے ایک راگ کا نام۔

زارخ آبی۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (۱) جل کوآ۔ پن ڈٹی۔ ایک قسم کا آبی پرندہ۔

زارخ کمان۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (۱) کمان کے گوشے کی نوک۔

زارخ کڑی۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (۱) پہاڑی کوآ۔

زال۔ ذ۔ ف۔ صغ (۱) بوڑھا۔ سفید بالوں والا۔ بڑھا پھونس (۲) (مذ) گرسٹم کے باپ کا نام

زال دنیا (زناں)۔ رکنائتہ، دنیا جو کہ بہت قدم سے ہے۔

زال کوڑہ پشت۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مٹ (۱) جھکی ہوئی کمر کی بڑھیا (۲) آسمان۔

زالو۔ ز۔ ف۔ ا۔ مذ (۱) جاگھ (۲) ران (۳) گھٹنا۔

زالو بدلتا۔ (۱) محاورہ) جھک بدلتا۔ بیٹھے ہوئے کھڑے زانو کو نیچا کرنا۔

اور پچھے زانو کو اُچھا کرنا (۲) گھبرا جانا (۳) تھلانا۔

زالو بے زانو۔ (۱) محاورہ) زانو سے زانو ہٹا کر بیٹھنا۔

زالو پر سر رکھنا۔ (۱) محاورہ) ٹکر اور خور میں مبتلا ہونا۔

زالو پر سر رکھنا۔ (۱) محاورہ) شرمندہ ہونا۔ شکر ہونا۔

زالو پر ہاتھ مارنا۔ (۱) محاورہ) (۱) توجیب کرنا (۲) کمال انسوس کرنا۔

زالو پلوٹ۔ وہ کپڑا جو کھانا کھاتے وقت گھٹنوں پر ڈال لیتے ہیں۔

نپکن۔ (Nipkin)

زانو بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) انسوس کرنا۔ رنج و مال اور ماتم کی حالت کا ظاہر کرنا۔

زانو توڑنا۔ (۱) محاورہ) ادب سے بیٹھنا۔

زانو توڑنا۔ (۱) محاورہ) گھٹنا بدلتا۔

زانو تڑ کرنا۔ (۱) محاورہ) بر ادب بیٹھنا۔ متوذب بیٹھنا۔

زانو جمانا۔ (۱) محاورہ) پڑھی جانا۔ آسن جمانا۔ گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔

زانو دبا کے۔ رکنائتہ، پاس بھڑکے۔ بہت قریب۔

زانو سے سر اٹھانا۔ (۱) محاورہ) ٹکر سے فراغت پانا۔

زانو کے تلے دابنا۔ (۱) محاورہ) کسی کی چھاتی پر زانو رکھ کر سارے بدن کا زور دینا۔

زانو سٹنا۔ (۱) محاورہ) سواری میں گھوڑے کو دونوں طرف سے زانوؤں سے رگڑنا تاکہ تیز چلے۔

زانوؤں میں دباننا۔ (۱) محاورہ) دونوں زانوؤں سے پکڑ کر پھینچنا۔

ز ف۔ حرف جر الزکا مخفف (شعروں میں استعمال ہوتا ہے جیسے زبیں۔ زخوردنتہ)۔

## ز۔ ا

زا۔ ذ۔ ف۔ صغ (فارسی مصدر زائیدن کا صیغہ امر۔ اسم مفعول۔ زاوہ۔ پیدائش جیسے میرزا یعنی میرزاوہ ۱۲۱) اسم فاعل پیدا کرنے والا (مرکبات کے آخر میں استعمال ہوتا ہے جیسے فنذزا۔

زاج۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (مٹ) (۱) توتیا۔ ہیرا کیس۔ زنگار (۲) بوٹ کی سیاہی (۳) سبزی۔

زاج سفید۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مٹ (سفید چٹکری۔

زاجر۔ ز۔ ا۔ ج۔ صغ (بھڑکنے والا۔ جمع۔ زواجر۔

زاوہ۔ زاوہ۔ (۱) جنا۔ جنا ہوا۔ پیدائش۔ جنم (۲)

بیٹا۔ اولاد (۳) نسل۔ پڑھی۔ جمع۔ زادگان۔

زاد بوٹ۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مٹ (جائے پیدائش۔ جنم بھوم۔ وطن۔ دیس۔

زاوہ۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (توشہ۔ راستے کا خرچ۔

زاد آخرت۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (آخرت میں کام آنے والے نیک کام۔

زاد راہ۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (توشہ۔ راستے کا خرچ۔

زاد عقیقی۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (نیک عمل جو آخرت میں کام آئے۔

زادگی۔ (زادگی) ذ۔ ف۔ ا۔ مٹ (پیدائش۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے شہزادگی)۔

زاوی۔ (زا۔ وی) ذ۔ ف۔ صغ (جنی ہوئی جنی۔ جیسے شہزادی)۔

زار۔ (انگ۔ ا۔ مذ) شاہان روس کا لقب۔

زار۔ ذ۔ ف۔ ا۔ مذ (۱) جگہ۔ مکان۔ مقام جیسے سبزہ زار (۲) افراط۔ بہتات۔

کثرت۔ ڈھیر جیسے کارزار (۳) نالہ و فریاد (۴) لاغر۔ ضعیف (۵)

ذلیل و خواہ۔ رسوا۔

زار زار (زار و قطار) رونا۔ (۱) محاورہ) اٹھ اٹھ آنسو رونا۔ بہت رونا۔

زار نالی۔ ذ۔ ف۔ مٹ (فریاد۔ آہ و نغان۔

زار زبوں۔ ذ۔ ف۔ صغ (خراب و خستہ۔ ٹھیکیں۔

زار و زار۔ ذ۔ ف۔ صغ (ڈبلا۔ تھلا۔ کمزور۔ ناتواں۔ لاغر۔

زاربی۔ (زا۔ ری) ذ۔ ف۔ ا۔ مٹ (۱) گریہ۔ رونا۔ پیٹنا (۲) مجز دنیا ز۔

زبان سے کھلی سے کل بند (دیشل) زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔  
 زبان آتشا ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان کسی چیز کی خوشگوار ہونا (۳) رکھی  
 مڑے سے واقف ہونا۔  
 زبان آلودہ ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) بات کرنا۔ زبان پر کسی بات کا آنا۔  
 زبان آنا۔ (۱) محاورہ، (۲) بولنے سے واقف ہونا (۳) انداز بیان آنا۔  
 زبان آور۔ (ف - صف) (۱) خوش بیان، شیریں زبان (۲) قادر الکلام۔  
 زبان اڑانا۔ (۱) محاورہ، (۲) بات چیت اور لب و لہجہ کی نقل کرنا۔  
 زبان العشا۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان بدلنا (۳) بولنے پر قادر ہونا۔ بولنا۔  
 زبان کا مطلب کے موافق بات کہنا۔  
 زبان اچھٹا۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان کا مطلب نہ بیان کر سکا۔ زبان رکھنا۔  
 زبان اولاد ہونا (ایچھٹا)۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان سخت ہو جانا۔ زبان  
 کا اڑ جانا۔  
 زبان بدلنا۔ (۱) محاورہ، (۲) بات کہہ کر گمراہ جانا۔ اصرار سے پھرنا۔  
 ہمد توڑنا۔  
 زبان بدلنے سے گویہ بدلنا بہتر ہے۔ (دیشل) وعدہ وفا نہ کرنے  
 سے نقصان اٹھانا بہتر ہے۔  
 زبان بریدہ۔ (۱) زبان بستہ۔ (ف - صف) چپ۔ خاموش۔  
 زبان بڑھنا۔ (۱) محاورہ، (۲) بدزبانی زیادہ ہونا۔  
 زبان بگاڑنا۔ (۱) محاورہ، (۲) گویوں کی عادت ہونا۔ زبان خراب ہونا۔  
 زبان بند۔ (ف - صف) تعویذ جو دشمنوں کی زبان بند کر دے۔  
 زبان بند ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) کچھ نہ بول سکتا۔  
 زبان بند کرنا۔ (۱) محاورہ، (۲) چپ ہونا (۳) جادو وغیرہ سے اپنے برصاف  
 کسی کی زبان نہ چلنے دینا (۴) خاموش کر دینا۔ بات نہ کرنے دینا۔  
 زبان بند کرو۔ (۱) مقولہ، (۲) چپ رہو مت بگو۔  
 زبان بند ہونا۔ (۱) چپ ہونا۔ بات نہ کر سکتا (۲) زبان ایٹھ جانا۔ گویائی  
 سلب ہونا (۳) جادو یا تعویذ کے ذور سے کسی کے خلاف کچھ نہ کہہ سکتا۔  
 زبان بندی۔ (ف - ص) (۱) مٹا، بولنے پر پابندی۔ بولنے کی ممانعت۔ خاموشی  
 زبان پیر۔ (۱) اقرار پر۔ وعدے پر۔  
 زبان پیر آسکتا۔ (۱) محاورہ، (۲) بیان جو سکتا۔ کہہ سکتا۔  
 زبان پر آنا۔ (۱) محاورہ، (۲) بے کجے بڑھے کیے جانا (۳) بات کہی جانا۔  
 زبان پر آئی ہوئی بات کاٹ دینا۔ (۱) محاورہ، (۲) بات ناقص  
 چھوڑنا (۳) خیال میں آئی ہوئی بات نہ کہنا۔  
 زبان پرانگوارہ رکھ دینا۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان چلانا۔ بدزبانی کی سزا دینا۔  
 زبان پر جاری ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) بولا جانا (۳) مٹنے سے بار بار کوئی  
 لفظ یا فقرہ نکلنا۔  
 زبان پر چڑھ جانا، چڑھنا۔ (۱) محاورہ، (۲) درد زبان ہونا۔ کیر کلام  
 ہونا (۳) حفظ ہونا (۴) بولنے کی مشق ہونا۔  
 زبان پر چھٹی کا دودھ آنا۔ (۱) محاورہ، (۲) دکانیہ، (۳) پچھتا نا۔  
 زبان پر حرف لانا۔ (۱) محاورہ، (۲) شکایت کرنا۔  
 زبان پر دھرتا رکھنا۔ (۱) محاورہ، (۲) پچھتا نا۔ زبان لگا کر دیکھنا (۳)

زبان سے کھلی سے کل بند (دیشل) زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔  
 زبان آتشا ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان کسی چیز کی خوشگوار ہونا (۳) رکھی  
 مڑے سے واقف ہونا۔  
 زبان آلودہ ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) بات کرنا۔ زبان پر کسی بات کا آنا۔  
 زبان آنا۔ (۱) محاورہ، (۲) بولنے سے واقف ہونا (۳) انداز بیان آنا۔  
 زبان آور۔ (ف - صف) (۱) خوش بیان، شیریں زبان (۲) قادر الکلام۔  
 زبان اڑانا۔ (۱) محاورہ، (۲) بات چیت اور لب و لہجہ کی نقل کرنا۔  
 زبان العشا۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان بدلنا (۳) بولنے پر قادر ہونا۔ بولنا۔  
 زبان کا مطلب کے موافق بات کہنا۔  
 زبان اچھٹا۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان کا مطلب نہ بیان کر سکا۔ زبان رکھنا۔  
 زبان اولاد ہونا (ایچھٹا)۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان سخت ہو جانا۔ زبان  
 کا اڑ جانا۔  
 زبان بدلنا۔ (۱) محاورہ، (۲) بات کہہ کر گمراہ جانا۔ اصرار سے پھرنا۔  
 ہمد توڑنا۔  
 زبان بدلنے سے گویہ بدلنا بہتر ہے۔ (دیشل) وعدہ وفا نہ کرنے  
 سے نقصان اٹھانا بہتر ہے۔  
 زبان بریدہ۔ (۱) زبان بستہ۔ (ف - صف) چپ۔ خاموش۔  
 زبان بڑھنا۔ (۱) محاورہ، (۲) بدزبانی زیادہ ہونا۔  
 زبان بگاڑنا۔ (۱) محاورہ، (۲) گویوں کی عادت ہونا۔ زبان خراب ہونا۔  
 زبان بند۔ (ف - صف) تعویذ جو دشمنوں کی زبان بند کر دے۔  
 زبان بند ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) کچھ نہ بول سکتا۔  
 زبان بند کرنا۔ (۱) محاورہ، (۲) چپ ہونا (۳) جادو وغیرہ سے اپنے برصاف  
 کسی کی زبان نہ چلنے دینا (۴) خاموش کر دینا۔ بات نہ کرنے دینا۔  
 زبان بند کرو۔ (۱) مقولہ، (۲) چپ رہو مت بگو۔  
 زبان بند ہونا۔ (۱) چپ ہونا۔ بات نہ کر سکتا (۲) زبان ایٹھ جانا۔ گویائی  
 سلب ہونا (۳) جادو یا تعویذ کے ذور سے کسی کے خلاف کچھ نہ کہہ سکتا۔  
 زبان بندی۔ (ف - ص) (۱) مٹا، بولنے پر پابندی۔ بولنے کی ممانعت۔ خاموشی  
 زبان پیر۔ (۱) اقرار پر۔ وعدے پر۔  
 زبان پیر آسکتا۔ (۱) محاورہ، (۲) بیان جو سکتا۔ کہہ سکتا۔  
 زبان پر آنا۔ (۱) محاورہ، (۲) بے کجے بڑھے کیے جانا (۳) بات کہی جانا۔  
 زبان پر آئی ہوئی بات کاٹ دینا۔ (۱) محاورہ، (۲) بات ناقص  
 چھوڑنا (۳) خیال میں آئی ہوئی بات نہ کہنا۔  
 زبان پرانگوارہ رکھ دینا۔ (۱) محاورہ، (۲) زبان چلانا۔ بدزبانی کی سزا دینا۔  
 زبان پر جاری ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) بولا جانا (۳) مٹنے سے بار بار کوئی  
 لفظ یا فقرہ نکلنا۔  
 زبان پر چڑھ جانا، چڑھنا۔ (۱) محاورہ، (۲) درد زبان ہونا۔ کیر کلام  
 ہونا (۳) حفظ ہونا (۴) بولنے کی مشق ہونا۔  
 زبان پر چھٹی کا دودھ آنا۔ (۱) محاورہ، (۲) دکانیہ، (۳) پچھتا نا۔  
 زبان پر حرف لانا۔ (۱) محاورہ، (۲) شکایت کرنا۔  
 زبان پر دھرتا رکھنا۔ (۱) محاورہ، (۲) پچھتا نا۔ زبان لگا کر دیکھنا (۳)

## زب

زبان۔ (ع - ص) ایک قسم کی خوشبو (۲) جنگلی بٹی۔  
 زبان۔ (ز - بان - ز - بان) (ف - ص) (۱) مٹا، (۲) بھید، (۳) لسان (۴) بول چال، (۵) لفظ۔  
 محاورہ۔ بولی۔ بات۔ گفتگو (۳) اقرار۔ قول۔ وعدہ (۴) بیان۔  
 زبان آب کوڑ سے دھوئی ہونا۔ (۱) محاورہ، (۲) دکانیہ، (۳) نہایت  
 پاکیزہ کلام اور فصیح البیان ہونا۔

تھوڑا سا کھانا۔

زبان پر زبان بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات پر ذرا دیر تا تم نہ رہنا۔  
 زبان پر مسر دینا۔ (۲۔ محاورہ) عمد پورا کرنے پر جان کی بازی لگا دینا۔  
 زبان پر فیصلہ ہونا۔ (۳۔ محاورہ) کسی کے کہنے پر جھگڑا ختم ہونا۔  
 زبان پر کاٹنے پڑنا۔ (۴۔ محاورہ) زبان خشک ہو جانا۔  
 زبان پر لانا۔ (۵۔ محاورہ) کہنا۔ بولنا۔ بیان کرنا۔ ظاہر کرنا۔  
 زبان پر مہر ہونا۔ (۶۔ محاورہ) بول نہ سکتا۔ زبان بند ہونا۔ خاموش ہونا۔  
 زبان پر نام آنا۔ (۷۔ محاورہ) کسی کا خیال آتے ہی زبان سے نام نکل جانا۔ کسی کا نام لینا۔

زبان پر ہونا۔ (۸۔ محاورہ) اذہر ہونا۔ خوب یاد ہونا۔  
 زبان پکڑنا۔ (۹۔ محاورہ) بات کہنے سے روکنا۔ بولنے سے بند کرنا (۱۰)  
 نکتہ چینی کرنا۔ عجیب پکڑنا۔ حوت گیری کرنا (۱۱) بیچ میں بول پڑنا۔  
 زبان پھرنا۔ بولنے کی طاقت ہونا۔ زبان کا حرکت کرنا۔  
 زبان تپلوگی۔ (دنت۔ ۱۔) قدیم ایرانی زبان جس میں زند و اوستا لکھی ہوئی ہیں  
 زبان پھوٹنا۔ (۲۔ محاورہ) باتیں کرنے لگنا۔  
 زبان پھیرنا۔ (۳۔ محاورہ) زبان بدلنا۔ قول سے مکرنا۔  
 زبان پیدا کرنا۔ (۴۔ محاورہ) بولنے کی طاقت حاصل کرنا۔ بولنا۔  
 زبان تاتوسے (لگانا) لگانا۔ (۵۔ محاورہ) چب ہونا۔  
 زبان تھلانا۔ (۶۔ محاورہ) توہی زبان میں باتیں کرنا۔ الفاظ ٹھیک طور پر  
 زبان سے نہ نکلنا۔  
 زبان ترازو۔ (دنت۔ ۱۔) ترازو کی سوئی۔ وہ ڈوری جو ترازو کی ڈھری  
 کے بیچ میں ہوتی ہے۔

زبان تراشنا۔ (۱۔ محاورہ) زبان فصیح بنانا۔ زبان آراستہ کرنا۔  
 زبان تر ہونا۔ (۲۔ محاورہ) زبان بولنے کے قابل ہونا۔ زبان کا بیان کرنے  
 پر قادر ہونا۔  
 زبان (تڑاق پڑاق) تڑ تڑ چھلانا (چھلنا)۔ (۳۔ محاورہ) جلد جلد بولنا  
 چالاک اور بے باکی سے بولتے جانا۔

زبان نیک لانا۔ (۴۔ محاورہ) کچھ کہنا۔ زبان پر لانا۔  
 زبان تلے زبان ہونا۔ (۵۔ محاورہ) کسی بات پر قائم نہ رہنا۔  
 زبان (تھامنا) پھٹنا۔ (۶۔ محاورہ) چپ رہنا۔  
 زبان ٹھکنا۔ (۷۔ محاورہ) باتیں کرتے کرتے رو جانا۔  
 زبان تیز ہونا۔ (۸۔ محاورہ) بہت باتیں کرنا۔ جلد جلد باتیں کرنا۔  
 زبان تیغ سے جواب دینا۔ (۹۔ محاورہ) کسی بات کے جواب میں تلوار  
 کھینچ لینا۔ کسی بات کے جواب میں جنگ پر آمادہ ہو جانا۔  
 زبان ٹوٹنا۔ (۱۰۔ محاورہ) صاف طور پر بولنا۔ صحیح طور پر بولنے کی  
 عادت پڑنا (۱۱) پچھے کا صاف بولنا۔  
 زبان ٹھہرنا۔ (۱۲۔ محاورہ) خاموش ہو جانا۔  
 زبان جلی جائے۔ (بد دعا) کہنے والے کی زبان کو تکلیف پہنچے۔  
 زبان جتنے ایک بار ماں جتنے بار بار۔ (بشمل) زبان کا آقرا  
 ایک ہوتا ہے۔

زبان چھڑ پڑے۔ (بد دعا) زبان نہ رہے۔ بول نہ سکے۔ زبان گٹ کر  
 یا گل کر گر جائے۔

زبان چاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) منہ دار چیز کھا کر دیر تک منہ لیتے نہ رہنا۔  
 زبان چار لاکھ کی ہونا۔ (۲۔ محاورہ) بہت باتیں کرنے والا ہونا۔  
 زبان دواز ہونا۔

زبان چھلانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جلد جلد باتیں کرنا۔ بہت بولنا (۲) بدزبان  
 یا بد تیزی کی باتیں کرنا۔  
 زبان چھلانے کی روٹی کھانا۔ (۱۔ محاورہ) چاچوسی کر کے پیٹ پان  
 خوشامد درآمد سے روٹی پیدا کرنا۔

زبان چلتی ہوئی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت بولنے پر قادر ہونا۔  
 زبان حال سے کہنا۔ (۲۔ محاورہ) حالت سے ظاہر ہونا۔ بے ہکے  
 حالت سے ظاہر کرنا۔

زبان خامہ۔ (دنت۔ ۱۔) منہ) قلم کا وہ حصہ جس میں شگاف دیتے ہیں۔  
 زبان خواب کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گایاں دینا (۲) زبان سے  
 بیہودہ الفاظ نکلانا۔

زبان خشک ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت پیاس ہونا (۲) بہت ہمت  
 کرنا (۳) بہت باتیں کرنا۔  
 زبان خلق تقارہ خدا۔ (بشمل) جو بات مشہور عالم ہو جائے وہ ہو کر  
 ہی رہتی ہے۔

زبان خجری طرح چھلنا۔ بہت تیز گفتگو کرنا۔  
 زبان داب (کر) کئے بائیں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) چپا چپا کر باتیں کرنا۔  
 زبان دابنا۔ (۲۔ محاورہ) کہتے کہتے ٹک جانا۔ بات کرنے سے روکنا۔  
 زبان دبا کے کہنا۔ (۳۔ محاورہ) آہستہ سے کہنا۔

زبان دال۔ (دنت۔ ۱۔) صفت) کسی زبان کا ماہر۔ واقف زبان۔ کسی زبان  
 کو بڑی جاننے والا۔

زبان دانستوں (تیلے) میں دابنا۔ (۱۔ محاورہ) کچھ کہہ کر کچھ پھپھانا (۲)  
 حیرت کرنا (۳) افسوس کرنا۔

زبان دانستوں سے کاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) صفت دیوانہ ہونا۔  
 زبان دانی۔ (دنت۔ ۱۔) منہ) زبان کی پورے طور پر واقفیت۔  
 زبان دبا جانا۔ (۲۔ محاورہ) کہتے کہتے ٹک جانا۔

زبان دراز۔ (دنت۔ ۱۔) صفت) (۱) گایاں دینے والا۔ بدزبان (۲)  
 مختار۔

زبان دراز (کرنا) ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت باتیں کرنا۔ بہت بولنا۔  
 (۲) گایاں دینا۔ بدزبان ہونا۔

زبان درازی۔ (دنت۔ ۱۔) صفت) (۱) بدزبان (۲) مختار۔  
 زبان درست ہونا۔ (۱۔ محاورہ) صحیح زبان بولنا۔ تہذیب سے گفتگو کرنا۔  
 زبان دسے کر پھٹنا۔ (۲۔ محاورہ) کہہ کر کھجنا۔ وعدہ کر کے انکار کر دینا۔

زبان دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) زبان کا خیال کرنا۔  
 زبان دینا۔ (۲۔ محاورہ) وعدہ کرنا۔  
 زبان رنگنا۔ (۳) کہہ نہ سکتا (۴) چھلانا۔ بولنے میں روکنا۔

زبان رکھنا۔ (۱- محاورہ) بولنے یا جواب دینے کی طاقت رکھنا۔  
 زبان رنگین ہونا۔ (۱- محاورہ) شوخ زبان ہونا۔  
 زبان روکنا (رکنا)۔ (۱- محاورہ) کہتے کہتے کئے ٹوک جانا (۲) بڑا بھلا کہنے سے باز رہنا (۳) دوسرے کو بڑی بات کہنے سے منع کرنا۔  
 زبان زد۔ (۱- صفت) مشہور۔ معروف۔  
 زبان زد خاص و عام۔ (۱- صفت) ہر ایک کی زبان پر۔ سب میں مشہور۔  
 زبان بھینا۔ (۱- محاورہ) بولی بھینا۔  
 زبان بنبھال کے بولنا۔ (۱- محاورہ) احتیاط سے گفتگو کرنا۔  
 زبان سلبھا لو۔ (۱- مقولہ) بیہودہ نہ بکو۔ بد زبانی نہ کرو۔  
 زبان سوکھنا۔ (۱- صفت) پیاس کی شدت ہونا (۲) تعریف کرتے یا نام لیتے لیتے زبان عاجز آجانا۔  
 زبان سے اُف نہ کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شکایت نہ کرنا (۲) تکلیف کا اظہار نہ کرنا۔  
 زبان سے بات نہ نکلنا۔ (۱- محاورہ) رُعب کے باعث کچھ کہہ نہ سکا۔  
 زبان سے بیٹیا بیٹی پراٹے جوتے ہیں۔ (۱- ایشل) بد زبانی سے اپنے غیر بن جاتے ہیں۔  
 زبان سے پھول جھڑنا۔ (۱- صفت) شہر میں کلام ہونا۔ غیر مناسب باتیں کرنے کے موقع پر بھی طنز اُکھتے ہیں۔  
 زبان سے خندق پار۔ (۱- محاورہ) دشمنی ہی دشمنی ہے کچھ نہیں سکتے۔  
 زبان سے نام نہ لینا۔ (۱- محاورہ) ذکر نہ کرنا۔ کسی معاملے کے متعلق چپ رہنا۔  
 زبان سے نکالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کہنا۔ بیان کرنا (۲) تلفظ کرنا۔  
 زبان سے نکلے کوٹھے چڑھی۔ (۱- ایشل) بات مٹنے سے نکلے ہی مشہور ہو جاتی ہے۔  
 زبان سینا۔ (۱- محاورہ) خاموش رہنا۔ بات نہ کہنا۔  
 زبان شمع۔ (۱- صفت) شمع کی ٹو۔  
 زبان شیر میں نکل گیری، زبان طوطی نکل با نکل۔ (۱- ایشل) نرم زبانی سے بہت کام نکل جاتے ہیں۔ سخت کلامی سب کو دشمن بنا دیتی ہے۔  
 زبان شیشہ۔ (۱- صفت) بوتل کے مٹنے سے عرق یا مشربت وغیرہ نکلنے وقت بندھی ہوئی دھار۔  
 زبان طعن کھولنا۔ (۱- محاورہ) لعن طعن کرنا۔  
 زبان عاجز ہونا۔ (۱- محاورہ) کچھ کہہ نہ سکا۔ کہنے کی طاقت نہ ہونا۔  
 زبان فخر چلنا۔ (۱- محاورہ) بڑی تیزی سے باتیں کرنا۔ جلد جلد زبان چلنا۔  
 زبان قاصر ہونا۔ (۱- محاورہ) زبان عاجز ہونا۔ بات کہنے کی تاب نہ ہونا۔  
 زبان قلم کرنا ہونا۔ (۱- محاورہ) زبان لکنا۔  
 زبان قینچی (سی) کی طرح چلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کنا پتہ بہت تیزی سے گفتگو کرنا (۲) لگانا بولے جانا۔  
 زبان کا پلٹے کھانا۔ (۱- محاورہ) قول سے مگھرنا۔  
 زبان کا ٹھوٹھ۔ (۱- صفت) بد زبان۔ گنوار۔  
 زبان کا تاننا کھولنا۔ (۱- محاورہ) بد زبان ہو جانا۔

زبان کا چسکا۔ زبان کا چسکا۔ زبان کا مزہ۔ (۱- صفت) مزے دار چیزیں کھانے کی لذت۔ پنچور پن۔  
 زبان کا پتھورا۔ (۱- صفت) وہ شخص جسے لذیذ کھانے کھانے کی عادت ہو۔  
 زبان کا کام لاکھ سے لینا۔ (۱- محاورہ) اشارے کرنا۔  
 زبان کا میٹھا۔ (۱- صفت) (۱) شیریں زبان (۲) منافق۔ کھوٹا۔  
 زبان کاٹ کے پھینک دینا۔ (۱- محاورہ) کوئی فضول بات یا بد ہمدی نہ کرنے کے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔  
 زبان کاٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بات کاٹنا۔ بات میں بول پڑنا (۲) کہنے پر چپکنا۔  
 زبان دکاٹو کاٹے۔ (۱- محاورہ) بولنے کی سزا دیجئے۔  
 زبان کٹ جاتے۔ (۱- مقولہ) ایک قسم۔  
 زبان کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) اسفند کلامی کرنا۔ بڑا بھلا کہنا (۲) وعدہ کرنا۔  
 زبان کند ہوئی جاتی ہے۔ (۱- محاورہ) کچھ کہا نہیں جاتا۔ بولنے کی طاقت سلب ہو رہی ہے۔  
 زبان کو لیس میں رکھنا۔ (۱- محاورہ) سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا۔  
 زبان کو کولے گئی۔ (۱- محاورہ) جب کوئی جواب نہ دے سکے تو کہتے ہیں گونگا ہو گیا ہے۔  
 زبان کو لگام دو۔ (۱- محاورہ) چپ رہو۔ سمجھ کر بولو۔  
 زبان کو مٹھ میں رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) زبان کو روکے رکھنا یا بس میں رکھنا (۲) چپ رہنا۔  
 زبان کھلنا۔ (۱- صفت) کھلنے کا بولنے لگنا۔ گویائی آنا (۲) بد زبانی کرنا (۳) مٹنے سے روکنا (۴) باتیں کرنے کی طاقت پیدا ہونا۔  
 زبان کھلوانا۔ (۱- محاورہ) (۱) بد زبانی میں دلیر ہونا (۲) چھپی ہوئی بات ظاہر کرنا۔  
 زبان کھولنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کچھ کہنا۔ بولنا (۲) بد زبانی کرنا (۳) گویائی کی قوت حاصل ہونا (۴) عیب نکالنا (۵) لگھڑکھڑ کرنا۔  
 زبان کھینچنا۔ (۱- محاورہ) گدڑی کے پیچھے سے زباں نکالنا۔  
 زبان کی بات۔ (۱- صفت) کسی خاص شخص کی کبھی جوئی بات۔  
 زبان کی سنی کہوں یا تلوار کی سنی کہوں۔ (۱- ایشل) صفت صاف کہوں یا منہ بھی کہوں۔  
 زبان کی (لوچ) لچک۔ (۱- صفت) لب و لہجہ کی خوبی۔  
 زبان کے آگے خندق نہیں۔ کوئی کسی کی زبان بند نہیں کر سکتا۔  
 زبان کے آگے کھائی۔ خندق برابر ہے۔ (۱- ایشل) جو منہ میں آیا سو بک دیا۔  
 زبان کے (پتھارے) مزے لینا۔ (۱- محاورہ) انیس اور مزے دار چیزوں کا کھلنا اٹھانا۔  
 زبان کیلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) فحش یا منہ سے کسی کا منہ بند کرنا۔  
 زبان کی گدڑی سے کھینچنا۔ (۱- محاورہ) زبان بڑے نکال دینا۔  
 زبان کھس جانا کھسنا۔ (۱- محاورہ) کہتے کہتے زبان تھک جانا۔  
 زبان کو ہر باز۔ (۱- صفت) موقی پرسانے والی زبان۔ (۲) فصیح البیان۔  
 زبان کی گدڑی۔ (۱- صفت) (۱) جاسوس۔ پنچر (۲) مصترض۔  
 زبان کی گدڑی۔ (۱- صفت) (۱) جاسوس کا کام (۲) اعتراض کرنا بگڑت کرنا۔







تکلیف پر تکلیف دینا (۲) نقصان یا تکلیف میں طعن و تشنیع کرنا۔  
 زخم پکنا - (۱) عمارہ (۲) زخم میں پیپ پڑ جانا۔  
 زخم تازہ ہونا - (۱) عمارہ (۲) نیا صدمہ ہونا۔ نیا زخم لگنا (۳) کسی نئے حادثے پر برائے رنج یا آجانا۔  
 زخم جگر - (۱) زخم - (۲) رنج۔  
 زخم جھیلنا - (۱) عمارہ (۲) زخم کھانا۔  
 زخم جڑانا - (۱) عمارہ (۲) زخم میں خشکی کے سبب سے درد ہونا۔  
 زخم پوش - (۱) زخم - (۲) بد نظر۔  
 زخم خشک ہونا - (۱) عمارہ (۲) زخم سے پیپ کا نکلنا بند ہونا۔ انگر ہونا۔  
 کھڑ بندھنا۔  
 زخم خفیف - (۱) زخم - (۲) ہلکا زخم۔  
 زخم خنداں - (۱) زخم - (۲) دکنا۔  
 زخم خوردہ - (۱) زخم دار - (۲) زخم - (۳) مجروح - (۴) زخمی۔  
 زخم دامن دار - (۱) زخم - (۲) بڑا زخم۔  
 زخم دل - (۱) زخم - (۲) رنج۔  
 زخم دوزی - (۱) زخم - (۲) زخم میں ٹانے لگانا - مرہم پٹی۔  
 زخم دینا - (۱) عمارہ (۲) گھائل کرنا۔ صدمہ پہنچانا۔ ضرر پہنچانا۔  
 زخم زبان - (۱) زخم - (۲) کسی کی بدزبانی کا اثر۔  
 زخم زدہ - (۱) زخم - (۲) مجروح۔  
 زخم سینا - (۱) عمارہ (۲) زخم میں ٹانے لگانا۔  
 زخم کا آٹھور - (۱) زخم - (۲) کھڑ۔  
 زخم کا پانی - (۱) زخم - (۲) رطوبت جو زخم میں ہوتی ہے۔  
 زخم کا پتھر - (۱) زخم - (۲) کسی کی باہر سے خشک اور اندر سے تراب ہونا۔  
 زخم کا رونا - (۱) عمارہ (۲) دکنا۔  
 زخم کاری - (۱) زخم - (۲) زخم۔  
 زخم کا مسکھانا - (۱) عمارہ (۲) دکنا۔  
 زخم کے ٹانے ٹوٹ جانے سے زخم کا بڑھ جانا۔  
 زخم کا ہوا دینا - (۱) عمارہ (۲) زخم کا بہت بڑھ جانا۔  
 زخم کو ٹانے لگانا - (۱) عمارہ (۲) زخم سینا۔  
 زخم کھانا - (۱) عمارہ (۲) زخمی ہونا۔ مجروح ہونا (۳) صدمہ اٹھانا۔  
 زخم کھلنا - (۱) عمارہ (۲) زخم کا بہت جانا۔  
 زخم پھن - (۱) زخم - (۲) پھانسی۔  
 زخم کے ٹانے کاٹنا - (۱) عمارہ (۲) زخم کا مندل ہونے کے بعد زخم کے ٹانے کاٹ ڈالنا۔  
 زخم لگنا - (۱) عمارہ (۲) مجروح ہونا۔  
 زخم میں انگر آنا - (۱) عمارہ (۲) زخم پر کھڑ پڑنا۔  
 زخم میں رہتی صوف بھرتا - (۱) عمارہ (۲) زخم بھرنے کی غرض سے اس میں کپڑا یا روئی رکھ دینا۔  
 زخم سہرا کرنا - (۱) عمارہ (۲) گھاؤ کو تازہ کرنا۔ صدمہ پہنچانا۔ گزشتہ رنج یا درد لانا۔  
 زخم سہرا ہونا - (۱) عمارہ (۲) گھاؤ کو تازہ ہو جانا (۳) گزشتہ صدمے یا

عمارے کا یاد آجانا۔  
 زخموں پر زخم جھیلنا - (۱) عمارہ (۲) صدمے سے اٹھانا۔ بہت زخم کھانا۔  
 زخموں پر نمک پاشی کرنا - (۱) عمارہ (۲) سخت تکلیف دینا۔  
 زخموں سے پتھر ہونا - (۱) عمارہ (۲) بہت زخمی ہونا۔  
 زخموں کی بدھی - زخموں کے ہارے زخموں کے نشان۔ بہت سے زخم۔  
 زخم - (۱) زخم - (۲) زخم - (۳) زخم - (۴) زخم - (۵) زخم - (۶) زخم - (۷) زخم - (۸) زخم - (۹) زخم - (۱۰) زخم۔  
 زخمی - (۱) زخم - (۲) زخم - (۳) زخم - (۴) زخم - (۵) زخم - (۶) زخم - (۷) زخم - (۸) زخم - (۹) زخم - (۱۰) زخم۔  
 زخمی جگر - (۱) زخم - (۲) زخم - (۳) زخم - (۴) زخم - (۵) زخم - (۶) زخم - (۷) زخم - (۸) زخم - (۹) زخم - (۱۰) زخم۔  
 زخمی دشمنوں میں دم لے تو مرے - نہ دم لے تو مرے - (۱) زخم - (۲) زخم - (۳) زخم - (۴) زخم - (۵) زخم - (۶) زخم - (۷) زخم - (۸) زخم - (۹) زخم - (۱۰) زخم۔  
 ہر طرح مشکل ہے - ایسے موقع پر کہتے ہیں۔ جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں یہاں تک نقصان ہو۔  
 زخورد فکلی - (۱) زخم - (۲) زخم - (۳) زخم - (۴) زخم - (۵) زخم - (۶) زخم - (۷) زخم - (۸) زخم - (۹) زخم - (۱۰) زخم۔  
 ہونا - بے خودی۔

## ز

زہ - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 صدمہ - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 زہ پر آنا - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 نشان ٹیک لگ جانے۔  
 زہ پڑنا - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 زہ کو ب - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 زہ گان - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 زہ کی - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 جیسے ہوا زدگی۔  
 زہ دن - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 زہ کی - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 میں آتا ہے جیسے گردن زہ کی۔  
 زہ - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 (۳) بریدہ - گلا ہوا - کوزہ - (۴) ساکن حرف - مرکبات میں استعمال ہوتا ہے، جمع، ننگانہ۔  
 زہ حال - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 ننگین - سوگوار۔

## ز

زہ - (۱) زہ - (۲) زہ - (۳) زہ - (۴) زہ - (۵) زہ - (۶) زہ - (۷) زہ - (۸) زہ - (۹) زہ - (۱۰) زہ۔  
 پھول کا زیرہ (۳) سونے چاندی کے تار یا پلا تونے۔

زخم - (۱) زخم - (۲) زخم - (۳) زخم - (۴) زخم - (۵) زخم - (۶) زخم - (۷) زخم - (۸) زخم - (۹) زخم - (۱۰) زخم۔

غریب کو نہیں کر سکتے۔ غریبوں کا والی بس اللہ ہے۔  
 زردار مردانا ہر گھر میں رہے کہ باہر۔ (ایش) زر سے مرد کی حکومت  
 اور رعب ہے۔ گھر میں بھی اور باہر بھی۔  
 زردوز۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) زری کا کام کرنے والا (۲) وہ چیز جس پر  
 زری کا کام ہو۔

زردوزی۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) مسٹ سے تارے اور کلاہتوں سے کام کرنا۔  
 سلسلے تارے کا کام۔

زردوست۔ (ف۔ ص) (۱) روپے سے محبت کرنے والا۔ نجیل۔ لالچی۔  
 زردگری۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو عوی کرنے والے کو عالت دلائے۔  
 زرد زری کشدان (یش) روپیہ روپے کو کھینچتا ہے۔ جن کے پاس  
 دولت ہوا نہیں اور دولت ملتی ہے۔

زرد زین۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جس کے لیے کوئی چیز رہیں رکھی جائے۔  
 زرد زین۔ (ف۔ ص) (۱) زرد زین۔

زرد زرشاد درجہاں بیج۔ (ایش) دنیا میں روپیہ روپے کو کھینچتا  
 ہے اور خزانہ خزانے کے۔

زر زمین، زن جھگڑے کی جڑیں۔ (ایش) ان تینوں کی وجہ سے  
 خسار ہوتے ہیں۔

زر زور تھا داد ہے۔ (ایش) یہ چیزیں آدمی خود حاصل نہیں کر سکتا۔  
 زر مخرج۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) سونا۔ (۲) اشرفی (۳) گنہگے تاش کا ایک ٹک۔

زر سفید۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) چاندی (۲) روپیہ۔  
 زر سے قول کر لینا۔ (۱) محاورہ، کسی چیز کے ہم وزن سونا یا چاندی  
 دے کر خریدنا۔

زر ضمانتی۔ (ف۔ ا۔ مذ) ضمانت کا روپیہ۔  
 زر (طلا) عیار۔ (ف۔ ع۔ ا۔ مذ) خالص سونا۔

زر فاضل۔ (ف۔ ا۔ مذ) فالتو روپیہ۔ بقایا۔  
 زر قرض۔ (ف۔ ا۔ مذ) قرض کا روپیہ۔

زر قسب۔ (ف۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) کھوٹا سونا۔ کھوٹا روپیہ۔  
 زر کا جوٹا۔ (۱) رشوت جو کسی کو دے کر کام نکالا جائے۔

زر کار۔ (ف۔ ص) (۱) جس پر طبع یا سہری کام ہوا ہو (۲) سار۔  
 زر کار گندم دلاف زلفان (یش) کام تو روپیہ کرتا ہے مگر آدمی اپنی

لیاقت کی ڈینگ مارتا ہے۔  
 زر کا زائل کرنا۔ جیتے جی ہے مرنا۔ (ایش) روپیہ ضائع کرنا بہت بُری

بات ہے۔ روپیہ برابر کر کے انسان کو بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔  
 زر کا زور پورا ہے اور سب ادھورا ہے۔ (ایش) روپے میں

بہت طاقت ہے۔  
 زر کا مل عیار۔ (ف۔ ع۔ ا۔ مذ) خالص سونا۔

زر گنٹا۔ (۱) محاورہ، زر برستا۔  
 زر کش۔ (ف۔ ص) (۱) کلاہتوں بنانے والا۔ چاندی کے تاروں سے

کھوٹا ہوا کپڑا۔  
 زر کل۔ (ف۔ ا۔ مذ) اصل رقم مع سود۔ بیاج سمیت ٹول۔

زر آمدنی۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) آمدنی۔ (۲) مالگداری (۳) فائدہ۔ نفع۔

زر احمہ۔ (ف۔ ا۔ مذ) سونا۔  
 زر اصل۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) اصل مال۔ اصل سرمایہ۔ سرمایہ یا رقم جو کسی کام  
 پر لگانے جائے۔ مول۔

زر افشال۔ (ف۔ ص) (۱) وہ کاغذ جس پر سونے کے درق  
 ریزہ ریزہ کر کے چھڑکے ہوتے ہیں اور برقیات کے خطوط میں استعمال  
 کیا جاتا ہے (۲) چمک دار۔

زر امانت۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو کسی کے پاس امانت رکھا جائے۔  
 زرا اندوہ۔ (ف۔ ا۔ مذ) سونے کا طبع کیا ہوا۔

زر باف۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) زر بخت بنانے والا۔ تاروں کا بنا ہوا کتواب۔  
 زر بانی۔ (ف۔ ا۔ مذ) سونے کے تار بنانا۔ زر بخت بنانا۔

زر بانی۔ (ف۔ ا۔ مذ) بقایا۔ روپیہ جو بچ جائے۔  
 زربالائی۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) وہ رقم جو علاوہ تنخواہ کے ملے (۲) رشوت۔

زر برسر (ولاد) پولاد) نہی نرم شود (یش) روپیہ دینے سے سگدل  
 بھی بیک جاتا ہے۔

زر برستا۔ (۱) محاورہ، روپے کی بارش ہونا۔ بے حد روپیہ ملنا۔  
 زر بخت۔ (ف۔ ا۔ مذ) کتواب۔ ایک کپڑا جو سونے اور ریشم کے تاروں

سے جتنے ہیں۔  
 زر بل نہ زور مل۔ (ایش) نہ روپیہ ہے نہ بدن میں طاقت۔

زر بچانہ۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو سودا چکا کرنے کی خاطر پیشگی دیا جائے۔  
 زر پاک عیار۔ (ف۔ ا۔ ص) (۱) خالص سونا۔ کھرا سونا۔

زر پرست۔ (ف۔ ص) (۱) لالچی۔ نجیل۔ روپے کا غلام۔  
 زر پھیلا یا اور کار بر آیا۔ (یش) روپیہ خرچ کرنے سے کام ہو

جاتا ہے۔  
 زر پیشگی۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو کسی چیز یا عنت کے عوض پہلے ہی

دے دیا جائے۔  
 زر تیار۔ (ف۔ ص) (۱) وہ چیز جو سونے کے تاروں سے بنائی گئی ہو۔

زر پو فیتر۔ (ف۔ ا۔ مذ) فاضل روپیہ۔  
 زر من۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ روپیہ جو قیمت میں ملے۔

زر جعفری۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) خالص سونا۔ جعفر برکی وزیر کاروں رشید  
 کی طرف منسوب جس نے صاف سونے کا استعمال کیا تھا۔

زر (خالص) خشک۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ سونا جس میں ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو۔  
 زر خرید۔ (ف۔ ص) (۱) روپیہ دے کر خریدنا ہوا (غلام یا لونڈی) شیدائی۔

زر خیز۔ (ف۔ ص) (۱) سرسبز۔ شاداب۔ سیر حاصل۔  
 زر خیز کرنا۔ (۱) محاورہ، کھا ڈال کر بیداوار کے قابل بنانا۔

زر خیزی۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) سرسبز۔ شادابی۔  
 زر دادن و زر دسر خریدن (یش) مال کا مال کھونا اور رفت کی زحمت لینا

زر دار۔ (ف۔ ص) (۱) دولت مند۔ مال دار۔  
 زر دار کا سودا سے لے کر خدا حافظ۔ پر دار پڑے اڑتے

بے پر کا خدا حافظ۔ (ایش) میر آدمی جو چاہے لے سکتا ہے

زر عمت پلشیرہ - (رغ - ن - صفت) جس کا پیشہ کاشتکاری ہو۔ کاشتکار کیساں -  
 زرافہ - (زر - را - ذ) (رغ - ا - ذ) شتر گاؤ - لمبی گردن والا ایک افریقی جانور  
 (Giraffe)  
 زرائین - (زر - را - ان) (ق - ا - مذ) زیور -  
 زریبان - (رغ - صفت) بول دھارا (۲) کہنا بیترہ حضرت ابراہیم -  
 زرنشت - (زر - دشت) (زر - دشت) (ن - ا - مذ) ایران  
 کا مشہور فلسفی - آتش پرستوں کا پیغمبر - دین آتش پرستی کا بانی -  
 زرنشتی - (زر - دشت) (ق - ا - صفت) زرنشت سے منسوب - پارسی -  
 زرد - (رغ - صفت) پیلہ - سنہرا -

زرد آلو - (رغ - ا - مذ) ٹھوکانے ایک قسم کا زرد آلو -  
 زرد اندھی - (رغ - مٹ) آندھی جس کے گرد و خبار کا رنگ پیلہ ہو -  
 زرداب - (زر - واہ) (رغ - ا - مذ) پت - صفرا (۲) پیپ - پانی جو  
 زخموں سے رتا ہے -  
 زرد پڑنا - (ع - مادہ) خوف - دہشت یا مرض کے سبب چہرہ یا جسم  
 کا پیلہ ہونا -

زرد چوہ - (رغ - ا - مٹ) ہلدی -  
 زرد گوڑ - (رغ - صفت) (ا) پیلے چہرے والا (۲) ہراساں - ترساں (۳)  
 شرمندہ (۴) بے حیا - شامنی (۵) ذلیل - خواری  
 زرد روٹی - (رغ - ا - مٹ) (ا) شرمندگی - نجالت - شرماری (۳) ذلت -  
 زرد (رہو جاننا) ہونا - (ا) طول مرض - رنج یا عش سے زرد پڑ جاننا - خون  
 خشک ہو جاننا (۲) شرما جاننا - خوف یا زحمت میں آجانا -

زردوک - (زر - دک) (ن - ا - مذ) گاجر -  
 زدوہ - (زر - وہ) (ن - ا - مذ) (۱) زرد رنگ کا گھوڑا (۲) پت - صفرا -  
 (۳) میٹھے زرد رنگ کے چاول - مڑ مخڑ (۴) پان کے ساتھ کھانے کا  
 تباکو (۵) زرد گوڑی (۶) کبوتر جس کی آنکھیں زرد ہوتی ہیں -  
 زدوہ بھسکنا - (ع - مادہ) دم بدم خشک تباکو کھانا -  
 زردی - (زر - دی) (رغ - ا - مٹ) (۱) پیلہ پن - پیلا ہٹ (۲) انڈے کی

زردی (۳) یرقان (۴) اشتری (۵) پھول کے اندر کا زیرہ -  
 زرنشک - (زر - نشک) (ن - ا - مذ) ایک دوا کا نام -  
 زرغل - (زر - غل) (رغ - صفت) لاغر - حقیر - ناکارہ چیز -  
 زرق برق - (زر - ق) (رغ - مٹ) (۱) شان و شوکت والا - شیب  
 ٹاپ والا - کدو فز والا - آراستہ - پیراستہ -  
 زرقا - (رغ - ا - مٹ) وہ عورت جس کی آنکھیں نیلی اور سنہری ہوں -

زرہ - (زر - ہ) (رغ - ا - مٹ) فولاد کا جالی دار کرتا جو لڑائی میں پہنتے ہیں -  
 زرکہ پوش - (رغ - ا - مذ) وہ شخص جو زرہ بستر پہنتے ہو -  
 زردی - (رغ - ا - مٹ) سنہری تار - سونے کا تار - کلابوں کا بنا ہوا کپڑا -  
 بادلو - گونا گوی دخیہ -

زری باف - (رغ - ا - مذ) سونے کے تار بنانے والا شخص - گوٹا  
 کناری بنانے والا -  
 زری گوٹے والا - وہ صراف جو پڑانا گوٹا کناری خرید کر لے جاتا ہے -

زوکوب - (رغ - ا - مذ) (۱) سونے چاندی کے ورق بنانے والا - وہ  
 چیز جس پر سونے کے پتے لگائے گئے ہوں -  
 زوکوبی - (رغ - ا - مٹ) چاندی سونے کے ورق بنانا -  
 زر کے آگے زور نہیں چلتا - (دیش) روپے والے کے سامنے طاقتور  
 آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا -  
 زرگر - (رغ - ا - مذ) سار -

زرگری - (رغ - ا - مٹ) (۱) سار کا پیشہ (۲) مصنوعی زبان جس میں ایک حرف  
 یا دو حرفوں کے بعد بیچ میں زسے لاکر بولتے ہیں (۳) فائنٹ اور تھوٹ  
 موٹ کی لڑائی - زبانی ٹوڑ میں (جنگ کے ساتھ) -

زرگلس - (رغ - ا - مذ) پھول کے اندر کا زیرہ -  
 زرگوں - (رغ - صفت) سونے کے رنگ کا - سنہرا -  
 زریا زدی چھانی - (رغ - ا - مٹ) (دیش) نقصان ہونے سے  
 چہرہ زرد پڑ جانا ہے - روپیہ آنے تو منہ پر سرخی جھلکے لگتی ہے -  
 زریگان - (زر - مال گزاری) (رغ - ا - مذ) سرکاری لگان کار روپیہ -  
 زرمبادلہ - (رغ - ا - مذ) وہ سکہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت  
 ہوتی ہے (زر - پڑنا) (رنگ) (Foreign Exchange)

زرمسوک - (رغ - ا - مذ) طلائی سکہ - اشتری -  
 زرمطالعہ - (رغ - ا - مذ) سرکاری مدھیہ - واجب الادا -  
 زرمطالعہ - (رغ - ا - مذ) ہرجا نہ - وہ روپیہ جو کسی نقصان کے عوض  
 دیا جائے -

زرمناغ - (رغ - ا - مذ) (۱) نفع کا روپیہ - غامدہ کا روپیہ (۲) سود - بیاج  
 زرناب - (رغ - ا - مذ) (۱) خالص سونا (۲) دیکنا پتہ آفتاب -  
 زر نشان - (رغ - ا - مذ) سونے کے پھول یا تصویریں جو لوہے پر  
 بنائی جائیں -  
 زرقہ - (رغ - ا - مذ) نقد روپیہ - روکڑ - وہ روپیہ جو کھوٹی کاٹ کر  
 لیا جائے -

زرنگارہ - (رغ - صفت) (۱) سنہری کام کا - طلائی (۲) وہ چیز جس پر  
 سنہرا کام کیا ہو -

زر نیست عشق میں طین - (رغ) مٹلی میں کچھ نہیں ہو سکتا -  
 زرنیلومی - (رغ - ا - مذ) وہ روپیہ جو کسی چیز کے نیلام کرنے سے حاصل ہو  
 زرا واصلات - (رغ - ا - مذ) وہ نفع جو زمین رکھی ہوئی چیز سے حاصل ہو -  
 زریہ زریب لگاتا ہے - بے زر بگڑا نظر آتا ہے - (دیش) مٹلی  
 کام کی نہیں - روپے سے انسان کی شہرت - عزت اور دل کشی  
 ہوتی ہے -

زر ہے تو کھڑے نہیں تو کھنڈر ہے - (دیش) روپیہ ہو تو گھر بچی  
 حالت میں ہوتا ہے نہیں تو کھنڈر بن جاتا ہے -  
 زر سے تو زسے نہیں تو (پزاوے) (کھسار کا تر ہے - (دیش) [

مٹلی آدمی کسی کام کا نہیں -  
 زریا فلسفی - (رغ - ا - مذ) روپیہ بولینا ہو رہا یا جو وصول کرنا ہو - ترجمہ -  
 زر عمت - (زر - عمت) (رغ - ا - مٹ) کلیتی ہاڑی - کاشتکاری -

زریں - (زر زریں) ات صفت (سوسنے کا بنا ہوا) ۲۱۔ سہرا جس پر زری کا کام کیا ہوا ۲۲۔ بیش قیمت -  
 زریں کلاہ - (ات ۱۰) ہذا جس کے سر پر سہری ٹوپی ہو۔ بادشاہوں کی تعریف میں کہتے ہیں۔

زرقال - رُذ۔ خال، ات ۱۰۔ ہذا کو لگو جو جلا ہوا نہ ہو۔  
 زرعین - رُذ۔ غنہ، ات ۱۰۔ مٹا اپیل۔  
 زرخند - رُذ۔ غنہ (ف ۱۰) مٹا (زندہ) جسٹ۔ چھلانگ۔ چوکلای۔ کدچاند۔

## ز ف

## ز ر

زرفان - (زر خاف) (ع ۱۰) مٹا (دہن کی لپٹے دو لہکے گھر دی آنگی ۲۲) ہم بہتری  
 سہاگ رات دلیے موقع پر عموماً شب زرفان کہتے ہیں  
 زرفت - ات ۱۰۔ مٹا (سیاہ گوئد جو صنوبر کے درخت سے حاصل کی جاتی ہے)۔  
 زرفیل - (زر۔ فیل) (ا ۱۰) مٹا (دھری زفر) سیٹی بھلنا۔ سیٹی دینا۔ وہ آواز  
 جو کبوتر باز کبوتروں کے اڑانے کے واسطے دوائگیاں دینا میں رکھ کر  
 دور سے نکالتے ہیں۔  
 زرفینا - (۱۱) مٹا سیٹی بجا کر بھلانا۔ سیٹی دینا۔

زرت - (۱) مٹا (دراؤن کی سیا باتیں۔ طاہی جاہی باتیں ۲۲) رٹ۔  
 زرت (مارنا) (۱) مٹا (۱۱) محاورہ (کواس کرنا۔ بڑا کھن۔ یادہ گئی کرنا) پورہ  
 اور بے نامہ بچے پہلے جانا۔  
 زرتی - (زر۔ رتی) (۵) مٹا (کواسی۔ یادہ گریہ پورہ گو۔

## ز ش

## ز ق

زشت - (ات صفت) بُرا۔ بد شکل۔ بد نما۔ مجھڑا۔  
 زشت خو۔ (ات صفت) بُری عادت والا۔ بد نصلت۔ بد خو۔  
 زشت خولی - (ات ۱۰) مٹا (بہ مزاجی۔ بد نصلتی)۔  
 زشت رُو - (ات صفت) بد شکل۔ بد صورت۔

زقند - (زر۔ قند) (ات ۱۰) مٹا (جست۔ زقند۔ چھلانگ)۔  
 زقوم - (رُذ۔ قوم) (ع ۱۰) مٹا (تھوہر۔ بلا تشہد نہ تان بھی مستل ہے)۔

## ز ع

## ز ک

زخان - (ع ۱۰) ہذا ناگہانی موت۔  
 زعفران - (زرع۔ ف۔ مان) (ع ۱۰) مٹا (ایک قسم کا نہایت خوشبودار  
 زرد رنگ کا پھول) کیسٹر۔  
 زعفران زلہ - (ف ۱۰) ہذا (وہ مقام جہاں زعفران کثرت سے ہونے لگتا ہے)  
 زعفران کا کھیت۔ وہ تھا جہاں زعفران لگا ہوا۔ پورہ جگہ جہاں بہت سی نکلتے  
 زعفران کا کھیت (دیکھو آنا) دیکھنا - (۱) محاورہ (بہت ہنسنا۔  
 بہت خوش ہونا)۔  
 زعفرانی - (زرع۔ ف۔ مانی) (ع ۱۰) مٹا (زعفران کے رنگ کا زرد  
 کپڑا) کیسٹر کا۔ زعفران سے منسوب۔  
 زرعہ - (زرع۔ ف۔ مانی) (ع ۱۰) مٹا (گن۔ ظن ۲۲) غرور۔  
 زرعہ کا - (زرع۔ ف۔ مانی) (ع ۱۰) مٹا (زعیم کی جمع)۔ اُمر۔ لیڈر۔ سردار۔  
 زرعیم - (زرعیم۔ ف۔ مانی) (ع ۱۰) مٹا (لیڈر۔ سردار)۔

زک - (ا ۱۰) مٹا (سیکی۔ جفت۔ ذلت۔ شرمندگی ۲۲) ہار۔ شکست (۳)  
 نقصان۔ ٹوٹا۔ خسارہ (۴) ذلت۔ جنگ۔  
 زک اٹھانا - (ا پانا۔ کھانا) (۱۱) محاورہ (شرمنگی اٹھانا ۲۲) ہار جانا۔  
 ذلیل ہونا ۲۳) نقصان یا خسارہ برداشت کرنا۔  
 زک دینا - (۱) محاورہ (ہرانا۔ شکست دینا ۲۲) شرمندہ کرنا (۳) ذلیل کرنا۔  
 زکا - (ع ۱۰) مٹا (۱) بڑھنا۔ زیادہ ہونا ۲۲) (صفت) امیر۔ دولت مند (۳)  
 فورا ادا کرنے والا۔  
 زکام - (زرکام) (ع ۱۰) مٹا (ایک بیماری جو ناک اور گلے کی اندرونی سطح پر  
 خراش پیدا کرتی ہے اور ناک سے رطوبت بہنے لگتی ہے)۔  
 زکام بگڑنا - (۱) محاورہ (انہ کے پانی کا سڑ جانا یا دماغ وغیرہ میں جم جانا۔  
 نزلہ بند ہو کر دوسرا مرض کھڑا ہو جانا)۔  
 زکام کھنا - (۱) محاورہ (زکام کے پانی کا غلیظ ہو جانا)۔  
 زکام اٹھانا - (۱) محاورہ (نزلہ ہونا)۔  
 زکریا - (ع ۱۰) مٹا (ایک نبی وغیرہ) آرسے سے پیرے گئے تھے۔

## ز غ

زکوکا - (رُذ۔ کاکٹ) (ع ۱۰) مٹا (خیرات۔ صدقہ ۲۲) اسلام کا چوتھا فرض  
 مال کا چالیسواں حصہ جو سال بھر کے بعد راہِ خدا میں دیا جائے (۲)

اُر۔ عالموں کی اصطلاح کسی اسم یا دمکا میتنہ تعداد میں ان قیود کے ساتھ پڑھنا جو عالموں نے مقرر کیے ہیں۔ نقش کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔  
 زکوٰۃ حسن۔ (رج۔ ۱۔ مٹ) خوبصورتی کا صدقہ و کفایت۔ بوس۔  
 زکوٰۃ میں لینا۔ (۱۔ محاورہ) زکوٰۃ کی رقم میں سے حاصل کرنا۔  
 زک۔ (زک۔ ۱۔ ۲) (ج۔ ۱) (ص۔ ۱) پاک۔ نیک۔ (۲) زکوٰۃ دینے والا۔ جمع : اذکیاء۔

فیض اُٹھانے والا۔  
 زلیخہ۔ (ز۔ لی۔ ۱) (ج۔ ۱) (ذ۔ ۱) غالیجہ۔  
 زلیخا۔ (ز۔ لے۔ ۱) (خا۔ ۱۔ مٹ) (۱) حسین و جمیل عورت (۲) عزیز معرک  
 بیوی جو حضرت یوسفؑ پر عاشق ہو گئی تھی۔  
 زلیخا پڑھی پر یہ نہ جانا عورت سے یا مرد۔ لایش (۱) ان لوگوں کے  
 مستحق کہتے ہیں جو بے بچے بوجھے بڑھتے ہیں یا بات کی نہ کو نہیں پہنچتے۔

## زل

زلال۔ (ز۔ لال) (ج۔ ۱۔ ۱) (ذ۔ ۱) حاصل پانی (۲) خمر اور پانی (۳) سرد اور  
 شیریں پانی۔  
 زلال خمر۔ (ج۔ ۱۔ ۱) (ذ۔ ۱) آب حیات۔  
 زلزله۔ (ز۔ ل۔ ۱) (ج۔ ۱) (ذ۔ ۱) جھونچال۔ لالا ڈھولا۔ زمین کا کا پنا۔  
 جمع : زلازل۔

## زم

زمام۔ (ز۔ مام) (ج۔ ۱۔ ۱) (مٹ) باگ۔ نکیل۔ جمع : ازمم۔  
 زمائم حکومت لاکھ میں لینا۔ (۱۔ محاورہ) حکومت کی باگ دُور اپنے ہاتھ  
 میں لینا۔ خود حکومت کرنا۔  
 زمان۔ (ز۔ مان) (ج۔ ۱۔ ۱) (ذ۔ ۱) وقت۔ زمانہ۔ ساعت۔  
 زمانہ۔ (ز۔ مانہ) (ن۔ ۱۔ ۱) (ذ۔ ۱) حرکت فکری کی مقدار۔ وقت۔ سماں۔ ہنگام  
 (۲) عرصہ۔ مدت۔ وقفہ۔ میعاد (۳) موسم۔ وقت۔ فصل (۴) ہمد۔ راج۔  
 حکومت (۵) جنگ۔ قرن (۶) دور۔ گردش (۷) دُنیا۔ عالم۔ دہر (۸)  
 دنیا کے لوگ۔ جنگ۔ مخلوق (۹) گردش۔ دور (۱۰) قسمت۔ نصیب (۱۱)  
 (صرف) ماضی۔ حال۔ مستقبل میں سے ایک۔ جمع : ازمم۔  
 زمانہ آنا۔ (۱۔ محاورہ) وقت آنا۔  
 زمانہ آنکھوں سے (دیکھا ہے) گزر چکا ہے۔ (۱۔ مثل) بہت تجربہ  
 ہو چکا ہے۔  
 زمانہ اٹٹ پلٹ ہونا۔ زمانہ اُلٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) انقلابِ عظیم ہو جانا۔  
 زمانہ اُٹٹنا۔ (۱۔ محاورہ) خلقت کا بڑی تعداد میں کسی جگہ سپینا۔  
 زمانہ ایک رنگ پر نہیں رہتا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی حالت یکساں نہیں رہتی۔  
 زمانہ باقونہ ساز و تو با زمانہ ساز۔ (مثل) اگر زمانہ تیرا ساتھ نہیں دیتا  
 تو تجھے زمانے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اکثریت اگر کسی رائے کے  
 خلاف ہو تو بجائے سب کا مخالف بننے کے اکثریت کی رائے مان  
 لینا چاہیے۔  
 زمانہ باقونہ ساز و تو با زمانہ ستیز۔ (ن۔ مثل) اگر زمانہ تیرا ساتھ نہیں  
 دیتا تو تو زمانے کے ساتھ جنگ کر۔ زمانے کی ہوا کے ساتھ بہر جانا  
 کوئی خوبی نہیں۔ زمانے کے ساتھ چلنا کمزوری کی نشانی ہے۔  
 زمانہ بدلنا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت پھرنا۔ انقلاب ہونا۔  
 زمانہ بگڑنا۔ (۱۔ محاورہ) تجربہ ہونا۔  
 زمانہ برسرِ جنگ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہر بات مخالف پڑنا۔ نصیباً خراب ہونا۔  
 زمانہ بسر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) وقت گزارنا۔ گزارہ ہونا۔  
 زمانہ بھرنے (۱) تمام دُنیا۔  
 زمانہ بھر کا چھٹا ہوا۔ (۱۔ ص۔ ۱) بہت بد معاش۔ اول درجے کا لاپتہ۔  
 زمانہ پر روشن ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سب کو معلوم ہونا۔ سب پر ظاہر ہونا۔  
 زمانہ پلٹنا۔ (۱۔ محاورہ) انقلاب ہونا۔

زلزلہ آنا۔ (۱۔ محاورہ) جھونچال آنا۔  
 زلزله برپا ہو جانا (پڑ جانا)۔ پھل پڑ جانا۔ کھلبلی مچنا۔ تینکے ج جانا۔  
 زلف۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) بالوں کا پچھا جو کان کے پاس کینٹی پر لٹکتا ہے۔  
 (۲) کاکل۔ گیسو۔ مینڈھی۔ گندھے ہوئے بال۔  
 زلف پریشاں۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) بھرے ہوئے بال۔  
 زلف تاب دار۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) گھونگر یا بے بال۔  
 زلف چیلیا۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) صلیب کی شکل کی زلف۔ بعض عورتیں اپنی  
 زلف اس طرح گوندھتی ہیں کہ سرے پر اکریلیب کی کسی شکل بن جاتی ہے۔  
 زلف رسا۔ (ن۔ صفت) لمبی زلف۔  
 زلف سنبیل۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) سنبیل کے بال یا گھاس ناپتیاں۔ بالچھڑ  
 کی لٹ۔ سنبیل کے بالوں کے ساتھ استعارہ کرتے ہیں۔  
 زلف شب۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) رات کی تاریکی۔  
 زلف خنبریں۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) خوشبودار بال۔  
 زلف کا سودا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) عاشق ہونا۔  
 زلف گرہ گیر۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) اُلچھنے والی زلف۔  
 زلف لہرانا۔ (۱۔ محاورہ) بالوں کا ہوا میں اُڑانا۔  
 زلفیں چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) زلفیں اس طرح بڑھانا کہ شکنی رہیں۔  
 زلفیں رکھنا۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) زلفیں لمبی کرنا۔  
 زلفیں سنوارنا۔ (۱۔ محاورہ) بالوں کو بنانا۔ زلفوں کو خوبصورت بنانا۔  
 زلفی۔ (ز۔ لی۔ ۱) (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) دروازے کی زنجیر (۲) پٹی۔ دروازے  
 کا لٹکا (۳) عوار کی موٹہ۔  
 زلف۔ (ز۔ ل۔ ۱) (ج۔ ۱۔ ۱) (ذ۔ ۱) پھسلنا۔ بگڑنا۔ ٹھوکر کھانا (۲) غلطی کرنا۔ سو کرنا۔  
 (۳) کھانا۔ نقصان (۴) لغزش۔ پھسلنا۔  
 زلو۔ زلوک۔ (ز۔ ل۔ ۱) (ن۔ ۱) (مٹ) (۱) مٹ) جو تک۔  
 زلہ۔ (ز۔ ل۔ ۱) (ج۔ ۱۔ ۱) (ذ۔ ۱) آگے کا بچا ہوا کھانا۔ پس خورد۔ جمع : زلات۔  
 زلہ زمانہ برقرار۔ (۱) کسی کا پچھا ہوا کھانے والا (۲) خوش چین۔ کسی سے

زمانہ پھر جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لوگوں کا کسی کے خلاف اور دشمن ہو جانا (۲)  
 زمانے کا لٹ جانا۔ زمانہ بدل جانا۔  
 زمانہ تہ و بالا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) انقلاب عظیم ہونا۔  
 زمانہ جاہلیت۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) عرب میں اسلام سے پہلے کا زمانہ۔  
 زمانہ پیر سے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) تجربہ کار ہونا۔  
 زمانہ چھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت تلاش کرنا۔  
 زمانہ حال۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) وہ زمانہ جو گزر رہا ہے۔ موجودہ زمانہ۔  
 زمانہ دیکھ ڈالا ہے۔ (۱۔ محاورہ) بڑا تجربہ کار ہے۔  
 زمانہ دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) تجربہ کار ہونا۔  
 زمانہ دیکھے بیٹھے ہیں۔ ان آنکھوں سے نہ معلوم کیا کیا دیکھ ڈالا ہے۔  
 بہت تجربہ کاریں۔  
 زمانہ زیر و زبر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) انقلاب عظیم ہونا۔ ہل چل پینا۔  
 زمانہ ساز۔ (ن۔ صفت) ظاہر دار۔ خود غرض۔ سوچ پرست۔  
 زمانہ سازمی۔ (ن۔ صفت) خوش خدمت۔ ظاہر داری۔ بناوٹ۔ مکاری۔  
 زمانہ سے اٹھنا (اڑ جانا)۔ (۱۔ محاورہ) ناپید ہو جانا۔ نیست و نابود ہو جانا۔  
 زمانہ سے برکت اٹھ جانا۔ (۱۔ محاورہ) دنیا میں فلاح و بہبود کا نہ رہنا۔  
 نکبت آنا۔  
 زمانہ سے نرالا۔ (۱۔ صفت) سب سے الگ۔ عجیب۔  
 زمانہ عدت۔ (ن۔ ع۔ ۱۔ مذ) وہ عرصہ جس میں عورت طلاق ملنے یا  
 رائے ہونے کے بعد دوسرا خاوند نہ کر سکے۔  
 زمانہ کا گرا پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات کی طرف خلقت کا بے طرح متوجہ ہونا۔  
 زمانہ کی گردش۔ (۱۔ مشعر) انقلاب۔  
 زمانہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ (۱۔ مثل) دقت کبھی کبھی  
 ہوتا ہے کسی کبھی۔  
 زمانہ گزرنا۔ (۱۔ محاورہ) عرصہ ہونا۔ مدت گزرنا۔  
 زمانہ ماضی۔ (ن۔ ع۔ ۱۔ مذ) گزرا ہوا زمانہ۔  
 زمانہ مبتلا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت لوگوں کا ایک شخص پر عاشق ہونا یا  
 کسی بات میں پیننا۔  
 زمانہ مستقبل۔ (ن۔ ع۔ ۱۔ مذ) وہ زمانہ جو آئے گا۔ آنے والا زمانہ۔  
 زمانہ موافق ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نغیبیا اچھا ہونا۔ طالع یا در ہونا۔  
 زمانہ نازک ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ایسا وقت جس میں عورت سنبھالنا دشوار ہو۔  
 زمانہ نظر میں اندھیر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سخت گھبراہٹ ہونا۔ پریشانی  
 میں کچھ نہ سوجھنا۔ سخت تم داؤدہ ہونا۔  
 زمانہ ہوا۔ (۱۔ محاورہ) عرصہ ہوا۔ مدت ہوئی۔  
 زمانہ سے کھونا۔ (۱۔ محاورہ) کہیں کا نہ رکھنا۔  
 زمانے کا انقلاب ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زمانہ بدلنا۔ سخت ہل چل پینا۔  
 زمانے کا پلٹا کھانا۔ (۱۔ محاورہ) زمانے کا رنگ بدلنا۔ زمانے کا کروٹ  
 لینا۔ حالت بدلنا۔  
 زمانے کا چیلن۔ (۱۔ مذ) وقت کا رسم و رواج۔ دنیا کا طریقہ۔  
 زمانے کا رخ دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) لوگوں کے خیالات اور طریقے کا خیال لکھنا

زمانے کا دستور۔ (۱۔ محاورہ) رسم و رواج۔  
 زمانے کا رونا۔ لوگوں کا ماتم یا غم کرنا۔  
 زمانے کا زمانہ۔ (۱۔ محاورہ) تمام لوگ۔ ساری خلقت۔ پوری دنیا۔  
 زمانے کا فرصت دینا۔ (۱۔ محاورہ) دنیا داری کے کاموں سے فراغت پانا  
 زمانے کا کروٹ لینا۔ (۱۔ محاورہ) زمانہ بدلنا۔  
 زمانے کا ہوسیند ہونا۔ آپس میں محبت نہ رہنا۔ بے مروتی کا عام ہونا۔  
 زمانے کا ناموافق ہونا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت خراب ہونا۔  
 زمانے کا ورق اُلٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) زمانہ بدل جانا۔  
 زمانے کی آب و ہوا بدل جانا۔ (۱۔ محاورہ) لوگوں کے خیالات اور  
 ہوجانا۔ انقلاب ہوجانا۔  
 زمانے کی راہ۔ (۱۔ صفت) لوگوں کا دستور یا چلن۔ رسم و رواج۔  
 زمانے کی ہوا بگڑنا۔ (۱۔ محاورہ) لوگوں کی حالت بدلنا۔ دوستوں کا دشمن  
 ہوجانا۔ لوگوں کے خیالات خراب ہوجانا۔  
 زمانے کی ہوا پھر جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہر بات کا برخلاف ہونا۔ قسمت  
 خراب ہونا۔  
 زمانے کی ہوا دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) لوگوں کا رجحان دیکھنا۔ دقت کے  
 تقاضوں کا اندازہ کرنا۔  
 زمانے کی ہوا کھانا۔ (۱۔ محاورہ) زندہ رہنا۔  
 زمانے کے۔ (۱۔ صفت) اپنے وقت کے۔ دنیا بھر کے۔  
 زمانیاں۔ (ن۔ زمان۔ یال) دن۔ (۱۔ صفت) زمانے کے لوگ۔  
 زمرہ۔ (ن۔ زمر۔ زمر) دن۔ (۱۔ مذ) سبز رنگ کا قیمتی پتھر۔  
 زمرہ رنگار۔ (ن۔ صفت) زمرہوں سے بڑا ہوا۔  
 زمرہ دیں۔ (ن۔ زمر۔ زمر) دن۔ (۱۔ صفت) سبز رنگ کا۔  
 زمرہ۔ (ن۔ ع۔ ۱۔ مذ) (۱) گروہ۔ جتھا۔ (۲) جماعت (۳) سماجی۔ ہمراہی۔  
 (۴) بیٹہ۔ فرج۔  
 زمرزم۔ (ن۔ ع۔ ۱۔ مذ) بیت اللہ کے کنوئیں کا نام نیز دیکھے آب زمزم۔  
 زمرزم۔ (ن۔ ع۔ ۱۔ مذ) (۱) قرم۔ نغمہ۔ ترانہ۔ گیت (۲) چھٹی آواز  
 میں عبادت کے کلمات پڑھنا۔ لاہور میں ایک توبہ کا نام۔  
 زمرزمہ پر داڑ۔ زمرزمہ پیرا۔ زمرزمہ حوال۔ زمرزمہ سنج۔ (ن۔ صفت)  
 راگ گانے والا۔  
 زمرزمہ کا پلٹا۔ پچھدار آواز بول گئے گانے میں نکالتے ہیں۔  
 زمرزمی۔ (ن۔ ع۔ ۱۔ مذ) (۱) عیبوں کو آب زمزم دینے والا  
 شخص (۲) آب زمزم رکھنے کا برتن۔  
 زمستان۔ (ن۔ زم۔ تان) دن۔ (۱۔ مذ) موسم سرما۔ جاڑا۔ سردی۔  
 زمزم۔ (ن۔ زم۔ ۱۔ مذ) وقت۔ زمانہ۔ جمع، ازمان۔ آزمینہ۔  
 زمزمیر۔ (ن۔ زم۔ ۱۔ مذ) (۱) سخت جاڑا۔ نہایت سردی (۲)  
 کرتے ہوا کا وہ طبقہ جو نہایت سرد ہے۔ (۳) دوزخ کا طبقہ جس میں  
 سردی کا عذاب دیا جائے گا۔  
 زمزمی۔ (ن۔ زم۔ ۱۔ مذ) (۱) زمین کا تخت۔ دھرتی۔  
 زمین۔ (ن۔ زمین) (۱) (۱) زمین۔ (۲) دھرتی۔ (۳) بھوم۔ ارض۔ (۴) وہ جگہ جس

زمین پر قدم نہ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) غزور کرنا۔  
زمین پر کسی کے نام کی شراب چھڑکنا۔ (۱۔ محاورہ) سے خوشی میں  
یہ دستور ہے کہ پینے سے پہلے کسی کا نام لے کر ایک آدھ چھینٹا شراب  
کا زمین پر گرادیتے ہیں۔

زمین پر نہ ٹھہرنے دینا۔ (۱۔ محاورہ) اپنے علاقے یا اپنی زمین پر نہ ٹھہرنے دینا  
زمین پر ملا تھہ نہیں تھکے۔ (۱۔ محاورہ) عاجز نہیں ہوا۔ ابھی طاقت ہے۔

زمین لیست ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بچاؤ و دولت و توفیق کا پتلا نہ ہونا۔  
زمین بچھڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جم کر بیٹھنا (۲) کسی جگہ مستقل سکونت اختیار کرنا۔  
زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں۔ (۱۔ مثل) نہایت شرمندگی یا  
زندگی سے بیزار ہو جانے کے وقت بولتے ہیں۔ ناگہانی موت آجائے۔  
زمین ترقید و پیدا شدہ سمر [نیشل] (تھارتا) کوئی دفعہ آجائے تو  
مذاق کہتے ہیں۔ زمین بیٹی اور لگے گا سہریلا ہوگی۔

زمین تلے اوپر کر دینا۔ (۱۔ محاورہ) انقلاب برپا کر دینا۔ ہل چل پھا دینا۔  
زمین تھرتانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہل چل پھینا۔ (۲) زلزلہ آنا۔  
زمین تل جائے اور یہ نہ تلے۔ (۱۔ مثل) نہ ٹکنے والی مصیبت۔ مندی  
شخص یا مزدوری تعمیل ہونے والے حکم کی نسبت بولتے ہیں۔  
زمین ٹھنڈی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) روایت تانیے کا چھٹ نہ ہونا۔

زمین ٹھکانا۔ (۱۔ محاورہ) آوارہ پھرنا۔  
زمین چڑھا ہوا کھوڑا۔ (۱۔ محاورہ) وہ گھوڑا جسے بے سفر کی عادت ڈالی  
گئی ہو۔

زمین سٹن ٹینر۔ (ف۔ ۱۔ ص) وہ خطہ جہاں کے اکثر لوگ خوبصورت  
ہوتے ہوں۔

زمین خالصہ۔ (ف۔ ۱۔ ص) وہ زمین جو براہ راست بادشاہ کی ذاتی  
ملکیت ہو۔ جاگیر صرف خاص۔

زمین تراجی۔ (ف۔ ۱۔ ص) وہ زمین جس کا معاملہ ادا ہوتا ہو۔

زمین خون سے لال ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سخت خون ریزی ہونا۔ لڑائی  
میں بہت لوگوں کا مارا جانا۔

زمین وار۔ (ف۔ ص) زمین کا مالک (۲) زمین کاشت کرنے والا  
شخص۔ کاشتکار۔

زمین دار کو کسان۔ پتھے کو مسان۔ (۱۔ مثل) زمین دار کو پانے کا شتکار  
اور پتھے کو مرض مسان سے سخت نقصان پہنچتا ہے۔

زمین دار کی جڑ بھری۔ زمین دار ہمیشہ خوش حال رہتا ہے۔

زمین داری۔ (۱) زمینداری کا پیشہ یا کام (۲) پتی داری۔ جاگیر داری۔  
(۳) راضی۔ پتی۔ ریاست (۴) زمین جو زمیندار کے قبضے میں ہو۔  
(۵) زمین دار کا عہدہ۔

زمین داری پٹنا۔ (۱۔ مذ) ایک تختہ جس میں سرکار زمین داری کے  
حقوق عطا کرتی ہے۔

زمین داری ڈوب کی جڑ ہے۔ زمین داری کھڑے کی ڈوب ہے  
(مثل) زمینداری میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ زمینداری یا پیدار چیز ہے۔  
زمین دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لگا دینا چھٹنا (۲) پینا دکھانا (۳) پھینا ڈانا۔

پر ہم رہتے ہیں (۲) غزل کی روایت۔ قافیہ اور وزن یا بحر (۳) اُردی گزینا۔  
جہاں۔ عالم۔ مسنار۔ تختہ۔ خطہ۔ ولایت۔ ملک۔ دیس (۴) خاک۔ مٹی۔  
دھول۔ گرد (۵) بنیاد۔ جڑ۔ نیو (۶) تہ۔ طبقہ۔ تلاء۔ نیچے کا حصہ (۷) کاغذ  
یا کپڑے کی اصل۔ سطح یا رنگ (۸) عورت۔ اولاد کی والدہ۔

زمین آسمان ایک کر دینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز یا کسی شخص کی تلاش میں  
کوئی جگہ باقی نہ چھوڑنا۔ کرنا کرنا جہاں مارنا۔ کُل کر کشش کرنا۔

زمین آسمان پر ٹھکانا نہ ہونا (لگنا)۔ لے لگی بات کہنا۔  
زمین آسمان جھکنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) در بدر پھرنا (۲) دیوانہ بنانا۔

زمین آسمان چھیننا۔ (۱۔ محاورہ) بہت تلاش کرنا۔  
زمین آسمان کا فرق۔ (۱۔ مذ) بہت بڑا فرق۔

زمین آسمان کے تالے ملانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت مبالع کرنا۔ جھوٹی  
سچی باتیں بنانا (۲) سچی مارنا۔ لاف زنی کرنا۔

زمین آسمان میں پتلا ملنا۔ (۱۔ محاورہ) کہیں نہ ہونا۔  
زمین اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زمین کا ٹھیکے پر جانا (۲) زمین کا جوتا بویا جانا  
(۳) زمین کا سرسبز ہونا۔

زمین اڑا دینا۔ (۱۔ محاورہ) ہل چل بھارنا۔  
زمین افسادہ۔ (ف۔ ص) زمین جو کاشت نہ کی گئی ہو۔

زمین اُلٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) غضب کرنا (۲) ملک فوج کرنا۔  
زمین بلند ہونا۔ (۱۔ محاورہ) غزل کی بحر کا دشوار ہونا۔

زمین بوس۔ (ف۔ ص) (۱) وہ جو حاضر ہو کر اظہار ادب کے لیے  
زمین چڑے۔

زمین بوسی۔ (ف۔ ۱۔ ص) زمین چومنا۔ سامنے حاضر ہو کر ادب سے  
زمین کو بوسہ دینا۔

زمین بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) زمین کا دھس جانا۔  
زمین پامال ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ایک بچاؤ و دولت و توفیق میں پہلے  
سے بہت سی غزلیں ہونا۔

زمین پاؤں تلے سے نکل جانا۔ (۱۔ محاورہ) خوف اور دہشت سے  
کھڑا ہونا مشکل ہونا۔ نہایت بیقرار ہونا۔

زمین پاؤں سے لگ رہی ہے۔ (۱۔ محاورہ) بہت آمدورفت کی  
وجہ سے رستہ قریب معلوم ہوتا ہے۔

زمین پاؤں سے نکلی جاتی ہے۔ نہیں ہمتی۔ نہیں بھرتی۔ بڑا  
زمانہ ہے کوئی کسی کا نہیں۔ سخت گھبراہٹ ہے۔

زمین پر ارجنا۔ (۱۔ محاورہ) رگر پڑنا۔  
زمین پر پاؤں نہ دھرنا (دھرنا) رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت اترنا۔ بہت غزور کرنا  
زمین پر ٹیکنا۔ (۱۔ محاورہ) گرانا۔ دس مارنا۔

زمین پر جڑھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) گھوڑے کا مسافت طے کرنے میں شاق ہونا  
ہر روز تھوڑا تھوڑا سفر بڑھا کر گھوڑے کو بے سفر کی عادت ڈالنا۔

زمین پر ڈھسنا۔ (۱۔ محاورہ) گر پڑنا۔  
زمین پر سے کچھ بڑا مانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کوئی چیز بے عزت و محنت کے  
عاطف ہونا۔ کوئی چیز افسانہ قابل مانا (۲) کوئی مطلب کی چیز چاہی بل جانا۔

زمین کو بوسہ دینا۔ (۱۔ محاورہ) زمین بوسنا۔ زمین بوسی کرنا۔  
 زمین کو مارے زمین دار چوسنے۔ (۱۔ مثل) کسی کمزور کو مار کر زور آور  
 پر رعب ڈالنا۔  
 زمین کھا گئی کہ آسمان۔ (۱۔ مثل) اس وقت کہتے ہیں جب کھوئی  
 ہوئی چیز کا پتا نہ لگے۔  
 زمین کی پوچھنا آسمان کی کہنا۔ (۱۔ مثل) سوال کچھ جواب کچھ۔ بے سخی  
 بات کہنا۔  
 زمین کی طٹا میں کھینچ دینا۔ (۱۔ محاورہ) مسافت کم کر دینا۔ ناصلا  
 حقوڑا کر دینا۔  
 زمین کی گردن۔ (۱۔ مثل) خاک ناٹے۔ خشکی کا وہ تنگ حصہ جو پانی  
 کے دو بڑے حصوں کو جدا کرے اور خشکی کے دو حصوں کو ملائے۔  
 زمین کے برابر ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) را، خاک ہو جانا (۲) خاک ری کرنا۔  
 زمین کے طبقے آسمان پر اڑا دینا۔ (۱۔ محاورہ) زمین کے طبقے اکٹ  
 دینا۔ زمین تہ و بالا کر دینا۔ خدرا دینا۔ قیامت برپا کر دینا۔  
 زمین کے نیچے اس قدر ہے جتنا زمین کے اوپر ہے۔ (۱۔ مثل)  
 اس آدمی کی نسبت جو بہت چالاک اور حیا رکھتا ہے کہتے ہیں۔  
 زمین گرم ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زمین شکر کا پست ہونا۔  
 زمین گلزار ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سرخ پھولوں سے زمین بھری ہونا (۲)  
 رخنوں سے زمین بھری ہونا۔  
 زمین گھس جانا۔ (۱۔ محاورہ) زمین کو نقصان پہنچ جانا (طنزاً کہتے ہیں کہ  
 چیلنے یا کھڑے رہنے سے زمین گھس نہ جائے گی)۔  
 زمین گیر۔ (ف۔ صفت) وہ جو اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکے (۲) زمین پر  
 گرا ہوا (۳) بھکا ہوا۔ جینہ (۴) زیادہ عمر کی وجہ سے کمزور (۵) بہت  
 بوڑھا آدمی۔  
 زمین (متحرک) ہمز لزل ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زمین کا ہینا۔ زلزلہ آنا۔  
 (۲) ہل چل جینا۔  
 زمین مری ہونہ۔ (ف۔ ۱۔ مثل) گرد دکھی ہوئی زمین۔  
 زمین مزروعہ۔ (ف۔ ۱۔ مثل) کاشت کی ہوئی زمین۔  
 زمین میں ٹھکانا نہ آسمان میں۔ (۱۔ مثل) بے خانہ ہے۔ کہیں  
 ٹھکانا نہیں ہے۔  
 زمین میں سما نا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سخت شرمندہ ہونا (۲) زمین میں گڑنا۔  
 زمین میں جذب ہونا۔  
 زمین میں گاڑ دوں گا۔ (۱۔ مثل) مزہ چکھاؤں گا۔  
 زمین میں گاڑنا۔ (مض۔ مرکب) دفن کرنا۔  
 زمین میں گڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دفن ہونا (۲) نہایت شرمندہ ہونا۔  
 زمین ناپنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سفر کرنا (۲) آوارہ پھرنا۔ مارے مارے پھرنا۔  
 زمین نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زمین شکر تلاش کرنا۔ سنے رولیف وقتا نیچے میں  
 شکر کہتا (۲) دریا کا بیٹ جانا اور زمین قابل کاشت ہونا۔  
 زمین واسمان بھرا نا۔ (۱۔ محاورہ) سخت ہل چل جینا۔ توبالا ہونا۔  
 زمین واسمان کا فرق ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت بڑا فرق ہونا۔

زمین دوز۔ (ف۔ صفت) زیر زمین۔ زمین کے نیچے۔  
 زمین دوز قلعہ۔ زمین کے نیچے بنا ہوا قلعہ۔ ایسا قلعہ جس کی چھت  
 زمین کے برابر ہو اور باہر سے پتہ نہ چلے کہ قلعہ ہے۔  
 زمین دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بیجا دیکھنا۔ شرمندہ ہونا (۲) گر پڑنا۔  
 پچھڑنا (۳) زمین میں دفن ہونا (۴) تے کرنا۔  
 زمین سیند۔ (ف۔ ۱۔ مثل) وہ آواز زمین جس پر مکانات نہ ہوں۔  
 زمین سخت ہے آسمان وور سے۔ (۱۔ مثل) سخت مصیبت اور  
 بے بسی کے موقع پر کہتے ہیں۔ سختی کے باعث زمین میں سما سکتا ہوں نہ دوزی  
 کے سبب آسمان پر پہنچ سکتا ہوں۔ کچھ کرتے دھرتے نہیں بن پڑتی۔  
 زمین سر پر اٹھالینا۔ (۱۔ محاورہ) بہت شور وغل کرنا۔ اڈم چمانا۔ بڑا  
 فساد برپا کرنا۔  
 زمین سست ہونا۔ (۱۔ محاورہ) شکر کی بحر وغیرہ کا چست نہ ہونا۔  
 زمین سہل ہونا۔ (۱۔ محاورہ) روایت وقایہ کا آسان ہونا۔  
 زمین سے پیٹھ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) قرار پکڑنا۔ آرام کرنا۔ بے چینی رفع کرنا۔  
 زمین شکر سگڑاں ہے۔ (۱۔ محاورہ) شکر کی بحر اور وزن مشکل ہے۔  
 زمین شقی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زمین چھٹ جانا۔  
 زمین سگڑتہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زمین شکر کا ایسا موزوں و مناسب ہونا  
 کہ اچھے شکر موزوں ہوں۔  
 زمین شور و سنبل برنیار۔ (ف۔ مثل) کھار والی زمین میں سنبل نہیں  
 آکت۔ بڑے آدمی سے سبھی نیکی کی امید نہیں ہوتی۔  
 زمین طرح کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بھرا اور قافیہ روایت کا معنی ہونا۔  
 زمین غیر مزروعہ۔ (ف۔ ۱۔ مثل) وہ زمین جس میں کاشت نہ کی جائے  
 آفتادہ زمین۔  
 زمین قند۔ (ف۔ ۱۔ مثل) ایک قسم کی ترکاری۔ شکر تندی۔ کچاو۔  
 زمین کا پاؤں پکڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی مقام پر قیام ہو جانا۔ کہیں سے  
 جا نہ سکتا۔  
 زمین کا پاؤں تلے سے سرک جانا (مثل جانا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱)  
 کسی حد سے کا حال میں گر گھبرا جانا (کنایت) وقت پر کسی کا ساتھ نہ دینا۔  
 زمین کا پاؤں کے نیچے نہ بٹھرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کا ساتھ نہ دینا۔  
 زمین کا پیوند ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دفن ہونا۔ مر جانا (۲) فنا ہونا۔ نیست  
 نابود ہونا۔  
 زمین کا تختہ اٹٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) انقلاب عظیم ہونا۔  
 زمین کا کھا جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نیست و نابود کر دینا (۲) زمین کا دفن  
 شدہ چیز کو بوسیدہ کر دینا۔  
 زمین کا لڑ۔ (۱۔ مذ) بہت سفر کرنے والا۔ آوارہ پھرنے والا۔  
 زمین کا مالک۔ (۱۔ مذ) زمین دار۔  
 زمین کا پینا۔ (۱۔ محاورہ) ہل چل جانا۔ زمانہ کا توبالا ہونا۔  
 زمین کا نہ آسمان کا۔ (۱۔ مثل) کہیں کا بھی نہیں۔ نہ دین کا نہ دنیا کا۔  
 نہ ادھر کا نہ اُدھر کا۔  
 زمین کو آسمان کر دینا۔ (۱۔ محاورہ) پست زمین شکر کو اٹٹ بنا دینا۔



زُنَّارہ - (زُن - ناز) - (ف - ۱ - مذ و مٹ) (۱) وہ تاکا جو ہندو لگے اور ہنبل کے درمیان ڈالے بہتے ہیں۔ جیو (۲) وہ تاکا یا زنجیر جو عیسائی، مجوسی اور یہودی کریموں یا مذہب سے ہیں۔

زُنَّارِ سَاغَر - زُنَّارِ قَدَح - (ف - ۱ - مذ) (۱) وہ ٹیلے جو شراب کے پیلے میں اُٹھتے ہیں (۲) وہ گول نشان جو شراب کے پیالے میں پڑ جاتا ہے۔

زُنَّارِی - (ع - صفت) زُنَّار سے منسوب (۲) زُنَّار پہننے والا (۳) کافر - ہندو۔ زُنَّاسُوئی - (ز - نا - شو - ای) (ف - ۱ - مٹ) (۱) میاں بیوی کے تعلقات مباشرت زُنَّال - (ز - نا) (ف - ۱ - مٹ) (۱) جمع - عورتیں۔

زَنانِ پَرِدہ نشین مصلحت چناں دانند - (ف - مٹ) (۱) پر دے میں بیٹھنے والی عورتیں مصلحت کس طرح سمجھ سکتی ہیں۔

زَنانِ بھدتی - زَنانِ منتری - (ف - ۱ - مٹ) (۱) وہ مرد جو عورتوں کے طریقے اور طرز گفتگو اختیار کریں۔ زَنخے - زَنانے۔

زَنالِ خانہ - (ف - ۱ - مذ) (۱) حرم سرا - مکان کا وہ حصہ جو عورتوں کے رہنے کے لیے مخصوص ہو۔

زَنانہ - (ز - نا) (ف - ۱ - مذ) (۱) زَنخہ - مَحْنَت - ہیچوڑا - وہ مرد جو عورتوں کی کسی حرکتیں کرے (۲) پردہ نشین عورتوں کے رہنے کا مکان - حرم سرا (۳) پردہ (۴) (صفت) نامرد - ڈھیلا بھست۔

زَنانہ (کرنا) کروانا - (۱) محاورہ) مردوں کو ہٹا دینا تاکہ پردہ دار عورتیں آجائیں (۲) ہیچوڑا بنانا۔

زَنانی - (ز - نا - بی) (ذ - صفت) (۱) زن سے منسوب (۲) (مٹ) عورت۔ زَنانی بولی - (ف - ۱ - مٹ) عورتوں کی زبان - ریختی۔

زَنانی پوشاک - (ف - ۱ - مٹ) عورتوں کا لباس۔ زَنانی ڈیلوٹھی - (ف - ۱ - مٹ) وہ ڈیلوٹھی جس سے عورتوں کی آمدورفت ہو۔

زَنانی سواری - (ف - ۱ - مٹ) عورت جو سواری میں بیٹھے۔ زَنبِق - (ز - م - بق) (ع - ۱ - مذ) (۱) پھینسی کی ایک قسم - چمپا (۲) پھینسی کا تیل۔

زَناب (۳) شراب (۴) ایک قسم کا مہم۔ زَنبُور - (ز - م - بُر) (ع - ۱ - مذ) (۱) بھڑ - شہد کی مکھی (۲) ایک لہجہ کا مُنہ گول ہوتا ہے اس سے میوں کو نکالا جاتا ہے (۳) دانت نکالنے کا آلہ (۴) چھوٹی توپ جو بادشاہوں کے ساتھ اُونٹ پر رہتی تھی۔

زَنبُورِ خانہ - (ع - ۱ - مذ) بھڑوں کا چھتا۔ زَنبُورِ مَسْرُح - (ع - ۱ - مذ) قتیبا۔

زَنبُورِ عَسَل - (ع - ۱ - مذ) شہد کی مکھی۔ زَنبُورِ جی - (ز - م - بُر - جی) (ف - ۱ - مذ) توپ چلانے والا۔

زَنبُورِ ک - (ز - م - بُر - ک) (ف - ۱ - مٹ) چھوٹی توپ۔ زَنبُورِ ک - (ز - م - بُر - ک) (ف - ۱ - مذ و مٹ) (۱) زَنبُور (۲) شہد کی بڑی مکھی (۳) لنگری (۴) ایک قسم کی تار جس کے دو طرف کتوں لگے ہوتے ہیں۔

زَنبُورِی - (ز - م - بُر - ی) (ف - صفت) (۱) عالی دار۔ زَنبُورِیل - (ز - م - بیل) (ف - ۱ - مٹ) (۱) لنگری جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہو (۲) فیضوں کا کاسہ جو خشک کتوں سے بنا ہو (۳) جمبولی - پھینسی - جمبولا۔

زَنبُورِی - (ز - نا - بی) (ذ - صفت) (۱) لال تلہ دہلی کی عورتوں کا یہ دستور تھا کہ وہ آپس میں رشتے مقرر کر کے ایک دوسرے کو خطاب کیا کرتی تھیں مثلاً دل جان جان من زَنانی و جیمہ۔ زَنانی کا رشتہ اور رشتوں سے زیادہ مضبوط اور قابل قدر گناہا تھا۔

زَنبُورِی - (ز - نا - بی) (ذ - صفت) (۱) لال تلہ دہلی کی عورتوں کا یہ دستور تھا کہ وہ آپس میں رشتے مقرر کر کے ایک دوسرے کو خطاب کیا کرتی تھیں مثلاً دل جان جان من زَنانی و جیمہ۔ زَنانی کا رشتہ اور رشتوں سے زیادہ مضبوط اور قابل قدر گناہا تھا۔

زَنبُورِی - (ز - نا - بی) (ذ - صفت) (۱) لال تلہ دہلی کی عورتوں کا یہ دستور تھا کہ وہ آپس میں رشتے مقرر کر کے ایک دوسرے کو خطاب کیا کرتی تھیں مثلاً دل جان جان من زَنانی و جیمہ۔ زَنانی کا رشتہ اور رشتوں سے زیادہ مضبوط اور قابل قدر گناہا تھا۔

زَمین و زَمال - (ف - ۱ - مذ) تمام زمانہ۔ زَمین بلا دینا - (۱) محاورہ) ہل چل مچا دینا۔ قیامت برپا کر دینا۔ تہ دہلا کر دینا۔ زَمین دارا - (ز - مین - دا - نا) (ذ - ۱ - مذ) (۱) حق زمین داری (۲) دیہات۔ زَمین داری - (ز - مین - داری) (ذ - ۱ - مٹ) (۱) زمین داری کی بیوی۔ زَمینی - (ز - بی - نی) (ف - صفت) (۱) زمین کی۔ زمین کے متعلق (۲) خاک کی دنیادی - سبلی۔

## ز - ن

زَن - (ف - ۱ - مٹ) (۱) عورت - ناری - تریا (۲) بیوی - استری - زوہر - لگائی (۳) (صفت) مارنے والا جیسے تیغ زن - وہ چیز جس پر ضرب

رہ پھینچائی جائے جیسے تظن - جمع ، زنان۔ زن بار دار - (ف - ۱ - صفت) حامل عورت۔

زن - زر - زمین تینوں لڑائی کے کھر - (۱) مثل عورت - رہیہ اور زمین سے دنیا میں بھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔

زَن مَدَحُوکہ - (ف - ۱ - مٹ) گھر میں ڈالی ہوئی عورت - داشتہ۔ زن مرید - (ف - صفت) بیوی کا مطیع۔

زَن منکوحہ - (ف - ۱ - مٹ) وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا ہو۔

زن و شو - (ف - ۱ - مذ) بیوی اور شوہر - بور و خاوند۔ زن و فرزند - (ف - ۱ - مذ) بیوی بچے - اہل و عیال۔

زَن زَن - (ف - صوت) - تاب (فعل) فرخ - تیزی سے - کسی چیز کے تیز چلنے کی آواز۔

زَن سے - (۱) متعلق فعل) تیزی سے۔ زَننا - (ز - نا) (ع - ۱ - مذ) غیر منکوحہ یا غیر ملوکہ عورت سے جماعت۔

زَننا بالجبر - (ع - ۱ - مذ) کسی عورت سے زبردستی اور ناجائز طور پر جماعت کرنا۔ زَننا کار - (ع - ۱ - مٹ) (صفت) زَننا کرنے والا۔ بدکار۔

زَننا کاری - (ف - ۱ - مٹ) بدکاری - حرام کاری۔ زَننا نا - (زَن - نا - نا) (ع - ۱ - مذ) کسی ٹھوس چیز کے ہوا میں زور سے گزرنے کی آواز۔

زَنناخ - (ز - نا - خ) (ع - ۱ - مٹ) مُرغ یا کبوتر وغیرہ کے سینے کی ہڈی جو دو شاخ ہوتی ہے۔

زَنناخ توڑنا - (۱) محاورہ) (۱) سینہ مرغ کی ہڈی کو دو عورتوں کا کھینچ کر توڑنا۔ (۲) پکا یا مارنا ہونا - ہمزباننا - سہیل بنانا۔

زَنناخہ - (ز - نا - خہ) (ف - ۱ - مذ) (۱) سانپ (۲) بند کمن۔ زَنناخی - (ز - نا - خی) (ذ - ۱ - مٹ) (۱) لال تلہ دہلی کی عورتوں کا یہ دستور تھا کہ وہ آپس میں رشتے مقرر کر کے ایک دوسرے کو خطاب کیا کرتی تھیں مثلاً دل جان جان من زَنانی و جیمہ۔ زَنانی کا رشتہ اور رشتوں سے زیادہ مضبوط اور قابل قدر گناہا تھا۔

زَنناخی - (ز - نا - خی) (ذ - ۱ - مٹ) (۱) لال تلہ دہلی کی عورتوں کا یہ دستور تھا کہ وہ آپس میں رشتے مقرر کر کے ایک دوسرے کو خطاب کیا کرتی تھیں مثلاً دل جان جان من زَنانی و جیمہ۔ زَنانی کا رشتہ اور رشتوں سے زیادہ مضبوط اور قابل قدر گناہا تھا۔

زَنناخی - (ز - نا - خی) (ذ - ۱ - مٹ) (۱) لال تلہ دہلی کی عورتوں کا یہ دستور تھا کہ وہ آپس میں رشتے مقرر کر کے ایک دوسرے کو خطاب کیا کرتی تھیں مثلاً دل جان جان من زَنانی و جیمہ۔ زَنانی کا رشتہ اور رشتوں سے زیادہ مضبوط اور قابل قدر گناہا تھا۔

جمع : زنا بیل۔

زنبیل (باف) ساز۔ (ف۔ ا۔ مذ) زنبیل بنانے والا۔

زنبیل عمر عیتار۔ (ف۔ ا۔ مذ) ایک روایتی ٹھیلی جو عمر عیتار کے پاس تھی جو چاہتا تھا اس میں رکھ لیتا تھا (۲) ایسا ٹھیلہ جس میں بہت سی چیزیں سما جائیں۔

زنجبیل۔ (زنج۔ بیل) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) سونٹھ (۲) بہشت کی ایک نہر کا نام۔ زنجبیر (زن۔ جیر) (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) دروازے کی گنڈی (۲) بیڑی (۳) لڑی سلسلہ (۴) دھات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی لڑی (۵) فیل کے ساتھ تعداد بھر کرنے کے لیے جیسے پیمیں زنجیر فیل۔

زنجیر بندی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) سلسلہ (۲) قطار۔

زنجیر ڈالنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) آزادی کی خواہش میں بے تاب ہو کر زنجیر توڑنے کی کوشش کرنا۔ (۲) بہت جوش یا عصبیت میں بھرا ہونا۔

زنجیر توڑنا۔ (ا۔ محاورہ) زنجیر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا (دیوانگی میں)۔

زنجیر داد۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ زنجیر جو نوشیرواں نے اپنے عمل کے آگے گھنٹا باندھ کر لٹکانی تھی تاکہ فریادی اسے ہلاک بادشاہ کو بلا سکیں۔

زنجیر دار۔ (ف۔ صفت) سلتے دار۔ جس پر زنجیر بھی ہوتی ہو۔

زنجیر در۔ (ف۔ ا۔ مٹ) دروازے کی گنڈی۔

زنجیر دینا۔ (ا۔ محاورہ) گنڈی لگانا۔

زنجیر ڈالنا۔ (ا۔ محاورہ) دیوانے یا قیدی کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر باندھنا۔

زنجیر جنوں۔ (ف۔ ا۔ مٹ) وہ زنجیر جو دیوانے آدمی کو ڈالتے ہیں۔

زنجیر عدل۔ وہ زنجیر جو شہنشاہ جہانگیر نے اپنے عمل میں اس لیے لگائی تھی کہ داد و سخا اس کے ذریعے بادشاہ تک فریاد پہنچا سکیں۔ نیز دیکھیے

زنجیر داد۔

زنجیر عرش کھڑکانا۔ (ا۔ محاورہ) دعا کو بارگاہ خداوندی تک پہنچانے کے لیے عجز و زاری کرنا۔

زنجیر کرنا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) پاؤں میں زنجیر ڈالنا (۲) گرفتار یا اسیر کرنا۔ (۳) زنجیر لگانا۔

زنجیر کھڑکانا۔ (ا۔ محاورہ) زنجیر زور سے بلانا۔

زنجیر میں پہننا۔ (ا۔ محاورہ) قید ہونا۔

زنجیرہ۔ (زن۔ پی۔ رکہ) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) کوئی چیز جو زنجیر کی شکل کی ہو (۲) بنا ہوا ڈورا جو زنجیر کی شکل کا بنایا جاتا ہے (۳) کپڑے وغیرہ پر لکھا ہوا حلقہ دار سلسلہ۔ لہریا۔ کٹھا۔ زنجیر دار سلائی (۴) تصویر کے گرد کنا رہ۔

(۵) سلتے جو سطح آب پر پائے جاتے ہیں (۶) زنجیر گردن۔ (۷) (۸) ناخنوں پر سفید نشان (۹) دو الفاظ کو جدا کرنے کا نشان۔

زنجیرہ بندی۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے واسطے لازمی ہونا۔

زنجیری۔ (زن۔ پی۔ ری) (ف۔ صفت) (۱) زنجیر میں بندھا ہوا (۲) پاگل۔

دیوانہ (۳) (مذ) قیدی (۴) دیوانہ شخص (۵) زنجیر کی تصنیف۔

زنجیا۔ (زن۔ خا۔ اُڑ۔ ا۔ مذ) اصل فارسی لفظ زنگ سے (۱) وہ مرد جو عورتوں کی طرح بات چیت یا حرکات کرے۔ زنانہ (۲) بزدل۔ نامرد۔

زنجیلان۔ (زنج۔ خ۔ دان) (ف۔ ا۔ مٹ) ٹھوڑی۔

زندان۔ (زن۔ دان) (ف۔ ا۔ مذ) قید خانہ۔ جیل۔

زندانِ (زن۔ دان) (ف۔ ا۔ مذ) قیدی۔ گرفتار شدہ مجرم۔

زندگہ۔ (زن۔ دقہ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) گزربے دینی۔ الحاد (۲) منافقت۔

زندگانی زندگی۔ (زن۔ دگہ۔ گانی۔ زن۔ ذبگ) (ف۔ ا۔ مٹ) زیست حیات۔ بیون۔ عمر۔

زندگانی (زندگی) پر خاک۔ (ا۔ کلہر نفوس) زندگی پر لگنت۔

زندگی آخر ہونا۔ (ا۔ محاورہ) زندگی تمام ہونا۔ موت کا وقت قریب ہونا۔

زندگی بختا۔ (ا۔ محاورہ) پیدا کرنا۔ زندہ کرنا۔ جلانا۔

زندگی بخش۔ (ف۔ ا۔ صفت) وہ جو زندگی عطا کرے۔

زندگی بسر کرنا۔ (ا۔ محاورہ) عمر گزارنا۔

زندگی بھاری ہونا۔ (ا۔ محاورہ) کسی صدمہ یا بیماری کی وجہ سے مرنے کو بھی چاہنا۔ جینا دو بھر ہونا۔

زندگی بھر۔ (ف۔ صفت) تمام عمر۔

زندگی تلخ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) اس قدر تکلیف ہونا کہ جینا دو بھر ہو جائے۔

زندگی حباب ہے۔ (ا۔ مقولہ) زندگی پانی کے ٹپکنے کی طرح ہے زندگی

نا بایندہ اور ادا دہانی ہے۔

زندگی ڈوبھر ہونا۔ (ا۔ محاورہ) زندگی بھاری ہونا۔ جان اُجیر ہونا۔

زندگی زندہ دل کی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیسا کرنے ہیں۔ (ا۔ مقولہ)

انسان کو خوش باش رہنا چاہیے، مردہ دل کی زندگی بے کار ہے۔

زندگی سے (بیزار) تنگ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) جینے سے تنگ آنا۔ مرنے کو بھی چاہنا۔

زندگی سے مایوس ہونا۔ (ا۔ محاورہ) جینے کی اُمید نہ رہنا۔

زندگی سے ہاتھ اٹھانا (دھوننا)۔ مرنے کے لیے تیار ہونا۔ جینے سے مایوس ہونا۔

زندگی تشرط ہے۔ (ا۔ روزمرہ) اگر جیتے رہے۔

زندگی عطا کرنا۔ (ا۔ محاورہ) زندگی بخشنا۔

زندگی کا ٹٹنا۔ (ا۔ محاورہ) عمر بسر کرنا۔

زندگی کا جام پینا۔ کسی کی سلامتی یا تندرستی کا جام پینا۔ جامِ صحت پینا۔

زندگی کے دن پورے کرنا۔ (ا۔ محاورہ) عمر رنج و تکلیف میں گزارنا۔

زندگی مستعار۔ (ف۔ ا۔ مٹ) چند روزہ زندگی۔

زندگی موت کسی کے ہاتھ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) کسی کا پورا اختیار ہونا۔

زندگی میں۔ جیتے جی۔

زندگی میں موت کا مزہ چکھنا۔ (ا۔ محاورہ) بے حد تکلیف ہونا۔ سخت مصیبت پر ڈنا۔

زندگی دیال ہونا۔ (ا۔ محاورہ) مصیبت میں عمر بسر ہونا۔ جینا دو بھر ہونا۔

زندگی ہونا۔ (ا۔ محاورہ) عمر ہونا۔ دیر تک زندہ رہنا۔

زندہ۔ (زن۔ دہ) (ف۔ صفت) (۱) جیتا (۲) جان دار۔ ذی رُوح۔ ذی حس۔

(۳) تروتازہ۔ مسر سبز (۴) مشتعل۔ سگلتی ہوئی۔

زندہ آنا۔ (ا۔ محاورہ) جیتے جی واپس آنا۔

زندہ اٹھالینا۔ خدا کا کسی شخص کو آسمان پر بٹھانے کی طرح کہ کسملاؤں

کے اعتقاد کے بموجب حضرت یحییٰ کو اٹھایا۔

زندہ باد (باش)۔ (دعا ۱۱) جیتے رہو۔ سلامت رہو۔

زندہ پانا۔ (عامرہ) جیتا دیکھنا۔

زندہ پیس۔ (د۔ ۱۔ مذ) وہ بزرگ شخص جو زندگی میں احترام و تفریح کے لائق ہو۔

زندہ ہجوید۔ (د۔ صفت) ہمیشہ کے لیے زندہ نہ مرنے والا۔ اُمُر۔

زندہ دار۔ (د۔ صفت) بہت جاگنے والا۔

زندہ داران شب۔ (د۔ ۱۔ مذ) وہ جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ چوکیدار

(۶) رات کو عبادت کرنے والے لوگ۔

زندہ دُرگور۔ (د۔ صفت) سخت مصیبت میں مبتلا۔

زندہ دل۔ (د۔ صفت) خوش مزاج۔ ظریف۔

زندہ دلی۔ (د۔ ۱۔ صفت) خوش طبعی۔ دل لگی۔ ظرافت۔ چیل۔

زندہ کرنا۔ (عامرہ) (۱) جلانا۔ زندگی بخشا (۲) فرحت دینا۔

زندہ گڑوا دینا۔ (صفت) مرگب (زندہ دین کر دینا۔

زندہ نگلنا۔ (عامرہ) کسی مصیبت سے جیتنے جی نکل آنا۔

زندہ نہ چھوڑنا۔ (عامرہ) مار ڈالنا۔

زندہ نہ دیکھنا۔ (عامرہ) مر جانے کی وجہ سے کسی شخص کو نہ دیکھنا۔

زندہ ہونا۔ (عامرہ) (۱) جی پڑنا۔ جینا (۲) کسی دھات کے تڑپنے کا

اپنی اصل حالت پر آنا۔

زندہ لیق۔ (زن۔ ۱۔ دق) کتاب ٹنڈ کا مستفاد۔ بے دین کا فرزند جیسی

وہ شخص جو خدا کی وصالت کا قائل نہ ہو۔ جمع : زناد قوم۔

زنک۔ (Zinc) (انگ۔ ۱۔ مذ) جست۔ ایک قسم کی دھات۔

زنک انٹمنٹ (Zinc Intment) ایک قسم کا مرہم جو زخم کو خشک کر دیتا ہے۔

زنک لوشن۔ (Zinc Lotion) آنکھ میں ڈالنے کا ایک مرہم۔

زنکو گرائی۔ (Zinc Graphy) (زن۔ کو۔ گ۔ ۱۔ نئی) دانگ۔ (د۔ ۱۔ صفت) جست کی تھیلوں پر چھاپنے کا فن۔

زنک۔ (د۔ ۱۔ مذ) (۱) چھوٹا گھنٹہ۔ گھنٹی (۲) دھات کا میل۔ مورچہ (۳)

خصوصاً لوہے کا میل (۴) کدورت (۵) سیاہی۔ تاریکی۔ افریقہ کا

ایک ملک۔ ہمیشہ۔

زنک آلود۔ زنگ آلودہ۔ زنگ خوردہ۔ (د۔ صفت) زنگ لگا ہوا۔

زنک آنا۔ (عامرہ) زنگ لگنا۔

زنک کا کھا جانا۔ (عامرہ) زنگ سے دھات کا بوسیدہ ہو جانا۔

زنکار۔ (زن۔ گار) (د۔ ۱۔ مذ) (۱) زنگ (۲) تانبے کا زنگ یا کاسڈ (۳)

نیلا تھوٹھا جو تانبے کی کبجی اور گندھک سے بل کر بنتا ہے۔

زنکار کا پھلنا۔ (د۔ ۱۔ مذ) وہ پھلنا جس پر مرہم زنگ لگایا ہو۔

زنکاری۔ (زن۔ گاری) (د۔ ۱۔ صفت) زنگار کے رنگ۔ کا۔ سبز۔ ہرا۔

زنکار۔ (زن۔ گار) (د۔ ۱۔ مذ) (۱) زنگ۔ گھنٹہ (۲) گھنٹو (۳)

زنکی۔ ایک برتن۔

زنکی۔ (زن۔ گار) (د۔ صفت) چینی۔ شیڈی۔ زنجار کا باشندہ (رمجاز) سیاہ نام۔

زنگی کی سیاہی کسی رنگ نہیں جاتی۔ (د۔ ۱۔ صفت) پیدائشی عیب کسی طرح نہیں ہٹتا۔

زنگی ہٹ۔ (وامت) کالی اور چھوٹی ہٹ۔ بلیبہ سیاہ۔

زندہ جامہ ناپاک گا ڈراں برسنگ۔ (د۔ ۱۔ صفت) جس کپڑے کو دعویٰ پتھر پر مارتے ہیں۔ عیب دار کا عیب دوز کرنے کے لیے سختی کی

ضرورت ہے۔

زیہنار۔ (زن۔ ۱۔ صفت) (د۔ ۱۔ صفت) ہرگز کبھی نہیں خبر دار۔

## ز

زواد۔ (ز۔ وار) (د۔ ۱۔ صفت) ایک قسم کی خوشبو۔

زوار۔ (ز۔ وار) (د۔ ۱۔ صفت) زیارت کرنے والا۔ زائر۔ باتری۔

زوال۔ (ز۔ وال) (د۔ ۱۔ صفت) (۱) عروج کی ضد (۲) کمی۔ گھٹنا۔ اوتار (۳) منزل (۴) نقصان (۵) ناکامیابی (۶) ترقی اور عروج جانا (۷) ہٹنا (۸)

مصیبت (۹) سورج کا نصف النہار سے نیچے

آرنا۔

زوال آمادہ (پندیر)۔ (د۔ ۱۔ صفت) گھٹنے والا۔ تیز قبول کرنے والا۔

زوال پر ہونا۔ (عامرہ) (۱) منزل (۲) منزل ہونا۔ گھٹنا (۳) سورج کا عروج ہونے

کے قریب ہونا۔

زوال کا وقت۔ (د۔ ۱۔ صفت) وہ وقت جب آفتاب نصف النہار

سے سرک جائے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت۔ دھوپ ڈھیلے کا وقت۔

زوال ماہ (مہر)۔ (د۔ ۱۔ صفت) وہ ماہ جب ہندو ہونے کے بعد گھٹنا۔ اندھیرا پاکھ

زواد۔ (ز۔ وار) (د۔ ۱۔ صفت) (۱) ذرا۔ (۲) جمع۔ فضول اور جست سے خارج ہاتھیں۔

زوپین۔ (ز۔ پین) (د۔ ۱۔ صفت) (۱) چھوٹا دو زبانہ۔ دو شاخوں والا نیزہ (۲)

(۳) کاؤس کا ایک بیٹا (۴) صفت) شاعرانہ۔ موسیقارانہ۔

زواج۔ (د۔ ۱۔ صفت) (۱) حجت۔ جوڑا (۲) بیوی خاندان سے کوئی ایک (۳)

شوہر (۴) وہ عدد جو کسر کے بغیر نصف ہو سکے۔ جمع : ازدواج۔

زواج الزواج۔ (د۔ ۱۔ صفت) وہ عدد جو دو برابر تقسیم ہونے کے بعد پھر دو برابر

پڑا تقسیم ہو سکے جیسے۔ ۴۔ ۸۔ ۱۶۔

زواج الفرد۔ (د۔ ۱۔ صفت) وہ عدد جو حجت اور طاق پر پڑا تقسیم ہو سکے۔

جیسے۔ ۹۔ ۱۲۔ ۱۸۔

زوجه۔ (ز۔ وجہ) (د۔ ۱۔ صفت) عورت۔ بیوی۔ استری۔ اہلیہ۔ جمع : ازدواج۔

زوجه مطلقہ۔ (د۔ ۱۔ صفت) طلاق دی ہوئی عورت۔

زوجه منکوحہ۔ (د۔ ۱۔ صفت) نکاح کی ہوئی عورت۔ بیباہتا بیوی۔

زوجیت۔ (ز۔ وجی) (یت۔ ۱۔ صفت) نکاح۔ شادی۔ عقد۔

زوجیت میں لانا۔ (عامرہ) بیوی بنانا۔ نکاح میں لانا۔ عقد کرنا۔

زوجین۔ (ز۔ جین) (د۔ ۱۔ صفت) (۱) مذکورہ کا تین توڑیاں بیوی۔ زن و شوہر۔

زود۔ (د۔ ۱۔ صفت) جلد۔ شاب۔ فوراً۔ ابھی۔ معاً۔

زود آشتا۔ (د۔ صفت) بہت جلد دست بن جانے والا۔

زور دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) قوت دینا۔ زور بڑھانا (۲) شطرنج کے ہرے کو دوسرے ہرے کا سہارا دینا (۳) کسی لفظ کے تلفظ کو خاص لہجہ سے ادا کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ لفظ قابلِ توجہ ہے۔

زور ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مجبور کرنا۔ دباؤ ڈالنا (۲) کسی طرف زیادہ قوت دکھانا (۲) دبانا۔ تنگ کرنا (۳) بوجھ ڈالنا۔

زور ڈھے جانا۔ (۱- محاورہ) مزور جاتا رہنا۔

زور زور سے۔ (۱- متعلق فعل) (۱) قوت سے طاقت سے (۲) تیزی سے (۳) سختی سے۔ چلا چلا کے۔

زور شور۔ (۱- مذ) (۱) تیزی و تندگی۔ جوش و خروش (۲) پڑھاؤ۔ (۳) شدت۔ زیادتی (۴) شوق۔ محنت۔

زور شور سے۔ (۱- متعلق فعل) (۱) جوش و خروش سے (۲) شوق سے۔ محنت سے (۳) شان و شوکت سے۔

زور صبا بطر۔ (۱- مذ) جبر۔ سختی۔ زبردستی۔

زور طبع۔ زور طبیعت۔ (۱- مذ) نئے مضامین اور نئے خیالات پیدا کرنے کی قوت۔

زور قلم۔ (۱- مذ) سختی۔ زیادتی۔

زور قلم۔ (۱- مذ) لکھنے کی طاقت۔ تحریر کا زور۔

زور کا۔ (۱) پرجوش (۲) شدت کا (۳) بلند جیسے زور کا لہرہ۔

زور کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) طاقت آزمائنا (۲) دو پہلوؤں کا مشتق کے لیے لڑنا (۳) بڑھنا۔ زیادہ ہونا (۴) کوشش کرنا۔

زور کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت طاقت ہونا۔ دگ دگ میں قوت ہونا۔

زور کے آگے ضرب نہیں چلتی۔ (۱- مثل) طاقت ورا آدمی پر معمولی ضربات کا اثر نہیں ہوتا۔

زور کھٹنا۔ (۱- محاورہ) طاقت کم ہونا۔

زور لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) طاقت صرف کرنا (۲) کوشش کرنا سہی کرنا۔ (۳) جمت کرنا (۴) دھکیلنا۔ آگے بڑھنا (۵) ہاتھ لگانا (۶) مدد کرنا۔

زور مارنا۔ (۱- محاورہ) نہایت کوشش کرنا۔ سارا زور لگا دینا۔

زور مند۔ (۱- صفت) طاقت درمیانہ۔

زور میں دانا بھرنا۔ (۱- محاورہ) پوری قوت پر ہونا۔

زور نکال دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) قوت کھٹا دینا۔ کمزور کر دینا (۲) غور مشا دینا۔

زور نہ چیلنا۔ (۱- محاورہ) قابو نہ چیلنا۔

زور نہ عقلم عقل کی کوتاہی۔ (۱- مثل) (۱) بے عقل آدمی عموماً ظالم ہوتے ہیں (۲) کسی کے جبر یا سختی سے نقصان نہیں پہنچتا اپنی بے دقتی کی وجہ سے پہنچا ہے۔

زوروں پر چڑھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) طاقت میں بھرنا۔ بہت تیار ہونا۔ (۲) طبعیاتی پرانہ اور یا کا (۳) موٹا تازہ ہونا۔ جوانی میں بھرنا (۴) کمال کو پہنچنا۔

زوروں پر تڑھنا۔ (۱- محاورہ) لگتا تڑھتا ہونا۔ بہت چہل پہل ہونا۔

زور پشمان۔ (۱- صفت) بہت جلد پھٹانے والا۔

زور خرس۔ (۱- صفت) جلد محسوس کرنے والے۔ حساس۔

زور خرس۔ (۱- صفت) تیز فہم۔ بات کی تکرار جلد پہنچنے والا۔

زور رنج۔ (۱- صفت) جلد خفا ہو جانے والا۔

زور فزیر زور لاغر۔ (۱- مثل) جو ایک ماٹے یا ایک حالت پر قائم نہ رہے۔ کھڑی میں کچھ اور کھڑی میں کچھ۔

زور فہم۔ (۱- صفت) تیز فہم۔ ہوشیار۔ ذکی۔

زور دولیس۔ (۱- صفت) جلد جلد کھٹنے والا۔

زور دی۔ (۱- مذ) (۱- مثل) جلدی۔ شتابی۔

زور۔ (۱- مذ) دغا۔ فریب۔ لکر۔

زور۔ (۱- مذ) (۱) طاقت۔ قوت۔ توانائی۔ بل۔ شکستی (۲) اختیار۔ پس۔ قابو۔ (۳) زبردستی۔ علم (۴) کوشش۔ جدوجہد (۵) محنت۔ مشقت (۶) ہسار۔ مدد (۷) وزن۔ بوجھ (۸) اونکھا آدمی (۹) ہسار اور شطرنج کے ایک ہرے کو دوسرے سے ہوتا ہے (۱۰) صفت قیامت کا۔ غضب کا (۱۱) اڑکھا۔ زوالا۔

زور آزما۔ (۱- صفت) طاقت آزمائنے والا۔ پہلوان۔

زور آزمائنا۔ (۱- محاورہ) (۱) طاقت کا امتحان کرنا (۲) قوت دکھانا۔

زور آزمائی۔ (۱- صفت) طاقت آزمائنا۔ قوت دکھانا۔ کیش۔ بل دکھانا۔

زور آنا۔ (۱- محاورہ) طاقت آنا۔ قوی ہونا۔ توانا ہونا۔

زور آور۔ (۱- صفت) (۱) طاقت ور۔ قوی (۲) زبردست۔

زور آوری۔ (۱- صفت) (۱) طاقت۔ توانائی (۲) زبردستی۔

زور بادشاہ داؤں وزیر۔ (مثل) طاقت بادشاہ جیسی داؤں وزیر جیسی۔

زور بازو۔ (۱- مذ) ذاتی قوت۔ ہمت۔

زور بانڈھنا۔ (۱- محاورہ) قوت پکڑنا۔

زور بڑھنا۔ (۱- محاورہ) طاقت زیادہ ہونا۔ قوت بڑھنا۔

زور بل۔ (۱- مذ) قوت۔ طاقت۔

زور پر۔ (۱) ترقی پر۔ کمال پر (۲) حوصلے پر۔

زور پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بوجھ پڑنا۔ دباؤ پڑنا (۲) مجبور کیا جانا (۳) طاقت صرف ہونا۔

زور پکڑنا۔ (۱- محاورہ) قوت حاصل کرنا۔ بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔

زور سید کرنا۔ (۱- محاورہ) طاقت بڑھانا۔ طاقت حاصل کرنا۔

زور توڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) قوت کم کرنا یا زائل کرنا (۲) دباؤ کم کرنا (۳) ٹھنڈا کرنا۔

زور جتنا۔ (۱- محاورہ) (۱) رعب ڈالنا۔ حکومت دکھانا۔ دباؤ ڈالنا (۲) طاقت ظاہر کرنا۔

زور چیلنا۔ (۱- محاورہ) رعب سے یا زبردستی کوئی کام لینا۔

زور چیلنا۔ (۱- محاورہ) پس چیلنا۔ قابو چیلنا۔

زور دار۔ (۱- صفت) (۱) پرجوش (۲) قوی۔ طاقت ور (۳) وہ تنگ جس کے اڑنے میں ڈور خوب تنی رہے اور جھول نہ پڑے۔

زور دکھانا۔ (۱- محاورہ) غلبہ دکھانا۔ رعب ڈالنا۔ حکومت بتانا۔



زیادہ گوئی کرنا۔ (۱- محاورہ) مبالغہ کرنا۔ بات بڑھا کر کہنا۔ فتنولی بکنا۔ بڑھانگنا۔  
 زیادہ مٹھائی میں کیڑے پڑتے ہیں۔ [مٹھ] زیادہ دوستی یا بے تکلفی میں رچ جاتا ہے۔  
 زیادہ ہونا۔ (۱- محاورہ) باقی بچنا۔ فاضل ہونا (۲) اٹھا یا جانا۔ ختم ہونا۔  
 زیادہ ہے۔ (۱- محاورہ) بڑھتا ہے۔ بہت ہے (۲) نہیں ہے۔  
 زیارت۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) کسی بزرگ یا آدمی کا دیکھنا۔  
 حج۔ مقدس مقام کا نظارہ (۲) کسی بزرگ کا مقبرہ۔ آستانہ۔ پرستش گاہ۔  
 درگاہ (۳) سلام۔  
 زیارت بزرگ کا کھارہ گناہ [نیش] بزرگوں کی زیارت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔  
 زیارت گاہ۔ (۱- محاورہ) مقدس مقام۔ درگاہ۔  
 زیارت گاہ خاص وعام ہونا۔ (۱- محاورہ) ایسی جگہ یا شخص جس کی ہر کوئی جا کر زیارت کرے (۲) مقبول عام۔  
 زیارت نامہ۔ (۱- محاورہ) زیارت کے لیے جانے کا پاسپورٹ (۲) سلام جو زیارت کے دوران میں پڑھا جائے۔  
 زیارت نصیب ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی بزرگ یا مقدس مقام کو دیکھنا۔  
 زیارتی۔ (زی۔ یا۔ رتی) (۱- محاورہ) زیارت کرنے والا۔ ناثر۔  
 زیاں۔ (زی۔ یاں) (۱- محاورہ) نقصان۔ خسارہ۔  
 زیاں (دیدہ) رسیدہ۔ (۱- محاورہ) وہ جس کو نقصان یا ضرر پہنچا ہو۔  
 زیاں کار۔ (۱- محاورہ) نقصان دینے والا۔ مضر۔  
 زیاں کاری۔ (۱- محاورہ) نقصان پہنچانا۔  
 زیب۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) آرائش۔ زینت۔ سنگار۔ خوبصورتی۔ رونق (۲) بہت سجانے والا۔ مناسب مرکبات کے آخر میں جیسے تن زیب۔  
 زیب آغوش ہونا۔ (۱- محاورہ) مستحق کی بغل میں ہونا۔  
 زیب بدن (رقن) جسم کرنا کسی چیز کو جسم پر آراستہ کرنا۔ پہننا۔ جسم پر لگانا۔  
 زیب دینا۔ (۱- محاورہ) بھلا لگانا۔ شو بھادینا۔ کھلنا۔ سوزوں جوتا۔ خوشنا ہونا۔ سجا  
 زیب گوش کرنا۔ (۱- محاورہ) بات سنانا۔  
 زیب وزین۔ زیب و زینت۔ (۱- محاورہ) آرائش۔ سجھاؤ۔  
 زیبا۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) زیب دینے والا۔ خوشنا۔ خوبصورت۔ سوزوں  
 زیبا طلعت۔ (۱- محاورہ) خوبصورت شکل کا حسین۔  
 زیبائش۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) آرائش۔ زینت۔ شو بھادینا۔  
 زیبائی۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) خوبی۔ خوش نمائی۔  
 زیر۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) آرائش۔ زینت۔ سجھاؤ۔  
 زیر۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) آرائش۔ زینت۔ سجھاؤ۔  
 زیر۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) آرائش۔ زینت۔ سجھاؤ۔  
 زیر۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) آرائش۔ زینت۔ سجھاؤ۔  
 زیر۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) آرائش۔ زینت۔ سجھاؤ۔  
 زیر۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) آرائش۔ زینت۔ سجھاؤ۔

خوف طاری ہونا۔  
 زہرہ پھٹنا۔ (۱- محاورہ) خوف یا دہشت ہونا۔ دل دھڑکنا (۲) حیرت میں رہنا (۳) حذر کرنا۔  
 زہرہ۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) ایک ستارہ کا نام۔ ناسید۔ شکر۔ لونڈنک (۲) ایک خدمت میں پر ہاروت ماوت دو فرشتے عاشق ہو کر مبتلائے مذاب الہی ہوئے  
 زہرہ تھیں۔ (۱- محاورہ) زہرہ کی طرح روشن پیشانی۔ خوبصورت حسین۔  
 زہرہ لقا۔ (۱- محاورہ) زہرہ کی طرح حسین خوبصورت۔  
 زہرہ پلا۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) زہرہ سے بھرا ہوا (۲) فقہاء انگیز۔  
 زہرہ پلکی۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) زہرہ پلا کا موٹھ۔  
 زہرہ۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) زہرہ پلا کا موٹھ۔  
 زہرہ قسمت۔ (۱- محاورہ) اچھی قسمت سے خوش بختی سے۔ کسی بڑے آدمی کے آنے پر کہتے ہیں۔  
 زہرہ مراتب خواب کے کہ بہ زہرہ آریست۔ (۱- محاورہ) اس خواب کا کیا کہنا جو بیداری سے بہتر ہو۔  
 زہرہ نصیب۔ (۱- محاورہ) خوش قسمت۔ خوش اقبال۔ خوش قسمتی۔  
 زہرہ۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) زہرہ سے ڈبلا۔ معنی (۲) ٹھیک۔ اداس۔ پریشان۔

## زی

زی۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) حیثیت عزتی (۲) لباس۔  
 زیاد۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) زیادہ کا مختلف۔  
 زیادت۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) اصطلاح تو میں ایک یا زیادہ حرفوں کا زیادہ کرنا جیسے بھیر پھال سے بھیر یا پھال (۲) زیادتی۔ اضافہ۔  
 زیادتی۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) کثرت۔ (۲) افراط (۳) نظم۔ جبر۔ زبردستی۔  
 زیادتی کرنا۔ (۱- محاورہ) جبر کرنا۔ سختی کرنا۔ زبردستی کرنا۔  
 زیادہ۔ (زی۔ یا۔ زت) (۱- محاورہ) افزوں۔ فاضل۔ بہت۔ سوا۔ ناتوا۔  
 زیادہ تر۔ (۱- محاورہ) بیش تر۔ سوا بہت زیادہ۔  
 زیادہ جی کر گیا عاقبت کے بلدیئے سمجھو گے۔ (۱- محاورہ) باوجود ٹوڑھا ہونے کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی خواہش پر طنز۔  
 زیادہ حد ادب۔ (۱- محاورہ) خط یا عرضی کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ زیادہ عبادت بڑھانے میں ادب مانع ہے۔  
 زیادہ رسانی۔ (۱- محاورہ) (۱) سرکاری اجازت یا معمول سے زیادہ لینا (۲) زیادہ ملتی۔  
 زیادہ کسر۔ (۱- محاورہ) اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا (۲) مغزور متکبر (۳) وہ جو ایسا کام شروع کرے جسے ختم نہ کر سکے۔  
 زیادہ سے زیادہ۔ (۱- محاورہ) متعلق فضل) قدر درجہ کا بہت سے بہت۔  
 زیادہ کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بڑھانا (۲) دسترخوان اٹھانا۔  
 زیادہ گو بہت باتیں کرنے والا۔ بات کو بڑھانے والا۔  
 زیادہ گوئی۔ (۱- محاورہ) فتنولی بکنا (۲) مبالغہ۔

زیرب - (اُر۔ ۱۔ مٹ) یا دہ گوتی۔

زیربک - (زبی۔ بک) (اُر۔ مٹ) (۱) بے حیثیت (۲) کوتاہ قد۔

زیربج - (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) مبارک دھاگا (۲) جنتری۔ تقویم۔

زیربذ - (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) ایک فرضی نام (۲) ایک مشہور صحافی کا نام۔

زیربیدی - (زے۔ دی) (ن۔ مٹ) حضرت زید سے منسوب۔ حضرت زید کی نسل سے۔

زیرب - (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) نیچے۔ تھے۔ تخت (۲) (صفت) کمزور۔ کم طاقت (۳) کتر۔ گھٹیا (۴) (صفت) کتر۔ بڑے۔ ایک نشان جو حروف کے نیچے دیا جاتا ہے (۵) مذموم آواز۔ نیچا سُر (۶) ساری کا چھوٹا تار۔

زیرب (افکن) (افکن۔ رن۔ ۱۔ مٹ) (۱) چھوٹا ٹالین۔ خالیچہ (۲) بستر (۳) ایک سُر جیسے کا چک بھی کہتے ہیں۔

زیرب اندازہ - (ن۔ ۱۔ مٹ) وہ کپڑا یا پمڑا جو ٹھکے کے نیچے فرش کی حفاظت کے لیے پھانتے ہیں۔

زیرب بار - (ن۔ صفت) (۱) بوجھ کے نیچے۔ بوجھ سے دبا ہوا (۲) احسان سے دبا ہوا (۳) مقروض۔ مدیون۔

زیرب باری - (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) قرضے میں ہتلا ہونا (۲) اخراجات کی وجہ سے پریشانی۔

زیرب بریاں - (ن۔ ۱۔ مٹ) ایک قسم کا کھانا۔

زیرب بند - (ن۔ ۱۔ مٹ) وہ قسم جو گھوڑے کی زین سے گزار کر پیٹ کے نیچے باندھا جاتا ہے۔ گھوڑے کا تنگ۔

زیرب پائی - (۱۔ مٹ) ایک قسم کی زنانی جوتی۔ سیلپر۔

زیرب تریج - (۱۔ مٹ) چھوٹی بگڑی جو بڑی بگڑی کے نیچے باندھے ہیں۔

زیرب تویز - (ن۔ ۱۔ مٹ) اسی سہاے پر خورد ہونا۔

زیرب تنگ - (ن۔ ۱۔ مٹ) دیکھیے زیربند۔

زیرب جامہ - (ن۔ ۱۔ مٹ) وہ کپڑا جو گھوڑے کی پیٹھ پر زین کے نیچے ڈالتے ہیں۔

زیرب حراست - (ن۔ ۱۔ مٹ) گرفتار۔ جو حالات میں ہو۔

زیرب حکومت - (ن۔ صفت) مانت۔ رعیت۔ زور فرمان۔ زیر امر۔

زیرب خاک - (ن۔ صفت) قبریں۔ زمین میں دفن۔

زیرب دستخطی - (ن۔ صفت) جس کے دستخط نیچے ہوں۔

زیرب دست - (ن۔ صفت) (۱) کمزور۔ عاجز (۲) مظلوم (۳) مانت۔

زیرب ران - (ن۔ صفت) قابو میں۔ جانور یا عورت۔

زیرب زمینیں - (ن۔ صفت) زمین کے نیچے۔ قبریں۔

زیرب سایہ - (ن۔ صفت) (۱) قریب۔ نزدیک (۲) حمایت میں۔ پناہ میں۔ جھانٹے میں۔

زیرب سوارسی - (ن۔ صفت) وہ جانور جس سے سواری لی جائے۔

زیرب کرنا - (۱۔ محاورہ) (۱) مغلوب کرنا۔ فتح کرنا (۲) پچھاڑنا۔

زیرب لکب - (ن۔ صفت) آہستہ۔ پریشدہ کہنا۔

زیرب مشق - (ن۔ صفت) (۱) لائق پر جڑھا ہوا۔ رواں۔ وہ چیز جس کی مشق کی جائے (۳) وہ چیز جو کھنے کی مشق کرتے وقت نیچے

رکھ لیا جاتا ہے۔

زیرب نظر - (ن۔ صفت) (۱) نگاہ میں (۲) حراست میں۔ زیر خورد۔

زیرب نیکیں - (ن۔ صفت) مانت۔ حکومت میں۔ تعزف میں۔

زیرب ولیم - (ن۔ صفت) (۱) نیچا اور اُدھی سُر (۲) جیلے یا نقارے کا دایاں

ہایاں گرج (۳) دو چھوٹے نقاروں کی جوڑی جس میں ایک سے مذموم اور دوسرے سے بلند آواز نکلتی ہے۔

زیرب وزیر - (ن۔ صفت) (۱) تہ وبالہ۔ درہم برہم۔ اُلٹ پلٹ۔ تباہ (۲) کتر۔ اور فتح۔

زیرب زک - (زبی۔ زک) (ن۔ صفت) (۱) دانا۔ عقلمند۔ دانش مند۔

زیرب زکی - (زبی۔ زکی) (ن۔ ۱۔ مٹ) عقلمندی۔ دانائی۔

زیرب زہ - (زبی۔ زہ) (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) ایک خوشبودار باریک بیج کا نام جو کھانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ (۲) بیجوں کی زردی۔ زرخل۔

زیربہ سفید - (ن۔ ۱۔ مٹ) سفید رنگ کا زیرہ۔

زیربہ سیاہ - (ن۔ ۱۔ مٹ) کالے رنگ کا زیرہ۔

زیربہ زیرہ کرنا - (۱۔ محاورہ) کوٹ کر باریک کرنا۔

زیربیں - (زے۔ بریں) (ن۔ صفت) (۱) تاج فعل اپنے کا۔ تلے کا۔ پائیں۔

زیربیں - (Zeus) (زی۔ اس) (زی۔ ۱۔ مٹ) یونانیوں کا سب سے بڑا دیوتا کوہ اولیس کے دیوتاؤں کا سردار۔

زیربیت - (ن۔ ۱۔ مٹ) زندگی۔ حیات۔ بزم۔

زیربیت بھاری ہونا - (۱۔ محاورہ) زندگی تلخ ہونا۔ زندگی دُوبھر ہونا۔

زیربیت ترام ہونا - (۱۔ محاورہ) زندگی ناگوار ہونا۔

زیربیت سے بیزار (تخفا) - (۱۔ صفت) وہ جس کو زندگی دُوبھر ہو۔ وہ جو زندہ نہ رہنا چاہے۔

زیربیت کے دن بھرنا - (۱۔ محاورہ) زندگی کے بقیہ دن گزارنا۔ موت کے قریب ہونا۔

زیربغ - (ن۔ ۱۔ مٹ) کچی۔ پیڑھ (۲) پھر جانا۔

زیربیل - (ن۔ ۱۔ مٹ) بیج کی آواز۔ بچوں کی آواز۔ باریک آواز۔

زیربن - (ن۔ ۱۔ مٹ) زیب و زینت۔ خوبصورتی۔ سجاوٹ۔

زیربن خال - (۱۔ مٹ) عورتوں کا ایک فرضی جتن۔

زیربن - (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) چار جامہ۔ کاغذی (۲) پالان (۳) ایک مضبوط اور موٹا کپڑا۔

زیربن پوش - (ن۔ ۱۔ صفت) کپڑا جو زین کے اوپر ڈالتے ہیں۔

زیربن دھرتا - (زین کستا۔ زین کھینچنا) - (۱۔ محاورہ) گھوڑے کی پیٹھ پر زین باندھنا۔

زیربن ساز - (ن۔ صفت) زین بنانے والا۔

زیربن سازی - (ن۔ ۱۔ مٹ) زین بنانے کا کام یا پیشہ۔

زیربن سوارسی - (ن۔ ۱۔ مٹ) گھوڑے پر سوار ہونا۔

زیربنیت - (زبی۔ نت) (ن۔ ۱۔ مٹ) زیناٹش۔ خوبصورتی۔ سجاوٹ۔

زیربنیت (نیشا) دینا - (۱۔ محاورہ) سماتا۔ مزین کرنا۔

زیربنیت پہلو - (ن۔ صفت) (۱) یومی۔ مستحق (۲) ہم نشین (۳) بھائی۔

زیورہ (زے۔ وک) ذن ۱۔ ذن (۱) زیب وک کا مخفف۔ زیب دینے والا۔  
 (۲) گہنا پاتا (۳) زیب و زینت۔ جمع زیورات۔  
 زیور بڑھانا۔ (۱) محاورہ، زیور اُتار ڈالنا۔  
 زیور توڑنا۔ (۱) محاورہ، خاندان کی وفات پر زیور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔  
 زیور سے گوندنی کی طرح لدا رہنا۔ (۱) محاورہ، بہت سا زیور  
 پہنے رہنا۔

زینت ہونا۔ (۱) محاورہ، سجا۔ سجاوٹ کا موجب ہونا۔  
 زین ڈیٹ۔ (۲) زین۔ ڈیٹ (ڈاڑ۔ ا۔ مٹ) یاد گوئی۔  
 زینتہ۔ (۲) ذن ۱۔ ذن (۱) زیب و زینت۔  
 زینہار۔ (۲) زین۔ ہار (۲) ہرگز۔ کبھی۔  
 زینہارا از قرین بد زینہار (۲) پناہ بڑے ساتھی سے۔ پناہ  
 بڑی محبت سے۔ خدا بچائے۔



## ژ

ژ۔ (ژے) (ن۔ا۔مٹ) (اُردو کاسترھواں۔ فارسی کا چودھواں حوف۔ حساب اجمد میں اس کے سات عدد فرض کیے گئے ہیں۔

## ژا

(مٹ) پارسیوں کے پیشوا زرتشت کی مقدس کتاب۔ قدیم ایرانی زبان کا نام۔  
ژندگی۔ (ژن۔ڈ۔گی) (ن۔ا۔مٹ) پرانا ہن۔ لنگلی شکلی۔ تمامت۔  
ژندہ۔ (ژن۔ڈہ) (ن۔ا۔مٹ) (ا) گڈڑی۔ پُراانا فرقہ۔ بیوند لگا ہوا جامہ (۲) بست۔

ژاٹر۔ (ن۔ا۔مٹ) ایک کانٹوں دار جھاڑی کا نام ہے اُونٹ رخت سے کھاتا ہے۔ اُونٹ کٹا (۲) پیوودہ بات۔ بے فائدہ بات۔  
ژاٹھا (گو)۔ (ن۔مٹ) پیوودہ گو۔ بکواسی۔  
ژاٹھائی۔ (ن۔ا۔مٹ) پیوودہ گئی۔ بکواس۔  
ژالہ۔ (ژا۔ژ) (ن۔ا۔مٹ) اولاً (۲) پالا۔ کبڑ۔  
ژالہ باری۔ (ن۔ا۔مٹ) اولوں کی بارش۔ اولے پڑنا۔  
ژالہ زدگی۔ (ن۔مٹ) اولوں کی بارش (۲) اولوں سے پہنچا ہوا نقصان۔

## ژو

ژولیدگی۔ (ژو۔لی۔ڈ۔گی) (ن۔ا۔مٹ) (۱) اُجھاؤ (۲) پریشانی۔  
ژولیدہ۔ (ژو۔لی۔ڈہ) (ن۔مٹ) اُجھا ہوا۔ درہم و درہم پریشان۔  
ژولیدہ بیان۔ (ن۔ع۔مٹ) جس کی تحریر و تقریر میں اُجھاؤ ہو۔  
ژولیدہ خیال۔ (ن۔ع۔مٹ) پریشان حال بستہ حال۔  
ژولیدہ مو۔ (ن۔مٹ) (۱) بھڑے ہوئے بال۔ اُلجھے ہوئے بال (۲) بھڑے یا اُلجھے ہوئے بالوں والا۔

## ژر

ژرف۔ (ن۔مٹ) گہرا۔ میتق۔  
ژرف نگاہ۔ (ن۔مٹ) گہری نظر والا۔ جو کسی مساعے کی تہنیک پہنچ جائے۔

## ژی

ژیایاں۔ (ژ۔یاں) (ن۔مٹ) غضب ناک۔ خشم ناک۔ خونخاک۔

## ژن

ژند۔ (ن۔ا۔مٹ) (۱) گڈڑی۔ (۲) پھٹا ہوا کپڑا (۲) بزرگ۔ قلندر (۳)

# س

س۔ (سین) (ع۔ ۱۔ مذ) اردو کا اٹھا رھواں۔ فارسی کا پندرھواں، عربی کا گیارھواں اور ہندی کا تیسواں حرف۔ حساب الجب میں اس کے ساتھ عدد مقرر ہیں۔ یہ شمس حرف ہے اگر اس سے پہلے "ال" آنے کا تو لام" آواز نہیں دے گا البتہ س کو مشدود کر دے گا جیسے السید۔ ہندی الفاظ کے شروع میں اگر نحو بصورت اور نیک کے معنی دیتا ہے جیسے سُدول اور آخر میں اگر ان الفاظ کو اسم کیفیت بنا دیتا ہے جیسے کھاس۔ کھاس۔

## س۔ ۱

سا۔ (ن) (۱) سال اور آسا کا مخفف مثل مانند جیسا مطابق۔ مشابہ (۲) رگڑنے والا، کھینچنے والا چکانے والا۔ جیسے ہمیں سا (۳) [اُر] مقدار ظاہر کرنے والا (۴) گویا (۵) حسن کے کلام کے لیے۔

سا۔ (۶) [ا] بہت۔ جید۔ صفات اور صفت کے ساتھ بل کر اسما صفت بناتا ہے جیسے کالا سا۔ بہت سا (۷) ہندی موسیقی کا پہلا نثر۔

سا باطر۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) پھت دار راستہ جو درمکانوں کو ملائے پھتی ہوئی گلی چھتا۔

ساج۔ (ع۔ ۱۔ مذ) تیز رفتار گھوڑا۔

سابدھان۔ (س۔ ۱۔ ص) (صفت) چوکس۔ مستعد۔ ہوشیار۔ دُور اندیش۔

سابر۔ (س۔ ۱۔ بر) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) بارہ سنگا (۲) نقب زنی کا آلہ۔

سابر چڑا۔ (کیمیائی اصطلاح) بارہ سنگے یا برن کی کھال کا چڑا جو سینڈ یا زرد رنگ کا ہوتا ہے۔

سابری۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) گھجروں کی سب سے اچھی قسم (۲) نہایت اعلیٰ قسم کا کپڑا۔

سابع۔ (س۔ ۱۔ ب) (ع۔ ۱۔ ص) (صفت) ساتواں۔ ہفتم۔ جمع : سابعون۔ سابعۃ۔

سابق۔ (س۔ ۱۔ بن) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) اگلا۔ پہلا۔ اول۔ اگلے وقت کا (۲) سبق۔ لے جانے والا۔ بڑھا ہوا۔ جمع : سابعون۔ سابقین۔

سابق الزکر۔ (ع۔ ۱۔ ص) (صفت) جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہو۔ مذکورہ بالا۔

سابق دستور۔ (ع۔ ۱۔ ص) (صفت) پہلے کی طرح۔ پرانے دستور یا قاعدے کے مطابق جیسے سابق میں۔ (۱) گزشتہ زمانے میں۔

سابقا۔ (س۔ ۱۔ ب۔ قن) (ع۔ ۱) پہلے گزشتہ زمانے میں (۲) پہلی دفعہ۔ قبل ازیں۔

سابقون الاولون۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔

سابقہ۔ (س۔ ۱۔ ب۔ قن) (ع۔ ۱۔ ص) (۱) اگلا۔ اگلے زمانے کا (۲) [اُر۔ ۱۔ مذ] قدیم جان پہچان۔ دوست نہ (۳) واسطہ۔ معاملہ۔

سابقہ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کام پڑنا۔ واسطہ پڑنا (۲) لین دین ہونا (۳) واقفیت ہونا۔ جان پہچان ہونا۔

سابقہ دانسا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قریبی تعلق پیدا کرنا (۲) واقفیت یا جان پہچان کرنا کام پڑنا سابقین۔ (س۔ ۱۔ ب۔ قن) (ع۔ ۱۔ مذ) سابق کی جمع۔ گزشتہ زمانے کے لوگ۔

سابل۔ (ع۔ ۱۔ ہ) (ذ) نقب زنی کا آلہ۔

سابق۔ (س۔ ۱۔ بن) (۱۔ ۱۔ مذ) صاحبین یا صاحبون۔

سابوتاژ (تاج)۔ (Sabotage) (س۔ ۱۔ ب۔ ج۔ تاج) (۱) ایک۔

ساز۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شہادت الگزی۔ کسی کارخانے کے کارکنوں کا مشینوں کو توڑ پھوڑ دینا یا کوئی پُرزہ بے کار کر دینا۔

سابلوڈائز۔ (س۔ ۱۔ ب۔ ج۔ تاج) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) مذ) ساگودانہ۔

سابلوگول۔ (ع۔ ۱۔ ہ) (ذ) اسفول۔

سات۔ (ع۔ ۱۔ ص) (صفت) جمع ایک کا عدد۔ ہفت۔ ۷۔

سات بھائی۔ ایک قسم کی چھوٹی چڑیاں جو سات سات کی ٹوئیاں بنا کر رہتی ہوتی ہیں۔

سات پارپے کا خلعت۔ (۱۔ ۱۔ مذ) ایک خلعت جو بادشاہوں کی طرف سے راجوں کو دیا جاتا تھا۔

سات پانچ۔ (۱) چند آدمی (۲) پالاک۔ میاوی۔ کرد و فریب۔

سات پانچ کرنا۔ (۱) عیاری سے کام لینا۔ (۲) فریب کرنا (۳) جیل و جت کرنا (۴) گزار کرنا۔ ہنگڑا کرنا (۵) بہانے کرنا۔

سات پانچ کی لالچی ایک بجنے کا بوجھ۔ (۱) مثل) بہت سے آدمی بل بل کر کریں تو کام ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے آدمیوں کی ٹھوڑی ٹھوڑی مدد سے ایک کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔

سات پانچ لانا۔ (۱) محاورہ) ہنگڑا نکالنا۔ اُچھٹا کرنا۔

سات پانچ مل کیمچے کاج۔ (۱) مارے جھیتے نہ آوے کے لاج۔ (۱) مثل) صلاح مشورے سے کام کیا جائے تو ناکامی کے بعد بھی شرمندگی اٹھانا نہیں پڑتی۔

سات پانچ نہ جانتا۔ (۱) محاورہ) سیدھا سادا ہونا۔ عیاریوں کا عادی نہ ہونا۔

سات (پیردوں) قفلوں میں رکھنا۔ (۱) محاورہ) بہت زیادہ چھپانا۔ بڑی احتیاط سے رکھنا۔ زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا۔ ہرانا نہ لگنے دینا۔

سات پر دے لگنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بہت زیادہ پردا کرنے لگنا (اس صورت پر طنز جو بیک ایک صاحب ثروت ہو جائے پر بہت پردہ کرنے لگے۔

سات پشت۔ (۱) مٹ) سات پر مٹی۔ تمام نسل۔

سات پھیرے۔ (۱) (۱) مذ) وہ سات پتھر جو ہندوؤں میں شادی کے وقت دلھا دوہن سے آگ کے گرد لگوائے جاتے ہیں۔ اس سے عقد بندھنا مراد ہوتا ہے۔

سات پٹھی۔ (۱) مٹ) سات پشت۔

سات توڑوں کی سیاہی) سے منتر کا لا کرنا۔ (۱) محاورہ) ہاریت ذلیل سمجھنا۔ خاطر میں نہ لانا (نفرت ظاہر کرنے کے لیے برلے میں) بہت ذلیل ہونا۔

سات دریا درمیان۔ (۱) لکڑ پناہ) خدا نہ کرے۔ نوچ !

سات دھار ہو کر نہ نکھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) خوراک کا ہضم ہوئے بغیر دستوں اور

نے کے ذریعے نکل جانا (۷) کی یا بیباک ٹیوٹ ٹیوٹ کرنا۔  
سات روپیہ اور بیہ نمود۔ (۱) شل) چھوٹی حیثیت کے آدمی کا اپنی بڑائی  
کی ڈینگیں مارنا۔

سات سمندر۔ (۱-۵) مذ دنیا کے سارے سمندر۔  
سات سمندر پار۔ (۱) صف) بہت دُور۔ دُور دُور آفاصلے پر۔  
سات سنگار۔ (۱) مذ) ہندی لگانا (۲) سرس رنگا (۳) پان پان جانا (۴)  
ہونٹوں پرستی کی دھڑی جانا (۵) بال سنوارنا (۶) افشال چھٹنا یا چوڑیاں پہننا  
(۷) بڑو رہنا (سول سنگار مشہور ہیں)۔

سات سو چوہے کھا کے پٹی جگ کو چلی۔ (۱) شل) بہت سے بڑے کام  
کر کے نیک کام کا ارادہ کرنا۔  
سات سپہاگونوں کا ٹانہ لگانا۔ سات سپہاگونوں کو کھلانا۔ ایسی سات  
عورتوں سے جن کے خاندان زندہ ہوں۔ نیک شگون کے لیے شادی کا جوڑا  
قطع کرنا یا سنت کا کھانا کھلانا۔

سات ہسیلیوں کا جھکا۔ (۱) مذ) پروین۔ جھرتیا۔  
سات قرآن درمیان۔ (۱) ایک قسم کی قسم۔ خدا نہ کرے۔  
سات قلم۔ (۱) مذ) سات مشہور خط۔ نستعلیق۔ نسخ۔ علق۔ رحمان۔  
ثلث۔ شکستہ۔ اور طغراء۔

سات ماموٹوں کا بھانجا۔ سارے کچھے کا ڈلا بچہ۔  
سات ماموٹوں کا بھانجا جھوک جھوک پکارے۔ (شل) اس شخص  
کے بارے میں کہتے ہیں جو بہت سے رشتہ دار ہونے پر بھی محتاج اور بیس رجب  
(۲) جو بادجو مدینوں کی مدد کے ناشکر گزار ہو۔

ساتا رُوہیں۔ (سا۔ تا۔ رُو۔ جین)۔ (۱) مذ) سات بیٹے جو اکٹھے رہیں (۲) کتا  
جو چھ بیٹوں کے ساتھ رہے (۳) چند آدمیوں کا گروہ (۴) بڑا گنبد (۵) چند  
شریر آدمی جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔

ساتر۔ (سا۔ تر)۔ (۱) صف) چھپانے والا۔ پردہ ڈالنے والا۔ جمع، ساترین  
ساترا۔ (سات۔ را۔ ق)۔ (۱) صفت) لفظ۔ مدت۔ ساعت۔  
ساتنگین۔ (سات۔ گین)۔ (۱) مذ) شرب کا بڑا پیالہ۔

ساتول۔ (سا۔ تول)۔ (۱) صف) پرورے سات۔  
ساتوال۔ (ساتول۔ سات)۔ (۱) صفت) سات (۲) صفت) سات  
سے نسبت رکھنے والا۔

ساتویں آسمان پر مزاج ہونا۔ (۱) محاورہ) بہت غرور کرنا۔ بڑا گھڑ کرنا۔  
ساتھ۔ (۱-۵) مذ) (۱) ہمراہ۔ شریک۔ سا جھ میں (۲) ہمراہی۔ رفاقت۔ شرکت  
ساتھا (۳) میل ملاپ ربط منط (۴) ایک جگہ۔ ایک ہی وقت۔

ساتھ چھوٹنا۔ (۱) محاورہ) (۱) پھوٹنا۔ جدا ہونا (۲) لاپ نہ رہنا۔ نا اتفاقی ہونا  
ساتھ چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) رفاقت سے منہ موڑ لینا۔ تعلق ختم کرنا۔  
ساتھ دینا۔ (۱) محاورہ) رفاقت کرنا۔ نباہنا۔ حمایت کرنا۔ مدد دینا۔ دکھ لگھ  
میں شریک رہنا۔

ساتھ رہنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ہمراہ رہنا (۲) ایک گھر میں یا ایک جگہ رہنا۔  
(۳) عورت کا مرد سے آشنا نہ رکھنا۔  
ساتھ سو پیٹ کا دکھ ہونا۔ (۱) شل) عورت اور مرد اکٹھے سوئیں تو عورت حاملہ

ہوئی جاتی ہے اور حمل کی تکلیف اٹھائی ہی پڑتی ہے۔  
ساتھ سو کر مڑ چھٹانا۔ ساتھ سونا اور مڑ چھٹانا۔ (۱) شل) بے تعلقی  
ہوتے ہوئے تعلق کرنا (۲) بات مانتے ہوئے بھی انکار کرنا۔ انکار کرتے کرتے اقرار کرتے جانا۔

ساتھ سونا۔ (۱) کسی کے ساتھ ایک چار پائی پر سونا (۲) ہم بستر ہونا۔  
ساتھ سوئی بات کھوٹی۔ (۱) محاورہ) جب عورت مرد کے ساتھ سو جائے  
اور جمان کر لے تو اس کو عزت کم ہو جاتی ہے۔  
ساتھ کا کھیلنا۔ ساتھ کی کھیلی۔ (۱) پہلا۔ مذ۔ دوسرا۔ امٹ۔ بچپن کا دست  
لنگو تیار۔ بال بن کی کھیلی۔

ساتھ کے لیے بھات چھوڑا جاتا ہے۔ (شل) اچھے رفیق کے لیے  
نقصان بھی برداشت کیا جاتا ہے۔

ساتھ گھٹنا۔ (۱) محاورہ) زبردستی شریک کرنا۔ جبراً ساتھ لینا۔  
ساتھ لگا پھرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بچھے بچھے پھرنا۔ پیچھا نہ چھوڑنا۔  
ساتھ لینا۔ (۱) محاورہ) ہمراہ لینا۔ تنگ لینا۔

ساتھ نبھنا۔ (۱) محاورہ) نباہ ہونا۔  
ساتھ والا۔ (۱) صفت) ساتھی۔ ہم راہی۔ رفیق۔  
ساتھن۔ (سا۔ تھن)۔ (۱) صفت) ساتھ والی۔ ساتھ کی عورت۔

ساتھی۔ (سا۔ تھی)۔ (۱) صفت) (۱) رفیق۔ ہمراہی (۲) مددگار۔ ساتھی۔  
ساتھا۔ (سا۔ ٹا)۔ (۱) صفت) (۱) عرض صادقہ (۲) ہنٹری کا باہمی لین دین۔  
ساتے کی سگائی اور بیباک جو روپے کا احسان کیا۔ (۱) شل) متا بلے یا

برابری کی شادی کرانے اور سوڈ پر روپیہ قرض دینے کا کوئی آسان نہیں ہوتا۔  
ساتن۔ (Satin) (سا۔ تن)۔ (۱) صفت) ایک قسم کا دیزیز بھر کھلا  
ریشمی پٹا۔ اٹلس۔

ساتھ۔ (۱) صفت) (۱) انسٹھ جمع ایک۔  
ساتھ ساس۔ نند ہوں سو۔ مال کی جو روزانہ سول ہو۔ (شل) اسٹھ  
سایس اور سونڈ لہر ہوں تو جی ایک مال کی برابر نہیں کر سکتیں۔

ساتھ گاؤں بگڑی چرگئی۔ (شل) اس کو تھتے پر لوتے ہیں جب بہت  
ممولی سی چیز یا شخص کے ہاتھوں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔  
ساتھا۔ (سا۔ ٹھا)۔ (۱) صفت) (۱) ساتھ برس کی عمر کا آدمی۔

ساتھا پانھا۔ (۱) جوان لاٹھی (۲) ایسا آدمی جس کے ساتھ برس کی عمر میں بھی  
قوی اچھے ہوں۔  
ساتھا پانھا۔ بیسی جھیسسی۔ (۱) شل) مرد ساتھ برس کی عمر تک قوی رہتا  
ہے لیکن عورت میں ہی برس کی عمر سے ڈھلنے لگتی ہے۔

ساتھی۔ (سا۔ تھی)۔ (۱) صفت) (۱) ساتھی۔ (۲) ساتھی۔ (۳) ایک قسم کا سرنج چاول  
جس کی فصل ساتھ دن میں تیار ہو جاتی ہے۔

ساج۔ (سا۔ ج)۔ (۱) صفت) (۱) سال کی کڑی (۲) تلواریں وغیرہ صیقل  
کرنے کا پتھر (۳) سجاد (۴)۔  
ساجد۔ (سا۔ جد)۔ (۱) صفت) (۱) سجدہ کرنے والا۔ سر جھکانے والا۔

ساجدہ۔ (سا۔ جد)۔ (۱) صفت) (۱) سجدہ کرنے والی۔ سر جھکانے والی۔  
ساجن (سجین)۔ (سا۔ جن۔ سج۔ جین)۔ (۱) صفت) (۱) خاندان۔ شوہر (۲)  
معتوق۔ دل پر (۳) سردار۔ حاکم۔

بجوت۔ بھولا بھالا (۹) بے ہنرے سلیقہ۔ چھوٹر (۱۰) صاف دل۔ بے ریا (۱۱) خالی  
سادہ پیرکار۔ (ف۔ صفت) جو بظاہر بھولا بھالا مگر فی الواقع چالاک ہو۔  
(کنایتاً) شوخ و مینار مشوق۔  
سادہ پن۔ (ف۔ ہ۔ ا۔ مذ) سادگی۔ بھولا پن۔  
سادہ دل۔ (ف۔ صفت) صاف دل۔ بھولا۔  
سادہ دلی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) بے وقوفی (۲) بھولا پن (۳) صاف دل۔  
سادہ رُخ۔ سادہ رُو۔ سادہ عذار۔ (ف۔ صفت) بے ریش جوان پیشتر  
مشوق کے لیے مستعمل ہے۔  
سادہ طور۔ (ف۔ صفت) سادہ وضع۔ بغیر ٹیپ ٹاپ۔  
سادہ کار۔ (ف۔ ا۔ مذ) نفیس کام بنانے والا (۲) کلام میں  
سے گریز کرنے والا۔  
سادہ کاری۔ (ف۔ ا۔ مٹ) سادہ کار کا پیشہ۔ سناری۔ زرگری۔  
سادہ کاغذ۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) کورا کاغذ (۲) بغیر شامپ کا کاغذ۔  
سادہ لوح۔ (ف۔ ص۔ صفت) (۱) بے وقوف۔ نادان۔ احمق۔ بے شعور (۲)  
بھولا بھالا۔ سیدھا سادہ۔  
سادہ لوحی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) (۱) بے وقوفی۔ نادانی (۲) سادگی۔ بھولا پن۔  
سادہ مزاج۔ (ف۔ صفت) جس کے مزاج میں بناوٹ یا تکلف نہ ہو۔  
سادہ مزاجی۔ (ف۔ ا۔ مٹ) صاف دلی۔ بے تکلفی۔ سادگی۔  
سادہ وضع۔ (ف۔ صفت) سادہ طور۔ وہ جس کی وضع میں تکلف نہ ہو۔  
سادہ ہنڈی (۱)۔ (مٹ) (اصطلاح علم العیشت) سادہ بل۔  
سادھ۔ (ہ۔ صفت) (۱) نیک۔ پارسا۔ پرہیزگار (۲) جوگی۔ فقیر (۳) خواہش۔  
(۴) تکمیل۔ کمال (۵) بجا آوری۔ عمل درآمد۔  
سادھ جانا۔ (۱) محارہ۔ سانس روک لینا۔  
سادھارن۔ (سا۔ دعا۔ کن) (ص۔ صفت) (۱) معمولی۔ رسمی۔ ایسا ویسا (۲)  
جو روزمرہ ہوتا ہو۔ جو سب پر لاگو ہو۔ عمومی۔ عام بات (۳) مشہور معروف  
(۴) برابر کا۔ مقابل۔ نظیر (۵) آسانی سے بلا دقت (۶) آہستہ بہت آہستہ  
ہولے سے۔ نرمی سے (۷) اتفاقہ۔ اتفاق سے  
سادھن۔ (سا۔ دھن) (ص۔ ا۔ مذ) (۱) تدبیر۔ علاج۔ چارہ کار (۲) عمل درآمد  
کارروائی (۳) استعمال۔ درد۔ مشق (۴) عادت۔ معمول (۵) عبادت۔  
ریاضت (۶) اصلاح۔ درستی (۷) نیاہ۔ پورا (۸) ثبوت کر کے دکھانا (۹)  
ذریعہ معاش۔ وسیلہ (۱۰) سامانِ مسالہ۔  
سادھنا۔ (سادھ۔ نا) (ہ۔ موص) (۱) عادت ڈالنا (۲) مانوس کرنا (۳) قولنا  
جاچیتا (۴) برقرار رکھنا۔ روکنا۔ تھامنا (۵) اصلاح کرنا۔ ٹھیک ٹھاک کرنا  
(۶) اختیار کرنا (۷) پورا کرنا (۸) ثابت کرنا (۹) بنانا (۱۰) تیز اندازی کرنا۔  
(۱۱) سکھانا۔ تربیت دینا (۱۲) ارادہ کرنا۔  
سادھنی۔ (سا۔ دھ۔ نی) (ہ۔ ا۔ مٹ) (۱) سادھنے کا وہ آدم جو سماروں اور  
بڑھئیوں کے پاس ہوتا ہے۔ گنیا۔ گونیا (۲) سادھو کی بیوی۔ نیک عورت۔  
سادھو۔ (سا۔ دھو) (ص۔ صفت) (۱) جوگی درویش (۲) پارسا۔ پرہیزگار۔  
وہنڈار (۳) (۱) مذ معصوم۔ نیک۔ بھلا مانس۔  
سادھو پنچ۔ (ہ۔ صفت) (کنایتاً) مکار۔ عیار۔ دغا باز۔ وہ انسان جو

ساجن ہم تو ایک ہیں دیکھت کے ہیں دو (۱) (مٹ) (۲) پیار سے ہم تم  
مُن کو مُن سے قول لے دو من کدی نہ ہو (۱) اصل میں ایک ہیں۔ اگرچہ  
دو دکھائی دیتے ہیں جیسے من کو من سے قول جائے تو وہ دو من بھی نہیں  
ہوتا ایک من ہی ہوتا ہے (۲) من طبعی دل۔ ایک دزن۔  
ساجنا۔ (سا۔ ج۔ نا) (ہ۔ موص) (۱) جنا۔ زیب دینا۔ ٹھیک کرنا (۲) موزوں ہونا۔  
ساجھا۔ (سا۔ جھا) (ہ۔ ا۔ مذ) کسی کام میں حصہ داری یا شراکت۔  
ساجھا بھلا نہ باپ کا اور تاؤ بھلا نہ تاپ کا۔ (مٹ) (شراکت کسی  
کے ساتھ نہیں کرنی چاہئے خواہ وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو اور بھار کی گری  
اچھی نہیں ہوتی۔ ساجھے کی بڑائی ہے۔  
ساجھے کا کام اتار سے جام۔ (۱) محارہ) شراکت کے کام میں چڑھی اتر  
جاتی ہے یعنی سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔  
ساجھے کی ہنڈیا چورا ہے پر چھوٹی ہے۔ (۱) (مٹ) شراکت کے کاڑباز  
میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے۔  
ساجھی۔ (سا۔ جھی) (ہ۔ ا۔ مذ) حصہ دار۔ شریک۔ چتی دار۔  
ساجھی ساجھی مل گئے، جھوٹے پڑے سلیقہ۔ (ہ۔ مٹ) (فرضیتن آپس  
میں ایک ہو گئے بیچ میں پڑنے والوں کو سخت اٹھانی پڑی۔  
ساجھن۔ (سا۔ جھن) (ت۔ ا۔ مٹ) (۱) بات سے ایک روز پیسے کی رقم جس میں دھکا  
کے بیاب سے دھن کے لیے مٹھی (۲) نقل۔ معری۔ میروہ کی ٹھیلیاں۔ سہانگ پڑا  
بھندی۔ تیل پھیلے۔ جوڑا۔ مغل اور پان کے بیڑے لے کر جاتے ہیں۔ رسم  
تھا۔ ہندی۔  
ساجت۔ (سا۔ جت) (ت۔ ا۔ مذ) آنگن۔ احاطہ۔ میدان۔  
ساجز۔ (سا۔ جز) (ت۔ ا۔ مذ) جادوگر۔ جادو کرنے والا۔ انوں گر۔  
ساجزانہ۔ (سا۔ ج۔ نا۔ مذ) (ف۔ صفت) (۱) جادوگر کی مانند (۲) جادو کا اثر  
رکھنے والا (۳) سحر سے مشوب۔  
ساجزہ۔ (سا۔ ج۔ زہ) (ت۔ ا۔ مٹ) (۱) جادوگر کی جادو ٹونا جاننے والی۔  
ساجزی۔ (سا۔ ج۔ زی) (ت۔ ا۔ مٹ) (۱) جادوگری۔ جادو ٹونا۔  
ساجل۔ (سا۔ جمل) (ت۔ ا۔ مذ) سمندر یا دریا کا کنارہ۔ جمع۔ ساحل۔  
ساجت۔ (ت۔ ا۔ مٹ) (۱) بناوٹ۔ گھڑت۔ ترکیب۔ وضع (۲) کوجیل۔ فربہ  
ساجتہ۔ (سا۔ ج۔ ت) (ت۔ ف۔ صفت) (۱) گھڑا ہوا۔ مصنوعی (۲) جھوٹا۔ نقل جیل  
(۳) بنایا ہوا۔ تیار کیا ہوا۔  
ساجتہ پردا ساجتہ۔ (۱) بنایا ہوا سنوارا ہوا۔ آراستہ کیا ہوا (۲) کر توت۔  
سادات۔ (سا۔ ات) (ت۔ ا۔ مذ) وہ قوم جو حضرت علیؑ کی اولاد اور حضرت  
فاطمہؑ کے بطن سے ہے۔ قوم سید۔  
سادس۔ (سا۔ وس) (ت۔ صفت) چھٹا۔  
سادگی۔ (سا۔ دگی) (ت۔ ا۔ مٹ) (۱) صفائی (۲) وہ حالت جو بغیر بناوٹ  
نمائش یا تکلف کے ہو (۳) راست بازی (۴) بھولا پن۔ سیدھا پن۔  
سادنا۔ (ت۔ موص) حاصل کرنا۔ انجام دینا۔  
سادہ۔ (سا۔ دہ) (ف۔ صفت) (۱) گورا بغیر کھامات (۲) خالص (۳) بے ریش (چڑ)  
(۴) بغیر تزکاری کا گوشت کا سانس (۵) جس میں زینا نش اور آرائش نہ ہو۔  
(۶) جس پر گونے کناری کا کام نہ ہو یا نقش و نگار نہ بنے ہوئے ہوں (۷)

سارے شہر میں اونٹ بدنام۔ (مثل) جو شخص بدنام ہو چکا ہو پھر بڑی بات میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔  
سارٹی فلٹ۔ مسرٹی فلٹ۔ (Certificate) (سار۔ ٹی فلٹ)  
(سز۔ ٹی۔ ف۔ کٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) سند (۲) خوشنودی کا پروانہ یا چٹھی (۳) تحریری تصدیق۔

سارجنٹ۔ (Sergeant) (سار۔ جنٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) فوج کا حوالدار۔ (۲) داروغہ۔ پولیس ناظر۔ تھانے دار۔  
سارجنٹ میجر۔ (Sergeant Major) ایک فوجی عہدہ دار۔  
سارس۔ (سا۔ رس) (۱۔ ذ) (۱) ایک سفید رنگ کی لمبی ٹانگوں والا آبی پرندہ جو پانی کے کنارے پر پھیلیاں پکڑ کر کھاتا ہے۔ کنگ۔ (۲) قنق۔ تاز۔  
سارس کی جوڑی ایک اندھا ایک کوڑی۔ (۱۔ مثل) دونوں بے کار۔  
دونوں نکلے۔

سارس کی سی جوڑی۔ (۱۔ مثل) پتے دوست جو ہر وقت اور ہر جگہ ساتھ رہتی ہیں۔  
سارقی۔ (سا۔ رقی) (۱۔ ذ) (۱) چور۔ چرانے والا۔ (۲) جمع۔ سارقین۔  
سارنگ۔ (سا۔ رنگ) (۱۔ ذ) (۱) دھبے کی ایک دانگی (۲) شہد کی بڑی کھٹی (۳) مور (۴) ایک قسم کا سانپ (۵) بادل (۶) مور کی جھنجھار (۷) لقمی (۸) شیر (۹) طرح طرح کے رنگ (۱۰) دھنگ (۱۱) جھونرا۔  
سارنگی۔ (سا۔ رگی) (۱۔ ذ) (۱) فون ٹنڈ (۲۔ ذ) (۱) ایک قسم کا ساز جس میں تار لگے ہوتے ہیں۔

سارنگیا۔ (سا۔ رگی۔ یا۔ گہ) (۱۔ ذ) (۱) صفت (۲) سارنگی بجانے والا۔  
سارنی۔ (سا۔ نی) (۱۔ ذ) (۱) صفت (۲) سارنگی بجانے والا۔  
سارو۔ (سا۔ رو) (۱۔ ذ) (۱) انجام دینے والا۔ کرنے والا۔  
ساری۔ (سا۔ ری) (۱۔ ذ) (۱) صفت (۲) اثر کرنے والا۔ سرایت کرنے والا۔  
ساری۔ (سا۔ ری) (۱۔ ذ) (۱) صفت (۲) سارا کا مونٹ۔ کل۔ تمام۔ سب۔ پوری۔  
ساری خدائی۔ (۱۔ مثل) کل غلوتات۔  
ساری خدائی اک طرف جو رو کا بھائی اک طرف۔ (۱۔ مثل) زن سرید کے بارے میں کہا جاتا ہے۔  
ساری خدائی اک طرف فضل الہی اک طرف۔ (۱۔ مثل) خدا مہربان ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

ساری خدائی کا جھوٹا۔ (۱۔ صفت) بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ دنیا بھر کا لپٹا ساری خدائی کا کام۔ (۱۔ مذ) بہت زیادہ کام۔ کام کی کثرت۔  
ساری خدائی کی بائیں آنا۔ (۱۔ محاورہ) ہر کام کا شور باسلیقہ ہونا۔ ہر فن مولو ہونا۔  
ساری دیگ میں ایک ہی چاول (ٹھوٹے) دیکھتے ہیں۔ (مثل) جزو سے کل کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔  
ساری رات پسیا اور چینی بھرا اٹھایا۔ (مثل) محنت مشقت بہت کی مگر نائدہ بہت کم ہوا۔

ساری رات مسمائی ایک بچہ مسمائی۔ (مثل) محنت زیادہ کی مگر نائدہ کم ہوا۔  
ساری رات زلیخا پڑھی اور نہ معلوم ہوا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد۔ (مثل) سب کچھ سمجھ دیا پھر بھی مطلب نہ سمجھے (۲) سارا حال سننے کے بعد بھی کچھ چلنے نہ پڑا۔

سادھوں کا بھیس بدل کر لوگوں کو دھوکہ دے۔  
سادھو کو کیا سواد سے گڑ نہیں بتا شے ہی ہسی۔ (۱۔ مثل) کسی شخص کو اگر ایک چیز نہ تو وہ اس کے بدلے میں بہتر چیز مانگے۔ اس پر طنز کہا جاتا ہے۔  
سادھو ہو کر دیوے بنتا۔ اس کو جانو پیٹ کا گنا۔ (۱۔ مثل) جو سادھو ہو کر دھوکہ دے وہ اصل میں لاپلائی اور صرف پیٹ کا بندہ ہے۔

سادہ۔ (سا۔ دی) (۱۔ صفت) (۱) سادہ کا مونٹ (۲) پیتنگ کی وہ ڈور جس پر مانچا نہ کیا گیا ہو (۳) صاف کوری جس پر کوئی تحریر یا نقش نہ ہو (۴) بھولی سیدھی صاف دل (۵) بے وقوف۔ نادان (۶) بے سلیقہ۔ چھوٹے  
سادج۔ (صفت) سادہ کا معرب (۱۔ مثل) تیز پات۔  
سار۔ (صفت) (۱) مثل۔ مانند جیسے خاکسار (۲) جگہ (۳) جگہ کثرت جیسے کوہسار (۴) سر۔ چوٹی (۵) اونٹ۔

سار بان۔ اونٹ چلانے والا۔ سارنڈی سوار۔ شتر بان۔  
سار۔ (س۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) (۱) کتبہ باب۔ جو ہر عطر۔ مغز (۲) قدر و قیمت۔ منزلت۔ مقام۔ مرتبہ (۳) طاقت۔ زور۔ قوت (۴) اعتبار۔ ساکھ (۵) پانسہ (۶) چومر کی کوڑیاں (۷) بساط شطرنج یا تختہ زرد (۸) عرق۔ شیرہ۔ رس (۹) کھاد (۱۰) لوبو (۱۱) سوار (۱۲) تنکا (رق)۔

سار پرانی پیر کی کیا جھانے انجان۔ (۱۔ مثل) ناواقف آدمی کسی کی تکلیف کی حقیقت نہیں جانتا۔

سار جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قدر کرنا۔ عزت کرنا۔ حقیقت جانا (۲) کیفیت یا حالت معلوم کرنا۔

سارا۔ (صفت) (۱) خالص (۲) بہترین (۳) بے میل (۴) خوشبودار۔  
سارا۔ (سا۔ را) (۱۔ صفت) (۱) کل۔ تمام۔ سب۔ پورے کا پورا۔

سارا پیرا۔ (۱۔ صفت) کل۔ پورا۔ تمام۔  
سارا دھن جاتا دیکھے تو آدھا دیکھے بانٹ۔ (۱۔ مثل) اگر سالانہ دو

ہاتھ سے نکل رہا ہو تو آدھا دے کر باقی آدھا ہی بچا لینا چاہیے۔  
سارا کھیل تقدیر کا ہے۔ (۱۔ مثل) تقدیر کا کھلا پورا ہو کر رہتا ہے۔

سارا گاڈن جل گیا۔ کالے میٹھا پانی دے۔ (۱۔ مثل) سب کچھ برباد ہو گیا پھر بھی اقبال کی متاباقی ہے۔

سارا کھ جھل گیا تب چوڑیاں پوچھیں۔ (۱۔ مثل) ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی شخص نام و نود کی خواہش میں اپنا سب کچھ گنا دے تب

کہیں دینا اس کی طرف متوجہ ہو۔  
سارا کھر مٹر پراٹھا لینا۔ (۱۔ محاورہ) بہت غل جمانا۔ حد سے زیادہ شوکرنا

سارے بدن میں زبان ہی حلال ہے۔ (مثل) (۱) زبان پر اعتبار کا دار و مدار ہوتا ہے (۲) قول نباہنا چاہیے۔

سارے بنیوں کی ایک ممت۔ (مثل) سب کجوس ایک جیسے ہوتے ہیں۔

سارے جہان کا تھوٹو گنا۔ (۱۔ محاورہ) ہر ایک کا یا سب کا کسی کو بڑا بھلا کرنا۔

سارے جہان کا چٹھا ہوا۔ (۱۔ محاورہ) پکا بد معاش۔ ایک لچا۔ بڑا شہدا۔ بنات۔ بنیاد۔

سارے دن آونی آونی رات کو پر خاپوئی۔ (۱۔ مثل) کام کا وقت گزرا کر بے وقت کام کرنا۔

ساری عمر بھاڑی بھونکا۔ (بشل) عمر بھر فضول کام کرتے رہے۔  
 ساری عمر کاٹھ میں رہے۔ چلتے وقت پاؤں سے گئے۔ (بشل) جن  
 میسٹروں میں گرفتار تھے ان سے چھوٹے تو ان سے بھی بڑی آفت ٹوٹی۔  
 ساڑھستی۔ (ساڑھ۔ س۔ تی) (۱۔ ۵۔ ۱۰۔ ۱۵) زلزل کا بارھویں۔ پہلے اور دوسرے  
 گھر میں متواتر دو دو ساڑھے سات برس کا ہوتا ہے اور نہایت منحوس  
 خیال کیا جاتا ہے۔ نحوست۔ ادا بار۔  
 ساڑھستی آنا۔ (۱۰۔ ۱۵۔ ۲۰) بڑے دن آنا۔ بد فیسی کا دور ہونا۔  
 ساڑھو۔ (سا۔ ڈھو) (۱۰۔ ۱۵۔ ۲۰) سالی کا خاندن۔ ہم زلف۔  
 ساڑھی۔ (سا۔ ڈھی) (۱۰۔ ۱۵۔ ۲۰) (ساڑھی کا مخف) فصل زمین جس میں گہریں  
 جو۔ چنا وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔  
 ساڑھے۔ (سا۔ ڈھے) (۱۰۔ ۱۵۔ ۲۰) نصف۔ نصف اور دو کے اعداد  
 کے علاوہ باقی تمام اعداد کے ساتھ سابقے کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔  
 ساڑھے چار آنے۔ ساڑھے چھ گز۔  
 ساڑھی۔ (سا۔ ڈھی) (۱۰۔ ۱۵۔ ۲۰) (سا۔ ڈھی) (۱۰۔ ۱۵۔ ۲۰) ایک قسم کی لمبی مہوٹی  
 جسے عورتیں آدھی باندھتی اور آدھی اوڑھتی ہیں۔  
 ساز۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (سا۔ مان) (۱۰۔ ۱۵) (سا۔ مان) (۱۰۔ ۱۵) جنگ کے ہتھیار (۱۰۔ ۱۵)  
 گھوڑے کا زور (۱۰۔ ۱۵) وہ سامان جو گھوڑے کو گاڑی کے ساتھ جوڑنے کے  
 لیے درکار ہوتا ہے (۱۰۔ ۱۵) میل جول۔ موافقت۔ ربط (۱۰۔ ۱۵) تیاری۔ سر انجام  
 (۱۰۔ ۱۵) (اُر) ناپچنے کا سامان (۱۰۔ ۱۵) (مرکبات میں) بنانے والا کرنے والا یا  
 بنایا ہوا۔ کیا ہوا۔ جیسے کار ساز۔ قلع ساز (۱۰۔ ۱۵) قابل (۱۰۔ ۱۵)۔  
 ساز باز۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) سازش۔ کسی کے خلاف گتھ جوڑ۔  
 ساز باز کرنا۔ (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) کسی کے خلاف گتھ جوڑ کرنا۔ سازش کرنا۔  
 ساز چھڑنا۔ (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) ساز بجانا شروع کرنا۔  
 ساز سفر۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) سفر کا سامان۔ زادواہ۔  
 ساز کا پردہ۔ (۱۰۔ ۱۵) ساز کی مجموعی ترکیب کا کوئی بڑا حصہ آواز دیتا ہے۔  
 ساز (لانا) ملنا۔ (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) ساز کو راگ کے موافق کرنا۔ راگ کے موافق کرنا۔  
 ساز و برگ۔ ساز و سامان۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) درستی ترتیب  
 (۱۰۔ ۱۵) تیاری (۱۰۔ ۱۵) ضروریات۔  
 ساز و براق۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) مال اسباب۔  
 سازش۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) کسی کی مخالفت کے لیے باہمی اتفاق  
 (۱۰۔ ۱۵) خلاف قانون مال میل۔  
 سازشی۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) مخالف کرنے والا۔  
 سازگار۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) موافق۔ مناسب۔ موزوں۔ لائق۔  
 سازگاری۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) موافقت۔ موزونیت۔ بناہ۔  
 سازنا۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) بنانا۔  
 سازندہ۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) ساز بجانے والا۔ جمع سازندگان۔  
 ساس۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) بیوی یا شوہر کی ماں۔ خوش دامن۔  
 ساس بیوی ہونی لڑائی۔ کرے پڑوسن کا تھپا پانی۔ (بشل) کسی کے  
 جھگڑے میں خواہ مخواہ دخل دینا۔  
 ساس چھوٹی بیوی بڑی۔ (بشل) دال بولتے ہیں جہاں چھوٹے بڑوں کے

کان کرتے ہوں۔  
 ساس ری ساس مجھے پیٹ کا (دکھ) دھندا۔ (بشل) تمام دن کھانے  
 پینے والے شخص پر طنز۔  
 ساس سے بیرو پڑوسن سے ناتا۔ (۱۰۔ ۱۵) (بشل) بے وقت عورت کے متعلق  
 کہا جاتا ہے جو اپنوں سے تو لڑائی جھگڑا کر کے اور بیرونوں سے میل ملاپ۔  
 ساس کا پوت۔ خاندن۔ شوہر۔ خصم۔  
 ساس کوٹھے پر پوچھو ترے۔ (بشل) ساس کے بستے ہی بہو آزادی اختیار  
 کر لیتی ہے۔  
 ساس کوٹھے پر کی گھاس۔ (بشل) بہو میں اپنی ساسوں کو خاطر میں نہیں لاتی۔  
 ساس گئی گاؤں بہو کے میں کیا کیا کھاؤں۔ (بشل) نکاحی ہٹنے کے بعد  
 ہاتھ مارنے کا موقع خوب ملتا ہے۔  
 ساس لنگا لنگا پوچھو بگ بگتا۔ (بشل) ساس جو کچھ چھپ کر کرتی ہے۔ بہو  
 کھلم کھلا کرتی ہے۔  
 ساس مرگئی اپنی ارواح تو سنبے میں (بھٹور) بٹھا گئی۔ (بشل) اس موقع پر کہی  
 جاتی ہے جب ساس کے انتقال کے بعد بھی بہو اس کا رعب قائم رہے۔  
 ساس نہ نندی آپ ہی آندی۔ (بشل) ساس ہے نہ نند۔ بہو  
 آزاد ہے۔  
 ساس۔ (Sauce) (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) شوربا (۱۰۔ ۱۵) پٹنی۔  
 ساس پان۔ (Saucepan) (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) پھوٹی کراہی جس میں دستہ  
 لگا ہوتا ہے (بیچ تحفظ ساس پین)۔  
 ساسنی۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) قدیم شاہان ایران کا ایک خاندان جو  
 سامان بن بہمن کی اولاد سے تھا۔  
 ساسرا۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) سسرال۔  
 ساسن لیٹ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 عمدہ نفیس ریشی کپڑا جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ سارس نیٹ (Sarsenet) کا بگڑا ہوا  
 ساطع۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساطور۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساعت۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ڈھانی گھڑی۔ گھنٹہ (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 جمع ساعت۔  
 ساعت گھنا۔ (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساعت دیکھنا۔ (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 وقت دیکھنا۔  
 ساعت سفید۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساعت۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساعت سیمیں۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساعتی۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساعت۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساعت چلنا۔ (۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)  
 ساعت گھسنا۔ (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵) (س۔ ا۔ ۱۰۔ ۱۵)

ساگرکش - رن - صنف، شراب پینے والا۔  
 ساغر عمر چھلکنا (لہرز ہونا) - (۱۰- محاورہ) تریب المرگ ہونا۔ موت کا وقت قریب ہونا۔  
 ساغری - (سا-غ-وی) ڈاڑھ - (۱) مٹھ (۲) گھوڑے کی مقعد (۳) انسان کی مقعد (۴) ساغر سے خوب۔  
 ساہل - (سا-ہل) (۱) صنف (۲) نیچے کا (۳) کینڈ (۴) مذ (۵) پھیلا حجتہ۔  
 ساق - رن - (۱) مٹھ (۲) پٹھلی - ڈٹھل (۳) درخت کا تن (۴) ساگ پات کا ڈٹھل - ڈٹھی۔  
 ساق پوش - (۱) مذ (۲) موزہ - گیش۔  
 ساقط - (سا-قط) (۱) صنف (۲) گرا ہو (۳) بچکا (۴) متروک - مسترد۔ نامعلوم شدہ۔  
 ساقط کرنا - (۱) محاورہ (۲) حمل کے لیے گرانا (۳) مھر سے کو وزن یا مھر سے گرانا (۴) نامعلوم کر دینا۔  
 ساقط ہونا - (۱) محاورہ (۲) حمل گر جانا (۳) ہاتھ مارنا - کھو یا جانا (۴) بھرا وزن سے گرنا۔  
 ساقن - (سا-قن) (۱) مٹھ (۲) وہ بازاری عورت جو اوباش لوگوں کو شراب بیگ تھو دینے پلاتی ہو۔ ساقی کی مڑنٹ۔  
 ساقول - (سا-قول) (۱) مٹھ (۲) مھاروں کا وہ اوزار جس سے دیوار کی سیدھ معلوم کرتے ہیں۔ پنسال - شکن۔  
 ساقی - (سا-قی) (۱) صنف (۲) مذ (۳) شراب یا حقتہ پلانے والا۔  
 ساقی ازل - (۱) صنف (۲) خدا تعالیٰ - اللہ تعالیٰ۔  
 ساقی کوثر - (۱) صنف (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) شید فرق کے مطابق حضرت علیؓ۔  
 ساقی گری - (۱) صنف (۲) مٹھ (۳) شراب یا حقتہ پلانے کا پیشہ۔  
 ساقی نامہ - (۱) صنف (۲) مذ (۳) وہ نظم جس میں ساقی کو مخاطب کر کے شراب کا ذکر کیا جاتا ہے۔  
 ساگ - (۱) مذ (۲) غصتہ - مشرم۔  
 ساکت - (سا-کت) (۱) صنف (۲) خاموش چپ - دم بخود۔  
 ساکت - (Socket) (سا-کت) (۱) انگ - (۲) مذ (۳) کسی چیز کا خانہ یا گھر۔  
 ساکر - (Soccer) (سا-کر) (۱) انگ - (۲) مذ (۳) بال کی ایک قسم جس میں گیند کو لاکھ نہیں لگایا جاتا۔  
 ساکن - (سا-کن) (۱) صنف (۲) مذ (۳) بے حرکت - بھرا ہوا - قائم (۴) رہنے والا۔  
 مقیم - باشہ (۳) صرف و نحو کی اصطلاح (۴) وہ حرف جس پر جزم ہو۔  
 ساکنان - ساکنین - (سا-ک-ن) (سا-ک-ن) (۱) ساکب - زمین (۲) صنف (۳) مذ (۴) ساکن کی جمع - رہنے والے - رہنے والے - باشہ۔  
 ساک - (سا-ک) (۱) مذ (۲) وہ داستان جو ہندو اپنے بہادریوں کے متعلق گاتے ہیں۔  
 ساکھ - (۱) مٹھ (۲) اعتبار - مھر (۳) نیک نامی - اچھی شہرت (۴) آن بان (۵) اصطلاح بھکاری کسی کارخانے وغیرہ کا نام اختیار کرنے اور اس کی ساکھ سے نڈھ اٹھانے کا حق۔

ساکھ جانا - (۱) محاورہ (۲) اعتبار اٹھ جانا - مھر دے نہ جانا۔  
 ساکھ دار - (۱) صنف (۲) اصطلاح بنگ کاری (۳) قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھنے والا - (Credible)  
 ساکھ داری - (۱) اصطلاح بنگ کاری (۲) قرضہ ادا کرنے کی طاقت - مقدرت ذمہ داری - (Credibility)  
 ساکھ سونا پریت پھیل - (۱) مثل (۲) اعتبار سے جو کام نکلتا ہے وہ محبت سے بھی نہیں نکلتا۔  
 ساکھ لاکھ سے اچھی - (۱) مثل (۲) ساکھ دولت سے زیادہ کام دیتی ہے۔  
 ساکھا - (سا-کھا) (۱) مذ (۲) شاخ - پتی - ڈال (۳) گھسان کی لڑائی (۴) مٹھار - جھگڑا (۵) کسی کے خلاف لڑائی کے لیے کچھ لوگوں کا ایک یا اتفاق۔ (۶) ہنایت ناموری کے ساتھ لڑنا۔  
 ساکھا پڑنا - (۱) محاورہ (۲) بڑی بھاری لڑائی پھڑنا (۳) بہت سنگین عارضہ ہونا۔  
 ساکھا ڈالنا - (۱) محاورہ (۲) ہنکار کرنا۔ لڑنا جھگڑنا۔ نسا دکرنا۔  
 ساکھی - (سا-کھی) (۱) مٹھ (۲) ساکھ کھلنے والی لڑکی - کھی۔  
 ساگ - (۱) مذ (۲) ہنری تکراری (۳) کھائی جانے والی بڑی بوٹی (۴) ساگون کا درخت۔  
 ساگ پات - (۱) مذ (۲) بھائی - تکراری۔  
 ساگ پات ہو جانا - (۱) محاورہ (۲) زم ہو جانا۔  
 ساگ میں شراب پھوٹا - (۱) مثل (۲) پھوٹا ہوا - پھوٹا ہوا - جسے معمولی کھانا پکانا بھی نہ آتا ہو۔  
 ساگ میں شراب اٹھنے میں مانی - کیوں بی پھٹانی - (۱) مثل (۲) اس عورت پر طنز ہے جسے کھانا پکانے کا سلیقہ نہ ہو۔  
 ساگر - (سا-گر) (۱) صنف (۲) سمندر - بحر۔  
 ساگو دانہ - (سا-گو-دا-نہ) (۱) مذ (۲) ایک قسم کا دانہ جو ساگو کے تنے سے نکالا جاتا ہے۔  
 ساگون - (سا-گون) (۱) مٹھ (۲) ایک مضبوط کڑی کا درخت - ساگون۔  
 گ کی زبرد پیش دونوں طرح صحیح ہے۔  
 سال - (۱) مذ (۲) ایک قسم کا درخت جس کی کڑی کے تختے بنائے جاتے ہیں۔ ساکھو (۳) کڑی کا چھید - سوراخ (۴) گیدڑ - سیار (۵) مٹھ (۶) ایک قسم کی پھلی (۷) کاٹا (۸) ق۔  
 سال - (۱) صنف (۲) برس (۳) مھر (۴) سنہ۔  
 سال الہی - سال فصلی - (۱) صنف (۲) مذ (۳) وہ سال جو وصول مالگزار کی لیے فصلوں کے حساب سے اکبر کے زمانہ میں ایجاد ہوا۔  
 سال بسال - (۱) شعلق فعل (۲) ہر برس - ہر سال۔  
 سال بکری - راجہ بکرا بیت کاسال جو شہرہ قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔  
 سال بھاری ہونا - (۱) محاورہ (۲) کم (۳) سال خوش ہونا - سارا سال مصیبتوں میں گذرنا۔  
 سال بھر - (۱) شعلق فعل (۲) تمام سال - سارے سال۔  
 سال بھر میں سنی موسم برابر ہو جاتے ہیں - (۱) مثل (۲) سنی جلد اور کبوس

دو برس دو پیر فرخ کرتا ہے لیکن سال کے اخیر میں دونوں کا خرچ برابر ہی نکلتا ہے۔

سال پیوستہ - (۱۰- مذ) پچھلے سے پچھلا برس۔

سال تمام - (۱۰- مذ) اخیر سال۔ کل سال۔

سال تمامی - (۱۰- مذ) سالانہ کیفیت یا رپورٹ۔

سال جلالی - (۱۰- مذ) وہ سن جو سلطان جلال الدین سلجوقی کے عہد میں ایجاد ہوا تھا۔

سال جلوسی - (۱۰- مذ) وہ سن جو کسی بادشاہ کی تخت نشینی کے وقت سے شروع ہو کر اس کے عہد تک چلتا ہے۔

سال حاصل - (۱۰- مذ) سالانہ پیداوار یا آمدنی۔

سال خوردہ - (۱۰- مذ) (۱) پٹانا، بڑنا ہوا (۲) بوٹھا۔ تجربہ کار۔

سال روال - (۱۰- مذ) موجودہ سال۔ وہ برس جو گزر رہا ہے۔

سال رومی - (۱۰- مذ) وہ سن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے روم میں رائج تھا۔

سال ساکا - (۱۰- مذ) راجہ سالہاہن کا سال جو سکندریہ سے شروع ہوتا ہے۔

سال شمسی - (۱۰- مذ) ۳۶۵ دن کا وہ سال جس کا حساب سورج کے گرد زمین کی گردش سے کیا جاتا ہے۔

سال عیسوی - (۱۰- مذ) وہ سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شمار کیا جاتا ہے۔

سال فصلی - (۱۰- مذ) وہ سال جو فصلوں کے حساب سے شمار کیا جاتا ہے۔ بکری سال

سال قمری - (۱۰- مذ) وہ سال جس کا حساب چاند کی گردش سے کیا جاتا ہے۔ چاند اپنی گردش ۲۹، ۵۳، ۷ دن میں پورا کرتا ہے۔ قمری سال ۳۵۴ دن ۸ گھنٹے اور ۴۴ منٹ کا ہوتا ہے۔ سنہجری سنہ فضلی اور میویدوں کا سال قمری سال ہے۔

سال کبیسیہ - (۱۰- مذ) تیرہ مہینوں کا فصلی سال جو تین سال کے بعد آتا ہے تاکہ شمسی اور قمری سال برابر ہو جائیں۔

سال گرہ - (۱۰- مذ) (۱) اہم دن (۲) اہم دن کی تقریب۔ برس کا ٹھہ۔

سال ماسبق (گذشتہ) - پچھلا سال۔ گذشتہ سال۔ گزرا ہوا سال۔

سال مالی - (۱۰- مذ) وہ سال جو کسی ملک کے مالیات حساب کتاب کی عرض سے مقرر ہو۔

سال نامہ - (۱۰- مذ) کسی اخبار یا رسالے کا وہ پرچہ جو اس کی سال گزرا پر خاص اہتمام سے شائع کیا جائے۔

سال وار - (۱۰- متعلق فعل) ہر سال۔ سال بسال۔

سال با سال - (۱۰- متعلق فعل) برس بابر برس۔ برسوں کئی سال۔

سال ہجری - (۱۰- مذ) وہ سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے جو ۶۲۲ء کو ہوئی تھی۔

سالہ - (۱۰- مذ) سال سے نسبت رکھنے والا۔ مرکبات کے آخر میں آتا ہے جیسے سہ سالہ۔ چار سالہ۔

سالہ - (سا۔ لا۔ ذہ۔ ۱۰- مذ) (۱) چوٹی کا بھائی (۲) ایک گالی۔

سالار - (سا۔ لار۔ ذہ۔ ۱۰- مذ) سردار۔ افسر۔ رہنما۔ جنرل۔ جمع سالاران

سالار بیت الحرام - (ع۔ ۱۰- مذ) حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سالار بقا فلہ - (ف۔ ۱۰- مذ) قافلے کا سردار۔ امیر قافلہ۔

سالار قوم - (ف۔ ۱۰- مذ) قوم کا سردار۔

سالانہ - سالیانہ - (سا۔ لا۔ مذ) (سال۔ یا۔ مذ) (ف۔ صغ) (۱) ہر سال (۲) سال بسال کا (۳) (۱۰- مذ) سال بسال نئے والا وظیفہ۔

سالک - (سا۔ بک۔ ذہ۔ ۱۰- مذ) (۱) راہ چلنے والا (۲) (تصوف کی اصطلاح) جو خدا کا قریب بھی چاہے اور شغلی معاش بھی رکھتا ہو۔

سالہ - (سا۔ لہ۔ ذہ۔ صغ) (۱) پورا۔ سارا۔ تمام۔ ثابت ممکن (۲) صحیح سلامت فن درست (۳) محفوظ (۴) صرف دیکھو کی اصطلاح (۵) صحیح لفظ جس میں کوئی حرف علت نہ ہو یا دوسرا اور تیسرا حرف ایک جیسا نہ ہو (۵) (علم عروض) ایک وزن اور بحر کا نام۔

سالہ میع - (قانونی اصطلاح) ممکن میع۔

سالہ - (سا۔ لہ۔ ذہ۔ ۱۰- مذ) دو یا دوسے زاہد عناصر کے جو ہر دن (Atoms Molecule) کے مرکب کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ۔ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا۔ ذرہ۔ جمع: سالمات۔

سالمی - (سا۔ لہ۔ ذہ۔ صغ) (۱) کیمیائی اصطلاح سالہ سے متعلق۔ سالہ کے بارے میں۔

سالمی انتشار - (ع۔ ۱۰- صغ) ذرات کا پراگندہ یا بکھرا ہوا ہونا (انگ) (Molecular Dispersion)

سالمی انعطافیت - (ع۔ ۱۰- صغ) ذرات کا مڑنا۔ (انگ) (Molecular Refractivity)

سالمی بلندی - (ع۔ ۱۰- صغ) ذرات کی اونچائی۔ (Molecular Elevation)

سالمی بم باری - ذراتی بم باری - (Molecular Bombardment)

سالمی پیچیدگی - (ع۔ ۱۰- صغ) ذرات کا باہمی پیچیدہ تعلق۔ (Molecular Complexity)

سالمی صابطنہ - (ع۔ ۱۰- مذ) ذرات کے وہ اصول اور قاعدے جو سب امکانی صورتوں پر عادی ہوں۔ (Molecular Formula)

سالمی طبیعیات - (ع۔ ۱۰- صغ) ذرات کی ترکیب اور خواص کا علم۔ (Molecular Physies)

سالمیت - (سا۔ لہ۔ ذہ۔ صغ) (۱) (مت) پورا ہونے کی حالت۔ ایک جہتی ناقابل تقسیم وحدت۔

سالن - (سا۔ لن۔ ذہ۔ ۱۰- مذ) روٹی کے ساتھ کھانے کی نلیں پکی ہوئی ترکاری۔

دال گشت وغیرہ۔

سالنا - (سال۔ نا۔ ذہ۔ صغ) (۱) چھیننا۔ سوخا کرنا (۲) چول پھسانا (۳) کاشنا۔ تراشنا (۴) تکلیف دینا۔ تکلیف محسوس کرنا۔

سالو - (سا۔ لو۔ ذہ۔ ۱۰- مذ) ایک قسم کا سرخ رنگ کا کپڑا۔ لال مل۔

سالوتری - (سا۔ لوت۔ ذہ۔ ۱۰- مذ) کھوڑوں اور چوہوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر۔ وٹرنری سرجن۔

سالوس - (سا۔ لوس۔ ذہ۔ صغ) (۱) دفا۔ فریب۔ دھوکا۔ مکاری۔



ریا کاری (۲) دغا باز۔ فریبی۔ دھوکے باز۔ مکار۔ ریا کار۔  
 سولوشن آرمی (۱۔ سال۔ دسے۔ شن۔ آ۔ رمی) (Salvation Army)  
 (۱۔ انگ۔ ۱۔ منٹ) کمتی فرج۔ عیسائیوں کی ایک مذہبی  
 جماعت جو روحانی تسکین کی علم بردار ہے۔  
 سالی۔ (سالی۔ ۱۔ دھ۔ ۱۔ منٹ) بیوی کی بہن۔  
 سالی۔ (سالی۔ ۱۔ دھ۔ صفت) وہ زمین جو سال بھر کے لیے کاشت پر لی جائے۔  
 سالے کہ ٹکوسٹ از بہارش پیدا۔ (ن۔ نخل) جو بہار بردار کے پکنے  
 پکنے پات۔ جس کی ابتدا اچھی ہو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔  
 سآم۔ (ع۔ صفت) زہر دینے والا۔ کھانے میں زہر ملانے والا۔  
 سام۔ (ن۔ ۱۔ منہ) حضرت نوح کا بڑا بیٹا جن کی نسل سامی کہلاتی ہے (۲) ایرانی  
 پہلوان رستم کے دادا کا نام (۳) مرکبات میں جیسے سرسام (۴) آگ کا کپڑا۔  
 سامان۔ (سا۔ مان) (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) اسباب۔ مزدوری چیزیں (۲) تیاری۔  
 انتظام۔ بندوبست (۳) اوزار۔ آلات (۴) ہتھیار و ضروریات جنگ۔  
 (۵) آثار۔ علامات۔  
 سامان یا دھننا۔ (۱۔ محاورہ) چلنے کی تیاری کرنا۔  
 سامان لفریح۔ (ن۔ ۱۔ صفت) دل بہلانے کا سامان یا وہ ذریعے جن سے  
 دل بہلایا جاسکے۔  
 سامان جنگ (جنگ) حرب۔ (ن۔ ۱۔ مذ) ہتھیار اور گولہ بارود وغیرہ۔  
 سامان میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جوش میں آنا۔ غصہ ٹھنڈا ہونا (۲) قابو میں  
 آنا۔ آپے میں آنا۔  
 ساندُرک۔ (سا۔ مذ۔ رک) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) پامٹری۔ معلم الیڈ۔ فرسٹ الیڈ  
 ہاتھ پاؤں کی لکیریں دیکھ کر انسان کے اچھے برے حالات بتا دینے  
 کا علم۔  
 سامراج۔ (سام۔ راج) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) شہنشاہی نظام حکومت۔  
 شہنشاہیت (۲) نوآبادیات اور مائت سلطنتیں رکھنے کی پالیسی  
 (Imperialism)  
 سامراجی۔ (سام۔ راجی) (۱۔ صفت) (۱) سامراج سے متعلق (۲) شہنشاہی  
 حکومت کا حامی۔ شہنشاہیت پسند۔  
 سامبری۔ (سام۔ بری) (ن۔ ۱۔ مذ) ایک یہودی جس نے حضرت موسیٰ کے  
 زمانے میں چاندی سونے کا ایک پچھڑ بنا کر بنی اسرائیل سے اس کی  
 پرستش کروائی تھی۔  
 سامبری فن۔ (سا۔ ۱۔ مذ) جادوگر۔ ٹونکے باز۔ اپنے فن کا استاد۔  
 سامح۔ (سا۔ بح) (ع۔ ۱۔ مذ) سننے والا۔ سماعت کرنے والا۔ جین، سامعین۔  
 سامعہ۔ (سا۔ بح) (ع۔ ۱۔ منٹ) سننے کی قوت۔  
 سامعہ نواز۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (بھی) آواز سنانے والا۔  
 سامعین۔ (سا۔ بح) (ع۔ ۱۔ مذ) سامح کی جمع سننے والے۔  
 سامنا۔ (سا۔ م۔ نا) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) غنا۔ ملاقات (۲) مقابلہ۔ (طائی) ٹٹھ بھڑ۔  
 (۳) آگ۔ آگاہی (۴) برابری گتھی (۵) رُو بہ رُو۔ مقابلہ۔  
 سامنا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات کی تصدیق کے لیے کہنے والے اور نقل  
 کرنے والے کو رُو بہ رُو کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

سامنا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گت خانہ جواب دینا (۲) تکرار کرنا۔ جھگڑنا (۳)  
 برابری کرنا۔ مقابلہ کرنا (۴) لڑنے کے لیے آگے بڑھنا۔  
 سامنا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ڈبھیٹ ہونا۔ رُو بہ رُو ہونا (۲) مقابلہ ہونا۔ طاق  
 ہونا۔ بے پردگی ہونا۔  
 سام وید۔ (سام۔ وید) ہندوؤں کے مقدس چار ویدوں میں سے دوسرا وید۔  
 سامنے۔ (سام۔ نے) (۱۔ ۱۔ تابع فعل) (۱) رُو بہ رُو۔ ٹٹھ در ٹٹھ (۲)  
 موجودگی میں۔  
 سامنے آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مقابلہ ہونا (۲) ٹٹھ دکھانا (۳) بدلہ ملنا۔  
 سامنے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) اتنا قدر نظر آجانا۔ سامنے آجانا۔ مقابلہ ہونا۔  
 سامنے پھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) مقابلہ کرنا۔ مقابلہ ہونا۔ مقابلہ کو برداشت کرنا۔  
 سامنے دھڑکنا۔ (۱۔ محاورہ) آگے آگے چلنا۔ آگے کر لینا (۲) پکڑ لینا۔  
 سامنے کی آنکھیں پھو میں۔ (بددعا) اندھا ہو جانا۔  
 سامنے کی بات۔ (۱۔ منٹ) جو بات موجودگی میں کہی گئی ہو۔ آنکھوں دیکھا مال۔  
 سامنے کی چوٹ۔ (۱۔ منٹ) مقابلے کی مار کھلی چوٹ۔ طعن۔ مفلز۔  
 سامنے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مقابلہ کرنا (۲) گتھی سے پیش آنا (۳) پردہ  
 اٹھادینا یا پردہ نہ کرنا (۴) دنگل میں اُترنا۔  
 سامی۔ (سا۔ ی) (ع۔ صفت) (۱) اُوچھا۔ بلند۔ عالی (۲) سام کی نسل کے لوگ مثلاً  
 یہودی۔ عرب وغیرہ۔  
 سامی۔ (سا۔ ی) (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) سواری کا تخت۔ خادند۔ شوہر پتی (۲)  
 (منٹ) زرخیز زمین (۳) سامنے۔ رُو بہ رُو (رق)  
 سان۔ (سا۔ ۱۔ منٹ) (۱) دھار رکھنے کا پتھر۔ سنگ۔ صیقل (۲) دھار۔ باڑھ۔  
 سان پر چڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) باڑھ پر رکھا جانا۔ دھار رکھی جانا۔  
 سان چڑھانا۔ سان دھرنا۔ سان رکھنا۔ سان لگانا۔ (۱۔ محاورہ) دھار  
 تیز کرنا۔  
 سان۔ (سا۔ ۱۔ منٹ) (۱) اشارہ (۲) نشان (۳) سُرُخ۔  
 سان گمان۔ (۱۔ ۱۔ مذ) (۱) اشارہ گمانیہ (۲) وہم۔ خیال۔ نگر و اندیشہ۔  
 سان نہ گمان۔ (۱۔ متعلق فعل) (۱) دفتار۔ اچانک۔ بے خبری میں (۲)  
 ایسی حالت میں کہ خیال تک نہ ہو۔  
 سانپ۔ (سا۔ ۱۔ مذ) ایک ریگنے والا پتلا لہا زہر لاکیر جس کی ٹانگیں نہیں  
 ہوتیں اور جو پیٹ کی ہڈیوں سے چلتا ہے۔ مار۔ افسی۔ ناگ۔ رسی۔ سرپ  
 (صفت) عالم۔ موذی۔  
 سانپ آٹارنا۔ (۱۔ محاورہ) سانپ کے ڈسے ہوئے جسم سے زہر دُور کرنا۔  
 سانپ اور چور دبلے پر چوٹ کرتے ہیں۔ (۱۔ مقولہ) جب پچاؤ کی کوئی  
 صورت نظر نہ آئے تو یہ تھکر کرتے ہیں ورنہ بھاگ جاتے ہیں۔  
 سانپ کچھو کچھنا۔ (۱۔ محاورہ) باعث ایذا سمجھنا۔ موذی خیال کرنا۔  
 سانپ چھاتی پر (پھرتا) لوٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بے حد رنج ہونا (۲) پچھتاوا  
 آنا۔ تپلانا (۳) رشک میں جلنا۔  
 سانپ سا لٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت زیادہ تپنا ہونا۔  
 سانپ سب جگہ ٹٹھا چلتا ہے اسے بل میں سیدھا جاتا ہے۔  
 (منٹ) بڑا آدمی اور سب جگہ بڑائی کرنا ہے ٹٹھا ہے ٹٹھا ہے سیدھے طریقے

سے رہتا ہے۔

سانپ سونگھ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانپ کا ڈس جانا (۲) سانپ کا نہر چڑھنے سے بیہوش ہو جانا (۳) چپ سا دھ لینا۔ دم بخود ہو جانا (۴) بلے خبر ہونا۔

سانپ سے کھیلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خطرناک انسان سے میل جول رکھنا (۲) خطروں میں پڑنا۔

سانپ کا بچہ پنولیا۔ (۱- مثل) (۱) بڑے آدمی کی اولاد بھی بڑی ہوتی ہے موزی آدمی کے بچے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔

سانپ کا سر کھلنا۔ (۱- محاورہ) موزی آدمی کو جیت نہ چھوڑنا۔

سانپ کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ (۱- مثل) سانپ کا ڈس ہوا بہت جلد مر جاتا ہے سانپ کا کاٹا راستی سے ڈرتا ہے۔ (۱- مثل) (۱) جسے بہت تکلیف پہنچ چکی ہو وہ ٹھوڑی سی تکلیف سے بھی گھبراتا ہے (۲) دودھ کا جلا چھانچہ پڑھک کر پیتا ہے۔

سانپ کا کاٹا سووے، کچھو کا کاٹا رووے۔ (۱- مثل) جسے سانپ کاٹ لے وہ بیہوش ہو جاتا ہے، لیکن جسے کچھو کاٹ لے وہ درد سے تڑپتا رہتا ہے۔

سانپ کا من۔ (۱- مذ) سانپ کا منکا جس کی بابت مشہور ہے کہ اندھیری رات میں سانپ اسے اگل کر اس کی روشنی میں گھومتا پھرتا ہے اور جس کے ہاتھ لگ جائے اسے ترشمال بنا دیتا ہے۔

سانپ کا منتر۔ (۱- مذ) وہ منتر جس سے سانپ کا کاٹا اچھا ہو جاتا ہے۔

سانپ کھلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سانپ کو جاؤ دیا منتر کے زور سے تسخیر کرنا (۲) خطرناک کام کرنا۔

سانپ کی چھتری۔ (۱- مثل) ایک پودا۔ لگرتا۔

سانپ کی سی کینٹلی (جھاڑنا) ڈالنا یا چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بیماری سے صحت پانا (۲) رنگ کھڑنا۔ بدن سوزنا۔

سانپ کی طرح چمن (جھاڑ) مار کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) قابو نہ چلنا (۲) ترشش کر کے مار جانا۔

سانپ کی طرح زمین کھڑنا۔ (۱- محاورہ) ہرگز نہ ملنا۔ (۲) اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا سانپ کیلنا۔ (۱- محاورہ) منتر کے زور سے سانپ کے منتر کو بند کر دینا۔

سانپ کے پاؤں پیٹ میں ہوتے ہیں۔ (۱- مثل) بدذات کا موزی پن ظاہر نہیں ہوتا۔

سانپ کے منہ میں۔ (۱- متعلق فعل) سخت خطرے میں خطرے کی جگہ میں۔

سانپ کے منہ میں (چھوڑنا) چھوڑنا۔ نکلے تو اندھا، اگلے تو کوڑھی۔ (۱- مثل) ایسا کام جسے نہ کیا جائے نہ چھوڑا جائے۔

سانپ کے بیچے کا کچھو۔ (۱- وصف) (۱) ظالم۔ (۲) موزی (۳) بہت زہریلا۔ کچھو۔ جس نے سانپ کے بیچے پرورش پائی ہو۔

سانپ مرے نہ لایھی ٹوٹے۔ (۱- مثل) موزی آدمی کو اس طرح مارنا چاہیے کہ خود محفوظ رہے۔

سانپ نکل گیا لیکر پٹا کرو۔ (۱- مثل) موقع ہاتھ سے نکل گیا اب چھتا یا کرو۔

سانپ نہیں جو مٹی چاٹ کر رہیں۔ (۱- مثل) جس کے لیے عیبی خوراک موزوں ہے وہ دوسری ہی خوراک کھا کر زندہ رہ سکتا ہے۔

سانپ لے نہیں کاٹا۔ (۱- مثل) نشہ نہیں۔ بیگا ہوا نہیں ہے۔

سانپوں کی سبھا میں چلیسوں کی کپا لٹ۔ (مثل) موزی انسان جہاں کہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں ایذا رسانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔

سانپا۔ (ساں۔ پان) (۱- مذ) (۱) ماتم۔ سوگ (۲) پڑسا۔

سانپے جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ماتم میں شریک ہونا (۲) پڑسا دینے کے لیے جانا۔

سانپین۔ (ساں۔ پن) (۱- مثل) (۱) سانپ کی مادہ۔ ناگن۔ سپنی (۲) بھوزی یا بالوں کی لکیر جو بعض مردوں اور عورتوں کی پیٹھ یا گھوڑے کی ایال کے بیچے ہوتی ہے اور بہت محسوس بھی جاتی ہے۔

سانت۔ (سن۔ ت) (۱) ایک ستارہ (رواتی) جو برسات میں نکلتا ہے (۲) بارش۔ (۱- برنیساں)۔

سانٹ۔ (ساٹھ۔ ڈہ۔ ۱- مثل) (۱) گانٹھ۔ گرہ۔ گھٹی (۲) سازش۔ گلہ جوڑ۔ (۳) دشمنی۔ عداوت۔ کدورت (۴) اتفاق۔ ربط ضبط۔

سانٹ (ساٹھ) مار۔ (۱- مذ) (۱) ماضی لڑانے والا۔

سانٹ لگانا، لگانا، ملانا۔ (۱- محاورہ) سازش کرنا۔

سانٹ لینا۔ (۱- محاورہ) گانٹھ لینا۔ سازش کر کے اپنے ساتھ لالینا۔ یار بنالینا۔

سانٹا۔ (ساں۔ ٹا) (۱- مذ) (۱) چاہک۔ تازیانہ۔

سانٹنا۔ (ساٹھنا۔ ساٹھ) (نا۔ ساٹھنا) (۱- وصف) (۱) دوست بنانا ساتھ ملانا (۲) چپکاتا (۳) نسی یا منسک کرنا (۴) اُلجھانا (۵) گرہ لگانا۔ جوڑ دینا۔

سانٹے کی سکائی۔ (ساں۔ ٹے۔ کی۔ سن۔ گا۔ ای۔ ڈہ۔ ۱- مثل) ایسہ رشتہ جس میں لڑکی لے کر لڑکی دی جائے۔ بدلے کا رشتہ۔ (۱- پ) دوٹوٹا۔

سانٹھ۔ (سا۔ ڈھ) (۱- مذ) (۱) شام کا وقت (۲) دوستی۔

سانٹھ سویرے۔ (۱- متعلق فعل) صبح شام۔

سانٹھ۔ (سا۔ ہا) (۱- مذ) (۱) لڑائی یا لڑے کا ڈھانچہ (۲) رحم۔ پتہ دانی (۳) قالب۔

سانٹے کی سچی۔ وہ عورت جو مرد کے لٹنے کو صاف نہ ہونے دے۔ جسے وضع حمل کے بعد پہلی ہی صحبت میں حمل رہ جائے۔

سانٹے میں ڈھالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی چیز کے قوام کو سانپنے میں ڈال کر کسی خاص شکل یا وضع کا بنانا۔ کسی خاص وضع یا طریق کا بنا لینا۔

سانٹے میں ڈھلا ہونا۔ (۱- محاورہ) خوشا اور سڈول۔ سب اجزاء یا اعضاء کا موزوں اور درست ہونا۔

سانٹے میں ڈھل جانا۔ (۱- محاورہ) خود حالات کے مطابق بدل لینا یعنی اختیار کر لینا۔

سانٹھ۔ (سا۔ ٹھ) (۱- مذ) (۱) صدمہ پہنچانے والا واقعہ۔ حادثہ۔ وقوع۔

**سانس کھینچنا** - (۱- محاورہ) (۱) لمبا یا گہرا سانس لینا۔ ٹھنڈی آہ بھرنا (۲) ورزش سے پھینچروں میں بھرا ہونا۔  
**سانس کے ساتھ آس** ہے۔ (۱- مثل) جب تک زندگی ہے مایوس نہیں ہوتا چاہیے۔ انسان مرتے دم تک بہتری کی امید باندھے رہتا ہے۔

**سانس لو** - (۱- بول چال) ذرا دم لو۔ رگ جاؤ۔  
**سانس لینا** - (۱- محاورہ) (۱) سانس کھینچنا (۲) بھاپ چھوڑنا (۳) دم لینا۔ کام کے دوران آرام کا تھوڑا سا وقفہ ڈالنا۔  
**سانس لینے کی فرصت نہ ہونا** - (۱- محاورہ) ذرا بھی فرصت یا فاضل وقت نہ ہونا۔ بہت زیادہ مصروف ہونا۔  
**سانس نہ لینا** - (۱) خاموش رہنا۔ چپ سا دھ لینا۔ اُن نہ کرنا (۲) دم نہ لینا۔ لگاتار کام کیے جانا۔

**سانسا** - (ساں - سا) (۱- ۱- ۱) اندیشہ - تشویش - فکر (۲) خوف - ڈر۔ خطرہ۔ بول۔  
**سانسا پھلانا** سانس کا۔ (۱- مثل) فکر خواہ گھڑی بھر کی بڑی ہوتی ہے۔  
**سانسا پڑھنا** (رہنا) - (۱- محاورہ) فکر ہونا۔ بول پڑھنا۔  
**سانسی** - (ساں - سی) (۱- ۱- ۱) ایک مشہور خانہ بدوش اور جرائم پیشہ قوم۔

**سانگ** - (۱- ۱- ۱) (۱) شاخ۔ ٹہنی (۲) برچھا۔ بھالا۔ نیزہ۔  
**سانگر** - سانگری۔ سانگل - (ساں - گر) (ساگ۔ ری) (ساں - گل) (۱- ۱- ۱) (۱) زنجیر (۲) دروازے کی زنجیر۔ گندمی (۳) پاؤں کا زیور۔ ٹوڑا (۴) ہتھکڑی جو بیڑی۔

**سانگ** - (ساں - گ) (۱- ۱- ۱) (۱) نقل۔ اداکاری (۲) بھیس بھرنا۔ بھیس بدلنا۔ بہروپ (۲) تماشا۔ کھیل (۳) ٹھٹھا۔ ہنسی خاق (۴) شبدہ۔ کرتب (۵) کھول کھودنے کا نوک دار آلہ (۶) باقی کا انکس (س) جس کے سب اجزاء یا حصے موجود ہوں۔ منکمل۔ پورا۔ تمام۔

**سانگ بنانا** - (۱- محاورہ) (۱) روپ بھرنا۔ نقل کرنا (۲) رُسا کرنا۔ ہنسی اڑانا۔  
**سانگ بننا** - (۱- محاورہ) (۱) مسخرہ بننا (۲) نقل کرنا۔ روپ بھرنا۔ (۳) سانگ تیار ہونا۔

**سانگ بھرنا** - (۱- محاورہ) (۱) نقل کرنا۔ روپ بھرنا (۲) فریب دینا۔ دھوکا کرنا۔  
**سانگ دکھانا** - (۱- محاورہ) (۱) بھیس بھر کر تماشا کرنا (۲) بھانہ یا مکر کرنا۔  
**سانگ کرنا** - (۱- محاورہ) (۱) تماشا کرنا (۲) جھگڑا پھیلانا (۳) بھیس یا روپ بھرنا۔ اداکاری کرنا (۴) مسخرہ بن کرنا۔

**سانگ لانا** - (۱- محاورہ) (۱) مکر کرنا۔ شبدہ بازی کرنا (۲) جھگڑا نکالنا۔ (۳) بھیس بھر کر نقل کرنا۔  
**سانگ مچانا** - (۱- محاورہ) (۱) کھیل کرنا۔ تماشا دکھانا (۲) مسخرہ بن کرنا۔ ہنسنے والی حرکتیں کرنا۔

**سانچہ عظیم** - (ف - ۱- ۱) (۱) اہم واقعہ۔ خوفناک حادثہ۔ سخت مصیبت۔  
**سانچہ گزرتا** - (۱- محاورہ) حادثہ ہونا۔ مصیبت پڑنا۔  
**ساند** - (ق - ۱- ۱) (۱) سوراخ۔ جوڑ۔ عضو۔ بند۔  
**ساندا** - (ساں - دا) (۱- ۱- ۱) (۱) گائے یا بھینس دوپتے وقت اُن کے پاؤں میں باندھنے کی رستی۔

**ساندا** - (ق - ۱- ۱) (۱) مال کا خانہ۔ وہ رستی جو دودھ دوپتے وقت گائے کے باندھی جاتی ہے۔  
**ساندنا** - (ساں - ۱- ۱) (۱) (ق - ۱- ۱) باندھنا۔  
**سانڈی** - (ق - صفت) (۱) دیوانہ (۲) جال کا خانہ یا پھندا۔  
**سانڈ** - (۱- ۱- ۱) (۱) ایسا بیل جسے کسی دیوتا کے نام پر آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ (۲) وہ بیل یا گھوڑا جسے نسل کشی کے لیے رکھا جائے (۳) موٹا تازہ۔ (۴) صفت [ موٹا تازہ، عظیم شیم (۵) بے ٹکرا (۶) شہوت پرست۔ عیاش۔

**سانڈرا** - (ساں - ڈ) (۱- ۱- ۱) (۱) گوہ کی جسم کا ایک جانور جس کا تیل نکال کر گھٹیا کے درد کے لیے یا پٹلا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔  
**سانڈنی** - (ساں - نی) (۱- ۱- ۱) (۱) سواری کی اڈٹھی۔  
**سانڈنی سوار** - (۱) وہ قاصد جو تیز رفتار اونٹ یا اڈٹھی پر بیٹھ کر خبریں یا پیغام لے جائے (۲) ناقہ سوار۔ شتر سوار۔  
**سانڈیا** - (ساں - ڈ) (یا - ۱- ۱- ۱) (۱) اونٹ کا بچہ (۲) بوتلا (۳) گوتائے کی شین۔

**سانس** - (۱- ۱- ۱) (۱) دم۔ پھونک۔ نفس (۲) چھ نمک گنے کا وقفہ (۳) بھاب (۴) شگاف۔ درز (۵) آہ۔

**سانس اٹھرنا** - (۱- محاورہ) سانس قابو میں نہ رہنا جیسا کہ لاپنے اور زحاک کی حالت میں ہوتا ہے۔  
**سانس اندر کا اندر اور باہر کا باہر** - (۱- مقولہ) دہشت کی حالت میں ہونا۔  
**سانس بھرنا** - (۱- محاورہ) (۱) آہ بھرنا۔ انوس کرنا (۲) دم پڑھنا۔ سانس پھولنا۔ تھک کر جلدی جلدی سانس لینا (۳) زندگی کی بیتیہ چمنہ سانس لینا۔

**سانس پورے کرنا** - (۱- محاورہ) زندگی کے دن پورے کرنا۔ زندگی کی کوئی امید نہ ہونا۔  
**سانس پھولنا** - (۱- محاورہ) (۱) پھٹنا۔ دم پڑھنا (۲) دسے کا مرض ہونا۔  
**سانس ٹوٹنا** - (۱- محاورہ) سانس کے آنے جانے میں فرق پڑنا۔ سانس کا مسلسل نہ آنا۔

**سانس پڑنا** - (۱- محاورہ) (۱) سانس روک لینا (۲) مڑوہ بن کر بڑھانا۔  
**سانس پڑھنا** - (۱- محاورہ) تھک جانا۔ پھٹنے لگنا۔ دم پھول جانا۔  
**سانس چلنا** - (۱- محاورہ) (۱) سانس کا آنا جانا (۲) زندگی باقی ہونا۔  
**سانس نہ کرنا** - (۱- محاورہ) (۱) سانس کی آمد و رفت بند ہونا یا اس میں فرق پڑنا (۲) سانس پوری طرح نہ آنا۔  
**سانس روکنا** - (۱- محاورہ) (۱) جس دم کر لینا۔ (۲) گلا گھونٹنا۔  
**سانس کا روک** - (۱- ۱- ۱) (۱) دم۔ ریشم النفس۔

سادن کے اندھے کو ہمراہی سوجھتا ہے۔ (۱- مثل، ۱۱) برخص اپنی حالت کے مطابق سب کی حالت خیال کرتا ہے (۲) جو کیفیت ایک دفعہ نظر میں سما جائے وہی ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے (۳) امیر مخس ہو جائے تو بھی اس کے دماغ میں امارت کی بوری رہتی ہے۔

سادن کے چھالے۔ (۱- مذا) سادن کی زوردار بارش جو جلد ختم ہو جائے۔

سادن ہرے نہ بھادول سوکھے۔ (مثل) ہر حال میں کیساں۔

سادنت۔ (سا۔) دنت (۲) صفت (۲) بہادر۔ دلیر۔ جوان مرد۔ شجاع۔

سادنٹا۔ سادونٹھا۔ (سا۔) دُن (ٹا) (سا۔) دُن (ٹھا) (۲) صفت (۲) تیار۔

تندرست (۲) جمع کیا ہوا۔

سادنٹا کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) جمع کرنا (۲) ہوشیار یا چوکس کرنا۔

سادنٹا ہو جاننا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) چوکس اور ہوشیار ہو جاننا (۲) مقابلے پر آجانا

(۳) سنبھل جانا۔

سادنی۔ (سا۔) دنی (۲) (۱- مثل) (۱۱) ایک پھول جو سادن کے پینے میں

کھتا ہے (۲) فضل خریف جس میں دھان۔ جوار۔ باجرہ کئی وغیرہ اناج پیدا ہوتے ہیں (۳) وہ مٹھائی آم ترکاریاں اور میوہ وغیرہ جو سادن کے

پینے میں جھولے کے سامان کے ساتھ ددھاکے گھر سے دُپھن کے

ہاں بھیجا جاتا ہے (۴) سادن کے پینے کی وہ رات جب پورا چاند ہو

جاتا ہے (۵) سادن کے گیت۔

سادہ۔ (۱- مذ) (۱۱) تاجر۔ سوداگر۔ بیوپاری (۲) ہماجن، بینکر (۳) دکاندار

(۴) صراف (۵) دولت مند (۶) ذی عزت (۷) شریف (۸) عزت کا

لقب جس سے ہماجنوں کو مخاطب کیا جاتا ہے (صفت) دیانتدار۔ امانتدار۔

سالا۔ (سا۔) (۱- مذ) (۱- مذ) ہندوؤں میں شادی کے دن۔ شادیوں کا موسم۔

(۲) دقت۔ موسم (۳) کھیتی کاٹنے کا دقت۔

سالامچکنا۔ (۲- محاورہ) بہت سی شادیاں ہونا۔

ساہنیا (ساہینم)۔ (۱- مذ) ادبیت۔ ادب۔

ساہس۔ (س۔) (۱- مذ) جبر، ظلم (۲) شدت۔ تشدد (۳) جرأت و استقلال۔

ساہل۔ ساہول۔ (سا۔) (۱- مذ) (۱- مذ) لوہے یا پتھر کا وہ

کندھے دار گولا جس میں ڈوری بانڈھ کر معمار لوگ دیوار کی گچی کا پتہ

چلاتے ہیں۔ پنسال۔

ساجو۔ (سا۔) (۱- مذ) (۱) خیر خواہ۔ دوست (۲) سنی۔ داتا (۳)

دیانت دار (۴) نیک نام (۵) سوداگر۔

ساجوکار۔ (۱- مذ) (۱) ہماجن۔ بینکر (۲) صراف (۳) سود پر

روپیہ چلانے والا۔

ساجوکارا۔ (۱- مذ) (۱) صراف (۲) ساہوکاروں کا بازار۔ ایکس چینج۔

(Exchange) (۳) صراف کا پیشہ۔

ساجوکاری۔ (۱- مذ) (۱) سوداگری۔ تجارت (۲) صراف کا پیشہ۔

(۳) دیانت داری (۴) شرافت۔

ساہی۔ (سا۔) ہی (۱- مذ) (۱) سپہ۔ خاریشت۔ ایک جانور جس کے تمام

بدن پر کانٹے ہوتے ہیں۔ خیال ہے کہ جس گھر میں ساہی کا کاشا ڈال دیا

جائے وہاں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔

سائگر۔ (سا۔) گر (۱- مذ) جندک پھل جو چار میں ڈال جاتی ہے۔

سائگی۔ (سا۔) گی (۱- مذ) (۱) سانگ بھرنے والا۔ بھانڈ۔ نعال (۲)

(مث) بیل گاڑی کا جوا (۳) گاڑی کے آگے کا وہ حصہ جس کے

دونوں طرف ٹکڑیاں بانڈھ کر جالی بن دیتے ہیں تاکہ سامان

دیزرہ کرنے نہ پائے (۴) گاڑی بان کے بیٹھنے کی جگہ۔

سان لینا۔ (سا۔) لے۔ (نا) (۱- مص) (۱) شریک حال کر لینا۔ پھانت۔

شریک جرم کرنا۔

سانٹا۔ (سا۔) نا (۱- مص) (۱) گدھنا۔ ملانا (۲) بھر لینا۔ ملوث کرنا۔

آلودہ کر لینا۔

سانوال۔ (سا۔) وال (۱- مذ) (۱) ایک قسم کا چادل۔

سانوٹھا (سانوٹھا)۔ (۲- صفت) ہوشیار۔ چوکٹ۔ چوکس (۲) مستعد۔ آمادہ۔

سانوچیت۔ (ق۔) صفت (۲) بے فکر۔

سانولا۔ سانورا۔ (سا۔) فولا (سا۔) فورا (۲) صفت (۲) سیاہی مائل۔ یلج۔

نکیں۔ سبزہ رنگ آدمی۔

سانولا جانا۔ (۱- محاورہ) رنگ کالا ہو جاننا۔

سانولاسوننا۔ (۱- صفت) سانولے رنگ کا مرد۔

سانولی۔ (سا۔) لی (۲- صفت) نکیں صورت والی عورت۔

سانولی صورت۔ نکیں چہرہ۔ حسن علیج۔ خوبصورت۔

ساننی۔ (سا۔) نی (۱- مذ) (۱) جیس اور کھل بلا جوا چارہ جو کایوں اور

بھینسوں کو دودھ کی افراط کے لیے کھلاتے ہیں (۲) کھیتی باڑی اور

باغ کا کام کرنے والا آدمی۔

سائینٹ۔ (Sonnet) (سا۔) نینٹ (انگ۔) (۱- مذ) نظم کی ایک قسم۔

جس میں چودہ مصرعے ہوتے ہیں اور اس کی ایک خاص بحر ہوتی ہے۔

ساوچ۔ (ق۔) (۱- مذ) ایک اشعار کی جانور۔

ساورن۔ (Sovereign) (سا۔) ورن (انگ۔) (۱- مذ) (۱) انگلستان

کا ایک طلائی سکہ۔ بگتی۔ پونڈ۔ اشرنی۔

ساوڑ۔ سوڑ۔ (سا۔) وڑ (سوڑ) (۱- مذ) (۱) زچہ خانے کی نپاکی۔

(۲) زچہ خانہ۔

ساوڑی۔ (سا۔) و۔ (۱- مذ) (۱) وہ غلہ جو کھلیان میں سے عزیزوں

کو بانٹنے کے لیے الگ کر لیا جاتا ہے۔

ساون۔ (سا۔) ون (۱- مذ) (۱) بکری سال کا چوتھا ہیٹہ۔ برسات کا ہیٹہ

(۱۵ جولائی سے ۱۵ اگست تک)۔

ساون بھادول۔ (۱- مذ) (۱) برسات کا پہلا اور دوسرا ہیٹہ (۲) دھوپ

بھی بارش بھی (۳) وہ مکان جس میں چاروں طرف باریک باریک

جالیاں لگی ہوں۔ جو دیکھنے میں بارش کا سا ساں پیش کرتی ہوں (۴)

ایک قسم کی آتش بازی۔

ساون بھادول کا ملنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سادن کا ہیٹہ ختم ہو کر بھادول

کا ہیٹہ شروع ہونا۔ ان ایام میں اکثر بارش ہوتی ہے۔

ساون کی بھرن پڑنا۔ (۱- محاورہ) زور سے بارش ہونا۔

ساون کی بھڑکی۔ (۱- مذ) (۱) سادن کے پینے میں زوردار بارش۔

یا جگہ جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔  
 سائی - (سا۔ ای) - (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) وہ تھوڑی سی رقم جو معاملے ہو جانے کے بعد پیشگی دی جائے۔ بیعانہ۔ پیشگی (۲) ناپسنے گانے والوں کو پیشگی رقم۔  
 سائی بجانا۔ (۱) جس سے سائی لی ہو اس کی محفل میں ناپسنا گانا (۲) جس کام کی سائی لی ہو اسے پُرکارنا۔  
 سائیس - (سا۔ ایس) - (اڑ۔ ۱۔ مٹ) گھوڑے کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والا۔  
 سائیسٹی - (سا۔ ای۔ سی) - (اڑ۔ ۱۔ مٹ) گھوڑے کی رکھوالی اور خدمت کا پیشہ۔  
 سائیسٹی علم دریاؤں ہے۔ (مٹ) (۱) گھوڑے کے دکھ رکھاؤ کے لیے بڑی معلومات درکار ہے (۲) ہر پیشے کے خاص گڑ ہوتے ہیں۔ بڑائی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں۔  
 سائیکل - (سائیکل) - (سا۔ ای۔ گل) - (انگ۔ ۱۔ مٹ) بائیسکل۔ پاؤں سے چلانے کی دوپہتہ گاڑی۔  
 سائیں - (سا۔ ایس) - (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) خدا۔ رب (۲) آقا۔ مالک (۳) شوہر خضر (۴) دس (۵) عارف۔ کامل (۵) گدا۔ فقیر (اڑ) وہ لکھ جس سے درویش ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں۔  
 سائیں راج بلند راج چلوت راج محتاج راج - (ا۔ مٹ) (۱) خاندان کے دور میں عورت جتنا آرام اور عیش کرتی ہے۔ اولاد کے دور میں اتنا آرام نہیں ملتا۔  
 سائیں کے سو کھیل ہیں - (ا۔ مٹ) (۱) خدا کسی کام کے لیے سینکڑوں ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ خدا ہر کام کو ہر طرح کر سکتا ہے۔  
 سائیں سائیں - (سا۔ ایس۔ سا۔ ایس) - (دہ۔ ۱۔ مٹ) ہوا کے چلنے کی آواز ہوا کی سرسراہٹ۔  
 سائیں سائیں کرنا (ہونا) - (ا۔ محاورہ) (۱) کمزوری کی وجہ سے جسم میں سنسنیاں دوڑنا (۲) ہوا کی وجہ سے درختوں کے پتوں میں سے آواز نکلنا (۳) وحشت یا دیوانی برتاؤ۔  
 سائیا - (سا۔ یا) - (پڑ۔ ۱۔ مٹ) یورپ کی عورتوں کا ہنگامہ یا گھاگھا۔ گاؤں۔  
 سائیر - (سا۔ ی) - (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) پرچائیں۔ چھاؤں۔ پرتو (۲) جن بھوت کا اثر۔ آسیب (اڑ) پناہ۔ مخالفت - سرپرستی (۳) حمایت - (۵) محبت کا اثر (۶) تصویر یا فوٹو میں بنائی ہوئی یا قدرتی طور پر آئی ہوئی سیاہی (۷) (۸) ہوسوں کی اصطلاح، سفید کیے ہوئے تانے میں کسی نقص کی وجہ سے آجانے والی سیاہی (۸) (۹) علم کی اصطلاح، باہر کو نکلا ہوا۔  
 سائیر آتارنا - (ا۔ محاورہ) جن بھوت کا اثر دور کرنا۔ آسیب دغ کرنا۔  
 سائیر آتارنا - (ا۔ محاورہ) (۱) آسیب دغ ہونا (۲) سائیر ڈھلنا۔ دن ڈھلنا۔  
 سائیر اٹھنا - (ا۔ محاورہ) سرپرست کا تر جانا۔  
 سائیر اٹھن - (دہ۔ مٹ) سائیر ڈالنے والا مخالفت یا مدد کرنے والا۔  
 سائیر بال جمانا - (دہ۔ مٹ) (۱) فرضی پرند جمانا سائیر جس کے متعلق مشہور ہے

سائبان - (سا۔ بو۔ بان) (دہ۔ ۱۔ مٹ) مکان یا نیچے کے آگے دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے ٹین کی چادریں یا پھوس کا چھپر۔ مکان کے آگے پڑے یا بانات کا ٹنگرا۔  
 سائڈ - (Side) (سا۔ اڈ) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) طرف۔ پہلو۔ جانب - اعلیٰ نسل (۲) کنارہ۔ حاشیہ۔ سرسرا۔  
 سائڈ - (سا۔ اڈ) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) پھرنے والا۔ سیر کرنے والا۔ سیلانی (۲) باقی بچا ہوا تمام سب - سارا (۳) پٹنگلی۔  
 سائڈ خرچ - (ا۔ مٹ) ہنگامی یا غیر مستقل یا عارضی خرچ۔ متفرق خرچ۔ (Contingent)  
 سائڈ واٹر - (ا۔ مٹ) پھرنے والا۔ گردش کرنے والا۔  
 سائرن - (Siren) (سا۔ ا۔ رن) (انگ۔ ۱۔ مٹ) ایک آلہ جس سے بلند آواز پیدا ہوتی ہے۔ جھونپو۔  
 سائز - (Size) (سا۔ ایز) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) قد۔ قامت - ڈیل ڈول۔ جسمت (۲) تاپ ڈھپٹی ہوتے، کپڑے وغیرہ کا۔  
 سائفن - (Syphon) (انگ۔ ۱۔ مٹ) ٹیڑھی نالی جس کے ذریعے پانی کسی اونچے برتن کے کنارے سے گزر کر نیچے کے برتن میں گرتا ہے۔ (۲) نالہ یا نہر جو کسی دوسری ندی اور یا پانی کے نیچے سے گزرا جائے۔  
 سائل - (سا۔ ایل) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سوال کرنے والا۔ پوچھنے والا۔ (۲) چاہنے والا۔ طالب (۳) جاری ہونے والا (۴) (اڑ) فقیر۔ بھکاری (۵) امید دار (۶) عرضی دینے والا۔  
 سائلہ - (سا۔ ایل) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سوال کرنے والی (۲) عرضی گزارنے والی۔  
 سائلین - (سا۔ ایلین) (دہ۔ ۱۔ مٹ) سائل کی جمع۔ سوال کرنے والے۔  
 سائلم - (دہ۔ ۱۔ مٹ) چرنے والا۔  
 سائلہ - (دہ۔ ۱۔ مٹ) چرنے کے لیے بھیجا ہوا جانور۔  
 سائن - (Sign) (سا۔ این) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) نشان۔ علامت (۲) دخل سائن بورڈ - (Sign Board) (انگ۔ ۱۔ مٹ) دکان یا سڑک کے نام کا لکڑی یا ٹین کی چادری کا تختہ۔  
 سائن پوسٹ - (انگ۔ ۱۔ مٹ) دوپتھر یا تختہ جس پر سڑک کا نام اور راستہ بتانے والا نشان بنا ہوا ہو۔  
 سائنس - (Science) (سا۔ انس) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) علم۔ (۲) منضبط علم۔ وہ علم جس کی بنیاد تجربات پر ہو۔  
 سائنس دان - (انگ۔ ۱۔ مٹ) سائنس کے کسی شعبے کا ماہر۔  
 سائنسی - (سا۔ این۔ سی) - (اڑ۔ مٹ) سائنس سے متعلق۔  
 ساؤ - (دہ۔ مٹ) ساہو۔ ایمان دار۔ مصوم۔  
 ساؤ چیت - (دہ۔ مٹ) بے فکر۔  
 ساؤنڈ - (Sound) (سا۔ آؤ) (انگ۔ ۱۔ مٹ) آواز۔ صوت۔  
 ساؤنڈ بکس - (Sound Box) (انگ۔ ۱۔ مٹ) گراموفون کا وہ دہرنا جس کے ذریعے ریکارڈ سے آواز نکلتی ہے۔  
 ساؤنڈ پروف - (Sound Proof) (انگ۔ مٹ) وہ مکان

جس پر پڑ جائے وہ بادشاہ بن جائے۔  
 سایہ بن کر ساتھ رہنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی وقت مجھ سے ہونا۔ ہر وقت ساتھ رہنا۔  
 سایہ پروردہ۔ (۲۔ صفت) (۱) خانہ نادغلام (۲) لاڈلا۔  
 سایہ پڑنا۔ (۱) زمین پر کسی چیز کا سایہ پڑنا۔ پرچھائیں یا عکس پڑنا (۲)  
 پرچھاؤں پڑنا۔ کسی کی خوبصورتی سے کرینا۔ صحبت کا اثر ہونا۔  
 سایہ خدا۔ (۲۔ صفت) (کنایتاً) بادشاہ۔ ظل اللہ۔  
 سایہ دار۔ (۱۔ صفت) جس کے نیچے چھاؤں ہو۔  
 سایہ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) اثر ڈالنا۔ فیض صحبت سے مستفید ہونا۔  
 سایہ ڈھلنا۔ (۱۔ محاورہ) تیسرے پہر کا وقت ہونا۔ سورج کا مغرب  
 کی طرف جھک جانا۔  
 سایہ زدہ۔ (۲۔ صفت) آسیب زدہ جس پر جہنم کی موت کا اثر ہو۔  
 سایہ سمر پھر قائم ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بزرگ کا زندہ ہونا۔  
 سایہ سمر سے اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) بزرگ۔ مرنے۔ سرپرست یا  
 محافظ کا مرجانا۔  
 سایہ عیاضت۔ (۲۔ صفت) (۱) ہربانی کا سایہ (۲) حمایت۔ ہربانی۔  
 سایہ گستر۔ (۲۔ صفت) ہربان۔ توجہ کرنے والا۔ مدد یا حمایت کرنے  
 والا۔ سرپرستی کرنے والا۔  
 سایہ ہو جانا۔ (۱) صحبت کا اثر ہو جانا (۲) آسیب زدہ ہو جانا۔  
 سائے تلے آنا۔ حفاظت میں آنا۔ سرپرستی یا پناہ میں آنا۔  
 سائے سے (بھاگنا) بھڑکنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت زیادہ ڈرنا (۲)  
 نفرت کرنا (۳) بدگنا۔ دُور دُور ہونا۔  
 سائے سے دُور دُور رہنا۔ (۱۔ محاورہ) نفرت کرنا۔  
 سائے سے ڈرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت زیادہ ڈرنا (۲) کسی پر اعتماد نہ کرنا۔  
 سائے سے جھلنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت نفرت کرنا۔ بُغض رکھنا۔  
 سائے کی طرح ساتھ ساتھ پھرنے۔ (۱۔ محاورہ) ہر وقت ساتھ لگے رہنا۔  
 سائے میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) چھاؤں میں آنا (۲) پناہ یا  
 سرپرستی حاصل کرنا۔  
 سائے میں پلنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے ہاں پرورش پانا۔

## س۔ ب

سب۔ (۱۔ صفت) (۱) گالی دینا۔ لعن طعن کرنا (۲) بڑبھلا کرنا۔  
 سب دشمن۔ (۲۔ صفت) (۱) لعن طعن کرنا۔ گالی گونج۔ بڑبھلا کرنا۔  
 سب۔ (۲۔ صفت) (۱) سارا۔ کل۔ تمام (۲) ہر ایک (۳) ہر طرح کا (۴)  
 ہلوا۔ سالم۔ کامل (۵) شامل۔ مشترک (۶) بالکل۔ سراسر۔ یک قلم (۷)  
 میزان۔ مجموعی طور پر (۸) عام لوگ۔ ساری دنیا۔  
 سب اپنے بہو بیگانہ۔ (۱۔ صفت) (کنایتاً) ایسے بہو ہیں کہ بہو دوسرے  
 خاندان کی بیٹی ہوتی ہے۔  
 سب ایک ہی پھیل کے چٹے چٹے ہیں۔ (۱۔ صفت) سب ایک

جیسے شرارتی اور تکلیف دینے والے ہیں۔  
 سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ (۱۔ مثل) سب کی حالت ایک  
 جیسی ہے۔  
 سب بات کھوٹی پہلے دال روٹی۔ (۱۔ مثل) پیٹ کی ٹکر سب  
 سے پہلے۔ اول طعام بعدہ کلام۔  
 سب چیز کی لہر بہ رہے۔ (۱۔ مثل) کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سب  
 کچھ موجود ہے۔  
 سب درجہ نکلنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہر ممکن جگہ تلاش کرنا (۲) مارے  
 مارے پھرنے۔  
 سب دن چنگے تہوار کے دن ننگے۔ (۱۔ مثل) فضول خرچ آدمی  
 موقع پر کچھ پاس نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی اٹھاتا ہے۔  
 سب دھان (بارہ) بائیس پسیری۔ (۱۔ مثل) بھلے بُرے کی  
 کوئی تیز نہیں۔  
 سب سے بڑی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی سے کوئی واسطہ یا تعلق نہ رکھنا۔  
 سب سے پھیل چپ۔ (۱۔ مثل) خاموشی سب سے بہتر۔  
 سب طرح سے حاضر ہونا۔ ہر ممکن خدمت کے لیے تیار ہونا۔  
 سب کا سب۔ (۱۔ متعلق فعل) کل۔ سارے کا سارا۔ تمام وکمال۔  
 سب کچھ۔ (۱۔ متعلق فعل) ہر ایک بات۔ ہر ایک چیز۔ سب چیز۔ ہر بات۔  
 سب کچھ گیا میاں کی رخ نہ گئی۔ (۱۔ مثل) کنگال ہو گئے پھر بھی  
 نشی ماننے کی عادت نہ چھوٹی۔  
 سب کچھ ہو ہو کر۔ (۱۔ متعلق فعل) معاملے ہو کر۔ کارروائی ختم  
 ہو جانے کے بعد۔  
 سب کو ایک آنکھ (نظر) دیکھنا۔ (۱۔ صفت) کو یکساں سمجھنا۔ کسی  
 کی طرف داری نہ کرنا (۲) کانے آدمی کے بارے میں مزاحمت  
 بہت ہے۔  
 سب کو ایک لالھی (سے) مانگنا۔ (۱۔ مثل) مرتبے اور حیثیت کا  
 لحاظ نہ کر کے ہر ایک سے یکساں برتاؤ کرنا۔  
 سب کوئی۔ (۱۔ متعلق فعل) ہر شخص۔ ہر ایک۔  
 سب کہنے کی باتیں ہیں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بناوٹی باتیں ہیں۔ اصلیت  
 کچھ نہیں (۲) خیالی باتیں ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا۔  
 سب کہیں۔ (۱۔ متعلق فعل) ہر جگہ۔ سب جگہ۔ ہر کہیں۔  
 سب کے دیکھتے۔ (۱۔ متعلق فعل) سب کی موجودگی میں۔ لوگوں کے سامنے۔  
 اعلان۔ کھلم کھلا۔  
 سب گنوں پورا۔ (۱۔ مثل) اس شخص پر طرز جس میں ساری ہی بڑیاں  
 پانی جاتی ہوں۔  
 سب ہاتھ سے بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر کہتے ہیں جب اہل محل  
 کسی کے انتظار میں کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں۔  
 سب۔ (Sub) (۱) (صفت) نیچے۔ تلے۔ زیر۔ تحت میں۔ نائب۔  
 ماتحت۔ سب سب سب (Subordinate) (۱) (صفت) ماتحت۔ تابع۔  
 سب سب سب (Subordinate) (۱) (صفت) ماتحت۔ تابع۔

سب آفس (Sub Office) (انگ۔ ۱۔ مٹ) دفتر ماتحت ڈاکخانہ۔  
 سب اسسٹنٹ سرجن (Sub Asstt. Surgeon) اسسٹنٹ سرجن کا ماتحت ڈاکٹر۔  
 سب انجینئر (Sub Engineer) (انگ۔ ۱۔ مذ) انجینئر کا نائب۔  
 سب انسپکٹر (Sub Inspector) انسپکٹر کا نائب (پولیس) تھانے دار۔ کوتوال۔  
 سب اوور سیر (Sub Overseer) اوور سیر کا نائب۔  
 سب ایجنٹ (انگ۔ ۱۔ مذ) ایجنٹ کے ماتحت کام کرنے والا (۲) وہ گشتہ یا دوکاندار جو کسی بڑے ایجنٹ سے مال لے کر فروخت کرتا ہو۔  
 سب ایجنسی (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) سب ایجنٹ کا دفتر (۲) چھوٹی ایجنسی۔  
 سب ایڈیٹر (انگ۔ ۱۔ مذ) ماتحت ایڈیٹر۔  
 سب پوسٹ آفس (Sub Post Office) (انگ۔ ۱۔ مذ) شہر کے کسی محلے یا علاقے کا ڈاک گھر جو جنرل پوسٹ آفس کے ماتحت ہو۔  
 سب پوسٹ ماسٹر (Sub Post Master) سب پوسٹ آفس کا اچارج۔  
 سب جج (Sub Judge) (انگ۔ ۱۔ مذ) وہ عالم دیوانی جو جج کے ماتحت ہوتا ہے۔  
 سب ججی (۱۔ مٹ) (۱) سب جج کا جہدہ (۲) سب جج کا دفتر۔  
 سب ڈویژن (Sub Division) (انگ۔ ۱۔ مذ) ضلع کا ایک حصہ۔  
 سب ڈویژنل آفیسر (Sub Divisional Officer) (انگ۔ ۱۔ مذ) وہ افسر جو سب ڈویژن کا اچارج ہو۔  
 سب رجسٹرار (Sub Registrar) (انگ۔ ۱۔ مذ) رجسٹرار کا نائب جو رجسٹریوں کی تصدیق کرتا ہے۔  
 سب سکرٹری (Subscriber) (انگ۔ ۱۔ مذ) خریدار۔ چندہ دینے والا۔ چندہ دینے والوں کی فہرست میں نام لگانے والا۔  
 سب کمیٹی (Sub Committee) (انگ۔ ۱۔ مٹ) بڑی کمیٹی کے ارکان کی بنائی ہوئی چھوٹی کمیٹی۔  
 سب لیٹ (Sublet) کرایہ دار کا مکان اور لو کو لٹے پر اٹھا دینا۔  
 سب میرین (Submarine) (سب۔ ے۔ ین) (انگ۔ ۱۔ مٹ) آب دوز۔ کشتی۔ تحت البحریہ۔  
 سب (س۔ با) (۱۔ مذ) ین میں مکہ بلیس کے شہر کا نام جو کہ حضرت سلیمان کی ہمصر تھی۔  
 سبائیہ (سب۔ با۔ بہ) (۱۔ مٹ) انگشت شہادت۔ انگوٹھے کے پاس کی انگلی۔  
 سباس (س۔ باس) (۱۔ مذ) (۱) خوش بو۔ عطر۔ پھیل (۲) ہلک والا۔ خوشبو دار۔  
 سباق (س۔ باق) (۱۔ مذ) علم و حساب کی ہمارت۔ سبقت لے جانا۔

سیاق کے ساتھ مل کر آتا ہے (سیاق و سباق)۔  
 سبائی (س۔ با۔ امی) (۱۔ مٹ) سب (قدیم ین) کا باشندہ۔ سبائے منسوب ہے۔  
 سبب (س۔ ب) (۱۔ مذ) (۱) وجہ۔ باعث۔ موجب۔ واسطہ۔ لینے۔ کارکن (۲) حجت۔ دلیل (۳) ذریعہ۔ وسیلہ۔ واسطہ (۴) وہ چیز جو دو چیزوں کو ملائے۔ پیوند۔ جوڑ (۵) علم عروض کی اصطلاح (۶) کلہ دوسری (۷) فلسفے کی اصطلاح (۸) وہ چیز جس سے دوسری چیز کا وجود حاصل ہو۔  
 سبب ٹھکانا (۱۔ محاورہ) وجہ ظاہر ہونا۔  
 سببیت (س۔ ب۔ بی۔ یت) (۱۔ مٹ) (۱) عرض و دعایت یہ اصول یا کلیتہ کہ ہر شے کا سبب یا علت ہوتی ہے۔  
 سبقت (س۔ ۱۔ مذ) آرام اور عبادت کا دن جو مسلمانوں کے یہاں بچہ۔ یہودیوں میں سینچر اور عیسائیوں میں اتوار ہے۔ انگریزی۔ (Sabbath)  
 سبجیکٹ (Subject) (انگ۔ ۱۔ مذ) موضوع۔ مضمون۔ رعیت (۲) مگر شہ۔ سبقت ٹرک (س۔ ۱۔ مذ) (۱) سات آسمان (۲) شش چہت۔  
 سبحان (سب۔ حان) (س۔ کلہ تو صیف) (۱) خدا کو پاک سے یاد کرنا (۲) خداوند پاک۔  
 سبحان اللہ (کلہ تھین) (۱) اللہ پاک ہے (۲) میں اللہ کو پاک کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ دائرہ تعجب یا طرز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔  
 سبحان تیری قدرت (۱۔ مٹ) (۱) اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے۔ (۲) تیرے معروضہ بولی (۳) تعجب اور طرز کا اظہار۔  
 سبحن (سب۔ حن) (س۔ ۱۔ مٹ) تسبیح۔ ہالا۔  
 سبحہ سنج۔ سبحہ گرداں (س۔ مٹ) تسبیح پڑھنے والا۔  
 سبڈ (س۔ بڈ) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) ڈاکرا۔ ڈگری (۲) نذر کی ڈالی۔  
 سبز (سب۔ ز) (۱) ہرا (۲) پتہ۔ تازہ تازہ۔ شاداب۔ ترد تازہ۔ سبز باغ دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دھوکا دینا۔ فریب کرنا (۲) فائدہ پہنچنے کی چھوٹی امیدیں دلانا۔  
 سبز بخت (سب۔ ز) (سب۔ ز) (۱) اندر بجا امانت کا ایک سوانی کردار۔ (۲) شراب (۳) خوبصورت عورت جو سبز رنگ کے لباس میں ہو۔  
 سبز پوش (سب۔ ز) (سب۔ ز) (۱) سبز لباس والا (۲) اکتائیتا۔ زاہد۔ عابد۔ سبز قدم (سب۔ ز) (سب۔ ز) (۱) نامبارک۔ شوم۔ سبز ہونا۔ (۱) ہرا بھرا ہونا۔ ترد تازہ جو نا (۲) رونق پکھلانا۔  
 سبزہ (سب۔ ز) (سب۔ ز) (۱) مذ (۱) روئیدگی۔ نباتات (۲) زرد۔ پتہ۔ (۳) دائرہ ہریا دل۔ شادابی۔ طاوت۔ تازگی (۴) کان کا ایک نوب (۵) نیل کنٹھ (۶) ایک قسم کا آم (۷) وہ گھوڑا جس کی سینڈی نل پر سیاہی ہو (۸) وہ سبزی جو ڈاکھی مہنوں کے نئے بال نکلنے سے پہلے چہرے پر نمودار ہوتی ہے۔

سبزہ آغاز۔ (ف۔ صغ) جس کے ڈاڑھی موچیں نکلنی شروع ہوئی ہوں۔ فوجان فوجیز لڑاکا۔  
 سبزہ آنا۔ (۱۔ محاورہ) ڈاڑھی موچھ نکلنی شروع ہونا۔  
 سبزہ لے گا نہ۔ (۱۔ محاورہ) خود روگھاس۔ جڑی بوٹیاں۔  
 سبزہ خط۔ (ف۔ ۱۔ مذ) نئی ڈاڑھی موچیں نکلنے کی سبزی۔  
 سبزہ خوابیدہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) جھکی ہوئی سبز گھاس۔  
 سبزہ رنگ۔ (ف۔ صغ) ۱) ساؤلا (۲) کنٹیا (۳) ساؤلا مشق۔  
 سبزہ زار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) جہاں دُور دُور تک ہری گھاس لگی ہوئی ہو۔  
 سبزہ شمشیر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ رنگت جو اسیل تلوار کے جوہر میں ہوتی ہے۔  
 سبزہ اہلبھانا۔ (۱۔ روزمرہ) گھاس کا ہوا کے جھونکوں سے ہلنا یا ہلانا۔  
 سبزہ (فوغاستہ) فوجیز۔ (ف۔ ۱۔ صغ) نیا نیا لگا ہوا سبزہ۔  
 سبزی۔ (سب۔ زری) (ف۔ ۱۔ مٹ) ۱) سبز رنگت (۲) ہریاولی ہریالی (۳) ساگ پات۔ ترکاری (۴) تلوار کے جوہر کارنگ (۵) ڈار۔ ۱۔ مذ) بھنگ۔  
 سبزی پینا۔ (۱۔ محاورہ) بھنگ پینا۔  
 سبزی خورد۔ (ف۔ صغ) صرف سبزیاں ترکاریاں کھانے والا۔ گوشت سے پرہیز کرنے والا۔ دیگی میٹرن۔ (Vegetarian)  
 سبزی فروش۔ (ف۔ صغ) ۱) سبزیاں ترکاریاں بیچنے والا۔ کُوبرا۔ (۲) بھنگ فروش۔  
 سبزی منڈی۔ (۱۔ مٹ) ترکاریوں کی منڈی۔  
 سبط۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) بیٹے بیٹی کی اولاد۔ پوتا۔ نواسا (۲) یہودی قوم۔  
 سبطین۔ (سب۔ طین) (ع۔ ۱۔ مذ) دو پوتے یا دو بہتے (۲) حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ (جو رسول اللہ صلم کے نواسے تھے)۔  
 سبغ۔ (ع۔ صغ) سات۔ ۷۔  
 سبغ سیارہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) سات سیارے (۱) مریخ (۲) مشتری (۳) زحل (۴) زہرہ (۵) عطارد (۶) شمس (۷) قمر۔  
 سبغ مشائی۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) سُوْرہ فاتحہ جس میں سات آیتیں ہیں۔  
 مشائی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر دو گانے میں دو بار پڑھی جاتی ہے یا اس واسطے کہ دو دفعہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ کتے میں دوسری مرتبہ مدینے میں۔  
 سبق۔ (س۔ یق) (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) کتاب کا وہ حصہ جو شاگرد استاد سے پہلے درس ایک مرتبہ میں پڑھے (۲) عبرت۔ تجربہ۔ نصیحت (۳) سزا۔ گوش مالی (۴) سبقت۔ پیش روی۔ جمع ۱۰ اسباق۔  
 سبق بر زبان ہونا۔ (۱۔ محاورہ) سبق اچھی طرح یاد ہونا۔  
 سبق پڑھانا۔ (۱) درس دینا (۲) سکھانا۔ طریقہ بتانا (۳) بہکانا۔ چٹی پڑھانا۔ دم دینا۔  
 سبق پڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) ۱) تعلیم لینا۔ سیکھنا (۲) طریقہ معلوم کرنا (۳) سکھانے میں آجانا (۴) نصیحت لینا۔ عبرت حاصل کرنا۔  
 سبق خواں۔ (ف۔ ۱۔ مذ) طالب علم۔  
 سبق دینا۔ (۱۔ محاورہ) ۱) پڑھانا۔ سکھانا (۲) نصیحت کرنا۔ کام کی بات

بتانا (۳) سزا دینا۔ گوشالی کرنا۔  
 سبق روال ہونا۔ (۱۔ محاورہ) جو کچھ پڑھا یا گیا ہو وہ خوب اچھی طرح یاد ہونا۔  
 سبق لینا۔ (۱) آگے پڑھنا (۲) سیکھنا (۳) عبرت پکڑنا۔  
 سبق ہلنا۔ (۱) سزا ہلنا۔ تادیب ہونا (۲) عبرت حاصل ہونا۔ (۳) درس ہلنا۔  
 سبقت۔ (سب۔ قت) (ع۔ ۱۔ مٹ) ۱) کسی سے آگے نکل جانا (۲) پیش قدمی (۳) ترجیح۔ فزیت۔ برتری۔ برائی۔ شرف۔  
 سبقت کرنا۔ (صغ) رکب۔ اپیل کرنا۔ شروع کرنا۔ ابتدا کرنا۔  
 سبقت لے جانا۔ (۱۔ محاورہ) اپنی برتری ثابت کر دینا۔ فزیت لے جانا۔ غالب آجانا۔  
 سبک۔ (س۔ بک) (ف۔ صغ) ۱) ہلکا۔ کم وزن (۲) تیز۔ چست و چالاک (۳) کم ظن (۴) ذلیل۔ رسوا۔ بے عزت (۵) شرمندہ (۶) بے تعلق۔  
 سبک بار۔ (بار۔ بال) (ف۔ صغ) جس پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ اکیلا پھڑا دم۔ فارغ البال۔  
 سبک یا۔ (ف۔ صغ) تیز رفتار۔ جلدی چلنے والا۔  
 سبک پائی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) تیز چال۔ تیز رفتاری۔  
 سبک پرواز۔ (ف۔ ۱۔ صغ) تیز اڑنے والا۔ جلدی جلدی ہمارنے والا۔  
 سبک تیز۔ (ف۔ صغ) ۱) چست و چالاک (۲) تیز رفتار۔  
 سبک دست۔ (ف۔ صغ) ۱) ہاتھ کے سبز کا کام جلدی کرنے والا۔ پُچھرتلا تیز دست (۲) جس کا ہاتھ میں نفاست ہو۔  
 سبک دستی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) ۱) ہاتھ کی پُچھرتی (۲) کام کرنے والے کے ہاتھ کی نفاست۔  
 سبک دوش۔ (ف۔ صغ) ۱) جس پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ فارغ البال (۲) جو فارغ کر دیا گیا ہو (۳) آزاد۔ بے تعلق (۴) بری الذمہ۔  
 سبک دوشی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) ۱) آزادی۔ بے تعلق (۲) کسی کام کی ذمہ داری سے دست برداری۔  
 سبک رفتار۔ (ف۔ صغ) تیز چلنے والا۔  
 سبک رفتاری۔ (ف۔ صغ) تیز چال۔  
 سبک روح۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) ۱) خوش رہنے والا۔ بے تعلق۔  
 سبک سار۔ (ف۔ صغ) ۱) ہلکا۔ چھوڑا۔ بے عزت۔ بے وقار۔ (۲) کینہ۔ برزیل۔  
 سبک ساری۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) ۱) چھوڑ دینا (۲) ذلت (۳) بے تعلق۔  
 سبک سر۔ (۱) اوجھا۔ کم ظن۔ کینہ (۲) بے حوصلہ۔ بے غیرت۔  
 سبک مسری۔ (۱) تمہیں پن (۲) حماقت۔ ہلکا پن۔  
 سبک سیر۔ تیز رفتار۔ تیز چلنے والا۔  
 سبک عیال۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) تیز چلنے والا گھوڑا۔  
 سبک کرنا۔ (۱۔ محاورہ) شرمندہ کرنا۔ بے عزت کرنا۔  
 سبک کام۔ (ف۔ صغ) تیز رفتار۔ جلدی چلنے والا۔  
 سبک جونا۔ (۱۔ محاورہ) ۱) شرمندہ ہونا (۲) خلیف ہونا۔ پُچھرتلا



سبیل لگانا۔ (۱۔ محاورہ) بیاسے راہگروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔  
سبیل نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ذریعہ یا وسیلہ پیدا کرنا (۲) طریقہ وضع کرنا

## س۔ پ

سپا۔ (سپ۔ پا) (۱۔ ۵۔ ۱۰۔ ۱۱) نشاۃ۔ ہدف (۲) ڈھنگ۔ ڈھب۔  
(۳) فاصلہ (۴) مزارع (۵) سبب کا ضعف ملکہ۔  
سپا بیٹھا۔ (۱۔ محاورہ) کام مرضی کے موافق ہو جانا۔  
سپا لڑانا۔ (۱۔ محاورہ) پتیس جمانا۔ ڈھنگ ڈالنا۔ اچھا تعلق قائم کر لینا۔  
سپا لڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) موقع ملنا۔ رسائی ہونا (۲) موافقت ہونا۔  
ہم نوائی ہونا (۳) آشنا فی ہونا۔  
سپا لگانا (لگانا) مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نشاۃ لگانا۔ نشاۃ پر مارنا (۲)  
آشنا فی کرنا (۳) پھانسا۔ حال ڈالنا۔ پھندا لگانا۔  
سپاٹ۔ (س۔ پاٹ) (۱۔ ۵۔ ۱۰) صفت (۱) ہم دار۔ برابر۔ ایسی سطح جو لینیر  
اُردو بیچ کے ہو۔ چھیل (۲) صاف۔ سادہ۔  
سپاٹنا۔ (س۔ پا۔ ٹا) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) تھپٹ۔ طرارہ (۲) ایسی دوڑ جو بہت  
تیز دوڑی جائے (۳) سیر تاشا۔  
سپاٹا بھرنے۔ سپاٹا لگانا۔ سپاٹا مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) طرارہ بھرنے۔  
دوڑ لگانا (۲) پرندے کا اڑ جانا۔  
سپارا۔ (س۔ پا۔ را) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) تھیب کی ٹوپی۔ سر ڈگر۔ شخف۔  
سپارہ۔ سپیارہ۔ (س۔ پا۔ رہ) (س۔ پا۔ رہ) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) قرآن شریف  
کو تیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پارہ قرآن۔  
سپارو۔ (س۔ پا۔ رو) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) سر ڈگر۔ تھیب۔  
سپاری۔ (س۔ پا۔ ری) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) ڈلی۔ چھالیہ (۲)  
شخف۔ سر ڈگر۔  
سپاس۔ (س۔ پاس) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) شکر۔ شکر گزاری (۲)  
تقریف۔ شائش۔ ثنا۔  
سپاس گزار۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) شکر۔ ادا کرنے والا (۲) ثنا خواں۔  
سپاس گزاری۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) شکر۔ ادا کرنے والا (۲) شکر گزاری۔  
سپاس نامہ۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) تحریری اظہار شکر۔ ایڈریس۔  
سپاہ۔ (س۔ پا۔ ہ) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) فوج۔ لشکر۔  
سپاہ سالار۔ سپہ سالار۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) فوج کا کمان دار۔ کمانڈر ان چیف۔  
سپاہ گری۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) سپاہی کا کام یا پیشہ۔  
سپاہ گری کے تیس فن ہیں۔ (۱) ایشل (۲) کوئی کام انجام دینے میں ہر  
تدبیر آزمانی چاہیئے۔  
سپاہی۔ (س۔ پا۔ ہی) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) فوجی۔ لشکر (۲) (اُردو) پولیس  
کانشیل۔ سنتری۔  
سپاہی کی جو رو۔ جھنڈہ رائڈ۔ (۱) فوجی ملازمت کرنے والوں کو  
اپنے گھر پر رہنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔

سہا بگ جانا (۱) کسی چیز کا بناوٹ میں نفیس ہونا (۲) فارغ یا  
بڑی الذمہ ہونا۔  
سنگنا۔ (س۔ بگ۔ نا) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) سسکی بھرنا۔  
سنگلی۔ (س۔ بگ۔ لی) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) سسکی۔  
سنگلیاں مارنا۔ (۱۔ محاورہ) سسکیاں بھرنا۔ دوستے میں ہچکیاں لینا۔  
سنگلی۔ (س۔ بگ۔ لی) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) سخت (۲) ذلت۔ رسوائی۔ بے عزتی  
سز زندگی (۳) نزاکت۔ چابک دستی۔ کام کی صفائی اور  
سختی۔ نازکی۔  
سنگی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) جھنت اُٹھانا۔ ذلت ہونا۔  
سنگل۔ (س۔ بگ۔ لی) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) آنکھ کا جالا۔ موتیا بند (۲)  
بغل گند۔  
سنگل۔ (س۔ بگ۔ لی) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) طریقے۔ ذریعے (۲) طرز زندگی۔ رہائش  
کا طریقہ (۳) قاعدہ۔ قانون۔ رسم (۴) روشن راییں۔ سبیل کی جمع۔  
سنگل۔ (س۔ بگ۔ لی) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) نقب زنی کا آلہ پھال۔  
سنگلو۔ (س۔ بگ۔ لو) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) گھرا۔ مٹکا۔  
سنگلو بدوش۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) کنڈے پر گھرا اُٹھائے ہوئے۔ شاعری میں  
عام طور پر ساقی (مستوق) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔  
سنگلو چیم۔ (س۔ بگ۔ لو۔ چیم) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) چھوٹا گھرا۔ ٹھلیا۔  
سنگلو رن۔ (س۔ بگ۔ لو۔ رن) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) بڑا۔  
سنگلورا۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) وہ پرہیزگار جس سے عورتیں بچتی ہیں۔  
سنگلوس۔ (س۔ بگ۔ لو۔ س) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) بھوسی۔ چوکر (۲) سڑکی خشکی۔  
سنگلوس۔ (س۔ بگ۔ لو۔ س) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) سڑک کے بالوں کی خشکی۔  
سنگلوس۔ (س۔ بگ۔ لو۔ س) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) مبارک۔ مسود۔  
سنگلوس گھڑی۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) مبارک لمحہ۔ نیک گھڑی۔ ساعت سید۔  
سنگلوس۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) دوا پختے تاروں کا ایک بروج میں ہونا۔  
سنگھا۔ (س۔ بگا۔ س) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) مجلس۔ محفل۔ جلسہ۔ جزم (۲) انجن۔  
جماعت۔ جمعا۔ پچانیت۔  
سنگھاپتی۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) میر محفل۔ میر مجلس۔ صدر جلسہ۔ سر تنج۔  
سنگھاسد۔ (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) شریک جلسہ۔ ممبر مجلس۔  
سنگھاگ۔ (س۔ بگا۔ گ) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) خوش نصیبی۔ اقبال مندی۔  
سنگھاگی۔ (س۔ بگا۔ گی) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) خوش نصیب۔ اقبال مند۔  
سنگھاؤ۔ (س۔ بگا۔ او) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) اچھی خوش قسمت (۲) اچھا برتاؤ۔  
(۳) خوش اخلاقی (۴) قاعدہ۔ ڈھنگ۔  
سنگھیتا۔ (س۔ بگا۔ ہی) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) فرمیت۔  
سنگھت (۲) اطمینان۔ خاطر جمع (۳) راحت۔ آرام۔ چین۔  
سنگھت۔ آسائش۔ آسودگی (۴) فراغت (۵) تہنائی۔ غلوت۔  
سنگیل۔ (س۔ بگیل۔ س) (۱۔ ۵۔ ۱۰) (۱) راستہ (۲) تدبیر۔ طریقہ (۳) صورت  
وسیلہ۔ سبب (۴) راہ گروں کو مفت پانی پلانے کا پیاد (۵) شہدے  
کرتارک یا دین راہ گروں کو ٹھنڈا پانی یا شربت پلانا۔  
سنگیل کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تدبیر کرنا۔ راہ نکالنا۔ بند بست کرنا۔

سپاہی کی روٹی سر نیچے کی۔ (رشل) سپاہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روزی پیدا کرتا ہے۔

سپاہیانہ۔ (رس۔ پا۔ ہ۔ یا۔ نہ) (ف۔ صف) (۱) سپاہی کی طرح (۲) بہادری کے ساتھ۔

سپہلت۔ (رس۔ مدر) سات۔ ہفت۔

سپہلت رشی۔ (رس۔ ۱۔ مذ) سات سیبیوں کا پچھا۔ ڈب البرستاؤں کی ایک شکل جو مات کے وقت شمال کی طرف نظر آتی ہے۔

سپیر۔ (رس۔ پز) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) ڈھال (۲) آڑ۔ روک (۳) پناہ۔

مخافت (۴) (صف) محافظ۔ مددگار۔ آڑے آنے والا۔

سپرانڈاز۔ (ف۔ صف) (۱) سپہ بھینکنے والا (۲) مارمانے والا۔

سپرانڈازی۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) ہتھیار ڈالنا (۲) مارنا۔

سپیر ہونا۔ (۱) محاورہ) آڑے آنا۔ دیوار بن کر کھڑے ہونا۔

سپئر۔ (Supper) (رس۔ پز) (انگ۔ ۱۔ مذ) مات کا کھانا۔

سپیرٹ۔ (Spirit) (انگ۔ ۱۔ مٹ) دیکھی اسپرٹ۔ شراب (۲) روح۔ جذبہ۔

سپیرٹیکس۔ (Supertax) (رس۔ پز ٹیکس) (انگ۔ ۱۔ مذ) مزید محصول۔ مزید ٹیکس۔

سپیرڈ۔ (رس۔ پز) (ف۔ ۱۔ مٹ) حوالے کیا ہوا۔ سوچنا ہوا۔ امانت۔ تحویل۔ تفویض۔

سپیردخانہ۔ (دفتری اصطلاح) لباس وغیرہ رکھنے کا کمرہ۔ بادیہ خانہ (Cloak Room) کلواک روم۔

سپیرد کرنا۔ (مص۔ مرکب) (۱) قبضے میں دینا۔ حوالے کرنا (۲) امانت رکھنا (۳) حراست میں دینا۔

سپیرد ہونا۔ (۱) محاورہ) (۱) حوالے کیا جانا (۲) تحویل یا قبضے میں دیا جانا۔

سپیردا۔ (رس۔ پز۔ دا) (رس۔ پز۔ دا۔ ای) (۱) مذ) سازندے۔

رناپتے گانے والیوں کے ساتھ ساز بجانے والے۔ ڈوم۔

سپیردگی (سپرد داری)۔ (رس۔ پز۔ ڈ۔ گی) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) تحویل (۲) حراست۔ حوالات۔ نظر بندی (۳) امانت۔ جو چیز سپرد کی جائے۔

سپیردگی مال۔ مال سوچنا۔ حوالگی زر۔

سپیردگی میں لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) تحویل یا قبضے میں لینا (۲) حراست میں لینا۔

سپیردم۔ بتو مایہ خویش را کہ دن مقولہ) جب کوئی کام کھتے کسی کے تو دانی حساب کم و بیش را سپرد کیا جائے اس وقت کہتے ہیں:

سپیرڈنڈنٹ (Superintendent) (رس۔ پ۔ رن۔ ٹن۔ ڈنٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) ناظم۔ ناظر۔ داروغہ۔ بہتم۔ نگران۔ محافظ۔ سپر باہ کار۔

سپیرڈنڈنٹ پولیس۔ (Superintendent Police) (انگ۔ ۱۔ مذ) منتظم پولیس۔ منظر پولیس کا انتظامی افسر۔

سپرنگ۔ (Spring) (انگ۔ ۱۔ مذ) کمانی۔ دیکھی اسپرنگ۔

سپرنگ بید۔ (Spring Bed) (انگ۔ ۱۔ مذ) کمانی دار بنگ۔

سپر وائزر۔ (Supervisor) (رس۔ پز۔ وا۔ ۱۔ زز) (انگ۔ ۱۔ مذ) نگران۔

گلبان۔ بہتم۔

سپریم۔ (Supreme) (سپ۔ ریم) (انگ۔ صف) اعلیٰ اختیار رکھنے والا۔ سب سے بڑا۔ بلند ترین۔

سپریم کورٹ۔ (Supreme Court) عدالت العالیہ۔ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت۔

سپر سپر۔ (رس۔ پز۔ س۔ پز) (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) کتے کے کھانے پینے کی آواز (۲) کناپتا) بے تیزی سے کھانے کی آواز۔

سپر سپر کر کے کھانا۔ (۱) محاورہ) بد تیزی یا بے احتیاطی سے کھانا پینا۔

سپر اٹا۔ (سپ۔ ٹا۔ نا) (۱) (مص) (ق) (۱) گرفتار کرنا۔ پکڑنا (۲) ختم کر دینا (۳) ہٹلانا۔

سپرٹا۔ (سپ۔ جانا۔ رس۔ پز۔ نا) (۱) (مص) (۱) گرفتار ہو جانا۔ پکڑا جانا (۲) ختم ہو جانا۔ منسل کرنا۔ نشان کرنا۔

سپتال۔ (رس۔ پس۔ تال) (ف۔ ۱۔ مذ) سوڈا۔ لیسوڈا۔

سپیکٹروس کوپ۔ (Spectroscope) (رس۔ پکٹ۔ روس کوپ) (انگ۔ ۱۔ مذ) وہ آلہ جس سے شعاعوں کی تعریف کے ذریعے سے اجرام فلکی کے اجزائے قریبی دریافت کیے جاتے ہیں۔

سپلائی۔ (Supply) (سپ۔ لا۔ ای) (انگ۔ ۱۔ مٹ) [رس۔ ذخیرہ۔ فراہمی۔

سپلک۔ (رسپ۔ نگ) (ق۔ ۱۔ مٹ) چھپکی۔

سپلیمنٹ۔ (Supplement) (سپ۔ لی۔ منٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) ضمیمہ۔ زائد مواد۔

سپین۔ (ق۔ ۱۔ مذ) خواب۔ سچنا۔

سپینا۔ (سپ۔ نا) (۱۔ ۱۔ مذ) خواب۔ جو کچھ سوتے میں نظر آئے۔ رویا (۲) خیال۔ دم۔

سپینڈ۔ (رس۔ پند) (ف۔ ۱۔ مذ) کالا دان۔ حزل۔

سپینڈ۔ (رس۔ پند) (رس۔ پن۔ ڈا) (۱) پہلا سنکرت دوسرا ہندی (۱) مذ) ہندوؤں میں سات پشتوں تک کے رشتہ دار۔

سپوت۔ (رس۔ پوت) (۱۔ ۱۔ مذ) سعادت مند یا فرماں بردار بیٹا۔ لائق بیٹا۔ فرزند رشید۔ اچھا لڑکا۔

سپوتوں کے سپوت اور کپوتوں کے سپوت۔ (مثل) بڑوں کے ہاں نیک اور نیکیوں کے ہاں بد اولاد ہوتی ہے۔

سپوتی۔ (رس۔ پو۔ تی) (۱۔ ۱۔ مٹ) (۱) نیک اولاد والی عورت (۲) سات بیٹیوں والی۔

سپوتی رووے ٹوکوں کو ہنپوتی رووے پوتوں کو۔ (مثل) (۱) اولاد والی روٹی کے ٹوکوں کے لیے ہوتی ہے۔ بے اولاد والی اولاد کے لیے ہوتی ہے (۲) انسان کو کسی حال میں قناعت نہیں۔ ہر لاش کو کوئی نہ کوئی شکایت ہے۔

سپورٹس۔ (Sports) (رس۔ پورٹس) (انگ۔ ۱۔ مذ) کھیل۔ تفریح۔

سپورٹس (سپورٹس)۔ (رس۔ پورٹس) (سپ۔ پورٹس) (۱) (مص) (۱) سارا۔ تمام۔ کل (۲) بھر پور (۳) (۱۔ ۱۔ مذ) پورا چاند۔

سُنُّو لیا۔ (س۔ پ۔ ل۔ یا۔ د۔ ا۔ مذ) سانپ کا پتھر۔  
 رِسْتہ۔ (س۔ پ۔ ف۔ ا۔ مٹ) (سپاہ کا حلقہ) فوج۔ لشکر۔  
 ریسپر سالار۔ (ن۔ ا۔ مذ) کانڈر۔ کانیر۔ فوج کا سب سے بڑا افسر۔ جنرل۔  
 ریسپر گری۔ (ن۔ ا۔ مٹ) سپاہی کا کام یا پیشہ۔  
 ریسپر۔ (س۔ پ۔ ر۔ ف۔ ا۔ مذ) آسمان۔  
 ریسپر۔ (ن۔ ا۔ مذ) تیسرا سپر۔  
 رسھل۔ (س۔ صف) پھلدار۔ شر دار (۲) نفع دینے والا (۳) کامیاب  
 سینڈ۔ ماہر (۴) سناٹک۔  
 سِیخ۔ (Speech) (س۔ ر۔ یخ) دانگ۔ ا۔ مٹ (تقریر۔ لیکچر۔  
 خطبہ۔ بیان۔  
 سَیید۔ سَیید۔ (س۔ پید۔ س۔ پید) (ن۔ صف) (۱) سینڈ۔ اُجلا۔ چٹا۔  
 بیض (۲) گورا۔ صبح (۳) گورا۔ پن لکھا۔  
 سَیید و سیاہ کا اختیار۔ (۱) مادہ) کامل یا پورا پورا اختیار۔ کُل اختیار۔  
 سَییدہ۔ سَییدہ۔ (س۔ پے۔ دہ) (س۔ ن۔ دہ) (ن۔ ا۔ مذ) چوٹکا  
 ہوا جست (۲) سینڈ رنگ چوتھریوں میں بھرتے ہیں۔  
 سَییدہ دم۔ (ن۔ ا۔ صف) صبح کا وقت۔ نوز کا آٹکا۔  
 سَییدہ سُحری (صبح)۔ (ن۔ ا۔ صف) وہ اُجلا جو طلوع آفتاب سے  
 پہلے ہوتا ہے۔  
 سَییدی۔ (س۔ پے۔ دی) (ا۔ مٹ) (۱) پتھر کا چوٹکا ہوا چونا جس  
 کو دیواروں پر پھیر کر تعلق کرتے ہیں (۲) روشنی۔ اُجلا۔  
 جوت۔ نوز۔  
 سَییدی آٹا۔ (۱) مادہ) بال سنیڈ ہونا۔ بٹھا پانا۔  
 سَیڈ۔ (Speed) (س۔ پید) (انگ۔ ا۔ مٹ) (۱) رفتار۔  
 سَیڈومیٹر۔ (Speedometer) (انگ۔ ا۔ مذ) وہ گھڑی جو  
 گاڑی وغیرہ کی رفتار بتائے۔ آلہ رفتار پیمائش۔  
 سپیرا۔ (س۔ پے۔ را) (۱) مذ) سانپ پکڑنے والا۔ سانپ کا تاشا  
 دکھانے والا۔  
 سپیشل۔ (Special) (انگ۔ ا۔ مذ) خاص۔ مخصوص۔ دیکھیے اسپیشل۔  
 سپرئیر۔ (Superior) (انگ۔ ا۔ مذ) اعلیٰ۔ عمدہ۔ اچھا۔ بڑھیا۔  
 سپیشلسٹ۔ (Specialist) (انگ۔ ا۔ مذ) ماہر خصوصی۔ دیکھیے اسپیشلسٹ  
 سپیکر۔ (Speaker) مقرر۔ پارلیمان کا صدر۔ دیکھیے اسپیکر۔

## س۔ ت

سُنْت ہی سُنْت پر جان ہونا۔ بہت کم زور ہونا۔  
 سُنْت۔ (ن۔ صف) سات کا حلقہ۔ ۷۔  
 سُنْت بیچھڑا۔ زلا بلا۔ رلا جلا۔ گڑ بڑ (۲) دوغلا۔ غلوظ النس۔  
 سُنْت پوٹی۔ سات بیٹوں کی ماں۔ کثیر الاولاد۔  
 سُنْت شخصی۔ جو عورت بہت سے شوہر رکھتی ہو (۲) گالی (۳) وہ جاندار  
 جس پر کسی فرد کا قبضہ نہ ہو بلکہ بہت سے لوگ حلیت کے  
 دعوے دار ہوں۔  
 سُنْت لڑا۔ سُنْت لڑی۔ (۱) صف) (۱) سات لڑی کا رستہ یا رستی۔  
 (۲) ایک زبردستی میں سات لڑیاں ہوتی ہیں۔

سُنْت۔ (۱) مذ) (۱) سہائی۔ ساخ۔ صداقت۔ صدق۔ راستی۔  
 (۲) ایمان۔ دھرم۔ یقین (صف) ج۔ صبح۔ درست۔ بجا۔  
 (۳) کھرا۔ سچا۔  
 سُنْت بادگی۔ (۱) سہائی یا صداقت کو مذہب یا اصول کے طور پر ماننے  
 والا (۲) سچا آدمی۔ صادق القول۔

ست ماسا - (۱۰۰۔ صف) (۱) وہ بچہ ہوساتوں میں سے پیدا ہو (۲) وہ دم جو پہلے حمل کے ساتوں میں سے کی جاتی ہے۔

ست منزلہ - (۱۔ مذ) سات منزل کا مکان۔ ست کندھا۔

ست ناچا۔ ست نجا۔ (۱۔ مذ) (۱) سات قسم کے طے ہوئے اناج۔ سات قسم کا بھنا جو غلہ (۲) بلاکہ پکائے ہوئے سات اناج۔ (۳) (صف) گڈ گڈ (۴) دوغلا۔ مخلوط۔

ست ہارا اور گیا۔ (۱۔ مثل) جس نے بہت ہار دی وہ مارا گیا۔

ست - (۱۔ مذ) ترکا۔ پیشا۔ پوت۔

ستا - (سُ۔ تا۔) (۱۔ مٹ) (لڑکی۔ بچی (۲) جتن (رق)۔

ستا - (سُ۔ تا۔) (۱۔ مذ) (۱) تاش کا وہ پتہ جس پر سات نشان ہیں۔ (۲) ہلکے کے سات جتنے (۳) بھینسی کی وہ سات کوٹیاں جو پت پڑیں۔

ستار - (رس۔ تار) (رف۔ مذ) ظہور سے کہ قسم کا ایک باجرہ (شروع میں اس میں صرف تین تار ہوتے تھے اس لیے ستار سرتار کہلایا۔

ستار باز۔ (ف۔ مذ) ستار بھانے والا۔ ستار یا۔

ستار چھپڑنا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) ستار کے تاروں سے آوازیں پیدا کرنا۔

ستار - (سُ۔ تار) (رج۔ صف) (۱) چھپانے والا۔ ڈھانپنے والا۔ پردہ پوش (۲) خدا تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔

ستار خوب - (رج۔ صف) (۱) جیوں کو ڈھانپنے والا (خدا تعالیٰ)

ستار - (سُ۔ تار) (رس۔ تا۔) (۱) (رس۔ تا۔) (۱) تارا ان سائن اور روشن کردوں میں سے ایک کہ جودرات کو آسمان پر چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ نجوم۔ کوکب (۲) قسمت۔ نصیب۔ تقدیر۔ اقبال۔ (۳) چاندی دھیرے کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جو جو توں ٹکڑوں اور چوڑوں وغیرہ پر لگائے جاتے ہیں (۴) نجوم۔ راس۔ برج۔ (۵) ٹیکا۔ نشان۔ سفید دھتلا جو ٹکڑے کے ماتھے پر جو (۶) ایک قسم کی آتش بازی (۷) بندوق کی لڑی کا گول سفید جتنے (۸) انشان کے گول گول چمک دار ٹکڑے (۹) گلے کے ایک زیور (زنجیر) کے گول گول چمک دار ٹکڑے۔ جج۔ ستارگان۔

ستارہ اچھا ہونا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) (۱) خوش نصیب ہونا۔ مقدر اچھا ہونا۔ اقبال مند ہونا (۲) خوشحالی اور کامیابی کا زمانہ ہونا۔

ستارہ اونچ پر ہونا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) (۱) اقبال مندی کا دور ہونا (۲) کامیابی اور کامیابی حاصل ہونا۔

ستارہ برگشتہ ہونا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) مقدر خلاف ہونا۔ بد نصیبی کا زمانہ ہونا۔

ستارہ بلند ہونا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) خوش نصیب ہونا۔ طالع مند ہونا۔ اقبال کا یاد ہونا۔

ستارہ پیشانی۔ ستارہ جیمیں۔ (ف۔ صف) گھوڑا جس کے ماتھے پر ناخن کے برابر سفید ٹیکا یا دھتلا ہو۔ ایسا گھوڑا منوس خیال کیا جاتا ہے۔

ستارہ چمکنا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) (۱) دن پھرنا۔ نصیب جانگ۔ قسمت اچھی ہونا۔

ستارہ دم دار یا دنبالہ دار۔ (ف۔ مذ) وہ ستارہ جس کے پیچھے لمبی سی دم ہوتی ہے۔

ستارہ سازگار ہونا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) قسمت یاد ہونا۔

ستارہ سحری۔ (ف۔ مذ) سحر کا ستارہ۔ دن بچنے کی علامت۔

ستارہ شناس۔ (ف۔ مذ) بھومی۔ اختر شناس۔

ستارہ گردش میں ہونا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) ابد کار کا زمانہ ہونا۔ بڑے دن ہونا۔

نورست طاری ہونا۔

ستارہ رطبا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) (۱) دو شخصوں کی راسوں یا تاروں کے خواص ایک جونا (۲) طبیعتیں ملنا، موافقت ہونا۔

ستارے بھاری ہونا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) سوس ستاروں کا اثر ہونا۔

ستاری۔ (سُ۔ تالی۔) (سُ۔ تا۔ لی) (۱۔ مٹ) (۱) پڑھا ہیند نے کا آد جو کفش و دزوں کے پاس ہوتا ہے۔

ستاریا۔ (رس۔ تار۔ یا) (۱۰۱۔ مذ) ستار بھانے والا۔

ستاسی۔ (سُ۔ تا۔ سی) (۱۰۱۔ صف) استی اور سات۔ ۸۷۔

ستاں۔ (رس۔ تان) (ف۔ صف) (۱) لینے والا (۲) مذ) جگر۔ موقع۔ مقام۔ سرگتھ میں لاتھ کے طور پر آتا ہے۔ جیسے دل ستان گلستان۔

ستانا۔ (سُ۔ تا۔ نا) (۱۰۱۔ مص) (۱) تنگ کرنا۔ ذق کرنا (۲) تکلیف پہنچانا۔ ڈکھ دینا۔ آزار دینا۔

ستانوسے۔ (سُ۔ تان۔) (وے۔ ۱۰۱۔ صف) (۱) ستے اور سات۔ ۹۷۔

ستاور۔ (سُ۔ تا۔) (۱۰۱۔ مٹ) (۱) ایک دو کا نام جو ذریعہ لاتی ہے۔

ستان۔ (سُ۔ تا۔) (۱۰۱۔ صف) سات اور پانچ۔ ۵۷۔

ستاش۔ (رس۔ تا۔ اش) (ف۔ مٹ) (۱) تعریف۔ حمد و ثنا۔

ستاش کر۔ (ف۔ صف) (۱) تعریف کرنے والا۔ مداح۔

ستاؤ۔ (سُ۔ تا۔) (۱۰۱۔ مذ) مانگا مٹوتا۔

ستائیس۔ (سُ۔ تا۔ ریس) (۱۰۱۔ صف) سات اور بیس۔ بیس اور سات ۲۷۔

ستتر۔ (سُ۔ ت۔) (۱۰۱۔ صف) سترا اور سات۔ ۷۷۔

ست جاننا۔ (سُ۔ تا۔ نا) (۱۰۱۔ صف) (۱) ڈبلا ہوا جانا۔ سوکھ جانا۔

سند۔ (ف۔ مٹ) لین۔ لینا۔

سستر۔ (۱۰۱۔ مذ) (۱) چھپانا (۲) مرد یا عورت کا وہ مقام جس پر پردہ واجب ہے۔ شرم گاہ۔ پردے کی جگہ (۳) پردہ۔ اوٹ۔ حجاب۔

سستر پوشی۔ (۱۰۱۔ ف۔ مٹ) سترا یا شرم گاہ چھپانا۔

سستر دکھانا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) شرم گاہ کو بے پردہ کرنا۔

سستر عورت۔ (۱۰۱۔ مرد یا عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کا کھولنا میوب ہے۔ (۲) اس حصے کا چھپانا جس کا دکھانا باعث شرم ہے۔

ستر۔ (سُ۔ ت۔) (۱۰۱۔ صف) (۱) سات دلانیاں۔ ستر ۷۰۔ (۲) بہتر سے (عدد کثرت)۔

ستر دو بہتر۔ (۱۰۱۔ صف) بہت سارے۔ کثیر۔

ستر بوسے کھاکے، بلی راج کوچھلی۔ (۱۰۱۔ مثل) اس شخص پر کہتے ہیں کہ جو ساری عمر گناہ کرنے کے بعد آخر میں توبہ کرے۔

ستر سنانا۔ (۱۰۱۔ محاورہ) بہت بڑا بھلا کرنا۔ بہت کامیاب کرنا۔

ستر کان بہتر بھول۔ (۱۰۱۔ مثل) خواب، بے ہوشی کے گہرے کی مذمت۔

ستر کڑی پڑھی اور سر نہنگا۔ (۱۰۱۔ مثل) امیر ہونے کے باوجود تنگی سے رہنا۔



برباد کرنے والا۔ اُجاڑنے والا۔ (۳) بدچلن (۴) منحوس۔  
 ستیا ناسی کی جڑ۔ (۵) امٹ، بربادی کا سبب۔ تباہی کا ذریعہ۔  
 ستیا۔ (ست۔ تیا) (زن) قوت۔ طاقت۔  
 ستیہ۔ (س۔ صفت) سچا۔ صادق (۲) تحقیق۔ غلص۔ دیانت دار۔ دنا دار  
 یا پراسا۔ تصدیق کیا ہوا۔ سچائی۔  
 ستیہ اگر (گرہ)۔ (۵) امٹ) سچا جہد حکومت کے خلاف پرائس تحریک۔  
 ستیانو۔ (ست۔ یا۔ نو) (ق) ستانے۔  
 ستیز۔ ستیزہ۔ (س۔ تیز) (س۔ تے۔ ڈ) (ف۔ ا۔ مذ) لڑائی جھگڑا۔  
 ستیزہ کار۔ (ت۔ صفت) لڑنے والا۔ جنگی آدمی۔ جھگڑالو۔

پڑتا۔ ایک ہی دفعہ پانچ معلوم مقداروں کے ذریعے نامعلوم مقدار دریافت  
 کر لینے ہیں۔  
 ستھان۔ (س۔ تھان) (۵) مذ [ مکان۔ جگہ۔ مقام (۲) ٹھہرنے یا  
 رہنے کی جگہ۔  
 ستھرا۔ (ستھ۔ را) (۵) صفت [ (۱) پاک صاف۔ پاکیزہ۔ اُجلا۔ بے داغ۔  
 (۲) نفیس۔ عمدہ۔ اچھا (۳) (مذ) ایک قسم کے فقیر بو ڈنڈے جاکر  
 مانگتے ہیں۔  
 ستھرا شاہی۔ (۵) امٹ) ستھرا شاہ نامی فقیر کا پیلا (اس گروہ کا فقیر  
 جو ڈنڈے جاکر تک بندی کے ساتھ مانگتا پھرتا ہے)۔  
 ستھرا نا۔ (ستھ۔ را۔ نا) (۵) صفت [ (۱) پھیلا نا (۲) تتر بتر ہونا۔ پرانگندہ  
 کرنا۔ بکھیرنا۔  
 ستھرا ڈ۔ (ستھ۔ را۔ اد) (۵) مذ [ (۱) تھیل عام۔ معنایا۔ لاشوں کے ڈھیر  
 (۲) بہت سی عمارتوں کا گریڈنا۔  
 ستھرا ڈ (کرنا) ہونا۔ (۱) عمارتوں کے ڈھیر لگا دینا یا لگانا۔ کشتوں  
 کے پٹنے لگا دینا یا لگانا (۲) عمارتوں کو توڑ پھوڑ دینا، اینٹ سے اینٹ  
 بجا دینا (بجنا)۔  
 ستھرائی۔ (ستھ۔ را۔ ای) (۵) امٹ [ (۱) صفائی۔ اُجلا پن (۲) خوش فانی۔  
 نفاست (۳) ڈر [ جھاڑو۔ پیارو۔  
 ستھرائی پھیرنا۔ (۱) عمارتوں کو ٹوٹ کر لے جانا (۲) جھاڑو دینا۔  
 ستھرائی دینا۔ جھاڑو دینا۔ جھاڑو بھارو دینا۔  
 ستھری۔ (۵) صفت [ ستھرائی تائینٹ۔ صاف۔ نکھری ہوئی۔ اُبل۔ پاک۔  
 ستھن۔ ستھنا۔ ستھنی۔ (ستھ۔ تھن) (ستھ۔ نا) (ستھ۔ نی) (۵) مذ و صفت [  
 پاچار۔ رازار۔ شلوار۔  
 ستھیا۔ ستیا۔ (ستھ۔ یا) (ست۔ یا) (۵) مذ [ آنکھوں کا حکم۔  
 ستی۔ (س۔ تی) (۵) امٹ [ ہندوؤں میں مردہ شوہر کے ساتھ عورت کے  
 جل کرنے کی رسم (۲) پاک دامن یا باصمت عورت (۳) وہ عورت  
 جوستی ہو جائے۔  
 ستی ست پیر ہونا۔ (۱) عمارتوں کے قریب ہونا۔ جاں بلب  
 ہونا (۲) کسی تکلیف کے باعث ہلاکت میں پڑنا۔  
 ستی ہونا۔ (۱) عمارتوں میں شوہر کی نعش پر عورت کا جل مرنا۔  
 (۲) جان دینا۔ جان قربان کرنا۔  
 ستیا۔ (ست۔ تیا) (ق) قوت۔ طاقت۔  
 ستیا ناس۔ (ست۔ ت۔ یا۔ ناس) (۵) مذ [ تباہی۔ بربادی۔  
 ستیا ناس ہو جائے۔ (بددعا) برباد ہو جائے۔ تباہ ہو جائے۔  
 ستیا ناس کرنا۔ (۱) عمارتوں کو تباہ و برباد کرنا۔ اُجاڑنا (۲) بگاڑنا۔ خراب  
 کرنا۔ خاک میں ملانا (۳) آوارہ یا بدچلن بنانا (۴) ڈھانا۔ گرانا۔  
 ستیا ناس ہونا۔ (۱) عمارتوں کو تباہ ہونا۔ مٹ جانا (۲) کام بگاڑنا۔  
 (۳) ڈھایا جانا۔  
 ستیا ناسی۔ (ست۔ ت۔ یا۔ ناسی) (۵) امٹ [ (۱) ایک عمارت اور درخت  
 جس کے پھول کے اندر کے دانے خارش کے لیے مفید ہیں (۲) صفت

## س۔ ٹ

سٹ۔ (۵) امٹ [ (۱) سازش (۲) تدبیر۔ ڈھب (۳) ناجائز تعلق۔  
 آشنائی (۴) میل جول۔ آٹ سٹ۔  
 سٹ لڑانا۔ (۱) عمارتوں کو (۲) سازش کرنا (۳) یا راز کرنا۔ آشنائی کرنا۔  
 سٹ (سٹ)۔ (Set) (واگ۔ ا۔ مذ) (۱) یکساں قسم کی چیزوں کا متفرق مجموعہ۔  
 سٹ۔ (سٹ۔ ٹا) (۵) مذ [ (۱) تحریری اقرار نامہ جس کی رو سے زرعتی  
 پیداوار میں شرکت قائم ہوتی ہے (۲) بیو بار کا سودا (۳)  
 ایک قسم کا جو۔ جس میں کسی بات کے متعلق حکم لگانے پر شرطیں  
 کی جاتی ہیں۔  
 سٹا۔ (۵) امٹ [ (۱) ساز باز۔ سازش (۲) فریب۔ دغا۔ مکر و فن۔  
 سٹا ہی۔ (۵) امٹ [ وہ بھی جس میں سٹے لکھے جاتے ہیں۔  
 سٹے لڑانا۔ (۱) عمارتوں کو سازش کرنا۔ سازشی کارروائی کرنا۔  
 سٹے باز۔ (۱) شاکھیلے والا (۲) چالاک۔ فریبی (۳) جھوٹا۔  
 سٹے بازی۔ (۱) سٹے کا جو اکھینا (۲) چالاک۔ فریب۔  
 سٹا۔ (سٹ۔ ٹا) (۵) مذ [ چٹھا (جو ارکا خوش)۔  
 سٹا برمی۔ (Strawberry) دیکھے اٹا برمی۔  
 سٹاپ پریس۔ (Stop Press) (س۔ ٹاپ۔ پ۔ ریس) (واگ)  
 ۱۔ مذ [ وہ خبر جس کو اخبار چھپنے میں آخر وقت شامل کی جائیں۔  
 سٹار۔ (Star) ستارہ۔ دیکھے اٹار۔  
 سٹارٹ۔ (Start) دیکھے اٹارٹ۔  
 سٹارچ۔ (Starch) (س۔ ٹارچ) (واگ۔ ا۔ مذ) نشاستہ۔  
 کف۔ مادہ۔  
 سٹاسٹ۔ (س۔ ٹا۔ سٹ) (۵) امٹ [ (۱) لگاتار۔ پلے در پلے (۲)  
 برابر کوڑے پڑنے کی آواز۔ چیمیاں مارنے کی آواز۔  
 سٹاف۔ (Staff) (س۔ ٹاف) (واگ۔ ا۔ مذ) (۱) اہل کاروں کی  
 جماعت یا عملہ (۲) افسروں کی فوجی جماعت جو صدر مقام پر اعلیٰ کان کے  
 ماتحت ہوتی ہے (۳) لاکھی۔ ڈنڈا۔ عصا۔  
 سٹاک۔ (Stock) (س۔ ٹاک) (واگ۔ ا۔ مذ) ذخیرہ۔ تجارتی مال کا

سٹا۔ (۲) بہت سی عمارتوں کا گریڈنا۔  
 ستھرا ڈ (کرنا) ہونا۔ (۱) عمارتوں کے ڈھیر لگا دینا یا لگانا۔ کشتوں  
 کے پٹنے لگا دینا یا لگانا (۲) عمارتوں کو توڑ پھوڑ دینا، اینٹ سے اینٹ  
 بجا دینا (بجنا)۔  
 ستھرائی۔ (ستھ۔ را۔ ای) (۵) امٹ [ (۱) صفائی۔ اُجلا پن (۲) خوش فانی۔  
 نفاست (۳) ڈر [ جھاڑو۔ پیارو۔  
 ستھرائی پھیرنا۔ (۱) عمارتوں کو ٹوٹ کر لے جانا (۲) جھاڑو دینا۔  
 ستھرائی دینا۔ جھاڑو دینا۔ جھاڑو بھارو دینا۔  
 ستھری۔ (۵) صفت [ ستھرائی تائینٹ۔ صاف۔ نکھری ہوئی۔ اُبل۔ پاک۔  
 ستھن۔ ستھنا۔ ستھنی۔ (ستھ۔ تھن) (ستھ۔ نا) (ستھ۔ نی) (۵) مذ و صفت [  
 پاچار۔ رازار۔ شلوار۔  
 ستھیا۔ ستیا۔ (ستھ۔ یا) (ست۔ یا) (۵) مذ [ آنکھوں کا حکم۔  
 ستی۔ (س۔ تی) (۵) امٹ [ ہندوؤں میں مردہ شوہر کے ساتھ عورت کے  
 جل کرنے کی رسم (۲) پاک دامن یا باصمت عورت (۳) وہ عورت  
 جوستی ہو جائے۔  
 ستی ست پیر ہونا۔ (۱) عمارتوں کے قریب ہونا۔ جاں بلب  
 ہونا (۲) کسی تکلیف کے باعث ہلاکت میں پڑنا۔  
 ستی ہونا۔ (۱) عمارتوں میں شوہر کی نعش پر عورت کا جل مرنا۔  
 (۲) جان دینا۔ جان قربان کرنا۔  
 ستیا۔ (ست۔ تیا) (ق) قوت۔ طاقت۔  
 ستیا ناس۔ (ست۔ ت۔ یا۔ ناس) (۵) مذ [ تباہی۔ بربادی۔  
 ستیا ناس ہو جائے۔ (بددعا) برباد ہو جائے۔ تباہ ہو جائے۔  
 ستیا ناس کرنا۔ (۱) عمارتوں کو تباہ و برباد کرنا۔ اُجاڑنا (۲) بگاڑنا۔ خراب  
 کرنا۔ خاک میں ملانا (۳) آوارہ یا بدچلن بنانا (۴) ڈھانا۔ گرانا۔  
 ستیا ناس ہونا۔ (۱) عمارتوں کو تباہ ہونا۔ مٹ جانا (۲) کام بگاڑنا۔  
 (۳) ڈھایا جانا۔  
 ستیا ناسی۔ (ست۔ ت۔ یا۔ ناسی) (۵) امٹ [ (۱) ایک عمارت اور درخت  
 جس کے پھول کے اندر کے دانے خارش کے لیے مفید ہیں (۲) صفت

ذخیرہ (۲) کچا تجارتی مال (۳) تجارتی کمپنی کا مشترکہ سرمایہ۔  
 شاک ایکسچینج - (Stock Exchange) (انگ۔ ا۔ مذ) حصص کی خرید و فروخت اور تجارتی لین دین کا ادارہ۔  
 شاک بک - شاک ریکسٹر - (Stock Book) دو جہز  
 جس میں مال کی تفصیل درج کئے ہیں۔  
 شاکسٹ - (Stockist) (رس۔ ٹا۔ کسٹ) (انگ۔ ا۔ مذ) ٹھوک فروش۔ مال کا ذخیرہ رکھنے والا۔  
 شال - (Stall) چھوٹی دکان۔ دیکھیے اسٹال۔  
 شالی - (سن۔ ا۔ مٹ) سستی۔ کابلی۔  
 شامپ - (Stamp) (رس۔ ٹامپ) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) سرکاری ٹمبر (۲) ٹکیٹ۔  
 شاننا - (سن۔ ٹانا) (۱) صوف (۲) جوڑنا۔ چپکانا۔ لانا۔ بھڑانا۔ مٹ کرنا۔  
 بھٹانا۔ جڑنا (۲) پھینکانا۔ (سن)  
 شائلی - (Style) (انگ۔ ا۔ مذ) طرز اسلوب۔ دیکھیے اسٹائل۔  
 شیشاتے پھرنا - (آر۔ مس) گھبرائے گھبرائے پھرنا۔ حیران و سرگردان پھرنا۔  
 شیشانا - (سٹ۔ پ۔ ٹانا) (۱) صوف حیران ہونا۔ متعجب ہونا۔ گھبرانا۔ حواس باختہ ہونا۔  
 شپیل - (Stipple) دیکھیے اسپٹل۔  
 شٹر انگ - (Strike) (سٹ۔ را۔ انک) (انگ۔ ا۔ مٹ) احتجاج کے طور پر کسی ادارے کے کارکنوں یا مزدوروں کا کام بند کر دینا۔ دکانیں بند کر دینا۔ بڑتال۔  
 سٹریٹر - (رس۔ ٹریٹ۔ ٹر) (۱) مٹ (۲) چھوٹے موٹے کام۔ معمولی معمولی باتیں (۲) بکھیرا۔ اُلھیرا۔  
 سٹریٹر کرنا - (۱) محاورہ (۲) چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہنا (۲) بیکار پھرنا۔  
 سٹرلنگ - (Sterling) پونڈ۔ دیکھیے اسٹرلنگ۔  
 سٹریٹ - (Street) سڑک۔ دیکھیے اسٹریٹ۔  
 سٹریچر - (Stretcher) (رس۔ سے۔ پٹر) (انگ۔ ا۔ مذ) بیمار ڈولی۔ وہ تختہ جس پر بیمار کو کہیں لے جاتے ہیں۔  
 سٹ سٹ - (سٹ۔ سٹ) (۱) مٹ (۲) کوڑے یا چٹیاں ہڑانے کی آواز (۲) جلد بول۔  
 سٹیک - (Stick) (رس۔ ہیک) (انگ۔ ا۔ مٹ) (۱) چھڑی (۲) ڈلی۔ کیلنے کا ڈنڈا جس کا پھلا ہر ماڑا ہوتا ہے۔  
 سٹک - (رس۔ ہیک) (۱) مٹ (۲) چھوٹا بچوان (۲) پھرے سے بدن کی عورت (۳) بید۔ چھڑ۔ پتی چھڑی (۳) پتلا سانپ۔  
 سٹکا - (سٹ۔ کا) (۱) مٹ (۲) چھوٹی بندوق جو گے میں لٹکتے ہیں۔  
 سٹکانا - (سٹ۔ کاننا) (۱) صوف (۲) چھپا کرنا (۳) کرنا (۲) مارنا (۳) نا اُمید کرنا۔  
 سٹک جانا - (رس۔ ہیک۔ جانا) (۱) صوف [لجک جانا۔ مرقع پاکر نکل جانا۔

شکنا - (رس۔ ہیک۔ نا) (۱) صوف [لجک سے چلا جانا۔ لجک جانا۔  
 شکنی - (رس۔ ہیک۔ نی) (۱) مٹ (۲) دروازے کی پتی۔ چٹنی۔  
 سٹو - (رس۔ ٹل۔ لو) (۱) دروازہ (۲) صوف (۳) صوف عورت۔ چھوٹا عورت (۲) سٹو (۱) صوف (۲) صوف کے ساتھ) بے ہودہ مرد۔ فضول آدمی۔  
 سٹلی - (رس۔ ٹل۔ لی) (۱) مٹ (۲) صوف (۳) بیہودہ۔ بد تمیز۔  
 سٹنا - (سٹ۔ نا) (۱) صوف (۲) سازش کرنا۔ بل جانا (۲) بڑھانا۔ چپک جانا۔  
 (۳) چھوڑنا۔ پھینکانا۔ (سن)  
 سٹنٹ - (Stunt) قیاری۔ دھوکا (۲) وہ کام جس میں اپنا کمال دکھانا مقصود ہو۔  
 سٹنہار - (رس۔ ٹن۔ مار) (سن۔ ا۔ مذ) ڈالنے والا۔  
 سٹو - (Stove) پٹوٹھا۔  
 سٹوڈینٹ - (Student) طالب علم۔  
 سٹوڈیو - (Studio) دیکھیے اسٹوڈیو۔  
 سٹور - (Store) گودام۔ دیکھیے اسٹور۔  
 سٹوری - (Story) کہانی۔  
 سٹول - (Stool) (رس۔ ٹول) (انگ۔ ا۔ مذ) تپائی۔  
 سٹھ - (۱) صوف (۲) ساتھ کا خنٹ (۲) جاہلی۔ بے وقوف۔  
 سٹھ جانا - سٹھانا - سٹھانا - (۱) محاورہ (۲) بڑھاپے کی وجہ سے حواس باختہ ہو جانا (۲) عقل جاتی رہنا۔  
 سٹھانی - (رس۔ ٹھانی) (۱) مٹ (۲) سٹھائی کی بیوی۔  
 سٹھنی - (پ۔ ا۔ مٹ) (۱) گالیوں جو بیابا شادی کے موقع پر سمدھیوں کو دی جاتی ہیں۔  
 سٹھورا - (رس۔ ٹھورا) (۱) مٹ (۲) سٹھور اور میوے کا میٹھا مرکب جو درختوں کو قتل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔  
 سٹھی - (رس۔ ٹھی) (۱) مٹ (۲) ایک قسم کے موٹے لال رنگ کے چاول۔  
 سٹھانا - (سٹھ۔ یا۔ نا) (۱) مٹ (۲) بڑھاپے کے باعث عقل جاتی رہنا۔  
 سٹھی - (سٹ۔ ٹھی) (۱) مٹ (۲) گھوڑوں کی منڈی (۲) مارکیٹ منڈی۔ بازار۔ پینٹ۔  
 سٹی - (City) (رس۔ ٹی) (انگ۔ ا۔ مذ) شہر۔  
 سٹی - (سٹ۔ ٹی) (۱) مٹ (۲) سمجھ۔ ہوش۔ عقل۔ حواس۔ اوسان۔  
 سٹی (بھولنا) گم ہونا - (۱) محاورہ (۲) گھبرانا۔ بولکھانا۔ سٹھانا۔ حواس باختہ ہونا۔  
 سٹیٹیا - (سٹ۔ یا۔ ا۔ مٹ) (۱) سٹھانا یا سٹھنے سے) بیٹی۔ بیٹا۔  
 سٹیٹیا - (سن۔ ف) بہتان لگانا۔  
 سٹیٹھوسکوپ - (Stethoscope) (رس۔ ٹے۔ ٹھوس۔ کوپ) ڈاکٹروں کا وہ آلہ جس سے وہ مریض کے سینے دینہر کا سٹھنا کرتے ہیں۔  
 سٹیٹ - (State) (انگ۔ ا۔ مٹ) ریاست۔ مملکت۔  
 سٹیج - (Stage) بہترہ۔ دیکھیے اسٹیج۔  
 سٹیٹو - (Statue) مجستہر۔ دیکھیے اسٹیٹو۔  
 سٹیڈیم - (Stadium) دیکھیے اسٹیڈیم۔

سٹیل (Steel) فولاد۔ لوہا۔

سٹیم (Steam) بھاپ۔

سٹیم انجن (Steam Engine) بھاپ سے چلنے والا انجن۔

سٹیم بوٹ (Steam Boat) بھاپ سے چلنے والی کشتی۔

سٹیم (Steamer) دکان جہاز۔

سٹینڈرڈ (Standard) (س۔س۔ٹین۔ ڈرڈ) (انگ۔ صف)

(امستند۔ مانا ہوا) (۲) میاں۔ درجہ۔

سٹینسل (Stencil) (انگ۔ ۱)۔ مذ۔ ایک قسم کا سارا لگا ہوا کاغذ

جس پر لہجے کے نم سے لکھا جاتا ہے تو حرف ابھر آتے ہیں اس کاغذ کو

مشین پر پڑھا کر پھیلائی کی جاتی ہے۔

سٹینوگرافر (Stenographer) (س۔س۔ٹے۔ نوگ۔ را۔ فر)

(انگ۔ ۱)۔ مذ [تلفظ نویس۔

## س۔ج

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ آرائش۔ زیب و زینت۔ خوب صورتی۔ سجاوٹ۔ سنگار۔

(۲)۔ انداز۔ روش۔ شکل۔ وضع۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ آرائش و شوکت۔ آن بان۔ نمود و نمائش (۲) بناؤ سنگار

زیبائش و آرائش (۳) صورت۔ شکل۔ وضع قطع۔ رنگ روپ۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سیدھا۔ دایاں۔ داہنا (۲) سیدھا ہوا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ نیک ذات۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ پرستش کرنے والا۔

انگلیاں زمین پر لگتی ہیں۔

سجدہ سہو (۱)۔ مذ (۱)۔ دو سجدے جو نماز میں کسی واجب کے کم یا زیادہ

ہو جانے پر کیے جاتے ہیں۔

سجدہ شکر (۱)۔ مذ (۱)۔ وہ سجدہ جو خدا کے حضور کسی بات کے شکرانے

کے لیے کیا جائے۔

سجدہ شکر بجا لانا (۱)۔ مذ (۱)۔ خدا کے حضور میں شکر کا سجدہ ادا کرنا۔

سجدہ کرنا (۱)۔ مذ (۱)۔ ماتھا زمین پر ٹیکنا۔ سر جھکانا۔ ڈنڈوت کرنا۔

سجدہ گاہ (۱)۔ مذ (۱)۔ سجدہ کرنے کی جگہ (۲)۔ خاک شفا کی گول ٹیکیا جس

پر شہید سر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں۔

سجدہ گزار (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ سجدہ کرنے والا۔ عبادت گزار۔

سجریا (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔

سج (۱)۔ مذ (۱)۔ صفت (۲)۔ بچھونا۔





# س خ

سغا۔ سغاوت۔ (س۔ خا، دس۔ خا۔ دت) (ع۔ ا۔ مٹ) نیت ضمی۔  
منشش۔ خیرات۔

سخت۔ (ن۔ صفت) (۱) کڑا جو نرم نہ ہو۔ نموس۔ نا ظلم (۲) کثرت۔ درشت (۳) سنگین۔ بھاری (۴) مضبوط۔ پکا (۵) دشوار۔ کٹھن۔ مشکل (۶) اکثر۔ بد مزاج (۷) بے رحم۔ سنگ دلی (۸) نہایت۔ بہت زیادہ (۹) تیز۔ کڑی۔ (۱۰) تند۔ شدید (فیض)۔

سخت بات۔ (۱) مٹ) کڑی بات۔ ناگوار بات۔

سخت جان۔ (ن۔ صفت) (۱) بے رحم۔ سنگ دل (۲) وہ شخص جس کی جان مشکل سے نکلے (۳) بے حیائی سے زندہ رہنے والا (۴) بھناکش۔ محنتی۔ سخت جانی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) جان مشکل سے نکلنا (۲) بھناکشی۔

سخت دن۔ (ن۔ ا۔ مذ) مصیبت کے دن۔ پریشانی کا زمانہ۔

سخت دن آنا۔ (۱) محاورہ) مصیبت یا اذبار کا زمانہ آنا۔

سخت زمین۔ (ن۔ صفت) (۱) پختہ زمین (۲) شعرا کی اصطلاح) مشکل روایت قافیہ۔

سخت کسوت کہنا۔ (۱) محاورہ) بڑا بھلا کہنا۔ سختی سے پیش آنا۔ لسن طعن کرنا۔ لعنت ظلمت کرنا۔

سخت کلامی یا کوئی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) کڑے لہجے میں بات چیت (۲) بد مزاجی۔

سخت گھڑیاں۔ (ن۔ ا۔ مٹ) مصیبت کا زمانہ۔ نخواست یا بدبختی کا دور۔

سخت گیر۔ (ن۔ صفت) (۱) جو معمولی معمولی باتوں کو پکڑ کر لے (۲) جو چھوٹی سی غلطی، رنجی مزا دے۔

سخت گیری۔ (ن۔ ا۔ مٹ) ذرا ذرا سی بات کی پکڑ۔ بات بات پر مزا۔

سخت لگام۔ (ن۔ ا۔ مٹ) مہذب زور۔ سرکش (گھوڑا)۔

سخت مزاج۔ (ن۔ صفت) تند مزاج۔ غصیلا۔

سخت مشکل۔ (ن۔ ا۔ مٹ) بڑی تکلیف۔ بڑی مصیبت۔

سخت مشکل پھڑنا۔ (ن۔ صفت) بڑی دشواری پیش آنا۔ نہایت وقت ہونا۔

سخت ناگوار گزارنا۔ (ن۔ صفت) بہت بڑا معلوم ہونا۔

سختانا۔ (ن۔ صفت) (۱) نا۔ ڈار۔ بھس) (۲) سخت پڑنا (۳) کیسیائی اصطلاح) مادے کا زہی ختم ہو کر نموس بنا۔

سختی۔ (ن۔ صفت) (۱) مٹ) (۲) کڑا پن۔ کڑھکی۔ نرمی نہ ہونا۔ درشتی (۳) مضبوطی۔ یا بھاری (۴) دشواری۔ وقت (۵) بے رحمی۔ سنگ دلی (۶) بد مزاجی۔ اکثر ہیں (۷) ظلم۔ زیادتی۔ تشدد۔ سخت گیری (۸) تندی۔ تیزی۔ (۹) تنبیہ۔ ڈانٹ ڈپٹ (۱۰) افلاس۔ تہی دستی۔ تنگی (۱۱) اذبار۔ نخواست (۱۲) مصیبت۔ ڈکھ۔

سختی آیام۔ (ن۔ صفت) (۱) دنوں کی گردش۔ مصیبت کے دن۔

سختی سے پیش آنا۔ (۱) محاورہ) بے رحمی کا برتاؤ کرنا۔ بد سلوکی کرنا۔

سختی سے دقت گزارنا۔ تکلیف اور بد حالی میں زندگی بسر کرنا۔

سختی کرنا۔ (۱) محاورہ) ستانا ظلم کرنا۔ زیادتی کرنا۔ تنگ کرنا۔

سختی کی گرہ۔ (۱) محاورہ) بڑا وقت۔ بڑے دن۔  
سختیاں کھینچنا۔ (۱) محاورہ) تکلیفیں اٹھانا۔ مصیبتیں جینا۔  
سختن۔ سختن۔ (ن۔ صفت) (۱) سخت۔ (۲) ن۔ ا۔ مٹ) (۱) بات۔ گفتگو۔ کلام (۲) و قول۔ جہد (۳) شعر (۴) مقولہ (۵) اعتراض۔  
سختن آرا۔ (ن۔ صفت) شیریں زبان۔ فصح۔ سخنور۔  
سختن انہیں پر ڈالے جو ہنس ہنس رکھیں مان۔ (۱) مثل) انہیں سے مانگنا چاہیے جو ہنس خوشی دینا جانتے ہوں۔  
سختن پر ڈاڑ۔ (ن۔ صفت) شاعر۔ ادیب۔ مترجم۔  
سختن پرور۔ (۱) بات کی دلچ کرنے والا (۲) عمدہ گفتگو کرنے والا۔ شاعر۔ مصنف۔

سختن پروری۔ (ن۔ ا۔ مٹ) بات کی دلچ۔ ضد۔ ہٹ دھرمی۔

سختن چھین۔ (ن۔ صفت) (۱) پھیل خور۔ ادھر کی ادھر کرنے والا (۲) عیب جو بڑائیوں ڈھونڈنے والا۔

سختن چھینی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) پھیل خور (۲) عیب نکالنا۔

سختن دال۔ (ن۔ صفت) (۱) سخن سنج۔ سخن ور۔ (ن۔ صفت) (۲) شاعر۔ شعر کہنے والا (۳) زبان دال (۴) خوش گفتار۔

سختن درمیان میں لانا۔ (۱) محاورہ) گفتگو کے درمیان کھ اور کہنا۔

سختن دریاں امت۔ (ن۔ صفت) (۱) اس پر اعتراض ہے۔ یہ بات ماننے میں تامل ہے۔ اس میں شبہ ہے۔

سختن دینا۔ (۱) محاورہ) قول دینا۔ اقرار کرنا۔

سختن ڈالنا۔ (۱) محاورہ) (۲) مانگنا (۳) سوال کرنا۔ پوچھنا۔

سختن ساز۔ (ن۔ صفت) (۱) شاعر (۲) خوش بیان (۳) چرب زبان۔ باتیں بنانے والا۔ فریبی۔ مکتار۔

سختن سازی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) شاعری (۲) چرب زبانی۔ دنیا سازی۔

مکتاری (۳) خوش بیانی۔

سختن شناس۔ (ن۔ صفت) (۱) بات کی تکرہ پہنچنے والا (۲) قدر دان سخن۔

سختن شناس نہ امی دلبر اخطا ایجا صحت۔ (ن۔ صفت) (۱) اسے محبوب غلطی تو یہ ہے کہ تو سخن شناس نہیں۔ جب کوئی شخص کسی کے کلام پر اپنی غلط فہمی کی وجہ سے اعتراض کرے تو اس وقت کہتے ہیں۔

سختن طراز۔ (ن۔ صفت) (۱) شاعر (۲) فصیح البیان۔

سختن طرازی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) شاعری (۲) فصیح تقریر کرنا۔

سختن فہم۔ (ن۔ صفت) (۱) بات سمجھنے والا۔ تیز فہم (۲) حائق۔ دانا (۳) شاعر۔

سختن فہمی۔ (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) بات کا مطلب سمجھنا (۲) شعر کا صحیح مطلب سمجھنا۔

سختن فہمی عالم بالا معلوم شد۔ (ن۔ صفت) (۱) قابلیت کے دعوے کے باوجود بات کا مطلب نہ سمجھنا۔

سختن کا پورا۔ (ن۔ ا۔ صفت) بات کا دھنی۔ قول کا پکا۔ مستقل مزاج۔

سختن کوتاہ۔ (ن۔ صفت) (۱) القصد۔ مختصر۔

سختن گستر۔ (ن۔ صفت) (۱) شاعر خوش گفتار خوش بیان۔

سختن گستر آند۔ (ن۔ صفت) (۱) شاعرانہ چیر چارائی بات۔ معترضانہ۔

سخن گو۔ (ف۔ صنف) شکرینے والا۔ شاعر خوش بیان۔

سخن گوئی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) شاعر کی سخن گوئی مشکل نہیں، سخن فہمی مشکل ہے۔ (امثل) شکرین مشکل نہیں، شکر کو سمجھنا مشکل ہے۔

سخن ور۔ (ف۔ ۱۔ مذ) فصیح و بیضا (۲) شاعر (۳) مقرر (۴) عالم۔

سخن وری۔ (ف۔ صنف) دانی۔ (۱) شاعر (۲) فصاحت و بلاغت۔

سخنی۔ (س۔ ج۔ ن۔ ج۔ صنف) (۱) فیاض۔ (۲) جیز۔ (۳) کریم۔ (۴) دریا دل۔ (۵) فراغ حوصلہ (۶) دگوں کے ساتھ سلوک کرنے والا۔ (۷) کریم النفس۔

سخنی دانا۔ (اصف) بہت فیاض۔

سخنی دے اور شرمائے۔ بادل برسے اور گرمائے۔ (امثل) سخاوت کرنے والا دے کر احسان نہیں جتنا اور بادل برستا ہے اور گرمتا بھی جاتا ہے۔

سخنی شوم سال بھر میں برابر ہو جاتے ہیں۔ (۱) امثل) سخنی کے پاس جو بکھ جوتا ہے وہ سال بھر کے اند اندر اردوں کو بانٹ دیتا ہے شوم جوڑ جوڑ کر دیکھتا ہے مگر اس کا مال بھی نہیں بچتا۔

سخنی سے شوم بھلا تو تڑت دے جواب۔ (۱) امثل) انتظار میں رکھنے سے انکار کر دینا بہتر ہے۔

سخنی کا بیڑا بار۔ (امثل) (۱) سخاوت کرنے والے کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں (۲) سخنی کی عاقبت سبھی جاتی ہے۔

سخنی کا خزانہ بھی خالی نہیں ہوتا۔ (امثل) (۱) سخنی ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔

سخنی کا سر بلند، موزوں کی گورتنگ۔ (۱) امثل) (۱) سخنی ہمیشہ عزت ہوتی ہے اور موزوں ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے۔

سخنی کی کمانی میں سب کا سا بھا۔ (۱) امثل) (۱) سخنی سب کو دیتا ہے۔

سخنی کے مال پر پڑے، سُوم کی جان پر۔ (۱) امثل) (۱) سخاوت کرنے والے پر پڑتی ہے تو مالی نقصان پر مل جاتی ہے، مگر کبوس کی جان لے کر ملتی ہے۔

سخنیف۔ (س۔ ج۔ صنف) (۱) کم فہم (۲) بے ہودہ۔

## س۔د

سدا۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) اوٹ۔ (۲) دیوار۔ (۳) پردہ۔ (۴) روک۔ (۵) چیزوں کے درمیان روک۔ (۶) محافظت۔ (۷) روکن۔

سدا باب۔ (س۔ ۱۔ مذ) قطعاً روک دینا قطعی محافظت۔

سدا راہ ہونا۔ (۱) مادہ روک بنا۔ حائل ہونا۔ مزاج ہونا۔ مانع آنا۔

سدا رمق۔ (س۔ ن۔ ۱۔ مٹ) (۱) بخوری سی۔ (۲) قلیل سی (۳) جان بچانا (۴) آنری وقت (۵) اتنا کمنا کہ زندگی قائم رہ سکے۔

سدا رویش۔ سدا سکندر۔ سدا یا جو۔ (س۔ ۱۔ مٹ) (۱) کاشی کی وہ دیوار جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ سکندر بادشاہ نے چینی تانار اور چین کے درمیان بنائی تھی۔

سدا۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) (س۔ ۱۔ مذ) تابع فعل (۱) ہمیشہ۔ (۲) دام۔ (۳) جام۔ (۴) ہر وقت۔ (۵) ناکارہ۔ مسلسل۔

سدا برکت (ورت)۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) ناکارہ یا رویشوں کی روزانہ خیرات۔

سدا بہار۔ (س۔ ۱۔ صنف) (۱) ہمیشہ بہار پر یا سرسبز رہنے والا (۲) وہ پھول جو بارہ بیٹے بھکتا رہے۔

سدا پھل۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ درخت جس میں ہمیشہ پھل آئیں۔ ہر سال برابر پھل لانے والا درخت (۲) ایک روایتی پھل جس کے کھانے سے عمر طویل ہو جاتی ہے۔

سدا جو بن نہیں رہتا۔ (امثل) (۱) عرصہ ہمیشہ نہیں رہتے۔

سدا دان ایک سے نہیں رہتے۔ (۱) امثل) (۱) زمانہ بدلنا رہتا ہے۔ کبھی کبھی سدا دور دورہ رہتا نہیں۔ (۱) امثل) (۱) موقع ملنے پر فائدہ

گیا وقت پھر پھر آتا نہیں اٹھنا چاہیے۔

سدا سے نام اللہ کا۔ (۱) امثل) (۱) دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔

مہر اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔

سدا سہاگ۔ سدا سہاگن۔ (۱) امثل) (۱) ایک قسم کی پڑیا (۲) دردناک

کا ایک فرقہ جو عورتوں کی طرح رنگین پکڑے اور پوڑیاں پہنتا ہے (۳) میوا۔

قہر (۴) وہ عورت جس کا شوہر ہمیشہ اس کے پاس رہے (۵) ایک قسم کا پھول۔

سدا کا روگی۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ جو ہمیشہ بیمار رہتا ہو۔ (۲) دائم المرض۔

سدا کسی کی نہیں رہی۔ (۱) امثل) (۱) ہر شخص کے حالات میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے۔ (۲) زمانہ ہمیشہ موافق نہیں رہتا کرتا۔

سدا کے دکھیا بچتا ورنام۔ (۱) امثل) (۱) ظاہر میں حالت اچھی مگر اصل میں خراب (۲) ناموزوں نام۔ (۳) بگڑا ہوا نام زنگی کا نور۔

سدا گلاب۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) ایک قسم کا مٹھ گلاب جو بارہ بیٹے بھکتا ہے۔

سدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں۔ (۱) امثل) (۱) دھوکا یا فریب ہر بار کامیاب نہیں ہوا کرتا۔

سدا ب۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) سپند۔ (۲) کلا دان۔

سدا دل۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) ساتھ۔ (۲) سمیت۔ (۳) ہمراہ۔

سدا ر۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) مٹ۔ (۲) بیرونی کا درخت۔

سدا ر۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) مسلمانوں کے عقیدے میں بیرونی کا وہ درخت جو ساتویں آسمان پر ہے اور جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبریلؑ کا مقام۔

سدا ر۔ (س۔ ۱۔ مذ) (۱) مسلمانوں کے عقیدے میں بیرونی کا وہ درخت جو ساتویں آسمان پر ہے اور جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبریلؑ کا مقام۔

سُدھ پار۔ (وق) ہوش باختہ۔  
 سُدھی۔ (سُدھ۔ دھی) (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) تکمیل (۲) مکمل صفائی (۳) کامیابی۔  
 سُدھی۔ (سُدھ۔ دھی) (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) یادداشت۔ حافظہ۔  
 سُدھی۔ (سُدھ۔ دھی) (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) اترتے چاند کا وقت۔ تری پینے کا دوسرا  
 حصہ۔ تارک یک حصہ۔ چاند کے پینے کا دوسرا پندرہواڑہ۔  
 سُدیش۔ (۵۔ ۱۔ مذ) ایک ہی ملک کا۔ ایک ہی جگہ کا۔ ایک وطن۔  
 سُدیشی۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) دسی۔ سگی۔ اپنے ملک کا۔

## س۔ ڈ۔ و

سُدول۔ (سُد۔ ڈول) (۵۔ صغ) خوش وضع۔ خوب صورت۔ خوش نما۔  
 متناسب۔ زیبا۔ موزوں۔  
 سُدھال۔ (سُد۔ ڈھال) (۵۔ صغ) خوبصورت۔ خوش وضع۔  
 سُدھور۔ سُدھورا۔ (سُد۔ ڈھور) (۵۔ ۱۔ مذ) سات طرح  
 کا کپڑا جو دہن کے پہنے حمل کے ساتوں پہینے پر اس کے پیکے سے آتا ہے۔  
 اس کے ساتھ جو ترکاریاں ہوتی ہیں۔ ان سے دہن کی گود بھری  
 جاتی ہے۔

## س۔ ر

سُر۔ (سُر۔ ر) (۱) سُر۔ کھوپڑی (۲) کسی چیز کا اوپر کا حصہ۔ چوٹی (۳) ابتداء۔  
 (۴) نگر۔ خیال (۵) نرد۔ قوت (۶) سردار (۷) خلاصہ۔  
 (۸) خواہش۔ ارادہ (۹) کنارہ (۱۰) عنوان (۱۱) عشق (۱۲)  
 دماغ (۱۳) برابر بالکل۔ (وق)  
 سُر آغاڑ۔ (سُر۔ ر) (۱) مذ) عبارت کی پیشانی۔ عنوان۔  
 سُر آمد۔ (سُر۔ ر) (۱) صغ) (۲) بزرگیہ۔ برتر (۲) حاکم۔ سردار۔  
 سُر اجلاس۔ (سُر۔ ر) (۱) مذ) بھری کچھری میں۔ حاکم کے ٹو بہ رُو۔  
 سُر افراز (فراز)۔ (سُر۔ ر) (۱) صغ) ممتاز۔ عالی مرتبہ۔  
 سُر افگندہ۔ (سُر۔ ر) (۱) صغ) (۲) سر نیچے کیے یا جھکائے ہوئے (۲) پریشان۔  
 (۳) شرمندہ۔  
 سُر انجام۔ (سُر۔ ر) (۱) صغ) (۲) انتظام۔ بندوبست (۲) تکمیل (۳) نتیجہ۔  
 خاتمہ۔ اتمام۔  
 سُر انگشت۔ (سُر۔ ر) (۱) مذ) انگلی کا سرا۔ انگلی کا اُپر کا حصہ۔  
 سُر بار۔ (۱) دفتری اصطلاح (۲) وہ رقم جو قابل حصول چیزوں کا حساب پیش  
 نہ کرنے پر بطور جرمانہ وصول کی جائے (۲) جرمانہ (۳) گھڑی جو بوجھ کے  
 اوپر رکھی جائے۔  
 سُر باز۔ (سُر۔ ر) (۱) مذ) (۲) جان پر کھینچنے والا۔ بہادر (۲) جنگ  
 کرنے والا۔

کیا ہو۔ بنایا ہو۔ آراستہ۔ سجا ہوا (۲) عالم فاضل (۵) دلی۔ عابد۔ عارف۔  
 بھکت۔ دھرم اتما۔ سادھو (۶) گناہ سے پاک۔ بیچ۔ تندرست (۷) قانونی۔  
 شری (۸) عینب دال۔ سیانا۔ ساغر (۹) فتاویٰ اللہ (۱۰) تاریخ۔ جادو کے زور  
 سے قابو کیا ہوا (۱۱) کامیاب (۱۲) نورانی۔ چمک دار (۱۳) اعجازی۔ کرامتی۔  
 سُدھ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) پورا کرنا۔ انجام تک پہنچانا (۲) جادو کے زور سے قابو  
 کرنا (۳) پاک کرنا (۴) پینا ڈالنا (۵) کامیابی حاصل کرنا۔  
 سُدھ۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) حافظہ۔ یادداشت (۲) خبر۔ آگاہی۔ علم۔ واقفیت۔  
 (۳) سمجھ۔ عقل۔ خیال (۴) چوکس رہنا (۵) توجہ۔ غور (۶) غور (۷)  
 غور فکر (۸) لحاظ۔ پروا۔ نگر (۹) حواس (۱۰) ضعف (سُدول۔ موزوں۔  
 (۱۱) خالص۔ پاک۔  
 سُدھ بڈھ۔ (۵۔ ۱۔ مٹ) (۱) عقل و شعور۔ ہوش و آگاہی۔ حواس (۲)  
 خبر گیری۔ خبر۔  
 سُدھ بڈھ رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) خیال رکھنا۔ خبر گیری کرنا (۲) یاد رکھنا۔  
 ذہن میں رکھنا۔  
 سُدھ بڈھ لینا۔ (۱) محاورہ (۲) خبر گیری کرنا۔ چوکس کرنا۔  
 سُدھ بڈھ نہ رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) خبر نہ رہنا (۲) ہوش نہ رہنا (۳)  
 خیال نہ رہنا۔ توجہ نہ رہنا۔  
 سُدھ پسرنا (پسولنا)۔ (۱) محاورہ (۲) بے ہوش ہو جانا (۲) عقل نازل کرنا۔  
 (۳) بد حواس ہو جانا۔  
 سُدھ رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) خبر یا دھیان رکھنا۔ خیال رکھنا (۲) یاد رکھنا۔  
 سُدھ لینا۔ (۱) محاورہ (۲) دھیان رکھنا۔ خیال رکھنا۔  
 سُدھ نہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) خیال نہ ہونا۔ دھیان نہ ہونا۔  
 سُدہ۔ (سُد۔ ڈ) (۵۔ ۱۔ مذ) (۱) غلیظ مواد کی گٹھ جو انگریزوں یا لوگوں میں  
 اٹک جائے (۲) ڈیوڑھی۔ دہلیز۔  
 سُدھارنا۔ (س۔ دھارنا) (۵۔ مھ) (۱) جانا۔ رخصت ہونا۔ روانہ  
 ہونا (۲) مرجانا۔  
 سُدھا۔ (۵۔ صغ) مانوس کیا گیا۔ تربیت دیا گیا۔  
 سُدھا سُدھا یا۔ (۵۔ صغ) درست کیا ہوا۔ مانوس کیا ہوا۔ تربیت یافتہ۔  
 سُدھارنا۔ (س۔ دھارنا) (۵۔ مھ) (۱) سوارنا۔ درست کرنا۔ اصلاح کرنا۔  
 عیب یا خرابی دُور کرنا (۲) سزا دینا۔ ٹھیک بنانا۔  
 سُدھار۔ (۵۔ ۱۔ مذ) اصلاح۔ دُستی۔ بہتری۔  
 سُدھارو۔ (۵۔ ۱) رخصت ہو! (۲) چلو آگے جاؤ! (بے تکلفی، نظریان قدرت  
 سے کہتے ہیں۔  
 سُدھانا۔ (س۔ دھانا) (۵۔ مھ) (۱) سکھانا۔ تربیت دینا (۲) جانور  
 کو مانوس کرنا۔ کسی رستے پر ڈالنا (۳) رخصت ہونا۔  
 سُدھرنا۔ (س۔ دھرنا) (۵۔ مھ) (۱) درست ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ بیچ ہونا۔  
 اصلاح پانا (۲) راستے پر آنا۔ سُدھا ہو جانا۔  
 سُدھنا۔ (سُدھنا) (۵۔ مھ) (۱) تربیت پانا (۲) جانور کو مانوس ہونا۔  
 سُدھنا۔ (سُدھنا) (۵۔ مھ) (۱) صاف ہونا۔ میل دُور ہونا۔  
 سُدھوانا۔ (سُدھنا) (۵۔ مھ) (۱) درست کرنا (۲) جانور کو مانوس کرنا۔

سمر بازار - (ف-۱-۱) مذ (۱) بازار میں - شاہ راہ عام پر - منظر عام پر (۲)  
 سب کے سامنے - علانیہ -  
 سمر بازی - (ف-۱-۱) مٹھ (۱) بہاوری - شہامت - جان پر کھیلنا -  
 سمر بالیں - (ف-۱-۱) مذ (۱) سرانے -  
 سمر بام - (ف-۱-۱) مذ (۱) کوٹھے یا بالا خانے پر - لب بام -  
 سمر برآورہ - (ف-۱) صفت (۱) بڑا بزرگ - معزز - نمایاں (۲) بزار - افسر -  
 سمر براہ - (ف-۱) صفت (۱) منظم - بہتم - جمع : سمر براہاں -  
 سمر برائی - (ف-۱) مٹھ (۱) اجسام - انتظام -  
 سمر برہنہ - (ف-۱) صفت (۱) ننگے سر -  
 سمر بڑیدہ - (ف-۱) صفت (۱) سرگٹا ہوا -  
 سمر بڑا تو - (ف-۱) صفت (۱) سمر بڑا پر رکھے ہوئے - سوچ میں - متفکر -  
 نادم - شرمندہ -  
 سمر بستہ - (ف-۱) صفت (۱) طغوت (۲) چھپا ہوا - پوشیدہ - مخفی -  
 سمر بسر - (ف-۱) صفت (۱) سمر - اس سر سے اس سر سے تک - کل - تمام -  
 یکساں - برابر -  
 سمر بہ صحر - (ف-۱) صفت (۱) دیوانہ وار - وحشیانہ -  
 سمر بہ فلک - (ف-۱) صفت (۱) بہت اُدھیجا یا اُدھیجی -  
 سمر بکھف - (ف-۱) صفت (۱) سمر بکھیل پر رکھے ہوئے - جان دینے پر آمادہ -  
 سمر بگرمیاں - (ف-۱) صفت (۱) سوچ بچار کی حالت میں (۲) نادم - شرمندہ -  
 سمر بلند - (ف-۱) صفت (۱) معزز - عالی مرتبہ - ممتاز - سرفراز -  
 سمر بلنددی - (ف-۱) مٹھ (۱) عزت - امتیازی شان - اعزاز -  
 سمر بگہر - (ف-۱) صفت (۱) بندکے گہر لگایا ہوا - جسے سبیل کر دیا گیا ہو (۲)  
 بند - گہر کیا ہوا -  
 سمر بھر پیش نہاؤ - (ف-۱) مٹھ (۱) دفتری اصطلاح (۲) ٹیکیدار کا تیندہ جو سر بند  
 لگانے میں ہو - (Sealed Tender)  
 سمر بند - (ف-۱) صفت (۱) مٹھ بند - پیک کیا ہوا - ڈھکن بند کیا ہوا - مٹھیا  
 ہوا (۲) کوچہ بند (۳) وہ چٹی جو عورتیں سمر پر باندھتی ہیں (۴) راز کی واقفیت  
 (۵) پگڑی -  
 سمر بہ جیب - (ف-۱) صفت (۱) سمر چھکانے ہوئے - سوچ میں (۲) اندر کی  
 کی حالت میں -  
 سمر یاؤ - (ف-۱) صفت (۱) سراپا (۲) خلعت - لباس -  
 سمر پرست - (ف-۱) صفت (۱) مڑتی - مددگار -  
 سمر پرستی - (ف-۱) مٹھ (۱) امداد - حمایت -  
 سمر پستان - (ف-۱) مذ (۱) چھاتی کی گنڈی - چھاتی کا منہ بچوچی -  
 سمر پوش - (ف-۱) مذ (۱) وہ کپڑا جو غواں پر ڈالتے ہیں (۲) ڈھلکا - چینی -  
 سمر پھوڑی - (ف-۱) صفت (۱) درد - فعل - محنت -  
 سمر پیچ - (ف-۱) مذ (۱) پگڑی (۲) پگڑی کے اوپر کا چھوٹا سا کپڑا (۳) ایک  
 قسم کا زیور جو پگڑی پر باندھتے ہیں -  
 سمر تابی - (ف-۱) مٹھ (۱) سرکشی - نافرمانی - حکم عدولی - بغاوت -  
 سمر تاپا - (ف-۱) صفت (۱) سر سے پاؤں تک - اول سے آخر تک -

سمر تاج - (ف-۱-۱) مذ (۱) آقا - مالک (۲) خاندانہ شوہر -  
 سمر تاسر - (ف-۱) ایک سر سے سے دوسرے سر سے تک - سارے کا سارا -  
 پورا - تمام -  
 سمر تا قدم - (ف-۱) صفت (۱) سر سے پاؤں تک - پورے کا پورا -  
 سمر تسلیم ختم کرنا - (۱) محاورہ (۲) حکم ماننا - راضی برضا ہونا -  
 سمر چشمہ - (ف-۱-۱) مذ (۱) سوتا - منبع - پانی کے نکلنے کی جگہ -  
 سمر چنگ - (ف-۱) مٹھ (۱) مٹھ کی ضرب جو پوری قوت سے ماری جائے -  
 سمر حقد - (ف-۱) مٹھ (۱) حقد فاصل - کنارہ - انتہا -  
 سمر حنطہ - (ف-۱-۱) مذ (۱) قبالہ - بیع نامہ (۲) گریہ نامہ (۳) وہ کاغذ جس پر ملازمت  
 کی تاریخ اور یادداشت لکھتے ہیں -  
 سمر خوش - (ف-۱) صفت (۱) خوش حال - سمر درگن - (۲) شراب سے مست -  
 سمر خوشی - (ف-۱) مٹھ (۱) خوش حالی - سمرت کی کیفیت (۲) شراب کا  
 سمر دور -  
 سمر شکیل - (ف-۱) صفت (۱) سرگودہ - سمر غنہ - افسر - سردار -  
 سمر دار - (ف-۱) مذ (۱) سرگودہ - سمر غنہ - افسر -  
 سمر داری - (ف-۱) مٹھ (۱) افسری - حکومت -  
 سمر داری کا ڈنڈا اٹھکا ہے - (۱) مٹھ (۲) اسے جبدے پر رہنے کے بعد چھوٹا  
 جبدہ قبول نہ کرنے والے پر طنز -  
 سمر دربار - (ف-۱-۱) مذ (۱) دربار میں - حکم کھلا -  
 سمر درگنار - (ف-۱) صفت (۱) چپ - خاموش -  
 سمر درگرمیاں - (ف-۱) صفت (۱) دیکھے سمر بگرمیاں -  
 سمر در ہوا - (۱) مٹھ (۲) مغزور - متکبر -  
 سمر دست - (ف-۱) مٹھ (۱) متعلق فعل (۲) اچھی - اس وقت - فی الحال - بالفضل (۲)  
 ذرا -  
 سمر دفتر - (ف-۱-۱) مذ (۱) دفتر کا افسر - ہیڈ کلرک - میرٹھی -  
 سمر راہ (رہ لے) - (ف-۱-۱) مذ (۱) راہ میں - سڑک پر - راستے میں -  
 سمر رشتہ - (ف-۱-۱) مذ (۱) تدبیر - چارہ کار (۲) معاملہ - مطلب - مقصود (۲)  
 ٹکڑے - ڈیپارٹمنٹ - دفتر کچہری (۳) دستور - رواج -  
 سمر رشتہ دار - (ف-۱) صفت (۱) میرٹھی - ہیڈ کلرک -  
 سمر رشتہ داری - (ف-۱) مٹھ (۱) میرٹھی کا عہدہ -  
 سمر رشتہ مال - (ف-۱) صفت (۱) زمین کا محصول وصول کرنے والا ٹکڑے -  
 سمر رو - (ف-۱) مٹھ (۱) وہ رگ جس کی فصد کھولنے سے سرد چہرے کا خون  
 نکلنا ہے -  
 سمر زد ہونا - (مض- مرکب) (۱) واقع ہونا - صادر ہونا - ظاہر ہونا -  
 (۲) عمل میں آنا -  
 سمر زمین - (ف-۱) مٹھ (۱) حقہ - ملک (۲) زمین کی سطح -  
 سمر زلش - (ف-۱) مٹھ (۱) طاقت - بڑا بھلا ہونا -  
 سمر زنی - (ف-۱) مٹھ (۱) سمر زنا - کوشش کرنا -  
 سمر زود - (ف-۱) صفت (۱) سرکش - نافرمان - باغی - بیٹلا -  
 سمر زوری - (ف-۱) مٹھ (۱) سرکشی - بغاوت -

سرسام - ایک بیماری جس میں سر میں دم ہو جاتا ہے۔  
 سرسبز - (ف۔ صفت) (۱) تروتازہ - ہر اچھا شاداب (۲) خوش حال - خوش  
 خرم (۳) کامیاب - فتح مند۔  
 سرسبز ہونا - (۱) محاورہ (۲) تروتازہ ہونا (۳) تلاش و عزم ہونا۔  
 خوش حال ہونا۔  
 سرشار - (۱) چمکانا ہوا - لہریز - لبالب (۲) نشے میں چور۔ فسانہ آزاد کے  
 مصنف پنڈت رتن ناتھ کا تخلص۔  
 سرشام - (ف۔ صفت) (۱) شام ہوتے وقت - سورج چھتے وقت۔  
 سرسگر - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) مارشل - گاندھراجیٹ۔  
 سرسبز - (ف۔ ۱۔ صفت) دیوان کی بہترین منزل (۲) منزل کا مطلع۔  
 سرسخت - (ف۔ صفت) سرگردہ - سردار۔  
 سرسدا کرنا - (۱) محاورہ (۲) جان قربان کرنا۔  
 سرسراز - (ف۔ صفت) ممتاز - سر بلند - ممتاز۔  
 سرسرا کرنا - (۱) محاورہ (۲) عزت افزائی کرنا۔ درجہ بڑھانا۔  
 سرسرازی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا - بلند مرتبے کی (۲) ازالہ بکر۔  
 سرسروش - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) جاں باز - دلیر۔  
 سرسروش - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) جاں بازی - دلیری۔  
 سرسقم کرنا - (۱) محاورہ (۲) سر کاٹنا - گردن مارنا۔  
 سرگردگی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) سرداری - قیادت۔  
 سرگردہ - (ف۔ صفت) (۱) ممتاز - ممتاز - نمایاں (۲) حاکم یا افسر۔  
 سرگردنا (ہونا) - (۱) محاورہ (۲) فتح کرنا - جیتنا (۳) زبردستی دینا (۴) چوٹی یا  
 سرگڑھنا (۵) فیکرنا - بندوق چلانا یا داغنا (۶) ممکن کرنا (۷) اچھے یا تاش  
 میں بڑا پتہ ڈال کر پتے اٹھانا۔  
 سرگش - (ف۔ صفت) (۱) ناخرمان (۲) باہمی (۳) مغرور (۴) بے وفا۔  
 سرگشی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) ناخرمانی (۲) بغاوت (۳) بے وفائی۔  
 سرگوبی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) سرکینا - سزا دینا۔  
 سرگورہ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) پہاڑ کی چوٹی - قلعہ گورہ۔  
 سرگذشت - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) ماجرا - واردات - کیفیت (۲) حال - احوال۔  
 قصہ - داستان - حکایت (۳) سوانح عمری - تذکرہ۔  
 سرگراں - (ف۔ صفت) (۱) خفا - ناراض - برہم - کچا ہوا (۲) جو نشے کے  
 غماز میں ہو۔  
 سرگرائی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) نعلی - ناراضگی - برہمی - کشیدگی - رنجیدگی (۲) غماز۔  
 سرگردگی (۳) افسردگی۔  
 سرگرداں - (ف۔ صفت) (۱) حیران و پریشان (۲) آوارہ۔  
 سرگردانی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) حیرانی و پریشانی (۲) آوارگی (۳) دقت (۴)  
 تشویش - فکر - غم۔  
 سرگرم - (ف۔ صفت) (۱) مستعد (۲) پرہوش (۳) مہنتی - کوشش کرنے والا۔  
 سرگرمی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) کوشش - سعی - دوشوہوب - مہنت (۲) مستعدی۔  
 سرگردہ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) سردار - سر تیل (۲) سرغند۔  
 سرگردہ میں ڈالنا - (۱) محاورہ (۲) شرمندہ ہونا - پریشان ہونا۔

سرگزار - (ف۔ صفت) جانناز - جان دینے والا۔  
 سرگشگی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) حیرانی - پریشانی (۲) مصیبت - آفت۔  
 خوش - بلا۔  
 سرگشتہ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) حیران - پریشان (۲) آوارہ - ہلکا ہوا۔  
 سرگوشی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) ناچھوسی - کان میں بات کہنا (۲) چٹلی - قیمت۔  
 سرگوشکر - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) برتیل - امیر۔  
 سرگوج - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) نقش و نگار جو کتاب کے پہلے صفحے پر رسم اللہ کی  
 جگہ بنائے جاتے ہیں۔  
 سرگمفل - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) مجلس کے روبرو - سب کے سامنے۔  
 سرگمست - (ف۔ صفت) اتوالا - مدہوش - نشے میں چور۔  
 سرگمغزی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) بک بک - مغزنی۔  
 سرگمگو - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) بال نوک کے برابر - ذرا سا - رائی برابر۔  
 سرگمنزل - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) ٹھہرنے کی جگہ - سرائے۔  
 سرگمیدان - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) لڑائی میں - مقابلے میں - کھلم کھلا۔  
 سرگنام - (ف۔ صفت) (۱) شہسور - نامور (۲) ممتاز۔  
 سرگنام کرنا - (۱) محاورہ (۲) مشہور کرنا - منادی کرنا۔  
 سرگنامہ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) خاک کی پیشانی - لیرٹریڈ (۲) کتب الیہ کا پتہ اور نشان  
 جو خط پر لکھا جائے۔  
 سرگنجل - (ف۔ صفت) (۱) مسکے بل - اوندھا (۲) شرمندہ - نجل۔  
 سرگنو - (ف۔ صفت) (۱) متعلق فعل (۲) دوبارہ - نئے سرے سے۔  
 سرگنوشت - (ف۔ ۱۔ ۱۰) مٹا (۱) تقدیر کا لکھا - گرم رکھا - مقسوم - تقدیر۔  
 نصیب - بھاگ۔  
 سرگو یا - (ف۔ صفت) (۱) سر سے پاؤں تک (۲) خلعت۔  
 سرگو یا کی شہرت ہونا - (۱) محاورہ (۲) بے ہوش ہونا - بدحواس ہونا۔  
 سرگورق - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) کتاب کا پہلا ورق - ٹیٹیل بیج۔  
 سرگوسا مال - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) ضروری اسباب - لوازمات۔  
 سرگوکار - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) واسطہ - تعلق (۲) غرض - مطلب (۳) رحمان - جھکاؤ۔  
 خواہش - میل۔  
 سرگوکار نہ ہونا - (۱) محاورہ (۲) تعلق یا واسطہ نہ ہونا۔  
 سرگہنگ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نڈ (۱) فوج کا سردار (۲) سپاہی - پہلوان۔  
 سرگوننا - (۱) محاورہ (۲) فتح ہونا (۳) دغا - غیر ہونا (۴) مشکل ہونا۔  
 (۵) شروع ہونا۔  
 سرگورہ - (۱۔ ۱۰) نڈ (۱) تاش یا گینے کا پتہ جو کھیلا جائے (۲) وہ تین یا چار پتے  
 جو جیتنے والا لے جائے (۳) مرتبے میں بڑا پتہ مثلاً آکا - بادشاہ وغیرہ۔  
 (۴) چشمہ - تالاب - حوض - جھیل (۵) نادرک خندگ (۶) پانی - آب۔  
 بل (۷) سرگندہ - نزل۔  
 سرگنانا - (۱) محاورہ (۲) پتے جیت کر لے جانا۔  
 سرگنکنا - (۱) محاورہ (۲) تاش یا گینے کا پتہ پھینکانا۔  
 سرگ (Sir) (۱) نامگ (۱۔ ۱۰) نڈ (۲) (۱) بڑوں سے خطاب کرنے کے لیے (۲)  
 جناب - جناب والا (۳) انگلٹن کے امرا کا لقب (۴) سرکار انگریزی کا

ایک خطاب۔

سر۔ سر۔ (۱-۵) مذ (۱) سر۔ سر۔ کھوپری۔ چوٹی (۲) ذمہ (۳) مالک۔ آقا۔ سردار (۴) ابتدا۔ شروع۔

سر آفتنا۔ (۱) محاورہ (۱) الزام آنا (۲) مصیبت یا آفت آنا۔

سر آنا۔ (۱) بھوت پریت کا اثر ہونا (۲) سرکٹ کر آنا۔

سر آنکھوں (پر) سے۔ (۱) متعلق فعل، دل دجان سے۔ بڑی خوشی سے (رضامندی یا اتفاق مانے ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں)۔

سر آنکھوں پر (بٹھانا) لینا۔ (۱) محاورہ) بہت عزت اور تکریم کرنا۔ خوب آڈھکت کرنا۔

سر آنا کرنا۔ (۱) محاورہ) سر کاٹنا۔ گردن اڑانا۔

سر آکر دانا۔ (۱) محاورہ) سر کوٹنا۔ گردن کوٹنا۔

سر اٹھا کر چیلنا۔ (۱) محاورہ) عزت کرنا۔ اترانا۔

سر اٹھانا۔ (۱) محاورہ) (۲) سر اُپر یا اُوپر چا کرنا (۳) شور کرنا۔ غل کرنا (۴) سر کو ہٹانا۔ گردن سر کاٹنا (۵) سرکشی یا بغاوت کرنا۔ فساد یا شورش مچانی کرنا (۶) اترانا۔ عزت کرنا۔ اگرتا (۷) ہند یا ہٹ کرنا (۸) مقابل ہونا۔

بمباری کرنا (۹) ٹھٹک پانا۔

سر اٹھانے کی فرصت نہ ہونا۔ (۱) محاورہ) بالکل فرصت نہ ملنا۔

بنیاد عظیم العزمت ہونا۔

سر اٹھانے نہ دینا۔ (۱) محاورہ) ذرا بھی فرصت نہ دینا (۲) بہت شرمندہ کرنا۔

سر (اڑانا) اڑا دینا۔ (۱) محاورہ) سر کاٹ ڈالنا۔ گردن کاٹ دینا۔

سر اڑانا۔ (۱) محاورہ) سر اٹھانا۔ سر اُپر چا کرنا۔

سر الٹ کرنا۔ (۱) محاورہ) سر کاٹ ڈالنا۔ سر کو جسم سے جدا کر دینا۔

سر اُوپر چا کرنا۔ (۱) محاورہ) عزت بخش۔ شرف رکھنا۔ وقار بڑھانا۔

سر باندھنا۔ (۱) محاورہ) (پٹا بازی کی اصطلاح) سر کا نشانہ باندھنا (۲) سر کے بالوں میں موہاٹ ڈالنا۔ سر گندھنا۔ چوٹی کرنا۔

سر براہ۔ (رت۔ ۱) مذ) منتظم۔ انتظام کرنے والا۔

سر بڑا۔ (۱) محاورہ) سر بڑا گھوڑا۔ (۲) (شل) بڑے یا نقل مندا آدمی کا سر بڑا ہونا ہے اور جاہل کے پاؤل۔

سر بھاری جوہنا۔ (۱) محاورہ) نزلے یا زکام کی وجہ سے سر بوجھل معلوم ہونا۔ درد سر ہونا۔ سر گھومنا۔

سر بچھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) جان کو ہلاکت میں ڈالنا (۲) فوج میں بھرتی ہونا۔

سر بیکار جوہنا۔ (۱) محاورہ) ناپسندیدہ کام دیتے ہونا۔

سر پاؤل۔ (۱) مذ) سر۔ پیر (۱) ابتدا (۲) اتر پتہ۔ ٹھکانا۔

سر پاؤل (سر پیر) نہ جوہنا۔ (۱) محاورہ) (۱) آنا اور انجام کا پتہ دینا۔ بھل ہونا۔

سر چیک کے مر جھانا۔ (۱) محاورہ) (۱) سر کر کے جان دے دینا (۲) اہتائی کو کشش کے باوجود کامیابی نہ ہونا۔

سر شکتے رہ جانا۔ (۱) محاورہ) بے نتیجہ کوشش کرنا۔

سر سٹھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) سر دے دے مارنا۔ سر پھوڑنا (۲) ہلانا۔ گھبراتا بھگتھلانا (۳) بہت کوشش کرنا۔ ہاتھ پاؤل مارنا (۴) منت

سماجت کرنا (۵) بہت زیادہ سوچ بچار یا غور فکر کرنا (۶) تلاش یا تجسس کرنا (۷) بہت افسوس کرنا۔

سر پر۔ (۱) متعلق فعل (۱) بہت قریب۔ بے حد نزدیک (۲) ذمہ۔

(۳) سر کے اُوپر

سر پر اُوپر کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ذمہ پڑنا (۲) وارد ہونا۔

سر پر آپیٹھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بہت قریب آ جانا (۲) نزدیک یا سامنے ہی ہونا۔

سر پر اُوپر چھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) آجور ہونا۔ سر پر سوار ہو جانا (۲) مقابلہ کو کھڑے ہو جانا (۳) پیچھے بڑ جانا۔

سر پر (آرا) آرسے چیلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ہلاکت میں پڑنا۔ جان پر ہٹنا (۲) ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہونا۔

سر پر آرسے چل گئے تو بھی مدار ہی مدار۔ (مثل) سخت تکلیف اٹھانی پھر بھی اپنی ہمت پر قائم رہے۔

سر پر آفت آنا۔ (۱) محاورہ) سخت مصیبت آنا۔

سر پر آنا۔ (۱) محاورہ) (۱) قریب آنا (۲) کسی جن بھوت پریت کا سایہ ہونا۔

سر پر آنکھیں نہ ہونا۔ (۱) محاورہ) بے عقل یا بے وقوف ہونا۔

سر پر اٹھا کر لے جانا۔ (۱) محاورہ) سر کا تھلے جانا (۲) سر پر رکھ کر لے جانا۔

سر پر (اٹھانا) اٹھا لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) شور کرنا۔ غل مچانا (۲) شرارت یا فتنہ اٹھانی کرنا (۳) تعظیم و تکریم کرنا۔

سر پر (اجل) قصا کھیلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) موت قریب ہونا (۲) شامت آنا۔ خواست یا بد بختی آنا۔

سر پر احسان (دھرنا۔ رکھنا) کرنا۔ (۱) محاورہ) بھلائی کرنا۔ احسان مند بنانا۔

سر پر بال جوہنا۔ (۱) محاورہ) مجال ہونا۔ ہنسنے کی طاقت ہونا۔

سر پر بٹھانا۔ (۱) محاورہ) بہت تعظیم و تکریم سے بٹھانا۔

سر پر ہٹنا۔ (۱) محاورہ) مصیبت نازل ہونا۔ آفت میں مبتلا ہونا۔

سر پر بوجھ پڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کا ممنون احسان ہونا (۲) ذمہ داری پڑنا (۳) فکر مند ہونا۔

سر پر لولنا۔ (۱) سانپ کے کاٹے ہونے مد ہوش آدمی کا منتر سے نروسے

بائیں کرنا (۲) بھوت پریت کا انسان کے جسم میں حملول کر کے بولنا۔

سر پر بھوت سوار ہوہنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بھوت پریت کا سایہ ہونا۔

(۲) پاگل ہونا (۳) بدحواس ہونا (۴) بہت زیادہ ناراض یا مشتے ہونا۔

سر پر بٹھنا۔ (۱) محاورہ) (۱) جگہ یا گنجائش نہ ہونے کے سبب کسی کے اُوپر بڑھ کر بیٹھنا (۲) اس طرح بیٹھنا کہ دوسروں کو بے آزادی ہو (۳) تعظیم و تکریم ہونا۔

سر پر پاؤل رکھ کر بھاگنا۔ (۱) محاورہ) بے حاشا بھاگنا۔ بہت تیز بھاگنا۔

سر پر پر بال کھیلنا۔ (۱) محاورہ) بڑیوں کا سایہ ہونا۔

سر پر پر پڑنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ذمہ ہونا (۲) بلا نازل ہونا۔ مصیبت آنا (۳) گذرنا۔ بچھنا۔

سر پر پہاڑ کرنا۔ (۱) محاورہ) سخت مصیبت نازل ہونا۔

سرپرستوں) پر تھالی پھرنا۔ (۱- محاورہ) بہت زیادہ جوم ہونا۔  
 سرپرستیکا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) عزت پانا (۲) حق دار ہونا (۳) کسی کام کا کسی شخص پر انحصار ہونا (۴) راج تک لگایا جانا۔  
 سرپرستین پڑھنا (سوار ہونا)۔ (۱- محاورہ) (۱) بھوت پریت کا اثر ہونا (۲) نہایت طیش میں بھرا ہونا نہندیا ہست پر قائم ہونا۔  
 سرپرستوں کی ہاتھ میں روٹی۔ (۱- مثل) کھانے کو بل جانے خواہ بے عزتی ہی کیوں نہ ہو۔  
 سرپرستوں پر چڑھا رہنا۔ (۱- محاورہ) پیچھے لگا رہنا۔ غالب رہنا۔  
 سرپرستوں پر چڑھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) عزت دینے کے لیے سرپرست رکھنا (۲) بہت زیادہ منہ لگانا۔ حد سے زیادہ خیال رکھنا۔ بہت لاڈ کرنا (۳) گستاخ یا بے ادب بنانا۔  
 سرپرستوں پر چڑھنا۔ سرپرستوں۔ (۱) گستاخ ہونا۔ بے ادب ہونا (۲) بہت بے تکلف ہونا (۳) سرپرستوں ہونا (۴) گھنڈ کرنا۔  
 سرپرستوں (چلانا) غل مچانا۔ (۱- محاورہ) پاس آگیا قریب کھڑے ہو کر شور کرنا۔  
 سرپرستوں پھینچ کر رکھنا۔ (۱) بوجھ ڈالنا (۲) احسان کے بوجھ تلے ڈبانا (۳) الزام لگانا (۴) کسی کے ذمے بہت سا قرضہ ڈال دینا۔  
 سرپرستوں چھت اٹھا لینا۔ (۱- محاورہ) بہت شور مچانا۔  
 سرپرستوں خاک (اُڑانا) ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ماتم کرنا۔ رونا۔ پیٹنا۔ سوگ منانا (۲) بہت اتسوس کرنا۔  
 سرپرستوں خون (پڑھنا) سوار ہونا۔ (۱- محاورہ) جان لینے پر کمر بستہ ہونا۔  
 سرپرستوں لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) حق یا خون کا الزام اپنے ذمے لینا۔  
 سرپرستوں دست شفقت رکھنا۔ (۱- محاورہ) مہربانی کرنا۔ پناہ میں لینا۔  
 سرپرستوں دھمال ہونا۔ (۱) سرپرستوں غل ہونا (۲) بہت سی دقتوں کا سامنا ہونا۔  
 سرپرستوں ڈھول بجننا۔ (۱- محاورہ) بہت قریب شور ہونا۔  
 سرپرستوں رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تعظیم کرنا۔ مقدس یا قابل احترام جاننا (۲) ذمے ڈالنا (۳) سرپرستوں اٹھانا۔ بوجھ اپنے سر لینا۔  
 سرپرستوں رہنا۔ (۱- محاورہ) نگہانی کرنا۔ ہر وقت پاس رہنا۔  
 سرپرستوں سیر (رہنا) ہونا۔ (۱- محاورہ) سرپرست یا بزرگ کا زندہ ہونا۔  
 سرپرستوں سپر سوار ہونا۔ (۱- محاورہ) محو دست پڑنا۔ شامت آنا۔ تقدیر گردش میں آنا۔  
 سرپرستوں سوار رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہر وقت ساتھ رہنا۔ مُسَلط رہنا۔  
 سرپرستوں سہنا۔ (۱- محاورہ) برداشت کرنا۔  
 سرپرستوں سے صدقے آتا کرنا (کرنا۔ وارنا)۔ (۱- محاورہ) قربان کرنا۔  
 سرپرستوں سے نکلنا۔ (۱- محاورہ) بہت قریب سے گزرتا۔  
 سرپرستوں شیطان سوار ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) غصہ پڑھا ہونا (۲) کہنا نہ ماننا۔ نصیحت کی بات نہ سننا (۳) کسی بری حرکت پر کمر بستہ ہونا۔ شرارت پر اُدھار کھانے ہونا۔  
 سرپرستوں عذاب لینا۔ (۱- محاورہ) گناہ کا کام کرنا۔  
 سرپرستوں قیامت آنا (لوٹنا)۔ (۱- محاورہ) بہت مصیبت نازل ہونا بخت ظلم ہونا

سرپرستوں کی ہانڈی رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بدنام ہونا (۲) شرمندگی یا فحالت اٹھانا۔  
 سرپرستوں (سے) گھن باندھنا۔ ہر وقت جان دینے کو تیار رہنا۔  
 سرپرستوں کو دوں دلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دوسرے کو جھلانے کے لیے کوئی کام کرنا۔  
 سرپرستوں کوئی نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) بے یاد مددگار ہونا۔ کوئی سرپرست نہ ہونا۔  
 سرپرستوں کھڑا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت پاس ہونا۔ نہایت قریب ہونا۔ (۲) اسانے موجود ہونا۔  
 سرپرستوں کھیل جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) جان کی پروا نہ کرنا۔ جان جو حکم کا کام کرنا۔  
 سرپرستوں گھر زمین اٹھانا۔ (۱- محاورہ) بہت زیادہ شور مچانا۔ اُدھم مچانا۔  
 سرپرستوں لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) ذمے لینا (۲) برداشت کرنا۔  
 سرپرستوں نہ رہنا۔ (۱) بزرگ یا سرپرست کا انتقال ہو جانا۔  
 سرپرستوں وبال لینا۔ (۱- محاورہ) اپنے ذمے گناہ کا عذاب لینا۔  
 سرپرستوں وارنا۔ (۱- محاورہ) قربان کرنا۔ صدقے کرنا۔  
 سرپرستوں ہاتھ پھیرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) پیاد کرنا۔ چمکانا۔ تسلی دینا (۲) لوٹنا۔ صفایا کرنا۔  
 سرپرستوں ہاتھ دھر کے رونا۔ (۱- محاورہ) (۱) سرپرستوں کے رونا۔ (۲) بہت پچھتانا۔ بہت رنج کرنا۔  
 سرپرستوں ہاتھ دھرنا (رکھنا)۔ (۱- محاورہ) (۱) سرپرستی کرنا۔ حامی مددگار بننا (۲) کسی کے سر پر قسم کھانا۔  
 سرپرستوں ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) شرفی یا بزرگ کا زندہ ہونا (۲) حمایت کرنا (۳) ذمے ہونا (۴) قریب یا نزدیک ہونا۔  
 سرپرستوں پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ذمے ہونا (۲) پیچھے پڑنا۔ سر ہونا (۳) جھٹے میں آنا۔  
 سرپرستوں کا سوا۔ (۱- مذ) مجبوری کی بات یا معاملہ۔  
 سرپرستوں کر (پھینچنا) رہ جانا۔ (۱- محاورہ) رنج و غم کی صورت ظاہر کرنا۔ سوگوار بن کر بیٹنا۔  
 سرپرستوں کے رونا۔ (۱- محاورہ) شدت سے رونا۔ سرپرستوں ہاتھ دھر کے رونا۔  
 سرپرستوں ٹا۔ (۱- محاورہ) (۱) سہارا دینا۔ امداد دینا۔ دست گیری کرنا (۲) تسلی یا دلاسا دینا (۳) دودا کا سر کو بھیل کرنا۔ سر جھک لینا۔  
 سرپرستوں۔ (۱) صفت) پنچیت کا سر براہ۔ بچوں کا سردار۔ صدر۔ میر عیس۔  
 سرپرستوں۔ (۱- محاورہ) (۱) سرپرستوں (۲) سر میں شدید درد ہونا۔  
 سرپرستوں۔ (۱) صفت) (۱) لڑائی جھگڑا (۲) ایسی لڑائی جس میں سرپرستوں۔  
 سرپرستوں۔ (۱- مذ) خطبی۔ مجنون۔ جنڈی۔  
 سرپرستوں۔ (۱- محاورہ) (۱) بکواس سے اپنے اور سننے والوں کے سروں میں درد پیدا کر دینا (۲) مغز مارنا۔ سمجھانا۔  
 سرپرستوں پھر جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) دیوانہ ہونا (۲) مت بگڑنا (۳) سر جھکنا۔  
 سرپرستوں۔ (۱- محاورہ) خطبی ہے۔ پاگل ہے۔  
 سرپرستوں۔ (۱- محاورہ) (۱) سرکاش ہونا (۲) مارگٹی ہونا (۳) سر میں سخت درد ہونا۔  
 سرپرستوں کر (پیر کر۔ توڑ کر) لینا۔ (۱) زبردستی لینا (۲) ڈرا دھکا کر دھول کرنا۔



سر پھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر کے ٹکڑے کرنا (۲) سر سے دسے مارنا (۳) لڑھکڑ  
 کر سونجھی کرنا (۴) بے فائدہ یا لاج حاصل کام کرنا۔  
 سر پھیرنا۔ (۱- محاورہ) کہانہ مانتا۔ حکم عدولی کرنا۔  
 سر پینٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ماتم کرنا (۲) مٹنے میں اگر سر پر دو ہتھکڑا مارنا (۳) بے حد  
 افسوس کرنا۔ تپلانا۔  
 سر پیرنا ہونا۔ (۱- محاورہ) بات کا بے معنی یا مٹل ہونا۔  
 سر توڑنا۔ سر پھوڑنا۔  
 سر توڑ کر لینا۔ زبردستی لینا۔ ڈرا دھکا کر لینا۔  
 سر توڑ کوشش کرنا۔ (۱- محاورہ) بہت سخت کوشش کرنا۔ بے حد  
 مشقت کرنا۔  
 سر تو نہیں کھجاتا۔ (۱- محاورہ) مار کھانے کو دل تو نہیں چاہتا۔  
 سر تقام لینا۔ (۱- محاورہ) بڑی نبرش کر اپنا سر پھوڑ لینا۔ بہت رنجیدہ ہونا۔  
 سر تھکانا۔ (۱- محاورہ) بہت سمجھانا۔ بہت مغز ماری کرنا۔  
 سر تھوپنا۔ (۱- محاورہ) (۱) الزام لگانا (۲) ڈتے ڈالنا۔  
 سر ٹکراتے پھرننا۔ (۱- محاورہ) حیران و پریشان پھرنا۔ آوارہ پھرنا۔  
 سر ٹکرانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر سے دسے مارنا (۲) سمجھدے کرنا (۳) جان نشانی  
 کے ساتھ کوشش کرنا۔ بہت جتو کرنا۔  
 سر جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) نقل ہونا۔ مارا جانا (۲) الزام آنا (۳) ڈتے آنا۔  
 (کھینچے میں) ہتہ بر جانا۔  
 سر جاتے بات میں فرق نہ آئے۔ (۱- مقولہ) جان دے کر بھی ہمد  
 یوزا کرنا چاہیئے۔  
 سر جوڑ کر بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مل کر بیٹھنا (۲) مشورے کے لیے اکٹھے ہونا۔  
 سر جھاڑ منہ پہاڑ۔ (۱- صفت) (۱) بھیاک صورت میں (۲) عورت کا  
 بناؤ سنگار نہ کرنا۔ وحشانہ صورت سے۔  
 سر جھانٹنا۔ (۱- محاورہ) کنگھی کرنا۔  
 سر جھکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) اعلیٰ عت یا فرماں برداری کرنا (۲) شرمندہ ہونا۔  
 دہشت محسوس کرنا (۳) عاجزی نما ہر کرنا۔  
 سر جھکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مغلوب ہونا۔ دینا (۲) عاجزی کا اظہار (۳) شرمندگی  
 کے باعث گردن پٹی ہونا۔  
 سر چلیکنا۔ (۱- محاورہ) ڈتے ڈالنا۔ سر منڈھنا۔  
 سر چڑھنا۔ (۱- صفت) (۱) لاڈلا۔ منہ لگا (۲) گستاخ۔ بے ادب۔  
 سر چڑھانا۔ (۱- محاورہ) بہت شرم لگانا۔ بہت زیادہ لاڈ کرنا۔  
 سر چڑھ کر۔ (۱- متعلق فعل) (۱) سر پر کھڑے ہو کر (۲) ڈتے پڑ کر (۳) ضد  
 کر کے۔ بالا صرار (۴) از خود ظاہر ہو کر۔  
 سر چڑھ کر کے لوٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ٹھوٹ پریت کا سر پر اکر کھیلنا  
 (۲) کسی بات کا اثر از خود ظاہر ہونا چھپائے نہ چھپانا۔  
 سر چڑھ کر سیکنا۔ (۱- محاورہ) عزت کے گر ذلیل کرنا۔  
 سر چڑھ کے مرنا۔ (۱- محاورہ) اپنے مرنے کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنا۔  
 سر چڑھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بے تکلف ہونا (۲) گستاخ یا بے ادب ہونا۔  
 (۳) مقابلہ کرنا۔ برابری کرنا (۴) فرقتہ ذمہ ہو جانا۔

سر چکٹ جانا (چکھٹنا۔ (صن۔ مرکب) میل کی وجہ سے بالوں کا ایک  
 دو سر سے چمٹ جانا۔  
 سر چکرانا۔ (۱- محاورہ) سر ٹھوٹنا۔  
 سر چھلا جانا۔ (۱- محاورہ) درد کے مارے سر کا گرا پڑنا۔  
 سر چوٹ۔ (۱- صفت) (۱) ناگوار۔ نہایت خلاف مرضی (۲) پھڑ (۳)  
 چاٹ۔ لاگ۔  
 سر چیرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہند کرنا۔ اڑنا۔ ہٹ کرنا (۲) لڑائی جھگڑا کرنا (۳)  
 مارے جانے پر کر بستہ ہونا (۴) سر پھوڑنا۔  
 سر چاھنے سے۔ جان دینے میں عذر نہیں۔  
 سر خالی کرنا۔ (۱- محاورہ) بک بک کر کے دماغ تھکا دینا۔  
 سر دکھانا۔ سر میں سے جویش نکالنا۔  
 سر دکھانا۔ (۱- محاورہ) سر میں درد پیدا کر دینا۔  
 سر دھرا۔ (۱- صفت) (۱) بڑا بوڑھا۔ بزرگ۔ سر پرست۔ ولی۔ وارث۔  
 (۲) آقا۔ افسر۔ سردار۔ مالک۔ سر کردہ۔  
 سر دھرتا۔ (۱- محاورہ) (۱) ذمہ دار گردانا (۲) الزام لگانا۔  
 سر ڈھنٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر کو دسے دسے مارنا۔ سر پینٹنا (۲) افسوس کرنا۔  
 تپلانا (۳) ماتم کرنا (۴) مزے میں اکر جھومنا یا سر بلانا۔  
 سر دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) جان دینا۔ سر قربان کرنا۔  
 سر ڈالنا۔ (۱- محاورہ) ڈتے لگانا۔  
 سر ڈوب۔ (۱- صفت) (۱) شربور (۲) سر سے اڑ پنا پانی۔ اتنا گہرا پانی کہ سر  
 ڈوب جائے۔  
 سر ڈھانکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر پر کپڑا ڈالنا (۲) باکرہ عورت سے  
 واصل ہونا۔  
 سر ڈنگنا۔ (۱) سر کو زخمی کرنا۔ سر سے خون نکالنا (۲) سر میں خضاب لگانا۔  
 سر رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) سر سنج جانا۔ جان سلامت رہنا (۲) کسی کام سے  
 لگے رہنا۔ کوشش کرتے رہنا پیچھے پڑے رہنا (۳) ڈتے ہونا۔  
 سر زانو پر دھرا ہونا۔ (۱- محاورہ) تم داندوہ کا عالم۔  
 سر زوری۔ (۱- صفت) سرکش۔ نافرمان۔  
 سر زیر قدم ہونا۔ (۱- محاورہ) مغلوب ہونا۔ کسی کے ماتحت ہونا۔  
 سر سجدے میں سمن بدلویں میں۔ (۱) ایشل (۲) ظاہر نیک باطن خراب۔  
 ظاہر میں اچھا۔ اندر خائفے بڑا۔  
 سر سفید ہونا۔ (۱- محاورہ) بالوں کا بک جانا۔ بڑھا یا آجانا۔  
 سر سلامت ہونا۔ (۱- محاورہ) زندہ ہونا۔  
 سر سہرا ہونا۔ (۱- محاورہ) عزت یا سرداری کا نشان ہونا۔ کامیابی ہونا۔  
 کسی اچھی بات کا کسی شخص پر منحصر ہونا۔  
 سر سہلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پیار سے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا (۲)  
 تعریف کرنا۔ خوشامد کرنا۔  
 سر سہلانا بھیجا کھانا (سر سہلائے بھیجا کھائے)۔ (۱- مثل) تعریفیں  
 کر کے مال اڑانا (۲) دوست بن کر نقصان پہنچانا۔  
 سر سے اتارنا۔ (۱- محاورہ) وارنا۔ حدتے کرنا (۲) آسیب ڈور کرنا۔

سر سے بلا ٹالنا۔ (۱۔ محاورہ) آئی ہوئی مصیبت دُور کرنا۔ بے دلی سے کوئی کام کرنا۔ مجبوری سے کوئی کام کرنا۔  
 سر سے بوجھ (اُتارنا، ٹالنا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قرضہ اُتارنا (۲) بیٹے یا بیٹی کی شادی کے کام سے خارج ہوجانا (۳) بے دلی سے کام کرنا۔ دفع الوقتی کرنا۔  
 سر سے بوجھ باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) غمخوار کا خرچ اپنے ذمے لے لینا۔ سخت کی ذمہ داری لینا۔  
 سر سے بیگاڑ ٹالنا۔ (۱۔ محاورہ) ناپسندیدہ کام کو بے دلی سے کرنا۔  
 سر سے پانی (اُونچنا، چھوٹا کرنا)۔ (۱۔ محاورہ) اہتہا ہوجانا۔ ناقابل برداشت حد تک پہنچ جانا۔  
 سر سے پاؤں تک الگ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) جل جھن جانا۔ بہت زیادہ غصہ ہونا۔  
 سر سے ہسٹاڑ ٹالنا۔ (۱۔ محاورہ) مصیبت دُور کرنا۔  
 سر سے تنگ اُتارنا۔ (۱۔ محاورہ) معمولی سا احسان کرنا۔  
 سر سے ٹلنا۔ (۱۔ محاورہ) دفع ہونا۔ پھینچا چھوڑنا۔  
 سر سے چلنا۔ سر کے بل چلنا۔ (۱۔ محاورہ) بے حد تعظیم و کرم سے جانا۔  
 سر سے سایہ اُٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بزرگ کا مر جانا۔  
 سر سے سر جوڑنا۔ (۱) صلاح مشورہ کرنا (۲) صلح کرنا۔  
 سر سے سرواگیا ہے۔ (۱۔ مثل) گھر کے مالک سے گھر کا انتظام ہوا کرتا ہے (۲) سر دار کے ساتھ حکومت ہے۔  
 سر سے کفن باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) مرنے کے لیے تیار ہونا۔ بتیلی پر سر رکھ لینا۔  
 سر سے گنواں کھو دونا۔ (۱۔ محاورہ) ناکامی کا انجام دینا۔  
 سر سے کھیل جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اہتہا فی دیرری دکھانا (۲) مرنے پر آمادہ ہونا۔  
 سر سے کھیلنا۔ (۱۔ محاورہ) جن یا مخلوق پریت کے اثر سے سر دھننا۔  
 سر سے لگڑ جانا، گزرتنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) اہتہا کو پہنچ جانا (۲) لاک ہو جانا (۳) مردم ڈباؤ پانی ہونا۔  
 سر سے لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) غصہ آنا (۲) ناگوار گزرتنا۔  
 سر سے مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مشکل کی وجہ سے چیز ٹوٹا دینا (۲) اٹھا کر پھینک دینا (۳) بے ناڈہ ذمے ڈالنا (۴) سر سے ٹکرانا۔  
 سر سے میللا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) حیرت کی حالت میں ہونا۔  
 سر سینکنا ہونا۔ کوئی خاص بات ہونا۔ پہچان یا شناخت کی کوئی خاص علامت ہونا۔  
 سر صدقے۔ (۱۔ متعلق فعل) کچھ پروا نہیں۔ بلا سے۔ کسی چیز کے گم ہو جانے پر کہتے ہیں۔  
 سر غذاب لینا۔ (۱۔ محاورہ) مشکل کام اپنے ذمے لینا۔  
 سر فدا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے واسطے مرنا۔ کسی کے لیے جان قربان کرنا۔  
 سر قدم پر رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) منت سماجت کرنا (۲) بہت عزت کرنا۔  
 سر قلم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) سر کاٹنا۔ قتل کرنا۔  
 سر کا بوجھ اُترنا۔ قرض ادا ہونا۔ ذمہ داری سے خارج ہونا۔

سر کا بوجھ پاؤں پر پڑتا ہے۔ (۱۔ مثل) اپنی دلدادہ اپنی ہی کمرسوس ہوتا ہے۔  
 سر کا بوجھ ٹالنا۔ (۱۔ محاورہ) بے دلی سے کوئی کام کرنا۔  
 سر کا پسینہ اڑی تک آنا۔ (۱۔ مثل) بہت سخت مشقت کرنا۔  
 سر کا چھٹا اُتارنا۔ (۱۔ محاورہ) احسان اُتارنا۔ جگہ شکوہ دفع کرنا۔  
 سر کا نہ پاؤں کا۔ (۱۔ صفت) بے سرو پا۔ نہ آغاز نہ انجام۔ لغو۔  
 سر کا وبال ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دُوبھر ہونا۔  
 سر کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) فتح کرنا (۲) ذمہ دار بنانا۔ لڑانا۔ بھڑانا (۳) چوٹی گوندھنا (۴) تاش یا گینچے کی بازی جیتنا (۵) سر کو اندر گھسیڑنا۔  
 سر کو آنا۔ (۱۔ محاورہ) سر ہونا۔ پیچھے پڑنا۔  
 سر کھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) منہ چاشنا۔ بک بک کیے جانا (۲) پریشان کرنا۔  
 سر کہاں پھوڑوں۔ (۱۔ محاورہ) کہاں تلاش کروں (۲) کس سے فریاد کروں۔  
 سر کھپ۔ (۱۔ صفت) (۱) جاں نثار (۲) محنت و مشقت میں مصروف رہنے والا۔  
 سر کھینا نا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) منہ مارنا (۲) کوشش کرنا۔  
 سر کھانے کی فرصت نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بہت مصروف ہونا۔  
 سر کھلنا۔ (۱۔ محاورہ) سر پھٹنا۔ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹنا۔  
 سر کھولنا۔ (۱۔ محاورہ) سر تنگ کرنا۔ بال پھیلانا (۲) کوئی سخت چیز مار کر سر پھوڑ دینا۔  
 سر کھینچنا۔ (۱۔ محاورہ) سر کشی کرنا (۲) سر ایک طرف کر لینا۔  
 سر کی آفت ٹلنا۔ (۱۔ محاورہ) مصیبت دُور ہونا۔  
 سر کے بل۔ (۱۔ متعلق فعل) سر کے سہارے (۲) نہایت ادب سے۔ بڑی عزت سے۔  
 سر کے زور۔ (۱۔ متعلق فعل) پوری کوشش سے۔  
 سر کے ساتھ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) جان کے ساتھ لگا ہونا۔  
 سر کاڑھی پاؤں (پیسر) پیسہ کرنا۔ نہایت محنت سے کام کرنا۔  
 سر کا لامنتہ بال۔ (مثل) (۱) بڑھاپے میں جوانوں جیسی نادانیاں (۲) سر سفید ہو گیا ہے۔ بڑھاپے پر جوانی برسی ہے۔  
 سر گرنا۔ (۱) سر جھینٹا جانا۔ سر میں درد ہونا (۲) سر زمین کی طرف جھکنا۔  
 سر گریبان میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) متشکر ہونا۔ شرمندگی ہونا۔  
 سر گنجا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مارا کر سر کے بال اُڑا دینا (۲) مخلص کر دینا۔  
 لٹ کھانا۔  
 سر گوندھنا۔ (۱۔ محاورہ) گلگی چوٹی کرنا۔  
 سر گھنوں میں دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بے دلی ہونا (۲) متشکر ہونا (۳) شرمندہ ہونا  
 سر گھومنا۔ (۱۔ محاورہ) سر پھرتا۔ پاگل ہوجانا۔ بھگڑانا۔ دوران سر ہونا۔  
 سر لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) بہت لگنا (۲) ذمے پڑنا۔  
 سر لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ذمہ لیتنا (۲) سر کاٹنا۔ جان سے مارنا۔  
 سر مارنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زبردستی دینا۔ بلا مرضی دینا۔ سر دھننا (۲) منہ زنی کرنا۔ سمجھانا (۳) سر دے دے مارنا۔ سر کھینکا۔ سر دھننا (۴) جان لڑانا۔  
 سر پھریں کرنا (۱) ڈھونڈنا۔ تلاش کرنا۔  
 سر سندا آتے ہی اولے پڑے۔ (۱۔ مثل) (۱) کام شروع کرتے ہی نقصان

سرا۔ سرائے۔ (رس۔ ما۔ رس۔ ما۔ اسے) (ن۔ ا۔ مٹ) (۱) گھر۔ حویلی۔ مکان۔  
 مرکبات میں جیسے دولت سرا۔ جہاں سرا (اُڑ) مسافروں کے ٹھہرانے  
 کا مکان۔ مسافرخانہ۔ دھرم سالہ۔  
 سرا پرودہ۔ (۱) وہ اونچی قنات جو ڈیرے کے آس پاس لگاتے ہیں اور  
 جو دربار کی طرح پردے کا کام دیتی ہے (۲) بارگاہ شاہی (۳) گھر کا  
 پرودہ (۴) ڈیرہ۔ ٹیہ۔  
 سرائے فانی۔ (۱) مٹ، فنا ہو جانے والا گھر۔ ڈینا۔  
 سرائے کا کتا ہر مسافر کا پیار۔ (۱) شل، سلیبی آدمی ہر ایک سے یارانہ  
 گانٹھ لیتا ہے۔

سراٹے کی چھٹیاری۔ (۱) مٹ، لٹا۔ اکا۔ بے باک۔ گالی باز عورت۔  
 سرا۔ (رس۔ را۔) (۱) مٹ۔ (۲) لٹا۔ (۳) خیر۔ آخر (۴) ابتدا۔ آغاز۔  
 سرا سے۔ (۱) متعلق فعل، شروع سے۔  
 سرا سے ہی کی بھیر کافی۔ (۱) شل، شروع یا ابتدا ہی سے بگاڑ۔  
 سراپ۔ (رس۔ راب۔) (۱) ریشمی زمین کی وہ چمک جس پر چاند  
 سورج کی چمک سے پانی کا دھوکہ ہوتا ہے (۲) دھوکا ہی دھوکا۔  
 معدوم۔ نا اُرد۔

سراپ۔ (رس۔ راب۔) (۱) مٹ۔ (۲) بد دعا۔ کوسنا۔  
 سراپا۔ (رس۔ را۔ پا۔) (۱) مٹ۔ (۲) تمام بدن سر سے پاؤں تک (۲) وہ  
 نظر جس میں سر سے پاؤں تک ہر عضو کی تعریف کی جائے (۳) حلیہ۔  
 (۴) پگڑا خلعت۔  
 سراپنا۔ (رس۔ راب۔ نا۔) (۱) مٹ۔ (۲) تیز ہوا کی آواز۔  
 سراپنا۔ (رس۔ راب۔) (۱) مٹ۔ (۲) چراغ (۳) روشنی (۴) سورج۔  
 سرا دھ۔ (رس۔ را۔ دھ۔) (۱) مٹ۔ (۲) ہندوؤں میں سر سے ہوؤں کے نام پر  
 کھانا دینے کی سالانہ رسم۔  
 سرا سر۔ (رس۔ را۔ سر۔) (۱) مٹ۔ (۲) تمام۔ کل۔ اس سر سے اس سر سے  
 نیک (۲) یک نعت۔ محض۔

سرا سمری۔ (رس۔ ما۔ س۔ ری۔) (۱) مٹ۔ (۲) رولاری۔ سمر سمری (۲)  
 (۱) مٹ۔ (۲) مٹے کا ایک زیور (۳) تاج فعل، جلدی سے (۴)  
 چلتے چلتے (۵) مختار۔ جملہ۔  
 سرا سیملی۔ (رس۔ ما۔ سیم۔ لی۔) (۱) مٹ۔ (۲) پریشانی۔ حیرانی۔  
 سرا سیم۔ (رس۔ ما۔ سیم۔) (۱) مٹ۔ (۲) حیران پریشان۔ گھبرایا ہوا۔  
 سرا سرائ۔ (رس۔ راب۔) (۱) مٹ۔ (۲) کھوج۔ پاؤں کا نشان (۲) پتہ۔  
 نشان (۲) تلاش۔

سرا سرائ رسال۔ (رس۔ راب۔) (۱) مٹ۔ (۲) کھوج لگانے والا۔ پتہ لگانے  
 والا۔ فن جاسوسی کا ماہر۔ کھوجی۔  
 سرا سرائ رسائی۔ (رس۔ راب۔) (۱) مٹ۔ (۲) کھوج لگانے کا فن۔ فن جاسوسی۔  
 سرا سرائ لگانا۔ (۱) مٹ۔ (۲) کھوج لگانا (۲) تلاش کرنا۔  
 سرا سرائ ملنا۔ (۱) مٹ۔ (۲) پتہ نشان دریافت ہونا۔  
 سرا سرائ لگنے۔ (رس۔ را۔ لگ۔) (۱) مٹ۔ (۲) تاتار اور تبت کی چمٹے دار

ہوا۔ ابتدا ہی سے کام میں خرابی پیدا ہو گئی۔  
 سر سر مٹانا۔ (۱) سر کے بال اُترانا (۲) جوگی بنا۔ غیر بنا (۳) دھوکے میں  
 اُگر لٹ جانا۔  
 سر موٹ کر کر گیا کھٹنا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 کیا بگاڑے گا۔  
 سر موٹنا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 مال کھانا۔  
 سر میلنا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 پکڑوں سے ہونا۔

سر میں خاک ڈالنا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر میں خنک سمانا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر میں سودا ہونا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نقد نوکری اُدھار۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 مگر تنخواہ دقت پر نہیں ملتی۔  
 سر نہ (اٹھانے) اٹھنے دینا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 نہ کرنے دینا۔ مجبور رکھنا (۲) خدمت نہ دینا۔  
 سر لوٹا (نہوڑانا)۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہیں یا سر وہی نہیں۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 دے دیں گے۔

سر لاکھ لیسے پھرنا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر ہو جانا یا ہونا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ اٹھنا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ پیر۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ پھا ہونا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر و بال دوش ہونا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ چھلی پر رکھنا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔

سر نہ بچ۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ بچنی۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ کی اصطلاح آواز کے سات درجوں میں سے ایک درجہ (۵)  
 (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سر نہ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔

سرا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سرا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سرا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سرا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔  
 سرا۔ (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔

دُم والی گائے۔

مُسرانا - دق (مص) مسراہتا - تعریف کرنا۔

مُسرانا - (س۔ نا۔ نا) (۱) دق (مص) (۱) ٹھنڈا کرنا - سرد کرنا (۲) متبرک چیزوں کو دریا میں ڈھلوانا - حرق کرنا۔

مُسر اوک - مسراوکی - (س۔ نا۔ دق) (س۔ نا۔ دق) (۱) (۱) مین یا بڈھ مت کا پیرو۔

مُسران - (۱) (۱) لکڑی کا ایک آلہ جس سے زمین ہموار کی جاتی ہے (پہاگ) مسراہتا - (س۔ نا۔ نا) (۱) دق (مص) (۱) تعریف کرنا (۲) قدر کرنا - داد دینا۔ (۳) چالیسی یا خوش مد کرنا۔

مُسرایت - (س۔ نا۔ نیت) (۱) (۱) مٹ (۱) تاثیر کرنا (۲) سما جانا - نفوذ کرنا۔

مُسرایت کرنا - (۱) (۱) محاورہ (۱) جذب ہونا - زینا (۲) اثر کرنا - گھسنا۔

مُسرِب - (۱) (۱) صفت (۱) سارا - تمام - پورا - کل۔

مُسرِب گہن - (۱) (۱) مٹ (۱) چاند یا سورج کا پورا گہن۔

مُسرِب - (۱) (۱) مٹ (۱) سب سے بڑے - بڑے - بڑے سے بڑے جتنی دھات۔

مُسرِب ہونا - دق (مص) مقابل ہونا - برابری کرنا۔

مُسرِبند - (۱) (۱) مٹ (۱) دستار - پٹوئی۔

مُسرِبھنگی - (س۔ بھنگی) (۱) (۱) مٹ (۱) ہندو فقیروں کا ایک فرقہ جو ذات پات اور حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا۔

مُسرِب - (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) سانپ (۲) کینڑ رکھنے والا۔

مُسرِبیت - (س۔ پت) (۱) (۱) مٹ (۱) ایک قسم کی گھاس - پتاور۔

مُسرِبٹ - (س۔ پٹ) (۱) (۱) مٹ (۱) گھوڑے کی نہایت تیز دوڑ۔

مُسرِبٹ دوڑانا - (۱) (۱) محاورہ (۱) گھوڑے کو نہایت تیز دوڑانا - بگ ٹٹ دوڑانا - بے دھڑک دوڑانا۔

مُسرِبھوکا - (س۔ پھوکا) (۱) (۱) مٹ (۱) ایک قسم کی گھاس جو مصلیٰ خون ہے۔

مُسرِت - (س۔ زت) (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) دھیان - خیال - چیتا - سگدھ (۲) ہوشیاری (۳) محافظہ - یادداشت (۴) عقل - سمجھ۔

مُسرِت آنا - (۱) (۱) محاورہ (۱) ہوش آنا - سگدھ آنا - خیال ہونا۔

مُسرِت لیسارنا - (۱) (۱) محاورہ (۱) حواس باختہ ہونا - ہوش کھونا۔

مُسرِتا - (س۔ تا) (۱) (۱) صفت (۱) ہوشیار - چوکس - باخبر (۲) ذہین - دانا۔

مُسرِتا برتا - (س۔ تا - برتا) (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) انتظام - بندوبست کسی کام

کا سرانجام (۲) خرچ - صرف (۳) جھٹ - بجز۔

مُسرِتا برتا کرنا - (۱) (۱) محاورہ (۱) انتظام کرنا (۲) برتا کرنا (۳) بانٹ لینا۔

مُسرِتول - (دق - صفت) (۱) (۱) ہم پلہ - ہم متاثر - برابر کا (۲) عاجز۔

مُسرِتی - (دق) (۱) پھر سے - از سر نو۔

مُسرِتیچھ - (دق) (۱) ازل سے - ابتدا سے۔

مُسرِتیکٹ - (Certificate) (س۔ ٹی) (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) کیٹ (۱) (۱) ایک (۱) (۱) پروانہ - سند۔

مُسرِت جانا - دق (مص) (۱) (۱) ختم ہونا - پورا ہونا - تمام ہونا۔

مُسرِت جی - (Surgery) (س۔ جی) (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) جراحی

مُسرِجن - (Surgeon) (س۔ جن) (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) ماہر جراحی - جراح۔

مُسرِجن - (س۔ جن) (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) معزز آدمی - شریف یا بھلا نامی - بھلا نامی سبب (۲) خدا۔

مُسرِجن مار - خاق - بنانے والا - پیدا کرنے والا۔

مُسرِجتا - (س۔ رج - نا) (۱) (۱) دق (مص) (۱) پیدا ہونا۔

مُسرِجتی - (دق) (۱) پیدا کی جوتی۔

مُسرِجیون - (س۔ جی - ون) (۱) (۱) صفت (۱) (۱) سرسبز - شاداب (۲) پائے دار - مضبوط - لازوال (۳) لذتیں (۴) روح افزا - فرحت بخش (۵) ہمیشہ

شاداب رہنے والا (۶) گلاب - مرطوب۔

مُسرِچارِج - (Surcharge) (س۔ چارج) (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) نامزد تم

(۲) وصول کی جائے) مزید رقم کا بار (۳) بجلی کی فاضل رو۔

مُسرِجائی - (دق - صفت) (۱) (۱) گھبنا۔

مُسرِجوت - (دق - مٹ) (۱) (۱) مشکل (۲) ہزاری۔

مُسرِج - (دق - صفت) (۱) (۱) لال - (۱) (۱) گھونچلی - رتی بھر - ماشے کا آٹھوں جتہ۔

آٹھ جادل کا وزن۔

مُسرِج باد - مُسرِج بادہ - (دق - مٹ) (۱) (۱) مٹ (۱) ایک بیماری جس میں سارے جسم

پر لال لال پتے ہو جاتے ہیں۔

مُسرِج بید - (دق - مٹ) (۱) (۱) مٹ (۱) ایک قسم جس کا رنگ مُسرِج ہوتا ہے (۲) ایک بوٹی کا نام۔

مُسرِخا - (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) ایک قسم کا آم (۲) ایک قسم کا کبوتر (۳) ایک قسم کا

گھوڑا (۴) طنز کی فونڈا۔

مُسرِخرو - (دق - صفت) (۱) (۱) کامیاب - عزت و آبرو حاصل کرنے والا۔

مُسرِخرو ہونا - (۱) (۱) محاورہ (۱) کامیاب ہونا - عزت حاصل کرنا (۲) بری الذمہ

قرار دیا جانا (۳) وعدے پر پورا اترنا - سچا نکلنا۔

مُسرِخروئی - (دق - مٹ) (۱) (۱) کامیابی - عزت - آبرو۔

مُسرِخ فیتہ - (دق - مٹ) (۱) (۱) مضابطہ پرستی - دفتری طوالت - بلاوجہ کی مین سیخ۔

مُسرِخ وسیند ہونا - (۱) (۱) محاورہ (۱) گورے رنگ پر سُرخ جھلکنا (۲) صحت مند ہونا۔

مُسرِخ ہونا - (۱) (۱) محاورہ (۱) لال ہونا (۲) سفید سے پیرو مُسرِخ ہو جانا (۳) میوے کا پک جانا (۴) کسی چیز کا گھی میں چھن کر لال ہو جانا۔

مُسرِخاب - (س۔ خاب) (دق - مٹ) (۱) (۱) مٹ (۱) چکا چکوی - ایک آبی پر بند۔

مُسرِخاب کے پر لگنا - (۱) (۱) محاورہ (۱) کوئی خاص امتیاز یا صفت ہونا (۲) اونٹنی

بات ہونا - نئی چیز شامل ہونا - مسودہ ہونا۔

مُسرِخی - (س۔ خی) (دق - مٹ) (۱) (۱) لال - لال رنگت (۲) لال روشنی (۳) اینٹ کا بڑا (۴) عنوان (۵) ناخوان اور ہوشوں کو سُرخ کرنے کا ایک

مسالہ - خوردوں کا ایک سنگار۔

مُسرِخی دینا - (۱) (۱) محاورہ (۱) سُرخی قائم کرنا - عنوان خیر کرنا - عنوان

تجویر کرنا۔

مُسرِخی مائل - (دق - مٹ) (۱) (۱) صفت (۱) لال - لال لے ہوئے۔

مُسرود - (دق - صفت) (۱) (۱) مٹ (۱) (۱) بے رونق - بے لطف (۳) دھیمہ (۴) افسردہ۔

(۵) بے جس - غیر مزبانی (۶) بے جان - مُردہ۔  
 سرد آئینہ - (ن - ۱ - مذ) (۱) تھانہ (۲) تجربہ و اپنی زندگی میں تیار کردنی جاتی ہے۔  
 سرد آلہ - (ن - ۱ - مذ) (۱) مزید سے ٹھنڈی کرنے کی مشین - (Refrigerator)  
 سرد آور - (اصطلاح کیمیا) ٹھنڈا کرنے والا - جانے والا ریفریجرنٹ۔  
 (Refrigerant)  
 سرد بازاری - (تجارت) مندا قیمت کا یکایک گرجانا - کساد بازاری۔  
 سرد ذخیرہ - (ن - ۱ - مذ) (کیمیاوی اصطلاح) تھانے میں ذخیرہ کرنا۔  
 (Cold Storage)  
 سرد جنگ - (ن - ۱ - مذ) دیکھے اعصابی جنگ (انگ)  
 (Coldwar)  
 سرد مزاج - (ن - ۱ - صفت) (۱) ٹھنڈی طبیعت والا - مُردہ دل (۲) سخت  
 افسردہ خاطر (۳) بے مروت - بے مہر۔  
 سرد مہر - (ن - ۱ - صفت) (۱) بے مروت - بے وفا (۲) ظالم - دل کا سخت۔  
 (۳) بوجہ توجہ یا التفات نہ کرنے۔  
 سرد مہری - (ن - ۱ - صفت) (۱) بے مروتی - بے وفائی (۲) سنگ دلی (۳)  
 بے اتفاقی۔  
 سرد و گرم - (ن - ۱ - مذ) (۱) سیخ و خوشی - نشیب و فراز - ادب و بیخ - تجربات -  
 (۲) انقلابات زمانہ۔  
 سرد و گرم بھیلنا - (۱) محاورہ) انقلابات زمانہ کا تجربہ کرنا۔ زمانے کی مصیبتیں اٹھانا  
 سرد و گرم زمانہ چیشدہ - (ن - صفت) تجربہ کار - زمانے کے نشیب و فراز  
 دیکھے ہوئے - ادب و بیخ سمجھے ہوئے۔  
 سرد (جو جانا) ہونا - (۱) محاورہ) (۱) ٹھنڈا ہو جانا - گرم نہ رہنا (۲) جان  
 باقی نہ رہنا - مرجحانا (۳) ماند پڑ جانا (۴) افسردہ ہو جانا۔  
 سردانا - (سرد - ۱ - نا) (اُر - ۱ - مذ) (اصطلاح کیمیا) ٹھنڈا کرنا یا ہونا - جمانا۔  
 تبرید (انگ) - (Refrigeration)  
 سردی - (سرد - ۱ - صفت) (۱) پوکھٹ کے اوپر کی لٹری۔  
 سردہ - (سرد - ۱ - صفت) (۱) مذ) خرابی کے خاندان کا ایک  
 بیٹا پیل۔  
 سردی رنگ - (سرد - ۱ - صفت) (۱) رنگ (اُر - ۱ - صفت) سردے کا سا رنگ  
 سبزی مائل زرد رنگ۔  
 سردی - (سرد - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) ٹھنڈ - خشکی - ٹھنڈک (۲) جاڑا۔  
 سرد موسم (۳) (اُر) زکام - نزہ (۴) بخار (ک) لپکھی۔  
 سردی پڑنا - (۱) محاورہ) جاڑا پڑنا - ٹھنڈ ہونا۔  
 سردی چڑھنا - (۱) محاورہ) لڑے سے بخار آنا۔  
 سردی کا مارا پینے - ان کا مارا نہ پینے - (۱) شش) چاہے کپڑا نہ ہو گر  
 پیٹ کر دوئی مزدور چاہیے۔  
 سردی - (سرد - ۱ - صفت) (۱) مذ) دو روپیہ فی فصل کی وہ رقم جو گاؤں  
 کے مالک حکومت کو ادا کرتے تھے۔  
 سرد اس - (ن - صفت) یکساں۔

سرس - (۵ - صفت) (۱) زیادہ (۲) بہتر - عمدہ (۳) اصلی - خالص۔  
 سرس - (س - ۱ - صفت) (۱) مذ) ایک درخت کا نام جس کے پھول بہت  
 بھینے خوشبو دیتے ہیں۔  
 سرسام - (سرس - ۱ - صفت) (۱) مذ) ایک بیماری جس سے دماغ  
 میں درم آجاتا ہے۔  
 سرسہا - (۱ - ۱ - صفت) (۱) زمین کا ایک ماپ - ایک مربع کرم ساڑھے چارٹ۔  
 سرستی - سرسوتی - (۱ - ۱ - صفت) (۱) علم - ہنر - زبان کی دیوی۔  
 سرسٹھ - (۱ - ۱ - صفت) (۱) عدد) ساٹھ اور سات کا مجموعہ (۶۷)۔  
 سرسہر - (سرس - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) ساٹھ ساٹھ کی آواز۔  
 سرسہرانا - (سرس - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) جوا کا ساٹھ ساٹھ کی آواز  
 کے ساتھ چلنا (۲) سانپ یا کسی کیڑے کا ریگنا۔  
 سرسہرہٹ - (سرس - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) ہوا چلنے  
 سے ہتوں وغیرہ کے ہلنے کی آواز (۲) سانپ یا کیڑوں کے  
 ریگنے کی آواز۔  
 سرسہری - (سرس - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) آسان (۲) معمولی (۳)  
 بے پروا (۴) جلدی کا (۵) دفتری اصطلاح) جمل۔  
 سرسہری اختیارات - (۱ - ۱ - صفت) (۱) صفت) بغیر تحقیقات حکم نافذ کرنے  
 کے اختیارات۔  
 سرسہری (دیکھنا) نظر کرنا - (۱) محاورہ) جلدی میں ملاحظہ کرنا یا جان نظر لانا۔  
 سرسہری نالاش - (۱ - ۱ - صفت) (۱) صفت) چھوٹی نالاش - ادنے دھوئے۔  
 سرسہری - (سرس - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) ایک سرخ رنگ کا کپڑا  
 جو انان کو لگ جاتا ہے (۲) آتش بازی کی چھوٹا نذر - (۳) ایک کپڑا جس  
 کے کاٹنے سے جلن پیدا ہوتی ہے (۴) دن کی سنناہٹ۔  
 سرسنگار - (۱ - ۱ - صفت) (۱) صفت) ایک بلبے کا نام۔  
 سرسول - (سرسول - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) رائی کی قسم کا ایک بیج جس کا تیل نکالتے  
 ہیں جو کڑوا تیل کہلاتا ہے۔  
 سرسول چھولنا - (۱ - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) سرسول کے پردوں پر چھول آنا (۲) زرد  
 ہی زرد نظر آنا۔  
 سرسول جمانا - (۱) محاورہ) (۱) تمہیل پر کسی کام میں بہت جلدی کرنا (۲) سرسول اگانا۔  
 سرشار - (سرسشار - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) مست - عمور - نشے میں چور۔  
 سرشاری - (سرسشار - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) مستی - مدہوشی۔  
 سرشت - (سرس - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) خواہ - نسل - عادت - مزاج -  
 (۲) خاصیت - خواص - خاصیت - گنتی (۳) خلقت - طینت - پیدائش۔  
 (۴) مخلوط بلا ہوا - مرکبات میں مثلاً نیک سرشت - بد سرشت۔  
 سرششتہ - (سرس - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) سرشت کا مختلف - نمکہ۔  
 سرجری - شعبہ (۲) دستور - رواج (۳) (مصدقہ سرشتن سے صفت)  
 لایا ہوا - بلا جلا۔  
 سرشترہ دار - (ن - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) سر دفتر - میر منشی۔  
 سرشک - (سرس - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) آٹو - اشک - قطرہ۔  
 سرطان - (سرسطان - ۱ - صفت) (۱) صفت) (۱) کیکڑا - آبی جانور (۲) ایک بون کا نام

اٹھائیتھے ہیں۔

مسرکہ جبین - (ف۔ ۱۔ مذ) ٹرش رو۔ تیورباں پڑھانے ہوئے۔

مسرکی - (مسر۔ کی) (دہ۔ ۱۔ مٹ) مسرکڑے کے ڈنٹھل یا بانس کی تیلیوں کی پتی۔

مسرگ - (مسر۔ رگ) (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) جنت۔ فردوس۔

مسرگ باسی - جنت مکانی۔ فردوس مکانی۔

مسرگم - (مسرگم) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) رگ کا مسر۔ رگ کے ساتوں مسر (۲) مخلوط یا کدو میں مسروں کی علامتیں۔

مسرما - (مسر۔ ما) (ف۔ ۱۔ مذ) جاڑا۔ سردی کا موسم۔ سردیاں۔

مسرماٹی - (مسر۔ ما۔ ٹی) (ف۔ صغ) (۱) جاڑے کے کپڑے (۲) جاڑے کا۔ مسروں کا۔

مسرماٹی خواب - (اصطلاح علم حیوانات) بعض حیوانات کا جاڑے کے موسم میں بے حس و حرکت پڑے رہنا۔

مسرماہ - (مسر۔ ما۔ یہ) (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) دولت۔ پونجی۔ اصل زر (۲) وہ ایشاء جو دولت کی پیداوار میں مدد دے سکیں۔

مسرماہ دار - (ف۔ ۱۔ مذ) دولت مند۔ مال دار۔ ساہوکار۔

مسرماہ دارانہ - (ف۔ ۱۔ صغ) سرمایہ داری سے متعلق۔

مسرماہ دارانہ نظام - (ف۔ ۱۔ مذ) وہ معاشی نظام جس میں پیداوار اور تقسیم پیداوار کے ذرائع حکومت کے بجائے چند افراد کے قبضہ و اختیار میں ہوں۔

مسرماہ داری - (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) دولت مندی (۲) سرمایہ دارانہ نظام۔

مسرماہ کار - (ف۔ ۱۔ صغ) (اصطلاح بنکاری) روپیہ لگانے والا۔

مسرماہ لگانے والی اسامی - (Capitalist)

مسرماہ کاری - (اصطلاح بنکاری) روپیہ لگانا۔ سرمایہ لگانا۔

(Capitalisation)

مسرمد - (مسر۔ مد) (دہ۔ ۱۔ صغ) (۱) ہمیشہ رہنے والا۔ باقی۔ دائم۔ غیر فانی۔

(۲) مست۔ مجذوب (۳) (۱) مذ) ایک مجذوب غیر سے دہلی میں بہہ

اورنگ زرب عالم گیر قتل کر دیا گیا تھا۔

مسرمدی - (مسر۔ م۔ دی) (ف۔ صغ) (۱) دائمی۔ ہمیشہ کا (۲) خدائی۔ الہی۔

(۳) (مٹ) بقا۔

مسرملیں - (مسر۔ مل۔ گین) (ف۔ صغ) مسرملگی ہوئی۔

مسرمنڈل - (ف۔ ۱۔ مذ) ایک بابجے کا نام۔

مسرمرہ - (مسر۔ مرہ) (ف۔ ۱۔ مذ) انجن۔ کھل (۲) (صغ) بہت باریک۔

مسرماٹی - (دہ۔ صغ) مسرے کی۔ مسرے کے رنگ کی۔

مسرملین (آلودہ) - (ف۔ صغ) مسرملگی ہوئی آنکھ۔

مسرملہیلنا - (۱) عوارہ) مسرملہیلنا سے بے کر باہر پھیل جانا۔

مسرملہیلنم - (ف۔ ۱۔ صغ) عزیز۔ پیارا۔

مسرمدانی - (ف۔ ۱۔ مٹ) مسرمدانے کا چھوٹا سا ظرف۔

مسرمد درنگو - (ف۔ صغ) خاموش۔ چپ (مسرمدکانے سے آواز بیٹھ جاتی ہے)۔

جس کی شکل کیلکڑے سے ملتی جلتی ہے (۳) ایک نہایت تکلیف دہ اور

مسلک چھوڑنا۔

مسرعت - (مسر۔ عت) (دہ۔ ۱۔ مٹ) (۱) جلدی۔ تیزی۔ پھرتی۔

مسرعت انزال - (دہ۔ ۱۔ مذ) مردوں کی ایک بیماری جس کی وجہ سے بوقت جماع منی جلد خارج ہو جاتی ہے۔

مصرف - (دہ۔ ۱۔ مذ) فضول یا زائد خرچ۔

مصرفہ - (مصرفہ) (ف۔ ۱۔ مذ) کھانسی۔ کھری۔

مصرفہ - (مصرفہ) (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) پوری۔

مصرفہ بالجیر - (دہ۔ ۱۔ مذ) ڈاکہ۔ لوٹ مار۔ زبردستی کسی کا مال چھین لینا۔

مسرک - (دق۔ ۱۔ مٹ) پھندا۔ پھانسی۔

مسرکار - (مسر۔ کار) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) حکومت۔ گورنمنٹ (۲) آقا۔

مالک۔ سردار (۳) مستحق یا بے تکلف دوست (۴) شاہی دوبار

یا عدالت۔ بارگاہ۔

مسرکار ڈپار - (۱) مذ) شاہی کپڑی۔ اجلاس خاص۔

مسرکار دربار چڑھنا - (۱) عوارہ) نالش کرنا۔ مٹی بننا (۲) مقدر بازی کرنا۔

مسرکاری - (مسر۔ کاری) (۱) صغ) (۱) مسرکار کا حاکم کا (۲) حاکمانہ۔

مسرکاری اہل کار - (ف۔ ۱۔ مذ) حکومت کا ملازم۔ محتر۔ منشی۔

مسرکاری کاغذ - (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) حکومت کا کاغذ (۲) پراسری نوٹ

بانڈ (۳) شامپ۔

مسرکاری وظیفہ - (ف۔ ۱۔ مذ) پنشن۔

مسرکانا - (مسر۔ کا۔ نا) (دہ۔ ۱) صغ) ایک طرف سے دوسری طرف لگانا۔

(۲) مٹانا۔ الگ کرنا (۳) چھیننا۔ غائب کرنا (۴) اڑا دینا (۵) رشوت لینا۔

مسرکٹ - (Circuit) (مسر۔ کٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) پیکر۔ دور (۲)

حقائق کا مقدمات کی سماعت کے لیے کسی جگہ جانا۔

مسرکٹ باؤس - (دہ عمارت جس میں ددرے پر نکلے ہوئے حکام

قیام کرتے ہیں۔

مسرکس - (Circus) (مسر۔ کس) (انگ۔ ۱۔ مذ) وہ تماشا جس میں

انسانوں اور حیوانوں کے جسمانی کرتب دکھائے جاتے ہیں۔

مسرکل - (Circle) (مسر۔ کل) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) حلقہ۔ احاطہ۔

(۲) وہ علاقہ جو کسی اشرف کے ماتحت ہو۔

مسرکل انسپکٹر - (Circle Inspector) (دہ انسپکٹر جو کسی

ضلع کا اہلکار ہو۔

مسرکلہ - (Circular) (مسر۔ کل) (انگ۔ ۱۔ مذ) گشتی حکم یا پٹی۔

گول۔ مدد۔ پتھر دار۔ دائرہ نما۔

مسرکنا - (مسر۔ رک۔ نا) (دہ۔ ۱) صغ) (۱) مٹنا۔ کھسکا۔ راستہ چھوڑنا (۲) غائب

ہو جانا (۳) چلتا بننا۔

مسرکنا - (مسر۔ کن۔ نا) (دہ۔ ۱۔ مذ) سینٹا۔ نزل۔ نئے۔

مسرکنگین - (مسر۔ کنگ۔ گین) (ف۔ ۱۔ مٹ) مسرک اور انگین (شہد)

مسرک اور شہد کا مشربت۔ عربی دالوں نے سکینجین بنا لیا۔

مسرکہ - (مسر۔ کہ) (ف۔ ۱۔ مذ) گٹے یا انگور کا شیشہ جسے مسرکہ کہتے ہیں۔

آزاد کہتے ہیں۔  
 سروبالا (بلند)۔ (ف. صفت) سیدھے قد والا (مجازاً) عشوق۔  
 سروچراغال۔ (ف. ا۔ مذ) سرو کی مانند جھار جو مخلوں میں روشن  
 کیا جاتا تھا۔  
 سروخزمال۔ (ف. ا۔ صفت) پھلنے والا سرو (مجاد سرو قد عشوق)  
 سرو سہمی۔ (ف. صفت) (۱) دوشاخ سرو جس کی دونوں شاخیں سیدھی اوپر  
 کو پھیلی گئی ہوں (۲) عشوق خوش قامت۔  
 سرو قدر۔ (ف. صفت) سرو جیسے سیدھے قد والا۔ خوش قامت۔  
 سرو قد تنظیم دینا۔ (ا۔ مجازہ) سیدھا کھڑے ہو کر سر کی تنظیم کرنا۔  
 سرو۔ (ق) تمام۔  
 سروال۔ (ق. صفت) مشہور۔ نامور۔  
 سرو والا۔ (سرو۔ وا۔ ہا۔ دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) وارث (۲) ساز و سامان۔  
 سروپ۔ (س۔ رُوپ) (دہ۔ ۱۔ مذ) (۱) شکل۔ صورت۔ شہامت (۲) تماشا۔  
 نفاذہ (۳) یکساہتیت (۴) قدرتی شکل (۵) ضروری خاصیت (۶)  
 قدرت (۷) چین (۸) نوع جسم (۹) صفت خوبصورتی۔ حسن۔ رُوپ۔  
 سرووتا۔ (س۔ روتتا) (دہ۔ ۱۔ مذ) چھالیر کرنے یا گنڈیریاں گانے کا اوزار۔  
 سرووج۔ (س۔ ۱۔ مذ) (جھیل کا بیٹا) کنول۔ نیلوفر۔  
 سروود۔ (س۔ رُوود) (ف. ا۔ مذ) (۱) نغمہ۔ گیت۔ راگ (۲) ایک قسم کا باجا  
 (۳) بات۔ سخن۔  
 سرو دغانہ ہمسایہ و حسن راہ گزرے۔ (ف. نسل) پڑوسی کے گھر  
 کے گانے اور راہ چلتے حسن سے نطف اٹھانے میں کوئی ہرج نہیں۔  
 سروور۔ (سرو۔ ور) (ف. ا۔ مذ) سروار۔ بادشاہ۔ امیر۔  
 سروور کا ثبات۔ (ف. صفت) سروار دو عالم۔ رسول اللہ صلعم کا  
 ایک خطاب۔  
 سروور۔ (س۔ رُوور) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) فرحت۔ انبساط۔ شادی۔ خوشی۔  
 (۲) (اُر) ہلکا ہلکا نشہ۔ خمار۔  
 سروور۔ (ق. ۱۔ مذ) چشمرہ۔  
 سرووری۔ (سرو۔ وری) (ف. ا۔ صفت) سرواری۔ افسری۔  
 سرووس۔ (Service) (سرو۔ وس) (انگ۔ ۱۔ صفت) (۱) خدمت۔  
 فرض منصبی۔ فریضہ (۲) ملازمت۔ نوکری (۳) نمازیہ جو باپاٹ۔  
 (۴) ڈینس دینرو کھیل میں (گیند چھینکنا۔ گیند کو پہلی دفعہ چھینکنا جس  
 سے کھیل شروع ہوتا ہے۔  
 سرووس بک۔ (Service Book) (انگ۔ ۱۔ صفت) وہ دست  
 یا کتاب جس میں ملازم کے چال چلن اور کارگزاری وغیرہ کے بارے میں  
 اندراجات کیے جاتے ہیں۔  
 سرووس فنڈ۔ (Service Fund) وہ رقم جو ملازم کو نوکری سے علیحدہ  
 ہونے پر بطور صلہ خدمات دی جاتی ہے۔  
 سرووش۔ (س۔ روش) (ف. ا۔ مذ) (۱) آواز غیب۔ الہام (۲) پیغام الہی لانے  
 والا ہزشتہ۔ جبرئیل علیہ السلام۔  
 سرووش غیب۔ (ف. ا۔ مذ) (۱) لائق غیب۔ آسمانی آواز۔

سرو مہر و بنالہ وار۔ (ن. صفت) وہ سرو مہر جس کی لیکر آنکھ کے کوٹے سے  
 باہر کچی ہوئی ہو۔  
 سرو مہر ڈالنا۔ (ا۔ مجازہ) آنکھ میں سرو مہر لگانا۔  
 سرو مہر سا۔ (ا۔ صفت) وہ آنکھ جس میں سرو مہر لگا ہوا ہو (۲) سرو مہر کی  
 مانند باریک۔  
 سرو مہر کر دینا۔ (ا۔ مجازہ) نہایت باریک کر دینا۔ پس ڈالنا۔  
 سرو مہرے کی تختہ لور۔ (ا۔ صفت) سرو مہرے کی لیکر ہو آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں۔  
 سرو مہر مٹی۔ (سرو۔ م۔ ای) (ف. صفت) سرو مہرے کے رنگ کا۔  
 سرو مہرنا۔ (سرو۔ نا) (دہ۔ ۱۔ صفت) (۱) زندہ رہنا۔ بسر ہونا۔ عمر گننا (۲) ہونا۔  
 ہو سکتا۔ کیا جانا۔ تکمیل ہونا (۳) کافی ہونا۔ بس ہونا۔ وافر ہونا۔  
 (۴) نکلنا۔ خارج ہونا (۵) (۱۔ مذ) ہوا سے پھیلانی ہوئی شگ جس  
 پر چڑھ کر دیا پار کرتے ہیں۔  
 سرو مہرنا۔ (سرو۔ نا) (دہ۔ ۱۔ صفت) (۱) مٹا۔ نگیری۔  
 سرو مہرنا۔ (ق. صفت) ختم ہونا۔ پورا ہونا۔ تمام ہونا۔  
 سرو مہر۔ (Syringe) (س۔ سنج) (انگ۔ ۱۔ صفت) پیکاری۔ خاص  
 طور پر ٹیکہ لگانے کی پیکاری۔  
 سرو رنگ۔ (س۔ رنگ) (دہ۔ ۱۔ صفت) (۱) زمین دوز راستہ۔ نقب۔ سوراخ  
 زمین (۲) وہ زمین دوز نالی جس میں بارود بھر کر دشمنوں کو یا پہاڑ یا  
 قلعے وغیرہ کی دیوار کو اڑاتے ہیں (۳) مذ) ایسا گھوڑا جس کی ایال  
 اور دم کے بال سرو رنگ ہوں (۴) (صفت) اچھے رنگ کا۔ خوش رنگ  
 (۵) لال۔ سرخ (۶) سیدھی (ق)۔  
 سرو رنگ اڑانا۔ (۱) کسی سوراخ یا زمین دوز نالی میں بارود بھر کر اڑانا۔  
 (۲) (مجازاً) گوز مارنا۔ یادنا۔  
 سرو رنگ لال گھوڑی۔ بچوں کا ایک کھیل جس میں آدھے بچے گھوڑیاں  
 بنتے ہیں اور آدھے ان پر سوار ہوتے ہیں۔ پھر سواروں  
 میں سے باری باری ہر لڑکا ایک سانس میں یہ فقرہ  
 کہتا ہوا گھوڑیوں کا چکر کاٹ کر اپنی گھوڑی تک آتا ہے کہ:  
 ”سرو رنگ لال گھوڑی تو مجھ سے کیوں نہ بولی“ یا ”سرو رنگ لال چیلے  
 تم ہم سے کیوں نہ چیلے“۔ اگر راستے میں سانس ٹوٹ جائے تو سوار  
 لڑکے ذرا اتر کر گھوڑیاں بن جاتے ہیں اور جو لڑکے گھوڑیاں بنے  
 ہوئے تھے وہ سوار بن جاتے ہیں۔ اب وہ باری باری  
 چکر کاٹتے ہیں۔  
 سرو رنگ لگانا۔ (ا۔ مجازہ) سوراخ کرنا۔ نقب لگانا (۲) اندری اندر کو  
 لگانا (۳) بنیاد کھول کرنا۔  
 سرو رنگا۔ (س۔ رنگ۔ ن۔ گا) (ق. صفت) سرو رنگ۔  
 سرو رنگی۔ (سرو۔ رنگیا) (ا۔ صفت) سرو رنگ لگانے والا۔ سوراخ رساں۔  
 سرو۔ (ن. ۱۔ مذ) ایک مشہور درخت جو سیدھا مخروطی شکل کا ہوتا ہے جو خوشانی  
 کی وجہ سے عشوق کے قد کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔  
 سرو آزاد۔ (ف. ا۔ مذ) ایک شاخ یا بالکل سیدھا سرو جس کی شاخیں بالکل  
 سیدھی تھی ہیں۔ اس میں پھل نہیں آتا اور کچی بھی نہیں آتی اس لیے

سمرنق التاشیر۔ (ع۔ صفت) جلد اثر کرنے والا۔ تیز اثر دکانے والا۔  
 سمرنق الحریکت۔ (ع۔ صفت) جلد حرکت کرنے والا۔  
 سمرنق الزوال۔ (ع۔ صفت) جلد گھٹنے والا۔ جلد زائل ہونے والا۔  
 سمرنق الغنم۔ (ع۔ صفت) تیز فہم۔ بات کو جلد سمجھنے والا۔  
 سمرنق البضم۔ (ع۔ صفت) زود بہضم۔ جلد چمکنے والا۔  
 سمرنق کھا۔ (س۔ رے۔ کھا) (ع۔ صفت) شمس۔ مانند۔  
 سمرنق لا۔ (س۔ ری۔ لا) (ع۔ صفت) خوش گو۔ خوش آواز۔  
 سمرنق کلا۔ (ع۔ صفت) ایسا کلا جو گانے کے لیے موزوں ہو۔ جس سے  
 سمرنق ٹھیک ادا ہوتے ہوں۔  
 سمرنق لی۔ (س۔ ری۔ لی) (ع۔ صفت) رسیلی۔ موزوں۔ سمرنق دار۔  
 سمرنق آواز۔ (ع۔ صفت) رسیلی آواز۔ گانے کے لیے موزوں آواز۔  
 سمرنق برین۔ (س۔ برین) (ع۔ صفت) پورتر۔ پٹھ۔  
 سمرنق لوال۔ (س۔ ری۔ وال) (ع۔ صفت) سردتر۔

سمرولا۔ (س۔ ر۔ لا) (ع۔ صفت) ایک قسم کی مٹائی۔  
 سمرؤن۔ (ع۔ صفت) ایک قسم کا گوش۔  
 سمروی۔ (س۔ رو۔ ہی) (ع۔ صفت) ایک قسم کی سیدھی تلوار۔  
 ایک قسم کا فخر۔  
 سمرؤے۔ (Survey) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) جائزہ۔  
 پیمائش۔ ناپ۔  
 سمرؤیر۔ (Surveyor) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) ناظر۔  
 گرد اور پیمائش۔ امین پیمائش۔ پیمائش کرنے والا۔  
 سمرلانا۔ (سمر۔ لانا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) سمرکنے کی جگہ (انگ۔ ا۔) بالیں۔  
 (انگ۔ ا۔) تیکہ۔  
 سمرنق۔ (سمر۔ نق) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) سالے کی بیوی۔  
 سمرچنگ۔ (سمر۔ چنگ) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) فوج کا سردار (انگ۔ ا۔) بہادر  
 من چلا (انگ۔ ا۔) پیدل سپاہی (انگ۔ ا۔) قییب۔ (انگ۔ ا۔) پوجب دار (انگ۔ ا۔) پہلوان  
 (انگ۔ ا۔) کوتوال۔

## س۔ ر۔ ط

سمرط۔ (ع۔ صفت) جنون۔ دیوانگی۔ پاگل پن۔ خبط۔  
 سمرطرا۔ (س۔ رطرا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) جو سمرطیکا ہو (انگ۔ ا۔) بوسیدہ خراب۔ بگڑا ہوا۔  
 سمرطرا۔ (س۔ رطرا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) دیوانہ۔ پاگل۔ خبطی۔ سودانی (انگ۔ ا۔)  
 احمق۔ بے وقوف۔  
 سمرطرا۔ (س۔ رطرا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) لگاتار کوڑے یا قہمی مارنے کی  
 آواز۔ ساسٹ۔  
 سمرطرا۔ (س۔ رطرا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) قہمی یا کوڑے کی آواز (انگ۔ ا۔)  
 جلد۔ ٹرت۔  
 سمرطانا۔ (س۔ رطانا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) خراب کرنا۔ بدبو پیدا کرنا (انگ۔ ا۔) خیر اٹھانا۔  
 (انگ۔ ا۔) گلانا۔ بوسیدہ کرنا (انگ۔ ا۔) ڈالے رکھنا۔ رکھے رکھنا۔  
 سمرطاند۔ سمرطاند۔ (س۔ رطاند) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) کسی چیز کے سمرٹنے کا  
 عمل (انگ۔ ا۔) سمرٹنے کی بدبو۔ تصفیح۔  
 سمرطپ۔ (س۔ رطپ) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) کسی رقیق چیز  
 کے جلدی جلدی پینے یا کھانے کی آواز۔  
 سمرطیا۔ (س۔ رطیا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) ایک ہی دفعہ پی جانے کی آواز۔  
 سمرطینا۔ (س۔ رطینا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) جلدی جلدی پینا یا کھانا۔  
 رقیق آواز بھی مستعمل ہے۔  
 سمرطسمرط۔ (س۔ رطسمرط) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) مصححہ  
 پینے کی آواز۔  
 سمرطسط۔ (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) ساٹھ اور سات کا مجموعہ۔ (انگ۔ ا۔)  
 سمرطک۔ (س۔ رطک) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) شارب عام۔ شاہ ماہ۔  
 سمرطگنا۔ (س۔ رطگنا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) نکل جانا۔ ہب کر جانا (انگ۔ ا۔) ناک کی رطوبت اُڑنے  
 کی طرف صیغ لینا۔ پانی کی طرح پی جانا (انگ۔ ا۔) تلوار سیان سے نکالنا۔

سمری۔ (س۔ ری) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) تیر کاگز (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) سرداری۔  
 سمری۔ (س۔ ری) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 عزت کا خطاب (انگ۔ ا۔) چھ مشہور راگوں میں سے ایک راگ (انگ۔ ا۔)  
 طبیعت۔ مزاج۔  
 سمری ٹیک۔ (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) سمرگانا خوشامد (انگ۔ ا۔) ورزش کی ایک قسم  
 جس میں سرکے بل اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔  
 سمری۔ (سمر۔ ری) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 سمرے۔ (س۔ رے) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 (انگ۔ ا۔) اول۔ شروع۔ انتہائی حد۔ جیسے سمرے سے۔  
 سمریا۔ (سمر۔ یا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 سمریا بان۔ (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 سمریانی۔ (سمر۔ یا۔ نی) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 سمریت۔ (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 سمریر۔ (س۔ ریر) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 سمریر۔ (س۔ ریر) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 جع۔ سمر۔ اہتر۔  
 سمریر آرا۔ (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 سمریش۔ (س۔ ریش) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 سمریشاؤ۔ (س۔ رے۔ شا۔ او) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 (Gelatinisation) جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے چمپ دار  
 مادہ پیدا ہونا۔  
 سمریشائے والا۔ (س۔ رے۔ شا۔ نے۔ فا۔ لا) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 (Gelatinising) وہ عمل جو جانوروں کی ہڈیوں اور کھالوں سے  
 چمپ دار مادہ نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔  
 سمرنق۔ (س۔ رنق) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)  
 (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔) (ع۔ صفت) (انگ۔ ا۔)





سطح جموار۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) میدان۔ برابر جگہ۔  
 سطحی۔ (ع۔ صف) اُوپری۔ بالائی۔ جس میں گہرائی نہ ہو۔ بے وزن۔  
 سطر۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) کیر۔ لائن۔ (۲) ریکھا (۳) قطار۔ صف۔ سلسلہ۔  
 سطوت۔ (سط۔ دت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) قہر (۲) دیدہ۔ رُعب۔  
 (۳) شان و شوکت۔  
 سَطْوور۔ (س۔ طوور) (ع۔ ۱۔ مٹ) سطر کی جمع۔ سطر میں۔ لائیں۔ صف میں۔ قطار میں

سُمرال۔ (س۔ رال) (ع۔ ۱۔ مٹ) ساس یا سُمر کا گھر۔  
 سُمرال کا کتا۔ (۱۔ مٹ) سُمرال میں رہنے والا دام۔  
 سسنگ۔ (س۔ سگ) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سسکی۔ نیکی۔ بچگی (۲) کُتے کو  
 جھٹانے کی آواز۔  
 سسنگ کر دم نکھانا۔ (۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹھوڑا مٹھوڑا کر کے دم نکھانا۔ بڑی  
 مشکل سے جان نکھانا۔

## س۔ع

سعادت۔ (س۔ عا۔ دت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) اقبال مندی۔ خوش نصیبی۔  
 نیک نعتی (۲) نیکی۔ بھلائی۔  
 سعادت دارین۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) دوؤں جہان کی بھلائی۔ دنیا و  
 آخرت کی نیک نعتی۔  
 سعادت مند۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ صف) (۱) نیک نعت (۲) مطیع۔ فرمانبردار  
 و فادار (۳) خدمت گزار۔  
 سعادت مندی۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) نیک نعتی (۲) اطاعت۔  
 فرماں برداری۔

سسکارنا۔ (س۔ کار۔ نا) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) کُتے کو کسی پر دوڑانے کے لیے مُنہ  
 سے آواز نکھانا۔  
 سُسکارنا۔ (س۔ کار۔ نا) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) پتے کو مُنہ کی آواز سے  
 پیشاب کرنے کی ترتیب دینا (۲) کُتے کو کسی پر دوڑانا (۳) سانپ  
 کی طرح پھسکانا۔  
 سسکاری۔ (س۔ کا۔ ری) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سسکی (۲) کُتے کو  
 پکارنے یا جھٹانے کی آواز۔  
 سسکتی گئی بلکتی آئی۔ (۱۔ مٹ) بد نصیب کو کسی جگہ بھی نہیں ہیں۔  
 سسکنا۔ (س۔ سگ۔ نا) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سسکیاں لینا (۲) مرنے والے میں  
 بہت تھوڑی جان باقی ہونا (۳) کُن جوسی کرنا۔ کڑی کڑی پر جان دینا۔  
 سسکی۔ (س۔ سس۔ کی) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) کسی تکلیف کی وجہ سے دانتوں کو  
 پیچھ کر آواز نکھانا۔ آہ سرد۔  
 سسکیاں بھرنانا یا لینا۔ (۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) روئے یا تکلیف کی حالت میں سسکیاں بھرنانا۔  
 سُسنا۔ (س۔ س۔ نا) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سسکتنا۔ معلوم ہونا۔

سعال۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) کھانسی۔  
 سعتر۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) ایک قسم کی گھاس جو زُلف کی مانند ہوتی ہے اور دوڑوں میں کام آتی ہے۔  
 سعد۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) مبارک (۲) نیک (۳) چاند کی بائیسویں منزل کا نام۔  
 سعد الصغر۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) ستارہ زہرہ۔ نامید۔ جمہ۔  
 سعد الکبر۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) ستارہ مشتری۔ برہسپت۔

سشن۔ (Session) (س۔ سشن) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱) اجلاس  
 عدالت۔ عدالت کی نشست (۲) عدالت فوج داری کے اجلاس  
 کا زمانہ۔  
 سشن جج۔ (Session Judge) عدالت فوج داری کا جج۔  
 سشن کورٹ۔ (Session Court) (انگ۔ مٹ) سیشن جج کی پیری۔

سعدی۔ (س۔ دی) (ف۔ ۱۔ صف) (۱) سعد سے نسبت رکھنے والا۔  
 (۲) گلستان دہلستان کے مصنف فارسی کے مشہور شاعر شیخ  
 شرف الدین شیرازی کا تخلص۔ مصلح الدین لقب۔  
 سعدین۔ (س۔ دین) (ع۔ ۱۔ مٹ) دو مبارک ستارے زہرہ اور مشتری۔  
 سعی۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) دوڑ دھوپ۔ کوشش۔ جدوجہد۔ محنت (۲)  
 (اُڑ) سفارش (۳) کتے کی دو پہاڑیوں معاصرہ کے درمیان دوڑنا۔  
 بسکون دوم صبح۔ عوام کا کسور بھی بولتے ہیں۔  
 سعی سفارش۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) کہنا سنانا۔ جدوجہد۔ کوشش۔  
 سعی کرنا۔ (۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) سفارش کرنا۔  
 سعی لاج حاصل۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) نامشکور) بے نتیجہ دوڑ دھوپ۔

## س۔ط

سعیقید۔ (س۔ عید) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) نیک بھلا (۲) مبارک۔ خوش نصیب۔ بھاگوں  
 سعیر۔ (س۔ سعیر) (ع۔ ۱۔ مٹ) دوزخ کا بھڑکتا ہوا طبقہ۔

سطح۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) کسی چیز کا بالائی حصہ (۲) کوٹھا۔ چھت (۳)  
 میدان۔ جموار جگہ۔  
 سطح آب۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) پانی کا بالائی حصہ۔ روئے آب۔  
 سطح زمین۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) زمین کا اُوپری حصہ۔ زمین کا فرش۔ بہر زمین۔  
 سطح طبل۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) ڈھلوں یا ترجی سطح۔  
 سطح مرتفع۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) پتھر کی اور اُوچی زمین۔  
 سطح مستوی۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) جموار سطح۔ چورس جگہ۔

## س۔ف

سفا۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) آزاد دی دینے والا (۲) آزادی دینے والا (۳) سعی (۴)

صبح (۵) پہلا بیاسی فیلفن۔

سفارت - (س - فا - رت) (۱) سفیر کا جہد (۲) بیٹی یا سفیر کے فرائض۔ ایک حکومت یا ملک کی طرف سے دوسری حکومت یا ملک کے پاس نامزدہ یا بیاسی بن کر جانا۔

سفارت خانہ - (س - فا - ن) (۱) مذہب عمارت جس میں سفیر اور اس کے عملے نے اپنا دفتر بنا رکھا ہو۔

سفارش - (س - فا - رش) (۱) (۱) کسی کے حق میں گلہ خیز (۲) دلیل۔ امداد۔ سہارا (۳) سپردگی۔

سفارش نامہ - (س - فا - رش) (۱) سفارش کا خط یا پتھی۔

سفارشی - (س - فا - رشی) (۱) سفارش کی گئی ہو جو سفارش سے متعلق ہو۔

سفارشی ٹمٹو - وہ نااہل جو سفارش کی وجہ سے ملازم ہو گیا ہو۔

سفاک - (س - فا - ک) (۱) صف سے تم گری۔ بے رقم۔ خالص۔ خون ریز۔ فونی۔ قابل۔

سفاکی - (س - فا - کی) (۱) (۱) صف سے تم گری۔ ظلم۔ خون ریزی۔

سفال - (س - فا - ل) (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

بادام و دینرو کا نول۔

سفالین - (س - فا - لین) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفاہت - (س - فا - ہت) (۱) (۱) سفلی سے بنا ہوا۔

سفرہ - (س - فا - ر) (۱) (۱) سفر خانہ۔ توشہ دان (۲) (۲) سفر کے پیش سے یعنی مقدم۔

سفری - (س - فا - ری) (۱) (۱) سفر سے متعلق (۲) مسافر (۳) زادراہ۔ توشہ سفر دار (۴) امرود۔

سفل - (س - فا - ل) (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ - (س - فا - لہ) (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پرور - کیڑوں کو مٹانے اور صاف بنانے والا۔ نالائقیوں کو درست رکھنے والا۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفلہ پن - (۱) (۱) سفلی۔ ٹھیکرا (۲) اخروٹ۔

سفینتہ نوع - (ر-ج-ف-ا-ذ) حضرت نوحؑ کی کشتی۔  
سفیرہ - (ر-ج-صفت) اہم۔ نادان۔ بے وقوف (۲) کیلئے۔

## س - ق

سقا - (س-ق-ت-ا) (ذ) بپتی۔ پانی لانے یا پلانے والا۔ ناشکی۔  
سقا شاہی - تھوڑے دن کی حکومت یا اقتدار۔ وہ عارضی حکومت جو  
نظام حقے سے شہنشاہ ہمایوں کو غزالی سے بچانے کے صلے میں اور  
افغانستان کے پتھر ستھ نے امیر امان اللہ خان کے خزانے کے بعد کی۔  
سقاہ - (س-ق-ت-ا-و-ہ) (س-ق-ت-ا-و-ہ) (ذ) خزانہ آب۔ پانی  
کی ٹنکی۔ پانی کا حوض۔ بنانے کی جگہ۔  
سقاہیہ - (ر-ج) پانی کا پیالہ۔ پانی پلانا۔  
سقاہی خانہ - (ر-ج-ف-ا-ذ) وہ عمارت جس میں پانی کا ذخیرہ رکھا جاتا  
اور آگے تقسیم کیا جاتا ہے۔ واٹر ورکس۔  
سقاہ - (س-ق-ت-ا) (ذ) دوزخ۔ جہنم۔  
سقاہ - (ر-ج-ا-ذ) چوپائے کی موت۔ گھوڑے یا گدھے کا سرجانا۔  
سقاہ : اسقاط۔

سقاہ - (ر-ج-ا-ذ) (۱) چھت (۲) شامیانہ  
سقاہ - (س-ق-ت-ا) (س-ق-ت-ا) (ذ) (۱) غربی۔ عیب۔ نقص (۲)  
(۳) بیماری۔ دکھ۔

سقاہ نکالنا - (ا-ح-ا-و-ہ) عیب نکالنا۔ غامی ظاہر کرنا۔  
سقاہ نکالنا - (س-ق-ت-ا-و-ہ) (یا) (ر-ج-ا-ذ) (۱) ایک قیم کا گند۔  
سقاہ - (س-ق-ت-ا) (س-ق-ت-ا) (ذ) (۱) سق (۲) سق (۳) سق کی بیوی۔ بہشتی۔  
سقاہ پانی بھرنے والی عورت۔

سقاہ - (س-ق-ت-ا) (س-ق-ت-ا) (ذ) (۱) ایک قسم کا ریٹنگے والا ریگستانی  
جانور۔ ریگ ماہی۔

سقاہ - (س-ق-ت-ا) (س-ق-ت-ا) (ذ) (۱) گرڈنا (۲) خطا کرنا (۳) جنگ مارنا۔  
د علم عرض کی اصطلاح کسی عورت کا وزن شرکے خلاف ہونا۔

سقاہ - (س-ق-ت-ا) (س-ق-ت-ا) (ذ) (۱) ڈیڑھی میں بیٹھنے کا تخت (۲) چوڑا  
تخت۔ چبوترہ۔

سقاہ بندی - (ر-ج-ف-ا-ذ) (۱) ہستان (۲) بے ہودہ بات۔  
سقاہ - (س-ق-ت-ا) (س-ق-ت-ا) (ذ) (۱) حیار (۲) خراب۔ خستہ۔ اہتر۔ روتی۔

سقاہ - (ر-ج-صفت) (۱) ناتواں۔ کم زور (۲) بیمار۔ مریض (۳) بہت غمناک۔

## س - ک

سکا - (ر-ج-ک-ا-ذ) کشتی کے سجے کی کڑھی (۲) اگلی (۳) رقی۔  
سکاٹ - (Scot) دیکھئے اسکاٹ۔

سکاچ - (Scotch) دیکھئے اسکاچ۔

سکار - (س-ق-کار) (ذ) (۱) بل یا ہنڈی کی وصولی (۲) علی البصیح۔  
تڑکا۔ پوچھئے۔

سکار گھر - (ا-ر-ا-ذ) (اصطلاح بنکاری) وہ جگہ جہاں ہنڈیوں  
کی ادائیگی ہوتی ہے۔

سکارا - (س-ق-کارا) (س-ق-کارا) (ذ) (۱) ہنڈی یا  
بل سکارنے کی فیس۔

سکارف - (Scarf) (س-ق-کارف) (ذ) (۱) ڈالنگ۔ (۲) رومال  
(۳) گھوبند۔

سکارنا - (س-ق-کار-نا) (ذ) (۱) مس (۲) بل یا ہنڈی کا روپیہ ادا کرنا۔  
سکارو - (س-ق-کار-و) (ذ) (اصطلاح بنکاری) ہنڈی قبول کرنے  
والا۔ ادائیگی کرنے والا۔

سکارے - (س-ق-کار-ے) (ذ) (۱) مس (۲) تڑکے۔ پوچھئے (۳) آنے  
والا گل۔ فردا۔

سکاٹک - (س-ق-صفت) بالکل خشک۔

سکاٹ - (س-ق-کال) (س-ق-ا-مٹ) (۱) علی البصیح۔ تڑکا (صفت) (۲)  
موسم کے مطابق، باوقوع (غزف زمان) (۳) مس کے وقت پر پھٹے  
(۴) آنے والی گل۔

سکاٹ - (س-ق-ا-ذ) (۱) اچھا زمانہ۔ اچھی فصل۔ ارزانی۔

سکاٹ - (Scholar) عالم فاضل۔ دیکھئے اسکار۔

سکاٹ - (Scholarship) ڈالنگ۔ (۱) (۲) دیکھئے پورے تحصیل علم  
کے لیے یا اعتراف قابلیت کے طور پر دیا جائے۔

سکاٹے - (س-ق-ک-ا-ے) (س-ق-ذ) پوچھئے۔ فور کے تڑکے۔ مس کے وقت۔

سکاٹان - (س-ق-کان) (ر-ج-ا-ذ) (۱) ہتوڑا۔ (۲) دنبل لکشتی (۳) ساکن کی بی۔  
رہنے والے باشندے۔

سکاٹ - (Scout) ڈالنگ۔ (۱) ایک عالمگیر جماعت جس کا مقصد  
بزرگوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ لڑکے ایک خاص دردی

پہنتے ہیں (۲) وہ سپاہی جو دشمن کی سرگرمیوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے کیلئے بھیجے  
سکاٹ لیب - (Skylab) ڈالنگ۔ (صفت) خلائی تجربہ گاہ۔ ایک خلائی

امریکی اسٹیشن جسے ۱۹۷۴ء میں خلا میں چھوڑا گیا تھا۔ جس نے ۱۹۸۳ء میں گرنا تھا  
گر فنی غزالی کے باعث ۱۲ جولائی ۱۹۷۹ء میں بچ رہا۔

سکاٹ - (س-ق-کت) (ذ) (۱) مس (۲) طاقت۔ قوت۔ بل۔ توانائی۔

سکاٹا - (س-ق-کت) (تا) (ق-صفت) قادر۔ قوی۔

سکاٹ - (س-ق-کت) (ق-ذ) (۱) ڈالنگ۔ (۲) انگریزی لفظ (Secretary)

سیکرٹری کا ہند۔ ناظم۔ معتمد۔

سکاٹے - (س-ق-ک-ا-ے) (ذ) (۱) ایک بیماری جس میں آدمی مُردے کی  
مانند بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ مرض بے ہوشی (۲) دلم عرض کی

اصطلاح، شرکادوں پورا نہ ہونا۔

سکاٹے پڑنا - (ا-ح-ا-و-ہ) روانی میں نقص پڑنا۔ شرکادوں درست نہ ہونا۔

سکاٹے کا عالم - (۱) تخیل یا عجب کی حالت۔ حیرت۔ خاموشی۔

**سکٹ** - (س۔کٹ) (ہ۔ا۔مذ) (۱) مشکل - دشوار (۲) نزع کی حالت (۳) سکنٹ کی تفکیف - بد فہمی۔

**سکچ** - (س۔کچ) (ق۔ا۔م) (۱) مٹا جانا - محاب۔

**سنگر** - (سنگ۔گر) (ہ۔ا۔مذ) (۱) زہرہ نہایت - ایک روشن ستارے کا نام۔

**سنگر** - (سنگ۔گر) (ہ۔ا۔مذ) (۱) غم - نشہ - بے ہوشی۔

**سکرات** - (س۔ک۔رات) (ہ۔ا۔مذ) (۱) مٹا جانا کئی کی تکلیف - نزع کی حالت۔

**سکرانٹ** - (سک۔رانٹ) (ہ۔ا۔مذ) (۱) سورج کا ایک بڑے سے دوسرے بڑے میں جانا - تویل آفتاب (۲) ہندوؤں کا ایک تہوار۔

**سکرپٹ** - (Script) تحریر - دیکھئے اسکریپٹ۔

**سکرٹ** - (Skirt) ہنگا - سایا - دیکھئے اسکریٹ۔

**سکرٹری** - (Secretary) (ری۔س۔ک۔رے۔ٹ) (۱) ڈانگ - ایفیا مستند - دیر - ناظر۔

**سکرٹریٹ** - (Secretariat) (ری۔س۔ک۔رے۔ٹ) (۱) سکریٹری کا دفتر - وہ عمارت جس میں حکومت کے سرکاری سکریٹریوں کے دفتر ہوں۔

**سکرین** - (Screen) پردہ - دیکھئے اسکرین۔

**سکرین** - (Saccharin) (انگ۔مذ) ایک سفید رنگ کا سفوف جو مصنوعی طور پر بنایا جاتا ہے اور چینی سے تقریباً پانچ سو گنا میٹھا ہوتا ہے۔

**سکرونگل** - (س۔ک۔ر) (ہ۔ا۔مذ) (۱) وہ - صفت (۲) دور کا رشتہ ظاہر کرنے والا کلمہ - جیسے سگدادا۔

**سکرو دادا** - (ہ۔ا۔مذ) (۱) پردادا کا باپ۔

**سکوٹانا** - (ہ۔ا۔مذ) پرانا کا باپ۔

**سکوٹا** - (انگ۔ق۔ا۔مذ) (۱) وہ - صفت (۲) تنگ - بچھا ہوا - سٹ ہوا۔

**سکوٹاؤ** - (انگ۔ق۔ا۔مذ) (۱) (۲) (۳) (اصطلاح انسانیات) اینٹھن جو کڑاؤ گھٹنا - کم ہونا - سمٹنا (۴) (اصطلاح علم کیسیا) ٹھہرنے کی حالت یا عمل - مادے کا مقدار کے لحاظ سے گھٹنا۔

**سکوٹانا** - (س۔ک۔ر) (ہ۔ا۔مذ) (۱) سمٹنا - بچھنا - تنگ ہونا۔

**سکوٹری** - (س۔ک۔ری) (ہ۔ا۔مذ) (۱) صفت (۲) تنگ - بچھی ہوئی۔

**سکوٹری پڑنا** - (ہ۔ا۔مذ) (۱) وقت پیش آنا - دشواری ہونا (۲) مصیبت پڑنا۔

**سکیڈنہ** - (سک۔سے۔س) (ہ۔ا۔مذ) (۱) کفایتوں کی ایک گوت۔

**سکشٹا** - (سک۔شا) (ہ۔ا۔مذ) (۱) تعلیم و تربیت - سکھانا پڑھانا (۲) نصیحت (۳) دیکھ کا ایک حصہ۔

**سکٹل** - (ق۔ا۔مذ) (۱) زخمیر۔

**سکٹلا** - (سک۔لا) (ق۔ا۔مذ) سب۔

**سکٹ** - (ق۔ا۔مذ) (۱) خشک ہونا۔

**سکتا** - (سک۔تا) (ہ۔ا۔مذ) (۱) لائق ہونا - قابل ہونا (۲) ممکن ہونا۔

**سکتا** - (سک۔تا) (ہ۔ا۔مذ) (۱) آگ برپا ہونا - پختہ ہونا - گزارا ہونا (۲) گرم ہونا - سینک لینا۔

**سکنات** - (س۔ک۔نات) (ہ۔ا۔مذ) (۱) سکنٹ کی جمع (۲) وقفے۔

**سکون** - بھڑنا۔

**سکونج** - (س۔ک۔نج) (ہ۔ا۔مذ) (۱) مٹا جانا - سرکہ یا نیبو کے عرق کا پکا ہوا مشروب - سرکہ اور انجبین (شہد) کے مرکب سرنگبین سے عری بنی ہوا۔

**سکندر** - (س۔ک۔ن۔د) (۱) فیلقوس شاہ مقدونہ کا بیٹا - دنیا کا ایک مشہور فاتح، جس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پنجاب کے راجہ پورس کو شکست دی - اسے سکندر اعظم کہتے ہیں - کن تیا خوش نصیب۔

**سکندری** - (س۔ک۔ری) (ہ۔ا۔مذ) (۱) سکندر کے متعلق (۲) مٹا جانا - مٹا کر (۳) عمارت یا بادشاہت۔

**سکندری کھانا** - (۱) عمارت - مٹا کر (۲) عمارت یا بادشاہت۔

**سکینڈ** - (Second) (س۔ک۔نڈ) (انگ۔مذ) (۱) تیسرا - چھٹا - چھٹا۔

(۲) اول کے بعد دوسرا (۳) صفت (۴) دوسرا - ثانی - دوم۔

**سکینڈ کلاس** - (Second Class) (انگ۔مذ) (۱) دوسرا درجہ۔

(۲) دوسرے درجے کا۔

**سکینڈ ہینڈ** - (Second Hand) (انگ۔مذ) (۱) برتا ہوا استعمال ہونے والا۔

**سیکنڈری** - (Secondary) (انگ۔مذ) (۱) تیسری - چھٹی۔

**سکنتہ** - (س۔ک۔نت) (ہ۔ا۔مذ) (۱) مسکن کی جمع - باشدے۔

**سکنٹہ** - (س۔ک۔نت) (ہ۔ا۔مذ) (۱) مسکن کی جگہ - مکان۔

**سکنٹی** - (س۔ک۔نتی) (ہ۔ا۔مذ) (۱) قابل رہائش۔

**سکوت** - (س۔ک۔وت) (ہ۔ا۔مذ) (۱) خاموشی (۲) امن۔

**سکوت کا عالم** - خاموشی کی حالت۔

**سکوٹر** - (Scooter) (انگ۔مذ) (۱) ایک قسم کا چھوٹے پتیلوں والا موٹر گاڑی۔

**سکور** - (Score) دیکھئے اسکور۔

**سکور** - (س۔کو۔را) (ہ۔ا۔مذ) (۱) مٹی کا پیالہ۔

**سکوڑنا** - (اص) اٹھ پاول کا اکٹھا کر لینا - سکریٹ لینا۔

**سکول** - (School) مدرسہ - دیکھئے اسکول۔

**سکوون** - (س۔ک۔ون) (ہ۔ا۔مذ) (۱) ٹھیراؤ - قرار (۲) امن - خاموشی (۳) مسکن حرف کی علامت - جزم۔

**سکون** اور - (ہ۔ا۔مذ) (۱) قرار لانے والی (اصطلاح علم کیسیا) مسکن دوا یا مادہ۔

**سکوونٹ** - (س۔ک۔ونٹ) (ہ۔ا۔مذ) (۱) لودو باش - مستقل قیام (۲) رہنے کی جگہ - مسکن - مکان - آقامت گاہ۔

**سکوونٹ پزیر ہونا** - (اصطلاح) ہونا - رہنا - بودو باش اختیار کرنا۔

**سکوونیاٹ** - (س۔ک۔ونیات) (ہ۔ا۔مذ) (۱) (اصطلاح طبیعیات) وہ علم جس میں اجسام کی حالت سکون سے بحث کی جاتی ہے۔

**سکویش** - (Squash) (انگ۔مذ) (۱) شربت - ایک کھیل جو ریکٹ اور رزم گیند سے کرے کے اندر بنے ہوئے گولڈ میں کھیلا جاتا ہے۔

**سکھ** - (سک۔کھ) (ہ۔ا۔مذ) (۱) گھٹنا - ضرب - بچھا - نشتر کیا ہوا - ڈھلا ہوا (۲) سرکاری منتقلی زکوٰۃ میں پٹے - (۳) طرز روش - طریقہ - قانونی

سکینڈل (Scandal) (رنگ۔ ۱۔ مذ) ثمت۔ رسوائی۔ بدنامی۔ دیکھئے اسکینڈل  
 سکین (رنگ۔ ۲۔ کیمن) (رک۔ ۱۔ مسٹ) چاقو۔ چھری۔  
 سکینٹ (رنگ۔ ۱۔ مسٹ) آرام۔ سکون۔

## س۔گ

سگ (رک۔ ۱۔ مذ) گنتا۔  
 سگ بازار سی۔ (رک۔ ۱۔ مذ) وہ گنتا جس کا کوئی مالک نہ ہو۔  
 سگ باش برادر خورد مباحث۔ (رک۔ مش) چھوٹے بھائی کی کوئی عزت یا توقیر نہیں ہوتی۔  
 سگ تازی۔ (رک۔ صف) عربی نسل کا شکاری کتہ۔  
 سگ حضور یہ از برادر دور۔ (رک۔ مش) (۱) حاضر یا آنکھوں کے سامنے رہنے والے اور اونے درجے کے آدمی کی رعایت تھمتی عزیز سے زیادہ کرنی پڑتی ہے یا پاس رہنے والا غیر دور رہنے والے عزیز سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔  
 سگ زرد و برادر شغال۔ (رک۔ مش) (۱) زرد کا گیدڑ کا بھائی (۲) اس شخص کی بابت کہتے ہیں جو بدی میں دوسروں کی مانند ہو۔  
 سگا۔ (رک۔ گ) (رک۔ صف) (۱) ایک ماں باپ کا۔ ایک خون۔ حقیقی (۲) بہت قریبی۔ اپنا۔ بیگانہ (۳) داماد (۴) پہاڑی قبائل میں اپنے گاؤں یا بلتی کا۔  
 سگے شور سے۔ (رک۔ خویش) اتار ب۔  
 سگار۔ (Cigar) (رک۔ گار) (رک۔ ۱۔ مذ) پڑٹ۔ بڑا سگریٹ جو تباہ کا پتہ پھیلٹ کر بنا یا جاتا ہے۔  
 سگارت (سگارٹ)۔ (رک۔ گارت) (رک۔ گارٹ) (رک۔ ۱۔ مسٹ) اپنائیت رشتہ۔ ناتہ۔ قرابت۔  
 سگال۔ (رک۔ لاحقہ فاعل) اسم فاعل ترکیبی بنا کر اندازہ کرنے والا یا چاہنے والا کے معنی دیتا ہے جیسے غیر سگال۔  
 سگانہ۔ (رک۔ گ) (رک۔ ۱۔ صف) اصطلاح علم کیمیا زمین کی تیسری تہ۔  
 سگانی۔ (رک۔ گ) (رک۔ ۱۔ مسٹ) (رک۔ ۱۔ مسٹ) (رک۔ ۱۔ مسٹ) قرابت واری (رک۔)  
 سگٹ۔ (رک۔ صف) (رک۔ ۱۔ صف) تمام۔  
 سگرٹ۔ (Cigarette) (رک۔ زٹ) (رک۔ ۱۔ مذ) ہلکا پڑٹ۔  
 سگڈ میں پٹی ہونی تباہی کی تھی۔  
 سگس۔ (رک۔ ۱۔ مذ) راحت۔ آرام۔  
 سگسی۔ (رک۔ صی) (رک۔ صف) (۱) کابل۔ سگسٹ (۲) کابل۔ بستہ۔  
 سگلی۔ (رک۔ سب) تمام۔ کل۔  
 سگند۔ (رک۔ گند) (رک۔ ۱۔ مسٹ) (۱) ہک۔ خوش بو (۲) سونڈھا۔  
 سگنل۔ (Signal) (رک۔ نل) (رک۔ ۱۔ مذ) اشارہ۔

(۱) (رک۔ ۱۔ مذ) رعب۔ داب۔  
 سگتہ بھانا۔ (۱۔ معادہ) (۱) رعب قائم کرنا (۲) حکومت چلانا۔  
 سگتہ بیٹنا۔ (۱۔ معادہ) (۱) رعب قائم ہونا (۲) حکم چلنا۔ حکومت ہونا۔  
 سگتہ رانج الوقت۔ (رک۔ ۱۔ مذ) وہ سگتہ جو ملک میں چل رہا ہو۔  
 سگتہ رواں ہونا۔ (۱۔ معادہ) حکم چلنا۔  
 سگتہ زن۔ (رک۔ صف) سگتہ ڈھانے والا سگتہ۔  
 سگتہ (جعلی) قلب۔ (رک۔ ۱۔ مذ) جھوٹا سگتہ۔ معنی سگتہ۔  
 سگتہ۔ (رک۔ ۱۔ مذ) (۱) شگرد۔ چیلرا (۲) گدڑ تانک کا پیرو۔  
 سگتہ۔ (رک۔ ۱۔ مذ) (۱) راحت۔ آسودگی۔ چین۔ آرام (۲) اس دامان (۳) تندرستی۔ صحت مندی۔  
 سگتیال۔ (رک۔ ۱۔ مسٹ) ایک قسم کی پانگی۔  
 سگتہ تلال۔ (رک۔ ۱۔ مذ) پائے تاپہ پڑے کا وہ ٹکڑا جو جوتے کے اندر رکھتے ہیں۔  
 سگتہ چین۔ (رک۔ ۱۔ مذ) (۱) آرام و آسائش (۲) ایک درخت کا نام۔  
 سگتہ دریش۔ (رک۔ ۱۔ مذ) ایک بوٹی جس کا عرق کان کے درد کے لیے میند ہے۔  
 سگتہ سیت کاسب کوئی ساٹھی۔ (۱۔ مش) خوش حالی کے زمانے میں سب دوست بن جاتے ہیں۔  
 سگتہ کی فیند۔ (۱۔ مسٹ) چین آرام کی فیند۔ خواب راحت۔  
 سگتہ میں ہر کوئی تو ڈکھ کاپے کو جو۔ (۱۔ مش) راحت کے زمانے میں خدا کو یاد کریں تو معیت کیوں آئے۔  
 سگتہ شاہی۔ (رک۔ کھا۔ شا۔ ہی) (رک۔ ۱۔ مسٹ) (۱) بگتوں کی عمل داری۔ بے اضافی اور لوٹ کے لیے مشہور ہے۔ رگتوں کے زمانے کا اندھیر۔ (۲) آباد چانی یا لوٹ مار کا دور۔  
 سگتہ نا۔ (رک۔ کھا۔ نا) (رک۔ لا۔ نا) (رک۔ ۱۔ صف) (۱) تعلیم دینا۔ پڑھانا۔ لگانا۔ بتانا (۲) سدھانا۔ تربیت دینا۔ کسی ڈھب یا راستے پر لگانا (۳) بیگانہ۔ وصلنا۔ مٹی پڑھانا۔  
 سگتہ نا پڑھانا۔ (۱۔ معادہ) ہر گمان کرنا۔ لگائی بھائی کرنا۔  
 سگتہ نا۔ (رک۔ کھا۔ نا) (رک۔ لا۔ نا) (رک۔ ۱۔ صف) (۱) شک کرنا۔ دلجویت جذب کرنا (۲) دیرینک بھٹائے رکھنا۔  
 سگتہ یا پڑھانا۔ (۱۔ صف) قیلم یافتہ۔ تربیت یافتہ (۲) ہیکایا ہوا۔  
 سگتہ میں آنا۔ (۱۔ معادہ) ہیکائے میں آجانا۔  
 سگتہ۔ (رک۔ صف) باریک۔ حالی دار۔ استعارتا پر معنی باطن۔  
 سگتہ۔ (رک۔ ۱۔ مسٹ) (۱) سبلی۔ ساتھی۔ ہم جوی (۲) فیروں کا ایک گروہ جو زمانہ لباس پہنتا ہے۔  
 سگتہ۔ (رک۔ صی) (رک۔ ۱۔ صف) آسودہ حال۔ خوش۔ مطمئن۔  
 سگتہ۔ (Sketch) (رک۔ ۱۔ مذ) خاکہ۔ دیکھئے اسکیچ۔  
 سگتہ کرنا۔ (رک۔ کیڑ۔ نا) (رک۔ ۱۔ صف) (۱) سہیلنا۔ اٹھا کرنا (۲) پھینکنا۔ تنگ کرنا۔ چست کرنا۔  
 سگیل۔ (Scale) (رک۔ کیل) (رک۔ ۱۔ مذ) پیمانہ۔ انداز۔ تجویز۔  
 سگیلا۔ (رک۔ کی) (رک۔ ۱۔ مذ) (۱) ایک قسم کا فلابدی ہتھیار (۲) ایک قسم کی ہتھیار سیف۔ ہمیشہ۔ تہ۔

**سگنل ڈاؤن ہونا**۔ ریلوے کم کے ساتھ کا بیچا ہونا۔ ٹرین کو لائن کٹیر ہونے کا اشارہ ملنا۔ ریل کے آنے یا روانہ ہونے کا اشارہ ہونا۔  
**سگنل مین**۔ (Signal Man) وہ آدمی جو سگنل اٹھاتا یا گرہاتا ہے۔  
**سگنلر**۔ (Signaller) (سگ۔ن۔ل۔ر) (انگ۔ا۔ذ) تار بابو۔  
**ٹیلیگراف کمرک**۔  
**سگنلر**۔ (س۔ن۔گھڑ) (وہ صفت) تیز وار۔ خوش سلیقہ۔ ذی شعور۔ دانش مند۔ صاحب تیز۔ کاریگر۔ دستکار۔ ہنرمند۔  
**سگنلر اپا**۔ (سگنل۔ٹرا۔پا) (وہ۔ا۔ذ) سلیقہ۔ تیز۔ ہنرمندی۔ کاریگری۔  
**سگنلرانی**۔ (ر۔ن۔چترانی۔ہوشیاری۔ہنرمندی۔دانائی)۔  
**سگنلر پن**۔ (س۔ن۔گھڑ۔پن) (وہ۔ا۔ذ) (ا) سلیقہ۔ تیز۔ (۲) ہنرمندی۔ ہوشیاری۔  
**سگنلر وول**۔ (ر۔ن) سگنلر۔ باسلیقہ۔  
**سگنلر ٹی**۔ (وہ۔ا۔مٹ) ایک راگ بورات کے دوسرے پہر لگایا جاتا ہے۔

**سلامتِ رُبان**۔ (ر۔ج۔ف۔ا۔ذ) فصاحت۔ نرم اور ہلکے پھلکے الفاظ استعمال کرنا۔  
**سلامسل**۔ (س۔ن۔لا۔سل) (ر۔ج۔ا۔مٹ) سلسلہ کی بی۔ بیسٹریاں۔  
**ذخیریں**۔ کڑیاں۔  
**سلامطین**۔ (س۔ن۔لا۔طین) (ر۔ج۔ا۔ذ) (۱) سلطان کی بیٹ۔ بیٹ سے بادشاہ۔ قیصر۔  
**سلام**۔ (س۔ن۔لام) (ر۔ج۔ا۔ذ) (۱) سلامتی (۲) تسلیم۔ آداب (۳) رخصت کرنا۔ الوداع (۴) بس۔ جائیے۔ صاف کیجیے (۵) کسی نے جو بات نہ مانی ہو اس کے بخور پذیر ہونے پر طنزاً آداب بجالانا (۶) خاتمہ نماز پر واپس بائیں منہ پھرنے (۷) یلوسی کا اظہار (۸) غزل کے انداز پر وہ نظم جس میں واقعات کو بلا کا ذکر ہو (۹) کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلوة و سلام عرض کرنا۔  
**سلام پھیرنا**۔ (ا۔محاورہ) نماز ختم کرنا۔  
**سلام پیغام**۔ سلام پیغام۔ (ر۔ج۔صفت) ملگنی یا نسبت کی بات جیت۔  
**سلام دینا**۔ (ا۔محاورہ) (۱) انہوں کو کسی کو اندر بلوانا یا کوئی چیز لے کر گزریے کہلانے کی ہدایت کرنا (۲) رخصت یا وداع کرنا۔  
**سلام روستانی** بے عرض نیست۔ (ر۔ن۔شل) خوش آمد کرنے والے کا مزور کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔  
**سلام شوق**۔ (ر۔ج۔ا۔ذ) محبت اور اشتیاق کا سلام۔  
**سلام (التسلام)** علیکم۔ (ر۔ج۔کلمہ دعا) تم پر سلامتی ہو۔ آنے والا جلس میں قدم رکھتے وقت یا کسی سے ملنے پر یہ کلمہ کہتا ہے۔  
**سلام علیکی**۔ (ر۔ن۔مٹ) صاحب سلامت۔ علیک سیک۔ جان پہچان۔  
**سلام کرانی**۔ سلامی۔ وہ رقم ذخیرہ جو رختی کے وقت دوہما کے سلام کرنے پر دوہما کی طرف سے دی جاتی ہے۔  
**سلام کرنا**۔ (ا۔محاورہ) (۱) سمراتے یا بیسنے پر ہاتھ رکھنا۔ آداب بجالانا۔ (۲) رخصت ہونا۔ جانا (۳) مرتسليم تم کرنا۔ مارمانتا۔ کسی کی بڑائی کا اعتراف کرنا۔ سمر ہنا (۴) دست بردار ہونا (۵) خیر باد کہنا۔  
**سلام لینا**۔ (ا۔محاورہ) (۱) سلام کا جواب دینا۔  
**سلام نیٹاز**۔ (ر۔ج۔ف۔ا۔ذ) عاجزی کا سلام (بڑوں اور بزرگوں کے لیے)  
**سلام ہونا**۔ (ا۔محاورہ) (۱) ملاقات ہونا (۲) رُوبو یا سانسے ہونا۔  
**سلام ہے**۔ (ا۔محاورہ) (۱) باز آئے۔ چھوڑا۔ دست بردار ہوئے (۲) خرابی۔  
**سلامت**۔ (س۔ن۔لا۔مٹ) (ر۔ج۔صفت) (۱) محفوظ۔ ہر بلا سے بچا ہوا (۲) میح۔ تن درست۔ پورا (۳) زندہ۔ حیات۔ موجود (۴) مبارک باد کا جواب۔  
**سلامت رومی**۔ (ر۔ج۔ف۔ا۔مٹ) (۱) چلنے سے چلنا۔ کھاہت شاری اختیار کرنا۔ میانہ روی (۲) سیدھی راہ اختیار کرنا (۳) ایسا ڈھنگ جس سے کسی طرح کا لازم نہ آئے۔  
**سلامتی**۔ (س۔ن۔لا۔م۔تی) (ر۔ج۔ف۔ا۔مٹ) (۱) خیریت۔ عافیت۔ (۲) مخالفت۔ بچاؤ۔ محفوظ ہونا (۳) صحت۔ تندرستی (۴) زندگی۔ حیات (۵) دار۔ موجودگی (۶) قیام۔ برقراری۔

## س۔ل

**س۔ل**۔ (وہ۔ا۔مٹ) (۱) ایک بیماری جس سے پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور سڑے خون آنے لگتا ہے۔ تپ دق (۲) درد (ر۔ن)۔  
**س۔ل**۔ (وہ۔ا۔مٹ) مصالحوں سے کپتھر۔ پتھر کا لمبا بوڑھا ٹکڑا جو عمارتوں میں لگایا جاتا ہے۔  
**سل بٹا**۔ (وہ۔ا۔ذ) (۱) سل پر سال پینے کا پھوٹا پتھر۔  
**سل۔ سیلا**۔ (س۔ل۔لا) (ر۔سے۔لا) (وہ۔ا۔ذ) خوش۔ اناج کی وہ بایں جو فصل کھینے کے بعد کھیت میں پڑی رہ جاتی ہیں۔  
**سل جیت**۔ (س۔ن۔لا۔جیت) (وہ۔ا۔ذ) سیاہ رنگ کا رتین مادہ جو پتھر سے نکلتا ہے اور بطور دوا استعمال ہوتا ہے۔  
**سلح**۔ (س۔ن۔لا۔ج) (ر۔ج۔ا۔ذ) (۱) لڑائی کے ہتھیار (۲) اوزار۔  
**سلح بند**۔ (ر۔ج۔ف۔صفت) ہتھیار لگانے ہوئے۔ مسلح۔  
**سلح خانہ**۔ (ر۔ج۔ف۔ا۔ذ) میگزین۔ وہ عمارت جس میں ہتھیار جمع رہتے ہیں۔  
**سلح ساز**۔ (ر۔ج۔ف۔صفت) ہتھیار بنانے والا۔  
**سلح شور**۔ (س۔ل۔شور) (ر۔ن۔صفت) (۱) بہادر سپاہی (۲) ہتھیار بند سپاہی (۳) میگزین کا دار و در۔  
**سلح**۔ (س۔ن۔لا۔ج) (وہ۔ا۔مٹ) (۱) لہجے کی گول پتھر (۲) بکیر۔ دھار۔  
**سلاخی گندھک**۔ (س۔ن۔لا۔خی۔گن۔دھک) (وہ۔ا۔مٹ) (۱) اصطلاح علم کیسا، وہ گندھک جو سلاخوں کی شکل میں ہو۔  
**سلاخ**۔ (Salad) (س۔ن۔لا۔ج) (انگ۔ا۔ذ) کچے ساگ اور ترکاریوں کا پکرایا کھا ہونے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔  
**سلامت**۔ (س۔ن۔لا۔مٹ) (ر۔ج۔ا۔مٹ) (۱) سلامتی۔ روانی۔ ہمواری۔ کلام میں ثقیل لفظ نہ آنا۔ صفائی۔ فصاحت۔







ایک قسم کا فرما۔

سیلمانی ٹولی۔ (۱۔ مٹ) ایسی فرضی ٹولی جس کے بہن لینے سے وہ سب کو دیکھ سکتا ہے مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

## س۔ م۔

سم۔ (۱۔ مٹ) (۱) آواز۔ تال۔ سُر۔ (۲) برابر۔ ہم وزن۔ پورا۔

ستم۔ (۱۔ مٹ) (۱) ذہن۔ بس (۲) چھید۔ سوراخ۔ اُردو میں بگونیم مشتمل ہے۔

ستم الحیاط۔ (۱۔ مٹ) سوئی کا ناکہ۔

ستم القار۔ (۱۔ مٹ) ایک زہر پلا پتھر۔ سنگیا۔

ستم قاتل۔ (۱۔ مٹ) جلد ہلاک کرنے والا زہر۔ زہر پلاہل۔

سحم۔ (۱۔ مٹ) گھوڑے یا گدھے کا پاؤں۔

سگسم لینا۔ (۱۔ محاورہ) گھوڑے کا ٹھوکرا کھانا۔

سما۔ (س۔ م۔) (۱۔ مٹ) آسمان۔ فلک۔ آکاش۔ جمع : سموات۔

سما سماں۔ (س۔ م۔) (۱۔ مٹ) مال (۲) دقت۔ ساعت۔

(۲) موخ۔ محل (۳) رُت۔ موسم۔ فصل (۴) کیفیت۔ حالت۔ عالم۔

(۵) رونق۔ لطف۔ بھون (۶) تماشا۔ سیر۔ نظارہ۔

سما (سماں) بانڈھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) رنگ بجانا (۲) کیفیت پیدا کرنا۔

لُفت پیدا کرنا۔

سما (سماں) بندھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) محویت کا عالم طاری ہونا۔

(۲) رنگ بجانا۔

سما پت۔ (س۔ م۔ پت) (۱۔ مٹ) کمال۔ پورا ہونا۔

سما پن۔ (ق) مانند۔ مثل۔

سماج۔ (س۔ م۔ ج) (۱۔ مٹ) معاشرہ۔ سوسائٹی (۲) انجمن۔ کمیٹی۔ محفل۔ گروہ۔ جماعت۔ ٹولی۔ منڈلی۔

سما جانا۔ (س۔ م۔ ج) (۱۔ مٹ) (۱) بس جانا۔ بیٹھ جانا۔ بھر جانا۔

(۲) جذب ہو جانا۔ سرایت کرنا۔

سما جت۔ (س۔ م۔ جت) (۱۔ مٹ) (۱) شرمندگی (۲) رشتی۔

رشتی۔ عیب دار ہونا (۳) شرمندگی (۴) اُڑا رشت۔ چاپوس۔

خوشامد (اُردو میں) "رشت" کے بے زہر نہیں بولا جاتا۔

سماجی۔ (س۔ م۔ ج) (۱۔ مٹ) سماج یا معاشرے سے

متعلق۔ معاشرتی۔

سما چار۔ (س۔ م۔ چ) (۱۔ مٹ) (۱) اطلاع (۲) حالت۔ کیفیت۔

سما دھ۔ (س۔ م۔ دھ) (۱۔ مٹ) (۱) گڑھا۔ غار۔ کھو (۲) جوگیوں

سنیاسیوں یا ماجاؤں کی پڑیوں کے دفن ہونے کی جگہ (۳) فکسٹر (ق)۔

سما دھ لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سانس روکنا جس دم کرنا (۲) جگہ کھینچنا۔

کچھ مدت کے لیے جم کر بیٹھنا۔

سما دھ لینا۔ (۱۔ محاورہ) جوگیوں سنیاسیوں کا میتھی جمی دفن ہو جانا۔ دم

سادھ کچھ مدت کے لیے زمین میں گڑ جانا۔

سما دھان۔ (س۔ م۔ دھ) (۱۔ مٹ) (۱) مذہبی تعصب۔ مذہبی کٹرپن (۲) مراقبہ۔ دھیان (۳) سوال کا جواب۔

سما دھی۔ (س۔ م۔ دھی) (۱۔ مٹ) (۱) گھٹا کرنا (۲) تصور جمانا (۳) اختلاف رخی کرنا۔

(۴) وعدہ۔ ہمد (۵) بدلہ۔ جزا (۶) گردن کی پڈھی (۷) ناممکن کام

کی کوشش (۸) ثبوت پیش کرنا۔ نیز دیکھیے سما دھ۔

سما روخ۔ (ف) (۱۔ مٹ) گلوت۔ کھبھی۔

سماخ۔ (س۔ م۔ خ) (۱۔ مٹ) (۱) سُنا (۲) اُڑا (۳) داگ یا گانا سُنا۔

(۳) دھس۔ دسرود۔ ناچ گانا۔

سما عمت۔ (س۔ م۔ عمت) (۱۔ مٹ) (۱) سُنے کی طاقت (۲)

سنا (مقدّمے کی) پیشی یا کارروائی۔

سما عمت کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سُنا۔ حاکم کا مقدمے کی کارروائی کرنا۔

(۲) توجہ یا التفات کرنا۔

سما عمت کے قابل۔ (۱۔ مٹ) (۱) سُنے کے لائق (ایسا مقدمہ) جو

پیش کرنے یا کارروائی کے قابل ہو۔ وہ مقدمہ جس میں حاکم کو کارروائی

کا اختیار ہو۔

سما عمت میں فرق آنا۔ (۱۔ محاورہ) کم سائی دینا۔

سما عمت یک طرفہ۔ (س۔ م۔ ف) (۱۔ مٹ) صرف ایک ذوق کے

عاصر عدالت ہونے پر مقدمے کی سماعت۔ یک طرفہ فیصلہ۔

سما عی۔ (س۔ م۔ عی) (۱۔ مٹ) (۱) سُنا ہوا روایتی۔ سینہ بہ سینہ۔ کافون

کان (۲) (صرف دیکھنی اصطلاح) وہ لفظ جو کسی قاعدے کے مطابق

نہ بنا ہو۔ اہل زبان اس طرح بولتے ہوں ادرائے سے سُنا گیا ہو۔

سماق۔ (س۔ م۔ ق) (۱۔ مٹ) ایک قسم کا سنگ مرمر۔

سماں۔ (س۔ م۔ ان) (۱۔ مٹ) مانند۔ مثل۔ نظیر تانی۔

سما نا۔ (س۔ م۔ نا) (۱) کھینا۔ پورا ہونا۔ سُنا۔ اندر بیٹھنا۔ آجانا (۲) بسنا۔

جنا۔ سُنا۔ تہ نظر ہونا (۳) گھٹائش ہو جانا (۴) رچنا بسنا۔ معطر ہونا۔

(۵) چھنا۔ نظر چھنا۔ بھانا۔ پسند آنا۔

سماوات۔ (س۔ م۔ وات) (۱۔ مٹ) سما کی جمع۔ افلاک۔

سما وار۔ سماور۔ (س۔ م۔ وار) (۱۔ مٹ) (۱) پانی گرم کرنے

کا دو ہرا برتن جو تانے یا پینے کا ہوتا ہے جس کے اندر آگ جلتی ہے

اور باہر پانی گرم ہوتا ہے۔

سماوی۔ (س۔ م۔ وی) (۱۔ مٹ) (۱) آسمانی (۲) ارضی۔

سما نی۔ (س۔ م۔ ای) (۱۔ مٹ) (۱) گھٹائش۔ دست۔ جگہ (۲) بردباری

برداشت۔ تحمل (۳) حوصلہ۔ ظرف (۴) کھپت۔

سمبست (سمبست)۔ (س۔ م۔ بست) (۱۔ مٹ) (۱) سنہ۔ برس۔

سال (۲) بکری سنہ جو ۵ قبل مسیح میں قائم ہوا تھا۔ یہ سال ہجرت سے

شروع ہو کر بھائی میں ختم ہوتا ہے۔

سمبیل۔ (س۔ م۔ بل) (۱۔ مٹ) (۱) زہر۔ سنگیا۔

سمبیل۔ (Symbol) (س۔ م۔ بل) (۱۔ مٹ) علامت۔ اشارہ۔ رمز۔

وہ چیز جو کسی سمبست کی بنا پر کسی دوسری چیز کو ظاہر کرتی ہو یا اس کی

طرت ذہن منتقل کرتی ہو۔  
 سمبندھ - (رسم - بندھ) (۱-۵) (۱-۵) رشتہ - ناتہ - نسبت - تعلق (۲) قبیلہ -  
 گنبد (۳) ماہ دوم - میل طاب (۴) گوت - برادری -  
 سمبندھی - (رسم - بن - دھی) (۵-۱) (۵-۱) رشتہ دار - متعلقین - اقربا -  
 سمبندھی پتھر - شجرہ نسب - نسب نامہ -  
 سمپان - (Sampan) (رسم - پان) (۱) وانگ - (۱) مٹ (۱) چین ناڈ -  
 چین دھن کی کشتی -  
 سمپت - (۱-۵) (مٹ) بہتری - خوش حالی - ترقی -  
 سمپٹ - (رسم - پٹ) (۱-۵) (مٹ) کیمیا گروں کا آگ پر رکھنے کا خاص برتن -  
 جس کا منہ بند ہوتا ہے -  
 سمپورن - (رسم - پورن) (۱-۵) (مٹ) پورا - کامل - تمام - مکمل -  
 سمندت - (۱-۵) (مٹ) (۱) جانب - طرف - (۲) جیت (۲) راہ - روش -  
 سمندت المراس - (۱-۵) (مٹ) (۱) سر سے آسمان تک کا سدھاظ (۲)  
 ادب - بلندی کی انتہا - ترقی کا کمال -  
 سمندت - (۱-۵) (مٹ) بکری سال -  
 سمندت - (۱-۵) (مٹ) (۱) شکر (۲) سکرانا -  
 (۳) اکٹھا کرنے یا جمع کرنے کا فعل - سمندت کا اثر -  
 سمندت جاننا - (۱-۵) (مٹ) اکٹھا ہو جانا - (۲) کم ہو جانا - ختم ہو جانا -  
 سمندت - (۱-۵) (مٹ) (۱) اکٹھا ہو جانا - (۲) سکڑنا (۳) رخصت ہونا -  
 (۴) یک جا ہو جانا (۵) سرک جانا -  
 سمندی - (۱-۵) (مٹ) (۱) ایک قسم کا کپڑا -  
 سمندھ - (۱-۵) (مٹ) (۱) عقل - فہم - دانش - گمان -  
 سمندھ آنا - (۱-۵) (مٹ) ہوشیار ہونا - عقل آنا - سبانا ہونا - آٹھیں کھلنا -  
 سمندھ اٹھی ہونا - (۱-۵) (مٹ) عقل پھر جانا - دماغ اٹھنا -  
 سمندھ بوجھ - (۱-۵) (مٹ) عقل دانش - فہم و فراست -  
 سمندھ پر پتھر پڑیں - (۱-۵) (مٹ) ایسی عقل چوٹے میں جائے - یہ سبھی  
 غارت ہو جائے -  
 سمندھ دار - (۱-۵) (مٹ) عقل مند - سبانا - ہوشیار - دانا - تجربہ کار -  
 سمندھ کا گھر دوسرے - (۱-۵) (مٹ) سمندھ بڑی مشکل بات ہے -  
 سمندھ کے - (۱-۵) (مٹ) عقل سوجھ بچار کے - دیکھ بھال کر -  
 سمندھ لوگ گا - (۱-۵) (مٹ) بدلے کر چھوڑوں گا -  
 سمندھ بچا کر - (۱-۵) (مٹ) اچھی طرح سکا بچا کر کھانے کے -  
 سمندھانا - (رسم - جانا) (۱-۵) (مٹ) (۱) ذہن نشین کرنا (۲) بتانا - سمندھانا (۳)  
 نصیحت کرنا (۴) حساب دینا (۵) ٹیک بنانا (۶) اقرار کرنا -  
 (۷) تینیدہ کرنا -  
 سمندھانا بچانا - (۱-۵) (مٹ) (۱) اُدھ سنچ دکھانا (۲) عقل دینا - جہانش کرنا -  
 سمندھانا - (۱-۵) (مٹ) (۱) جاننا - واقف ہونا (۲) سمندھانا (۳) دل  
 میں ٹھاننا (۴) حساب میں لگانا (۵) بدلہ لینا (۶) ذہن نشین ہونا -  
 (۷) مارنا پینا (۸) خورد کرد کرنا (۹) ماننا (۱۰) عقل میں لانا -  
 سمندھ لینا - (۱-۵) (مٹ) بدلہ لینا (۲) ذہن نشین ہونا (۳) سزا دینا (۴) تسلیم کر

لینا (۵) مستعد ہونا (۶) فکر کرنا - سوچنا -  
 سمندھنے والے کی موت ہے - (۱-۵) (مٹ) (۱) دانا کو بڑی مشکلوں کا سامنا  
 کرنا پڑتا ہے -  
 سمندھوتا - (۱-۵) (مٹ) معاہدہ - مصالحت - باہمی فیصلہ کر لینا -  
 سمندھنے - (۱-۵) (مٹ) (۱) ہوش آیا؟ کچھ پتہ چلا؟ آیا خیال میں؟  
 سمندھن - (رسم - دھن) (۱-۵) (مٹ) (۱) دُلہا اور دُلہن کی مائیں آپس میں  
 سم دھن کہلاتی ہیں -  
 سمندھی - (رسم - دھی) (۱-۵) (مٹ) (۱) دُلہا اور دُلہن کے باپ آپس میں  
 سم دھی ہوتے ہیں -  
 سمندھیانا - (رسم - دھ - یا - نا) (۱-۵) (مٹ) (۱) دُلہن یا دُلہا کا گھرانہ -  
 سمندھی کا گھرانہ -  
 سمبھرتی - (رسم - بر - تی) (۱-۵) (مٹ) (۱) ہندوؤں کی "اہامی" کتابیں -  
 (۲) محافظہ - دھیان - یادداشت -  
 سمبھرن - (رسم - رن) (۱-۵) (مٹ) (۱) وظیفہ - ورد - خدا کا نام چینا (۲)  
 تینیدہ - نالا -  
 سمبھروت - (رسم - روت) (۱-۵) (مٹ) (۱) بزرگ - نیک (۲) صابر - لائق -  
 سمبھروت پینا - (۱-۵) (مٹ) (۱) بزرگی - نیکی -  
 سمبھ - (۱-۵) (مٹ) (۱) سُننے کی قوت - کان - گوش -  
 سمبھ خراشی - (۱-۵) (مٹ) (۱) کان کھانا - منہ چاٹنا -  
 سمبھی - (۱-۵) (مٹ) (۱) جلد سُننے اور دیکھنے کے قابل  
 بنانے والے امدادی آلات -  
 سمبھ - (۱-۵) (مٹ) (۱) وہ پھل جس پر عوام کے عقیدے میں  
 زمین ٹکی ہوئی ہے - کئی تائب سے بچلا طبقہ -  
 سمبھل - (Smuggle) (۱-۵) (مٹ) (۱) ناجائز درآمد برآمد - جنگی یا معمول ادا کیے بغیر مال  
 لے جانا - دیکھ اسمگل کرنا -  
 سمبھل - (Smuggler) (۱-۵) (مٹ) (۱) دیکھ اسمگل -  
 سمبھلنگ (Smuggling) (۱-۵) (مٹ) (۱) دیکھ اسمگلنگ -  
 سمبھن - (۱-۵) (مٹ) (۱) (۱) چینیسی - یا سمن -  
 سمبھن اندام - (۱-۵) (مٹ) (۱) گورا پٹا - سیم تن - بمشوق -  
 سمبھن بڑ - (۱-۵) (مٹ) (۱) چینیسی سا بدل والا - خوبصورت - بمشوق -  
 سمبھن - (Summon) (۱-۵) (مٹ) (۱) (۱) دعا مہر عدالت ہونے  
 کا تحریری حکم - پر دادرسی (۲) "م" کی تشدید کے  
 ساتھ مستقل ہے -  
 سمبھن جاری کرنا - (۱-۵) (مٹ) (۱) حسب قانون طلب نامہ پھینکا -  
 سمبھن کی نقیصہ - (۱-۵) (مٹ) (۱) طلبی کا عمل میں لانا - سمن کو بجا لانا -  
 سمبھند - (۱-۵) (مٹ) (۱) مذکورہ - زردی مائل گھوٹا -  
 سمبھندر - (۱-۵) (مٹ) (۱) (۱) ایک جانور جس کی بابت مشہور ہے  
 کہ آگ میں پیدا ہوتا اور وہیں رہتا ہے - آگ سے باہر نکلتے ہی  
 مڑ جاتا ہے -  
 سمبھندر - (۱-۵) (مٹ) (۱) (۱) بجز دریا سے اعظم - ساگر -

سن۔ (۱-۱)۔ مذ (۱) ایک پودا جس کی چھال سے ریتاں بنتی ہیں (۲)۔ مٹھ (۳) کسی چیز کے زور سے گزرنے کی آواز۔

سن سے جی ہو جانا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) دل دھک سے ہو جانا۔ سناہٹ چوٹ مانا۔

سن سے نکل جانا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) زناٹے سے نکل جانا۔ جلدی سے نکل جانا۔

سن۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ محاورہ)۔ مقدار عمر۔ جمع (۲)۔ سین۔

سن (بلوٹ)۔ بلوٹ۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ جوانی کی عمر۔ سیانا ہونا۔ (تازانہ) اٹھارہ سال کی عمر۔

سن تمیز۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ سیان بن کی عمر۔ وہ عمر جس میں بیک و بد کی تمیز ہو جاتی ہے۔

سن رسیدہ۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ بڑھاپا یا بوڑھی۔

سن مشغور۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ جوانی۔ شباب۔

سن۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ بے حس۔ ساکن۔ بے حرکت (۲)۔ خاموش۔ چپ چاپ۔

(۳)۔ بے ہوش۔ بے خبر۔ سکتے ہیں (۴)۔ مصدر سننا کا صیغہ امر۔

سن۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ خبردار کرنے اور دھمکانے کے موقع پر آتا ہے۔

سن بہری۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ ناچ۔ لغو۔ ریشہ۔

سن پانا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) آگاہ یا واقف ہو جانا۔

سن رکھنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) خبردار ہونا۔ متنبہ ہونا۔

سن سے ڈھول بہو کے بول۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ جس سے وعدے کے پڑنے نہ کیے جائیں وہ طنز آہ شکل کہتا ہے۔

سن گن لینا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) (۱)۔ بھید لینا (۲)۔ چھپ کر سننا۔

سن (ہو جانا) ہونا۔ (۱-۱)۔ بے ہوش ہو جانا۔ بے حس یا بے حرکت ہو جانا (۲)۔ متحیر ہو جانا۔ چپ یا خاموش رہ جانا (۳)۔ سکتے کی حالت میں ہونا (۴)۔ ٹھکرا جانا۔ کوئی عضو رہ جانا (۵)۔ مزے یا لطف کی شدت سے مد ہوش ہو جانا۔

سنا۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ ایک پودا جس کی پتی دست آور ہوتی ہے۔

سناقن۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ قدیم۔ پُرانا۔ ہمیشہ کا (۲)۔ پکا۔ مضبوط۔

سناقن دھرم۔ قدیم ہندو مذہب جو مورثی کی پوجا کا قائل ہے۔

سناٹا۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ حیرت۔ سکتے کا عالم۔ سنان۔

سوکا عالم۔ خاموشی (۲)۔ خوف۔ دہشت۔ سہم (۳)۔ خوفناک آواز۔ (۴)۔ باد و باراں کا شور۔

سٹاٹا آنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) ڈر جانا۔ سہم جانا۔ غشی کا عالم طاری ہو جانا۔

سٹاٹا گز جانا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) گھبرا جانا۔ حیرت میں پڑ جانا۔ بے حواس ہو جانا۔ سٹ پٹا جانا۔

سٹاٹے سے برستا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) زور سے برسا۔ شدت سے برسا۔

موسلا دھار پانی پڑنا۔ چھابوں برستا۔

سندر بہانا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) علمی نکتے بیان کرنا۔ عالمانہ باتیں کرنا۔ سندر بار آنا۔ (۱-۱)۔ محاورہ) مجبور دیاٹے شوخی سزا دینا۔ جلا وطن کرنا۔ آنکریوں کے زمانے کی ایک سزا۔

سندر پھل۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ ایک قسم کا دربیانی پھل جو دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

سندر جھال۔ (۱-۱)۔ مٹھ (۱)۔ سفید رنگ کا ایک نمونہ مادہ جو دواؤں میں پڑتا ہے۔

سندر سوکھ۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ ایک دوا (صفت) بہت پینے والا۔

سندر کھار۔ سمر افکار کا عجز۔ سٹکیا۔ پھرتال۔

سندر میں وہ کونکر چھ سے بیتر۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ ایک جگہ نہ کرواں کے سربراہ سے جھگڑا۔

سندر ری۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) سندر سے مشوب۔

سندر ری کھیرا۔ (اصطلاح علم حیوانات) ایک خاص قسم کا کھیرے جیسا پھل جو سندر میں پایا جاتا ہے۔

سندر ری گائے۔ (۱-۱)۔ مٹھ (۱)۔ اصطلاح علم حیوانات) ایک قسم کا جانور جو گائے سے مشابہ ہوتا ہے اور سندر میں پایا جاتا ہے۔

سندر ری کھوڑا۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ اصطلاح علم حیوانات) سندر میں پایا جانے والا ایال دار چوپایہ جو کھوڑے سے ملتا ہے۔

سنگ۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ گہووں کا مغز جسے اُبال کر نکالا جاتا ہے۔

سنگوچا۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) پورا۔ سالم۔ سارا۔ تمام۔ کابل۔

سنگور۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ ایک ہنایت باریک لیم والا برفانی جانور (۲)۔ اس جانور کی کھال۔

سنگور۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ سامنے۔

سوسا۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ وہ ٹکوتا پکوان جس کے اندر قیر، ترکاری یا کوئی میٹھی چیز بھر کر پکاتے ہیں۔

سوم۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) گرم ہوا۔ ٹو۔ گرم ہوا۔

سومنا۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) ٹھنڈا اور گرم پانی ملا (۲)۔ دو مختلف مزاج چیزوں کو ملا کر اعتدال پیدا کرنا۔

سویات۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ زہریلی چیزیں۔

سویت۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) ساتھ۔ باہم۔ اکٹھے۔ بہ شمول۔

سویت۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) زہریلا (۲)۔ زہر کا اثر۔

سویٹ۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) ایک دوا جو نڈم نہانی کو تنگ اور پخت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ قابض دوا (۲)۔ کھٹ کرنا (۳)۔ تنگی۔

سویٹنا۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) تنگ کرنا (۲)۔ پورا کرنا۔

سویٹ کرنا۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) تنگ کرنا (۲)۔ سہانہ۔

سویٹ۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) والا (۲)۔ خداتعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔

سویٹ۔ (۱-۱)۔ مذ (۱)۔ صفت) بزم۔

سٹائے کا لینہ - (ہ۔ ا۔ مذ) زور شور کی بارش -  
 سٹائے میں آنا - (ا۔ محاورہ) ڈر جانا - حیرت میں ہونا - سہم جانا -  
 سٹار - (رئ۔ نار) (ہ۔ ا۔ مذ) زیور بنانے والا - زرگر -  
 سٹار کی کٹھالی اور درزی کے بند - (ا۔ مثل) سٹار کہتا ہے زیور  
 کٹھالی میں ڈالنا ہے - درزی کہتا ہے کپڑے میں بند لگانا ہے - دونوں  
 ان پہانوں سے گاہک کو مٹاتے رہتے ہیں -  
 سٹال - (س۔ نال) (ع۔ ا۔ مٹ) (ا) نیزے کی اٹی (ب) تیر کی نوک -  
 (ب) بجلا - نیزہ - برہمی -  
 سٹانا - (سن۔ نا۔ نا) (ہ۔ مص) (ا) بے فکر ہو کر سونا (ب) سائیس سائیس  
 کی آواز دینا -  
 سٹان ان سٹان کر دینا - (ا۔ محاورہ) سٹ کر ٹال دینا - پردانہ کرنا - اس طرح  
 ظاہر کرنا کہ کچھ سنا ہی نہیں -  
 سٹا جا ہینا - (ا۔ محاورہ) گالیاں کھانے کو جی چاہنا -  
 سٹا سٹا یا - (ا۔ بول چال) (دردوں سے سٹا ہوا - سہمی -  
 سٹانا - (س۔ نا۔ نا) (ہ۔ مص) (ا) کہنا - کان میں ڈالنا (ب) بڑا بھلا کہنا -  
 طعن مارنا - گالیاں دینا (د) کسی کے سامنے پڑھنا یا گیت وغیرہ  
 گانا (ب) آگاہ یا خبردار کرنا (ہ) کسی کے سامنے قرآن شریف کی  
 تلاوت کرنا یا تراویح میں پڑھنا -  
 سٹانی - سٹاؤنی - (س۔ نا۔ نی) (س۔ نا۔ ا۔ نی) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ب) خبر مرگ -  
 موت کی خبر جو پردیس سے آئے -  
 سٹانی سنوانی - (س۔ نا۔ ای) (س۔ وا۔ ای) (ہ۔ ا۔ مٹ) (ا)  
 و فریادرسی - سماعت (ب) پیچ - فعل - بازاریابی -  
 سٹیل - (س۔ ٹیل) (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) ایک قسم کی خوشبودار گھاس -  
 بال چھڑ - بٹاماسی -  
 سٹیل الطیب - (ع۔ ا۔ مذ) بال چھڑ -  
 سٹیلستان - (ف۔ ا۔ مذ) جہاں کثرت سے سٹیل اُگے ہوئے ہوں (ب) زمینیں بال  
 سٹیلہ - (س۔ ٹ۔ لہ) (ع۔ ا۔ مذ) را خوشہ - گندم یا جو کی بال (ب) آسمان  
 کے چھٹے بڑے کینیاں کا نام - جمع - سٹیل -  
 سٹیموسہ - (س۔ بو۔ سہ) (ف۔ ا۔ مٹ) سموسہ - ایک ٹھونکا پھول جس میں  
 تیمر وغیرہ بھرتے ہیں -  
 سٹیلہ - (س۔ بے) (ف۔ ا۔ مذ) (ا) سوراخ کرنے کا اوزار - برما (ب)  
 قوپ کا گڑ -  
 سٹیلا - (س۔ بھا۔ لا) (ہ۔ ا۔ مذ) وہ اناقہ جو مریض کو موت سے پیشتر  
 ہوا کرتا ہے -  
 سٹیلا لینا - موت سے پہلے مریض کا تندہ درست معلوم ہونے لگنا -  
 سٹیلا لٹا - (س۔ بھال۔ نا) (ہ۔ مص) (ا) تھمنا - روکنا (ب) مدد کرنا (ب)  
 بڑی بنانا (ب) تیمار داری کرنا (ہ) گرنے نہ دینا - اُوپر ہی روک لینا  
 (ب) انتظام ہاتھ میں لینا - جاری لینا (ب) پڑتال کرنا (ب) قابو میں  
 رکھنا - احتیاط برتنا (ب) سٹیٹنا - اُٹھانا (ب) مرض کی روک تھام کرنا -  
 (ا) دار کرتے کے لیے ہاتھ اُٹھانا -

سٹیلا لٹا مار - (ق۔ صفت) سٹیلا لٹا والا -  
 سٹیلا کو - (س۔ بھا۔ لٹ) (ہ۔ ا۔ مذ) ایک درخت جس کے پتے آدمی کے  
 پیچھے سے شاہد ہوتے ہیں -  
 سٹیلا سٹیلا کر - (س۔ بھال۔ کر) (ہ۔ ا۔ مذ) ٹوک ٹوک کر - ٹھہر ٹھہر کر -  
 (ب) احتیاط سے (ب) بن بن کر - مختلف سے -  
 سٹیلا لٹا - (س۔ بھال۔ لٹا) (ہ۔ مص) (ا) تھمنا - روکنا - گرنے سے بچنا (ب)  
 خبردار ہونا (ب) اناقہ ہونا (ب) راہ پر آنا - چلن درست کر لینا (ہ)  
 قابو میں آنا (ب) وجہ اُٹھ سکتا -  
 سٹیلا لٹا دینا - (ا۔ محاورہ) دم نہ لینے دینا - ہمت نہ دینا - ہوش  
 نہ لینے دینا -  
 سٹیلا لٹا - (ا۔ تابع فعل) ہوش پکڑو (ب) تیار ہو جاؤ -  
 سٹیلا لٹو - (س۔ بھوگ) (ق۔ ا۔ مٹ) صحبت - معاشرت -  
 سٹیلا ت - (ق۔ صفت) (ا) مفرد (ب) ایک مرض کا نام جس میں سردی  
 لگنے سے جسم کڑھ جاتا ہے -  
 سٹیلا ر - (ق۔ ا۔ مذ) سپیرا -  
 سٹیلا پٹیلا - (س۔ پٹیلا) (ق۔ ا۔ مذ) اگلے قسم کا پتیلا جو سونے کی طرح  
 زرد ہو -  
 سٹیلا پٹیلا - (ق۔ مص) (ا) ہاتھ میں آنا - گرفت میں آنا -  
 سٹیلا پٹیلا - (ق۔ صفت) (ب) بھر پور -  
 سٹیلا پٹیلا - (س۔ پٹیلا - یا) (ہ۔ مذ) سانپ کا بچہ -  
 سٹیلا پٹیلا - (س۔ پٹیلا - یا) (ہ۔ ا۔ مذ) (ا) سانپ پکڑنے اور پالنے والا -  
 سانپ کا تماشا دکھانے والا (ب) ایک قوم -  
 سٹیلا - (ہ۔ صفت) (ا) پارسا - برہنیز گار - دین دار (ب) سیدھا سادا  
 بھولا بھالا -  
 سٹیلا - (س۔ نٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) (ا) (فقہ اسلام) وہ طریقہ جس پر  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے عمل کیا ہو (ب) فقہ -  
 (ب) راہ - روش - دستور - عادت - جمع - سٹیلا -  
 سٹیلا آبائی - (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) باب دادا کی رسم -  
 سٹیلا ابراہیمی - (ع۔ ا۔ مٹ) (ا) حضرت ابراہیم کا طریقہ (ب) فقہ -  
 سٹیلا کرنا - (ا۔ محاورہ) فقہ کرنا - مسلمانی کرنا -  
 سٹیلا نبوی - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ -  
 سٹیلا - (س۔ تا) (ہ۔ ا۔ مذ) وہ گڑھی جو سب گڑھیاں جیت لینے والے کی  
 طرف سے دوبارہ کھیل شروع کرنے کے لیے دی جاتی ہے (ب) گھوس -  
 خراب حال (ق) -  
 سٹیلا نا - (ق۔ مص) (ا) سٹانا -  
 سٹیلا - (س۔ ت - را) (ا۔ مذ) سٹکر - ا۔ رنگتار - بڑی نارنگی -  
 سٹیلا نا - (س۔ ت - را) (ق۔ مص) (ا) دھوکہ دینا -  
 سٹری - (Sentry) (س۔ ت - ری) (ا) نگ - ا۔ مذ) فوج یا  
 پولیس کا بھڑ دینے والا سپاہی -  
 سٹوش (سٹوٹھ) - (س۔ توش) (س۔ توش) (ہ۔ ا۔ مذ) مبرا استقلال -



بڑھی ہوئی ہو۔

**سنگھیا** - (سنگھ - یا) (دہ-۱-مٹ) (۱) ایک قسم کا زہر - سم الغار - ہر وہ چیز جو زہر قاتل ہو۔

**سنگ** - (ن-۱- مذ) (۱) پتھر (۲) وزن - بوجھ - گرانی (۳) تلکین - دتار - سنگ آستان - آستانہ - (ن-۱- مذ) دلیز کا پتھر - سنگ در -

**سنگ آمد و سخت آمد** - (ن-۱- مذ) پتھر آیا اور وہ بھی بھاری - شکل اور سخت شکل کا سامنا کرنا پڑا - اس وقت کہتے ہیں - جب کوئی کام چارونا چار کرنا ہی پڑے۔

**سنگ آہن رُبا** - (ن-۱- مذ) مقناطیس - لوہے کو اپنی طرف کھینچنے والا پتھر۔

**سنگ اسود** - (ن-۱- مذ) سیاہ پتھر جو کبھ شریف کی دیوار میں نصب ہے اور جیسے مسلمان بوس دیتے ہیں - حجر اسود۔

**سنگ باری** - (ن-۱- مذ) پتھر برساتا - پتھر مارنا - پتھر کی بوچھاڑ۔  
**سنگ بھری** - (ن-۱- مذ) ایک قسم کا سفید پتھر جو بھرہ کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔

**سنگ پا** - (ن-۱- مذ) پاؤں رگڑنے کا پتھر - جھاواں۔

**سنگ پارس** - (ن-۱- مذ) ایک پتھر جس کی بابت مشہور ہے کہ لوہے کو چھو کر سونا بنا دیتا ہے۔

**سنگ نشت** - (ن-۱- مذ) کھودا۔

**سنگ تراش** - (ن-۱- مذ) پتھر کاٹنے اور پتھر کا کام بنانے والا۔

**سنگ تربت** - (ن-۱- مذ) قبر پر لگا ہوا پتھر - لوح مزار - وہ پتھر جس پر مردے کا نام اور تاریخ وفات کندہ کر کے قبر پر لگاتے ہیں۔

**سنگ جراحی** - (ن-۱- مذ) ایک قسم کا سفید پتھر جو زخم کے لیے مفید ہے۔

**سنگ چٹانا** - (۱) محاورہ) پتھر برد رگڑا کر تیز کرنا۔

**سنگ چٹنا** - (۱) محاورہ) ساتھ چلنا - رفاقت کرنا۔

**سنگ چھوڑنا** - (۱) محاورہ) دوستی ترک کرنا - الگ ہونا۔

**سنگ خارا** - (ن-۱- مذ) ایک قسم کا نیلگوں سخت پتھر۔

**سنگ دانہ** - (ن-۱- مذ) پرندے کا معدہ - پوٹا۔

**سنگ دل** - (ن-۱- مذ) بے رحم - ظالم۔

**سنگ راہ** - (ن-۱- مذ) (۱) راستے کا پتھر - بورا گیردوں کے لیے باعث تکلیف ہو (۲) حزام - مانج۔

**سنگ ریزہ** - (ن-۱- مذ) لنگر - روڑی - بھری۔

**سنگ سار کرنا** - (۱) محاورہ) (۱) پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالنا (۲) شراب اسلامی کی ایک سزا جس میں زانی اور اعلائی کو کرکڑنگ زمین میں گاڑ کر اور پتھر مار مار کر ہلاک کیا جاتا ہے۔

**سنگ ساز** - چھاپے خانے کا وہ ملازم جو چھاپے کے پتھر یا لمپٹ پر غلطیاں درست کرتا ہے۔

**سنگ ستارا** - (ن-۱- مذ) ایک قسم کا پتھر جس کے ذرات ستاروں کی طرح پھٹتے ہیں۔

کوئی کاروبار کرے (۲) سینٹ کی اسپیشل کمیٹی - (کمیشن)۔

**سنار** - (سن - سار) (دہ-۱- مذ) دنیا - جہان - کائنات۔

**سنان** - (سن - سان) (دہ-۱- صفت) (۱) ویران - اُجھاڑ - بے رونق (۲) خاموش - خالی - اداس (۳) ڈراؤنا - بھیانک۔

**سنسز** - (Censor) (سن - سز) (انگ - ۱- مذ) احتساب - محاسب - کسی بات سے روکنے والا۔

**سنسکرت** - (سنس - ک - رت) (س - ۱- مٹ) (۱) مقدس - شستہ - ہندو - ہندو - ہندو - ہندو (۲) مکمل اور پوری زبان - آریہ لوگوں کی اصلی زبان۔

**سنسانا** - (سن - سا - نا) (دہ-۱- مص) (۱) سن سن کرنا - سمر سانا (۲) غشی معلوم ہونا - ضعف محسوس ہونا (۳) کپٹنا - پتھرانا (۴) کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز (۵) خوفزدہ ہو جانا - ستائے میں آ جانا۔

**سنسناہٹ** - (سنس - نا - ہٹ) (سن - سی - نی) (دہ-۱- مٹ) (۱) ضعف کے آثار یا علامت - غشی کا عالم - سکے کی حالت - (۲) وہ آواز جو مٹی کے کورسے برتن میں پانی ڈالنے یا پانی گھولنے سے پیدا ہو۔

**سنسی** - (سن - سی) (دہ-۱- مٹ) (۱) لوہاروں اور ستاروں کا ایک اوزار جس سے گرم دھات آگ میں سے نکالتے اور چوٹ لگاتے ہیں - ایک قسم کا زہر۔

**سنگ** - (سن - نگ) (دہ-۱- مٹ) (۱) جھٹ - جنون - سودا (۲) ہوا کا ہلکے ہلکے چلنا۔

**سنگ** - (سن - نگ) (دہ-۱- مذ) ناک کی غلاقت - رینٹ۔

**سنگارنا** - (سن - کار - نا) (دہ-۱- مص) (۱) آٹھ سے اشارا کرنا - آٹھ ماونا - (۲) اگلا - پیچھے لگانا۔

**سنگرانت** - (سنگ - رانت) (دہ-۱- مٹ) (۱) تحویل آفتاب کا دن - سورج کا ایک بڑج سے دوسرے بڑج میں جانے کا دن (۲) ہندوؤں کا ایک تہوار۔

**سنکل** - (سن - کل) (دہ-۱- مٹ) (۱) زنجیر - گندھی (۲) سنگل۔

**سنکلب** - (سنگ - لب) (س - ۱- مذ) خیر خیرات - نذر نیباز - دان ہیں - وقف۔

**سنکلب کرنا** - (دہ-۱- محاورہ) (۱) خیرات کرنا - دان دینا (۲) ہبہ کرنا - کسی نئے نام رکھ دینا۔

**سنکلی** - (سن - ک - لی) (دہ-۱- مٹ) (۱) چھوٹی زنجیر۔

**سنکنا** - (سن - نگ - نا) (دہ-۱- مص) (۱) ناک صاف کرنا۔

**سن کونا** - (Cinchona) (سن - کو - نا) (انگ - ۱- مٹ) (۱) ویسی کریم (۲) وہ دھرت جس کی چھال سے کوئین نکالی جاتی ہے۔

**سنکھ** - (دہ-۱- مذ) (۱) ناکوس - گھونٹکا - بڑی کوڑی جو مندروں میں بھجانی جاتی ہے (۲) سوکروڑ (۳) زیور - گہنا۔

**سنکشی** - (سن - کشی - نی) عورتوں کی چادر جنوں میں سے ایک قسم - وہ عورت جس کے بال بے قد دراز - مزاج پر پڑا اور خواہش نفسانی

**سنگر** (Singer) (س-س-گر) (واگ-۱- مذدمت) (۱۱) گانے والا یا گانے والی - موسیقار (۲) امریکہ کے ایک باشندے کا نام جس نے کپڑا بننے کی مشین ایجاد کی۔

**سنگر سیونگ مشین** (Singer Sewing Machine) - سنگر کی ایجاد کی ہوئی کپڑے بننے کی مشین۔

**سنگرام** - (سنگ-لام) (س-س-۱- مذ) جنگ و جدال۔

**سنگرنا** - (س-س-گر-نا) (۳-مص) بننا۔ سنوارنا۔ سنگار کرنا۔ آراستہ ہونا۔

**سنگ رینی** - (سنگ-رے-نی) (۱-مٹ) ایک مرض - بدہضمی کی وجہ سے بار بار دست آنا۔

**سنگل** - (واگ-۱- مذ) انگریزی لفظ (Signal) سنگن کا بگڑا ہوا (۱) اشارہ (۲) ریلوے کا وہ کھجا بولوں کا آنا جانا بتاتا ہے۔

**سنگل** (Single) (واگ-صفت) ایک واحد (۲) تہنا - ایکلا (۳) اکہرا - جو ایک ہی شخص کے لیے بنا یا گیا ہو (۴) کرکٹ میں ایک سن کی ہٹ (۵) چھتیس پتوں کے تڑب کا ایک کھیل - جس میں جیتنے والوں کو کھربا پانچ ہاتھ اور ہارنے والوں کے چار ہیں۔

**سنگل گیم** (Single Gam) وہ کھیل جس میں دونوں طرف ایک ایک کھلاڑی ہو۔

**سنگم** - (س-گم-۱- مذ) (۱) دو دریاؤں کے ملنے کا مقام (۲) ملاقات (۳) اکٹھا ہونا۔

**سنگوانا** - (سنگ-وا-نا) (۳-مص) جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا (۲) ہتھیانا۔ ٹوٹنا۔

**سنگوٹنا** (۳) مار ڈالنا (۴) ترتیب سے لگانا۔

**سنگوٹی** - (س-گو-ٹی) (۱-مٹ) (۱) وہ غلات یا پھل وغیرہ کا خول جو بیوں کے سینگوں پر سجاد کے لیے چڑھاویتے ہیں (۲) گانے یا ہرن کا چوٹا سائینگ۔

**سنگوٹینا** - (س-گو-ٹینا) (۱-مص) سکیڑ لینا۔

**سنگوٹری** - (س-گو-ٹری) (۱-مٹ) [سنگ پر پڑھانے کی شام۔

**سنگھ** - (۱-مٹ) (۱) شیر (۲) رکھوں اور پھرتوں کے نام کا عام ہزد (۳) بڑبڑامد (۴) نہیں۔ ناڈی۔

**سنگھاڑا** - (س-گھا-ڑا) (۱-مٹ) (۱) ایک ٹکونا پھل جس کے دو طرف کانٹے نکلے ہوتے ہیں اور تالابوں میں ہوتا ہے (۲) سوسے کی طرح پٹھا جو اردو مال (۳) دلالوں کی اصطلاح [تین روپے (۴) شفت۔ ٹکونا۔

**سنگھاڑا پھل** - (۱-مٹ) ایک قسم کی پھل۔

**سنگھاسن** - (س-گھا-سن) (۱-مٹ) (۱) شہ ہی تحت - راج گڈی۔

**سنگھانا** - (۱-مص) ناک میں خوشبود وغیرہ دینا۔

**سنگلی** - (س-گی) (۱-مٹ) (۱) ساتھی - رفیق - ہم راہی (۲) ایک قسم کا لٹھی کپڑا جس میں سوت پلا ہوتا ہے۔

**سنگیت** - (س-گیٹ) (دس-۱- مذ) ایسا گانا جسے بہت سے آدمی آواز

**سنگ سمر** - (س-م-۱- مذ) وہ پتھر جس کا سمر بننا ہے۔  
**سنگ سلیکائی** - (س-۱- مذ) وہ لگ بوسیاہ وسفید اور دھاری دار پتھر ہے۔

**سنگ (شجر) شجری** - (س-۱- مذ) ایک قسم کا پتھر جس میں درخت کا کس ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر دریائے سندھ سے نکالا جاتا ہے (۲) مرجان۔

**سنگ فسال** - (س-۱- مذ) وہ پتھر جس پر تھوڑا چاقوئی دھار رکھتے ہیں بیان۔

**سنگلاخ** - (س-صفت) پتھر کی زمین یا پہاڑی علاقہ۔ کنا پتا شکل دشوار۔

**سنگ لوزال** - (س-۱- مذ) وہ پتھر جس پر پڑھنے یا ڈرا حرکت دینے سے بٹنے لگتا ہے۔

**سنگ لوح و مزار** - (س-۱- مذ) وہ پتھر جو قبر کے سر ہانے سردے کے حالات اور تاریخ وفات وغیرہ کندا کر کے نصب کیا جاتا ہے۔ دیکھ

**سنگ تربت**۔

**سنگ مالی** - (س-۱- مٹ) پتھر کو پالش کرنے کا عمل۔

**سنگ ماہی** - (س-۱- مذ) وہ پتھر جو بعض پھلیوں کے سر سے نکلتا اور سنگ گردہ و درد گردہ کے لیے میند ہے۔

**سنگ مشانہ** - (س-۱- مذ) پتھر جو شانے میں پڑ جاتی ہے۔

**سنگ سمر** - (س-۱- مذ) ایک قسم کا نفیس سفید پتھر۔

**سنگ مزار** - (س-۱- مذ) لوح مزار۔ سنگ تربت۔

**سنگ موسی** - (س-۱- مذ) ایک قسم کا سیاہ خوبصورت پتھر۔

**سنگ میل** - (س-۱- مذ) وہ پتھر جو راستہ کا نشان یا راستہ بتانے کے لیے لگاتے ہیں۔ نشان ماہ۔

**سنگ لیشب** - (س-۱- مذ) ایک قسم کا سبزی مائل قیمتی پتھر ہے جسے اکثر مجلس کربول دل کے لیے پیتے ہیں یا نجی بنا کر گھر میں ڈالتے ہیں۔

**سنگ** - (س-۱- مذ) (۱) ساتھ۔ ہمراہ۔ رفاقت۔ صحبت۔

**سنگا تین** - (س-گا-تین) (۱-مص) اسپیل۔

**سنگاتی سنگاتی** - (س-گا-تی) (س-س-گا-تی) (۱-مص) ساتھی ہم راہی - رفیق۔

**سنگار** - (س-گا-ر) (س-س-گا-ر) (۱-مٹ) (۱) آرائش جو زور لباس اور کنگھی ہوئی سے کی جائے۔ زیب و زینت۔ کنگھی ہوئی۔

**سنگ پٹی** (۲) لباس - زور۔

**سنگار دان** - (س-ف-۱- مذ) سنگار کی چیزیں رکھنے کا صندوق یا پٹاری۔

**سنگار میز** - (۱-مٹ) میز جس پر آرائش کا سامان پڑا رہے۔

**سنگارنا** - (س-سنگار-نا) آراستہ کرنا۔

**سنگت** - (س-سنگ-ت) (۱-مٹ) (۱) رفاقت۔ ساتھ۔ ہمراہ۔ صحبت ہونا

ہم نشین (۲) شرکت۔ سا بھا (۳) ہم صحبت۔ ہم نشین (۴) رڈی کے ساتھ کے لوگ۔ سازندے (۵) مرثیہ خواں اور گویتے کے ساتھ آواز ملانے والے۔

**سنگترہ** - (سنگ-ت-رہ) (۱-مٹ) (۱) رنگ ترہ۔ سنترہ۔

**سنگتی** - (س-سنگ-تی) (۱-مٹ) (۱) ساتھی - رفیق - ہم راہی۔

**سنگر** - (س-سنگ-ر) (۱-مٹ) (۱) فوج یا کسی قطعہ اراضی کی حفاظت کے لیے بنائی ہوئی دیوار یا کانٹوں کی باڈھ (مراد) کھاٹی - خندق۔



لکار گائیں (۲) ایسا تماشا جس میں ناچ گانا ہو (۳) ساز اور رقص کے ساتھ گانے کا فن۔

سنگین - (سن۔ رنگین) (ف۔ صغ) (۱) پتھر کا (۲) سخت بھاری۔ دزنی۔ گراں (۳) مضبوط۔ دیر پا (۴) دائرہ۔ (۱) مسٹ (۲) ایک نوکدار ہتھیار جو بندوق پر پڑھایا جاتا ہے۔

سنگین جرم - (ف۔ ع۔ ا۔ ذ) بھاری قہرور۔ ایسا جرم جو سخت سزا کے قابل ہو۔

سنگین پڑھانا - (ا۔ محاورہ) بندوق پر سنگین لگانا یا نصب کرنا۔

سنگین سزا - (ف۔ مٹ) بھاری سزا۔ سخت سزا۔

سنگینی - (سن۔ گی۔ نی) (ف۔ مٹ) سختی۔ سختی۔ مضبوطی۔ گہائی۔ ٹھوس پن۔

سن لکھ - (سن۔ لکھ۔ گھ۔ دھ۔ صغ) (ق) سانسے۔ ڈو بڑو۔

سنسن - (سن۔ سن۔ ن۔ ا۔ مٹ) (۱) مسٹ کی جمع۔ طریقے (۲) وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے کیے۔

سنسنا - (سن۔ نا۔ دھ۔ مص) (۱) بھرنا۔ آلودہ ہونا۔

سنسنا - (سن۔ نا۔ دھ۔ مص) (۱) کانوں سے آواز معلوم کرنا۔ کان لگانا (۲) توجہ کرنا۔ دھیان دینا (۳) گالی لگانا (۴) مقدمے کی سماعت کرنا (۵) گانا سننا (۶) ماننا۔

سنسنے میں آنا - (ا۔ محاورہ) گوش گزار ہونا۔ کان میں بات پڑنا۔

سنسوار - (س۔ ا۔ مٹ) (۱) ڈرستی۔ سجادت۔ اصلاح (۲) پٹکار۔ لعنت۔ (تجھے خدا کی سنسوار آ۔)

سنسوارنا - (سن۔ وار۔ نا) (۱) دھ۔ مص) (۱) درست کرنا۔ آراستہ کرنا (۲) ترتیب سے لگانا۔ مہذب بنانا۔ راہ پر لانا۔

سنسورنا - (سن۔ ذر۔ نا) (۱) دھ۔ مص) (۱) درست ہونا۔ سینا۔ آراستہ ہونا۔ پورا ہونا۔ انجام کو پہنچنا (۲) ترتیب سے گنا (۳) سُدھرنا۔ چال چلن درست ہونا (۴) تقریف کرنا (ق)

سنسون - (سن۔ نون) (ع۔ ا۔ ذ) (۱) دانوں کا منجن۔

سنسہ - (سن۔ ع۔ ا۔ ذ) (۱) سال۔ برس۔ سمت۔ جمع۔ بنین۔

سنس جلوس - (ع۔ ا۔ ذ) (۱) وہ سن جو کسی بادشاہ کی تخت نشین سے شروع ہو کر اس کی فرمازدائی تک جاری رہتا ہے۔

سنس رواں - (ع۔ ف۔ ا۔ ذ) (۱) جو سال گزر رہا ہو۔

سنس عیسوی - (ع۔ ا۔ ذ) (۱) شمسی سال جس کا حساب حضرت مسیحؑ کی پیدائش سے کیا جاتا ہے۔

سنس بھری - (ع۔ ا۔ ذ) (۱) قری سال جو رسول اللہؐ کے مکہ منظر سے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کی تاریخ سے شروع ہوا۔

سنسہرا۔ سنسہری - (سن۔ نہ۔ را) (سن۔ نہ۔ ری۔ دھ۔ صغ) (۱) سونے کا۔ نذیر (۲) سونے کے رنگ کا۔ زرد۔ پیلا۔

سنسٹی - (سن۔ نی) (ع۔ ا۔ ذ) (۱) مسلمانوں کا وہ فرقہ جو غنائے راشدین کو برحق مانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت۔ سنت رسول اللہؐ پر چلنے والا گروہ۔

سنسٹی ان سٹی کرنا - (سن۔ ن۔ ا۔ ن۔ سن۔ نی۔ کر۔ نا) (۱) محاورہ (۲) بات سن کر ماننا (۳) ایسا ہی ہر کرنا جیسے بات سن نہیں۔ توجہ نہ کرنا۔

سنسٹی سٹائی بات - (ا۔ مٹ) سنسٹوئی بات۔ افزاء۔ ہوائی بات۔

سنسٹے (سنسٹو) توہمی - (ا۔ محاورہ) بھڑو تو۔ بات تو کرو (۲) بات مانو۔

سنسٹیا س - (سن۔ ن۔ یاس) (س۔ ا۔ ذ) (۱) دنیا چھوڑ دینا۔ فقیری لینا۔ قطع علاقہ۔

سنسٹیا سٹی - (سن۔ ن۔ یاس) (س۔ ا۔ ذ) (۱) بند و فقیر جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو۔ تاکہ اللہ دنیا (۲) جنگلی بڑی برٹوں کا ماہر۔ وید۔

سنسٹینچ (وار) - (سن۔ نی۔ پڑ) (س۔ ا۔ ذ) (۱) پختے کا دن۔ شنبہ (۲) بد نصیبی کوست (۳) سیارہ زحل جو موس شمال کیا جاتا ہے۔

سنسٹینچر آنا - (ا۔ محاورہ) ادا بار آنا۔ بڑی گھڑی آنا۔ کوست کے سارے زل کے اثر میں آنا۔

سنسٹینچر سوار ہونا - (ا۔ محاورہ) چکر میں پڑنا۔ گھومتے پھرنا۔

سنسٹینچا - (Cinema) (انگ۔ ذ) (۱) وہ ایجاد جس سے تصویریں پردے پر حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں اور جتنی بھی ہیں۔

سنسٹین - (سن۔ بنین) (ع۔ ا۔ ذ) (۱) سنسٹی جمع۔ کئی یا بہت سے سال۔

سنسٹواریئم - (Sanatorium) (سن۔ نے۔ ٹو۔ ب۔ ایم) (انگ۔ ا۔ ذ) ایسی علاج گاہ جو کسی صحت افزا مقام پر بنی ہوئی ہو۔

## س۔و

سکو۔ (دھ۔ صغ) (۱) پانچ بیسی۔ ننانوے اور ایک۔ سینکڑا۔ (۲) کثرت سے۔ بہت۔ (۳) بہر صورت۔ ہر چند۔

سکوبات کی ایک بات - (ا۔ مٹ) (۱) بنائیت معقول اور تجربے کی بات۔ عمدہ بات (۲) الحاصل۔ قبضہ مختصر۔ خلاصہ۔

سکوپو سے - (ا۔ متعلق فعل) یقیناً۔ بالکل درست۔ بہر صورت۔ گمان غالب۔

سکو جان سے صدقے - (ا۔ محاورہ) بہت زیادہ محبت ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں۔

سکو جان سے عاشق ہونا - (ا۔ محاورہ) بے حد شیدا ہونا۔ انتہائی فریفتہ ہونا۔

سکو جتن کیے - (ا۔ محاورہ) (۱) بہت کوشش کی (۲) سارے پھیلے اور کھرد فریب کر دیکھے۔

سکو چھپا میں - (ا۔ محاورہ) کسی طرح بھی پوشیدہ کریں۔

سکو دن چور کے تو ایک دن سادھ کا - (ا۔ مثل) (۱) سودن شری آدمی کی پہلے کی تو ایک دفعہ شریف کی بھی بن آنے گی۔ چور ایک دن ایک دن مزدور بڑا جاتا ہے۔

سکو دو سو میں - (ا۔ متعلق فعل) اکثر میں۔ بہت سوں میں۔

سکو رستے میں - (ا۔ محاورہ) بہت سی تدبیریں ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں۔

سکو سر کا ہونا - (ا۔ کسی ایک آدمی کا اپنی دانش مندی یا طاقت کی وجہ سے بہت سے آدمیوں پر بھاری ہونا (۲) ثابت قدم یا اٹل ہونا۔

سکو سار کی ایک لولا رکی - (ا۔ مثل) (۱) کم زور کی سوزنیں زبردست کی ایک

درا-جامیل - سمندر دینیزہ کے کنارے -

سواد- سُواد (سُ - واد) (سُ - واد) (وا - ۱-۱) مذ (۱) مزہ - ذائقہ - چاٹ  
(۲) لذت - لغت (۳) فرحت - خوشی - غلبت - اعلیٰ -

سواد- (سُ - واد) (وا - ۱-۱) مذ (۱) سیاہی - کاکب (۲) سیاہ نقطہ جو دل  
پر ہوتا ہے (۳) حوالی شہر - آس پاس - گرد و نواح (۴) ذہن - ملک -  
(۵) گھنا (۶) بڑی تعداد -

سواد پڑنا - (۱) عمارت (۲) چسکا پڑنا - مزہ پڑنا - عادت ہونا -

سوادِ انکھم - (۱) بڑا شہر (۲) کثیر تعداد - اکثریت - غالب حصہ -

سوار - (سُ - وار) (ف - ۱-۱) مذ (۱) جو پیدل نہ ہو (۲) دکانیتا مست - متوالا

(۳) رسالے کا لائزم وصف - پڑھا ہوا - سواری پر بیٹھا ہوا -

سوار بنانا - (۱) عمارت (۲) سواری سکھانا -

سوار - (س - وار) (س - ۱-۱) مذ (۱) ایک قسم کی گھاس -

سوارت - (سُ - وار) (ت - ۱-۱) مذ (۱) اچھے کام میں آنا -

سوارت کرنا - (۱) عمارت (۲) استعمال میں لانا - کامیاب بنانا - سود مند کرنا -

سواری - (س - وار) (ری - ۱-۱) مذ (۱) گھوڑے پر چڑھنے کا کام -

(۲) وہ حیوان یا چیز جس پر سوار ہوا جائے (۳) مجلس (۴) کشتی کا

ایک داؤں (۵) جو سوار ہو (۶) ہمرکاب -

سواری آنا - (۱) عمارت (۲) تشریف لانا (۳) مجلس آنا -

سواری اُترانا - (۱) عمارت (۲) جو عورت ڈولی گاڑی دینیزہ میں آئے اسے

ڈیوڑھی سے جا کر لانا -

سواری دینا - (۱) عمارت (۲) سواری کا کام دینا -

سواری دگنا لینا - (۱) عمارت (۲) پڑھنا - سوار ہونا -

سواری لگنا - (۱) عمارت (۲) سوار ہونے کے لیے ڈیوڑھی پر پاکی

دینیزہ کارکھا جانا -

سواگت - (س - وا) (ت - ۱-۱) مذ (۱) خوش آمدید - آدابگت (۲)

سلام - آداب -

سوال - (س - وال) (وا - ۱-۱) مذ (۱) پوچھنا - دریافت کرنا (۲) درخواست

مانگ - اتماس طلب (۳) استفسار - پرسش (۴) اُار - دھونے یا

عرضی - دعویٰ (۵) گزارش - عرض داشت (۶) بیک مانگنا (۷) مسئلہ -

میتھہ - عمل طلب بات - دریافتی یا اقلیدس کا جواب طلب مسئلہ -

سوال از آسماں جواب از لیسمان - (۱) مثل (۲) سوال کچھ اور جواب کچھ -

اُوت پٹانگ جواب -

سوال پورا ہونا - (۱) عمارت (۲) مانگی ہوئی چیز کا ملنا -

سوالِ جرح - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۱) وہ سوال جو ایک فریق اپنے مخالف کے

گرد ہوں سے کرتا ہے - دلیل کاٹنے والا سوال - تردیدی سوال - گرفت

کرنے والا سوال -

سوال جواب - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۱) گفتگو - بات چیت (۲) مباحثہ -

سوال حل کرنا - (۱) عمارت (۲) مشکل مسئلہ حل کرنا - کوئی مقدمہ یا تھی کھولنا -

سوال خوانی - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) عدالت میں دعوے یا عرضی دھونے کا پڑھا جانا -

سوال در سوال - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) سوال کا جواب دینے کے بجائے

جرب کے برابر بھی نہیں ہوتی -

سوسو - (۱) مستحق نفل (۲) بہت بہت کثرت سے - با اظاظ -

سوسوئل کھانا - (۱) عمارت (۲) بہت زیادہ غصے میں ہونا - نہایت

بیچ و تاب کھانا -

سوسو پھیرے کرنا - (۱) عمارت (۲) بہت پکر لگانا -

سوسو کوس (دور) بھگانا - (۱) عمارت (۲) پاس نہ پھنگنا - الگ الگ

رہنا - بہت زیادہ پرہیز کرنا -

سوسو گھر سے پانی پڑنا - (۱) عمارت (۲) سخت شرمندہ ہونا -

سوسومن کے پاؤں جو ہوجانا - (۱) عمارت (۲) گھبراہٹ کے باعث چل نہ سکا -

سوسونام دھرنا - (۱) عمارت (۲) بہت کثرت سے ہونی کرنا - بہت عیب نکالنا -

سوسیانے ایک مت - (۱) مثل (۲) جتنے دانہ ہوں گے - سب کی

راٹے ایک میسی ہوگی -

سوغلاموں گھر سونا - (۱) مثل (۲) اگر زندہ نہ ہو تو سینکڑوں غلام ہونے

کے باوجود گھر خالی لگتا ہے -

سوکی ایک بات - (۱) مثل (۲) عمدہ بات - نخب بات -

سوکی لاشی ایک کابلوچھ - (۱) مثل (۲) تھوڑا تھوڑا سہارا بھی بہت ہوجاتا ہے

سوگن پھاریں ایک نہ واریں - (۱) مثل (۲) ہر عیب جتنا کر موقع

یا ضرورت کے وقت الگ ہوجانا -

سومارے ننانوے سے بھول جائے (۱) مثل (۲) اس قابل ہے کہ

سومارے ایک گنے -

سومن کا - (۱) مثل (۲) بہت ذہنی - بہت بھاری -

سو میں ایک - (۱) مثل (۲) بہت کم - بہت فیصل -

سو میں کہنا - (۱) عمارت (۲) کٹے طور پر کہنا - سب کے سامنے کہنا -

سونگٹوں میں ایک ناک والا نکو - (۱) مثل (۲) بہت سے عیب واروں

میں ایک بے عیب - سب سے زیادہ عیبی خیال کیا جاتا ہے - سور ذیل

میں ایک شریف بدنام درسا سمجھا جاتا ہے -

سود - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) بھاری - بھاری - مرکبات میں جیسے سوہنم -

سود مزاج - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) مزاج کی خرابی -

سو - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) سمت - جانب - طرف -

سو - (وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) سو - تو - اس لیے - اس واسطے (۲) مصدر

سونا کا مینڈا امر -

سوا - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) ایک اور اس کا جو تھائی حصہ - پورا اور ایک چوتھائی

زیادہ - لُٹ -

سوا اینیزے پر سورج (آفتاب) آنا - (۱) آثار قیامت نمودار ہونا

(۲) شدید ترین گرمی پڑنا -

سوا سوائے - (س - وا) (س - وا) (س - وا) (۱) اینیز - طلاہ - بجز -

(۲) زیادہ - خالوتہ -

سوا - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) بڑی سونی - موٹی موٹی (۲) طوطا -

سوا حق - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) سابقہ کی جمع -

سوا صل - (س - وا) (ذ - ۱-۱) مذ (۲) سامل کی جمع - پانی کے کنارے -

(۲) زیادہ - بڑھا ہوا - بیش -  
 سُومائون - (ق۔ ۱۔ مٹ) خوشبو۔  
 سُوبھا - (سُو۔ جہا۔ ۱۔ مٹ) زینت - زیبائش (۲) خوبصورتی (۳)  
 شان دشوکت (۴) رونق (۵) عزت اُردو -  
 سوپ - (Soap) (انگ۔ ۱۔ مذ) صابن -  
 سوپ - (Soup) (انگ۔ ۱۔ مذ) چینی - شوربہ - آبِ جوش -  
 سوپ - (۱۔ ۱۰۔ مذ) (۱) ہاج - اناج پھلکے کا آلہ (۲) پانی پینے کا ٹوکرا -  
 سوپ تو سوپ چھلنی کیا بولے جس میں بہتر سوچھید - (مثل) بے باغ  
 چال چلن والا اگر شیخی کرے تو بجا ہے - جی کر زبان کھولنے سے پہلے اپنے عیب  
 دیکھ لینا چاہئے -  
 سوپ سہی داڑھی - (۱۔ مٹ) بڑی اور گھنی داڑھی - داڑھی جو چھاتی پر  
 چھاتی ہوئی ہو -  
 سوٹ - سوٹن - (سوٹ) (سو۔ تن) (۱۔ مٹ) ایک خاوند کی دو یا زیادہ  
 بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوٹ کہلاتی ہیں -  
 سوٹ بھلی سوٹلا بڑا - (۱۔ مٹ) سوکن کی اولاد سوکن سے زیادہ ناگوار  
 اور خطرناک ہوتی ہے -  
 سوٹ پر سوٹ اور جھلا پا - (۱۔ مثل) ایک دشمن کے ہوتے دوسرا دشمن  
 آجانے سے دل اور زیادہ ہلکا ہے -  
 سوٹ چوں کی بھی بڑی - (۱۔ مثل) دشمن کتنا ہی بے حقیقت ہو پھر بھی  
 اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے -  
 سوٹ کالانا جی کا جھلانا - (۱۔ مثل) دوسری عورت کرنا پہلی عورت  
 کو زندہ دو گور کرنا ہے -  
 سوٹ (سوٹا) - (سوٹ) (سو۔ تا) (۱۔ مٹ) (۱) نکاس  
 پانی نکلنے کی جگہ - منبع - سرچشمہ -  
 سوٹ جاری ہونا - چشمہ جاری ہونا -  
 سوٹ - (۱۔ مٹ) (۱) مٹاگا - (۲) سیدھ دیکھنے  
 کا ڈورا - پنسال (۳) ریشہ (۴) سوکا سولھوں حصہ -  
 سوٹ اُٹیرنا - (۱۔ مٹ) سوٹ پیسنیا یا چرنی یا ایٹرن پر چڑھنا -  
 سوٹ باندھنا - (۱۔ مٹ) سیدھ باندھنا - سیدھ دیکھنے کا ڈورا لٹکانا -  
 سوٹ کی انٹی اور یوسف کی خریداری - (۱۔ مثل) تھوڑی سی میتھی  
 پر بڑا حوصلہ -  
 سوٹ کے بنوئے ہو جانا - (۱۔ مٹ) بنا بنا یا کام بگڑ جانا -  
 سوٹ نہ کیاس کوئی سے ٹھم لٹھا - (۱۔ مثل) خواہ خواہ کا جھگڑا - بے نیا  
 بات پر شاہد -  
 سوٹا یا (سوٹا ڈاہ) - (۱۔ مٹ) دو سوکنوں کے درمیان دشمنی - سوٹا یا -  
 سوٹا سنار جاکتا پروردگار - (۱۔ مثل) وہ گھر جو داستان گو کہانی شردن کرنے  
 سے پہلے کہتے ہیں - رات کا سنسان ہونا -  
 سوٹک - (سوٹک) (سوٹک) (۱۔ مٹ) بچے کی پیدائش کے وقت  
 کی ٹاپا کی -  
 سوٹوا (سوٹوا) - (۱۔ مٹ) سوٹوا ہوا - پیلا - باریک -

اسی سوال پر ایک اور سوال کر دینا -  
 سوال دیگر جواب دیکھ - (ق۔ مٹ) سوال کچھ جواب کچھ -  
 سوال ڈالنا - (۱۔ مٹ) التبا کرنا (۲) رشتہ طلب کرنا -  
 سوال کی صورت - (۱۔ مٹ) جس کی شکل سے ہی اندازا ہو جائے کہ کچھ مانگتا ہے  
 سوال رڈ کرنا - (۱۔ مٹ) سوال نا منظور کرنا - صیگ نہ دینا -  
 سوال مٹم (قانون) - (۱۔ مذ) وہ درخواست جو اشتہام کی کمی پوری کرنے  
 کے لیے دی جائے -  
 سوال مرتت (قانون) - (۱۔ مذ) مرضی کی درستی یا ترمیم کا مطالبہ -  
 سوال موصل الی المطلوب - پوچھنے والے کے مطلب تک پہنچانے  
 والا سوال -  
 سوال نامہ - (ق۔ ۱۔ مذ) جواب طلب امور کی فہرست -  
 سوالات - (ق۔ ۱۔ مذ) سوالات کی جمع -  
 سوالی - (ق۔ ۱۔ مذ) سوالات کرنے والا -  
 سوامی - (ق۔ ۱۔ مذ) سوامی - (۱۔ مذ) آقا - حاکم - خدا (۲) شوہر  
 خاندان - خصم (۳) گرو - پیر (۴) حضور - قبلہ - حضرت -  
 سوال - (ق۔ ۱۔ مٹ) قسمیں -  
 سوانا - سوانہ - (سو۔ دان) (سو۔ دان) (۱۔ مٹ) حد کرنا - مینڈھ -  
 سوانج - (سو۔ وانج) (سو۔ وانج) (۱۔ مٹ) ساتھ کی بیج - واقعات - حادثات  
 رونے والے حالات -  
 سوانج مٹری - (سو۔ مٹ) کسی شخص کی زندگی کے حالات - تذکرہ -  
 سوانج نگار - (سو۔ ف۔ مٹ) (۱) واقعہ نویس - اخبار نویس - نامہ نگار  
 (۲) (۱) کسی شخص کے حالات زندگی لکھنے والا -  
 سوانگ - (سو۔ وانگ) (۱۔ مٹ) شیدہ - تماشا - کھیل - نقل - ہروپ -  
 سوانگ بھرنا - (۱۔ مٹ) (۱) عیس بدن (۲) فریب دینا -  
 سوانگیا - (سو۔ وانگ) (۱۔ مٹ) (۱) ہر پتیا - روپ بھرنے اور  
 دکھانے والا (۲) شیدہ باز - مکار - فریبی - دغا باز - عیار -  
 سووا - (سو۔ وا) (سو۔ صفت) (۱) جو راکھ یا جسم ہو گیا ہو (۲) (۱۔ مذ)  
 وہ گھر جو ہوم یا جگ کرتے وقت کہتے ہیں -  
 سووا (کرنا) کر دینا - (۱۔ مٹ) (۱) جلا کر رکھ بنا دینا (۲) خاتہ کر دینا -  
 دھول اڑا دینا - کچھ باقی نہ رکھنا -  
 سووالی - (سو۔ وا) (سو۔ وا) (۱۔ مذ) وہ غلہ جو کاشت کار کو بیج کے واسطے  
 اس شرط پر دیا جائے کہ فصل پر من کا سواں لیا جائے گا - (مٹ) وہ  
 زمین جس میں سوائے چاول کے سب غلے پیدا ہوتے ہوں - اسے  
 مینسن - دوسٹ - سیونا - سیکن - پڑوا - کار بھی کہتے ہیں -  
 سووالی - (سو۔ وا) (سو۔ وا) (۱۔ مٹ) (۱) فالتو - معمول سے زیادہ -  
 سووائے - (سو۔ وا) (سو۔ وا) (۱۔ مٹ) حرف استثناء (۲) علاوہ (۳) صفت  
 زیادہ - فالتو - بیش -  
 سووا - (سو۔ وا) (۱۔ مٹ) (۱) صفت - عدد کسری (۲) ایک اور چھاتی پلہ ۱



سودا سلف - (۱۔ مذ) بازار سے خریدی ہوئی چیزیں۔  
 سوداگر - (ن۔ صفت) تاجر۔ بیوپاری۔  
 سوداگری - (ن۔ صفت) تجارت۔ بیوپار (صفت) تجارت سے متعلق۔  
 سوداگری کرنا - (۱۔ محاورہ) تجارت کرنا۔ کاروبار کرنا۔ بیوپار کرنا۔  
 سودا مول لینا - (۱۔ محاورہ) (۱) کوئی چیز خریدنا (۲) کوئی ڈتے داری اپنے سر لینا۔  
 سودا نہ ہونا - (۱۔ محاورہ) معاملہ نہ بننا۔ قیمت پر اتفاق نہ ہونا۔  
 سوداوی - (سؤ۔ د۔ وی) (رع۔ صفت) (۱) سودا سے متعلق (۲) ٹیکس۔ پیسہ۔  
 سوداوی مزاج - (رع۔ صفت) وہ شخص جس میں سودا کی نغلا غالب ہو۔  
 جنونی آدمی۔  
 سودائی - (سؤ۔ د۔ ای) (رع۔ صفت) (۱) دیوانہ۔ پاگل۔ جنونی۔  
 شبلی۔ الحق۔  
 سودائے خام - (ن۔ صفت) خام خیالی۔  
 سودہ - (سؤ۔ ذہ) (ن۔ صفت) کسی چیز کا برادہ۔ وہ چیز جو کھانے سے حاصل ہو (جیسے سودہ مندل) کھسا ہوا مندل۔  
 سودھ بھٹی - (سؤ۔ ذہ۔ بھٹ) (ن۔ صفت) (۱) اصطلاح علم کیا (۲) کچی دھات کو پگھلانے کی بھٹی۔  
 سودھا - (ہ۔ صفت) سیرھا۔ صاف (۲) بھولا بھالا۔ سادہ۔ سچا۔  
 سودھن - (سؤ۔ دھن) (ن۔ صفت) (۱) تہذیب۔ شائستگی۔ لطافت پاکیزگی (۲) اصلاح۔ درستی۔  
 سودھنا - (سؤ۔ دھ۔ نا) (ہ۔ صفت) اصطلاح علم کیا (۱) کچی دھات کو پگھلا کر صاف کرنا۔  
 سودھی - (۱۔ صفت) پاک صاف۔ اچھا۔ نہیں۔ کھرا۔ سچا۔  
 سودی - (سؤ۔ وی) (ن۔ صفت) وہ روپیہ جو سود پر لیا یا دیا جائے۔  
 سودیش - (۱۔ مذ) اپنا ملک۔ اپنا وطن۔  
 سودیشی - (سؤ۔ دے۔ شتی) (ہ۔ صفت) اپنے دیس کا۔  
 سوڈا - (Soda) (سؤ۔ ڈا) (ن۔ صفت) (۱) سوڈیم کا کھار (۲) وہ پانی جو سوڈے سے بنایا جائے۔ سوڈا واٹر۔  
 سوڈا بائیکارب - (Soda Bicarb) (ن۔ صفت) (۱) ایک مرکب دوا جو ہاضمے کے لیے سفید ہے۔  
 سوڈا واٹر - (Soda Water) (ن۔ صفت) سوڈے سے بنایا ہوا پانی۔  
 سوڈیم - (Sodium) (سؤ۔ ڈیم) (ن۔ صفت) (۱) ایک قسم کی دھات جو سوڈے کے اندر ہوتی ہے اور اسے جلانے سے سفید شعلہ نکلتا ہے۔  
 سوڈے کا جوش یا سوڈے کا سا اُبال - (۱۔ صفت) (۲) دقتی اور عارضی جوش۔  
 سوڈا - (۱۔ صفت) بہادر یا شجاع آدمی۔ مرد غازی۔  
 سوڈیر - (سؤ۔ ر) بہادر۔ سوڈا۔ شجاع۔  
 سوڈ - (سؤ۔ ر) (سؤ۔ ذہ) (ن۔ صفت) (۱) خنزیر۔ خوک (۲) (صفت) شہر۔ بد ذات (۳) (ن۔ صفت) ایک گالی (۴) غصے یا ناراضگی

یا آفتاب کے اظہار کا کلمہ۔  
 سُورات - (ن۔ خود مرئی) عرض مطلب۔ جرم۔  
 سُوراج - (سؤ۔ راج) (ن۔ صفت) (۱) مذ) حکومت خود اختیار۔ اپنے دیس میں اپنا راج۔  
 سُوراج - (سؤ۔ راج) (ن۔ صفت) (۱) مذ) (۲) چھید۔ روزن۔ رخنہ۔ بل۔  
 موکھا (۳) درز۔ ڈراڑ۔ بھری (۴) منہ۔ دہانہ۔ موری۔  
 سُورگنا - (ن۔ صفت) سورج طلوع ہونا۔  
 سُورانا - (ن۔ صفت) بے تاب ہونا۔  
 سُورت - (سؤ۔ رت) (ن۔ صفت) (۱) مذ) قرآن مجید کا کوئی باب یا فصل۔ حج۔ سُور۔  
 سُورج - (سؤ۔ رَج) (ن۔ صفت) (۱) مذ) شمس۔ خورشید۔ آفتاب۔  
 سُورج بنسی - (۱۔ مذ) راجہ پوتوں کی ایک قوم جو خود کو سورج کی اولاد خیال کرتی ہے۔ راجہ رام چندری اسی قوم سے تھے۔  
 سُورج خاک ڈالنے سے نہیں چھپتا - (۱۔ مثل) کھلی بات کو چھپایا نہیں جاسکتا۔  
 سُورج (ڈوبتے) ڈوبے - (۱۔ متعلق فعل) سُورج چھپنے کے وقت شام کے وقت۔  
 سُورج ڈوبنا - (صفت) سُورج چھپنا۔ آفتاب غروب ہونا۔  
 سُورج سنسار - نظام شمس۔ دنیا۔  
 سُورج کو چراغ دکھانا - (۱۔ محاورہ) قربر کار کو عقل دینا۔ داناکو دانائی کی بات بتانا۔ کامل کے سامنے ناقص کا بائس بنانا۔  
 سُورج کی کرن - (۱۔ صفت) آفتاب کی شعاع۔  
 سُورج (گرہن) گہن - (۱۔ مذ) چاند کا زمین اور سُورج کے درمیان آکر آفتاب کی روشنی زمین تک نہ پہنچنے دینا۔ کسوٹ گرنے کی آفتاب۔  
 سُورج کھٹی - (۱۔ صفت) ایک قسم کا زرد پھول جو سُورج کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بدلتا جاتا ہے۔  
 سُورگ - (سؤ۔ رگ) (ن۔ صفت) (۱) مذ) سیکڑ۔ جنت۔  
 سُورما - (سؤ۔ رما) (ن۔ صفت) بہادر۔ شجاع۔  
 سُورما چٹا بھار نہیں پھوڑ سکتا - (۱۔ مثل) اکیلا آدمی خواہ کتنا ہی بہادر ہو بہت سے آدمیوں پر غالب نہیں آسکتا۔  
 سُورن - (۱۔ مذ) زر۔ سونا۔ طلا۔  
 سُورنجان - (سؤ۔ رن۔ جان) (ن۔ صفت) (۱) مذ) ایک دوا جسے جھنگلی نیگھا ڈا بھی کہتے ہیں۔  
 سُورنی - (سؤ۔ رنی) (ن۔ صفت) (۱) مذ) (۲) سُور کی مادہ (۳) بہت سے بچے دینے والی عورت۔  
 سُورہ - (سؤ۔ رہ) (ن۔ صفت) (۱) مذ) قرآن شریف کا ایک باب یا ایک فصل۔ سُورت۔  
 سُورہ اخلاص - (رع۔ ا۔ مذ) قل ہواللہ کی سُورت۔  
 سُورہ الیسین - (رع۔ ا۔ مذ) قرآن شریف کی ایک سُورہ جو حالت نزاع میں موت کی سنتی دینے والے کے لیے سناتے ہیں۔

قسم - صوفد -

سوق - د.ع - ا.مذ (بازار - بیج، اسواق -  
سوقیانہ - (سوق - ق) - یا - نذ) - ع.ف - ص.ف (بازاری - عوام کی  
پسند کا - بتدل -

سوک - د.ع - ا.مذ (ازہرہ ستارہ - تاہید (۲) - جمو -

سوکا - (ق) - ا.مذ (سر کے کیکر جو ماتھے پر لگائی جاتی ہے -

سوکا - (سوکا) - د.ع - ا.مذ (دہ فصل جو ادولوں سے سرجائے (۲) -

قسط سالی - اساک باراں -

سوکن - (سوکن) - د.ع - ا.مذ (سوت - شوہر کی دوسری بیوی -

سوکھ کر پیچر ہو جانا - (ا.مذ) (مادہ) - نہایت ڈبلا ہو جانا - بدن پر گوشت نہ

ہونا - ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنا -

سوکھا - (سوکھا) - د.ع - ص.ف (۱) خشک - کھرنک (۲) سکڑا ہوا بھیریاں

پڑا ہوا (۳) ڈبلا پتلا - لازم (۴) روکھا چھیکا - د.ع - مذ (خشک سالی -

کال (۵) ہینگ (۶) خشک تباکو -

سوکھا پڑنا - (ا.مذ) (مادہ) - قسط سالی جونا -

سوکھا (تالنا) ٹرغانا - (ا.مذ) (مادہ) - صاف انکار کرنا - باتوں میں ٹالنا -

بے نیل مرام واپس کرنا -

سوکھا ٹنڈ (ٹھنڈ) - (ا.مذ) خشک - سوکھا درخت -

سوکھا جواب دینا - (ا.مذ) (مادہ) - صاف انکار کرنا -

سوکھا سہما - (ا.مذ) (ص.ف) (۱) چپ چپ - خوف زدہ (۲) دبلا پتلا -

لازم و تکلیف -

سوکھا لگنا - (ا.مذ) (مادہ) - غم یا بیماری سے ڈبلا ہو جانا -

سوکھے اُترے سے سر منڈوانا - (ا.مذ) (مادہ) - پانی لگائے بغیر سر منڈوانا

کر تکلیف زیادہ ہو -

سوکھے ٹکڑوں پر کتوں کی جہانی - (مشل) - ناداری میں عیش کی باتیں -

غزنی میں امیر دولہ کی ریس -

سوکھے ٹکڑوں پر کوٹے اڑانا - (ا.مذ) (مشل) - قیل اہرت پر ذلیل کام کرنا -

سوکھے دھانوں پانی پڑنا - (ا.مذ) (مادہ) - (۱) یا بوسی کی حالت میں کام بن

جانا - نامرادی میں مراد پانا (۲) رنج کی حالت میں خوشی نصیب ہونا -

سوکھے ساون نہ روکھے بھادوں - (ا.مذ) (مشل) - بے فیض آدمی کے بارے

میں کہتے ہیں - بیج شکل اس طرح ہے - سادوں سوکھے نہ بھادوں روکھے -

سوکھے کا آزار - (ا.مذ) (مذ) (۱) بچوں کا مرض - دق - سوکھا -

سوکھے گھاٹ اُتارنا - (ا.مذ) (مادہ) - یا بوس لوٹانا - محروم رکھنا -

سوکھے کر کاٹنا ہو جانا - (ا.مذ) (مادہ) - نہایت کمزور ہو جانا - ڈبلا ہونا -

سوکھنا - (سوکھ) - نا - د.ع - ص.ف - واڈ پھول (۱) چوٹا - جذب کرنا (۲)

سُرکنا - بہت زیادہ مقدار میں پینا -

سوکھنا - (سوکھ) - نا - د.ع - ص.ف - واڈ معدود (۱) خشک جونا (۲)

ڈبلا ہونا (۳) سکڑنا -

سوکھی - (سوکھی) - د.ع - ص.ف (۱) خشک شدہ - بے رطوبت جس میں تری

نہ ہو (۲) ڈبلی پتی - نجف دنا تو ان -

سوری - (ق) - (۱) ایک پھول کا نام (۲) سُرخ شراب -

سوریا بان - (ق) - چتر - آفتاب گیری -

سوز - (ق) - ا.مذ (۱) جین - سوزش - دکھ - درد (۲) دُرا - مرثیہ خوانی کی ایک

طرز (۳) اُردو کے ایک مشہور شاعر محمد میر دہلوی کا تخلص -

سوز خواں - (ق) - ا.مذ - خاص طرز پر مرثیے پڑھنے والا -

سوزناک - (سو - ناک) - (ق) - ا.مذ - ایک مرض جس میں پیشاب سوزش

کے ساتھ آتا ہے اور پیپ نکلتی رہتی ہے -

سوزش - (سو - زش) - (ق) - ا.مذ (مٹ) - جین - کھولن - درد - تکلیف -

سوزن - (سو - زن) - (ق) - ا.مذ (مٹ) - سوئی -

سوزن کار - (ق) - ص.ف - کڑھائی کرنے والا - سوئی کا کام کرنے والا -

سوزن کاری - سوئی کا کام - کینڈہ کاری -

سوزنی - (سو - زنی) - (ق) - ا.مذ (مٹ) - دُہرا یا روئی بھرا کپڑا جس پر سوزن

کاری کی گئی ہو -

سوس - (ق) - ا.مذ (گھریال) - ایک قسم کا مگرچہ (۲) - مٹھی -

سوس - (ق) - ص.ف - شدت - تشنگی -

سوسائٹی - (Society) (سو - سا - ٹی) - (ا.مذ) (مٹ) (۱)

سماج - معاشرہ - اجتماعی زندگی (۲) لوگوں کی مجتمعیت -

سوسمار - (سوس - مار) - (ق) - ا.مذ - ایک صحرائی جانور - گوہ -

سوسن - (سو - سن) - (ق) - ا.مذ (مٹ) - آسمانی رنگ کا ایک پھول جسے شعراء

زبان سے تشبیہ دیتے ہیں -

سوسنا - (ق) - ص.ف - جھیلنا - سہنا - برداشت کرنا -

سوسنی - (سو - سی - نی) - (ق) - ص.ف (۱) آسمانی (۲) نیلا رنگ -

سوسو کرنا - (ا.مذ) (مادہ) - سردی کے مارے کا پینا -

سوسسی - (ا.مذ) (مٹ) - ایک قسم کا رنگین دھاری دار کیرا -

سوشل - (Social) (سو - شل) - (ا.مذ) (مٹ) (۱) سوسائٹی

یا معاشرے سے متعلق (۲) میل جول رکھنے والا - غناسار - مل جل

کر بسر کرنے والا -

سوشلزم - (Socialism) (سو - شل - ازم) - (ا.مذ) (مذ)

دیجیے اشتراکیت -

سوشلسٹ - (Socialist) (سو - شل - اسٹ) - (ا.مذ) (مٹ) - ص.ف -

د.ع - (مذ) - دیجیے اشتراکی -

سوغات - (سو - غات) - (ق) - ا.مذ (۱) تحفہ - ہدیہ - عمدہ چیز -

عجیب چیز -

سوغا - (ق) - ا.مذ - مکان کا بڑا کمرہ -

سوغار - (سو - غار) - (ق) - ا.مذ (۱) سوئی کا ناکہ (۲) تیر کی پتلی -

سوغتہ - (سو - فتہ) - (ق) - د.ع - ا.مذ (۱) سینٹا کا بگڑا ہوا - بہت - فرصت

(۲) عجات - چٹکارا -

سوفطانی - (سو - فس - طانی) - (ق) - د.ع - ا.مذ (مذ) حکماء کا ایک گروہ جن کے

اہم لوگوں کی بنیاد روم پر ہے اور صحابہ سے منکر ہیں -

سوفہ - (Sofa) (سو - فہ) - (ا.مذ) (مذ) - کونج - کرسی کی ایک

سُوکھی الفتن - (ادست) (مظرا) ڈوبی پتل عورت - الف کی طرح -

سُوکھی سنانا - (ادبی درہ) انکار کرنا -

سُوکھی چٹائی کرنا - (ادبی درہ) کھانے کے درمیان پانی نہ پینا (۲) اینٹے گارے کے اینٹیں لگانا -

سوگ - دن - ۱ - ۱ - مذ - ماتم - غم - رنج -

سوگ (آٹارنا) آترنا - (ادبی درہ) ماتم کی مدت پوری ہونا - سیا پے سے نکالنا یا نکلنا -

سوگ کرنا (منانا) - (ادبی درہ) مُردے کا ماتم کرنا - رنج و غم کی حالت میں رہنا -

سوگ میں بیٹھنا - (ادبی درہ) بیوہ کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے غم میں ماتم کی صف میں بیٹھنا -

سوگ وار - (ن - صفت) معنوم - نگیں - ماتمی حالت میں - ماتم دار -

سوگند - (سو - گند) دن - ۱ - ۱ - صفت - قسم - قول - جہد -

سوگی - (سو - گی) ۱ - ۱ - صفت - ۱ - ۱ - رنجیدہ - سوگوار - ماتم دار -

سُول - (۱ - ۱ - مذ) ۱ - ۱ - کاٹا - خار (۲) برجھی کی نوک (۳) پیٹ کا درد - درد قلبی - باڈوگلا (۴) چھین (۵) ترسول -

سول - (Sole) (انگ - ۱ - مذ) ۱ - ۱ - کف پا (۲) جوتے کا تلاء - (۳) صفت - واحد - تبا - بلا شرکت غیرے -

سویل - (Civil) (رس - دل) (انگ - صفت) ۱ - ۱ - غیر فوجی - بشہری (۲) انتظامی - تمدنی (۳) خلیق - ہندب - ہلسار - ہلانا س -

سویل جج - (Civil Judge) (انگ - ۱ - مذ) دیوانی مقدمات فیصل کرنے والا جج -

سویل سرجن - (Civil Surgeon) (انگ - ۱ - مذ) شہریوں کا اعلیٰ معیار اور صحت کے سرکاری عوامی ہسپتالوں کا نگران ڈاکٹر -

سویل سروس - (Civil Service) (انگ - ۱ - صفت) سرکاری ملازمت کا وہ شعبہ جس میں بڑے بڑے سول عہدہ دار ہوتے ہیں -

سویل کورٹ - (Civil Court) (انگ - ۱ - صفت) عدالت دیوانی وہ عدالت جس میں لین دین کے مقدمات ہوتے ہیں -

سویل لاء - (Civil Law) (انگ - ۱ - مذ) قانون دیوانی -

سویل لبرٹی - (Civil Liberty) (انگ - ۱ - صفت) شہری آزادی -

سویل لسٹ - (Civil List) (انگ - ۱ - صفت) حکومت کی وہ فہرست جس میں تمام عہدیداروں کی مدت ملازمت اور تنخواہ وغیرہ کی مقدار درج ہوتی ہے -

سویل میریج - (Civil Marriage) (انگ - ۱ - صفت) وہ شادی جو مذہبی رسوم کے برعکس عدالت میں کی جائے - عدالتی شادی -

سویل نافرمانی - (Civil Disobedience) (انگ - ۱ - صفت) حکومت کے احکام کی تعمیل سے بلا تشدد انکار -

سویل وار - (Civil War) (انگ - ۱ - صفت) خانہ جنگی - ایک ملک کے مختلف طبقوں کی باہمی لڑائی -

سُوئی - (۱ - ۱ - مذ) ایک قبر کی پھیل -

سُوچین - (نق - صفت) خوش اطوار - نیک خصلت -

سولہ - (سو - ل) ۱ - ۱ - صفت - ۱ - ۱ - دس اور چھ - ۱۶

سولہ سنگار - عورتوں کی نکل آرائش - دیکھئے بارہ بُھرن سولہ سنگار -

سولھواں - (۱ - ۱ - عدد) ترتیب میں پندرہ کے بعد کا درجہ -

سولھی - (سو - لھی) ۱ - ۱ - صفت - ۱ - ۱ - ایک کھیل جو سولہ کوزیوں سے کھیلا جاتا ہے -

سُوئی - (سو - لی) (۱ - ۱ - صفت) ۱ - ۱ - ایک چوٹی آلہ جس میں مجرموں کو لانتوں اور پاؤں میں سونیں ٹھونکر کر دیکھا دیتے تھے - چھانسی کا کھبا (۲) مجازاً

مصیبت - ہلاکت - سخت تکلیف - ہر وقت کا خطرہ -

سُوئی پریسر ہونا - (۱ - ۱ - محاورہ) کمال اضطراب اور بے چینی سے وقت گزارنا -

سُوئی پر بھی پیش آتی ہے - (۱ - ۱ - مثل) سخت ترین مصیبت میں بھی انسان کو نیند آجاتی ہے -

سُوئی پر جان ہونا - (۱ - ۱ - محاورہ) سخت مصیبت میں گرفتار ہونا -

سُوئی پر کھٹنا - (۱ - ۱ - محاورہ) بہت تکلیف میں زندگی بسر ہونا -

سُوئی پڑھانا - چھانسی دینا - دار پر کھینچنا (۲) بہت اذیت یا تکلیف دینا -

سویلین - (Civilian) (رس - دل - ۱ - صفت) (انگ - ۱ - مذ) صفت - غیر فوجی - انتظامی - سرکاری محکمے کا ملازم -

سُوئے - (نق - ۱ - مذ) سرد تلاء -

سُووم - (رس - روم) دن - ۱ - ۱ - صفت - ۱ - ۱ - تیسرا - ثالث (۲) مُردے کا تیما - تیسرے دن کی فاتحہ -

سُووم - (۱ - ۱ - مذ) کبوس - نیمیل - شووم -

سُووم کے گھر میں کتا پڑا - جائے نہ جانے دے - (۱ - ۱ - مثل) کبوس کے نوکر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نہ خود نادمہ اٹھاتے ہیں نہ دوسرے کو اٹھانے دیتے ہیں -

سوم - (رادو - جوم) (۱ - ۱ - مذ) ۱ - ۱ - چاند (۲) ملک الموت (۳) ایک بوٹی جس کا رس ہندو ڈراما مقدس خیال کرتے ہیں -

سوم (نات) ناٹھ - (رس - ۱ - مذ) بھارت کا مشہور تاریخی بت خانہ - جسے محمود غزنوی نے فتح کیا - مجازاً بت خانہ -

سوم وار - (رس - ۱ - مذ) چاند کا دن - دو شنبہ - پیر کا دن - سولھن - (نق - صفت) خوش نما -

سُون - (نق) سے -

سُون - (۱ - ۱ - صفت) قسم - سوگند - جہد - حلف - پیمانہ -

سُون - (۱ - ۱ - صفت) ۱ - ۱ - سکوت - خاموشی (۲) دم نفس - سانس (۳) شگون - نیک شگون -

سُون کھینچنا - (۱ - ۱ - محاورہ) چپ سا دھنا - خاموشی اختیار کرنا -

سُون کی لینا - (۱ - ۱ - محاورہ) چپ سا دھنا - خاموشی اختیار کرنا -

سونا - (سو - نا) ۱ - ۱ - مذ ۱ - ۱ - زرد رنگ کی شہسور دھات جس کے زیورات اور سکے وغیرہ بنتے ہیں - زر - طلا -

سونا اُچھالنے چلے جاؤ - (۱ - ۱ - مثل) امن و امان اور خوش انتظامی کی تعریف کے موطن پر کہتے ہیں - جو رادو رہزن کا کوئی ڈر نہیں -

سونا جانے کے ادنیٰ جانے لے - (۱ - ۱ - مثل) سونا کو سولی پر لگانے اور آدمی پاس رہنے سے بچانا جاتا ہے -

سوننا جانڈی - (۱-۵) سٹ (رہبر - پیسہ - مال و دولت -  
 سوننا چھوٹے مٹی ہوتا ہے - (۱-۵) سٹ) بد بخت اور بد اقبال آدمی کے  
 بارے میں کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگتا ہے نقصان پہنچاتا ہے۔  
 سوننا سنگد - (۱) گھراسونا - زرخاں (۲) ابھی نسل یا اپنے خاندان کا بہت  
 قابل (۳) خالص - بے میل - معصوم - بیگناہ -  
 سوننا سنار کا، اُچھرن سنار کا - (۱) سٹ (۲) سنار سونے میں بہت سا  
 کھوٹ ملا دیتے ہیں - زبرد کی خوبصورتی مانگ کے حصے میں رہ جاتی ہے  
 اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دفاع سے لوگوں کا اہل ٹھگ لے -  
 سوننا گھسے آدمی لے - (۱) سٹ (۲) سوننا کسوٹی پر گھسنے سے اور آدمی کے  
 ساتھ رہنے سے اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے -  
 سوننا لے کے مٹی نہ دینا - (۱) محاورہ (۲) بنایت نادر ہونا -  
 سوننا - (سو - نا) (۵) حص (۱) داؤد بھول (۲) بیند لینا - اُچھ لگنا (۳) مرنا - ہمیشہ  
 کے لیے اُچھ بند ہونا -  
 سوننا - (سو - نا) (۵) صفت - داؤد صوف (۱) خالی - غیر آباد (۲) کیلا (۳)  
 اُچھاڑ - دیران - بے رونق (۴) سنسان - خاموش -  
 سوننا گھر بھڑوں کا راج - (۱) سٹ (۲) جب کوئی لائن نہیں ہوتی تو نالائقوں  
 کی بن آتی ہے -  
 سوننا ہونا - خالی، سنسان یا بے رونق ہونا -  
 سونپ سانپ دینا - (۱) محاورہ (۲) کوئی چیز کسی کے حوالے کر دینا -  
 سونپنا - (سو - نا) (۵) حص (۱) پُر کرنا - حوالے کرنا (۲) کسی کے اعتبار  
 پر چھوڑ دینا - امانت رکھنا -  
 سونٹ مارے جھلا جانا - (۱) محاورہ (۲) پھینکے سے جھلا جانا -  
 سونٹا - (سون - ٹا) (۵) (۱) مذ (۲) ڈنڈا - بزم - کوئی لکڑی - عصا -  
 سونٹا سے ہاتھ - (۱) مذ (۲) ننگے ہاتھ (۳) عورتیں چوڑیوں سے خالی ہاتھوں  
 کے بارے میں عمارتاً کہتی ہیں -  
 سونٹے سے - بلا سے - کوئی پروا نہیں -  
 سونٹھ - (۱-۵) سٹ (۱) سوکھی ادرک (۲) نادر چیز - بے بہا چیز (۳)  
 بچل - بکوس -  
 سونٹھ لسانا - (۱) محاورہ (۲) کوئی قیمتی چیز خریدنا (۳) زیر غلنے کے  
 لیے چیزیں خریدنا -  
 سونٹھ کی ناس لینا - (۱) محاورہ (۲) برداشت کرنا (۳) خاموشی اختیار کرنا -  
 سونٹھ ہو رہنا - خاموش ہو رہنا - چپ ہو جانا -  
 سونٹھنا - (۱) مذ (۲) ایک پردے کی چھلیاں جو داغ بادی ہوتی ہیں (۳) سونٹھنا  
 سونڈھا - (سون - ڈھا) (۵) صفت (۱) تازہ ہوتی یا مٹی کے کورس برتن کی  
 خوش بو والا - بٹھے ہوئے چیزوں یا آکوڑوں کی خوشبو والا (۲) خوش بو دار -  
 سونڈھاپن - (۱) صفت (۲) سونڈھی سونڈھی خوش بو -  
 سونڈھنا - (سونڈھ - نا) (۵) حص (۱) لٹانا - گدگد کرنا (۲) سناٹا - ٹھنڈا (۳)  
 گونڈنا (۴) کپڑوں کو دھونے کے لیے ٹھنڈا -  
 سونڈ - (۱-۵) سٹ (۱) ہاتھ کی لمبی ناگ -  
 سونڈی - (سون - ڈی) (۵) سٹ (۱) ایک چھوٹا سا کھیرا جو نال میں لگ

جاتا ہے (۲) ناف (۳) صلق کا گوا (۴) کلال - شراب کشہ  
 کرنے والا -  
 سونٹا - (دق - حص) صبر کرنا -  
 سونٹ - (اُڑ - سٹ) بادبان - ایک مشہور پردے کے بیچ جو خوشبودار  
 اور ٹھنڈے ہوتے ہیں -  
 سونٹھا - (سون - گھا) (۵) (۱) مذ (۲) وہ شخص جو وقت شام کے ذریعے  
 زمین کے اندر کا حال، خزانہ یا بیٹھا پانی وغیرہ معلوم کر لیتا ہے (۳)  
 شکاری گنا (۴) مخمڑ - جاسوس - عیسوی - کھوجی -  
 سونگھنا - (۱) حص (۲) بولینا - ہلک لینا - باس لینا -  
 سونگھنی - (سونگھ - نی) (۵) (۱) سٹ (۲) بلاس - سوار (۳) بلاس کی ڈبیا -  
 سونی - (سون - نی) (۵) صفت (۱) دیران - غیر آباد - سنسان -  
 سونے - (سو - نے) (۵) (۱) مذ (۲) سوننا (۳) صفت (۴) کی وہ صورت جس میں الف  
 کو بائیں بھول سے بدل دیتے ہیں -  
 سونے پر سہاگا - (۱) محاورہ (۲) رونق پر رونق - بہتری پر بہتری - نفع پر نفع - خوبی پر  
 سونے سے گھر اڈن مہنگی - (۱) سٹ (۲) اتنے کا مالی نہیں جتنا اوپر لگ گیا -  
 سونے کا مانی - (۱) مذ (۲) (۱) سونے کا ملیق (۲) وہ پانی جس میں سوننا گلا یا گیا ہو -  
 سونے کا توڑا - (۱) مذ (۲) طلائی زنجیر جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے -  
 سونے کا گڑوا پتیل کی پینڈی - (۱) سٹ (۲) ان لوگوں کے متعلق کہتے ہیں -  
 جن میں اچھ بڑوں کے ساتھ برائیاں بھی ہوں -  
 سونے کا گھر مٹی ہو جانا - (۱) محاورہ (۲) بنا بنا یا گھر تباہ ہو جانا -  
 سونے کا نوا کہہ - (۱) مذ (۲) ترمال - نہایت عمدہ خوراک -  
 سونے کا نوالہ کھلائیے شیر کی نظر دیکھیے - (۱) سٹ (۲) اولاد کے متعلق کہتے  
 ہیں کہ بچوں کو بہتر سے بہتر خوراک دگر ان کی تربیت سختی سے کرنی چاہیے -  
 سونے کا ورق - (۱) مذ (۲) درق طلا - سونے کے ٹکڑے کو کوٹ کر بنایا ہوا درق -  
 سونے کی چڑیا - (۱) سٹ (۲) مال دار آدمی -  
 سونے کی چڑیا ہاتھ آنا - (۱) محاورہ (۲) کسی مال دار آدمی کا قابو میں آ جانا -  
 سونے کی کٹاری کوئی پیٹ میں نہیں مارتا - (۱) سٹ (۲) کسی فائدہ کی  
 خاطر جان نہیں دی جاتا کرتی -  
 سونے کے سہرے میاہ ہو - (۱) محاورہ (۲) دما - خدا دولت مند خاندان  
 میں شادی کرانے -  
 سونے کے محل اٹھانا - (۱) محاورہ (۲) بہت دولت مند ہونا -  
 سونے کے مول - (۱) صفت (۲) بہت گراں - نہایت قیمتی -  
 سونے (جھونے) میں لدا پھندا رہنا - (۱) سٹ (۲) سونے کا بہت  
 سا زبرد پینے رہنا -  
 سونیا - (۱-۵) مذ (۲) داکھ کو دھو کر سوننا نکلانے والا نیارا یا (۳) نال  
 نکلانے والا - پیشین کر -  
 سوویت - (Soviet) (سو - ویت) (۱) روسی (۲) سٹ (۱) (۱)  
 روس میں وہ کونسل جسے کسی چھوٹے ملک کے مزدور اور سپاہی منتخب  
 کرتے ہیں (۲) صوبے کی کونسل جسے یہ کونسلیں منتخب کرتی ہیں (۳)  
 روسی پارلیمنٹ -



سو میگز - (س - ویم - بر) (ہ - ا - مذ) قدیم ہندوؤں کی ایک رسم جس میں لڑکی اپنا خاندان خود انتخاب کرتی تھی۔  
سو میگر چینا - (ا - محاورہ) خاندان کے انتخاب کی مجلس جمع ہونا۔  
سو میگرا - (س - ویم - را) (ہ - ا - مذ) اپنا خاندان آپہننے والی لڑکی۔

سو ویٹ یونین - دفاتی ریاست جس میں روس اور دوسری سولہ خود مختار ریاستیں شامل ہیں۔  
سوکا - (س - و - مذ) (ہ - ا - صفت) لال - سرخ (۲) بھروسہ راگ کی ایک قسم۔  
سولان - (سو - لان) (ن - ا - مذ) ریختی - لکڑی یا لولہ صاف کرنے کا خار دار اوزار۔  
سولان روج - (ن - ع - صفت) جان کو پھیلنے والا - جان کو تکلیف دینے والا - ناگوار خاطر۔

## س - ہ

سولہ - (س - و - لا) (ہ - ا - مذ) قرین کا لیت۔  
سوہن - (سوہ - ہن) (ن - ا - مذ) ایک قسم کی مٹھائی جیسے حلوا سوہن۔  
سوہنا - (سوہ - نا) (ہ - ا - صفت) (۱) خوب صورت - خوش نما (۲) مستحق۔  
دلیر (۳) خاندان۔  
سوہنی - (سوہ - نی) (ہ - ا - صفت) خوبصورت - خوش نما - دل فریب (۱)  
سوہنا کی ٹائینٹ (۱) مٹھائی (پاکستان) کی ایک کھارن جو مینوزال کی محبوبہ تھی (۳) جھاڑو - جادوب - بہاری۔  
سوکا - (س - و - مذ) (۱) بڑائی - خرابی - بدی (۲) بیماری (۳) (صفت) بڑا - خراب - بد۔  
سوہ اتفاق - (س - و - مذ) موافق کی خرابی - بڑا اتفاق۔  
سوہ ادب (ادب) ادبی - (س - ا - مذ) بے ادبی - گستاخی۔  
سوہ ظن - (س - و - مذ) بدگمانی - بدظنی - بڑا خیال۔  
سوہ ہضمی - (س - و - مذ) بدہضمی - پیٹ کی خرابی۔  
سوئی - (سو - ای) (ہ - ا - مذ) (۱) سوزن - کپڑے سینے کا تھا باریک اوزار (۲) ترازد کا کاٹا (۳) گھڑی کا کاٹا جو حرکت کر کے وقت بتاتا رہتا ہے (۴) کاٹا - پھانس۔  
سوئی کا (بھالا) پھاڑا جو جانا - (۱) محاورہ) بات کا تنگ بن جانا۔  
سوئی کے ناکے سے اونٹ نکالنا - (۱) محاورہ) ناممکن بات کر دیکھنا۔  
سوئیوں اناج پروانا - (۱) محاورہ) کبوس کرنا - بھل کرنا۔  
سوہیا - (سوہ - یا) (ہ - ا - مذ) (۱) ایک خوشبودار ساگ کا نام (۲) (صفت) سوہیا ہوا - خواہیدہ۔  
سوہیا اور چوکا - (۱) مثل) غافل ہوا اس نے خط کھائی۔  
سوہیا سوکھو یا جاگ سوہیا - (۱) مثل) غافل رہنے والا نقصان اٹھاتا ہے - ہوشیار رہنے والے کو نفع ہوتا ہے۔  
سوہیاں - (س - و - ذی - یاں) (ہ - ا - مذ) ایک قسم کی خوراک جو میدے آٹے یا روٹے کو گوندھ کر اس کے تار نکال کر بنائی جاتی ہے۔  
سوہیپ - (Sweep) (سگ - مذ) تاش کا ایک ٹیکل۔  
سوہیٹر - (Sweater) (سگ - ا - مذ) موٹی اونٹنی بنیان۔  
سوہیدا - (س - و - ذی - نا) (ہ - ا - مذ) وہ سیاہ نقطہ جو انسان کے قلب پر ہوتا ہے۔  
سوہیر - (س - ویر - ہ - صفت) جلدی - اول - پہلے - دیر کا فیض۔  
سوہرا - (س - و - ذی - را) (ہ - ا - مذ) صبح دم - روز کا ٹوکا۔  
سوہیق - (س - و - مذ) ستوت۔

سہ - (ن - صفت) تین - ۳۔  
سہ اساسی - (ا - صفت) (اصطلاح علم کیمیا) لہجے سے فولاد تیار کرنے کا سہ بارہ عمل۔  
سہ برنگہ - (ن - ا - مذ) ایک قسم کا پھول جس کی تین پتیاں ہوں۔ ٹوپیل پر بنائی ہوئی پتی۔  
سہ بندی - (ن - ا - مذ) سہ ماہی قسط یا تنخواہ۔  
سہ پیر - (ن - ا - مذ) تیسرے پیر کا وقت - دوپہر کے بعد کا وقت۔  
سہ پہلو - (ن - ا - صفت) تین پہلوؤں کا (۲) ایک قسم کا تیر۔  
سہ چند - ٹکنا - تین گنا۔  
سہ حرفی - (ن - ع - صفت) تین حرف کا - وہ کلمہ جس میں تین حرف ہوں۔  
سہ حصہ - (ن - ع - ا - مذ) وہ مقام جہاں تین حصے ملتی ہوں۔  
سہ درہ - (ن - ا - مذ) تین دروازوں والا کمرہ۔  
سہ سالہ - (ن - ا - مذ) تین سال کا۔  
سہ کمر - تیسری دفعہ۔  
سہ شنبہ - منگل کا دن۔  
سہ ماہی - (ن - صفت) ہر تیسرے مہینے کا - جمالی۔  
سہ منزلہ - (ن - ع - صفت) اوپر نیچے تین درجوں والا مکان۔  
سہما - (س - ہ - ا - مذ) بنات النسخ کا ایک چھوٹا سا ستارہ۔  
سہار - (س - ہار) (ہ - ا - مذ) برداشت - تحمل۔  
سہارا - (س - ہار) (ہ - ا - مذ) (۱) مدد - بھروسا - وسیلہ (۲) امید - توقع (۳) توانائی - قوت (۴) ٹیک - اڈا ڈر۔  
سہارا پانا - (۱) محاورہ) مدد پانا - تقویت حاصل کرنا۔  
سہارا ٹیکنا - (۱) محاورہ) آسرا ڈھونڈنا - مدد چاہنا۔  
سہارا ٹوٹنا - (۱) محاورہ) آس ٹوٹنا۔  
سہارا دینا - (۱) محاورہ) (۱) مدد کرنا - تقاضا (۲) ٹیک یا اڈا ڈھونڈنا۔  
سہارا ڈھونڈنا - (۱) محاورہ) وسیلہ تلاش کرنا - آسرا ٹھننا۔  
سہارا لینا - (۱) محاورہ) پناہ یا مدد لینا۔  
سہارا جو جانا - (۱) محاورہ) تقویت مل جانا - مدد مل جانا۔  
سہارا کرنا - (س - ہار - نا) برداشت کرنا - تحمل کرنا - گوارا کرنا۔  
سہاگ - (س - ہاگ) (ہ - ا - مذ) (۱) خاندان کی زندگی کا زمانہ (۲) خاندان کا پیار بخت - ناز و نیاز (۳) خوش نصیبی (۴) ایک قسم کا عطر (۵) ایک خاص گیت جو عورتیں شادی میں گاتی ہیں - وہ تمام چیزیں اور زیور جو سہاگ

سہرا نا۔ (سہ۔ را۔ نا) (۱) وہ (میں) مقدس چیز کو دریا میں بہانا۔  
 سہروردی۔ (سہر۔ ور۔ دی) (۱) دن۔ صفت (۱) نقرہ کا ایک گروہ حضرت شیخ  
 شہاب الدین ساکن سہرورد (ایران) کی طرف منسوب ہے۔  
 سہری۔ (سہ۔ ری) (۱) (۱) مٹ (۱) ایک قسم کی پھلی۔  
 سہسر۔ (سہ۔ سر) (۱) (۱) مٹ (۱) ہزار (۲) کوئی بڑا عدد۔  
 سہل۔ (سہ۔ ل) (۱) صفت (۱) آسان۔ سہج۔ نرم۔  
 سہل الحصول۔ (سہ۔ ل) صفت (۱) آسانی سے حاصل ہونے والا۔  
 سہل انگار۔ (سہ۔ ل) صفت (۱) سست۔ کاہل۔ آسانی پسند۔  
 سہل انگاری۔ (سہ۔ ل) صفت (۱) آرام طلبی۔ کاہلی۔ تن آسانی۔  
 بہانہ سازی۔

سہل متعین۔ (سہ۔ ل) صفت (۱) کسی شعر یا کلام کا اتنا آسان ہونا کہ اس سے  
 آسان کہنا ممکن نہ ہو۔

سہلانا۔ (سہ۔ لا۔ نا) (۱) (۱) مٹ (۱) آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا (۲) چمکانا۔  
 سہلنا۔ (سہ۔ ل) صفت (۱) آسان۔ سہج۔ نرم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہم۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہم جانا۔ (سہ۔ م) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

ہونے کی حالت میں عورتیں پہنتی اور استعمال کرتی ہیں (۶) ہم بستری  
 کی پہلی رات۔

سہاگ آترنا۔ (سہ۔ آ۔ تر۔ نا) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔  
 سہاگ پڑا۔ (سہ۔ آ۔ پ۔ را) (۱) (۱) مٹ (۱) خوف۔ ڈر۔ بیم۔

# س۔ ی

سیام۔ (رس۔ یام) (۵۔ صف) (۱) کالا۔ سیاہ (۲) کالی کوہلی (۳) ایک رنگی کا نام۔  
سیام برن۔ کالا رنگ۔ سیاہ نام۔ کالا۔  
سیان۔ (رس۔ یان) (۵۔ ۱۔ مذ) (۱) دانائی۔ ہوشیاری۔  
سیان پرت۔ (۵۔ ۱۔ صف) (۱) دانائی (۲) ہوشیاری۔ فریب (۳) کنجوسی۔  
سیال۔ (رسی۔ یال) (۵۔ ۱۔ مذ) (۱) خاندن۔ شوہر (۲) محبوب۔ بال (۳) سائیں۔ مالک۔ آقا۔  
سیال بھیہ کو تو ال اب ڈر کا ہے کا۔ (۱) مثل، جس کا رشتہ دار یا واقف کار حاکم ہو اسے تانوں کا ڈر نہیں ہوتا۔  
سیانا۔ (رس۔ یا۔ نا) (۵۔ صف) (۱) عقل مند۔ دانا۔ عالم (۲) ہوشیار۔ تیار۔ چالاک (۳) تعویذ گنڈا کرنے والا۔ عامل۔  
سیانا کو آگو گھاتا ہے۔ (۱) مثل، ضرورت سے زیادہ ہوشیار آدمی دھوکا کھاتا ہے۔  
ساوشان۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) ایک پودا جو ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔  
سیاہ۔ (رس۔ یا۔ ہ) (ف۔ صف) (۱) کالا (۲) شوم۔ بخش۔ منحوس۔  
سیاہ باطن سیاہ دل۔ (ف۔ صف) (۱) ریاکار۔ مکار۔ منافق۔ بد باطن۔  
سیاہ بخت۔ (ف۔ ۱۔ صف) بد نصیب۔ تقدیر کا ہیٹھا۔ بد بخت۔  
سیاہ پوش ہونا۔ (۱) محاورہ، مانتی (کالے) کپڑے پہننا سوگ کرنا۔  
سیاہ خانہ۔ (ف۔ ۱۔ صف) تاریک گھر۔ ویران مکان۔  
سیاہ روز۔ (۱۔ صف) مصیبت زدہ۔ مصیبت کا دن۔  
سیاہ رو۔ (۱) بددعا، کالے گندے ڈیل ڈھار۔  
سیاہ روٹی۔ (ف۔ ۱۔ صف) شرمندگی۔ وسوٹی۔  
سیاہ ڈببان۔ (ف۔ صف) وہ شخص جس کی بددعا جلد اثر کر جائے۔ بد زبان۔  
سیاہ سفید کرنا۔ (۱) محاورہ، منہ رکھ کر ہونا۔ جو چاہتا سو کرنا۔  
سیاہ خام۔ (ف۔ ۱۔ صف) کالا کھانا۔  
سیاہ کار۔ (ف۔ صف) (۱) بدکار۔ پانی۔ فاسق۔ فاجر (۲) گنہگار (۳) ظالم۔  
سیاہ کرنا۔ (۱) محاورہ، (۱) کالا کرنا (۲) کھنا۔ تھوہر کرنا (ظن آ یا مزاح)۔  
سیاہ کرو یا سفید۔ (۱) بول چال، جو جی چاہے کرو۔  
سیاہ گوش۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک چھوٹا درندہ جانور۔ بن بلاؤ۔  
سیاہ صمت۔ بد صمت۔ بد ہوش۔  
سیاہ مستی۔ بد ہوشی۔ بدستی۔ بے ہوشی۔  
سیاہنہ۔ (رس۔ یا۔ ہنہ) (ف۔ ۱۔ مذ) کچا کھانا۔ روزانہ چکر جس میں نقدی یا اجناس تاریخ دار درج ہو۔  
سیاہنہ آمدنی۔ (۱) خزانے کا روزانہ حساب (۲) ہر روز کی آمدنی کا حساب۔  
سیاہنہ دکھانا۔ (۱) محاورہ، فوج کی تعداد دکھانی ہر کرنا۔ جائزہ دینا۔  
سیاہنہ کرنا۔ (۱) محاورہ، کچے کھاتے میں کھنا۔ روز نامے میں درج کرنا۔  
سیاہنہ نویس۔ (ف۔ صف) کھاتے میں درج کرنے والا۔ روز نامے میں اندراجات کرنے والا۔  
سیاہی۔ (رس۔ یا۔ ہی) (ف۔ ۱۔ صف) (۱) کالا (۲) روشنائی جس سے

سی۔ دار۔ (۱) مٹا، چنگی لینے یا کوئی چیز کاٹ لینے یا سرچ کی جہن محسوس ہونے پر منہ سے نکلنے والی آواز (۲) [۵] سا کا موٹا، جیسی (۳) سینا کا امر۔ کثرت اور افراط ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ (سرمدی سی سرمدی)۔  
سی۔ (ف۔ صف) تیس۔ (۳۰)۔  
سی پارہ۔ قرآن شریف کو تیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ سی پارہ کہلاتا ہے۔  
سی۔ آئی۔ اے۔ (C.I.A.) (انگ۔ مذ) پولیس کا تفتیش برنامہ کا شعبہ۔  
سی۔ آئی۔ ڈی۔ (C.I.D.) (انگ۔ ۱۔ مذ) محکمہ تحفظ پولیس۔  
سے۔ سیدہ۔ ساہی۔ (۵۔ ۱۔ صف) (۱) غار پشت۔ ایک جانور جس کے جسم پر بڑے بڑے سیاہ دسیندگانٹے ہوتے ہیں۔  
سے۔ (۵۔ حرف جو) (۱) ابتدا یا شروع کے لیے جیسے گھر سے بازار تک میر سے شام تک (۲) "کی" کے معنی میں جیسے اُسے کھانے پینے سے کیا کمی ہے (۳) ٹیلنگ اور دوری ظاہر کرنے کے لیے جیسے ہم سے گیا جگ سے گیا (۴) مثل۔ مانند۔ جیسے تجھ سے ہزاروں۔  
سیات۔ (۵۔ ۱۔ مذ) سید کی جج۔ بڑیاں۔ بدیاں۔  
سیاح۔ (رسی۔ یاح) (۵۔ صف) مکوں کی سیر کرنے والا۔  
سیاحت۔ (رس۔ یا۔ حت) (۵۔ ۱۔ صف) سفر۔ سیر۔  
سیاحتی۔ (رسی۔ یا۔ حی) (۵۔ ۱۔ صف) سفر کرنا۔ سیر و سیاحت کرنا۔  
سیادت۔ (رس۔ یا۔ یت) (۵۔ ۱۔ صف) (۱) سرداری۔ بزرگی۔ امامت۔  
۱) سلطنت۔ حکومت۔ بادشاہی (۲) قوم سادات۔  
سیار۔ سیال۔ (رس۔ یار) (رس۔ یال) (۵۔ ۱۔ مذ) گیدڑ۔  
سیار۔ (رسی۔ یار) (۵۔ صف) پھرنے والا۔ سیر کرنے والا۔  
سیارہ۔ (رسی۔ یا۔ رہ) (۵۔ ۱۔ صف) گردش کرنے والا ستارہ۔ جج، ستارگان۔  
سیاست۔ (رس۔ یا۔ ست) (۵۔ ۱۔ صف) (۱) حکومت۔ سلطنت۔ ملکی انتظام (۲) رعب داب (۳) جھگی۔ گوش مالی۔ مزا۔  
سیاست مدن۔ (۵۔ ۱۔ صف) شہری انتظام۔  
سیاست کرنا۔ (۱) محاورہ، مزا دینا۔ تہنہ کرنا۔ گوشالی کرنا۔  
سیاستی۔ (رس۔ یا۔ سی) (۵۔ صف) (۱) ملکی انتظام کے متعلق (۲) سیاست سے تعلق رکھنے والا۔ جج، سیاستیں۔  
سیاسیات۔ (رس۔ یا۔ سیات) (۵۔ ۱۔ صف) (۱) علم سیاست (۲) سیاست سے تعلق رکھنے والی باتیں۔  
سیاق۔ (رس۔ یاق) (۵۔ ۱۔ صف) (۱) ربط معنوں (۲) حساب۔ گنتی حساب کے قاعدے (۳) دفتری اصطلاح (۴) سلسلہ احکام۔  
سیاق عبارت (کلام)۔ (۵۔ ۱۔ صف) ربط تحریر معنوں کا تسلسل۔  
سیال۔ (رسی۔ یال) (۵۔ ۱۔ صف) (۱) چہنے والا۔ ردال۔ رقیق۔ پتلا۔ مانع۔  
سیالا۔ (رس۔ یا۔ لا) (۵۔ ۱۔ صف) (۱) جانور۔ سوچ سمجھنا۔

کھا جاتا ہے (۳) تاریکی۔ اندھیرا (۴) کاہل (۵) دجستہ۔ کھیل (۶) کھیل دھیرہ کی ترتیب و ترکیب۔  
 کا ٹیٹھا۔

سیٹھ (۱۰-۱۔ مذ) (۱) دولت مند۔ امیر (۲) ساہوکار۔ جہاں۔ بڑا ناخبر (۳)  
 ایک عزت کا خطاب جو جنوں۔ بقاوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔  
 سیٹھ کیا جانے صابن کا بھاؤ۔ (۱) مثل (۲) جس شخص کو کسی چیز سے تعلق  
 نہ ہو۔ وہ اس کی قدر کیا جانے۔

سیٹھا۔ (رہی۔ ٹھا) (۵) صفت (بے مزہ۔ بے لذت۔ پھیکا۔  
 سیٹھانی۔ (رہے۔ ٹھانی) (۵) (۱) مٹ (۲) سیٹھ کی بیوی۔

سیٹھی۔ (رہی۔ ٹھی) (۵) (۱) مٹ (۲) ششکاری کے ساتھ منہ کی ہمیں آواز۔  
 (۲) پرنیوں کی آواز (۳) جیسے کی آواز (۴) ایک چھوٹا آلہ جسے منہ  
 سے بجاتے ہیں۔

سیج (۵) (۱) مٹ (۲) بستہ پھونکا۔ پٹنگ۔ چارپائی (۲) تازہ پھولوں کی چادر۔  
 سیج بند۔ پالوں سے پٹنگ کی چادر یا نڈھنے کی ڈوری۔  
 سیج پڑھتے ہی رائد۔ (۱) مثل (۲) بیابان کے بعد جلد بڑھ جانا۔

سیج پڑھنا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) پٹنگ کے ساتھ سونا (۲) پٹنگ پر قدم رکھنا۔  
 سیج (سیحان) سنوارنا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیج بچانا۔ پھونکا آراستہ کرنا۔  
 سیج کی کھی جھی بڑی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیج کی کھی جھی بڑی ہے (۲)  
 خلوت میں کسی کا دخل اچھا نہیں لگتا۔

سیجنا۔ (رہی۔ سیجنا) (۵) (۱) مٹ (۲) کھونٹا۔ کھونٹا (۲) پسینہ نکلنا۔ رسنا (۳) پگھلنا۔  
 (۴) قرض اُترنا۔

سیجنا۔ (رہی۔ سیجنا) (۵) (۱) مٹ (۲) کھونٹا۔ کھونٹا (۲) پسینہ نکلنا۔ رسنا (۳) پگھلنا۔  
 سیج۔ (۵) (۱) مٹ (۲) کھونٹا۔ کھونٹا (۲) پسینہ نکلنا۔ رسنا (۳) پگھلنا۔  
 سیج چا ہونا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیج چا ہونا (۲) بہت  
 ناراض ہونا۔

سیج پر لگانا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیج پر لگانا (۲) بہت  
 سنیچر۔ (سیج۔ پڑ) (۵) (۱) مذ (۲) چھوٹی سیج۔

سیجیا کباب۔ (رہی۔ برج۔ یا۔ ک۔ باب۔ ب) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیج کے کباب۔  
 سیند۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیند (۲) رسول اللہ کی دختر  
 حضرت فاطمہ کی اولاد۔ آل رسول۔

سید الانبیاء۔ سید البشر۔ سید السادات۔ سید المرسلین۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سید  
 نبیوں کے سردار۔ تمام انسانوں کے سردار۔ مرداروں کے سردار۔ رسولوں  
 کے سردار۔ القاب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔

سید الشہداء (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیدوں کے سردار۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت  
 امام حسین کا خطاب۔

سیدانی (سیدانی)۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیدانی (۲) قوم سادات کی عزت ریت کی بیوی  
 سیدۃ النساء۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیدۃ النساء (۲) عورتوں کی سردار۔  
 حضرت فاطمہ کا لقب۔

سیدہ۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیدہ (۲) سیدہ کی ضد (۲) ٹیک سانے کی طرف۔  
 (۳) نشانہ۔ برشت۔

سیدہ باندھنا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیدہ باندھنا۔ برشت لگانا۔  
 سیدہ میں۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیدہ میں (۲) بالکل سانے۔ ایک خط پر۔

سیاہی چٹ۔ سیاہی پوس۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیاہی چٹ۔ سیاہی پوس۔  
 سیاہی پڑھنا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیاہی پڑھنا۔ (۲) تاریکی کا اُفق پر نمودار ہونا۔ اندھیرا بھانا۔  
 سیاہی دھونا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیاہی دھونا۔ (۲) عیب دُور کرنا۔

سیاہی ردال ہونا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیاہی ردال ہونا۔ (۲) روشنی کا ایسا رتق ہونا کہ گھنے  
 میں قلم نہ دکھے۔

سیاہی فالیز۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیاہی فالیز۔ (۲) بے کار۔ آدمی۔

سیلب۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیلب۔ (۲) ایک شہور شروع و سفید شیریں پھل۔

سیلب زنگھال۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیلب زنگھال۔ (۲) خوش نما۔ چھوٹی اور خوب صورت ٹوٹری۔

سیلب۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیلب۔ (۲) ایک قسم کی دریائی مخلوق جس کے اندر سے موتی  
 نکلنے میں۔ صدف (۲) پرنیوں کی ایک بیماری (۳) ایک قسم کا پتل  
 گھل کا آتم۔ وہ آتم جو فصل میں سب سے پہلے پکتا ہے۔

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل  
 سیبسی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) سیبسی۔ (۲) ایک قسم کا پتل

سیر - (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) ہوا خوری۔ تفریح۔ چہل قدمی۔ گھومنا پھرنا (۲) تماشا کیفیت۔ نظارہ (۳) لطف۔ مزہ (۴) سیلا ٹھیلا۔ نمائش۔ پینٹ (۵) ہنسی۔ مذاق (۶) کتب بینی۔ ملاحظہ۔

سیر بین - (ف۔ صفت) سیر دیکھنے والا۔ نظارہ دیکھنے والا۔

سیر دکھانا - (۱) محاورہ) سیر دکھلانا۔ تماشا دکھانا۔ مزہ دکھانا۔

سیر دیکھنا - (۱) محاورہ) تماشا دیکھنا۔ بہار دیکھنا۔ لطف حاصل کرنا۔ مزہ چکھنا۔

سیر سپاٹا - (۱) مذ) گھومنا پھرنا۔ ہوا خوری۔

سیر گاہ - (دع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) تماشا گاہ۔ سیر دیکھنے کی جگہ۔ پرفضا مقام نظارہ گاہ۔

سیر و شکار - (دع۔ ف۔ ۱) جہاں پھرنے کے دوران حیوانات کا شکار کرنا۔

سیر - (ف۔ صفت) (۱) پیٹ بھرا۔ آسودہ (۲) بے پروا۔ مستغنی (۳) بے زار۔ دل برداشتہ۔

سیر چشم - (ف۔ صفت) (۱) قانع۔ صابر (۲) آسودہ حال (۳) سخی۔ داتا۔ قیاض۔

سیر حاصل - (ف۔ صفت) (۱) زرخیز۔ شاداب۔ سرسبز (۲) اچھی پیداوار کی زمین (۳) محض۔ تفصیلی۔

سیر ہونا - (۱) محاورہ) (۱) نینت بھرنا۔ پیٹ بھرنا (۲) بے زار ہونا۔ (۳) بے پروا ہونا۔

سیر - (دع۔ ۱۔ مذ) (۱) سولہ چھٹانک یا آستی تو لے کا وزن۔

سیر کو سوا سیر موجود ہے - (۱) مثل) ایک زبردست کے مقابلے پر اس سے بھی زیادہ زبردست اور طاقتور موجود ہے۔ ہر فرعونے راہوئی۔

سیر کی ٹانڈی میں سوا سیر بڑا اور اٹل گیا۔ (۱) مثل) کم ظرف یا کینڈے آدمی تھوڑی سی دولت یا معمولی سا اقتدار لٹے ہی آپے سے باہر ہو گیا۔

سیر دل لہو بڑھنا - (۱) محاورہ) (۱) خوشی اور انبساط کے باعث جسم میں بہت سا خون پیدا ہو جانا (۲) بڑی تقویت ہو جانا۔

سیر - (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) کاشت کاری (۲) اراضی جو زمیندار کے زیر کاشت ہو (۳) شریک۔ جھتہ دار۔

سیر - (ف۔ ۱۔ مذ) ہنس۔

سیر - (س۔ یر۔ دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) سیرت کی جمع۔ عادتیں۔ خصلیں (۲) علم تاریخ۔

سیرا - (ف) سیر کرنے والا۔ پھرنے والا۔

سیرا - (س۔ یر۔ دع۔ ۱۔ مذ) (۱) پتلا حلوہ (۲) گل کا پتلا شیرا۔ جوتبا کو دینرو میں ڈالا جاتا ہے۔ راب۔

سیراب - (سے۔ راب) (ف۔ صفت) (۱) پانی سے بھرا ہوا۔ لب ریز۔ (۲) تروتازہ۔ سرسبز شاداب۔ زرخیز (۳) چھا ہوا۔ چھلکا ہوا۔

سیرابی - (ف۔ ۱۔ مٹ) نمی۔ تری۔ شادابی۔ تروتازگی۔

سیرت - (س۔ یرت) (دع۔ ۱۔ مٹ) (۱) عادت۔ خصلت (۲) گن۔ وصف۔ مہز۔

سیر وا - (سیر۔ وا) (دع۔ ۱۔ مذ) چار پائی کے سرانے اور بائٹھی کی کڑی۔

سیری - (سے۔ یر) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) آسودگی۔ اطمینان۔ استغنا۔ بے پروائی

سیدھا - (س۔ یر۔ دح) (دع۔ ۱۔ صفت) (۱) راست۔ مستقیم۔ کھڑا۔ جمودی یا عمودوار (۲) آسان۔ سہل (۳) سامنے (۴) درست۔ ٹھیک۔ باقاعدہ (۵) حسب مرضی۔ موافق (۶) مساعد (۷) جھولا۔ سچا۔ کھرا۔ نیک یا مائندار (۸) کچی خوراک۔ آٹا۔ دال گھی وغیرہ (۹) دایاں۔ داہنا (۱۰) جس میں بل نہ ہو۔

سیدھا آٹا - (۱) محاورہ) (۱) براہ راست آٹا۔ سامنا کرنا۔ سامنے آنا۔

سیدھا بنانا - (۱) محاورہ) (۱) ٹھیک بنانا۔ مزادینا۔ درست کرنا (۲) کچی دودھ کرنا۔ راست بنانا (۳) تربیت دینا۔ راہ پر لانا۔

سیدھا پن - (دع۔ صفت) جھولاپن۔ سادگی۔

سیدھا تیرسا - (دع۔ صفت) بالکل سیدھا۔

سیدھا جنت میں جانا - (۱) محاورہ) یقینی مغفرت ہونا۔

سیدھا جواب - (۱۔ مذ) (۱) وہ جواب جو پیچیدہ الفاظ میں نہ ہو۔ صاف انکار۔

سیدھا جواب دینا - (۱) محاورہ) (۱) ایسا جواب دینا جس میں پیچیدگی نہ ہو (۲) صاف انکار کر دینا۔

سیدھا رہنا - (۱) محاورہ) (۱) سرفاق رہنا۔ ہریان رہنا (۲) ٹھیک سے رہنا۔

سیدھا (سادہ) سادھا - (۱) صفت) (۱) سادہ وضع۔ سادہ مزاج (۲) جھولا بھالا۔

سیدھا کرنا - (۱) محاورہ) (۱) کچی دودھ کرنا۔ ہموار کرنا (۲) راہ راست پر لانا۔

سیرا پیٹ کر ٹھیک بنانا۔ گوشالی کرنا۔

سیدھا کھرا راستہ لینا - (۱) محاورہ) فوراً چلے جانا۔

سیدھا لاکھ - (۱۔ مذ) داہنا لاکھ۔

سیدھی - (س۔ یر۔ دح) (دع۔ ۱) صفت) سیدھا کی تائیت۔ راست۔ ٹھیک۔

سیدھی آنکھ - (۱) مٹ) (۱) دائیں آنکھ (۲) عنایت کی نظر۔

سیدھی آنکھ نہ بھانا - (۱) محاورہ) نہایت ناپسند ہونا۔

سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا - (۱) مثل) ملائمت اور نرمی سے ہر کام نہیں بنتا۔

سیدھی چال چلنا - (۱) محاورہ) سیدھی راہ چلنا۔ سلامت روی اختیار کرنا۔

سیدھی راہ سے پھرنا - (۱) محاورہ) گمراہ ہونا۔

سیدھی (سیدھیان) سنانا - (۱) محاورہ) (۱) صاف صاف کہنا۔ بے لاگ کہنا (۲) بے دھڑک گالیاں دینا۔ بے نقط سنانا۔

سیدھی سی بات - (۱) مٹ) معمولی سی بات۔ وہ بات جس میں کوئی بیچ نہ ہو۔

سیدھی گالی - (۱) مٹ) صاف گالی۔

سیدھی نظر رکھنا - (۱) محاورہ) ہر پائی کی نظر رکھنا۔ کرم کا برتاؤ رکھنا۔

سیدھے دن آنا - (۱) محاورہ) اچھے دن آنا۔ اقبال نادر ہونا۔

سیدھے سبھاؤ - (۱) متعلق فعل) صاف دلی سے۔ سادگی سے۔ ایماندار سے۔

سیدھے منہ بات نہ کرنا - (۱) محاورہ) بے نرمی سے بات کرنا۔ التفات نہ کرنا۔ قہر نہ کرنا۔

سیدھے منہ سے چھوٹو - (۱) محاورہ) اچھی طرح بلولہ کھل کر بات کر دو۔

سیدھی - (ف۔ ۱۔ مذ) میٹھی۔



سلیزمین (Salesman) - (انگ - ۱) مذ - بیچنے والا - دکان کے ملازم جو گاؤں کے ہاتھ چیزیں بیچیں۔  
 سِل - (Seal) (انگ - ۱) مذ - (۱) ہر چھاپ - چھٹا (۲) ایک قسم کی بھجلی - سبگ ماہی - دریائی کھجڑا۔  
 سِل کرنا - (۱) عمارت - (۲) ٹھہر لگانا۔  
 سِل - (۳) مذ - (۱) چھوٹا میز (۲) تیر (۳) ایک قسم کی بھجلی۔  
 سِل - (۴) مذ - (۱) تری - فی - رطوبت (۲) شرم - جیا (۳) ٹھنڈی سردی (۴) عادت - خصلت - سیرت۔  
 سیلا - (سی - لا) (۴) ص - صم - م دار بھیجکا ہوا۔ ترنگیلا۔  
 سیلا - (سے - لا) (۵) مذ - (۱) سر پر باندھنے کا ریشمی ماریا لنگی (۲) ایک قسم کا چاول (۳) شیر بہر (۴) اُٹھے ہوئے چاول۔  
 سیلاب - (سے - لاب) (۱) مذ - پانی کی رو - طغیانی - پانی کا پڑھاؤ۔  
 سیلاب پچی - (ف - اب) (۱) مذ - گلن - پشت - ہاتھ مٹھ دھونے کا برتن۔  
 سیلان - (سے - لان) (۱) مذ - کسی پتلی چیز یا پانی کا جاری ہونا۔  
 سیلان الترمم - ایک بیماری جس میں عورت کے دم سے رطوبت بہتی رہتی ہے - میکوریا۔  
 سیلانی - (سے - لا - نی) (۱) مذ - سیریں کرنے والا - زیادہ گھومنے پھرنے والا۔  
 سیلانی جوڑا - (۱) مذ - ایسا شخص جو یہود و مشرکین سے منسوب ہو۔  
 سیلانی فقیر - (۱) مذ - رستا ہوگی - جہاں گرد و روغن۔  
 سیلف گورنمنٹ - (انگ - ۱) مذ - حکومت خود اختیاری۔  
 سیل کھڑی - (سِل - کھ - ڈی) (۱) مذ - ایک قسم کا پتھر جسے پیس کر زخموں پر پھرتے ہیں - سبگ براحت۔  
 سیلین - (۱) مذ - تری - فی۔  
 سینا - (سِل - نا) (۱) ص - م - گیلہ ہونا - نم ہونا - تر ہونا۔  
 سیلون - (Saloon) (سے - لو - ن) (انگ - ۱) مذ - (۱) دھولوں یا قہوہ خانوں کا بڑا کمرہ (۲) جہاز کا سب سے بڑا کمرہ (ریل یا ہوائی جہاز میں) مسافروں کا کمرہ (امریکہ میں) شراب خانہ (یورپ میں) میلوں میں کمرہ ملاقات - بیٹھک - دیوان خانہ۔  
 سیلون کار - (انگ - ۱) مذ - ایسی ریل گاڑی جس کی بناوٹ ایک وسیع کمرے جیسی ہو۔  
 سیلیوٹ - (Salyut) (انگ - ۱) مذ - روسی خلائی تجربہ گاہ - روسی خلائی شیشن جو ۲۴ ستمبر ۱۹۷۷ء کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا وزن ۹۴۰ پونڈ ہے۔  
 سیلی - (سے - لی) (۱) مذ - (۱) جالی (۲) جالی (۳) پیٹ اور سینے پر بالوں کی سیدھی کبیر (۴) سیاہ بالوں کی ڈوری یا تار کے خواہ ریشم کی وہ لڑی جو ہند و تھریگے میں ڈالے رہتے ہیں۔  
 سیلی - (سے - لی) (۱) مذ - (۱) بیٹھ - چائٹا (۲) دھب -  
 سیسم - (۱) مذ - (۱) ایک قسم کی ترکاری (۲) زمین کی کھار - جو زمین کے اندر پانی کی سطح بلند ہوجانے سے پیدا ہوجاتی ہے۔  
 سیسم زدہ - وہ زمین جسے کھار ناقابل کاشت بنا دے۔

سیسم - (۱) مذ - (۱) پانڈی - نفرو (۲) دولت - روپیہ۔  
 سیسم سن - (۱) پانڈی سیسی سفید جلد والا - گورا پتلا (۲) حسین خوبصورت (۳) مستحق۔  
 سیسا - (سی - سا) (۱) مذ - (۱) ماٹھا - پیشانی (۲) چہرہ - منہ۔  
 سیساب - (سی - تاب) (۱) مذ - پارہ۔  
 سیسبانی - (سی - ما - بی) (۱) ص - صف - سیساب سے منسوب۔  
 سیسبالی بادپیمیا - (Mercurial Barometer) پار سے دار میناس الہوا۔  
 سینپل - (Sample) (انگ - ۱) مذ - نمونہ۔  
 سیسٹرن - (سی - ٹرن) (۱) مذ - ایک بڑا خلیا پرند جس کا وطن کوہ قاف بتایا جاتا ہے اور جس کا ذکر پڑانے افغانوں میں آتا ہے۔  
 سیسل سینجیل - (سے - سل) (سیس - بیجل) ایک بڑا خار دار درخت جس سے ایک قسم کی روٹی نکلتی ہے۔  
 سیمینٹ - (Cement) (س - منٹ) (انگ - ۱) مذ - ایک قسم کی لیمے کا سالہ جس سے اینٹوں اور پتھروں کو جوڑتے ہیں۔  
 سیسیا - (سیس - یا) (۱) ص - سٹ (۲) علم ظہن جس کے ذریعے روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کر سکتے ہیں اور ایسی اشیاء جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو لوگوں کو دکھاسکتے ہیں۔ (۳) جادو۔  
 سیسی فائنل - (Semi-Final) (سی - بی - ف - نال) (انگ - ۱) مذ - وہ کھیل جو آخری کھیل سے پہلے کھیلا جاتا ہے۔  
 سیسین - (سی - زین) (۱) ص - صغ - چاندی کا - تقری۔  
 سینین - (۱) مذ - (۱) مسٹ - آنکھ مارنا - رمز - علامت - نشان۔  
 سینین - (انگ - ۱) مذ - (۱) منظر - نظارہ (۲) ڈرامے کا ایک منظر یا جگہ - تصدیق کا پردا۔  
 سیننا - (سے - نا) (۱) ص - فو - فو - لشکر - سپاہ۔  
 سیننا پتی - (۱) مذ - فو - فو - کمانڈر - سپہ سالار۔  
 سیننا - (سے - نا) (۱) ص - مس - انڈوں کو گرمی یا سینک پھینانا - پرند کا بچے نکالنے کے لیے انڈوں پر بیٹھنا۔  
 سیننا - (سی - نا) (۱) ص - عکب شام کا پہاڑ طور سیننا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتانی اور شرف ہم کلامی حاصل ہوا تھا۔  
 سیننا - (سی - نا) (۱) ص - ماس - گانگے لگانا - بیڑہ لگانا۔  
 سیننت - (۱) ص - (۱) مننت - بلا قیمت - بن داموں (۲) ناحق۔  
 سیننت رکھنا - (۱) ص - ماس (۲) مخالفت سے رکھنا (۳) ملتوی رکھنا۔  
 سینتالیس - (سین - تالیس) (۱) ص - چالیس اور سات - ۳۴۔  
 سینتانا - (سینت - نا) (۱) ص - ماس - مخالفت سے رکھنا (۲) جمع کرنا - جوڑنا۔  
 سینتوی رکھنا (۱) ص - اصلاح کرنا (۲) پاختانہ صاف کرنا۔  
 سینتیس - (سین - تیس) (۱) ص - تیس اور سات (۳۴)۔  
 سینٹ - (Scent) (انگ - ۱) مذ - بھگ - خوشبو - عطر۔  
 سینٹ - (Saint) (انگ - ۱) مذ - سنت - ولی - رشی - بزرگ - دلشیز۔  
 سینٹر - (Centre) (س - نٹر) (انگ - ۱) مذ - مرکز - دائرے کا وسطی نقطہ۔  
 سینٹری - (Sanitary) (س - نٹر - ٹ) (سی - انگ) (۱) ص -

دغیرہ دُور کرنے کے لیے بدن پر لگا کر منہ سے بدن کی گرمی جوتے ہیں۔  
 (۲) ایک قسم کی پھیل۔  
 سینکیال لگانا۔ (۱) محاورہ) انسان کے جسم پر پچھنے لگا کر سینگی کے ذریعے خون پُوستنا۔  
 سینئہ۔ (سی۔ نہ) (ن۔ ا) مذ) چھاتی۔ صدر۔ سامنے کے رخ پر گردن اور پیٹ کا درمیانی حصہ پُجم۔  
 سینئہ (اُبھار) تان کر چلنا۔ (۱) محاورہ) تن کر چلنا۔ عذر سے اُترا کر چلنا۔ اُترا کر چلنا۔  
 سینئہ افکار یا فکار۔ (ن۔ صف) (۱) زخمی سینے والا (۲) رنجیدہ۔  
 کبیدہ۔ (۳) رکتا، عاشق۔  
 سینئہ بسینئہ۔ (ن۔ متعلق فعل) وہ راز جو ایک خاندان میں بڑوں کی زبان یا چھوٹوں کو منتقل ہوتے رہیں (۲) مقابل میں۔  
 سینئہ بند۔ (ن۔ ا) مذ) (۱) ایک پریش جیسے کو گرم رکھنے کے لیے پہننے ہیں (۲) انگیا (۳) گھوڑے کی پیٹی۔  
 سینئہ پھیننا۔ (۱) محاورہ) بہت بڑا صدمہ گزنا۔ برداشت نہ کر سکا۔  
 سینئہ پیٹنا۔ (۱) محاورہ) چھاتی کو ٹٹنا۔ ماتم کرنا۔  
 سینئہ ہلنا۔ (۱) محاورہ) دل پر صدمہ ہونا۔ غم ہونا۔  
 سینئہ جاک ہونا۔ (۱) محاورہ) صدمے کے مارے چھاتی کا چھٹ جانا۔ بہت زیادہ غم کرنا۔  
 سینئہ زرن (کوب)۔ ماتم کرنے والا چھاتی کو ٹٹنے والا۔  
 سینئہ زور۔ (ن۔ صف) سرکش۔ دھینگا۔ دھینگا کرنے والا۔ زبردست۔ طاقت ور۔  
 سینئہ زوری۔ (ن۔ ا) مٹ) سر زوری۔ زبردستی کرنا۔ سرکشی۔  
 سینئہ سپر ہونا۔ (۱) محاورہ) خطر یا غم کے موقع پر ڈرنا رہنا۔ خطرناک حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔  
 سینئہ سوختہ (سوز)۔ (ن۔ صف) رنجیدہ۔ کبیدہ۔  
 سینئہ شق ہونا۔ (۱) محاورہ) سخت صدمہ پہنچنا۔  
 سینئہ صاف۔ (ن۔ صف) صاف دل۔ بے کینہ۔ بے کپٹ۔  
 سینئہ کاوی۔ (ن۔ ا) مٹ) سخت کوشش۔ بہت زیادہ شقت۔  
 سینئہ کوبی۔ (ن۔ صف) چھاتی پیٹنا۔ ماتم کرنا۔  
 سینئہ پر پچھ (رسل) رکھنا۔ (۱) محاورہ) صبر کرنا۔ ضبط کرنا۔ برداشت کرنا۔  
 سینئہ پرسانپ لوٹنا۔ (۱) محاورہ) سخت رنج ہونا۔ بہت صدمہ پہنچنا۔  
 سینئہ میں آگ لگانا۔ (۱) محاورہ) سخت رنج و غم یا صدمہ ہونا۔  
 سینئہ پر ماتھ دھرنا۔ (۱) محاورہ) دل کو تسلی دینا۔ اضطراب کو روکنا۔  
 سینئہ سے لگانا۔ (۱) محاورہ) چھاتی سے پشاننا۔ پیار کرنا۔  
 سینئہ میں نیچے لگانا۔ (۱) محاورہ) اضطراب ہونا۔ بے چینی ہونا۔  
 سینئہ میں سانس نہ سمانا۔ (۱) محاورہ) بڑی طرح لا پٹنا۔ دم اُٹھنا۔  
 سینئہ کا اُبھار۔ (۱) مذ) عورتوں کی چھاتیوں کی نمود۔  
 سینئہ۔ (سی۔ نی) (ن۔ ا) مٹ) دھات کا بنا ہوا خون پاشتی۔  
 سینئہ رنی۔ (سی۔ نی) (ن۔ ا) مٹ) (۱) رنی۔ (۲) (انگ۔ ۱) مذ)

حفظان صحت کے متعلق (۲) صحت افزا۔  
 سینٹری انسپکٹر۔ (Sanitary Inspector) داروغہ صفائی۔  
 صفائی کا معیار کرنے والا عہدہ دار۔  
 سینٹنا۔ (۱) معص) آبپاشی کرنا۔ کھیتوں کو پانی دینا۔  
 سینٹنا۔ (ن۔ صف) پانی نکالنا۔  
 سینٹنا۔ (ن۔ ا) مٹ) جنگلی کھجور۔  
 سینٹور۔ (سی۔ ن) (ن۔ ا) مذ) سُرخ رنگ کا ایک سُٹوف جسے ہندو عورتیں مانگ میں بھرتی ہیں۔  
 سینٹور کھانا۔ آواز بند ہونے کی دوا کھانا۔  
 سینٹوریا۔ (سی۔ ن) (ن۔ ا) مذ) سینٹور کے رنگ کا۔ لال۔ سُرخ (۲) ایک قسم کا آتم۔  
 سینٹھ۔ (۱) مٹ) نقب۔ وہ سُرخ جو چوری کرنے کے لیے دیوار میں کیا جائے۔  
 سینٹھ لگانا۔ (۱) محاورہ) نقب لگانا۔ نقب زنی۔  
 سینٹھا۔ (سی۔ ن) (ن۔ ا) مذ) پہاڑی ٹنگ جو دریائے سندھ کے قریب پہاڑیوں سے نکالا جاتا ہے۔  
 سینٹھی۔ (سی۔ ن) (ن۔ ا) مٹ) کھجور کا رس۔  
 سینڈل۔ (سی۔ ن) (ن۔ ا) مذ) چیل۔  
 سینڈ وچ۔ (Sandwich) (سینڈ۔ وچ) (انگ۔ ۱) مذ) ڈبل ٹی کے دو توس جن کے بیچ میں گوشت انڈے یا سبزی رکھی گئی ہو۔  
 سینئری۔ (Scenery) (سی۔ ن) (انگ۔ ۱) مٹ) (۱) ڈرامہ وغیرہ کے پردے اور دیگر لوازم جن کے باعث کھیل کے فرضی واقعات اصلی معلوم ہوں (۲) منظر۔ نظارہ۔  
 سینک۔ (۱) مٹ) (۱) بھارڈ کی تیلی (۲) فلال (۳) تنور کا گڑ۔  
 سینک سُٹر پے تو لالہ جی کے ساتھ گئے۔ اب تو دیکھو اور کھا ڈ۔ (مٹ) اب آگے سے بھی زیادہ کنایت شکاری کرو۔  
 سینک۔ (۱) مذ) (۱) گرمی پیش (۲) وہ دوا جس سے ورم یا درد کی جگہ گرمی پہنچاتے ہیں (۳) سینکنے کا عمل۔  
 سینکننا۔ (سینک۔ نا) (ن۔ صف) آگ سے گرم کرنا۔ گرمی پہنچانا۔  
 سینکنیا۔ (سینک۔ یا) (ن۔ ا) مذ) ایک جالی دار کپڑا۔ ڈوریا۔  
 سیننگ۔ (۱) مذ) (۱) لوگ دار ہڈی جو حیوانات کے سروں پر نکلی ہوتی ہے۔ شاخ حیوان (۲) کوئی خاص علامت۔  
 سیننگ سمانا۔ (۱) محاورہ) (۱) پناہ ملنا۔ آسرا ملنا (۲) گڑ ہونا۔ موقع ہونا۔  
 سیننگ کٹنا کپچھروں میں ملنا۔ (۱) محاورہ) بڑی عمر کے آدمی کا کم سروں کی صحبت میں شریک ہونا۔ بوڑھوں کا نوجوانوں کی سی وضع بنانا۔  
 سیننگ نکلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) جانور کا جوان ہونا (۲) دکھنا یا پگل ہونا۔  
 سیننگ۔ (۱) مٹ) (۱) مذ) (۱) بارود رکھنے کا سیننگ (۲) سیننگ کا باجا جو منہ سے بگل کی طرح بجایا جاتا ہے۔  
 سیننگڑی۔ (سینگ۔ ڈی) (ن۔ ا) مٹ) بول کی پھیل۔  
 سیننگنا۔ (سینگ۔ نا) (ن۔ صف) مسردہ مویشی شناخت کرنا۔  
 سیننگلی۔ (سی۔ ن) (ن۔ ا) مٹ) (۱) سوراخ کیا ہوا سیننگ جسے سیننگ درد



(۲) وہ شخص جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔  
 سیوٹرا۔ (سیو۔ ٹرا) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) جین ممت کا سادھو۔ جو اپنا منہ  
 باندھے رکھتا ہے۔  
 سیلوک۔ (سے۔ ڈک) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) (۱) نوکر۔ خدمتی۔ خدمت گار۔ چاکر۔  
 (۲) بچاری۔ جگت۔ عابد (۳) مرید۔ چیللا۔  
 سیلون۔ (سی۔ ون) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) (۱) سلائی (۲) انسانی جسم میں آلت تناسل  
 اور ڈبر کی درمیانی جگہ کا جوڑ۔  
 سیونگ بینک۔ (Saving Bank) (سے۔ ڈنگ۔ بینک)  
 (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) عوام کی بچت کا روپیہ امانت رکھنے والا ادارہ۔  
 سیسہ۔ (سی۔ یے) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) سیاہ کا محقق۔ کالا (۲) نمس۔ بد۔  
 سیسی۔ (سے۔ ہی) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) ایک جانور جس کے تمام بدن پر کانٹے  
 ہوتے ہیں۔  
 سیستات۔ (سی۔ آت) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) سیسٹہ کی جمع : بُرائیاں۔  
 سیسٹہ۔ (سی۔ آت) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) بُرائی۔ بدی۔ گناہ۔

افہلیت۔ فوقیت۔ تقدم (۲) پُرانا ہونے کی خصوصیت۔  
 سینٹ۔ (Senate) (سے۔ نیٹ) (انگ۔ ۱۔ مٹ) (۱)  
 مجالس وضع قوانین کا دوسرا یا اعلیٰ ایوان (۲) مجلس قانون ساز۔  
 سینٹیئر۔ (Senator) (سے۔ نے۔ ٹر) (انگ۔ ۱۔ ۱۔ مذ) سینٹ کا  
 ممبر۔ متفق۔ راجع قوانین۔  
 سینئر۔ (Senior) (سی۔ نی۔ آر) (انگ۔ صغ) برتر۔ بڑا۔  
 عمر ہند سے یا رتبے میں بڑا۔  
 سیوا۔ (سے۔ وا) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) (۱) خدمت۔ چل۔ (۲) تلاوت۔ ڈگری۔  
 سیوار۔ (سے۔ وار) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) (۱) مٹ) ایک قسم کی گھاس جس سے شکر صاف  
 ہوتی ہے۔  
 سیواری۔ (سے۔ وا۔ ری) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) (۱) مٹ) ایک قسم کی شکر جو سیوار گھاس  
 سے صاف کی جاتی ہے۔  
 سیوتی۔ (سیو۔ تی) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) (۱) سیند گلاب (۲) فستق۔  
 سیورا۔ (سیو۔ را) (۱۔ ۵۔ ۱۔ مذ) مٹی کا بنا ہر پکا لیکن اندر سے کچا برتن۔

## ش

ش- (شین) [ع- مذ] اردو کا انیسواں - فارسی کا سوٹھواں - عربی کا تیرھواں - اور ہندی کا تیسواں حرف - حساب الجبر میں اس کے تین سو عدد مقرر ہیں۔ پرتھی حرف ہے عربی ترکیب کے مطابق اگر اس سے پہلے "ال" آئے گا تو لام پولا نہیں جائے گا بلکہ شین کو مستند کر دے گا جیسے الشمس۔ ہندی اور سنسکرت میں "س" اور "کھ" کا بدل ہے جیسے دیس، دیش اور برکھا، برشا۔

## ش-۱

شباب - [ع- مذ] جوان جو بیس برس سے چالیس برس تک کا آدمی۔  
 شاب - [ف- ۱- امث] پھٹکری۔  
 شاب - [ق- ۱- مذ] (۱) جھک۔ رونق (۲) مشابہت (۳) شہاب۔  
 شاباش - (شاباش) [ف] (کلمہ تحسین) شاباش کا مخفف) مرجا - آفرین خوش رہو۔ کیا کہنا۔ طنزاً کلمہ نغزین۔  
 شاباش دینا - (۱- محاورہ) آفرین کہنا۔ حوصلہ بڑھانا۔  
 شاباشی - [ف- ۱- امث] تعریف تحسین - آفرین - مرجا۔  
 شاباں - [ق- ۱- مذ] شاب کی جمع۔  
 شابش - (شابش) [ف] شاباش کا مخفف - تعریف۔  
 شاب - (Shop) [انگ- ۱] دکان - کارخانہ۔  
 شاپ کیپر - (Shop Keeper) (انگ- ۱- نم) دکان دار بخرو فروش بڑگانر شاپور - (شاپور) [ف- ۱- مذ] بادشاہ کا بیٹا۔  
 شاپ بزرگ - (امث) گالی بیسنے والا۔ بڑا جھلاکتے والا۔  
 شاپ گن - (Shot Gun) - (شاپ گن) [انگ- ۱- امث] وہ بندوق جس میں چھو چلایا جلتے۔  
 شاپ - [ف- ۱- امث] (۱) ٹہنی ڈالی (۲) جانوروں کا سینگ (۳) جھگڑا۔  
 شاپ - (۴) جانوروں کی گنتی کا طریقہ (۵) عجیب نقص (۶) کمان کی لکڑی۔  
 (۷) ہنر - خوبی - (۸) ایک قسم کا قلم جو میدے کے خیر اور کھانڈ کو ملا کر بنائے ہیں (۹) چھوٹی نہر جو پوری نہر سے نکلے۔ (۱۰) نسل - اولاد (۱۱) مرغ کا کاٹا۔  
 شاپ آہو - (غزال) [ف- ۱- امث] (۱) ہرن کے سینگ (۲) انوکھی بات۔  
 شاپچو - (ت- ۱- صف) (۱) چھوٹی شاپ (۲) تمہت - ہتیاں۔  
 شاپخیر ہندی - (ت- ۱- امث) درخت میں قلم لگانا - (۲) تمہت لگانا۔  
 شاپخ زار - (ف- ۱- صف) شنی والا - سینگ والا۔  
 شاپخ در شاپخ - (ف- ۱- صف) بہت سی شاخوں والا پھل چیدہ - بہت لمبا۔  
 شاپخ دربا - (ف- ۱- صف) دریا کا وہ حصہ جو دھار سے سے جدا ہو کر دوسری طرف بے۔  
 شاپخ زعفران - (ف- ۱- صف) (۱) انوکھا عجیب (۲) مغرور خود نما۔  
 شاپخ سار - (صف) (۱) بہت سی ٹہنیوں والا (۲) درختوں کا جھنڈ۔

شاشناہ - (ت- ۱- مذ) (۱) باتوں کا سلسلہ (۲) حجت تکرار بحث (۳) جھگڑا - (۴) رخصت - عجب (۵) بگمان (۶) دم - فریب - (۷) بات کا پہلو (۸) جید - خورد نمائی۔  
 شاشناہ کھڑا ہونا - (۱- محاورہ) جھگڑا نکلتا۔ فتنہ برپا ہونا۔ رخصت ہونا۔  
 شاپخ لگانا - (۱- محاورہ) (۱) ٹہنی لگانا (۲) سیکنگ لگانا (۳) ایک کام کے ساتھ دوسرا کام لگانا۔  
 شاپخ نیات - (ف- ۱- امث) (۱) وہ لکڑی جو مہری کا گوزہ بنانے کے لئے اس کے آبخوے میں لٹکا دیتے ہیں (۲) مہری کی ڈلی۔  
 شاپخ لگانا - (۱- محاورہ) (۱) ٹہنی لگانا (۲) سینگ پیدا ہونا۔ (۳) عجب لگانا (۴) جھگڑا لگانا - تکرار کرنا۔  
 شاپخیں لگانا - (۱- محاورہ) قلمیں لگانا۔ درخت کی ٹہنیاں لگانا۔ (۲) قلمیں لگانا۔  
 شاپخیں لگانا - (۱- محاورہ) عجب لگانا۔ نقص ظاہر کرنا (۲) نقص لگانا۔ حجت تکرار کرنا (۳) درخت کا ٹہنیاں لگانا۔  
 شاد - [ف- ۱- صف] خوش - مسرور - بے غم۔  
 شاد باش - (کلمہ تحسین) (۱) شاباش - آفرین - خوش رہو۔  
 شاد بایز زین تن - ناشاد بایز زین تن (ت) مثل زندگی اچھی ہو یا بُری گزارنی پڑتی ہے۔  
 شاد کام - (ف- ۱- صف) بامراد - کامیاب - خوشحال۔  
 شاد ماں - (ف- ۱- صف) خوش و خرم۔  
 شاداب - (شاداب) [ف- ۱- صف] (۱) سرسبز - ہرا بھرا - تر و تازہ (۲) سیراب - پانی سے بھرا ہوا۔  
 شادابی - (شادابی) [ف- ۱- امث] (۱) سیرابی (۲) تر و تازگی - سرسبزی۔  
 شاد اداں - (شاد اداں) [ف- ۱- صف] خوش حال - خوش۔  
 شاداں و فرحان - (ف- ۱- صف) خوش خوش - لیکن۔  
 شادام از زندگی خوشش کہ کار سے کروم - (ف- ۱- مثل) میں اپنی زندگی سے خوش ہوں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔  
 شادای - (شادای) [ف- ۱- امث] (۱) خوشی (۲) عید - تیوار - جشن (۳) بیابان۔  
 شادای خانہ آبادی - (ت- ۱- امث) بیابان کر کے گھر آباد کرنا۔  
 شادای کرنا (رجحان) - (۱- محاورہ) (۱) بیابان کرنا (۲) جشن کرنا خوش کرنا (۳) جانور چمکانا۔  
 شادای مرگ - (ف- ۱- امث) صاف - ایسی موت جو حد سے زیادہ خوشی سے واقع ہے۔

**شاعر** - (شاعر) [ف-۱-۱] وہ رُدی جو دوامیں بھگو کر اکھوں پر رکھتے ہیں (۲) وہ بتی جو دوامیں بھگو کر زخمیں دیتے ہیں (۳) دو ایاصن کی بتی جو ڈبریں پاجانہ آنے کے لیے لگی جاتی ہے۔

**شانی** - (ع-صفت) (۱) صحت یا شفا دینے والا۔ (۲) تسکین دینے والا۔ (۳) شہ رخ کرنے والا (۴) صفت فیصلہ کن قطعی۔

**شانی جواب** - (ع-۱-۱) مذہبک اور درست جواب۔ ایسا جواب جس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو۔

**شانی مطلق** - (ع-۱-۱) مذہبک خدائی۔

**شائق** - (ع-صفت) (۱) مشکل دشوار۔ (۲) دو بھر ناگوار۔

**شائق گزارنا** - (۱) محاورہ ناگوار معلوم ہونا۔ بُرا لگنا۔

**شاقول** - (شاقول) [ع-۱-۱] مذہب معماروں کا ساہول جس سے دیوار کی سدھائی دیکھتے ہیں۔ سابل۔

**شاقہ** - (شاق) (قہ) [ع-صفت] سخت مشکل دشوار۔

**شاگرد** - (ع-صفت) (۱) شاگرد شاگرد شکر کرنے والا (۲) صاحب خانہ شاگرد کو شکر توڑی کو گھر (مثلاً) شکر کرنے والے کو نعمتیں ملتی ہیں اور موزی کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔

**شاکل** - (ع-۱-۱) مذہب مشابہت (۲) سفیدی جو کانوں اور کینٹی کے درمیان ہوتی ہے۔

**شاکلی** - (شاکلی) [ع-صفت] شکایت کرنے والا۔ گلہ کرنے والا۔

**شاگرد** - (شاکرد) [ف-۱-۱] مذہب جو استاد سے کچھ سیکھے۔ متعلم طالب علم تلمیذ (۲) خدمت گار نوکر (۳) چملا۔

**شاگرد پیشہ** - (ف-۱-۱) مذہب نوکر جو حکم خدمت گار اور برکا کام کرنے والے (۲) اسٹے ملازموں کے رہنے کے مکان جو کسی محل کو ملتی یا بنگلہ کے قریب ہی بنے ہوں۔

**شاگرد رشید** - (ف-۱-۱) مذہب ایست یافتہ شاگرد۔ لائق شاگرد۔

**شاگرد رفتہ رفتہ استاد می رسد** - (ف-۱-۱) مثل شاگرد آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے استاد بن جاتا ہے۔

**شاگرد ہونا** - (۱) محاورہ قابل ہونا۔ معتمد ہونا۔

**شاگردی** - (ف-۱-۱) مذہب شاگرد ہونا۔ کسی سے علم سیکھنا۔ طالب علمی

**شال** - (ف-۱-۱) مذہب آدن یا پشم کی چادر۔

**شال باف** - (ف-۱-۱) مذہب شال بننے والا۔

**شال دوڑ** - (ف-۱-۱) مذہب شال پر پیل بونے بنانے والا۔

**شالہ** - (۱-۱-۱) مذہب مکان گھر (۲) مدرسہ (۳) کمرہ کوٹھڑی (۴) کام کرنے کی جگہ مرکبات میں جیسے پانچ شالہ۔ دھرم شالہ۔

**شالی** - (شالی) [ع-۱-۱] مذہب ڈھان چاول (۲) شال سے منسوب۔

**شام** - (۱-۱-۱) مذہب کسی دھات کا بنا ہوا چمچلا جو اوزاروں یا چھڑیوں پر لگاتے ہیں۔ (۲) کسٹن جی کا ایک نام۔

**شام** - (ف-۱-۱) مذہب سورج ڈوبتے کا وقت۔ غروب آفتاب۔

(۲) بحیرہ روم کے کنارے ایک ملک۔

**شام اودھ** - (۱-۱) مذہب حسین آورد کش شام۔ اودھ کی شام۔

**شادیاں گٹانا** - (۱) محاورہ مزے کرنا بکچھ سے اڑانا (ق) خوشی منانا۔

**شادیاں تہ** - (شاد-یا تہ) [ف-۱-۱] مذہب (۱) شادی کی نوبت۔ خوشی کا باجر۔ مبارک باد۔

**شادیاں بجانا** - (۱) محاورہ خوشی کی نوبت بجانا۔ فتح کا تقارہ بجانا۔

**شاد** - (ع-صفت) عجیب۔ نادر۔ اونکھا۔ غیر معمولی۔ ناقصاً۔ گاہے گاہے۔

**شاذ شاذ** - (ع-صفت) (معنی) بہت کم کبھی کبھی۔ ناقصاً۔

**شاذو نادر** - (ع-صفت) (معنی) بہت کم کبھی کبھی۔ ناقصاً۔

**شاز** - (ف-۱-۱) مذہب پانی کا گرتا۔ مرکبات میں جیسے آبشار (۲) بتا ہوا۔ ڈالا ہوا۔ مرکبات میں سرشار۔

**شارب** - (شاز-ب) [ع-صفت] پینے والا۔ جمع۔ شاربین۔ شوارب۔

**شارٹ کٹ** - (Short Cut) (شارٹ کٹ) [انگ-۱] مختصر راستہ۔

**شارٹ ہینڈ** - (Short-Hand) (شارٹ ہینڈ) [انگ-۱-۱] مذہب مختصر نویسی۔

**شارح** - (ع-صفت) کھول کر بیان کرنے والا۔ شرح کرنے والا۔ شرح لکھنے والا۔

**شارو** - (ق-۱-۱) مذہب (۱) پرنہ (۲) ایک قسم کا باجر۔

**شارع** - (ع-۱-۱) مذہب (۱) بڑا راستہ۔ سڑک (۲) [صفت] شریعت تیار کرنے والا۔ صاحب شرح۔

**شارع اسلام** - (ع-۱-۱) مذہب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے۔

**شارع علم** - (ع-۱-۱) مذہب علم راستہ۔ گزراہ عام۔ وہ راستہ جس پر شخص کو جانے کا حق ہو۔

**شارک** - (شاز-رک) [ف-۱-۱] مذہب (۱) جیتا۔ ایک پرنہ۔

**شارک** - (Shark) [انگ-۱-۱] مذہب ایک خطرناک مچھلی جو آدمی کو بھی کھا جاتی ہے۔

**شاستر** - (شاس-تر) [ع-۱-۱] مذہب (۱) ہدایت کرنے یا سکھانے کا آلہ (۲) حکم فرمان (۳) دستور تقاعدہ (۴) ہندوؤں کی مذہبی کتاب۔

**شاستری** - (شاس-ت-ری) [ع-۱-۱] مذہب (۱) شاستر جاننے والا۔ پندت۔

**شاش** - (شاش-شاش) [ع-۱-۱] مذہب (۱) شیش۔ موت۔

**شاطر** - (ع-صفت) (۱) شوخ۔ بخار۔ چالاک (۲) شطرنج کھینے والا (۳) وہ شخص جو کسی پر بار نہ ہو۔

**شاعر** - [ع-صفت] شعر کہنے والا۔ کوی۔ جمع۔ شعرا۔

**شاعرانہ** - (شاز-انہ) [ع-۱-۱] مذہب (۱) شاعر کے طریقہ پر (۲) شاعر سے منسوب (۳) مبالغہ آمیز۔

**شاعرہ** - (شاز-انہ) [ع-صفت] عورت۔ شاعر۔

**شاعری** - (شاز-انہ) [ع-۱-۱] مذہب (۱) شعر گوئی۔ شعر کہنا (۲) مبالغہ آمیزی۔

**شاعری کرنا** - (۱) محاورہ (۱) شعر کہنا۔ مبالغہ کرنا۔

**شاعری** - (شاز-انہ) [ع-صفت] (۱) مصروف۔ مشغول (۲) خدا کا ذکر کرنے والا۔

**شایخ** - (شاز-انہ) [ع-صفت] (۱) شفا عمت کرنے والا۔ سفارش کرنے والا۔

**شاعر** - (شاز-انہ) [ع-۱-۱] مذہب (۱) امام شافعی کی پیروی کرنے والا۔

(۲) اہل سنت والجماعت کے پیروکاروں میں سے ایک کا نام۔

شام بچھونا۔ (۱- محاورہ) شفق پھولنا۔ شام کے وقت سُرخی کا مغرب سے نوا ہونا۔  
 شام جوانی۔ (۱- محاورہ) جوانی کے آخری دن جوانی کے ڈھلنے کا وقت۔  
 شام صبح لگانا۔ (۱- محاورہ) حیلہ حوالہ کرنا۔  
 شام غزبت۔ (ف- ۱- صفت) مسافری کی شام جو غریبی میں بہت تکلف دہ ہوتی ہے۔  
 شام غریبیاں۔ (ف- ۱- صفت) (۱) مسافری کی شام (۲) مصیبت کی شام۔ (۳) تنہائی کی شام۔ گھر میں محرم کی شام۔  
 شام کا بھولا صبح کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ (مثلاً) اگر کوئی شخص کسی معاملہ میں غلطی کر کے کچھ دیر بعد صبح راستہ پر آجائے تو اسے غلط کار نہیں کہتے۔  
 شام کا صبح کرنا۔ (۱- محاورہ) رات کا ٹانا۔ ساری رات جاگتے رہنا۔  
 شام کلہاں۔ (۱- ۱- ۵- مذ) شام کا راگ۔  
 شام کی پوچھنا سُحر کی کہنا۔ (۱- محاورہ) بے ننگا جواب دینا۔  
 شام کے تڑپے کو بک تباک رو دینے۔ (مثلاً) کمر بھر کے بھگڑے کی بک تباک نہ کایت کیجیے۔  
 شام نہ دیکھنا۔ (۱- محاورہ) شام تک زندہ نہ رہنا۔  
 شام و بچا۔ (ف- ۱- ۱- ۵- مذ) دن رات (۲) پروقت۔  
 شام و سُحر۔ (ف- ۱- ۱- ۵- صفت) دونوں وقت۔ ہر وقت۔  
 شام و سُحر کرنا۔ (۱- محاورہ) جلد حوالہ کرنا۔ ٹاننا۔  
 شام۔ (اشا۔ ۱- ۵- ۱- ۵- صفت) ایک خوش الحان چھوٹا پرندہ۔  
 شاماک۔ (شاماک۔ ۱- ۱- ۵- صفت) عورتوں کا سینہ بند۔ لنگیا۔  
 شامپین۔ (Champaign)۔ (شام۔ ۱- ۱- ۵- صفت) عمدہ الجھوری شراب۔  
 شامت۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) بد نصیبی۔ برائی۔ آفت۔ سخت۔  
 شامت آنا۔ (مض مرکب) بڑے دن آنا۔ مصیبت آنا۔  
 شامت اعمال۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) کیسے کی سزا کو توت کا بدلہ۔  
 شامت اعمال مال مہورت ناو اور گرفت۔ (ف- ۱- ۱- ۵- صفت) ہمارے گناہوں کی سزا نے نادر کی مہورت اختیار کی۔ یہ مصرعہ نظام الملک نے اس وقت کہا تھا جب نادر شاہ کے ظلم و ستم نے دہلی میں قیامت برپا کی تھی۔  
 شامت زدہ۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) طبیعت زدہ۔ خراب حال۔  
 شامت کا مارا۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) مصیبت میں مبتلا۔ بد نصیب۔  
 شامت کی مار۔ (۱- ۱- ۵- صفت) بد نصیبی۔ کم بختی۔ نصیبوں کی خرابی۔  
 شامت میں پھینسا۔ (۱- محاورہ) آفت میں پھینسا۔ مصیبت میں مبتلا ہونا۔  
 شامیں کبیر کھوڑا آتی ہیں۔ (۱- ۱- ۵- صفت) مصیبتیں اطلاع دے کر نہیں آتی۔  
 شامتی۔ (شام۔ ۱- ۱- ۵- صفت) بد نصیب۔ مصیبت کا مارا۔  
 شامل۔ (شامل۔ ۱- ۱- ۵- صفت) ساتھ۔ ملا ہوا۔ شریک۔  
 شامل حال۔ (۱- ۱- ۵- صفت) شریک حال۔ ساتھ۔  
 شامل کرنا۔ (مض مرکب) ملانا۔ شریک کرنا۔ چورنا۔ لگانا۔  
 شامل مسل۔ (۱- ۱- ۵- صفت) کاغذات مقدمہ کے ساتھ لگا ہوا۔ مسل کے ساتھ

نہتی کیا ہوا۔  
 شامیلات۔ (شام۔ ۱- ۱- ۵- صفت) (۱) وہ ملکیت یا جائیداد جو بہت سے آدمیوں میں مشترک ہو (۲) حصہ داری۔ سماجھا۔ (۳) وہ زمین جو مالکان دیہہ کی مشترک ہو۔  
 شامہ۔ (شام۔ ۱- ۱- ۵- صفت) سوکھنے کی توت یا جس۔  
 شامی۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) ملک شام کا رہنے والا۔ شام سے منسوب۔  
 شامی کباب۔ (ع- ۱- ۱- ۵- مذ) وہ کباب جو گوشت کو مع مسالہ آبل کر پلینے کے بعد کھیاں بنا کر تے جاتے ہیں۔  
 شامیانہ۔ (شامی۔ ۱- ۱- ۵- صفت) (۱) کپڑے کا سا بنان۔ چھتری بنیگرہ۔  
 شامیانہ کھینچنا۔ لگانا۔ (۱- محاورہ) شامیانہ کھڑا کرنا۔  
 شان۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) عظمت۔ شوکت۔ دبیر۔ عزت۔ ترقی (۲) قدرت طاقت (۳) انداز۔ طرز۔ وضع (۴) نسبت۔ حق میں (۵) عاقبت۔ خوبی۔ شان الہی۔ شان خدا۔ شان حق۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) خدا کی تدرت یا طاقت۔ شان برسا۔ (۱- محاورہ) رعب و دبیر بنایا ہونا۔ عظمت و شوکت ظاہر ہونا۔  
 شان بانا۔ (۱- محاورہ) انداز مانا۔ عزت حاصل ہونا۔  
 شان جانا۔ (۱- محاورہ) رتبہ گھٹنا۔ عزت میں فرق آنا۔  
 شان چوٹا۔ (۱- ۱- ۵- صفت) دوسروں کی طرز یا وضع اختیار کرنے والا۔  
 شان خط۔ (ف- ۱- ۱- ۵- صفت) تحریر کا انداز۔ لکھنے کا طریقہ۔  
 شان دار۔ (ف- ۱- ۱- ۵- صفت) (۱) خلیفستان ذی شان۔ بلند (۲) ذی رتبہ باعظمت (۳) دھوم دھام کا (۴) خوشنما۔  
 شان دکھانا۔ (۱- محاورہ) اترانا۔ شیخی بگھارنا (۳) عیب ظاہر کرنا۔  
 شان عبودیت۔ (ف- ۱- ۱- ۵- صفت) بندگی کی شان۔ خدا کے لئے کمر چوم کرنا۔ راضی ہونا۔  
 شان کا مارا جانا۔ (۱- محاورہ) عزت و حرمت میں فرق آنا۔  
 شان گھٹنا۔ عزت اور وقار کم ہونا۔  
 شان میں ٹہ لگنا (جھٹنے لگانا)۔ (۱- محاورہ) عزت گھٹنا۔ بے عزتی ہونا۔  
 شان نزول۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) کبیتِ نذائی کے لڑنے کا موقع۔ باعث نزول۔  
 شان نکلنا۔ (۱- محاورہ) آن بان ظاہر ہونا۔ انداز ظاہر ہونا۔  
 شان و شوکت۔ (ع- ۱- ۱- ۵- صفت) (۱) رعب و اب (۲) ٹھٹھا۔ احتشام۔  
 شانقت۔ (س- ۱- ۱- ۵- صفت) مطمئن۔ صابر۔ تابع۔  
 شانقتی۔ (شان۔ ۱- ۱- ۵- صفت) (۱) امن۔ ٹھیکہ۔ آرام (۲) تسلی۔ اطمینان۔ دلجمعی۔  
 شانقت۔ (ق- ۱- ۱- ۵- صفت) مکاری۔ عیاری۔  
 شانقتہ۔ (شان۔ ۱- ۱- ۵- صفت) (۱) کنگھی۔ (۲) کا ندھا۔ موٹھا۔  
 شانقتہ زہا۔ (۱- محاورہ) موٹھے یا کا ندھے کی ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔  
 شانقتہ چرکنا۔ (۱- محاورہ) کا ندھے کا پھر کرنا جو کسی دوست کے ملنے کا شکر کھینچنا۔ سمجھا جانا ہے۔  
 شانقتہ سے شانقتہ چھلنا۔ (۱- محاورہ) نجوم کے باعث کا ندھے سے کا ندھا کرنا۔  
 شانقتہ بھڑ ہونا۔  
 شانقتہ کرنا۔ (مض مرکب) کنگھی کرنا۔  
 شانقتہ پلانا۔ کا ندھا ملا کر کھانا۔  
 شانقتہ۔ (Shower) (۱- ۱- ۵- صفت) فوارہ جو غسل خانوں میں لگا ہوتا ہے۔

قیمتی لباس۔

شایانہ مزاج۔ (ف۔ ۱۔ مذ) نازک طبیعت۔

شاد ترمہ۔ (شاد۔ ت۔ مذ) [ت۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا سنگ۔ پت پائڑہ۔

شاید۔ (شاد۔ ہد) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) گواہ (۲) حسین بے مشوق محبوب۔

شاید باز۔ (ف۔ صفت) نوجوان لڑکوں یا حسین عورتوں سے زیادہ محبت رکھنے والا۔ حسن پرست۔

شاید بازار۔ (ع۔ ۱۔ صفت۔ مشت) بازار میں معشوق۔ طوائف۔

شاید حال۔ (ع۔ ف۔ صفت) واقعہ کا چشم دید گواہ۔

شاید عادل۔ (ف۔ ۱۔ صفت) سچا گواہ۔

شاید مقصود۔ (ف۔ ۱۔ صفت) مقصود کا شاید سے استعارہ کرتے ہیں۔

شایدی۔ (شاد۔ ہ۔ دی) [ع۔ ۱۔ مشت] شہادت۔ گواہی۔

شایدنشاہ۔ (شاد۔ ہن۔ شاہ) [ف۔ ۱۔ مذ] بادشاہوں کا بادشاہ جیسے بڑا بادشاہ۔

شایدی۔ [ف۔ صفت] بادشاہی سلطانی۔

شایدین۔ (شاد۔ ہن) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) ایک سفید رنگ کا شکاری پرندہ ترازدکی ستونی یا ڈبئی۔

شایدیہ۔ (شاد۔ ہ۔ بر) [ع۔ ۱۔ مذ] آمیزش۔ آلودگی۔ ملاوٹ۔ شک شبہ۔ احتمال۔

شایدگی۔ (شاد۔ اس۔ ت۔ گی) [ف۔ ۱۔ مشت] (۱) تہذیب منانیت (۲) اخلاق۔ حرمت۔ آدمیت۔

شایدگتہ۔ (شاد۔ اس۔ تہ) [ف۔ ۱۔ مشت] (۱) مہذب۔ باسلیقہ۔ باقیہ۔ (۲) مناسب۔ موزوں (۳) بااخلاق۔ باحرمت۔

شایدع۔ (شاد۔ اع) [ع۔ ۱۔ صفت] (۱) فاش۔ آشکارا (۲) چھاپ کر شہرہ لگایا ہوا۔

شایدع ہونا۔ چھپ کر شہرہ ہونا۔

شایدق۔ (شاد۔ اق) [ع۔ صفت] مشرقین شوق رکھنے والا۔ مشتاق۔ آرزو مند۔

شایدکال۔ (شاد۔ ا۔ گال) [ف۔ صفت] (۱) وہ چیز جو بادشاہوں کے لائق ہو (۲) [مشت] بیگار (۳) قافیہ کا ایک عیب۔

شایدیاں۔ (شاد۔ یاں) [ف۔ صفت] لائق۔ مناسب۔ موزوں۔ زیبا۔

شایدنہ۔ (شاد۔ ید) [ف۔ کلہ۔ شک] غالباً۔ ممکن ہے۔

شایدوباید۔ (ف۔ متعلق فعل) جیسا چاہیے تھا۔ بخوبی۔ ہر طرح سے۔

## ش - ب

شب۔ [ف۔ ۱۔ مشت] رات۔ رین۔

شب اسرا۔ (مصن۔ ع۔ صفت) معراج کی رات۔

شب افروز۔ (ف۔ صفت) (۱) رات کو روشن کرنے والا (۲) جگنو۔ چاند۔

شب احمد۔ (ف۔ ۱۔ صفت) وصل کی رات۔

شب انتظار۔ (ف۔ ۱۔ صفت) وہ رات جو کسی کے انتظار میں گئے۔

شب اول۔ (ف۔ ۱۔ مشت) دو ٹھانڈھن کی پہلی رات۔

شب ماش۔ (ف۔ صفت) رات کی رات۔ رینے والا۔

شاہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) آقا۔ مالک (۲) بادشاہ۔ سلطان (۳) فیضوں کا لقب

(۴) شطرنج کا ایک مہرہ (۵) نوشہ۔ دولہا۔ (۶) سیدوں کے نام کا

مخصوص لفظ (۷) بڑا عظیم مرتکب ہیں آنا ہے جیسے شاہ زور شاہ کبوتر۔

شاہ باز شہناز۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) بڑا باز جس سے شکار کرتے ہیں۔

(۲) شہناز۔

شاہ بالا۔ شہہ بالا۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ قریبی رشتہ دار لڑکا جس کو چچھے

نیرے پناہ کر دھاکے چھچھے گھوڑی پر بٹھا دیتے ہیں۔ (۲) ہمدوش۔

شاہ بلوط۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک پھاڑی درخت۔ اوک کا پٹیر۔

شاہ بیت۔ (ف۔ ۱۔ مشت) قصیدہ یا غزل کا بہترین شعر۔

شاہ بر شہبہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) برہمے کے بازو کا سب سے بڑا پیر۔

شاہ بزرگ۔ (ف۔ صفت) بادشاہت کا عالی۔

شاہ ترا (شاہ تہرا) [ف۔ ۱۔ مذ] ایک مصفی خون دوا۔ پت پائڑا۔

شاہ قوت۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا ٹرا ٹوت۔ شہتوت۔

شاہ خانم۔ (ف۔ ۱۔ مشت) (۱) بڑے گھر کی عورت (۲) تنگ عورت۔

شاہ خاور۔ (ف۔ ۱۔ مذ) شاہ مشرق۔ آسمان کا بادشاہ۔ سورج۔

شاہ خرج۔ (۱۔ صفت) بہت خرچ کرنے والا۔ فضول خرچ۔

شاہ دانہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بھگ کا بیج (۲) بڑا موتی (۳) شہج کا بڑا دانہ۔

شاہ درہ۔ شاہ درہ۔ وہ آبادی یا گاؤں جو دریا کے دوسرے کنارے پر

شہابی محل کے مقابل ہو۔

شاہ راہ۔ شاہ راہ۔ بڑا راستہ۔ جو نبی شکر۔ شہاب عام۔ بادشاہی گزرگاہ۔

شاہ رگ۔ (ف۔ ۱۔ مشت) بڑی رگ جو گڑوں میں سے گزرتی ہے۔ رگ جاں۔

شاہ زادہ شہزادہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) بادشاہ کا لڑکا (۲) شاہی خاندان کا ایک فرد۔ (۳) پیارا فرزند۔

شاہ زادی۔ شہزادی۔ (ف۔ ۱۔ مشت) (۱) بادشاہ کی لڑکی (۲) شاہی خاندان کی عورت (۳) کنول کے ٹھیلوں کا زبرد ریزہ۔

شاہ سوار شہسوار۔ (ف۔ ۱۔ مشت) گھوڑے کی سواری کا ماہر۔

شاہ عباس کا علم ٹوٹے۔ (بدعا) حضرت عباس کے علم کی مار پڑے۔

تباہ ہو۔ برابری ہو۔

شاہ کار۔ شاہکار۔ شہکار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) سب سے بڑا کارنامہ

(Masterpiece) (انگ)

شاہ گام۔ شہ گام۔ (ف۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کی ایک عمدہ جاں۔

شاہ لولاک۔ (ف۔ ۱۔ مذ) جناب رسا لقب پندرہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔

شاہ مرداں۔ (ف۔ ۱۔ مذ) حضرت علی کا لقب۔

شاہ مشرق۔ (ف۔ ۱۔ مذ) گنیا سورج۔

شاہ نشین۔ شہ نشین۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ (۲) مکان کی کسی کھڑکی کے آگے بڑھا کر بنائی ہوئی جگہ۔

شاہ دار۔ شہوار۔ (ف۔ صفت) بادشاہوں کے لائق۔ نہایت عمدہ نفیس چیز۔

شایانہ۔ (شاد۔ یا۔ نہ) [ف۔ ۱۔ صفت] بادشاہوں کے موافق۔ بادشاہوں کے مانند۔ سلطانی۔

شایانہ جوڑا۔ (ف۔ ۱۔ مذ) دولہا کا سچ جوڑا۔ شہر جوڑا۔ بادشاہوں جیسا

شب بائسی - (ف۔ ۱۔ ۱۱) رات کا قیام - رات رہنا -  
 شب بخیر - (ف۔ کلہ خیر) (۱) رات خیر سے گزرے (۲) رات کو رخصت ہونے کا سلام -  
 شب برات - (۱) شیطان کی چودھویں اور پندرہویں تاریخ کی درمیانی رات مسلمانوں کے عقائد کے بموجب اس رات کو عمر کا حساب اور تقسیم وزن کا کام ہوتا ہے (۲) خوشی کی بات -  
 شب برات کا گھڑا مسلمانوں میں رسم ہے کہ شب برات کے دن مردوں کا فاتحہ پڑھ کر مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں -  
 شب بو - (ف۔ ۱۔ ۱۰) ایک قسم کا سفید پھول جس کی خوشبو رات کو پھلتی ہے -  
 شب بچر - (ف۔ ۱۔ ۱۰) تمام رات -  
 شب بیدار - (ف۔ ۱۔ ۱۰) رات کو جاگ کر عبادت کرنے والا - رات بھر جاگنے والا -  
 شب بیداری - (ف۔ ۱۔ ۱۰) رات کا جاگنا - بے خوابی -  
 شب تباب - (ف۔ ۱۔ ۱۰) رات کو چھیننے والا (۲) چاند (۳) چراغ (۴) گنگو (۵) جواہر -  
 شب تارا (تاریک) اندھیری رات -  
 شب چہارہ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) چاند کی چودھویں رات -  
 شب چراغ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) رات کو چھیننے والا (۲) گنگو  
 شب خوابی - (۱) رات کی پوشاک - رات کو پہن کر سونے کے کپڑے (۲) رات کا سونا -  
 شب خوانی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) وہ تصدقات کو داستان کو پڑھا کرتے ہیں -  
 شب خون - (ف۔ ۱۔ ۱۰) رات کا حملہ چھاپا - رات کے وقت بے خبری میں دشمن پر حملہ کرنا -  
 شب خون مارنا - (۱) محاورہ چھاپا مارنا - رات کو اجانک حملہ کرنا -  
 شب خیز - (ف۔ ۱۔ ۱۰) شب بیدار - رات کو اٹھنے والا -  
 شب جزئی - (ف۔ ۱۔ ۱۰) شب بیداری - رات کو اٹھنا -  
 شب خیزیا - (ف۔ ۱۔ ۱۰) خزاں جو رات کو ٹوٹے -  
 شب درمیان ہونا - (۱) محاورہ بیچ میں ایک رات کا وقفہ ہونا -  
 شب دیچور - (ف۔ ۱۔ ۱۰) اندھیری رات -  
 شب دیز - (ف۔ ۱۔ ۱۰) سیاہ رنگ کا گھوڑا بمشکل گھوڑا -  
 شب دیگ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) ایک قسم کا سالن جس میں گوشت اور شحم رات بھر کاتے ہیں -  
 شب رنگ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) سیاہ رنگ کا گھوڑا (۲) تاریک سیاہ -  
 شب زفاف - (ف۔ ۱۔ ۱۰) دُلہا دُلہن کی پہلی رات سخت کی رات - ہم بستری کی پہلی رات -  
 شب زندہ دار - (ف۔ ۱۔ ۱۰) رات بھر جانے والا (۲) عابد  
 شبستان - (ف۔ ۱۔ ۱۰) بادشاہوں کے سونے کا کمرہ (۲) خلوت خانہ حرم سرا (۳) مسجد کی وہ جگہ جہاں رات کو عبادت کرتے ہیں -  
 شب رخاب (ف۔ ۱۰) منہ جھانکی رات -  
 شب شہادت - (ف۔ ۱۔ ۱۰) محرم کی نویں رات جس کی صبح کو حضرت

امام حسینؑ شہید ہوئے تھے -  
 شب ظلمات - (ف۔ ۱۔ ۱۰) سخت کالی رات -  
 شب عاشورہ - (ف۔ ۱۔ ۱۰) نویں اور دسویں محرم کی درمیانی رات -  
 شب غم - (ف۔ ۱۔ ۱۰) جدائی کی رات - رنج کی رات -  
 شب قدر - (ف۔ ۱۔ ۱۰) لیلۃ القدر مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ایک نہایت متبرک رات - اس کے تعین میں اختلاف ہے عموماً رمضان کی ستائیسویں شب قدر کہلاتی ہے -  
 شب گور - (ف۔ ۱۔ ۱۰) وہ جسے رات کو دکھائی نہ دے -  
 شب گوری - (ف۔ ۱۔ ۱۰) رات کو دکھائی نہ دینا - اندھانا -  
 شب کی شب - (۱) متعلق فعل (۲) رات کی رات - رات بھر کے لیے -  
 شب گر - (ف۔ ۱۔ ۱۰) رات کو پھرنے والا (۲) کوٹواں (۳) سپاہی چوکیدا  
 شب گوں - (۱) کالا سیاہ (۲) رات کی مانند -  
 شب گر - (ف۔ ۱۔ ۱۰) پھلی رات کا سفر - پھلی رات کا مسافر -  
 شب ماہ - (۱) شب مانتاب - شب متاب - (ف۔ ۱۔ ۱۰) چاندنی رات -  
 شب معراج - ۲۷، ۲۸ - جب کی درمیانی رات جس میں پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی -  
 شب تکار بندان - (ف۔ ۱۔ ۱۰) وہ رات جب دلہن کے ہنسی لگائی جاتی ہے -  
 شب وروز - (ف۔ ۱۔ ۱۰) متعلق فعل (۲) دن رات -  
 شب وصال - (ف۔ ۱۔ ۱۰) منہ دھل کی رات - ملاپ کی رات (۲) وہ رات جس میں کسی کامل فقیر کا انتقال ہو -  
 شب یلدا - (ف۔ ۱۔ ۱۰) سخت تاریک رات (۲) سال کی سب سے لمبی رات جب سورج مروج جدی میں داخل ہونے کو ہوتا ہے -  
 شبنا - (ف۔ ۱۔ ۱۰) شب خون -  
 شبنا - (ش۔ باب) [ع۔ ۱۔ ۱۰] (۱) جوانی (۲) شروع - آغاز - ابتدا -  
 (۳) خروج کا زمانہ (۴) ایک پردہ موسیقی کا نام -  
 شبنا اہل جنت - (ع۔ ۱۰) حضرت امام حسنؑ و حسینؑ کی شہادت شریف کے مطابق جوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے -  
 شبنا بھڑ بھڑ بڑنا - (۱) محاورہ جوانی کا زور ہونا -  
 شبنا پھڑنا - (۱) محاورہ جوانی دوبارہ آنا -  
 شبنا بیات - (ع۔ ۱۰) منہ جوانی سے متعلق باتیں -  
 شبنا شبنا - (ش۔ ۱۔ ۱۰) [شبنا] راتوں رات تمام رات - رات بھر -  
 شبنا (ع۔ ۱۰) [شبنا] (بان) (ف۔ ۱۔ ۱۰) [شبنا] چرواہا - گڈریا -  
 شبنا نگاہ - (ش۔ ۱۰) [شبنا نگاہ] رات کا وقت -  
 شبنا نہ - (ش۔ ۱۰) [شبنا نہ] رات کا  
 شبنا نہ روز - (ف۔ ۱۰) متعلق فعل (۲) شب وروز - ہر وقت - دن رات -  
 شبنا نہمت - (ش۔ ۱۰) [شبنا نہمت] [شبنا نہمت] مطابقت -  
 (۲) شکل صورت (۳) رونق رعب -  
 شبنا نہ (۱) آواز (۲) لفظ (۳) قواعد زبان (۴) بھن -  
 شبنا نہ (۱) [شبنا نہ] نقال - دوسروں کے مہیا میں چوری کرنے والا -  
 شبنا نہ (۱) [شبنا نہ] قواعد زبان - علم صرف و نحو -

## ش۔ت

**شبتا**۔ (ش۔تا) [ع۔ا۔ مذ] جاٹا۔ سردی کا موسم۔  
**شبتاب**۔ (ش۔تاب) [ن] جلد بھٹ پیٹ۔ بلا توقف۔ فوراً۔  
**شبتاب کار**۔ (ف۔ا۔ مذ) جلد باز۔ پھر تیل۔  
**شبتابا**۔ (ش۔تا۔با) [ار۔ا۔ مذ] بارود لگا ہوا کاغذ کا قتیق۔  
**شبتانی**۔ (ش۔تا۔بی) [ف۔ا۔ مست] (۱) جلدی۔ تیزی (۲) اضطراب  
 گھبراہٹ۔

**ششال**۔ [ن۔ق۔ صفت] بے چین۔ بے قرار۔  
**ششالنا**۔ (ش۔شال۔نا) [ن۔ق۔ مص] اُگسنا۔ اُبھارنا۔ شدہ دینا۔  
**ششالنگ**۔ (ش۔ش۔تا۔نگ) [ن۔ا۔ مذ] ٹخنہ۔  
**ششہ**۔ (ا۔ مذ) شطاح کا بگڑا ہوا۔ بدکار۔ بد وضع عورت۔  
**ششہا**۔ (ا۔ مست) بے حیائی۔ بے شرمی۔ حرام کاری۔ بد وضعی۔  
**ششتر**۔ [ف۔ا۔ مذ] اونٹ۔

**ششتریاں**۔ [ف۔ صفت] اونٹ یا کھنے والا۔ ساربان۔  
**ششتر بے ہمار**۔ [ف۔ا۔ صفت] (۱) بے تکلیف کا اونٹ (۲) آزاد۔ آوارہ۔  
**ششتر خانہ**۔ [ف۔ا۔ صفت] وہ مکان جہاں اونٹ رکھے جائیں۔  
**ششتر سوار**۔ [ف۔ا۔ مذ] ساندنی سوار۔ قاصد۔  
**ششتر غم**۔ (ف۔ا۔ مذ) نازیدیا۔ تجڑہ۔ فضول چوچلے۔  
**ششتر لکینہ**۔ [ف۔ا۔ مذ] وہ شخص جس کا لکینہ اور کپٹ بھی نکلے۔ ملی عملدند ششنی  
**ششتر گاؤں**۔ [ف۔ا۔ مست] نرا نرا۔ ایک چوپا پر جس کی گردن اونٹ کی طرح  
 اور گھڑیل سے مشابہ ہوتے ہیں۔

**ششتر گریبہ**۔ (۱) دو موافق چیزیں جن میں سے ایک بلند اور دوسری پست ہو  
 (۲) شعر میں ایک کلمہ میں جمع اور مفرد یا تعظیم و تخیل کے الفاظ  
 استعمال کرنا۔

**ششتر مرغ**۔ [ف۔ا۔ مذ] انزلیقہ کا ایک قد اور پرند جس کی گردن اونٹ  
 کی طرح لمبی ہوتی ہے۔

**ششتر نال**۔ (ا۔ مست) چھوٹی تو بے جواؤنٹ کی مٹھ پر رکھ کر چلائی جاتی ہے۔  
**ششتری**۔ [ش۔ت۔ری] [ن۔ق۔ مست] (۱) اونٹ کے رنگ کا (۲)  
 [ا۔ر۔ا۔ مذ] نقارہ جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے (۳) نقارہ جو روزہ  
 کھولنے کے وقت بجا یا جاتا ہے۔  
**ششتم**۔ [ع۔ا۔ مذ] گالی گلوج۔ دشنام۔

## ش۔ج

**ششاج**۔ (ش۔ج) [ع۔صفت] دیر۔ بہادر۔ جڑی۔  
**ششاعت**۔ (ش۔ج۔اعت) [ع۔ا۔ مست] بہادری۔ دلیری۔  
**ششخ**۔ [ع۔ا۔ مذ] درخت۔ پیڑ۔ رکھ۔

**ششبر**۔ [ش۔ب۔بر] [ع۔ا۔ مذ] حضرت حسنؑ کا لقب۔

**ششبرو**۔ [ع۔ا۔ مذ] بالشت۔  
**ششکا**۔ (ش۔ب۔کا) [ار۔ا۔ مذ] شکاف جو کپڑے یا دیوار وغیرہ میں ہو۔  
**ششکہ**۔ (ش۔ب۔کہ) [ع۔ا۔ مذ] (۱) کپڑوں کے پیرنے کا جال۔ جالی۔  
 (۲) [ن۔ق۔ مست] [ف۔ا۔ مست] [ا۔ر۔ا۔ مذ] آکھ کا پردہ۔  
**ششبنم**۔ [ش۔ب۔نم] [ن۔ق۔ مست] [ا۔ر۔ا۔ مذ] (۱) رات کی نمی۔ اوس (۲) ایک  
 قند کا سفید بابیک کپڑا۔  
**ششبنمی**۔ [ش۔ب۔ن۔می] [ن۔ق۔ مست] [ا۔ر۔ا۔ مذ] (۱) اوس سے بچنے کے لیے پانگ  
 پر تانے کا کپڑا۔ اسمہری۔ (۲) شبنم کے رنگ کا۔

**ششبرہ**۔ [ش۔ب۔رہ] [ع۔ا۔ مذ] (۱) مانند (۲) تصویر۔ ڈھانچ (۳) مشابہت  
 مطابقت۔

**ششیر**۔ [ش۔ب۔رہ۔ش۔پہ] [ع۔ا۔ مذ] [ن۔ق۔ مست] [ا۔ر۔ا۔ مذ] ٹنک۔ گمان۔ دوہم۔  
**ششیر کرنا**۔ (ا۔ محاورہ) شک کرنا۔ بدگمانی۔  
**ششیر گزنا**۔ (ا۔ محاورہ) شک ہونا۔  
**ششیر مٹانا**۔ (ا۔ محاورہ) شک دور کرنا۔ شدہ نکالنا۔  
**ششیر ہونا**۔ (ا۔ محاورہ) گمان گزنا۔ احتمال ہونا۔

**ششیرہ**۔ [ن۔ق۔ صفت] روشن۔ چمکدار (۲) اچھا۔ نیک۔ خالص۔  
**ششیر**۔ [ش۔ب۔رہ۔ش۔پہ] [ع۔ا۔ مذ] (۱) نیک (۲) خوبصورت (۳)  
 حسرت انام صبیح کا لقب۔  
**ششیدینہ**۔ [ش۔ب۔نی۔نہ] [ن۔ق۔ مست] [ا۔ر۔ا۔ مذ] (۱) مات کا۔ باسی (۲) حافظ قرآن کا  
 رمضان کی کسی ایک رات میں پورا قرآن تراویح میں ختم کرنا۔  
**ششیرہ**۔ [ش۔ب۔بیرہ] [ن۔ق۔ صفت] (۱) شکل۔ تصویر۔ صورت (۲)  
 مانند۔ مثالیہ۔

## ش۔پ

**ششپ**۔ [ن۔ق۔ صفت] (۱) جلد ششپا (۲) [ا۔ر۔ا۔ مست] [ف۔ا۔ مست] [ا۔ر۔ا۔ مذ] فحی یا تلوار  
 مارنے کی آواز۔ ٹپ کے ساتھ تابع مہل۔

**ششپ**۔ (Ship) [ا۔ر۔ا۔ مذ] بحری جہاز۔  
**ششپا**۔ [ش۔ب۔پا] [ع۔ا۔ مذ] نیراندازوں کا نشانہ باند۔  
**ششپا ششپ**۔ [ش۔ب۔پا۔ششپ] [ن۔ق۔ مست] [ا۔ر۔ا۔ مذ] جلد جلد (۲)  
 متواتر تیر چلانے کی آواز۔ متواتر تلوار چلانے کی آواز (۳) [ا۔ر۔ا۔ مست] [ا۔ر۔ا۔ مذ] چوپڑیاں  
 کی آواز (۴) تیزی سے (۵) پانی میں گھسنے کی آواز۔  
**ششپرہ**۔ [ش۔ب۔پرہ] [ع۔ا۔ مذ] (۱) ششپ۔ پ۔ پرک۔ ششپ۔ پ۔ پ۔ (۲) رہ۔  
 (۳) [ا۔ر۔ا۔ مست] چمکا ڈھ۔

**ششپرہ چشم**۔ [ن۔ق۔ صفت] سورج کی روشنی میں آنکھیں بند رکھنے  
 والا۔ (۲) وہ شخص جو صاف اور واضح چیز کو تعصب کے  
 باعث نہ دیکھ سکے۔

شجرہ - [ع - ۱ - مذ] (۱) کوہ طور کا درخت جس پر حضرت موسیٰ نے تجلی  
والہی دیکھی تھی -

شجرہ - [ع - ۱ - مذ] بہشت کا وہ درخت جس کے قریب جانے سے  
حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا - (۲) (جی ڈا) وہ چیز  
جس سے روک دیا گیا ہو -

شجرہ - [ع - ۱ - مذ] (۱) نسب نامہ - وہ کاغذ جس پر پورٹ اعلیٰ  
کی اولاد کا نام نسل بعد نسل درج ہو (۲) وہ نقشہ جس میں گاؤں کے  
کھیت دکھائے گئے ہوں -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

شجرہ قند - [ع - ۱ - مذ] (۱) پیروں کا شجرہ اور ٹوپی جو وہ تبرکاً مردوں  
کو جیتے ہیں (۲) چیز بست - بوری یا بندھنا -

## ش - ح

شخم - [ع - ۱ - مذ] (۱) چربی (۲) مٹایا - ذریعہ - جمع - شخوم  
شخیم - [ع - ۱ - مذ] محافظ شہر کو نوال - کھیت کا ٹکڑا -  
شخیم - [ع - ۱ - مذ] مٹا - ذریعہ - جیسے لجم و شخیم -

## ش - ز

شذرہ - [ع - ۱ - مذ] (۱) برائے منہ شہر بکھری ہوئی چیز -  
(۲) اخبار میں ایڈیٹر کا کسی واقعہ پر مختصر تبصرہ - جمع : شذرات -

## ش - ر

شہر - [ع - ۱ - مذ] (۱) بڑی - برائی (۲) جھگڑا - فساد - خرابی -  
شہر اٹھانا یا اٹھنا - (۱) محاورہ (جھگڑا برائے کرنا - فساد کی ابتدا کرنا  
شہر اڑ جانا - جھگڑا مٹ جانا -

شہر اٹھنا - (پسند) (ف - صفت) شریر - مفسد -  
شہر اٹھنا - (۱) محاورہ (فساد کو ہوا دینا -  
شہر اٹھنا - (ش - ر) (ع - ۱ - مذ) خرید و فروخت - آؤ میں مع دہرا میں استعمال ہوتا ہے  
شہر اٹھنا - (ش - ر) (ع - ۱ - مذ) (۱) رقیق چیز جو پی جائے (۲)  
نشرہ دار عرق - دارو -

## ش - خ

شخص - [ع - ۱ - مذ] (۱) آدمی - بشر (۲) آدمی کا جسم - انسان - بدن -  
شخص ثالث - (ف - ۱ - مذ) وہ شخص جو رقیقین میں فیصلہ کر لے - سربراہ -  
شخص غیر - (ف - ۱ - مذ) اجنبی آدمی -  
شخص واحد - (ف - ۱ - مذ) اکیلا آدمی - تنہا آدمی -  
شخصی - (ش - خ) (ع - ۱ - صفت) (۱) ایک آدمی کے متعلق - (۲) ذاتی -  
شخصی حکومت - (ع - ۱ - صفت) ایک شخص کی حکومت - آمریت -  
شخصیت - (ش - خ) (ع - ۱ - صفت) (۱) شخص ہونے کی خصوصیت  
ذات (۲) درجہ عزت (۳) شیخی - پیروی -  
شخصیت بگھارنا (جتنانا) (۱) محاورہ (شیخی مارنا - اتزانا -

## ش - د

شہرہ - (ف) رفت گزشت - گزرا ہوا (۲) کسی کام کا آغاز یا ابتدا -



**شراب لُط** - (ش - را - اط) [ع - امث] شرابیں - ذمہ داریاں - شرط کی جمع  
**شراب لَط** - (ع - ف - ت - امث) ابتدائی تڑپیں -  
**شراب لَع** - (ع - امث - مذ) شریعت کی جمع دیکھیے شریعت -  
**شراب لَعِب** - (ع - امث) شرابوں کی جمع دیکھیے شریابوں -  
**شراب** - (ع - ا - مذ) پینا - پینے کی چیز -  
**شراب الیہود** - (ع - ا - مذ) پوشیدہ شراب پینا -  
**شرابیت** - (شرابیت) [ع - ا - مذ] (۱) وہ مقدار جو ایک دفعہ پی جائے -  
 (۲) فندیں پیکار عرق کسی پھل، پھول یا دوا کا - (۳) قند یا مہکی پانی میں گھلی ہوئی -  
**شرابیت پلانی** - (ا - امث) (۱) وہ نقدی جو شربت پینے پر دھوا دوس کے رشتہ دار تھا ان میں دالتے ہیں (۲) وہ نیک جو دھوا یا دھن کی جانب سے نائی کو دیا جائے -  
**شرابیت دیدار** - (ف - ا - صف) دیدار کا شربت سے استعارہ ہے -  
**شرابیت کے سببے** - (ا - محاورہ) غریبوں کی طرح صرف شربت پلانا کھانا کھانا -  
**شرابیت کے سے گھونٹ پینا** - (ا - محاورہ) کسی تلخ بات کو خوشی سے برداشت کرنا - سختی اٹھانا -  
**شرابیت وصل** - (ف - ا - صف) ہم بستری - وصل کا شربت سے استعارہ ہے -  
**شرابی** - (شرابیت) [ع - ا - مذ] (۱) زوردار نوجوانی رنگ سے ملتا ہوا رنگ (۲) ایک قسم کا بیٹھا میوہ - (۳) ایک قسم کا گیتھ - (۴) ایک قسم کا بڑا نالہ (۵) شراب کا پیالہ جو ایک ہی دفعہ پی لیا جائے (۶) شربت کا (۱) شربت کے رنگ کا (۲) شربت کا یا شربت سے متعلق (۳) رس دار -  
**شرابہ** - (شرابہ) [ع - ا - مذ] ایک قسم کی چھوٹی مشک (۳) تھیلہ (۳) نالہ پانی کی وہ مقدار جو سیرابی کے پینے کا کافی ہو -  
**شراباوا** - (شراباوا) [ع - ا - مذ] ایک قسم کی کھجور -  
**شراب** - (ع - ا - امث) (۱) تفسیر - کھول کر کہنا - (۲) نرخ - بھاؤ - شرح آبپاشی - (ع - ف - امث) شربت کے پانی کا نرخ - آبپاشی - شرح بندی - (ع - ف - امث) بونوں کا نقشہ شرح نامہ - نرخ مقرر کرنا - شرح چڑھانا (کرنا) کتاب کی شرح لکھنا - حاشیہ چڑھانا - شرح ذیل - (ع - امث) بیچے گھٹی ہوئی تفصیل - شرح سٹود - (ع - ف - ا - امث) سٹود کا بھاؤ - شرح لگان - (ا - امث) لگان یا شرح کا نرخ - شرح ووسط - فصاحت و تفصیل کھول کر شرح دہا - (ک - امث) اشتیاق - آرزو - (۲) عقیدت - دفا داری - شرحہ - (ع - ا - امث) کھوڑے آدمیوں کی جماعت (۲) پھول وغیرہ کا ٹھاپا - فاش -  
**شراب** - (ش - ر - ا - مذ) آگ کی چنگاری - (۲) کینہ -  
**شراب بار** - (شراب بار) شرح ووسط - شرح ووسط - (۱) چنگاریاں بسلنے والا (۲) چنگاریاں اڑانے والا (۳) آگ کی چنگاریاں نکلتی ہوں -

**شراب ازغوانی** - (ع - ا - صف) مرغ رنگ کی شراب -  
**شراب اڑانا** - (ا - محاورہ) شراب کا خوب پیا جانا -  
**شراب بند** - (ف - ا - صف) تلخ و تیز شراب -  
**شراب کا ڈوبلینا** - (ا - محاورہ) چند آدمیوں کا اکٹھا بیٹھ کر شراب پینا -  
**شراب خانہ** - (ع - ف - ا - مذ) وہ جگہ جہاں شراب بنے یا پکے -  
**شراب خانہ خراب** - (ا - مقولہ) شراب کی خدمت میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پینے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں -  
**شراب (خوری) خوری** - (ع - ا - صف) شراب پینا - سے نوشی -  
**شراب دو آتشہ** - (ع - ا - صف) دومرتبہ کشید کی ہوئی شراب - تیز شراب -  
**شراب طہور** - (ع - ا - صف) شراباً طہورہ - (ع - ا - امث) پاک شراب جو بہشت میں ملے گی -  
**شراب کشید کرنا** - (ا - محاورہ) شراب کھینچنا - شراب بھیکے کے ذریعے تیار ہونا - شراب بنانا -  
**شراب کے نشے میں چور ہونا** - (ا - محاورہ) سخت بدست ہونا -  
**شراب مقلط** - (ا - محاورہ) ٹھکانا ہوئی شراب -  
**شرابین** - (ا - امث) شراب پینے والی عورت -  
**شراب ناب** - (ع - ا - صف) خالص شراب -  
**شراب اور** - (ش - را - ب) [ا - ر - صف] تیز بہت بھیکا ہوا -  
**شرابی** - (ش - را - ب) [ا - ر - صف] شراب پینے والا - سے نوش -  
**شراب** - (۵ - امث) بدوغا - سراپ -  
**شرابا** - (شرابا) [ا - ہ - مذ] (۱) زور سے لینے برسنے کی آواز (۲) زانا زور کی آواز -  
**شرادھ** - (ش - را - دھ) [ا - س - مذ] گریا کر مہ مہروں کے نام پر برہمنوں کو پوری کچھ ہی کھلانا -  
**شرار** - (ش - را - ر) [ع - ا - مذ] آگ کا تینکا - چنگاری -  
**شرار جستمہ** - (ف - ا - مذ) آگ کی ہوئی چنگاری -  
**شرارت** - (ش - را - رت) [ع - ا - امث] (۱) بدی - ایذا رسانی - مبرائی - خرابی - بدینی (۲) شوخی - بیباکی - بد بانی (۳) شیطنت - بد بانی -  
**شرارت سوجھنا** - (ا - محاورہ) کوئی ایسی بات سوجھنا جس سے جھگڑا پیدا ہو جائے -  
**شرارتی** - (ش - را - رتی) [ف - ا - صف] شریر -  
**شرارتنا** - (ع - متعلق فعل) شرارت سے -  
**شرارتے نکلنا** - (ا - محاورہ) (۱) چنگاریاں نکلنا (۲) آنکھوں سے سخت غصے اور تاراضی کا اظہار ہونا -  
**شرافت** - (ش - را - ف) [ع - ا - امث] (۱) بزرگی - اصالت - بھلبستی (۲) نجابت - عالی خانہ دانی -  
**شرافت پناہ** - (ع - ف - صف) برے درجے کا شریف -  
**شرارکت** - (ش - را - کت) [ع - ا - امث] ساجھا جھدری -  
**شرارکت نامہ** - (ف - ا - مذ) شریعت نامہ - وہ دستاویز جس میں ساجھے کی کیفیت درج ہو -

شرف زیارت - (ع-ف-ا-ذ) طاقات کی عزت

شرف عدالت - (ع-ا-س-ذ) ناظر

شرف لے جانا - (ا-محاورہ) سبقت لے جانا

شرف نیاز - (ع-ف-ا-م) دیکھنے یاٹنے کی عزت

شرف یاب - (ع-ف-ا-ص) عزت پانے والا

شرف ہونا - (ا-محاورہ) بزرگی یا فخر حاصل ہونا - عزت ملنا

شرفا - (ش-ر-نا) (ع-ا-ذ) شریف کی جمع - مذہب لوگ - شریف لوگ

شرقی - (ع-ا-ذ) مشرق - پورب - وہ سمت جہر سے سولج نکلتا ہے

مشرق سے غرب تک - (ع-ا-ذ) (مشرق سے مغرب تک - پورب سے

پچھم تک - پوری دنیا

مشرقی - (مشرقی) (ف-ص) مشرق سے نسبت رکھنے والا - مشرق کا

مشرقی علوم - وہ علوم جو ایشیا سے نکلے ہیں (۲) وہ علوم جو مشرقی زبانوں

میں پڑھائے جائیں

شرک - (ع-ا-ذ) خدا کے ساتھ کسی اور شریک جانا (۲) گنہگار

بت پرستی

شرک جلی - (ع-ا-ذ) ظاہر و صریح شرک جیسے بت پرستی

شرک خفی - (ع-ا-ذ) پوشیدہ شرک - خدا کو چھوڑ کر انسان پر پھروسہ کرنا

شرکاء - (ش-ر-ک) (ع-ا-ذ) شرک کی جمع - ساتھی - ساتھی

شرکت - (شرکت) (ع-ا-م) (۱) شامل ہونا - شمولیت (۲)

ساجھا - شرکت

شرم - (ف-ا-م) (۱) جیا - لاج - حجاب (۲) ننگ عار (۳) ہند

خجالت - شرمندگی (۴) غیرت - عزت - حرمت (۵) خیال - پاس

(۶) شرمندہ

شرم آلود (آلودہ) (ا-ف-ص) شرمگین - نام -

شرم آنا - (ا-محاورہ) جیا آنا - خجرت آنا

شرم بھی نہیں آتی - (ا-ر-ز-ہ) شرم دلنے کے لیے کہتے ہیں شرمندہ ہونا چاہے شامل ہونا چاہے

شرم چہ کتنی سست کہ پیش مراد اید - (ف-م) (۱) بے جیا کے متعلق کسا

جاتا ہے

شرم حضور - (ف-ع-ا-ذ) آنکھ کی شرم رکھنے والا - سلسلے لحاظ کرنے والا

آنکھ کی شرم

شرم دلانا - (ا-محاورہ) شرمندہ کرنا

شرم رکھنا - (ا-محاورہ) آبرور رکھنا - عزت بچانا

شرم رہ جانا - (ا-محاورہ) عزت و آبرو میں ذوق نہ آنا - عزت پرچ جانا

بات رہ جانا

شرمسار - (ف-ص) شرمندہ - نام

شرمساری - (ف-ا-م) شرمندگی - ندامت - خجالت

شرم سے پانی پانی ہونا - (ا-محاورہ) شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہونا

نہایت شرمندہ ہونا

شرم سے ڈوب مرنا - (ا-محاورہ) شرم کے پانی میں ڈوب کر جان نیا

سخت شرمندہ ہونا

شرزا - (ق-ا-ذ) شیر پر - میندوا

شرط - (ع-ص) سازگار - معاون - موافق (۲) پولیس

شرط - (ع-ا-م) (۱) اقرار - عہد - تول قرار (۲) وہ چیز جس پر کسی بات کا

انحصار ہو - (۳) قید - پابندی (۴) باری (۵) لازم ضروری

شرط باندھنا - شرط بندا - (ا-محاورہ) بازی لگانا (۲) عہد کرنا (۳) ذمہ لینا

شرط بجالانا - (ا-محاورہ) شرط پوری کرنا - عہد و پیمان پورا کرنا وعدہ و ناکرنا

شرط ٹھہرانا - (ا-محاورہ) آپس میں عہد و پیمان کرنا

شرط خدمت بجالانا - (ا-محاورہ) ہانڈا داری کے لازم پورے کرنا - اچھی

طرح خدمت انجام دینا

شرط رفاقت - (ع-ا-م) وہ فعل جو رفیق ہونے کے لیے کرنا لازمی ہو

شرط لگانا - (ا-محاورہ) (۱) بازی بندا (۲) قید لگانا (۳) عہد و پیمان کرنا

شرط ہونا - (ا-مضمر) عہد ہونا

شرطی - (شرطی) (ا-ر-ص) (۱) ضروری ہے تک (۲) کسی شرط پر مشروط

شرطیہ - (شرطی) (ع-ص) (۱) اختیاری - شرطی - وہ جملہ جو شرط اور جزا سے

من کر پڑا ہو

شرطیہ ہے - (ا-محاورہ) اس شرط پر عہد یا اقرار سے

شرع - (ع-ا-م) (۱) سیدھا راستہ (۲) قانون محمدی جو قرآن کے

مطابق ہے (۳) آئین - مذہب

شرع پہلنا - (ا-محاورہ) دین اسلام کے قانون پر عمل کرنا

شرع کے خلاف کرنا - (ا-محاورہ) قانون اسلام کے خلاف کوئی بات کرنا

شرع محمدی - (ا-محاورہ) قانون محمدی - دین اسلام کا طریقہ

شرع محمدی نکاح بڑھنا - (ا-محاورہ) قانون اسلام کے مطابق سادہ نکاح کرنا

شرع میں رخصت ڈالنا - (ا-محاورہ) مذہب میں کوئی نئی بات داخل کر کے مصلحت مند

ہونا - مذہبی باتوں میں جھگڑا ڈالنا

شرع میں شرم کیا - (مبطل) جائز بات کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہئے

شرعاً - (ع-ا-م) (۱) از روئے شرع - قانون اسلام کے مطابق

شرعاً و عرفاً - (ع-ا-م) (۱) قاعدے قانون اور آج کے روئے

شرعی - (شرعی) (ع-ص) (۱) شرع کے مطابق - قانون اسلام کے مطابق

شرعی پاجامہ - ٹخنوں سے اوپر یا جامہ

شرعی داڑھی - (ا-م) شرع کے مطابق داڑھی جو ایک مشت اور

دو انگل کے برابر ہوتی ہے

شرعی قسم - (ع-ا-م) (۱) قسم جو ضابطہ قانون اسلام کے موافق ہو (۲) الٹو قسم

شرعاً - (ع-ا-ذ) وہ گھوڑا جو مرتا سمر بادامی رنگ کا ہو (۲) گھوڑے کی ایل

اور دم کے بال زرد رنگ کے ہوں

شرف - (ش-ر-ف) (ع-ا-ذ) (۱) بزرگی - بلندی (۲) بڑی توجیح

فوقیت (۳) عزت - فخر - افتخار (۴) کسی ستارے کا اپنے آبی برج

میں آنا

شرف باریابی - (ع-ف-ا-ذ) (۱) خدمت میں حاضر ہونے کی عزت

شرف پانا - (ا-محاورہ) عزت پانا - فخر حاصل کرنا

شرف خدمت (ن-ا-ص) ملازم ہونے کی عزت

**شرعیّت** - (ش۔ ری۔ عنت) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) مذہبی قانون یا قانون الہی (۲) قانون (۳) طریقہ جمع مدطابق۔  
**شرعیّت کا پابند** - (ع۔ ا۔ مذ) شرعیّت کے احکام میں عمل کرنے والا۔  
**شریف** - (ش۔ رفیع) [ع۔ صف] (۱) بزرگ۔ عالی خاندان (۲) پھلانا  
 اصیل۔ ہند۔ کاملہ تعظیم جو مشہور اور مقدس مقامات کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسے شرفیور شریف۔  
**شریف زادہ** - (ع۔ ا۔ مذ) اشراف کا بیٹا۔ ہند۔  
**شریف الطریقین** - (ع۔ صف) مال باپ دونوں کی طرف سے شریف۔  
**شریف النفس** - (ع۔ صف) شریف طبع۔ نیک خو۔  
**شریف وریز** - ادنیٰ اعلیٰ نیک بد۔ ہر قسم کے لوگ۔  
**شریفیہ** - (ش۔ ری۔ مذ) [ع۔ صف] شریف عورت (ا۔ ر۔ مذ) ایک قسم کا پھل۔ سینا پھل۔  
**شریک** - (ش۔ ریک) [ع۔ صف] شرکت رکھنے والا۔ رفیق (۲) شامل۔ ملا ہوا۔ یحییٰ (۳) حصہ دار۔ ساھی (۴) ساتھی (۵) رشتہ دار۔  
**شریک حیات** - (سج و راحت) [ع۔ صف] زندگی کے مکھ کوہ میں ساتھ کٹنا۔  
**شریک الرزق** - (ف۔ ا۔ مٹ) رزق سے اتفاق کرنے والا۔ متفق الرزق۔  
**شریک جرم** - (ف۔ ا۔ صف) جرم میں شامل۔  
**شریک حال** - (ا۔ مذ) رنج و راحت کا ساتھی۔ دکھ سکھ کا ساتھی۔  
**شریک رنج و راحت** - (ا۔ مقولہ) دکھ سکھ کا ساتھی۔  
**شریک شگھی** - (ا۔ مذ) وہ شخص جو کانتکاری میں شریک ہو اور جس کے نام زیندار کی طرف سے پڑ ہو۔  
**شریک کرنا** - (مص۔ مرکب) ساھی بنانا۔ شامل کرنا۔ حصہ دار بنانا۔  
**شریک ہونا** - (ا۔ محاورہ) ملنا۔ ساتھ ہونا (۲) ساھی ہونا۔

## ش۔ ر۔

**شراب شراب** - (ا۔ مٹ) کوڑے مارنے کی آواز۔  
**شرابا** - (ا۔ مذ) کھونٹ بھرنا کسی سیال کو آواز کے ساتھ کھینچ کر پینا۔

## ش۔ س

**شست** - [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) نساہ۔ سیرہ۔ ہدف (۲) پھیل پکڑنے کا کاٹنا  
 بنی (۳) انگشتانہ۔ فارسی میں بفتح اُذَل مستعمل ہے۔  
**شست باندھنا** - (ا۔ محاورہ) نشانہ لگانا۔ سیرہ باندھنا۔  
**شست** - (ف۔ ا۔ مذ) دھونے کا عمل۔  
**شستگی** - (ش۔ س۔ ت۔ گی) [ا۔ ر۔ مٹ] صفائی۔ دھلا ہوا۔ ہونا۔ (۲) الفاظ کی سلاست۔  
**شست و نشو** - [ف۔ ا۔ مٹ] نہانا دھونا۔ دھو کر صاف کرنا۔

شرم سے گستاخ گھڑی ہو جانا۔ گر جانا) - (ا۔ محاورہ) بے حد شرمندہ ہونا (۲) شرم سے منہ پھیلانے کو جی جاہنا۔  
 شرم کا مقام ہے۔ (ا۔ محاورہ) غیرت کی بات ہے۔  
 شرم کو بنا۔ (ا۔ محاورہ) جیا کرنا۔ شرمندہ ہونا۔ لحاظ کرنا۔  
 شرم کی بات۔ (ا۔ مٹ) غیرت کی بات۔ افسوس کی بات۔  
 شرم کے بارے۔ (ا۔ متعلق) شرم کی وجہ سے غیرت سے۔  
 شرم گاہ۔ (ف۔ ا۔ مٹ) عورت کی جائے شرم۔ اندام نہانی۔ انسان کے بواہ بڑی عورت  
 شرمگین۔ (ف۔ صف) شرمندہ۔ منجل۔  
 شرمناک۔ (ف۔ صف) قابل شرم۔  
 شرم دانے کے پیوستے گرم۔ (ا۔ مٹ) شرم کرنے والا محروم ہی رہتا ہے۔  
 شرم ہی شرم میں کام تمام ہوا۔ (ا۔ مٹ) لحاظ یا مروت میں نقصان اٹھایا  
 (کام نیک کرنا)  
 شرمناک شرمی۔ [ا۔ مٹ] شرم و لحاظ کے دباؤ میں مروت میں۔ طوعاً کرہاً۔  
 شرمناک۔ (ش۔ سانا) [ا۔ ر۔ مص] (۱) بجانا (۲) شرمندہ ہونا۔ نام نہان۔  
 (۳) شرمندہ کرنا۔ ذلیل کرنا۔  
 شرمناک و شرمناک۔ (ش۔ سانا۔ او۔ ش۔ ما۔ او) [ا۔ ر۔ صف] شرمیلا۔ جیادار۔  
 شرم و جیا کا دامن چاک ہونا۔ (ا۔ محاورہ) بے شرم و بے جیا ہو جانا۔  
 شرمندگی۔ (ش۔ زین۔ د۔ سکی) [ف۔ ا۔ مٹ] شرم۔ ندامت۔ نجالت۔  
 شرمندگی اٹھانا۔ (ا۔ محاورہ) شرمندہ ہونا۔ خفت اٹھانا۔ خفیف ہونا۔  
 شرمندہ۔ (ش۔ زین۔ دہ) [ف۔ صف] (۱) شرمناک۔ نام۔ (۲) ممنون  
 شرمندہ احسان۔ (ممت) [ف۔ صف] احسان مند۔ ممنون احسان  
 شرمندہ تعبیر۔ (ف۔ صف) جس کی کوئی تعبیر ہو۔  
 شرمندہ معنی۔ (ف۔ صف) جس کے معنی ہوں۔ یا معنی۔  
 شرمیلا۔ (ش۔ ری۔ لا) [ا۔ ر۔ صف] شرم کرنے والا۔ جیادار۔  
 شرن۔ (س۔ ا۔ مذ) پناہ۔ بچاؤ۔ حفاظت۔ امن کی جگہ۔  
 شرنارہتی۔ (ا۔ ۵۔ مذ) جو وطن چھوڑ کر آیا ہو۔ ہماجر۔  
 شروا۔ (ش۔ و۔ ا۔ ر۔ مذ) شوربا۔  
 شروا پھلکا۔ (ا۔ ۱۔ مذ) شوربا اور پھلکا (۲) ہلکی غذا۔  
 شروا چٹ۔ (ا۔ صف) (۱) بیوں پتھر۔ لالچی (۲) ابن الوقت۔ زمانہ ساز  
 شروا۔ (ش۔ ر۔ و۔ ر) [ع۔ ا۔ مذ] شریک۔ جمع۔ ہدایاں۔  
 شروا۔ (ع۔ شریک کی جمع۔ عہد۔ بیان۔ اقرار۔  
 شروا۔ (ش۔ ر۔ و۔ ر) [ع۔ ا۔ مذ] آغاز۔ ابتدا۔ پہل۔ اٹھانا۔  
 شروا۔ (ش۔ ر۔ و۔ ر) [ع۔ ا۔ مٹ] شروع کی جمع ملنا۔ وہیں آمد  
 مستعمل ہے۔ ابتدا۔ آغاز۔  
 شری۔ (ش۔ ری) [ا۔ ر۔ صف] (۱) فسادی۔ شریر (۲) بد  
 شری۔ (ش۔ ری) [س۔ ا۔ مذ] جناب۔ صاحب۔ مسٹر۔  
 شریان۔ (ش۔ ری) [ع۔ ا۔ مٹ] چھوٹی چھوٹی ریں جن کی صاف سرنج  
 خون گردش کرتا ہے۔ جمع شریان۔  
 شری۔ (ش۔ ری) [ع۔ صف] (۱) خزانہ۔ (۲) بڑا۔ بد ذات  
 شری۔ (ش۔ ری) [س۔ ا۔ مذ] بدن۔ جسم۔

شستہ - (شسّیت) [ف - صفت] صاف کیا ہوا (۲) پاک خالص  
(۳) دھویا ہوا -  
شستہ تقریر - (زبان - گفتگو) [ف - ۱ - مٹ] سلیس اور صاف  
بات چیت -  
شستہ و رفتہ - (ف - صفت) مٹھا ہوا - پاکیزہ -  
شستہ زبان - (ف - ۱ - مذ) جس کی زبان سلیس ہو -

## شش

شش - (ف - صفت) چھ -  
شش پہلو (گوشت) [ف - صفت] چھ کونہ  
شش چہمت - (ف - صفت) چھ اطراف شمال، جنوب، مشرق، مغرب  
اوپر نیچے - تمام عالم - پوری کائنات -  
شش دانگ - چھ طرفیں - تمام دنیا -  
شش روز - (ف - ۱ - مذ) دنیا کی پیدائش کے چھ دن -  
شش عید (ششہ عید کے روزے) [ف - ۱ - مذ] عید الفطر کے  
بعد کے چھ روزے -  
ششدر - (۱) حیران پریشان بہکا ہوا (۲) چھ دروازے کا مکان  
ششتم - (ف - مٹ) چھٹا -  
شش ماہی - [ف - ۱ - مٹ] چھ ماہی - نصف سال -  
شش و پنج - (ف - ۱ - مذ) سوچ بچار - فکر و اندیشہ - گھبراہٹ -  
شش - (ف - ۱ - مذ) بھیڑا -  
شش - (۱ - مذ) وہ آواز جس کے ذریعے کتے سے کسی پر حملہ کرایا جاتا ہے  
ششکار - (ششکاری) - (ششس کار) [۱ - ۵ - مٹ] شش کد کد  
کتنے کو کسی شکار پر دوڑانا -  
ششکارنا - (ششش - کارنا) [۱ - ۵ - مض] (۱) شکار پر دوڑانا -  
(۲) شش شش کرنا -

## شش - ع

شعار - (ش - عار) [ع - ۱ - مذ] (۱) جین - طریقہ - طور مرتکبات کے آخر میں  
آتا ہے جیسے ستم شعار و فاشعار (۲) برون سے لگا ہوا کپڑا -  
شعاع - (ش - عاع) [ع - ۱ - مٹ] (۱) کرن (۲) روشنی - جگمگ -  
شعاع ریزی - (ع - ف - ۱ - مٹ) (۱) جگمگانا - درخشاں کرنا -  
روشنی ڈالنا -  
شعاعی - (ش - عاعی) [ع - صفت] کرن سے متعلق - روشن - جگمگلا -  
شعائر - (ش - عا - ار) [ع - ۱ - مذ] (۱) قربانیاں (۲) نشانیاں - رسوم  
(۳) فرائض اور عبادات -  
شعائر حج - (ع - ۱ - مذ) حج کے فرائض -  
شعب - [ع - ۱ - مذ] پہاڑی ٹرک - درہ (۲) نیچی زمین (۳) خاندان - قبیلہ -  
شعبان - (شع - بان) [ع - ۱ - مذ] (۱) مسلمانوں کا آٹھواں قمری مہینہ -  
(۲) شب برات کا مہینہ -  
شعبہ - (شع - ب - دہ) [ع - ۱ - مذ] (۱) جادو سے متعلق ہنر یا کھیل -  
(۲) نظر بندی - دھوکا - فریب (۳) چالاک کا مظاہرہ -  
شعبہ باز - شعبہ کر - (ف - ۱ - مذ) وہ بازی گرجو حیرت انگیز کرتے دکھائے  
بھانپتی (۲) دھوکے باز (۳) مداری -  
شعبہ بازی - (ف - ۱ - مٹ) (۱) نظر بندی (۲) جادوگری (۳)  
دغا بازی - عیاری - چالاک -  
شعبہ - (شع - نب) [ع - ۱ - مذ] (۱) ٹکڑا - حصہ - شاخ (۲) وہ نہر جو کسی  
نہر سے نکالی جائے - (۳) محکمہ -  
شعرا - [ع - ۱ - مذ] (۱) جاننا - کسی باریک چیز کا جاننا - (۲) موزوں مفق کلام

## شش - ص

شصت - [ف - ۱ - مذ] ساٹھ - ۶۰

## شش - ط

شط - [ع - ۱ - مذ] (۱) دریا - ندی - (۲) دریا کا کنارہ (۳) اونٹ کے  
کودان کی ایک طرت -  
شط العرب - (ع - مذ) عراق کا دریا جو دجلہ اور فرات کے ملنے سے بنتا ہے

شعور - (ش-عور) [ع-ا-ند] (۱) عقل سبیلقہ (۲) تیز بوجھان (۳) سمجھ  
عقل - دانش -  
شعور کمرٹا - (۱) محاورہ) ہوش سنبھالنا۔ ہوشیار ہونا (۲) تیز بیکھنا۔  
شعیب - (ش-عیب) [ع-ا-ند] ایک مشہور پیغمبر۔  
شعیب - (ش-عیب) [ع-ا-ند] جو۔

## ش-غ

شغال - (ش-غال) [ف-ا-ند] گیدڑ۔  
شغب - (ش-غب) [ع-ا-ند] شور۔ غل۔  
شغف - (ش-غف) [ع-ا-ند] بے حد محبت۔ بے اتہار محبت۔  
کمال دہچی۔  
شغل نیشنل - [ع-ا-ند] (۱) کام دھندا (۲) مشغلہ۔ پیشہ (۳)  
تفریح طبع (۴) خدا کا دھیان۔  
شغل کرنا - (۱) محاورہ) (۱) کسی کام میں مشغول ہونا۔ کھانے پینے بھٹھ  
پینے وغیرہ کے لیے مشغول ہے۔

## ش-ف

شفا - (ع-ا-مش) کنارہ - ساحل۔  
شفا - (ش-فا) [ع-ا-مش] صحت۔ تندرستی۔ بیماری سے صحت۔  
شفا بخش - (ع-ف-ا-مش) شفا دینے والا۔ اچھا کرنے والا۔  
شفا یانا - (مص-رب) بیماری سے صحت پانا۔ صعباً ہونا۔  
شفا خانہ - (ع-ف-ا-ند) بیماروں کے علاج کی جگہ۔ ہسپتال۔  
شفا یاب ہونا - (۱) محاورہ) صحت ہونا۔ تندرست ہونا۔  
شفا شرف - (ش-ف) (۱) پے در پے (۲) تیز کی سپیم آواز۔  
شفا عت - (ش-فاعت) [ع-ا-مش] گناہوں کی معافی کی سفارش۔  
شفا عت کنندہ - شفا عت گر - (ع-ف-مش) شفا عت کرنے والا۔  
شفا ف - (ش-ف-ف) [ع-ا-مش] نہایت صاف جہیں آ رہا  
نظر آئے۔  
شفا لو - (ش-ف-ناو) [ف-ا-ند] ایک قسم کا بڑا آٹو۔  
شفتل - (ش-فتل) [ا-ر-صف] بدھین۔ بدکار عورت - (۲) ایک قسم  
کا چارہ جسے شالا بھی کہتے ہیں۔  
شفت - (Shift) [ا-گ-ا-مش] [مزدوروں کی] بدل چوکی۔  
شفتہ - (ش-فت) [ع-ا-ند] گھریا زمین کی ہمسائی جس کا بہت  
بڑا حق ہے۔  
شفتق - (ش-فتق) [ع-ا-مش] شرمی جو طولوع آفتاب سے پیشتر صبح  
کو اور غروب آفتاب کے بعد شام کو نمودار ہوتی ہے۔  
شفتق چھوٹا - (۱) محاورہ) شفتق کھلنا شفتق کا نمودار ہونا۔

نظم - بیت - گیت - (۳) سخن موزوں (۴) بال - مو  
شعربانا - (۱) محاورہ) (۱) شعر کہنا۔ شعر موزوں کرنا (۲) شعرین اصلاح کرنا۔  
شعر - (ع-ف-ا-ند) پاکیزہ۔ پُر لطف شعر۔  
شعر خوانی - (ع-ف-ا-مش) شعر پڑھنا۔  
شعر ڈھل جانا - (۱) محاورہ) شعر کے سانگے کے ساتھ موزوں ہوجانا۔  
شعر فہمی - (عالم بالا معلوم شد - (ف-نیل) شعر شناسی یا نافی پر ایک طنز  
کہاؤں والوں کے شعر سمجھنے کا حال معلوم ہو گیا۔  
شعر گو - (ع-ف-ا-ند) شعر کہنے والا۔ شاعر۔  
شعر گوئی - (ع-ف-ا-مش) شاعری۔ شعر کہنا۔  
شعر لڑنا - (۱) محاورہ) دو شاعروں کے اشعار کا مضمون ایک ہونا۔  
شعر مراد رس کہہ کر (۲) (۱) میرا شعر اور تیرا شعر کیا اس میں تباہی ہے جب کوئی چیز تندرستی کے  
بابت ہوجائے۔  
شعر و سخن - (ف-ا-صف) شاعری شاعری کا مذاق۔  
شعرا - (ش-ع-را) [ع-ا-ند] شاعری جمع۔ شعر کہنے والے۔  
شعریت - (ش-ع-ری) [ع-ا-مش] شعر میں۔ شعر کا حسن۔ شعر کی روح۔  
(۲) حسن و رعنائی۔ دلکشی۔ کمال جاہ بیت۔  
شعشعہ - (ش-ع-ع) [ع-ا-ند] چمک۔ آفتاب کی روشنی (۲) حرف کا آخری  
حصہ (۳) انوار۔ چھوٹی رپورت۔  
شعلہ - (ش-ع-لہ) [ع-ا-ند] (۱) روشنی چمک (۲) آگ کی پیٹ۔ کو۔  
شعلہ شام - (ع-ف-صف) جلنے والا (۲) مازا شراب پینے والا۔  
شعلہ آواز - (ع-ف-ا-ند) آواز کی تیزی جو دل پر اثر کرے۔ پرتو آواز۔  
شعلہ برق - بجلی کی چمک۔ وہ شعلہ جو بجلی چمکنے کے وقت نظر آتا ہے۔  
شعلہ آفتاب - (۱) آگ کی پیٹ نکلا۔ (۲) غصہ آنا (۳) جلن ہونا۔  
شعلہ آفتاب - شعلہ آفتاب - (ع-ف-صف) شعلہ برسانے والا۔  
جس سے شعلے نکلیں۔  
شعلہ بھبھوکا ہونا - (۱) محاورہ) کمال غضبناک ہونا۔ غصے میں سرخ ہونا۔  
شعلہ بھڑکنا - (۱) محاورہ) شعلہ کا تیز ہونا۔ (۲) سدا کی آگ بھڑک اٹھنا۔  
شعلہ جام - (کنا بیتا) شراب۔  
شعلہ جوالا - (ع-ا-ند) گڑا گڑا پھرنے والا شعلہ (۲) جلتی ہوئی بیٹی کا چکر۔  
(۳) معشوق۔  
شعلہ جو - (ع-ف-صف) (۱) تیز مزاج۔ تند خو (۲) محبوب۔  
شعلہ رُخ - شعلہ رو (ع-ف-صف) (۱) دیکھتے جیسے والا۔ (۲) معشوق  
شعلہ درون - (ع-ف-ا-ند) اندرونی آگ۔ دل کی پیش  
شعلہ زار - (ع-ف-ا-صف) شعلہ پیدا کرنے والا۔  
شعلہ زبان - تیز زبان۔  
شعلہ زان - (ع-ف-صف) شعلہ مارنے والا شعلہ نکلنے والا۔  
شعلہ طور - (ع-ا-ند) وہ زور جو حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ پر دکھائی دیا۔  
شعلہ فشاں - (ع-ف-صف) شعلے برسانے والا۔  
شعلہ مستعل - (ع-ا-ند) ناپاؤ شعلہ (۲) اچھی اور ناپاؤ چیز  
شعلے اگلا - (۱) محاورہ) کسی چیز کا آگ کی پیش دینا۔

شک آنا۔ شک پڑنا۔ (احوارہ) شبہ پید ہونا۔ گمان ہونا۔  
 شک جانا۔ (مص مرکب) (۱) شبہ ہونا۔ (۲) شبہ دور ہونا۔  
 شک ڈالنا۔ (احوارہ) شبہ پید کرنا۔  
 شک رفع کرنا۔ (احوارہ) شبہ دور کرنا۔ شک نکالنا۔  
 شک ظاہر کرنا۔ (احوارہ) شبہ کا اظہار کرنا۔  
 شک گزرتا۔ (احوارہ) شبہ ہونا۔  
 شکار (ش۔ کار) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) جانوروں کا مارنا (۲) مارا ہوا جانور۔  
 (۳) وہ جانور جس کا شکار عام طور پر کیا جاتا ہے (۴) ٹوٹ مچھنت کا مال۔  
 شکار بند۔ (ن۔ ا۔ مذ) وہ قسم جو چھوڑنے کی دم کے ذریعہ شکار لگانے یا  
 ضروری سامان باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔  
 شکار کا ریکارڈ۔ (ا۔ مثل) شکار بیکار لوگوں کا مشغول ہے۔  
 شکار کرنا۔ (احوارہ) (۱) کسی جانور یا حیوان کو مارنا (۲) قابو میں لانا۔  
 (۳) فریفتہ کرنا۔ مغلوب کرنا (۴) فریب سے ہوننا۔  
 شکار کھیلنا۔ (مص مرکب) جانور کو مارنا۔ جانور کو کھیلنا۔  
 شکار کی ٹٹی۔ (ا۔ مثل) ایک چھوٹی ٹی ٹی جس پر گھاس اور پتے باندھ کر  
 شکاری اپنے باس رکھتا ہے۔  
 شکار کے وقت کی تیاری۔ (ا۔ مثل) کام کے وقت جیسے بہانے کرنا۔  
 یا عین موقع پر مل جانا۔  
 شکار گاہ۔ (ن۔ ا۔ مذ) شکار کھیلنے کا جھنگل۔ رمن۔ صید گاہ۔  
 شکار کا نقد آنا۔ (احوارہ) شکار کا نور ملنا۔ کسی کا وکیلوں، طوائفوں  
 یا بد معاشرہ کے قابو آنا (۲) مہنت ملنا۔  
 شکار ہونا۔ (۱) کسی جانور کا مارا جانا (۲) جال میں پھنسا۔ قابو میں آنا۔  
 (۳) عاشق ہونا۔ مفتون ہونا۔  
 شکاری۔ (ش۔ کاری) (ن۔ ا۔ مذ) (۱) شکار کرنے والا شخص (۲)  
 صیاد (۳) شکار سے نسبت رکھنے والا۔  
 شکاری جانور۔ (ن۔ ا۔ مذ) شکار کرنے والا جانور۔  
 شکاری گنا۔ (ا۔ مذ) شکار پکڑنے والا گنا۔  
 شکار۔ (ع۔ ا۔ مذ) وہ گھوڑا جس کی تین ٹانگیں سفید اور چوٹی کسی اور  
 رنگ کی ہو۔  
 شکانا۔ (ق۔ مص) ڈرانا۔  
 شکایت۔ (ش۔ کا۔ بیت) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) گلہ۔ شکوہ (۲) مرض  
 بیماری (۳) فریاد۔ داخواہی (۴) بُرائی۔ بُدی۔ عیب۔  
 شکایت آمیز۔ (ع۔ ف۔ صف) شکایت سے بھرا ہوا جس میں شکایت  
 پائی جائے۔  
 شکایت رفع کرنا۔ (۱) محاورہ) دکھ درد دور کرنا۔ تکلیف مٹانا۔ شکایت  
 یا گلہ کی تلافی کرنا۔  
 شکایت کرنا۔ (۱) محاورہ) گلہ کرنا۔ دکھ ڈرانا (۲) غیبت کرنا (۳)  
 کوئی تکلیف ہونا۔  
 شکایت مند۔ (ع۔ ف۔ صف) شکایت کرنے والا۔ گلہ گزار۔  
 شکایت ہونا۔ (احوارہ) گلہ سونا (۲) کوئی بیماری ہونا (۳) بُرائی بیان کرنا۔

شفق کا گلہ۔ (۱) صف) نہایت حسین۔  
 شفقت۔ (شفت۔ قت) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) لطف۔ مہربانی۔ رحم  
 (۲) محبت۔ پیار۔ جمع : اشفاق  
 شفق۔ (ش۔ ق۔ قی) (ع۔ صف) شفق سے متعلق۔ شفق کی مانند۔  
 شفیع۔ (ش۔ فیع) (ع۔ صف) (۱) شفاعت کرنے والا۔ (۲) شفیع  
 کا حق رکھنے والا۔  
 شفیع الأئم (الورا) (ع۔ صف) اُمت کی شفاعت کرنے والا۔  
 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔  
 شفیع محشر۔ (ع۔ صف) محشر کے دن شفاعت کرنے والا۔ رسول  
 صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔  
 شفیق۔ (ش۔ فین) (ع۔ صف) (۱) مہربان۔ غمخوار۔ ہمدرد۔ (۲) پیارا

## ش۔ ق۔

شق۔ (ع۔ صف) (۱) پھا ہوا۔ شکاف پڑا ہوا (۲) [ا۔ مذ] شکاف۔ دراڑ۔  
 شق القمر۔ (ع۔ ا۔ مذ) چاند کا پھٹ جانا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔  
 شق۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نصف حصہ (۲) ٹکڑا حصہ (۳) طرف۔ جانب  
 (۴) قشر۔ نوع۔  
 شق نکالنا۔ (احوارہ) شبہ کرنا۔ جھگڑا نکالنا۔  
 شق نکلتا۔ (احوارہ) جھگڑا نکلتا۔ شخ نکلتا۔  
 شق ہونا۔ (احوارہ) پھٹ جانا۔  
 شقا۔ (ع۔ ا۔ مذ) بدبختی۔  
 شقات۔ (ع۔ ا۔ مذ) دشمنی۔ مخالفت۔ نفاق۔  
 شقاوت۔ (ش۔ ق۔ ق۔ و۔ ت) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بدبختی۔ بد نصیبی  
 (۲) بد معاشرہ (۳) سنگدلی  
 شقائے ش۔ ق۔ ق۔ ن) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) شقیقہ کی جمع (۲) شکاف (۳)  
 نکل لالہ۔ ایک پھول۔  
 شقہ۔ (ش۔ ق۔ ق۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) وہ رقعہ جو بادشاہ اپنے امراء کو کسی  
 ضروری امر کے لیے لکھے۔ خط۔ رقعہ (۲) وہ پکڑا جو علم میں باندھتے  
 ہیں۔ پھر پرا۔  
 شقی۔ (ش۔ ق۔ ق۔ ع۔ صف) (۱) بدبختی۔ بد نصیب (۲) غلام سنگدل جمع اشقیاء  
 شقیین۔ (ع۔ صف) نصف۔ آدھا ٹکڑا۔ ہرج۔ کا نصف (۲) سنگائے شقی۔  
 شقیقہ۔ (ش۔ ق۔ ق۔ ت۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) کینٹی (۲) آدھے سر کا درد۔

## ش۔ ک۔

شک۔ (ع۔ ا۔ مذ) شبہ۔ گمان۔ احتمال۔ اشتباہ۔ ابہام۔ جمع :  
 مشکوک۔

**شکارتی** - (ش-کا-تی) [اُرصفت] شکایت سے متعلق شکایت کرنے والا۔  
**شکستگی** - (شک-کتی) [س-امث] طاقت - بل - زور۔  
**شکر** - (ش-کر) [ش-مک-کر] [ف-امث] کھانڈ - جینی - بورا۔  
**شکر بارہ** - (ش-مک-کر) [ف-امث] ایک قسم کی مٹھائی جو مربع شکل کی ہوتی ہے۔  
**شکر بھونانا** - چنے یا مٹر کا وادرجس پر شکر لپیٹی جوتی ہو۔ (ق)  
**شکر تری** - (ش-مک-کر) [ف-امث] سفید شکر  
**شکر خا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) شکر جیانا ہوا (۲) شیریں سخن۔  
**شکر خند** - (ش-مک-کر) [ف-امث] شکر اہٹ - بیہوش۔  
**شکر جوانی** - (ش-مک-کر) [ف-امث] میٹھی بوند۔  
**شکرور** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ایک پرند جو رس یا مٹھاس نہایت شوق سے کھاتا ہے (۲) زمانا کھلنے والا۔  
**شکر خورے** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) جیسی خواہش ہو ویسے ہی سامان پیدا ہوجاتے ہیں۔  
**شکر خورے** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) اچھے کو نیک نتیجہ اور بے کو مرزا ملتی ہے۔  
**شکر دان** - (ش-مک-کر) [ف-امث] چینی رکھنے کا برتن۔  
**شکر دان** - (ش-مک-کر) [ف-امث] میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا۔  
**شکر رنجی** - (ش-مک-کر) [ف-امث] معمولی سی رنجش۔  
**شکر برز** - (ش-مک-کر) [ف-امث] شیریں گفتار - خوش طبع - پر مذاق۔  
**شکر زبان** - (ش-مک-کر) [ف-امث] شیریں سخن اور خوش گفتار۔  
**شکر سے مزید بھرنا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] کسی خوشخبری کے شکر میں مٹھائی کھلانا - مٹھیا کھانا۔  
**شکر شکن** - (ش-مک-کر) [ف-امث] شیریں زبان - شیریں کلام کرنے والا۔  
**شکر و شیر ہونا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] بہت گہرے دوست ہونا - شیر و شکر فصیح ہے۔  
**شکر خوش** - (ش-مک-کر) [ف-امث] شکر فشان - (۲) شیریں زبان۔  
**شکر قند** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ایک قسم کی میٹھی زکامی جسے اُبال کر یا ریت میں بھون کر کھاتے ہیں۔  
**شکر گفتار** - (ش-مک-کر) [ف-امث] شیریں سخن - شیریں زبان۔  
**شکر گنج** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) شکر کا خزانہ (۲) حضرت ذرید الدین مسعود کا لقب۔  
**شکر** - (ش-مک-کر) [ف-امث] [ع-امث] احسان ماننا - سپاس - احسان مند۔  
**شکر ایزد** - (ش-مک-کر) [ف-امث] [ع-امث] [ع-امث] اللہ کا شکر خدا کے احسان کی تعریف کا اظہار۔  
**شکر کی جگہ ہونا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) محاورہ) احسان ماننے کا موقع یا محل ہونا۔  
**شکر گزار** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) احسان ماننے والا۔  
**شکر گزاری** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) احسان مندی - ممنونیت۔  
**شکر لب** - (ش-مک-کر) [ف-امث] میٹھے بونٹوں والا - کٹیبتا معشوق۔  
**شکر اند** - (ش-مک-کر) [ف-امث] [ع-امث] [ع-امث] وہ خشک جس میں کھانڈا دگھی ملا کر کھلا ہیں۔  
**شکر اند** - (ش-مک-کر) [ف-امث] [ع-امث] [ع-امث] وہ رقم جو کامیابی کے بعد علاوہ محنت کے دی جاتے۔

**شکر وار** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکر دم** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکرہ** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکرہ بانا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکریرہ** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست بند** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست بانا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست پذیر** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست تویر** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست خوردہ** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست فاش** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست بھاری شکست** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست کھانا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست و رنجت** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکست یافتہ** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکستگی** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکستہ** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکستہ بال** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکستہ خاطر** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکستہ حال** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکستہ رنگ** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکستہ نویس** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکستنا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) ہار - ہزیمت۔  
**شکل** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) صورت۔  
**شکل بدلتا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) صورت تبدیل کرنا۔  
**شکل بگاڑنا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) صورت بگاڑنا۔  
**شکل بنانا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) صورت بنانا۔  
**شکل پکڑنا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) صورت پکڑنا۔  
**شکل توڑنا** - (ش-مک-کر) [ف-امث] (۱) صورت توڑنا۔

شکیل - (ش کیل) [اُر صَف] حُسنِ خوبصورت - وچہرہ -  
شکیلہ - (ش کی لہ) [اُر صَفَت] خوبصورت عورت -

## ش - گ

شگاف - (ش گاف) [ف - ا - ند] (۱) درز - دھاڑ بھری (۲) قلم کے بیچ کا جھاڑ -

شگاف پڑنا - (۱) محاورہ) بھٹ پڑنا -

شگاف دینا - شگاف لگانا - (۱) محاورہ) (۱) قلم کو چیرنا (۲) منتشر لگانا چیرا دینا -

شگرف - (شگرف) [ف صَف] (۱) عمدہ - عجیب (۲) نادر (۳) نیا بزرگ (۴) خوبصورت حسین

شگفت - (ش گفت) [ف - ا - ند] تعجب جرت -

شگفت - (ش گفت) [ف - ا - ند] خوش بھلا ہوا (مث) تفریح خوشی

شگفتگی - (ش گف - تگی) [ف - ا - مٹ] (۱) پھول کا بھلنا (۲) خوشی فرحت (۳) سرسبزی - شادابی -

شگفتہ - (ش گف - تہ) [ف صَف] (۱) کھلا ہوا (۲) خوش نشاد ماں مسرور شگفتہ بحر - وہ بحر جس کے اشعار میں طبیعت اور الفاظ کی روانی پائی جائے -

شگفتہ پستانی - (ف صَف) ہنس مکھ - خندہ پیشانی -

شگفتہ خاطر - (ف صَف) خوش مزاج - بشاش -

شگفتہ دل - شگفتہ طبع - شگفتہ مزاج - (ف صَف) خوش مزاج - ہنس مکھ

شگفتہ رُو - (ف صَف) ہنس مکھ - خندہ پیشانی -

شگفتہ زمین - (ف - ا - مٹ) وہ روایت قافیہ جس میں اچھے شعر نکلیں -

شگن - (ش گن، ش گن) [ف - ا - مٹ] (۱) شگون - فال (۲) نذرانہ - نقد - نیگ -

شگن سجانا - (۵ - محاورہ) فال دیکھنا -

شگن کرنا - (۵ - محاورہ) (۱) کسی کام کو اچھے وقت میں شروع کرنا (۲) ابتدا کرنا - پہل کرنا -

شگنیا - (ش گن - یا) [ا - ۵ - ند] رمال - فالیا - نجومی -

شگوفہ - (ش گوفہ) [ف - ا - ند] (۱) کلی - بن کھلا پھول (۲) عجیب - انوکھی بات

شگوفہ چھوٹنا - (۱) محاورہ) (۱) کلیاں نکلنا - کلیاں کھلنا (۲) انوکھی بات نکلنا (۳) فتنہ کھڑا ہونا (۴) ناگمان امر پیش ہونا -

شگوفہ چھوڑنا - (۱) محاورہ) کوئی فتنہ انگیز بات کہنا -

شگوفہ کاری - (ف - ا - مٹ) گلکاری - پھول بچی بنا نا - نمونہ قدت -

شگوفہ کھلانا - (۱) محاورہ) (۱) پھول کھلانا - بہار دکھانا (۲) انوکھی بات کرنا (۳) فتنہ اٹھانا -

شگوفے نکالنا - (۱) محاورہ) عجیب نکالنا -

شگون - (ش گون) [ف - ا - ند] (۱) شگون (۲) فال (۳) نیگ -

شگون لینا - (۱) محاورہ) فال لینا - مبارک گھڑی دیکھنا - کسی کام کے ہونے یا

شکل چٹیلوں کی مزاج پر یوں کا - (۱) مثل) چوہوتی پر غرور کرنے والا -  
شکل چھاری - (ع - ا - مٹ) افسوس کے پہلے مغالہ کی بیہوشی شکل جو ایسی آسان ہے کہ اسے نہ سمجھے والا نہایت احمق سمجھا جاتا ہے -

شکل دیکھا کرے - (۱) محاورہ) جبران ہو جائے -

شکل زیر معلوم ہونا - (۱) محاورہ) صورت سے نفرت ہونا -

شکل سے بزار ہونا - (۱) محاورہ) سخت نفرت کرنا -

شکل نکالنا - (۱) محاورہ) موقع نکالنا - کوئی تدبیر سدا کرنا -

شکل و شاہت - (ف - ا - مٹ) صورت - چہرہ - رنگ - ڈھنگ -

شکل و مشاغل - (ف - ا - مٹ) صورت و میرت - رنگ و روپ -

شکم - (شکم) [ف - ا - مٹ] (۱) شکم پرست - شکم پرور - (ف صَف) (۱) بیٹو - کھاؤ (۲) حریف - لالچی -

شکم سیر - (ف صَف) پیٹ بھرا ہوا - رجا ہوا - آسودہ -

شکمی - (شکمی) [ف صَف] (۱) جھکاؤ - مادر زاد پیدائشی (۲) پیٹ سے متعلق (۳) سچ کا - اندرونی (۴) پر غور پیٹو (۵) وہ کاشتکار جو اراضی کو اصلی کاشتکار سے لے کر جوتے ہوئے -

شکسن - (ش کسن) [ف - ا - مٹ] (۱) چیں - بل (۲) مچھول - سلوٹ - شکستن مصدر کا صیغہ امر جو اسم کے بعد آ کر اسے اسم فاعل بناتا ہے جیسے بُت شکسن -

شکسن ڈالنا - (ف صَف) پھپھار زلف اور بالوں کی تعریف میں کہا جاتا ہے

شکسنہ - (ش کسنہ) [ف - ا - مٹ] (۱) مجھ کو مزادینے کا آلہ - (۲) جلد سازوں کا ایک اوزار جس میں کتابیں دبا کر کاٹتے یا پٹتے لگاتے ہیں - (۳) عذاب - ایذا - دکھ - تکلیف -

شکسنہ آبی - (ف - ا - مٹ) روٹی دہانے کا ایک آلہ جو پانی کے دباؤ سے روٹی کے حجم کو کم کرتا ہے - براہ پریس -

شکسنے میں کھجوانا - شکسنے میں کھینچنا - (۱) محاورہ) (۱) ملزم کو شکوے کے ذریعہ عذاب دینا (۲) سخت مزادینا - (۳) چاروں طرف سے بھگڑ دینا -

شکسور - (ش کور) [ع صَف] (۱) بُت شکر کرنے والا (۲) خدا کا ایک صفاتی نام -

شکوک - (ش کوک) [ع - ا - ند] شک کی جمع - شبہات -

شکوکہ - (شکوکہ) [ف - ا - ند] شکایت - گلہ -

شکوکہ سنج رگزار - (ع - ف صَف) شکایت کرنے والا -

شکوکہ گزاری - (ف - ا - مٹ) گلہ - دوستانہ شکایت -

شکوکہ مند - (ف صَف) شکوکہ کرنے والا - گلہ کرنے والا -

شکوکہ - (ش کوکہ) [ف - ا - مٹ] (۱) رعب داب - نشان و شکرکت -

شکلی - (شکلی) [ع صَف] (۱) وہی شبہ کرنے والا (۲) غیر یقینی -

شکلیب - (ش کلب) [ف - ا - مٹ] (۱) صبر - تحمل - بردباری - برداشت -

شکلیب - (ش کلب) [ف - ا - مٹ] (۱) صبر و شکلیب استعمال کرنا ہے -

شکلیبانی - (ش کلبانی) [ف - ا - مٹ] (۱) صبر - شکلیب - تحمل -



شمارہ (ش-مار) [ف-۱-مذ] (۱) گنتی تعداد (۲) حساب جمعیتہ  
شمار دانتے (ف-۱-مذ) وہ دانے جو تسبیح کے پھندنے میں سیکڑوں  
کا حساب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔  
شمار سے باہر (اصف) بے حساب۔ اُن گنت۔  
شمار کنندہ (ف-صفت) (۱) شمار کرنے والا (۲) علم حساب میں کسر کے

اد پر کا عدد جیسے ۲ میں دو۔  
شمار میں نہ لانا (۱-مخادرہ) کچھ نہ سمجھنا۔ کچھ نہ ماننا۔ پروا نہ کرنا۔  
شمار میں نہ ہونا (۱-مخادرہ) ادنیٰ ہونا۔ بالکل معمولی ہونا۔  
شمار نویس (ف-۱-مذ) محاسب حساب کرنے والا۔  
شماریات (ش-مار-ریات) (ف-۱-مض) اعداد و شمار کی باضابطہ  
فراہمی (Statistics)

شمال (ش-م) [ع-۱-مذ] (۱) آفتاب پرست سورج کی سرکش کرنے والا  
شمال (ش-مال) [ع-۱-مذ] (۱) بائیں ہاتھ (۲) ترکی جانب قطب شمالی  
کی سمت (۲) خصلت عادت۔ طبیعت۔ جمع: شمال۔  
شمال رو۔ شمال رویدہ (ع-صفت) جس کا رخ شمال کی طرف ہو۔  
شمالی (ش-مالی) [ف-صفت] شمال سے منسوب۔ اتر کا۔

شمالی ہوا (ف-۱-مذ) باد شمال۔ اتر کی ہوا۔  
شمالیہ (ش-مالیہ) [ع-۱-مذ] خوشبو۔ خوشبو کی گویاں۔  
شمالیہ (ش-مالیہ) [ع-۱-مذ] عادتیں خصلتیں۔  
شمالیہ (ش-مالیہ) [ع-۱-مذ] خوشبو میں شمیم کی جمع۔  
شمالیہ (ع-۱-مذ) (۱) حضرت امام حسینؑ کا قاتل (۲) کناٹا (مردود۔  
شعنی۔ ظالم۔

شمار دگی (ش-مردگی) [ف-۱-مض] گنا۔ شمار کرنا۔  
شمار دہ (ش-مردہ) [ف-صفت] گنا ہوا۔ شمار کیا ہوا۔  
شمس (ع-۱-مذ) سورج۔ آفتاب۔ جمع: شمس۔  
شمس نقلین (ع-۱-مذ) انسانوں اور جنوں کا سورج مراد سیمین صلی اللہ علیہ وسلم  
شمس العلماء (ع-خطاب) انگریزی عہد کا ایک خطاب۔

شمسہ (شم-نہ) [ع-۱-مذ] (۱) وہ سنہرا چاند جو کلس میں لگاتے ہیں (۲)  
چھوٹا پھندا جو تسبیح میں لگاتے ہیں۔ روشندان۔  
شمسی (شم-سی) [ع-صفت] سورج سے متعلق۔ سورج کا۔  
شمشاد (شم-شاد) [ف-۱-مذ] ایک لمبا خوبصورت درخت۔  
شمشاد قامت۔ شمساد قد۔ (ع-صفت) لمبے قد کا۔ معشوق۔

شمشان (شم-شان) [س-۱-مذ] مسان جہاں ہندو لوگ مڑے جلاتے ہیں۔  
شمشور (شم-شور) [ا-۱-مذ] چاول یا دال کو پانی میں ڈال کر تھیں بیٹھے  
ہوئے لٹکے پھیننے کا عمل۔  
شمشیر (شم-شیر) [ف-۱-مض] (۱) شمشیر۔ یعنی ناخن۔ شمشیر کے ناخن کی مانند  
شمسہ (۲) تلوار۔ تیغ۔

شمسہ انزنا (۱-مخادرہ) تلوار کا جسم میں گھسنا۔  
شمشیر بڑاں۔ کاٹنے والی تلوار۔ تیز تلوار۔  
شمشیر برہنہ (ف-۱-صفت) منگی تلوار۔ (۲) لڑنے مرنے پر تیار۔

نہ ہونے کا وقت دیکھنا۔  
شگون ہونا (۱-مخادرہ) اچھی فال نکالنا (۲) نسبت یا منگنی کی رسم ادا ہونا۔

## ش-ل

شئل (ع-صفت) (۱) جسے (۲) تھکا ماندہ۔  
شئل ہو جانا (۱) کام سے تھک جانا (۲) ہاتھ پاؤں کا شل ہو جانا (۳) جسم کی کسی عضو کا  
بیکار ہو جانا۔

شئل (ف-۱-مذ) چھوٹا نیزہ (۲) برہمی۔ ترسول (۳) چھلی مارنے کا نیزہ  
شلاق (ف-۱-مذ) ڈر سے مارنا۔ بہت مارنا (۲) لالچی۔ چابک (۳)

شلبہ شلہ نم۔ (ش-نم) شل۔ نم۔ شل۔ نم۔ (ف-۱-مذ) ایک نرکاری۔  
شلہ سناٹا نہیں (۱-مض) بڑی بڑی آٹھیں۔  
شلخ (ع-۱-مض) بندوق کی باڑھ۔ (۲) نمی۔ (۳) فرج۔  
شلخ (ش-لخ) [ت-۱-مض] (۱) کٹری یا کوڑے سے مار پیٹ۔  
شلک (ش-لک) [ف-۱-مض] بندوقوں یا توپوں کی باڑ جو سلامی  
کیسے چھوڑی جائے۔

شلک اڑانا (۱-مخادرہ) بار چلانا (۲) سلامی اٹارنا (۳) گپ یا کتا۔  
شلنگ (ش-لنگ) [ف-۱-مض] چھلانگ۔ جست۔ پھلانگ۔  
شلنگ بھرنے (۱-مخادرہ) چھلانگ مارنا۔ اُونچا اُچھلنا۔  
شلنگ (Shilling) (ش-لنگ) [ا-۱-مذ] انگریزی  
سیکہ جو بارہ پیس کا ہوتا ہے۔

شلنگا (ش-لنگا) [ا-۱-مذ] دور دور کا ٹانگا۔  
شلوار (شئل-وار) [ف-۱-مض] بھاری گاڈوم پاجامہ۔  
شلوک (ش-لوک) [س-۱-مذ] (۱) نظم۔ شعر۔ بند (۲) حمد۔ قصیدہ۔  
شلوکا (ش-لوکا) [ا-۱-مذ] کہنیوں تک آستینوں کا گزرتہ جو کمر  
تک ہوتا ہے۔

شلکہ (شئل-لکا) [ا-۱-مذ] (۱) ایک قسم کا کھانا جو چاولوں کو شوربے  
میں بہت گلا کر پکاتے ہیں۔ (۲) پھڑی۔

شلکتا شلیکتہ (ش-لی-کتا) [ع-۱-مذ] (۱) ٹاٹ کا بڑا قبیلہ۔  
شلکتے میں میخ نہ رکھیے لشکر میں شیخ نہ رکھیے۔ (۱-مض) میخ بھینے  
کو بچھا دیتی ہے اور شیخ جگہ میں بڑی دکھاتا ہے۔

## ش-م

شما (ف-صنیر) تم۔ آپ  
شمانت (ش-مانت) [ع-۱-مض] (۱) کسی کے نقصان پر غصہ  
ہونا۔ (۲) خندہ زنی۔

ششمبیر کیف - (ف صفت) لڑنے پر تیار (۲) شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے -  
 شمشیر زوننا - (۱- محاورہ) تلوار سنبھالنا - وار کے لیے تیار ہونا -  
 شمشیر روم - (ف صفت) تلوار کی باڈھ رکھنے والا -  
 شمشیر دوم - (ف صفت) دودھاری تلوار -  
 شمشیر زن - (ف صفت) (۱) جہاد (۲) تلوار چلانے والا -  
 شمشیر زنی - (ف- ا مٹ) تلوار کی لڑائی -  
 شمشیر علم کرنا - (۱- محاورہ) تلوار کو مارنے کے واسطے اٹھانا -  
 شمشیر کھپت - (۱- محاورہ) میدان جنگ میں جاں نثرتوں کی لاشیں پڑی ہوں  
 شمشیر ہلائی - (ف- ا مٹ) ایک قسم کی تلوار جو بیچ میں سے خنجر ہوتی ہے -  
 شمع - (ع- ا مٹ) موم جی کی چربی - چربی کی جی -  
 شمع آئین - (۱) وہ جس سے محفل کی رونق ہو (۲) صدر محفل -

## شش - ن

شش - (ش - نا) (ف - ا - مٹ) [پانی میں تیرنا -  
 شناخت - (ش - ناخت) (ف - ا - مٹ) (۱) پہچان - نمیز (۲) شناسائی  
 واقفیت -  
 شناخت کرنا - (مص مرکب) پہچاننا -  
 شناختی کارڈ - (ا - مذ) وہ کارڈ جس کے اندراجات سے کارڈ رکھنے والے  
 کی شناخت مقصود ہو - (Identity Card)  
 شناختی نشان - (ا - مذ) [جسم پر کوئی ایسا نمائیاں نشان جس سے  
 شناخت ہو سکے -  
 شناس - (ف - صفت) پہچاننے والا شناختن مصدر کا صیغہ امر، اسم کے  
 بعد آنے پر اسم فاعل بنانا ہے اور پہچاننے والے کے معنی دیتا ہے  
 جیسے اختر شناس، حقیقت شناس -  
 شناسا - (ش - نا - سا) (ف - صفت) (۱) پہچاننے والا (۲) پرکھنے والا -  
 (۳) جان پہچان -  
 شناسائی - (ش - نا - سائی) (ف - ا - مٹ) [جان پہچان - واقفیت صاحب سلا -  
 شناخت - (ش - ناخت) (ع - ا - مٹ) (۱) بدی - برائی (۲) گندگی -  
 شناور - (ش - نا - ور) (ف - صفت) ایراک تیرنے والا -  
 شناوری - (ش - نا - وری) (ف - صفت) [ایریرگی -  
 شناہ - (ف - ا - مذ) سرنائی - مشک جس کے ذریعے تیرتے ہیں -  
 شنیدہ - (ش - م - ہ) (ف - ا - مذ) ہفتہ - سینچر  
 ششگرت - (ش - ش - گرت) (ش - جز - سن - گرت) (ف - ا - مذ) ایک سُرخ رنگ کی  
 دھات جو کندھک اور پائے کی آمیزش سے تیار کی جاتی ہے -  
 ششگ - (ف - صفت) جالاک - شرخ - ظریف -  
 ششگری - (ش - گرت - نی) (ف - صفت) ششگرت کے رنگ کا سُرخ -  
 ششوا - (ش - وا) (ف - صفت) [سنسنے والا -  
 ششوائی - (ش - وا - سائی) (ف - ا - مٹ) (۱) سماعت سُننا (۲) وادری  
 ششوائی نہ ہونا - (۱- محاورہ) توجہ نہ ہونا - پروا نہ ہونا -  
 ششوند - (ش - نند) (ف - ا - مٹ) (۱) کسی ہوائی بات (۲) سُننا -  
 ششوندی - (ش - نند - نی) (ف - صفت) [سنسنے کے قابل -

(۲) مردوں کی مجلس میں بے پردہ عورت (۳) محشوق -  
 شمع آئین - (ع- ا مٹ) وہ تجلی جو حضرت مرثیٰ کو کوہ طور پر نظر آئی تھی -  
 شمع بایں - (ع- ا مٹ) وہ شمع جو قبر کے سر ہائے روشن کی جاتی ہے -  
 شمع بڑھانا - (۱- محاورہ) شمع گل کرنا شمع بھانا -  
 شمع بڑھانا - (۱- محاورہ) شمع گل بوجانا - شمع بچھ جانا -  
 شمع بھڑکی کرنا - (۱- محاورہ) شمع بھجنا -  
 شمع جلتی کرنا - (۱- محاورہ) مٹ مانا - مٹت ماننے کے لیے شمع جلانا -  
 شمع جھلانا - (۱- محاورہ) شمع کا کم جلنا -  
 شمع چڑھانا - (۱- محاورہ) مٹ پوری ہونے پر کسی مزار پر شمع کا جلا یا جانا -  
 شمع جیات گل ہونا - (۱- محاورہ) مرجانا -  
 شمع صفت جلنا - (۱- محاورہ) غم کی وجہ سے جلتی ہوئی شمع کی طرح کھلنا -  
 شمعدان - (ف - ا - مذ) وہ برتن جس میں موم جی رکھا جلاتے ہیں -  
 شمع دکھانا - (۱- محاورہ) روشنی دکھانا (۲) رہنمائی کرنا -  
 شمع رُخ - شمع رخسار - شمع رُو - (ف - صفت) نورانی چہرہ والا (کنایتاً معنی)  
 شمع سحری - (ع- ا - مٹ) صبح کا چراغ جو عقرب فنا ہونے والا -  
 شمع عالم نایب - (ف - صفت) دنیا کو روشن کرنے والی شمع - آفتاب  
 شمع عقل گل ہونا - (۱- محاورہ) عقل جاتی رہنا -  
 شمع کا آئسو - (ع- ا - مٹ) موم کا ٹپکنا ہوا قطرہ -  
 شمع کا چور - وہ رخصت جو جلتی ہوئی شمع میں ایک طرف موم گھل جانے  
 سے ہوتا ہے -  
 شمع کا خاموش ہونا - شمع کا بچھ جانا -  
 شمع کا رُو سنبھت برابر ہے - (۱- مثل) صاف باطن - آگے چھپے برابر ہونا -  
 شمع کا فوری - (ف - ا - مٹ) سفید رنگ کی شمع -  
 شمع کشتہ - (ف - صفت) بچی ہوئی شمع -  
 شمع گل کرنا - (۱- محاورہ) شمع بڑھانا - شمع کا بچھانا -  
 شمع محفل - (ع- ا - مٹ) وہ جس سے محفل کی رونق ہو محشوق -  
 شمع مردہ - (ف - صفت) بچی ہوئی شمع -  
 شمع مزار - (ف - ا - مٹ) وہ شمع جو مزار پر جلائی جاتی ہے -  
 شمععی - (ش - م - عی) (ا - مذ) سبز رنگ مائل بہ سیاہی جس کو نیلیا مویا کہتے ہیں

مشنیدہ - (ش - بی - دہ) [ف - صف] مُسنا ہوا۔  
 مشنیدہ کے بنو مانندہ دیدہ - (ف - مٹل) سُنی ہوئی بات کی وقعت  
 دیکھی ہوئی بات کے مقابلہ میں نہیں ہوسکتی۔  
 شینغ - (ش - یخ) [ع - صف] بد - خواب۔  
 شینغہ - (ش - بی - عہ) [ع - صف] بُرے افعال۔

## ش - و

ششو - (ف - مشستن مصدر کا ہیئتہ امرو اسم کے بعد اگر اسے اسم فاعل بنا دینا ہے معنی دھونے والا۔ لاحقہ کے طور پر آتا ہے جیسے رشتہ فرہ شو۔

ششو - (Show) [انگ - ا - مذ] (۱) تماشا - نظارہ - نمائش۔  
 (۲) دکھاوا - مزو - شپ ٹاپ۔

ششو - (س - مذ) دیکھے شہوا۔

ششو بوائے - (Show Boy) [انگ - مذ] نمائشی - دکھاوے کا۔

ششو - (Shoe) [انگ - ا - مذ] جوتا - نعلین - کفش۔

ششو - (ش - ا - مذ) شہوا - نیشہ۔

ششور اتزی - (ا - ہ - مٹ) ماگھ کی تیرہ تاریخ جب مہادیو کا منوار منایا جاتا ہے۔

ششولنگ - (ا - ہ - مذ) مہادیو کے عضو تناسل کی موٹی، ہندو جس کی پوجا کرتے ہیں۔

ششوال - (ششو - وال) [ع - ا - مذ] مسلمانوں کا دسواں نمبر مہینہ عید الفطر کا مہینہ۔

ششوالا - (ش - وا - لا) [ا - ہ - مذ] مہادیو کا استھان - شوجی کا مندر۔

ششواہد - (ش - واہد) [ع - ا - مذ] شاہد کی جمع (۱) گواہ (۲) مثالیں۔

ششوت - (۳) ثبوت۔

ششوب - (ش - ا - مذ) دھلائی - دھونے کا عمل۔

ششوب پڑنا - ششوب کھانا - (ا - محاورہ) کپڑے کا دھویا جانا۔

ششویا - (س - ا - مٹ) حسن - روشنی - عبادت - خوبصورتی۔

ششوخ - [ف - صف] (۱) طرار بے باک (۲) شہریرہ گستاخ (۳) دل لگی یا

ظریف (۳) چمکیلا تیز (۵) نڈر - بے باک۔

ششوخ چترم ششوخ دیدہ - (ف - صف) بے حیا - بے شرم - ڈھیٹ۔

ششوخ رنگ - (ف - صف) تیز رنگ - چمکیلا - جو رنگ بہت تیز ہو۔

ششوخ زبان - (ف - صف) عیب کی اور گستاخی کی باہیں کرنے والا - گستاخ۔

ششوخ طبع (طبعیت - مزاج) [ف - صف] (۱) تیز طبع (۲) عیب کا

(۳) خوش مزاج۔

ششوخ - [ف - ا - مٹ] (۱) جھیلپن (۲) شہرت - نظارت (۳) اضطراب

بے قراری (۴) بے ادبی - گستاخی - (۵) رنگ کی تیزی - چمک۔

ششوخ کرنا - (ا - محاورہ) شہرت کرنا - (۲) گھوڑے کا اُچھلنا کودنا۔  
 ششودر - (ششو - در) [ا - ہ - مذ] ہندوؤں کی بیچ ذات - خدمتی لوگ۔

ششور - (ف - ا - مذ) غل - غوغا (۲) شہرت - دھوم - (۳) کھاری نمک

(۴) عشق - جنوں (۵) خعلی - غصہ

ششور اٹھنا - (ا - محاورہ) غل ہونا - شور ہونا۔

ششور انگیز - (ف - صف) شور پیدا کرنے والا۔

ششور اٹھنا - دھوم مڑنا۔

ششور بخت (ف - صف) بد نصیب - بد قسمت۔

ششور برپا کرنا - (ا - محاورہ) بے حد مل چانا۔

ششور بوز - ششور - توتڑ۔

ششور دار و گریہ ہونا - (ا - محاورہ) لینا - پکڑنا کا مل چانا۔

ششور زمین - (ف - ا - مٹ) وہ زمین جس میں نمک یا شورہ ہو - ناقابل

زراعت زمین۔

ششور قیامت - (ف - ا - مذ) بے حد شور - قیامت کے دن کی مانند شور۔

ششور کرنا - (مض - مرکب) غل چانا۔

ششور گنا - (مض - مرکب) کھار پیدا ہونا - زمین کا نمکین ہونا۔

ششور محشر - ششور ششور - (ف - ا - مذ) قیامت کا شور - بہت شور۔

ششور و شہر (شغیب) [ف - ا - مذ] فقہ و فساد - لڑائی - دنگا - ہنگامہ - بلوہ

ششور بار - (شو - را - بر) [ف - ا - مذ] کھاری پانی

ششور با - ششوروا - (ششو - وا) [ف - ا - مذ] پنلا سالن - پکے ہوئے

گوشٹ کا پانی۔

ششور ش - (شو - رش) [ف - ا - مٹ] فقہ و فساد - بلوہ - ہنگامہ۔

ششور ش برپا کرنا - (ا - محاورہ) ہنگامہ برپا کرنا - بغاوت کرنا۔

ششورہ - (شو - رہ) [ف - ا - مذ] سفید رنگ کا ایک مرکب جو پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے

اور بارود میں استعمال ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے (۲) ایک قسم کی کھار۔

ششورہ پشت - (ف - صف) سرکش - نافرمان - لڑاکا۔

ششورہ پشتی - (ف - ا - مٹ) لڑائی - جھگڑا - دنگا۔

ششورے کی پتی یا فغلی - (کنایت) گورے رنگ کی نوجوان عورت۔

ششورے میں جھانپنا - ششورے میں جھلنا - (ا - محاورہ) پانی کی صراحی کو نمک

اور شورے کے پانی میں رکھ کر ٹھنڈا کرنا۔

ششورے - (شو - را) [ع - ا - مذ] مشورہ - صلاح۔

ششوری - (شو - ری) [ا - ہ - صف] شور کرنے والا - شور مٹا۔

ششوریت - (شو - ری - بیت) [ف - ا - مٹ] کھاری پن۔

ششوریدگی - (شو - ری - و - گی) [ف - ا - مٹ] (۱) پریشانی - حیرانگی۔

(۲) دیوانگی - جنون (۳) عشق - محبت۔

ششوریدہ - (شو - ری - دہ) [ف - صف] (۱) پریشان - حیران (۲) جزئی

دبوازہ - عاشق

ششوریدہ بخت - (ف - صف) بد بخت - بد قسمت۔

ششوریدہ حال (حاضر) [ف - صف] پریشان حال - دوپاندر گشتہ۔

شوشل شاہ - [ اُر - ۱۔ مٹ ] غور - ڈینگ - نمائش -  
 شوہر - (شوہر) [ ف - ۱۔ مذ ] خاوند - میاں - مالک - جمع شوہران -  
 شوہری - (شوہر - ۱۔ ری) [ ف - ۱۔ صفت ] شوہر سے منسوب -  
 شوہر - ( ف - ۱۔ صفت ) دھونا - مرکبات کے آخر میں جیسے  
 پاشوہر -

## ش-ہ

شہ - [ ف - ۱۔ مذ ] شاہ کا مخفف - بادشاہ (۲) دلدھا (۳) بڑا - اعلیٰ  
 [ مٹ ] (۱) ڈھیل (۲) شاہ مندرج کو کشت - رو - حمایت - ترغیب  
 اشتغال - بہکانا -  
 شہ باز - ( ف - ۱۔ مذ ) باز سے بڑا شکاری پرندہ - بڑا باز -  
 شہ بالا - شاہ بالا - ( ف - ۱۔ مذ ) لاکا جسے اچھے کپڑے پہنا کر دھلا کے بیچھے  
 یا ساتھ بٹھاتے ہیں -  
 شہ بھنا - (۱) محاورہ ) شطرنج کے بادشاہ کاشت کی جگہ سے ہٹ جانا -  
 شہ پانا - (۱) محاورہ ) اشارہ ناما ترغیب پانا (۲) بہکانے یا ڈھلانے میں آنا -  
 شہ پر - ( ف - ۱۔ مذ ) پرندے کے بازو کا سب سے بڑا پر -  
 شہ کوٹ - شہزادہ ( ف )  
 شہ نیل - ( ف - ۱۔ مٹ ) شطرنج میں نیل کی شہ -  
 شہ نوت - ایک میٹھا بھل اور اس کے درخت کا نام -  
 شہ تیر - ( ف - ۱۔ مذ ) بڑی کڑی - وہ پراچی لٹھ جس پر کڑیاں رکھی جائیں -  
 شہ چال - شطرنج کے بادشاہ کی چال جو اور دھروں کے ختم ہونے کے  
 بعد چلی جاتی ہے -  
 شہ خواہاں - ( ف - ۱۔ صفت ) حسینوں کا بادشاہ - بہت خوبصورت -  
 شہ دینا - (۱) محاورہ ) اُکسانا - بہکانا (۲) شطرنج کے بادشاہ کو کشت دینا  
 (۳) کنگوا بڑھانا (۴) بیجا تعریف کرنا -  
 شہ رخ - ( ف - ۱۔ مٹ ) شطرنج میں رخ کی شہ -  
 شہ رگ - ( ف - ۱۔ مٹ ) رگ جاں -  
 شہزادہ - ( ف - ۱۔ مذ ) بادشاہ کا لڑکا - شاہزادہ - جمع شاہزادگان -  
 شہزادہ زور - شاہ زور ( ف - ۱۔ صفت ) بہت طاقتور - زور آور -  
 شہ سوار - شہسوار - ( ف - ۱۔ مذ ) گھوڑے کی سواری کا ماہر -  
 شہکار - ( ف - ۱۔ صفت ) بہترین کام (۲) دھوکا (۳) بونی ہوئی زمین -  
 شہ لولاک ( ف - ۱۔ مذ ) کنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
 شہ مات - ( ف - ۱۔ مٹ ) شطرنج کی بازی میں کشت کرنے کے بادشاہ کو مات دینا -  
 شہنائی - ( ف - ۱۔ مٹ ) نصیری - ایک ساز جسے منہ سے بجاتے ہیں -  
 شہنشاہ - ( ف - ۱۔ مذ ) بادشاہوں کا بادشاہ - قیصر -  
 شہ نشین - ( ف - ۱۔ مٹ ) بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ - مکان کی کھڑکی کے  
 آگے بڑھا کر بنائی ہوئی جگہ -  
 شہسوار - ( ف - ۱۔ صفت ) بادشاہ کے قابل - (۲) بہت قیمتی موٹی -

شوریدہ دماغ - ( مزاج - ۱۔ صفت ) دیوانہ - سودائی - مجنون -  
 شوریدہ روزگار - ( ف - ۱۔ صفت ) پریشان حال - بے سردسامان -  
 شوریدہ مہری - ( ف - ۱۔ مٹ ) دیوانگی - جنون -  
 شوشہ - (شوہر - ۱۔ مذ ) (۱) ریزہ - ذرہ - ٹکڑہ (۲) حرف کا سرا -  
 (۳) وہ علامت جو ہائے ہوز کے نیچے بنا دیتے ہیں (۴) اُڑا بچھو  
 کی بات - شکوہ - انوکھی بات -  
 شوشرہ چھوڑنا - (۱) محاورہ ) فساد انگیز بات کہنا - انوکھی بات کہنا -  
 شوشرہ - (Chaufeur) (شوہر) [ اُنک - ۱۔ مذ ] موٹر چلانے  
 والا ملازم - ڈرائیور -  
 شوق - [ ع - ۱۔ مذ ] (۱) خواہش - آرزو - تمنا - اشتیاق (۲) رغبت -  
 میل [ اُر ] شغل - کام (۳) جوش - سرگرمی (۴) محبت - عشق -  
 (۵) چاٹ - چیکا - اُنک (۶) دُھن - ترنگ (۷) حق یا کھانے کی  
 کوئی نئے پیش کی جائے تو کہتے ہیں شوق کیجیے (۸) دریافت کرنے کی  
 خواہش (۱۰) لطف - محبت -  
 شوق بڑھانا - تیز ہونا - (مص مرکب) شوق زیادہ ہونا -  
 شوق پورا آنا - (۱) محاورہ ) شوق ہونا - جی جا ہونا - خواہش کا پیدا ہونا -  
 شوق سے - (۱) متعلق فعل ) (۱) دل سے - کمال رغبت سے (۲) خوشی سے  
 (۳) بے خوف ہو کر (۴) اپنی مرضی سے - اپنے ارادے سے -  
 شوقین - (شوہر - ۱۔ صفت) (۱) شائق صحاب شوق (۲) مشتاق  
 خواہش مند (۳) عادی شوگر (پھیلا - وگھلا (۴) جھانس تلاش میں  
 شوقین بڑھیا چٹائی کا لہنگا - (۱) شغل ) بے عمل بناؤ سنگار مطلق میں نمائش  
 کی تمنا -  
 شوقین بی بی کمل کی چولی، آگ لگی مہلتی پھرے - (۱) مثل ) غریب عورت  
 اپنی حیثیت سے بڑھیا کپڑے پہننے کو کہتے ہیں -  
 شوقین مزاج - ( ف - ۱۔ صفت ) وہ جسے اچھے کپڑے پہننے اور کانا  
 سننے کا شوق ہو -  
 شوقیہ - (شوہر - ۱۔ صفت) (۱) دل بہلانے کے لیے - شوق سے (۲)  
 منسوب - شوق -  
 شوکت - (شوہر - ۱۔ مٹ) (۱) زور - قوت (۲) دبدبہ  
 رعب داب (۳) مرتبہ - شان - شکوہ -  
 شوگر - (Suqar) (شوگر) [ اُنک - ۱۔ مٹ ] کھا ہونے والی  
 شوگر آنا - (۱) محاورہ ) پیشاب میں شکر آنا - ذیابیطس ہونا -  
 شوگر - ( ف - ۱۔ مٹ ) گوشت - آمیز پھیر -  
 شوم - [ ع - ۱۔ صفت ] (۱) مخموس (۲) کنبوس - بچیل  
 شوم بخت - (ع - ۱۔ صفت) بد نصیب - بد قسمت  
 شوم طبع - (ع - ۱۔ صفت) بد مزاج (۲) کنبوس - بچیل  
 شوم قدم - (ع - ۱۔ مذ) سز قدم - وہ شخص جس کا قدم کس ہو -  
 شومی - ( ف - ۱۔ مٹ ) بد بختی - خوست -  
 شومی بخت - شومی قسمت - شومی تقدیر - ( ف - ۱۔ مٹ ) بد نصیبی  
 خوست -

شہاب - (ش- باب) [ف- ۱- مذ] نہایت سُرخ رنگ جو کسٹم کو جھکوکہ  
ٹیکانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

شہاب - (ش- باب) [ع- ۱- مذ] (۱) نو- لیٹ (۲) وہ ستارہ جو  
آسمان سے گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے (۳) روشن ستارہ (۴) شعلہ جھپٹتی ہوئی آگ  
شہاب ثاقب - (ع- ۱- مذ) وہ جھکتا ہوا ستارہ جو رات کو ٹوٹتا ہے۔  
شہابی - (ف- ۱- مثن) سُرخ - شہاب کے رنگ کا۔

شہادت - (ش- ہا- دت) [ع- ۱- مثن] (۱) گواہی (۲) راہِ خدا میں  
شہید ہونا (۳) خدا نے تعالیٰ کی وحدانیت اور رسولِ مقبول کی رسالت  
کا سچے دل سے اقرار کرنا (۴) حکمہٴ شہادت۔

شہادت دینا - (مص مرکب) گواہی دینا۔  
شہادتِ روتیت - (ع- ف- ۱- مثن) چنبرہ دیدگواہی۔  
شہادتِ سمعی - (ع- ف- ۱- مثن) سنی سنائی گواہی۔  
شہادت کی انگلی - (۱- مثن) داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی۔  
شہادتِ مقبول - (ع- ف- ۱- مثن) وہ گواہی جو دوسرے کے  
بیان کے حوالے سے ہو۔

شہادت نامہ - (۱) تحریری شہادت جو داخل کی جائے (۲) اہل تشیع کے  
پہلے شہادت لکھ کر دوسے کے کفن میں رکھتے ہیں (۳) وہ کتاب جس  
میں حضرت امام حسین کی شہادت کا حال ہو۔

شہادت - (ش- ہا- مثن) [ع- ۱- مثن] بہادری - دلیری - شجاعت  
شہانہ - (ش- ہا- مذ) [ف- صفت] شانانہ کا مخفف (۲) شادی کا چوڑا۔  
(۳) ایک قسم کا شادی کا گیت - ایک قسم کی گت۔

شہانی - (ش- ہانی) [ا- صفت] دھن سے منسوب (۲) شانانہ بادشاہ  
سے منسوب - عمدہ - اعلیٰ۔  
شہانی چوڑیاں - (۱- مثن) دھن کی چوڑیاں سُرخ رنگ کی چوڑیاں قیمتی چوڑیاں  
شہانی نمندی - (ف- ۱- مثن) سُرخ رنگ کی نمندی - گہری نمندی۔  
شہد - (ع- ۱- مذ) (۱) وہ بیٹھا شیر جو مال کی کھجیاں جمع کرتی ہیں (۲)  
[ا- صفت] نہایت تیریں۔

شہد سہاگہ، گھی، مری دھات کا جی - [ا- مثن] [ا- صفت] ایسی گروں کے  
خیال میں ان تین چیزوں سے کشتہ شدہ دھات دوبارہ اپنی اصلی  
حالت پر آجاتی ہے۔

شہد کی چھری - (۱- صفت) بیٹھی چھری - زبان کا بیٹھا دل کا کھوٹا - وہ چوڑی  
کے پرے میں چھنی کسے - میناق - دغا باز - مکار۔  
شہد کی مکھی - (ع- ۱- مثن) وہ مکھی جو منہ جمع کرتی ہے اور چھتہ بناتی ہے  
(۲) لاپچی بھریں (۳) وہ شخص جو جھپٹ جائے۔

شہد گھولنا - (۱- محاورہ) شیریں زبان ہونا - بیٹھی بیٹھی باتیں کرنا۔  
شہد لگا کر لگک ہو جانا - (۱- محاورہ) فساد کی بنیاد ڈال کر لگک ہو جانا  
لڑوانا۔

شہد لگا کر چالو - (طنزاً) کمال افضیاط سے رکھو۔  
شہداد - (ش- ہا- ۱۵) [ع- ۱- مذ] شہد کی جمع - شہید ہونے والے۔  
شہدا - (ش- ۱۵) [ا- مذ] پیمانہ - مدعا ش - غنڈہ (۲) غریب - مسکین

شہدین - شہدینا - (ہ- ۱- مذ) کچھن - بدعاشی۔  
شہر - (ع- ۱- مذ) قمری مہینہ - ماہ - جمع : اشہر - مشہور  
شہر - (ف- ۱- مثن) بڑی آبادی - بلدہ - نگر۔

شہر آشوب - (ف- ۱- مذ) وہ نظم جس میں کسی شہر کی پریشانی و بربادی کا ذکر ہو۔  
شہر بدر کرنا - (ف- صفت) حلاوت کرنا - دس نکلا دینا۔  
شہر بند - (ف- ۱- مذ) فصیل - شہر کی چار دیواری - (۲) نظر بند۔  
شہر نیاہ - (ف- ۱- مثن) فصیل شہر کی چار دیواری  
شہر تہرا - [ا- صفت] وہ شخص جو نام شہر کی تہر رکھے - گھر گھر کی تہر  
رکھنے والا۔

شہر خوشن - (ف- ۱- مذ) قبرستان - گورستان۔

شہر دار - (ف- ۱- مذ) شہر کا رہنے والا۔  
شہر داری - [ف- ۱- مثن] شہر میں رہنے کے فرائض یا تعلقات۔  
شہر کی دانی - [ا- مثن] گھر گھر کی خبر رکھنے والی عورت۔  
شہر گرد - شہر گشت - (۱- مذ) شہر میں گشت کرنے والا۔  
شہر میں آؤٹ بڈنام - (۱- مثن) (۱) وہ شخص جو کسی عیب کے باعث مشہور  
ہو (۲) وہ بدنام آدمی جس سے بُری بات منسوب کی جائے۔  
شہر یار - (ف- ۱- مذ) بادشاہ۔

شہرت - (ش- رت) [ع- ۱- مثن] (۱) افواہ - شہرہ - چرچا (۲) ناموری

بیکناکی (۳) بڑائی - بدنامی۔  
شہرت اٹھانا - (۱- محاورہ) شہرت پھیلنا - شہرت پانا - (۱- محاورہ) مشہور ہونا - حاصل کرنا  
شہرت پھینچنا - (۱- محاورہ) بہت دوزخ دنگ مشہور ہونا۔  
شہرت بیدار کرنا (حاصل کرنا) نام بیدار کرنا - مشہور ہو جانا۔  
شہرت ہوتنا - (۱- محاورہ) دھوم ہونا - مشہور ہونا۔  
شہرت یافتہ - (ف- صفت) مشہور معروف (۲) جس کی دھوم ہو (۳)  
جس کی نیک نامی یا بدنامی ہو جی ہو۔

شہرہ - (ش- رت) [ع- ۱- مذ] آوازہ - دھوم دھام - غلغلہ  
شہرہ آفاق - شہرہ آنام - جہاں بھر میں مشہور مشہور عالم۔  
شہرہ دارنا - (۱- محاورہ) شہرت پھیلنا - بدنامی پھیلنا۔  
شہرہ ور - (ع- ف) مشہور - نامور۔

شہرہ ہونا - (۱- محاورہ) نام ہونا - مشہور ہونا۔

شہری - (ش- ری) [ف- صفت] (۱) شہر سے منسوب (۲) شہر کا باشندہ  
شہری آزادی - (ف- ۱- مثن) تقزیر - تخریر اور اجتماع کی آزادی - وہ بنیادی  
حقوق جو ملک کے رہا شدہ کو حاصل ہوں - جمہوری حقوق۔

شہری حقوق - [ف- ۱- مذ] بنیادی حقوق - جمہوری حقوق - وہ آزادی جو  
ملک کے باشندوں کو از روئے قانون حاصل ہو۔  
شہریت - (ش- ری - بیت) [ف- ۱- مثن] (۱) شہر کا باشندہ ہونے کی  
حالت (۲) جمہوری حقوق (۳) کسی ملک کا شہری ہونا۔

شہر کارا - (ش- کارا) [ا- صفت] بدکار اور بد زبان عورت۔  
شہلا - (ش- لا) [ع- ۱- مثن] (۱) وہ عورت جس کی آنکھیں بھڑکی ماند  
ہوں (۲) سیاہی لیے بھوری آنکھ (۳) نرگس کے پھول کی ایک قسم

شہیقہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) کنایتاً کالی کھانسی۔

# ش۔ ی

شہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ (۱) چیز (۲) نایاب چیز (۳) معاملہ۔ واقعہ۔

شہے لطیف۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ سمجھ بھول۔

شہے لطیف کی کمی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) عقل اور سمجھ بوجھ کی کمی ہونا۔ بے ذوق ہونا۔

شہے مجیعہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ بھی ہوئی چیز

شہے تننازعہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ وہ چیز جس کی بابت جھگڑا ہو۔

شہے مڑھوترے۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ وہ شے جو تہن رکھی گئی ہو۔

شہے مکقولہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ وہ شے جو حاضنت میں دی گئی ہو۔

شہے ملنا۔ (۱۔ محاورہ) مدد ملنا۔ سہارا ملنا۔

شہے موہور۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ وہ شے جو بہہ کی گئی ہو۔

شیاطین۔ (ش۔ یا طین) [ شیطان کی جمع۔

شیاطین الالس۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ آدمی جو شیطان کی طرح بہکتے ہیں۔

شیات۔ (ش۔ یا ت) [ (۱۔ مٹ) [ دو امیں جو باہم کوٹ کر اکٹھوں میں

اور دیگر مقامات پر لگاتے ہیں۔ شانہ کی جمع۔

شہیقہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ (۱) بڑھایا۔ (۲) بولوں کی سفیدی۔

شہیقہ۔ (Sheet) [ (۱) کاغذ کا تختہ۔ تاؤ۔ ورق

(۲) دھات یا پانی کی چادر (۳) پنگ کی چادر۔

شہیقہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ (۱) بوڑھا آدمی (۲) سرگرد۔ بزرگ (۳) مذہبی علوم

میں ناتی (۴) سرگڑہ۔ پیشوا (۵) خانقاہ کا سردار (۶) سجادہ نشین۔

(۷) مسلمانوں کی ایک ذات (۸) عرب کا سردار۔ جمع۔ شہیقہ۔ مشائخ۔

شیخ الاسلام۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ سب سے بڑے پیشوائے دین۔ مفتی اعظم۔

شیخ الحدیث۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ یونیورسٹی یا دانش گاہ کا سربراہ۔ داس چانسلر۔

شیخ الرئیس۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ بڑے اعلیٰ سینا کا لقب۔

شیخ الشیوخ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ تمام عالموں اور دانشوروں کا سرگڑہ۔ پرمشائخ۔

شیخ جی۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ شیخ کو طنز یا تعظیم سے کہتے ہیں (۲) شیخ صاحب

(۳) راہدار اور عابد کو طنزاً کہتے ہیں۔

شیخ حلی۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ بیوقوف (۲) ایک فرضی شخص جس کے قصے بہت مشہور ہیں

شیخ حلی کا منصوبہ۔ (۱۔ مٹ) [ وہ منصوبہ جو بالکل دیہی ہو محض خیالی بات۔

شیخ چند ڈال نہ چھوڑے رکھی نہ چھوڑے بال۔ (۱۔ مٹ) [ اس شخص کے متعلق

کہتے ہیں جو بہت حریف ہو۔

شیخ ڈونڈو یا ڈونڈوں۔ (۱۔ مٹ) [ بندہ تھمانے کا ٹوٹکا جس میں کڑے کا ایک

مٹا فرینا کر اور ایک ٹھٹھی اس کی کڑے باندھ کر تازش کے پانی

میں کھڑی کے سہارے کھڑا کر دیتے ہیں جاہلوں کے نزدیک اس سے

بارش بھگم جاتی ہے۔

شیخ سدو۔ (۱۔ مٹ) [ جاہل عورتوں کا ایک فرضی ولی باجن۔

شیخ کا بکرا۔ (۱۔ مٹ) [ وہ بکرا جو شیخ سدو کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔

شیخ بھدی۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ شیطان کا لقب۔

جو زرد یا سیاہی مائل ہوتا ہے۔

شہنا۔ شہنائی۔ (شہ۔ نا۔ شہ۔ نا۔ نی) [ (۱۔ مٹ) [ (۱) لغیری (۲)

بانسری۔ (۳) الغوزہ۔

شہنشاہ۔ شہنشاہ۔ (ش۔ ہن۔ شہ۔ ہن۔ شہ۔ ہن۔ شاہ) [ (۱۔ مٹ) [ (۱) بادشاہ

کا شاہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ۔ بڑا بادشاہ۔

شہنشاہی۔ (ش۔ ہن۔ شاہی) [ (۱۔ مٹ) [ (۱) بادشاہی (۲) بادشاہ

سے نسبت رکھنے والی شے۔

شہنشاہیت۔ (ش۔ ہن۔ شاہی۔ ہیت) [ (۱۔ مٹ) [ (۱) سامراج۔

دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا۔ امپریزم۔ ملوکیت۔

شہو۔ (ق۔ ۱۔ مٹ) [ شوہر۔

شہوات۔ (شہ۔ وات) [ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ (۱) شہوت کی جمع (۲) خواہشیں

لذتیں۔

شہوات نفسانی۔ (ق۔ ۱۔ مٹ) [ جنسی خواہش لکھنا خواہشیں۔

شہوانی۔ شہوی۔ (شہ۔ وان۔ شہ۔ وی) [ (ع۔ صفت) [ شہوت سے متعلق۔

شہوت۔ (شہ۔ وش) [ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ (۱) خواہش۔ آرزو۔ حصول لذت

کا شوق (۲) خواہش جماع جنسی خواہش۔ جمع۔ شہوات۔

شہوت انگیز۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ خواہش نفسانی کو اکھارنے والا۔

شہوت پرست۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ صفت نفس پرست بچائش۔

شہود۔ (ش۔ ہو۔ و) [ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ حاضر ہونا (۲) [ (۱) مٹ) [ (۱) شاہد

کی جمع (۳) اہل تصوف کی اصطلاح میں وہ درجہ جس میں جلوہ حق بکھ

ہر شے میں حق نظر آئے۔

شہودی۔ (ش۔ ہو۔ وی) [ (ع۔ صفت) [ شہود سے نسبت رکھنے والا۔

شہور۔ (ش۔ ہو۔ و) [ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ جمع شہر۔ جینے۔

شہور معلومات۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ مسلمانوں کے چار مقصد میں سے۔ حرم۔ درجہ۔

ذیقعدہ۔ ذوالحجہ۔ بعض حسب کی بجائے شوال کو مانتے ہیں۔

شہتی۔ (ش۔ ہی) [ (۱۔ مٹ) [ بادشاہی۔ سلطانی۔

شہید۔ (ش۔ ہید) [ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ (۱) خدا کی راہ میں قربان ہونے والا

(۲) وہ شخص جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو (۳) مقنول

کشتہ۔ (۴) عاشق۔ قدا۔ قربان۔

شہید بکرا۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ حضرت امام حسینؑ۔

شہید ناز۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ عاشق۔

شہید وفا۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ وہ جس سے وفا داری کے باعث قتل ہو کر شہید

پائی۔ انتہائی وفادار۔

شہید ہونا۔ (۱۔ محاورہ) [ راہ خدا میں مارا جانا (۲) مرنا۔ انتقال کرنا (۳) عاشق ہونا۔

شہیدتی۔ (ش۔ ہی۔ دی) [ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ (۱) شہید ہونے کے لیے تیار (۲)

سرخ۔ (۳) تلاش میں۔

شہیدی امرو۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ وہ امر و جس کا گودا سرخ ہو۔

شہیدی تریوز۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ نہایت بچا اور اند سے لال تریوز

شہیر۔ (ش۔ ہیر) [ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ مشہور نامور

شہیقہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) [ گدھے کی بھاری آواز جو آخر میں بکلتی ہے۔

جو دروازے کی طرف سے عرض میں کم اور تھینے کی طرف سے زیادہ ہو  
(۵) ایک قسم کا گھنٹن۔

شیر تریاں - (ت-۱) منڈ) غضبناک شیر (۲) بہادری۔  
شیر قلعین - [ت-۱] منڈ (۱) شیر کی وہ تصویر جو اکثر قلعینوں پر پٹی ہوتی ہے  
(۲) نمائشی - تخریب خیزی (۳) بزدلی۔

شیر کا ایک ہی بھلا - (۱) منڈ) بہادر بیٹا ایک ہی کافی ہے۔  
شیر کا بال - (ت-۱) منڈ) ہمہ اتنا زبردست۔

شیر کا بڑھاپا - (ت-۱) منڈ) فقیری و روٹی

شیر کا جھوٹا گیدڑ کھائیں - (۱) منڈ) امیر آدمیوں کے دم سے کسی غریب پلٹے ہیں۔  
شیر کا کان - (ت-۱) منڈ) جھنگ چھانسنے کی صفا۔

شیر کا کھانا بکری - (۱) منڈ) زبردست کمزوروں کو دیا جیتے ہیں۔

شیر کا منہ جو دم کرنا پتھر کھانا - (۱) منڈ) زبردست کھوپڑی و کھلیٹ اٹھانا۔

شیر کا ناخن - (ت-۱) منڈ) حفاظت کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں۔

شیر کھانے کے ٹھکانے منہ لال - (۱) منڈ) بدنام آدمی پر سب ازار لگاتے ہیں۔

شیر کرنا - (۱) حوصلہ بڑھانا (۲) دل کرنا (۳) سستی اگسانا (۴) زیادہ ترنا نیز کرنا۔  
شیر کی پونی لوٹنا - (۱) منڈ) (کتابت) تھے کرنا۔

شیر کی خالہ - (ت-۱) منڈ) بی

شیر کے منہ میں جانا - (۱) منڈ) جان کو خطرے میں ڈالنا۔

شیر ماری - (۱) منڈ) ایک قسم کی کھلی۔

شیر مرد - (ت-۱) منڈ) بہادر و شجاع (۲) عارف۔ کامل

شیر نشیناں - (ت-۱) منڈ) جنگل کا شیر (۲) بڑا بہادر۔

شیر ہونا - (۱) منڈ) کسی کا کسی پر دلیر ہونا۔

شیر بزوال - (ت-۱) منڈ) حضرت علیؑ کا لقب۔ خدا کا شیر۔

شیروں کے شیر ہی ہوتے ہیں - (۱) منڈ) بہادروں کی اولاد بہادری ہوتی ہے۔

شیروں کے منہ چڑھنا - (۱) منڈ) بہادروں کے مقابلے میں آنا۔

شیر - (ت-۱) منڈ) دودھ

شیر بونج - (ت-۱) منڈ) چااولوں کی کھیر۔

شیر پیمہ - (ت-۱) منڈ) آلہ جس سے دودھ کے خالص ہونے کا امتحان کیا جاتا

ہے۔ دودھ کسوٹی (انگ) (Lactometer)

شیر خشک - (ت-۱) منڈ) ایک میٹھی دوا جو بطور مشہل استعمال ہوتی ہے۔

شیر خوار - شیر خور - (ت-۱) منڈ) دودھ پینا بچہ۔

شیر خوارگی - (ت-۱) منڈ) وہ عمر جس میں بچہ دودھ پینا ہے۔

شیر دان - (۱) دودھ کا برتن (۲) بکری کا معدہ۔ کھیر یا۔

شیر گرم - (ت-۱) منڈ) نیم گرم۔

شیر مادر - (ت-۱) منڈ) ماں کا دودھ (۲) حلال۔ مباح۔ جائز

شیر مال - (ت-۱) منڈ) مہرے کی خمیری روٹنی روٹی۔

شیر و شکر - (ت-۱) منڈ) دودھ اور شکر کی طرح ملا ہوا۔ یک جان دونا۔

(۲) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

شیر و شکر ہونا - (۱) منڈ) نہایت مانوس ہونا۔ کھل مل جانا۔

شیرازہ - (ش-۱) منڈ) (۱) وہ فتنہ جو کتاب کی جز بندی کے بعد

بیخ و شتاب - [ع-۱] منڈ) بڑھا اور جان۔ سب لوگ۔  
بیخ و تخب (بیخ و تخب) - [ت-۱] منڈ) بڑھاپا۔ سرداری۔  
بیخ و دقت - [ت-۱] منڈ) اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم اور بزرگ۔  
بیخ و شجاعت - [ت-۱] منڈ) بیخوں کی ڈینگ اور بیخوں کی جھٹ

مشہور ہے۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) قوم شیخ کی عورت۔ شیخ کی بیوی۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) (تخریب سے) بیخ کا لڑکا۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) بڑائی گھنٹہ۔ ڈینگ۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) گھنٹی ڈینگ ہانکنے والا۔ دون کی لینے والا۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) ڈینگ مارنا خود ستانی کرنے والا۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) بڑائی ظاہر کرنا خود ستانی کرنا۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) (کر گری ہونا) شکل جاننا۔ (۱) منڈ) کسی ہونا سخت ہونا۔ غور و دہن۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) ڈینگ مارنا خود ستانی کرنا۔

بیخ و شجاعت - (ش-۱) منڈ) (۱) منڈ) گھنٹہ کرنا۔

شیرین - (ع-۱) منڈ) شیر کا شیرینہ۔ کتابت حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ

شیرین (شیرین) - [ت-۱] منڈ) عاشق و معشوق میں ڈوبا ہوا۔ ذریعہ ندامت۔

شیرین (شیرین) - [ت-۱] منڈ) جھینوں کا لقب - (۲) حبشی۔

شیرین (Shed) - [ت-۱] منڈ) سامان پھیر۔ آسارا۔

شیرین (Shade) - [ت-۱] منڈ) سایہ۔ چھاؤں (۲) تیرگی۔ تاریکی

اندھیرا - (۳) منڈ) گوشہ خلوت (۴) تصویر کا تاریک حصہ (۵)

حفاظت۔ بچاؤ۔ آڑ (۶) رنگ کا مختلف ہونا۔ باہر ایک فرق (۷)

غیر حقیقی شے۔ سوچوم شے (۸) سایہ۔ بھرت۔ پریت۔

شیرین (Schedule) - (ش-۱) منڈ) فہرست۔

جدول۔ فہرست۔ گوشوارہ۔

شیر - (ت-۱) منڈ) (۱) باگھ۔ گھیللا۔ اسد۔ (۲) پرنا لے کا منہ جو شیر کی شکل

کا بنایا جاتا ہے (۳) بہادر جو انڈر۔ نڈر۔

شیر آبی - [ت-۱] منڈ) نمک و گھڑ مال۔ ایک بحری جہاز سیل۔

شیر آسا - (ت-۱) منڈ) شیر کی طرح۔

شیر اندازہ شیر انگن - (ت-۱) منڈ) شیر کو پھیناڑنے والا۔ شجاع۔ دلیر۔ بہادر

شیر سب - ایک قسم کا بہت بڑا شیر جو افریقہ میں ہوتا ہے اور اس کی گردن پر بالوں

کے چھتے ہوتے ہیں۔

شیر بچہ - (ت-۱) منڈ) (۱) شیر کا بچہ (۲) دلیر بہادر (۳) ایک قسم کی چھوٹی بندوق۔

شیر بکری - (ت-۱) منڈ) لڑکوں کا ایک کھیل۔

شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں - (۱) منڈ) عدل اور انصاف کی تعریف

میں ہوتے ہیں۔

شیر خدا - (ت-۱) منڈ) حضرت علیؑ کا لقب۔

شیر دل - (ت-۱) منڈ) دلیر۔ قوی۔ شجاع۔ بہادر۔

شیر داناں - (۱) وہ صورت جو شیر کے گلے سے مشابہ ہو۔ اکثر بانی کرنے کی جگہ

پر بنا دیتے ہیں (۲) ایک قسم کی بندوق (۳) ایک قسم کا عصا (۴) وہ مکان

**شیش محل کا گتا**۔ (۱۔ مذ) گتا شیش میں جاؤں طرف توں کو دیکھ کر کھڑا جانا ہے  
بکھلا یا ہو گتا (۲) باؤ لا گتا۔ (۳) دیوانہ آدمی۔

**شیش ناگ**۔ (س۔ ۱۔ مذ) ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایک بڑا سانپ جس  
کے تزار سر ہوتے ہیں اور یہ دنیا کو اٹھائے ہوئے ہے (۲) بڑا سانپ۔  
**شیشہ**۔ (ش-شی) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) آئینہ (۲) کاچ (۳) بوتل۔ خراب۔  
(۴) آرسی کا آئینہ۔

**شیشہ باز**۔ (ف۔ صفت) شعبہ باز (۲) رقاصوں کا ایک گروہ (۳) ٹھگ۔ مکار۔  
**شیشہ شکنستہ**۔ (س۔ ۱۔ مذ) کسی کو روک کر رکھنا مشکل است۔ (ف۔ مثل) ٹوٹے ہوئے  
شیشے کو جوڑنا مشکل ہے۔ اسی طرح جب دل میں کسی قسم کا میل آجائے  
تو صفائی مشکل ہوجاتی ہے۔

**شیشہ دکھانا**۔ آئینہ دکھانا۔ (۲) مناجات میں جوتے کا تلا دکھانا کرنا تاکتے ہیں  
شیشہ دکھائی۔ (۱۔ محاورہ) وہ انعام جو جانی کو آئینہ دکھانے پر دیا جاتا ہے۔  
**شیشہ دل**۔ (ف۔ ۱۔ مذ) نازک ہونے کی وجہ سے دل کا استغفار شیشے سے  
کیا جاتا ہے۔

**شیشہ دل جو کرنا**۔ (۱۔ محاورہ) رنج پہنچانا۔ دکھ دینا۔  
**شیشہ ساخت**۔ (ف۔ ۱۔) ریت گھڑی۔ بانو گھڑی۔  
**شیشے کا بال**۔ (۱۔ مذ) باریک درز جو شیشے کو چوٹ لگنے سے آجاتی ہے۔  
**شیشے کا دیو**۔ (۱۔ مذ) شراب۔ مے۔

**شیشے کی پچکائیاں**۔ (۱۔ مذ) بوتل یا قزاق سے ذہن چیز کے نکلنے پر جو آواز  
ترک ترک کر پیدا ہوتی ہے۔  
**شیشے میں آنا رانا**۔ (۱۔ محاورہ) تلو میں لانا۔ مسخر کرنا۔ پرچانا۔  
**شیشے میں ڈھالنا**۔ (۱۔ محاورہ) مطیع کرنا۔ مسخر کرنا۔

**شیشی**۔ (ش-شی) [ا۔ ۱۔ مذ] کاچ کا چھوٹا سار تن۔ چھوٹی سی بوتل۔  
**شیشی سگھانا**۔ (۱۔ محاورہ) بیہوشی کی دوا سگھانا۔  
**شیطان**۔ (شے۔ طان) [ع۔ ۱۔ مذ] فرشتوں کا معلم جس نے خدا کی نافرمانی

کر کے حضرت آدم کو سوسہ دنیا اور اندہ گیا (۲) نافرمان۔ سرکش باغی  
(۳) پلید۔ خبیث۔ بدکار (۴) مردود۔ نکالا ہوا (۵) گمراہ۔ بدراہ  
(۶) شریر۔ بد ذات۔ فتنہ انگیز۔ فسادی۔ (۷) جھگڑا۔ فساد (۸)  
عصہ۔ خصب۔

**شیطان اترنا**۔ (۱۔ محاورہ) (۱) عصہ دوڑ ہونا (۲) شرارت رنج ہونا۔  
**شیطان اچھلنا**۔ (۱۔ محاورہ) شرارت سوجھنا۔  
**شیطان چڑھنا** (سوار ہونا) (۱۔ محاورہ) عصہ باضد چڑھنا۔ (۲) جن جنیت  
کا سایہ ہونا۔ (۳) شرارت سوجھنا۔

**شیطان چوڑی**۔ شرارتی آدمیوں کی ٹولی۔  
**شیطان سے زیادہ مشہور**۔ بہت بدنام۔ بہت مشہور۔  
**شیطان کا امان مانگنا**۔ (۱۔ محاورہ) ایسا شریر ہونا کہ شیطان بھی بناہ مانگے۔  
**شیطان کا کان میں پھونک دینا**۔ (۱۔ محاورہ) شیطان کا بہکا دینا (۲) شیطان  
کا دل میں غرور پیدا کرنا۔

**شیطان کا لشکر**۔ (۱۔ مذ) شریر لوگوں کا مجمع۔  
**شیطان کو آنے دیر نہیں لگتی**۔ (۱۔ مثل) جھگڑا کھڑا ہونے یا عصہ آنے میں

اس کی پشت پر لگتے ہیں۔ (۲) سلائی جو کتاب اور پٹھوں پر کی جاتی  
ہے۔ (۳) انتظام سلسلہ۔

**شیرازہ باندھنا**۔ (۱۔ محاورہ) کتاب کی سلائی کرنا منتشر جزوں کو بجا کرنا۔  
**شیرازہ بکھڑنا**۔ (۱۔ محاورہ) (۱) منتشر ہونا (۲) اتری پڑنا (۳) انتظام بڑھنا۔  
**شیرازہ بندی**۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) جلد بندی (۲) انتظام۔

**شیرازی**۔ (ش-شی۔ رازی) [ف۔ صفت] (۱) شیرازہ کا۔ شیرازہ سے منسوب (۲)  
ایک قسم کا کبوتر۔  
**شیرینی**۔ [ا۔ ۱۔ مذ] شیر کی مادہ۔  
**شیرینی**۔ (ش-شی) [ق۔ ۱۔ مذ] مٹھائی۔ شیرینی۔

**شیروں کا فتنہ**۔ (۱۔ مذ) پچے یا فتنہ مند دھوکے بغیر کھانا کھا  
تو فتنہ لگتے ہیں۔  
**شیروں کے شیر ہی ہوتے ہیں**۔ (۱۔ مثل) بہادروں کی اولاد بہادری  
ہوتی ہے۔

**شیروں کے منہ چڑھنا**۔ (۱۔ محاورہ) بہادروں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔  
زبردستی کے ساتھ اڑنا۔  
**شیرہ**۔ (ش-ی۔ رہ) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) توام۔ چاشنی (۲) پیلا گڑ جو بنبا کو میں  
ڈالا جاتا ہے۔ سلاب۔

**شیرہ انگور**۔ [ف۔ ۱۔ مذ] انگوری شراب۔  
**شیریں**۔ (ش-ی۔ ریں) [ف۔ صفت] (۱) میٹھا خوشگوار (۲) عزیز۔ پیارا۔  
(۳) نرم۔ ملائم۔ رس دار (۴) فریاد کی معنوی کا نام۔  
**شیریں ادا**۔ (ف۔ صفت) وہ جس کی ادائیں پسند ہوں۔ اچھی اداؤں والا۔

**شیریں بیاں**۔ (ف۔ صفت) خوش بیاں خوش کلام۔  
**شیریں خرام**۔ (ف۔ صفت) پسندیدہ چال چلنے والا۔  
**شیریں دیاں (دین)** [ف۔ صفت] میٹھی باتیں کرنے والا (۲) جس کا  
بوسہ لینے ہوئے لطف آئے۔

**شیریں زبان**۔ شیریں سخن۔ شیریں کلام۔ شیریں نفس۔ شیریں مقال۔  
(۱۔ صفت) خوش گفتار۔ فصیح۔  
**شیریں لب**۔ (ف۔ صفت) خوش گفتار۔ فصیح۔  
**شیریں نوا**۔ (ف۔ صفت) مریلا۔ خوش آواز۔  
**شیریں نہ شو دہن بجلوہ لفتن**۔ (ف۔ مثل) کسی چیز کا محض نام لینے  
سے اس کا مزہ نہیں آتا۔

**شیرینی**۔ (ش-ی۔ رینی) [ف۔ ۱۔ مذ] (۱) مٹھائی (۲) مٹھاس۔ حلاوت۔  
**شیرینی تھری**۔ (ف۔ ۱۔ مذ) تھری کا دل پسند ہونا۔  
**شیش**۔ [ف۔ ۱۔ مذ] شیشے کا مخفف۔ بطور سابقہ استعمال ہوتا ہے جیسے  
شیش محل۔

**شیش گر**۔ (شیش گری) [ف۔ صفت] شیشے کی چیزیں بنانے والا۔  
**شیشم**۔ (ش-شی) [م۔ ۱۔ مذ] ایک درخت جس کی کڑی نہایت  
دزنی اور مضبوط ہوتی ہے۔

**شیش محل**۔ (شیش۔ م۔ محل) [ا۔ ۱۔ مذ] وہ مکان جس میں چاروں طرف  
شیشے لگے ہوں۔



دیر نہیں لگتی۔

شیطان کی آنت - (۱۔ مٹ) (۱) بڑی لمبی چیز (۲) طول طویل قصہ (۳) وہ چیز جس کا سلسلہ دُر تک پھیلا ہو۔

شیطان کی پھٹکار - (بددعا) کوئی بُرا کام کرے تو کہتے ہیں۔

شیطان کی خالہ - (۱۔ مٹ) لڑائی جھگڑا، ادینے والی عورت۔

شیطان کی ڈور - (۱۔ مٹ) کمری کے جالے کا تاجہ اکثر راستوں میں اُڑاتا رہتا ہے اور آنکھ میں پڑھانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔

شیطان کے کان بہرے - (۱۔ مثل) شیطان نہ سنے۔ نما عاز کے کان تک یہ بات نہ پہنچے (۲) خدا کرے یہ خیر چھوٹ ہو۔

شیطان کے کان کاٹنا - (۱۔ محاورہ) شیطان سے بڑھ کر کام کرنا۔ شیطان سے زیادہ شریا و رفتہ انگریز ہونا۔

شیطان کے گھرولی - (۱۔ مثل) نالائق شخص کی اولاد کا نیک ہونا۔

شیطان مجسم - (ع۔ صف) سرتا یا شریر۔ بے حد شریر۔

شیطان نے لڑکوں سے پناہ مانگی - (۱۔ مثل) لڑکے شیطان سے بھی زیادہ شریر ہوتے ہیں۔

شیطان ہر جگہ موجود ہے - (۱۔ مثل) سامان گناہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔

ہر جگہ انسان کے دل میں بڑے دوسے آتے رہتے ہیں۔

شیطانی - (شے۔ ط۔ نی) [۱۔ صفت] (۱) شیطان سے منسوب شیطان کا (۲) اختلام جو عورتوں کو ہو جائے۔

شیطانی لشکر - (۱۔ مذ) شریر لڑکوں کا جمع۔

شیطانی چرخا - (۱۔ مذ) بڑی چیز یا بُرا شخص۔

شیطننت - (شے۔ ط۔ نشت) [۱۔ مٹ] (۱) شرارت۔ خجانت

بی (۲) شرارت (۳) فتنہ ساز۔

شییعہ - (شے۔ ع۔ م) [۱۔ مذ] (۱) گروہ (۲) مسلمانوں کا وہ فرقہ جو حضرت علیؑ کو پیغمبر اسلام کے بعد خلافت کا حق دار مانتا ہے

(۲) امامیہ مذہب کا پیرو۔

شیعی - (شے۔ ع۔ م) [ع۔ صفت] شیعیہ فرقہ سے منسوب۔

شیعی مٹکی - (شے۔ م۔ م) [ن۔ مٹ] (۱) عشق۔ زینتی (۲) حیرانی مدہوشی۔ پریشانی۔

شیعیفتہ - (شے۔ م۔ م) [ن۔ صفت] (۱) عاشق۔ فریفتہ (۲) متوہ پریشان (۳) اردو کے شاعر نواب مصطفیٰ خاں کا تخلص۔

شیللا - (شے۔ لا) [ن۔ مٹ] ملل۔

شیلڈ - (انگ۔ امٹ) سپر۔ ڈھال (۲) انعامی نشان۔

شیلف - (Shelf) (انگ۔ امٹ) [ن۔ طاق] (۱) الماری۔ خانہ۔

شیم - (ش۔ ییم) [ع۔ امٹ] شیمہ کی جمع۔ عادتیں خصلتیں۔

شین - (ع۔ ا۔ مذ) [۱] عیب۔ بُرائی (۲) عیب لگانا۔ جمع: شینون۔

شینین - [۱۔ ہ۔ مذ] حرف "ش" کا تلفظ۔

شین قاف درست نہ ہونا - (۱۔ محاورہ) تلفظ صحیح نہ ہونا۔

شیلو - (Shave) (انگ۔ ا۔ مذ) حجامت۔

شیلوشیوا - [۱۔ ہ۔ مذ] ہندوؤں کا بڑا دوتا۔ مخلوقات کو فنا کرنے والا۔

شیلوا - (شے۔ لا) [ن۔ صفت] فیصیح۔ بلیغ۔

شیلو زبان (بیان) - [ن۔ صفت] خوش بیان۔ فیصیح۔ بلیغ

شیلوخ - (ش۔ یوخ) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) شیخ کی جمع (۲) مشائخ (۳) بزرگ (۴) استاد معلمین

شیلوخت - (ش۔ یوخت) [ع۔ ا۔ مٹ] بڑھایا۔

شیلوع - (ش۔ یوع) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) ظاہر ہونا (۲) جاری ہونا۔

(۳) پھیلنا۔ اشاعت۔

شیلون - (شے۔ ون) [ن۔ مٹ] (۱) غم۔ ماتم۔ سوگ۔ فوجہ۔ آہ و زاری

نالہ۔ فریاد۔ واویلا۔

شیلوہ - (شے۔ وہ) [ن۔ ا۔ مذ] (۱) طور۔ طریق۔ ڈھنگ۔ انداز۔

دستور (۲) ناز۔ کرشمہ

شیلوہ گری۔ نازخزہ۔ عیشوہ۔

# ص

ص۔ (صاد۔ صواد) [ع۔ ا۔ مذ] اردو کا مسوا۔ فارسی کا سنڑھواں اور عربی کا چودھواں حرف۔ حساب الجویں اس کے نو سے عدد فرض کئے گئے ہیں۔ اسے صاد ہجلیا صاد غیر منقوطہ بھی کہتے ہیں۔ آدھا ص یعنی بلا دائرے کا (ص) صحیح منظور شدہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخفف کی علامت ہے۔ قرآن شریف کی ایک سورت کا نام۔ شیشی حرف ہے۔ اگر اس کے پچھلے ال ہو تو لام نہیں پڑھا جائے گا۔ البتہ ص کو مشدد کر دیا گیا جیسے القیید۔

## ص - ۱

صابر۔ (صا۔ بڑ) [ع۔ صفت] (۱) صبر کرنے والا۔ مثل۔ بربار (۲) حضرت ایوب کا لقب جن کا صبر ضرب امتل ہے۔ جمع : صابریں۔

صابری۔ (صا۔ ب۔ ری) [ع۔ ف۔ ا۔ مثن] (۱) صابر سے منسوب (۲) فقرا کا ایک گروہ جو حضرت سید علاؤ الدین علی احمد صابری سے منسوب ہے۔

صابین۔ (صا۔ بن) [ع۔ ا۔ مذ] عربی لفظ صابون کا مؤرد۔ میل صاف کرنے کی چیز جو نیل۔ سوڈا اور جیل وغیرہ سے بنائی جاتی ہے۔

صابین سامتہ میں کھلنا۔ صابین سامتہ ہوتا۔ (۱) محاورہ (بہینھا سیٹھا منہ ہونا۔ پھیکا پھیکا اور مدد اٹھنا منہ ہونا۔

صابین کا تار۔ (۱) مذ] شامل مگر آدوگی سے پاک تعلقات دینا میں شامل مگر بلیغہ۔ بے لوث۔ بے تعلق۔ آزاد۔

صابون۔ (صا۔ ون) [ع۔ ا۔ مذ] دیکھیے صابن۔

صابونی۔ (صا۔ بونی) [ع۔ ا۔ مثن] ایک قسم کی مٹھائی۔

صابلی۔ (ع۔ ا۔ مذ) ایک دین سے پھر کر دوسرے دین میں جانا۔

صاحب۔ [ع۔ ا۔ مذ] (۱) بار۔ دوست۔ ساتھی (۲) مالک۔ خدا۔ آقا عالم (۳) کلمہ تعظیم (۴) خاندان منور (۵) آپ (۶) جنہیں شریف (۷) مستحق۔ بزرگ (۸) کلمہ خطاب (۹) کلمہ احترام جو نام کے بعد لکھا جاتا ہے۔

صاحب الغرض مجتوں۔ (ع۔ مثن] غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔

صاحب اختیار۔ (ع۔ صفت) با اختیار۔ خود مختار۔ آزاد۔ مطلق العنان۔

صاحب اخلاق۔ (ع۔ صفت) خوش اخلاق۔ خلیق۔

صاحب اوراک۔ (ع۔ صفت) داناء۔ عقلمند

صاحب استعداد۔ (ع۔ صفت) قابل۔ لائق۔

صاحب اقبال۔ (ع۔ صفت) خوش بخت۔ نیک اختر۔

صاحب لڑنمان۔ (ع۔ صفت) حضرت امام ہدی کا لقب۔

صاحب گریڈ۔ (ع۔ صفت) ڈاکخانے کا انتظام کرنے والا۔ پوسٹ ماسٹر۔

صاحب تخت۔ (ع۔ ف۔ صفت) بادشاہ۔

صاحب نذیر۔ (ع۔ صفت) ذی شعور۔ ہوشیار۔ تجزیہ کار۔ مدبر۔

صاحب تیز۔ (۱) صفت) تیز دار۔ ذی شعور۔ (۲) داناء عقلمند (۳) واقف۔ ماہر (۴) سلیقہ رکھنے والا۔

صاحب بانداد۔ (ع۔ ف۔ صفت) وہ شخص جس کے پاس۔ زمین۔ املاک۔ باغات وغیرہ ہوں۔

صاحب جمال۔ (ع۔ صفت) حسین خوبصورت۔

صاحب جیش۔ (ع۔ صفت) فوج کا کمانڈر اچھی۔ جنرل۔

صاحب حال۔ (ع۔ صفت) لائق۔ قابل دید (۲) مہذب۔ شائستہ (۳) اہل دل (۴) وہ شخص جس کی طرف کسی فقرے یا جملے کا اشارہ ہو۔

صاحب حیثیت۔ (ع۔ صفت) جاننا داکا مالک۔ دولت مند معزز۔

صاحب خانہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) (۱) گھر والا۔ گھر کا مالک (۲) مہمان دار۔ میزبان۔

صاحب دل۔ (ع۔ ف۔ صفت) پارسا۔ منقی۔ پرہیزگار۔ دین دار۔ سخی۔

صاحب دیوان۔ (ف۔ صفت) دو شاخوں کے کلام کا مجموعہ مرتب یا شائع ہو چکا ہو۔

صاحب ذوق۔ (ع۔ صفت) (۱) عارف کامل (۲) مستحقین۔ عاشق مزاج۔

(۲) فنون لطیفہ کا اچھا مذاق رکھنے والا۔

صاحب راز۔ (ع۔ ف۔ صفت) بھیدی۔ محرم بہتر۔

صاحب وایت۔ (ع۔ صفت) معنی راوی۔

صاحب زادہ۔ (ع۔ ف۔ مذ) (۱) شریف زادہ۔ رئیس زادہ (۲) بیٹا۔ فرزند۔ لڑکا۔ کسی بزرگ دین کی اولاد (۳) تجربہ کار نوجوان۔

صاحب زادہ پن۔ (۱) مذ] نادانی۔ احمق پن۔ بیوقوفی۔

صاحب زادی۔ (۱) مثن] بیٹی۔ دختر۔

صاحب زبان۔ (ع۔ ف۔ صفت) زبان کا ماہر زبان دان۔

صاحب زر۔ (ع۔ ف۔ صفت) امیر۔ دولت والا۔ مال دار۔

صاحب سلامت۔ (ع۔ ا۔ مثن) عیدک سلیک۔ ملاقات۔ جان پہچان۔

صاحب سلیقہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) سلیقہ مند صاحب تمیز۔

صاحب صابی۔ (ع۔ صفت) (۱) حضرت عیسیٰ (۲) وہ شخص جس نے ستاروں کی پرستش رائج کی۔

صاحب صفین۔ (ع۔ صفت) حضرت علیؑ۔

صاحب طرف۔ (ع۔ صفت) با حوصلہ۔ عالی ظرف۔

صاحب عالم۔ (ع۔ صفت) شہزادگان و بی بی کا لقب۔

صاحب عزت و نشان۔ (ع۔ صفت) عزت اور نشان و شوکت والا۔

صاحب عصا۔ (ع۔ صفت) حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

صاحب عطا و نعم۔ (ع۔ صفت) فیاض۔ سخی۔

صاحب غیرت۔ (ع۔ صفت) غیرت مند۔

صاحب فراست۔ (ع۔ صفت) داناء۔ عقلمند۔

صاحب فراش۔ (ع۔ صفت) وہ بیمار جو بستر سے اٹھ نہ سکے۔ چارپائی پر پڑا رہنے والا بیمار آدمی۔

صاحب قرآن - (ع-صف) (۱) وہ شخص جس کے نطفہ پھیرنے یا پیدا ہونے کے وقت زہرہ و مشتری ایک گھر میں ہوں۔ قرآن السعدین والا۔ (۲) بڑا نیک۔ طالع ادرخ مند (۳) امیر تہذیب کا لقب۔

صاحب کلم - (ع-۱-۱) مذ۔ ادیب۔ شاعر۔ مصنف۔

صاحب قیافہ - (ع-صف) عقلمند۔ دانہ سمجھ دار۔

صاحب کتاب - (ع-صف) وہ پیغمبر جس پر کوئی آسمانی کتاب اتری ہو۔

صاحب کرامت - (ع-صف) جس میں کرامت دکھانے کی طاقت ہو۔

صاحب کرم - (ع-صف) فیاض۔ سخی۔ دانا۔

صاحب کمال - (ع-صف) ماہر استاد (۲) عارف۔ ولی۔ عالم (۳) حکیم ڈاکٹر۔

صاحب نولاک - (ع-صف) جناب رسالت۔

صاحب مقدور - (ع-ف-صف) مالدار۔ دولت مند۔

صاحب امن - (ع-۱-۱) مذ۔ میرے صاحب! جناب من! حیران۔

صاحب منصب - (ع-۱-۱) مذ۔ عہدیدار۔

صاحب نسبت - (ع-صف) خدا سے لگا رکھنے والا۔ ولی کامل۔

صاحب نصیب - (ع-صف) (۱) خوش نصیب۔ خوش قسمت۔ (ظنّاً) بد نصیب۔ کجنت۔

صاحبجو - (ص-ج-بو) (۱) خطاب] اسے حاضرین جلسہ۔

صاحبجہ - (ص-ج-بیہ) [ع-۱-۱] صحت کی نائیت۔ محترمہ۔ جمع اصحاب۔

صاحبچی - (ف-۱-۱) مذ۔ (ق) حکومت۔ جہد۔ دور دو (۲) امیری (۳) عالی دماغی۔ نازک مزاجی۔ بے پروائی۔ (۴) سخی۔ فیشن پرستی (۵) مغربی انداز اور طور طریقہ۔

صاحبی کرنا - (۱) محاورہ) حکومت کرنا۔ دماغ کرنا۔ کم تو جہی کرنا۔ خاطر میں نہ لانا۔

صدا - (ع-۱-۱) مذ [۱] حرف "ص" کا تلفظ (۲) علامت تصدیق و تہا منظور کرنے کی علامت (۳) قرآن شریف کی اٹھیسویں سورت (۴) چشمہ آئینہ۔

صدا کرنا - صدا دکھنا - (۱) محاورہ) تصدیق کرنا۔ منظور کرنا۔ پسند کرنا (۲) دستخط کرنا۔

صدا ہونا - (۱) محاورہ) منظور ہونا۔ تسلیم شدہ۔

صاورد - (ص-ور) [ع-صف] نافذ ہونے والا۔ نکلنے والا۔ نافذ۔

صاورد شدہ - (ع-صف) جاری کیا ہوا۔

صاورد کرنا - (۱) محاورہ) جاری کرنا۔ حکم یا قانون جاری کرنا۔

صاورد وارو - (ع-صف) (۱) مسافر آنا جانا (۲) مہمان

صاورد ہونا - (۱) محاورہ) (۱) نافذ ہونا۔ جاری ہونا (۲) واقع ہونا پیش آنا (۳) پہنچنا۔ نازل ہونا۔

صاودق - (ص-اودق) [ع-صف] (۱) سچا۔ راست گو (۲) منصف۔ مزاج۔ (۳) دانا دار (۴) ٹھیک۔ بوزوں (۵) معنی کا کسی دوسری چیز پر درست آنا (چسپاں ہونا)۔ جمع: صاودقین۔

صاودق آنا - (۱) محاورہ) (۱) درست ہونا۔ ٹھیک ہونا (۲) چسپاں ہونا۔ غائب ہونا۔

صادق الاعتقاد - (ع-صف) سچے اعتقاد والا۔

صادق القول - (ع-صف) بات کا پورا۔ وفادار۔

صادق الوعدہ - (ع-صف) وعدے کا سچا۔ وعدہ پورا کرنے والا بات کا پورا۔

صادق فائدہ - (ع-صف) سچے طور سے۔ وفاداری سے۔

صارت - (ص-ارت) [ع-صف] خرچ کرنے والا۔ وہ شخص جو کسی چیز کو استعمال کرے۔ جمع: صارتین۔

صارم - (ص-ارم) [ع-صف] (۱) مذ [۱] نوار کاٹ والی (۲) بہادر آدمی۔

صلع - (ع-۱-۱) مذ (۱) ۲۳۴۴ ٹولے کا ایک وزن (۳) [صحت] نشیب۔ پست زمین۔

صاعدا - (ص-ع-ا) [ع-صف] اُپر چڑھنے والا۔

صاعقا - (ص-ع-ا) [ع-۱-۱] صحت] گرگنے اور زمین پر گرنے والی بجلی۔

صاعقہ بار - صاعقہ زما صاعقہ کون۔ (ع-صف) بجلی گرانے والا۔

صاف - (ع-صف) (۱) کھرا۔ بزل۔ خالص۔ (۲) اُجلا بے داغ۔ کولہا۔ (۳) بے گناہ۔ پاک (۴) سہل۔ آسان (۵) ہموار۔ پیکنا (۶) سوجھ بوجھ بالکل (۷) ظاہر آشکار (۸) علی الاعلان (۹) سچا ہونا۔ مانجھا ہونا۔

صاف صاف کیا ہوا - (۱۰) سچا۔ سیدھا (۱۱) مفصل۔ واضح (۱۲) ٹھیک درست۔ (۱۳) بے کدورت (۱۴) بے لوث (۱۵) سادہ۔ معصوم۔ (۱۶) کھل کھلا۔ کھلے طور پر۔

صاف اُٹا لانا - (۱) محاورہ) اس طرح بھگانا کہ کسی کو کافوں کا ن خبر نہ ہو۔

صاف انکار کرنا - (۱) محاورہ) بالکل جواب دینا۔ ٹھکر جانا۔

صاف بات - (۱) صحت] آزادانہ لڑنے۔ بے لاک بات۔

صاف باطن - (ع-صف) بے کینہ۔ جس کے باطن میں کھوپ نہ ہو۔

صاف جواب دینا - (۱) محاورہ) بالکل انکار کرنا۔ دو ٹوک جواب دینا۔

صاف بچنا - (۱) محاورہ) کوئی ضرر نہ پہنچنا۔

صاف چھوٹنا - (۱) محاورہ) بری ہونا۔ بے قصورین کر پانی پانا۔

صاف دل - (ع-ف-ص) بے کینہ۔ بے ریا۔ جس کے دل میں کوئی کدورت نہ ہو۔

صاف دیدہ - (ع-ف-ص) بے شرم۔ بے حیا۔ بے عزت۔ ڈھبٹ۔

صاف رہ - میباک رہ - (۱) صحت] حساب صاف ہو تو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔

صاف رہنا - (۱) محاورہ) (۱) اُجلا رہنا۔ پاک رہنا (۲) دیانتداری اور ایمانداری سے رہنا (۳) جھوٹا رہنا۔ کچھ نہ کہنا۔

صاف شفاف - (ع-صف) ایسا صاف جس کے آراہ نظر آسکے۔ بالکل صاف۔

صاف صاف - (ع-۱-۱) مذ بے لگ۔ کھری کھری کھل کھلا۔ اعلانیہ۔

صاف صاف سنانا (کنا) - (۱) محاورہ) (۱) گلیاں دینا۔ (۲) کھری کھری کنا۔

صاف کر دینا - صاف کرنا - (۱) محاورہ) (۱) دھوڑنا۔ میل کانا۔ کھڑا کرنا۔ نکالنا۔ مانجھا (۲) نقل کرنا۔ مسودہ کو ٹھیک کر کے لکھنا (۳) جھجکل کاٹ کر میدان بنانا (۴) جھٹ کرنا۔ اُڑانا (۵) بالکل غارت کرنا۔ اُجھاڑنا۔

مارتا (۶) مشتق کرنا (۷) مٹھ کا مڑھ ٹھیک کرنا (۸) مذ بوجھ لو کو بنانا۔ (۹) قتل کر دینا۔ (۱۰) کدورت رفع کرنا (۱۱) مہندم کر دینا۔ گزانا۔

صباح - (ع۔ صفت) نیرفتار کنایت تیز گھوڑا۔  
 صباح - (ع۔ ص۔ باج) [ع۔ ۱۔ مٹ] صبح تیز کا۔ سحر۔  
 صباحت - (ع۔ ص۔ باج) [ع۔ ۱۔ مٹ] گویا پین خوبڑی۔ جمال۔  
 صبحناغ - (ع۔ ص۔ باج) [ع۔ ۱۔ مٹ] رنگ بڑے رنگے والا۔  
 صبح - (ع۔ ۱۔ مٹ) تیز کا۔ فجر۔ سویرا۔ سحر۔  
 صبح ازل - مخلوق کی بدلائش ازل کا وقت۔ آغاز۔  
 صبح السنت - (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ صبح جب اللہ نے رُوحوں سے پوچھا تھا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ یعنی کیا میں تمہارا رب ہوں۔ رُوحوں نے کہا تھا بلی۔ ہاں تو ہمارا رب ہے۔  
 صبح بنارس - (۱۔ مٹ) بنارس میں صبح کا نظارہ بہت دلکش ہوتا ہے عورتیں نہانے کے لیے دیکھنے لگتی ہیں جس سے بڑی تہلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے بنارس کی صبح مشہور ہے۔  
 صبح بہار - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) موسم بہار کی صبح جسے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔  
 صبح پیری - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) بڑھاپا۔ بڑھاپے کی ابتدا۔  
 صبح خیز - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) صبح سویرے اٹھنے والا۔ عابد۔ نمازی۔  
 صبح خیزا - صبح خیز یا۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) سونے ہوئے مسافروں کا مال چرانے والا۔ چور۔  
 صبح دم - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) صبح اُصبح۔ بہت تیز کے مُندانہ ہیرے۔  
 صبح شام بتانا - صبح شام کرنا۔ (۱۔ محاورہ) جلد بہانہ کر کے ٹالنا۔  
 صبح صادق - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) نور کا تیز کا۔ پد پختے۔  
 صبح صبح - (ع۔ متعلق فعل) بہت سویرے۔  
 صبح کا بھولا شام کو آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ (۱۔ مثل)  
 اگر آدمی خرابی اٹھا کر جلد ستر جائے یا ایک وقت کے کام کو دوسرے وقت میں کرے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔  
 صبح کا تارا - (ع۔ ۱۔ مٹ) نہایت روشن ستارہ جو اکثر صبح کے وقت اور کبھی شام کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ زہرہ۔  
 صبح کا زب - (ع۔ ۱۔ مٹ) صبح کی روشنی جس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔  
 صبح کرنا - (۱۔ محاورہ) رات کاٹنا۔  
 صبح کس کا منہ دیکھا تھا - (۱۔ محاورہ) جب کوئی کام بڑھ جائے یا خلاف معمول ہو تو اس وقت کہتے ہیں۔  
 صبح کی بونہی اللہ میاں کی آس - (۱۔ مثل) صبح کو کسی چیز کا بلا ٹکراؤ تک جانا مبارک ہوتا ہے۔  
 صبح کی پوچھنا تو شام کی کہنا - (۱۔ محاورہ) جو اس باختہ ہونا۔ گھبرا جانا۔  
 صبح کاہ - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) صبح کے وقت۔ علی الصباح۔  
 صبح کاہی - (ف۔ ۱۔ مٹ) صبح سے متعلق۔ صبح والا۔  
 صبح و مسا - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) صبح شام۔  
 صبح ہو جانا - (۱۔ محاورہ) دن نکل آنا۔ خاتمہ ہو جانا۔  
 صبحیر - (ع۔ ۱۔ مٹ) [۱۔ شکیبائی۔ خاموشی (۲) برداشت۔ بُردباری۔ نکل

(۱۲) بیاق کرنا (۱۳) ختم کر دینا (۱۴) چوری کرنا۔  
 صاف کھردینا (کہنا) (۱۔ محاورہ) پیچ بچ کرنا۔ کھری کھری سنانا (۲) بے لگت بات کرنا۔  
 صاف گزرنے والا - (۱۔ محاورہ) نافر گزرنے والا۔ بالکل کھلنے کو نہ ملنا۔  
 صاف گو - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) صفا۔ کھری کھری کہنے والا۔  
 صاف معاملہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) ایسا معاملہ جس میں کوئی پیچ نہ ہو۔  
 صاف مُند پر کہنا - (۱۔ محاورہ) کسی نئے خلاف اس کے سامنے کہنا کھلے طور پر کہنا۔  
 صاف نکل جانا - (۱۔ محاورہ) کسی عذر سے آزار یا خطرہ کا جھکے سے بچ کر چلا جانا۔  
 صاف ہونا - (۱) اخلاص ہونا (۲) کھلتا جاری ہونا (۳) گریزنا (۴) بہت سے آدمیوں کا مارا جانا (۵) جنگل کا ٹاٹا جانا (۶) بال موٹا جانا (۷) بیاق ہونا (۸) آسمان کھلنا (۹) درست کر کے کھلا جانا۔  
 صاف نہ - [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) سر پر باندھنے کا دوپٹہ (۲) شکاری جانور کا گھوکنا۔  
 صاف دینا - (۱۔ محاورہ) شکاری جانور کو بھوکا رہنا۔ کبوتر کو بلند پروازی کے لیے بھوکا رکھنا۔  
 صافی - (صافی۔ ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) رومال یا کپڑے کا ٹکڑا جس سے صفائی کی جائے جو لٹھے پر سے برتن اتارنے کا کپڑا (۲) چھانسنے کا کپڑا۔  
 صافی نامہ - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) راضی نامہ (۲) تصدیق کا خط بنا دغ خطی۔  
 صالح - (صا۔ ل۔ ج۔ ع۔ صفت) (۱) نیک پارسا۔ پرہیزگار۔ مستحق (۲) دیانتدار۔ نیک چلن (۳) ایک پیغمبر تو م خود میں مبعوث ہوئے تھے۔  
 صالحات - (صا۔ ل۔ حات) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) صالحہ کی جمع نیکائے نرس (۲) اچھے کام۔  
 صالحہ - (صا۔ ل۔ ح۔ ع۔ ۱۔ مٹ) نیک بخت عورت۔ پاک امن بی بی۔  
 صالحین - (صا۔ ل۔ جین) [ع۔ ۱۔ مٹ] صالح کی جمع۔ نیک اور پرہیزگار لوگ۔  
 صامت - (ع۔ صفت) چپ خاموشی (۲) گونگا (۳) بے جان۔  
 صانع - (صا۔ ل۔ ج۔ ع۔ صفت) (۱) کاریگر۔ بنانے والا (۲) پیدا کرنے والا۔ خالق۔  
 صانع حقیقی - صانع قدرت - صانع مطلق - (ع۔ ۱۔ مٹ) اللہ پاک۔  
 صانع بنانے والا۔  
 صائب - (صا۔ ل۔ ج۔ ع۔ صفت) (۱) رسا۔ پھینپنے والا۔ (۲) درست ٹھیک۔  
 صائب الرئے - (ع۔ صفت) جس کی رائے درست ہو عقل مند۔  
 صائم - (صا۔ ل۔ ج۔ ع۔ ۱۔ مٹ) روزہ - روزہ رکھنے والا۔  
 صائم الدہر - (ع۔ صفت) ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔

ص - ب

صبا - (ص۔ با) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) وہ ہوا جو مشرق سے چلے۔ وہ پُردا ہوا جو موسم بہار میں چلتی ہے۔ مشرقی ہوا۔ صبح کی ہوا۔

صِبْنِغ - (ص - بیج) [ع - صف] گورا - خوبصورت -  
صِدْتِیہ - (ص - بی بی) [ع - ۱ - مٹ] لڑکی - بیٹی -

## ص - ح

صِحَابِیَت - (ص - حبابت) [ع - ۱ - مٹ] رفاقت - دوستی -  
صِحَابِیہ - (ص - حباب) [ع - ۱ - مذ] (۱) صاحب صحابی کی جمع - دوست (۲) رسول مقبول صلعم کے ہم مجلس -

صحابی - (ص - حبابی) [ع - ۱ - مذ] رسول مقبول کے ساتھی یا وہ مسلمان جنہوں نے آنحضرت صلعم کو دیکھا ہو -

صحابیہ - (ع - ۱ - مٹ) صحابی کی تانیث -

صحیح - (ص - حارج) [ع - ۱ - مٹ] صحیح کی جمع - درست -

صحیح رفتہ - (ع - ۱ - مٹ) حدیث کی چھ مستند کتابیں (۱) بخاری (۲) مسلم (۳) ترمذی (۴) ابوداؤد (۵) ابن ماجہ (۶) نسائی -

صحیف - (ع - ۱ - مذ) جلد ساز کتاب کی جلد بنانے والا -

صحیافت - (ص - حافت) [ع - ۱ - مٹ] اخباری کاروبار - اخبار نویسی -  
انگ (Journalism)

صحیفانی - (ص - حافی) [ع - ۱ - مذ] اخبار نویس (انگ (Journalist))  
صحیف لفت - (ص - حافت) [ع - ۱ - مذ] صحیفہ کی جمع - رسالے کتابیں -

صحبت - (ص - بیت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) یادی - دوستی - مددگاری (۲) ہمراہی  
ساتھ - (۳) محفل - مجلس - مل بیٹھنا (۴) ہم بستری عورت کے ساتھ سونا -

صحبت اٹھانا - برتنا - (۱) محاورہ (۲) پاس رہنا (۳) پاس رہ کر تعلیم پڑھنا یا  
صحبت برادر (برآری) ہونا - صحبت کا موافق ہونا - دوستی بیٹھنا -

صحبت برخاست ہونا - (ص - مرکب) مجلس برخاست ہونا -

صحبت چمکا دینا - (۱) محاورہ) جلسہ کی رونق بڑھادینا -

صحبت داری - جماعت ہم بستری جماع (۲) میل جول مصاحبت -

صحبت راس آنا - (۱) محاورہ) کسی کے پاس بیٹھ کر بے کام چھوڑ دینا -

صحبت رکھنا - (۱) محاورہ) ہم نشینی اور ہم جلسی اختیار کرنا -

صحبت صالح ترا صالح لگنا - صحبت طالع ترا طالع لگنا - (۱) مثل  
اچھی صحبت بچھے نیک اور بُری صحبت بچھے بُرا بنائے گی -

صحبت کا اثر ہونا - (۱) محاورہ) پاس اٹھنے بیٹھنے کی تاثیر ہونا - ہم صحبتوں کا  
ایک دوسرے میں مخلوط ہونا -

صحبت کرنا - (۱) محاورہ) جماع کرنا - ہم بستری کرنا -

صحبت گرم ہونا - (۱) محاورہ) بے تکلفی کا جلسہ ہونا - پاس بیٹھ کر دل خوش ہونا -

صحبت نہ رہنا - (۱) محاورہ) پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع نہ ملنا - تنہا  
جلسہ نہ ہونا -

صحبت یافتہ - (ع - ف - صف) (۱) تعلیم یافتہ - شائستہ - لائقوں کی صحبت  
کا فیصلہ پایا ہوا آدمی -

(۳) توفیق - تامل (۴) خدا کی مار - کسی کا دل دکھانے کی آنت (۵)  
توکل - قناعت -

صبر آزما - (ع - ف - صفت) تکلیف دہ صبر کو آزمانے والا -

صبر آنا - (۱) محاورہ) تسلی ہونا - اطمینان ہونا - چین آنا -

صبر ایوب (ایوبی) [ع - ۱ - مذ] حضرت ایوب کا صبر جو بہت مشہور ہے  
انتہائی صبر -

صبر بڑانا - (۱) محاورہ) کسی کو ستانے کی غیب سے سزا ملنا -

صبر تلخ است و لیکن پریشانی دار و - (ف - مثل) صبر تکلیف دہ ضرور ہے  
گراس کا پھل میٹھا ہوتا ہے -

صبر جمیل - (ع - ۱ - مذ) بہترین صبر - وہ صبر جس پر ثواب ملے -

صبر دینا - (۱) محاورہ) اللہ تعالیٰ کا کسی کو نیکین دینا -

صبر خصمت ہونا - (۱) محاورہ) صبر نہ رہنا - بے صبر ہونا -

صبر سیمینا - (۱) محاورہ) (۱) ناحق نعمت لگانا - بہتان کا گناہ اپنے ذمہ لینا -  
بھوٹا ہونا - (۲) وعائے بدینا - کوسنا سنا -

صبر کا بار نہ رہنا - (۱) محاورہ) صبر نہ ہو سکتا - بے صبری -

صبر کرنا - (۱) محاورہ) (۱) ناپائید ہوجانا (۲) گھل کرنا - خاموش رہنا (۳)  
شہرنا - تامل کرنا (۴) توکل کرنا - قناعت کرنا -

صبر کی داد خدا کے ہاتھ ہے - (۱) مثل) صبر کرنے والوں کا انصاف  
خدا ہی کرتا ہے -

صبر کی سہل چھانی پر رکھنا - (۱) محاورہ) صبر کرنا - صبر کی توفیق دینا -

صبر لینا - (۱) محاورہ) (۱) کسی کے صبر کے عذاب میں گرفتار ہونا (۲)

کسی پر بہتان یا الزام لگا کر آ کر لینا -

صبر و شکر کرنا - (۱) محاورہ) کسی مصیبت یا بلا سے ناگمانی پر چھپ رہنا -  
تکلیف میں خدا کا شکر بجالانا -

صبر کر کے بیٹھ رہنا - (۱) محاورہ) باپوس ہو کر بیٹھ رہنا -

صبر و شکست - محفل برداشت - اطمینان -

صبر ہونا - (۱) محاورہ) برداشت ہونا - قناعت ہونا (۲) تسلی ہونا -

توکل ہونا - تامل ہونا -

صبر - [ع - ۱ - مذ] ایوا -

صبرغ - (صبرغ) [ع - ۱ - مذ] انگ (۲) ملت - دین -

صبرغہ اللہ - (صبر - غ - نمل - لہ) [ع - ۱ - مذ] قدرتی رنگ - دین کا  
رنگ - (۲) خدائی قانون -

صبور - (ص - بُورج - ص - بُورجی) [ع - ۱ - مٹ] شراب صبح  
وہ شراب صبح کو پی جائے -

صبورجی کش - [ع - ف - صف] صبح کو شراب پینے والا - شراب خور -

صبور - (ص - بُورج) [ع - صف] (۱) صبر (۲) گنہگاروں پر نرمی کرنے والا -

(۳) خدا تعالیٰ کا صفاتی نام -

صبور - (ص - بُورج) [ع - ۱ - مذ] مصنوعی عضو ناسل -

صبور - (ص - بُورج) [ع - ۱ - مٹ] صبر -

صبتی - (ص - بی) [ع - ۱ - مذ] دودھ پیتا بچہ - جمع صبتیان

(۵) مارنا (۶) ثابت کرنا (۷) کھرا کرنا (۸) گواہی کے لیے پکا کرنا۔  
 صحیح گئے سلامت آئے۔ (ارضش) جیسے یہاں گئے تھے۔ ایسے ہی باہر گئے  
 نہ کچھ کمایا نہ کچھ خرچ کیا۔  
 صحیح ہونا۔ (۱) محاورہ (۱) غلطی ٹکنا۔ ٹھیک ہونا (۲) تصدیق ہونا  
 دستخط ہونا۔ ثبوت ہونا۔ (۳) پکا ہونا (۴) یہی میں لکھا جانا۔  
 صحیح ہے۔ (۱) متعلق فعل) بجائے۔ درست ہے۔ حق ہے۔  
 صحیحین۔ (ع۔ صفت) صحیح کا تشبیہ (مث) احادیث کے دو مشہور مجموعے  
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔  
 صحیفہ۔ (ص۔ حی۔ ذ) [ع۔ اذ] کتاب۔ رسالہ۔ ورق۔ لکھا ہوا صفحہ۔  
 چھوٹی کتابیں جو بعض بیعتوں پر نازل ہوئیں۔  
 صحیفہ آسمانی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب۔  
 صحیفہ ابراہیمی۔ وہ کتاب جو حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی۔  
 صحیفہ نیکار (نویس) [ع۔ ف۔ صفت] صحافی۔ اخبار نویس۔  
 صحیفہ نیکاری (نویسی) [ع۔ ف۔ ا۔ صفت] صحافت۔ اخبار نویسی۔

## ص - د

صد۔ [ف۔ صفت] اسم عدد۔ سو۔ سیکڑہ۔ جمع صدہا۔  
 صد آفرین۔ صدر رحمت۔ (ف۔ کلید تحسین) آفرین۔ شاباش۔ مرحبا۔  
 بزرگ قدر (طنزاً) لعنت الامت کے نوحے پر بولنے ہیں۔  
 صد برگ۔ (ف۔ ا۔ مذ) وہ پھول جس کی بہت سی پتھریاں ہوں۔ گیندا۔  
 صد پایا۔ (ف۔ مذ) بہت سے پاؤں والا۔ کنگھجورا۔  
 صد پارہ (چاک) [ف۔ صفت] بہت جگہ سے پٹھا ہوا۔ ٹکڑے ٹکڑے۔  
 صد شکر۔ (۱) محاورہ) خدا کا شکر ہے یہی عزت گزری۔  
 صد کان گو سر۔ (ف۔ ا۔ مذ) بہت حسین۔ معشوق۔  
 صد مرجبا۔ (کلید تحسین) شاباش۔ آفرین۔  
 صدہا۔ سیکڑوں۔ جہت سے۔  
 صدرا۔ (ص۔ د) [ع۔ ا۔ صفت] (۱) گونج۔ گیند کی آواز (۲) مطلق آواز۔  
 آہٹ (۳) درویش یا فقیر کے مانگنے کی صدرا۔  
 صدرا بھو۔ (ف۔ ع۔ ا۔ صفت) (مث) جنگل کی آواز بے کار اور بے سود بات  
 جس کی شنوائی نہ ہو۔  
 صدابندی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) (Recording) آواز کو محفوظ یا ریکارڈ کرنے کا عمل  
 صدادینا۔ (۱) فقیر کا آواز لگانا۔ (۲) بلانے کے لیے آواز دینا۔  
 صدرا کار۔ (ع۔ ف۔ صفت) آواز کا فنکار۔ معنی۔ گانے والا گویا۔  
 صدرا کرنا صدرا لگانا۔ (۱) محاورہ) فقیر سے سوال کرنا۔ آواز لگانا۔  
 صدرا رت۔ (ص۔ د۔ رت) [ع۔ ا۔ صفت] صد نشینی۔ پریندہ نشی۔ چیرہ بینی۔  
 صدرا رت عظمیٰ۔ (ع۔ ا۔ صفت) وزارت عظمیٰ۔  
 صدرا رت ظہری حکومت۔ (ف۔ ع۔ ا۔ صفت) [مث] وہ نظام حکومت جس میں وزیر اعظم  
 کی بجائے صدرا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔

صحبتیں اٹھانا۔ صحبتیں برزنا۔ صحبتیں دیکھنا۔ (۱) محاورہ) اچھے لوگوں  
 کی صحبتوں سے نفین اٹھانا۔  
 صحبتی۔ (ص۔ ب۔ ف۔ ن) [ف۔ ا۔ مذ] یاد۔ ہنشین۔ دوست۔  
 صحبت۔ (ص۔ ب۔ ح۔ ن) [ع۔ ا۔ صفت] (۱) آرام۔ تندرستی۔ تھرا (۲) صبح۔ املا کی درست  
 صحبت افزا۔ [ع۔ ف۔ ن۔ صفت] تندرستی کے لیے مفید صحبت کو بہتر بنانے والا۔  
 صحبت الفاظی۔ (ع۔ ف۔ ن۔ صفت) صحیح لفظ ہونا۔ صحیح تلفظ کرنا۔  
 صحبت بخش۔ (ع۔ ف۔ ن۔ صفت) فائدہ بخشنے والا۔ شفا دینے والا۔ مفید۔  
 صحبت خانہ۔ (ع۔ ف۔ مذ) پاخانہ نشی۔ سبب الخلا  
 صحبت گاہ۔ (ع۔ ف۔ ن۔ ا۔ صفت) وہ صحبت افزا مقام جہاں مریضوں کو  
 رکھا جاتا ہے۔ سینی ٹورم۔  
 صحبت نامہ۔ (ع۔ ف۔ ن۔ ا۔ مذ) [ذ] (۱) فرست افلاط۔ افلاط نامہ (۲) تندرستی  
 کا سرٹیفکیٹ۔  
 صحبت پابی۔ (ع۔ ف۔ ن۔ ا۔ صفت) بیماری کے بعد اچھا ہونا۔ تندرست ہونا۔  
 صحرا۔ (ص۔ ر۔ ا) [ع۔ ا۔ مذ] میدان۔ جہاں درخت وغیرہ کچھ نہ ہو۔ بیابان۔  
 دیرانہ۔ بختیان۔  
 صحرائی خاک چھاننا۔ (۱) محاورہ) جنگلوں میں آوارہ پھرنا۔  
 صحرا گرد صحرا نورد۔ (ع۔ ف۔ صفت) جنگلوں میں پھرنے والا۔  
 صحرائین۔ (ف۔ ن۔ ا۔ مذ) جو جنگلوں میں رہے تمارک الدنیا۔ راہب۔  
 صحرائے اعظم۔ (ع۔ ا۔ مذ) افریقہ کا ایک طویل و دروغین ریشتان۔  
 صحرائے نئی ودوق۔ (ع۔ ا۔ مذ) سنسان اور دریاں جنگل۔  
 صحرائی۔ (ص۔ ر۔ ا۔ ای) [ع۔ صفت] جنگلی۔ بیابانی۔  
 صحیف۔ (ص۔ ب۔ ح۔ ن) [ع۔ ا۔ مذ] صحیفہ کی جمع۔  
 صحن۔ (ع۔ ا۔ مذ) [۱] آئین۔ آئینائی (۲) ایک قسم کا عمدہ کپڑا۔  
 صحن چین۔ (ع۔ ف۔ ن۔ ا۔ مذ) باغ کا تختہ۔ تختہ گلشن۔  
 صحنی۔ (ص۔ ح۔ ن) [ف۔ ا۔ صفت] وہ چھوٹا صحن جو دالان کے پہلو  
 میں بنا دیتے ہیں۔  
 صحنک۔ (ص۔ ح۔ ن) [ف۔ ا۔ صفت] (۱) رکابی۔ طباق (۲) چھوٹا  
 صحن۔ (۳) حضرت فاطمہ کی نیاز کا کھانا یا ناختہ۔  
 صحنک سے اٹھ جانا۔ (۱) محاورہ) ناپاکی کے باعث حضرت فاطمہ  
 کی نیاز یا ناختہ کی مجلس میں شریک ہونے کے قابل نہ رہنا۔  
 صحنو۔ (ع۔ ا۔ مذ) ہوشیاری۔ بیداری۔  
 صحنی۔ (ص۔ ح۔ ن) [ع۔ صفت] (۱) درست۔ ٹھیک۔ تندرست۔  
 پورا۔ کامل۔ سارا (۲) تصدیق۔ دستخط۔  
 صحیح العقل۔ (ع۔ صفت) عقل کا پورا۔ وہ شخص جس کی عقل سالم ہو۔  
 صحیح المزاج۔ (ع۔ صفت) تندرست۔ بھلا چنگا۔  
 صحیح النسب۔ (ع۔ صفت) نسل سے ٹھیک۔ خاندانی شریف۔  
 صحیح سالم (سلامت) [ع۔ صفت] پورا اور کامل۔ صحیح سلامت۔  
 بھلا چنگا۔ تندرست۔  
 صحیح کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) اصلاح دینا۔ درست کرنا (۲) ٹھیک کرنا۔  
 (۳) تصدیق کرنا۔ دستخط کرنا (۴) درج حساب کرنا۔ لکھ لینا۔

صداع - (ع - ۱ - مذ) دروسر۔

صدافت: (ض - ۱۰ - قمت) [ع - ۱ - ممت] (۱) سچائی، خلوص۔ وفاداری (۲) تصدیق۔ ثبوت۔ گواہی۔

صدائے بازگشت: (ع - ف - ۱ - ممت) وہ آواز جو پہاڑ یا گیند سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ (۲) نتیجہ۔ اثر۔

صدائے برنخاست - (ف - ممت) کوئی آواز نہیں۔ کوئی جواب نہیں (جواب نہ ملنے پر کہتے ہیں)

صدائے کوہ - (ف - ۱ - ممت) پہاڑ کی گونج۔

صدر - (ع - ۱ - مذ) (۱) میرپلیس۔ چیمبریں۔ پریزیڈنٹ (۲) ملک کا سربراہ۔

(۳) سینہ بھاتی۔ (۴) صحن۔ اٹھائی (۵) سامنا۔ آگاہ۔ سامنے کا رخ

(۶) اعلیٰ جگہ۔ کسی اعلیٰ مرتبہ شخص کے رہنے کی جگہ۔ ہیڈ کوارٹر (۷) امیر۔

سرمدار (۸) کیمپ۔ چھاؤنی (۹) اعلیٰ۔ اونچا۔ اول۔ سلا۔ بزرگ۔

(۱۰) خاص۔ مندرگاہ۔ تالیں۔ (۱۱) پہلے استعمال شدہ۔ بالامرکبات میں جیسے مندرجہ صدر۔

صدرا عظم - (ع - ۱ - مذ) دیوان اعلیٰ۔ وزیر عظم۔

صدرا اعلیٰ - (ک - ۱ - مذ) اول درجے کا راج۔ منصف درجہ اول۔

صدرا الصدور - (ع - ۱ - مذ) (۱) اعلیٰ درجے کا منصف (۲) شاہی گھر کا محافظ

صدرا امین - (ع - ۱ - مذ) اعلیٰ درجے کا امین۔ وہ حاکم جو جگہ کے ماتحت ہو۔

صدرا بازار - (ع - ف - ۱ - مذ) چھاؤنی کا بڑا بازار۔ آڈو بازار۔

صدور پورڈ - (ع - ۱ - مذ) عدالت عالیہ۔ مال کا محکمہ اعلیٰ۔

صدر جمع - (ع - ف - ۱ - مذ) نکان کی وہ اصل رقم جو اخراجات تحصیل

کے علاوہ حکومت کو دینی پڑے۔

صدر جمہوریہ - (ع - ۱ - مذ) کسی جمہوری ریاست کا سربراہ۔

صدر جہان - جہان کا سرمدار (۲) بعض کے نزدیک ایک فرضی ولی۔

صدر دفتر - (ع - ۱ - مذ) سب سے بڑا دفتر۔ ہیڈ آفس۔

صدر دیوان - (ع - ف - ۱ - مذ) دیوان اعلیٰ خزانہ شاہی کا مہتمم اعلیٰ۔

صدر راج - (ع - ۱ - مذ) صدر مملکت کی حکومت، اسمبلی توڑنے کے بعد

کسی صوبے کا براہ راست صدر مملکت کی نگرانی میں آنا۔

صدر عدالت - (ع - ۱ - ممت) بڑی عدالت۔

صدر مال گزار - (ع - ف - ۱ - مذ) کسی کی واسطے کے لیے برکار کو خود معاملہ ادا

کرنے والا۔

صدر مجلس - (ع - ۱ - مذ) پریزیڈنٹ۔ میرپلیس۔

صدر محاسب - (ع - ۱ - مذ) محکمہ حساب کا سب سے بڑا دفتر

کا ڈائریکٹ جنرل۔

صدر مقام - (ع - ۱ - مذ) یا تخت۔ دارالحکومت۔

صدر مملکت - (ع - ۱ - مذ) کسی ریاست یا حکومت کا سربراہ۔ پریزیڈنٹ۔

صدر منصرم - (ع - ۱ - مذ) اعلیٰ درجے کا منصرم۔ پیمائش کے دفتر کا

اعلیٰ عہدے دار۔

صدر نشین - (ع - صف) میرپلیس۔ کسی نشین۔ چیمبریں۔

صدر سربراہ یا کرٹینڈ صدر راست - (ف - ممت) بزرگ حاکم یا کوئی بڑا

آدمی جہاں بیٹھ جائے وہی جگہ معتز بھی جاتی ہے۔

صدرہ - (ع - ۱ - مذ) انسان کے جسم کا بالائی حصہ (۲) منطق کی مشہور کتاب۔

صدرہ پڑھ کر کبھی احمق رہے۔ (۱ - مثل) منطق پڑھ کر کبھی عقل نہ آئی۔

صدری - (صدری) [آر - ۱ - ممت] (۱) ایک قسم کی مرزنی یا اسکٹ (۲)

سینہ بند (۳) صف (سینہ بسیدہ پہننا سنہ یا کلام وغیرہ۔

صدف - (ض - ۱ - ممت) [ع - ۱ - ممت] سیب۔ ایک قسم کا سمندری مگو

جس سے موتی نکلتا ہے۔ جمع: اصداق

صدق - (ع - ۱ - مذ) سچ۔ راستی۔ خلوص۔

صدق دل سے - صدق نیت سے۔ (ای متعلق فعل) سچے دل سے

صاف دل سے۔

صدق مقال - (ف - ۱ - صف) سچ بولنا۔

صدقات - (ض - ۱ - ممت) [ع - ۱ - مذ] صدقہ کی جمع۔

صدقہ - (صدر - ۱ - مذ) [ع - ۱ - مذ] (۱) خیرات۔ وہ چیز جو خدا کے نام پر دی جائے

(۲) وہ کھانا وغیرہ جو سر سے اتار کر دیا جائے۔ آثار (۳) قربان

نذا - (۲) طفیل۔ بدولت۔ جمع صدقات

صدقہ آنا زنا - صدقہ دینا۔ (۱ - محاورہ) آنا دینا یا آنا زنا خیرات کرنا

قربان دینا۔

صدقہ جاریہ - (ع - ۱ - مذ) ایسی خیرات جس سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ

پہنچتا ہے۔ (مسجد کنواں وغیرہ)

صدقہ دینا - (۱ - محاورہ) خیرات کرنا۔ قربان کر دینا۔ سر پر وار کر دینا۔

صدقہ دینا رد ہلنا - (۱ - مثل) صدقہ دینے سے بلاؤں دور ہوتی ہے۔

صدقہ (سلتا) سبلا - (ع - ۱ - مذ) خیر خیرات۔ وہ صدقہ جو سلامتی کے عوض

دیا جائے۔ (سلتا غالباً صلحا بگاڑے)

صدقہ فطر - (ع - ۱ - مذ) رمضان کا صدقہ جو نبی آدمی دوسیر گہوں ہے جو نماز

رعید سے پہلے غریبوں کو دیتے ہیں۔

صدقے - (صدر - ۱ - مذ) [آر - ۱ - ممت] (۱) صدقہ کی جمع (۲) واری۔ قربان۔

صدقے جانا۔ (۱ - محاورہ) قربان ہونا۔ واری جانا۔ نقد ق ہونا۔

صدقے چاہیے۔ (۱ - بول چال) جہاں کسی کی بیوقوفی کا اظہار کرتا ہو وہاں کہتے

ہیں۔ قربان چاہیے۔

صدقے کرنا۔ (۱ - محاورہ) قربان کرنا۔ وارنا نثار کرنا (۲) کلمہ تنغہ و سخارت۔

صدقے کروں۔ (۱ - محاورہ) (۱) قربان کروں (۲) آگ رکاؤں۔

صدقے کی سبیل۔ (۱ - ممت) پیکر کھانے کے لیے چھوڑی ہوئی سبیل۔

صدقے ہونا۔ (۱ - محاورہ) دیکھیے صدقے جانا۔

صدومر - (صدر - ۱ - مذ) [آر - ۱ - ممت] (۱) دھکا دنگر۔ آسیب (۲) تکلیف۔ چوٹ۔

ضرب (۳) حادثہ۔ واقعہ (۴) نقصان۔ ضرر (۵) بلا۔ مصیبت۔

صدومر اٹھانا۔ (۱ - محاورہ) (۱) نقصان اٹھانا (۲) رنج اٹھانا۔

صدومر پہنچنا۔ (۱ - محاورہ) دکھ ملنا۔ ضرب لگنا۔ نقصان بھیننا۔

صدومر بھیننا۔ (۱ - محاورہ) دکھ سہنا۔ صدومر برداشت کرنا۔

صدومر جاننا۔ (ع - ۱ - مذ) سخت ضرب۔ دو چوٹ جس سے نقصان جان ہو۔

صدومر گزنا۔ (۱ - محاورہ) مصیبت بیتنا۔ حادثہ پیش آنا۔

صَدُوْر - (ص - دُوْر) [ف - ا - مِث] (۱) صاد و ہونا (۲) اجراء (۳) صدر کی جمع  
 صَدُوْر و جَحْم - حکم کا اجراء حکم کا نفاذ -  
 صَدِي - (ص - اِدِي) [ف - ا - مِث] (۱) سو برس سے منسوب - سو برس  
 کی تعداد - (۲) سیکڑہ -  
 صَدِيْق - (ص - دِيْق) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] دوست - مخلص دوست -  
 صَدِيْق - (صَدِيْق و اِيْق) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] نہایت سچا - راست گو -  
 (۲) حضرت ابوبکر خلیفہ مآدِل کا لقب (۳) بارونادار جمع صدیقین  
 صَدِيْقہ - (صَدِيْقہ و اِيْقہ) [ع - مِث] [ذ - ا] اسم ماذ [صَدِيْق کی تائینت -  
 حضرت عائشہ کا لقب - حضرت مریم کا لقب (۲) نہایت  
 سچی عورت -

صَدِيْقہ - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] نہایت سچا - راست گو -  
 (۲) حضرت ابوبکر خلیفہ مآدِل کا لقب (۳) بارونادار جمع صدیقین  
 صَدِيْقہ - (صَدِيْقہ و اِيْقہ) [ع - مِث] [ذ - ا] اسم ماذ [صَدِيْق کی تائینت -  
 حضرت عائشہ کا لقب - حضرت مریم کا لقب (۲) نہایت  
 سچی عورت -

صَدِيْقہ - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] نہایت سچا - راست گو -  
 (۲) حضرت ابوبکر خلیفہ مآدِل کا لقب (۳) بارونادار جمع صدیقین  
 صَدِيْقہ - (صَدِيْقہ و اِيْقہ) [ع - مِث] [ذ - ا] اسم ماذ [صَدِيْق کی تائینت -  
 حضرت عائشہ کا لقب - حضرت مریم کا لقب (۲) نہایت  
 سچی عورت -

صَدِيْقہ - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] نہایت سچا - راست گو -  
 (۲) حضرت ابوبکر خلیفہ مآدِل کا لقب (۳) بارونادار جمع صدیقین  
 صَدِيْقہ - (صَدِيْقہ و اِيْقہ) [ع - مِث] [ذ - ا] اسم ماذ [صَدِيْق کی تائینت -  
 حضرت عائشہ کا لقب - حضرت مریم کا لقب (۲) نہایت  
 سچی عورت -

صَدِيْقہ - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] نہایت سچا - راست گو -  
 (۲) حضرت ابوبکر خلیفہ مآدِل کا لقب (۳) بارونادار جمع صدیقین  
 صَدِيْقہ - (صَدِيْقہ و اِيْقہ) [ع - مِث] [ذ - ا] اسم ماذ [صَدِيْق کی تائینت -  
 حضرت عائشہ کا لقب - حضرت مریم کا لقب (۲) نہایت  
 سچی عورت -

صَدِيْقہ - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] نہایت سچا - راست گو -  
 (۲) حضرت ابوبکر خلیفہ مآدِل کا لقب (۳) بارونادار جمع صدیقین  
 صَدِيْقہ - (صَدِيْقہ و اِيْقہ) [ع - مِث] [ذ - ا] اسم ماذ [صَدِيْق کی تائینت -  
 حضرت عائشہ کا لقب - حضرت مریم کا لقب (۲) نہایت  
 سچی عورت -

## ص - ع

صَعْفَت - (ع - صَف) [ص - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَعُوْد - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] بلند - اُچھلنا (۲) حساب میں کسی عدد  
 کو کسی دفع ضرب دے کر اس کی نو توڑ کو اُچھلانا -  
 صَعُوْد کرنا - (مص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] اُچھلنا -  
 صَعُوْد و نزول - (ع - ا - مِث) [ذ - ا] اُتار چڑھاؤ -

صَعُوْہ - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

## ص - ر

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -

صَرَاح - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سب سے زیادہ - تکلیف دہ -  
 صَعُوْبَت - (ص - مِث) [ع - ا - مِث] [ذ - ا] سخت - دشوار - کمٹھن - تکلیف دہ -  
 مصیبت - جمع : صعوبات -



ص - ع

صغارا - (ص - غار) [ع - ا - مذ] صغیر اور صغرا کی جمع - چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں -  
 صغارا و کبار - (ع - ا - مذ) (۱) چھوٹے بڑے (۲) عوام  
 صغرا - (ص - غر) (ع - ا - مذ) خوردی - چھٹائی - چھوٹا پن -  
 صغرسن - (ع - صغ) کم عمر - خورد سال -  
 صغرسنی - (ف - ا - مٹ) کم عمری - بچپن - خورد سالی -  
 صغرا - صغری - (ص - غا) (ع - ا - مٹ) (۱) چھوٹی لڑکی - (۲) سب سے چھوٹی چیز (۳) علم منطقی میں شکل کا پہلا قضیہ -  
 صغیر - (ص - غیر) (ع - صغ) چھوٹا - خورد پن - جمع : صغارا  
 صغیرسن - (ع - صغ) چھوٹی عمر کا -  
 صغیرستی - بچپن  
 صغیر و کبار - چھوٹے بڑے - ادلے اعلیٰ -  
 صغیرہ - (ص - ع - ی - ذہ) (ع - صغ) چھوٹی - چھوٹا - جمع : صغارا

ص - ف

صفت - (ع - ا - مٹ) (۱) نظار - سلسلہ (۲) فرش - بستر - بچھونا (۳) بوریا چٹائی - (۴) نمازیوں کی قطار (جمع) صغوفت -  
 صفت آرا - (ع - ف - صفت) جنگ یا مقابلے کے لیے سپاہ کا پراچلنے والا مقابلہ کرنے والا -  
 صفت آرا ہونا - (ا - محاورہ) لڑائی کے لیے تیار ہونا -  
 صفت آرائی - صفت بندی - قطار بندی - جنگ آرائی - نبرد آرائی -  
 صفت اٹلٹ جانا - (ا - محاورہ) تیز بتر ہو جانا - درہم برہم ہو جانا - شکست کھانا -  
 صفت (صغیں) باندھنا - قطاریں لگانا - صفت بستہ کرنا -  
 صفت بستہ - (ع - صغ) پرا باندھے ہوئے آراستہ -  
 صفت بندی - (ع - ا - مٹ) پرا جانا -  
 صفت برصفت - (ع - ف - ص) صفت سے صفت ملا کر (۲) ہر صفت میں -  
 صفت جنگ - (ع - ا - مٹ) لڑائی کی صفت آرائی - لڑائی کی پرابندی (۲) وہ لڑائی جو آئسے سائسے قطار باندھ کر شروع کی جائے -  
 صفت در - (ع - ف - صغ) لشکر کی صفت چھاڑنے والا - (۲) حضرت علیؑ کا لقب -  
 صفت روشن کرنا - (ا - محاورہ) چراغ جلانا -  
 صفت شکن - (ع - ف - صغ) صفت ٹوڑنے والا - بہادر - دلیر -  
 صفت کشی - (ع - ف - ا - مٹ) میدان جنگ میں پرا باندھنا -  
 صفت مام - (ع - ف - ا - مٹ) وہ فرش جس پر مام کرنے والے یا مامی

آکر بیٹھیں -

صغیس الکتنا - (ا - محاورہ) (۱) لڑائی کی صفت بستہ فوجوں کا تیز تر ہونا - (۲) مجلس یا محفل کا تیز دھارا ہونا -  
 صغفا - (ص - فا) (ع - صغف) (۱) پاک - پاکیزہ - مجلہ - صغیل کیا ہوا (۲) ہوا سپاٹ (۳) کھرا - نزل (۴) ر - ا - مذ [تہ شریف کی ایک پہاڑی جہاں دوڑنا انکان حج میں داخل ہے -  
 صغفا چٹ کرنا - (ا - محاورہ) بالکل مزہ ڈالنا - صغفا یا کرنا -  
 صغفا چٹ میدان - بالکل صاف میدان جس میں درخت وغیرہ بالکل کوئی چیز نہ ہو -  
 صغفا چٹ ہونا - (ا - محاورہ) بالکل صاف نہ ہونا - صاف ہونا -  
 صغفا کتنا - (ا - محاورہ) بے لاگ کتنا - کھری کھری ہونا -  
 صغفا مشرب - (ع - صغ) صاف دل - صاف گو - بے لاگ -  
 صغفا صغفا صغف - (ف - صغ) [ا - ا] بے نشان - دیران - برباد -  
 صغفات - (ص - فات) (ع - ا - مٹ) (۱) صغف کی جمع - اوصاف - خواص - خاصیتیں (۲) تعریفیں - بھلائیوں - خوبیاں -  
 صغفاتی - (ص - فاتی) (ع - صغ) عارضی - صغفات سے متعلق -  
 صغفار - (صغف - فار) (ع - ا - مذ) ٹھٹھا - تانے کے برتن بنانے والا -  
 صغفائی - (ص - فا - ای) [ا - ا - مٹ] (۱) پاکیزگی - صاف ہونا (۲) سچائی - راستی (۳) سادگی - بے وقوفی (۴) جھاڑ پونچھ (۵) چکنا چٹ (۶) ہمواری (۷) لڑائی (۸) ملاپ - صلح (۹) کھرا پن (۱۰) حساب کی بیاتی - فیصلہ (۱۱) دیانتداری (۱۲) بے شرمی - بے حیائی (۱۳) تیز دیر (۱۴) کانت چھٹ (۱۵) فاقہ (۱۶) بربادی (۱۷) صغیل (۱۸) فاقہ - انجام (۱۹) پھرتی حالانکہ (۲۰) رونق (۲۱) گواہی جو ملزم کے حق میں دی جائے - (۲۲) غلاظت اٹھانا - پاخانہ صاف کرنا -  
 صغفائی ظاہر ہونا - (ا - محاورہ) دل کی پاکیزگی کا پتہ چلنا -  
 صغفائی کا لختہ - (ا - مذ) تلوار کی گھڑی ضرب -  
 صغفائی کرنا - (ا - محاورہ) صاف کرنا (۲) صلح کرنا (۳) پاخانہ صاف کرنا -  
 صغفائی کر دینا - (ا - محاورہ) جھاڑ دینا (۲) فیصلہ کر دینا - بے باقی کر دینا (۳) خرچ کر ڈالنا (۴) اچھاڑ دینا (۵) قتل کر دینا -  
 صغفائی کرنا - (ا - محاورہ) (۱) صاف کرنا - (۲) فیصلہ کرنا - جھگڑنا (۳) چکانا - بیلک کرنا (۴) صرف کرنا - اٹھا ڈالنا (۵) اچھاڑنا - تباہ کرنا (۶) دختوں کا چھانٹنا -  
 (۷) باقی نہ رکھنا (۸) صلح کرنا (۹) پاخانہ صاف کرنا -  
 صغفایا - (ص - فایا) [ا - ا - مذ] (۱) بربادی - تباہی (۲) کسی چیز کو نہ رہنے دینا - (۳) قتل -  
 صغفایا کرنا - (ا - محاورہ) (۱) نیست و نابود کرنا - مٹا دینا - صاف کر دینا - کچھنہ دہتے دینا -  
 صغفت - (ص - فنت) (ع - ا - مٹ) (۱) کسی چیز کا نشان - بیان فضائل (۲) تعریف - خوبی - عمدگی (۳) خاصیت - صغفت - عادت - تائید (۴) وضع - شکل - طریق (۵) مثل - مانند (۶) صرف و نحو میں وہ اسم جس کے کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو - جمع : صغفات -

صفت رکھنا - خوبی ہونا - خاصیت ہونا -

صفت سرا - (ع-صفت) تعریف کرنے والا -

صفت سراسر - (ع-۱-صفت) تعریف کرنا -

صفت مشبہ - (ع-صفت) وہ صفت جس میں وہی معنی ہمت کے واسطے پائے جائیں جتنی صفت صفت موصوف - (ع-۱-صفت) کلمہ صفت جو کسی کی تعریف کی جائے جیسے نیک

آدمی - اس میں نیک صفت ہے اور آدمی موصوف -

صفحات - (ص-ف-صفت) (ع-۱-صفت) صفحہ کی جمع -

صفحہ - (صفت-صفحہ) (ع-۱-صفت) (۱) ورق کے ایک طرف کا رخ (۲) منہ

چہرہ - (۳) سطح - فراخی - وسعت -

صفحہ بستہ - (ع-ف-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) منہ کے زین - دُوبا -

صفت و ثنا - (ف-صفت) تعریف خوبیاں جو بیان کی جائیں -

صفحہ بستہ سے اُٹھ جانا - (۱) مجاہدہ - مرجانا - گزر جانا -

صفحہ بستہ سے نام و نشان مٹنا - (۱) مجاہدہ - بالکل ناس ہو جانا - مرجانا -

ناپید ہو جانا -

صفیر المظفر - (ص-ف-صفت) (ع-۱-صفت) دوسرا فزی ہمیدہ جو حرم کے بعد آتا ہے -

صفیر - (ع-۱-صفت) (۱) حساب میں وہ لفظ جو عدد کے دائیں جانب ہونے سے

اس کی قیمت دس گنا بڑھا دیتا ہے اور بائیں جانب ہونے سے کچھ قیمت

نہیں پاتا (۲) (صفت) غالی - بھی - بے قیمت - بے وقعت -

صفرا - (صفت-ص) (ع-۱-صفت) (۱) غلطی اور بے نیکی سے ایک نذر ننگا کرنا اور

صفراوی - (صفت-ص) (ع-۱-صفت) (۱) صفرا سے منسوب -

صفراوی مزاج - (ع-صفت) وہ شخص جس کے مزاج میں غلط صفرا زیادہ ہو - مزاج مزاج

صفوف - (صفت-ص) (ع-۱-صفت) (۱) تاش اور گچھ کی ایک اصطلاح یعنی کھیلنے والے

کے پاس بیٹے بالکل نہ آنا -

صفودینا - (۱) تاش کا ایک ایک تاجیت لینا - حریف کے پاس کوئی

بتا نہ چھوڑنا - صفات مات دینا -

صفوفت - (صفت-ص) (ع-۱-صفت) (۱) برگزیدگی (۲) خالص - بہترین

(حرف اول کی نیزوں حرکتوں کے ساتھ درست ہے) -

صففہ - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) مکان کے آگے کی دیوہی - دروازے کے آگے بیٹھے کی جگہ

چھوڑنا -

صفوفہ اللہ - مخلوق میں سے بہترین حضرت پیغمبر صلعم -

صفوف - (ع-صفت) جمع - ذخائر -

صفوری - (ص-ف-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) شاہ صفی سے منسوب جو ایران کے

ایک کامل فیر تھے (۲) ایران کا ایک شاہی خاندان جو شاہ صفی سے منسوب ہے

صفی - (ع-صفت) (۱) صفات پاک (۲) برگزیدہ دوست - خالص (۳) حضرت

آدم کا لقب -

صفیر (ص-ص) (ع-۱-صفت) بڑوں کی آواز (۲) وہ سیٹی جو پرند کے لیے مڑے سے بجاتا

## ص-ل

صل - (صل-ل) (ع-۱-صفت) (۱) درود بھیج - رحمت آنا (۲) نود و دو بھیج -

صل علی - کلمہ تعریف و تحسین - واہ واہ سبحان اللہ - مرجیا -

صل علی کہنا - (۱) مجاہدہ - درود بھیجنا - واہ واہ کرنا سبحان اللہ کہنا -

صل علی محمد - (سرورِ ولایت حضرت) محمد (مصطفیٰ) پر درود ہو -

صل علی عمر و صلعم - صلی اللہ علیہ وسلم کا تحققت یعنی ان رضی اللہ تعالیٰ کا درود - رحمت اور سلام ہو

صل علی و صل علی - (ع-۱-صفت) سبحان اللہ - واہ واہ مرجیا سبحان اللہ -

صللا - (ع-۱-صفت) پکارا - آواز - دعوت -

صللا نہ شد بل اشدر - (صل-ص) (ع-۱-صفت) (۱) منہ لگا لگا یا گلے ہی بڑگے - بلانا ہی غضب ہو گیا -

صللاء استمندی - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) وہ دعوت جو دل سے نہ دی جائے -

صللاء عام - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) دعوت عام

صللابت - (ص-ص) (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) سختی - مضبوطی - استحکام -

صللابت بہما - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) سختی و دشمنی کا اندازہ بتانے والا -

صلابت جنگ - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) جنگی عہدیداروں کا خطاب -

صلاح - (ص-ص) (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) نیکی - بھلائی - بہتری - اچھائی (۲) مشورہ -

مصلحت (۳) رائے - تدبیر - تجویز (۴) ارادہ - مشن -

صلاح بتانا - (۱) مجاہدہ - رائے دینا - تدبیر بتانا - ڈھنگ بتانا -

صلاح بچھنا - (۱) مجاہدہ - تجویز چھنا - ارادہ مٹانا - رائے قرار پانا -

صلاح برچھنا - (۱) مجاہدہ - کسی کی رائے پر کام کرنا - کسی کا کہا ماننا -

صلاح بچھنا - (۱) مجاہدہ - رائے لینا - مشورہ کرنا -

صلاح بچھنا - (۱) مجاہدہ - رائے قرار پانا - تجویز چھنا - ارادہ ہونا -

صلاح دینا - (۱) مجاہدہ - رائے دینا - مشورہ دینا -

صلاح سے (۱) منتقل تغل مشورہ سے دلتے سے - کہنے سننے سے سمجھانے سے -

صلاح کار - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) رائے لینے والا - مشورہ - ناصح - شریک مشورہ -

صلاح کار کجا من خراب کجا - (ف-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) میرے لیے نصیحت کیاں جو مقصد پورا ہو سکے

صلاح کرنا (لینا) (۱) مجاہدہ - رائے لینا - ارادہ کرنا - تدبیر سوچنا - مشورہ کرنا -

صلاح مشورہ - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) دوسروں سے کچھ کرنا - تدبیر و تجویز - ارادہ منصفہ -

صلاح وقت - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) قرین مصلحت - مناسب -

صلاحت - (ص-ص) (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) نیکی - بھلائی - بہتری -

(۲) پرہیزگاری - پارسانی (۳) رسائی - پہنچ - یاقوت - سمجھ (۴) صلاح

دستی - نرمی - (۵) ملامت (۶) پولیس کی رپورٹ -

صلاحت بہی - سیاہم جو پولیس یا محکمہ مال میں رہتا ہے - روزانہ پچ

صلاحت برآنا - (۱) مجاہدہ - راہ پر آنا - ٹھیک ہونا - درست ہونا -

صلاحت نگھنا - (۱) مجاہدہ - سرووں کے مسافروں کا نام پتا لکھنا - پورٹ لکھنا -

رجسٹر کرنا -

صلب - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) پشت کے مڑے سے مٹھکی ہڈیاں (۲) سخت زمین

(۳) خاندانی بزرگی (۴) نطفہ - اولاد نسل -

صلبی - (صل-بی) (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) اصلی حقیقی - نسلی - اپنے نطفے کا -

صلح - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) (۱) میل ملاپ - دوستی - اتحاد - (۲) نئے سرے سے دوستی - آپس

کی صفائی (۳) امن و امان (۴) قانون تصعیبہ باجمی -

صلح دوست - (ع-۱-صفت) (ع-۱-صفت) وہ شخص جھگڑے اور فساد کو بند نہ کرے -

صلح کرنا - (۱) مجاہدہ - ملاپ کرنا - بل جانا - باہم صفائی کرنا - رجسٹر ڈور کرنا -

ص-ن

**صنادید** - (ص-نا-دید) (ع-ا-ند) (ا) صندید کی جمع۔ بزرگ شریف۔ سردار جنرل بادشاہ۔

**صنادید عجم** - (ع-ف-ا-ند) عرب کے سوا باقی دنیا کے بادشاہ۔

**صنایع** - (ص-ن-اع) (ع-ا-ند) (ص-ن-اع) بہت بڑا کاریگر۔ ہنرمند۔ پیشہ ور۔

**صناعت** - (ع-ا-منت) ہنر۔ کاریگری۔ دستکاری۔

**صنائع** - (ص-ن-اع) (ع-ا-ند) [صنعت اور صنعت کی جمع کا بگڑیا ہنرمندیاں۔

**صنائع بدائع** - (ع-ا-ند) وہ عجیب غریب نکتہ اور باتریاں جو نظم میں نفاہ کی جائیں۔

**صندل** - (ص-ن-دل) (ع-ا-ند) ایک قسم کی خوشبودار کڑی۔ چندن۔ اس کی دو قسمیں ہیں سُرخ اور سفید۔

**صندل کا برادہ** - (ا-ند) صندل کی کڑی کا سفوف جو داؤں میں استعمال ہوتا ہے۔

**صندل کا پھانسا** - (ا-ند) گھسے ہوئے صندل میں کپڑا کر لیا گیا ہو تو یہ سوزش قلب کے لیے مفید ہے۔

**صندل کی سمجھتی** - (ا-منت) نہایت صاف۔ سپاٹ۔ شفاف۔

**صندل کے چھلے** - (ص-ن-ل) بڑی بدنامی ہوئی۔

**صندل لاسا** - (ص-ن-لاسا) (ق-ا-ند) وہ پتھر جس پر صندل گھسے ہیں۔

**صندل لائی** - (ص-ن-لائی) (ف-ا-ند) صندل پیچھے والی۔

**صندلی** - (ص-ن-لی) (ف-ا-ص) (ا) صندل کا رنگ۔ صندلی رنگ سے منشا ہے۔ (۲) صندل کی کڑی کا بنا ہوا (۳) (مٹ) ایک قسم کی اونچی تپائی جو مخروطی شکل کی ہوتی ہے (۴) کرسی۔ چوکی۔

**صندوق** - (ص-ن-وق) (ع-ا-ند) (ا) چوٹی نیس۔ بیٹی ٹرنک (۲) تابوت (۳) ابھرا ہوا۔ آگے نکلا ہوا۔ جمع : صنداوق۔

**صندوقچہ** - (ص-ن-وقچہ) (ف-ا-ند) چھوٹا نیس۔

**صندوقچی** - (ص-ن-وقچی) (ع-ا-منت) صندوق کی اُرد و تصنیف چھوٹا نیس۔

**صنوغ** - (ع-ا-منت) کاریگری۔ ہنرمندی۔

**صنوغی** - (ص-ن-وغی) (ع-ص) (ا) صغیر سے متعلق۔ صنوغا۔

**صنوغت** - (ص-ن-وغت) (ع-ا-منت) کاریگری۔ پیشہ ہنر۔ دستکاری۔ کام۔

**صنوغت پروردگار** - (ع-ا-منت) (ص-ن-وغت) فطری کاریگری۔ قدرتی ہنرمندی۔ خدا تعالیٰ کے عجیب و غریب کام۔

**صنوغت گاہ** - (ع-ا-منت) کارخانہ۔ کام کرنے کی جگہ۔

**صنوغت دکھانا** - (ا-مجاورہ) ہنر یا باغی کی کاروائی کا نام کرنا۔

**صنوغت گر** - (ع-ف-ص) ہنرمند۔ کاریگر۔

**صنوغت گری** - (ع-ف-ا-منت) کاریگری۔ ہنرمندی۔

**صنوغت و حرفت** - (ع-ا-منت) (ص-ن-وغت) ہنر یا باغی سے چیریں بنانا۔ فن۔ صنوغت اور حرفت۔

**صنوغتی** - (ص-ن-وغتی) (ع-ص) (ا) جو چیز صنوغت و حرفت سے تعلق رکھتی ہو۔

**صنوغتی محنت** - (ع-ا-منت) وہ محنت جو صنوغت و حرفت کے سلسلے میں کی جائے۔

**صنوغتی نفسیات** - (ع-ف-ا-منت) علم نفسیات جس کا تعلق صنوغت و حرفت سے ہو۔

**صلح** - (ع-ص) وہ شخص جو ہنرمندیت اور دوست دشمن سے یکساں سلوک رکھتے ہو۔

**صلح نامہ** - (ع-ص-ا-منت) صلح کا عدنانہ۔ ماضی نامہ۔

**صلحا** - (ص-ل-حا) (ع-ا-ند) صلح کی جمع۔ نیک۔ منصفی۔

**صلصال** - (ع-ا-ند) گندھی ہوئی مٹی جس سے برتن بنتے ہیں۔ سوکھی مٹی جو بجانے پر آواز دے۔

**صلصل** - (ص-ل-صل) (ع-ا-منت) فاختہ۔ قمری۔

**صلصلہ** - (ع-ا-ند) لوہے یا گندھی کی آواز۔ (۲) زنجیر۔

**صلصم** - (ع-کلر دعا) دیکھنے والی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا یہ مختص ہے۔

**صلوات** - (ص-ل-وات) (ع-ا-منت) (۱) صلوات کی جمع۔ برکتیں۔ برکتیں۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوں (۲) (اُرد) سلام کرنا۔

**خصت کرنا** - (۳) باز آنا (۴) (اُرد) ہجو۔ گالی۔ دشنام۔

**صلوات صلواتیں** - (ا-مجاورہ) (۲) بڑا جھلا کتنا گالیاں دینا۔

**صلوات** - (ص-ل-وات) (ع-ا-منت) (۱) دُعا۔ رحمت۔ خدا۔ دُعا (۲) نماز۔

**صلوات التبیح** - ایک قسم کی نماز فعل جس میں قیام میں بندہ بار اور باقی چورنگے دس بار سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔

**صلوات الخوف** - (ع-ا-منت) خوف کی جانگ کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز جس میں دو جاعتیں باری باری ایک رکعت پڑھتے ہیں۔

**صلوہ** - (ع-ا-ند) (۱) انعام عطا۔ تحفہ۔ ہدیہ (۲) بدلہ۔ اجر۔ جزائے نیک (۳) (ص) وہ جگہ جو آدمی موصول کے بعد آئے۔

**صلوہ دینا** - (ا-مجاورہ) انعام دینا۔ بدلہ دینا۔ عرض دینا۔ اجرت یا مزدوری دینا۔

**صلوہ زخمی** - (ع-ا-منت) عزیزوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔

**صلیب** - (ص-لیب) (ع-ا-منت) (۱) اس شکل (+) کی کڑی جس پر عیسائیوں کو لٹکا کر ہلاک کرتے تھے (۲) عیسائیوں کا مقدس نشان۔ دار۔ ستون۔

**صلیبی** - (ع-ص) صلیب سے منسوب اور متعلق (۲) عیسائی۔

ص-م

**صم** - (ع-ا-ند) ہم کی جمع۔ ہرے۔ جنہیں سنا ہی نہ لے۔

**صم بگم** - (ع-ا-ند) ہرے کو ننگے (۲) وہ شخص جو بات کا جواب نہ لے۔

**صمت** - (ع-ا-ند) خاموشی۔

**صمد** - (ص-م-ند) (ع-ص) (۱) نیاز۔ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں (۲) خدا کا ایک صفاتی نام۔

**صمدت** - (ص-م-د) (ص-م-دی نیت) (ع-ا-منت) لیے نیازی۔

**صم صم** - (ص-م-صم) (ع-ا-منت) تیر تیراں جس کا منہ دھیرے (۲) تیر تیراں

**صمیم** - (ص-میم) (ع-ص) (۱) خالص (۲) سچا۔ بھلا (۳) (ند) گودا (۴) کسی چیز کا بہترین حصہ۔ (۵) جوڑ۔ اصل۔ (۶) اندرونی حصہ۔ دل کا

**صملا حصہ** - (۷) بہرا جسے سنا ہی نہ لے۔

**صم قلب** - (ع-ا-ند) دل کی سچائی۔ خلوص۔ دل۔

صنعتیت - (سنن - ع - قی - تبت) [ع - ا - مٹ] کسی چیز کو صنعتی بنانا۔  
صنعت و حرفت والی بنانا۔  
صنفت - [ع - ا - مٹ] نوع - جنس - قسم - گوند - جمع : اصناف  
صنفت نازک - [ع - ف - ا - مٹ] عورتوں کا طبقہ۔  
صنعم - (ص - ن - م) [ع - ا - مذ] (۱) بُن - مرقی - پتی - کسی چیز کا بنا ہوا قالب  
اے جان - (۲) دلیر - پیارا - معشوق - جمع : اصنام  
صنم خانہ - کدہ - (ف - ا - مذ) مندر بہت خانہ - تھا کر دوارہ۔  
صنم گری - (ف - ا - مٹ) بُت تراشی - مجسم سازی۔  
صنوبر - (ص - ن - ب) [ع - ا - مذ] (۱) چیلوڑے کا درخت (۲) ایک  
نمک کا سر جس سے معشوق کے اند اور اس کے خرام کو تشبیہ دیتے ہیں

## ص - و

صواب - (ص - و - اب) [ع - ا - مذ] نیکی - نیک کام - درست عمل - راست چوڑ۔  
صواب اندیش - (ع - و - ف - ا - ص) ٹھیک اور مناسب سوچنے والا  
بستری کی سوچنے والا۔  
صواب دید - (ع - و - ف - ا - مٹ) نیک صلاح - اچھی تجویز - منظوری - مصلحت۔  
صواب - [ع - ا - مذ] (۱) طرف سمت (۲) راستہ (۳) تجویز - ارادہ۔  
صوب بجاتی - (ص - و - با - ای) [ا - ا - ص] صوبے سے متعلق - پراورشل۔  
صوب بجات - (ص - و - ب - جات) [ف - ا - مذ] صوبہ کی جمع۔  
صوبہ - (ص - و - ب) [ع - ا - مذ] (۱) ریاست یا ملک کا وہ حصہ جس میں بہت سے  
اضلاع شامل ہوں کسی ملک کی سب سے بڑی انتظامی وحدت۔  
صوبہ دار - (ع - و - ف - ص) (۱) حاکم صوبہ (۲) پیادہ سپاہ کا افسر۔  
صوبہ داری - [ع - و - ف - ا - مٹ] صوبے کی حکومت - نظامت (۲) صوبہ دار کا کھڑ  
صورت - (ع - ا - مٹ) بانگ - آواز - صدا - ندا - جمع : اصوات  
صوت پیمانہ - [ع - و - ف - ا - مذ] آواز کی پیمائش کرنے والا آلہ۔  
صوتی - [ع - ص - ف] آواز سے متعلق۔  
صوتیات - (ص - و - ن - یات) [ع - ا - مٹ] وہ علوم و فنون جو آواز سے تعلق  
رکھتے ہیں۔  
صویر - [ع - ا - مذ] ترقی - بگلی - نفیری - قرنا۔  
صویر اسرافیل - [ع - ا - مذ] وہ آواز جو حضرت اسرافیل حشر کے ذریعہ دُعا  
ڈالنے کے لیے اور دوسری دفعہ جلانے کے لیے نکالیں گے۔  
صورت - (ص - و - ن) [ع - ا - مٹ] (۱) شکل - چہرہ - منہ - ٹوکڑا - (۲) نقش  
تصویر (۳) خاکہ - ڈھانچا - (۴) حالت - کیفیت (۵) طرح - طور طریق  
ڈھنگ (۶) تدبیر - تجویز (۷) مانند - مثل - مشابہ (۸) موقع - محل (۹) ظاہر  
(۱۰) ہمیں - دیکھ (۱۱) علامت - نشان (۱۲) شکل - کام (۱۳) صورت - بہت  
صورت آشنا - (ع - و - ف - ص) جان پہچان - معمولی واقف - بروشناس۔  
صورت آشنا ہونا - (ا - محاورہ) صورت پہچاننا - جان پہچان ہونا۔  
صورت آئینہ جبران رہ جانا - (ا - محاورہ) بے حد متعجب ہونا۔

صورت اختیار کرنا - (ا - محاورہ) ڈھنگ اختیار کرنا۔  
صورت میں حالتش مہرس - (ف - مقولہ) کسے کی ضرورت نہیں۔  
چہرے سے ظاہر ہے۔  
صورت بن پڑنا - (ا - محاورہ) تدبیر نکل آنا۔  
صورت بنانا - (ا - محاورہ) (۱) تصویر بنانا - شکل بنانا (۲) ہمیں بلانا (۳) منہ  
چڑانا - منہ بنانا (۴) خاکہ ڈھالنا (۵) غری اور مہکتی ظاہر ہونا۔  
صورت پرست - [ع - و - ف - ا - مٹ] بُت پرست - ظاہر پرست۔  
صورت پکڑنا - (ا - محاورہ) (۱) شکل بنانا (۲) رنگ اختیار کرنا (۳) کسی طریقہ  
کو قبول کرنا۔  
صورت پیدا کرنا - (ا - محاورہ) کوئی تدبیر نکالنا۔  
صورت نچنا - (ا - محاورہ) غور سے منہ دکھنا - حیرت سے منہ کھینا۔  
صورت نو دکھو - (ا - محاورہ) چھوٹا منہ بڑی بات - طنزاً - نا اہلی کے اظہار  
کے لیے کہا جاتا ہے۔  
صورت چڑیلوں کی مزاج (دماغ) پوریوں کا - (ا - مثل) بد شکل پریدار۔  
بد صورتی پر ایسا مزاج۔  
صورت حال - (ع - ا - مٹ) صورت - معاملہ - کیفیت - ظاہری روئداد۔  
صورت حرام - (ع - ص) جو چیز دیکھنے میں خوش نما لیکن ذائقے میں  
قابل نفرت ہو - ظاہری قریب ٹاپ۔  
صورت دار - (ع - و - ف - ا - ص) خوب صورت - تشکیل۔  
صورت دکھتا رہ جانا - (ا - محاورہ) حیران رہ جانا۔  
صورت دیکھ کر جینا - (ا - محاورہ) عاشق زار ہونا۔  
صورت نہہر لگنا - (ا - محاورہ) بہت نفرت ہونا۔  
صورت سوال ہے - (ا - مثل) شکل سے ظاہر ہے کہ سوال ہے۔  
صورت سے بیزار ہونا - (ا - محاورہ) کسی کے دیکھنے کو دل نہ چاہنا۔  
صورت سے ٹپکنا - (ا - محاورہ) شکل سے ظاہر ہونا۔  
صورت کو ترس جانا - (ا - محاورہ) ملاقات کا موقع نہ ملنا۔  
صورت کہے دیتی ہے - (ا - محاورہ) شکل سے ظاہر ہے۔  
صورت نظر آنا - (ا - محاورہ) شکل سے دکھائی دینا (۲) کوئی طریقہ یا تدبیر  
سوچنا - (۳) موقع ملنا۔  
صورت نکل آنا - (ا - محاورہ) ذریعہ نکل آنا (۲) حسین ہو جانا۔  
صورت گر - (ع - و - ف - ص) مصویر - نقاش۔  
صورت گری - (ع - و - ف - ا - مٹ) مصویری - نقاشی۔  
صورت نہ شکل بھارے سے نکل - (ا - مثل) بصورت آدمی کی نسبت طنزاً کہتے ہیں۔  
صورت پر ہے - (ا - محاورہ) بات یہ ہے - حال یہ ہے۔  
صورتنا - (ص - و - ن) [تابع فعل] ظاہر - بظاہر۔  
صورتی - (ص - و - ی) [ع - ا - مٹ] ظاہری - معنوی کی ضد۔  
صورت - [ع - ا - مذ] (۱) آؤں - منہ - کمل (۲) ایک نم کا دبیر - پینے کا کپڑا۔  
(۳) وہ کپڑا جو دوات میں سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے (۴) گولٹا بننے کا بانا۔  
صورت ڈالنا - (ا - محاورہ) روایت میں کچھ ڈالنا۔  
صورت - [ع - ا - مذ] مکان کا بڑا کمرہ - سپرنگوں والی کرسی۔

روزہ رکھنے والے (۲) روزہ رکھنا۔  
 صیدانٹ - (ص-یا ننت) [ع-۱-ع-۱] گنگھانی حفاظت - پاسبانی - بچاؤ  
 صیغہ - (ص-ی) [ع-۱-ع-۱] سخت یا بلند آواز - نعرہ چنگھاڑ  
 صید - [ع-۱-ع-۱] [ذ-۱] شکار - وہ جانور جس کو شکار کریں (۲) ہمیشہ اور ہم کار  
 آدمیوں کی باہمی ضد اور لڑائی -  
 صیدانگن - صیدانداڑ - (ع-۱-ف-ص) شکار کرنے والا - شکاری -  
 صید بڑنا - (۱-ع-۱) عمارت کو بڑھانے کا عمل کرنا - صید باندھنا -  
 صید کرنا - (۱-ع-۱) شکار کرنا - پکڑنا - (۲) قابو میں لانا - فریقہ کرنا -  
 صید گاہ - (۱-ع-۱) عمارت شکار گاہ - شکار کھینے کی جگہ -  
 صیدی - (ص-دی) [ذ-۱] شکاریوں کی اصطلاح میں وہ شخص جو اپنے  
 ہمیشہ آدمیوں سے ضد اور لڑائی رکھے -  
 صیرنی - (ع-۱-ص) صراف - کھوٹا کھرا رکھنے والا - (۲) کاموں میں دخل  
 دینے والا -

صیغہ - (ص-ی) [ع-۱-ع-۱] (۱) سلجھنے میں ڈھلی ہوئی چیز (۲) طریقت  
 خلقت - اصل - (۳) وہ مشتق اور منصرف کلمہ جو کسی اصل لفظ  
 سے نکالا گیا ہو - (۴) اہل تشیع میں کلمات ایجاب و قبول نکاح -  
 عقد - (۵) حکمہ - شعبہ - جمع : صیغہ جات  
 صیغہ پڑھانا - (۱-ع-۱) عمارت میں کتب پڑھانا - ایجاب و قبول کرنا -  
 صیغہ گردانا - (۱-ع-۱) فعل کی گردان کرنا -  
 صیقٹل - (ص-تل) [ع-۱-ع-۱] جلا - صفائی - آب چمک -  
 صیقٹل کرنا - (۱-ع-۱) عمارت جلا دینا - صاف کرنا - چمکانا -  
 صیقٹل گر - (ع-۱-ف-۱-ص) جلا کرنے والا - تھپتھا صاف کرنے  
 اور سان پر چڑھانے والا -  
 صیہونی - (ص-ہو-نی) [ع-۱-ص] یہودیوں کی عالم گیر تحریک وطن سے  
 متعلق - یہودیت سے متعلق -  
 صیہونیت - (ص-ہو-نی-یت) [ع-۱-ع-۱] (۱) یہودیت (۲)  
 یہودیوں کی عالم گیر تحریک وطن -

صوفی - (صو-نی) [ع-۱-ع-۱] (۱) ایشیہ پوش (۲) شفیق - پارسا - پرہیزگار -  
 صوفی صافی - (ع-ص) فقر کی اصطلاح میں وہ شخص جو اپنے دل کو غیر حسی  
 سے پاک صاف رکھے -  
 صوفی منش - (ع-ف-ص) صوفی طبیعت کا - درویشانہ مزاج کا -  
 صوفیانہ - (صوف-یا-نہ) [ذ-۱-ع-۱] (۱) منسوب بہ صوفی - صوفیوں کا -  
 سادہ -  
 صوفیہ - (صوف-یہ) [ع-۱-ع-۱] [ذ-۱] صوفی کی جمع - پرہیزگار لوگ -  
 صولت - (صو-لت) [ع-۱-ع-۱] (۱) صوفیہ - رعب - ہیبت -  
 صوم - [ع-۱-ع-۱] [ذ-۱] روزہ - برت - جمع : صیام  
 صوم و صلوٰۃ - روزہ - نماز -  
 صومعہ - (صوم-م-عہ) [ع-۱-ع-۱] [ذ-۱] گرجا - (۲) عبادت خانہ  
 صومعہ نشین - [ع-۱-ع-۱] [ذ-۱] اہلب - تازک الدینا -

## ص-ہ

صہبا - (صہ-با) [ع-۱-ع-۱] ایک قسم کی لال شراب - سفید انگوروں کی  
 شراب -  
 صہم - [ع-۱-ع-۱] [ذ-۱] (۱) خمر داماد (۲) سسرال کا کوئی آدمی -  
 صہیل - [ع-۱-ع-۱] گھوڑے کا ہنھانا -

## ص-ی

صیاد - (صی-یاد) [ع-۱-ع-۱] شکاری - چڑی مار - ماہی گیر - جمع : صیاداں  
 صیاد اجل - (ف-۱-ع-۱) [ذ-۱] فرشتہ موت - ملک الموت - عزرا بیل -  
 صیام - (ص-یام) [ع-۱-ع-۱] [ذ-۱] صوم کی جمع - روزے (۲) صائم کی جمع -

## ض

ض۔ (ضاد۔ جنراد) (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) ۱) اردو کا اکتیو اور ناری کا اٹھارھواں اور عربی کا پندرھواں حرف (۲) اس کو صاد میجر یا مستوسط بھی کہتے ہیں۔ حساب ابجد میں اس کے آٹھ سو عدد فرض کیے گئے ہیں۔ عربی کے اعتبار سے یہ ششمی حرف ہے اس سے پہلے ال آئے تو لام بولا نہیں جائے گا اور ضن مشدد بڑھا جائے گا۔

ضائع کرنا۔ (مسن۔ مرکب) (۱) برباد کرنا۔ (۲) اڑانا (۳) بے کار اور نکما کرنا (۴) مارنا۔ قتل کرنا۔  
ضائع ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) برباد ہونا۔ (۳) خراب ہونا (۴) فوت ہونا۔ مارا جانا۔

## ض — ا

ضابطہ۔ (ضاب۔ بط) (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) حفاظت میں رکھنے والا (۲) انتظام کرنے والا۔ (۳) مدیر (۴) حاکم۔ مالک۔ تابعین (۵) پابند قاعدہ۔ محتاط (۶) مستعمل۔ صابر۔  
ضابطگی۔ (ضاب۔ ط) (گی۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) منہ (۲) قانون و ضابطہ کے مطابق ہونا۔  
ضابطہ۔ (ضاب۔ بط) (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) قاعدہ۔ قانون۔ دستور العمل (۲) انتظام۔ بندوبست۔ ربط و ضبط۔ جمع: ضوابط۔  
ضابطہ تعزیری۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) سزا دینے کا قانون۔  
ضابطہ دیوانی۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) دیوانی قانون۔ وہ قانون جس میں باہمی لین دین کے قواعد منضبط ہوں۔  
ضابطہ عدالت۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) عدالت کا طریقہ عمل۔  
ضابطہ کی رو سے۔ (۱) تابع فعل (۲) قاعدہ اور قانون کے مطابق حسب ضابطہ  
ضابطہ فوجداری۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) قانون فوجداری جرائم۔ انسداد کا دستور العمل  
ضابطہ مال۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) صیغہ مال کا قانون۔ خزانہ یا مال گزاری کے متعلق قانون۔

ضابطہ۔ (ضاب۔ جک) (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) ہنسنے والا۔ ظریف۔ مسخرا۔  
ضارب۔ (ضاب۔ رب) (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) مارنے والا۔ چوٹ لگانے والا۔  
ضال۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) گمراہ۔ بھٹکا ہوا۔ جمع: ضالین۔  
ضامن۔ (ضام۔ بن) (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) ذمہ دار۔ وہ شخص جو کسی کی ضمانت لے کیں (۲) وہ کوئی کی پینچر جو حق کے لئے کے درمیان ہانڈھ دیتے ہیں (۳) وہ وہی جس سے دودھ جاتے ہیں۔ ماہر شیر۔  
ضامن در ضمان۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) کفیل کا کفیل۔ ذمہ دار کا ذمہ دار  
ضامن نہ ہو جیسے گره سے دیکھیے۔ (مثل) (۱) گره سے دینے میں ہرگز نہیں، مگر ضمانت دینے میں خرابی ہے۔  
ضامنی۔ (ضام۔ نی) (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) کفالت۔ ذمہ داری۔  
ضامنی پر چھوڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) ضمانت یا ذمہ داری پر دیا کرنا۔  
ضامنی دینا۔ (۱) محاورہ (۲) ضمانت دینا۔ کفیل یا ذمہ دار بننا۔  
ضامنی قبول کرنا۔ ضامنی منظور کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی کی کفالت یا ذمہ داری کو تسلیم کرنا۔

ضائع۔ (ضاب۔ ج) (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) کالرت۔ تلف۔ رائیگاں۔ بے نام و لاش۔

## ض — ب

ضبط۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) نگہبانی۔ حفاظت۔ ہوشیاری (۲) انتظام۔ بندوبست (۳) روک رکاوٹ (۴) قید۔ پابندی (۵) ترق۔  
ضبط کرنا۔ (مسن۔ مرکب) (۱) روکنا۔ نگرانی کرنا۔ (۲) ترق کرنا (۳) قانون ہانڈھنا۔ قابو کرنا (۴) پینا۔ جذب کرنا۔  
ضبط ہونا۔ (مسن۔ مرکب) (۱) ترق ہونا۔ پینا۔ کسی جرم میں مال و جائداد کا سرکاری ہوجانا (۲) نکل ہونا۔ برداشت ہونا۔ بڑباری ہونا۔  
ضبطی۔ (ضبط۔ بی) (۱) آرٹ۔ (۲) ترقی (۳) نگرانی۔ عدالت کے حکم سے کسی کا مال لے لینا۔  
ضبطی مجاہدہ۔ ضبطی مال۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) دھن دولت کی ترقی۔  
ضبطی میں آنا۔ (۱) محاورہ (۲) ترقی ہونا۔ پینا۔ سرکاری ہوجانا۔

## ض — ج

ضج۔ (ضج۔ ج) (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) پیردن چوٹے یا دس بجے کا وقت۔  
ضجاک۔ (ضج۔ حاک) (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) بہت ہنسنے والا (۲) ایک ایرانی بادشاہ جو بڑا ظالم اور جابر تھا۔  
ضجک۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) ہنسنے۔  
ضجک۔ (ج۔ ۱۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ جس پر سب ہنسیں۔ جو سب پر ہنسنے۔

## ض — خ

ضخامت۔ (ضخ۔ خامت) (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) مٹا پنا۔ حجم۔ جسامت۔  
ضخیم۔ (ضخ۔ خیم) (ج۔ ۱۔ ۱۔ صفت) (۱) بڑے حجم والا۔ بہت بڑا۔ موٹا۔

## ض۔ د۔

ضد۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) برعکس۔ مخالف۔ خلاف (۲) دشمنی۔ عداوت۔ بُغض۔ (۳) ہٹ۔ آڑ (۴) سینہ زوری۔ آناہیت (۵) غصہ (۶) تقصیب۔  
 ضد بانڈھنا۔ (۱) محاورہ (۲) بہت اصرار کرنا۔ ہٹ کرنا (۳) دشمنی کرنا۔  
 مخالفت کرنا (۴) بحث کرنا۔  
 ضد پیر آنا۔ (۱) محاورہ (۲) اصرار کرنا۔ ہٹ کرنا۔ مخالفت پر کمر باندھنا۔  
 ضد پوری کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی کی ہٹ کے موافق کرنا۔ کسی کے کہنے کے بموجب کر دینا۔  
 ضد چڑھنا۔ (۱) محاورہ (۲) غصہ پڑھنا۔ اڑنا۔ ہٹ پر آنا۔  
 ضد رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) دشمنی رکھنا۔ مخالفت رکھنا۔ کینہ رکھنا۔  
 ضد کا پورا ہے۔ (۱) محاورہ (۲) اپنی ہٹ پر اڑا رہنے والا۔  
 ضد کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) اصرار کرنا۔ ہٹ کرنا (۳) بحث و تکرار کرنا۔ جھگڑنا۔  
 ضد مٹنا۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) ایک کا دوسرے کے خلاف ہونا۔  
 ضدی۔ (ضد۔ وی) (اڑ۔ صف) (۱) بہت اصرار کرنے والا۔ مستعصب ہٹ کرنے والا۔  
 ضدین۔ (ضد۔ دین) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) دو ضدین۔ دو لغتیں اور مختلف چیزیں۔

## ض۔ ر۔

ضراب۔ (ض۔ راب) (ع۔ ا۔ مذ) روپیہ امرنی پر چھپا لگانے والا۔  
 ضراب۔ (ض۔ راب) (ع۔ ا۔ مذ) کسی کو تلوار مارنا۔  
 ضرار۔ (ض۔ رار) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا (۲) ہمد رسالت میں مدینہ میں منافقوں کی ایک مسجد۔  
 ضرب۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) مار چوٹ۔ دھکا۔ حدمہ (۲) علم حساب میں جمع کا ایک قاعدہ (۳) بیان۔ ذکر (۴) چھپا۔ مہر (۵) شمار ظاہر کرنے کا عدد (۶) نقصان۔ گھٹانا (۷) تشریح زنی۔ صوفیوں کا کسی اسم یا کلمے کو خاص زور اور جھٹکے کے ساتھ پڑھنا جس سے دل پر چوٹ لگے۔  
 (۸) (ق) بشل۔ مانند بدل۔  
 ضرب آنا۔ (۱) محاورہ (۲) چوٹ آنا۔ دھکا لگنا (۳) گھٹانا آنا۔  
 ضرب اٹھانا۔ (۱) محاورہ (۲) ضد اٹھانا۔ نقصان گوارا کرنا۔  
 ضرب اٹشل۔ (ع۔ ا۔ مٹ) کہادت۔ وہ جگہ جو شمال کے طور پر مشہور ہو۔  
 ضرب المثل ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) کہادت کی طرح مشہور ہونا۔ بہت شہرت پانا  
 ضرب چلیپا۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) (۱) خاص قسم کی ضرب جو آڑی لگائی جاتی ہے۔  
 ضرب خانہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) دارالمغرب۔ مکسال۔ جہاں سکتے  
 ڈبعلے جاتے ہیں۔  
 ضرب تخیف۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) ہلکی چوٹ۔

ضرب دینا۔ نقصان دینا۔ ضرب پہنچانا (۲) جمع کرنے کے لیے اعداد کو باہم لگانا (۳) ہٹ پر ہٹ لگانا۔  
 ضرب شدید۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) سخت چوٹ۔ ہلک ضرب۔  
 ضرب شمشیر۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) تلوار کا زخم۔ تلوار کا ہاتھ۔  
 ضرب کی تاب نہ لانا۔ (۱) محاورہ (۲) دار کو برداشت نہ کر سکتا۔  
 ضرب لازب۔ وہ چوٹ جس کا نشان اچھا ہونے کے بعد بھی قائم رہے۔  
 ضرب لگانا۔ (۱) محاورہ (۲) چوٹ لگانا۔ مارنا (۳) تلوار مارنا (۴) چھپا لگانا۔  
 چھاپ لگانا (۵) اس طرح خدا کا نام لینا یا کلمہ پڑھنا جس سے دل کو چوٹ لگے اور وہ بیدار ہو جائے۔  
 ضرب مرگب۔ ایک قسم کا ضرب جس میں نقدی یا کسی جنس وغیرہ کے مختلف حصوں میں ضرب دیں جیسے روپیے آنے پائی کو کسی خاص عدد میں ضرب دے کر ایک مجموعہ معلوم کرنا۔ ضرب مخلوط۔  
 ضرب مرگب۔ (ع۔ ا۔ مذ) حساب کا ایک قاعدہ جس میں نقدی یا جنس کے ذہنی وغیرہ کو مختصر ترکیب سے کئی گنا کرتے ہیں۔  
 ضرب مفرد۔ ضرب سادہ۔ ضرب بسیط۔ ضرب غیر مرگب۔  
 ضرب ہنگام۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) ہلاک کر دینے والی چوٹ۔  
 ضربات۔ (ض۔ بات) (ع۔ ا۔ مٹ) ضرب کی جمع۔ چوٹیں۔  
 ضرر۔ (ض۔ رر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نقصان۔ بخارہ۔ زہاں (۲) درد۔ تکلیف۔ حدیث ضرر جہانی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) جسمانی تکلیف۔ جسمانی چوٹ۔  
 ضرر رساں۔ (ف۔ ا۔ صف) نقصان پہنچانے والا۔  
 ضرر رسائی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) ایذا پہنچانا۔ تکلیف دینا۔  
 ضرر صریح۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) دھکی (۲) مار پیٹ (۳) زخمی یا کسی عضو کے لیے کار کرنے سے پہنچا ہوا نقصان یا چوٹ۔  
 ضرغام۔ (ض۔ غام) (ع۔ ا۔ مذ) پھارنے والا شیر۔ اسد۔  
 ضرور۔ (ض۔ رور) (ع۔ ا۔ صف) (۱) واجب۔ لازم۔ وہ بات جس کا ہونا فرض ہو (۲) درکار۔ مطلوب (۳) بے شک۔ بجا۔ درست (۴) اصل (۵) حاجت۔ ضرورت۔ خواہش (۶) البتہ۔ لاکلام (ظن آنا) جب کسی سے کہنا ہو کہ کام نہیں کیا۔ ہرگز نہیں۔  
 ضرور بالضرور۔ (متعلق فعل) تاکید کے واسطے۔  
 ضرور نہیں۔ (متعلق فعل) (۱) لازم نہیں (۲) درکار نہیں۔  
 ضرور ہے۔ (متعلق فعل) (۱) واجب ہے (۲) درکار ہے۔ خواہش ہے۔  
 ضرورت۔ (ض۔ رور) (ع۔ ا۔ مٹ) حاجت۔ خواہش۔ مانگ۔ طلب۔  
 ضرورت ایجاد کی مال سے۔ (۱) مثل (۲) جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انسان کو کوئی تدبیر یا انتظام کرنا ہی پڑتا ہے۔  
 ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بناتے ہیں۔ (۱) مثل (۲) لاچارگی کے وقت ادنی لوگوں کی بھی خوش آمد کرنی پڑتی ہے۔  
 ضرورت مند۔ (ع۔ ا۔ مذ) حاجت مند۔ تنگ حال۔ مفلس۔  
 ضرورتاً۔ (ض۔ رور) (ع۔ ا۔ صف) (۱) ضرورت سے۔  
 ضرورتی۔ (ض۔ روری) (ع۔ ا۔ صف) (۱) واجب۔ لازمی۔ ناچار۔ ناگزیر۔





ضوابط۔ (ض۔ دا۔ بط۔) (ح۔ ا۔) مذ [ضابطہ کی جمع۔ قواعد۔ قوانین۔

ضمن۔ (ح۔ ا۔) مذ (۱) ذیل۔ اندر (۲) شرکت۔ شمول (۳) تازن۔ دفعہ۔ فقرہ۔  
ضمنون۔ فضل (۴) تعلق۔

ضمن میں ہونا۔ (ا۔ محاورہ) حق میں ہونا۔ شامل ہونا۔

ضمناً۔ (مضم۔ من) (ح۔) تابع فعلی (۱) بشمول (۲) اشارۃً کنایتاً۔

ضمنی۔ (مضم۔ من) (نی) (ا۔) (مٹ) مقدمہ کی تفتیش کی روزانہ رپورٹ جو پولیس  
افسر بھیجتے۔

ضمنیہ۔ (مضم۔ من) (ح۔ ا۔) مذ [ضم۔ پیش۔ پیش کی حرکت۔

ضمیمہ۔ (ض۔ من) (ح۔ ا۔) مذ (۱) دل۔ قلب (۲) بھید۔ راز۔ پوشیدہ (۳)  
خیال۔ اندیشہ (۴) (مٹ) قواعد صرف و نحو میں وہ مختصر اسم جس سے

اسم غائب یا حاضر یا حکم سمجھا جائے۔

ضمیمہ۔ (ض۔ من) (ح۔ ا۔) مذ [دہ شے جو کسی اور شے پر بڑھا کر لگائیں۔

تکملہ۔ پرچہ زائد۔ اخبار کی معمول سے الگ اشاعت۔

## ض — ی

ضیا۔ (ض۔ یا) (ح۔ ا۔) (مٹ) (۱) روشنی پھلک (۲) رونق۔ زہرو  
ضیا افروز۔ ضیا بار۔ ضیا پاش۔ ضیا فشاں۔ ضیا گستر۔ (ح۔ ف۔

صفت) روشن کرنے والا۔ روشنی پھیلانے والا۔  
ضیا باری۔ ضیا پاشی۔ ضیا فانی۔ ضیا گستری۔ (ح۔ ف۔ ا۔) (مٹ)

روشنی پھیلانا۔

ضیافت۔ (ض۔ یا۔ فت) (ح۔ ا۔) (مٹ) (۱) ہمانی۔ دعوت۔ کھانا کھلانا۔

ضیافت خانہ۔ (ح۔ ف۔ ا۔) مذ (۱) ہمان خانہ۔ ہمان داری کا مکان۔

ضیافت کرنا۔ (مض۔ مرکب) ہمانی کرنا۔ دعوت کرنا۔

ضیغ۔ (ض۔ غ۔ غم) (ح۔ ا۔) مذ (۱) چارٹنے والا شیر۔ شیر بھر۔

ضیف۔ (ح۔ ا۔) مذ [ہمان۔

ضیق۔ (ح۔ ا۔) (مٹ) (۱) تنگی (۲) دقت۔ دشواری (۳) مکان کی تنگی۔

ضیق النفس۔ (ح۔ ا۔) مذ (۱) دماغ۔ سانس کا روگ۔ دم کا ٹھنکا۔

ضیق میں آنا (ہونا)۔ (ا۔ محاورہ) تنگ جہنا۔ عاجز آنا۔ مشکل میں پھنسا۔

ضیق میں جان ہونا۔ (ا۔ محاورہ) سخت پریشان ہونا۔

## ض — و

ضو۔ (ح۔ ا۔) (مٹ) (۱) روشنی۔ پرتو۔ نور۔ پھلک۔

ضو افشاں۔ (ح۔ ف۔ صفت) روشن۔ ستور۔ روشنی دینے والا۔

ضو ریز۔ ضونگن۔ (ح۔ ف۔ صفت) روشنی پھینکنے والا۔

## ط

”ط“ (طو۔ اے) اُردو کا بابشواں، فارسی کا بیسواں اور عربی کا سولہواں حرف (۲) حساب الجد میں اس کے فوعد و قدر ہیں۔ یہ شمسی حرف ہے۔ اس کے پہلے ”ال“ آجائے تو لام پڑھا نہیں جائے گا۔ ”ط“ مشدّد پڑھا جائے گا جیسے الظاہر۔ علم نجوم میں بروج سرطان کی علامت ہے۔

## ط ا

طاب - (ع۔ صفت) (۱) خوشبودار (۲) خوش گوار۔ نفیس (۳) پاک۔  
طاب تراءُ - (ع۔ مکرّم) اس کی قبر خوشبودار ہو۔ یعنی اس کی روح کو سکون نصیب ہو۔

طابح - (ط۔ ب۔ ج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) چھاپنے والا۔ پرنٹر۔  
طابعہ - (ط۔ ب۔ عد) (ع۔ ا۔ مثنیٰ) (۱) نمائندہ۔ (۲) نمائندہ۔  
طابق - (ط۔ ب۔ ج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) مطابقت رکھنے والا (۲) تابع (۳) توابعی

طابق التعلّق بالتعلّق - (ع۔ مثنیٰ) (۱) جو جوئی کے ساتھ مطابقت ہوگی۔ دو آدمی یا چیزیں ایک دوسرے سے عین مطابقت ہو جائیں تو یہ مثل ہوتے ہیں۔  
طابق - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) منج کات رہ (۲) رات کو چلنے والا (۳) سخت حادثہ۔  
طارم - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) کوڑی کا گھر (۲) گنبد (۳) بلند مکان (مجازاً) آسمان۔  
طارم اعلیٰ - (ع۔ ا۔ مذ) فلک الافلاک۔  
طارم انخضر - (۱) ہری چھت (۲) آسمان۔  
طاری - (ع۔ صفت) (۱) ناگمان ظاہر ہونے والا (۲) چھا جانے والا۔ غالب آنے والا۔

طاری ہونا - (م۔ ص۔ مکتب) چھا جانا۔ غلبہ پانا۔  
طاس - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بڑا پشت۔ (۲) تھال۔ لیکن (۲) پیالہ (۳) ایک قسم کا دیشی کپڑا (۴) وہ علاقہ جس سے دریا گزرتا ہو۔ تیس (۵) ایک پرندہ (ق)۔  
طاس بازی - (ع۔ ف۔ ا۔ مثنیٰ) (۱) شہیدہ بازی۔ مکاری۔  
طاس دریا - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱) دکان۔ ڈیلٹا۔ بیسن۔

طاسہ - (ع۔ ا۔ مذ) ڈھول۔ تاسہ۔ تاشہ۔  
طاسہ نواز - (ع۔ ف۔ صفت) تاشہ بجانے والا۔  
طاعت - (ع۔ ا۔ مثنیٰ) طاعت کی جمع۔ اطاعت کے کام۔  
طاعت - (ع۔ ا۔ مثنیٰ) بندگی۔ عبادت۔ بوجا۔ فرمان برداری۔ جمع طاعات۔  
طاعت گاہ - (ف۔ ا۔ مثنیٰ) عبادت کی جگہ۔ مسجد۔  
طاعت گزار - (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) فرمان بردار۔ بندگی کرنے والا۔ عبادت گزار۔

طاعن - (ع۔ صفت) (۱) طعن زن۔ طعنہ دینے والا (۲) نینہ مارنے والا۔  
طاعون - (ط۔ مثنیٰ) (ع۔ ا۔ مذ) ایک مہلک اور متعدی وبا جس میں چھاتی بھل یا نیسے کے نیچے گلٹیاں نکلتی ہیں اشد تیز بخار ہوتا ہے۔ چینگ۔

طاعت - (ط۔ مثنیٰ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) شیطان۔ گناہوں کا سردار (۲) بہت۔  
طاعت - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کرنے والا۔  
طاعتی - (ط۔ مثنیٰ) (ع۔ صفت) طاعت سے نسبت رکھنے والا۔ شیطانی۔  
طاعتی - (ع۔ صفت) (۱) سرکش۔ باغی۔ مانگ کا نافرمان (۲) حد سے گزرنے والا (۳) فساد پھیلانے والا۔

طاق - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) محراب۔ محراب دار ڈاٹ جو دیوار میں بنا دیتے ہیں۔  
طاق - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) لاشائی۔ ماہر (۳) ایک درخت کا نام (۴) ایک کپڑے کا نام (۵) وہ عدد جو جفت نہ ہو مثلاً ۱۔ ۳۔ ۵ وغیرہ۔  
طاق ابرو - (ع۔ ا۔ مذ) ابرو کا طاق۔ بھوں کی کمان۔  
طاق ارنق - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) نیلا طاق۔ آسمان۔  
طاق ایران - (ع۔ ا۔ مذ) ڈیڑھی۔ جلوہ خانہ۔

طاق بھرنا - (۱) محاورہ) مسجد یا مزار کے طاق میں چراغ جلا کر چمکول بنانے وغیرہ پڑھانا وغیرہ۔  
طاق پر بیٹھا الو - بھر بھر مانگے چیلو۔ (۱) مثل) اس کیسے شخص کے متعلق کہتے ہیں جو اپنے سے بہتر آدمیوں پر حکم چلائے۔  
طاق پر (دھرتا) رکھنا - (۱) محاورہ) چھوڑ دینا۔ ترک کرنا۔ باز آنا۔ اٹھا رکھنا۔  
طاق پر رکھا رہنا - (۱) محاورہ) صانع کرنا۔ کام نہ آنا۔ بے کار اور نچا رہنا۔  
طاق کرنا - (۱) محاورہ) بیکٹ کرنا۔ بیگانہ کرنا۔ ماہر کرنا۔

طاق میں ایمان رہنا - (۱) محاورہ) ایمان داری کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا بے ایمانی کرنا۔  
طاق نسیاں ہونا - (۱) محاورہ) چھوٹ جانا۔ بھلا دیا جانا۔  
طاق و بخت - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا بوجا جس میں ہاتھ میں کوئی چیز چھپا کر دریافت کرتے ہیں کہ اس میں طاق ہے یا بخت۔  
طاق و بخت دونوں ہونا - (۱) محاورہ) ہر حالت میں کامیابی ہونا۔  
طاق ہونا - (۱) محاورہ) (۱) ماہر ہونا۔ (۲) جانا رہنا۔ زائل ہونا۔

طاقہ - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) چھوٹا طاق۔  
طاقہ - (ط۔ مثنیٰ) (ع۔ ا۔ مثنیٰ) (۱) زور۔ بیل۔ قوت (۲) تاب۔ مجال۔ جرات۔ حوصلہ (۳) قابلیت۔ لیاقت۔ محدود (۴) برداشت۔ بساط۔ سائی (۵) سلطنت۔ حکومت۔

طاقہ آڑما - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) زور دکھانے والا۔ قوت لگانے والا۔  
طاقہ آڑما - (ع۔ ف۔ ا۔ مثنیٰ) زور دکھانا۔ زور لگانا۔  
طاقہ - (ع۔ ف۔ ا۔ مثنیٰ) حکومتیں۔ سلطنتیں۔  
طاقہ سلب ہونا - (م۔ ص۔ مکتب) قوت جاتی رہنا۔

طاقت طاق ہونا۔ (۱- محاورہ) بالکل طاقت نہ رہنا۔ قوت کا زائل ہوجانا۔  
 طاقت کا جواب دینا۔ (۱- محاورہ) طاقت نہ رہنا۔ کمزور ہوجانا۔  
 طاقت کرنا۔ (۱- محاورہ) زور دکھانا۔ زور کرنا۔ قوت آزمانا۔  
 طاقت ہماں نداشت خانہ ہماں گواشت۔ (ف- مش) ہماں داری  
 کی طاقت نہ رکھتا تھا گھر ہماں کے لیے چھوڑ گیا اس وقت کہتے ہیں جب  
 کوئی ہماں کے آنے پر مل جائے۔  
 طاقت ور۔ (ع- ف- ص) زور آور۔ توانا مضبوط۔ کس بل والا۔  
 طاقتہ۔ (طا- ق) (ع- ف- ص) (۱) ادنی یا کچھ بڑے کا تھان۔  
 طاقتی۔ (طا- ق) (ف- م) (۱) مٹا دہ گھوڑا جس کی ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی  
 ہو بھینگا۔ اسے محسوس بھی جاتا ہے۔  
 طاقتہ۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاقتی رکھے نہ باقی۔ (۱- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طال۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طال (اعتد) عمرگہ۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالب۔ (ط- ب) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 مشتاق خواست گار۔ امید وار۔  
 طالب استمداد یا امداد۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالب امان ہونا۔ (۱- محاورہ) پناہ چاہنا۔ جان بخشی چاہنا۔  
 طالب جنگ ہونا۔ (۱- محاورہ) دشمن کو لڑائی کی دعوت دینا۔  
 طالب دنیا۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالب دیدار۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 کا خواہش مند۔  
 طالب زر۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالب بختی۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالب علم۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 حاصل کرنے والا۔ مستقیم (۲) نتیجہ۔  
 طالب علمانہ۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالب علمی۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالب کعبن (مرگ) ہونا۔ (۱- محاورہ) مرنے کا خواہش مند ہونا۔  
 طالب و مطلوب۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالبہ۔ (ط- ل) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 والی عورت۔ بستکہ۔  
 طالع۔ (ط- ل) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع۔ (ط- ل) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 قسمت۔ اقبال (۳) نیا چاند۔  
 طالع آزما۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع آزمائی۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع اورچ پر ہونا۔ (۱- محاورہ) نصیباً بلند ہونا۔ بختا ور ہونا۔ صاحب  
 نصیب ہونا۔ بلند قسمت ہونا۔  
 طالع بیدار۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔

دکنا بیٹہ معشوق۔  
 طالع جاگنا۔ (۱- محاورہ) اچھے دن آنا۔ قسمت جاگنا۔  
 طالع سونا۔ (۱- محاورہ) بڑے دن ہونا۔ بد بختی آنا۔  
 طالع چمکنا۔ (۱- محاورہ) قسمت کھلنا۔ نصیب جاگنا۔  
 طالع خوابیدہ۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع شناس۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع شناسی۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع کاکھر۔ (۱- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع کی رسائی (یا واری)۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع مند۔ طالع ور۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع وری۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع ہونا۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طالع یا وری ہونا۔ (۱- محاورہ) قسمت جاگنا۔ نصیب کھلنا۔  
 طالعہ۔ (ط- ل) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاقت۔ (ط- ل) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 سے بگ کر کے اُسے قتل کیا۔  
 طامات۔ (ط- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 ربا کار صوفیوں کی مبالغہ آمیزی۔  
 طامع۔ (ط- م) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاہر۔ (ط- ہ) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاہرہ۔ (ط- ہ) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاہری۔ (ط- ہ) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 اور بڑیوں سے پکایا جاتا ہے۔  
 طاٹر۔ (ط- ہ) (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاٹر بسمل۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاٹر خوش نوا۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاٹر خیال۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاٹر روح۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاٹر ذریں پال۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 (مجازاً) آفتاب۔  
 طاٹر سردہ۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 سدا پر ہے۔  
 طاٹر قبلہ نما۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 قبلہ کا رخ معلوم ہوتا ہے۔  
 طاٹر مٹھل اڑ جانا۔ (۱- محاورہ) ہوش و حواس جاتے رہنا۔  
 طاٹر قدس یا قدسی۔ (ع- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 طاٹر نوگر فتار۔ (ع- ف- م) (۱) مٹا دہ ٹوپی جو گرہ کی نیچے پہنتے ہیں۔  
 (مجازاً) وہ شخص جو تازہ تازہ عشق میں مبتلا ہوا ہو۔  
 طاٹر نیم بسمل کی طرح پھرنے لگنا۔ (۱- محاورہ) آدھے ذبح کیے ہوئے پرندہ کی  
 طرح تر پنا۔ نہایت بے قرار ہونا۔

طباقت (ط۔ باق) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بڑی رکابی۔ تھالی (۲) کاسٹرس۔  
 طباق سامنہ۔ (ا۔ مذ) پوزاسامنہ۔ پوزاچلا چہرہ۔ چپلا چہرہ۔  
 طبائی۔ (ط۔ باق) (ع۔ صفت) طباق سا۔  
 طبائی گنا۔ (ا۔ مذ) مفت خورا۔ طینل۔ دوسروں کی روٹیاں توڑنے والا۔  
 طبائع۔ (ط۔ با۔ ا۔ ع۔ ا۔ مذ) صفت طبیعت کی جمع۔ طبیعتیں۔  
 طبع۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) طبیعت۔ فطرت۔ مزاج۔ سرشت۔ بصلت (۲) چھاپنا  
 نشان لگانا (۳) سکتہ۔ نقش۔ پٹر۔ چھاپ۔  
 طبع آزمائی۔ (ع۔ ا۔ مذ) طبیعت کی آزمائش۔ ذہانت کا امتحان۔  
 طبع رسا (رواں)۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت تیز طبیعت۔ تیز ذہن۔  
 طبع زاد۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت اپنی ایجاد یا اختراع۔ طبیعت سے نکلا ہوا۔  
 طبع کرنا۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ مرکب۔ چھاپنا۔ شائع کرنا۔  
 طبع گرامی۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت کسی بزرگ کی طبیعت یا مزاج پر چلتے  
 وقت استعمال ہوتا ہے۔ بزرگ طبیعت۔  
 طبع موزوں۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت شہر سے مناسبت رکھنے والی طبیعت۔  
 طبعی۔ (ط۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) صفت۔ (۲) طبیعت سے منسوب  
 (۲) ذاتی۔ فطری۔ اصلی۔ قدرتی۔ خلقی۔ ب کے سکون کے ساتھ طبع سے منسوب۔  
 طبعی جغرافیہ۔ (ع۔ ا۔ مذ) وہ جغرافیہ جس میں خشکی تری کی بحث ہو۔  
 طبق۔ (ط۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) خال۔ بڑی رکابی (۲) طبقہ۔ تختہ (۳) تہ۔  
 چھلا (۴) نیاز (۵) سونے کا ورق۔ پتہ (۶) موافق۔ مطابق (۷) خطہ۔  
 ٹک۔ جھتہ (۸) پروں کی نیاز کا کوٹھا (۹) عمر۔ زمانہ۔ بیس برس کا  
 عرصہ (۱۰) ڈھکنا۔ قمر۔ ٹکیہ (۱۱) عورت کی شرم گاہ (۱۲) چھٹی (۱۳)  
 حالت درجہ۔ منزل۔ (۱۴) گھوڑوں کی ایک بیماری۔  
 طبق اٹھ جانا۔ (ا۔ محاورہ) کسی خاندان میں زوال آجانا کسی ملک کا  
 تروبالا ہو جانا۔ برباد ہو جانا۔  
 طبق باز۔ طبق زن۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت چھٹی پھیلنے والی عورت۔  
 طبق چھوڑنا۔ (ا۔ محاورہ) عورتوں کا پروں کی نیاز سے کہ کھال میں چھول  
 پوراخ وغیرہ رکھ کر دریا میں ڈالنا۔ صنگ دینا۔  
 طبقات۔ (ط۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) طبقہ کی جمع۔ طبقے۔  
 طبقات الارض۔ (ع۔ ا۔ مذ) زمین کے طبقے۔ زمین کی تہیں۔  
 طبقہ۔ (ط۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) طبق کی تصغیر۔ خاکہ (۲) چھوٹی رکابی۔  
 طبقہ۔ (ط۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) منزل۔ درجہ (۲) تہ۔ پرت (۳) روک۔  
 پرکھ (۴) آدمیوں کا گروہ (۵) پایہ۔ رقبہ۔ جمع؛ طبقات۔  
 طبقہ اڑا دینا۔ (ا۔ محاورہ) سرنگ میں بارود رکھ کر اڑھنگ دکھانے کے زمین  
 کا ٹکڑا اڑا دینا۔  
 طبقہ اٹھ جانا۔ (ا۔ محاورہ) حالت بدل جانا (۲) کسی خاندان یا ملک  
 میں زوال آجانا (۳) کسی معاملے کا بگڑ جانا۔  
 طبقہ بالا۔ اوپر کی منزل۔  
 طبقاتی۔ (ط۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) صفت طبقہ یا جماعت سے متعلق۔  
 طبقاتی جنگ۔ وہ کشمکش یا لڑائی جو معاشرے کے مختلف طبقوں میں ہو۔  
 طبل۔ (ع۔ ا۔ مذ) بڑا ڈھول۔ دمار۔ نقار۔ دھونسہ۔

طباقت (ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ جھلی پرندہ۔ وہ پرندہ جو بالترتیب ہو۔  
 طباقت و دم و خیال کا شہ پختہ۔ (ا۔ محاورہ) کسی بات کا نامکس ہونا۔ خیال  
 ٹک۔ بجا سکتا۔  
 طباقت۔ (ط۔ ا۔ ا۔ مذ) (ع۔ صفت) پرندے کی طرح (۲) سرسری چھپاتی۔  
 طباقت نگاہ ڈالنا۔ (ا۔ محاورہ) اچھتی نگاہ ڈالنا۔ سرسری طور پر دیکھنا۔  
 طباقت۔ (ط۔ ا۔ ا۔ مذ) صفت (۱) طواف کرنے والا۔ پکر کاٹنے والا۔ اردگرد  
 پھرنے والا (۲) جاز کا ایک قسم۔  
 طباقت۔ (ط۔ ا۔ ا۔ مذ) (ع۔ ا۔ مذ) صفت (۱) طواف کرنے والی (۲) قوم۔ ذات۔ ملت  
 (۳) منڈلی۔ گروہ۔ جتہ۔ فرقہ۔ جماعت (۴) زندگی اور اس کے ساتھ  
 ناپینے والوں کی ٹولی (۵) قافلہ۔  
 طباقت نجانا۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ مرکب۔ رنڈی یا جھانڈوں کا تاج کرنا۔  
 طباقت۔ (ط۔ ا۔ ا۔ مذ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) فائدہ۔ نفع (۲) افزونی (۳) تواضعی (۴)  
 بے قید۔ ارد میں لاٹال کی ترکیب کے ساتھ مستعمل ہے۔  
 طاقت۔ (ط۔ ا۔ ا۔ مذ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) صفت۔ (۲) ایک ساز جو مور کی شکل کا بنا  
 ہوتا ہے اور سارنگ کی طرح بجا جاتا ہے۔  
 طاقت کوکنا۔ (ا۔ محاورہ) مور کا چلانا۔ مور کا بولنا۔  
 طاقت کی مستی۔ (ا۔ محاورہ) شور و دیر ہونے والی چیز۔  
 طاقت۔ (ط۔ ا۔ ا۔ مذ) (ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ مور کا مور کے رنگ کا۔  
 طاقت رقص۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ ایک خاص قسم کا تاج جو مور کے رقص سے  
 مشابہ ہوتا ہے۔  
 طانی۔ (ط۔ ا۔ ا۔ مذ) صفت۔ عرب کے قبیلہ "ط" سے منسوب جس میں تمام براسی گزرا ہے

## ط۔ ا۔ ب

طباقت۔ (ع۔ ا۔ مذ) حکمت۔ علاج۔ علاج معالجے کا علم۔ خاص کر پونانی طریقہ علاج  
 طبابت۔ (ط۔ با۔ ب۔ ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ علاج معالجہ۔ ڈاکٹری حکمت کرنا۔  
 علاج کرنا۔  
 طباحت۔ (ط۔ با۔ ع۔ ا۔ مذ) باورچی۔ خانہ سامان۔ کھانا پکانے والا۔  
 طباحتی۔ (ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ کھانا پکانے کا کام۔  
 طباحتیر۔ (ط۔ با۔ ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ سنبھلنا۔ ایک سفید رنگ کی دوائی۔  
 جو پائس کی گٹھوں سے نکلتی ہے۔  
 طباطبائی۔ (ط۔ با۔ ع۔ ا۔ مذ) (۱) صفت۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم  
 بن امام حسن کی اولاد جن کا لقب طباطبائی تھا۔ عید کے موقع پر جب ان کے والد  
 نے باس کے متعلق پوچھا کہ کیا چاہئے تو انہوں نے کہا کہ طباطبائی۔  
 طباحت۔ (ط۔ با۔ ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ تیز طبیعت (۲) تلوار  
 بنانے والا۔ ڈھیلہ (۳) کوڑھ کرکھار۔ ساچنے میں ڈھالنے والا۔  
 طباحت۔ (ط۔ با۔ ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ (۱) پرنگ۔ چھپائی (۲) تلوار  
 بنانے یا کھار کا فن۔  
 طباحتی۔ (ط۔ با۔ ع۔ ا۔ مذ) صفت۔ تیز معمولی ذہانت۔ طبیعت کی تیزی۔

طبیعت اُچھٹا۔ (۱- معادہ) دل گھبرانا۔ جی پریشان ہونا۔ ناگوار خاطر ہونا۔  
 طبیعت باغ باغ ہونا۔ طبیعت باغ و بہار ہونا۔ (۱- معادہ) بہت خوش ہونا۔  
 طبیعت بحال ہونا۔ (۱- معادہ) طبیعت کا درست ہونا (۲) صحت ہونا۔  
 افتادہ ہونا۔ آرام ہونا (۳) مزاج کا خوش ہونا۔  
 طبیعت بدلنا۔ (۱- معادہ) مزاج کا بدلنا۔  
 طبیعت بڑھنا۔ (۱- معادہ) کسی کام کی مشق سے بہارت پیدا ہونا۔  
 طبیعت بگڑنا۔ (۱- معادہ) (۱) حالت خراب ہونا۔ بیمار ہونا (۲) جی متلانا۔  
 متلی ہونا (۳) ناراض ہونا۔ دل خفا ہونا۔  
 طبیعت بھڑ بھڑانا۔ (۱- معادہ) دلورہ پیدا ہونا۔ طبیعت گدگدانا۔ بوش پیدا ہونا۔ کسی بات کی خواہش ہونا۔  
 طبیعت بھر جانا۔ (۱- معادہ) (۱) سیر ہو جانا (۲) دل اگت جانا۔  
 طبیعت بہلنا۔ (۱- معادہ) (۱) فرست ہونا۔ جی گن۔ وقت خوشی میں گزنا (۲) دل کا بے توشگی کی طرف مصروف ہونا۔  
 طبیعت بے چین ہونا۔ (۱- معادہ) بے قرار ہونا۔ بے یقینی ہونا۔  
 طبیعت بے قابو ہونا۔ (۱- معادہ) طبیعت اختیار میں نہ ہونا (۲) کوئی کام یا بات کرنے سے ڈک نہ کرنا (۳) فریفتہ ہونا۔ مائل ہونا۔  
 طبیعت پر لو بھڑکانا۔ (۱- معادہ) بہت سوچنا یا غور و فکر کرنا۔  
 طبیعت پر چھوڑ دینا۔ (۱- معادہ) کسی کی مرضی پر کام چھوڑ دینا۔  
 طبیعت پر رکھ لینا۔ (۱- معادہ) ارادہ کر لینا۔  
 طبیعت پر زور دینا۔ (۱- معادہ) بہت سوچنا۔ غور و فکر کرنا۔  
 طبیعت پرگرائی ہونا۔ (۱- معادہ) (۱) بدبختی ہونا (۲) ناگوار ہونا۔  
 طبیعت پریشان ہونا۔ (۱- معادہ) جی گھبرانا۔ دل اُچھٹا۔  
 طبیعت پھرنا۔ (۱- معادہ) بیزار ہونا۔ اُگت جانا۔  
 طبیعت پھسلنا۔ (۱- معادہ) فریفتہ ہونا کسی کی طرف مائل ہونا۔  
 طبیعت پھیلنا (پڑنا) ہونا۔ (۱- معادہ) (۱) اُنگ باقی نہ رہنا (۲) بیمار ہونا۔  
 طبیعت ٹھکنا۔ دل کو قرار ہونا۔ مطمئن ہونا۔  
 طبیعت ٹائیٹ۔ (۱- معادہ) دوسری طبیعت۔ عادت جو مزاج کا انداز پیدا کر لیتی ہے۔  
 طبیعت حاضر ہونا۔ (۱- معادہ) کوئی کام اچھے طرح ہو سکتا۔ کسی کام کی طرف راغب ہونا۔  
 طبیعت خراب ہونا۔ (۱- معادہ) متلی ہونا۔ بیمار ہونا۔  
 طبیعت رگنا۔ (۱- معادہ) کسی کام کو کرنے میں پچھلانا۔  
 طبیعت دار۔ (۱- معادہ) زمین۔ ہوشیار۔ شوخ۔ چالاک۔ عالی درجہ۔  
 طبیعت رنگ پر آنا۔ (۱- معادہ) اُنگ پیدا ہونا۔ خواہش جاگنا۔  
 طبیعت رواں ہونا۔ (۱- معادہ) طبیعت میں تیزی آنا۔ کسی کام کو اچھے طرح ادا کرنا (۲) طبیعت شرمکے پر آمادہ ہونا۔  
 طبیعت سنبھلنا۔ (۱- معادہ) افتادہ ہونا۔ مزاج درست ہونا۔  
 طبیعت سن سے جو جانا۔ (۱- معادہ) کسی اچانک واقعہ سے صدمہ پہنچنا۔  
 دل دھک سے رہ جانا۔

طبل آسائش۔ (۱- معادہ) فوجوں کی دایسی کا طبل۔  
 طبل بازگشت۔ (۱- معادہ) فوجوں کو واپس بلانے کا نشانہ۔  
 طبل پر چوٹ پڑنا۔ (۱- معادہ) نقارہ بجا کر (۲) اعلان جنگ ہونا۔  
 طبل جنگ۔ (۱- معادہ) فوجوں کی دایسی کا طبل۔  
 طبل کو چاشنی دینا۔ (۱- معادہ) نقارہ بجانا۔  
 طبل نوازی۔ (۱- معادہ) نقارہ بجانا۔  
 طبلچی۔ (۱- معادہ) (۱) جی۔ (۲) اُگت۔ (۳) طبل بجانے والا۔  
 طبلتق۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) کاغذوں کا بندل (۴) کاغذی بندھن۔  
 وہ کاغذ جو کاغذوں کے ٹکڑے یا اجزائے پران کو بند کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے (۵) دوڑنے سے گھلا ہوا نشانہ۔  
 طبلک۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) چھوٹا ڈھول۔  
 طبلہ۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) چھوٹا ڈھول۔ (۴) مٹا۔ (۵) ڈھولک (۶) ڈھولک (۷) ایک خاص قسم کا ایک رُخا جانا۔  
 طبلہ بجانا۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) طبلہ ٹھکانا۔ طبلہ کھڑکانا۔  
 طبلہ خوار۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) طبلہ خوار۔  
 طبلہ عطار۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبلہ عطار بنا دینا۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبلہ نواز۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبلے پر چھاپ (تھاپ) پڑنا۔ (۱- معادہ) طبلہ بجانا۔  
 طبلی۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبتی۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبتی۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبتی مدرسہ۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبتیب۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبتیب حادثی۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبتیب روحانی۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 آدی رُشد و ہدایت دینے والا۔ مُرشد۔  
 طبیعت۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 بررشت۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبیعت آنا۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبیعت کا راجب یا مائل ہونا (۲) کوئی چیز پیدا کرنا۔ کسی شے کا دل کو جانا۔  
 طبیعت اُھل چھل ہونا۔ (۱- معادہ) طبیعت بے قرار ہونا۔  
 طبیعت اُچھاٹ ہونا۔ طبیعت اُچھٹنا۔ (۱- معادہ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔  
 طبیعت اعتدال پر آنا۔ (۱- معادہ) مزاج درست ہونا۔ مزاج کا صحیح حالت اختیار کرنا۔  
 طبیعت اک سو (کسیو) ہونا۔ (۱- معادہ) مطمئن ہونا۔  
 طبیعت اُگھڑنا۔ (۱- معادہ) برداشتہ خاطر ہونا۔ جی کا بیزار ہونا۔  
 طبیعت اُلٹ جانا۔ (۱- معادہ) مزاج بدل جانا (۲) متلی ہونا۔ طبیعت خراب ہونا۔

طبیعت شگفتہ ہونا - (۱- محاورہ) دل بکاش ہونا (۲) دھاقا پاخاز کھل کر آنا۔  
 طبیعت شناس - (ح- ف- صفت) (۱) مزاج پہچاننے والا - مزاج دان -  
 طبیعت کی جولانی - (۱- مٹ) تیزی - بیخ - طبیعت کی وہ خاصیت جس  
 کی وجہ سے نئی نئی باتیں سُرھیں۔  
 طبیعت گدگدانا - (۱- محاورہ) اُنگک پیدا ہونا۔  
 طبیعت کا بندہ - (ح- ف- صفت) اپنی مرضی سے کام کرنے والا۔

طیال - (ط- پاں) دف - صفت (۱) تڑپنے والا۔  
 طپا پختہ - (ط- پاں) چہرے (۱- مذ) (۱) تھپڑ - چائٹا (۲) تیسرے ہوا  
 کا جھونکا۔  
 طیش - (ط- پیش) (۱- مٹ) (۱) تڑپ - مہلن - صبح پیش۔  
 طپنہ - (ط- پن) چہرے (۱- مذ) پتول - تپنہ۔

## ط - ح

طحال - (ط- حال) (ح- مٹ) (۱) مٹا ہوا - ایک عضو جو جگر کے قریب ہے۔  
 طحال - (ط- حال) (ح- مٹ) (۱) مٹا ہوا - وہ مرض جس سے ٹہلی پھول جاتی  
 ہے اور اس میں درد ہوتا ہے۔

## ط - ر

طرز - (ط- ر) (۱- مذ) (۱) انوکھا - عجیب (۲) غالب - بڑھکر (۳) پگڑی  
 کے اوپر کا سرا جو اٹھا رہتا ہے (۴) ٹوٹی کا پھندا - گچھا (۵)  
 زلف - کالٹ۔  
 طراجمانا - (۱- محاورہ) رطب جمانا - بیکہ بھانا - ٹم چلانا۔  
 طراج - (ح- ۱- مذ) بھار - نقاش۔  
 طرار - (ط- رار) (ح- صفت) (۱) گرہ کٹ - پاکٹ مار - جیب کتڑا (۲)  
 چالاک - عیار - ہوشیار (۳) تیز زبان۔  
 طرار فرار - (ح- ۱- مذ) بہت چالاک - نہایت شوخ - بڑا بے باک۔  
 طرارہ - (ط- رار) (۱- مذ) (۱) رارہ - (۲) رار - (۳) چوکڑی - پھلانگ -  
 جست - کلاخ - اُچھل کود۔  
 طرار سے بھرنا - (۱- محاورہ) (۱) تیز بھگانا - سرسٹ دوڑنا (۲) فر فر پڑھنا۔  
 طرازی - (ط- راز) (۱- مذ) (۱) مٹ (۲) زبان کی شوخی - چھلا مٹ - تیزی -  
 چالاک - عیاری۔  
 طراز - (ط- راز) (۱- مذ) (۱) نقش و نگار - زینت - سجاد (۲) شاہی باک  
 (۳) وہ جگہ جہاں یہ لباس تیار ہو (۴) کسی تقریب پر شہر کی سجاد۔  
 (۵) زردوزی کا کام - کارچی (۶) آراستہ کرنے والا۔  
 طرازی - (ط- راز) (۱- مذ) (۱) مٹ (۲) سبانا - آراستہ کرنا - نقش و نگار بنانا۔  
 پیراستہ کرنا۔  
 طراوت - (ط- راء) (۱- مذ) (۱) مٹ (۲) (۱) نئی - رطوبت (۲)  
 ٹھنڈک - خشکی (۳) تازگی۔  
 طراوت آنا - (۱- محاورہ) ٹھنڈک پیدا ہونا۔  
 طراوت بخشنا - (مٹ - مرکب) تازگی دینا - فرحت بخشنا۔  
 طرب - (ط- رب) (ح- ۱- مٹ) (۱) خوشی - شادمانی - افسانہ۔  
 طرب انیکیز - طرب خیز - طرب سچ - طرب فزا - (ح- صفت) فرحت

خود پسند - مزور۔  
 طبیعت کالاک اُگلنا - (۱- محاورہ) نئے اور عمدہ مضامین پیدا کرنا۔  
 طبیعت کا لہرانا لہریں مارنا - (۱- محاورہ) طبیعت میں اُنگک پیدا ہونا  
 طبیعت کا مالش کرنا - (۱- محاورہ) اُپکائیاں آنا - جی ستلانا۔  
 طبیعت کی آفتا - (۱- مٹ) عادت کا انداز - فطرت کا طور۔  
 طبیعت گردانا - طبیعت کا قبول کرنا - طبیعت کسی طرف متوجہ کرنا۔  
 طبیعت گرمانا - (۱- محاورہ) طبیعت بوش میں آنا۔  
 طبیعت لا اُبالی ہونا - (۱- محاورہ) بے پردا ہونا - مزاج میں  
 بے پردائی ہونا۔  
 طبیعت لڑانا - (۱- محاورہ) بہت سوچنا - توجہ ڈالنا - متوجہ ہونا۔  
 طبیعت لڑنا - (۱- محاورہ) ذوق پیدا ہونا - دماغی کام کرنا - طبیعت کا متوجہ  
 ہونا - ذہن لڑنا - دل کے ساتھ کسی امر کی مناسبت اور لگاؤ رکھنا۔  
 طبیعت لگنا - (۱- محاورہ) دل لگنا - جی پہلنا - بیخ خاطر ہونا - دل کا مشغول  
 یا مصروف ہونا۔  
 طبیعت مائل ہونا - (۱- محاورہ) فریفتہ ہونا - کسی بات کی طرف رجوع کرنا  
 طبیعت مٹی ہونا - (۱- محاورہ) افسردہ ہونا - رنجیدہ ہونا۔  
 طبیعت چھلنا - (۱- محاورہ) ضد کرنا - ہٹ کرنا۔  
 طبیعت طنا - (۱- محاورہ) مزاج میں موافقت ہونا۔  
 طبیعت میں بل پڑنا - (۱- محاورہ) طبیعت بگڑنا - خفا ہونا - مکدر ہونا۔  
 طبیعت موڑوں ہونا - (۱- محاورہ) مشورہ کن کی طرف مائل ہونا۔  
 طبیعت میں تلون ہونا - (۱- محاورہ) ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہونا۔  
 طبیعت میں تیزی ہونا - (۱- محاورہ) نئی نئی باتیں سُرھنا - تیز مزاج ہونا۔  
 طبیعت میں روانی ہونا - (۱- محاورہ) مشورہ مضمون سُرھنا (۲) طبیعت  
 میں تیزی ہونا۔

طبیعت نہ لگنا - (۱- محاورہ) جی اُچھاٹ ہونا۔  
 طبیعت ہٹ جانا - (۱- محاورہ) نفرت ہو جانا۔  
 طبیعت ہونا - (۱- محاورہ) دل آنا - مشق ہونا - رحمت ہونا - جی چاہنا۔  
 طبعی - (ط- بی- می) (ح- صفت) (۱) سائنس جس میں خواص اشیاء اور تحقیقات سے  
 بحث کی جاتی ہے - وہ علم جس میں اجسام کے تغیر و تبدل اور ان کی  
 خاصیت کا سال بیان ہوتا ہے۔  
 طبعیاتی - (ط- بی- می) (ح- یاتی) (ط- بی- حات) (ح- ۱- مذ) علم الاجسام  
 (بشریاتیات و جمادات) فزکس۔

## ط - پ

طرف ثانی - (ع۔ ۱۔ مٹ) مخالف - مدعا علیہ - فریق ثانی - لازم - دوسری طرف۔

طرف دار - (ع۔ ف۔ صفت) ساتھی - مددگار - حمایتی - پاسداری کرنے والا کسی فریق کا آدمی۔

طرف دار ہونا - (م۔ مرکب) مددگار ہونا - حمایتی ہونا۔

طرف داری - (ع۔ ف۔ صفت) پاس - لحاظ - حمایت - جانبداری۔

طرف داری کرنا - (ا۔ محاورہ) پاس داری کرنا - حامی و مددگار ہونا - جانب داری کرنا۔

طرفتہ - طرفتہ - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) آنکھ کا جھپکا۔

طرفتہ العین - (ع۔ ۱۔ صفت) پک جھپکاتے میں - پک مارتے میں۔

ذرا سی دیر میں - آن کی آن میں۔

طرفگی - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) خوبی - عمدگی - مجربین - قدرت۔

طرفہ - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) انوکھا - عجیب - نادر - عمدہ - خوش آئند۔

طرفہ تماشا - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) عجیب و غریب کھیل - انوکھا تماشا - عجیب واقعہ۔

طرفہ گل پھولنا - (ا۔ محاورہ) کسی عجیب و غریب بات کا ظہور میں آنا۔

نئی بات ہونا۔

طرفہ گل کھلانا - (ا۔ محاورہ) عجیب و غریب کام کرنا۔

طرفہ ماجرا - (ع۔ ۱۔ مٹ) انوکھا واقعہ - عجیب کی بات۔

طرفہ مجنون - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ا۔ ۱) چیز جو عجیب و غریب اشیاء سے مرکب ہو

(۲) عجیب آدمی (۳) بے وقوف یا احمق شخص۔

طرفہ یہ سے - (ا۔ محاورہ) انکی بات یہ سے - جرت یہ سے - تعجب یہ سے۔

طرفین - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) فریقین - دونوں جانب - مدعی - مدعا علیہ

(۲) اصطلاح فقہ میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد۔

طرفین سلسلہ - (۱) زنجیر کے دونوں سرے (۲) ایک سلسلے کی دونوں

طرف کے عدد یا نشان۔

طرہ - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) زلف لاکھل - سر کے بالوں کی لٹ (۲) وہ

پھندا جو پگڑی کے اوپر لگاتے ہیں۔ پگڑی کے اوپر کا سرا جو اٹھا رہتا

ہے۔ جانوروں کی کھنی (۳) غالب - بڑھ کر - سبقت لے جانا (۴) انوکھا

عجیب (۵) جھما - منڈیر (۶) کوئی بیچ دار چیز (۷) کوڑا - تاز یا نہ۔

(۸) اضافہ - حلاوہ (۹) انوکھی بات - خوبی - عمدگی (۱۰) حال - پھندا۔

(۱۱) جنگ کی چٹکی یا گھونٹ (۱۲) پھولوں کی لڑیوں کا گچھا جو ڈوٹھا

کے کان کے پاس لگتا ہے (۱۳) سبز - نازک شاخیں جو درخت نشاد

سے نکل کر پینے کو ملتی ہیں (۱۴) ایک قسم کا سرخ اور زرد پھول۔

(۱۵) کسی چیز کا بہترین حصہ۔

طرہ باز - (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) اکڑنے والا (۲) وہ شخص جو پگڑی پر طرہ لگائے۔

طرہ جمانا - (ا۔ محاورہ) رُعب جمانا - حکم کرنا۔

طرہ پڑھانا - (ا۔ محاورہ) جھنگ پینا۔

طرہ طرار - (ع۔ ۱۔ مٹ) محبوب کی زلفیں۔

طرہ کا حال - (ا۔ مٹ) ایک قسم کا حال جو عورتیں کا وضعی ہیں۔

طرہ کرنا - (ا۔ محاورہ) (۱) تیز کرنا - چکانا (۲) بڑھانا۔

نہتے والا - خوش کرنے والا - اُٹنگ بڑھانے والا - نشاط افزا۔

طرب ناک - (ع۔ صفت) فرحت بخش - خوش کرنے والا۔

طربوش - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) ترکی ٹوپی - سرخ رنگ کی اونچی ٹوپی۔

طربیتہ - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ تھوڑا سا جاس کا انجام خوشی ہو۔

طرح - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) وضع - انداز - ڈھنگ (۲) بنیاد - جڑ (۳) نقش کاری

نقاشی - خاکہ (۴) طیلنگی - جھڑائی (۵) حال احوال (۶) وہ مصرعہ جو مشاعرے

میں سزل کہنے کے لیے بحر و ردیف اور قافیہ بتانے کی خاطر مقرر

کرتے ہیں (۷) خارج کرنا - تفریق کرنا (۸) نئی عمارت (۹) صورت -

پیکر - شکل - نقشہ - گت - حالت۔

طرح اڑانا - (ا۔ محاورہ) (۱) انداز اڑانا (۲) طرح حاصل کرنا (۳) وضع

یکھ لینا۔

طرح پر طرح - (ع۔ ف۔ صفت) قسم قسم کا رنگ بڑنگ۔

طرح دار - (ع۔ ف۔ صفت) خوب صورت - بانکا - وضع دار - رنگیلا۔

طرح داری - (ع۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) خوب صورتی - بانگی - وضع داری۔

طرح دے جانا - (ا۔ محاورہ) مال جانا - چشم پوشی کرنا - درگزر کرنا -

بے پروائی کرنا۔

طرح ڈالنا - (ا۔ محاورہ) (۱) بنیاد ڈالنا (۲) تدبیر کرنا۔

طرح کرنا - (م۔ مرکب) (۱) تفریق کرنا (۲) سزل کہنے کے لیے بحر،

ردیف اور قافیہ بتانے کی خاطر مصرع بتانا (۳) کیمیا آگ پر سرخ کی

ہوئی دھات پر کوئی ایسی دوا ڈالنا جو اس کی رنگت تبدیل کر دے۔

طرح نو - (ع۔ ف۔ صفت) (۱) نئی بنیاد (۲) نئی طرز - نیا ڈھنگ - نیا انداز

طرحیں نکالنا - (ا۔ محاورہ) طرزیں ایجاد کرنا۔

طرحی سزل - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ سزل جو مقررہ طرح پر

کھی جائے۔

طرحی مشاعرہ - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ مشاعرہ جس

میں مقررہ طرح پر سزیاں پڑھی جائیں۔

طرز - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) روش - طرز - طریقہ - ڈھنگ - انداز - قاعدہ

قانون (۲) شکل - وضع - ہیئت (۳) عادت - خو (۴) مشاغل۔

طرز اڑانا - (ا۔ محاورہ) نقل کرنا - دوسروں کی کوئی وضع اختیار کرنا۔

انداز لیکھنا۔

طرز (تحریر) عبارت - (ع۔ ۱۔ مٹ) کہنے کا ڈھنگ - معنوں کی نگاری

کا طریقہ۔

طرز کل - (ع۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ۱۔ مٹ) روٹی - روش - سلوک۔

طرز قدیم - (ع۔ ۱۔ مٹ) پرانی وضع - پرانا طریقہ۔

طرز کلام - (ع۔ ۱۔ مٹ) انداز گفتگو - بات کا طریقہ۔

طرف - (ط۔ ف۔ صفت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) جانب - پہلو - رخ - سمت - بازو

(۲) کنوہ - حاشیہ - سرا - اُفق (۳) مقابل - توپ - فریق (۴) پاس -

لحاظ (۵) بجی - بج - اطراف۔

طرف اول - (ع۔ ۱۔ مٹ) دوسرے دار - مدعی - مستفیض - پہلی طرف۔

طعمہ روکنا۔ (۱۔ محاورہ) شکاری جانور کی خوراک شکار سے پہلے بند کر دینا۔  
طعن۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) طنز۔ ملامت۔ حرف گیری (۲) نیند سے  
کی ضرب۔

طعن آمیز۔ (ع۔ ف۔ صفت) طنز یا ملامت سے بھرا ہوا۔  
طعن ترور۔ (۱۔ مذ) طعن و اعتراض کا بگڑا ہوا۔ لعنت ملامت۔ طعن ہنا۔  
طعن تشیع۔ (ع۔ ۱۔ صفت) طعن ہنا۔ پھیڑ چھاڑ۔ آوازہ تواریزہ۔  
جلی کٹی بات۔

طعن کورنا۔ (۱۔ محاورہ) طنز کرنا۔ طعنہ دینا۔  
طعن کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) آوازہ کنا (۲) نیند سے کی ضرب لگانا۔  
طعنہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) نیند مارنا (۲) آوازہ کنا۔ طنز کرنا۔

طعنہ آمیز۔ (ع۔ صفت) طعنے سے بھرا ہوا۔  
طعنہ تشینہ۔ (۱۔ مذ) طعن و تشین کا بگڑا ہوا۔ بڑا جھلا۔ لعنت ملامت۔  
طعنہ دینا۔ (۱۔ محاورہ) ملامت کرنا۔ پھیڑنا۔ آوازہ کنا۔

طعنہ زن۔ (ع۔ ۱۔ مذ) طعنہ دینے والا۔  
طعنہ زنی۔ (ع۔ ۱۔ صفت) تشینہ دینا۔ پھیڑ چھاڑ۔ آوازہ کنا۔  
طعنہ مارنا۔ (۱۔ محاورہ) طعنہ زنی کرنا۔

طعنہ ہینا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) بڑا جھلا۔ پھیڑ چھاڑ۔ طعن تشین۔  
طعنہ تشینے (جینے) دینا (سُننا)۔ (۱۔ محاورہ) بڑا جھلا کنا۔  
طعنہ سُننا۔ (۱۔ محاورہ) لوگوں کی طعن آمیز گفتگو سُن کر چپ رہنا۔

## ط — غ

طغرا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) نشانی۔ علامت (۲) تحریر۔ عربی رسم الخط میں  
پیچیدہ مگر فن کارانہ اور خوبصورت تحریر۔ ہر یا انگوٹھی پر کھدی ہوئی  
خوبصورت تحریر۔

طغرائیس۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) وہ خوش نویس جو طغرا لکھنے میں ہمارت لکھتا  
ہو۔ طغرا لکھنے والا۔

طغرائے امتیاز۔ (ع۔ ف۔ صفت) بزرگی کی نشانی۔ وہ خصوصیت یا  
لیاقت جو دوسروں میں نہ ہو۔

طغرائے مذامت۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) شرمندگی کا نشان۔

طغرائے راق۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) وہ گھونسہ یا ٹمکا جو کپٹی پر مارا جائے۔

طغریان۔ (ع۔ ۱۔ مذ) بڑی زیادتی۔ ظلم۔ نافرمانی۔

طغیانی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) مٹا۔ (۲) سرکشی۔ بغاوت۔ حد سے بڑھنا۔

(۲) سیلاب۔ پانی کا بڑھاؤ (۳) زیادتی۔ افزونی۔

طغیانی پر آنا۔ (۱۔ محاورہ) سیلاب آنا۔

## ط — ف

طفل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) لڑکا۔ بچہ۔ جمع : اطفال۔ طفلان۔

طرہ گل۔ (ف۔ ۱۔ مذ) پتوں کا بچھا جو ستار میں لگتے ہیں۔  
طرہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زیادہ ہونا۔ فائق ہونا (۲) اڑکھا ہونا۔  
بڑھ کر ہونا۔

طرہ ہے۔ (۱۔ استقن فعل) زیادتی ہے۔  
طرہ سے باز خال۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) وہ شخص جو پگڑی پر طرہ لگائے۔  
اکرا باز خال۔

طریق۔ (ط۔ ۱۔ مذ) (۱) راستہ۔ شریک (۲) طرز۔ ڈھنگ۔ روش۔  
(۳) مذہب۔ شریعت (۴) رواج۔ دستور۔  
طریق عمل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) کام کرنے کا طریقہ۔

طریقیت۔ (ط۔ ۱۔ مذ) (۱) راستہ (۲) تصوف کی اصطلاح  
میں تزکیہ یا طہن۔ صوفیوں کا طریقہ جس سے روحانی کمال حاصل ہوتا ہے۔  
طریقہ۔ (ط۔ ۱۔ مذ) (۱) راستہ (۲) ڈھنگ۔ روش (۳) قاعدہ۔  
ترکیب۔ گروہ۔ مذہب۔

طریقہ آنا۔ (۱۔ محاورہ) کام کرنے کا ڈھنگ معلوم ہونا۔  
طریقہ برتنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی قاعدے یا دستور پر چلنا۔

## ط — ش

طشت۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) تھال۔ گن۔ تسلا (۲) تھق دھونے کا برتن۔  
چلیبی (۳) پیالہ۔

طشت از بام ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ظاہر ہونا۔ مشہور ہونا۔ عام ہونا۔  
عیال ہونا (۲) سُوا ہونا۔ بدنام ہونا۔

طشت چوکی۔ (ع۔ ۱۔ صفت) پانچا خانے کا برتن اور وہ جو کی جس پر چھائے  
حاجت کے وقت بیٹھتے ہیں۔

طشت زر۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) (۱) سونے کا تھال (۲) سُرُج۔  
طشتری۔ (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) رسی۔ (۲) مٹا۔ (۳) رگابی۔ چھوٹی تھالی۔ برج۔

طشتری لکھنا۔ حامل کاپی میں کی رگابی پر نقش لکھنا تاکہ اسے دھو کر پینے سے  
مرض اور آسیب کا عمل دور ہو۔

## ط — ع

طعام۔ (ط۔ ۱۔ مذ) (۱) کھانا۔ بھوجن۔ غذا۔

طعام عروسی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) شادی کی دعوت۔

طعم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ذائقہ۔ مزہ۔ لذت۔

طعم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) خوراک۔ چوگا۔

طعمہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) روزی۔ رزق (۲) نقرہ۔ نوالہ (۳) شکاری  
پر بندوں کا کھانا۔

طعمہ ابل ہونا۔ (۱۔ محاورہ) موت کا نوالہ ہونا۔ مرنا۔



دخترین طلاق کہہ کر دی جائے۔

طلاق حسن - (ع - ۱ - مٹ) وہ طلاق جو شریعت کے مطابق دی جائے ایک ایک کر کے وقت مقررہ کے بعد دی جانے والی طلاق۔

طلاق طلع - (ع - ۱ - مٹ) کچھ دے کر عورت کا طلاق لے لینا۔

طلاق دینا - (ممن - مرکب) بیوی کو چھوڑنا۔ قانون مذہب کے مطابق زوجہ سے قطع تعلق کرنا۔

طلاق رجعی - (ع - ۱ - مٹ) طلاق کا پہلا درجہ۔ وہ طلاق جس کے بعد آدی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

طلاق کنایہ - (ع - ۱ - مٹ) کسی کے اشارے سے دی ہوئی طلاق۔ وہ طلاق جو صاف الفاظ میں نہ ہو۔

طلاق لینا - (ممن - مرکب) عورت کا خاندان سے آزادی حاصل کرنا۔

طلاق مطلق - (ع - ۱ - مٹ) طلاق کا تیسرا درجہ۔ قطع طلاق۔

طلاق نامہ - (ع - ۱ - مٹ) وہ دستاویز جس میں طلاق کی شرائط درج ہوں۔ خطاویزی

طلاقت - (ط - لا - قن) (ع - ۱ - مٹ) پرہیزگاری۔ تیز زبانی۔

طلاققن - (ط - لا - قن) (ع - ۱ - مٹ) وہ عورت جسے طلاق دی گئی ہو۔

طلاتی - (ط - لا - ای) (ع - ۱ - مٹ) سہری۔ سونے کا۔

طلاتی کام - (ع - ۱ - مٹ) زردوزی یا کارپوی کام جو کپڑے پر کیا ہوا ہو۔

طلاتے اکھر - (ع - ۱ - مٹ) مٹھری سونا۔ گندنی۔

طلاتیہ - (ط - لا - یز) (ع - ۱ - مٹ) وہ فوج جرات کو لشکر یا شہر کی حفاظت

کرسے (۲) پولیس کی روند۔ گشت۔

طلاتیہ گردی - (ع - ۱ - مٹ) رات کی گشت۔ رات کا پہرہ۔

طلاتے دست افشار - (ع - ۱ - مٹ) وہ سونا جو ہاتھ میں دب جائے۔

(۲) وہ سونا جو خسر و پوز کے مزانے میں تقادار اس سے تیز ہوا تھا۔

طلب - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) (۱) مانگ (۲) خواہش (۳) آرزو (۴) دعت۔

(۲) جستجو۔ تلاش (۵) بلاوا۔ طلبی (۶) خواہ۔ شاہرہ (۷) وہ چیز جو مانگی جائے۔

طلب بانگشا - (ع - ۱ - مٹ) خواہش تیسر کرنا۔

طلب بچھانا (مٹھانا) - (ع - ۱ - مٹ) خواہش مٹھانا۔ آرزو پوری کرنا۔

طلب دار - (ع - ۱ - مٹ) (۱) کسی چیز کا خواہش مند (۲) خواہ دار۔

طلب کرنا - (ممن - مرکب) (۱) بلانا (۲) مانگنا (۳) دعویٰ کرنا۔

طلب گار - (ع - ۱ - مٹ) (۱) خواہش مند (۲) متلاشی۔

طلب مٹھانا - (ع - ۱ - مٹ) خواہش مٹھانا۔ طلب پوری کرنا۔

طلب نامہ - (ع - ۱ - مٹ) (۱) ممن - حاضر عدالت ہونے کا سرکاری پرواڈا۔

طلبنا - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) طلب کی جمع (۲) ڈھونڈنے والے (۳) طالب علم۔

طلبانہ - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) (۱) سپاہیوں کا لوہا۔ روزینہ (۲) وہ

لوہے جو گواہ کو عدالت میں طلب کرنے کے واسطے لیا جائے۔

طلبیہ - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) (۱) طالب کی جمع (۲) طالب علموں کی جماعت

(۲) طلب کرنے والے۔

طلبی - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) (۱) بلاوا۔ حاضر ہونے کا حکم۔ طلب۔ بلاوا۔

طلبی ہونا - (ع - ۱ - مٹ) بلاوا جانا۔ حاضری کا حکم ہونا۔

طفل اشک - (ع - ۱ - مٹ) آنسو۔

طفل افتادہ - (ع - ۱ - مٹ) وہ بچہ جسے ماں باپ چھوڑ کر چلے جائیں۔ بڑا ہوا بچہ۔ لاوا دشت بچہ۔

طفل دبستان - (ع - ۱ - مٹ) (۱) طفل کتب۔ کتب میں پڑھنے والا بچہ۔ (۲) طالب علم۔ مبتدی (۳) نا تجربہ کار شخص۔

طفل شیرخوار - (ع - ۱ - مٹ) دودھ پیتا بچہ۔

طفل مزاج - (ع - ۱ - مٹ) وہ شخص جس کے مزاج میں پھینا ہو۔

طفل چمندو - (ع - ۱ - مٹ) آنکھ کی پتلی۔

طفلان - (ط - لان) (ع - ۱ - مٹ) طفل کی جمع۔ بچے۔

طفلان چمن - (ع - ۱ - مٹ) باغ کا سبزہ اور پھولوں کی کھیاں اور شگوفے۔

طفلانہ - (ط - لان) (ع - ۱ - مٹ) (۱) طفل کی طرح۔ بچوں جیسی۔

طفلی - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) (۱) لڑکپن۔ بچپن کی عمر (۲) نادانی۔

طفولت - طفولیت۔ (ط - فو - لت) (ع - ۱ - مٹ) (۱) (ع - ۱ - مٹ) (۲) بچپن۔

طفیلی - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) ذریعہ۔ وسیلہ۔ بدولت۔ سبب۔

طفیلی طفیلیا - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) (۱) یا (۲) (۳) بن بلا یا پیمان

دوسروں کی بدولت گزارہ کرنے والا۔ پھلگو۔ دوسروں کے سر

سے کھانے والا۔

## ط - ل

طلا - (ط - لا) (ع - ۱ - مٹ) (۱) سونا۔ مٹی (۲) اصطلاح طب میں ایک خاص

روغن پوستی اور نامردی کو رفع کرنے کے لیے عضو پر ملتے ہیں (۳) لذت

طلابانی - (ع - ۱ - مٹ) جس کپڑے کی بنائی میں سونے کے تار شامل ہوں۔

طلا دوز - (ع - ۱ - مٹ) جس چیز پر طائی کام کیا گیا ہو۔ طلا کار۔

طلا ساز - (ع - ۱ - مٹ) سونا بنانے والا۔ کیا گر۔

طلا کار - (ع - ۱ - مٹ) (۱) وہ چیز جس پر سونے سے نقش و نگار

بنائے جائیں (۲) کیا گر (۳) مٹی ساز۔

طلاطم - (ع - ۱ - مٹ) دیکھنے تلاطم۔

طلا کاری - (ع - ۱ - مٹ) (۱) سونے کا کام بنانا (۲) سونے کے کام کا

پیشہ (۳) سونے کا کام۔

طلا کوب - (ع - ۱ - مٹ) (۱) سونے کے دق کوٹنے والا۔

طلاتے ناب - (ع - ۱ - مٹ) (۱) مٹی خالص سونا۔

طلاب - (ط - لب) (ع - ۱ - مٹ) (۱) طالب کی جمع (۲) طالب علم۔ مبتدی۔

طلاق - (ط - لاق) (ع - ۱ - مٹ) (۱) نکاح کا نسخ ہونا۔ عدت کا نکاح سے

آزاد ہونا (۲) آزادی (۳) روانی۔ کشادگی۔

طلاق بان - (ع - ۱ - مٹ) (۱) عدت کے دوران طلاق جس میں رجوع

ہو سکتا ہے۔

طلاق بدعت (ہدسی) - (ع - ۱ - مٹ) بے قاعدہ طلاق جو ایک ہی

طلبیدہ - (ن - صف) بلا یا ہوا۔

طلسم - (ط - رسم) (ع - ۱ - مذ) (۱) جادو - سحر (۲) جادو کا تماشا (۳) ڈراؤنی شکل یا منسوخی سانپ کی شکل جو ذہنوں پر بنائی جائے (۴) راز۔ (۵) جادو کے خطوط اور نقش (۶) وہ ملک جہاں جادوگر رہتے ہوں۔ (۷) جہان مستی کا تماشا (۸) وہ علم جو مہوم خیالات کو عجیب شکل کے ساتھ نظریں لائے۔ جمع: طلسمات۔

طلسم آمیز (افزا) - (ع - ن - صف) حیرت انگیز - عجیب۔  
طلسم باندھنا - (۱) محاورہ - عجیب و غریب بات کر کے دکھانا۔ انوکھی بات کرنا۔ جادو ستر کا شہدہ دکھانا۔

طلسم بند - (ن - ۱ - مذ) ستر اور جادو کے اثر میں مبتلا۔  
طلسم توڑنا - (۱) محاورہ (۲) نازا افشا کرنا۔ کسی کے فریب کو کھولنا (۳) جادو گر کا کام فسخ کرنا (۴) جادو کا اثر جادو کے زور سے دور کرنا۔ جادو کا اثر زائل کرنا۔

طلسم کشا - (ن - ۱ - مذ) وہ شخص جو طلسم کو فسخ کرے یا توڑے۔  
طلسم ماہ - (ع - ن - ۱ - مذ) زبان بندی کا صوبہ جو شرف ماہ میں لکھا جاتا ہے  
طلسمات - (ط - ل - س - مات) (ع - ۱ - صفت) طلسم کی جمع - حیرت میں ڈالنے والا منظر۔

طلسماتی - (ط - ل - س - مات) (ن - ۱ - صفت) جادو کا - آفت کا۔  
طلسمی - (ط - ل - س - می) (ن - ۱ - صفت) جادو کے متعلق - جادو کا۔  
طلعت - (طل - صفت) (ع - ۱ - صفت) (۱) چہرہ - رخ - شکل (۲) نکارہ - دیدار۔

طلعت زریبا - (ن - ۱ - صفت) خوبصورت شکل یا چہرہ۔  
طلوع - (ط - ل - ع - ۱ - مذ) (۱) سورج، چاند، ستارے کا نکلنا (۲) بلند ہونا۔  
طلوع صبح - (ع - ۱ - مذ) صبح ہونا۔  
طلیعیہ - (ط - ل - ع - ۱ - مذ) وہ لشکر جو فوج کے آگے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگاتا ہے۔ ہراول - سکاوٹ - شہر اور لشکر کی محافظت کرنے والی سپاہ۔

طلیق - (ع - صفت) ہنس کھنڈہ پیشانی (۲) قید سے رہائی پایا ہوا۔  
طلیق اللسان - (ع - صفت) فصیح - خوش بیان - خوش تقریر۔

## ط م

طباع - (ط - م - ع - ۱ - صفت) بہت لالچی - بڑا حرص۔  
طمانچہ - (ط - م - ل - ع - ۱ - مذ) قہر - پٹ - جو کسی کے گال پر لگائیں - تکیہ - روٹی بڑھانے کی تکیہ۔

طمانچہ بڑنا (جمانا) - (۱) محاورہ - قہر لگانا - پٹ مارنا۔  
طمانچے سے منہ لال رکھنا - (۱) مثل - فلسفے میں بھی خودداری قائم رکھنا (۲) صاحب عیزت ہونا۔

طمانچے سے منہ لال کرنا - (۱) محاورہ (۲) قہر مار کر سرخ کر دینا (۳) بناوٹ سے سرخروئی ظاہر کرنا۔

طمانیت - طمانیت - (اُڑ - ۱ - صفت) دل جمعی - اطمینان - تسلی۔

طمشت - (ع - ۱ - مذ) جھین کا خون۔

طمطراق - (ط - م - راق) (ن - ۱ - مذ) شان و شوکت - دھوم دھام - کزوفز۔  
طمطرب داب (۲) عزر - تجر -

طمطراقی - (ط - م - راقی) (ن - ۱ - صفت) شان اور تمہل۔

طمع - (ط - ع - ۱ - صفت) (۱) لالچ - حرص (۲) خواہش - چاہ۔

طمع خام - (ع - ن - ۱ - صفت) ایسی خواہش جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو۔

طبری نہ ہونے والی آرزو - تمنائے ناقص۔

طمع دُنیا - (مع - مرکب) مال و دولت کی حرص۔

طمع راستہ حرف است و ہر سستی - (ن - مثل) طمع کے تین حرف ہیں اور تینوں نقطوں سے خالی ہیں - لالچ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

طمع کار - (ع - ن - صفت) لالچی - حرص۔

طمع کا منہ کالا - (۱) مثل - لالچ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے۔

طمینجہ - (ط - م - ن - ۱ - مذ) (۱) چھوٹی بندوق - پستول (۲) (بازاری) فٹیز نیچی - کٹواری - دوشیرہ (۳) ویشا - کسی جو ابھی بیای نہ ہو۔

## ط - ن

طناب - (ط - ن - ۱ - صفت) (۱) نیچے کی رسی (۲) وہ رسی جس سے زمین پاتے ہیں (۳) بازی گردوں کا رسا (۴) رسی - ڈوری۔

طنابیں چھیننا - (۱) محاورہ (۲) نیچے کی رسی کو کھینچ کر باندھنا (۳) ڈوری یا فاصلے کو کم کرنا۔

طناز - (طن - ناز) (ع - ۱ - صفت) (۱) طنز کرنے والا (۲) ناز و انداز سے چلنے والا (۳) شوخ - بے باک - چالاک (۴) اشارے کنٹے میں بات کرنے والا۔

طنازی - (طن - نا - نری) (ع - ن - ۱ - صفت) (۱) شوخی - بے باکی - چالاک (۲) طنز - رمز - کنایہ۔

طنبور - طنبورہ - (طن - بؤر - ۱ - صفت) (۱) ایک قسم کا تار۔

تان پورہ - تنبورہ۔

طنبی - (طن - بی - ۱ - صفت) (۱) صفت) کھڑکی۔

طنز - (ع - ۱ - صفت) (۱) طعنہ - ہنسنا - آوازہ (۲) ٹٹھ - مسخر (۳) رمز کے ساتھ بات کرنا۔

طنز آمیز - وہ بات جو طعنے کے طور پر کہی جائے۔

طنز - (طن - ن - ۱ - صفت) (۱) طعنے سے (۲) اشارتاً - کنایتاً - رمزاً۔

طنزیہ - وہ بات جس میں طنز پائی جائے۔ جمع: طنزیات۔

طوطی - (طوطی) (ذت - ۱۰ مذوت) ایک خوش آواز چھوٹا پرند - طوطا۔  
 طوطی بولنا - (۱) عاودہ) شہرت ہونا (۲) رسوخ ہونا (۳) اچھی رائے  
 حاصل کرنا۔ اختیار یا رسوخ حاصل کرنا۔  
 طوطے اڑھانا - (۱) عاودہ) سخت گھبراہٹا۔ بدحاس ہوجانا۔  
 طوطے کی طرح آنکھیں بدل لینا - (۱) عاودہ) بے وفائی کرنا۔  
 بے پروائی کرنا۔

طوطے کی طرح پڑھنا - (۱) عاودہ) بے سوچے سمجھے پڑھنا۔  
 طوطیا - (طوط - یا) (ذ - ۱۰ مذ) (۱) نیلا تھوکتا (۲) تہمت - بہتان - الزام۔  
 طوطیا باندھنا - (۱) عاودہ) تہمت دھرنا۔ الزام لگانا۔ ٹھک لگانا۔  
 طوع - (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) رغبت - رضامندی (۲) دل کی خوشی - خوشنودی  
 خاطر (۳) اطاعت - فرمانبرداری۔

طوعاً - (طوع) (رضامندی سے۔ اپنی مرضی سے۔  
 طوعاً و کرہاً - چارونجاہ - جبراً - خواہ مخواہ۔

طوف - (ذ - ۱۰ مذ) (۱) طواف کرنا۔ گرد پھرنا۔

طوف (حرم) کعبہ - (ذ - ۱۰ صفت) حرم کے ارد گرد پھرنا۔ کعبے کا طواف  
 طوفان - (طوفان) (ذ - ۱۰ مذ) (۱) عرق کر دینے والی رود سیلاب۔ پانی کا پڑھنا  
 بارش (۲) آسمی تیز تند ہوا (۳) عظیم مصیبت - سانحہ عظیم (۴) شور غل (۵) بہتان  
 تہمت - الزام (۶) فساد بھگنا (۷) آفت (۸) تہمت - کراہم (۹) کا عظیم - بڑا بھاری کام  
 طوفان اٹھانا - (۱) عاودہ) (۲) بہتان لگانا۔ الزام دھرنا (۳) فساد پر پا  
 کرنا (۴) آفت مچانا۔

طوفان اشک - (ذ - ۱۰ مذ) (۱) آنسوؤں کا طوفان۔ بہت رونا بہت آنسو بہنا  
 طوفان اگلنا - (۱) عاودہ) طوفان پیدا کرنا کثرت کے ساتھ کوئی چیز پیدا کرنا۔  
 طوفان اُمتنا - (۱) عاودہ) طوفان زیادہ ہونا۔

طوفان باندھنا - (۱) عاودہ) (۲) تہمت لگانا۔ ہد نام کرنا (۳) مبالغہ  
 کرنا۔ بہت بڑھا کر کہنا۔

طوفان برہا کرنا - (۱) عاودہ) (۲) جھگڑا کرنا (۳) اٹھل چناڑھ مچانا۔

طوفان جوڑنا - (۱) عاودہ) (۲) بہتان لگانا (۳) الزام تراشنا۔

طوفان ڈھانا - (۱) عاودہ) غضب کرنا۔

طوفان رسیدہ - (ذ - ۱۰ صفت) طوفان سے تباہ شدہ۔

طوفان شیطان - (۱) تہمت اور بہتان - الزام (۲) فتنہ و فساد۔

طوفان شیطان اللہ بھگنا - (دش) (۱) شیطان تہمت اور بہتان سے  
 اٹھ جانے (۲) طوفان اور شیطان سے خدا محفوظ رکھے۔

طوفان کھرا کرنا - (۱) عاودہ) فساد اٹھانا۔ فتنہ برپا کرنا (۲) بہتان لگانا۔

طوفان میں آنا - (۱) عاودہ) کستی یا جہاز کا ہوا یا پانی کی طغیانی میں پھیننا۔  
 پانی کے تلاطم کے باعث ڈوب جانا۔

طوفان نوح - (ذ - ۱۰ مذ) پانی کا وہ سیلاب جو حضرت نوح کے زمانے میں آیا  
 تھا اور حضرت نوح کے ماننے والوں کے علاوہ باقی سب عزقاب ہو گئے تھے

طوفان ہونا - (۱) عاودہ) (۲) تند و تیز ہوا کا چلنا (۳) سخت شدید ہونا۔

طوفانی - (طوف - فانی) (ذ - ۱۰ صفت) (۱) طوفان سے منسوب - جھوٹا - شدید۔  
 فساد - فتنہ باز (۳) آفت - بلا - غضب - آفت کا پرکار۔

طنطنہ - (طن - ۱۰ مذ) (۱) غنبر اور برہم وغیرہ کی آواز۔ نثارہ  
 یا دامام کی آواز (۲) رعب - دیدہ (۳) کزوفز - شان و شوکت (۴)  
 غصہ - ہمزاجی - خزر - گھنڈ (۵) شور - غلغلہ۔  
 طنطنہ بلند ہونا - (۱) عاودہ) شور مچنا۔ غلغلہ بلند ہونا۔  
 طنطنہ دکھانا - (۱) عاودہ) (۲) حکومت دکھانا (۳) اترانا (۳) ڈرانا۔  
 دھمکانا (۴) کزوفز دکھانا۔

## ط - و

طواس - (ط - واس) (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) قلعین۔

طواسین - (ذ - ۱۰ مٹ) (۲) حسین بن منصور کی ایک کتاب  
 کے ابواب (۳) الاراح تعلیم۔

طواف - (طوف - واف) (ذ - ۱۰ مذ) (۱) کسی چیز کے گرد پھرنا (۲) کسی بزرگ  
 یا مقدس مقام کے گرد چکر لگانا (۳) گردش۔

طواف بیت اللہ - (ذ - ۱۰ مذ) کعبہ کا طواف۔

طواف کرنا - (۱) گرد پھرنا۔ کسی کے چاروں طرف گھومنا۔

طوالت - (ط - واکت) (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) طویل - لمبائی - درازی (۲)  
 زیادتی - افزونی (۳) دیر - تاخیر۔

طوالت پذیر - (ذ - ۱۰ صفت) طوالت بڑھنے والا - لمبا ہونے والا۔  
 طوالت - (ط - واکت) (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) ٹھکانے کی جمع - (۲) گروہ - قویں قبیلے  
 (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

طوالت الملوکی - (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) ایک پیل - بد نظمی - لانا نیت۔  
 طوبی - (طوب - یا) (ذ - ۱۰ مذ) (۱) بہشت کا ایک درخت (۲) نہایت خوشبودار  
 (۳) اچھا خوشگوار (۴) نفیس - جائز (۵) نہایت پاک (۶) خوشخبری۔

طوبی قامت - (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) طوبی جیسے قد والا (۲) خوش  
 قامت (کنایت) مشوق۔

طور - (ذ - ۱۰ مذ) (۱) حالت (۲) طرز - ڈھنگ - طرح - طریقہ (۳) ایک بار۔  
 (۴) حد (۵) بنیاد (۶) صرف (۷) قسم - نوح - جمع - اطور۔

طور بے طور ہونا - (۱) عاودہ) (۲) حالت خراب ہونا (۳) قریب لڑگ  
 ہونا (۴) گڑبڑ ہونا۔

طور طریق - (ذ - ۱۰ مذ) (۱) رنگ ڈھنگ - چال چلن - رویہ - برتاؤ۔

طور - (ذ - ۱۰ مذ) (۱) کوہ سینا - جزیرہ نمائے سینا میں ایک پہاڑیوں  
 حضرت موسیٰ پر تجلی الہی کا ظہور ہوا تھا۔

طوس - (ذ - ۱۰ مذ) ایک قسم کا نہایت ظالم اونٹنی کپڑا (۲) خراسان کا ایک شہر۔  
 طوسی - (طوس - سی) (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) طوس کا پہننے والا (۲) کچھوٹی یا بیگنی رنگ۔

طوطا - (ذ - ۱۰ مذ) ایک خوبصورت بہر بند پتھر لکھانے سے بولیاں بولتا ہے۔ قوتا۔  
 طوطا پیشم - (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) بے وفا - بے مروت - نا آشنا۔

طوطا پیشی - (ذ - ۱۰ مٹ) (۱) بے وفائی کرنا - بد لحاظ ہونا۔

طوطک - (طوطک - ذ) (ذ - ۱۰ مذ) (۱) طوطا (۲) مٹ [ العوزہ -

طویطے کی بلا بندر کے سمر - (۱) مثل (جب کئی آدمیوں کی آفت ایک کے سر پر پڑے (۲) قصور کسی کا سزا کوئی پائے۔

## ط

ظلمہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) قرآن مجید کی ایک سورت کا نام (۲) پیغمبر اسلام کا ایک اسم گرامی۔

ظہارت - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

ظہارت خانہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

ظہارت کرنا - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

ظہر - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

ظہران - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

ظہور - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

## طی

طے - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

انجام کو پہنچانا - ختم کرنا (۲) فیصلہ - بے باقی (۵) کوتاہ کرنا - مختصر کرنا۔

(۶) عرب کا ایک قبیلہ جس میں حاتم طائی پیدا ہوئے۔ عربی میں بشندید یا ہے۔ فارسی دالوں نے تخفیف یا تے استعمال کیا ہے۔

طے ارض - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طے کا روزہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طے کرنا - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

کرنا - بے باقی کرنا (۲) ختم کرنا (۵) حملے کو رفع و دفع کرنا۔

طے مراحل - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیارہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوفانی جہاز - وہ جہاز جو طوفان میں چنسا ہو۔

طوفانی دورہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق بڑھانا - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق زنجیر - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق غلامی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

غلاموں کے گھے میں ڈالا جاتا تھا۔

طوق غلامی گھے میں ڈالنا - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق لعنت بگردن اہلیس - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

گردن میں بڑے آدمی کو ہی بڑائی کا الزام لگتا ہے۔

طوق منت - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق اہل - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق بلند - طول البلد کہیں تمام کا فاصلہ جو نصف انہار کے خطوط سے معلوم کیا جائے۔

طوق پکڑنا - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق ویٹا - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

زیادہ برتا۔

طوق طویل - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق عمرہ - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق عمل - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق کھینچنا - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق مار - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق ڈھیر - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوق مار باغھنا - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طوقی - (ط۔ا۔) (۱) (۱) صفا - (۲) پاکیزگی (۳) وضو - (۴) استنجاء - (۵) آبدست (۳) مثل کرنا۔

طیف - (ع۔ ا۔ مذ) شیشے کا مستطیل ٹکڑا جو روشنی کی شعاعوں کو مختلف رنگوں میں ظاہر کرتا ہے۔  
 طیلساں - (ط۔ ل۔ ساں) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) چڑھی کا شملہ (۲) چادر جو عرب کندھوں پر ڈالتے ہیں۔  
 طین - (ع۔ ا۔ مٹ) مٹی۔  
 طینت - (طی۔ نت) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) مرشت۔ طبیعت (۲) عذر عادت (۳) خلقت۔ پیدائش (۴) اصل۔ خصلت۔  
 طیور - (ط۔ یور) (ع۔ ا۔ مذ) طیر کی جمع۔ پرندے۔ چڑیاں۔  
 طیوری - (ط۔ یور) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) چڑھیار (۲) طیور سے منسوب۔ پرندوں کا۔

طیبات - (طی۔ بے۔ بات) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) پاک خورتیں (۲) خوشیاں۔  
 طیبہ - (طے۔ بے) (ع۔ ا۔ مذ) مدینہ منورہ کا ایک نام۔  
 طیبہ - (طی۔ بے۔ بے) (ع۔ صغ) پاک۔ پوتر۔ مدینہ منورہ کو بھی کہتے ہیں۔  
 طیر - (ع۔ ا۔ مذ) پرند۔ چڑیا۔ پھیرو۔  
 طیران - (ع۔ ا۔ مٹ) اُڑان۔ پرواز۔  
 طیران گاہ - (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) ہوائی اڈہ۔ مقام پرواز۔  
 طیش - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) غصہ۔ غضب۔ جوش (۲) بے عقلی۔ سخت۔ سبکی۔  
 طیش دلانا - (ا۔ عاودہ) غصہ دلانا۔ بھڑکانا۔ برا فرود ختہ کرنا۔  
 طیش کھانا - (ا۔ عاودہ) غصہ برداشت کرنا۔ غصہ کرنا۔  
 طیش میں آنا - (ا۔ عاودہ) غصے میں آنا۔ جھنجھلانا۔ غضب ناک ہونا۔

## ظ

ظ (ظو۔ اے) (ر۔ ا۔ مٹ) اُردو کا تیسواں۔ فارسی کا بیسواں اور عربی کا سترہواں حرف۔ حساب الجد میں اس کے فوسد مدخضض کیے گئے ہیں۔ اس کو ظاہر، بحر یا ظالم منقوط بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کا مخصوص لفظ ہے۔ اس کی آواز کسی اور زبان میں نہیں۔ یہ شمسی حرف ہے۔

## ظ - ا - ظ

ظافر۔ (ر۔ صفت) ناخ۔

ظالم۔ (ظا۔ لم) (ر۔ صفت) (۱) مردم آزار۔ ظلم کرنے والا۔ (۲) جاہل۔ (۳) دل آزار۔ (۴) زبردست۔ (۵) جاہل۔ (۶) وحشی۔ (۷) شریر۔ (۸) شوخ۔ (۹) بے باک۔ (۱۰) سفاک۔ (۱۱) کنیہ مشوق۔

ظالم الظلم۔ (ر۔ صفت) بڑا ستانے والا۔

ظالم پھولنا پھیلتا نہیں۔ ظالم سرسبز نہیں ہوتا۔ (۱) منقولہ ظالم اولاد اور مراد سے بے نصیب رہتا ہے۔

ظالم خدا سے ڈرے۔ (۲) گومان۔ (۳) دہان بولا جاتا ہے جہاں کوئی بہت جھوٹ بولے یا کسی نے گناہ کو ستائے۔

ظالم کی بیل نہیں بڑھتی۔ (۱) ایش ظالم کی نسل میں اضافہ نہیں ہوتا۔

ظالم کی داد خدا کے گھر۔ (۱) شل) ستانے والے کو خدا سزا دیتا ہے۔

ظالم کی رستی ورازا ہے۔ (۱) شل) ظالم کو بہت بہت ملتی ہے کہ گناہ کر کے اپنے لیے جہنم کا ایندھن جمع کرے۔

ظالم مظلوم نما۔ (ر۔ ا۔ صفت) (۱) ظاہر میں نرم اور باطن میں سخت (۲) مشوق کی آنکھ۔

ظالموں کا بادشاہ۔ (۱) صفت) بڑا ستانے والا۔

ظالمانہ۔ (ظا۔ ل۔ ما۔ نہ) (ر۔ صفت) (۱) ظلم سے بھرا ہوا (۲) ظالم کے طریقے پر۔ ظالم کی طرح۔

ظالمی۔ (ظا۔ ل۔ می) (ر۔ صفت) (۱) ظلم سے تعلق رکھنے والی چیز۔ (۲) ظاہر۔ (۳) ظا۔ ہر) (ر۔ صفت) (۱) آشکار۔ عیاں۔ روشن۔ واضح۔ کھلا ہوا۔

(۲) باطن کا نقیض۔ جمع: ظواہر۔

ظاہر اچھا، باطن بُرا۔ (۱) شل) دیکھنے میں نیک مگر دل کا بد۔

ظاہر اللہ، باطن اللہ۔ (۱) شل) اللہ اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔

ظاہر اور باطن اور۔ (۱) محاورہ) زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور نفاق۔ قول و فعل کا اعتبار نہیں۔

ظاہر باطن ایک سا ہونا۔ (۱) محاورہ) دل اور زبان کا موافق ہونا۔

ظاہر بنائے رکھنا۔ (۱) محاورہ) اپنے ظاہر کو آراستہ رکھنا۔

ظاہر ہیں۔ ظاہر پرست۔ (ر۔ صفت) ظاہر دار۔ ظاہری حالت پر نظر رکھنے والا۔

ظاہر پر جاننا۔ (۱) محاورہ) ظاہری حالت دیکھ کر دھوکا کھانا۔

ظاہر پیر۔ (ر۔ ف۔ ا۔ مذ) خاکروہوں کا مرشد۔

ظاہر دار۔ (ر۔ ف۔ صفت) دکھا دے کا برتاؤ کرنے والا۔ منافق۔ مکار۔

ظاہر داری۔ (ر۔ ف۔ مٹ) دکھا دا۔ نمائش۔ تکلف۔

ظاہر داری برتنا۔ (۱) محاورہ) دکھا دے کی باتیں کرنا۔ تکلف سے پیش آنا۔

ظاہر رحمن کا۔ باطن شیطان کا۔ (۱) شل) اس شخص کے متعلق بولتے ہیں جس کا ظاہر اچھا اور باطن بُرا ہو۔

ظاہر ظہور۔ (ر۔ متعلق فعل) ظاہر طور سے۔ ظاہر میں کھلم کھلا۔ صاف صاف۔

ظاہر کرنا۔ (ر۔ صفت) (۱) ایش کرنا۔ (۲) عیب دکھانا۔ (۳) مشہور کرنا۔ (۴) تشہیر کرنا۔ وضاحت کرنا۔

ظاہر کا نرم باطن کا سخت۔ (۱) شل) دیکھنے میں دل موم ہے۔ مگر تنگ دل ہے۔

ظاہر کی آنکھیں اور ہیں، باطن کی آنکھیں اور۔ (۱) شل) دل کی سوجھ بوجھ ان آنکھوں سے جدا ہے۔

ظاہر میں۔ (۱) تابع فعل) ظاہرہ۔ کھلے طور پر۔

ظاہر و باطن۔ (ر۔ ا۔ مذ) حقیقی کردار اور اس کا مظاہرہ اصل حقیقت اور ظاہری صورت۔

ظاہر ہونا۔ (۱) محاورہ) کھلنا۔ افشا ہونا۔ نمودار ہونا۔ مشہور ہونا۔

ظاہر سے۔ (۱) محاورہ) یہ بات پرشیدہ نہیں ہے سب جانتے ہیں۔

ظاہر اظہار۔ (ظا۔ ہ۔ را) (ظا۔ ہ۔ رن) (ر۔ صفت) (۱) ظاہر دیکھنے میں۔ جہاں تک خیال کریں۔

ظاہر ہی۔ (ظا۔ ہ۔ ری) (ر۔ صفت) (۱) دکھا دے کا (۲) بدیہی، کھلا ہوا۔

## ظ - ا - ظ

ظرافت۔ (ظ۔ را۔ فنت) (ر۔ ا۔ مٹ) (۱) خوش طبعی۔ دل لگی۔ مذاق بخشنے کا فن۔

ظرافت آمیز۔ (ر۔ ف۔ صفت) ظرافت ملی ہوئی۔ دل لگی کی بات،

ظرافت پسند۔ (ر۔ ف۔ صفت) دل لگی پسند کرنے والا۔

ظرافت کا پیلا۔ (۱) صفت) بڑا ظریف،

ظرافت کا پہلو۔ (۱) مذ) دل لگی کا انداز۔

ظرافت کی پوٹ۔ (۱) مٹ) بہت ظریف۔ مسخرا۔

ظرافتاً۔ (ظ۔ را۔ فنت) (ر۔ صفت) (۱) تابع فعل) ہنسی سے۔ مزاح سے۔ دل لگی سے۔

ظرف - (ع - ا - مذ) دانائی - زیرک (م) برتن - بھانڈا - ٹانڈی (س) صرف و  
 نحو میں وہ اسم ذات جو جگہ یا وقت کے معنوں پر دلالت کرے (م)  
 موصولہ - سہانی - جمع : ظُروف -  
 ظرف آفتاب - (ع - ف - ا - مذ) شراب کا پیالہ - گلاس -  
 ظرف پیدا کرنا - (ا - محاورہ) موصولہ پیدا کرنا -  
 ظرف دیکھنا - (ا - محاورہ) موصولہ دیکھنا -  
 ظرف زمان - (ع - ا - مذ) صرف و نحو میں وہ اسم جس میں زمانہ یا وقت  
 پایا جائے - جیسے صبح و شام -  
 ظرف عالی ہونا - (ا - محاورہ) بڑا موصول ہونا -  
 ظرف لبریز ہونا - (ا - محاورہ) مگر آخر ہونا -  
 ظرف مکان - (ع - ا - مذ) وہ اسم جس میں مکانت پائی جائے - اسم  
 مکان جیسے یہاں و وہاں -  
 ظُروف - (ظ - روف) (ع - ا - مذ) ظرف کی جمع - برتن -  
 ظریف - (ظ - ریف) (ع - ا - مذ) صفت [ لطیف نگ - بذلہ سنج - خوش طبع -  
 ظریف طبع (مزاج) - (ع - صفت) جس کے مزاج میں ظرافت کا  
 مادہ زیادہ ہو -  
 ظریفانہ - (ظ - ری - نانہ) (ف - صفت) (ا) ظرافت کا (ب) ظریف کی طرح -

## ظ - ف

ظفر - (ظ - ف) (ع - ا - مذ) (ا) فتح مندی - نصرت - فتح - جیت (ب)  
 کشائش - خوش نشیبی - کامیابی -  
 ظفر آیات (آیہ - اثر - پیکر - موج) - (ع - ف - صفت) جو اکثر فتح  
 پاتا ہے -  
 ظفر پانا - (مص - مرکب) کامیابی حاصل کرنا - فتح پانا -  
 ظفر تکیہ - (ع - ف - ا - مذ) فقہروں کی سہارا لینے کی عملی (ب) لوسہ کی ڈکڑ  
 سلاخ (س) خنجر - لمبی اور پتلی چھری -  
 ظفر جنگ - (ع - ف - ا - مذ) ایک فوجی خطاب -  
 ظفر قرین - (ع - ف - صفت) جس کے حملے کے ساتھ فتح قریب ہو -  
 ظفر مراد - ظفر موج - ظفر نشان - ظفر نصیب - ظفر یاب - (ع -  
 ف - صفت) فاج - فتح مند -  
 ظفر یابی - (ع - ف - ا - مذ) فتح پانا -  
 ظفرہ - (ع - ا - مذ) آنکھ کی ایک بیماری - ناخونہ -

## ظ - ل

ظلل - (ع - ا - مذ) سایہ - چھاؤں - پناہ - سورج کو چھٹا لینے والا -  
 ظلل اللہ (الہی) - (ع - ا - مذ) (ا) خدا کا سایہ (ب) تائب خدا (س) بادشاہ -

ظلل حمایت - (ع - ا - مذ) حمایت کی پناہ -  
 ظلل ظلیل - (ع - ا - مذ) گھنسا سایہ - ہمیشہ رہنے والا سایہ -  
 ظلل عنایت - (ع - ا - مذ) ہیرانی کی پناہ -  
 ظلل گستر - (ع - صفت) سایہ دینے والا - پناہ دینے والا - حامی -  
 ظلل ہما - (ع - ا - مذ) ہما کا سایہ - کہتے ہیں جس پر ہما کا سایہ پڑے  
 وہ بادشاہ بن جاتا ہے -  
 ظلام - (ع - ا - مذ) رات کی تاریکی - اندھیرا -  
 ظلام - (ع - ا - مذ) بہت بڑا عالم - بڑا بے انصاف -  
 ظلمت - (اُس (مرد) کا سایہ -  
 ظلمت - (اُس (عورت) کا سایہ -  
 ظلمت - (اُن مردوں کا سایہ -  
 ظلم - (ع - ا - مذ) اندھیرا - تاریکی -  
 ظلم - (ع - ا - مذ) (ا) اندھیرا (ب) ستم - بے انصافی - بے رحمی (س) پاپ -  
 ظلم زبردستی - زور - زیادتی -  
 ظلم اٹھانا - (ا - محاورہ) ظلم سہنا - زیادتی برداشت کرنا -  
 ظلم پرور - (ع - ف - صفت) ظلم کو رونق دینے والا -  
 ظلم پیشہ - (ع - ف - صفت) جو ظلم کا عادی ہو -  
 ظلم توڑنا - (ا - محاورہ) سختی کرنا - آفت ڈھانا -  
 ظلم کو دوست - (ع - ف - صفت) ستم پیشہ - ظلم کو پسند کرنے والا -  
 ظلم ڈھانا - (ا - محاورہ) ستم کرنا - سخت ہونا (ب) کوئی عجیب کام کرنا -  
 اڑکھا کام کرنا -  
 ظلم رسیدہ - (ع - ف - صفت) مظلوم - وہ شخص جس پر جبر ہوا ہو -  
 ظلم سے - (ا - محاورہ) (ا) اندھیرے (ب) غضب ہے -  
 ظلمات - (ظلل - مات) (ع - ا - مذ) ظلمت کی جمع - (ا) تاریکیاں (ب) اندھیرے  
 پاناں - وہ تاریکی جس میں آب حیات کا چشمہ خیال کیا گیا ہے (ب)  
 بحر اقیانوس (اُردو میں مفرد مستعمل ہے) -  
 ظلماتی - (ظ - ل - مات) (ع - ا - مذ) (ب) حوصات شفاف نہ ہو (ب) تاریکی -  
 ظلمت - (ظ - ل - مت) (ع - ا - مذ) تاریکی - اندھیرا - سیاہی - جمع : ظلمات -  
 ظلمت خانہ (کدہ) - (ع - ف - ا - مذ) تاریک مقام - ڈونیا -  
 ظلمت شب - (ع - ف - ا - مذ) (ب) رات کی تاریکی -  
 ظلمت کا درس پھیلانا - (ا - محاورہ) اندھیرا پھیلانا - سب طرف  
 اندھیرا ہونا -  
 ظلمت کفر - (ع - ا - مذ) کفر کا اندھیرا (ب) کفر کا ظلمت سے استعارہ کرتے ہیں  
 ظلمی - (ظلل - ی) (ا) (ب) (ع - ا - مذ) ظلم - ستم - شمار - بے رحم - سنگ دل - سخت - مجاہد  
 ظلموم - (ظ - لوم) (ع - صفت) نہایت ظالم -  
 ظلم و جہول - (ع - صفت) سخت ظالم اور جاہل کنایتہ انسان -  
 ظلی نبی - (ع - ا - مذ) وہ نبی جو خود صاحب شریعت نہ ہو بلکہ کسی دوسرے  
 نبی کی شریعت کا تابع ہو (اسلام میں ایسا کوئی قصور نہیں) -

## ظ - ن

ظن - (ع-ا- مذ) (۱) دہم - گمان - شبہ - خیال (۲) تہمت - ہمتان (۳)  
 بدگمانی - بدظنی -  
 ظن المؤمنین خیر - (ع- مثل) ایمان والوں کا گمان نیک ہوتا ہے -  
 ظن باطل - (ع-ا- مذ) بے اصل گمان -  
 ظن غالب - (ع-ا- مذ) یقین - غالب رائے - قوی گمان -  
 ظن فاسد - (ع-ا- مذ) گمان بد - شک و شبہ - بدظنی -  
 ظنات  
 ظنی - (ظن - نئی) (ع- صفت) (۱) خیالی - قیسی - فاسمی (۲) عقل کے قریب جمع  
 ظنیہ - (ظن - نئی - یز) (ع- صفت) (۱) ظن سے منسوب - گمانی (۲) وہ عقائد  
 جو قریب بریقین ہو -

## ظ - و

ظواہر - (ظ-وا- ہر) (ع-ا- مذ) (۱) زمین کی بلندیاں (۲) زمین سے  
 اُگی ہوئی چیزیں - نباتات (۳) ظاہری شکلیں (۴) مکہ کے باہر شہر زن  
 ہونے والے قریش (۵) رسی باتوں کو اہمیت دینے والے -

## ظ - ہ

ظہار - (ظ-ہار) (ع-ا- مذ) (۱) ایک قسم کی طلاق - فقہ کی اصطلاح میں  
 مرد کا اپنی بیوی کو مال یا بہن یا ان عورتوں سے تشبیہ دینا جو ستر عا  
 اس پر حرام ہیں (۲) ہم پشت ہونا -  
 ظہر - (ع-ا- مذ) (۱) زوال کا وقت - تیسرا پہر - تیسرے پہر کی نماز (نماز  
 کے معنی میں مؤنث ہے) -  
 ظہر - (ع-ا- صفت) پیٹھ - پشت -  
 ظہرانہ - (ع-ا- ف-ا- مذ) دو پہر کا کھانا (انگ) (Lunch)  
 ظہر متک - ظہر سمن - (ع-ا- ف-ا- مذ) متک کی پشت پر سمن کی پشت پر  
 ظہری - (ظہ-ری) (ع- صفت) پشت پر رکھا ہوا - پشت کا -  
 ظہری تحریر - وہ تحریر جو سمن، دارنظ و غیرہ کی پشت پر لکھی جائے -  
 ظہور - (ظ-ہور) (ع-ا- مذ) انکشاف - اظہار - وقوع - اعلان -  
 ظہور بنائے دعویٰ - (ع-ا- مذ) عصمت یا بھگڑے کی وجہ پیدا ہونا -  
 ظہور میں آنا - (ع-ا- محاورہ) ظاہر ہونا - پیش آنا - طلوع ہونا -  
 ظہور میں لانا - (ع-ا- محاورہ) ظاہر کرنا - پیش کرنا - آشکارا کرنا -  
 ظہور - (ظ-ہور) (ری) (ا-ر-ا- مذ) (۱) ظہور - نمود - نمائش - جلوہ (۲) ٹھاٹھ -  
 رونق (۳) بیٹا - اولاد -  
 ظہیر - (ظ-ہیر) (ع- صفت) (۱) مددگار (۲) حمایتی - دوست -



## ع

(یعنی) (ح۔ ۱۔ مذ) اردو کا چوبیسواں۔ فارسی کا اکیسواں اور عربی کا اٹھارواں حرف۔ حساب ابجد میں اس کے ۴۰ عدد فرض کیے گئے ہیں (۲) دکوہ قرآن کا اشارہ (۳) مصرعہ کی علامت (۴) علیہ السلام کا مخفف (۵) یہ قری حرف ہے اگر اس کے پہلے "ال" آئے گا تو "لام" پڑھا جائے گا جیسے "العمر"۔ شاعری میں مصرعہ کی علامت ہے۔

## ع — ۱

عابد۔ (عابد) (ح۔ ۱۔ صفت) عبادت کرنے والا۔ پجاری۔ پرہیزگار۔ متقی۔  
 عاج۔ (ع۔ ۱۔ مذ) عاجی دانست۔  
 عاجز۔ (عاجز) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) کمزور۔ بے بس۔ مجبور۔ لاچار (۲) منسوب۔  
 (۳) شکاماندہ (۴) یائوس۔ ناامید (۵) عزیز۔ مسکین۔  
 عاجز آنا۔ (۱) محاورہ تنگ آنا۔ پریشان ہونا۔ یائوس ہونا۔  
 عاجز اندہ۔ (عاجز۔ زانہ) (۱) تابع فعل [عاجزی سے۔ انکاری سے۔  
 عاجزی۔ (عاجز۔ زبی) (۱) (۱) مسٹ [عجز۔ انکار۔ منت۔ سماجت۔  
 عاجزی خدا کو بھی پسند ہے۔ (۱) مقولہ [عجز و انکار خدا کو بھی پسند ہے۔  
 عاجزی کرنا۔ (۱) محاورہ) منت سماجت کرنا۔ بگڑا بڑانا۔ ہاتھ جوڑنا۔  
 عاجل۔ (عاجل) (ح۔ ۱۔ صفت) جلد باز۔  
 عاجلہ۔ (ع۔ ۱۔ صفت) فوری۔ فوراً (۲) گناہتہ یہ جہاں۔  
 عاد۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ عدد جو ایک معلوم عدد کو پورا تقسیم کر دے (۲) ایک  
 قوم جس کے پیغمبر حضرت ہود تھے۔  
 عاد اعظم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ بڑے سے بڑا عدد جو دو یا دوسے زیادہ اعداد  
 کو پورا پورا تقسیم کر دے۔  
 عادات۔ (عادات) (ح۔ ۱۔ صفت) عادت کی جمع۔ خصلت۔ طبیعت۔  
 عادت۔ (عادت) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) عادت۔ خصلت۔ سجاؤ (۲) طبیعت۔ عادت  
 (۳) طور طریقہ۔ چال چلن (۴) دستور۔ قاعدہ۔ رسم (۵) طلب کسی چیز کی عادت  
 عادت پڑنا۔ (۱) محاورہ) سجاؤ پڑنا۔ عادی ہونا۔ ڈھب پڑنا۔  
 عادت ڈالنا۔ (۱) محاورہ) کسی بات کا ٹوکر ہونا۔ بڑے کام کا عادی ہونا۔  
 عادت طبیعت (فطرت) قائم ہے۔ (۱) مقولہ [پختہ عادت  
 فطرت یا طبیعت بن جاتی ہے۔  
 عادت مستحکمہ۔ (ح۔ ۱۔ صفت) ہمیشہ کا معمول۔  
 عادل۔ (عادل) (ح۔ ۱۔ صفت) انصاف کرنے والا۔ جس کی گواہی  
 شرعاً مستحکم ہو۔  
 عادل الرحمن۔ (عادل۔ رح۔ ۱۔ مذ) وہ شخص جس کے پاس دین نامہ رکھ دیا جائے۔  
 عادلانہ۔ (عادل۔ متعلق فعل) انصاف سے۔ انصافاً۔  
 عادی۔ (عادل۔ صفت) ٹوکر۔ وہ شخص جسے کسی امر کی عادت پڑ گئی ہو۔  
 عاد۔ (عادل۔ صفت) (۱) غیرت۔ شرم۔ لاج (۲) برائی۔ عیب۔

عار آنا۔ (۱) محاورہ) شرم آنا۔  
 عار سمجھنا۔ (۱) محاورہ) عیب خیال کرنا۔ بڑا سمجھنا۔  
 عار کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) غیرت کرنا۔ شرم کرنا (۲) عیب سمجھنا۔  
 عار ہونا۔ (۱) محاورہ) شرم ہونا۔ عیب ہونا۔  
 عارح۔ (عادل۔ صفت) پڑھنے والا۔  
 عارض۔ (عارض) (ح۔ ۱۔ مذ) (۱) رخسارہ۔ گال۔ گونج (۲) فوج کی موجودات  
 لینے والا۔ فوج کا میر منشی (۳) صفت [لاحق ہونے والا۔ پیش آنے والا۔  
 عارض ہو کر۔ (عادل۔ صفت) حور کا گال۔ بدن کے کسی خوبصورت حصے کی  
 صفائی کو عارض حور سے استعارہ کرتے ہیں۔  
 عارض سیمیں۔ (عادل۔ صفت) چاندی جیسا گال۔ نہایت خوبصورت  
 اور گورا چہرہ۔  
 عارض ہونا۔ (۱) محاورہ) لاحق ہونا۔ پیدا ہونا۔ نمودار ہونا۔  
 عارضہ۔ (عارضہ) (ح۔ ۱۔ مذ) مرض۔ دکھ۔ بیماری۔ جمع عوارض۔  
 عارضہ لاحق ہونا۔ (۱) محاورہ) بیماری لگنا۔  
 عارضی۔ (عارضی) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) تھوڑی مدت کے لیے۔ وہ شے جو مستقل  
 نہ ہو۔ (۲) اتنا قیہ۔ وقتی۔ ہنگامی (۳) نقلی۔  
 عارف۔ (عارف) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) پہچاننے والا (۲) خدا شناس۔ ولی۔  
 عارفانہ۔ (عارفانہ) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) فاعل فعل [عارف سے منسوب۔ متعلقانہ  
 عارف کی طرح۔  
 عاری۔ (عادل۔ صفت) (۱) ننگا۔ خالی۔ برہنہ (۲) تنگ۔ قاصر۔ عاجز۔ مجبور۔  
 عاری آجانا۔ عاری ہوجانا۔ عاری ہونا۔ (۱) محاورہ) عاجز آجانا۔  
 تنگ آجانا۔ تنگ جانا۔  
 عاریت۔ (عاریت) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) قرض۔ اُدھار۔ چند روز کے  
 لیے مانگی ہوئی چیز۔ (اردو میں بلا تشدید استعمال ہے)۔  
 عاریت مسرا۔ (عاریت۔ مسرا) (ح۔ ۱۔ صفت) دنیا۔  
 عاریت نامہ۔ (عاریت۔ ف۔ ۱۔ مذ) اقرار نامہ جو کسی چیز کے لوٹانے  
 کے لیے لکھ دیا جائے۔  
 عاریتاً۔ (عاریتاً) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) قرض کے طور پر۔ مانگ کر۔  
 عارض۔ (عارض) (ح۔ ۱۔ صفت) تصد کرنے والا۔ ادا کرنے والا۔  
 عارضی۔ (عارضی) (ح۔ ۱۔ صفت) (۱) چاہنے والا۔ محبت کرنے والا۔ طالب۔  
 فریفتہ۔ پسند کرنے والا (۲) عارف۔ کامل (۳) بے فکر۔ بے پروا۔ غافل۔  
 مدد بخش (۴) وہ بڑھ بھگتندی کی طرح لگے میں ڈالا جاتا ہے۔ جمع عارضی۔

عاشق صادق - (ف - ۱ - مذ) سچا عاشق جس کی محبت خود غرضی سے پاک ہو  
 عاشق مزاج - (ع - ف - ۱ - مذ) حسن پرست (۲) دل لگی کرنے والا -  
 عاشق مولیٰ - (ع - ۱ - مذ) خدا کا طالب - خدا کا عاشق -  
 عاشق و معشوق - (۱ - محاورہ) (۱) یاد آشنا - پریمی (۲) پکے یار - گہرے یار  
 (۳) لازم و ملزوم (۴) علت اور گھنڈی (۵) فاعل و مفعول -  
 عاشق ہونا - (۱ - محاورہ) کسی پر فریفتہ ہونا - کسی سے محبت ہونا -  
 عاشقانہ - (ع - یش - تا - مذ) ذرا بے فعل عاشقوں کا سا - عاشقوں کی طرح -  
 عاشقی - (ع - یش - تی - ف) (۱ - مش) عشق و محبت - فریبگی -  
 عاشقی غالبہ جی کا گھر نہیں - (۱ - مثل) عاشق بہت مشکل ہے -  
 عاشور - عاشورا - عاشورہ - (ع - شورا - عاشورہ) (۱) عا - شو - رہ - (ع - ۱ - مذ) محرم کی دسویں تاریخ - امام حسینؑ کے شہید ہونے کا دن -  
 عاصم - (ع - صف) بچا ہوا - باصمیت - محفوظ (۲) بچانے والا - نگاہ رکھنے والا - باز رکھنے والا -  
 عاصمی - (ع - صف) نافرمان - گنہگار - مجرم - تفسیر وار -  
 عاظر - (ع - ط) (ع - صف) (۱) خوشبودار - مطہر (۲) فیاض - بے غواہ (۳) پاکیزہ - نفیس - خاطر کے ساتھ بطور تاج استعمال ہوتا ہے -  
 عاظف - (ع - صف) گھٹنے والا - شقیق - بہر بان -  
 عاظفت - (ع - ط - فت) (ع - ۱ - مش) مہربانی - لطف - عنایت - شفقت -  
 عاظفہ - (ع - ط - مذ) (ع - صف) عاظف کی تائیسف جیکل ہوئی - طلائے والی -  
 عاقبت - (ع - فی - بیت) (ع - ۱ - مش) (۱) صحت - سلامتی (۲) امن - آسواگی (۳) نیکی - جھلائی - خیریت -  
 عاقبت اندیش - (ع - ف - صف) نیر اندیش - جھلائی چاہنے والا -  
 عاقبت تلک کرنا - (۱ - محاورہ) چین سے نہ بیٹھنے دینا - آرام نہ لینے دینا  
 عاقبت سوز - (ع - ف - صف) امن و سکون بر باد کرنے والا -  
 عاق - (ع - صف) مال باپ کا نافرمان - باغی - سرکش -  
 عاق کرنا - (۱ - محاورہ) اولاد کو نافرمانی کے باعث حقوق فرزندگی سے محروم کرنا - چھوڑ دینا -  
 عاق نامہ - (ع - ف - ۱ - مذ) فرزندگی سے اولاد کو محروم کرنے کی دستاویز  
 عاقبت - (ع - ق - بت) (ع - ۱ - مش) (۱) آخر انجام - خاتمہ (۲) نتیجہ - ثمرہ حاصل (۳) آخرت - یعنی (۴) آخر کار - جمع - عواقب -  
 عاقبت الامر - (ع - متعلق فعل) آخر کار -  
 عاقبت اندیش - (ع - ف - صف) دور اندیش - انجام سوچنے والا - جویشار عاقل  
 عاقبت بخیر ہونا - (۱ - محاورہ) انجام اچھا ہونا -  
 عاقبت بگاڑنا - (۱ - محاورہ) (۱) انجام خراب کرنا - آخرت خراب کرنا -  
 مال باپ کی نافرمانی سے گنہگار بننا -  
 عاقبت ہیں - (ع - ف - صف) انجام پر نظر رکھنے والا - جویشار -  
 عاقبت خراب کرنا - عاقبت گندی کرنا - (۱ - محاورہ) عاقبت پھاڑنا - بُرے کام کرنا -  
 عاقبت کا گوشہ - (ع - ۱ - مذ) دوسری دنیا کا ہسار - نیک اعمال - نیک کام -  
 عاقبت کے پورے سمیٹنا - (۱ - محاورہ) مدت تک سمیٹنا - جو شخص باوجود

بڑھاپے کرنے سے وہم کرے اس کی نسبت طرز آکھتے ہیں -  
 عاقبت گرگ زادہ گرگ شود (ف - مثل) بد اصل کی کتنی ہی  
 گرچہ با آدمی بزرگ شود تربیت کی جائے اس کا اصلا  
 نہیں بدلتا -  
 عاقبت میں کام آنا - (۱ - محاورہ) قیامت کے دن گنہگاروں کی معافی دینا  
 عاقر (عاقرہ) - (ع - صف) بچہ جس کے اولاد نہ ہوتی ہو -  
 عاقر قرحا - (ع - قر - قرحا) (ع - ۱ - مذ) ایک دوا جو دانتوں کے درد کے کام  
 آتی ہے - عقر قرحا -  
 عاقل - (ع - صف) دانا - جویشار - دانش مند -  
 عاقل را اشارہ کافی سمت - (ف - مقولہ) عملد اشارے سے ہی  
 بات کو پاجاتا ہے -  
 عاقلہ - (ع - ۱ - مش) عقلمند عورت -  
 عاکف - (ع - صف) گوشہ نشین - مسجد میں ایک گوشے کے اندر عبادت  
 کے لیے بیٹھنے والا - اعتکاف کرنے والا - معتکف -  
 عالم - (ع - صف) (۱ - مذ) دانا - جانتے والا - بیت پڑھا کھا - مولیٰ -  
 عالم الغیب - (ع - ۱ - مذ) غیب کا حال جاننے والا - خدا تعالیٰ -  
 عالم با عمل - (ع - ۱ - صف) وہ عالم جس نے پڑھ کر اُمس پر عمل ہی کیا ہو -  
 عالم - (ع - ۱ - مذ) (۱) زمانہ - دنیا - جہان (۲) دنیا کے لوگ - مخلوق (۳) قسم -  
 جنس (۴) حالت - صورت - درجہ (۵) طریقہ - ڈھنگ - چال (۶) لطف  
 مزہ (۷) حسن - رونق (۸) مانند -  
 عالم آرا - (ع - ف - صف) دنیا کو آراستہ کرنے والا جہاں آرا دیکھتی آرا د -  
 عالم آخرت - (ع - ۱ - مذ) اگلا جہان - آخرت - یعنی -  
 عالم ارواح - (ع - ف - ۱ - مذ) (۱) روحوں کا جہان - وہ جگہ جہاں روحیں  
 رہتی ہوں -  
 عالم اسباب - (ع - ف - ۱ - مذ) جہاں ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے - دُنیا  
 عالم آفرین - (ع - ف - صف) جہاں کو روشن کرنے والا -  
 عالم الامر - (ع - ۱ - مذ) (۱) عالم ملائکہ - عالم ارواح - فرشتوں یا روحوں کا جہان  
 (۲) وہ چیزیں جن میں قول اور اندازہ کو دخل نہ ہو -  
 عالم بالا - (ع - ف - ۱ - مذ) (۱) آسمان - عرض (۲) پشت کے عالی درجہ  
 لوگوں کے رہنے کی جگہ -  
 عالم بدل جانا - (۱ - محاورہ) انقلاب عظیم ہو جانا -  
 عالم برزخ - (ع - ۱ - مذ) مقام ارواح جو موت اور قیامت کے درمیان ہے  
 عالم بیداری - (ع - ف - ۱ - مذ) جگنے کی حالت میں -  
 عالم پناہ - وہ شخص جو مخلوق کے امن کا سبب ہو - بادشاہ -  
 عالم پھر جانا - (۱ - محاورہ) زمانہ پھر جانا - لوگوں کا ناراض ہو جانا -  
 عالم شباب - (ع - ف - صف) دنیا کو روشن کرنے والا - سورج -  
 عالم تصور - (ع - ف - ۱ - مذ) غور و فکر کی حالت - خیال کی دُنیا - سکوت  
 اور حیرت کی حالت -  
 عالم جاوید - (ع - ۱ - مذ) عالم آخرت - دوسری دُنیا جو بے زوال ہے -  
 عالم جزوت - (ع - ۱ - مذ) فرشتوں کی دُنیا - وہ مقام جوشتاروں سے اہر ہے -

عالم خواب - (ع - ف - ا - مذ) خواب کی حالت - وہ دنیا جوستے میں نظر آئے  
 عالم دکھانا - (ا - محاورہ) بہار دکھانا -  
 عالم دگر گول ہونا - (ا - محاورہ) عجیب کیفیت ہونا -  
 عالم دیگر ہونا - (ا - محاورہ) حالت اور ہونا -  
 عالم ذوق - (ع - ا - مذ) خوشی کی حالت -  
 عالم لرؤ یا - (ع - ا - مذ) خواب کی حالت -  
 عالم شباب - (ع - ف - ا - مذ) جوانی کا زمانہ -  
 عالم شہود - (ع - ا - مذ) وہ عالم جس میں سب کچھ نظر آئے (۲) تقوت میں  
 وہ حالت جس میں ہر چیز کے اندر خدا کا جلوہ نظر آئے -  
 عالم صغریٰ (صغیر) - (ع - ا - مذ) دنیا (۲) آدمی کا جسم -  
 عالم سفلی - (ع - ا - مذ) دنیا - زمین -  
 عالم عالم - (ع - متعلق فعل) حرکت سے -  
 عالم علوی - (ع - ا - مذ) آسمانی دنیا - عالم بالا -  
 عالم غیب - (ع - ا - مذ) دوسرا جہان جو چھپا ہوا ہے -  
 عالم فانی - (ع - ا - مذ) دنیا -  
 عالم قدس - (ع - ا - مذ) بیشت -  
 عالم کون و فساد - (ع - ا - مذ) دنیا -  
 عالم گیر - (ف - صفت) (۱) جہاں کو زیر کرنے والا (۲) دنیا میں پھیلا ہوا -  
 عالم پر چھپایا ہوا - تمام دنیا کا (۳) بادشاہ -  
 عالم لاہوت - (ع - ا - مذ) ذات الہی کا مقام جہاں ساکھ کو فنا فی اللہ  
 حاصل ہوتا ہے -  
 عالم مثال - (ع - ا - مذ) اس دنیا سے زیادہ لطیف دنیا جس میں یہاں کی تمام  
 چیزوں کا نمونہ یا اصل موجود ہے (۲) خیالی دنیا - خواب -  
 عالم معنی - (ع - ا - مذ) وہ دنیا جو محسوس نہ ہو سکے - خدا کی ذات و صفات -  
 عالم ملکوت - (ع - ا - مذ) فرشتوں کی دنیا -  
 عالم ناسوت - (ع - ا - مذ) فانی دنیا -  
 عالم نباتات - (ع - ا - مذ) نباتات کی دنیا -  
 عالم نزالا ہونا - (ا - محاورہ) انداز مختلف ہونا - طریقے جدا ہونا - بدلی ہوئی حالت  
 عالم وجد طاری ہونا - (ا - محاورہ) بے خودی کی حالت ہونا -  
 عالم وجود - (ع - ا - مذ) زندگی کا عالم - عالم ہستی -  
 عالم جو - (ع - ف - ا - مذ) خاموشی کی حالت - سکوت -  
 عالم یاس - (ع - ف - ا - مذ) یلوسی اور نا اُمیدی کی حالت -  
 عالمی - (ع - ا - مذ) (ی) (ف) (صفت) دنیا کا - دنیاوی - دنیا کا رہنے والا -  
 عالمیساں - (ع - ا - مذ) (ی) (یاں) (ع - ا - مذ) عالمی کی جمع - انسان - لوگ -  
 عالمین - (ع - ا - مذ) (ین) (ع - ا - مذ) عالم کی جمع - بہت سے جہاں -  
 عالمی - (ع - صفت) (۱) اُدنیجا - بلند (۲) بڑا - عظیم (۳) صدر - مقدس - قابل تعظیم -  
 عالی جاہ (جناب) - (ع - ف - صفت) بڑے رُتبے والا - بلند شان  
 والا - بلند پایہ -  
 عالی خاندان - (ع - صفت) بڑے گھر کا - امیر زادہ - اچھے خاندان کا -  
 عالی دماغ - (ع - صفت) بڑے دماغ والا - مصلحند - دانہ -

عالی رتبہ - عالی قدر - (ع - صفت) بڑے مرتبے والا - والا شان -  
 عالی شان - (ع - صفت) اعلیٰ رتبے کا - بڑی شان والا (۲) عمدہ - شان دار  
 عالی ظرف - (ع - صفت) بڑے حوصلے کا - بڑے مہر و تحمل کا -  
 عالی وقار - (ع - صفت) بڑے جاہ و جلال والا -  
 عالی ہمت - (۱) بڑی ہمت والا - اولوالعزم - صاحبِ حوصلہ - سخی -  
 قیامین - دل والا - بہادر -  
 عالی ہمتی - (ع - صفت) (۱) برأت - دلیری (۲) بلند حوصلگی - سخاوت - فیاضی -  
 عالیہ - (ع - ا - مذ) (ی - ی - ع - ا - مذ) (۱) بلند - بڑی - بزرگ (۲)  
 مسلمان عورتوں کا خطاب -  
 عام - (ع - صفت) (۱) پھیلا ہوا - مشہور - معمولی (۲) سب - تمام (۳) بازاری  
 (۴) رواجی - رسمی (۵) سال - برس (۶) مرد و ع (۷) مشترک - مشتمل -  
 (۸) بہت - بسیار - کثیر -  
 عام پسند - (ع - ف - صفت) جسے ہر کوئی پسند کرے -  
 عام روش - (ع - ا - مذ) (۱) مٹ - معمولی طریقہ -  
 عام فہم - (ع - صفت) آسان - سب کی سمجھ میں آ جانے والا -  
 عام گردینا - (ا - محاورہ) مشہور گردینا - مشہور گردینا -  
 عام لوگ - (ا - مذ) سب لوگ - معمولی لوگ - عوام -  
 عام میں - (ا - متعلق فعل) سب کے سامنے - علانیہ - کھلم کھلا -  
 عامر - (ع - صفت) (۱) آباد (۲) آباد کرنے والا - جمع - عمار - عامرین -  
 عامرہ - (ع - صفت) (۱) بھرا ہوا - مالا مال (۲) شاہی - شالانہ -  
 عامرہ - (ع - ا - مذ) (۱) حاکم - تحصیل دار (۲) سیانا - بھوت پریت کا مکمل جاننے  
 والا - منتر پڑھنے والا (۳) عمل کرنے والا -  
 عامرہ - (ع - ا - مذ) (۱) مٹ - عامر کی تائینٹ - (۲) بڑو - منحصر - واقعہ - حقیقت -  
 عامرہ - (عام - مٹ) (ع - صفت) (۱) سب لوگوں سے منسوب - مشہور  
 عامرہ (۲) کلی - سب -  
 عامرہ الناس - (ع - ا - مذ) مٹ - عام لوگ - عوام -  
 عامی - (ع - صفت) عام سے منسوب - ادنیٰ - جاہل - بازاری (۲) اندھا -  
 عامیانا - (ع - ا - مذ) (۱) جاہلوں کا (۲) عوام کا (۳) گھینا - بڑا -  
 عاثر - (ع - ا - مذ) (۱) نافر کے نیچے کی جگہ جہاں بال ہوتے ہیں (۲)  
 شرم گاہ کے بال -  
 عائد - (ع - ا - مذ) (۱) (ع - صفت) الٹ کر آنے والا - واپس آنے والا - پھرنے والا -  
 عائد ہونا - (ا - محاورہ) الٹ پڑنا - ذتے پڑنا - صادق آنا -  
 عائل - (ع - صفت) فقیر - درویش -  
 عائکہ - (ع - صفت) خاندان (۲) بیوی -  
 عائلی - (ع - صفت) خاندان سے متعلق - بیابہ شادی سے متعلق (۲) مٹ - فیتری  
 عائلی قانون - (ع - ف - ا - مذ) ازدواجی زندگی کے متعلق قانون -

ع - ب

عبثا - (ع - با) (ع - ا - مذ) ایک لمبا کوٹ یا چٹخہ جو پاؤں تک ہوتا ہے - بچہ پٹخہ -

**عبور** - (ع۔ بُور) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) پانی کو پار کرنا۔ پانی سے گزرنے کا (۲) کتب یا مسائل دینیہ پر جاری ہونا۔ خوب بہارت ہونا۔  
**عبور دریا** یعنی شور کرنا۔ (۱۔ عمارہ) (۱) سمندر پار آنا (۲) کسی یوم کی پاداش میں جزیرہ انڈیمان والے پانی پھینکا (۳) عمر قید کی سزا۔  
**عبور ہونا** - (۱۔ عمارہ) پورے طور پر داخلیت ہونا۔ جاری ہونا۔ جانا۔  
**عبوری** - (ع۔ صغ) عارضی۔ وقتی۔ ہنگامی۔  
**عبہ** - (عب۔ بہر) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی ایک قسم جو اندر سے زرد ہوتی ہے (۲) طویل القامت۔ سڈول۔  
**عبید** - (ع۔ بید) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ بہت سے غلام۔  
**عبید** - (ع۔ بید) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ بہت سے غلام۔  
**عبیر** - (ع۔ بیر) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ خوشبودار سفوف جو مشک۔ گلاب اور صندل وغیرہ سے تیار کر کے کپڑوں پر پھڑکا جاتا ہے۔

**عبا پوش** - (ع۔ ف۔ صغ) عبا پہنے ہوئے۔  
**عباد** - (ع۔ ا۔ ۱۰۔ ۱) مذراہ کی جمع۔  
**عباد** - (ع۔ باد) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ بندے۔ غلام۔  
**عبادت** - (ع۔ با۔ دت) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ طاعت (۲) نماز و عبادت کی جمع۔  
**عبادت کرنا** - (مض۔ مرکب) خدا کی بندگی کرنا۔ پوجا پاٹ کرنا۔ پرستش کرنا۔ نماز پڑھنا۔ طاعت کرنا۔  
**عبادت گاہ** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مسجد۔ مندر۔ گرجا۔  
**عبادتہ** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صحابہ جن کے نام عبادتہ تھے)  
**عبادت** - (ع۔ با۔ رت) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ عبادت۔ عبادت۔ عبادت۔  
**عبادت ادا** - (ع۔ ف۔ ا۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ معنوں کو سننا۔ معنوں کی رنگینی۔  
**عبادت ظہری** - (ع۔ ا۔ ۱) مذراہ (۲) وہ عبادت جو کسی تحریر کی پشت پر لکھی جائے  
**عبادت ہونا** - (۱۔ عمارہ) مطلب ہونا۔ مدعا ظاہر کرنا۔  
**عباسی** - (عب۔ با۔ ہی) (ع۔ صغ) حضرت عباس کے خاندان کا نام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محترم تھے (۲) ایک قبیل اور گونا۔ (۳) سنگ مرمر کی ایک قسم۔  
**عباسیہ** - (عب۔ با۔ ہی۔ ی) (ع۔ صغ) (۱) خلافت بنی عباس سے متعلق (۲) حضرت عباس سے متعلق۔  
**عبث** - (ع۔ بٹ) (ع۔ صغ) (۱) بے فائدہ۔ فضول۔ بیکار (۲) بازی کھیل (۳) ناحق۔ بلا وجہ۔  
**عبث** - (ع۔ با۔ ہذا) (۱) بندہ غلام (۲) ملازم۔ نوکر۔ جمع۔ عباد۔  
**عبث الدنیا** - (ع۔ صغ) دنیا کا بندہ۔ دنیا کی لالچ بردہ کی پروا نہ رکھنے والا۔  
**عبثیت** - (عب۔ ہی۔ یت) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ غلامی۔  
**عبث** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کی جمع۔ گھٹا (۲) گھٹا کا محمول (۳) کنگن اور بنا ذرات اور عرب کا درمیانی علاقہ جس سے عبرانی منسوب ہے۔  
**عبرانی** - (عب۔ نا۔ نی) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ (۲) اہل کنگن کی زبان۔ یہودیوں کی زبان (صغ) عبری اولاد۔ اسرائیلی۔  
**عبرت** - (عب۔ رت) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ (۲) نصیحت پکڑنا (۲) خوف۔ اندیشہ۔  
**عبرت الخیر** - (ع۔ ف۔ صغ) ایسی بات جسے دیکھ کر آدمی کو خوف آئے اور وہ اس سے نصیحت پکڑے۔  
**عبرت ہیں** - (ع۔ ف۔ صغ) انجام ہیں۔ جو عبرت پکڑے۔  
**عبرت پذیر** - (ع۔ ف۔ صغ) عبرت پکڑنے والا۔  
**عبرت پکڑنا** - (۱۔ عمارہ) نصیحت پکڑنا۔ متنبہ ہونا۔ نصیحت حاصل کرنا۔  
**عبرت دلانا** - (۱۔ عمارہ) نصیحت کرنا۔ خوف دلانا۔ ڈرانا کسی گناہ کی پاداش سے  
**عبرت ناک** - (ع۔ ف۔ صغ) خوف دلانے والا۔  
**عبرت ہونا** - (۱۔ عمارہ) کسی بات کی نصیحت کا موجب ہونا نصیحت حاصل ہونا  
**عبس** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) ترشہ۔ ترشہ۔ پر پڑا (۲) قرآن شریف کی ایک سورتہ۔  
**عبقری** - (ع۔ صغ) ذہین۔ فطین (۲) سردار۔ اعلیٰ۔ نہایت اچھا۔  
**عبوریت** - (ع۔ بو۔ ہی۔ یت) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ (۲) غلامی (۲) طاعت۔ عبادت۔

# ع۔ ت

**عتاب** - (ع۔ تاب) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ (۱) ملامت (۲) عقبتہ (۳) غضب۔ تہ۔ تاملگی  
**عتاب اتارنا** - (۱۔ عمارہ) عقبتہ یا تنگی دور کرنا۔  
**عتاب اترنا** - (۱۔ عمارہ) عقبتہ دور ہونا۔  
**عتاب الہی** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کا تہ۔ آفت سماوی۔ غضب الہی۔ خدا کی نار۔  
**عتاب میں آنا** - (۱۔ عمارہ) کسی کی تنگی یا عقبتہ کا نشانہ بننا۔  
**عتاب نامہ** - (ع۔ ت۔ ن۔ ۱۔ ۱) مذراہ کا خط۔ وہ خط جس میں تنگی یا سزا تحریر ہو۔  
**عتاب و خطاب** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ کا خط و عقبتہ تنگی دانا (صغ) ڈانٹ ڈپٹ۔  
**عقیبات** - (ع۔ ات۔ ات۔ بات) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ آستانے۔ درگاہ۔ رودھ۔  
**عقبہ** - (ع۔ ت۔ یر) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ آستانہ۔ درگاہ۔ رودھ۔  
**عقبہ عالیہ** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) صغ) اونچی اونچی۔ درگاہ۔ بزرگ کی مقدس درگاہ۔  
**عشرت** - (ع۔ رت) (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) صغ) قریبی رشتہ دار۔ بیٹیاں۔  
**عشرت اظہار** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) صغ) پاک اولاد۔ انکسیتہ (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد  
**عقیق** - (ع۔ تیق) (ع۔ صغ) (۱) پُرانا (۲) آزاد (۳) برگزیدہ۔ چنا ہوا۔  
**عقیقات** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) صغ) پُرانی چیزوں کا علم۔

# ع۔ ث

**عشرات** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) صغ) ٹھوکر۔ لٹیر۔  
**عثمان** - (ع۔ ا۔ ۱۔ ۱) مذراہ مشہور صحابی۔ تیسرے خلیفہ راشد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔  
**عثمانی** - (ع۔ صغ) عثمان کی اولاد۔ جو ترکوں کا موجد اعلیٰ تھا (۲) عثمان سے منسوب (۳) ترک۔

## ع۔ج

عدالت - (ع۔ دا۔ لکٹ۔ رع۔ دا۔) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) برابر (۲) انصاف - نیا ڈیٹا  
(۳) کچری۔ دربار۔ اجلاس (۴) انصاف کرنے والا۔ ج۔ج۔  
عدالت ابتدائی - (ع۔ ف۔ ۱۔) (مث ۱) وہ پہلی عدالت جس میں مقدمہ رجوع  
اور فیصلہ ہوتا ہے۔  
عدالت اپیل - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) بڑے حاکم کی کچری جہاں اپیل کی جائے۔  
عدالت پڑھنا - (۱) محاورہ (دعویٰ کرنا۔ عدالت تک جانے کی نوبت آنا۔  
عدالت خفیہ - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) وہ عدالت جس میں قرضہ کے چھوٹے چھوٹے  
مقدمات کا فیصلہ کیا جائے۔ چھوٹی کچری۔  
عدالت دیوانی - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) وہ عدالت جس میں صرف لین دین کے  
متعلق مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہو اور وہ قیدی کی عمارت نہ ہو۔  
عدالت مشن - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) وہ فوج داری کی کچری جس میں سنگین مقدمات  
کا فیصلہ کیا جائے۔  
عدالت صلح - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) صلح کی کچری جس میں مار پیٹ۔ پوری چکاری  
قتل و خون وغیرہ کے مقدمات فیصلہ کیے جاتے ہیں۔  
عدالت عالیہ - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) بڑی عدالت۔ ہائی کورٹ۔ سپریم کورٹ۔  
مسوہ یا ملک کی سب سے بڑی عدالت۔  
عدالت فوج داری - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) فوج داری مقدمات کی عدالت۔  
عدالت کرنا - (۱) محاورہ (۱) انصاف کرنا (۲) کچری کرنا۔ اجلاس کرنا۔  
عدالت ماتحت - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) چھوٹی کچری یا محکمہ جو کسی بڑے  
محکمے کے تحت ہو۔  
عدالت مال - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) مال افسر یا کلکٹر کی عدالت بولگان، مالیر  
اور زرعی اراضی کے متعلق فیصلہ کرتی ہے۔  
عدالت مجازہ - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) باختیار عدالت جسے پورا پورا اختیار حاصل ہو۔  
عدالت مراجعہ اولیٰ - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) پہلے اپیل کی عدالت۔  
عدالتی - (ع۔ ۱۔) (دا۔ ل۔ ق۔) (۱) صفت (۲) عدالت کے متعلق۔ عدالت کا۔  
عدالتی پیادہ - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) وہ قاصد جو عدالت کے کاغذات لے کر جاتا ہے۔  
عداوت - (ع۔ ۱۔) (دا۔ دت۔) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) بغض۔ دشمنی۔ کینہ۔ مخالفت۔ خصومت۔  
عداوت رکھنا - (۱) محاورہ (۱) کینہ رکھنا۔ دشمنی رکھنا۔  
عداوت نکالنا - (۱) محاورہ (۱) دشمنی کا بدلہ لینا۔  
عداوتی - (ع۔ ۱۔) (دا۔ د۔ ق۔) (۱) صفت (۲) عداوت رکھنے والا۔ دشمن۔ مخالف۔  
بدخواہ۔ دشمنی کرنے والا۔  
عدالت - (جد۔ دت۔) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) تعداد۔ شمار (۲) وہ مدت شرعی  
جس میں عداوت دوسرا نکاح نہ کر سکے۔ مطلقہ کے لیے تین مہینے۔ بیوہ  
کے لیے چار ماہ دس دن اور حاملہ کے لیے وضع حمل تک۔  
عدالت میں ٹیٹھنا - (۱) محاورہ (۱) عورت کا طلاق اور دوسرے نکاح کے  
درمیان کی شرعی مدت گزارنا۔  
عدد - (ع۔ ۱۔) (د۔) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) نمبر۔ گنتی۔ تعداد (۲) چند سہ۔ رقم۔  
عدد صحیح - پورا عدد۔ نہ بٹا ہوا عدد۔ اکائی۔ وہ عدد جس میں گنتی نہ ہو۔  
عدوی - (ع۔ ۱۔) (د۔) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) صفت (۲) عدو سے منسوب۔ عدو سے متعلق۔  
عدوی قیمت - (ع۔ ۱۔) (صفت) (۲) وہ قیمت جو عدد کے اعتبار سے لگانا جائے۔

عجاب - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) تعجب۔  
عجائب - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) گرد و غبار۔  
عجالت - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) جلدی۔ تیزی۔ پھرتی۔ بیہوشی۔ اول نیر بکسر اول  
عجائب - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجائب الخلق - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجائب خانہ (گھر) - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
اور نادر چیزیں دیکھنے کے لیے رکھی جاتیں۔ میوزیم۔  
عجائب و غرائب - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجائبات - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
حیرت انگیز چیزیں۔  
عجائز - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجب - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجب انگیز (۲) نیا۔ عمدہ۔ طرز۔  
عجب حال ہونا - (۱) محاورہ (۱) برا حال ہونا۔ اہتر حال ہونا۔  
عجب ذات شریف ہیں - (۱) محاورہ (۱) بہت تہذیبی۔ بڑے بد ذات ہیں  
عجب عالم ہے - (۱) محاورہ (۱) عجیب حالت ہے۔ طرز بہار ہے۔  
عجب کیا - (۱) محاورہ (۱) کچھ تعجب نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ۔  
عجب نہیں - (۱) روزمرہ (۱) کچھ حیرت کی بات نہیں۔  
عجب وقت تھا - (۱) محاورہ (۱) بڑے لطف زمانہ تھا۔ حیرت انگیز وقت تھا۔  
عجب - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجز - (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
انکار (۲) منت۔ سماجیت۔ خوشامد۔  
عجکت - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجم - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجمی - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجوبہ - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجیب چیز۔  
عجوز - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجول - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجیب - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجیب الخلق - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجیب حال ہونا - (۱) محاورہ (۱) برا حال ہونا۔  
عجیب و غریب - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)  
عجیبہ - (ع۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱) (ع۔ ۱۔) (مث ۱)

## ع۔د

عدو مشرے برا لگیز دکھ خیر مادر آں باشد۔ (ف۔ من۔ دشمن ایسی شرارت کرتا ہے کہ اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔  
عدو شود سبب خیر گر خدا نخواهد۔ (ف۔ من۔ دشمن) اگر خدا چاہے تو دشمن سے بھی نادمہ پہنچ سکتا ہے۔

عدول۔ (ع۔ ذ۔ دل) عدل۔ (ع۔ ذ۔ منہ پھیر لینا۔ انکار۔ دوگردانی۔  
عدول حکم۔ (ع۔ ذ۔ ف۔ ا۔ ذ۔ نافرمانی حکم نہ ماننے والا۔ سرکش۔ باغی۔  
عدول حکمی۔ (ع۔ ا۔ من۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔  
عدیل۔ (ع۔ ذ۔ دل) عدل۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔  
عدلی۔ (ع۔ ذ۔ دل) عدل۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔  
عدلی نہ ہونا۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔  
عدلیم۔ (ع۔ ذ۔ دل) عدل۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔  
عدلیم العزمت۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔  
عدلیم المشال۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔  
عدلیم الوجود۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ بغاوت۔

عدس۔ (ع۔ ا۔ من۔ مسور۔  
عدسہ۔ (ع۔ ذ۔ من۔ فوڈو گرانی کے کبیرے کا وہ چھوٹا سا آئینہ جس میں عکس آتا ہے۔ عدبہ شیشہ۔ لہز۔  
عدل۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ ا۔ ذ۔ برابر۔ مساوات (۲) نظیر۔ مانند (۳) انصاف داد۔ نیازی۔  
عدل پرورد۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ من۔ انصاف کرنے والا۔  
عدل پروردی۔ (ع۔ ا۔ من۔ انصاف۔ انصاف کی پرورش۔  
عدل کرنا۔ (ع۔ ص۔ ف۔ ا۔ من۔ انصاف کرنا۔ ایمان داری اور دیانت سے فیصلہ کرنا۔  
عدل گستر۔ (ع۔ ف۔ ص۔ ف۔ ا۔ من۔ انصاف کرنے اور داد دینے والا۔  
عدل و نصف۔  
عدل گستری۔ (ع۔ ف۔ ا۔ من۔ انصاف۔  
عدلیہ۔ (ع۔ ذ۔ ی۔ ی۔ عدلیہ) عدل و انصاف کا شعبہ۔ عدالتی نظام۔  
جوڈی شیری۔ (Judiciary)

عدم۔ (ع۔ ذ۔ م۔ ا۔ ذ۔ ا۔ ذ۔ ناپیدی۔ غیر حاضری (۳) نقصان مرکبات میں نفی کے معنی میں آتا ہے جیسے عدم حاضری۔  
عدم آباد۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ ا۔ ذ۔ وہ عالم جہاں آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے۔ ابدی عالم۔  
عدم اقتدارات سماعت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ مقدمہ سننے کا اختیار نہ ہونا۔  
عدم ادائیگی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ رقم ادا نہ کرنا۔  
عدم استقامت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ عزم نہ ہونا۔  
عدم اعتماد۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ اعتماد نہ ہونا۔  
عدم پیروی۔ (ع۔ ا۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ پیروی۔ غیر حاضری (۲) مقدمہ کی پیروی نہ کرنا۔  
عدم تصفیہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ فیصلہ نہ ہونا۔  
عدم تکمیل۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ تکمیل نہ ہونا۔  
عدم تعمیل۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ تعمیل نہ کرنا یا نہ ہونا۔  
عدم توجہ۔ (ع۔ ا۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ توجہ۔ بے پروائی۔ بے اعتنائی۔ بے مروتی۔  
عدم بیعت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ کسی امر کی دلیل یا تصدیق یا شہادت کا نہ ہونا۔  
عدم فرصت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ بہت نہ ہونا۔ وقت نہ ہونا۔  
عدم مداخلت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینا (۲) کسی کام میں دخل نہ دینا۔  
عدم مطابقت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ص۔ ف۔ ا۔ ذ۔ کسی امر کا دوسرے کے مطابق نہ ہونا۔  
عدم موجودگی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ غیر حاضری۔

عدم وجود برا بر ہے۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ ہونا نہ ہونا برابر ہے یعنی نکتا ہے بیکار ہے۔  
عدنان۔ عدنان۔ (ع۔ ذ۔ ن۔ ا۔ ذ۔ ا۔ ذ۔ بہشت جس میں آدم کو رکھا گیا تھا۔  
(۲) اقامت کرنا (۳) عرب کے جنوب مغربی کونے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نا۔ تیسرے معنی میں بیخ دال مستعمل ہے۔

عدنان۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص جس تک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مسلسل چلتا ہے۔  
عدنی۔ (ع۔ ذ۔ ن۔ ا۔ ذ۔ عدنان کا رہنے والا۔ عدنان سے منسوب۔  
عدو۔ (ع۔ ذ۔ ا۔ ذ۔ دشمن۔ بدخواہ۔ مخالفت (۲) رقیب۔ جمع اعداء

## ع۔ذ

عذاب۔ (ع۔ ذ۔ ا۔ ذ۔ ا۔ ذ۔ تنگی۔ تکلیف۔ دکھ۔ مصیبت۔ اذیت۔  
(۲) سزائے گناہ (۳) دقت۔ جھگڑا بھگڑا (۴) روگ۔ عیلت (۵) گناہ۔ پاپ۔  
عذاب اٹھانا۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ عیلت اٹھانا۔ برداشت کرنا۔  
عذاب الحرق۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ دوزخ کی آگ کا عذاب۔  
عذاب الہی۔ وہ مصیبت جو خدا کی طرف سے کلوں کی پاداش میں آئے۔  
عذاب الیم۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ سخت عذاب۔  
عذاب ثواب۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ گناہ ثواب۔ نیکی بدی۔ برائی بھلائی۔  
عذاب حمان۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ جی کا وبال۔ مصیبت۔  
عذاب کھیلنا۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ عیلت اٹھانا۔ دکھ اٹھانا۔  
عذاب دوزخ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ وہ تکلیف جو بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں لے گی۔  
عذاب سہنا۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ عیلت یا دکھ برداشت کرنا۔  
عذاب سے چھوٹنا۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ عیلت سے بچنا۔ تکلیف جاتی رہنا۔  
عذاب قبر (گور)۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ذ۔ وہ سزا جو مرے کو قبر میں گناہوں کی پاداش میں لے گی۔  
عذاب گناہ۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ عیلت یا دکھ برداشت کرنا۔  
عذاب کھیلنا۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ عیلت برداشت کرنا۔  
عذاب موائی لینا۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ خود سے کسی مصیبت میں مبتلا ہونا بخواہ  
تکلیف میں پڑنا۔  
عذاب میں پڑنا۔ عذاب میں پھینسا۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ عیلت یا دکھ برداشت کرنا۔  
مصیبت میں پڑنا۔  
عذاب میں ہونا۔ (ع۔ ا۔ ذ۔ عیلت یا دکھ برداشت کرنا۔

عذوبت - (ع۔ ذ۔ بت) (ع۔ ا۔ مٹ) شیرینی۔ لذت۔

## ع۔ ر

عراہہ (عراوہ) - (ع۔ ا۔ مذ) لبا جھکڑا۔ گاڑی۔

عراچی - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) گاڑی چلانے والا۔

عراق - (ع۔ ناق) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) کنارہ۔ لبِ دریا (۲) وہ خاص ملک جو دریائے جیوں، دجلہ اور فرات کے کنارے واقع ہے (۳) موسیقی کا ایک راگ جسے چاشت کے وقت گاتے ہیں۔

عراقی - (ع۔ با۔ قی) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) عراق کا گھوڑا۔ تازی۔ عربی گھوڑا (۲) ملک عراق سے منسوب۔ ملک عراق کا۔

عراقی پر بس نہ چلا گدسے کے کان ایٹھے - (۱) مثل، زبردست پر بس نہ چلا تو غریب کو مارنے لگے۔

عرائس - (ع۔ ا۔ مٹ) عروس کی جمع۔

عرائض - (ع۔ را۔ اض) (ع۔ ا۔ مذ) عریضہ کی جمع۔ چھپاں بخلوط۔ درخواستیں۔

عرب - (ع۔ رب) (ع۔ ا۔ مذ) ملک عرب کا باشندہ (۲) مشرق قریب کا ایک ملک جس کی زبان عربی ہے (۳) خوش بیان۔ فصیح۔

عربدہ - (عرب۔ دہ) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بد خوئی (۲) لڑائی۔ جھگڑا۔ فتنہ۔

عربدہ جو - (ع۔ ف۔ صفت) (۱) لڑاکا۔ جنگ جو۔ شادی (۲) ہمشوق۔

عربی - (ع۔ نا۔ بی) (ع۔ صفت) (۱) عرب سے منسوب۔ عرب کا باشندہ (۲) عربی زبان۔ عرب کی بول چال (۳) تازی گھوڑا۔

عربییت - (ع۔ را۔ بی۔ یت) (ع۔ ا۔ مٹ) عربوں سے متعلق۔ عربوں کے اتحاد اور آزادی کی تحریک۔

عربیہ - (ع۔ را۔ بی۔ یت) (ع۔ صفت) (۱) عرب کی صورت (۲) عربی زبان سے منسوب۔

عرزہ - (ع۔ زہ) (ع۔ ا۔ مٹ) طاقت۔

عرس - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) کسی بڑے یا مرشد کی سالانہ فاتحہ کی مجلس جو تاریخ وفات پر ہو (۲) شادی کی دعوت۔ طعامِ دلیر۔

عرش - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بچت۔ سقف (۲) تخت۔ آسمان۔ آسمانوں کا عرش۔

عرش (آشیاں) (آشیاں) - (ع۔ ف۔ صفت) وہ شخص جس کا گھر عرش پر ہو۔ مرحوم و مفقود۔

عرش اعظم - (ع۔ ا۔ مذ) خدا کا تخت۔

عرش اکبر - (ع۔ ا۔ مذ) انسان کا دل۔ قلب۔

عرش بریں - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) وہ آسمان جہاں خدا کا تخت ہے۔

عرش پابہ - (ع۔ ف۔ صفت) عالی مرتبہ۔

عرش پر کینچنا - (ع۔ ا۔ مٹ) بہت بلند مرتبہ ہونا۔

عرش پر جھوٹنا - (ع۔ ا۔ مٹ) بلندی پر ہونا۔ بڑے رتبے پر ہونا۔

عرش پر جھنڈا گرٹنا - (ع۔ ا۔ مٹ) بہت رعب ہونا۔ خوشامد کرنا۔

عرش پر چڑھانا - بڑی قدر کرنا۔ بڑی تعریف کرنا۔ مغزور بنا دینا۔

عرش پر چڑھنا - (ع۔ ا۔ مٹ) بہت مغزور ہو جانا۔

عذاب نازل ہونا - (ع۔ ا۔ مٹ) آفت آنا۔ معیبت پڑنا۔

عذاب میں ڈالنا - (ع۔ ا۔ مٹ) جگڑے میں پھنسانا۔ معیبت میں مبتلا کرنا۔

عذاب - (ع۔ ذار) (ع۔ ا۔ مذ) عارض۔ زُخار۔ گال۔ چہرہ۔ زُرخ۔

عذاب - (ع۔ صفت) شیریں۔ خوش گوار۔

عذاب الیمان - (ع۔ ا۔ مذ) شیریں کلام۔

عذر - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بہانہ۔ جملہ (۲) معذرت (۳) سبب۔ محنت (۴) اعتراض۔ گرفت۔ پکڑ (۵) معافی۔ طلبِ عفو (۶) انکار۔

عذر آور - (ع۔ ف۔ صفت) عذر کرنے والا۔

عذرات - عذری جمع۔

عذرا متنازع ناش - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) دعوے کی روک کا عذر۔

عذرا باقی نہ رکھنا - (ع۔ ا۔ مٹ) کسی اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑنا۔

عذر بے جا - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) ناجائز عذر۔ لغویا بیہودہ معذرت جو قابلِ سماعت نہ ہو۔

عذر پذیر - (ع۔ صفت) (۱) عذر قبول کرنے والا (۲) معافی کے قابل۔

(۳) قابلِ تسلیم۔

عذر پیش کرنا - (ع۔ ا۔ مٹ) اعتراض پیش کرنا۔ کوئی دلیل یا حجت لانا یا حجت کرنا۔

عذر تراشنا - (ع۔ ا۔ مٹ) ایسا عذر پیش کرنا جو حقیقی نہ ہو۔

عذر تقصیرات کرنا - (ع۔ ا۔ مٹ) گناہوں کی معافی چاہنا۔

عذر تادیب آیام - (ع۔ ا۔ مذ) میعاد گزرنے کا عذر۔

عذر چلنا - (ع۔ ا۔ مٹ) عذر کا تسلیم کیا جانا۔ عذر قبول ہونا۔

عذر خواہ (ساز۔ سنج) - (ع۔ ف۔ صفت) عذر کرنے یا چاہنے والا۔

عذر خواہی - (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) معذرت۔ کسی امر کا عذر بیان کرنا۔

عذر دار - (ع۔ ف۔ صفت) معترض۔ دعوے دار۔

عذر داری - (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ) (۱) اعتراض۔ مزاحمت (۲) دعویٰ۔ محنت۔

دلیل۔

عذر در میان لانا - (ع۔ ا۔ مٹ) عذر پیش کرنا۔

عذر کرنا - (ع۔ ا۔ مٹ) معذرت کرنا۔ معافی مانگنا (۲) اعتراض کرنا (۳) بحث کرنا۔

عذر گناہ بدتر از گناہ - (ع۔ ف۔ مثل) غلط اور بیہودہ عذر کے متعلق کہتے ہیں۔

عذر لانا - (ع۔ ا۔ مٹ) عذر پیش کرنا۔

عذر لنگ - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) غلط اور لغو عذر۔

عذر معذرت - (ع۔ ا۔ مذ) منت سماجت۔

عذر معقول - (ع۔ ا۔ مذ) صحیح اور بجا عذر۔

عذر نہ سنا - (ع۔ ا۔ مٹ) کوئی بہانہ نہ ماننا۔

عذر نہ ہونا - (ع۔ ا۔ مٹ) انکار نہ ہونا۔ محنت نہ ہونا۔

عذر نبوش - (ع۔ ف۔ صفت) عذر سننے والا۔

عذر و راست - (ع۔ ا۔ مٹ) میراث یا دوشے کا دعوے۔

عذر ہونا - (ع۔ ا۔ مٹ) اعتراض ہونا۔

عذرا - (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) کنواری دوشیزہ (۲) فاطمہ کی مشوقہ کا نام (۳) حضرت مریم اور حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب۔ جمع: عذاری۔ عذاری۔

**عرش بیگی** - وہ جہدے دار جس کے ذریعے سے بادشاہ کے حضور میں گزارشات ہو سکیں۔

**عرش پیرا ہونا** - (۱- محاورہ) گزارش کرنا۔

**عرش حال** - (ح - ۱- ۱- مٹ) صورت حال کا اظہار۔ واقعہ کا بیان۔

**عرش دار** - (ف - ۱- ۱- مذ) جس کا عرش یا چوڑائی ہو۔

**عرش داشت** - (ح - ۱- ۱- مٹ) عرضی درخواست۔ گزارش۔

**عرش رسا** - (ح - ۱- ۱- ف) صفت (عروض کرنے والا۔

**عرش رسا ہونا** - (۱- محاورہ) گزارش کرنا۔

**عرش قبول ہونا** - (۱- محاورہ) درخواست منظور ہونا۔ اہتمامنا۔

**عرش کرنا** - (ص - مرکب) (۱) التماس کرنا۔ کہنا۔ پیش کرنا (۲) اطلاع دینا رپورٹ کرنا۔

**عرش کفندہ** - (ف - ۱- ۱- مذ) عرض کرنے والا۔ درخواست کرنے والا۔

**عرش مطلب** - مطلب بیان کرنا۔

**عرش محووض** - (ح - ۱- ۱- مذ) درخواست۔ التماس و گزارش۔ کہنا سنانا۔

**عرضا** - (عز - من) (ح - ۱- ۱- تابع فعل) از روئے عرض۔ طولاً کا تعین چوڑائی میں۔ اتفاقاً۔

**عرضی** - (عز - من) (ا - ۱- ۱- مٹ) تخریری درخواست۔ عرضیہ جمع : عرضی

**عرضی ٹھوکنا** - (۱- محاورہ) تامل کرنا۔ دعویٰ کرنا۔ مقدمہ اڑ کرنا۔

**عرضی دعویٰ** - (ح - ۱- ۱- مذ) وہ کاغذ جس میں مدعی حالات مقدمہ لکھ کر عدالت آتدلی میں گزارے یا وہ درخواست جوابتاً میں پیش کر کے مقدمہ چلایا جائے۔

**عرضی نوٹس** - (ح - ۱- ۱- ف - ۱- ۱- مذ) قانونی اجازت سے عدالتی عرضیاں اور تنگ وغیرہ لکھنے والا۔

**عرضہ** - (ح - ۱- ۱- مٹ) ڈھال (۲) پہاڑ۔ جنت۔

**عزف** - (ح - ۱- ۱- مذ) پہچان۔ وہ نام جس سے انسان عام طور سے پہچانا جاسکے۔ عام نام۔

**عزفا** - (ح - ۱- ۱- ف) (۱- ۱- مذ) عارف کی جمع۔ ولی لوگ۔

**عزفات** - (ح - ۱- ۱- ف) (۱- ۱- مذ) کٹر سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک مقدس میدان جہاں حاجی حج کے دن کھڑے ہو کر لینگ پکارتے ہیں۔

یہاں کچھ عرصہ قیام ہی حاج ہے۔

**عزفان** - (عز - فان) (ح - ۱- ۱- مذ) (۱) شناخت۔ پہچان (۲) حق تعالیٰ کی معرفت۔ خدا شناسی۔

**عزفہ** - (ح - ۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) (۱) ذی الحج کی نویں تاریخ جس میں قجاج عورت میں کھڑے ہو کر لینگ پکارتے ہیں (۲) (ا - ۱- ۱- مذ) ہر توار کا پہلا دن۔

(۳) کسی شخص کے مرنے کے بعد دوسرا دن جس میں مردے کی فاتحہ دلواتے ہیں۔

**عزنی** - (عز - نی) (ح - ۱- ۱- مٹ) رسمی مشہور۔

**عزق** - (ح - ۱- ۱- ف) (۱- ۱- مذ) (۱) اسپین (۲) کیشد کے ذریعے نکالا ہوا پانی (۳) دس کسی چیز کا۔ پھڑا ہوا پانی۔ شراب۔ شیر۔

**عزق اجاتا** - (۱- محاورہ) (۱) اسپن آنا (۲) مشم سے پسینے پینے ہو جانا۔

**عزق آلود** - (ح - ۱- ۱- مٹ) پسینے پینے سے تر۔

**عرش پر دماغ** (ہونا) پہنچنا۔ (۱- محاورہ) (۱) نہایت مزبور ہونا (۲) فخر کرنا۔

**عرش پناہ** - (ح - ۱- ۱- مٹ) بڑے رتے والا۔

**عرش سے اتری کھجوریں اٹکی** - (۱- مٹ) ایک مصیبت سے بچے ہی تھے کہ دوسری اُپر تری۔

**عرش سے فرش تک** - (۱- متعلق فعل) آسمان سے زمین تک۔ اُپر سے نیچے تک

**عرش کا تارا** - (۱- مٹ) (۱) سب سے اُوچے آسمان کا تار (۲) بہت بڑے درجے والا۔ انتہائی شان والا۔

**عرش کے تار سے توڑنا** - (۱- محاورہ) (۱) بڑا کام کرنا۔ بڑھ کر ہاتھ مارنا۔

اڑکھا اور عجیب کام کرنا۔ نئے خیالات ظاہر کرنا (۲) گناہ عظیم کرنا (۳) کمال چلا کر ہونا۔

**عرش معلیٰ** - (ح - ۱- ۱- مذ) عرش بریں۔ سب سے اُوچا آسمان۔

**عرش بلانا** - (۱- محاورہ) مظلوم کی آہ کا اثر ہونا۔

**عرش ہل جانا** - (۱- محاورہ) مظلوم کی فریاد سن کر خدا کو رحم آجانا۔

**عزشر** - (عز - شر) (ح - ۱- ۱- مذ) (۱) بھری جہاز کی جھٹ (۲) بھری جہاز کا جھٹ۔

**عزشی** - (عز - شی) (ح - ۱- ۱- مذ) خدا کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے فرشتے مقرب فرشتے۔

**عزصہ** - (عز - ص) (ح - ۱- ۱- مذ) (۱) آنجن۔ انگلی (۲) میدان (۳) شطرنج کی بساط (۴) ناصلہ۔ دُوری (۵) دیر۔ تاخیر۔ توقف (۶) زمانہ۔ اثناء۔

**عزصہ تنگ کرنا** - (۱- محاورہ) عاجز کرنا۔ بے بس کرنا۔

**عزصہ تنگ ہونا** - (۱- محاورہ) (۱) میدان تنگ ہونا (۲) وقت کم ہونا (۳) عاجز ہونا۔

**عزصہ حشر** - قیامت۔ حشر۔ قیامت کا میدان۔

**عزصہ دراز** - بہت مدت۔ بہت دن۔

**عزصہ زریست** - (ح - ۱- ۱- مذ) زندگی بگڑ۔

**عزصہ سے** - (۱- تابع فعل) مدت سے۔

**عزصہ کھینچنا** - دیر لگانا۔

**عزصہ لگانا** - (۱- محاورہ) دیر لگانا۔ تاخیر کرنا۔

**عزصہ گاہ** - میدان۔

**عزصہ ہو جانا** - (۱- محاورہ) مدت گز جانا۔ دیر ہو جانا۔

**عزض** - (ح - ۱- ۱- مٹ) (۱) وہ چیز جو دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو۔ برعکس جو ہر کے وہ بذات خود قائم ہے مثلاً رنگ اور کپڑا۔ اس میں رنگ عزض ہے اور کپڑا جو ہر (۲) وہ بیماری جو کسی دوسرے مرض کے سبب سے ہو جیسے درد نہر جو بخار کی وجہ سے ہو (۳) حادثہ۔

**عزض** - (ح - ۱- ۱- مٹ) (۱) بیان۔ گزارش۔ اظہار۔ التماس (۲) چوڑائی چوڑائی باٹ (۳) عرصہ۔ مدت۔ دفعہ (۴) اثناء۔ درسامن۔

**عزض ارسال** - وہ کاغذ جس کے ذریعے سے مال گزارا کسی کارندے یا پرہادے کے ہاتھ تحویل دار کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ رپورٹ۔ نقشہ۔ چیک۔

**عزض بلد** - عرض البلد۔ وہ فرضی خطوط جو خط استوا کے متوازی کھینچے جاتے ہیں۔ طول البلد کی تعین۔



عریضہ۔ (ع۔ ری۔ منہ)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) عرضی۔ وہ خط جو چھوٹے کی طرف سے بڑے کو لکھا جائے۔ معدودہ۔ جمع: عرضی۔  
 عریضہ نگار۔ خط لکھنے والا۔  
 عریضہ نیاز۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) عاجزانہ درخواست۔ بزرگوں یا حکام کو لکھا جانے والا خط۔

عرقِ انفعال۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) شرمندگی کا پانی وہ پسینہ جو شرمندگی کے باعث آئے۔

عرقِ پینا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) شراب پینا کسی چیز کا پانی پینا۔  
 عرقِ چمیں۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کی گول ٹوٹی (۲) چڑھی کے نیچے پینے کی ٹوٹی (۳) پسینہ صاف کرنے کا رومال۔

عرقِ حیا (خجالت۔ شرم)۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) شرمندگی اور مذمت کا پسینہ۔

عرقِ دان۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) گلاب پاش (رق)۔  
 عرقِ دو آتشہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) دوسریہ کشید کیا ہوا عرق۔

عرقِ ریزی کرنا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) کمال محنت کرنا۔ نہایت جان فشانی کرنا۔  
 عرقِ ہو جانا (ہونا)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) پانی پانی ہو جانا۔ نہایت شرمندگی

اُٹھانا۔ بہت شرمندہ ہونا۔

عرقِ کھینچنا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) محارمات کے ذریعے سے کسی چیز کا پانی کشید کرنا (۲) پھول لینا۔ طاقت کھینچ لینا۔

عرقِ گیر۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) پالان (۲) پسینہ پونچھنے کا رومال (۳) دو اؤل کا عرق کشید کرنے کا آلہ۔

عرق۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) رگ (۲) بڑ۔ جمع: عروق۔

عرقِ النساء۔ بچوں سے ٹخنوں تک پہنچنے والا درد۔

عروق۔ (ع۔ رُوج)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) ہڈی۔ اُدھیانی۔ ارتفاع۔

عروقِ پر ہونا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) اقبال یا در ہونا۔ اعلیٰ رتبے پر پہنچنا۔

عروقِ چاند۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) چاند کی پہلی سے چودھویں تک کا زمانہ۔

عروقِ مہر۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) سورج کے طلوع سے بارہ بجے دن تک وقت

عروس۔ (ع۔ رُوس)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) دُھن۔ بی۔ بیو۔ جمع: عرائس۔

عروسِ البلاد۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) سب سے زیادہ خوبصورت شہر۔

عروسِ المخطوط۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) سب سے خوبصورت خط۔ مستعین۔

عروسانہ۔ (ع۔ رُوسانہ)۔ (ع۔ ف۔ صفت) دُھن کی مانند۔

عروسی۔ (ع۔ رُوسی)۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) شادی۔ بیاہ سے نسبت رکھنے والی چیز۔

عروض۔ (ع۔ رُوض)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) مکتبہ۔ کتبہ۔ (۲) وہ علم جس سے نظم کے قواعد معلوم ہوتے ہیں (۳) شعر کے پہلے مصرعے کا آخری جزو۔

عروض۔ (ع۔ رُوض)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) عارض ہونا۔ عارض ہونا۔

عروق۔ (ع۔ رُوق)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) عرق کی جمع۔ رگیں۔

عروہ۔ (ع۔ صفت) گرفت۔ کاج۔ کونہ (۲) دستہ۔ قبضہ۔

عروۃ الوثقیٰ۔ (ع۔ صفت) مضبوط گرفت۔

عریان۔ (ع۔ ریان)۔ (ع۔ صفت) ننگا۔ برہنہ۔ بے پردہ۔

عریانی۔ (ع۔ ریانی)۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) ننگا ہونا۔ برہنگی۔

عریانیت۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) ننگاپی۔ عریان کا اسم کیفیت۔

عریش۔ (ع۔ ریش)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) پھوس سے پٹا ہوا مکان جو باغ میں بنایا جاتا ہے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ دار جگہ۔

عریض۔ (ع۔ ریض)۔ (ع۔ صفت) پھوڑا۔ لمبا۔ عرض دار۔

## ع۔ ز۔

عز۔ (ع۔ ز۔ ا۔ ۱۔ مذ) عزت۔ شرف۔ بزرگی۔

عز و جاہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) عزت اور مرتبہ۔

عز و شان۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) عزت و مرتبہ۔

عزاً۔ (ع۔ ز۔ ا۔ ۱۔ مذ) فضل ماضی (۱) زبردست ہوا۔ غالب ہوا (۲) اس کی بڑائی

جو۔ اس کی حمد ہو۔

عز اسمہ۔ (ع۔ کلمہ توصیف) اس کے نام کی عزت (تعریف) ہو۔

اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے۔

عزوجل۔ (ع۔ صفت) اس کی عزت اور بزرگی ہو۔ خدا تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

عز۱۔ (ع۔ ز۔ ا۔ ۱۔ مذ) (۱) مصیبت پر مصبر (۲) ماتم پر مہمی۔ پر مہ۔

عز اٹھانہ۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) ماتم خانہ۔ امام باڑہ۔

عز ادارہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) سوگ دار۔ سوگی۔ میت کا غم کرنے والا۔

عز اداری۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) (۱) سوگ۔ ماتم (۲) امام حسینؑ کی شہادت کا غم

عزاً۔ (ع۔ ز۔ ا۔ ۱۔ مذ) (۱) ایک جہت (۲) عرب کا ایک درخت جسے کافر جہتوں کی طرح پو جتے تھے۔

عزازیل۔ (ع۔ ز۔ ا۔ ۱۔ مذ) ابلیس۔ شیطان۔

عزائم۔ (ع۔ ز۔ ا۔ ۱۔ مذ) عزیمت کی جمع۔ (۱) ادا سے (۲) اُردو میں "عزم" کی جمع کے طور پر آتا ہے۔

عزوت۔ (ع۔ ز۔ ا۔ ۱۔ مذ) (۱) اُردو (۲) بزرگی۔ بڑائی (۳) شان۔ عظمت۔

عزوت اُتارنا (بگاڑنا۔ کھونا۔ لینا)۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) بے اُردو کرنا۔

عزوت کرنا۔

عزوت افزائی۔ (ع۔ ف۔ ا۔ ۱۔ مذ) عزت بڑھانا۔ توقیر بلند کرنا۔

عزوت بنانا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) اُردو بنانا۔

عزوت پر لائق ڈالنا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) ذلیل کرنے کی کوشش کرنا۔ عزت پر حملہ کرنا۔

عزوت جاتی رہنا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) اُردو ہونا۔ بے عزتی ہونا۔

عزوت خاک میں ملانا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) ذلیل و رسوا کرنا۔ بڑے کا دل سے اپنی عزت کو کم کرنا۔

عزوت خدا کے لائق ہے۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) اللہ ہی اُردو رکھے تو رکھے۔

عزوت دینا۔ (ع۔ ا۔ ۱۔ مذ) اُردو بخشنا۔

عزت دار۔ عزت والا۔ (ع۔ ف۔ صف) صاحب عزت۔ ذی مرتبہ۔ ممتاز۔ معزز۔  
 عزت دو کوڑی کی مذہبنا۔ (۱۔ محاورہ) سخت ذلیل ہونا۔ بے عزتی ہونا۔  
 عزت ڈلونا۔ (۱۔ محاورہ) آبرو کھونا۔  
 عزت رکھ لینا۔ (۱۔ محاورہ) آبرو بچانا۔ عزت کی حفاظت کرنا۔  
 عزت کا لاگو ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی آبرو ماننے کی کوشش کرنا۔  
 عزت کرنا۔ (۱۔ محاورہ) تعظیم و تکریم سے پیش آنا۔ آداب کرنا۔  
 عزت مآب۔ (ع۔ ۱۔ صف) ایک تعظیمی کلمہ جو وزیروں اور سفیروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آریہیل۔  
 عزت ملنا۔ (۱۔ محاورہ) شرف و بزرگی حاصل ہونا (۲) آؤٹ کٹ ہونا۔  
 عزت میں بٹا لگنا۔ عزت میں فرق آنا۔ بے عزت ہونا۔  
 بے آبرو ہونا۔

عزرائیل۔ (عز۔ را۔ ایل) (ع۔ ۱۔ مذ) مک الموت۔ جان نکالنے والا فرشتہ۔  
 عززل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) سوتنی۔ برطنی۔ بیکاری۔ معطلی (۲) جماع کے وقت ذبح کی بجائے باہر مٹی نکالنا۔  
 عززل و نصب۔ ترقی و تنزل۔ سوتنی و کمال۔  
 عزولت۔ (عزولت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) غلوت۔ تہنائی (۲) عسکاف۔  
 عزولت نشیں۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) گوشہ میں بیٹھا ہوا۔ تہنائی میں بیٹھا ہوا۔  
 عزوم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) قصد۔ ارادہ۔ نیت۔ جمع، عزائم۔  
 عزوم بالجزم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) معتم ارادہ۔ پکا ارادہ۔  
 عزومت۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ارادہ۔ عزوم (۲) وہ بات جو فرض ہو۔  
 عزیز نر۔ (ع۔ زیز) (ع۔ ۱۔ مذ) صفت (۱) پیارا۔ محبوب۔ دل پسند (۲) لائق۔  
 (۳) عمدہ۔ کم یاب۔ قابل عزت۔ صاحب مرتبہ (۴) خدا تعالیٰ کا ایک نام (۵) رشتہ دار۔ قریبی (۶) بار۔ دوست۔ جمع، آبزترہ۔  
 عزیز القدر۔ (ع۔ ف۔ قابل قدر۔ عزیز۔ ایک العاقب جو چھوٹے بھائی یا رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔  
 عزیز بزداری۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) رشتہ داری۔ بھائی بندی۔ یگانگت۔  
 عزیز رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) قدر و منزلت کرنا (۲) دوست جاننا۔  
 عزیزیت۔ (ع۔ زبی۔ یت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) طلسمی دُعا (۲) وہ عمل یا فاضل جس سے مولوں کو معاضرت میں موجود کر سکیں (۳) ارادہ۔ مقصد۔ جمع، عزائم۔

عسکر۔ (عس۔ کر) (ع۔ ۱۔ مذ) فوج۔ سپاہ۔ لشکر۔ جمع، عساکر۔  
 عسکری۔ (عس۔ ک۔ ری) (ع۔ صف۔ و۔ ۱۔ مذ) (۱) فوج کا۔ عسکر سے منسوب (۲) سپاہی۔  
 عسکریت۔ (عس۔ ک۔ ری۔ یت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) جارحیت۔ جنگ پسندی فوجی اور جنگی ذہنیت۔  
 عسل۔ (ع۔ سل) (ع۔ ۱۔ مذ) شہد۔ انگبین۔  
 عسیر۔ (ع۔ سیر) (ع۔ صف) مشکل۔  
 عسیر الحال۔ (ع۔ صف) تنگ حال۔

## ع — ش

عشا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) رات کا اندھیرا (۲) رات کی نماز۔ سوتے کی نماز۔  
 عشا ئیہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) رات کا کھانا۔  
 عشائے ربانی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ آفریں کھانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ کھایا تھا۔  
 عشاق۔ (عش۔ شاق) (ع۔ ۱۔ مذ) عاشق کی جمع۔ چاہنے والے۔  
 عشیہ۔ (عش۔ ہ) (ع۔ ۱۔ مذ) ایک بوٹی جو مصفیٰ خون ہے۔ سار سپر بلا۔  
 عشر۔ (ع۔ صف) دس۔ وہ۔  
 عشر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) دسواں حصہ۔ وہ یک۔  
 عشر کلمات۔ (ع۔ ۱۔ مذ) حضرت رسول علیہ السلام کے دس احکام۔  
 عشر عشر۔ (۱) دسویں حصے کا دسواں حصہ بلیہ (۲) بہت تھوڑا سا۔  
 عشرت۔ (عش۔ رت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خوشی۔ عیش و نشاط۔ مزہ (۲) حظ نفسانی۔ بشارت۔  
 عشرت آمیز۔ (ع۔ ۱۔ صف) خوشی سے بھرا ہوا۔  
 عشرت امروز لے اندیشہ فردا خوش است۔ (ع۔ ۱۔ صف) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خوشی۔ عیش و نشاط۔ مزہ (۲) کوئی لکرنہ ہو تو آج کا عیش اچھی چیز ہے۔  
 عشرت انتہا۔ (ع۔ ۱۔ صف) خوشی یا عیش سے ملتا جلتا۔  
 عشرت خانہ۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) (۱) کدو۔ گاہ عیش و عشرت کرنے کا مقام۔  
 عشرت منانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مزے اڑانا۔ موح مارنا۔ چین کرنا (۲) بھونگنا۔  
 مبارشرت کرنا۔  
 عشرہ۔ (عش۔ رہ) (ع۔ صف) (۱) دہ۔ دس (۲) ڈاڑ۔ (۱۔ مذ) محرم کی دسویں تاریخ۔ یوم عاشورہ۔  
 عشرہ اول۔ (ع۔ ۱۔ مذ) پہلے کے پہلے دس دن۔ عمر کے پہلے دس سال۔  
 عشرہ کاہلہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) عہدوں کے دس روزے جو قربانی دینے کی استطاعت نہ رکھنے والے تین حج سے پہلے اور رات اس کے بعد رکھتے ہیں۔  
 عشرہ بلیشرہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دس صحابی جنہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔  
 عش عش۔ (ع۔ ۱۔ صف) (۱) نہایت خوشی اور تحنیں و آفرین کے موقع پر بولا جاتا ہے (کرنا کے ساتھ)۔

## ع — س

عساکر۔ (ع۔ ساکر) (ع۔ ۱۔ مذ) عسکر کی جمع۔ بہت سے لشکر۔  
 عسکر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) دشواری۔ وقت بمصیبت (۲) تنگی۔ منگی۔ غریبی۔  
 عسرت۔ (عش۔ رت) (ع۔ ۱۔ صف) تنگی۔ دشواری۔  
 عسس۔ (ع۔ سس) (ع۔ ۱۔ مذ) کو قوال۔ شہر کے گرد گشت کرنے والا ہمدہ دار۔



# ع — ط

عطف - (ع - ا - مذ) پھیرنا - موڑنا (۲) ہربانی (۳) کسی کے یا کلام کو دوسرے کے یا کلام کی طرف پھیرنا (۴) وہ حرف جو دو لفظوں یا کلموں کو ملائے۔ بیسے اور۔ یا۔ و۔ وغیرہ۔  
 عطف وقت - (ع - ط - وقت) (ع - ا - مثن) ہربانی - عنایت - کرم - نوازش - کراہ۔  
 عطیہ - (ع - ج - جلی - یے) (ع - ا - مذ) عطا بخشش - انعام دی ہوئی چیز۔  
 عطیہ مسرکار - (ع - ف - ا - مذ) گرفت سے انعام میں ملا ہوا۔  
 عطیہ دار - (ع - ف - جمع) جس کو عطیہ دیا جائے۔  
 عطیہ سلطانی - عطیہ شاہی - (ع - ف - ا - مذ) بادشاہ کا بخشا ہوا گرفت کا دیا ہوا۔

عطا - (ع - ط - ا - مثن) انعام بخشش - سناوت - کوئی چیز کسی کو دینا۔  
 عطا کرنا (فرمانا) - (مسن - مرکب) دینا - بخشنا - مرحمت کرنا - نعمت دینا۔  
 عطا ہونا - (ا - محاورہ) ملنا - عنایت ہونا۔  
 عطا تو بہ لقاؤں سے تو - (مثن) آپ کی چیز آپ ہی کو مبارک رہے۔  
 عططار - (ع - ط - ا - مذ) عطافروش (۲) دوا فروش - جمع : عططاران۔  
 عططار کا شیشہ اور مدارسی کا پٹارا - (امثل) عططار کی بوتل اور مدارسی کے پٹارے کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان میں سے ہر چیز بھل سکتی ہے۔  
 عططارو - (ع - ط - برد) (ع - ا - مذ) ایک ستارہ - دبیر ننگ (۲) کیسیا گردوں کی اصطلاح میں - جست۔

# ع — ظ

عظام - (ع - ف - ا - مذ) (ع - ا - مذ) عظیم کی جمع - بزرگ (۲) عظیم کی جمع پڑیاں - استخوان۔  
 عظام - (ع - ظ - ف - صفت) بزرگ - کلاں - بڑا۔  
 عظم - (ع - ا - مذ) بڑی - استخوان - جمع : عظام۔  
 عظمیٰ - (ع - ظ - ا - مثن) عظیم کی تائید - سب سے بڑی - سب سے بزرگ۔  
 عظمت - (ع - ظ - ست) (ع - ا - مثن) بزرگی - بڑائی - شان و شوکت - قدر و منزلت۔  
 عظیم - (ع - ظ - م - صفت) بڑا - کلاں - بزرگ - سخت - بنیاد۔  
 عظیم الجثہ - (ع - صفت) فرہ - موٹا - جس کا قد تمام بڑا ہو۔  
 عظیم الشان - (ع - صفت) بڑی شان و شکوہ والا - والا قدر - بہت بڑا۔  
 عظیم القدر - (ع - صفت) بڑے رتبے یا طاقت کا۔

عطاری - (ع - ط - ا - مثن) دوا فروش - عطار کا پیشہ۔  
 عطائی - (ع - ط - ای) (ا - مذ) وہ شخص جس نے کسی اُستاد کے بغیر اپنے شوق سے کوئی کام حاصل کیا ہو۔ لے اُستاد - آنا۔  
 عطایا - (ع - ط - ا - مذ) عظیم بخشش - انعام - عطیہ کی جمع۔  
 عطیر - (ع - ا - مذ) خوشبو - ہنک - کسی چیز کی نکالی ہوئی خوشبو (۲) خلاصہ۔  
 کُتِبَ لِبَابِ جوہر - بخور - جمع : عطریات۔  
 عطیر امین - (ع - ف - صفت) خوشبو سے بھرا ہوا - معطر۔  
 عطیر افشال - (ع - ف - صفت) خوشبو پھیلانے والا - پھرنے والا۔  
 عطیر مینر - (ع - ف - صفت) خوشبو پھیلانے والا۔  
 عطیر بیزی - (ع - ف - ا - مثن) خوشبو پھیلانا۔  
 عطیر پان کی تواضع - (امث) عطار و پان سے مہمان کی خاطر مدارات کرنا۔  
 عطیر دان - (ع - ف - ا - مذ) وہ صندوقچی یا برتن جس میں عطیر کی شیشیاں رکھی جائیں۔

# ع — ف

عفاریت - (ع - ف - ا - مثن) (ع - ا - مذ) عفریت کی جمع - دیو - جھوت۔  
 عفاف - (ع - ف - ا - مذ) ہر ہمیز گاری - پارسی۔  
 عفاف - (ع - ا - مثن) پوشیدگی۔  
 عففت - (ع - ف - وقت) (ع - ا - مثن) ہر ہمیز گاری - عصمت - پارسی۔  
 پاک دامنی۔  
 عففت مآب - (ع - صفت) بڑی عزت والی - پارسا - عقیدہ۔  
 عففت میں نعل و الن - (ا - محاورہ) عزت لینا - عصمت بگاڑنا۔  
 عفریت - (ع - ف - صفت) (ع - ا - مذ) (ا - مذ) دیو - جھوت - پریت۔  
 عفرص - (ع - ف - ا - مذ) ایک درخت (۲) اس کا پھل۔  
 عفر عفر - (ع - ا - مذ) کتے کی آواز۔  
 عفر - (ع - ا - مذ) معافی بخشنا - بخشش۔  
 عفر کرنا - (ا - محاورہ) معاف کرنا - بخشنا - درگزر کرنا۔

عطیر فروش - (ع - ف - ا - مذ) عطریے والا - گندھی۔  
 عطیر کا پھویا - (ا - مذ) عطیر میں ترکی ہوئی روٹی۔  
 عطیر کھینچنا - (ا - محاورہ) (ا) خوشبو کا تیل بڑی تیز کشید نکالنا (۲) طاقت کھینچ لینا - تیس نکالنا (۳) جوہر نکالنا - خلاصہ نکالنا۔  
 عطیر گلدستہ (مجموعہ) - (ع - ف - ا - مذ) وہ عطیر جو کئی قسم کے عطروں کو ملا کر تیار کیا جائے۔  
 عطیر میں بسانا - (ا - محاورہ) خوشبودار کرنا - بہت عطیر نکالنا۔  
 عطیر نکالنا - (ا - محاورہ) خلاصہ کرنا - ست نکالنا - جوہر نکالنا۔  
 عطیریات - (ع - ط - ری - صفت) (یا ت) (ع - ا - مذ) عطیر کی جمع۔  
 عطس - (ع - ا - مذ) چھینکا (۲) مرنا (۳) کڑوا چھوٹنا۔  
 عطسہ - (ع - ط - سہ) (ع - ا - مذ) چھینک۔  
 عطسہ جاہ - (ع - ف - ا - مذ) کتوں سے گوج کی آواز کا آنا۔  
 عطسہ شیب - (ع - ف - ا - مثن) پوچھنا۔  
 عطسہ ششہ - (ع - ف - ا - مذ) شیشے سے گلاس میں شراب ڈالنے کی آواز۔  
 عطش - (ع - ط - ش) (ع - ا - مثن) پیاس - تشنگی۔

عقدہ گنگہ - (ع - ف - ا - مذ) گنگہ کی مانی۔  
 عفتونت - (ع - ف - ن) (ع - ا - مٹ) بڑا گنگہ کی مٹا۔  
 عفتی عتہ - (ع - ف - ی - ع - ن) (ع - ا - مٹ) اس پر ممانی کی جائے۔ خدا اس کے  
 گناہ صاف کرے۔  
 عقیف - (ع - ی - ف) (ع - ص - ف) پارا سرد - اردو میں زیادہ تر اس کی  
 موٹن ہی مستعمل ہے۔  
 عقیض - (ع - ن - ف) (ع - ص - و - ا - مٹ) پارا سعوت - پرہیزگار  
 عورت - باصمعت عورت۔

## ع - ق

عقل - (ع - ا - مٹ) دانائی - فہم - شعور - تیز - سمجھ - نفس ناطقہ - ادراک۔  
 عقل آنا - (ع - ا - مٹ) سمجھ آنا - تیز ہونا - سمجھ حاصل ہونا۔  
 عقل آرائی - (ع - ا - مٹ) سوچنا - عقل دوڑانا۔  
 عقل بڑی کھینس - (ع - ا - مٹ) ذہانت - بے کئی بات کہنے پر کہتے ہیں۔  
 عقل پر پتھر پڑنا - (ع - ا - مٹ) عقل جاتی رہنا - غلطی کرنا۔  
 عقل پر پردہ پڑ جانا - (ع - ا - مٹ) سمجھ جاتی رہنا - غلطی ہونا۔  
 عقل کڑنا - (ع - ا - مٹ) ہوش میں آنا - شعور آنا - تربیت پانا۔  
 عقل ٹھکانے نہ رہنا - (ع - ا - مٹ) عقل جاتی رہنا۔  
 عقل جاتی رہنا - (ع - ا - مٹ) سمجھ جاتی رہنا - ہوش جانا - حواس باندھنا۔  
 عقل پرخ میں آنا - عقل پھیرنا - (ع - ا - مٹ) ہوش کم ہونا - گھبرا جانا۔  
 حیران دہریشان ہو جانا۔  
 عقل چرنے جانا - (ع - ا - مٹ) سمجھ نہ رہنا - عقل کا موجود نہ ہونا۔  
 عقل چہر گتی است کہ پیش مرداں بیاید - (ع - ا - مٹ) بے عقل کی باتیں  
 کرنے والوں کے متعلق کہتے ہیں۔  
 عقل چھو نہیں گئی - (ع - ا - مٹ) بے وقوف ہے۔ بے عقل ہے۔  
 عقل خراج کرنا (دوڑانا) - (ع - ا - مٹ) سمجھ سے کام لینا - فکر کرنا۔  
 عقل دنگ ہونا - (ع - ا - مٹ) کوئی بات سمجھ میں نہ آنا - حیران ہونا۔  
 عقل دینا - (ع - ا - مٹ) سمجھ کی بات بتانا - تدبیر سمجھانا - تربیت کرنا۔  
 عقل ڈاڑھ - (ع - ا - مٹ) وہ ڈاڑھ جو انسان کے جوان ہونے پر ظاہر  
 ہوتی ہے۔  
 عقل رفوچگر ہو جانا - (ع - ا - مٹ) حواس کم ہونا - اوسان خطا ہونا۔  
 عقل زائل ہو جانا (ہونا) - (ع - ا - مٹ) عقل جاتی رہنا۔  
 عقل سٹھا جانا - (ع - ا - مٹ) بڑھا پلے کے باعث عقل کم ہونا۔  
 عقل سلیم - (ع - ا - مٹ) پوری عقل - رائے صائب۔  
 عقل سشدرد ہونا - (ع - ا - مٹ) حیران ہونا۔  
 عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا - (ع - ا - مٹ) بے وقوف مالدار۔  
 عقل کا پتلا - (ع - ا - مٹ) نہایت عقل مند۔  
 عقل کا پورا - (ع - ا - مٹ) بالکل بے وقوف - احمق - کاٹھ کا آٹھ۔  
 عقل کا پتر اعلیٰ کل ہو جانا - (ع - ا - مٹ) سمجھ میں فرق آ جانا - عقل کا زائل ہو جانا۔

عقاب - (ع - ا - مذ) دگھ - تکلیف - عذاب۔  
 عقاب - (ع - ق - اب) (ع - ا - مذ) ایک طاقت ور اور بلند پرواز شکاری  
 پرند (۲) کیمیا گروں کی اصطلاح میں (شاد در (۳) اوچی جگر (۴) حضرت  
 رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک بھٹا۔  
 عقابی - (ع - ق - اب) (ع - ص - ف) عقاب کی مانند - عقاب سے منسوب۔  
 عقابی نظر (نگاہ) - (ع - ف - ا - مذ) بہت تیز نظر۔  
 عقابین - (ع - ا - مذ) جرم کو باز کرنے کی دو اونچی کلاویاں۔  
 عقارب - (ع - ق - اب) (ع - ا - مذ) عقرب کی جمع - بچھو۔  
 عقاربڈ - (ع - ق - اب) (ع - ا - مذ) عتدہ کی جمع - مذہب کے اصول۔  
 عقرب - (ع - ا - مذ) جمع - پس پشت۔  
 عقربہ - (ع - ا - مٹ) اونچی اور لمبی پہاڑی جس کی چوٹی تک راستہ جاتا ہو۔  
 شکل گمانی۔  
 عقبتا - (ع - ق - اب) (ع - ا - مٹ) آخرت - حاجت۔  
 عقدہ - (ع - ا - مذ) (ع - ا - مٹ) (ع - ا - مٹ) قول و قرار - شادی - نکاح (۳)  
 فروخت - بیع۔  
 عقدہ اٹامل - (ع - ا - مذ) انگلیوں پر گننا - شمار کرنا۔  
 عقدہ بندی - (ع - ف - ا - مٹ) نکاح - جہد پورا کرنا۔  
 عقدہ بیع - (ع - ا - مذ) فروخت کا اقرار نامہ۔  
 عقدہ سیاس - (ع - ف - ا - مذ) کیمیا کی اصطلاح میں پارے کی گولی بانڈھا  
 پارے کی گولی۔  
 عقدہ کرنا - (ع - ا - مٹ) نکاح کرنا - بیاہ کرنا۔  
 عقدہ نامہ - (ع - ا - مذ) نکاح اور شادی کی دستاویز۔  
 عقدہ - (ع - ا - مذ) ڈار - گلوبند۔  
 عقدہ پرورین یا ثریا - (ع - ا - مذ) چھ ستاروں کا جڑ مٹ۔  
 عقدہ - (ع - ن - و) (ع - ا - مذ) (ع - ا - مٹ) گنگہ کا ٹھکانہ (۲) شکل بات پیچیدہ بات۔  
 مٹا - دقیقہ (۳) بھید (۴) بکھیرا۔  
 عقدہ عمل ہونا - (ع - ا - مٹ) گنگہ کھن - مشکل دور ہونا۔  
 عقدہ سر بستہ - (ع - ا - مذ) خفیہ راز۔



علاقہ بندی - اوج -  
 علاقہ - (دمل - لاتی) (ع - صف) ماں کی طرف سے سوتیلہ بھائی یا سوتیلی بہن  
 (جیسے علاقہ بھائی اور علاقہ بہن) -  
 علاج - (ع - علاج) (ع - ۱ - مذ) (۱) چارہ - آپائے (۲) تدبیر - درستی (۳)  
 بیماری کی دوا دارو - معالجہ (۴) سزا - پاداش -  
 علاج بالصدف - مرض کی تاثیر کے برعکس علاج کرنا - یونانی یا ڈاکٹری علاج -  
 علاج بالمثل - مرض کی تاثیر کے مطابق علاج کرنا - ہومیوپیتھی علاج -  
 علاج پذیر - (ع - ف - صف) جس کا علاج ہو سکے - علاج کے قابل -  
 علاج معالجہ - (ع - ۱ - مذ) دوا دارو - چارہ -  
 علاجہ کی (ف - ۱ - مٹ) دیکھئے علیحدگی - کئیالی -  
 علاجہ - (ع - لا - ج - ۵) (ع - صف) دیکھئے علیحدہ - الگ - جدا -  
 علاقہ - (ع - لا - ق - ۱) (ع - ۱ - مذ) (۱) تعلق - لگاؤ - رابطہ - دوستی - رشتہ -  
 (۲) سرد کار - نسبت (۳) نوکری - جودہ - کام (۴) ضلع - صوبہ - پرگنہ -  
 احاطہ (۵) ملکیت - قبضہ - زمینداری (۶) جائیداد - ریاست (۷) حکومت  
 (۸) حدود - سرحد -  
 علاقہ اٹھ جانا - (۱) محاورہ) تعلق نہ رہنا - علاحدگی ہو جانا -  
 علاقہ چھٹنا - (۱) محاورہ) تعلق نہ رہنا -  
 علاقہ دار - (ع - ف - ۱ - مذ) (۱) رشتہ دار - قریبی (۲) تعلق دار - ذیل دار -  
 علاقہ رکھنا - (۱) محاورہ) تعلق رکھنا - واسطہ رکھنا - نسبت رکھنا -  
 علاقہ رہنا - (۱) محاورہ) مطلب رہنا - تعلق رہنا -  
 علاقہ قطع ہونا - (۱) محاورہ) تعلق نہ رہنا -  
 علاقہ ملنا - (۱) محاورہ) جاگیر ملنا - علاقہ سپرد ہونا - حلقہ ملنا -  
 علاقہ ہونا - (۱) محاورہ) علاقہ ملنا (۲) جائیداد ملنا (۳) واسطہ ہونا -  
 علاقہ - (ع - لا - ق - ۱) (ع - ۱ - مذ) کسی چیز سے بندھی ہوئی یا ننگی ہوئی چیز -  
 تلوار کا ڈورا - کوڑے یا راکب کا کتھر - حلقہ - طرہ - دستار -  
 علاقہ بند - پٹوا - زلور میں ڈورا ڈالنے والا -  
 علاقہ بندی - پٹوے کا کام - پٹواری -  
 علاقہ - (ع - لا - لکت) (ع - ۱ - مٹ) بیماری - ڈکھ - روگ - مانڈگی -  
 علام - (دمل - لام) (ع - ۱ - مذ) بہت جاننے والا - ہربات سے واقف -  
 علام الغیوب - (ع - صف) غیب دان چھپی ہوئی باتیں جاننے والا -  
 علامات - (ع - لا - مات) (ع - ۱ - مٹ) علامت کی جمع - نشانیاں -  
 علامت - (ع - لا - مت) (ع - ۱ - مٹ) (۱) نشان - مارک (۲) پتا (۳)  
 سرائح - کھوج (۴) اشارہ - کنایہ (۵) چھاپ - پتھر - لیبل (۶) آثار  
 (بیماری کے) (۷) جمع تفزیل ضرب تقسیم کا نشان (۸) ایسی کا نشان  
 (۹) ناسیل کا نشان - سیل کا پتھر -  
 علامت مبلوغ - (ع - ف - ۱ - مٹ) جوانی کی نشانی - ڈارٹھی مچھ کا نشان -  
 علامت تذکیر و تاثیر - مذمومت (زرد مادہ) پہچاننے کی نشانی -  
 علامہ - (دمل - لا - مٹ) (ع - صف) (۱) بہت جاننے والی (عورت) (فاضلہ (۲)  
 بنائیت چالاک اور عیار (عورت) (۳) (مذ) بنائیت دان اور فاضل مرد -  
 (۴) بنائیت چالاک اور مکار آدمی -

علامہ دہرہ - علامہ الدہرہ - (ع - ف - ۱ - مذ) (۱) زمانے کا فاضل - بہت  
 بڑا عالم (۲) بنائیت چالاک - عیار - مکار -  
 علامی - (دمل - لا - ج) (ع - صف) بہت بڑا عالم - علامہ - اکبر اعظم کے وزیر  
 ابو الفضل کا خطاب -  
 علانیہ - (ع - لا - ن - یر) (ع - صف) خواہرا آشکارا - کھلم کھلا - سب کے  
 سامنے - برسر عام -  
 علاوہ - (ع - لا - وہ) (ع - تابع) (۱) ماسوا - سوا (۲) اور - اوپر - خالصتہ زیادہ  
 اور بھی (اردو میں بفتح اقل مستعمل ہے) -  
 علاوہ ازیں - علاوہ بریں - (ع - متعلق فعل) اس کے سوا - باوجودیکہ -  
 علائق - (ع - لا - ارق) (ع - ۱ - مذ) علاقہ کی جمع - بکچھے - تعلقات -  
 علائق سے چھوٹنا - (۱) محاورہ) تعلقات سے بچنا -  
 علت - (دمل - لکت) (ع - ۱ - مٹ) (۱) بیماری - ڈکھ - روگ (۲) وجہ -  
 سبب - باعث (۳) خواب اور ناکارہ چیز (۴) جھگڑا - بکچھا (۵) عادت بد  
 لکت (۶) عیب - نقص (۷) الزام - ہیبت ان (۸) کوڑا کرکٹ -  
 خس و خاشاک -  
 علت اُبنہ - (ع - ۱ - مٹ) فعل بد کرنے کی عادت - انعام کرنے  
 کی عادت - بولیں -  
 علت تامہ - (ع - ۱ - مٹ) سبب کامل - پورا سبب -  
 علت صوری - (ع - ۱ - مٹ) ظاہری سبب - صورت اختیار کرنے کی وجہ -  
 علت غائی - (ع - ۱ - مٹ) (۱) نتیجہ - حاصل - مقصود اصلی (۲)  
 فائدہ - نفع - سبب - وجہ -  
 علت خارجی - (ع - ۱ - مٹ) سبب ایجاد - وہ سبب جس سے کوئی شے  
 بنائی گئی ہو -  
 علت لگایا - (۱) محاورہ) (۱) عادت ڈال لینا (۲) اپنے پیچھے لگایا -  
 عذاب مولی لینا -  
 علت مشاج - (دیکھئے علت اُبنہ -  
 علت معلول - سبب و سبب -  
 علت جوئی - (۱) محاورہ) عادت جوئی - بیماری جوئی -  
 علتی - (دمل - ل - ق) (ع - ۱ - مٹ) عیب دار - بڑی عادتوں والا - شریر -  
 علت - (ع - ۱ - مذ) گھاس - گیہا - چارہ -  
 علت زار - (ع - ف - ۱ - مذ) چرا گاہ - چرانے کی جگہ -  
 علت - (ع - لکت) (ع - ۱ - مٹ) علت کی جمع - اسباب -  
 علم - (ع - لم) (ع - ۱ - مذ) (۱) جھنڈا - نیزہ - نشان - جھنڈی (۲) وہ نام جس  
 سے آدمی مشہور ہو - خاص نام (۳) مشہور - الم شرح - مسوا - بد نام -  
 (۴) برہنہ - بے خلاف (۶) بلند کرنا - اونچا کرنا - جمع : اعلام -  
 علم اٹھنا - (۱) محاورہ) محترم میں شہدائے کربلا کی یاد میں جھنڈا نکلنا -  
 علم ادب - (ع - ۱ - مذ) کسی زبان کی نثر و نظم کی کتابیں جو کسی خاص علم سے  
 تعلق رکھتی ہوں مگر ان کی زبان اعلیٰ ہو -  
 علم القسانی - (ع - ۱ - مذ) وہ علم جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو -  
 علم ابردار - (ع - ف - صف) جھنڈا اٹھا کر چلنے والا (۲) پیش پیش (۳)

حضرت عباس ابن علی جو معرکہ کربلا میں امام حسین کے علمبردار تھے۔  
 علم لوطیانا - (۱-۱۰) محاورہ) حضرت عباس کی مار پڑنا۔  
 علم دار - (ع- ف- صف) (۱) وہ شخص جو جھنڈا لے کر آگے چلے۔ جھنڈا  
 اٹھانے والا (۲) حضرت عباس ابن حضرت علی کا لقب۔  
 علم کرنا - (۱-۱۰) محاورہ) تلوار ننگی کرنا۔ تیغ یا تلوار کو میان سے نکالنا (۲)  
 بلند کرنا۔ اوجھ کرنا۔

علم ہونا - (۱-۱۰) محاورہ) مشہور ہونا۔ رسوا ہونا۔ بدنام ہونا۔  
 علم - (ع- ۱-۱) مذ (۱) دانش۔ دانائی۔ واقعیت۔ آگاہی (۲) ہنر۔ فن۔ جوہر۔  
 (۳) جادو۔ ٹونا۔ منتر (۴) عملی تفسیر۔ جمع علوم۔

علم اخلاق - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جس کے ذریعے سے لوگوں کی عادات  
 درست ہوں۔ نشست و برخاست کے طریقے۔

علم افعال الاعضاء - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جو نباتات و حیوانات کے  
 اعضاء سے بحث کرے۔ (Anatomy)

علم الابدان - (ع- ۱-۱) مذ) اعضا کی بناوٹ اور ان کے افعال کا علم۔  
 علم الحقیقت - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جو حقائق اشیاء سے بحث کرتا ہے۔

(Theology)

علم الاسماء - (ع- ۱-۱) مذ) ناموں کا علم۔  
 علم بلاغت - (ع- ۱-۱) مذ) تقریر کرنے کا علم۔

علم المعیشت - معاشیات۔ اقتصادیات کا علم۔ (Economies)  
 علم النفس - (ع- ۱-۱) مذ) دیکھے نفسیات۔

علم الوجوه - (ع- ۱-۱) مذ) قیافہ۔ چہرہ دیکھ کر حالات معلوم کرنے کا علم۔  
 علم الہی - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جس میں ان امور سے بحث کی جائے جو وجود  
 خارجی یا عقل میں مادہ کے محتاج نہ ہوں۔

علم الیقین - (ع- ۱-۱) مذ) کسی چیز کی کیفیت اور ماہیت سے پوری  
 پوری آگاہی۔

علم باطن - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جس سے خدا شناسی حاصل ہو۔  
 علم حرکت - وہ علم جو حرکت سے بحث کرتا ہے۔ (Dynamics)

علم حیوانات - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جس میں حیوانات کے حالات کا ذکر ہو۔  
 (Zoology)

علم در سینہ بایندہ در سینہ - (ع- ۱-۱) مذ) مقولہ) علم سینے میں ہونا چاہیے۔  
 نہ کہ کتوں میں یعنی پڑھا ہوا یاد ہونا چاہیے۔

علم طب - (ع- ۱-۱) مذ) دوائیوں کا علم۔  
 علم طبعی یا طبیعیات - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جس میں چیزوں کی خاصیت  
 کا ذکر ہو۔ (Physics)

علم غیب - (ع- ۱-۱) مذ) پوشیدہ باتوں کا علم مستقبل کا علم۔  
 علم فرائض - (ع- ۱-۱) مذ) وراثت کا علم۔

علم کلام - (ع- ۱-۱) مذ) مذہبی امور کو دلائل سے ثابت کرنا۔ مذہبی بحث و  
 مباحثہ کا علم۔

علم کیمیا - (ع- ۱-۱) مذ) چیزوں کے اجزاء اور بناوٹ کا علم (۲) معمولی وصاف  
 اشیاء سے سونا بنانے کا علم۔ (Chemistry)

علم لسانی - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جو کسی کو خدا کی طرف سے براہ راست بعینہ  
 اُتار دیا گیا ہو۔

علم لغت - (ع- ۱-۱) مذ) الفاظ کی بناوٹ اور معانی کا علم۔  
 علم مجلس - (ع- ۱-۱) مذ) مجلس میں نشست و برخاست اور برتاؤ کا علم۔

علم نباتات - وہ علم جس میں نباتات کے متعلق باتیں ہوں (ہنگ) (Botany)  
 علم نجوم - (ع- ۱-۱) مذ) ستاروں کا علم (ہنگ) (Astronomy)

علم وہابی - (ع- ۱-۱) مذ) خدا داد علم جس میں کوشش کو دخل نہ ہو۔  
 علم ہندسہ - کیروں، خطوط اور زاویوں کا علم۔ (Geometry)

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) عالم کی جمع۔ عالم فاضل لوگ۔  
 علمی (ع- ۱-۱) مذ) علم سے منسوب۔ علم سے متعلق۔

علمیت - (ع- ۱-۱) مذ) علم ہونا۔ بدیا۔ علم۔  
 علمیت بگھارنا - (۱-۱) محاورہ) اپنے علم کا رعب ڈالنا۔ موقع بے موقع  
 اپنا صاحب علم ہونا ظاہر کرنا۔

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی۔ اوچھائی۔ برتری۔ رفعت۔  
 علم ہمت - (ع- ۱-۱) مذ) عالی ہمتی۔ بلند ہمتی۔ ارادے کی بلندی۔

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی۔ روزینہ۔  
 علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی۔ نظف قرار پانا۔

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی کی جمع۔ ہمزون۔  
 علوم جدیدہ - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علم جو زمانہ حال میں ایجاد ہوئے ہیں۔

علوم رسمی (رسمیہ) - (ع- ۱-۱) مذ) رائج الوقت علم۔  
 علوم قدیم - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علوم جو زمانہ قدیم سے چلے آتے ہیں۔

علوم امتحانہ - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علوم جو آپس میں ایک دوسرے سے مخالفت  
 یا رابطہ رکھتے ہوں۔

علوم متعارفہ - (ع- ۱-۱) مذ) وہ مشہور و معروف اور صریح باتیں جو دلیل کی  
 بنیاد قائم کرنے کے لیے اختیار کی جائیں۔

علوم مشرقی - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علوم جن کی ابتدا مشرقی ممالک میں ہوئی۔  
 علوم مغربی - (ع- ۱-۱) مذ) وہ علوم جن کی ابتدا مغرب میں ہوئی۔

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی۔ وہ شخص جو حضرت علی کی نسل سے ہو مگر  
 حضرت فاطمہ کے بطن سے نہ ہو۔

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی۔ (۲) ستارہ آسمانی (۳) (صفت)  
 علمی (۴) اعلیٰ درجہ کا۔

علمیت - (ع- ۱-۱) مذ) علمی۔ (۱) ہمت۔ (۲) ہمتی۔ (۳) (صفت)  
 علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی۔ (۱) اوجھائی۔ (۲) بلند ہمتی۔ (۳) (صفت)  
 فیلسفہ چہارم۔

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی یا بازو کا ایک زبور (۲) کشتی کا ایک بیج۔  
 (۳) ایک توہید۔

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی کا لفظ لگانا۔ کوئی مشکل کام  
 کرتے وقت علمی کے نام کا لفظ لگانا۔

علمی - (ع- ۱-۱) مذ) علمی۔ (۱) لفظ (۲) حرف (۳) پیر۔ (۴) اورد۔ (۵) بالہ۔  
 علمی الاتصال - علمی التواضع۔ متواضع۔ چلے در پلے۔ لگاتار۔ سہ کر۔



اور بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔  
 علیہ السلام (التسليم)۔ اس پر سلام یعنی خدا کی عنایت ہو۔  
 علیہم السلام۔ ان سب پر خدا کا سلام ہو (۲) پیغمبروں کے نام کے ساتھ  
 لکھا جاتا ہے۔ بطور اختصار صرف ۷ ہی لکھے جاتے ہیں۔  
 علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ (ع۔ مٹا) اس پر خدا کی رحمت اور سلام ہو۔  
 علیہم۔ (ع۔ جارجورد) ان پر۔  
 علیہم السلام۔ (ع۔ دُعا) ان سب پر خدا تعالیٰ کا سلام۔  
 علیہم الرضوان۔ (ع۔ دُعا) ان سب پر اللہ کی رضامندی ہو۔  
 علیہم۔ (ع۔ لی۔ بین) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) ہیشت کا نام۔ آفتواں آسمان (۲)  
 علیہ کی جمع۔ جنت کے اُوپنے اُوپنے مکان یا اس کی کھڑکیاں۔

علی الاطلاق۔ (ع۔ متعلق فعل) مطلق۔ بے قید۔ آزاد۔ بلا شرط۔  
 علی الاعلان۔ (ع۔ متعلق فعل) گواہوں کے رُو بَرُو۔ علانیہ طور پر۔  
 بے روک ٹوک۔  
 علی التحقيق۔ (ع۔ متعلق فعل) ٹھیک طور پر۔ یقیناً۔  
 علی التوکل۔ (ع۔ متعلق فعل) اختیار کر کے۔ بھروسہ کر کے۔  
 علی الابهال۔ (ع۔ تابع فعل) بجللاً۔ بالاشراک۔ بشمول۔  
 علی الحساب۔ (ع۔ ۱۔ مذ) پھلے ہوئے حساب میں۔ بلا حساب چکائے چیکل  
 علی الحساب دینا۔ قبل از حساب دینا۔ بج کے طور پر دینا۔ پیشگی دینا۔  
 بلا حساب دینا۔  
 علی الخصوص۔ (ع۔ متعلق فعل) خاص کر۔ خصوصاً۔  
 علی الدوام۔ (ع۔ متعلق فعل) ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ دوامی۔ دائمی۔  
 علی الرأس والعین۔ (ع۔ متعلق فعل) سر آنکھوں پر۔ بخوشی۔  
 علی الزعم۔ (ع۔ متعلق فعل) برخلاف۔ برعکس۔ مقابلے میں۔ باوجود اس کے۔  
 علی الصباح۔ (ع۔ متعلق فعل) بہت سویرے۔ تراکے ہی۔ نور کے تراکے۔  
 علی العموم۔ (ع۔ متعلق فعل) عموماً۔ عام طور پر۔  
 علی حالہ۔ (ع۔ متعلق فعل) بدستور۔ اپنی کھلی حالت پر۔  
 علی رؤس الأشباد۔ (ع۔ متعلق فعل) گواہوں کے رُو بَرُو۔ علی الاعلان۔ علانیہ۔  
 علی قدر مراتب۔ (ع۔ متعلق فعل) حسب مرتبہ حیثیت یا مرتبے کے مطابق۔  
 علی کل شئے قدير۔ (ع۔ متعلق فعل) خدا کی تعریف۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔  
 علی وجه البصیرت۔ (ع۔ متعلق فعل) بصیرت سے۔ بصیرت کے طور پر۔  
 علی وجه التفصیل۔ (ع۔ متعلق فعل) مفصل طور سے تفصیل سے۔  
 علی وجه العموم۔ (ع۔ متعلق فعل) ہر جگہ۔ عموماً (۲) سارے۔  
 علی ہذا القیاس۔ (ع۔ متعلق فعل) اسی طرح۔ اسی قیاس پر۔  
 علیاً۔ (عل۔ یا) (ع۔ صفت) اعلیٰ۔ بزرگ۔  
 علیحدگی۔ (ع۔ لا۔ ج۔ نہ کی) (ع۔ ۱۔ مٹ) جہائی۔ تنہائی۔ خلوت۔ (۲) یہ  
 لفظ فارسی والوں نے عربی "علی حدّہ" (اپنی حد پر۔ جُدا۔ الگ) سے  
 بنا لیا ہے۔

## ع۔ م۔

عم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) چچا۔ باپ کا بھائی۔ عمو۔  
 لعم زادہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) چچا زادہ۔ چچا کا بیٹا۔  
 عموی۔ (ع۔ صفت) چچا سے منسوب (۲) (ذ۔ مذ) چچا۔  
 عماد۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (ع۔ ۱۔ مذ) ستون (۲) اعتبار۔ اعتماد (۳) اُوپنے مکان۔  
 عمارات۔ (ع۔ ما۔ رات) (ع۔ ۱۔ مٹ) عمارت کی جمع۔ مکان۔ گھر۔ وہ چیز  
 جو تعمیر کی جائے۔  
 عمارت۔ (ع۔ ما۔ رت) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) آبادی یعنی (۲) مکان۔ محل۔ مسکن۔ گھر۔  
 عمارتی۔ (ع۔ ما۔ رتی) (ذ۔ رُصفت) عمارت سے متعلق۔  
 عماری۔ (ع۔ م۔ ما۔ ری) (ع۔ ۱۔ مٹ) واقعی کا ہودا۔ جو دج۔  
 عمّال۔ (ع۔ م۔ مال) (ع۔ ۱۔ مذ) عامل کی جمع۔ حاکم۔ روپیہ تقسیم کرنے والے  
 عہدہ دار۔ تحصیل دار۔  
 عماسہ۔ (ع۔ ما۔ نہ) (ع۔ ۱۔ مذ) پرگٹی۔ دستار۔ سر پہنچ (اُردو میں پنج آؤل  
 مستعمل ہے)۔

عمامہ اتارنا۔ (۱۔ عاورد) مسوا کرنا۔ بے آبرو کرنا۔ بگڑی چھین لینا۔  
 عمائد۔ (ع۔ ما۔ د) (ع۔ ۱۔ مذ) عمید کی جمع۔ قوم کے سردار۔ معززین۔ بیچ عمائدین  
 عمد۔ (ع۔ مذ۔ عمد) (ع۔ ۱۔ مذ) قصد۔ ارادہ۔ نیت۔ عزم۔  
 عمداً۔ (ع۔ مذ۔ دن) (ع۔ ۱۔ مذ) تابع فعل (قصداً) ارادہ۔ جان بوجھ کر۔ دانستہ۔  
 عمدگی۔ (ع۔ مذ۔ کی) (ع۔ ۱۔ مٹ) خوبی۔ دصفت۔ گئی۔  
 عمدہ۔ (ع۔ مذ۔ دہ) (ع۔ ۱۔ صفت) (اصل میں عمدۃ تھا) (۱) عمدہ۔ اعتبار والا (۲)  
 اچھا۔ خوب۔ بھلا (۳) شریف۔ امیر۔ دولت مند۔ ذی عزت۔ ذی مرتبہ۔  
 فتنب۔ پسندیدہ (۴) نفیس۔ تحفہ۔ قابل تعریف (۵) اول درجے کا۔ اعلیٰ  
 درجے کا (۶) خالص۔ بکھرا (۷) لذیذ (۸) قیمتی (۹) نیک (۱۰)  
 خوبصورت (ع۔ ۱۔ مذ) (۱۱) ستون (۱۲) اعتبار۔ اعتماد۔ بھروسہ  
 (۱۳) سردار۔

عمامہ اتارنا۔ (۱۔ عاورد) مسوا کرنا۔ بے آبرو کرنا۔ بگڑی چھین لینا۔  
 عمائد۔ (ع۔ ما۔ د) (ع۔ ۱۔ مذ) عمید کی جمع۔ قوم کے سردار۔ معززین۔ بیچ عمائدین  
 عمد۔ (ع۔ مذ۔ عمد) (ع۔ ۱۔ مذ) قصد۔ ارادہ۔ نیت۔ عزم۔  
 عمداً۔ (ع۔ مذ۔ دن) (ع۔ ۱۔ مذ) تابع فعل (قصداً) ارادہ۔ جان بوجھ کر۔ دانستہ۔  
 عمدگی۔ (ع۔ مذ۔ کی) (ع۔ ۱۔ مٹ) خوبی۔ دصفت۔ گئی۔  
 عمدہ۔ (ع۔ مذ۔ دہ) (ع۔ ۱۔ صفت) (اصل میں عمدۃ تھا) (۱) عمدہ۔ اعتبار والا (۲)  
 اچھا۔ خوب۔ بھلا (۳) شریف۔ امیر۔ دولت مند۔ ذی عزت۔ ذی مرتبہ۔  
 فتنب۔ پسندیدہ (۴) نفیس۔ تحفہ۔ قابل تعریف (۵) اول درجے کا۔ اعلیٰ  
 درجے کا (۶) خالص۔ بکھرا (۷) لذیذ (۸) قیمتی (۹) نیک (۱۰)  
 خوبصورت (ع۔ ۱۔ مذ) (۱۱) ستون (۱۲) اعتبار۔ اعتماد۔ بھروسہ  
 (۱۳) سردار۔  
 عمدۃ الملک۔ (ع۔ ۱۔ مذ) سلطنت کا ستون۔ علی اعلیٰ عہدہ داروں کا  
 خطاب جو شاہی زمانے میں دیا جاتا تھا۔

عمامہ اتارنا۔ (۱۔ عاورد) مسوا کرنا۔ بے آبرو کرنا۔ بگڑی چھین لینا۔  
 عمائد۔ (ع۔ ما۔ د) (ع۔ ۱۔ مذ) عمید کی جمع۔ قوم کے سردار۔ معززین۔ بیچ عمائدین  
 عمد۔ (ع۔ مذ۔ عمد) (ع۔ ۱۔ مذ) قصد۔ ارادہ۔ نیت۔ عزم۔  
 عمداً۔ (ع۔ مذ۔ دن) (ع۔ ۱۔ مذ) تابع فعل (قصداً) ارادہ۔ جان بوجھ کر۔ دانستہ۔  
 عمدگی۔ (ع۔ مذ۔ کی) (ع۔ ۱۔ مٹ) خوبی۔ دصفت۔ گئی۔  
 عمدہ۔ (ع۔ مذ۔ دہ) (ع۔ ۱۔ صفت) (اصل میں عمدۃ تھا) (۱) عمدہ۔ اعتبار والا (۲)  
 اچھا۔ خوب۔ بھلا (۳) شریف۔ امیر۔ دولت مند۔ ذی عزت۔ ذی مرتبہ۔  
 فتنب۔ پسندیدہ (۴) نفیس۔ تحفہ۔ قابل تعریف (۵) اول درجے کا۔ اعلیٰ  
 درجے کا (۶) خالص۔ بکھرا (۷) لذیذ (۸) قیمتی (۹) نیک (۱۰)  
 خوبصورت (ع۔ ۱۔ مذ) (۱۱) ستون (۱۲) اعتبار۔ اعتماد۔ بھروسہ  
 (۱۳) سردار۔  
 عمدۃ الملک۔ (ع۔ ۱۔ مذ) سلطنت کا ستون۔ علی اعلیٰ عہدہ داروں کا  
 خطاب جو شاہی زمانے میں دیا جاتا تھا۔







عیاشی - (عجی - یا - شی، ڈار - ا. مٹ) ۱. عیش و عشرت - تن آسانی (۲) تماش بینی - نفس پرستی - ادباشی -

عیاشی کرنا - (۱) محاورہ) تماش بینی کرنا - مزے اٹانا -

عیال - (ع - یال - یال - بع - یال) ۱. ذمہ دار - فرزند - بال بچے - متعلقین -

عیال دار - (ع - ف - صفت) کہنے والا - بال بچے والا -

عیال داری میں پھنسا - (۱) محاورہ) بال بچوں میں گرفتاری - گھر بار اور خانہ داری کے جھگڑے بچھڑے میں پڑنا -

عیال - (ع - یال) ۱. صفت) عاہر علائقہ - کم نفع - کھلا ہوا - نو دار -

عیال راچہ میاں - (ف - مٹ) مثل) ظاہر اور علائقہ چیز کو بیان کرنے کی

مزدورت نہیں -

عیب - (ع - ا - مذ) ۱. نقص - بُرائی - خرابی - داغ - روگ - گناہ - قصور -

جمع ، عیوب -

عیب اُٹھانا - (۱) محاورہ) تشہیر کرنا - راز فاش کرنا - عیب بیان کرنا -

عیب بکھانا - (۱) محاورہ) ۱) نقص بیان کرنا (۲) بھید کھول دینا -

عیب ہیں - عیب جو یا - عیب جو - عیب چھین - عیب گیر - (ع - ف -

۱ - صفت) عیب ڈھونڈنے والا حرف گیر - نقص نکالنے والا - نکتہ چینی عیب

پکڑنے والا -

عیب بینی - عیب جوئی - عیب چینی - عیب گیری - (ع - ف - ا. مٹ)

عیب ڈھونڈنا - عیب نکالنا - نقص نکالنا -

عیب پوش - (ع - ف - صفت) لوگوں کے عیب چھپانے والا - اوپر کی

مُندہ پوشاک -

عیب پوشی - (ع - ف - ا. مٹ) ۱) چشم پوشی - اعراض - پردہ پوشی -

عیب جاننا - (۱) محاورہ) بُرا بھنا - بُرا خیال کرنا -

عیب جو - (ع - ف - صفت) عیب ڈھونڈنے والا - نکتہ چینی -

عیب چھپانا - (۱) محاورہ) پردہ پوشی کرنا -

عیب چھین - (ع - ف - ا. صفت) عیب چھیننے والا - نکتہ چینی -

عیب خود ہر کے می بیند - (ف - مٹ) ۱) اپنا عیب کسی کو معلوم نہیں ہوتا -

عیب دار - (ع - ف - صفت) عیبی - ناقص جس میں کچھ عیب ہو -

عیب ڈھا ٹکنا - (۱) محاورہ) عیب چھپانا -

عیب سے بُری ہونا (پاک ہونا) - (۱) محاورہ) بے عیب ہونا - بے

نقص ہونا -

عیب کرنے کو بھی ہنتر چاہیے - عیب کردن را ہنترے باید -

۱) - ف - مٹ) مثل) عیب کرنے کے لیے بھی ایسا قیامت چاہیے -

عیب لگانا - (۱) محاورہ) ۱) لازم دھرنا - پستان باندھنا - داغ لگانا (۲) بدنام

کرنا - رسوا کرنا (۳) محنت میں فرق ڈالنا - عزت بگاڑنا -

عیب نکالنا - (۱) محاورہ) نکتہ چینی کرنا - بُرائی ظاہر کرنا -

عیب و ثواب - (ع - ف - ا - مذ) بُرائی - بھلائی -

عیب و ہنتر کھل جانا - (۱) محاورہ) اچھائی بُرائی ظاہر ہو جانا -

یہاں جملہ لغتی ہنترش نیز ہوگو - (ف - مٹ) مثل) عیب تو سارے گوا دینے - اس کی نیکیاں بھی بیان کر دو -

عہد اسطیری - (ع - ا - مذ) وہ زمانہ قدیم جس کا ذکر صرف قصے کہا نیوں میں ہے - عہد با قبل تاریخ -

عہد باندھنا - (۱) محاورہ) چکا وعدہ کرنا - اقرار کرنا - ٹھاننا -

عہد توڑنا - (۱) محاورہ) اقرار کے خلاف کرنا - قول و قرار پر نہ رہنا -

عہد جدید - (ع - ا - مذ) موجودہ زمانہ - نیا زمانہ (۲) انجیل -

عہد حکومت - (ع - ا - مٹ) سلطنت کا زمانہ - ایام حکومت -

عہد سے پھرنا (مخرف) ہو جانا - (۱) محاورہ) قول و قرار سے پھر جانا -

عہد شکن - (ف - ا - مذ) وعدہ خلاف - اپنے قول و قرار پر نہ رہنے والا -

عہد شکنی - (ف - ا - مٹ) وعدہ خلافی - اقرار کے خلاف -

عہد عتیق - (ع - ا - مذ) زمانہ قبل از تاریخ (۲) تواریخ -

عہد کر لینا - (۱) محاورہ) ۱) قسم کھا لینا (۲) قسم ادا کرنا (۳) وعدہ کر لینا -

قول و قرار کر لینا -

عہد لینا - (۱) محاورہ) قسم لینا - کسی امر کا وعدہ لینا -

عہد میں - (۱) تابع فعل) زمانہ میں - دور میں - وقت میں -

عہد نامہ - (ع - ف - ا - مذ) معاہدہ تحریری - اقرار نامہ - وہ کاغذ جو قول و

قرار کے وثوق کے لیے لکھا جاتا ہے -

عہد نامہ جدید - (ع - ف - ا - مذ) انجیل کا وہ حصہ جس میں حضرت یسے اور

ان کے پر بیان خاص کے عہد کے حالات درج ہیں -

عہد نامہ قدیم - (ع - ف - ا - مذ) انجیل کا وہ حصہ جس میں حضرت عیسیٰ سے

پہلے کے حالات درج ہیں -

عہد و پیمان - (ع - ف - ا - مذ) قسمی - اقرار - عار - قول و اقرار -

عہدہ - (ع - ا - مذ) ۱) مہنت - مہانت (۲) منصب - سرداری - افسری -

عہدہ بر آہونا - (۱) محاورہ) بڑی اذیت ہونا - فرض ادا کرنا - وعدہ پورا کر دینا -

عہدہ پانا - (۱) محاورہ) منصب حاصل کرنا - درجہ پانا -

عہدہ دار - ذی رتبہ - افسر - صاحب منصب -

عہود - (ع - ا - مذ) عہد کی جمع - وعدے معاہدے -

## ع - ی

عیادت - (ع - یا - دت) ۱. مٹ) ۱) عیادت - عیادت - عیادت - عیادت -

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) عیادت کرنا - عیادت کرنا - عیادت کرنا -

عیادت - (ع - یا - دت) ۱. مٹ) ۱) عیادت - عیادت - عیادت - عیادت -

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) عیادت کرنا - عیادت کرنا - عیادت کرنا -

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) عیادت کرنا - عیادت کرنا - عیادت کرنا -

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) عیادت کرنا - عیادت کرنا - عیادت کرنا -

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) عیادت کرنا - عیادت کرنا - عیادت کرنا -

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) عیادت کرنا - عیادت کرنا - عیادت کرنا -

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) عیادت کرنا - عیادت کرنا - عیادت کرنا -

عیادت کرنا - (۱) محاورہ) عیادت کرنا - عیادت کرنا - عیادت کرنا -

عجیبی - (سے - بی) (ڈاڑ - ۱ - مذ) (۱) عیب دار - ناقص (۲) تھریر - بد ذات (۳) روگی - مریض (۴) میوب -  
 رعید - (ع - ۱ - مٹ) لغوی معنی جو بار بار آئے (۱) مسلمانوں کے جشن کا روز - خوشی کا ہوا (۲) نہایت خوشی -  
 رعید اخصی - رعید الاخصی - (ع - ۱ - مٹ) بقرعید مسلمانوں کا وہ ہوا جو دس ذوالحجہ کو منایا جاتا ہے جس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے -  
 رعید غدیر - (ع - ۱ - مٹ) اہل تشیع کی روایت کے مطابق حضورؐ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں خم غدیر میں حجۃ الوداع سے واپسی پر حضرت علیؑ کو حدیث من کنت مولاً فعلی مولاً کے رو سے اپنا خلیفہ قرار دیا۔ شیعہ حضرات یہ دن ۱۸ ذوالحجہ کو مناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس حدیث سے خلافت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔  
 رعید الفطر - (ع - ۱ - مٹ) رمضان کے بعد کی عید جو شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے روزوں کی تکمیل پر منائی جاتی ہے۔  
 رعید قربان - (ع - ۱ - مٹ) عید جس میں قربانی کی جائے - عید اخصی -  
 رعید کا چاند - (۱ - مذ) (۱) رمضان کے بعد کا چاند (۲) سوال کا ہینہ (۳) قابلِ اشتیاق - وہ شخص جسے مدت کے بعد میں انتظار یا حالتِ اشتیاق میں رکھیں  
 رعید کا چاند نکلنا - (۱ - محاورہ) (۱) عید کے چاند کا نظر آنا (۲) جس شخص کی ملاقات کا اشتیاق ہو اس کا یکایک بل جانا۔  
 رعید کا چاند ہو جانا - (۱ - محاورہ) کمالِ اشتیاق اور آرزو کے بعد ملنا۔  
 رعید کا دو گانہ - (۱ - مذ) عید کی دو رکعت نماز۔  
 رعید کرنا - (۱ - محاورہ) خوشی کرنا۔ جشن منانا۔  
 رعید کے پیچھے ٹر - (۱ - مٹ) عید کے دوسرے روز کا میلہ - وقت گزر جانے کے بعد خوشی کی بے موقع نقل کرنا۔ ہوا نکل گیا تو خوشی کیسی بے موقع ہوئی۔  
 رعید کے پیچھے چاند مبارک - (۱ - مٹ) بے عمل مبارک باد دینا۔  
 رعید گاہ - (ع - ۱ - مٹ) وہ مقام جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔  
 رعید منانا - (۱ - محاورہ) خوشی کرنا۔ جشن منانا۔  
 رعید میلاد - (ع - ۱ - مذ) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔  
 رعید نوروز - (ع - ۱ - مٹ) ایرانی سال کا پہلا دن۔  
 رعید ہو جانا - رعید ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) عید کا ہوا ہونا (۲) کمالِ خوشی ہونا - مراد برآنا۔  
 رعیدی - (جی - دی) ڈاڑ - ۱ - مذ (۱) عید کا انعام - عید کا خرچ ہو جانے کو دیا جائے (۲) وہ مٹائی اور نقدی دینہ جو عید کے دن کسٹھال سے آئے۔  
 یادوں بیچی جانے (۳) وہ خوش ناک خاندان جس پر عید کے اشعار لکھے جوتے ہیں۔  
 رعیدین - (ع - ۱ - مٹ) وہ دن عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔  
 عیسا - عیسیٰ - (جی - سا) - (ع - ۱ - مذ) (۱) گناہ سے بچانے والا (۲) ایک پیغمبر جو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان پر انجیل نازل ہوئی۔  
 عیسیٰ بدین خود موسیٰ بدین خود - (مٹ) ہر شخص اپنے مذہب سے کام رکھے۔ دوسرے کے مذہب سے کیا واسطہ۔  
 عیسیٰ دم - (ع - ۱ - مٹ) پھونک سے مرادوں کو زندہ کرنے والا۔ کالی بزرگ۔

عیسیٰ دوران - (ع - ۱ - ف) (۱ - ص) کابل حبیب۔  
 عیسیٰ نفس - (ع - ۱ - مٹ) پھونک سے مرادوں کو زندہ کرنے والا۔ ولی کامل۔  
 عیسانی - (جی - سا - ای) ڈاڑ - ۱ - مذ) نصرانی - مسیحی حضرت عیسیٰ کے پیرو اور ان کے ماننے والے (صفت) دین مسیحی سے متعلق۔  
 عیسوی - (جی - سی - وی) (ع - ۱ - ص) مسیحی - حضرت عیسیٰ سے متعلق۔ وہ سن جو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہوا۔  
 عیش - (ع - ۱ - مذ) (۱) عشرت - آرام - چین - لکھ - خوشی - مزہ (۲) خواہشوں کا پورا کرنا۔ (۳) شہوت پرست (۴) شراب اور عورت کا لطف (۵) خوشی سے زندگی گزارنا۔  
 عیش آرام حرام کرنا - (۱ - محاورہ) آرام و آسائش کی پروا نہ رکھنا۔  
 عیش اڑانا - (۱ - محاورہ) مزے اڑانا۔ لطف حاصل کرنا۔  
 عیش تلخ کرنا - عیش منغض کرنا - (۱ - محاورہ) عیش و آرام میں خلل اٹھا ہونا۔  
 عیش کا بندہ - (۱ - مذ) (۱) آرام طلب - نفس پرست (۲) عیاش۔  
 عیش کوش - (ع - ۱ - ف) (ص) عیش و عشرت کرنے والا۔  
 عیش و عشرت - (۱) خوشی و مفرحی - عیش و نشاط (۲) نفسانی خوشی۔  
 عیش و عشرت میں پڑنا - (۱ - محاورہ) زندگی کے مزے اڑانا۔ عیاشی کرنا۔  
 عیش ہونا - (۱ - محاورہ) مزے ہونا۔ لطف ہونا۔  
 عین - (ع - ۱ - مٹ) (۱) آنکھ - چشم (۲) پانی کا چشمہ (۳) حقیقت - جو ہر (۴) حقیق بیٹائی - سگالائی (۵) (ص) ٹھیک - جو ہر - درست - صحیح - بیٹوں۔  
 عین الحاد - (ع - ۱ - مذ) ٹھیک دوستی - اصل دوستی - گہرا یارانہ۔  
 عین المال - (ع - ۱ - مذ) اصل زد - خاص سرکاری خزانہ - وہ روپیہ جو زمین کے خراج سے وصول ہو۔  
 عین البین - (ع - ۱ - مذ) کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر عین کرنا۔  
 عین بعین - (ع - ۱ - مٹ) متعلق فعل) جو ہو - ویسا ہی ٹھیک ٹھیک۔  
 عین صواب - (ع - ۱ - مٹ) متعلق فعل) بالکل ٹھیک۔  
 عین عنایت - (ع - ۱ - مٹ) بڑی مہربانی۔  
 عین مرضی - (ع - ۱ - مٹ) اصل مرضی۔  
 عین تصدود - (ع - ۱ - مذ) اصل مطلب۔  
 عین وقت - (ع - ۱ - مذ) ٹھیک وقت - نازک وقت۔  
 عینک - (سے - نک) (ع - ۱ - مٹ) آنکھ کا چشمہ۔  
 عینک باز - (ع - ۱ - ف) (ص) شوقیہ چشمہ لگانے والا۔  
 عینک ساز - (ع - ۱ - ف) (مذ) عینک بنانے والا۔  
 عینک لگا کر دیکھو - (۱ - مقولہ) غور سے دیکھو۔  
 عینک لگانا - (۱ - محاورہ) عینک سے ٹھیک دکھائی دینا۔  
 عینتی - (سے - نی) (ع - ۱ - ص) (۱) آنکھ سے متعلق - دیکھا ہوا (۲) سگا۔  
 عینتی شہادت - (ع - ۱ - مٹ) چشم دید گواہی۔  
 عینتی گواہ - (ع - ۱ - ف) (مذ) وہ گواہ جس نے خود واقعہ دیکھا ہو۔ چشم دید گواہ۔  
 عینتت - (ع - ۱ - مٹ) اصل ذات یا اصل حقیقت۔  
 عینوب - (ع - ۱ - یوب) (ع - ۱ - مذ) عیب کی بج - بُرائیاں - نقائص۔  
 عینون - (ع - ۱ - یون) (ع - ۱ - مذ) عین کی بج - (۱) چشمے (۲) آنکھیں۔



غائب کھیلنا۔ (۱۔ محاورہ) بیٹھ موڑ کر شطرنج کھیلنا۔

غائب ہونا۔ (۱۔ محاورہ) پوشیدہ ہونا بچپنا۔ چوری ہونا۔ چوری جانا۔

غائبانہ۔ (ع۔ غا۔ با۔ نہ)۔ (ع۔ ف۔ تا۔ یح۔ فعل) غیر حاضری میں غیر موجودگی میں بیٹھنا۔

غائر۔ (ع۔ صفت) (۱) گہرا (۲) وسیع۔ نشیب۔ جمع، غائرین۔

غائی۔ (ع۔ صفت) آخری۔ غایت سے منسوب۔

غایات۔ (ع۔ صفت) (۱) غرض۔ مطلب (۲) مہنت۔ آخر۔ انجام۔ جمع، غایات۔

غایت الأمر۔ (ع۔ متعلق فعل) انجام کار۔ آخر کار۔

غایت درجہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) حد درجہ۔ اہتائی۔

## ع۔ پ

عقب۔ (اُڑ۔ ا۔ مذ) (۱) پھوٹی بات۔ شیخی کی بات۔ گپ (۲) ضرب کی آواز (ق) (۳) جلدی سے حلق میں اتر جانے کی آواز۔

عقب شپ۔ (ا۔ صفت) (۱) لغز بائیں (۲) دقت گزار کی بائیں۔ تفریح۔

عقباً۔ (عقب۔ یا) (اُڑ۔ ا۔ صفت) جلدی سے اندر اتر جانے والا (۲) دھوکا۔

عقباً عقب۔ (اُڑ۔ ا) متواتر مسلسل۔ پے در پے (۲) کسی چیز کی طام چیز کے اندر آتے جانے کی آواز۔

عقب پوچھ۔ (عقب۔ یا) (اُڑ۔ ا۔ صفت) جلدی سے اندر اتر جانے والا (۲) دھوکا۔

عقب پوچھی۔ (عقب۔ پی) (اُڑ۔ صفت) جھوٹا۔ ڈینگین مارنے والا۔ پٹاٹھا۔

## ع۔ ب

عقب۔ (ع۔ ا۔ صفت) باری کا بخار۔ توجی بخار۔

عقبار۔ (ع۔ ع۔ بار) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) گرد۔ دھول۔ خاک (۲) گرد ملی ہوئی ہوا (۳) رنج۔ طال۔ آذر دگی (۴) ایک خط کا نام۔

عبار آلود۔ عبارت آلودہ۔ (ع۔ ف۔ صفت) (۱) گرد میں بھرا ہوا (۲) ہٹی میں اٹا ہوا۔

عبار آنا۔ (۱۔ محاورہ) دل میلا ہو جانا۔ کدورت پیدا ہو جانا۔

عبار اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) زمین سے گرد کا بلند ہونا (۲) آندھی آنا۔ آندھی اٹھنا (۳) طال ڈور ہو جانا۔ تعلقات کا بحال ہو جانا۔

عبار بڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) کدورت زیادہ کرنا۔ طال بڑھانا۔

عبار پھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دل میں کدورت پیدا ہو جانا (۲) اڑی ہوئی گرد کا بیٹنا۔

عبار پھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گرد کا پھیل کر کسی جگہ اکٹھا ہونا (۲) دُخندھا جانا۔

عبار پھٹنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ضلع صفائی ہو جانا (۲) گرد کا بیٹھ جانا۔

عبار خاطر۔ (ع۔ ا۔ مذ) دل کا نسل۔ کدورت۔ رنج۔ طال۔

عبار راہ۔ (ع۔ ا۔ مذ) راہ میں اڑنے والی گرد۔

عبار رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) کدورت رکھنا۔ رنج رکھنا۔

عبار نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) دل کی کدورت کا اظہار کرنا۔ دل کی بھڑاس نکالنا۔

رنج کی باتیں کرنا۔ مخالفت کرنا۔

عبار ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہوا میں گرد ہونا (۲) آپس میں رنجیدگی ہونا (۳) آنکھوں سے کم نظر آنا۔

عبار۔ (ع۔ با۔ را) (اُڑ۔ ا۔ مذ) (۱) ایک باریک کاغذ کا بنا ہوا قسلا جس کے اندر تیل میں ترکی ہوئی گیند رکھ کر اور اسے روشن کر کے ہوا میں اڑاتے ہیں (۲) ایک قسم کی آتش بازی (۳) ہوا میں اڑنے والا ایک قسم کا بیلون۔

(Balloon) (۴) گولا (۵) بڑی تنگ منہ کی تھیلی جس میں ہوا بھر کر اسے کھینچتے ہیں۔

عبار سے ہوا نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) شیخی کر کر کرنا۔ غرور ٹوٹنا۔

عباروت۔ (ع۔ با۔ وت) (ع۔ ا۔ صفت) کم فہمی۔ گندہ ذہنی۔

عبارت۔ (ع۔ ب۔ نکر) (ع۔ ا۔ مذ) کسی کی دولت پر اُس کے زوال کی خواہش کے بیزرشک کرنا۔ رشک۔ برابری کی خواہش۔

عبارت۔ (ع۔ ب۔ نکر) (ع۔ ا۔ مذ) ٹھوڑی کے بیٹے کا لشکا ہوا گوشت۔

عبارت۔ (ع۔ ب۔ نکر) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) خود بُرد۔ امانت میں خیانت۔ دغا بازی۔

## ع۔ ت

عنت رُبوذ (عتر بلود)۔ (عنت۔ رُ۔ رُبوذ) (ع۔ ت۔ رُبوذ) (اُڑ۔ صفت) (۱) ملا جلا۔

گڈ گڈ (۲) گڑ بڑ۔ برباد کرنا۔ خواب کرنا۔ کہتے ہیں کسی جاہل شاگرد نے اُستاد سے کہا سعدی کے مصرع "کہ سعدی کہ گونے بلا عنت ربود" سمجھ میں تو آ گیا ہے مگر عنت ربود کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس سبب سے مشہور ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مصرع متذکرہ کے معنی سمجھتے وقت ہم عالم

طلانے شاگرد کو بتایا کہ "سعدی کی گیند بلا کی" پھر کہا عنت ربود، میٹھو عربی کا ہے۔ آگے پڑھ۔ رول شہرت ہو گئی۔

عنت ربود (عتر بلود) کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ملا جلا دینا۔ گڈ گڈ کر دینا (۲) بڑا لینا۔ اڑا لینا (۳) خواب کر دینا۔ برباد کر دینا۔

## ع۔ ٹ

عُٹ۔ (اُڑ۔ ا۔ مذ) (۱) ہجوم۔ اڑدھام۔ غول (۲) حلق میں اتر جانے کی آواز۔ گھونٹ

گھونٹ پانی پینے کی آواز (۳) ایک دم فوراً۔

عُٹ بیٹ ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) باہم لڑائی میں گتھ جانا۔

عُٹ عُٹ۔ (ا۔ صفت) جلدی جلدی پانی پینے کی آواز۔

عُٹ عُٹ پینا (چڑھنا)۔ (۱۔ محاورہ) کسی رتین چیز کو جلدی جلدی پینا۔

عُٹ کے عُٹ۔ (ا۔ صفت) غول کے غول۔ عُٹ کے عُٹ۔ انہوہ کثیر۔

عُٹا۔ (ق۔ ا۔ مذ) لُٹا۔ ڈاٹ۔

عُٹا عُٹا۔ (ع۔ ٹا۔ عُٹ) (اُڑ۔ ا۔ صفت) متواتر پینے کی آواز۔ بغیر سانس لیے پینے کی کیفیت۔ ایک دم۔





عزازہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دوا کی کئی کرنا۔

عزاز۔ (ق۔ صفت) سرکش۔ مغزور۔ متکبر (۲) شجاع۔ بہادر۔  
عزازی۔ سرکشی۔

عزرائی۔ (عز۔ ماں) (ق۔ صفت) (۱) خول خوار (۲) دھارنے والا۔ گھسنے والا۔  
عزرائی۔ (عز۔ ماں) (ق۔ صفت) (۱) دھارنے والا۔ گھسنے والا۔ (۲) دھارنا۔ عزز کرنا۔ ڈرانا۔  
گھر کرنا (۳) گھرانے کا۔

عزازہٹ۔ (۱۔ صفت) عزز آنے کی آواز۔

عزازتیب۔ (عز۔ را۔ اب) (عز۔ ا۔ مذ) (۱) عجیب وغریب۔ اونکھے۔ نوادر عجیب  
کی جمع یعنی عجیب۔

عزرب۔ (عز۔ ا۔ مذ) (۱) سورج ڈوبنے کی جگہ (۲) نگاہ سے اوجھل ہونا مغرب ہیچم  
عزربا۔ (عز۔ را۔ با) (عز۔ ا۔ مذ) غفلت۔ نادار (۲) مسافر پر دلچسپی۔ مغرب کی جمع۔

عزربال۔ (عز۔ بال) (عز۔ ا۔ مذ) (۱) چھلنی (۲) پیٹ کا ہلکا۔ کم ظرف۔

عزربت۔ (عز۔ بت) (عز۔ ا۔ مذ) (۱) مسافر۔ بے وطنی (۲) غفلت۔

عزربت اندر وطن۔ (عز۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱) صوفیاء اور مستوفیوں کی ایک اصطلاح  
جب انسان صفات خدا میں محو ہو کر صفات بشری سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔  
تو اس حالت کو عزربت اندر وطن کہتے ہیں (۲) بے چارگی۔

عزربت دیدہ۔ عزربت زدہ۔ عزربت کا مارا۔ (عز۔ ف۔ صفت) (۱)  
پر دلچسپی میں (۲) غفلت۔ محتاج (۳) وطن سے دوری کا ستا یا ہوا۔

عزربی۔ (عز۔ بی) (عز۔ صفت) مغرب سے منسوب۔ مغرب کارہنے والا (۲) سرنگ بھوک کی شرب  
عزربچہ۔ (عز۔ بی) (عز۔ صفت) (۱) گھنی بھاڑی

عزربش۔ (عز۔ رش) (عز۔ ا۔ صفت) (۱) ناراض ہونا۔ غصہ ہونا۔ عززانا۔ حیثیت۔

عزرض۔ (عز۔ رض) (عز۔ ا۔ صفت) (۱) مطلب۔ ضرورت (۲) حاجت۔ پروا (۳)  
ارادہ (۴) ہدف۔ نشانہ (۵) حاصل کلام۔ قصہ مختصر۔ پس (۶) کلام تعلق جمع۔ اعزاز  
عزرض آتش۔ عزرض آلود۔ عزرض آمیز۔ (عز۔ صفت) (۱) مطلبی۔ خود عزرض۔

لاچی۔ چریس (۲) اپنی الوقت۔ توجہ پرست۔

عزرض آسچی ہونا۔ عزرض آنگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کام آپڑنا۔ مطلب ہونا۔  
لاچی ہونا۔ ضرورت ہونا۔

عزرض باؤلی ہوتی ہے۔ (۱۔ مثل) مطلب آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔

عزرض پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی سے کچھ کام ہونا۔ حاجت ہونا۔

عزرض چٹانا۔ (۱۔ محاورہ) ضرورت سے باخبر کرنا (۲) کچھ مانگنا۔

عزرض کو گوئے عذابست جان مجنوں را (عزرض کی جان کے لیے دو ہرا  
بلائے صحبت لیلی و فرقت لیلی) عذاب ہے۔ لیلی کی صحبت کی  
بل اور اس کی بے ادبی ہر طرح مشکل ہے۔

عزرض ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کام پڑنا (۲) کسی کے متعلق کوئی کام ڈالنا۔

عزرض رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مطلب رکھنا (۲) امید رکھنا (۳) آرزو رکھنا۔

عزرض کا آتش (دوست۔ یار)۔ (۱۔ مثل) (۱) مطلبی دوست (۲)  
خود عزرض دوست۔

عزرض کا باؤلا۔ (۱) حاجت مند (۲) مطلب کا غلام۔ مطلبی۔ لالچی۔

عزرض کا باؤلا اپنی گاؤ سے۔ (۱۔ مثل) عزرضند اپنی ہی بات کی دوسن  
میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے کی نہیں سنتا۔

عزرض کہ (عزرضنیکم)۔ (عز۔ متعلق فعل) حاصل مطلب یہ ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے  
عزرض کے لیے گدھے کو باب بنانا پڑتا ہے۔ (۱۔ مثل) اپنا کام نکالنے  
کے لیے ذیل سے ذیل کی بھی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔

عزرض مند۔ (عز۔ ف۔ صفت) حاجت رکھنے والا جس کا کام اٹکا ہو (۲) مطلبی۔

عزرض نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) مطلب سیدھا کرنا۔ حاجت پوری کر لینا۔

عزرض نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) مطلب براری کرنا۔ کام نکل جانا۔ مقصد حاصل  
ہو جانا۔

عزرض نکلی آنکھ بدلی۔ (۱۔ مثل) مطلب پورا ہو جانے پر پروا نہ کرنا۔

عزرض ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مطلب ہونا۔ واسطہ ہونا۔ کام پڑنا۔ تعلق ہونا۔

عزرضی۔ (عز۔ رضی) (عز۔ صفت) (۱) لالچی۔ (۲) مطلب مند۔ مطلبی۔

عزرضہ۔ (عز۔ رضہ) (عز۔ ا۔ مذ) عزرازہ۔ لالچی۔

عزرضات۔ (عز۔ رضات) (عز۔ ا۔ مذ) عزرض کی جمع۔ دوپچے کھڑکیاں۔

عزرضش۔ (عز۔ رضش) (عز۔ ا۔ صفت) دھکی۔ ٹکڑا۔ غصہ (۲) عززانا۔

عزرضہ۔ (عز۔ رضہ) (عز۔ ا۔ مذ) (۱) بالاعانہ۔ برآمدہ۔ کھڑکی۔ درپچہ (۲) غلوت۔  
گوشہ تہنائی۔

عزرض کی بات۔ (عز۔ ا۔ مذ) پریشیدہ بات۔ راز مخفی۔ بھید۔

عزرض۔ (عز۔ صفت) (۱) ڈوبا۔ مزین (۲) محو (۳) اوجھل۔ غائب (۴)  
نہنہ میں پور۔

عزرض کرنا۔ (عز۔ کرنا) (۱) پانی کے نیچے پھینا دینا (۲) محو کرنا۔

عزرض ہونا۔ (عز۔ کرنا) (۱) ڈوبنا۔ پانی کا سر سے گند جانا (۲) بہت صرف  
ادراشخول ہونا (۳) نشیں پور ہونا۔

عزرض قاب۔ (عز۔ قاب) (عز۔ صفت) پانی میں ڈوبا ہوا۔

عزرضی۔ (عز۔ قی) (عز۔ صفت) ڈوبا ہوا۔ عزرض شدہ۔ ڈوبنے والا۔ پانی میں ڈوبی  
ہوئی زمین۔

عزرضی آنا۔ (۱۔ محاورہ) سیلاب آنا۔

عزرضی۔ (عز۔ قی) (عز۔ صفت) ڈوب۔ دہشت۔

عزرضوب۔ (عز۔ رُوب) (عز۔ ا۔ مذ) (۱) سورج یا چاند ڈوبنا (۲) زوال۔ خاتمہ۔

عزرضوب ہونا۔ (عز۔ رُوب) (عز۔ صفت) (۱) چھینا۔ ڈوبنا (۲) غائب ہونا۔ رُوبوش ہونا  
(۳) زوال پذیر ہونا۔

عزرضور۔ (عز۔ رُور) (عز۔ ا۔ مذ) گھنڈ۔ ناز۔ اگڑ۔ فخر۔ تکبر۔ خود بینی۔ ایمان۔

عزرضور آنا۔ عزرضور کرنا۔ عزرضور ہونا۔ (۱۔ محاورہ) گھنڈ کرنا۔ اگڑ کرنا۔ تکبر کرنا۔

عزرضور توڑ دینا۔ عزرضور ڈھا دینا۔ (۱۔ محاورہ) تکبر اور عزرضور کو نچا دکھا دینا۔

عزرضور ٹٹ جانا۔ عزرضور نکل جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تکبر کی عادت کا ختم ہو جانا  
(۲) اگڑنے والے کا نچا دیکھ لینا (۳) تکبر کا راہ راست پر آ جانا۔

عزرضور حسن و جمال۔ (عز۔ ا۔ صفت) حسن اور عزرضور کی کا گھنڈ۔

عزرضور کا سر نہ نیچا۔ (۱۔ مثل) عزرضور کرنے والے کو مزاج جاتی ہے۔

عزرضہ۔ (عز۔ رضہ) (عز۔ ا۔ مذ) دیکھے عزرضہ۔ گھنڈ۔ عزرضور۔ نافذ۔ تعطیل۔

عزرضیب۔ (عز۔ ربیب) (عز۔ صفت) (۱) غفلت۔ نادار (۲) مسافر۔ ایسی۔ پردیسی۔  
(۳) نادار۔ غیب۔ جمع۔ عزرضبا۔ عزرضباں۔

عزرضیب آزار۔ (عز۔ صفت) عزرضیبوں کو ستانے والا۔



عُش وہ پالی جس سے لاکھڑ دھویا جائے اور دھونے کے بعد چھینک دیا جائے۔  
 عُشَل - (ع-ا-ذ) بُھانا، اِشْتان، جِسم کو دھونا۔  
 عُشَلِ خَمانہ - (ع-ف-ا-ذ) بُھانے کا کرہ، باقُہ رُوم، جِمام۔  
 عُشَلِ دینا - (ا-ع-م) مُردے کو بُھلانا، بُھلانا۔  
 عُشَلِ صِعت - (ع-ا-ذ) (۱) بیماری سے اچھا ہونے پر بُھانا (۲) اچھا ہونے کی تقریب منانا۔  
 عُشَلِ کرنا - (م-ص-م-ر-ک-ب) بُھانا۔  
 عُشَلِ کی حاجت ہونا - (ا-ع-م) (۱) اِستِلام ہو جانا (۲) بدن ناپاک ہو جانا۔  
 عُشَلِ مِیت - (ع-ا-ذ) مُردے کو بُھلانا۔

## ع-ش

عُش - (ف-ا-ذ) بے ہوشی، ناواقفی۔  
 عُش آنا، عُش آجانا، عُش پڑنا، عُش کرنا - (ا-ع-م) بے ہوش ہو جانا  
 حواس کھو بیٹھنا، گم سُم رہ جانا، حیرت زدہ ہونا، عُشی طاری ہو جانا۔  
 عُش پر عُش آنا - (ا-ع-م) کسی مدد سے بے باعث باریا بے ہوش ہو جانا۔  
 عُش طاری ہونا - (ا-ع-م) بے ہوش ہونا۔  
 عُش ہونا - (ا-ع-م) بے ہوش ہونا (۲) فریقہ ہونا، عاشق ہونا۔  
 عُش - (ع-ا-ذ) (۱) مِث، (۲) کُدورت، تَشویش (۳) کھونا، بے۔  
 عُشی - (ع-ش-ی) (ف-ا-م-ث) بے ہوشی۔

## ع-ص

عُصَب - (ع-ص-ب) (ع-ا-ذ) (۱) اِختِانت (۲) ناچار قبضہ (۳) زبردستی کرنا۔  
 عُصَب کرنا - (ا-ع-م) زبردستی قبضہ کر لینا، خِانت کرنا، کسی کا حق چھین لینا۔  
 عُصَب ہونا - (ا-ع-م) خورد برد ہو جانا، ہتھیایا جانا۔  
 عُصَباً - (ع-ص-ب) (ع-ف-ا-ذ) تابع نفل، زبردستی، ناچار طور پر۔  
 عُصَبی - (ع-ص-ب) (ع-ص-ف) عُصَب کیا ہوا، عُصَب کرنے والا، خائن۔  
 عُصَبَہ - (ع-ص-ب) (ع-ا-ذ) (۱) بُرہمی، نُغلی، ناراضی، عتاب، رُش۔  
 عُصَبَہ آنا - (ا-ع-م) خفا ہونا، ناراض ہونا، طیش آنا۔  
 عُصَبَہ آنا، آنا - (ا-ع-م) کسی کو سزا دے کر اپنی تسکین کر لینا، کسی پر خفا ہو کر اس کا دل ٹھنڈا کر لینا۔  
 عُصَبَہ اُترنا - (ا-ع-م) کسی پر خفا ہونا، خُغلی دُور ہو جانا، بُچار نکلنا۔  
 عُصَبَہ اُٹھنا - (ا-ع-م) کسی کی نُغلی کو برداشت کرنا۔  
 عُصَبَہ بڑا عقل مند ہوتا ہے - (ا-م-ث) (۱) مِث، (۲) زبردستی پر کسی عُصَبَہ نہیں پڑتا، (۲) عُصَبَہ در عُصَبَہ میں بھی اِجِمام کا خیال رکھتا ہے۔  
 عُصَبَہ مِٹا، عُصَبَہ ٹی جانا، عُصَبَہ کھوک دینا، عُصَبَہ مارنا - (ا-ع-م) ضبط کرنا، برداشت کرنا، خُغلی سے باز آنا، راضی ہو جانا۔

عُصَبَہ پڑھنا - (ا-ع-م) (۱) عمارت، طیش آنا، خُغلی ہونا، عتاب آنا۔  
 عُصَبَہ دلانا - (ا-ع-م) (۱) عمارت، خُغلی کرنا، ناراض کرنا۔  
 عُصَبَہ سے جُھوت ہو جانا - (ا-ع-م) عمارت کے مارے آپے سے باہر ہو جانا۔  
 عُصَبَہ کرنا - (ا-ع-م) عمارت، خفا ہونا۔  
 عُصَبَہ کی اُکھ - (ا-م-ث) (۱) عمارت سے نظر جس سے عُصَبَہ ظاہر ہو۔  
 عُصَبَہ کی جھا بھج - (ا-م-ث) عُصَبَہ کا ہوش، عُصَبَہ میں اول ذل بکنا۔  
 عُصَبَہ میں بھر جانا، عُصَبَہ میں بھرنا - (ا-ع-م) (۱) عمارت، بہت ناراض ہونا۔  
 عُصَبَہ میں لال ہونا - (ا-ع-م) عُصَبَہ کے مارے آپے سے باہر ہو جانا۔  
 عُصَبَہ ناک پر ہونا - (ا-ع-م) عمارت، جلد عُصَبَہ آنا۔  
 عُصَبَہ نکالنا - (ا-ع-م) عمارت، عُصَبَہ کا اظہار کرنا (۲) بدلہ لے کر دل ٹھنڈا کرنا۔  
 عُصَبَہ در - (ع-ف-ص-ف) بد مزاج، جسے جلد عُصَبَہ آئے۔  
 عُصَبَہ میں آگ ہونا - (ا-ع-م) عمارت، بہت خفا ہونا۔  
 عُصَبَہ ہونا - (ا-ع-م) عمارت، خفا ہونا، ناراض ہونا۔  
 عُصَبِیل - (ع-ص-ی-ل) (ع-ص-ل) (ا-ع-م) بد مزاج، عُصَبَہ در۔

## ع-ض

عُض - (ع-ا-ذ) (۱) اُنھیں بند کرنا، چھکانا۔  
 عُض لُصِر - (ع-ا-ذ) (۱) ننگا پھینکنا۔  
 عُضَب - (ع-ض-ب) (ع-ا-ذ) (۱) قہر، عُصَبَہ (۲) آفت - مصیبت (۳) بے انصافی، ظلم (۴) کھٹ، حیرت اور کھڑک، مبالغہ یعنی بہت، از حد - (۵) بے بات (۶) اندھیر، زبردستی (۷) ٹھہر پڑھ کر (۸) اچھا، عمدہ۔  
 عُضَب آلود - (ع-ف-ص-ف) عُصَبَہ میں بھرا ہوا۔  
 عُضَب آنا - عُضَب لُٹ پڑنا، عُضَب لُٹنا - (ا-ع-م) عذاب آنا، مصیبت آنا، آفت آنا، شامت آنا، عُصَبَہ آنا۔  
 عُضَب الہی - (ع-ا-ذ) (۱) خدا کا قہر۔  
 عُضَب پڑنا - (ا-ع-م) عذاب آنا، عذاب الہی میں گرفتار ہونا، صدہر پہنچنا۔  
 عُضَب توڑنا، عُضَب ڈھانا - (ا-ع-م) خدا برپا کرنا۔  
 عُضَب خدا کا - (ا-ع-م) (۱) خدا کا خوف کرنا (۲) حیرت اور توجیب ظاہر کرنے کا کلہ۔  
 عُضَب ڈھانا - (ا-ع-م) (۱) عمارت، اُلکھی بات کرنا (۲) آفت برپا کرنا، ظلم کرنا۔  
 عُضَب کا دیدہ ہونا - (ا-ع-م) عمارت، بہت بے شرم اور ڈھیٹ ہونا۔  
 عُضَب کا سامنا - (ا-ع-م) بڑا وقت پڑنا۔  
 عُضَب کی - (ا-ع-م) (۱) طرح، از حد (۲) تعریف کے قابل۔  
 عُضَب میں آنا - (ا-ع-م) عمارت، مصیبت میں پھنس جانا۔  
 عُضَب میں پڑنا - (ا-ع-م) عمارت، جھگڑے میں پڑنا، مصیبت میں گرفتار ہونا۔  
 عُضَب ناک - (ع-ف-ص-ف) خفا، عُصَبَہ میں بھرا ہونا۔  
 عُضَب ناک کرنا - (ا-ع-م) عمارت، عُصَبَہ دلانا۔  
 عُضَب ناک ہونا - (ا-ع-م) عمارت، عُصَبَہ میں بھر جانا، خفا ہونا، آپے سے باہر ہونا۔  
 عُضَب نازل ہونا - (ا-ع-م) عمارت، آفت آنا، خدا کا قہر لگانا۔

# ع-ل

عَل - (ع.ل.ا) مذ.شور۔ ہنگامہ۔ چیم ڈھار (ع) (۲) زنجیر طوق۔  
 عَل مبریا ہونا۔ (ا۔ محاورہ) شور اٹھنا۔ بڑا چینا۔ خوفا بربا ہونا۔  
 عَل عیناڑا۔ (۱) بے حد شور و خوفا۔ حد سے زیادہ چیخ پکار۔ ہنگامہ۔  
 عَل کرنا۔ عَل چمانا۔ (مصن۔ مرکب) شور چمانا۔ ہنگامہ کرنا۔  
 عَل۔ (ع۔ا۔۱۔ مذ) کینہ۔ کدورت۔

عَلَاظَت - (ع.ل.لاظلت) (ع۔ا۔۱۔ ممت) (۱۱) گاڑھاپن (۲) کوڑا کرکٹ۔ گندگی  
 نجاست۔ پاخانہ (۳) بول و براز۔  
 عَلَاظَت پھیلا نا۔ عَلَاظَت کرنا۔ (ا۔ محاورہ) گندگی پھیلا نا۔ پاخانہ کرنا۔  
 عَلَاظ - (ع۔ل.لاظ) (ع۔ا۔۱۔ مذ) (۱) نیام۔ خانہ (۲) تیکہ۔ کبس وغیرہ کا ڈبیر  
 کپڑا (۳) خول۔ جُڑ دان۔

عَلَاظِ آٹارنا۔ (ا۔ محاورہ) عَلَاظ بدلنا۔ عَلَاظ بدلا جانا۔ پردہ بدلنا۔  
 عَلَاظ چڑھانا۔ (ا۔ محاورہ) نیچے یا کس دینے کو عَلَاظ کے اندر ڈالنا۔  
 عَلَاظ کعبہ۔ (ع۔ا۔۱۔ مذ) وہ حملی عَلَاظ جسے ہر سال حج کے موقع پر  
 کعبہ کی مرکزی عمارت پر چڑھایا جاتا ہے۔  
 عَلَاظنا۔ (ع.ل.لاظ) (نا۔ اُڑ۔ مص) (۱۱) مٹائی پاگن (۲) شیرے میں غوطہ دینا۔  
 (۳) شہہ چڑھانا۔

عَلَاظِ آنکھ۔ (اُڑ۔۱۔ ممت) (۱) پپوٹوں سے ڈھکی ہوئی آنکھ۔  
 عَلَاظ۔ (ع۔ل.لام) (ع۔ا۔۱۔ مذ) (۱) لڑکا (۲) زرخیز نوکر۔ بندہ۔ ملازم (۳)  
 انکسار کا کلمہ۔ نیاز مند۔ فدوی (۴) تاش کا ایک تصویر دار پتہ (۵) گنجد  
 کے بارہ زرد پتوں کا نام۔ حج، اَعْلَام۔  
 عَلَاظ اور جسے کو مٹنے نہ لگائے۔ (ا۔ مثل) عَلَاظ سر چڑھ جاتا ہے اور  
 چنکا کھانے کی عادت ہو جائے تو چھٹی بنیں۔  
 عَلَاظ بیٹا نا۔ (ا۔ محاورہ) مطیع کر لینا۔

عَلَاظِ بے دام۔ (ع۔ل.ف.صفت) صفت کا عَلَاظ۔ وہ شخص جو بہت زیادہ مٹوانا  
 عَلَاظِ زرخیز۔ (ع۔ل.ف.صفت) (۱) مول لیا ہوا عَلَاظ (۲) خریدنا ہوا چھوکر۔  
 (۳) ادنی عَلَاظ۔  
 عَلَاظِ کا تلام۔ (۱) عَلَاظ کا عَلَاظ (۲) ادنی درجہ کا عَلَاظ۔  
 عَلَاظِ کرنا۔ (ا۔ محاورہ) مطیع بنانا۔ شیطنتہ بنانا۔  
 عَلَاظِ گردش۔ (ع۔ل.ف۔۱۔ ممت) (۱) دیوان خانہ اور زناں خانہ کی درمیانی  
 دیوار اور برآمدہ (۲) خادموں کے بیٹھنے کی جگہ (۳) بھت دار راستہ۔  
 عَلَاظِ مال۔ (ا۔ مذ) وہ چیز جو مدتوں کام دے۔ وہ چیز جسے بے تکلف  
 استعمال کریں۔

عَلَاظِ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) مطیع ہونا۔ تابع ہونا۔  
 عَلَاظِ۔ (ع۔ل.لامی) (ع۔ا۔۱۔ ممت) (۱) علاقہ بگوشی (۲) بندگی (۳) اطاعت (۴)  
 قید (۵) اسیری۔  
 عَلَاظِ اختیار کرنا۔ (ا۔ محاورہ) ملازم ہو جانا۔ مطیع ہونا۔  
 عَلَاظِ میں دینا۔ (ا۔ محاورہ) خدمت میں دینا۔

عَضْبِ ہو گیا۔ (لکھڑی صرت) بہت بُرا ہوا۔  
 عَضْبِ ہونا۔ (ا۔ محاورہ) (۱) خفا ہونا (۲) کام خراب ہونا۔  
 عَضْبِ ہے۔ (۱) تابع فعل (رسم ہے۔ اندر ہے) (۲) کمال ہے۔ سبحان اللہ  
 عَضْبِیں۔ (عَضْب۔ بن) (اُڑ۔۱۔ ممت) عیارہ۔ مگاہ۔  
 عَضْبِیں۔ (عَضْب۔ بن) (اُڑ۔ صفت) (۱) ظالم۔ عَضْبِے در (مذ) (۲) ظالم شخص۔ عَضْبِے والا  
 شخص (ممت) (۳) عَضْبِے۔ عَضْبِے۔  
 عَضْبِی آنا۔ (ا۔ محاورہ) آفت آنا۔ عَضْبِے آنا۔  
 عَضْبِی با ندی۔ (ا۔ صفت) وہ کینز جو زیر عتاب ہو۔  
 عَضْبِی خانہ۔ (ع۔ل.ف۔۱۔ مذ) عَضْبِے۔ عَضْبِے۔ قہر۔  
 عَضْبِے۔ (ع۔ل.ف۔۱۔ مذ) شیر۔ بہادر۔  
 عَضْبِے۔ (ع۔ل.ف۔۱۔ مذ) (۱) مٹا۔ (۲) بہادری۔ شجاعت۔

# ع-ف

عَفْ۔ (ف.صفت) دینے۔ خوب ٹھوک کر بُنا ہوا کپڑا۔ موٹا۔ گت۔  
 عَفَار۔ (عَف۔ فار) (ع۔صفت) بڑا بختنے والا۔ پھیلنے والا۔ خدا کا صفاتی نام۔  
 عَفَارِی۔ (عَف۔ فار) (ع۔صفت) (۱) عرب کے قبیلہ عَفَار سے نسبت۔  
 رکھنے والا (۲) بہت بختنے والا ہونا۔  
 عَفْرَان۔ (عَف۔ ران) (ع۔ا۔۱۔ مذ) معافی بخشش۔ گناہ معاف کرنا۔  
 عَفْرَانِ مآب۔ عَفْرَانِ پناہ۔ (ع۔صفت) مرحوم۔ بوشا ہوا۔ خدا کی پناہ میں۔  
 عَفْرُک۔ (ع۔ف۔زل۔ ہو) (ع۔لکھڑی) (۱) اس کے لیے بخشش کی جائے (۲) خدا  
 اس کی مغفرت کرے۔

عَفْلَت۔ (عَف۔ لکت) (ع۔ا۔۱۔ ممت) (۱) بھول چوک۔ غلطی۔ خطا۔ قصور۔  
 بے خبری۔ لا پرواہی (۲) اُدھک۔ بند۔ بے ہوشی۔  
 عَفْلَتِ پیشہ۔ عَفْلَتِ زدہ۔ (ع۔ا۔۱۔ ممت) (۱) غافل (۲) بے خبر۔  
 (۳) عَفْلَتِ کرنے والا۔  
 عَفْلَتِ چھانا۔ عَفْلَتِ طاری ہونا۔ عَفْلَتِ ہو جانا۔ (ا۔ محاورہ) (۱)  
 غافل ہو جانا (۲) اُدھکنا (۳) بے خبر ہو جانا۔  
 عَفْلَتِ سے۔ (ا۔ متعلق فعل) بے پرواہی سے (۲) بے خبری سے۔ کم توجہ سے  
 عَفْلَتِ شمار۔ (ع۔صفت) عَفْلَتِ کرنے والا۔ غافل۔  
 عَفْلَتِ کا پردہ (پڑنا) پڑ جانا۔ (ا۔ محاورہ) بے خبر ہو جانا۔ مدہوش ہو جانا  
 عَفْلَتِ کرنا۔ (ا۔ محاورہ) کوتاہی کرنا۔ خبر لینا۔ بے پردائی کرنا۔

عَفْلَتِ کی ٹینڈ سونا۔ (ا۔ محاورہ) غافل ہو کر سونا۔ گہری ٹینڈ سونا۔ بے خبر ہو جانا  
 عَفْلَتِ۔ (عَف۔ ل۔ تی) (اُڑ۔ صفت) بے پردا۔  
 عَفْلُور۔ (ع۔ل.ف۔۱۔ ممت) (۱) بڑا بختنے والا (۲) گناہوں کا چھپانے والا۔  
 (۳) اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔  
 عَفْلُورِ الرحیم۔ (ع۔صفت) (۱) بخشش اور رحم کرنے والا (۲) بختنے والا ہر مان۔  
 (۳) اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔  
 عَفْلُور۔ (ع۔ل.ف۔۱۔ ممت) (۱) عبط (۲) انبوہ۔ بیٹ۔

غلامی میں قبول کرنا۔ (۱- عمارہ) (۱) داماد بنانا (۲) اپنا وارث اور جانشین بنالینا (۳) عازم رکھنا۔  
 غلبیلا۔ (غل۔ بلبا) (ق۔ ۱- مٹ) (۱) بے تابی۔ اضطراب (۲) جوش و خروش (۳) گڑبڑ۔ خرابی۔  
 غلبے۔ (غل۔ بلبے) (ق۔ ۱- ذمہ القاب۔  
 غلبینہ۔ (غل۔ ن۔ بے) (ع۔ ۱- مذ) (۱) برتری۔ فرقیقت۔ حیثیت (۲) حملہ (۳) فراوانی۔ کثرت۔  
 غلبہ پانا۔ (۱- عمارہ) (۱) فتح پانا۔ حیثیت جانا۔ اثر جالینا۔ سبقت لے جانا۔ غلبہ رائے۔ (ع۔ ۱- مذ) (۱) کثرت رائے (۲) دونوں کی کثرت۔ نصف سے زائد تعداد کی رائے۔  
 غلبہ کرنا۔ (۱- عمارہ) (۱) محو کرنا۔ پھڑکانا کرنا (۲) گھیر لینا (۳) ہجوم کرنا۔ غلبہ ہونا۔ (۱- عمارہ) (۱) غالب آنا۔ حملہ ہونا (۲) کثرت ہونا۔  
 غلّت۔ (غل۔ لت) (ع۔ ۱- مذ) حساب میں بھول چوک۔  
 غلط۔ (غل۔ لظ) (ع۔ ۱- صفت) نادرت۔ ناسمجھ۔ کھوٹا۔ بے جا۔  
 غلط العام۔ تلفظ یا املا جو غلط ہونے کے باوجود کثرت استعمال کے باعث صحیح تصور ہونے لگے۔  
 غلط العوام۔ (۱) وہ لفظ جسے عوام نے غلط تلفظ یا معانی یا ردو بدل کے ساتھ بولنا شروع کر دیا ہو وہ غلطی قرار پاتا ہے۔  
 غلط انداز۔ (ع۔ ۱- صفت) نگاہ یا تیر جو نشانے پر نہ لگے۔  
 غلط بردار۔ (ع۔ ۱- صفت) (۱) کاغذ کھرنے کا اوزار (۲) وہ کاغذ جس پر سے حرف آسانی سے مٹے جا سکیں۔ غلط لفظ مٹنے والا۔  
 غلط بیان۔ (ع۔ ۱- صفت) بھوٹا۔  
 غلط بیانی۔ (ع۔ ۱- صفت) بھوٹی بات۔ بھوٹ بولنا۔  
 غلط ہیں۔ (ع۔ ۱- صفت) دوسروں کی غلطی ٹکانے والا۔ سچائی کو بھٹانے والا۔  
 غلط ٹھہرانا۔ (۱- عمارہ) غلط ثابت کرنا۔ بھوٹا ٹھہرانا۔  
 غلط در غلط۔ (ع۔ ۱- صفت) سراپا غلط۔ بالکل بھوٹ۔ ایک غلطی جو دوسری غلطی پر مبنی ہو۔  
 غلط سلسلہ۔ (ع۔ ۱- صفت) (۱) گڑبڑ۔ خلاف حقیقت۔ بھوٹ سچ۔  
 غلط سمجھنا۔ (۱- عمارہ) بھوٹ سمجھنا۔  
 غلط فہم۔ (ع۔ ۱- صفت) ناسمجھ۔ بات کو غلط سمجھنے والا۔  
 غلط نہیں۔ (ع۔ ۱- صفت) ناسمجھی۔ بے سمجھی۔ بھول چوک۔  
 غلط فیصلہ۔ (ع۔ ۱- صفت) (۱) فیصلہ جو انصاف کے مطابق نہ ہو۔  
 غلط کاری۔ (ع۔ ۱- صفت) بد اعمالی۔ بد چینی۔  
 غلط ٹکانا۔ (۱- عمارہ) (۱) بھوٹ ثابت ہونا (۲) جو پہلے سمجھا ہوا اس کے برعکس ثابت ہونا۔  
 غلط نامہ۔ (۱) نہرست اغلاط (۲) صحت نامہ۔  
 غلطان۔ (غل۔ طان) (ق۔ ۱- صفت) (۱) گول (۲) لٹھکتا ہوا۔ ڈھلکتا ہوا۔  
 (۳) چکر لکھی گول چیز کا حرکت میں آنا (۴) گرتا پڑتا۔  
 غلطان و پتچال۔ (ق۔ ۱- صفت) (۱) اُلجھا ہوا (۲) ڈھیر بڑی میں۔ گرتا پڑتا۔ پریشاں۔

غلطک۔ (غل۔ ملک) (ع۔ ۱- مذ) (۱) کرڈٹ (۲) پیسہ (۳) پکر (۴) گول چیز (۵) گاڑی کی دھری۔  
 غلطہ۔ (غل۔ طہ) (ع۔ ۱- مذ) (۱) موٹا ریشمی کپڑا (۲) میان۔ نیام۔ سسرپوش۔ غلات۔ ڈھکن۔  
 غلطی۔ (غل۔ ن۔ طی) (ڈر۔ ۱- مٹ) بھول چوک۔ نادرستی۔ ناسمجھی۔ کوتاہی۔ خطا۔ سہو۔ جمع: غلطیاں۔ اغلاط۔  
 غلطی پڑنا۔ (۱- عمارہ) سہو ہوجانا۔  
 غلطی پکڑنا۔ (۱- عمارہ) غلطی ٹکانا۔ نقص معلوم کر لینا۔  
 غلطی سے۔ (۱) مستحق فعل بھول سے۔ بھول کر۔  
 غلطی کھانا۔ (۱- عمارہ) خطا کرنا۔ دھوکا کھانا۔ بھول جانا۔  
 غلطی میں پڑنا۔ (۱- عمارہ) چوک جانا۔ دھوکا کھا جانا۔  
 غلطی ٹکانا۔ (۱- عمارہ) نقص معلوم کرنا۔  
 غلطی ہونا۔ غلطی پڑنا۔ (۱- عمارہ) بھول چوک ہوجانا۔ خطا ہونا۔  
 غلطیت۔ (غل۔ نکت) (ع۔ ۱- مٹ) گاڑھیاں۔ کیفیت ہونا۔ گندگی۔  
 غلطیہ۔ (غل۔ نکت) (ع۔ ۱- مذ) ہنگامہ۔ شور و غل۔ دھوم۔ شہرت۔  
 غلطیہ ہونا۔ (۱- عمارہ) شہرت ہونا۔ چرچا ہونا۔  
 غلک۔ (غل۔ ملک) (ق۔ ۱- مٹ) نقدی رکھنے کا برتن۔ گولک۔  
 غلک میں دھرنا۔ (۱- عمارہ) جیب میں رکھنا۔ جمع کرنا۔  
 غلمان۔ (غل۔ مان) (ع۔ ۱- مذ) (۱) نو عمر لڑکے۔ جنت کے کم سن خادموں۔  
 غلٹا۔ (غل۔ تم۔ ٹا) (ڈر۔ ۱- مذ) (۱) غلام کی تصنیف۔ حقارت کے اظہار کا کلمہ۔  
 غلو۔ (غل۔ لو) (ع۔ ۱- مذ) (۱) حد سے گزر جانا (۲) بہت زیادہ مبالغہ۔  
 غلو کرنا۔ (۱- عمارہ) حد سے زیادہ مبالغہ کرنا۔  
 غلول۔ (غل۔ لول) (ق۔ ۱- مذ) غلہ مارنے کی کان۔  
 غلولہ۔ (غل۔ لو۔ لہ) (ق۔ ۱- مذ) غلہ۔ گلہ۔ گولی۔  
 غلّہ۔ (غل۔ لہ) (ق۔ ۱- مذ) (۱) اناج۔ دانہ۔ زمین کی پیداوار (۲) نقدی رکھنے کا صندوقچہ۔  
 غلّہ بھرنا۔ (۱- عمارہ) اناج کا قلعہ کرنا۔  
 غلّہ بھٹکانا۔ (۱- عمارہ) اناج کو صاف کرنا۔  
 غلّہ ڈالنا۔ (۱- عمارہ) بچی کے گڑھے میں اناج کی گھٹی ڈالنا۔  
 غلّہ فروش۔ (ق۔ ۱- مذ) اناج بیچنے والا۔  
 غلّہ منڈی۔ (ق۔ ۱- مٹ) وہ جگہ جہاں غلّہ لاکر فروخت کریں۔  
 غلّہ۔ (غل۔ لہ) (ڈر۔ ۱- مذ) (۱) مٹی کی گولی یا لٹکری جسے غلّیل میں لٹکھ کر چلاتے ہیں۔ غلوگر (۲) بھوٹی سی گول شے۔  
 غلّہ (بھینکن) چیلانا۔ (۱- عمارہ) غلّہ مارنا۔  
 غلّہ مارنا۔ (۱- عمارہ) (۱) غلّیل کے ذریعے سے غلّہ چیلانا (۲) نشا نہ مارنا (۳) مزاحم ہونا۔  
 غلّی۔ (غل۔ ن۔ ای) (ڈر۔ ۱- صفت) غلّے کی صورت میں لگان۔  
 غلّیاں۔ (غل۔ یا۔ ن) (ع۔ ۱- مذ) (۱) جوش۔ غلبہ (۲) حقیر۔  
 غلّیظ۔ (غل۔ لظ) (ع۔ ۱- صفت) گاڑھا۔ ناپاک۔ گندا۔ بکس۔  
 غلّیل۔ (غل۔ لیل) (ڈر۔ ۱- مٹ) غلّہ بھینکنے والی کمان۔ مٹی کی گولی یا لٹکری







## غ۔ی

غیباب - (غ۔یاب) (ع۔ا۔۱۔مشت) پوشیدہ۔ اوجھل۔ مخفی۔ غیب کی جمع۔  
 غیبات - (غ۔یابت) (ع۔صفت) فریاد سُننے والا۔ فریاد کو پہنچنے والا۔  
 غیب - (ع۔ا۔۱۔مذ) غیر موجود۔ غائب۔ پوشیدہ۔ اوجھل۔ جمع: غیوب۔ غیباب۔  
 غیب دان - (ع۔ف۔ن۔صفت) پوشیدہ حال جاننے والا۔ غیب کی خبر رکھنے والا۔  
 غیب دانی - (ع۔ف۔ن۔۱۔مشت) پوشیدہ حال جاننا۔  
 غیب سے دینا - (ا۔محاورہ) جہاں سے کوئی خیال نہ ہو وہاں سے چیز مل جانا۔ خدا کی دین۔  
 غیب (علم) غلبہ ہونا۔ چھپ جانا۔ گم ہونا۔ (ق۔)  
 غیب کی خبر - (ا۔مشت) آئندہ واقعات کا علم۔  
 غیبانی - (غ۔ی۔بانی) (ا۔مذ) بے شرم اور بدچلن عورت (۲) حرام زادہ۔  
 غیبت - (غ۔ی۔بت) (ع۔ا۔مشت) غیر موجودگی۔ غیر حاضری۔ پس پشت۔  
 غیبت صغریٰ - (ع۔ا۔۱۔مشت) اہل تشیع کے نزدیک امام وقت کا غائب ہونا۔ مگر امام کے نائبوں کا ظاہر ہونا۔  
 غیبت کبریٰ - (ع۔ا۔۱۔مشت) اہل تشیع کے نزدیک امام وقت اور اس کے نائبوں کا غائب ہونا۔  
 غیبت - (غ۔ی۔بت) (ع۔ا۔۱۔مشت) (۱) بدگوئی (۲) کسی کے بیٹھ پیچھے برا بھلا۔ (۳) بدی۔  
 غیبت کرنا - (ا۔محاورہ) (۱) بدی کرنا۔ بدگوئی سے کام لینا (۲) پیٹھ پیچھے برا بھلا۔  
 غیبتی - نسبت کرنے والا۔ (ق۔)  
 غیبی - (غ۔ی۔بی) (ا۔مذ) غائب۔ غیر حاضر (۲) عالم غیب سے متعلق و نسبت۔  
 غیر - (ع۔صفت) (۱) اجنبی۔ علیحدہ شے۔ دوسرا۔ و قیب۔ دشمن (۲) بیگناہ۔ سوا۔ مختلف (۳) حرف نفی جیسے غیر آباد (۴) دگرگوں۔ خراب۔ ناؤک۔  
 غیر آباد - (ع۔ف۔ن۔صفت) ویران۔ اجاز۔ بنجر۔  
 غیر آئینی - (ع۔ف۔ن۔صفت) ملک کے بنیادی قانون کے خلاف۔  
 غیر اختیار - (ع۔ف۔ن۔صفت) مجبوری کی حالت۔ بے اختیاری۔  
 غیر از - (حرف استثناء) ماسوا۔ علاوہ ازیں۔ بجز اس کے۔  
 غیر تسلی بخش - (ا۔تایف فعل) جس سے تسلی نہ ہو۔ خراب۔  
 غیر مجلس - (ع۔ا۔۱۔صفت) کسی دوسری قسم یا نوع کا۔  
 غیر حاضر - (ع۔صفت) غائب۔ اوجھل۔  
 غیر حالت - (ع۔ا۔۱۔مشت) جان کنی کی حالت۔ دگرگوں حالت۔  
 غیر ذمہ دار - (ع۔ف۔ن۔صفت) لاپرواہی۔ فرض ناشناس۔ جس کو ذمہ داری کا احساس نہ ہو۔  
 غیر راجح - (ع۔ف۔ن۔صفت) بھروسہ نہ ہو۔  
 غیر رسمی - غیر معمولی۔  
 غیر سائن - (ع۔ف۔ن۔صفت) جو ایک جگہ نہ رہے۔

غیر سال - (ع۔ف۔ا۔۱۔مذ) سال گزشتہ۔ گزرا ہوا سال (ق)۔  
 غیر سمجھنا - (ا۔محاورہ) اجنبی سمجھنا۔ اپنا دوست یا عزیز نہ سمجھنا (۱) غلط سمجھنا۔ (۲) توجہ نہ کرنا۔  
 غیر شافی - (ع۔صفت) تسکین نہ دینے والا۔ ناکافی جس سے شفا نہ ہو۔  
 غیر شخص - (ع۔صفت) اجنبی۔ بے گناہ نہی حرم۔  
 غیر شرعی - (ع۔صفت) شریعت کے خلاف۔  
 غیر شفاف - (ع۔ا۔۱۔صفت) دھندلا۔ تاریک۔  
 غیر صائب - (ع۔ا۔۱۔صفت) نادوست۔  
 غیر ضروری - (ع۔صفت) جس کی ضرورت نہ ہو۔ بیکار۔  
 غیر علاقہ - (ع۔ا۔۱۔مذ) دوسرے کی ریاست۔ سرحدی قبائلی علاقہ۔  
 غیر فانی - (ع۔صفت) کبھی نہ مرنے والا۔ ہمیشہ رہنے والا۔  
 غیر کی آگ میں جلنا - (ا۔محاورہ) دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینا۔  
 غیر کی بدشگونگی کے واسطے اپنی ناک گھواتا - (امثال) مخالف کے قہوڑے سے نقصان کے واسطے اپنا زیادہ نقصان کر لینا۔  
 غیر متاثر - (ع۔ا۔۱۔صفت) جس کا اثر نہ ہو۔ جس پر اثر نہ ہو۔  
 غیر مترقبہ - (ع۔ا۔۱۔صفت) جس کا احاطہ نہ کیا جا سکے۔ جس کی توقع نہ ہو۔  
 بھلاک - ناگہانی۔  
 غیر متعین - غیر متعین - (ع۔صفت) لامحدود۔ لامتناہی۔  
 غیر متناہی - (ع۔صفت) جس کی انتہا نہ ہو۔  
 غیر متعبد - (ع۔ا۔۱۔صفت) جس سے کسی قسم کا معاہدہ نہ ہوا ہو۔  
 غیر مجاز - (ع۔صفت) جس کو کسی کام کا اختیار نہ ہو۔ غیر مستعمل۔  
 غیر محدود - (ع۔صفت) بے شمار۔ جس کی کوئی حد نہ ہو۔  
 غیر مزد - (ع۔ف۔ن۔صفت) وہ شخص جو قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ بے گناہ۔ ناظم۔  
 غیر مروج - (ع۔ا۔۱۔مذ) جس کا رواج نہ ہو۔  
 غیر مژدومعہ - (ع۔صفت) کاشت نہ کی ہوئی زمین۔  
 غیر مساوی - (ع۔صفت) جو برابر نہ ہو۔  
 غیر مستعمل - (ع۔صفت) جو استعمال میں نہ آیا ہو۔ کورا۔ اچھوتا۔  
 غیر مشروط - (ع۔صفت) بغیر کسی شرط کے۔ یقینی۔  
 غیر معتبر - (ع۔صفت) ناقابل اعتبار۔ جھوٹا۔  
 غیر معروف - (ع۔ا۔۱۔مذ) جس کو عام طور پر نہ جانتے ہوں۔  
 غیر مفید - (ع۔ا۔۱۔مذ) جس کا فائدہ نہ ہو۔  
 غیر معمول - غیر معمولی - (ع۔صفت) معمول کے خلاف۔ خلاف دستور۔ (۲) بہت زیادہ۔  
 غیر مقبوضہ - (ع۔صفت) جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو۔ لاوارث۔  
 غیر مکمل - (ا۔تایف فعل) ادھورا۔ ناقص۔  
 غیر محفوظ - (ع۔صفت) وہ حرف جو لکھنے میں آئے مگر بولنے میں نہ آئے۔  
 جیسے بالکل میں الف۔  
 غیر ملکی - (ع۔صفت) پر دیسی۔ دوسرے ملک میں۔ اجنبی۔  
 غیر ممکن - (ع۔صفت) دشوار۔ ناممکن۔ محال۔  
 غیر مناسب - (ا۔تایف فعل) بے جا۔ نامناسب۔

غیر منقولہ۔ (ع. صف) قائم غیر متحرک (۲) وہ جاننا جو ایک جگہ سے  
 دوسری جگہ نہ لے جائی جاسکے۔  
 غیر منکوحہ۔ (ع. ف. مٹ) بے نکاحی گھر میں ڈالی ہوئی۔  
 غیر موروثی۔ (ع. صف) وہ جو درت میں نہ آئی ہو۔  
 غیر مؤثر۔ (ف. تابع فعل) جس کا اصل موصوع سے کوئی تعلق نہ ہو۔ خارج  
 از بحث (۲) جس کا اثر نہ ہو۔  
 غیر نافذ۔ (ع. صف) جو جاری نہ ہو۔  
 غیر واجب۔ غیر واجبی۔ (ع. صف) قانون کے خلاف۔ غلط۔ بے جا۔  
 نامناسب۔  
 غیرت۔ (ع. رت) (ف. ۱۔ مٹ) حمت۔ لحاظ۔ شرم۔ حیا (۲) حد۔  
 غیرت (آنا) کھانا۔ (۱۔ محاورہ) غیرت ہونا۔ شرم کرنا۔  
 غیرت اڑا دینا۔ بے حیا ہوجانا۔  
 غیرت بخش۔ (ع. ف. صف) جسے دیکھ کر شرم آئے۔  
 غیرت چمن۔ غیرت گلزار۔ جس پر باغ کو رشک آئے۔ یعنی محبوب۔  
 غیرت چھو نہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) بے حیا ہونا۔ بالکل شرم نہ ہونا۔  
 غیرت سوگر۔ سوگر کو شرم دینے والا۔ نہایت حسین۔  
 غیرت ماہ۔ چاند کو شرم دینے والا۔ مجازاً معشوق۔  
 غیرت دار غیرت مند۔ (ع. صف) خود دار حیا دار۔ باحیثیت۔  
 غیرت رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) حیا رکھنا۔ باحیا ہونا۔

غیرت سے کٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) سخت شرمندہ ہونا۔  
 غیرت کا تقاضا۔ (۱۔ مذ) کسی بات کو سوچ کر دل میں ندامت ہونا۔  
 غیرت کا مارا۔ (۱۔ محاورہ) شرم لحاظ کا پابند۔  
 غیرت کی جگہ ہے۔ (۱۔ محاورہ) نام ہونا چاہیے۔ شرم کرنا چاہیے۔  
 غیرت مند۔ (ع. ف. صف) غیرت والا۔ باحیا۔  
 غیرتت۔ (ع. ری. ات) (ذ. آر. ۱۔ مٹ) اجنبیت۔ بے گانگی۔  
 غیرت برتنا۔ (۱۔ محاورہ) بیگانگی برتنا۔ غیر سمجھنا۔  
 غیض۔ (ع. ۱۔ مذ) ناقص پتھر جو حمل سے ساقط ہو جائے۔ بہت ہی تھوڑا۔  
 (۲) پانی کا کم ہوجانا۔ ناقص کرنا۔ مجازاً تھوڑی بخشش۔  
 غیظ۔ (ع. ۱۔ مذ) سخت غصہ۔ غصہ کی تیزی۔  
 غیظ و غضب۔ سخت غصہ۔  
 غین۔ (ذ. آر. ۱۔ مٹ) ایک بے معنی آواز۔  
 غیس پس۔ (۱۔ مٹ) شکایت کی آواز۔ جھگڑا۔ تکرار۔  
 غیس غیس۔ (۱۔ مٹ) امت ساجت۔ عاجزی۔  
 غین۔ (ع. ۱۔ مذ) (۱) حرف 'غ' کا تلفظ (۲) گھرا ہوا ابر (۳) پیاس۔  
 (۴) تاریکی (۵) نشہ میں چوڑ۔  
 غین ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نشہ میں غرق ہونا۔  
 غینور۔ (ع. ی. ژد) (ع. صف) (۱) بہت غیرت کرنے والا (۲) خدا کا ایک  
 صفاتی نام۔

غیر منقولہ۔ (ع. صف) قائم غیر متحرک (۲) وہ جاننا جو ایک جگہ سے  
 دوسری جگہ نہ لے جائی جاسکے۔  
 غیر منکوحہ۔ (ع. ف. مٹ) بے نکاحی گھر میں ڈالی ہوئی۔  
 غیر موروثی۔ (ع. صف) وہ جو درت میں نہ آئی ہو۔  
 غیر مؤثر۔ (ف. تابع فعل) جس کا اصل موصوع سے کوئی تعلق نہ ہو۔ خارج  
 از بحث (۲) جس کا اثر نہ ہو۔  
 غیر نافذ۔ (ع. صف) جو جاری نہ ہو۔  
 غیر واجب۔ غیر واجبی۔ (ع. صف) قانون کے خلاف۔ غلط۔ بے جا۔  
 نامناسب۔  
 غیرت۔ (ع. رت) (ف. ۱۔ مٹ) حمت۔ لحاظ۔ شرم۔ حیا (۲) حد۔  
 غیرت (آنا) کھانا۔ (۱۔ محاورہ) غیرت ہونا۔ شرم کرنا۔  
 غیرت اڑا دینا۔ بے حیا ہوجانا۔  
 غیرت بخش۔ (ع. ف. صف) جسے دیکھ کر شرم آئے۔  
 غیرت چمن۔ غیرت گلزار۔ جس پر باغ کو رشک آئے۔ یعنی محبوب۔  
 غیرت چھو نہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) بے حیا ہونا۔ بالکل شرم نہ ہونا۔  
 غیرت سوگر۔ سوگر کو شرم دینے والا۔ نہایت حسین۔  
 غیرت ماہ۔ چاند کو شرم دینے والا۔ مجازاً معشوق۔  
 غیرت دار غیرت مند۔ (ع. صف) خود دار حیا دار۔ باحیثیت۔  
 غیرت رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) حیا رکھنا۔ باحیا ہونا۔



فاضل - (فائسل) (ع۔ صفت) (۱) زیادہ نکلنا ہونا۔ بڑھا ہوا (۲) عالم دانا۔ صاحب علم و فضل۔ جمع۔ فقلا۔

فاضل اجمل (ع۔ صفت) بہت بڑا فاضل۔ جید عالم۔

فاضل بائی - بچا ہوا روپیہ۔

فاضل بائی نکالنا - (۱) محاورہ، وصول شدہ رقم حساب میں جمع کر کے کسی پیشی یا لینا دینا نکالنا۔

فاضل ہونا - (مض۔ مرکب) (۱) عالم ہونا۔ صاحب علم و فضل ہونا (۲) کسی شے کا زیادہ ہونا۔

فاضلات - (ف۔ جن۔ لات) (ف۔ صفت) (۱) فاضل رقم (۲) بائی جو سیلاب کی وجہ سے نہر سے باہر نکلے۔

فاضلہ - (ع۔ صفت) (۱) صاحب علم عورت۔

فاطمہ - (فا۔ ط۔ مہ) (ع۔ ۱۔ مہ) (۱) وہ عورت جس نے دوسری بے رس میں بچے کا دودھ چھڑ دیا ہو بچے کو دودھ نہ پلانے والی (۲) رسول مقبول صلعم کی صاحبزادی فاطمہ الزہراء۔

فاطمی - (فا۔ ط۔ می) (ع۔ صفت) حضرت فاطمہ کی نسل کا (۲) مہرمی فرمان رواؤں کا خاندان جنہوں نے ۹۔ ۱۱ تا ۱۱۱۷ حکومت کی۔

فاطمی قرآنی الاقتصار - (ع۔ آیت قرآنی) اسے سمجھو والو عبرت حاصل کرو۔

فاعل - (فا۔ عل) (ع۔ صفت) (۱) کام کرنے والا۔ (۲) رکنیہ اعظام کرنے والا۔

فاعل حیثیتی (ع۔ اند) خدا نے تعالیٰ۔

فاعل مختار - (ع۔ ۱۔ اند) وہ کام کرنے والا جس کو کامل اختیار حاصل ہو۔

فاعل و مفعول - وہ جو کام کرے اور جس کے ساتھ کیا جائے (۱) اعظام کرنے والا اور جس کے ساتھ اعظام کیا جائے۔

فاعلی - (فا۔ ی۔ لی) (ع۔ صفت) فاعل سے منسوب۔

فاعلیت - (ف۔ ۱۔ مہ) فاعل ہونا۔

فافیہم - (فہف۔ ہم) (ع) پس خور کرو اور سمجھو۔

فاتی - (ع۔ ۱۔ مذکر) تیر کا پچھلا حصہ۔ سو فار۔

فاتی - (فا۔ قد) (ع۔ صفت) کھودینے والا۔

فائق البصر - (ع۔ صفت) اندھا۔ تا مینا۔

فائقہ - (فا۔ قد) (ع۔ ۱۔ مذ) کھانا کھانا۔ بھوکا رہنا۔

فائقہ زدہ - بھوک کا مارا۔ بھوکا۔ کنگال۔

فائقہ سے ہونا - (مض۔ مرکب) کچھ نہ کھانا۔ بھوکا ہونا۔

فائقہ شکنجی - (ع۔ ف۔ مہ) فائقہ کے بعد کھانا کھانا۔

فائقہ کا مارا - (۱) محاورہ، عزیز ہے۔ بھوک کا ستایا ہوا۔

فائقہ کش - بھوکا رہنے والا۔ محتاج۔

فائقہ کوزنا - (۱) محاورہ، فائقہ ہونا۔ بھوکا رہنا۔

فائقہ مست - (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) (۱) نکلنے میں چھک کیلئے والا۔ (۲) مگی میں گین پینے والا۔

فائقہ مستی - (ع۔ ف۔ ۱۔ مہ) تنگ دستی میں خوشی۔ منگی میں تنگ دلیاں

فارمولہ - (Formula) (فار۔ مؤ۔ لا) (انگ۔ ۱۔ مذ) مقررہ قاعدہ۔ کلمہ۔

فارمیسی (Pharmacy) (فار۔ ی۔ سی) (انگ۔ ۱۔ مذ) (۱) دوا سازی۔ دوا آمیزی (۲) دوا خانہ۔

فارمیڈیا - (انگ۔ ۱۔ مذ) بلاشبہ کی بتلی سی تہ جو کڑھی کی چیزوں پر کیمیائی اثرات سے بچانے کے لیے چڑھائی جاتی ہے۔

فارین آفس (Foreign Office) (فا۔ ی۔ ن۔ آ۔ فز) (انگ) ۱۔ مذ) غیر ملکوں سے معاملات کرنے کا محکمہ

فارین ہائٹ (Fahrenheit) (فا۔ ی۔ ن۔ ہا۔ ایٹ) (انگ۔ مذ) جرمن تھرمامیٹر جس میں نقطہ انجماد ۳۲ ڈگری اور نقطہ جوش ۲۱۲ ڈگری ہوتا ہے۔

فارورڈ - (Forward) (فار۔ ورڈ) (انگ۔ صفت) آگے۔

فارورڈ کرنا - آگے چلتا کرنا۔ بھیجنا۔ ارسال کرنا

فاروق - (فا۔ روق) (ع۔ صفت) (۱) فرق کرنے والا۔ حق و باطل میں فرق کرنے والا (۲) حضرت عمرؓ کا لقب (۳) ایک تریاق (۴) ایک تیزاب جس سے گھرا کھوٹا پرکتے ہیں۔

فاروقی - (فا۔ روق) (ع۔ صفت) حضرت فاروق سے منسوب۔ حضرت عمرؓ کی اولاد۔

فاسٹ - (Fast) (انگ۔ صفت) زیادہ تیز۔

فاسیح - (فا۔ سیح) (ع۔ صفت) فسح کرنے والا۔ توڑنے والا۔

فاسد - (فا۔ سید) (ع۔ صفت) (۱) تباہ۔ برباد۔ بدمشیر۔ فسادی۔ جھگڑالو۔ (۲) خراب۔ ناقص۔ بگڑا ہوا۔

فاسفورس - (Phosphorous) (فاس۔ فورس) (انگ۔ ۱۔ مذ) ایک تلب ناک کی یاد دہی مادہ جو مرکب حالت میں پایا جاتا ہے۔

فاسفیٹ - (Phosphate) (فاس۔ فیٹ) (انگ۔ ۱۔ مذ) فاسفوری نمک۔

فاسق - (فا۔ سق) (ع۔ صفت) (۱) گنہگار۔ بدمکار۔ (۲) دورخ گو۔ جھوٹا۔

فاسق - (ع۔ صفت) ظاہر۔ کھلا۔ آشکار۔ مزخ۔

فاسق غلطی کرنا - (۱) محاورہ، کھل غلطی کرنا۔ ایسی بیماری غلطی کرنا جسے سب جانتے ہوں۔

فاسق ہونا - (مض۔ مرکب) ظاہر ہونا۔ طشت ازبام ہونا۔

فاسقزم - (Fascism) (فا۔ سقزم) (انگ۔ ۱۔ مذ) فسطائیت سرمایہ داروں کی جارحانہ آمریت کا جمہوریت دشمن نظریہ۔

فاسقسط - (Fascist) (فا۔ سقسط) (انگ۔ صفت) فسطائی۔ فاسقزم کا پیرو۔

فاسقی - (ا۔ صفت) فسطائی۔ فاسقزم سے متعلق۔ آمرانہ۔ جارحانہ۔

فاصل - (فا۔ صل) (ع۔ صفت) جدا کرنے والا۔ فرق کینے والا۔

فاصل آب - (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) دو دریاؤں کے درمیان کا مرتفع قطعہ زمین۔

فاصلہ - (فا۔ صل) (ع۔ ۱۔ مذ) دوری۔ مسافت۔ عرصہ۔ میدان

فائدہ کا آمد - عقیدہ (۷) - افادہ - آرام (۸) - بہترسی - بھلائی -  
**فائدہ اٹھانا** - نفع حاصل کرنا - نفع میں حاصل کرنا -  
**فائدہ دینا** - (۱) - مجاہدہ - نفع پہنچانا -  
**فائدہ مند**، **فائدہ بخش** - فائدہ رساں - مفید - سود مند - کارگر - موثر -  
**فائدہ ہونا** - (۱) - مجاہدہ - نفع ہونا - (۲) - مفید ہونا - (۳) - حاصل ہونا - مزین  
 میں اعزاز ہونا -  
**فائر** - (Fire) (فا - ایز) [انگ ۱ - مذ] آگ -  
**فائر انجن** - (Fire Engine) [انگ ۱ - مذ] وہ انجن جس سے  
 آگ بجھائیں -  
**فائر بریگیڈ** - (Fire Brigade) آگ بجھانے والی جماعت اور شیپن -  
**فائر پروف** - (Fire Proof) [انگ ۱ - مذ] وہ شے جس  
 سے آگ کا اثر نہ ہو -  
**فائر مین** (Fireman) [انگ ۱ - مذ] انجن میں کڑھو رکھنے والا -  
**فائر** - (فا - ایز) [ع - صفت] (۱) - سینچنے والا - تھپانے والا - کامیاب -  
**فائر المرام** - مراد پانے والا - کامیاب - ہامراد -  
**فایف** - (فا - ایز) [ع - صفت] فوقیت رکھنے والا - بڑھا ہوا - برتر - ممتاز - اعلیٰ - معزز -  
**فائل** (File) (فا - ایز) [انگ ۱ - مذ] (۱) - مسجل - کاغذات کا  
 مجموعہ جو سلسلہ وار اور تاریخ وار رکھا جائے - (۲) - سبک - لای - قطار -  
 منتقلی - منتھا -  
**فائل بک** (Filebook) [انگ ۱ - مذ] وہ کتاب جس میں کاغذ  
 منتقلی کر کے رکھے جائیں -  
**فائل کرنا** - (مصن - مرکب) منسک کرنا - منتقلی کرنا - مسل میں شامل کرنا  
 داخل دفتر کرنا - مقدمہ دائر کرنا -  
**فائن** - (Fine) [فا - ایز] [انگ ۱ - مذ] (۱) - جرمانہ - ڈنڈہ - تادان -  
 (۲) - نیکس - عمدہ - خوبصورت -  
**فائن آرٹ** - [انگ ۱ - مذ] فنون لطیفہ -  
**فائنری** - (Finery) [فا - ایز] [ن - صفت] [انگ ۱ - مذ] (۱) -  
 لوہا پھلانے کی میتھی -  
**فائنل** - (Final) [فا - ایز] [ن] [انگ ۱ - مذ] آخری - قطعی  
 (۲) - ٹورنامنٹ میں مقابلے کا آخری کھیل -  
**فائل** - (Foul) [فا - ایز] [انگ ۱ - مذ] کھیل کے قواعد کی  
 خلاف ورزی -  
**فائونٹین پن** - (Fountain Pen) [فا - ایز] [ن - صفت] [انگ  
 ۱ - مذ] خود کار قلم جس میں روشنائی کا ذخیرہ موجود رہے -  
**فائونڈری** (Foundry) [فا - ایز] [ن] [انگ ۱ - مذ] کارخانہ  
 جس میں دھاتوں کو گلا کر اشیاء ڈھالی جاتی ہیں -

**فائقوں پر فائقے گزرتا** - (۱) - مجاہدہ - متواتر جھوکے رہنا - لگاتار کچھ رکھنا  
**فائقوں کا مارا** - (۱) - مجاہدہ - وہ جو جھوک سے ڈبلا ہو گیا ہو -  
**فائق ہونا** - (۱) - مجاہدہ - فائقہ گزرتا - بے کھائے رہنا - جھوکا رہنا -  
**فائقہ** (ع - ۱ - مذ) سپرہ - پھل - ہرا پھیل -  
**فائل** (ع - ۱ - صفت) [ن] [انگ ۱ - مذ] غیب کی بات پیشین گوئی -  
**فائل دیکھنا** - **فائل کھولنا** - **فائل لینا** - (۱) - مجاہدہ کسی کتاب یا پائے وغیرہ  
 کے ذریعے نیک اور بد شگون معلوم کرنا - غیب کی بات دریافت کرنا -  
**فائل کی کوزیاں ملا کوبھیں حلال ہیں** - [ن] [انگ ۱ - مذ] اجرت پر پیر کا  
 اور شتی کو بھی جائز ہے -  
**فائل گو** (ع - ۱ - مذ) فائل دیکھنے اور بتانے والا -  
**فائل نامہ** (ع - ۱ - مذ) وہ کتاب جس سے فائل نکالی جائے -  
**فائل نکلنا** - شگون ہونا - غیب کی بات معلوم کرنا -  
**فائل ٹیک** (ع - ۱ - صفت) [ن] [انگ ۱ - مذ] اچھا شگون  
**فائل ڈفال** - (ف - ایز) [ع - صفت] (۱) - ضرورت سے زائد - بیکار - فاضل فنون -  
 (۲) - بیادری لوگ - قلی - مزدور -  
**فالج** - (فا - لجز) [ع - ۱ - مذ] بدن کا ڈھیلا یا سٹن پڑ جانا  
**فالج زدہ** (ع - ۱ - صفت) [ن] [انگ ۱ - مذ] جسے فالج ہوا ہو -  
**فالج گزنا** - ہونا - فالج کا مرض ہونا -  
**فالتسہ** - (فال - سنہ) [ن] [انگ ۱ - مذ] جھامڑی کے پیر کے برابر ایک اودا گٹ  
 منٹھا میوہ -  
**فالتسی** - (فال - سین) [ن] [انگ ۱ - مذ] (۱) - صفت] اودا رنگ - سیاسی نال - سرخ -  
**فالو وہ** - (فالو - ڈف) [ن] [انگ ۱ - مذ] پکا ہوا شے جسے چلنے میں جھانکنا  
 سہی بنا لیتے ہیں اور دودھ ، برف و شکر کے ساتھ ملا کر کھاتے  
 ہیں -  
**فالو وہ کھاتے وقت** دانست لوٹیں تو بلا سے - (۱) - شل [بھلائی  
 میں بھی برائی ہو تو ہوا کرے اگر آسان کام میں بھی کھرنے تو بلا سے -  
**فالیز** - (فالیز) [ن] [انگ ۱ - مذ] (۱) - فالو ہونے کا کھیت - کھیرا - کلوٹی - ٹرولوز  
 کا کھیت -  
**فام** - (ف - صفت) [ن] [انگ ۱ - مذ] شہید - مانند - مرکبات میں مستعمل ہے جیسے  
 سیاہ فام - سفید فام -  
**فالونس** - (فالونس) [ن] [انگ ۱ - مذ] ایک قسم کی بڑی قندیل - ایک قسم کا  
 شمع دان جس پر بیچ سے کی شکل کا باریک کپڑا یا کاغذ چڑھا ہوتا ہے -  
**فالونس خیالی** - **فالونس خیالی** - **فالونس کردار** - (ن] [انگ ۱ - مذ] ایک  
 قسم کا کاغذی فالونس - جس پر اچھی - گھوڑوں وغیرہ کا پیکر بنا دیتے  
 ہیں جو گھمانے یا ہوا کے زور سے گردش کرتا ہے -  
**فانہ** - (فا - نہ) [ن] [انگ ۱ - مذ] پھیانہ - چٹھی کلوٹی جس کے ذریعہ دوسری  
 کلوٹی کی درز نکالتے ہیں -

**فانی** - (فا - نئی) [ع - صفت] (۱) - فنا ہونے والا - مٹنے والا - (۲) - بہت بوڑھا -  
**فائدہ** - (فا - ایز) [ع - ۱ - مذ] (۱) - نفع - سود (۲) - نتیجہ - حاصل (۳)  
 محض - خوبی (۴) - پیداوار - آمدنی - (۵) - فرض - مطلب - واسطہ (۶)

## ف - ب

**فہرا** - (ف - ہا) [ع - متعلق فعل] بہت خوب - بہتر - مراد حاصل -



## ف - ح

**فحاش** - (ع۔ حاش) (ع۔ صف) (۱) شریعہ بدعین (۲) گندہ۔  
**فحاشی** - (ع۔ حاشی) (ع۔ ا۔ مرث) بدعتی۔ شرارت۔ جنسی مسائل کو شتمل کرنا۔ بے حیائی۔  
**فحش** - (ع۔ ا۔ مذ) گال۔ بے پردہ بات۔ قابلِ شرم بات۔ جنسی بدکلامی۔ بے حیائی کی باتیں۔  
**فحش بکنا** - (۱) محاورہ) گالیاں بکنا۔ لہجہ بات بکنا۔  
**فحل** - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) اڈنٹ۔ سائڈ (۲) جید عالم (۳) ایک ستارہ جو اہم نجومی - (ع۔ ۱۱) (ع۔ ا۔ مذ) مضنون - معنی - مطلب - ڈھنگ انداز - خواہشے کلام - (ع۔ ۱) - مذ) بات کا مطلب - گفتگو کا انداز۔  
**فحل** - (ع۔ ا۔ مذ) فعل کی جمع - (۱) جیدہ علماء (۲) اڈنٹ۔ سائڈ۔

**قتیلہ** - (ف۔ تی۔ لہ) (ع۔ ا۔ مذ) موٹی تہی - بٹی ہوئی چیز - (۱) وہ تہی جو زخم میں رکھتے ہیں - (۲) توڑی تہی جس سے پیار یا اسباب زدہ کو دھوئی دیتے ہیں (۳) بندونی یا توپ کا ٹوٹا۔  
**قتیلہ داغنا** - (۱) محاورہ) ناش کھنا۔  
**قتیلہ دکھانا** - (۱) محاورہ) بندوق یا توپ کی بارود کو قتیلے سے آگ لگانا۔  
**قتیلہ دینا** - (۱) محاورہ) زخم میں تہی رکھنا۔  
**قتیلہ ناک میں دینا** - (۱) محاورہ) (۱) توڑی تہی کی دھوئی دینا۔ (۲) دق کرنا۔

## ف - ٹ

**فٹ** - (Fit) (انگ۔ صف) چسٹ۔ درست۔ ٹھیک۔  
**فٹ آنا** - (۱) محاورہ) ٹھیک آنا۔ درست ہونا۔ موزوں ہونا۔  
**فٹ** - (Foot) (انگ۔ ا۔ مذ) پاؤں۔ قدم۔ پیر۔ (۲) بارہ انچ کا پیمانہ۔ گز کا تیسرا حصہ۔  
**فٹ بال** - (Foot Ball) پاؤں سے لڑھکانے کی گیند۔  
**فٹ نوٹ** (Foot Note) وہ شرح جو کتاب کے متن کے نیچے لکھی جائے۔  
**فٹسٹر** (Fitter) - (ف۔ ٹز) (انگ۔ ا۔ مذ) مستری۔ مشینوں کے ٹرن سے مرمت کرنے یا درست کرنے والا۔  
**فیلن** (Phaeton) (ف۔ ٹن) (انگ۔ ا۔ ص) ایک قسم کی چار پہیوں کی گجی۔  
**فٹنگ** (Fitting) (انگ۔ ا۔ ص) درستی۔ کسی چیز کو درست کرنا۔

## ف - خ

**فخر** - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) انداز۔ گھمنڈ۔ غرور۔ بزرگی۔ (۲) شیعنی۔ تہی۔ (۳) سخاوت و شوکت۔  
**فخر اندیا** - (ع۔ ا۔ مذ) دکھانے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔  
**فخر جاننا** - فخر سمجھنا۔ (۱) محاورہ) مرئی اور بہتری کا باعث خیال کرنا۔  
**فخر خاندان** - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) وہ شخص جس کے باعث خاندان کو شرف اور بزرگی حاصل ہو۔  
**فخر کرنا** - (مض۔ مرکب) ناز کرنا۔ گھمنڈ کرنا۔ شہنی ماننا۔  
**فخر آؤ** - (فخر بیت) - (فخ۔ و۔ ن) (ع۔ ری۔ ین) (ع۔ ت) (ع۔ ف) فخر کے طور پر شہنی سے۔ نازاں ہو کر۔

## ف - ج

**فجا** - (ع۔ ا۔ مذ) اچانک بولنا۔ بیکاک ہونا۔  
**فجائی** - (ع۔ صف) بیکاک۔ ناگہاں۔ اچانک۔  
**فجارت** - (ع۔ جبار) (ع۔ ا۔ مذ) فاجر کی جمع۔ بدکار لوگ۔  
**فجرت** - (ع۔ ا۔ موش) صبح۔ سویرا۔ نوز کا ٹوکا۔ سحر۔  
**فجرت کرنا** - (۱) صبح ہونا۔ تڑپ کا ہونا۔ (۲) آنکھیں کلکنا۔ غفلت دہر ہونا۔  
**فجور** - (ف۔ جؤز) (ع۔ ا۔ مذ) گناہ۔ جرم۔ قصور۔ گناہی کرنا۔ بدکاری۔

## ف - د

**فدا** - (ف۔ و) (ع۔ صف) (۱) نثار۔ قربان۔ صدقے (۲) عاشق۔  
**فدا رفتہ** - مقتول۔  
**فدا کرنا** - (۱) محاورہ) قربان کرنا۔ تصدق کرنا۔ وارنا۔ نثار کرنا۔ چھڑانا۔  
**فدا ہلانا** - (۱) محاورہ) قربان ہونا۔ تصدق۔ ہونا (۲) عاشق ہونا۔ فریقت ہونا۔  
**فداہ امتی** - (ع۔ کلمہ) میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد کہتے ہیں۔







ہوشیار بہتر مند۔ لائق۔ بھیکم۔  
 فرزند۔ (فرزند، دن) (۱۔ مذ) بیٹا۔ (لڑاکار) اولاد لڑاکا یا لڑکی۔  
 فرزند (جمد)۔ (ن۔ ۱۔ صفت) لائق بیٹا۔ سارا اور قابل قدر بیٹا۔  
 فرزندِ خلعت۔ (ن۔ ۱۔ مذ) نیک اور صالح بیٹا۔ نیک نجات اور فرمانبردار  
 بیٹا۔ سپوت۔

فرزندِ رشید۔ (ن۔ ۱۔ مذ) نیک بیٹا۔  
 فرزندِ ناخلاق۔ (ن۔ ۱۔ مذ) نالائق بیٹا۔ کمپوت۔  
 فرزندِ نرمینہ۔ (ن۔ ۱۔ مذ) بیٹا۔ لڑاکا۔  
 فرزندِی۔ (فرزند، دن) (ن۔ ۱۔ صفت) بیٹا، جسے کی حالت۔ فرزند  
 سے منسوب۔ باپ بیٹے کا تعلق۔

فرزندِی میں (قبول فرما، لینا) (۱۔ محاورہ) بیٹا بنانا۔ داماد بنانا۔  
 فرزند۔ (فرزند، دن) (ن۔ ۱۔ صفت) دانہ۔ عاقل (۱۲)۔ (۱۔ مذ) شطرنج  
 کے کھیل میں وزیر کا مورہ۔  
 فرزند بنانا۔ (محاورہ) پیدل کا آخری خانے میں پہنچ کر وزیر میں جانا۔  
 فرس۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ مذ) گھوڑا۔ اسپ۔ مرکب۔ (۲)

فرس۔ (فرس، ن) (ن۔ ۱۔ صفت) تباہ کرنے والا۔ مرکبات میں بطور  
 لاحقہ استعمال ہوتا ہے جیسے رُوح فرسا۔

فرستادہ۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ صفت) بھیجا ہوا۔ قاعدہ۔ الجی۔  
 فرسٹ۔ (First) (انگ۔ صفت) اول۔ سلا۔ انگلہ مقدم سابق۔  
 فرسٹ اننگ۔ (First Innings) کرکٹ میں پہلی دفعہ کھیل۔  
 فرسٹ ایڈ (First Aid) (انگ۔ ۱۔ صفت) ابتدائی  
 طبی امداد حادثے کی صورت میں مریض کو ہسپتال لے جانے  
 سے پہلے اس کی فروری مرہم پٹی کرنا۔

فرسٹ کلاس (First Class) اول درجہ۔ پہلا درجہ۔  
 فرسخ۔ (فرسخ، ن) (ن۔ ۱۔ مذ) تین میل سے زائد کا فاصلہ۔ ۱۸ ہزار  
 فٹ کا فاصلہ۔

فرسنگ۔ (فرسنگ، ن) (ن۔ ۱۔ مذ) دیکھیے فرسخ۔  
 فرسودگی۔ (فرسودگی، ن) (ن۔ ۱۔ صفت) پرانا پن۔ گھساؤ۔  
 سھٹاؤ۔

فرسودہ۔ (فرسودہ، ن) (ن۔ ۱۔ صفت) (۱) گھسا ہوا۔ پھٹا ہوا۔ کھنہ  
 پڑنا۔ (۲) تھکا ماندہ۔ خستہ حال۔

فرسودہ حال۔ (ن۔ ۱۔ صفت) تباہ حال۔ خستہ حال۔  
 فرس۔ (ن۔ ۱۔ صفت) بچھونا۔ بستر بچھانے کی چیز۔ بوریا۔ خالیچہ (۲) زمین

(۳) جسے دغیرہ سے بچنے کی ہوئی زمین۔  
 فرس بچھانا۔ (۱۔ محاورہ) پلنگ بچھونا وغیرہ کرنا۔  
 فرس خاک۔ (ن۔ ۱۔ صفت) زمین۔

فرس راہ۔ (ن۔ ۱۔ صفت) راستے پر بچھا ہوا۔ انکساری اور سمان نوازی  
 کی علامت۔

فرس زمین ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دفن ہونا۔

فرسخ نہاد۔ (ن۔ ۱۔ صفت) اچھی طبیعت والا۔ نیک طبیعت۔  
 فرخدار۔ (فرخدار، ن) (ن۔ ۱۔ صفت) (۱) سجادت زینت۔ (۲) ترکی کا ایک  
 شہر جو اپنے باشندوں کی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔

فرخندہ (فرخندہ، ن) (ن۔ ۱۔ صفت) دیکھیے فرسخ۔ مبارک۔ خوش۔  
 فرخندہ بخت (طالع) قال۔ (ن۔ ۱۔ صفت) خوش نصیب نیک اختر خوش اقبال  
 فرخندہ خوا۔ (ن۔ ۱۔ صفت) نیک نصلبت

فرخندہ قال۔ (ن۔ ۱۔ صفت) دیکھیے فرسخ قال۔  
 فرخندہ فرحام۔ (ن۔ ۱۔ صفت) جس کا نتیجہ اچھا ہو۔ مبارک۔  
 فرخی۔ (فرخی، ن) (ن۔ ۱۔ صفت) مبارک کی خوش نصیبی۔

فرد۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (۱) واحد۔ ایک۔ سطلق۔ (۲) ایک شعر۔ دو ہا (۳)  
 فرست حساب۔ چٹھا۔ رتبط۔ (۴) لحاف یا رضائی کا اترہ۔ چادر۔  
 شال۔ (۵) ایک آدمی۔ (۶) ایک پتند۔ (۷) تنہا۔ اکیلا۔ (۸)

(ن۔ ۱۔ صفت) بے مثل جمع۔ افراد۔  
 فرد باطل۔ (ن۔ ۱۔ صفت) حساب کا کاغذ جو فروری گردیا گیا ہو  
 (۲) ہکتی۔ بے کاریج۔

فرد باقیات (ن۔ ۱۔ صفت) اہل حساب کی فہرست۔  
 فرد تنگی۔ (ن۔ ۱۔ صفت) تنگیں یا مالی کمزاری کی فرد۔  
 فرد بشر۔ (ن۔ ۱۔ صفت) شخص بنیقین۔

فرد تعلیقہ (ن۔ ۱۔ صفت) ضبطی جامداد کی فہرست۔  
 فرد جمع بندی۔ مال گذاری کی فرد۔  
 فرد حساب۔ (ن۔ ۱۔ صفت) حساب کا کتا چٹھا۔

فرد تھنیت۔ عرضداشت۔ واجب العرض۔  
 فرد فرد۔ (ن۔ ۱۔ صفت) ایک ایک الگ الگ۔ جدا جدا۔  
 فرد قرار اور جرم۔ (ن۔ ۱۔ صفت) عدالت کا وہ کاغذ جس

میں مجرم ٹھہرانے کا مضمون اور قانونی دفعہ، شہادت لینے  
 کے بعد درج ہوتی ہے۔  
 فرد نکلوٹ۔ (ن۔ ۱۔ صفت) وہ کاغذ جس میں قیمت فصل کے تخمینے

کی فہرست درج ہوتی ہے۔  
 فرد اول۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ صفت) تابع فعل۔ فرد۔ ایک ایک کر کے  
 فردا۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ صفت) آئے والا دن۔ آئندہ کل (مجازاً) قیامت کا دن۔

فردوس۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ صفت) باغ۔ گلزار۔ گلشن (۲)  
 بہشت۔ بہشت۔

فردوس بریں۔ (ن۔ ۱۔ صفت) بہشت کا اعلیٰ طبقہ۔  
 فردوس کوش۔ (ن۔ ۱۔ صفت) وہ جس کی آواز کا لڑن کو اچھی لگے۔  
 فردوس مکانی۔ (ن۔ ۱۔ صفت) فردوس میں رہنے والا۔ وہ شخص  
 جسے مرنے کے بعد فردوس نصیب ہو۔ (۲) انتقال کے

بعد بابر بادشاہ کا لقب۔  
 فردوس منزلت۔ (ن۔ ۱۔ صفت) جنت میں رہنے والا۔ مرحوم و مغفور۔  
 فردا کی (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ صفت) علم حکمت۔  
 فردا۔ (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ صفت) (ن۔ ۱۔ صفت) دانش مند۔ سمجھ دور۔

**فرض** - (ع۔ ۱۔ منہ) وہ کام جو خدا کے حکم سے ضروری ہو۔ (۲۔ منہ) ضروری لازمی (۳۔ غازی) وہ کہ جس میں کا پڑھنا لازمی ہے۔ (۴۔ منہ) داری۔ بارخیزت (۵۔ نکاح) جمع۔ فرض۔ فرض ادا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ادا خدا کا حکم بجالانا۔ (۲۔ اپنے اوپر جو کچھ واجب ہے اس کا بجالانا۔

**فرض پڑھنا** - (۱۔ محاورہ) نماز کی ان رکعتوں کا پڑھنا جو خدا سے لازم کر دی ہیں۔

**فرض سے ادا ہو جانا** - (۱۔ محاورہ) اولاد کی شادی کر کے سبک دوش ہو جانا۔

**فرض عائد ہونا** - (مص مرکب) ذمہ دار ہونا۔ لازم ہونا۔

**فرض عین** - (ع۔ ۱۔ منہ) خاص فرض۔ ضروری فرض۔ نہایت ضروری کام یا فریضہ۔

**فرض کرنا** - (مص مرکب) تسلیم کرنا۔ خیال کرنا۔ جانا۔ مان لینا۔

**فرض کفایہ** - (ع۔ ۱۔ منہ) وہ فرض جو چند آدمیوں کے کرنے سے سب کے سر سے اتر جائے جیسے خانہ جازہ۔ سلام کا جواب دینا۔

**فرض محال** - (ع۔ ۱۔ منہ) نامکن۔ ایسی چیز کا مان لینا جس کا واقع ہونا نامکن ہو۔

**فرض موقوف** - (ع۔ ۱۔ منہ) وہ فرض جسے وقت پر مقرر کیا جائے۔

**فرض ہونا** - (۱۔ مص مرکب) لازم ہونا۔

**فرضاً** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) فعل (۱۱) اذکرئے فرض (۱۲) بالفرض قیاساً۔

**فرضی** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) صفت۔ قیاسی۔ مصنوعی۔ نقلی۔

**فرضیت** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) صفت۔ فرض ہونا۔ لازم و ضروری ہونا۔

**فرض** - (ع۔ ۱۔ منہ) زیادتی۔ غلبہ۔ کثرت۔ اقراط۔

**فرض** - (ع۔ ۱۔ منہ) (۱۱) ظہنی۔ شاخ۔ ڈالی (۱۲) وہ جس کی اصل کرنی اور چیز ہو۔ جمع۔ فرض۔ فرضیات۔

**فرضوں** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) مہر کے قدم بادشاہوں کا لقب (۱۲) حکیمتر معرود۔ سرکش۔ ظالم (۱۳) باغی۔ نافرمان۔ جمع۔ فراعنہ۔

**فرضوں** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) وہ شخص جو بے مقصدت ہونے پر بھی اترائے اور سرکشی کرے۔ (۱۲) حکیمتر۔ ظالم۔

**فرضوں** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) (۱۱) فرض۔ غزنی۔ بیت (۱۲) (ع۔ ۱۔ منہ) بد ذاتی۔ خیرات۔ سرکشی۔ تکبر۔ فرود۔

**فرضانہ** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) ایک سرد (۱۲) جمہوریہ ازبکستان کا ایک علاقہ جو بابر کا وطن تھا۔

**فرض علی** - (فرض علی) (ع۔ ۱۔ منہ) روٹی دار لبادہ۔

**فرضوں** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) جلد بلبہ۔ بواکلی طرح۔

**فرضوں** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) (۱۱) جلد بلبہ کاٹ ڈالنا۔ (۱۲) جلد سی جلدی پڑھنا۔

**فرض فروش** - (ف۔ ۱۔ منہ) بچھانے کی چیزیں۔

**فرض کرنا** - (۱۔ محاورہ) بارخیزت بچھانا (۲) بچھانے وغیرہ سے زمین کی سطح ہموار کرنا (۳) مار مار کر کوہ نکال دینا۔

**فرض گل** - (ف۔ ۱۔ منہ) پھولوں کی بیج۔

**فرض ہونا** - (۱۔ محاورہ) فرض بچھانا (۲) بچھانے وغیرہ سے زمین کی سطح ٹھیک ہونا۔

**فرضگان** - (ف۔ ۱۔ منہ) رشتہ۔ گان (ف۔ ۱۔ منہ) فرشتہ کی جمع۔ ملائکہ۔

**فرشتہ** - (ف۔ ۱۔ منہ) (۱) بھیا ہوا۔ رسول۔ ناصدہ (۲) اسلامی عقیدہ کے مطابق ایک مخلوق جو نور سے بنی ہے۔

**فرشتہ پر نہیں ملتا** - (۱۔ محاورہ) کوئی غیر ادر اجنبی کسی طرح نہیں جاسکتا کسی کا گذر نہیں۔ بڑی روک ٹوک ہے۔

**فرشتہ ماتا** - (۱۔ محاورہ) نیک خصلت سمجھنا۔

**فرشتہ خاں** - (۱۔ منہ) بارخیزت۔ زبردست۔ کومی۔ رعب داب والا آدمی۔

**فرشتہ خصال** - (ف۔ ۱۔ منہ) سیرت۔ صفت۔ (ف۔ ۱۔ منہ) نیک خصلت۔ پاک۔ مقدس۔ بھولا۔ بھالا۔ سیدھا سا۔ شریف۔

**فرشتہ سیرت** - (ف۔ ۱۔ منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) بھلا ماض۔ نیک طبیعت۔

**فرشتہ صورت** - (ف۔ ۱۔ منہ) صورت۔ بہت نیک معلوم ہو۔

**فرشتہ مرگ** - (ف۔ ۱۔ منہ) مرگ۔ موت۔ موت کا فرشتہ عزرائیل۔

**فرشتہ ہے** - (۱۔ محاورہ) بہت نیک ہے۔

**فرشتوں کو خبر نہ ہونا** - (۱۔ محاورہ) فرشتوں کو علم نہ ہونا (۱۱) کسی کو مطلق پتہ نہ ہونا۔ نہایت راز میں رہنا۔ (۱۲) بالکل بے خبر رہنا۔ محض نادراقت ہونا۔

**فرشتوں کے پڑھنا** - (۱۔ محاورہ) تاب نہ ہونا۔ مجال نہ ہونا۔ رعب۔ جلال یا خوف کے باعث حوصلہ نہ پڑنا۔ بیوقوف نہ ہونا۔

**فرشتوں نے گھر دیکھ لیا** - (۱۔ محاورہ) موت نے گھر دیکھ لیا۔ پے در پے موتیں ہونے پر کھتے ہیں۔

**فرشتوں کے پڑھنا** - (۱۔ محاورہ) فرشتوں سے بازی بے جانا۔

**فرشتے کا گھر نہ ہونا** - (۱۔ محاورہ) کسی کی رسائی نہ ہونا۔

**فرشتے دکھائی دینا** - (۱۔ محاورہ) مرنے کا وقت قریب آنا۔ موت نظر کرنا۔

**فرشتے کا کان میں ٹھونکنا** - (۱۔ محاورہ) ٹھونکنا۔ معرور ہونا۔

**فرشتی** - (فرض منہ) (ع۔ ۱۔ منہ) صفت۔ فرض سے مشوب۔

**فرشتی حقہ** - (۱۔ منہ) جوڑے میں سے کا حقہ۔

**فرشتی سلام** - (ف۔ ۱۔ منہ) دیکھیںے فرضی سلام۔ گورنش۔ بہت چمک کر سلام کرنا۔

**فرشتی لیمپ** - (ف۔ ۱۔ منہ) فرشت پر رکھنے والا لیمپ۔

**فرصت** - (ف۔ ۱۔ منہ) (۱) ہمت۔ (۱۱) ہمت۔ فراغت (۱۲) چھٹی۔ چھٹکارا (۱۳) اطمینان کرام موقع (۱۴) ہمت کا وقت۔

**فرصت پانا** - (۱۔ محاورہ) (۱) چھٹی پانا۔ ہمت پانا۔ (۱۲) موقوف ہونا برطرف ہونا۔

**فرصت سے** - (۱۔ منہ) (۱) اطمینان سے۔ موقع سے۔

**فرصت میں** - (۱۔ منہ) (۱) اطمینان سے۔ تہائی میں۔

فرمان بالمشافہہ - (ف - ع - ا - مذ) زبانی حکم - جس کی تعمیل فوراً ہو۔

فرمان بردار - فرمان پذیر - (ف - صفت) (۱) میلے - ۳۰ سابع (۲) نوکر جاگر۔

فرمان برداری - (ف - ا - مذ) اطاعت کرنا - حکم ماننا۔

فرمان (جاری) صادر کرنا - (مضمر مرکب) حکم جاری کرنا۔

فرمان روا - (ف - صفت) حکمران - حاکم - بادشاہ۔

فرمان روائی - (ف - ا - مذ) حکمرانی - بادشاہت - حکومت۔

فرمان واجب الاذعان - (ف - ع - ا - مذ) ایسا حکم جس کی تعمیل ضروری ہو۔ وہ حکم جس پر یقین کرنا ضروری ہو۔

فرمان ہار - (ف - ا - مذ) فرمان دینے والا۔

فرمانا - (ف - م - ا - مذ) امر - حکم دینا - بولنا - کہنا - بیان کرنا۔

فرمائش - (ف - م - ا - مذ) درخواست - طلب - مانگ - تمنا - حاجت - ضرورت۔

فرمائش کرنا - (ا - محاورہ) چاہنا - کوئی چیز طلب کرنا۔

فرمائشی - (ف - م - ا - مذ) شہی - (ف - صفت) (۱) فرمائش کی ہوئی - حکمانگوار - یا بنوائی ہوئی (۲) عمدہ - نفیس - پر تکلف (۳) جوتوں کی مار - مشعلہ گویا۔

فرمائشی لڑنا - (ا - محاورہ) جوتیاں لڑنا - جوتیاں لگانا۔

فرمائشی لگانا - (ا - محاورہ) خوب جوتیاں مارنا۔

فرمودگی - (ف - ہ - مذ) (ف - ا - مذ) ارشاد - حکم - فرما۔

فرمودہ - (ف - ہ - مذ) (ف - ا - مذ) فرمایا ہوا - ارشاد و حکم۔

فرن (Fern) (انگ) (ا - مذ) کالی کے قسم کے پودے جو نہروں اور پانی کے آس پاس اگتے ہیں۔

فرنٹ (Front) (ف - رنٹ) (انگ) (صفت) (۱) سامنا - مقابل - کا حصہ - بائیں - سرکش - منحرف (۲) محاذ - مورچہ۔

فرنٹ بوجھانا - (ا - محاورہ) بگڑ جانا - بائیں بوجھانا - (۲) رنجیدہ ہو جانا - تاراض بوجھانا۔

فرنٹیئر (Frontier) (ف - رن - ٹ - انگ) (صفت) سرحد - فرینچ - (ف - رینچ) (انگ) (مذ) فرانس کا باشندہ - (۲) ایک قسم کا پکانا کاغذ جو فرانس میں بنتے ہیں ۳۱ فرانس کی زبان (French)۔

فرنچ لیڈر - (انگ) (مذ) پلاسٹک وغیرہ کا ایک نول جو بوقت جماع مخصوص ناسل پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ نطفہ رحم میں داخل نہ ہو سکے۔

فرنچ کٹ ڈاڑھی - (انگ) (مذ) ایک خاص قسم کی ڈاڑھی جس میں کٹوں کے بال تراش دیتے ہیں - اور کھوڑی کے بال مقابلاً بڑھے ہوتے ہیں۔

فرننگ - (ف - رینگ) (ف - صفت) (۱) یورپ سے متعلق مغربی (۲) تلوار (رق)۔

فرننگستان - (ف - رن - گس - تان) (ف - ا - مذ) یورپ - فری - (ف - رن - گس) (ف - ا - مذ) یورپی - انگریز - مغربی۔

فرز ہو آنا - (ا - محاورہ) تیزی سے ہونا۔

فرز مالش - (ف - ریز - ما - ا - مذ) (مذ) فرمائش وغیرہ - تنخواہ کے علاوہ دیگر آمدنی۔

فرز مری - (ف - رسی) (ف - ا - مذ) (مذ) بچوں کی بنائی ہوئی ایک لولی جس میں ہر لفظ میں جاہمات بڑھا دیتے ہیں۔

فرق - (ع - ا - مذ) (۱) جدائی - علیحدگی (۲) فاصلہ - دوری (۳) اختلاف (۴) تمیز - شناخت (۵) ہر (۶) سر کے بالوں کی مانگ (۷) کمی - کسر گھٹانا (۸) بیگانگی - غیرت - جمع - افتراق۔

فرق (آجانا) آنا - (ا - محاورہ) غیرت بوجھانا - پہلے سی بات نہ رہنا (۲) بات بگڑنا - جانا (۳) اصلیت میں اختلاف بوجھانا - (۴) خلل واقع ہونا (۵) کدورت آجانا۔

فرق باقی رہنا - (ا - محاورہ) اتفاق نہ مٹنا۔

فرق پڑنا - (ا - محاورہ) اختلاف ہونا - میل نہ کھانا۔

فرقدان - (ف - ا - مذ) سر - کھوپڑی۔

فرق سے - (ا - متعلق فعل) فاصلے سے۔

فرق کرنا - (مضمر مرکب) یکساں نہ سمجھنا (۲) جدا کرنا (۳) صورت بدل دینا - فرق لانا - (ا - محاورہ) یکساں نہ رکھنا - کم کر دینا۔

فرق نکالنا - (ا - محاورہ) (۱) غلطی نکالنا (۲) اختلاف دور کرنا۔

فرق ہونا - (مضمر مرکب) اختلاف ہونا - کمی زیادتی ہونا (۲) جدائی ہونا۔

فرقان - (ف - ران) (ع - صفت) (۱) حق اور باطل میں فرق کرنے والا (۲) (۱) مذ) قرآن شریف - حکام مجید۔

فرقت - (ف - رقت) (ع - ا - مذ) جدائی - ہجر - علیحدگی۔

فرقہ - (ف - رقا) (ع - ا - مذ) قوم - جماعت - گروہ - فرقہ۔

فرقہ بندی - (ع - ف - ا - مذ) جماعت بنانا - کسی گروہ کی تنظیم۔

فرقہ پرست - فرقہ پسند - (ع - ف - صفت) اپنی جماعت کو طرف دار - تنگ نظر۔

فرقہ دار - (ع - ف - صفت) فرقے کے متعلق - ہر فرقے کا انگ انگ۔

فرقہ دار نہ - (ع - ف - صفت) جماعت دار - ہر فرقے کا علیحدہ علیحدہ۔

فرقہ داریت - تعصب اور تنگ نظری - اپنے مذہب یا گروہ کی طرف داری اور دوسروں کی مخالفت۔

فرلانگ (Furlong) (ف - لانگ) (انگ) (ا - مذ) دو بیس گز کا فاصلہ - میل کا آٹھواں حصہ۔

فرلوہ (Furlovah) (ف - لو) (انگ) (مذ) لمبی رخصت - بیرون ملک جانے کی رخصت۔

فرم (Firm) (انگ) (مذ) کارخانہ - کمپنی - دکان - کاروباری ادارہ - فرما - فرمہ - (ف - رما) (ا - مذ) فارم کا مغرب - چھاپا ہوا - کاغذ پختہ (۲) قالب - ڈھانچہ۔

فرما موڑنا - (ا - محاورہ) چھپے ہوئے کاغذوں کو ترتیب سے موڑ کر چڑھانا۔

فرمان - (ف - مان) (ف - ا - مذ) شاہی حکم نامہ - پورہ - بنائے ہوئے - جمع - فرمایا۔

فرنی - (فرنی، فن) (ن - ا۔ مشت) ایک قسم کی کھیر جو دودھ چینی اور چاول کے اٹے سے بنتی ہے۔  
 فرنی فالودہ ایک سجاؤ نہیں ہوتا، (ا۔ مثل) ہر شے کی قدر اس کی قیمت کے مطابق ہوتی ہے، اعلیٰ ادنیٰ سب کیساں نہیں ہوتے۔  
 فرنیچر - (Furniture) (فرنی، چر) (انگ - ا۔ مذ) میز کرسی وغیرہ اسباب آرائش۔  
 فرود - (ف - نو) (ن) (ا) نیچے - تخت (۲) زیر حکم (۳) سفلہ - کم مرتبہ۔  
 فرودین - (ف - صفت) غریب - عاجز - مسکین - خاکسار۔  
 فرودینی - (ن - ا۔ مشت) غریبی - عاجزی - مسکینی - تواضع۔  
 فرود کرنا - (مض مرکب) دیکھنا - جھاننا - بھجانا۔  
 فرودکش ہونا - (ن - صفت) ٹھہرنا - مقام کرنا۔  
 فرودگذاشت - (ن - ا۔ مشت) (ا) اگتاہی کئی (۲) بھول - خطا (۳) بے پرواہی - غفلت (۴) درگزر - نظر انداز - چشم پوشی۔  
 فرودگذاشت کرنا - (ا۔ محاورہ) (ا) بھولنا - بھونکنا (۲) ٹاننا - چشم پوشی کرنا۔  
 فرودماندی - (ن - ا۔ مشت) لاچارگی - عاجزی - انطاس - مٹلی۔  
 فرودماندہ - (ن - صفت) (ا) عاجز - مٹس (۲) تھکا ہوا - کمزور۔  
 فرودمایہ - (ن - صفت) کینہ - سفلہ - کم ظرف - گھٹیا۔  
 فرود ہونا - (مض مرکب) نیچے بیٹھنا - کم ہونا - جھنجھٹا۔  
 فرودٹ - (فر - وٹ) (ا۔ مشت) سڑک - تیز - انگریزی لفظ فاروٹ (Forward) کا مترادف۔  
 فرودٹ اترانا - (ا۔ محاورہ) گھوڑے کو سڑک سے دوڑانا۔  
 فرودٹ جانا - (ا۔ محاورہ) بہت تیز جانا۔  
 فرودٹ (Fruit) (ف - نوٹ) (انگ - ا۔ مذ) پھل - میوہ۔  
 فرودخت - (ف - روخت) (ن - ا۔ مشت) کبوتری بیج - بیجنا۔  
 فرود - (ف - روڈ) (ن - صفت) (ا) نیچے - زیر (۲) (ا۔ مذ) اترنا۔  
 فرود ٹھہراؤ - بسیرا۔  
 فرودگاہ - (ن - ا۔ مشت) اترنے کی جگہ - ٹھہرنے کی مقام - قیام گاہ۔  
 فرودروین - (فر - رو - وین) (ن - ا۔ مذ) فارسی سال کا پہلا مہینہ۔  
 فرودروی - اصل لفظ - (February) سے (مترادف - ا۔ مذ) سن عیسوی کا دوسرا مہینہ۔  
 فرود - (ف - روڈ) (ن - صفت) روشن کرنے والا - مرکبات میں آتا ہے۔  
 جیسے جل فرود۔  
 فرودزائل - (ف - رو - زائل) (ن - صفت) روشن۔  
 فرودش - (ف - روش) (ن - صفت) بیچنے والا - فروشن کا اُمر - مرکبات کے اثر میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بھری فرودش۔  
 فرودشندہ - (ف - رو - شند) (ن - صفت) فروخت کرنے والا - بیچنے والا۔  
 فرودش - (ف - رو - ش) (ن - ا۔ مذ) (ا) فروغ کی سب - شاخیں - ڈالیاں - چھتیاں (۲) مذہبی اصطلاح میں وہ مسائل جو عمل سے متعلق ہوں۔  
 فرودش - (ف - رو - ش) (ن - ا۔ مذ) (ا) روشنی - لہجہ - تک - رونق۔  
 فرودش - (ن - صفت) روشنی دینے والا۔

فردوغ بانا - (ا۔ محاورہ) عزت بانا - نام بانا - سر بلندی حاصل کرنا۔  
 فردوغ حاصل کرنا - (ا۔ محاورہ) (ا) چمک پانا - (۲) ترقی اور درج حاصل کرنا۔  
 فردوغ لے جانا - (ا۔ محاورہ) سبقت لے جانا۔  
 فردوغ ہونا - (ا۔ محاورہ) ترقی ہونا - رونق ہونا - شہرت ہونا۔  
 فردوسی - (ف - رو - سی) (ا۔ مذ) (ا) سنسکرت - کیشی - (۲) نامہ - جمل (۳) ایک قسم کی تلوار۔  
 فرہاد - (فر - ہاد) (ن - ا۔ مذ) وہ افسانوی سنگ تراش جو عسرد بادشاہ ایران کی ملکہ شریں پر عاشق ہو گیا تھا، عاشق صادق۔  
 فرہنگ - (فر - ہنگ) (ن - ا۔ مشت) (ا) دانائی - دانش - سمجھ - (۲) لغت کی کتاب - ڈکشنری۔  
 فرمی (Free) (ف - ری) (انگ - صفت) (ا) آزاد - (۲) بلا قیمت - مفت فریاد - (فر - یاد) (ن - ا۔ مشت) (ا) دہائی - مدد مانگنے کا شور - آہ و نالہ (۲) (ا) ظلم زیادتی کی شکایت (۳) ناش - استغاثہ۔  
 فریادرس - (ف - صفت) فریاد کو پہنچانے والا - فریاد سننے والا - داد دینے والا۔  
 فریادرسی - (ن - ا۔ مشت) انصاف - انصاف کرنا - نیاؤ۔  
 فریاد کرنا - (مض مرکب) (ا) دانی - پناہ - شور کرنا - ڈکھ اور دانا (۲) ناش کرنا - انصاف چاہنا فریاد لانا - (ا۔ محاورہ) کسی کے غم کو دست کشوہ بیان کرنا۔  
 فریاد سگال - کم نکلند رزق گذارنا - (ن - مثل) کتوں کے بھونکنے سے فقیر کے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوجاتی (۲) لگائی بھجائی یا خود کسی کے رزق کو کم نہیں کر سکتا۔  
 فریاد کو پہنچانا - (ا۔ محاورہ) انصاف کرنا - داد دینی کرنا - فریاد سننا۔  
 فریادی - (فر - یاد) (ن - صفت) دہائی دینے والا - انصاف چاہنے والا - ناش کرنے والا۔  
 فریب - (ف - رب) (ن - ا۔ مذ) دغا - مکر - دھوکا - دم - جھانسنہ (۲) چالاک - عیاری - شہیدہ۔  
 فریب دینا - (ا۔ محاورہ) فریب دینا - جھٹلنا - جُل دینا - دم دینا جھانسنہ دینا۔  
 فریب دہی - (ن - ا۔ مشت) دھوکا دینا - دغا بازی۔  
 فریب ساز - (کار) - (ن - ا۔ صفت) دغا باز - مکار - دھوکہ باز۔  
 فریب کرنا - (مض مرکب) دغا کرنا - چالاک کرنا - دھوکا دینا۔  
 فریب رکھنا - (مض) میں آنا - (ا۔ محاورہ) دھوکا کھانا - جال میں پھنسا۔  
 فریبی فریبیا - (ن - رے - بی - ف - رے - پ - یا) (ا۔ صفت) دغا باز مکار - دھوکا دینے والا - ٹھگ۔  
 فریڈ - (ف - ریڈ) (ن - صفت) (ا) بیکتا - بے مثل - لاثانی - حضرت شیخ زید الدین کا لقب - جمع - فریڈ۔  
 فریڈ لونی - (ا۔ مشت) ایک نہایت سرد و سردار لونی۔  
 فریڈ فنگر - (ن - صفت) ہاتھ سے رنج - (مثل) ہاتھ فریڈ کے فقروں کی صدا - ایک دغا بیہ فقرا۔

فریدی - (ف۔ ری۔ دی) (اُرد۔ مٹ) (۱) بابا فریدی کی سیار کا گھانا (۲)  
 (صفت) فرید سے منسوب  
 فریسس - (ف۔ ریس) (اُرد۔ صفت) فراست والا۔ دانش مند  
 فریسیس - (Pharisee) (ف۔ ری۔ سی) (انگ۔ صفت) قدیم یہودی  
 فرقہ جو رسم برستی، ظاہر دانی میں مشہور تھا۔ رسم پرست، ظاہر دار۔  
 فریضہ - (ف۔ ری۔ ضہ) (ع۔ ا۔ مذ) واجب۔ لازم۔ مزدوری۔ جمع۔ فرائض۔  
 فریضہ ادا کرنا۔ (مض مرکب) فرض پورا کرنا۔ حکم بجالانا۔  
 فریقگی - (ف۔ ریف۔ گ) (ف۔ ا۔ مٹ) عشق۔ محبت۔ چاہت۔  
 فریقہ - (ف۔ ریف۔ تہ) (ف۔ صفت) عاشق۔ دلدادہ۔ جمع بہ فریقگان  
 فریق - (ف۔ ریف) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) جماعت۔ گروہ۔ فرقہ۔ (۲) جتما۔ (۳)  
 مدعی۔ مدعا علیہ۔  
 فریقِ اول - مدعی۔ وہ شخص یا گروہ جس نے دعویٰ کیا ہو۔  
 فریقِ ثانی - مدعا علیہ۔ وہ شخص یا گروہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہو۔  
 فریقیتن - (ف۔ ری۔ تین) (ع۔ ا۔ مذ) دونوں فریق۔ مدعی اور مدعا علیہ۔  
 طریقین۔ جاہلین۔  
 فریم - (Framel) (ف۔ ریم) (انگ۔ ا۔ مذ) بیکٹھا۔ تصویر کا چوکٹھا۔  
 اداچ۔ نیچر ڈوئیر۔  
 فری مینس - (Free Mason) (ف۔ ری۔ سے۔ سن) (انگ۔ ا۔ مذ)  
 دیکھیے فرامش۔ ایک عالم گیر برادری یا ایجن جس کے رسم و رواج اور طور  
 طریقے خفیہ ہوتے ہیں۔

## ف۔ ز۔

فزا - (ف۔ ز) (ف۔ صفت) بڑھانے والا۔ زیادہ کرنے والا۔ مرکبات میں مستعمل ہے  
 جیسے راحت فزا۔ جاں فزا۔  
 فزغ - (ف۔ زغ) (ع۔ ا۔ مٹ) ڈر۔ دہشت۔ خوف۔ ہراس۔  
 فزول - (ف۔ زول) (ع۔ ا۔ مذ) ہتھوڑا۔  
 فزول - (ف۔ زول) (ف۔ صفت) زیادہ۔ بڑھا ہوا۔  
 فزولنی - (ف۔ زولنی) (ف۔ ا۔ مٹ) زیادتی۔ افراط۔ کثرت۔ (۲)  
 بڑائی۔ بہتری۔

## ف۔ س۔

فساد - (ف۔ ساد) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) تباہی۔ خرابی۔ (۲) فتنہ۔ بلوہ۔ لڑائی جھگڑا۔  
 جنگ نامہ (۳) شرارت۔ مخالفت۔ جمع فسادات۔  
 فساد اٹھانا۔ (بریا کرنا)۔ (۱) محاورہ جھگڑا کھڑا کرنا۔ بلوہ کرنا۔ ہنگامہ برپا  
 کرنا۔ فتنہ برپا کرنا  
 فساد چڑھنا۔ (۱) محاورہ جھگڑا ہونا۔ لڑائی ہونا۔

فساد پھیلانا۔ (۱) محاورہ خرابی پھیلانا۔ جھگڑا کرنا۔ دنگ کرنا۔  
 فساد خون - (ع۔ مٹ) (۱) مذ خون کی خرابی۔  
 فساد کی جھڑپ فساد کی گانٹھ۔ فساد کا گھر۔ (۱) مذ۔ مٹ) اصل مُفسد  
 جھگڑے کی بنیاد۔  
 فساد (چینا) ہونا۔ جھگڑا ہونا۔ لڑائی ہونا۔ غدر ہونا۔  
 فسادی نیت سے - (۱) متعلق فعل) بد نیتی سے۔ جھگڑے  
 کی نیت سے۔  
 فسادِ معہدہ - (ع۔ ا۔ مذ) معہدے کا گناہ۔ پیٹ کا نفل۔  
 فسادی - (ف۔ سادی) (اُرد۔ صفت) فساد پھیلانے والا۔ فتنہ انگیز۔  
 جھگڑالو۔ شرے۔  
 فساق - (ع۔ صفت) فاسق کی جمع۔  
 فسال - (ف۔ سال) (ف۔ ا۔ مٹ) سان۔ دزار تیز کرنے کا پتھر۔  
 فسائے - (ف۔ سائے) (ف۔ ا۔ مذ) (۱) گھڑا ہوا قصہ۔ بنائی ہوئی بات۔ کھانی۔  
 (۲) سرگذشت۔ حال احوال۔  
 فسح - (ع۔ ا۔ مذ) ارادہ توڑنا۔ مسوخ کرنا۔ رائے پھیرنا۔  
 فسحِ عزمیت - (ع۔ ا۔ مٹ) ارادہ پلٹنا۔  
 فسح کرنا۔ (مض مرکب) توڑنا۔ مسوخ کرنا۔ رد کرنا۔  
 فسردگی - (ف۔ سردگی) (ف۔ ا۔ مٹ) دیکھیے افسردگی۔ رنج۔ ا۔ منکھال۔  
 فسردہ - (ف۔ سردہ) (ف۔ صفت) دیکھیے افسردہ۔ رنجیدہ۔ مایوس۔  
 فسقا بکرت - (ف۔ ط۔ ای۔ ا۔ مٹ) (اُرد۔ ا۔ مٹ) فاشنزم۔ سرمایہ دار  
 طبقے کی جارحانہ امریت۔  
 فسق - (ع۔ ا۔ مذ) نافرمانی۔ جرم۔ بد کاری۔ گناہ۔  
 فسق و فجور - (ع۔ ا۔ مذ) بد کاری۔ گناہ کاری  
 فسوں - (ف۔ سول) (ف۔ ا۔ مذ) جادو۔ منتر۔ فریب۔ دھوکا۔  
 فسوں ساز - فسوں گر۔ جادو گر۔ ساحر۔  
 فسوں سازی - فسوں گری۔ جادو گری کا پیشہ۔

## ف۔ ش۔

فش - (ف۔ ا۔ مذ) پگڑی کا شملہ۔ طرہ۔ (۲) گھوڑے کی دم۔  
 فش - (ف۔ ن بھر حقیر) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) پوچ۔ بے حقیقت۔  
 فشاردن - (فار۔ دن) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) دبانہ۔ بھینچنا۔ (۲) قبر کا مڑے  
 کو بھینچنا۔ (۳) پھیلانا۔  
 فشار بگڑ جانا۔ (۱) محاورہ حالت خراب ہونا۔ تھک جانا۔ گھبرا جانا۔  
 فشارِ دمِ خون - (ف۔ ا۔ مذ) خون کا دباؤ۔ (انگ) (Blood Pressure)  
 فشارِ قبر (قور) - (ف۔ سح) (ع۔ ا۔ مذ) قبر کا مڑے کو بھینچنا  
 فشار ہونا۔ (۱) محاورہ دبوچا جانا۔ پریشان ہونا۔ تھک کر چوڑ  
 ہونا۔  
 فشردہ - (ف۔ شر۔ دہ) (ف۔ صفت) (۱) نچڑا ہوا۔ عرق نکالا ہوا۔ رُس







بہ فعلی - (فعلی - لی) (ع. صفت) فعل سے منسوب - عملی -  
(فعلی - یا) (اگر صفت) - مکار - فہوی -

## ف ر غ

فغان - (ف. عل) (ف. ا. مذ) شور و غوغا - واو علیا - نالہ - فسر یاد -  
آہ و زاری -

فغانی - (ف. غانی) (ف. صفت) فریاد کرنے والا -  
فغصور - (ع. ف. ا. مذ) شاہان میں کا لقب -

## ف ف

ففت - (ف. ا. مذ) بچہ بچ

فقہ کا لفظ (Fifth Column) (انگ - ۱) مذ [ ہندو - وہ  
لوگ جو اپنے وطن میں رہ کر دشمن کی مدد کریں -  
فقیر - (ف. ف. ر. ر. ا. مذ) معنی بھاگا ہوا - روفیجر -  
فقیر ہونا - (۱) محاورہ روفیجر ہونا - بھاگ جانا -

## ف ق

فقی - (ع. صفت) خوف یا حیرت سے چہرے کی رنگت سفید پڑ جانا -  
زرد ہونا - (۳) انا س (۴) حیران و پریشان - ہکا بکا -

فقی پڑ جانا (ہوجانا) ہونا - (۱) محاورہ (۲) چہرے کا رنگ اڑ جانا -  
حیران و پریشان ہوجانا - رنگ رہ جانا - (۳) انا س ہونا -  
فقدان - (ف. ق. دان) (ع. ا. مذ) (۱) گم کرنا - گھوٹنا - نہ ہونا - بھول - مرکبیت میں  
عدم و نیست کے معنوں میں آتا ہے جیسے فقدان علم -

فقیر - (ع. ا. مذ) (۱) قلت مدی - درویشی (۲) محتاجی - مفلس -  
فقیر و فاقہ - (ع. ا. مذ) غریبی - مفلسی - بیکلی -

فقیرا - (ف. ق. را) (ع. ا. مذ) فقیر کی جمع بہت سے فقیر -  
فقیروں میں آنا - (۱) محاورہ چال میں آنا -

فقیروں میں اترانا - (۱) محاورہ دھوکا دینا - فریب دینا - بے وقوف  
بنانا - باتوں میں ٹالنا -

فقیرہ - (ف. ق. رہ) (ع. ا. مذ) (۱) ریٹھ کی ٹہنی - عمارت کا ٹکڑا - کلام جملہ - (۳)  
دوم - جھینسا - دھوکا جمع - فقرت -

فقیرہ (فقیرے) باز - (۱) صفت دھوکے باز - عیار - دغا باز -  
چال باز -

فقیرہ (فقیرے) بتانا - فقیرہ بنانا - فقیرہ گھڑنا - (۱) محاورہ گئی  
جھوٹی بات بنالینا - دھوکا دینا -

فقیرہ بندی - (ت. ا. مذ) (۱) تک بندی -

فقیرہ جڑنا - (۱) محاورہ (۲) آواز کتنا -

فقیرہ (فقیرے) جڑنا - (ت. ا. مذ) (۱) محاورہ (۲) جھوٹی بات بنا کے کہنا -

فقیرہ (فقیرے) چست کرنا - (۱) محاورہ (۲) آواز کتنا - طعنہ دینا -

فقیرہ (فقیرے) چل جانا - (۱) محاورہ (۲) جھوٹی بات کا اثر کرنا -

فقیرہ (چلنا) چھوڑنا - (۱) محاورہ (۲) دھوکا دینا - فریب دینا - شگوفہ چھوڑنا -  
(۳) جھوٹی بات یا فریب کار کرنا -

فقیرہ دینا - (۱) محاورہ (۲) جھانڈنا - دم دینا - چال چلنا -

فقیروں (فقیرے) میں آنا - (۱) محاورہ (۲) باتوں میں آنا - دھوکا کھانا -  
فریب میں آنا -

فقیرے بازی سے (۱) مذاق - بچھے چست کرنا - آواز سے -

فقیرے بازیوں کرنا - (۱) محاورہ (۲) باتیں بنانا - دھوکے دینا -

فقیرے چست کرنا - (۱) محاورہ (۲) آواز سے کتنا مذاق کرنا -

فقیرے ڈھالنا - فقیرے سنانا - فقیرے کہنا - (۱) محاورہ (۲)  
آواز سے کتنا طعنہ دینا -

فقیرے ٹھکانا - (۱) محاورہ (۲) چھپتی ہوئی بات کہنا - آواز سے کتنا -

فقیرے میں آجانا - (۱) محاورہ (۲) دھوکے میں آنا - چال میں آنا -

فقیرے میں لگانا - (۱) محاورہ (۲) فریب میں پھینکانا - چال بازی کرنا -

فقط - (ف. ق. ا. مذ) (ع. صفت) (۱) صرف - تنہا - اکٹلا - بڑا - محض (۲) اس حقیقہ ختم شدہ  
فقط تعویذ سے کام نہیں لگتا بلکہ اور بھی چاہیے (۱) - مقولہ

محض دعائوں پر سیر و سر نہیں کرتا چاہیے - بلکہ حصول مقصد کے لیے  
کوشش بھی لازمی ہے -

فقہ - (ف. ق. ا. مذ) (ع. ا. مذ) (۱) واقفیت - علم (۲) احکام شریعت کی معلومات -  
علم دین شریعت کا علم -

فقہا - (ف. ق. ہا) (ع. ا. مذ) (۱) فقہ کی جمع - علم دین کے جہتے والے -  
علمائے دین -

فقہید - (ف. ق. ہید) (ع. صفت) نایاب - معدوم -

فقہید المثال - جس کی مثال نہ ہو بے مثل - لاتالی - لا جواب - بے نظیر -

فقیر (ف. ق. ا. مذ) (ع. ا. مذ) (۱) گدا - بھکاری - منگتا - (۲) درویش - قلندر - بندہ پرست  
(۳) غریب - محتاج (۴) شریعت اسلامی کے رد سے وہ شخص جس کے پاس  
صرف کھوپڑی کا کھانا ہو - فقرا -

فقیر اپنی عمل ہی میں مست ہے - (۱) مثل غریب آدمی تھوڑے ہی  
سلمان میں غرض ہے -

فقیر بنا دینا - فقیر کر دینا - (۱) محاورہ (۲) مفلس بنا دینا - ٹوٹ لینا -

فقیر بنانا - (۱) محاورہ (۲) محتاج ہونا - فقیری اختیار کرنا - محرم میں بچوں کو فقیر  
لباس پہنانا -

فقیر خانہ - (ع. ق. ت. ا. مذ) فقیر کا گھر - عاجزی کے طور پر اپنے مکان  
کو بھی کہا جاتا ہے -











رفیما - (ع۔ متعلق فعل) اس میں اس کے متعلق۔  
 فنی مابین - دونوں کے بیچ میں - باہم آپس میں۔  
 فنی لغت - (ع۔ متعلق فعل) اپنی ذات میں - دراصل۔  
 فنی (آر۔ مٹ) حسیب - کھوٹ - غلطی۔  
 فنی نکالنا - (۱۔ محاورہ) حسیب نکالنا - نکتہ چینی کرنا۔  
 فنیاض - (دنی۔ یا سن) (ع۔ صفت) سخی وریا دل۔  
 فنیاضی - (دنی۔ یا۔ صفت) (ع۔ مٹ) سخاوت - ودیادلی۔  
 فیتا - (دنی۔ یا) (ع۔ مٹ) (۱۔) ریشمی یا سوئی کم چوڑی ٹیچی - وہ ٹوٹا ہوا برادھ کا  
 جو بولوں میں ڈالتے ہیں (۲۔) بنا ہوا کنارہ۔  
 فیچر (Feature) (دنی۔ یا) (ع۔ مٹ) (۱۔) ریڈیو یا فلم کی کہانی  
 جس میں گانے بھی ہوں - (۲۔) اخبار کا داستان خاصوں - (۳۔) امتیاز کا  
 خدوخال۔  
 فیدم - (Fathom) (دنی۔ مٹ) (۱۔) گہرائی ناپنے  
 کا پیمانہ جو چھوٹ کا پیمانہ ہے۔  
 فیڈرل (Federal) (فیڈ۔ نل) (۱۔) گہمت - وفاقی۔  
 فیڈرل سٹیٹ (Federal State) (۱۔) گہمت - وفاقی دولت۔  
 فیڈریشن (Federation) (فیڈ۔ رے) (۱۔) گہمت - (۱۔) اتحاد (۲۔) وفاقی انجمن یا جماعت۔  
 فیر - (۱۔) (۱۔) گہمت - (۲۔) مندوق یا توپ کر آگ دینا - سر کرنا - (۳۔) وار - دھم  
 مرتبہ - کھیل (انگریزی) (Fire) خاکہ کا موزوہ۔  
 فیر کرنا - (۱۔) صفت مرکب - بندوق سر کرنا - قرب جھانا۔  
 فیر کرنا - (۱۔ مٹ) دیکھنے فرنی - دودھ میں پکا ہوا چاول کا میٹھا آکا۔  
 فیر ورت - (دنی۔ روز) (ع۔ صفت) فتح مند - نظریاب - کامران - کامیاب۔  
 فیر ورتخت (اختصر) - (ع۔ صفت) خوش نصیب۔  
 فیر ورتندی - (دنی۔ مٹ) کامیابی نظریابی - فتح مندی۔  
 فیر ورتہ - (دنی۔ روز) (ع۔ مٹ) ایک پتھر جو بہتر - زرنگاری نیل گوں  
 پائیا ہوتا ہے۔  
 فیر ورتی - (دنی۔ روز) (ع۔ صفت) (۱۔) فیر ورتے کے رنگ کا سبز زرنگاری  
 (۲۔) کامیابی۔  
 فیری (Ferry) (دنی۔ ری) (۱۔) گہمت - وہ کشتی یا چھوٹا جہاز جس میں  
 بیٹھ کر لوگ دریا کے اس پاس سے اُس پار آتے جاتے ہیں۔  
 فیس (Fees) (۱۔) گہمت - (۱۔) محنت - اجرت (۲۔) وہ رقم جو طلبہ مدرسوں  
 میں ماہانہ ادا کرتے ہیں وہ اجرت جو ڈاکٹر وغیرہ لیتے ہیں۔  
 فیشن (Fashion) (دنی۔ سن) (۱۔) گہمت - وضع قطع - ڈھنگ - طرز  
 طریقے (۲۔) ترویج - آرائش و زیبائش۔  
 فیشن ہونا - (۱۔) محاورہ) رواج ہونا - رسم ہونا - جین ہونا۔  
 فیشنبل (Fashionable) (دنی۔ سن) (۱۔) نئے - نئے - نئے (۱۔) گہمت  
 صفت (۱۔) خوش پوش - خوش لباس (۲۔) فیشن کے مطابق (۳۔)  
 نفیس - خوبصورت - عمدہ۔

فیصل - (دنی۔ مٹ) (ع۔ ۱۔) مٹا - فیصلہ - تعصیر - نیا کر۔  
 فیصل کرنا - (۱۔) محاورہ) (۱۔) جھگڑا جگانا - قصہ طے کرنا - (۲۔) کام تمام کرنا - بہار  
 کرنا - ٹھانا۔  
 فیصل ہونا - (۱۔) محاورہ) تعصیر ہونا - فیصلہ ہونا - (۲۔) طے ہونا - (۳۔)  
 بے باق ہونا۔  
 فیصلہ - (دنی۔ مٹ) (ع۔ ۱۔) مٹا - (۱۔) تعصیر - چکونا - نیا ڈرا - جانچ - پرکھ -  
 (۳۔) خوبی - حکم - تجزیہ - جمع - فیصلہ جات -  
 فیصلہ رکھنا - (۱۔) محاورہ) فیصلے کا کسی پر موقوف کر دینا۔  
 فیصلہ زبان پر ہونا - (۱۔) محاورہ) کسی کے کہنے پر تعصیر ہونا۔  
 فیصلہ زیر آپسیل - (ع۔ صفت) (۱۔) مٹا - وہ فیصلہ جس کے خلاف  
 آپس کی گئی ہو۔  
 فیض - (ع۔ ۱۔) مٹا - (۱۔) فائدہ - نفع (۲۔) سخاوت - نیا صفتی - (۳۔) نیکی - بھلائی۔  
 جمع - میٹھن۔  
 فیض بخش - (دنی۔ مٹ) فائدہ پہنچانے والا۔  
 فیض بانا - (۱۔) محاورہ) کسی سے فائدہ اٹھانا۔  
 فیض پہنچانا - (معص۔ مرکب) (۱۔) فائدہ پہنچانا - (۲۔) بھلائی کرنا - نیکی کرنا۔  
 (۳۔) نجات کرنا۔  
 فیض رسال (بخش) - (ع۔ صفت) (۱۔) فائدہ پہنچانے والا۔  
 (۲۔) سخی دانا۔  
 فیض عام (۱۔) عام لوگوں کا فائدہ - (۲۔) عام سلوک۔  
 فیض گستر - (ع۔ صفت) بہت - فیض پہنچانے والا۔  
 فیض نشان - (ع۔ صفت) فائدہ پہنچانے والا۔  
 فیض یاب - (ع۔ صفت) فائدہ حاصل کرنے والا۔  
 فیض - (Fez) (دنی۔ مٹ) (۱۔) گہمت - ترک ٹوپی  
 فیضان - (دنی۔ مٹ) (ع۔ ۱۔) مٹا - (۲۔) فائدہ (۳۔) بڑی بخشش۔  
 فیضان صحبت - (ع۔ صفت) (۱۔) مٹا - وہ فائدہ جو کسی کی صحبت سے  
 پہنچے۔  
 فیضی - (دنی۔ مٹ) (ع۔ صفت) (۱۔) مٹا - (۲۔) فیض سے منسوب (۳۔) شہنشاہ  
 ابر کے درباری ملک الشعراء کا خلیفہ۔  
 فیکٹری (Factory) (دنی۔ مٹ) (۱۔) گہمت - کارخانہ۔  
 فیل - (Fail) (۱۔) گہمت - (۱۔) مٹا - کامیاب - نامراد - (۲۔) گرا  
 ہوا - ناقص۔  
 فیل ہونا - ناکام ہونا - امتحان میں پورا نہ کرنا۔  
 فیل ڈرا - (۱۔) مٹا - (۱۔) مٹا - (۲۔) مٹا - (۳۔) مٹا - (۴۔) مٹا - (۵۔) مٹا - (۶۔) مٹا - (۷۔) مٹا - (۸۔) مٹا - (۹۔) مٹا - (۱۰۔) مٹا - (۱۱۔) مٹا - (۱۲۔) مٹا - (۱۳۔) مٹا - (۱۴۔) مٹا - (۱۵۔) مٹا - (۱۶۔) مٹا - (۱۷۔) مٹا - (۱۸۔) مٹا - (۱۹۔) مٹا - (۲۰۔) مٹا - (۲۱۔) مٹا - (۲۲۔) مٹا - (۲۳۔) مٹا - (۲۴۔) مٹا - (۲۵۔) مٹا - (۲۶۔) مٹا - (۲۷۔) مٹا - (۲۸۔) مٹا - (۲۹۔) مٹا - (۳۰۔) مٹا - (۳۱۔) مٹا - (۳۲۔) مٹا - (۳۳۔) مٹا - (۳۴۔) مٹا - (۳۵۔) مٹا - (۳۶۔) مٹا - (۳۷۔) مٹا - (۳۸۔) مٹا - (۳۹۔) مٹا - (۴۰۔) مٹا - (۴۱۔) مٹا - (۴۲۔) مٹا - (۴۳۔) مٹا - (۴۴۔) مٹا - (۴۵۔) مٹا - (۴۶۔) مٹا - (۴۷۔) مٹا - (۴۸۔) مٹا - (۴۹۔) مٹا - (۵۰۔) مٹا - (۵۱۔) مٹا - (۵۲۔) مٹا - (۵۳۔) مٹا - (۵۴۔) مٹا - (۵۵۔) مٹا - (۵۶۔) مٹا - (۵۷۔) مٹا - (۵۸۔) مٹا - (۵۹۔) مٹا - (۶۰۔) مٹا - (۶۱۔) مٹا - (۶۲۔) مٹا - (۶۳۔) مٹا - (۶۴۔) مٹا - (۶۵۔) مٹا - (۶۶۔) مٹا - (۶۷۔) مٹا - (۶۸۔) مٹا - (۶۹۔) مٹا - (۷۰۔) مٹا - (۷۱۔) مٹا - (۷۲۔) مٹا - (۷۳۔) مٹا - (۷۴۔) مٹا - (۷۵۔) مٹا - (۷۶۔) مٹا - (۷۷۔) مٹا - (۷۸۔) مٹا - (۷۹۔) مٹا - (۸۰۔) مٹا - (۸۱۔) مٹا - (۸۲۔) مٹا - (۸۳۔) مٹا - (۸۴۔) مٹا - (۸۵۔) مٹا - (۸۶۔) مٹا - (۸۷۔) مٹا - (۸۸۔) مٹا - (۸۹۔) مٹا - (۹۰۔) مٹا - (۹۱۔) مٹا - (۹۲۔) مٹا - (۹۳۔) مٹا - (۹۴۔) مٹا - (۹۵۔) مٹا - (۹۶۔) مٹا - (۹۷۔) مٹا - (۹۸۔) مٹا - (۹۹۔) مٹا - (۱۰۰۔) مٹا - (۱۰۱۔) مٹا - (۱۰۲۔) مٹا - (۱۰۳۔) مٹا - (۱۰۴۔) مٹا - (۱۰۵۔) مٹا - (۱۰۶۔) مٹا - (۱۰۷۔) مٹا - (۱۰۸۔) مٹا - (۱۰۹۔) مٹا - (۱۱۰۔) مٹا - (۱۱۱۔) مٹا - (۱۱۲۔) مٹا - (۱۱۳۔) مٹا - (۱۱۴۔) مٹا - (۱۱۵۔) مٹا - (۱۱۶۔) مٹا - (۱۱۷۔) مٹا - (۱۱۸۔) مٹا - (۱۱۹۔) مٹا - (۱۲۰۔) مٹا - (۱۲۱۔) مٹا - (۱۲۲۔) مٹا - (۱۲۳۔) مٹا - (۱۲۴۔) مٹا - (۱۲۵۔) مٹا - (۱۲۶۔) مٹا - (۱۲۷۔) مٹا - (۱۲۸۔) مٹا - (۱۲۹۔) مٹا - (۱۳۰۔) مٹا - (۱۳۱۔) مٹا - (۱۳۲۔) مٹا - (۱۳۳۔) مٹا - (۱۳۴۔) مٹا - (۱۳۵۔) مٹا - (۱۳۶۔) مٹا - (۱۳۷۔) مٹا - (۱۳۸۔) مٹا - (۱۳۹۔) مٹا - (۱۴۰۔) مٹا - (۱۴۱۔) مٹا - (۱۴۲۔) مٹا - (۱۴۳۔) مٹا - (۱۴۴۔) مٹا - (۱۴۵۔) مٹا - (۱۴۶۔) مٹا - (۱۴۷۔) مٹا - (۱۴۸۔) مٹا - (۱۴۹۔) مٹا - (۱۵۰۔) مٹا - (۱۵۱۔) مٹا - (۱۵۲۔) مٹا - (۱۵۳۔) مٹا - (۱۵۴۔) مٹا - (۱۵۵۔) مٹا - (۱۵۶۔) مٹا - (۱۵۷۔) مٹا - (۱۵۸۔) مٹا - (۱۵۹۔) مٹا - (۱۶۰۔) مٹا - (۱۶۱۔) مٹا - (۱۶۲۔) مٹا - (۱۶۳۔) مٹا - (۱۶۴۔) مٹا - (۱۶۵۔) مٹا - (۱۶۶۔) مٹا - (۱۶۷۔) مٹا - (۱۶۸۔) مٹا - (۱۶۹۔) مٹا - (۱۷۰۔) مٹا - (۱۷۱۔) مٹا - (۱۷۲۔) مٹا - (۱۷۳۔) مٹا - (۱۷۴۔) مٹا - (۱۷۵۔) مٹا - (۱۷۶۔) مٹا - (۱۷۷۔) مٹا - (۱۷۸۔) مٹا - (۱۷۹۔) مٹا - (۱۸۰۔) مٹا - (۱۸۱۔) مٹا - (۱۸۲۔) مٹا - (۱۸۳۔) مٹا - (۱۸۴۔) مٹا - (۱۸۵۔) مٹا - (۱۸۶۔) مٹا - (۱۸۷۔) مٹا - (۱۸۸۔) مٹا - (۱۸۹۔) مٹا - (۱۹۰۔) مٹا - (۱۹۱۔) مٹا - (۱۹۲۔) مٹا - (۱۹۳۔) مٹا - (۱۹۴۔) مٹا - (۱۹۵۔) مٹا - (۱۹۶۔) مٹا - (۱۹۷۔) مٹا - (۱۹۸۔) مٹا - (۱۹۹۔) مٹا - (۲۰۰۔) مٹا - (۲۰۱۔) مٹا - (۲۰۲۔) مٹا - (۲۰۳۔) مٹا - (۲۰۴۔) مٹا - (۲۰۵۔) مٹا - (۲۰۶۔) مٹا - (۲۰۷۔) مٹا - (۲۰۸۔) مٹا - (۲۰۹۔) مٹا - (۲۱۰۔) مٹا - (۲۱۱۔) مٹا - (۲۱۲۔) مٹا - (۲۱۳۔) مٹا - (۲۱۴۔) مٹا - (۲۱۵۔) مٹا - (۲۱۶۔) مٹا - (۲۱۷۔) مٹا - (۲۱۸۔) مٹا - (۲۱۹۔) مٹا - (۲۲۰۔) مٹا - (۲۲۱۔) مٹا - (۲۲۲۔) مٹا - (۲۲۳۔) مٹا - (۲۲۴۔) مٹا - (۲۲۵۔) مٹا - (۲۲۶۔) مٹا - (۲۲۷۔) مٹا - (۲۲۸۔) مٹا - (۲۲۹۔) مٹا - (۲۳۰۔) مٹا - (۲۳۱۔) مٹا - (۲۳۲۔) مٹا - (۲۳۳۔) مٹا - (۲۳۴۔) مٹا - (۲۳۵۔) مٹا - (۲۳۶۔) مٹا - (۲۳۷۔) مٹا - (۲۳۸۔) مٹا - (۲۳۹۔) مٹا - (۲۴۰۔) مٹا - (۲۴۱۔) مٹا - (۲۴۲۔) مٹا - (۲۴۳۔) مٹا - (۲۴۴۔) مٹا - (۲۴۵۔) مٹا - (۲۴۶۔) مٹا - (۲۴۷۔) مٹا - (۲۴۸۔) مٹا - (۲۴۹۔) مٹا - (۲۵۰۔) مٹا - (۲۵۱۔) مٹا - (۲۵۲۔) مٹا - (۲۵۳۔) مٹا - (۲۵۴۔) مٹا - (۲۵۵۔) مٹا - (۲۵۶۔) مٹا - (۲۵۷۔) مٹا - (۲۵۸۔) مٹا - (۲۵۹۔) مٹا - (۲۶۰۔) مٹا - (۲۶۱۔) مٹا - (۲۶۲۔) مٹا - (۲۶۳۔) مٹا - (۲۶۴۔) مٹا - (۲۶۵۔) مٹا - (۲۶۶۔) مٹا - (۲۶۷۔) مٹا - (۲۶۸۔) مٹا - (۲۶۹۔) مٹا - (۲۷۰۔) مٹا - (۲۷۱۔) مٹا - (۲۷۲۔) مٹا - (۲۷۳۔) مٹا - (۲۷۴۔) مٹا - (۲۷۵۔) مٹا - (۲۷۶۔) مٹا - (۲۷۷۔) مٹا - (۲۷۸۔) مٹا - (۲۷۹۔) مٹا - (۲۸۰۔) مٹا - (۲۸۱۔) مٹا - (۲۸۲۔) مٹا - (۲۸۳۔) مٹا - (۲۸۴۔) مٹا - (۲۸۵۔) مٹا - (۲۸۶۔) مٹا - (۲۸۷۔) مٹا - (۲۸۸۔) مٹا - (۲۸۹۔) مٹا - (۲۹۰۔) مٹا - (۲۹۱۔) مٹا - (۲۹۲۔) مٹا - (۲۹۳۔) مٹا - (۲۹۴۔) مٹا - (۲۹۵۔) مٹا - (۲۹۶۔) مٹا - (۲۹۷۔) مٹا - (۲۹۸۔) مٹا - (۲۹۹۔) مٹا - (۳۰۰۔) مٹا - (۳۰۱۔) مٹا - (۳۰۲۔) مٹا - (۳۰۳۔) مٹا - (۳۰۴۔) مٹا - (۳۰۵۔) مٹا - (۳۰۶۔) مٹا - (۳۰۷۔) مٹا - (۳۰۸۔) مٹا - (۳۰۹۔) مٹا - (۳۱۰۔) مٹا - (۳۱۱۔) مٹا - (۳۱۲۔) مٹا - (۳۱۳۔) مٹا - (۳۱۴۔) مٹا - (۳۱۵۔) مٹا - (۳۱۶۔) مٹا - (۳۱۷۔) مٹا - (۳۱۸۔) مٹا - (۳۱۹۔) مٹا - (۳۲۰۔) مٹا - (۳۲۱۔) مٹا - (۳۲۲۔) مٹا - (۳۲۳۔) مٹا - (۳۲۴۔) مٹا - (۳۲۵۔) مٹا - (۳۲۶۔) مٹا - (۳۲۷۔) مٹا - (۳۲۸۔) مٹا - (۳۲۹۔) مٹا - (۳۳۰۔) مٹا - (۳۳۱۔) مٹا - (۳۳۲۔) مٹا - (۳۳۳۔) مٹا - (۳۳۴۔) مٹا - (۳۳۵۔) مٹا - (۳۳۶۔) مٹا - (۳۳۷۔) مٹا - (۳۳۸۔) مٹا - (۳۳۹۔) مٹا - (۳۴۰۔) مٹا - (۳۴۱۔) مٹا - (۳۴۲۔) مٹا - (۳۴۳۔) مٹا - (۳۴۴۔) مٹا - (۳۴۵۔) مٹا - (۳۴۶۔) مٹا - (۳۴۷۔) مٹا - (۳۴۸۔) مٹا - (۳۴۹۔) مٹا - (۳۵۰۔) مٹا - (۳۵۱۔) مٹا - (۳۵۲۔) مٹا - (۳۵۳۔) مٹا - (۳۵۴۔) مٹا - (۳۵۵۔) مٹا - (۳۵۶۔) مٹا - (۳۵۷۔) مٹا - (۳۵۸۔) مٹا - (۳۵۹۔) مٹا - (۳۶۰۔) مٹا - (۳۶۱۔) مٹا - (۳۶۲۔) مٹا - (۳۶۳۔) مٹا - (۳۶۴۔) مٹا - (۳۶۵۔) مٹا - (۳۶۶۔) مٹا - (۳۶۷۔) مٹا - (۳۶۸۔) مٹا - (۳۶۹۔) مٹا - (۳۷۰۔) مٹا - (۳۷۱۔) مٹا - (۳۷۲۔) مٹا - (۳۷۳۔) مٹا - (۳۷۴۔) مٹا - (۳۷۵۔) مٹا - (۳۷۶۔) مٹا - (۳۷۷۔) مٹا - (۳۷۸۔) مٹا - (۳۷۹۔) مٹا - (۳۸۰۔) مٹا - (۳۸۱۔) مٹا - (۳۸۲۔) مٹا - (۳۸۳۔) مٹا - (۳۸۴۔) مٹا - (۳۸۵۔) مٹا - (۳۸۶۔) مٹا - (۳۸۷۔) مٹا - (۳۸۸۔) مٹا - (۳۸۹۔) مٹا - (۳۹۰۔) مٹا - (۳۹۱۔) مٹا - (۳۹۲۔) مٹا - (۳۹۳۔) مٹا - (۳۹۴۔) مٹا - (۳۹۵۔) مٹا - (۳۹۶۔) مٹا - (۳۹۷۔) مٹا - (۳۹۸۔) مٹا - (۳۹۹۔) مٹا - (۴۰۰۔) مٹا - (۴۰۱۔) مٹا - (۴۰۲۔) مٹا - (۴۰۳۔) مٹا - (۴۰۴۔) مٹا - (۴۰۵۔) مٹا - (۴۰۶۔) مٹا - (۴۰۷۔) مٹا - (۴۰۸۔) مٹا - (۴۰۹۔) مٹا - (۴۱۰۔) مٹا - (۴۱۱۔) مٹا - (۴۱۲۔) مٹا - (۴۱۳۔) مٹا - (۴۱۴۔) مٹا - (۴۱۵۔) مٹا - (۴۱۶۔) مٹا - (۴۱۷۔) مٹا - (۴۱۸۔) مٹا - (۴۱۹۔) مٹا - (۴۲۰۔) مٹا - (۴۲۱۔) مٹا - (۴۲۲۔) مٹا - (۴۲۳۔) مٹا - (۴۲۴۔) مٹا - (۴۲۵۔) مٹا - (۴۲۶۔) مٹا - (۴۲۷۔) مٹا - (۴۲۸۔) مٹا - (۴۲۹۔) مٹا - (۴۳۰۔) مٹا - (۴۳۱۔) مٹا - (۴۳۲۔) مٹا - (۴۳۳۔) مٹا - (۴۳۴۔) مٹا - (۴۳۵۔) مٹا - (۴۳۶۔) مٹا - (۴۳۷۔) مٹا - (۴۳۸۔) مٹا - (۴۳۹۔) مٹا - (۴۴۰۔) مٹا - (۴۴۱۔) مٹا - (۴۴۲۔) مٹا - (۴۴۳۔) مٹا - (۴۴۴۔) مٹا - (۴۴۵۔) مٹا - (۴۴۶۔) مٹا - (۴۴۷۔) مٹا - (۴۴۸۔) مٹا - (۴۴۹۔) مٹا - (۴۵۰۔) مٹا - (۴۵۱۔) مٹا - (۴۵۲۔) مٹا - (۴۵۳۔) مٹا - (۴۵۴۔) مٹا - (۴۵۵۔) مٹا - (۴۵۶۔) مٹا - (۴۵۷۔) مٹا - (۴۵۸۔) مٹا - (۴۵۹۔) مٹا - (۴۶۰۔) مٹا - (۴۶۱۔) مٹا - (۴۶۲۔) مٹا - (۴۶۳۔) مٹا - (۴۶۴۔) مٹا - (۴۶۵۔) مٹا - (۴۶۶۔) مٹا - (۴۶۷۔) مٹا - (۴۶۸۔) مٹا - (۴۶۹۔) مٹا - (۴۷۰۔) مٹا - (۴۷۱۔) مٹا - (۴۷۲۔) مٹا - (۴۷۳۔) مٹا - (۴۷۴۔) مٹا - (۴۷۵۔) مٹا - (۴۷۶۔) مٹا - (۴۷۷۔) مٹا - (۴۷۸۔) مٹا - (۴۷۹۔) مٹا - (۴۸۰۔) مٹا - (۴۸۱۔) مٹا - (۴۸۲۔) مٹا - (۴۸۳۔) مٹا - (۴۸۴۔) مٹا - (۴۸۵۔) مٹا - (۴۸۶۔) مٹا - (۴۸۷۔) مٹا - (۴۸۸۔) مٹا - (۴۸۹۔) مٹا - (۴۹۰۔) مٹا - (۴۹۱۔) مٹا - (۴۹۲۔) مٹا - (۴۹۳۔) مٹا - (۴۹۴۔) مٹا - (۴۹۵۔) مٹا - (۴۹۶۔) مٹا - (۴۹۷۔) مٹا - (۴۹۸۔) مٹا - (۴۹۹۔) مٹا - (۵۰۰۔) مٹا - (۵۰۱۔) مٹا - (۵۰۲۔) مٹا - (۵۰۳۔) مٹا - (۵۰۴۔) مٹا - (۵۰۵۔) مٹا - (۵۰۶۔) مٹا - (۵۰۷۔) مٹا - (۵۰۸۔) مٹا - (۵۰۹۔) مٹا - (۵۱۰۔) مٹا - (۵۱۱۔) مٹا - (۵۱۲۔) مٹا - (۵۱۳۔) مٹا - (۵۱۴۔) مٹا - (۵۱۵۔) مٹا - (۵۱۶۔) مٹا - (۵۱۷۔) مٹا - (۵۱۸۔) مٹا - (۵۱۹۔) مٹا - (۵۲۰۔) مٹا - (۵۲۱۔) مٹا - (۵۲۲۔) مٹا - (۵۲۳۔) مٹا - (۵۲۴۔) مٹا - (۵۲۵۔) مٹا - (۵۲۶۔) مٹا - (۵۲۷۔) مٹا - (۵۲۸۔) مٹا - (۵۲۹۔) مٹا - (۵۳۰۔) مٹا - (۵۳۱۔) مٹا - (۵۳۲۔) مٹا - (۵۳۳۔) مٹا - (۵۳۴۔) مٹا - (۵۳۵۔) مٹا - (۵۳۶۔) مٹا - (۵۳۷۔) مٹا - (۵۳۸۔) مٹا - (۵۳۹۔) مٹا - (۵۴۰۔) مٹا - (۵۴۱۔) مٹا - (۵۴۲۔) مٹا - (۵۴۳۔) مٹا - (۵۴۴۔) مٹا - (۵۴۵۔) مٹا - (۵۴۶۔) مٹا - (۵۴۷۔) مٹا - (۵۴۸۔) مٹا - (۵۴۹۔) مٹا - (۵۵۰۔) مٹا - (۵۵۱۔) مٹا - (۵۵۲۔) مٹا - (۵۵۳۔) مٹا - (۵۵۴۔) مٹا - (۵۵۵۔) مٹا - (۵۵۶۔) مٹا - (۵۵۷۔) مٹا - (۵۵۸۔) مٹا - (۵۵۹۔) مٹا - (۵۶۰۔) مٹا - (۵۶۱۔) مٹا - (۵۶۲۔) مٹا - (۵۶۳۔) مٹا - (۵۶۴۔) مٹا - (۵۶۵۔) مٹا - (۵۶۶۔) مٹا - (۵۶۷۔) مٹا - (۵۶۸۔) مٹا - (۵۶۹۔) مٹا - (۵۷۰۔) مٹا - (۵۷۱۔) مٹا - (۵۷۲۔) مٹا - (۵۷۳۔) مٹا - (۵۷۴۔) مٹا - (۵۷۵۔) مٹا - (۵۷۶۔) مٹا - (۵۷۷۔) مٹا - (۵۷۸۔) مٹا - (۵۷۹۔) مٹا - (۵۸۰۔) مٹا - (۵۸۱۔) مٹا - (۵۸۲۔) مٹا - (۵۸۳۔) مٹا - (۵۸۴۔) مٹا - (۵۸۵۔) مٹا - (۵۸۶۔) مٹا - (۵۸۷۔) مٹا - (۵۸۸۔) مٹا - (۵۸۹۔) مٹا - (۵۹۰۔) مٹا - (۵۹۱۔) مٹا - (۵۹۲۔) مٹا - (۵۹۳۔) مٹا - (۵۹۴۔) مٹا - (۵۹۵۔) مٹا - (۵۹۶۔) مٹا - (۵۹۷۔) مٹا - (۵۹۸۔) مٹا - (۵۹۹۔) مٹا - (۶۰۰۔) مٹا - (۶۰۱۔) مٹا - (۶۰۲۔) مٹا - (۶۰۳۔) مٹا - (۶۰۴۔) مٹا - (۶۰۵۔) مٹا - (۶۰۶۔) مٹا - (۶۰۷۔) مٹا - (۶۰۸۔) مٹا - (۶۰۹۔) مٹا - (۶۱۰۔) مٹا - (۶۱۱۔) مٹا - (۶۱۲۔) مٹا - (۶۱۳۔) مٹا - (۶۱۴۔) مٹا - (۶۱۵۔) مٹا - (۶۱۶۔) مٹا - (۶۱۷۔) مٹا - (۶۱۸۔) مٹا - (۶۱۹۔) مٹا - (۶۲۰۔) مٹا - (۶۲۱۔) مٹا - (۶۲۲۔) مٹا - (۶۲۳۔) مٹا - (۶۲۴۔) مٹا - (۶۲۵۔) مٹا - (۶۲۶۔) مٹا - (۶۲۷۔) مٹا - (۶۲۸۔) مٹا - (۶۲۹۔) مٹا - (۶۳۰۔) مٹا - (۶۳۱۔) مٹا - (۶۳۲۔) مٹا - (۶۳۳۔) مٹا - (۶۳۴۔) مٹا - (۶۳۵۔) مٹا - (۶۳۶۔) مٹا - (۶۳۷۔) مٹا - (۶۳۸۔) مٹا - (۶۳۹۔) مٹا - (۶۴۰۔) مٹا - (۶۴۱۔) مٹا - (۶۴۲۔) مٹا - (۶۴۳۔) مٹا - (۶۴۴۔) مٹا - (۶۴۵۔) مٹا - (۶۴۶۔) مٹا - (۶۴۷۔) مٹا - (۶۴۸۔) مٹا - (۶۴۹۔) مٹا - (۶۵۰۔) مٹا - (۶۵۱۔) مٹا - (۶۵۲۔) مٹا - (۶۵۳۔) مٹا - (۶۵۴۔) مٹا - (۶۵۵۔) مٹا - (۶۵۶۔) مٹا - (۶۵۷۔) مٹا - (۶۵۸۔) مٹا - (۶۵۹۔) مٹا - (۶۶۰۔) مٹا - (۶۶۱۔) مٹا - (۶۶۲۔) مٹا - (۶۶۳۔) مٹا - (۶۶۴۔) مٹا - (۶۶۵۔) مٹا - (۶۶۶۔) مٹا - (۶۶۷۔) مٹا - (۶۶۸۔) مٹا - (۶۶۹۔) مٹا - (۶۷۰۔) مٹا - (۶۷۱۔) مٹا - (۶۷۲۔) مٹا - (۶۷۳۔) مٹا - (۶۷۴۔) مٹا - (۶۷۵۔) مٹا - (۶۷۶۔) مٹا - (۶۷۷۔) مٹا - (۶۷۸۔) مٹا - (۶۷۹۔) مٹا - (۶۸۰۔) مٹا - (۶۸۱۔) مٹا - (۶۸۲۔) مٹا - (۶۸۳۔) مٹا - (۶۸۴۔) مٹا - (۶۸۵۔) مٹا - (۶۸۶۔) مٹا - (۶۸۷۔) مٹا - (۶۸۸۔) مٹا - (۶۸۹۔) مٹا - (۶۹۰۔) مٹا - (۶۹۱۔) مٹا - (۶۹۲۔) مٹا - (۶۹۳۔) مٹا - (۶۹۴۔) مٹا - (۶۹۵۔) مٹا - (۶۹۶۔) مٹا - (۶۹۷۔) مٹا - (۶۹۸۔) مٹا - (۶۹۹۔) مٹا - (۷۰۰۔) مٹا - (۷۰۱۔) مٹا - (۷۰۲۔) مٹا - (۷۰۳۔) مٹا - (۷۰۴۔) مٹا - (۷۰۵۔) مٹا - (۷۰۶۔) مٹا - (۷۰۷۔) مٹا - (۷۰۸۔) مٹا - (۷۰۹۔) مٹا - (۷۱۰۔) مٹا - (۷۱۱۔) مٹا - (۷۱۲۔) مٹا - (۷۱۳۔) مٹا - (۷۱۴۔) مٹا - (۷۱۵۔) مٹا - (۷۱۶۔) مٹا - (۷۱۷۔) مٹا - (۷۱۸۔) مٹا - (۷۱۹۔) مٹا - (۷۲۰۔) مٹا - (۷۲۱۔) مٹا - (۷۲۲۔) مٹا - (۷۲۳۔) مٹا - (۷۲۴۔) مٹا - (۷۲۵۔) مٹا - (۷۲۶۔) مٹا - (۷۲۷۔) مٹا - (۷۲۸۔) مٹا - (۷۲۹۔) مٹا - (۷۳۰۔) مٹا - (۷۳۱۔) مٹا - (۷۳۲۔) مٹا - (۷۳۳۔) مٹا - (۷۳۴۔) مٹا - (۷۳۵۔) مٹا - (۷۳۶۔) مٹا - (۷۳۷۔) مٹا - (۷۳۸۔) مٹا - (۷۳۹۔) مٹا - (۷۴۰۔) مٹا - (۷۴۱۔) مٹا - (۷۴۲۔) مٹا - (۷۴۳۔) مٹا - (۷۴۴۔) مٹا - (۷۴۵۔) مٹا - (۷۴۶۔) مٹا - (۷۴۷۔) مٹا - (۷۴۸۔) مٹا - (۷۴۹۔) مٹا - (۷۵۰۔) مٹا - (۷۵۱۔) مٹا - (۷۵۲۔) مٹا - (۷۵۳۔) مٹا - (۷۵۴۔) مٹا - (۷۵۵۔) مٹا - (۷۵۶۔) مٹا - (۷۵۷۔) مٹا - (۷۵۸۔) مٹا - (۷۵۹۔) مٹا - (۷۶۰۔) مٹا - (۷۶۱۔) مٹا - (۷۶۲۔) مٹا - (۷۶۳۔) مٹا - (۷۶۴۔) مٹا - (۷۶۵۔) مٹا - (۷۶۶۔) مٹا - (۷۶۷۔) مٹا - (۷۶۸۔) مٹا - (۷۶۹۔) مٹا - (۷۷۰۔) مٹا - (۷۷۱۔) مٹا - (۷۷۲۔) مٹا - (۷۷۳۔) مٹا - (۷۷۴۔) مٹا - (۷۷۵۔) مٹا - (۷۷۶۔) مٹا - (۷۷۷۔) مٹا - (۷۷۸۔) مٹا - (۷۷۹۔) مٹا - (۷۸۰۔) مٹا - (۷۸۱۔) مٹا - (۷۸۲۔) مٹا - (۷۸۳۔) مٹا - (۷۸۴۔) مٹا - (۷۸۵۔) مٹا - (۷۸۶۔) مٹا - (۷۸۷۔) مٹا - (۷۸۸۔) مٹا - (۷۸۹

فیلت (Felt) (انگ - اند) ایک روئیں درپورا اور اون کو کور اور  
 ڈھا کر تیار کیا جاتا ہے (۳) عمدے کی ٹپڑی۔  
 فیلڈ (Field) (انگ - ادت) میدان - میدان جنگ۔  
 فیلڈ بک (Field Book) (انگ - ادت) ایک کتاب جس  
 میں ہدایات کے مطابق کھیتوں کی پیمائش کی جاتی ہے۔  
 فیلڈ مارشل (Field Marshal) (انگ - اند) سپر سالار افواج  
 فوج کا سب سے اعلیٰ عہدہ یا اعزاز۔  
 فیلڈر (Fielder) (فیلڈر) (انگ - اند) کرکٹ کے کھیل میں وہ  
 کھلاڑی جو گیند روک کر بال یا وکٹ کی طرف پھینکے۔  
 فیلڈنگ (Fielding) (فیلڈنگ) (انگ - ادت) کرکٹ میں  
 گیند کو پھرتی سے روکنے کا ہنر۔  
 فیلسوف (Philosophy) (فیل - سوت) (انگ - اند) حکیم دانش مند - عالم - فاضل (۳)  
 مکار - فہمی - دغا باز۔  
 فیلسوفی (Philosophy) (فیل - سوت) (انگ - ادت) (۱) فضول غرضی - نمود و نمائش (۲)  
 عیاری - چالاک - شرارت۔  
 فیلو (Fellow) (فیلو) (انگ - اند) (۱) آدمی - فرد (۲) ساتھی۔  
 ہم بھولی - ہمسر (۳) سوسائٹی یا یونیورسٹی کا ممبر۔  
 فیلو شپ (Fellowship) (انگ - ادت) کسی تعلیمی ادارے  
 انجمن یا جماعت کی ممتاز رکنیت (۲) تعلیمی ادارے کے فیلو کا مشاہرہ۔

فیملی (Family) (فائل - م - لی) (انگ - ادت) (۱) خاندان -  
 نسب (۲) اہل و عیال - یوسی پیٹے۔  
 فیملی پلاننگ (Family Planning) - خاندانی  
 منصوبہ بندی۔  
 فین (Fan) (انگ - اند) پیکھا - بجلی کا پیکھا۔  
 فینائل (Phenyl) (انگ - ادت) ایک ہر انٹیم کش دوا۔  
 فینسی (Fancy) (فین - سی) (انگ - ادت) عمدہ - خوبصورت  
 فینسی بال فینسی ڈانس (Fancy Ball) (Fancy Dance)  
 (انگ - ادت) مغربی رقص کی تقریب جس میں لوگ سوانگ بھر کر شریک ہوتے ہیں  
 فیوڈل (Feudal) (انگ - ادت) (۱) اد - دل، (انگ - ادت) عمدہ ہنگامہ دہی نظام سے متعلق  
 قرون وسطیٰ کا ماساشی اور معاشرتی نظام - بڑے زمینداروں اور  
 جاگیرداروں سے متعلق۔  
 فیوز (Fuse) (فی - اڈ) (انگ - اند) تیز حرارت سے پگھلنا یا جھل جانا (۲)  
 فیتلہ - تپتی جیسے آتش گیر مادے میں جھگو کر جلا یا جاتا ہے۔  
 فیوژن (Fusion) (فیوژن) (انگ - اند) (۱) فیوژن کی جمع (۲) فائدے (۳) نیکیاں (۴) خوشنشین۔  
 فیوژن (Fusion) (فیوژن) (انگ - ادت) اس پر اعتراض ہے یہ عمل منظر ہے۔



## ق

قاف، (ع۔ مذ) اُردو کا تائیسواں۔ فارسی کا چوبیسواں اور عربی کا اکیسواں حرف۔ حساب الجد میں اس کے ستو عدد مقرر ہیں۔ عربی میں یہ قری حرف ہے۔ اس کے پہلے 'ا' لے گا تو 'ا' سلام، اپنی آواز دے گا جیسے القم۔

## ق۔ ا

قابل سزا۔ (ف۔ ا۔ مٹ) سزا کا متوجہ۔  
قابل سماعت۔ (ا۔ مٹنے کے لائق، ۱۲) وہ مقدمہ جو اُردو قانن کسی عدالت کے حصّہ اختیار میں ہو۔

قابل غور۔ (ع۔ ف۔ مٹ) صفحہ اس سچنے کے لائق۔ توجہ کرنے کے قابل۔

قابل کرنا۔ (مضمرکب) لائق بنانا۔ شائستگی کرنا۔ کُن سگھانا۔ ہنرمند بنانا۔

قابل مواخذہ۔ (ع۔ صفحہ) مجاہدگی یا گرفت کے مطابق۔

قابل نکاح۔ (ع۔ صفحہ) نکاح کے لائق۔ جوان۔ بالغ۔ بالغ۔

قابل ہونا۔ (مضمرکب) لائق ہونا۔ تجزیہ کار ہونا۔ ہوشیار ہونا۔

قابل یقین۔ (ف۔ ا۔ مٹ) جس پر یقین کیا جاسکے

قابلہ۔ (ق۔ ب۔ لہ) (ع۔ صفحہ) (۱) ہوشیار اور لائق عورت (۲) (موتشا) بچہ پڑھانے والی عورت۔ دانی۔

قابلیت۔ (ق۔ ب۔ لی۔ یت) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) لیاقت۔ سلیقہ۔ استعداد (۲) مناسبت۔ مادہ۔

قابلیت پیدا کرنا۔ (مضمرکب) لیاقت، بہم پہنچانا۔ استعداد حاصل کرنا۔

قابلیت ہونا۔ (مضمرکب) لیاقت ہونا۔ مادہ ہونا۔ استعداد ہونا۔

قالب۔ (ق۔ ب۔ لہ) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) موٹے۔ فرحت (۲) زور پیس۔ طاقت (۳) حکم۔ اختیار۔ (۴) رسائی۔ پہنچ۔

قالبو مانا۔ (۱) محاورہ) قدرت پانا۔ (۲) موٹے۔ فرحت (۳) زور پیس۔ طاقت (۴) حکم۔ اختیار۔ (۵) رسائی۔ پہنچ۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قالبو چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) کسی کے بس میں ہوجانا۔

قار۔ (ا۔ مٹ) کوسے کی آواز۔ کائیں۔ کائیں۔

قائن۔ (ق۔ ا۔ مٹ) (۱) بہت بڑا عادل۔ سخی اور عادل بادشاہ۔ (۲) بادشاہ چین اور شاہ ترکستان کا لقب (۳) وہ ترک خطاب جو شہنشاہ یا حاکم اعلیٰ کو دیا جائے۔ جو سب سے پہلے چنگیز خان کے بیٹے اگتائی کو دیا گیا تھا۔

قائنی۔ (ق۔ ا۔ مٹ) (۱) قائن سے منسوب۔ (۲) ایک مشہور ایرانی شاعر کا تخلص۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) ٹیڑھی رکابی۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قائب۔ (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) قافلہ۔ (۲) قافلہ۔

قالبو ہونا - (۱- عمارت) (۱) موح ہونا - (۲) بس ہونا - (۳) تہیہ ہونا -  
 قابوچی - (قا - بوجی - اوت - ا - مذکر) (۱) دربان - (۲) گنیزہ - سفلیہ -  
 (۳) خود غرض (۴) مفلس -  
 قابیل - (قابیل) (سرانی) - (۱) مذکر حضرت آدمؑ کا بیٹا جس سے اپنے  
 بیٹے بھائی ہابیل کو اپنی بہن کے حقد میں مار ڈالا تھا -  
 قاتل - (قاتل) (ع - صفت - ذر - ا - مذ) (۱) قتل کرنے والا - (جلا - یعنی (۲)  
 جنگ - جان لیوا - ظالم -  
 قاجار - قاجار - (قا - جار) (تہ جار) (ت - ا - مذ) شایان ایران  
 کا ایک خاندان -  
 قادر - (قادر) (ع - صفت) (۱) قدرت والا - طاقت رکھنے والا - قابو رکھنے والا -  
 غالب - (مختار) (۲) خدا کے تعالیٰ کا ایک معناتی نام -  
 قادر الکلام - (ع - صفت) (۱) کلام پر قابو اور قدرت رکھنے والا -  
 قادر انداز - (ت - صفت) (۱) عظیم نشانہ دہ گانے والا - وہ شخص جس کا نشانہ کہی  
 خطا نہ کہے -  
 قار علی الاطلاق (قادر مطلق) (ع - ت - صفت) (۱) پوری پوری قدرت  
 رکھنے والا - خدا کے تعالیٰ -  
 قادری - (قا - درسی) (ع - صفت) (۱) حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب  
 (۱) صفت) ایک قسم کا سنیہ بند -  
 قادیوہ - (قا - درسی) (ع - ا - مذ) صوفیہ کا ایک سلسلہ جو حضرت شیخ عبدالقادر  
 جیلانی سے منسوب ہے -  
 قادیانی - (۱) صفت) - مرزا غلام احمد قادیانی کو بتی ماننے والے مڑائی  
 منکر ختم نبوت -  
 قارورہ - (قا - رورہ) (ع - ا - مذ) (۱) شیشی ضرورہ شیشی جس میں شیش  
 بھر کر حکیم کو دکھاتے ہیں (۲) مہاز آب شیب -  
 قارورہ دیکھنے والا - (۱) صفت) حکیم - طبیب - معالج -  
 قارورہ بنانا - (۱) عمارت) (ع - صفت) (۱) موافقت ہونا - اتحاد ہونا -  
 قارون - (قا - رون) (ع - ا - مذ) (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا  
 مالدار مگر کھوس شخص جو اپنے مال سمیت زمین میں غرق ہو گیا تھا (عجائز)  
 ہر مالدار اور کھیل -  
 قارون کا حشر انہ - (۱) مذ) (تہ حشر) (۱) بے انتہا دولت -  
 قاری - (قا - رسی) (ع - ا - مذ) (۱) پڑھنے والا (۲) علم قرآن کے مطابق قرآن  
 مجید پڑھنے والا - (۳) قاری - (۴) قاری -  
 قاز - (ت - ا - صفت) (۱) ایک اہلی پرندہ - (۲) راج ہنس -  
 قاسم - (قا - سم) (ع - صفت) (۱) مذ) تقسیم کرنے والا - بانٹنے والا -  
 قاش - (ت - ا - صفت) (۱) صفت) (۲) بھانک - (۳) بھانک - (۴) بھانک -  
 قاش زین - (ت - ا - صفت) (۱) زین کا ہرنا - زین کے آگے اور پیچھے کے نیلے  
 جو بھانک کی صورت کے ہوتے ہیں -  
 قاش قاش کرنا - (۱) عمارت) (۲) عمارت) (۳) بھانک بھانک کرنا -  
 قاشیں تراشنا - (۱) عمارت) (۲) بھانک بھانک کرنا -  
 قاصد - (ع - ا - مذ) (۱) نامہ بردار چھٹی رسال - پیام برداری -

قاصر - (قا - صر) (ع - صفت) (۱) کوتاہی کرنے والا (۲) مجبور ناچار - (۳) قاصر  
 قاصر ہمت - (ع - صفت) (۱) کم ہمت - بے حوصلہ -  
 قاصر ہونا - (مضمرکب) عاجز ہونا - معذور ہونا - مجبور ہونا - فرض ادا  
 کرنے میں کوتاہی کرنا -  
 قاضی - (قا - ضی) (ع - ا - مذ) (۱) مسلمان منصف جو شرع کی رو  
 سے فیصلہ کرے (۲) (۳) حج - نکاح پڑھانے والا مولوی -  
 قاضی الحاجات - (ع - صفت) (۱) حاجت دہا کرنے والا (۲) خدا کے تعالیٰ  
 (۳) (عجائز) (۴) روپیہ - مال دولت -  
 قاضی القضاات - (ع - صفت) (۱) سب سے بڑا قاضی جیف - جسٹس -  
 قاضی بدوگواہ راضی - (ت - ضل) (۱) شریعت اسلامی میں دو گواہوں سے  
 مقدمہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے -  
 قاضی بر شہوت راضی - (ت - ضل) (۱) شہوت دین سے سبھی راضی  
 ہو جاتے ہیں -  
 قاضی جی اپنا آگاہ توڑھا نکو پیچھے کسی کو نصیحت کرنا -  
 (۱) ضل) (۲) نامح پیلے اپنے اطلاق و اطوار درست کرے - پھر دوسرے  
 کو نصیحت کرے -  
 قاضی جی بہتر اہرائیں میں ہارتا ہی نہیں - (۱) ضل) (۲) سنت بے  
 حیاتی - مذہب - اور اللہ کے ظہار میں طنز بولنے ہیں -  
 قاضی جی کا پیادہ گھوڑے سوار - (۱) ضل) (۲) حاکم کا ملازم ہمیشہ  
 جلدی ہی کرنا ہوا آتا ہے -  
 قاضی جی کے مرنے سے کیا شہر سونا ہو جائے گا - (۱) ضل) (۲) کسی  
 کے مرنے سے کوئی کام نہیں رکھتا -  
 قاضی جی کیوں ڈیلے ہا شہر کے اندیشے سے - (۱) ضل) (۲) خواہ مخواہ  
 بزدل کے غم میں لگنے والے کی نسبت بولتے ہیں -  
 قاضی جی کی لوندی مری سارا شہر آیا - قاضی جی مرنے  
 کوئی نہ آیا - (۱) ضل) (۲) بڑے آدمی کی خوشامد اس کی زندگی میں سب کرتے  
 ہیں - بڑے برکتی نہیں پوجتا -  
 قاضی جی کے گھر کے چوبے بھی سپانے - (۱) ضل) (۲) حاکم یا بڑے آدمی  
 کے گھر کے معمولی لوگ بھی خوشیاں منگتے ہیں -  
 قاضی چرخ دھنک - (ع - ت - ا - صفت) (۱) مشترک - سیاہ -  
 قاضی عدو - (ع - ا - مذ) (۱) وہ شخص جو کسی طرح بچھا ہی نہ بھڑوسے -  
 قاضی قدوہ - (ع - ا - مذ) (۱) ایک کثیر الادب قاضی - (۲) (کتابتہ)  
 ہر کثیر الادب شخص -  
 قاضی کا پیادہ - (۱) مذ) عدالت کو چوری (کتابتہ) (۲) وہ شخص جس سے لوگ  
 ڈرتے اور جرت بے دت سامنے آجاتے -  
 قاضی گلہ کرے گا - (۱) عمارت) (۲) کوئی معترف نہ ہوگا - کوئی دشواری  
 نہ ہوگی -  
 قاضی بناؤ نہ کر دگا گھر تو آنے دے گا - (۱) ضل) (۲) اگر نفع نہیں  
 تو کوئی نقصان بھی نہیں -  
 قاطبتا - قاطبتہ - (ت - ط - ب - جن - ع) (۱) تمام بالکل - سرتاسر -

**قافہ کننا** - (۱- محاورہ) قافیہ باندھنا۔  
**قافیہ لگانا** - (۱- محاورہ) قافیہ کانگیاں بونا۔  
**قافیہ ملانا** - (۱- محاورہ) ہمک سے تنگ جوڑنا۔ (۲) یارانہ کانٹھنا۔  
 راز دار بننا۔  
**قاق** - (۱- مذکر) سونکا بواگشت (۲) عجزاً نہایت دہلاؤ۔ ناخوش آدمی۔  
**قاقا** - (۱- مذکر) عورت کے کسی آواز۔ کانیں کانیں۔ دیکھیے۔ قا۔  
**قاقلم** - (۱- مذکر) عورت کے کسی آواز۔ عجزاً نہایت دہلاؤ۔ ناخوش آدمی۔  
**قاقم** - (۱- مذکر) عورت کے کسی آواز۔ عجزاً نہایت دہلاؤ۔ ناخوش آدمی۔  
 عجزاً نہایت دہلاؤ۔ ناخوش آدمی۔  
**قال** - (۱- مذکر) گفتگو۔ مباحثہ۔ مقلد۔ قول۔ (۲) ظاہری اور دکھا دے  
 کی بات چیت۔  
**قال القول** - (۱- مذکر) اس نے کہا، میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں۔  
**قال اللہ قال الرسول** - (۱- مذکر) کئی کئی قرآن و حدیث یعنی اللہ کا  
 کہا اور رسول کا فرمایا۔  
**قال قال** - (۱- مذکر) متعلق فعل، شدہ شدہ۔ بولتے بولتے۔  
**قال مقال** - (۱- مذکر) قیل و قیل۔ (۲- مذکر) حیرت میں حیرت  
 تھینتھین۔  
**قال وقیل** - (۱- مذکر) تکرار۔ محبت۔ محبت۔  
**قالب** - (۱- مذکر) قلب۔ (۲- مذکر) قلب۔ (۳- مذکر) قلب۔ (۴- مذکر) قلب۔  
**قالب بدلنا** - (۱- محاورہ) چکر بدلنا۔ دوسرا قسم اختیار کرنا۔  
**قالب بے جان** - (۱- مذکر) مردہ جسم۔  
**قالب بچھڑھنا** - (۱- محاورہ) ٹوٹی وغیرہ کا قلب بچھڑھانا۔  
**قالب ختمی کرنا** - (۱- محاورہ) مرجھانا۔  
**قالب ختمی** - (۱- مذکر) کتا جھماکا۔ جسم۔ بدن۔ انسان۔  
**قالب میں ڈالنا** - (۱- محاورہ) سانپے میں ڈھالنا۔  
**قالیجی** - (۱- مذکر) چھوٹا قالین۔  
**قاربت** - (۱- مذکر) قریب۔ (۲- مذکر) قریب۔ (۳- مذکر) قریب۔  
**قالین** - (۱- مذکر) قالین۔ (۲- مذکر) قالین۔ (۳- مذکر) قالین۔  
**قالب پر راست آنا** - (۱- محاورہ) موزوں رہنا، آنا، کھٹ آنا۔  
**قارموس** - (۱- مذکر) قارموس۔ (۲- مذکر) قارموس۔ (۳- مذکر) قارموس۔  
**قاربت** - (۱- مذکر) قریب۔ (۲- مذکر) قریب۔ (۳- مذکر) قریب۔  
 جمع۔ قاربتیں۔  
**قال قال** - (۱- مذکر) قال۔ (۲- مذکر) قال۔ (۳- مذکر) قال۔  
**قالع** - (۱- مذکر) قالع۔ (۲- مذکر) قالع۔ (۳- مذکر) قالع۔  
 راضی ہونے والا۔  
**قالون** - (۱- مذکر) قالون۔ (۲- مذکر) قالون۔ (۳- مذکر) قالون۔  
 منالطہ۔ آئین۔ رسم دروازہ (۳) طریق طور۔ ڈھنگ (۴) ایک بابے کا  
 نام (۵) شیخ یزید علی سینا کی طب کی ایک کتاب۔ جمع۔ قالونین۔  
**قالون اساسی** - (۱- مذکر) قالون۔ (۲- مذکر) قالون۔ (۳- مذکر) قالون۔  
**قالون استقری** - (۱- مذکر) قالون۔ (۲- مذکر) قالون۔ (۳- مذکر) قالون۔  
 افعال حاضر کی تعبیر اور

**قاطر** - (۱- مذکر) قطر۔  
**قاطرچی** - (۱- مذکر) قطر۔  
**قاطع** - (۱- مذکر) قطع کرنے والا۔ کٹنے والا۔  
**قاطع الطریق** - (۱- مذکر) قطع کرنے والا۔ کٹنے والا۔  
**قاعده** - (۱- مذکر) قاعدہ۔ (۲- مذکر) قاعدہ۔ (۳- مذکر) قاعدہ۔  
 (۴) قاعدہ۔ (۵) قاعدہ۔ (۶) قاعدہ۔ (۷) قاعدہ۔ (۸) قاعدہ۔ (۹) قاعدہ۔ (۱۰) قاعدہ۔  
**قاعہ باندھنا** - (۱- محاورہ) دستور طہرنا۔ قانون مقرر کرنا۔ (۲) عادت ڈالنا۔  
**قاعہ جاری کرنا** - (۱- محاورہ) دستور مقرر کرنا۔  
**قاعہ دان** - (۱- مذکر) قاعدہ۔ (۲- مذکر) قاعدہ۔ (۳- مذکر) قاعدہ۔  
**قاعہ کلینہ** - (۱- مذکر) قاعدہ۔ (۲- مذکر) قاعدہ۔ (۳- مذکر) قاعدہ۔  
**قاعہ لگانا** - (۱- محاورہ) طریقہ ایجاد کرنا۔  
**قاعہ سے** - (۱- مشتق فعل) (۲) سیکھے سے۔ (۳) دستور کے مطابق  
 (۴) ادب سے۔  
**قاعہ سے لگانا** - (۱- محاورہ) ترقیب سے رکھنا۔  
**قاعہ سے کا پابند** - (۱- صفت) دستور کا پابند۔ اصول کا پابند۔  
**قاعہ سے کی بات ہے** - (۱- صفت) عام دستور ہے۔ عام بات ہے۔  
**قاف** - (۱- مذکر) عربی کا کسبوس حرف (ق) (۲) ایک پہاڑ جو ایشیائے  
 کوچک کے شمال میں واقع ہے پرانے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ساری  
 دنیا پر محیط ہے۔ اور اس میں بڑیاں آباد ہیں۔  
**قاف تا قاف** - (۱- مشتق فعل) ساری دنیا۔ دنیا کے ایک سرے سے  
 دوسرے سرے تک۔  
**قاف کی بڑیاں** - (۱- مشتق) کئی کئی جہنم عورتیں۔  
**قافلہ** - (۱- مذکر) قافلہ۔ (۲- مذکر) قافلہ۔ (۳- مذکر) قافلہ۔  
**قافلہ سالار** - (۱- مذکر) قافلہ۔ (۲- مذکر) قافلہ۔ (۳- مذکر) قافلہ۔  
**قافیہ** - (۱- مذکر) قافیہ۔ (۲- مذکر) قافیہ۔ (۳- مذکر) قافیہ۔  
 (۴) قافیہ۔ (۵) قافیہ۔ (۶) قافیہ۔ (۷) قافیہ۔ (۸) قافیہ۔ (۹) قافیہ۔ (۱۰) قافیہ۔  
**قافیہ باندھنا** - (۱- محاورہ) کسی قافیہ کو شعر میں نظم کرنا۔  
**قافیہ بندھنا** - (۱- محاورہ) کسی قافیہ کا شعر میں نظم ہونا۔  
**قافیہ بندی** - (۱- مشتق) ایک بندی۔ اشعار موزوں کرنا۔  
**قافیہ پیمانہ** - (۱- صفت) قافیہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر شعر کہنے والا۔  
**قافیہ پیمائی** - (۱- صفت) قافیہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر شعر کہنے والا۔  
**قافیہ تنگ کرنا** - (۱- محاورہ) عاجز کرنا۔ پریشان کرنا۔ مزح کرنا۔  
**قافیہ تنگ ہونا** - (۱- محاورہ) عاجز کرنا۔ پریشان کرنا۔ مزح کرنا۔  
 ایسے قافیہ دستیاب نہ ہوتا۔ گھٹا درکار میں عاجز آنا۔ (۲) حق ہونا۔  
 ابرامانا۔ تنگ ہونا۔ گھبرانا۔  
**قافیہ سنج** - (۱- صفت) موزوں طبع شاعر۔  
**قافیہ ستارگان** - (۱- صفت) قافیہ جس میں ایٹھائے  
 جلی ہو۔ دیکھیے۔ ایٹھا۔

ناجاہز سے برہمن کی تعریف ہو۔

قانون یکساں رہتا۔ (۱۔ محاورہ) اسے ضرورت تکرار کرنا۔

قانون پر چلنا۔ (۱۔ محاورہ) ضابطہ کی پابندی۔ آئین کے موافق کاروائی پنہان کرنا۔

قانون جنگی۔ (ع۔ ۱۔) مذ۔ فوجی کٹین۔ وہ قانون جو فوج کے لیے ہو۔

قانون بھانٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بیجا محبت کرنا۔ ویسے لانا۔

قانون ڈالنا۔ (ع۔ ۱۔) صفت) قانون جاننے والا۔ آئین سرکاری سے واقف۔

قانون دانی۔ (ع۔ ۱۔) صفت) امت) قانون کی واقفیت۔

قانون دیوانی۔ (ع۔ ۱۔) صفت) وہ قانون جو ترک اور جہاد کے متعلق ہو۔

قانون راج ہوتا۔ (مس مرکب) قانون پر عمل دیکھا ہوتا۔

قانون فوجداری۔ (ع۔ ۱۔) صفت) وہ قانون جس کے تحت جرائم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔

قانون کا نفاذ۔ (ع۔ ۱۔) صفت) کسی ملک میں قانون کا جاری ہونا۔

قانون گو۔ (ع۔ ۱۔) وہ محترم جس کے پاس تمام ضلع یا علاقہ کی زمینوں کا حساب کتاب رہتا ہے۔ پٹواریوں کا انسر وہ شخص کی ایک گوت (۳ ہاک) سے بھگلاو۔

قانون گوئی۔ (ع۔ ۱۔) صفت) قانون گو کا عہدہ۔

قانون مال۔ (ع۔ ۱۔) صفت) لگان اور مال گزارہ کی ضابطہ۔

قانون مختص الامر۔ (ع۔ ۱۔) صفت) وہ قانون جو کسی خاص امر کی بابت جاری ہو۔

قانون مختص المقام۔ وہ قانون جو کسی خاص حصہ ملک کے لیے جاری ہو۔

قانونیہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت) قانون سے متعلق۔

قانونیچہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت) علم طب کی ایک کتاب کا نام (۲) ایک باجر۔

قانونی۔ (ع۔ ۱۔) صفت) قانون سے متعلق (۲) قانون کی راز سے قانون بنانے یا جاننے والا۔ (۳) بھگلاو۔ تکراری بھگتی۔

قانونیا۔ (ع۔ ۱۔) صفت) بھگتی۔ بھگلاو۔

قاہر۔ (ع۔ ۱۔) صفت) قابض کرنے والا۔ غالب۔ زبردست۔ زور آور۔ طاقت ور۔

قاہرہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت) قاہر کی تائید۔ غالب۔ زبردست۔ (۲) مہر کے دارالحکومت کا نام۔

قاہ قاہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت) قہر سے بھرا ہوا۔

قائد۔ (ع۔ ۱۔) صفت) فوج کا سردار۔ حاکم۔ (۲) آندے کی لاطھی بولگر چھنے والا۔ رہنما۔ لیڈر۔

قائد اعظم۔ (۱) بہت بڑا رہبر قوم۔ (۲) پاکستانی مسلمانوں کے محسن اعظم۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا لقب۔

قائسہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت) گھڑے کے منہ پر دہانہ چھساکر لگام کے تسمے کو دم سے بانہہ دینا (۲) مجرور رہنا۔ ٹھگنا بانہہ۔

قائل۔ (ع۔ ۱۔) صفت) کہنے والا۔ بولنے والا (۲) اپنا قصور ماننے والا تسلیم کرنے والا۔ ہار مانتے والا۔ لاجواب۔

قائل کرنا۔ (۱۔ محاورہ) لاجواب کرنا۔ شرمندہ کرنا۔

قائل معقول کرنا۔ (۱۔ محاورہ) لاجواب کرنا۔ جھوٹ ثابت کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ قصور کا اقرار کرنا۔

قائل ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مان لینا۔ غلطی تسلیم کرنا۔ (۲) استاد ماننا۔ ماہر بننا۔

قائل ہونے کی جگہ ہے۔ (۱۔ مثل) تسلیم کرنا پڑتا ہے

قائم۔ (ع۔ ۱۔) صفت) کھڑا ہونے والا۔ کھڑا ہونا (۲) سیدھا۔ مضبوط۔ پائیدار (۳) موجود۔ مستقل۔ مقررہ۔ برقرار۔ (۴) شطرنج میں دونوں خریٹوں کا برابر رہنا۔

قائم اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) شطرنج میں بازی برابر رہنا۔ دونوں خریٹوں میں سے کسی کو مات نہ ہونا۔

قائم الزاویہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت) وہ زاویہ جو نوسے درجے کا ہو۔

قائم الزمان۔ (ع۔ ۱۔) صفت) شیعوں کے امام کا نائب۔

قائم اللیل۔ (ع۔ ۱۔) صفت) عبادت کے لیے رات بھر جاگنے والا۔

قائم المزاج۔ (ع۔ ۱۔) صفت) مستقل مزاج۔ دلکس کا پکا۔

قائم النار۔ (ع۔ ۱۔) صفت) آگ پر ٹھہرنے والا۔

قائم انداز۔ (ع۔ ۱۔) صفت) شطرنج میں بازی کو ہر طرح برقرار رکھنے (۲) ٹھیک نشانہ لگنے والا۔ قادر انداز۔

قائم بالذات۔ (ع۔ ۱۔) صفت) وہ چیز جو بذات خود قائم اور برقرار ہو جو ہر دوسرے کے سہارے پر قائم ہو۔

قائم بالغیر۔ (ع۔ ۱۔) صفت) دوسرے کے سہارے پر قائم ہو۔

دوسرے کا محتاج۔

قائم رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) برقرار رکھنا۔ موجود رکھنا۔ صحیح و سلامت رکھنا۔

قائم رہنا۔ (۱۔ محاورہ) برقرار رہنا۔ مضبوط رہنا۔

قائم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بننا۔ رکھنا۔ (۲) مقرر کرنا (۳) اٹھانا۔ کھڑا کرنا۔ (۴) بنانا (۵) مدد مقرر کرنا (۶) مضبوط کرنا۔ مستقل کرنا۔ برقرار کرنا (۷) رکھنا۔ ٹھکانا۔

دھننا (۸) پیدا کرنا۔ موجود کرنا۔

قائم مزاج۔ (ع۔ ۱۔) صفت) مستقل مزاج۔ ثابت قدم۔

قائم مزاجی۔ (ع۔ ۱۔) صفت) ثابت قدمی۔ استقلال۔ مضبوطی۔ مشانت۔

قائم مقام۔ (۱) کسی کی جگہ کام کرنے والا۔ عوضی (۲) مختار کار۔ وکیل۔ گمشدہ (۳) علی عہدہ خلیفہ۔ نائب۔

قائم مقام ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دوسرے کی جگہ کام کرنا۔ عوضی پر ہونا۔

قائم مقامی۔ (ع۔ ۱۔) صفت) عوضی (۲) وکیل۔ سفارت۔

قائم ہونا۔ (۱۔ محاورہ) اٹھنا۔ کھڑا ہونا (۲) مستقل ہونا۔ برقرار ہونا (۳) بننا۔ رکھی جانا۔ نیوڑنا (۴) مدد مقرر ہونا (۵) اٹھنا۔ رہنا (۶) رکھنا۔ دھت کا آگ پر ٹھہر جانا اور مقدار میں نہ گھٹنا۔

قائمہ۔ (ع۔ ۱۔) صفت) کھڑے رہنے کا زاویہ۔

قائمگی۔ (ع۔ ۱۔) صفت) قائم۔ یا ملاسی۔ استقلال۔ ٹھہرائی۔

قائل۔ (ع۔ ۱۔) صفت) ادا کرنے والا۔ (۲) ادا کرنے کی آواز۔











قدم اٹھنا - (۱- محاورہ) پاؤں اٹھنا۔ سرکنا بلنا حرکت کرنا۔  
 قدم اٹھنا - (۱- محاورہ) پاؤں اٹھنا۔ کھلا تھرہ سنا۔  
 قدم باز - (ع۔ ف۔ صفت) تیز رفتار گھوڑے کی تعریف ہے۔  
 قدم باہر نکالنا - (۱- محاورہ) حد سے باہر کرنا۔  
 قدم برداشتہ - (ف۔ متعلق نعل) تیز رفتاری سے۔  
 قدم بر قدم - (ع۔ ف۔ صفت) پیروی کرنے والا۔  
 قدم بڑھانا - (۱- محاورہ) آگے چلنا (۲- تیز چلنا (۳- اپنی حد سے بڑھنا (۴- رکتا پتیا، مداخلت کرنا۔ دخل دینا۔  
 قدم بڑھا کرنا - (۱- محاورہ) سبقت لے جانا۔  
 قدم بڑھ کے لینا - (۱- محاورہ) استقبال کرنا۔  
 قدم بوس - (ع۔ ف۔ صفت) پاؤں چومنے والا۔  
 قدم بوس ہونا - (۱- محاورہ) تعظیم یا پاؤں چومنا۔ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونا۔  
 قدم بوسی - (ع۔ ف۔ صفت) پاؤں چومنا۔ پاؤں کو ہاتھ لگانا۔  
 قدم سجاری ہونا - (۱- محاورہ) منجوس قدم ہونا۔ کسی شخص کا نام مبارک ہونا۔  
 قدم بھج - (۱- متعلق نعل) ایک قدم۔  
 قدم بر قدم چلنا - (۱- محاورہ) کسی کی پیروی کرنا۔ پیچھے چلنا۔ ساتھ ساتھ چلنا۔  
 قدم بیچ سے نکل جانا - (۱- محاورہ) دخل نہ رہنا۔ واسطہ نہ رہنا۔  
 قدم بیچ میں ہونا - (۱- واسطہ) واسطہ ہونا۔ دخل ہونا۔  
 قدم تیز چلنا - (۱- محاورہ) پیروی کرنا۔  
 قدم بر قدم رکھنا - (۱- محاورہ) کسی کی پیروی کرنا۔  
 قدم (قدموں) پر ہاتھ دھرنا - (۱- محاورہ) عاجزی کرنا (۲- بطور قسم کے قدم کو ہاتھ لگانا۔  
 قدم بڑھنا - (۱- محاورہ) کسی تیز پر پاؤں بڑھنا۔  
 قدم بر تیر رکھ دینا - (۱- محاورہ) بیٹھ جانا۔ اطاعت کرنا۔ خوشامد کرنا۔ عزت کرنا۔  
 قدم بڑھانا - (۱- محاورہ) (۱) تعظیم بزرگوں کے پاؤں چھونا (۲) کسی جگہ کا اپنی دلچسپی کے باعث چلنے والے کو ٹھہرا لینا۔  
 قدم (قدموں) پر گھرنا - (۱- محاورہ) بے حد تعظیم کرنا۔ منت خوشامد کرنا۔  
 قدم بچھ جانا - (۱- محاورہ) پیچھے ہٹنا۔ پسپا ہونا۔  
 قدم بھونک کے رکھنا - (۱- محاورہ) احتیاط برتنا۔  
 قدم کوش جانا (لوٹنا) - (۱- محاورہ) چلتے چلتے تھک جانا (۲) سپاہیوں کے قدم آہ میں آہ نہ ملنا۔  
 قدم جمانا - (۱- محاورہ) جھمکھڑا ہونا۔ جھمک کر رہنا۔ (۲) استقلال حاصل کرنا۔  
 قدم چومنا - (۱- محاورہ) پایوں کو چومنا۔ (۲) کامل ماننا۔ (۳) طنزاً شہرتی تسلیم کرنا۔  
 قدم چہ - (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) کھڑکی کا پایہ۔ جس پر پاؤں رکھ کر پاخانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔  
 قدم چھوڑنا - کسی بزرگ سے جدا ہونا۔

قدم درمیان سے اٹھ جانا - (۱- محاورہ) متعلق یا واسطہ نہ رہنا۔  
 قدم درمیان ہونا - (۱- محاورہ) واسطہ ہونا۔ دخل ہونا۔ بیچ میں ہونا۔ اڑنے آنا۔  
 قدم درویشیاں رد ہونا - (ف۔ ش) بابرکت آدمی کے آنے سے بلا رد ہوجاتی ہے۔  
 قدم دکھانا - (۱- محاورہ) پھال دکھانا (۲) چلتے بھرتے نظر کرنا۔  
 قدم دھو دھو کر پینا - (۱- محاورہ) بہت عزت کرنا۔  
 قدم ڈنگھانا - (۱- محاورہ) لاکھڑانا۔ لغزش ہونا۔  
 قدم رسول - قدم شریف - (ع۔ ا۔ مذ) وہ مکان یا جگہ جہاں رسول مقبول کے قدم مبارک کا نشان رکھا ہو۔  
 قدم رکھنا - (۱- محاورہ) لا، پاؤں دھرنا۔ چلنا۔ (۲) دخل دینا۔ مداخلت کرنا (۳) کوئی کام کرنے کا دعویٰ کرنا۔ (۴) کوئی کام اختیار کرنا۔ (۵) آنا تشریف لانا۔  
 قدم رنج (فرمانا) کرنا - (۱- محاورہ) تشریف لانا۔  
 قدم زمین پر نہ رکھنا - (۱- محاورہ) کمال مفروض ہونا۔  
 قدم زمین سے نہ لگانا - (۱- محاورہ) بہت تیز چلنا۔  
 قدم سر پر رکھنا - (۱- محاورہ) بہت تعظیم و تکریم کرنا۔  
 قدم سر کاٹنا - (۱- محاورہ) پاؤں کاٹنا۔  
 قدم کسکت بڑھانا - (۱- محاورہ) رفتار کم ہونا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔  
 قدم قدم - (ع۔ متعلق نعل) ایک ایک قدم کے فاصلے سے۔  
 قدم قدم کر - (ع۔ متعلق نعل) چبھے چبھے پر۔  
 قدم قدم جانا، چلنا - (۱- محاورہ) آہستہ آہستہ جانا۔ سچ سچ چلنا۔  
 قدم کو ہاتھ لگانا - (۱- محاورہ) خوشامد کرنا۔ عاجزی کرنا۔  
 قدم کھوٹا ہونا - (۱- محاورہ) منجوس ہونا۔  
 قدم کھیں کا کھیں بڑھنا - (۱- محاورہ) کمزوری پانے سے لاکھڑانا۔  
 قدم کے ساتھ - (۱- متعلق نعل) ہمراہی میں رفاقت میں۔  
 قدم کاڑھنا - (۱- محاورہ) ثابت قدم رہنا۔  
 قدم کھن کھن کے رکھنا - (۱- محاورہ) نہایت آہستہ آہستہ۔ کمال احتیاط سے قدم اٹھانا۔  
 قدم لگنا - (۱- محاورہ) (۱) پاؤں چومنا (۲) گھوڑے کو قدم پال چلنا آجانا۔ (۳) کسی کی پناہ یا حفاظت میں جگہ ملنا۔  
 قدم لینا - (۱- محاورہ) (۱) ادب یا تعظیم سے پیروں کو ہاتھ لگانا۔ پاؤں کو بوسہ دینا (۲) اُستادانہ۔ دوسرے کے کمال کا اعتراف کرنا (۳) خوشامد کرنا۔ احسان ماننا (۴) استقبال کرنا تیز قدم کرنا۔  
 قدم مارنا - (۱- محاورہ) کوشش کرنا۔ دھڑ دھوپ کرنا (۲) کسی کام میں بڑھنا (۳) رکھنا (۴) جلد جانا۔ تیز جانا۔  
 قدم ملانا - (۱- محاورہ) پاؤں سے پاؤں ملانا۔  
 قدم نکالنا - (۱- محاورہ) باہر آنا جانا (۲) گھوڑے کو پال سکھانا۔  
 قدم نہ اٹھنا - (۱- محاورہ) دہشت یا خوف کے مارے پاؤں نہ اٹھنا۔ لگے نہ چل سکتا۔ عاجز ہونا۔

قدیمی (رقی۔ ویسی۔ سی) (ف۔ صفت) قدیم کا۔ سدا کا۔ ہمیشہ کا۔ بھڑانا۔  
قدیمی نمک حواری۔ (۱۔ مذ) بھڑانا ملازم۔ وفادار۔

# ق۔ ذ

قذوف (ع۔ ۱۔ مذ) شرفا کسی بڑی ذات کی جہت لگانا (۲، ۳) گالی دینا۔

# ق۔ ر

قرابت (ع۔ ۱۔ صفت) ہمائی۔  
قرابتی (ع۔ ۱۔ مذ) دیکھتے قرابہ جس کی یہ معنی ہے۔  
قرابہ (ع۔ ۱۔ مذ) دیکھتے قادی جس کی یہ معنی ہے۔  
قرابا دیں (ق۔ ر۔ با۔ دین) (ع۔ ۱۔ صفت) نسبت الاویہ۔ دواؤں کی ڈکھتری۔

قرابت (ق۔ ر۔ اب۔ ت) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) قربت۔ نزدیک (۲) رشتہ داری۔  
قرابت کھہرنا (۱۔ محاورہ) نسبت قرار پانا۔ مٹکنی ہونا  
قرابت دار (ع۔ ۱۔ مذ) رشتہ دار۔ عزیز و اقارب۔  
قرابت داری (ع۔ ۱۔ صفت) رشتہ داری نامتے داری۔  
قرابت طربی (ع۔ ۱۔ صفت) باہم جہتی رشتہ داری۔  
قرابت قریبہ (ع۔ ۱۔ صفت) قریب کی رشتہ داری۔  
قرابت مستقیمہ (ع۔ ۱۔ صفت) پختہ رشتہ۔ پشت در پشت رشتہ داری۔

قرابتی (ق۔ ر۔ اب۔ ت) (ع۔ ۱۔ صفت) رشتہ کا نامتے کا لگانا۔  
قرابتی قرابت۔ وہ رشتہ جس میں پانچ پشت سے زیادہ کا رشتہ دار شامل ہو۔

قرابہ (ق۔ ر۔ با۔ دین) (ع۔ ۱۔ مذ) عرق رکھنے کا بڑا شیشہ (۲) شراب کاشیشہ صراحی۔

قرابینہ (ق۔ ر۔ اب۔ ت) (ع۔ ۱۔ صفت) چوڑے منہ کی چھوٹی بندوق۔  
قرابت (ق۔ ر۔ اب۔ ت) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) چھٹا۔ خواندگی۔ تلفظ (۲) حروف کا تلفظ صحیح مخارج سے (۳) ادراک (۴) ایک علم جس میں عربی حروف کے مخارج اور تلفظ سے بحث کی جاتی ہے۔ علم تجوید۔

قرار (ق۔ ر۔ ا۔ د) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) آرام۔ سکون۔ آسودگی۔ قیام (۲) صبر و تحمل برداشت۔ سہار۔ بڑی باری۔ علم۔ (۳) استقلال۔ ثبات۔ (۴) آرام۔ قول۔ (قرار۔ عہد)۔

قرار آنا۔ اطمینان ہونا۔ تکمیل ہونا۔ جی ٹھہرنا۔ اضطراب زنیق ہونا۔  
قرار پانا (۱۔ محاورہ) ٹھہرنا۔ مقرر ہونا (۲) قیام کرنا۔ تصفیہ ہونا (۳) دن مقرر ہونا (۴) باہم وعدہ یا عہد پیمان ہونا

قرار دار (ع۔ ۱۔ صفت) عہد و پیمان۔ معاہدہ۔ قول و قرار بشرط طہیکر۔  
(۲) فیصلہ۔ تصفیہ۔ تجویز۔ ریزولوشن۔ (Resolution)

قدم نہ ٹھہرنا۔ (۱۔ محاورہ) جانے کی ہمت نہ ہونا۔  
قدم نہ چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ساتھ نہ چھوڑنا۔ رفاقت میں رہنا۔  
قدم نہ رکھ سکنا۔ (۱۔ محاورہ) جان نہ سکنا۔  
قدم نہ رکھنے دینا۔ (۱۔ محاورہ) جانے نہ دینا۔  
قدم لہ۔ (ع۔ صفت) قدیم کی معنی۔

قدموں پر صدر کے گزنا (دارنا)۔ (۱۔ محاورہ) کمال اطاعت اور فرماں برداری ظاہر کرنا۔

قدموں تک رسائی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) خدمت میں بار پائی ہونا۔  
قدموں تلے آنکھیں بچھانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت تعظیم و عزت اور اذہمت کرنا۔

قدموں سے لگا رہنا۔ (۱۔ محاورہ) فرما نہ دار۔ مطیع ہونا۔  
قدموں پر گزنا۔ (۱۔ محاورہ) پیروں پر سر رکھنا۔ پاؤں چومنا۔  
قدموں سے لگنا۔ (۱۔ محاورہ) پاؤں چومنا۔ (۲) جناب تعظیم و کرم سے پیش آنا۔

قدموں سے لگے ٹپے ہیں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تامل اور مٹیں ہیں۔ فرما نہ دار ہیں (۲) زیر سایہ ہیں۔ رعیت ہیں۔ ماتحت ہیں۔

قدموں سے لگے رہنا۔ (۱۔ محاورہ) ہر وقت ساتھ رہنا۔ پاس سے کبھی جدا نہ ہونا۔

قدموں کو چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ساتھ چھوڑنا۔ کسی سے علیحدہ ہونا۔  
قدموں کی بدولت۔ (۱۔ متعلق فعل) جنور کے طفیل میں  
قدموں کے تلے سے زمین نکل جانا۔ (۱۔ محاورہ) سخت گھبراہٹ اور پریشانی ہونا۔

قدموں کی بلا۔ (۱۔ صفت) کہ مصیبت جو سدا دم کے ساتھ ہے۔  
قدموں میں۔ (۱۔ متعلق فعل) زیر سایہ۔

قدموں میں بچھا جانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت تعظیم کرنا۔  
قدم رقی۔ دوم (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) گنگلی۔ پڑنا ہونا۔ (۲) مٹکنی۔  
قدموں۔ (قد۔ دوم) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) بڑا پاک۔ خدائے تمنا کے ایک صفاتی نام۔

قدوم۔ (ق۔ ر۔ دوم) (ع۔ ۱۔ مذ) قدم کی جمع (۲) کسی جگہ سے آنا۔ تشریف آانا۔ سفر سے واپس آنا۔

قدوم میں بندت لزوم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ایسا آنا جس سے برکت ہو۔  
قدوہ۔ (قد۔ وہ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) پیشوا ہونا۔ سردار (۲) شمال۔ نمونہ۔

قدیر بلاق۔ (قدیر۔ ع۔ صفت) (۱) صاحب قدرت طاقت و درم و منبوت۔  
پختہ (۲) خدائے تعالیٰ کا صفاتی نام۔

قدیم۔ (ق۔ ر۔ دوم) (ع۔ ۱۔ صفت) (۱) انہی جس کی ابتدا نہ ہو۔ ہمیشہ کا (۲) بھڑانا۔ دیرینہ۔ اگلے زمانے کا۔ (۳) آبائی۔ موروثی۔ حادث کی مندرجہ ذیل۔

قدیم الیام۔ (ع۔ ۱۔ صفت) قدیم سے۔ ہمیشہ سے۔ سدا سے۔ اگلے وقتوں سے۔ (۱۔ متعلق فعل) زمانہ سابق سے۔



قرقو - (ع - ا) مذ - نند - بندنہ -

قرقش - (ع - ا) مذ - ایک فونٹک بھری جانور - دھیل بھلی -

قرقشی - (ق - ر) شمی (ع - صفت) قرقشی - قرقش سے منسوب -

قرقص - (ع - ا) مذ - لٹا لٹا گیا، لگا لگا گیا، لگا لگا گیا، لگا لگا گیا، لگا لگا گیا -

قرقش - (ع - ا) مذ - اُدھار - مانگا ہوا - مستعار -

قرقش آٹارنا - (ع - ا) مذ - اُدھار کسی سے لیا ہوا لینا کرنا - اُدھار بیباق کرنا آٹا

ہوا چکانا -

قرقش اٹھانا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینا - مستعار لینا -

قرقش ادا کرنا - (ع - ا) مذ - اُدھار لیا ہوا روپیہ بیباق کرنا -

قرقش حسن (حسنہ) - (ع - ا) مذ - اُدھار اور بلا سود قرض -

قرقش خواہ (ع - ا) مذ - اُدھار دینے والا - لیمن دار -

قرقش دار - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - معروض دین دار -

قرقش دار چھاتی پر سوار - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - معروض کو دہانے لکھتا ہے -

قرقش داری - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - معروض ہونا -

قرقش کا لٹھنا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینا -

قرقش کھانا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقش لینا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینا -

قرقش ہوتا - (ع - ا) مذ - اُدھار کا سہارا ہونا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار - دین قرض -

قرقشہ آتہ جانا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ کشی - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ چکانا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ منقضی المیاد - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ طاس - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ طاس ابيض - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ ابيض - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ اندازی - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ کا نام لگانے کا طریقہ -

قرقشہ (پھینکنا) ڈالنا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ پھینکنا -

قرقشہ فال بنام من دولتہ نروند - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ فال نام لکھتا ہے - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا - ادا ہو گیا ہونا -

حائیداد کو تحویل میں لینا -

قرق نامہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقرا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ پھینا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ پھینا - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ کرنا -

قرقشہ دار - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ قبل فیصلہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ علی بنے مال کو اُدھار لینے والا -

قرقشہ کا پروانہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -

قرقشہ - (ع - ا) مذ - اُدھار لینے والا -



کا قول ہے کہ قسم صرف کھانے کے لیے ہے۔ مثل کیلئے نہیں۔  
 قسم لینا۔ (۱- محاورہ) عہد لینا۔ قرار کرنا۔ حلف اٹھانا۔ خدا کو درمیان لانا۔  
 قسم ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) عہد ہونا۔ (۲) مطلق انکار کرنا۔ (۳) بالکل ترک ہونا۔ (۴) حرام ہونا۔  
 قسم ہے۔ (۱- محاورہ) (۱) سوگند ہے۔ (۲) مطلق انکار ہے۔ کچھ تعلق نہیں  
 قسمیں دینا۔ (۱- محاورہ) سوگند پر سوگند دینا۔  
 قسم۔ (ع-۱- مؤنث) (۱) حصہ۔ ٹکڑا۔ جز۔ (۲) جس نوع (۳) طور طریق۔  
 اڈھنگ۔ طرز، رسم، بائٹ۔ تقسیم۔ جمع۔ اقسام۔  
 قسم اقل۔ (ع-۱- صفت) بہت اطلاق قسم۔ اقل درجے کی چیز۔  
 قسم دار۔ (۱- صفت) جتنے دار جنس دار  
 قسمی قسمی۔ (ش- ماد- قس- می) (۱- صفت) باہمی عہد و پیمان۔  
 قسمت۔ (قس- منت، ع-۱- صفت) (۱) تقدیر۔ نصیب۔ بخت۔ عقدہ  
 بھاگ (۲) حصہ۔ بجز۔ مقسوم۔ تقسیم کیا ہوا۔ (۳) صوبہ۔ فخری اجالا  
 ضلع بنگلہ۔ علاقہ۔  
 قسمت آزمائی۔ (ع-ن-۱- صفت) مقدر آزمانا۔ تقدیر کے  
 بھروسے پر کوئی کام کرنا۔  
 قسمت آزمائی کرنا۔ (۱- محاورہ) نصیبے کا امتحان کرنا۔ تقدیر کی  
 آزمائش کرنا۔  
 قسمت الٹنا۔ قسمت بگڑنا۔ (۱- محاورہ) نصیبے کا خلاف اوجھانا۔  
 نحوست اور شامت اچھانا۔  
 قسمت بدلنا۔ (۱- محاورہ) تقدیر پلٹنا۔ اچھے دن آنا۔  
 قسمت بری (برگشتہ) ہونا۔ (۱- محاورہ) برے دن ہونا۔ تقدیر  
 کا بچھ جانا۔  
 قسمت بگڑنا۔ (۱- محاورہ) تقدیر بگڑنا۔ بد اقبال آنا۔  
 قسمت پر پٹھار ہننا۔ (۱- محاورہ) تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر پٹھار ہلانا  
 قسمت بڑھتا بڑھتا پھیرے۔ (روز مرہ) عورتیں قسمت سے  
 ناخوش ہو کر کہتی ہیں۔  
 قسمت بڑھوڑنا۔ (۱- محاورہ) ٹوکل کرنا۔ تقدیر کے حوالے کرنا۔  
 قسمت بدلنا (بگڑنا) پھیرنا۔ (۱- محاورہ) نصیبہ جاکنا۔ بھلے دن آنا۔  
 قسمت چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) برے دن آنا۔ مقدر بگڑنا۔  
 قسمت چھوڑنا۔ (۱) تکلیف دینا۔ رنج دینا۔ (۲) لڑکی کا بیاہ  
 کسی خراب جگہ پر کرنا۔  
 قسمت جاکنا۔ قسمت چکنا۔ قسمت رسا ہونا۔ قسمت راہ  
 پر ہونا۔ (۱- محاورہ) اقبال یاد ہونا۔ دن پھرنا۔ اچھے دن آنا۔  
 قسمت رسا ہونا۔ (۱- محاورہ) اچھی قسمت ہونا۔ اچھے دن آنا۔  
 قسمت سو جانا۔ (۱- محاورہ) برے دن آنا۔  
 قسمت سے۔ (۱- تابع فعل) (۱) خوش نصیبی سے (۲) بد قسمی سے۔  
 قسمت سیدھی ہونا۔ (۱- محاورہ) نصیب یاد ہونا۔  
 قسمت کا بگاڑنا۔ (۱- صفت) تقدیر کا بگاڑنا۔ بد قسمی۔ بد اقبال۔ (۱- صفت)۔  
 قسمت کا بچھنا۔ (۱- صفت) تقدیر کا بچھنا۔ بد قسمی۔ بد اقبال۔ (۱- صفت)۔

قسمت کا بیخ۔ (۱- مذ) تقدیر کا دیا ہوا بیخ۔  
 قسمت کا بگڑنا۔ (۱- مذ) رزق جو تقدیر میں لکھا ہو۔  
 قسمت کا دھنسنی۔ (۱- مذ) اقبال مند۔ صاحب نصیب  
 قسمت والا۔  
 قسمت کا سکندر۔ (۱- مذ) نہایت خوش اقبال۔ بڑا  
 خوش نصیب۔  
 قسمت کا لکھا۔ (۱- مذ) نوشتہ تقدیر۔ مشیت ایزدی۔  
 قسمت کا لکھا پورا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) مقسوم کا لکھا پیش آنا۔  
 مصیبت پیش آنا۔  
 قسمت کا منہ پھیر لینا۔ (۱- محاورہ) قسمت بری ہوجانا۔  
 قسمت کا ہیٹھا۔ (۱- مذ) بد نصیب۔ بد بخت۔ بھروسے۔  
 قسمت کا روٹنا۔ (۱- محاورہ) بد قسمی کی شکایت کرنا۔  
 قسمت کھٹنا۔ (۱- محاورہ) نصیبہ جاکنا۔ خوش اقبال کے دن آنا۔  
 قسمت کی بات۔ (۱- صفت) کئی بات غلط توقع ہو تو  
 کہتے ہیں۔  
 قسمت کے بلیا (دولیا) لپکانی کھیر ہو گیا (۱- مثل) بد نصیبی  
 کچھ کا کچھ کر دیتی ہے۔  
 قسمت کے کچھ کو کون میٹ سکتا ہے۔ (۱- مثل) جو ہونا  
 ہوتا ہے، ہو کر رہتا ہے۔  
 قسمت کی (زمرہ) کھینچی۔ (۱- صفت) مصیبت۔ مشکل۔  
 قسمت کے ہاتھ بات ہے۔ (۱- مقولہ) قسمت کا لکھا ہوتا ہے  
 تقدیر کی تحریر پوری ہوتی ہے۔  
 قسمت لڑنا۔ (۱- محاورہ) تقدیر کا یاد ہونا۔ حالات سازگار ہونا۔  
 قسمت میں ہونا۔ (۱- محاورہ) تقدیر میں ہونا۔ مقدر میں ہونا۔  
 قسمت والا۔ (۱- صفت) خوش نصیب۔ خوش قسمت۔  
 قسمت بیٹھی ہوتا۔ (۱- محاورہ) تقدیر پڑھی ہونا۔  
 قسمت یاد ہونا۔ (۱- محاورہ) تقدیر کا موافق ہونا۔  
 قسمیہ (۱) حق۔ ساجھی۔ یہ (ع-۱) تابع فعل (۱) اذروئے قسم۔ قسم کھا کر۔  
 قسمیہ بیان کرنا۔ (۱- محاورہ) حلف اٹھانا۔ بیان کرنا۔  
 قسمیہ ہونا۔ قسمی قسمی ہونا۔ عہد و پیمان ہونا۔  
 قسمی القلت۔ (ع-۱) سنی۔ قلیت (ع-۱) صفت) سنگدل۔  
 قسمیں۔ (ع-۱) (۱) ریش۔ (۲) ریش۔ (۳) ریش۔ (۴) ریش۔ (۵) ریش۔ (۶) ریش۔ (۷) ریش۔ (۸) ریش۔ (۹) ریش۔ (۱۰) ریش۔  
 قسم۔ (ع-۱) (۱) ریش۔ (۲) ریش۔ (۳) ریش۔ (۴) ریش۔ (۵) ریش۔ (۶) ریش۔ (۷) ریش۔ (۸) ریش۔ (۹) ریش۔ (۱۰) ریش۔

ق س ق ش

قشیر۔ (ع-۱- مذ) جھلکا۔ جمع۔ قشور۔  
 قشیر۔ (ع-۱- مذ) جھلکا۔ جمع۔ قشور۔  
 قشیر۔ (ع-۱- مذ) جھلکا۔ جمع۔ قشور۔  
 قشیر۔ (ع-۱- مذ) جھلکا۔ جمع۔ قشور۔

قصور معاف - (۱۔ روز تیرہ) گستاخانہ گفتگو کی تلافی کے لیے یہ کلمہ مستعمل ہے۔

قصور مند - (ع۔ ف۔ صفت) تقصیر دار۔ گنہگار۔ خطاوار۔

قصور وار - (ع۔ ف۔ صفت) خطا کرنے والا۔ گنہگار۔

قصور ہونا - (۱۔ محاورہ) خطا سرزد ہونا۔

قصصہ - (قص۔ سنہ۔ ع۔ ۱۔ مذ) کہانی۔ داستان (افسانہ حکایت) ذکر بہان (۳، لڑائی جھگڑا۔ قصیدہ۔ بھگڑا۔ جمع۔ تقصیر۔

قصصہ آخر ہونا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا ختم ہونا۔

قصصہ انفضال ہونا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا منسوخ لڑائی ختم ہونا۔ بھگڑا بچنا۔

قصصہ ماندھنا - (۱۔ محاورہ) قصہ اٹھانا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔

قصصہ بڑھانا - (۱۔ محاورہ) قصہ کو طول دینا۔ بات بڑھانا۔

قصصہ پاک کرنا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا طے کرنا۔ فیصلہ چکانا۔ تسل کر ڈالنا۔ مارکر کام تمام کرنا۔

قصصہ تمام کرنا - (۱۔ محاورہ) داستان پوری کرنا۔ کام تمام کرنا۔ مار ڈالنا۔

قصصہ چکانا - (۱۔ محاورہ) جھگڑے کا فیصلہ کر دینا۔

قصصہ چمکنا - (۱۔ محاورہ) بھگڑا ختم ہونا۔ جھگڑا فیصل ہونا۔ غذاب دور ہونا۔

قصصہ تمام ہونا۔

قصصہ چھیڑنا - (۱۔ محاورہ) ذکر شروع کرنا۔ بھگڑے کی بات نکالنا۔

قصصہ حوالہ - (گو) [صفت] داستان گو۔ کہانی کہنے والا۔

افسانہ حوالہ۔

قصصہ خوانی - (کسی) [ع۔ ف۔ ۱۔ مذ] داستان گوئی۔ کہانی سنانا۔

قصصہ رہنا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا قائم رہنا۔

قصصہ زمین بر سر زمین - (ف۔ ن۔ فعل) معاملے کا فیصلہ موقع پر ہونا چاہیے۔

قصصہ طے ہونا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا بچنا۔

قصصہ فیصل ہونا - (۱۔ محاورہ) لڑائی ختم ہونا۔ جھگڑا بچنا۔

قصصہ کرتا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا کرنا۔ بھگڑا کرنا۔

قصصہ کوتاہ - (ف۔ ع۔ تابع فعل) الغرض۔ مختصر یہ کہ۔ پس فقط بس۔

قصصہ کہانی - (۱۔ مذ) افسانہ و حکایت۔ ذکر اذکار۔

قصصہ کہانی ہے - (۱۔ روز تیرہ) بات قابل اعتبار نہیں ہے۔

قصصہ کہنا - (۱۔ محاورہ) مصیبت کی طویل کہانی بیان کرنا۔ پسرائی داستان سنانا۔

قصصہ کھڑا کرنا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا اٹھانا۔ فساد برپا کرنا۔

قصصہ لے بیٹھنا - (۱۔ محاورہ) بے موقع تذکرہ شروع کر دینا۔

قصصہ مختصر - (ف۔ تابع فعل) دیکھیے قصہ کوتاہ۔

قصصہ مول لینا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا خریدنا۔ جان کو روگ لگانا بکھیرے میں پڑنا۔

قصصہ ماندھنا - (۱۔ محاورہ) مصیبت بیان کرنا۔ دکھن اریان کرنا۔

قصصہ پختو ہونا - (۱۔ محاورہ) جھگڑا قائم ہوجانا۔

قتللاق - (قتل۔ لاق) [ع۔ ۱۔ مذ] وہ گرم مقام جہاں بادشاہ اور امیر سردیوں کا موسم گزاریں۔

قتشون - (رق۔ قشون) [ع۔ ۱۔ مذ] فوج کا دستہ۔ فوج - (۲) چھاؤنی۔ کیمپ۔

# ق - ص

قصاب - (قص۔ صاب) [ع۔ ۱۔ مذ] ذبح کرنے والا۔ کانٹے والا

قصاب قصابی - (ع۔ ۱۔ مذ) قصابی کا پیشہ۔ قصابی حادہ قصابیوں

قصاب کے برتنے پر شکر پالنا - (۱۔ محاورہ) دوسرے کے بھروسے پر کوئی کام کرنا۔

قصابیہ - (قص۔ صاب) [ع۔ ۱۔ مذ] قصابی کا پیشہ۔ قصابی حادہ قصابیوں

کا بازار اور قوت [قصاب کی ٹونٹ۔

قصابیہ رقی - (ع۔ ۱۔ مذ) عورتوں کے سر سے باندھنے کا رومال۔

قصاب - (قص۔ صاب) [ع۔ ۱۔ مذ] دھوئی۔

قصابی - (رق۔ صاب) [ع۔ ۱۔ مذ] بدلہ۔ انتقام۔ جنا۔ مکافات۔

(عین کا عوض خون)

قصابیہ - (ق۔ صاب) [ع۔ ۱۔ مذ] قصیدہ کی جمع

قصابی - (ق۔ صاب) [ع۔ ۱۔ مذ] قصابی۔ قصابیہ

قصابی - (ق۔ صاب) [ع۔ ۱۔ مذ] قصیدہ کی جمع چھوٹے شہر

بڑے گاؤں۔

قصابی - (قص۔ با۔ تی) [ق۔ ص۔ با۔ تی] [ف۔ صفت] قصیدہ

سے منسوب۔

قصابیہ - (قص۔ رقیہ) [ع۔ ۱۔ مذ] چھوٹا شہر۔ بڑا گاؤں (صبح بفتح

دوم، جمع۔ قصابیہ۔

قصصہ - (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مذ] ارادہ۔ نیت۔ عزیمت (۲) منشا۔ مطلب

عندیہ۔ مقصد۔ مرضی خواہش۔ (۳) سنی۔ کوشش۔ پیش قدمی۔ اقدام۔

قصصہ رکھنا - (۱۔ محاورہ) ارادہ رکھنا۔ نیت رکھنا۔

قصصہ کرنا - (۱۔ محاورہ) ارادہ کرنا۔ نیت کرنا۔ دل میں اٹھانا۔

قصصہ آ - (قص۔ کن) [ع۔ ۱۔ مذ] تابع فعل، ارادہ کر کے۔ جان بوجھ

کر۔ دیدہ و دانستہ۔

قصر - (ع۔ ۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مذ] محل۔ ایوان۔ جوہلی۔ مکان (۲) کمی۔ تخفیف

اختصار۔ (۳) [صفت] وہ نماز جو حالت سفر میں مقررہ رکعتوں

سے کم پڑھی جائے۔

قصص - (ق۔ قصص) [ع۔ ۱۔ مذ] قصہ کی جمع۔ کہانیاں۔ داستانیں۔

قصور - (ق۔ قصور) [ع۔ ۱۔ مذ] خطا۔ بھول۔ بچک (۲) قصہ کی جمع۔

مخالات۔ ایوان

قصور کرنا - (۱۔ محاورہ) خطا کرنا۔ غلطی کرنا۔

قصیے میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) جھگڑے میں مبتلا ہونا۔

قصیدہ ہونا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا ہونا، فساد ہونا۔

قصوری (اق. بیورمی، اق. ۱- منٹ) قصور، کوتاہی، کمی۔

قصیدہ۔ (اق. صی، وہ) (ع۔ ۱- مذ) نظم کہ وہ قسم جس میں کسی کی تعریف

یا بوجہ اس کے پیلے دولوں معرلوں اور ہر شعر کے آخری مصرعے میں

قافیے کا التزام ہوتا ہے۔ جمع۔ قصائد۔

قصیر۔ (اق. صیر) (ع۔ صفت) پست قدر، کوتاہ۔

## ق - ض

قضا۔ (اق. ضا) (ع۔ ۱- منٹ) محکم، محکم خدا، مشیت الہی، فرمان الہی۔

(۲) تقدیر، قسمت (۳) موت، وفات، آبل (۴) وہ عبادت جو مقررہ وقت

کے بعد ادا کی جائے۔

قضا آنا۔ (۱- محاورہ) موت آنا۔

قضا ادا کرنا۔ (۱- محاورہ) چھوٹی ہوئی نماز پڑھنا۔

قضا بھرنا۔ (۱- محاورہ) قضا ادا کرنا، چھوٹی ہوئی عبادت ادا کرنا۔

قضا پڑھنا۔ (۱- محاورہ) چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا وقت ادا کرنا۔

قضا پھر پھر آتی ہے۔ (۱- محاورہ) موت قریب ہے۔

قضا طینا۔ (۱- محاورہ) موت سے بچ جانا۔

قضا دانگیا ہونا۔ (۱- محاورہ) موت کا پیچھے پڑنا، موت آنا۔

قضا ادا۔ (ع. ق. تابع نفل، اتفاقات، احکام، کیا گیا۔

قضا سر پر سوار ہونا، قضا سر پر کھیلنا۔ (۱- محاورہ) موت کا سر پر شکار

موت سر پر سوار ہونا۔

قضا سے بچا رہ نہیں۔ (۱- محاورہ) موت کا کوئی علاج نہیں ہوتا

سے کوئی نہیں بچتا۔

قضا عند التمر۔ (ع. متعلق نفل) دیکھیے قضا اور۔

قضا کا بیغام۔ (۱- مذ) موت کے آثار۔

قضا کا تہ۔ (ع. اتفاقات۔

قضا کا سامنا۔ (۱- مذ) موت کا سامنا۔ سنتِ خطہ ہے حد پریشانی۔

قضا سر پر بگاڑنا۔ (۱- محاورہ) موت قریب آنا، شامت آنا۔

قضا کا فرقتہ۔ (۱- مذ) موت کا فرشتہ۔ ملک الموت۔

قضا کا (بھینچ، گھیر کر لانا۔ (۱- محاورہ) موت کا پیچھے پڑ کر مرنے کی جگہ

آنا اس وقت کہتے ہیں کوئی پردیس میں مرے

قضا کا مارا۔ (۱- محاورہ) اہل گرفتہ، شامت زدہ۔

قضا کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مرنا، انتقال کرنا۔ (۲) مذہبی فرض کا

وقت مقررہ پر ادا کرنا

قضا کے منہ میں جھونکنا۔ (۱- محاورہ) خطرناک جگہ یا کام کے لیے

بھیجنا۔

قضا لکھی ہونا۔ (۱- محاورہ) موت کا کسی خاص طریقہ اور وقت یا جگہ

بر مقرر ہونا۔

قضا نے گھر دیکھ لیا۔ (۱- محاورہ) موت کے آنے کا راستہ کھل گیا۔

قضا و قدر۔ وہ حکم جو خدائے تعالیٰ نے کائنات کی نسبت روزِ اجل سے لگا

دینے میں تقدیر الہی، خدا کی رضا۔

قضا ہونا۔ (۱- محاورہ) فرائض مذہبی کا وقت مقررہ پر ادا نہ ہونا۔

قضاے الہی سے مرنا۔ (۱- محاورہ) طبی موت سے مرنا۔ اپنی آن سے مرنا۔

قضاے حاجت کرنا۔ (ع۔ ۱- منٹ) پاخانہ پھینا۔

قضاے عمری۔ (ع۔ ۱- منٹ) وہ نماز جو ہر نماز کے ساتھ گزری ہوئی عمر

کی قضا شدہ نمازوں کے عوض پڑھی جائے۔

قضاے کلہ۔ (ع۔ ۱- منٹ) اتفاقات۔

قضاے منبرم۔ (ع۔ ۱- منٹ) نہ ملنے والا حکم۔ وہ موت جو کسی

طرح نہ ملے۔

قضاے ناگہانی۔ (ع۔ ۱- منٹ) اچانک موت۔ خطرناک حادثہ۔

قضاے معلق۔ (ع۔ ۱- منٹ) وہ قضا جو کسی تدبیر سے ٹل جائے۔

قضات۔ (اق. ضات) (ع۔ ۱- مذ) قاضی کی جمع (اردو۔ فارسی میں تشدید

دوم بھی مستعمل ہے۔

قضایا۔ (اق. ضایا) (ع۔ ۱- مذ) قاضی کی جمع۔ جھگڑے، فساد، ہفتے

بچلے (۳) مباحثے (۴) احکام، خبریں۔

قضیب۔ (اق. ضیب) (ع۔ ۱- مذ) کٹی ہوئی شاخ (۲) تیر تلواریں، معصوم

تاس۔ ذکر، تلک۔

قضیبہ۔ (اق. ضبی) (ع۔ ۱- مذ) جھگڑا، کھیلا، فساد، بحث، تکرار۔

(۲) کالش، مقدمہ، جملہ فقرا، عبادت کا کھڑا جمع و قضایا۔

قضیبہ اٹھانا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا کھڑا کرنا۔

قضیبہ باک ہونا۔ (۱- محاورہ) جھگڑاٹے ہونا۔

قضیبہ چھانا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا شاننا۔

قضیبہ کرنا۔ (۱- محاورہ) جھگڑا کرنا، تکرار کرنا۔

قضیبہ مول لینا۔ (۱- محاورہ) دوسرے کے جھگڑے میں پڑنا، پرانی بلا لینا۔

قضیبے میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) جھگڑے میں پڑنا

قضیبہ نامر قضیبہ۔ (ع۔ ۱- مذ) وہ معاملہ یا مقدمہ جو مرضی کے

خلاف ہو۔

## ق - ط

قط۔ (ع۔ ۱- مذ) تراشا، کاٹا، تلمک، لوگ کاٹنا۔

قطل دینا۔ قطل رکھنا۔ قطل لگانا۔ (۱- محاورہ) قلم کی لوگ قطل گیر پر

رکھ کر کاٹ ڈالنا۔

قطل زن (گیر)۔ (ع۔ ۱- مذ) وہ چپٹی چیز جس پر قلم کی لوگ

رکھ کر کاٹتے ہیں۔

قطار۔ (اق. طار) (ع۔ ۱- منٹ) سیدھی اور لمبی صفت۔ سیر۔ ٹکڑی، رنجبر



**قطع بنانا** - (۱) محاورہ) انداز اختیار کرنا۔ صورت نکل بنانا۔  
**قطع متعلق کرنا** - (ع۔ ۱) مذ) واسطہ چھوڑ دینا۔ ترک ملاقات یا دوستی کرنا۔ لگاؤ نہ رکھنا۔  
**قطع دار** - (ع۔ ۲) صفت) اچھی نکل کا خوش منہکل  
**قطع دائرہ** - (ع۔ ۳) دائرے کا وہ حصہ جو دتر اور کسی قوس سے محیط ہے  
**قطع راہ** - (ع۔ ۴) مذ) راہ ٹھکانا۔ سفر کرنا۔  
**قطع رحم** - (ع۔ ۵) مذ) عزیزوں سے تعلق توڑ دینا۔  
**قطع سخن** - (ع۔ ۶) مذ) بات کا ٹھکانا۔  
**قطع کرنا** - (۱) محاورہ) کاٹنا۔ جراثیم مارنا۔ صفحہ ٹھکانا۔  
**قطع کلام کرنا** - (۱) محاورہ) بات کا ٹھکانا کسی کی بات کے درمیان بولنا۔  
**قطع مسافت** - (ع۔ ۷) مذ) راستہ طے کرنا۔  
**قطع نظر** - (ع۔ ۸) تاجن فعل) (۱) سوا۔ اس کے سوا۔ بجز۔ (۲) اس پر بھی تاہم بہر صورت۔  
**قطع و مجریدہ** - (ع۔ ۹) مذ) کاٹ۔ چھاٹ۔ تراش خراش کڑویت۔  
**قطع ہونا** - (۱) محاورہ) (۱) کاٹنا۔ ترشنا۔ کپڑے کا چھٹا جانا (۲) بسر ہونا کڑونا (۳) فیصلہ ہونا۔  
**قطعاً** - (قط۔ عین) (ع۔ ۱۰) تاجن فعل) اصلاً۔ برگز۔ ذرا بھی۔ بالکل۔  
**قطعات** - (ع۔ ۱۱) مذ) قطع کی جمع۔  
**قطوعہ** (قط۔ ع) (ع۔ ۱۲) مذ) (۱) ٹکڑا حصہ۔ (۲) چوزہ۔ (۳) زمین کا ٹکڑا  
 خطہ (۴) نظم کی وہ قسم جس میں کوئی ایک چیز بیان کی جاتی ہے۔ اس میں مطلع نہیں ہوتا۔ اور کم سے کم دو شعر ہوتے ہیں بعض قصائے نزدیک بالفتح بھی ہائز ہے۔  
**قطوعہ بند** - (ع۔ ۱۳) مذ) دو یا زیادہ مسلسل اشعار جن میں کوئی خاص بات بیان کی گئی ہو۔  
**قطعی** - (قط۔ ع) (ع۔ ۱۴) مذ) ناطق۔ کامل۔ آخری پروردگار کامل۔ (۲) عز و جبر۔ یقینی۔ واقعی۔  
**قطعی گز** - (ع۔ ۱۵) مذ) وہ گز جس سے کپڑا ناپ کر قطع کرتے ہیں۔  
**قطعیات** - (ع۔ ۱۶) مذ) قطعیت کی جمع (۲) وہ امور جن پر شک و شبہ نہ ہو۔  
**قطعیہ** - (قط۔ منہ) (ع۔ ۱۷) مذ) (۱) اصحاب کہف کے کٹے کا نام (۲) کھجور یا کھجور سے کی گھٹل پر کی باریک جلی (۳) آکنائیہ (۴) بہت چھوٹا۔ ذراسا نہایت قلیل۔  
**قطن** - (قطن۔ ق) (ع۔ ۱۸) مذ) کپاس۔ روئی۔  
**قطنی** - (ع۔ ۱۹) صفت) روئی کا بنا ہوا۔

سلسلہ ترتیب۔ (اُردو میں بفتح اول غلط العام ہے)۔  
**قطار باندھنا** - (۱) محاورہ) سلسلہ باندھنا۔ پرمانا۔ صفت باندھنا۔  
**قطار بندمی** - (ع۔ ۲) مذ) (۱) صفت) قطار باندھنے کا فعل۔  
**قطار در قطار** - (ع۔ ۳) مذ) متعلق فعل) صفت درصفت۔ منہیں بنا کر۔  
**قطار لڑانا** - (۱) محاورہ) (۲) ایک کھیل (۳) اٹنے لڑانا ٹورنر کے دن۔  
**قطار لہرنا** - (ع۔ ۴) مذ) قطع کی جمع۔ کاٹنے والے۔  
**قطار الطریق** - (ع۔ ۵) مذ) (۱) راستہ کاٹنے والے (۲) راہزن۔ لیڈرے ڈاکو۔ بٹ مار۔

**قطار دائرہ** - (ع۔ ۶) مذ) (۱) دائرہ) (ع۔ ۷) دائرے کا وہ حصہ جو دو نصف قطروں اور قوس کے کسی حصے سے گہر گیا ہو۔  
**قطائیکہ** - (قط۔ ط) (ع۔ ۸) مذ) (۱) جہان۔ (۲) فاضلہ عورت۔ بے عزت عورت۔ کئی۔ بیسوار۔ حرامزادی۔

**قطب** - (ع۔ ۹) مذ) (۱) وہ کیل جس پر کئی پھرتی ہے (۲) زمین کے محور کے دونوں سرے (۳) سردار قوم (۴) مسلمانوں کے عقیدے میں وہ ولی جس کے پیرو کسی نسبی یا علاقہ کا انتظام ہو (صفت) افضل۔ اعلیٰ۔ برگزیدہ جمع قطاب۔

**قطب تارا** - (ع۔ ۱۰) مذ) وہ تارا جو کرہ زمین کے شمالی یا جنوبی سرے پر نظر آتا ہے  
**قطب جنوبی** - (ع۔ ۱۱) مذ) زمین کے محور کا جنوبی سرا۔  
**قطب شمالی** - (ع۔ ۱۲) مذ) زمین کے محور کا شمالی سرا۔  
**قطب مینار** - (ع۔ ۱۳) مذ) وہ مینار جسے سلطان قطب الدین ایک نے دہلی میں مسجد قوت الاسلام کے ساتھ بنوایا تھا۔ یہ رنگ شرح کا بنا ہوا ہے۔ اور اس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں۔  
**قطب نما** - (ع۔ ۱۴) مذ) قطب کی سمت معلوم کرنے کا آلہ۔  
**قطبین** - (قط۔ ایلٹ) صفت) قطب سے منسوب۔ قطب سے متعلق  
**قطبین** - (قط۔ عین) (ع۔ ۱۵) مذ) دونوں قطب۔ قطب شمال اور قطب جنوبی۔  
**قطر** - (ع۔ ۱۶) مذ) (۱) طرف۔ سمت۔ کنارہ (۲) وہ خط مستقیم جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہو اور دونوں طرف محیط تک چلا جائے۔ یہ دائرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جمع اقطار۔

**قطرات** - (قط۔ رات) (ع۔ ۱۷) مذ) قطرہ کی جمع بوندیں۔  
**قطرہ** - (قط۔ رتہ) (ع۔ ۱۸) مذ) (۱) پانی کی بوند (۲) کسی سیال چیز کی بوند۔ جمع قطرات۔  
**قطرہ آنا** - (۱) محاورہ) پیشاب کی بوند ٹپکتا۔ بلا ارادہ پیشاب کی بوند نکل جانا۔

**قطرہ زین** - (ع۔ ۱۹) صفت) آکنائیہ تیز رو۔ تیز رفتار۔  
**قطرہ قطرہ** - (ع۔ ۲۰) تاجن فعل) بوند بوند۔ تھوڑا تھوڑا۔  
**قطرہ قطرہ دریا ہوجانا ہے** - (۱) (ش) تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہوجاتا ہے۔

**قطع** - (ع۔ ۲۱) مذ) (۱) تراش۔ کاٹ (۲) طور۔ طریق۔ ڈھنگ۔ طرز۔ انداز۔ دینے۔

ق. ط. ن. ج. ع.

**قعب** - (ع۔ ۲۲) مذ) (۱) قباب۔ (۲) کسی بات کا ٹھکانہ۔ مطلب۔







قمچی - (ق۔ ق۔ ح۔ جی) (ت۔ ا۔ صفت) (۱) کوڑا یا تانیا نہ۔ چابک۔ ہنڈر (۲) بید۔ جھجھی (۳) قمچی (۴) پتلی اور چابک دار شاخ یا ہنسی۔

قمچی کرتنا - (۱) عمارت (۲) پنچ کشوں کی اصطلاح میں۔ پنچ لڑاتے وقت ہاتھ کو جھٹکا دینا۔

قمچی لگانا - (۱) عمارت (۲) جھجھی مارنا۔

قمر - (ق۔ ق۔ سز) (ع۔ ا۔ صفت) (۱) چاند۔ ماہ۔ مہ۔ تیسری رات کے بعد کا چاند۔ پہلی اور دوسری کے چاند کے ہلال کہا جاتا ہے (۲) کیا گروں کی اصطلاح۔ چاندی۔ نقرہ۔

قمر سیکر۔ قمر شمشائل۔ قمر طلعت۔ (ع۔ صفت) (۱) حسین۔ خوبصورت۔

قمر خدوم۔ (ع۔ صفت) (۱) وہ بڑے لوگ جن کا چاند بھی ظلم ہو۔

قمر داغ۔ (ق۔ ع۔ ا۔ صفت) (۱) ڈاڑھی (۲) تار۔

قمر عقرب۔ (ع۔ صفت) (۱) وہ وقت جبکہ چاند برج عقرب میں آئے یہ وقت نامبارک خیال کیا جاتا ہے۔

قمر طلعت۔ (ع۔ صفت) (۱) حسین۔ خوبصورت۔

قمر حجاب میں آنا۔ (ص مرکب) چاند کا آخری تین تارہوں میں نظر نہ آنا۔ مساکا ماتیں۔

قمر نور۔ (ع۔ صفت) (۱) چاند پر جانے والا۔ چاند کی سیر کرنے والا۔

قمر روشن۔ (ع۔ صفت) (۱) چاند جیسا خوبصورت۔

قمری۔ (ق۔ ق۔ م۔ ری) (ع۔ صفت) (۱) قمر سے منسوب۔ وہ مہینے یا سال جو چاند کی چال کے مطابق قرار دیے گئے ہوں۔

قمری۔ (ق۔ ق۔ م۔ ری) (ع۔ صفت) (۱) قمری، قمری، قمری کا ایک طبقہ (۲) دار پرندہ (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

قلم شجرہ (۱) مذ (اصل کلاہ و شجر تھا) مال اسباب۔ ہمد یا ہمدھنا۔ قلم کھوہ۔ (ت۔ ف۔ ا۔ صفت) (۱) پہاڑ کی چوٹی۔

قلمی۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلمی گری۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلمی گری۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلمی گری۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلمی گری۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلمی گری۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلمی گری۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلمی گری۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلمی گری۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

# ق۔ م۔

قلم۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلم۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلم۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلم۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلم۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلم۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلم۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قلم۔ (ق۔ ل۔ ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

# ق۔ ن۔

قنات۔ (ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قنات۔ (ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قنات۔ (ق۔ ن۔ ا۔ صفت) (۱) مذ (۲) غلام (۳) آدم (۴) مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا ہتھیار۔

قوائے نفسانی - (ع۔ ۱۔ ۱۷) وہ قوتیں جو دماغ سے تعلق رکھتی ہیں۔  
 وہ دس ہیں۔ باطنیہ - شائستہ - شامندہ - ذائقہ - لامشہ - جس مشرق  
 خیال - شکرہ - واہنہ - حافظہ -  
 قواریر - (ع۔ ۱۷) قواریر - (ع۔ ۱۷) قواریر کی نوع۔  
 قواعد - (ع۔ ۱۷) قواعد - (ع۔ ۱۷) قواعد کی نوع۔ دستور - قواعد۔ رسوم  
 ضوابط - رواج - قانون - اصول - (ع۔ ۱۷) قواعد جنگ سے آگاہ سپاہی (ع۔ ۱۷) قواعد تہان کا جنگ  
 سپاہیوں کی وندش - پڑھ -

قواعد دان - (ع۔ ۱۷) قواعد دان - (ع۔ ۱۷) قواعد دان اور درزشوں سے  
 واقف - تجربہ کار اور قواعد جنگ سے آگاہ سپاہی (ع۔ ۱۷) قواعد تہان کا جنگ  
 والا - صرغی - نحوی -

قواعد کرتا - (ع۔ ۱۷) قواعد کرتا - (ع۔ ۱۷) قواعد کرتا  
 قواعد گاہ - (ع۔ ۱۷) قواعد گاہ - (ع۔ ۱۷) قواعد گاہ  
 قوانین - (ع۔ ۱۷) قوانین - (ع۔ ۱۷) قوانین

قوال - (ع۔ ۱۷) قوال - (ع۔ ۱۷) قوال  
 قول گانے والا - یوقان اور حقانی چیزیں گانے والا -  
 قوالی - (ع۔ ۱۷) قوالی - (ع۔ ۱۷) قوالی

قوام - (ع۔ ۱۷) قوام - (ع۔ ۱۷) قوام  
 اصلیت - مادہ - خیر - بنیاد - (ع۔ ۱۷) قوام  
 قوانین - (ع۔ ۱۷) قوانین - (ع۔ ۱۷) قوانین

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

# ق۔ و

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت

قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت  
 قوت - (ع۔ ۱۷) قوت - (ع۔ ۱۷) قوت







کیا اس کو کرنا، لگانا۔ (۱۷- محاورہ) ۱۷) اندازہ کرنا، جانچنا، ذہن میں تولنا، زینیل کرنا، لیگان کرنا، (۳) تصور کرنا، ماننا، تسلیم کرنا۔

قیاس کن رنگستان کن بہار خمر۔ (ف- مثل) موجودہ حالت سے کٹہہ حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔

قیاس مع الفارق۔ (ع- ۱- ف) ایک چیز کو دوسری چیز پر ان میں مناسبت اور مشابہت کے بغیر قیاس کرنا۔

قیاس میں آنا۔ (۱۱- محاورہ) خیال میں آنا، سمجھ میں آنا۔

قیاساً۔ (رق- یا- سن) (ع- تابع فعل) قیاس سے، اندازے سے۔

قیاسی۔ (رق- یا- سی) (ع- صفت) قیاس سے منسوب، خیالی، وہمی۔

قیاسیۃ۔ (رق- یا- میں) (ع- ۱- مذ) مقرر کی جمع۔

قیاسیۃ۔ (رق- یا- ق) (ع- ۱- مذ) ۱) فال، شکون، (۲) ایک علم جس میں توفیق اور علامات سے پھیلا براہِ پیمانہ لیتے ہیں (۳) (اُر) اندازہ، قیاس۔ (۴) عقل، سمجھ۔ دریافت، نشانہ۔

قیافہ دان۔ قیافہ شناس۔ (ع- ۱- ف) اندازہ علم قیافہ سے واقف۔

قیافہ شناسی۔ قیافہ دانی۔ (ع- ۱- ف) (ع- ۱- صفت) چہرہ نشینہ دیکھ کر آدمی کا کردار معلوم کرنا، علم قیافہ سے واقفیت۔

قیام۔ (رق- یا- م) (ع- ۱- مذ) ۱) کھڑا ہونا، ٹھہرا ہوا، سکونت، سیرا۔ (۲) بائیداری، استقامت، ٹکاؤ، (۳) وقوف، اعتماد، استقلال (۴) موجودگی، سلاستی، بہتتی، (۱۴) نمازیں کھڑا ہونا، (۱۵) مسلمانوں کا ایک گروہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں درگاہِ اسلام پر چلا جاتے ہیں تو لوگ اس گروہ کو چاہتے ہیں۔

قیام خیز۔ (۱۱) دربار، (۱۲) دیرینک ٹھہرنے والا، (۱۳) ٹکا ہوا، مقیم، فروکش۔

قیام کرنا۔ (۱- محاورہ) مقام کرنا ٹھہرنا، اُترنا۔

قیامت۔ (رق- یا- مت) (ع- ۱- مذ) (۱) قائم کرنا، کھڑا ہونا، (۲) روزِ محشر، مسلمانوں کے عقیدے میں وہ دن جب مُردے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ اور حساب کتاب ہوگا۔ روزِ حساب روزِ جزا، (۳) (اُر) زمانہ دراز، مدت دراز، (۴) موت۔ قضا، اجل، (۵) الاٹھی بات، (ع- ۱) (۶) بلا، آفت، غضب، قہر، (۷) عفت، (۸) وادلا، (۹) آؤ و زاری، (۱۰) اودھم، شور و غل، (۱۱) (۱۲) کھلی، (۱۳) اندھیر، ظلم، (۱۴) انصافی، (۱۵) مصیبت، سختی، عقاب، (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

کیے لیے خدا کے انصاف پر چھوڑنا۔ (۲) وعدہ کا اظہار مدت مدید پر چھوڑنا۔

قیامت پر قیامت۔ (۱- مذ) (ع- ۱- صفت) مصیبت پر مصیبت، آفت پر آفت، عظم بظلم۔

قیامت پڑنا۔ (۱- محاورہ) ایک لغت مصیبت آنا۔

قیامت پیشہ۔ (پسیدہ) حرام، (ع- ۱- ف) (ع- ۱- صفت) جس کا پیشہ قیامت ڈھانا ہو۔ محبوب کی تعریف۔

قیامت توڑنا۔ (۱- محاورہ) بے حد غصہ کرنا، (۲) بہت ستانا، بہت ظلم کرنا۔

قیامت توڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) آفت آنا، مصیبت نازل ہونا (۲) بچھڑنے لگنا۔

قیامت خرام۔ (ع- ۱- ف) (ع- ۱- صفت) ایسے نازد انداز سے چلنے والا، جس سے قیامت بپا ہو جائے، محبوب کی تعریف۔

قیامت خیز۔ (ع- ۱- ف) (ع- ۱- صفت) قیامت اٹھانے والا۔

قیامت ڈھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ظلم و ستم کرنا، (۲) غضب کرنا، آفت توڑنا، (۳) داویلا بچانا۔

قیامت زرا۔ (ع- ۱- صفت) غضب کا، آفت کا۔

قیامت نزل۔ (ع- ۱- مذ) میدانِ حشر، مصیبت کی جگہ۔

قیامت سے گم نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) غضب کا ہونا۔

قیامت صغریٰ۔ (ع- ۱- مذ) (ع- ۱- صفت) چھوٹی قیامت، یعنی شخصی موت۔

قیامت کا۔ (ع- ۱- صفت) آفت کا، غضب کا، نہایت فتنہ پرداز (۲) نہایت عین۔

قیامت کا آنا۔ (۱- محاورہ) دیر سے آنا، بہت انتظار کرنا، آنا۔

قیامت کا دامن۔ (۱- مذ) (ع- ۱- صفت) دست۔

قیامت کا نمونہ۔ (ع- ۱- صفت) قیامت جیسا۔

قیامت خیزی۔ (ع- ۱- مذ) (ع- ۱- صفت) وہ دن جس میں تمام دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

قیامت کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) غضب کرنا، (۲) عیب کام کرنا، (۳) بگاڑنا۔

قیامت کی بات ہے۔ (۱- مثل) غضب ہے۔ حیرت اور تعجب کے قابل بات ہے۔

قیامت کی گھڑی۔ (۱- مذ) (ع- ۱- صفت) وقت، مصیبت کا وقت۔

قیامت کے آثار۔ (۱- مذ) قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)









میں جھلک۔ بجاری۔ گبر۔ وہی کام کرنے والا۔ ہنر مند۔  
 کارگر جو نا۔ (د۔ محاورہ) را، موثر ہونا را، مفید ہونا را، کاری ہونا۔  
 کار گزار۔ (ف۔ صفت) کام کرنے اور حکم بجالانے والا۔ خدمت گزار، چالاک  
 پس حاجت روا۔  
 کارگزاری۔ (ف۔ ا۔ صفت) را، خدمت گزاری، فرماں برداری، تعمیل یا خدمت۔  
 نوکری میں پوسٹناری۔ مستعدی۔  
 کارگزاری پر پانی پھیر جانا۔ (د۔ محاورہ) اچھے کام کا جلد نہ ملنا۔ اچھا کام خراب  
 کر دینا۔  
 کارگزاری دکھانا۔ (د۔ محاورہ) اچھا کام کرنا۔ مستعدی دکھانا۔  
 کار مردانہ۔ (ف۔ ا۔ مذ) بہادری کا کام۔ جرأت کا کام۔ مردانہ کام۔  
 کار مند۔ (ف۔ صفت) کام کرنے والا۔ خدمت گزار۔  
 کار نامہ۔ (ف۔ ا۔ مذ) را، جنگ نامہ، بہ تمیز بہادری میں، تاریخی واقعات۔  
 یہ منابطہ۔ قانون سلطنت۔ زمین۔ (د۔ غیر معمولی کام۔ یادگاری کام۔  
 کار نمایاں۔ (ف۔ ا۔ مذ) بڑا کام۔ اہم کام۔  
 کاروبار۔ (ف۔ ا۔ مذ) کام کاج۔ دھندا، شغل، لین دین۔ بیج، بیوپار۔  
 کاروباری۔ (ف۔ ا۔ صفت) را، کام کاج کا آدمی، کار بندہ۔ منہتمم۔ منصرم۔  
 رہا تاجر۔ سوداگر۔ یہ مطلب کی بات کرنے والا۔  
 کار سے وارو۔ (ف۔ صفت) مشکل سے۔ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔  
 کار سے نہ شیشے۔ (ا۔ تا۔ فعل) حاصل نہ معمول۔ یونہی۔ فغول۔  
 کاربانک (Carbonic) کاربانک (انگ۔ صفت) کاربن سے منسوب  
 کاربانک ایسڈ گیس (Carbonic Acid Gas) )  
 وہ زہریلی ہوا جو زندہ حیوانات کی سانس اور نباتات سے بکثرت  
 نکلتی ہے اور آگ جلنے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔  
 کاربن (Carbon) (کار۔ بن) (انگ۔ ا۔ مذ) را، خالص کوئلہ۔ کوئلے کی  
 اصل یہ ایک عنصر جو ہرے کوئلے وغیرہ کی تشکیل میں پایا جاتا ہے۔  
 ۱۳، برقی بیسوں میں کاربن کی قلم۔  
 کاربن پلیپر۔ (Carbon Paper) (انگ۔ مذ) وہ کاغذ جس کے  
 ایک طرف مسالہ لگا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کسی تحریر کی نقل  
 مٹاری جاتی ہے۔  
 کاربنکل۔ (Carbuncle) (کار۔ بن۔ کل) (انگ۔ ا۔ مذ) را، ایک قسم  
 کا پھوڑا۔ راج پھوڑا۔ گوشت خرمیڑا، اصل خوش رنگ، بہ شب چراخ۔  
 کاربنین۔ (کار۔ بین) (ا۔ مذ) ایک قسم کی بندوق۔  
 کارپوریشن (Corporation)۔ (کار۔ پور۔ س۔ شین) (انگ۔ ا۔ صفت)  
 را، سندھانتہ جماعت، یہ وہ ہوت یا کمیٹی جو قانوناً کسی کام کے کرنے کی مجاز  
 میں ہو، بڑی یونٹل کمیٹی۔  
 کارپورل۔ (Corporal) (کار۔ پور۔ رل)۔ (انگ۔ ا۔ مذ) را، وفادار  
 فوج کا ایک چھوٹا عہدہ دار۔  
 کارٹوس۔ (کار۔ توس) (ا۔ مذ) را، بارود بھری گولی جسے بندوق میں بھر  
 سر کرتے ہیں (انگ) (Cartridge) ) کارٹل راج کا بگاڑ۔

ہا، زردوز کشیدہ کار۔ وہی زردوزی۔  
 کارچونی۔ (ف۔ ا۔ صفت) گٹکاری۔ زردوزی کشیدہ کاری۔ زردوزی  
 کیا ہوا۔  
 کارخانگی۔ (ف۔ ا۔ مذ) بیج کا کام۔ ذاتی معاملات  
 کارخانہ۔ (د۔ مذ) کام کرنے کی جگہ۔ چیزوں کے بنانے اور تیار کرنے کا مقام۔  
 را، مکان۔ کوٹھی۔ یہ ایک قسم کی اونچی چوکی جس پر بیٹھ کر گوٹھ کناری  
 بُتے ہیں۔ یہ، جلاہوں کا گھر۔ (د۔ محاورہ) کام کاج، معاملہ، حساب۔  
 را، بیخبر۔ خدائی کاروبار۔ خدا کی قدرت۔  
 کارخانہ آہنی۔ (ف۔ ا۔ مذ) خدائی کام۔ معاملات خدا۔ قدرت خدا۔  
 کارخانہ پھیلانا۔ (د۔ محاورہ) کاروبار شروع کرنا۔ کاروبار کو وسعت دینا۔  
 کارخانہ دار۔ (ف۔ صفت) را، کارخانے کا مالک۔ وہ شخص جس کا کاروبار  
 ہو۔ را، خاندان۔ داروغہ یاوری خانہ، میر سامان۔ بکا دل۔  
 کارٹیر۔ (ف۔ ا۔ مذ) لینے کا کام۔ نواب یا بھلائی کا کام، یا ناخیز یا اصطفا  
 نوکی کا کاج۔ کیا دان۔  
 کاروار۔ (ف۔ صفت) عمدہ دار۔ عامل، منصف دار۔ تجربہ کار۔ واقع کار۔  
 کاروال۔ (ف۔ صفت) را، تجربہ کار۔ واقع کار۔ یہ ہنر مند۔ کاریگر یا قدر دان  
 کارشناس۔ معاملہ فہم۔  
 کاروائی۔ (ف۔ ا۔ صفت) معاملہ فہمی۔ واقع کار ہونا۔  
 کارروائی۔ (ف۔ ا۔ صفت) را، کام چلانا۔ اجرائے کار۔ کاربگری۔ یہ کام کاج۔  
 یہ تعمیل۔ کارگزاری۔ برتاؤ۔ یہ قانون۔ منابطہ۔ (د۔ انتظام۔ بندوبست۔  
 اہتمام۔ پیروی) (قانون) زندگی و عدالت۔ رویکاری۔  
 کارروائی کرنا۔ (د۔ محاورہ) را، کارگزاری کرنا۔ کام چلانا یا عمل کرنا۔ تعمیل کرنا۔  
 یہ فرض ادا کرنا۔ یہ مطلب نکلنا، پیروی مقدمہ کرنا۔  
 کارزار۔ (ف۔ ا۔ مذ) لڑائی، جنگ۔ معرکہ۔ پیکار۔  
 کارساز۔ (ف۔ صفت) را، کام بنانے والا۔ کام سنوارنے والا، را، مائع۔  
 تاہی طلق۔  
 کارسازی۔ (ف۔ ا۔ صفت) را، کام کرنا۔ کام بنانا۔ یہ صنعت۔ ہنر۔ حرفت  
 یہ، چالاک۔ عیاری۔ دغا بازی۔ دھوکا بازی۔  
 کارسج۔ (ف۔ صفت) را، دانا۔ صاحب لیاقت، یہ کام سے واقع، معاملہ فہم۔  
 کارشناس۔ (ف۔ صفت) را، آزمودہ۔ تجربہ کار۔ کام جاننے والا۔  
 کارستانی۔ (ف۔ ا۔ صفت) را، شراعت، چالاک، عیاری، سازش۔  
 کارفرما۔ (ف۔ صفت) را، کام لینے اور کام بنانے والا۔ حکم کرنے اور چلانے  
 والا، لیکٹور، را، بادشاہ۔ استاد۔  
 کارکردگی۔ (ف۔ صفت) کارگزاری (Efficiency) اچھا کام۔  
 کارکردہ۔ (ف۔ صفت) آزمودہ۔ تجربہ کار۔  
 کارکن۔ (ف۔ صفت) کام کرنے والا۔ کار بندہ۔ عامل۔  
 کار کا ہدف۔ (ا۔ صفت) را، کام کرنے کی جگہ۔ کارخانہ، جلاہوں کا گھر۔  
 کارگاہ ہستی۔ (ف۔ ا۔ صفت) دنیا۔ جہان۔  
 کارگر۔ (ف۔ صفت) را، موثر۔ سریع۔ تاثیر۔ تیر بہدف، یہ فائدہ مند ہوندا۔

کارٹون (Cartoon) (کار۔ ٹون) (انگ۔ 1) مذاک تعویری کے ذریعے کسی کا خاکہ ارٹانا۔ مزاحیہ تصویر۔  
 کارٹونیٹ (Cartoonist) (کار۔ ٹو۔ نیٹ) (انگ۔ 1) مذاک کارٹون بنانے والا۔  
 کارج (کار۔ رنج، راج) (رس۔ 1) مذاک کام کا راج، تقریب، ہنر مند۔  
 مطلب۔ مقدمہ۔ مدعا، رہی باعث۔ سبب، رہی پیشہ۔ خدمت، شادی کی تقریب۔  
 کارج رچنا (1) محاورہ) شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہونا۔ تقریب کرنا۔  
 کارڈ (Card) (انگ۔ 1) مذاک، پوسٹ کارڈ وہ سرکاری کاغذ جس پر کچھ لکھ کر بذریعہ ٹاک بھیجا جاتا ہے۔ رہی تاش کا پتہ۔ رہی موٹے کاغذ کا ٹکڑا۔  
 کارڈ بورڈ (Card Board) موٹے کاغذ کا تختہ۔ پٹھا۔ گتہ۔  
 کارڈ رائے (Corduroy) (انگ۔ 1) مذاک ایک موٹا سوئی یا محلی پٹا۔  
 کار سپانڈنٹ (Correspondent) (انگ۔ صفت) مضمون نگار۔ نامہ نگار۔  
 کار سپانڈنس (Correspondence) (انگ۔ 1) مذاک خطوط و کتابت۔ مواصلت۔  
 کارک (Cork) (انگ۔ 1) مذاک، ایک درخت کی چھال جس سے بوتلوں وغیرہ کے ٹاٹ بنائے جاتے ہیں۔  
 کارکن (کار۔ کن) (1) مذاک سبب۔ واسطے۔ باعث۔ پیہ۔ خاطر۔ کارنجر۔ (کار۔ کن) (جہ۔ کن) (1) مذاک چھوٹا حوض۔  
 کارندہ (کار۔ ون۔ ڈہ) (1) صفت) صحتی۔ کام کرنے والا۔ (مذ) مزدور۔ کارکن۔ سربراہ۔ پنجر۔ وینٹ۔ مختار۔ گمشدہ۔  
 کارنس (Cornice) (کار۔ نس) (انگ۔ 1) مذاک دیوار کی ننگن۔ منڈیر۔  
 کارن فلور (Cornflour) (1) (کار۔ فن۔ لور) (انگ۔ 1) مذاک ایک قسم کا چاول کا آٹا۔  
 کارنے (1) (ق۔ مذ)۔ سبب۔ کارن۔  
 کارنیوال (Carnival) (1) (کار۔ نی۔ وال) (انگ۔ 1) مذاک کیتھولک عیسائیوں کا جشن۔ جشن عیش و عشرت۔ رنگ ریلیاں۔  
 کاروال (کار۔ وال) (1) (انگ۔ 1) مذاک قافلہ۔ مسافروں کی جماعت۔  
 کاروال سالار (1) (صفت)۔ قافلے کا سردار۔ میر قافلہ۔  
 کاروال سرا (کاروال سرا) (1) (صفت)۔ قافلہ اترنے کی یا ٹھہرنے کی جگہ۔  
 کاری (کار۔ یونی) (1) (صفت)۔ مہیک۔ کارگر۔ کام تمام کرنے والا۔  
 گرا۔ محاری۔ باٹر۔ کارآمد۔ باقاعدہ۔  
 کاری (کاری صبح) (Curry) (انگ۔ 1) مذاک شوربے دار

ترکاری اور گوشت۔ ککولات خوردنی۔ ملا ہوا۔ کارٹھیا شوریات۔  
 کارنیز (کار۔ رنیز) (1) (صفت)۔ مہیک۔ کمپتوں کو پانی دینے کی بندھالی، ہونچوٹی، نہرو بلوچستان میں آبپاشی کا ہی ذریعہ ہے۔  
 کارنیگر (کار۔ رنی۔ گز) (1) (انگ۔ 1) مذاک، ہنرمند۔ پیشہ ور، دستکار۔ کام بنانے والا۔ رہی دستاوردن۔ ماسر رہی کامل، ہوشیار۔ سجدہ والا۔ رہی ہونچ، مہار، دیوار وغیرہ، رہی کام کو خوب سمجھنے والا۔  
 کارگری (کار۔ ری۔ گز) (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ مہیک۔ ہنرمندی۔ دستکاری۔ پیشہ حرفت رہی استاد۔ بہت سی رہی دستاوردن سہیل۔ ناولی۔  
 کارٹا (1) (انگ۔ 1) مذاک کارٹھا۔ جوشاندہ۔  
 کارٹھا (کار۔ ٹھا) (1) (انگ۔ 1) مذاک وہ جوش دی ہوئی گرم دوائیں جو زہر کو پلاستے ہیں۔ انجوائی۔ رہی جوشاندہ۔  
 کارٹھنا (کار۔ ٹھنا) (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ رہی باہر کرنا، رہی کھینچنا، رہی کشیدہ کرنا۔  
 رہی جوش دینا، رہی سوئی کا کام کرنا، رہی اٹھا لینا، رہی انتخاب کرنا، رہی نقدی کھینچنا۔ رہی موقوف کرنا، رہی سپٹ کرنا۔ رہی دس نکال دینا، رہی جالی کا سلقہ سینا۔  
 رہی پرے پر ایل پڑنے جانا۔  
 کارٹی (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ تنکا۔ تیلی۔  
 کارٹی کپٹ (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ کڑا کڑا کرٹ۔  
 کاس (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ جینس یا بیری کا تھن۔ رہی جنوبی ہند کے ایک سکتے کا نام۔  
 کاسب (کار۔ سب) (1) (صفت)۔ کسب کرنے والا۔ حج۔ کاسبن۔  
 کاسٹ (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ مہیک۔ کس گھٹاؤ۔ رہی کم دکاست میں مستقل ہے۔  
 کاسٹیا (کار۔ سٹ) (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ ولایتی۔  
 کاسٹ (Cast) (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ ایٹروں کی جماعت جو کسی کیل میں کام کرے۔  
 کاسٹنگ ووٹ (Casting Vote) (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ ووٹ (انگ۔ 1)۔  
 مذاک صدر کا ووٹ۔ راستے فیصل جو دو برابر کے فریقوں میں فیصلہ کرے۔  
 کاسٹرائل (انگ۔ 1) مذاک ہڈی کا تیل جو دست آور ہے۔  
 کاسد (کار۔ سڈ) (1) (صفت)۔ کھوٹا۔ غیر خالص۔ ناقص۔ جس کا راج نہ ہو۔  
 کاسر (کار۔ سر) (1) (صفت)۔ قوٹنے والا۔ حج۔ کاسرین۔  
 کاسرور یا ج (1) (صفت)۔ ریاں کو توڑنے والا۔  
 کاسف (1) (صفت)۔ بڑے۔ پدمتی کے (دن)۔  
 کاسمیکس (Cosmetics) (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ آرائش جمال کی کوشیا۔ غانہ۔ آئین وغیرہ۔  
 کاسنی (کار۔ نی) (1) (صفت)۔ ایک رو کا نام جو سرد اور واضح بخار سے۔ ایک رنگ۔  
 کاسنی رنگ (1) (صفت)۔ سحر خانی، بیلارنگ، بنیشنی۔  
 کاسنڈ (کار۔ سڈ) (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ پالہ۔ بادیا، ہیک کاٹھیک۔  
 کاسنڈ (1) (صفت)۔ دھونسا رہی عام۔ خاصہ۔  
 کاسر باز (1) (انگ۔ 1) (صفت)۔ شہیدہ باز۔ بازی کرنا یا شکار جید باز۔

کاسہ بھر کھانا اور رسا بھر چلنا۔ (اسٹیل) زندگی گزارنا، سپٹ بھر کھانا اور کام توڑا کرنا۔  
 کاسہ پشت۔ (ف۔ صفت) بہت بولنا جس کی کمرنگ گئی ہو، کبڑا، کچھو، پوکتا یا آسمان۔  
 کاسہ چشم۔ (ف۔ ۱۔ مذ) آنکھ کا حلقہ۔  
 کاسہ سر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) سر کا پیالہ۔ کھوپری۔  
 کاسہ گدائی۔ (ف۔ ۱۔ مذ) جھیک کا ٹھیکرا۔ پیالہ۔ پکول۔  
 کاسہ لیس۔ (ف۔ صفت) را، جھوٹے پتھر چلنے والا۔ خوشامدی۔ چاچلوکس۔  
 را، پرتھر پٹیو، فقیر۔ گداگر، جزیں، لاپٹی، بوجھی۔  
 کاسہ گم سون۔ (ف۔ مذ) پیالہ بنانے والا۔ کوڑھ کرکمار۔  
 کاش۔ کاشکے۔ (ف۔ صفت) تمنا اور لاشوں کا کلمہ۔ خدا کرے، کیا اچھا ہوا۔  
 حسرت و خواہش کے موقع پر بولا جاتا ہے۔  
 کاشانہ۔ (ف۔ صفت) (۱۔ مذ) لاچھوٹا سا گھر جو تڑپا ہوا آشیانہ۔ گونسل۔  
 کاشانی۔ (ف۔ صفت) (۱۔ مذ) (۱۔ صفت) ایران کے شہر کاشان کا رہنے والا۔  
 اس شہر سے منسوب را، مونت، ایک عمدہ قسم کی مٹل  
 کاشت۔ (ف۔ ۱۔ صفت) (۱۔ صفت) زمین پر بونی زمین کھڑا  
 کھیت را، موروئی زمین۔ قبضہ زمین۔  
 کاشت کار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) کسان۔ زمیندار۔ کھیتی باڑی کرنے والا۔ مزارع۔  
 آسامی۔  
 کاشت کار باستحقاق حق۔ (ف۔ ۱۔ مذ) موروئی آسامی۔ مستقل۔ آسامی۔  
 کاشت کاری۔ (ف۔ ۱۔ مذ) کھیتی باڑی۔ زراعت۔ تہہ رانی۔  
 کاشت۔ (ف۔ صفت) لویا ہوا۔ جوتا ہوا۔  
 کاشف۔ (ف۔ صفت) (۱۔ صفت) کھولنے والا۔ ظاہر کرنے والا۔  
 کاظم۔ (ف۔ صفت) (۱۔ صفت) غصہ پر جانے والا۔ را، (مذکر) امام موسیٰ رضا  
 کا لقب۔  
 کاغذ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱۔ مذ) قرطاس پتھر را، پرچہ۔ چڑھ۔ سرقہ را، چٹھی۔  
 خط۔ را، (مذکر) نوشتہ۔ تحریر، دستاویز۔ تمسک را، اخبار۔ پرچہ اخبار۔  
 را، (مذکر) روزنامہ۔ اعمال نامہ را، ہندی کاغذ۔  
 کاغذ پتھر۔ را، (مذکر) خط۔ پتھر چٹھی۔ را، دستاویز۔ تحریر۔ سند۔  
 کاغذ پر چڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) درجہ بڑھ کرنا۔ بہی میں لکھنا۔  
 کاغذ سا۔ (۱۔ محاورہ) پتلا۔ باریک۔ نازک۔ نہایت ہلکا اور پتلا۔  
 کاغذ سیاہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ناخوب لکھ کر کاغذ بھرا را، لوسرا، کاغذ زراب  
 کرنا را، کچی بائیں لکھنا۔  
 کاغذ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) را، دستاویز لکھنا۔ تمسک لکھنا، بہ لکھنا را، کوئی چوپڑی  
 کے نام پر لکھ دینا۔  
 کاغذ کھولنا۔ (۱۔ محاورہ) جمید کھولنا۔ عیب ظاہر کرنا۔ عیب تلاش کرنا۔  
 کاغذ کھوٹ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ کاغذ جو پٹاری سالانہ تیار کرتا ہے۔  
 کاغذ کی ناؤ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) رکنا، پتلا یا نڈار چیز۔ فانی۔ کمزور۔ بے اصل بات۔  
 کاغذ کی ناؤ آج نہ ڈوبی کل ڈوبی۔ (۱۔ مثل) بے اصل اور ناپائدار شے

کے وجود کا کچھ اعتبار نہیں۔ بے اصل بات کو قیام نہیں ہوتا۔  
 کاغذ کی ناؤ بھانا۔ (۱۔ مثل) بے یقین اور ناپائیدار کام کرنا۔  
 کاغذ کی ناؤ کتب تک بیٹے گی (۱۔ مثل) دھوٹے سے کام نہیں چلنا۔ ایک  
 نذیک دن قلعی کھل جاتی ہے۔  
 کاغذ کی ناؤ میں کون پارا ترا ہے؟ (۱۔ مثل) ناپائیدار سہارے پر  
 کیا بھروسہ؟  
 کاغذ کے کاغذی گھوڑے دوڑانا۔ (۱۔ محاورہ) جا بجا غلط بھیجنا  
 خط و کتابت کرنا۔  
 کاغذ گیر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) روشن دان جس پر کاغذ لگا دیا جائے تاکہ روشنی بدستور  
 دے مگر جو خوب اور سرد ہوا کرے میں نہ آئے۔  
 کاغذ گرہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) کاغذ بنانے والا۔  
 کاغذ نکاح۔ (ف۔ ۱۔ مذ) نکاح نامہ۔ کابین نامہ۔  
 کاغذات۔ (ف۔ صفت) (۱۔ مذ) کاغذ کی جمع۔  
 کاغذی۔ (ف۔ صفت) (۱۔ مذ) (۱۔ صفت) کاغذ بنانے یا بیچنے والا را، کاغذ  
 کا بنا ہوا را، ہوناک۔ پتلا را، (مذکر) دفتر را، ایک قسم کا میو۔  
 را، سفید کوہ ترے، دریائی جانور۔ (ف۔  
 کاغذی اخروٹ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) تیلے جھیکے دار۔ اخروٹ۔  
 کاغذی بادام۔ ایک قسم کا باریک چھلکے والا بادام۔  
 کاغذی پیر بن۔ (ف۔ ۱۔ مذ) کاغذی پوشاک جو ایران میں خرابی لوگ پہن کر  
 بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ (مراوی) حاجی اوری بے چارگی۔  
 کاغذی ثبوت۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱۔ صفت) تحریری ثبوت۔  
 کاغذی میوں۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا میوں جس کا جھلکا بہت پتلا ہوتا ہے۔  
 کاف۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ایک حرف تہی کا نام ہے کاف تہی جی کہتے ہیں دیکھئے کی۔  
 کاف عجیبی۔ کاف فارسی۔ کاف بیروت عربی میں تہی ہوتا۔  
 کاف کن۔ (ف۔ ۱۔ مذ) روز ازل کن۔ عربی یعنی موجود ہوا۔ ابتدائے آفرینش  
 کے وقت خدا نے کہا جس چیز کو پیدا کرنا چاہا۔ کن فرمایا۔  
 اور حکم الہی سے سب کچھ پیدا ہو گیا۔ اس لئے کن سے روز ازل مراد ہے۔  
 کاف ولام۔ (ف۔ ۱۔ مذ) شیخی۔ لاف و تکراف۔  
 کاف الزون۔ (ف۔ ۱۔ مذ) قرآن مجید کی دو سورتیں جو ان دوحرفوں سے شروع  
 ہوتی ہیں۔  
 کافر۔ (ف۔ صفت) (۱۔ مذ) را، غیر۔ دشمن۔ بیگناہ۔ (۱۔ صفت) (۱۔ صفت) خدا کو نہ ماننے والا بے دین۔ ملحد را، (مذکر) (مذکر) مشرق۔ محبوب،  
 ایسی ایک قوم جو افسانہ سماں کی سرحد پر رہتی ہے را، افریقہ کے حبشیوں  
 کا ایک فرقہ را، عزیز دشمن۔ بیگناہ۔ منکر۔  
 کافر ادا۔ (ف۔ صفت) (۱۔ مذ) جن کی ادائیں دل پسند ہوں کن یا مشوق۔  
 کافر آواز۔ (ف۔ ۱۔ صفت) عمدہ اور کسلی آواز۔  
 کافرانہ۔ (ف۔ صفت) کافر کا۔ کافر کی طرح کا۔  
 کافر حربی۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ کافر جس کے سبب سے اُوروں میں حربہ واقع  
 ہو۔ اس سے لڑنا پڑے۔





کالا کھیلنا۔ (۱۔ محاورہ) منتر کے اثر سے سانپ کا کھیلنا۔  
 کالا منہ۔ (۱۔ محاورہ) کلمہ شہر و دعائے بد۔ راہ دور ہو۔ منہ نہ دکھا۔  
 پر سے ہٹ رہا۔ وسیہ۔  
 کالا منہ کر جگ دکھلاوے۔ تب لاگن کی لالی پاوے۔ (۱۔ مثل)  
 آدی بڑی تھیل کر اور شفقت اٹھا کر نام روشن کرتا ہے۔  
 کالا منہ کروا (۱۔ روزمرہ) دغ ہوجا۔ ڈور ہوجا۔  
 کالا منہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کام نہ کلا کرنا، عیب لگانا۔ لے عزت کرنا۔  
 پہن چھوٹنا۔ تنک کرنا، نکال دینا، ہڑاکام کرنا۔ زنا کرنا۔  
 کالا منہ کرل کے دانت۔ (۱۔ مثل) سب میں بھڑی ہوئی ہیں۔  
 کالا منہ نیلے ہاتھ پاؤں۔ (۱۔ کلمہ شہر و دعائے بد) جب عورتیں کسی سے ناراض یا  
 بیزار ہوتی ہیں۔ تو یہ کلمہ زبان پر لاتی ہیں۔  
 کالا منہ ہو۔ (دعا ہے بد) ڈوسا ہو۔ بدنام ہو۔  
 کالا منہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہا، منہ کا کالا یا مابا ناروسیا ہونا، بدنام اور سزا ہونا  
 یا انکا لاجانا۔ رہ دغ ہونا۔  
 کالا تگ۔ (۱۔ روزمرہ) ماریا، بی عوزی، ظالم۔ اذرا ساں۔ تکلیف دہ۔  
 کالا تنک۔ (۱۔ مذ) ایک سیاہ رنگ کا تنک جو دلوں میں  
 استعمال ہوتا ہے۔  
 کالا برن مت مار یو ستر ہو جائیں گی رائنڈ۔ (۱۔ مثل) ایسا آدی زمرے  
 جس کے ہاتھ میں ہتھوں کی روزی ہو۔  
 کالے پانی بھیجنا۔ (۱۔ محاورہ) جلا وطن کرنا۔ عبور دیا سے شور کرنا۔  
 کالے پتل چاہنا۔ (۱۔ محاورہ) نہایت ہڑاکام کرنا۔ جڑے کاموں کی سزا  
 منگنا، یا احسان اٹھانا۔  
 کالے تل چہوانا۔ (۱۔ محاورہ) غلام بنالینا۔ مول لے لینا۔ ملیغ و فرماں بردار  
 بنالینا۔ احسان مند بنانا۔  
 کالے سر کا۔ (۱۔ مذ) انسان، بڑی آدم، بڑی جوان آدی۔ گھرو۔  
 کالے سر کا ایک نہ چھوڑا۔ (۱۔ مثل) چھانل عورت کے بارے میں بولتے  
 ہیں۔ یعنی کوئی جوان مرد نہیں چھوڑا۔  
 کالے کا کٹا پانی نہیں مانگتا۔ (۱۔ مثل) را، سانپ کے کاٹے کا پنا حال  
 کالے کے کاٹے کا نہ جتنے نہ منتر ہے۔ را، موڈی، دغا باز اور فریبی آدی  
 کالے کے کاٹے کا منتر نہیں اسے پہنا مشکل ہے۔  
 کالے کوس (کوسوں)۔ (۱۔ مذ) را، دور دراز کا راستہ، جیسے کوس مہیوں  
 اور برسوں کی راہ۔  
 کالے کوسے کھائے ہیں۔ (۱۔ مثل) علوم کا اعتقاد ہے کہ جو کالے کوسے  
 کا گوشت کھاتا ہے اس کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جب بڑھالے  
 میں بھی کسی کے بال سفید نہ ہوں۔ تو ایسے شخص کی نسبت بولتے ہیں۔  
 کالے کی سی لہر آنا۔ (۱۔ مثل) را، کبھی کبھی جنوں کا، بھرا آنا، کبھی کبھی  
 سانپ کی طرح لہر باجال جیلنا۔  
 کالے کے آگے چراغ نہیں جلتا۔ (۱۔ مثل) زبردست کے آگے کچھ  
 پیش نہیں جاتی۔ چونکہ کالے سانپ کی چھکار کے سامنے چراغ

رہ، قلت۔ کمی۔ توڑا۔ (۱۔ سیاہ۔ کالا، ری، وصف) کہنہ۔ پرانا۔ نای۔  
 مشہور۔  
 کال بجز۔ (۱۔ صفت) بہت دنوں کی پڑی ہوئی بجز زمین۔  
 کال پڑنا۔ (۱۔ صفت) را، قحط ہونا، خشک سالی ہونا، را، تھوڑا ہونا۔ کسی ہونا۔  
 توڑا ہونا۔  
 کال۔ ٹین۔ (۱۔ کالٹین)۔ (۱۔ صفت) نہایت کالا۔ جیشی۔ کالا۔  
 کال جواری۔ (۱۔ مذ) نای جوڑے باز۔ بڑا بھاری جواری۔ نای قمار باز۔  
 کال کا ٹوٹا۔ (۱۔ صفت) قحط زدہ۔ مجھو کا کنگال۔  
 کال کا مارا سب جگ لہرا۔ (۱۔ مثل) مجھو کا مارا نہیں پینتا۔ موت کا  
 مارا نہیں پینتا۔  
 کال کر جانا۔ (۱۔ محاورہ) مرجانا۔ انتقال کر جانا۔ گزر جانا۔  
 کال کوٹھڑی۔ (۱۔ صفت) را، اندھیری، کوٹھڑی، رو، تیز تہائی۔  
 کال کے ہاتھ کمان، نہ بڑھا چکے نہ جوان۔ (۱۔ مثل) ظالم آدی یا تو  
 کے ہاتھ سے کسی کو پناہ نہیں۔  
 کال آنا۔ (۱۔ محاورہ) موت کا وقت آنا۔  
 کالا۔ (۱۔ کالا)۔ (۱۔ صفت) را، سیاہ۔ اسو، را، مذ) کالے رنگ کا آدی۔  
 سیاہ نام پر سانپ۔ ناگ۔ ماریا۔  
 کالا آدی۔ (۱۔ مذ) حقارت، را، دین آدی۔ نیٹو، را، جیشی۔ افریقہ کا آدی۔  
 کالا بال۔ (۱۔ مذ) موٹے زار۔ جھانٹ کا بال، کنڈی، ناچیز۔ ادنیٰ اور  
 حقیر شے۔  
 کالا جھٹ۔ (۱۔ صفت) بہت زیادہ کالا۔ نہایت کالا۔  
 ازحد سیاہ۔  
 کالا پانی را، جزائر انڈیا میں جہاں ہندوستان سے عمر تیدی جیسے جاتے تھے  
 را، عبور دیا سے شور۔ عمر تید۔ جس دوام پر سمندر کا پانی تریاہ  
 نظر آتا ہے۔  
 کالا پہاڑ۔ را، کوہ سیاہ جو پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، را، جانا، آدی۔  
 نیل، را، انسان کا سر۔ سیس، را، ناگوار طبع۔ اجیرن۔ آفت۔ ممیبت۔  
 کالا تل۔ (۱۔ مذ) خال سیاہ (۲) کبھی سیاہ۔  
 کالا چور۔ (۱۔ مذ) نای چور۔ بڑا بھاری چور، را، چوروں کا سردار، را، معلوم  
 الام۔  
 کالا دانہ۔ (۱۔ مذ) سپندر۔ ہرل۔ عورتیں نظر بد کے دفعیہ کے لیے اس کو  
 جلاتی ہیں۔  
 کالا دیو۔ (۱۔ مذ) کنڈی، بہت کالا آدی۔ قوی، سیکل آدی۔  
 کالا زیرہ۔ (۱۔ مذ) ایک قسم کا خوشبودار زیرہ۔ زیرہ سیاہ۔  
 کالا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) سیاہ کرنا، را، کاغذ لکھنا، را، بیٹل کرنا۔  
 کالا کلوٹا۔ (۱۔ صفت) نہایت کالا۔ جیشی۔  
 کالا کوٹا۔ (۱۔ مذ) بڑا کوٹا۔ پناہ کوٹا۔ کاگ۔  
 کالا کوٹا کھایا ہے۔ (۱۔ محاورہ) دیکھیے، کالے کوسے کھائے ہیں۔  
 کالا کوٹک۔ (۱۔ صفت) نہایت سیاہ کالا کلوٹا۔ کالا جھیک۔

کالونی (Colony) (کا۔ لونی، ڈانگ)۔ ۱۔ مہنت کا، نمیشہتی۔ نوآبادی۔  
 ۲۔ کسی نئی جگہ بیرونی لوگوں کی آبادی جن کا سیاسی تعلق اپنے وطن سے ہو۔  
 کالونے (کال۔ وے) [ونی۔ ۱۔ مذ۔ جمع مؤنث۔]  
 کالی۔ (کا۔ لی، ۱۔ ۷۔ صفت) [کالا کی تائینث۔ سیاہ کالے رنگ کی۔ اسود  
 بہ۔ ۲۔ مہنت] ایک دیوی کا نام جس کا رنگ سیاہ ہے۔ ڈرگا۔ کالگا۔  
 ہاشیوی کی استری چارتی۔ ہی روشنائی (رق)  
 کالی آندھی (۱۔ مہنت) وہ آندھی جس کے گرد سے اندھرا اچھا ہائے۔  
 کالی آنکھ۔ (۱۔ مہنت) سیاہ آنکھ جو خوبصورتی کی دلیل ہے۔  
 کالی بلی کالی راست کارنے والے تیری عمر دراز۔ ۱۱۔ مثل) خوب بات کہینچا  
 کالی بھیر۔ (۱۔ مہنت) پاجی۔ بدنام۔ بد معاش (رنگ) (Black Sheep)  
 کالی بولا۔ (۱۔ مہنت) ان نہایت کالی پٹرین۔ بختی۔ پچھلا پی ہوسنت مصیبت پتا۔  
 بہ کالی اور بد صورت عورت۔  
 کالی سیلی آنکھیں کرنا۔ اصل مجاورہ ہے۔ نیلی سیلی آنکھیں کرنا بڑے خستے کا  
 اظہار کرنا۔  
 کالی جمعرات۔ (۱۔ مہنت) وہ دن جو مقرر نہ ہو۔ فرضی روز و شب۔ وعدہ ٹالنے  
 کے موقع پر بولا جاتا ہے۔  
 کالی دیوی۔ (۱۔ مہنت) کالی دیوی۔ ڈرگا۔ کارکا۔ بدنام۔ انیوں۔  
 کالی زبان۔ (۱۔ مہنت) سیاہ زبان۔ جس کے متعلق علوم کا اعتقاد ہے کہ اس کی  
 بددعا جلا کر ترقی ہے۔  
 کالی زیری۔ ایک قسم کا سیاہ زیرہ۔  
 کالی ستیلا۔ کالی ماما۔ (۱۔ مہنت) چمپک جس کے والے سیاہ ہوتے ہیں۔  
 کالی کلونی۔ (۱۔ مہنت) نہایت سیاہ۔  
 کالی کھانسی۔ (۱۔ مہنت) ایک قسم کی کھانسی جو اکثر بچوں کو ہوتی ہے۔  
 کالی گھٹا۔ (۱۔ مہنت) ابر سیاہ۔ سیاہ یا دل۔  
 کالی گھٹا ڈوڑھی، جھوری برسوں مار۔ (۱۔ مثل) جو شی خورے اور کجاس نہیں  
 سوتے وہی کام آتے ہیں۔  
 کالی مٹی۔ (۱۔ مہنت) جو مٹی کی چکنی مٹی جو پینے پونے کے کام آتی ہے۔  
 کالی مزج ملا۔ مہنت) سیاہ مزج بہ نسبتیہا، کمی۔ گیس۔  
 کالی مانڈی سر پر دھرتا۔ (۱۔ مجاورہ) بدنام ہونا۔ رسوا ہونا۔ رسوائی  
 اختیار کرنا۔  
 کالی سٹر۔ (۱۔ مجاورہ) بلیہ سیاہ بھوٹی بٹر۔  
 کام۔ (۱۔ مہنت) راجا، خواجہ اشرفی نسا، شہوت، مہنت ہی، کاٹنا۔ اچھا مرضی۔  
 کام دیوی۔ (۱۔ مہنت) خواجہ اشرفی نسا کی کا دیوتا ہے توت باہ۔ خواجہ اشرفی۔  
 کام۔ (۱۔ ۷۔ ۱۔ مذ) [کام۔ کاج۔ کاروبار۔ دھندا۔ مثل، ۲۔ بیمار۔ میں دن۔  
 بیچ۔ بیوپار۔ (۱۔ مہنت) جو حکومت کردار میں بہتر پیشہ۔ دستکاری و مثل۔  
 مصروفیت، ۳۔ مطلب۔ واسطہ۔ تعلق۔ غرضی، ۴۔ جامع۔ جماعت۔  
 دہ روزگار۔ نوکری، خدمت، روز مزدوری۔ کاروباری۔ نقاشی، مہنتی۔  
 ڈوڑھی، ۵۔ چالاک۔ شوخیاری۔ معاشی، ۶۔ ضرورت۔  
 کام آٹھنا۔ (۱۔ مجاورہ) ضرورت پیش آنا۔ غرض اٹھنا

نہیں جلتا۔ اس سبب سے یہ مجاورہ بن گیا کہ زور اور کے سامنے کمزور  
 کی نہیں چلتی۔  
 کالے کے منہ میں آنکلی دینا۔ (۱۔ مثل) ایسا کام کرنا جس میں جان کا خطرہ  
 ہو۔ جان بوجھ کر خطرہ مول لینا۔  
 کالے منہ اندھیرے۔ (۱۔ تاجہ فصل) نہایت سویرے فورے تڑکے سے  
 پیدے علی الصبح۔  
 کالانعام۔ (کل۔ آن۔ عام، ۱۔ ۷۔ صفت) [چوپائوں کی مانند۔ بیوتوت۔  
 کالہڈ۔ (کال۔ لڑ) [ف۔ ۱۔ مذ] [قاب۔ ڈھاچ۔ ڈھاچا پاجی۔ تن بلن  
 سر پر۔ ہی ساچا۔ وہ اوزار جس میں کوئی چیز ڈھالیں۔  
 کالہڈوت (کال۔ لڑوت) [ڈ۔ ۱۔ مذ] دیکھیے کالہڈ ہر جوتے کے اندر چھینا  
 کرا سے اٹھانے والی کلوی۔  
 کالہڈوت چڑھانا۔ (۱۔ مجاورہ) جوتیا تیار کر کے اس کے اندر کلوی کا بنا ہوا پاؤں  
 رکھنا۔ تنگ جوتے کو قاب پر چڑھ کر ٹھیک کرنا۔  
 کالج۔ (College) (کا۔ لج) [انگ۔ ۱۔ مذ] [بڑا مدرسہ۔  
 مدرسہ العلوم۔ ذرا علوم جو کسی یونیورسٹی سے ملتی ہو یا کسی خاص پیشے کی تعلیم گاہ  
 ہی جیس۔ انجمن جمیبت۔  
 کالجیٹ۔ (Collegiate) (کا۔ لج) [انگ۔ ۱۔ مذ] [کالج کا طالب علم۔  
 کالج میں تعلیم پانے والا۔  
 کالڈ۔ (Collar) (کا۔ لڈ) [انگ۔ ۱۔ مذ] [کنٹھا۔ گلوبند۔ پٹیا۔  
 حلقہ۔ طوق گردن بوقتیش میں کمر بان سے اوپر کا ڈانڈ کر کپڑا جو خوبصورتی  
 کے لیے لگاتے ہیں۔  
 کالرا۔ (Cholera) (کال۔ را) [انگ۔ ۱۔ مذ] [ہیمینہ۔  
 کالعدم۔ (کل۔ ع۔ کم) [ع۔ صفت] [معدوم۔ ناپید۔ گویا کہ ہے  
 ہی نہیں۔  
 کالک۔ (کا۔ لک) [ع۔ ۱۔ مہنت] [سیاہی، بڑوئی، عیب۔  
 کالک کا ٹیکسا۔ (کا۔ لک) [ع۔ ۱۔ مذ] [سیاہی کا داغ۔ دھبہ۔ ریا، بدنامی۔  
 ذلت۔  
 کالک کا ٹیکسا گھٹنا۔ (۱۔ مجاورہ) بدنام ہونا۔ رسوا ہونا۔ داغ لگنا۔ ذلت  
 نصیب ہونا۔ کالک گھٹنا۔  
 کالگا۔ (کال۔ گا) [ع۔ ۱۔ مہنت] [کالی دیوی۔ ڈرگا۔ کالے رنگ  
 کی دیوی جسے بندو پوجتے ہیں۔  
 کالم۔ (Column) (کا۔ لم) [انگ۔ ۱۔ مذ] [اصفہ کا حصہ (ضوفا)  
 اخبار کا)۔ خند۔ یہ فون کا ایک دستہ۔  
 کالعدم۔ (کل۔ ع۔ کم) [ع۔ صفت] [دیکھیے کالعدم۔  
 کالانشی فی الخیر۔ (کل۔ ع۔ کم) [ع۔ صفت] [تھ۔ لیل۔ ع۔ جز] [ع۔ صفت] [تھ  
 کی نیکر کی طرح پائڈار۔  
 کالنگٹا۔ (کا۔ لنگ) [ع۔ ۱۔ مذ] [تھ کے وقت کا ایک داگ۔  
 کالوا۔ (کال۔ وا) [ع۔ ۱۔ مذ] [چٹنہ۔ ندی۔ نہر۔  
 کالواٹ (کال۔ واٹ) [ع۔ ۱۔ مذ] [ہرن (نر)]

کام چلانا - (۱) محاورہ) مطلب برآری کرنا یا کارروائی کرنا یا بندوبست کرنا۔  
 یہ کاروبار چلانا رکھنا یہ انتظام کرنا۔ یہ وقت سے کام نکالنا۔  
 کام چلاؤ - (۱) صفت) ضرورت پوری کرنے کے لائق - گزارے کے  
 قابل۔

کام چلنا - (۱) محاورہ) مطلب نکلنا یہ کارروائی ہونا یہ گزار ہونا۔ بسر ہونا۔  
 یہ ہاتھ تنگ نہ ہونا رہ، کاروبار جاری رہنا۔  
 کام چمکنا - (۱) محاورہ) کاروبار ترقی پر ہونا۔ کام کاروائی پر ہونا۔  
 کام چھوٹ ہو جانا - (۱) محاورہ) کام خراب ہو جانا۔  
 کام چور - (۱) صفت) سست۔ قابل۔ کام سے دل چرانے والا۔ نکمّا۔

کام چور نوالے حاضر - (۱) مثل) سست اور قابل آدمی جو کام تو نہ کرے مگر کھانے  
 پر آجھو جو ہو۔

کام چھیڑنا - (۱) محاورہ) کوئی کام جاری کرنا۔ عمارت شروع کرنا۔  
 کام دار - (۱) کا مدار (۱) صفت) دار کارکن۔ جدید دار یہ مزدوری یا زری کا کام  
 کیا ہوا۔ (جیسے کا مدار جو بقی)

کام دانی (کا دانی) - (۱) مثل) وہ بیشی کپڑا جس پر سونے چاندی کے تاروں  
 سے بوٹے کاٹھے کیے ہوں۔

کام ڈولھا ڈھن ہی سے پڑتا ہے - (۱) مثل) آپس کا معاملہ آپس میں  
 ہی میں طے ہوتا ہے۔

کام دھندا - (۱) مذ) کاروبار۔ کام کاج - مثل۔  
 کام دیکھنا - (۱) محاورہ) کام کی پڑتال کرنا۔ معائنہ کرنا۔

کام دینا - (۱) محاورہ) کام آنا۔ حاجت روائی کرنا۔ یہ ہندہ یا خدمت سپرد  
 کرنا۔ یہ کام سپرد کرنا، کوئی کام نہانے کو دینا۔ (یہ ہندو دینا۔

کام دھننا - (۱) محاورہ) کام قابو میں آنا۔ کام اٹھا اور کبھی ہونا۔  
 کام ڈالنا - (۱) محاورہ) پال ڈالنا، سرور کار ہونا۔

کام رکھنا - (۱) محاورہ) غرض یا مطلب ہونا۔ تعلق ہونا۔  
 کام لڈنی - (۱) ص - اصفت) شہوت انگیز، حیدت، من موہنی یا خوبصورت۔  
 کام رہ جانا - (۱) محاورہ) کام پورا نہ ہونا۔

کام رہنا - (۱) محاورہ) سرور کار رہنا۔ واسطہ رہنا۔  
 کام سپرد ہونا - (۱) محاورہ) کام حوالے ہونا۔

کام سنکھانا - (۱) صفت) کوئی ہنر سیکھنا۔

کام غنوارنا - (۱) صفت) بگڑے ہونے کا کوٹھیک کرنا۔  
 کام سے جاتے رہنا - (۱) محاورہ) مطلب کا نہ رہنا۔ قابل استعمال نہ رہنا۔

یہ موتوف ہو جانا، نامور ہو جانا۔  
 کام سے کام رکھنا - (۱) محاورہ) کام سے کام ہونا۔ (۱) محاورہ) اپنے مطلب سے مطلب  
 اور غرض سے غرض ہونا یا رکھنا۔

کام کا - (۱) صفت) کارآمد۔ معنی مطلب۔  
 کام کا آدمی - (۱) صفت) اچھے طرح کام کرنے والا آدمی، جو ہوشیار اور تجربہ کار  
 آدمی۔

کام آخرو ہونا - (۱) محاورہ) کام پورا ہونا، مرنا۔ دم نکلنا۔ قریب مرگ ہونا۔  
 کام آنا - (۱) محاورہ) کام پورا ہونا، مفید مطلب ہونا، یہ مناسب جگہ خراج  
 ہونا، یہ مددگار ہونا۔ سہارا دینا، یہ مارا جانا۔ لڑائی میں ہلاک ہونا۔  
 یہ خراج ہونا، استعمال میں آنا۔ یہ نیک لگنا۔ ٹھکانے لگنا۔

کام اڈکار رہنا - (۱) محاورہ) کام گزار رہنا۔  
 کام اٹکانا - (۱) محاورہ) کام روکنا یا کام میں رکاوٹ ڈالنا۔

کام اٹھا رکھنا - (۱) محاورہ) کام ملتوی کرنا۔ کام باقی رکھنا۔  
 کام اٹھا لینا - (۱) محاورہ) کام اپنے ذمے سے لینا۔ برداشت کرنا۔

کام اڈھورا رکھنا - (۱) صفت) کام کو نامکمل رکھنا۔  
 کام بٹانا - (۱) محاورہ) کسی کام کی تعظیم دینا۔ کام سکھانا۔ کام پر لگانا۔

کام بٹانا - (۱) مثل) کام میں شریک ہونا۔ مدد کار ہونا۔  
 کام برآنا - (۱) محاورہ) مراد پوری ہونا۔ مقصد حاصل ہونا۔

کام بڑھانا - (۱) محاورہ) کام بڑھانا۔ کام ختم کرنا، یہ کام کو طول دینا، یہ کام کو  
 ترقی دینا۔ بڑھانے کو وسعت دینا۔

کام بگاڑنا - (۱) محاورہ) کام خراب کرنا کسی کے کام یا مطلب میں خلل ڈالنا۔  
 یہ سناکھو دینا۔ بے عزتی کرنا۔

کام بگڑنا - (۱) محاورہ) کام خراب ہونا، یہ معاملہ بگڑنا، یہ بات میں فرق آنا۔  
 یہ کام میں فرق آ جانا، یہ نوکری کا چھوٹ جانا، دیوانہ نکل جانا۔

کام بنا رہنا - (۱) محاورہ) قابل کیا اور ہونا۔ زمانہ کا حسب مراد رہنا۔ دور  
 دورہ رہنا۔

کام بننا لینا - (۱) محاورہ) مطلب حاصل کر لینا۔  
 کام بنانا - (۱) محاورہ) کام درست کرنا، یہ کوئی چیز بنانا، یہ مطلب نکلانا۔  
 مقصد پورا کرنا۔ ارمان پورا کرنا، یہ کام تیار کرنا۔

کام بن جانا - (۱) محاورہ) کام بننا۔ (۱) محاورہ) مطلب پورا ہونا۔ مراد برآنا۔ کامیابی  
 حاصل ہو جانا، کام درست ہونا۔

کام بھگتانا - (۱) محاورہ) کام پورا کرنا۔ کام نشتانا۔ کام کو انجام دینا۔  
 کام پر جانا - (۱) محاورہ) کام کرنے جانا۔ مزدوری پر جانا۔

کام پر لگانا - (۱) محاورہ) کسی خدمت پر مقرر کرنا، یہ کسی کام کے سیکھے میں مصروف  
 کرنا، یہ مزدوری پر لگانا۔

کام پر دیدہ لگنا - (۱) محاورہ) کام میں ہی لگنا۔  
 کام پڑا رہنا - (۱) محاورہ) کام نامکمل نہ ہونا۔

کام پڑنا - (۱) محاورہ) تعلق ہونا۔ غرض ہونا۔ واسطہ پڑنا۔ پالا پڑنا۔  
 کام پینا یا سے چام پینا یا نہیں - (۱) مثل) انسان کی قدر اس کے کام سے  
 ہوتی ہے نہ سے چم سے کسی کو کیا پیار۔

کام تہینا - (۱) صفت) کام چھوڑ دینا۔ دھندا چھوڑ دینا۔ ترک کر دینا۔  
 کام نقد میر پر چھوڑنا - (۱) محاورہ) کام کو اللہ کے حوالے کرنا۔

کام تمام کرنا - (۱) محاورہ) کام پورا کرنا یا کام کو پہنچانا۔ یہ مار ڈالنا۔  
 یہ ہلاک کر دینا۔

کام چڑھانا - (۱) محاورہ) کسی کل یا شین وغیرہ پر کام لگانا



کان پڑی کام آتی ہے۔ (۱- نفل) سُنی سُنائی بات کبھی نہ کبھی کام آ  
ہی جاتی ہے۔

کان پکڑ کے اٹھا (نکال) دینا۔ (۱- محاورہ) زبردستی اٹھا دینا یا  
نکال دینا۔ بے عزت کر کے نکال دینا۔

کان پکڑ کے اٹھانا۔ بٹھانا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) کان پکڑ کے کبھی اٹھانا  
اور کبھی بٹھانا۔ شاگردوں کی ایک قسم کی سزا (۲) نہایت مطیع اور  
فرمانبردار بنانا۔

کان پکڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) کان مروڑنا (۲) قائل ہونا۔ آستنا و تسلیم  
کرنا۔ (۳) توبہ کرنا۔ عہد کرنا۔ (۴) اجتناب کرنا۔ پرسہیز کرنا۔ (۵)

پتوں کی ایک طرح کی سزا۔ (۶) عاجزی کرنا۔ (۷) اطاعت کرنا  
(۸) اپنے آپ کو کمتر تسلیم کرنا۔

کان پڑی باندی۔ (لونڈری لپیڑی)۔ نہایت مطیع اور فرماں بردار  
کینز۔

کان پھوٹ جانا۔ کان پھوٹ جانا۔ کان پھوٹے جانا۔ (۱- محاورہ)  
شہر وغل کے باعث پریشان ہونا۔

کان پھڑ پھڑانا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) مستند ہونا۔ (۲) کسی کی آم کا اٹھانا  
ہونا۔

کان پھوٹنا۔ (۱- محاورہ) بہر ہونا۔  
کان پھوڑنا۔ (۱- محاورہ) شہر وغل سے پریشان کرنا۔

کان پیارے تو بالیاں جو رو پیاری تو سالیان۔ (۱- نفل) کسی چیز  
کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے اس کے متعلقات سے محبت  
ہونے کے موقع پر بولتے ہیں۔

کان تک نہ ہلانا۔ (۱- محاورہ) عذر نہ کرنا۔ مان لینا۔  
کان تلے کی چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) بھیدگی بات کہنا۔ راز کی بات کہنا

(۱۲) چھپتی ہوئی کہنا۔ ناگوار بات کہنا۔  
کان تھکانا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) دھیان دینا۔ کان لگا کر سننا۔ کسی بات  
کو توجہ سے سننا۔ (۲) محکم مان لینا۔

کان جھٹانا۔ (۱- محاورہ) کسی سمت آواز کا کانوں کو ناگوار اور  
گراں گذرنا۔

کان چاٹ جانا۔ (۱- محاورہ) بہت بک بک کرنا۔ بہت بولنا۔  
کان دبا کر چلا جانا۔ (۱- محاورہ) بے چون و چرا ایکے چپ چاپ  
چلے جانا۔ دکھ دبا کر چلے جانا۔ سیدھا اور خاموش چلے جانا۔

کان دبا لینا۔ (۱- محاورہ) کوئی بات سن کر چپ ہو جانا۔ عزیز  
بن جانا۔

کان دبائے ہوئے۔ (۱- صفت) چپ چاپ۔  
کان دکھانا۔ کان کا نیل نکھلانا۔ کان مینے سے کان صاف کرنا۔

کان دھر کر۔ (دھر کے) سننا۔ کان دھرنا۔ (۱- محاورہ) غور سے  
سننا۔ دھیان دے کر سننا۔ توجہ سے سننا۔

کان رکھنا (لگانا)۔ (۱- محاورہ) (۱۱) توجہ دے کر سننا (۲) خیال رکھنا۔

کان کڑے جاتے ہیں۔ کثرت شور وغل یا داستان طویل کے سننے  
کان پھٹے جاتے ہیں۔ سے کانوں کا پریشان ہو جانا۔  
کان پھوٹے جاتے ہیں۔

کان کھاڑنا۔ اینٹھنا (اینٹھنا) کھینچنا۔ مروڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) سزا  
دینا۔ ادب دینا۔ گوشائی کرنا۔ ڈھکنا یا باز آنے کسی کام کے نہ کرنے  
کا عہد کرنا یا ستار۔ طنزورہ یا سازش کی کھوٹی مروڑنا۔

کان اُونچے (کھڑے) کرنا۔ (۱- محاورہ) چونکنا ہونا۔ ہوشیار ہونا۔ بدکنا۔  
کان بال۔ بندوں کی ایک قسم جن میں بچے کے بال منڈوانے اور کان  
چھدوانے جاتے ہیں۔

کان بچنا۔ (۱- مذ) (۱- مذ) کان میں ہر وقت آواز آنا یا کسی کے بغیر بیکارے  
اور بے بلائے بول اٹھنا۔

کان بچھانا۔ (۱- محاورہ) شرارت کے لیے گھوڑے کا اپنے کانوں کو  
چھڑھڑانا۔

کان بد مزہ ہونا۔ (۱- محاورہ) سننا ناگوار ہونا۔  
کان بند کر لینا (کرنا)۔ (۱- محاورہ) کان میں روٹی رکھ لینا یا انگلی دے  
لینا یا بے توجہی کرنا یعنی آن سنی کرنا۔

کان بندھنا۔ (۱- محاورہ) کان میں حید ہونا۔ سوراخ ہونا۔  
کان بندھوانا۔ (۱- محاورہ) کان میں چھید کرنا۔ کان چھدوانا۔

کان بہرا کرنا۔ (۱- محاورہ) جان بوجھ کر اپنے آپ کو بہرا بنانا۔ جان  
بوجھ کر بات نہ سننا۔

کان بھر جانا۔ (۱- محاورہ) باتوں سے اکتا جانا۔  
کان بھر لینا۔ (۱- محاورہ) کی طرف بات سن کر اس پر یقین کر لینا۔ کانوں  
میں بسا لینا۔

کان بھرنا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) فیست کرنا۔ چٹلی کھانا۔ لگائی بھجائی کرنا۔  
(۲) بظن کرنا (۳) دوسرے کے دل میں کسی کی طرف سے مل  
ڈالنا۔

کان بہرے ہونا۔ (۱- محاورہ) توجہ سماعت جاتی رہنا۔ غل یا بک بک  
ناگوار ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

کان بہنا۔ (۱- محاورہ) کان سے پیپ جاری ہونا۔  
کان پرجھول نہ چلنا۔ کان پر جھول نہ رہنا۔ (۱- محاورہ)  
(کنایت) (۱۱) کہنا نہ ماننا۔ (۲) بے پروائی کرنا (۳) ڈھٹائی کرنا (۴) بالکل  
بے خبر ہونا (۵) کسی بات کے سننے کا اثر نہ ہونا۔

کان پر سے گولی نکل جانا۔ (۱- محاورہ) کسی صدمے یا آفت سے  
بال بال بچ جانا۔

کان (کانوں) پر ہاتھ دھرنا (رکھنا)۔ (۱- محاورہ) (۱۱) صاف نکال  
کرنا۔ لاطی کا اٹھا کرنا۔ (۱۲) نگر جانا۔ کہہ کر پھر جانا۔

کان پڑنا۔ (۱- محاورہ) سننے میں آنا۔ سنائی دینا۔  
کان پڑی آواز (بات) سنائی نہ دینا۔ (۱- محاورہ) (۱۱) شور وغل  
کے باعث بات سمجھ میں نہ آنا (۲) نہایت شور وغل ہونا۔

کان سے سننا۔ (۱- محاورہ) توجہ سے سننا۔  
 کان سے نکلنا۔ (۱- محاورہ) رکنایت سنی ہوئی بات بھول جانا۔  
 کان کا پردہ۔ کان کے اندر کی باریک شورخ دار چینی جو نہایت باریک اور نازک ہوتی ہے۔  
 کان کا ٹٹنا۔ (۱- محاورہ) کان نرا سننا (۲) مات کرنا۔ بڑھ جانا۔ سبقت لے جانا۔ فریقت رکھنا (۳) دھوکہ دینا۔ فریب دینا۔  
 کان (دکانوں) کا کچا۔ (۱- صفت) دھنسن جو بے سوچے سمجھے ہر ایک بات پر اعتبار کر لے۔ ضعیف الاعتقاد۔  
 کان کا ٹیل۔ (۱- مذ) وہ غلاظت اور کثافت جو کان کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔  
 کان کترنا۔ (کنایت) ایسا ہوشیار ہونا جو دوسرے کو عاجز اور پست کر دے (۲) کسی کام میں اُستادِ کامل ہونے کی جگہ بولتے ہیں۔  
 (دیکھیے کان کاٹنا)  
 کان کرنا۔ (۱- محاورہ) غور سے سننا۔ توجہ سے سننا۔  
 کان کھولنا۔ کان میں سے میل نکلنے والا آر۔  
 کان کھانا۔ کان کھا لینا۔ (۱- محاورہ) بکواس سے دماغ پریشان کرنا۔ ستانا۔ دق کرنا۔ شور وغل کرنا۔ تکلیف دینا۔  
 کان کھینا کی فرصت نہیں۔ (۱- محاورہ) بالکل فرصت نہیں۔  
 فرنا فراغت نہیں۔  
 کان کھڑے رکھنا۔ (۱- محاورہ) ہوشیار رہنا۔ چوکس رہنا۔  
 کان کھڑے کرنا۔ (۱- محاورہ) کان اُٹھکے کرنا۔ چوکنا ہونا۔ ہوشیار ہونا۔ بدگنا۔  
 کان کھل جانا (کھلنا)۔ (۱- محاورہ) چوکنا ہو جانا۔ عبرت ہونا۔ اپنی غلطی سے آگاہ ہونا۔  
 کان کھلنا۔ (۱- محاورہ) مرکب، منصف، ہمزنا۔ ہوشیار ہونا  
 کان کھلے رکھنا۔ (۱- محاورہ) ہوشیار اور چوکنا رہنا۔  
 کان کھول دینا۔ (۱- محاورہ) جتا دینا۔ آگاہ کر دینا۔ ہوشیار کر دینا۔  
 خیر دار کر دینا۔  
 کان کھول کے۔ (۱- تابع فعل) غفلت ڈور کر کے۔ ہوشیار کر کے۔  
 کان کھولنا۔ (۱- محاورہ) کسی بات کے سننے کے لیے کانوں کا متوجہ کرنا۔ (۲) خبردار کرنا۔ ہوشیار کرنا۔ نصیحت کرنا۔  
 کان کے پروے پھینا۔ (۱- محاورہ) شور وغل کی وجہ سے کانوں کو اس قدر مدہم پہنچنا کہ سماعت میں فرق آجائے۔  
 کان کے کیڑے کھا جانا۔ (۱- محاورہ) [کنایت] بکواس۔  
 بہت زیادہ باتیں کرنا۔  
 کان کٹک ہونا۔ (۱- محاورہ) کان بہرا ہونا۔ کان کا بھن بھن کرنا۔

کان گنکار باریں۔ (۱- محاورہ) میں نے صرف سنا ہے۔ بھوٹ سچ کا ذمہ دار نہیں  
 کان لگا کر سننا۔ (۱- محاورہ) توجہ سے سننا۔  
 کان لگانا۔ (۱- محاورہ) دھیان لگا کر سننا (۲) چھپ کر سننا۔  
 کان لگنا۔ (۱- محاورہ) کان تک جانا۔ (۲) یار بننا۔ سہ پڑھنا۔  
 (۳) کان پھوس کرنا۔ سرگوشی کرنا۔ (۴) خبیال ہونا۔ توجہ ہونا۔  
 کان لگے رہنا۔ (۱- محاورہ) سننے کے لیے متوجہ رہنا۔  
 کان لگے ہونا۔ (۱- محاورہ) دھیان لگنا۔ توجہ ہونا۔  
 کان لینا۔ (۱- محاورہ) گوشائی کرنا۔ کان ایٹھنا۔  
 کان مانوس ہونا۔ (۱- محاورہ) کان آشنا ہونا۔ سنا ہوا ہونا۔  
 کان مروڑنا (ملنا)۔ (۱- محاورہ) کان کھیننا۔ گوشائی کرنا (۲) ڈرانا۔ سزا دینا۔ (۳) ستار یا سارنگی کی کھنٹی کسا۔ (۴) [کنایت] عاجز ہونے اور قائل ہونے کا اعتراف۔  
 کان مھلیا۔ (۱- صفت) کان کا میل صاف کرنے والا۔  
 کان (دکانوں) میں اٹھکی دینا۔ کان (دکانوں) میں اٹھکی رکھنا۔ (۱- محاورہ) کسی کی آواز نہ سننے کے لیے کان بند کر لینا۔ ڈراؤنی آواز سے بچنے کے لیے کانوں میں اٹھکیاں ڈال لینا۔ عموماً جمع بولتے ہیں۔  
 کان میں بات ڈال دینا۔ (۱- محاورہ) آگاہ کر دینا۔ سمجھا دینا۔  
 کان میں بات کہنا (کرنا)۔ (۱- محاورہ) کوئی خفیہ یا راز کی بات کرنا۔ سرگوشی کرنا۔  
 کان میں بات دہلوانا۔ (۱- محاورہ) بات سن کر مال جانا۔ سنی آن سنی کر جانا۔  
 کان میں پھینک پڑنا۔ (۱- محاورہ) افواہ سنائی دینا۔  
 کان میں پارہ بھرننا۔ (۱- محاورہ) گونگا بھرا کر دینا۔  
 کان میں پڑنا۔ (۱- محاورہ) سننے میں آنا۔ گوش زد ہونا۔ اگاہی ہونا۔  
 کان میں پھونکنا۔ (۱- محاورہ) کان میں کہنا۔ (۲) بدگونی کرنا۔ (۳) بدگمان کرنا۔ (۴) کسی کی تعریف کر کے اُسے پھلانا۔ بھکا دینا۔  
 دہ، کسی کے متعلق کوئی بری بات دوسرے کے دل میں بٹھا دینا۔  
 کان میں تیل ڈال لینا۔ (۱- محاورہ) اپنے آپ کو بے خبر اور بہرا بنا لینا۔ (۲) خاموشی اختیار کر لینا۔ پچھ نہ سننا۔ بے پروا بن جانا۔  
 کان میں چھینٹی کوڑھی ڈالنا۔ (۱- محاورہ) غلام بنانا۔ غلام ہونے کی نشانی کان میں ڈالنا۔  
 کان میں ڈال دینا۔ (۱- محاورہ) سنا دینا۔ کہہ دینا۔  
 آگاہ کر دینا۔ گوش گزار کر دینا۔  
 کان میں ڈھول بجانا۔ (۱- محاورہ) کان کے پاس چلانا۔ بہت

زور سے کہنا۔

کان میں رکھنا۔ (۱- محاورہ) یاد رکھنا۔ خیالی رکھنا۔

کان میں رُوئی دینا۔ (۱- محاورہ) محض بے خبر۔ غافل۔ بے سُدھ اور بے پرواہ بنانا۔

کان میں کھٹکنا۔ (۱- محاورہ) کانوں کو بُرا لگنا۔ ناگوار معلوم ہونا۔ کان میں کہنا۔ کان میں کہہ دینا۔ (۱- محاورہ) بچکے سے کہنا۔ پریشیدہ یا خیر طوع سے کہہ دینا۔

کان نہ پھڑکانا۔ پھڑپھڑانا۔ بھلانا۔ (۱- محاورہ) جوں نہ کرنا۔ چُپ ہو جانا۔ (۲) جانور کا سبھ جانا۔ (۳) شرارت نہ کرنا۔

کان نہ دھرنا۔ رکھنا۔ (۱- محاورہ) توجہ نہ رہنا۔ غور نہ کرنا۔ متوجہ ہو کر نہ ٹھننا۔ بے پروائی سے ٹھننا۔

کان ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) چار پائی یا کپڑے میں ٹیڑھ ہونا۔ (۲) نصیبت حاصل ہونا۔ شجر دار ہو جانا۔ (۳) اطلاع ہو جانا۔ امتحان ہو جانا۔ (۴) خسیال ہو جانا۔ دھیان ہو جانا۔ (۵) عقل آنا۔ ہوش آنا۔

کانوں پر ہاتھ دھرنا۔ (۱- محاورہ) صاف اٹکار کرنا۔ (۲) ہلکے کرنا۔ نفرت کرنا۔ (۳) پناہ مانگنا۔

کانوں پڑی آواز۔ (۱- رودتہ) وہ بات جو کہی سنی ہو اور یاد ہو۔

کانوں تک رہنا۔ (۱- محاورہ) بات سن کر کسی سے نہ کہنا۔

کانوں کان خبر نہ ہونا۔ (۱- مثل) اس طرح کوئی بات کہنا جس کی دوسرے کو مطلق خبر نہ ہو۔ بالکل خبر نہ ہونا۔

کانوں میں لہس پڑنا۔ (۱- محاورہ) کانوں کا ریلی یا میزلی آواز سے حفا اٹھانا۔ ٹٹف حاصل کرنا۔

کان۔ (۱- مؤنث) معدن۔ وہ جگہ جہاں سے کھود کر دھات یا جواہرات وغیرہ نکالتے ہیں۔ (۲) بیخ۔ برحشہ۔

کان بچھو سنا۔ (۱- صفت) فیاض۔ بخیر۔

کان کن۔ (۱- صفت) کان کھودنے والا۔

کان کھنی۔ (۱- مؤنث) کان کھودنا۔ کان کھودنے کا عمل۔

کان خلاصت۔ (۱- صفت) وہ معشوق جو سانولا سلونا ہو۔ خوبصورت۔

کانا۔ (۱- کانا) [اُر] بمعنی کان میں مرکبات کے شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کانا پھوسی۔

کانا بانی۔ (۱- مؤنث) کان میں بات کہنا۔ کسی بچے کو ہنسنا مقصود ہو تو اس کے کان میں کانا بانی، کانا بانی کر کہتے ہیں۔ اور

کر پر زیادہ زور دیتے ہیں۔

کانا پھوسی۔ مگر کوشی۔ بچکے بچکے کان میں بات کہنا۔ کھس پھس

کانا گوشی۔ (۱) کانا پھوسی۔ (۲) گوشالی۔

کانا۔ (۱- کانا) [ھ- صفت] (۱) مذ [یک آکھ والا۔ احمد العین۔

یک چشم۔ کانٹا۔ (۲) داعی پیل۔ (۳) ٹیڑھا تڑچھا۔

کانا پردہ۔ (۱- مذ) ناقص پردہ۔ بلائے نام پردہ۔

کانا قنور بدھو لقر۔ (۱- مثل) عیب میں عیب۔ شراب و تباہ کلبے جوڑ اور بے میل سامان۔ (۲) نہایت مفلس۔

کانا کچھو۔ (۱- مذ) ایک پہاڑی ترکاری جو موسم برسات میں از خود پیدا ہوتی ہے۔

کانے کو منہ پر کانا نہیں کہتے۔ (۱- محاورہ) عیب والے کا عیب منہ پر نہیں کہتے۔

کانپ۔ (۱- مؤنث) [مٹ] (۱) پتنگ یا کنگڑے کی خمدار اور پکھڑا تیلی فچی جو فوس نما لگائی جاتی ہے۔ (۲) پتھری کے تار جن پر کپڑا منڈھا ہوتا ہے۔ (۳) سوکری یا گھٹی کا اگلا دانٹ۔ (۴) کانپنا کا امر۔

کانپ اٹھنا۔ (۱- محاورہ) خوف سے لرز جانا۔ خزا جانا۔ بدن میں کپکپی پیدا ہو جانا۔ (۲) کانپ کانپ اٹھنا بھی متصل ہے

کانپ جانا۔ (۱- محاورہ) خوف سے خزا جانا۔ (۲) جاڑے سے کپکپی چھوٹ جانا۔

کانپ چھٹنا۔ (۱- محاورہ) کپکپی آنا۔ لرزہ طاری ہونا۔ (۲) کانپنا۔ (۱- محاورہ) [ھ- صفت] لرزنا۔ خزا جانا۔ خوف کھانا۔

کانپنی۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔

کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ق] (۱- مؤنث) کپکپی۔ خزا جانا۔ لرزش۔ کانپنا۔ (۱- مؤنث) [ثا] [ھ- ۱- مذ] (۱) خار۔ سول۔ گنڈا۔ (۲) ترازو۔



کانٹا سا۔ (۱- صفت) خار کی طرح۔ (۲- ڈبلا  
کانٹا سا آنکھوں میں کھٹکنا۔ (۱- محاورہ) بڑا لگنا۔ ناگوار گزرنا۔  
محسوس و ملاحظہ ہونا۔  
کانٹا سا کھٹکتا۔ (۱- محاورہ) نہایت ناگوار گزرنا۔ بڑا لگنا۔ ناگوار  
خاطر ہونا۔  
کانٹا سا بیکل جانا۔ (۱- محاورہ) کسی دکھ یا مصیبت یا سختی سے ہائی  
پانا۔ آرام پانا۔ چین آجانا۔  
کانٹا سا جو جانا۔ (۱- محاورہ) بہت لاغر اور کمزور ہو جانا۔  
کانٹا کھانا۔ (۱- محاورہ) پھیلنے والے کانٹے میں پھینسا۔  
کانٹا لگنا۔ (۱) کانٹا چھبنا۔ (۲) پرندوں کو کانٹے کا مرض لاحق ہونا۔  
(۳) ٹھیک نشہ ہونا۔ (۴) ناگوار معلوم ہونا۔  
کانٹا مارنا۔ (۱- محاورہ) (۲) پر مارنا (۳) لڑتے وقت ایک مرع کا  
دوسرے مرع کو لات مارنا۔ (۴) کم تو لہ۔  
کانٹا نکالنا۔ (۱- محاورہ) تکلیف یا مصیبت سے بچانا۔ غمناک مٹانا۔  
کھٹکا ڈور کرنا۔  
کانٹا ٹکنا۔ (۱- محاورہ) (۲) غمناک ڈور ہونا۔ تکلیف ڈور ہونا۔ رنج  
سے نجات پانا۔ (۳) پرندوں کو کانٹے کا مرض لاحق ہونا۔  
کانٹا نہ لگے۔ (دکھ نہ دے) کوئی تکلیف نہ پہنچے۔  
کانٹا جو جانا۔ (۱- محاورہ) سوکھ کے لاغر ہو جانا۔ بہت ڈبلا ہو جانا۔  
کانٹوں بھرا۔ (۱- صفت) بہت تکلیف رساں۔  
کانٹوں پر بس کرنا۔ (۱- محاورہ) (کنایتہ) کمال ایذا برداشت  
کرنا۔ بہت تکلیف اٹھانا۔  
کانٹوں پر کھینچنا۔ کانٹوں پر کھینچنا۔ (۱- محاورہ) (۲) سزا دینا۔  
(۳) شرمندہ کرنا۔ (۴) نہایت تکلیف دینا۔ (۵) اذہد ستانا۔  
آزار پہنچانا۔  
کانٹوں پر ٹوٹنا۔ (ڈر پنا)۔ (۱- محاورہ) بے قرار رہنا۔ (۲) آتش  
رنگ و حسد میں جہن۔ (۳) بڑی مصیبت اٹھانا۔  
کانٹوں میں اُلجھنا۔ (۱- محاورہ) (کنایتہ) جھگڑے میں پھینسا۔  
کانٹوں میں نکل کر بکنا۔ کانٹے میں ٹکنا۔ (۱- محاورہ) نہایت  
گراں بکنا۔ کسی چیز کی کمال قدر ہونا۔ سونے چاندی کے  
بھاؤ بکنا۔  
کانٹوں میں گھرنا۔ (۱- محاورہ) مصیبت میں پڑنا۔ آنتنگ میں  
بتلا ہونا۔  
کانٹے بچھانا۔ (۱- محاورہ) ایذا رسانی کا کام کرنا۔  
کانٹے بولنا۔ (۱- محاورہ) اپنے یا کسی کے حق میں بولنا کرنا۔  
کانٹے بولنے بولنے کے تو آدم کہاں سے ہوں۔ (۱- عیش)  
بدی کر کے بیکی کی امید رکھنا ساقی ہے۔  
کانٹے بولتے ہونا۔ (۱- محاورہ) تکلیف دہ ہونا۔ ایذا رساں  
ہونا۔

کانٹے پر کی اول بھینچیری (۱- مٹ) بیکار چیز۔ ناپائیدار چیز۔  
کانٹے پڑنا۔ (۱- محاورہ) پیاس کے مارے زبان یا عین خشک ہو  
جانا۔  
کانٹے کی تول۔ (۱- مٹ) بالکل ٹھیک۔ ذکر نہ زیادہ۔  
کانٹے کی طرح سوکھنا۔ (۱- محاورہ) بہت ڈبلا پلا ہو جانا۔  
کانٹے کی طرح نظر میں کھٹکنا۔ (۱- محاورہ) کمال ناگوار گزرنا۔  
کسی چیز کا دیکھنا ناگوار ہونا۔  
کانٹے میں ٹکنا۔ (۱- محاورہ) بہت بیش قیمت ہونا۔ مہنگا ہونا۔  
کانٹے میں لگانا۔ (۱- محاورہ) پھیل پھولنے کے لیے کانٹے میں  
چارہ لگانا۔  
کانٹی۔ (کان۔ ٹی) (۱- مٹ) (۲) رونی کا کوڑا۔ وہ نکمی رونی  
جو دھتے میں نہ آسکے۔ (۳) چھوٹا ٹھک۔ آنکھوں۔ (۴) بیڑی۔ جھلان۔  
(۵) تولنے کا چھوٹا کانٹا۔ (۶) وہ لنگر جو لڑکے ڈور میں باندھ کر  
تڑپاڑتے ہیں۔ (۷) مجرم کے پاؤں میں ڈالنے کی بیڑی۔  
کانٹی کھانا۔ (۱- محاورہ) قید کا ٹٹا۔ جیل خانے جانا۔ سزا یافتہ ہونا۔  
داغی ہونا۔  
کاجی۔ (کان۔ جی) (۱- مٹ) ایک قسم کا کھٹا پانی، جس میں رائی،  
زیرہ، نمک وغیرہ اجاگر طرح ڈالتے ہیں۔ (۲) چاولوں کے  
بیج۔ مانڈی۔ (۳) گاجروں کے اجار کا پانی۔  
کاجی اڈوس۔ (کان۔ جی۔ ہا۔ اڈ) (۱) آڑ۔ (۲) قید خانے کا  
مکان (۳) حوالات۔ بنگالی۔ (۴) وہ سرکاری مکان جہاں لاوارث  
موتی بھیج دیے جاتے ہیں۔  
کاجی۔ (۱- مٹ) (۲) شبیہ۔ ایک قسم کا سخت چمکدار مادہ جو  
ریت اور کھار یعنی سچی کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ (۳) (موتوخت)  
ایک بیماری جس میں پاجانہ کرتے وقت مقعد کا گوشت باہر نکل  
آتا ہے۔  
کاجی نکال دینا۔ (۱- محاورہ) (کنایتہ) بہت مارنا۔ عاجز کرنا۔ کسی  
کو نقصان پہنچانا۔ مار مار کے ناس کر دینا۔  
کاجی ٹکنا۔ (۱- محاورہ) (۲) مقعد کے گوشت کا نفاہت و صنعت  
کے باعث نکل آنا۔ (۳) (کنایتہ) خسارہ اٹھانا۔ (۴) عاجز ہونا۔  
صدمہ برداشت کرنا۔  
کاجی۔ (کان۔ جی) (۱) مٹ [شادی کی ایک رسم۔  
جو۔ (۲) اٹلائی۔ ٹوٹی۔ گانڈو۔  
کاجی۔ (کان۔ جی) (۱) مٹ [شادی کی ایک رسم۔  
کانڈ۔ (۱- مٹ) دیوار۔ پشتہ۔  
کانڈا۔ (۱- مٹ) نیشکر۔ (۲) [مٹ] پیاز۔ کسی پر دوسے کی گانڈہ دار  
جڑ۔  
کانڈو۔ (کان۔ ڈو) (۱) مٹ [نیشکر۔ چینی۔ (۲) بھرا بھرا۔  
کانڈھا۔ (کان۔ دھا) [مٹ] کنڈھا۔ شانہ۔ دوش۔ کنڈھا۔

**کانسٹی ٹیوشن** - (Constitution) (کانسٹی ٹیوشن) (کانسٹی ٹیوشن)

[انگ-۱- مذ] ساخت - بناوٹ - وجود - (۲) قوانین - دستور  
آئین - (۳) نظام - اصول -

**کانسٹم** - (کان - سنہ) [ا- مذ] صبح (فارسی) کاسہ - پیالہ - بھیک  
کاٹھیکیا -

**کانسی** - (کان - سہی) [ھ- ا- موث] ایک قسم کی دھات جو تانبے  
اور رانگ کی آمیزش سے تیار ہوتی ہے -

**کانشس** - (Conscience) (کان - شس) [انگ-۱- مذ]  
انسانی ضمیر - وجدان سلیم - وہ انسانی قوت جو انسان

کو بھلائی کی طرف متوجہ کرے -  
**کانفرنس** - (Conference) (کان - فنس) [انگ-۱- مذ]  
مٹ [مجلس شوریٰ - مشورہ کی مجلس - مشاورت -

**کانفیڈنشل** - (Confidential) (کان - فی - ڈن - شل)  
[انگ-۱- مذ] رازداری کا خفیہ - بے یقینہ راز - پرائیویٹ -

**کانگریس** - (کانگم - ڈا) [ھ- ا- مذ] کلمہ - ٹیکل - مشعل کی سنی (تی)  
کانگھ - (۵- ا- موث) [۱۶- نبل] (۲) گناہ - پہلو -

**کانگھنا** - (کانگھ - نا) [ھ- مصل] گلاصاف کرنے کے لیے آواز نکالنا -  
(۲) کراہنا - آپس بھڑنا -

**کانگریس** - (Congress) (کانگم - رسن) [انگ-۱- مذ]  
مجلس - سبھا (دستندوں کی) (۲) انجمن - پارٹی - جماعت -

**کانگریس** - (کانگم - ڈا) [ق- ا- مذ] تربوڑ  
کانگریسی - (کانگم - ڈی) [ھ- ا- مذ] موث [مسی کی انگلیٹی جس کے  
اوپر تیلیوں کا خلاف چڑھا ہوتا ہے بختیروں میں اس کا

استعمال عام ہے -  
**کانور** - (ھ- ا- مذ) آنکھ کی ایک بیماری جس میں زردی چھا جاتی ہے -

(۲) [مٹ] ایک کڑی جس کے دونوں کناروں پر نوکریاں  
رکھ کر ان میں چیزیں رکھ لیتے ہیں - بھنگی -

**کانورا** - (کان - و - لا) [ھ- صفت] حواس باختہ - بے اوسان -  
بدحواس - گھبرا ہوا -

**کانون** - (کان - نوئن) [ق- ا- مذ] [۱] انگلیٹی (۲) آگ ڈالنے  
کا پیلہ

**کانووکیشن** - (Convocation) (کان - وو - کے - شن) [انگ-۱- مذ]  
اجلہ تقسیم اسناد - یونیورسٹی -

**کانونینٹ** - (Convent) (کان - وینٹ) [انگ-۱- مذ]  
عیسائی اہل خانقاہ - عیسائی خانقاہ - (۲) عیسائی مدرسہ -

**کانی** - (ھ- صفت) [ا- موث] کاناکہ تانبہ - ایک آنکھ والی  
(د) معدن کی چیز - معدنی - کان سے منسوب - (۳) کہانی  
(تی)

کا و - (ق- ا- مٹ) [۱] کھودنا [۲] تلاش - تفتیش [۳] امتحان -

کاندھا بدلتا - (۱- محاورہ) ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر  
کسی کا بوجھ لینا -

کاندھا دینا - (۱- محاورہ) [۱] جنازے کو کاندھا دینا - (۲) سہارا  
دینا -

**کاندھی دے جانا** - [ھ- مصل] [۱] بہانہ کرنا - ٹال جانا - پہلو تہی کرنا -  
(۲) گھوڑے کا پیٹھ کو جھنکا دے کر سوار کو گرانا دینا -

**کانڈ** - (ھ- ا- مذ) کتاب کا باب - حصہ - فصل -  
**کانڈرا** - (کان - ڈا) [ھ- ا- مذ] ایک قسم کی جڑ جو پیاز سے مشابہ  
ہوتی ہے -

**کانڈل** - (کان - ڈن) [ھ- ا- مذ] مسوں کا ساگ -  
**کانڈلی** - (کانڈ - لی) [ھ- ا- مٹ] خرفہ -

**کانڈا** - (کان - ڈا) [ھ- ا- مذ] دیکھنے کا نام [۲] ایک راگنی (۳)  
ایک قسم کا پتنگ -

**کانڈراگنی** - (ھ- صفت) نہایت شوخ اور شریہ  
کانڈرا مجھے بھائے نہیں - کانڈرے بن سہائے نہیں -

[۱- مٹ] ایک شخص سے نفرت بھی کرنا اور پھر اس کے بغیر  
صبر بھی نہ کر سکتا -

کانڈرے کی ایک رگ سوا ہوتی ہے - (۱- مٹ) [۱] مٹ] [۱] مٹ]  
میں شرارت زیادہ ہوتی ہے -

کانڈرے کے بیاہ کو سوسو جو کھوں - (۱- مٹ) [۱] مٹ] [۱] مٹ]  
شے کے لیے ہر جگہ مشکلات پیش آتی ہیں -

**کانڈری** - (کان - ڈی) [ھ- صفت] [۱] مٹ] [۱] مٹ] [۱] مٹ]  
کانڈری اپنا ٹیکٹ نہ تھارے اوروں کی پہلی دیکھ بھالے -

(۱- مٹ) [۱] مٹ] [۱] مٹ] [۱] مٹ] [۱] مٹ]  
عیب دار کو اپنا عیب تو خواہ کیسا ہی بڑا ہو معلوم  
نہیں ہوتا - مگر دوسرے کا معمولی عیب بھی بڑا معلوم ہوتا ہے -

کانڈری کو کون سولے کانڈری کا باوا - (۱- مٹ) [۱] مٹ] [۱] مٹ]  
مجھی اچھی معلوم ہوتی ہے -

**کانس** - (کان - سن) [ا- ا- مٹ] [۱] انگریزی لفظ کانس کا بگڑا ہوا -  
مکنتی - چیمٹا -

**کانس** - (ھ- ا- مٹ) [۱] ایک قسم کی لمبی گھاس جو اکثر عیز مزروعہ  
زمین میں پیدا ہوتی ہے - (۲) جھکڑا ٹنڈا - تقیہ - (۳) چمک -  
سالمش -

**کانس میں پڑنا** - (۱- محاورہ) [۱] دھوکہ کھانا - (۲) سوچ بچار میں  
گے رہنا - غور و فکر میں محور ہونا - (۳) جان جو کھوں میں رہنا -

**کانس میں پھینسا** - (۱- محاورہ) مشکل میں پڑنا - مصیبت میں پھینسا -  
**کانسا** - (کان - سا) [ھ- ا- مذ] راجہ کا کھانا - خاصہ - (۲) ایک دھات -  
کانسی -

**کانسٹیبل** - (Constable) (کانس - ٹے - بٹن) [انگ-۱- مذ]  
پولیس کا سپاہی -

کس واسطے۔

کاہیدگی - (کاہی - ذہنی) [فت ۱-۱۰-مشت] لاغزی، ڈبل پین۔  
 کاہیدہ - (کاہی - ذہنی) [فت ۱-۱۰-مشت] گھٹا ہوا - ڈبلا - لاغز۔  
 کاہچلن - (کاہی - پھل) [فت ۱-۱۰-مشت] ایک دو اجڑی درخت کی  
 چھال ہوتی ہے۔ (۲) نلے کی طرح کا ایک پہاڑی اوداڑش  
 پھل۔

کاہیدہ - (کاہی - ذہنی) [فت ۱-۱۰-مشت] فریبی۔

کاہین - (ع - صفت) ہونے والا - موجود۔

کاہنات - (کاہی - ناث) [ع ۱-۱۰-مشت] [۱] موجودات - دُنیا (۲)

حقیقت - حیثیت - (۳) سرمایہ - پونجی - (۴) خلق اللہ۔

کاؤنٹ - (Count) (کو - نٹ) [انگ ۱-۱۰-مشت] یورپ میں نواب

کالقب۔

کاؤنٹر - (Counter) - (کاہ - ان - ٹر) [انگ ۱-۱۰-مشت] کلک۔

مکتبہ - (روپیہ گنے کی میز یا تختہ دوکان وغیرہ میں)

کاؤن کاؤنٹ - (کاہ - آؤن - کاؤن) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] کوٹے کی

مسلل آواز - (۲) لوگوں کا شور وغل۔

کاؤن کاؤنٹ کرنا - (۱) محاورہ [۱] کوٹے کا کاہیں کاہیں کرنا - (۲) گول

کاؤنٹ کرنا - چلانا۔

کاہنی - (کاہی - ہنی) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] وہ سبزی جو اکثر بند پانی کے اوپر

یا برسات میں چوڑے کی دیواروں وغیرہ پر جم جاتی ہے۔ ایک قسم

کی پیچوندی - پانی کا مالا - (۲) گہرا سیاہی والی سبز رنگ۔

کاہنی سب چھٹ جانا - (۱) محاورہ [۱] بادلوں کی طرح الگ الگ ہوجانا۔

دفعہ تہہ تہہ ہوجانا۔

کاہنی لگنا - (۱) محاورہ [۱] پانی یا کسی اور چیز پر سبزی جم جانا۔

کاہنیال - (کاہی - یال) [انگ ۱-۱۰-مشت] [۱] نہایت چالاک - ہوشیار۔

خزانٹ - تجربہ کار - (۲) فریبی - دغا باز - (۳) بخیل - بکجوس۔

کاہنیال پن - (۱) ند - (۲) عیاری - چالاک - مکاری بکجوسی۔

کاہنیال کاہنی - (کاہی - ای - کاہنی) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] دیکھے کاؤنٹ

کاہنیال کاہنی کرنا - کاہنیال کاہنی مچانا - (۱) محاورہ [۱] غل شور کرنا۔

کاہنیال - (کاہی - یا) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] جسم - تن - بدن - سریرہ (۲) ٹوک - بھیس۔

(۳) اصلیت - ماہیت۔

کاہنیال کی ماہی - (۱) مثل - (۲) ماہ سے بہتر مال نہیں۔

کاہنیالٹ - (۱) صفت - (۲) قالب بدلنے والا - (۳) بھیس بدلنے

والا - (۴) بہرہ و سیاہ - (۵) وہ دو اجس سے بڑھا جواں ہو

جائے۔

کاہنیالٹ دینا - (۱) محاورہ [۱] ہیئت بدل دینا۔

کاہنیالٹنا - (۱) محاورہ [۱] چولا بدلنا - قالب تبدیل کرنا - (۲) تاسخ

انتیار کرنا - (۳) دوسری جوں میں آنا - (۴) روپ دھارنا -

(۵) جوہن پر آنا - ماہیت بدلنا۔

کاوا کاوا - (۱) کوشش (۲) تفتیش - (۳) زخم کو ناخن سے چھینا ادا  
 کھانا۔

کاوا - (کاہی - وا) [انگ ۱-۱۰-مشت] [۱] گھوڑے کو اس طرح چکے دینا کہ اس  
 کے قدموں کے نشانوں سے زمین پر ایک دائرہ پیدا ہو جائے۔

چوگان۔

کاوا دینا - گھوڑے کو حلقہ باندھ کر چکے دینا۔

کاواک - (کاہی - واک) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] خالی - کھوکھلا [انگ ۱-۱۰-مشت] [۲] بڈل۔

کاوش - (کاہی - وشن) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] کھودنا - کھوج لگانا - (۲)

خوش - (۳) کیرید - تلاش - جستجو - (۴) [انگ ۱-۱۰-مشت] [۵] دشمنی۔

حسد - جن۔

کاؤل - (کاہی - وائل) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] گشت۔

کاؤل گر - گشت کرنے والا۔

کاؤہ - (کاہی - وؤہ) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] ایک آہنگ جس نے فریوں کو ڈھونڈ

نکالا اور اسے نھا کر چڑھا کر ملک دلویا۔

کاوی - (کاہی - وئی) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] کھودنا - (۲) تلاش کرنا - تفتیش

کرنا - (مکتبہ کے آخر میں استعمال ہوتا ہے)

کاہ - (فت ۱-۱۰-مشت) [۱] کئی ہوتی سوکھی گھاس۔

کاہ ٹہا - (فت ۱-۱۰-مشت) [۱] ایک قسم کا زر و گوند جس کی یہ خاصیت ہے

کہ اگر اسے کپڑے یا چمڑے پر لگادو گھاس کے تیلے کے سامنے

لاہیں تو وہ مقناطیس کی طرح اسے اٹھاتا ہے۔

کاہ کشال - (کاہکشال) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] بہت سے چھوٹے چھوٹے

ستاروں کی قطار جو اندھیری رات میں آسمان پر سڑک کی مانند

نظر آتی ہے۔

کاہ گل - (کاہی - گل) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] پلستر کرنے کی جھس ملی ہوتی مٹی۔

کاہش - (کاہی - ش) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] زوال - کمی - گھٹاؤ - آثار - تنزل۔

(۲) لاغزی - ڈبل پین۔

کاہش اٹھانا - (۱) محاورہ [۱] تکلیف برداشت کرنا۔

کاہش جانا - (فت ۱-۱۰-مشت) [۱] وہ صدر جوجان پر ہو۔

کاہل - (کاہی - ہل) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] صفت [۱] سست - کام چور - جمول - آرام۔

کاہلا - (کاہی - لا) [انگ ۱-۱۰-مشت] [۱] صفت [۱] سست - تھکا ہوا - (۲) تیز۔

جلد باز۔

کاہلی - (کاہی - لی) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] صفت [۱] سستی - آرام طلبی - آگسی۔

کاہن - (کاہی - ہن) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] جنوں سے دریافت کر کے غیب

کی خبریں بتلنے والا - جمع - کہنہ۔

کاہنہ - (کاہی - ہنہ) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] صفت [۱] کاہن کی مونت۔

کاہنہ - (کاہی - ہنہ) [فت ۱-۱۰-مشت] [۱] ایک قسم کا ساگ اور اس کا تخم۔

کاہنہ - (کاہی - ہنہ) [انگ ۱-۱۰-مشت] [۱] ہلکا سبز رنگ مائل بہ سیاہی۔

(۲) کس جس کو ایک قسم کی پھکڑی ہے - بعض کاہنی کہتے ہیں۔

کاہنہ سے - کاہنہ کو - (۵) کلمہ استفہام کیوں - کس لیے۔

نیلا پیلا ہوجانا (۷۷) ناگوار گزرنا۔ (۸۵) آگ جلا ہونا۔ (۹) طیش میں آجانا۔ (۱۰) حسد یا رشک سے جلنا۔  
**کباب** - کبابہ - رکت - بانہ - کت - بانہ (کت - ۱۰) مذ [ سیاہ مریخ سے مشابہ ایک قسم کے گول گول نیچ جو بطور دوامستعمل ہوتے ہیں۔  
**کباب چینی** - کبابہ - سینٹل چینی - سرد چینی۔  
**کبابی** - رکت - بانہ (بی) [کت - ۱۰] مذ [ کباب بنا کر بیچنے والا۔ کباب فروش۔  
**کبادہ** - رکت - بادہ [کت - ۱۰] مذ [ نرم کمان - مشق کرنے کی کمزور کمان۔

کایا پکٹ ہوجانا۔ (۱) محاورہ) رنگ رُوپ بدل جانا۔ کچھ سے کچھ ہوجانا۔ دوسرے رنگ میں آجانا۔  
**کایا کشت** جسمانی تکلیف - جسمانی مرض۔  
**کایا کپت** - (۱-۵) مذ [ دواؤں کے ذریعے دوبارہ جوانی حاصل کرنا۔  
**کایتھ** - کایتھ - (کا - یٹھ - کا - یٹھ) [تھ - ۱] مذ [ ایک ہندو ذات کا نام جس کا کام نوشت و نحو انداز نوشتی گری ہے۔  
**کایتھ کی کھوپڑی** - (۱) مٹھ [ کٹیتھ [ دغا باز - چالاک آدمی۔

# ک - ب

**کبار** - رکت - باز [ع - ۱۰] مذ [ کبیر کی جمع - بڑے آدمی - بزرگ۔  
**کبائر** - رکت - بائز [ع - ۱۰] مذ [ کابھ - کباڑ - ٹوٹا پھوٹا اسباب۔  
**کبائر خانہ** - (۱-۵) مذ [ ٹوٹے پھوٹے سامان کا گمراہ یا ڈکان۔  
**کبائر پیا** - رکت - بائز پیا [تھ - ۱۰] مذ [ ٹوٹا پھوٹا اسباب بیچنے والا۔ نیلا کالایا ہونا مال فروخت کرنے والا۔  
**کبائر** - رکت - بائز [ع - ۱۰] مذ [ کبیرہ کی جمع - بڑے گناہ۔  
**کبیرت** - رکت - بیت [تھ - ۱۰] مذ [ شاعر - ایک قسم کی ہندی نظم۔  
**کبیرا** - رکت - جی [ق - ۱۰] صفت [ کبیرا۔  
**کبیرہ** - رکت - بیز [ع - ۱۰] مذ [ بگڑ - بلیجہ۔  
**کبیرہمی** - رکت - بڑھی [تھ - ۱۰] صفت [ اہمق - بے سمجھ - بے وقوف۔  
**کبیرہمی** - رکت - بڑھی [ق - ۱۰] مذ [ ایک کھیل کا نام۔  
**کبڈی کھیلتے پھرنانا** - (۱) محاورہ [ آوارہ گردی کرنا۔ بیکار پھرنانا۔ مارا مارا پھرنانا۔  
**کبیر** - (ع - ۱۰) مذ [ بزرگی - بڑائی - عظمت - (۲) غرور - تکبر - گھنڈ۔  
**کبیر و سخوت** - (ع - ۱۰) مذ [ غرور - تکبر - گھنڈ۔  
**کبیر** - رکت - بیز [ع - ۱۰] مذ [ بڑھاپا - پیری۔  
**کبیر سن** - (کبیر سن) [ع - ۱۰] مذ [ بوڑھا - عمر رسیدہ - کہن سال۔  
**کبیرا** - رکت - با [تھ - ۱۰] صفت [ چنگبلا - اہلن - سیاہ و سفید۔  
**کبیرا** - رکت - با [ع - ۱۰] مذ [ کبیر کی جمع - بڑے آدمی۔  
**کبیرگی** - رکت - با [ع - ۱۰] صفت [ بہت بڑی - بہت بزرگ - (۲) عظیم - اکبر کی تائیت۔  
**کبیریا** - رکت - بیا [ع - ۱۰] مذ [ بزرگی - عظمت - (۲) فخر - غرور۔  
**کبیرت** - (۲) خدائے تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔  
**کبیر بانی** - (ع - ۱۰) صفت [ اوجینا ورجہ - بڑا ہونا - بڑائی - عظمت۔  
**کبیریت** - رکت - بیت [ع - ۱۰] مذ [ گندھک (۲) عمدہ سونا - زرخاں۔  
**کبیریت احمد** - لال گندھک جو کباب ہے - معدوم - کباب عفا۔  
**کبیریت احمد** - (۲) وظائف کی ایک کتاب جو حضرت عزت الاعظم کی تصنیف ہے۔  
**کبیرا** - رکت - بیا [تھ - ۱۰] صفت [ عجبہ پشت - وہ شخص جس کی پیٹھ سجک گئی ہو۔

**کب** - [ظرف زمان جو عمل استغمام میں آتا ہے] (۱) کس وقت کس دن - (۲) کیونکر - کس طرح - کس زمانے میں؟  
**کب بابا میں کب بیل ٹھیں** - (۱) مثل [ کسی بات کا بہت انتظار کرنا ہوتے ہیں۔  
**کب تک - کب تک** - (۱) مثل [ کس وقت تک - کس زمانے تک۔  
**کب تھوکتے ہیں** - (۱) محاورہ [۱] بالکل تھکا نہیں کرتے - ہرگز متوجہ نہیں ہوتے - کبھی خاطر میں نہیں لاتے - لغزت کرتے ہیں۔  
**کب سے؟ (۱) تابع فعل** [۱] کس وقت سے؟ کس زمانے سے؟  
**کب کا** - (۱) تابع فعل [۱] کس زمانے کا - کس مدت کا - (۲) مدت و دماز کا - بڑی دیر کا۔  
**کب** - (۱-۵) مذ [۱] انسان کی پیٹھ کی کچی - اصلی ہو یا بڑھاپے سے (۲) ٹیڑھ - کج (۳) خم - جھکاؤ - (۴) اونٹ یا سانڈ کے اوپر کا ابھرا ہوا مقام - کوبان۔  
**کب نکلنا** - (۱) محاورہ [ پیٹھ کا کبڑا ہوجانا - ٹیڑھا ہوجانا۔  
**کباب** - رکت - بانہ [کت - ۱۰] مذ [ رخ پر چڑھا کر کونوں پر بٹھنا ہوا قیمہ یا گوشت کے ٹکڑے - (۲) گھی وغیرہ میں تلی ہوئی تیسے کی ٹکیاں - (۳) گناہ یا صفت [ سونختہ - بریان - جلا ہوا کباب کا آئسو - (۱) مذ [ وہ پانی جو مسج کے کباب سے پختے ہوئے پکتے ہیں۔  
**کباب کرنا** - (۱) محاورہ [۱] کباب بنانا - کباب بھوننا (۲) جلا نا۔  
**بھوننا** - (۲) رخ پھینچانا - (۴) رشک دلانا - (۵) غصہ (۶) مذ [ دکھ دینا۔  
**کباب لگانا** - (۱) محاورہ [ کباب بھوننا یا تیار کرنا۔  
**کباب ہونا** - (۱) محاورہ [۱] کباب تیار ہونا - (۲) جلنا - بھوننا۔  
**کباب پانا** - (۲) حسد ہونا (۵) نہایت بڑا لگنا - (۶) غصے میں

کبھی کا۔ (۱۔ تابع فعل) بہت دیر کا۔ مدت کا۔  
 کبھی بچھا۔ (۱۔ تابع فعل) کبھی کبھی۔ گاہے گاہے۔ بھولے چمکے۔  
 وقت بے وقت۔  
 کبھی بچھ ہے، کبھی بچھ ہے۔ (۱۔ محاورہ) ایک حال پر نہیں، تلون  
 اور انقلاب کی نسبت بولتے ہیں۔  
 کبھی کبھی گھنا کبھی مٹھی بھر جینا۔ (۱۔ مثل) کبھی عیش کبھی دکھ، کبھی  
 امیر کبھی غریب۔ زمانے کا انقلاب۔  
 کبھی گھورے کے دن بھی پھرتے ہیں۔ (۱۔ مثل) کبھی زمانہ  
 موافق ہو ہی جاتا ہے۔

کبھی گاڑی ناؤ پر۔ کبھی ناؤ گاڑی پر۔ زمانے کے انقلاب  
 کبھی ناؤ گاڑی پر۔ کبھی گاڑی ناؤ پر۔ پیر بولتے ہیں کبھی ایسا  
 کبھی ویسا۔

کبھی نہ دیکھا، پورا پورا اور سینے آئی کھاٹ۔ (۱۔ مثل) نودولت مالوں  
 کے منتقل کیا جاتا ہے۔  
 کبھی نہ کبھی (۱۰) کسی نہ کسی وقت۔ (۲) گاہے گاہے۔ (۳) بھولے بسے  
 کبھی نہیں۔ (۱۱۔ تابع فعل) ہرگز نہیں۔ کسی صورت میں نہیں۔ انکار کے  
 موقع پر بولتے ہیں۔

کبیدگی۔ (ک۔ بنی۔ ذ۔ گی) (۱۔ صفت) [مٹھ] رنجیدگی۔ اذروگی۔  
 کبیدہ۔ (ک۔ بنی۔ ذ۔ ہ) (۱۔ صفت) [۱۱] رنجیدہ۔ غمگین۔ مول اُردو  
 (۲) شکستہ۔ ٹھوڑے کیا ہوا۔

کبیدہ خاطر۔ (۱۔ صفت) رنجیدہ دل۔ آذروہ خاطر۔ مول طبع۔  
 کبیر۔ (ک۔ بنی۔ ز۔ ع) (۱۱) بڑا بزرگ۔ (۲) ایک خدا پرست ہندی  
 شاعر کا تخلص جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے اشعار لکھتا تھا۔  
 اس کی روش صنمک تھی۔ (۳) [۱۰۔ ۱۱] ہندوؤں کے فن گیت  
 جو ہولی کے موقع پر گائے جاتے ہیں۔ عربی جمع۔ کبار۔ کبیرا۔  
 کبیر پھینچی۔ (۱۰۔ ۱۱۔ مذ)۔ وہ لوگ جو بھکت کبیر کے مسلک اور اقوال  
 پر عمل کرتے ہیں۔

کبیرہ۔ (ک۔ بنی۔ ذ۔ ہ) (۱۔ صفت) کبیر کی تائینٹ۔ بڑی۔ جمع کبار۔  
 کبیرتہ۔ (ک۔ بنی۔ ز۔ ع) (۱۱) بھیل۔ کبیرتہ۔ تنگ دل۔  
 کبیرتہ۔ (ک۔ بنی۔ ز۔ ع) (۱۰۔ ۱۱) [مذ] لونڈا ہمینہ۔ قری سال میں ۱۱  
 دن بڑھا کر شسی سال کو پورا کیا جاتا ہے۔ ان کے عرض تین سال  
 بعد ایک ہمینہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سال شسی کو پورا کرنے  
 کے لیے چوتھے سال فروری میں ایک دن بڑھا کر اسیے (۲۹)  
 دن کا کر دیا جاتا ہے۔

کبیرتہ۔ (ک۔ بنی۔ ز۔ ع) (۱۰۔ ۱۱) [مذ] ایک الشعراء۔ شاعروں کا بادشاہ۔

کپڑا پین۔ ٹیڑھ۔ خمیدگی۔  
 کپڑا۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) [مٹھ] ترکاری بیچنے والی عورت۔  
 کپڑی۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) کپڑا کی تائینٹ۔  
 کپڑیا۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) ترکاری بیچنے والا۔ سبزی فروش۔  
 کپکت۔ (۱۔ مذ) پیکور۔ ایک ترس کا میٹر جس کا سر اور پیچے سرخ ہوتے  
 ہیں۔ اس کی چال کو مشرق کی چال سے تشبیہ دی جاتی ہے۔  
 کپکت وری۔ (۱۔ مذ) پھاڑی چکور جو نہایت خوش رفتار  
 ہوتا ہے۔

کپکت رفتار۔ (۱۔ صفت) چکور کی طرح چلنے والا۔ (۲) مشرق۔  
 کپکت۔ (۱۔ صفت) مشکل۔ سخت دشوار۔  
 کپوتتر۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) (۱۔ مذ) ایک مشہور پرندہ۔  
 کپوتتر باز۔ (۱۔ مذ) کپوتتر پالنے اور اڑانے والا۔  
 کپوتتر بازی۔ (۱۔ صفت) کپوتتر پالنے اور اڑانے کا مشغلہ۔  
 کپوتتر با کپوتتر باز با باز۔ (۱۔ مثل) ہر شے اپنی جنس کی طرف رجوع  
 کرتی ہے۔ کپوتتر کپوتتر سے اور باز باز سے بھگت رکھتا ہے۔  
 کپوتتر حرم۔ (۱۔ صفت) [مٹھ] خانہ کعبہ کے کپوتتر جن کا شکار کرنا منع ہے۔  
 کپوتتر خانہ۔ (۱۰) ڈوبا۔ کابک (۲) مسافر خانہ۔ سرلے۔ (۳) وہ مقام  
 جہاں پر ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔

کپوتتر کا گونچنا۔ (۱۔ محاورہ) کپوتتر کا سست ہو کر لونا۔  
 کپوتتر کی طرح لوشنا۔ (۱۔ محاورہ) برسی طرح تھپنا۔ لوشن کپوتتر کی مانند  
 زمین پر لوشنا۔

کپوتتری۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) [مٹھ] [۱۱] کپوتتر کی مادہ۔ (۲)  
 ناپچنے والی۔ (۳) وہ مقامی (۴) دین) خوبصورت۔ خوش منج۔  
 کپود۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) (۱۔ مذ) [۱۱] نیلا رنگ۔ آسمانی رنگ۔  
 (۲) نیگول۔

کپودی۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) (۱۔ صفت) نیلا۔ نیگول یا آسمانی۔  
 کپھو۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) (۱۰۔ ۱۱) [مٹھ] [۱۱] کبھی۔ گاہے۔ کسی  
 وقت۔ (۲)

کبھی۔ (ک۔ بنی۔ ژ۔ ن) [مٹھ] [۱۱] گاہے۔ کسی نہ کسی وقت۔ کوئی  
 دم۔ (۲) شاذ و نادر اتفاقاً (۳) کسی زمانے میں (۴) ہرگز۔  
 بالکل بظن۔

کبھی ایسا ہے کبھی ویسا ہے۔ (۱۔ مثل) انقلاب زمانہ ہے۔  
 کبھی لڑلہ کبھی ماشہ۔ (۱۔ مثل) [مٹھ] [۱۱] کبھی اور دم میں کبھی غیر  
 مستقل مزاج اور متزلزل شخص کی نسبت بولتے ہیں۔

کبھی تو ہمارے بھی کوئی تھے۔ (۱۔ مثل) کسی زمانے میں ہم  
 بھی ربط و ضبط اہمیل ملاقات تھے۔ اگر چاہ نہیں ہے۔

کبھی دن بڑا اور کبھی رات بڑی (۱۔ مثل) زمانہ ایک حال  
 کبھی رات بڑی اور کبھی دن { پر نہیں رہتا۔ انقلاب  
 زمانہ ظاہر کرتے ہوئے ہیں۔

ک۔ پ



کے چھٹ جاتی ہے۔  
کتنے تیزا مُنہ نہیں، تیرے سائیں کا مُنہ ہے۔ (امثل) کسی کینے  
کا قصور کسی شریف کی خاطر معاف کرتے وقت بولتے ہیں۔ کہ ان کی  
خاطر ہے ورنہ خوب سزا دیتے۔

کتنے خستی (خصمی)۔ [۱۔ محاورہ] (۱) پاجی پن۔ (۲) زبونی (۳) معصیت کی  
فوری۔ (۴) آوارہ گروی۔ ذلیل کام۔  
کتنے خصمی میں کون پرٹے۔ (۱) مثل (جھگڑے سے لگ رہنے کے  
موقع پر بولتے ہیں۔

کتنے کا بھیجا کھانا۔ (۱) محاورہ) کدواں کرنے اور برابر بولے جانے والے  
کی نسبت بولتے ہیں۔  
کتنے کا رونا۔ (دمن۔ مرتب) کتنے کا ایک خاص انداز سے بولنا ہے  
عام طور پر خوش سمجھا جاتا ہے۔

کتنے کا کاٹا۔ (۱) مذ (کتنے کے کاٹنے کا زخم۔  
کتنے کا کتنا بیری۔ (۱) مثل) ہرجس کا دشمن کسی کی منس سے ہتا ہے۔  
کتنے کا کفن۔ (۱) مذ (مخاضا) مہایت سمجھ کر موٹے موت کا اور  
نیا کپڑا۔ دھوتر۔

کتنے کو بھی نہیں پچتا۔ (۱) مثل) کم ظرف میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ کینے  
کو سامی نہیں ہوتی۔  
کتنے کی دم۔ (۱) صفت) (کنایت) کج فہم۔ نا اہل۔ بد طبیعت۔ جسے  
صحبت کا اثر نہ ہو۔

کتنے کی دم کو بارہ برس نکلی میں رکھا۔ پھر دیکھا تو طیرھی کی  
طیرھی۔ کتنے کی دم موٹے پر بھی طیرھی۔ (۱) مثل) کج طبیعت کسی  
تربیت سے درست نہیں ہوتا۔

کتنے کی سہی ہر ٹوک اٹھتا۔ (۱) محاورہ) کسی بُری بات کا کبھی کبھی فٹا  
نیال آجانا۔ شوق اُٹھنا۔  
کتنے کی موت آتی ہے تو مسجد کی طرف بھاگتا ہے۔ (۱) مثل)  
جب آدمی کی شامت آتی ہے تو دانستہ خطرناک کام میں پڑتا ہے۔  
کتنے کی موت مرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) بڑے حال مرنا۔ ذلیل حالت  
میں جان دینا۔ (۲) حرام موت مرنا۔

کتنے کے بھونکنے سے ہانختی نہیں ڈرتا۔ (۱) مثل) ذلیل ار کینے  
لوگوں کی دھمکی کی شریف لوگ پر و انہیں کرتے۔  
کتنے کے پاؤں جا اور ہلتی کے پاؤں آ۔ (۱) مثل) تیز جا اور  
تیز آ۔ جلد جا کر جلد واپس آنا۔

کتنے گھبٹا۔ (۱) محاورہ) ذلیل کام کرنا۔ (۲) زڈی رکھنا۔  
کتنے کوٹنا۔ (۱) محاورہ) ویران ہونا۔ اُچڑانا۔  
کتنے۔ (ق ۱۔ مذ) گنڈا سا۔ گردن مارنے کا ہتھیار۔ قصابوں کا  
بڑا چھڑا۔ کتنام۔

کتاب۔ (دک۔ کتاب) (ع ۱۔) صفت) (۱) نوشتہ۔ نام (۲) پونجی۔  
خترتہ۔ (۳) جلد۔ نسخہ (۴) رسالہ۔ (۵) [۱] اہی۔ رجسٹر۔ بیسن۔

کچکا ہٹ۔ کچپی۔ ککت۔ ک۔ پا۔ ہٹ۔ ککت۔ ک۔ پی) (۱) ۱۰۵۔  
لرزہ۔ تھرتھری۔ (۲) گھبر ہٹ۔ (عام طور پر کچپی متعل ہے)  
کچپی چھوٹا۔ (گنٹا) (۱) محاورہ) کانپنا۔ تھرتھرانا۔ لرزنا۔ خوف یا  
جاڑے کے بنجار کے باعث کانپنے گنٹا۔

کپٹل۔ (ق۔ صفت) تیز سخت۔  
کپوٹ۔ (دک۔ پوٹ) (۱) ۱۰۵۔ [مذ] نالائق بیٹا۔ بڑا اور بد چلن  
لڑکا۔  
کپوٹ بیٹا مر جھلا۔ (۱) مثل) نالائق بیٹے کا مرنا بہتر ہے۔

کپور۔ (دک۔ پور) (۱) ۱۰۵۔ [مذ] کا فور۔  
کپور کچی۔ (۱) ۱۰۵۔ (مذ) ایک قسم کی خوشبودار گھاں کی جڑ۔  
کپورا۔ (دک۔ پورا) (۱) ۱۰۵۔ [مذ] خصبہ۔ بیہنہ۔ خصوصاً بکرے یا  
بندھے کا۔

کپوری۔ (دک۔ پوری) (۱) ۱۰۵۔ [مذ] صفت) (۱) کا فور کی طرح سفید اور  
خوشبودار۔ کپوری۔ [مذ] (۲) ایک قسم کا پان۔ (۳) ایک رنگ۔  
کپول۔ (دک۔ پول) (ق ۱۔) مذ) گال۔  
کپولی۔ (دک۔ پولی) (ق ۱۰۔) مذ) متک۔ مانخا۔

کپتی۔ (دک۔ پتی) (۱) ۱۰۵۔ [مذ] (۱) چھوٹا کپا۔ (۲) چھوٹی سی چڑی  
شینسی۔ (۳) بارو درکھنے کا ظرف۔

## ک۔ ت

ککت۔ (۱) تابع فعل) کدھر۔ کس طرف۔ کہاں؟  
کتا۔ (ککت۔ تا) [۱] ۱۰۵۔ [مذ] تابع فعل) کتنا؟ (ق)۔  
کتا۔ (ککت۔ تا) [۱] ۱۰۵۔ [مذ] ایک قسم کی تلوار۔  
کتنا۔ (ککت۔ تا) [۱] ۱۰۵۔ [مذ] (۱) سگ۔ (۲) مشہور جانور۔ (۳) ایک

قسم کی گھاں جو کپوروں سے چھٹ جاتی ہے۔ (۳) غلام۔ (۴)  
بد وقت کا گھوڑا (۵) رہٹ کی کڑی (۶) گھڑی کا پڑتہ۔ (۷)  
(کنایت) کینہ۔ پاجی۔ ذلیل۔  
کتنا بھی دم بلا کر مچھتا ہے۔ (۱) مثل) گھر کی صفائی جب جاؤ  
پسند کرتے ہیں تو انسان کو سب سے زیادہ صفائی کا خیال

رکھنا چاہیے۔  
کتنا دیکھے گا نہ بھونکے گا۔ (۱) مثل) نہ لاجبی کو مال کی خبر ہوگی نہ  
نقصان پہنچائے گا۔ یعنی دیکھنے سے انسان کی جو کس

برہمی ہے۔  
کتنا راج بھایا اور کئی چاٹنے آیا۔ (۱) مثل) کینہ آدمی اعلیٰ مرتبہ پر  
پہنچ کر اپنے زنبہ کا لحاظ نہیں رکھتا بلکہ اپنی جلی عادت کی بطور  
دعوت کرتے ہے۔  
کتنا گھاس۔ (۱) صفت) ایک قسم کی گھاں جو بربیب اپنے خاوں





**کتر و آل** - (دک - تیز - وان) (جھ - صفت) [آڑا - تیز چھا - اُیر ہواں -  
**کتر و آل چال** - (۱-۱-۱) (مٹھ - تیرھی پھال -  
**کتر وانا** - (دک - تیز - وانا) (جھ - مٹھ) [قطع کرانا - ترشوانا - بیوت  
 کرانا -  
**کتر وائی** - (دک - تیز - وائی) (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [قطع کرانے کی اُجرت  
**کترئی** - (دکٹھ - برئی) (ق - ۱-۱) (مٹھ) [آفت -  
**کترئی** - (دکٹھ - برئی) (ق - ۱-۱) (مٹھ) [تینچی -  
**کٹھ** - (دکٹھ - کٹھ) (دک - تفت) (ع - ۱-۱) [مڈا کندھا - شانہ -  
 مونڈھا (۲) گائے بکری کے اگلے پیروں کا اُوپر کا حصہ جو شانے  
 سے بلا ہوتا ہے - جسے تصاب کہتے ہیں -  
**کٹک** - (دکٹھ - دگ - ٹنگ - کٹھ) (کا - ۱-۱) [مڈا کٹکا - (۲) ہنگ  
 گھومنے کا سوتلا - ٹوسل - ڈنڈا -  
**کٹل** - (دکٹھ - ٹل) (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [اینٹ یا سبل کا ٹکڑا - (۲) پتھر  
 کی کڑیج - (۳) مٹی کے برتن کا ٹکڑا - ٹیکری -  
**کٹل ترا** - (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [ٹیکری اس طرح پھینکا کہ پانی پر تیرتی ہوئی  
 نکل جائے -  
**کٹلا** - (دکٹھ - لا) (جھ - ۱-۱) [مڈا کٹلا - پھانک - ٹیکڑا -  
**کٹلے** - (دکٹھ - لے) (ق - ۱-۱) [مڈا کٹلے جو چنے کی والی درترکائی  
 سے بنایا جاتا ہے -  
**کٹم** - (دکٹھ - مان) (جھ - ۱-۱) [مڈا کٹم - چھپاؤ - پرشیدگی (۲)  
 سحاب - پردہ -  
**کٹنا** - (دکٹھ - نا) (جھ - تابع فعل) [۱] اس قدر - کس مقدار کا - (۲)  
 کہاں تک - کس درجے تک ؟ (۳) چاہے - جس قدر -  
**کٹنے پانی میں** ہے - (۱-۱) (مٹھ) [کٹنا ٹھوس ہے - (۲) کہاں  
 تک دستگاہ ہے -  
**کٹنا** - (دکٹھ - نا) (جھ - مٹھ) [کٹنا جانا - روئی کا تانا گانا بنا نا -  
**کٹنا** - (دکٹھ - نا) (جھ - مٹھ) [انمازہ ہونا - تخمینہ ہونا -  
**کٹوال** - (دکٹھ - وال) (جھ - ۱-۱) [مڈا کٹوال کا محقق -  
**کٹوانا** - (دکٹھ - وانا) (جھ - مٹھ) [سوت تیار کرانا - چتر چلوانا -  
 کسی سے سوت کا تھکا کا لایا -  
**کٹھا** - (دکٹھ - ٹھا) (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [۱] بیان - مقولہ - بات (۲) قصہ -  
 کہانی - افسانہ (۳) ذکر - روایت - (۴) وعظ - پند مذہبی -  
 اُپریش -  
**کٹھا پھنا** - (جھ - مٹھ - مرکب) [منقہ س کتاب کا وعظ سنانا -  
 ستر سنانا -  
**کٹھا** - (دکٹھ - ٹھا) (جھ - ۱-۱) [مڈا کٹھا کے ساتھ کھانے والی ایک  
 سیاہی مائل چیز -  
**کٹھا** - (دکٹھ - لا) (جھ - ۱-۱) [مڈا کٹھا (۱) مڑا تہ - بساند - (۲) ناپاکی - گندگی -  
**کٹھری** - (دکٹھ - برئی) (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [۱] چھترے کا ہوا کپڑا -

**گڈڑی** - (۲) کٹی (۳) بستر -  
**گٹھک** - (دکٹھ - ٹھک) (جھ - ۱-۱) [مڈا کٹھک اور گانے والا (۲) لاکا - (۳)  
 گویوں اور ناپنے والوں کا ایک ہندو فرقہ - (۳) تعریف گو -  
**گٹھل کٹھیل** - (ق - ۱-۱) [مڈا کٹھل -  
**گٹی** - (دکٹھ - ٹی) (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [۱] شماروں کا ایک اوزار (۲)  
 ایک قسم کی تلوار - نیچے -  
**گٹیا** - (دکٹھ - ٹی) (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [یا] (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [۱] مادہ سگ -  
 (۲) حصار (۳) کھیتی اور پھینال عورت -  
**گٹیا چوروں** سے بل گئی مہرا دیوے کون - (۱) مثل - جب اپنے  
 ہی دشمن ہو جائیں تو پھر ساتھ کون دے -  
**گٹیا کا پلا** - (۱-۱) [مڈا کٹیا کا بچہ - پلا - (۲) ادنی آدمی - (۳) حرام کار -  
 سٹالی -  
**گٹیا کے پھینالے** میں پکڑا جانا (پھینسا) - (۱-۱) (مٹھ) اور کی  
 بلا میں پھینا - دوسرے کے جرم میں گرفتار ہونا - مُفت میں  
 بدنام ہونا -  
**گٹیرا** - (دکٹھ - ٹی) (جھ - ۱-۱) [مڈا کٹیرا] (۱) ایک قسم کا گوند - (۲) لوہا کترنے  
 کا ایک آہنی اوزار -

# ک . ٹ

**کٹ** - (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [۱] ایک دوا (۲) کٹی کا کاغذ - (۳) دھات -  
 (۴) زرد کوکب - مار پیٹ - (۵) انگ - الفظ - ٹھرا (۶) آگرتھے  
 کے نام کو اُوپر کے دانت سے رکھ کر بجانے کی آواز جو بچوں  
 میں دوستی قطع کرنے کی علامت ہوتی ہے -  
**کٹ بدیا** - (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [زرد کوکب - گوشالی -  
**کٹ کرنا** - (مٹھ - مرکب) [دوستی ترک کرنا - ملاقات چھوڑنا - آشنائی  
 ترک کرنا -  
**کٹ** - (جھ - ۱-۱) (مٹھ) [۱] کارٹ کا محقق - (۲) [مڈا سیاہ رنگ جس  
 سے پھینٹ چھاپتے ہیں - (۳) کر - صلب -  
**کٹ جانا** - (۱) دو ٹکڑے ہو جانا - رجم لگ جانا - ترش جانا - (۲)  
 بارش کے سبب راستے میں گڑھے پڑ جانا - (۳) شرمندہ ہو جانا -  
 نجل ہو جانا - (۴) گذر جانا - بس جانا - (۵) علیحدہ ہو جانا - (۶)  
 قتل ہو جانا - (۷) رنگ اُڑ جانا - (۸) منہا ہو جانا - (۹) فصل کا صاف  
 کیا جانا - (۱۰) بار جانا - (۱۱) خارج ہو جانا - (۱۲) دریا کا کنارہ کٹ  
 جانا -  
**کٹ بچت** - (۱) صفت - عواہ عواہ محبت کرنے والا -  
**کٹ بچتی** - (۱-۱) (مٹھ) [بلے جا بچت -  
**کٹ کٹ جانا** - (۱-۱) (مٹھ) [نہایت شرمندہ ہونا - شرم کے لاکے

مر جانا۔

کٹ کٹ کے مرنا۔ (۱- محاورہ) خوب جان نوڑ کر لڑنا۔ نہایت بہادری سے اور شجاعت سے لڑنا۔

کٹ کٹ کھنا۔ (۱- صفت) (۲) کاٹ کھانے والا۔ منہ مارنے والا (۳) حروف کی وہ شکل جس میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے طالب علم کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ (۴) عادت۔ بچپن۔ ڈھنگ۔ (آخری معنی میں جمع کٹ کٹے) مستعمل ہے۔

کٹ مرنا۔ (۱- محاورہ) باہم لڑ کر مر جانا۔

کٹ مٹتا۔ (۱- مذ) (۲) بدست۔ (۳) موٹا۔ (۴) طاقت و رور (۵) بے بکرا۔

کٹ مستی۔ ذوق۔ صفت۔ مٹا۔ قوی مہل۔

کٹا۔ (کٹ۔ کٹا) (۱- صفت) کٹا ہوا۔ کاٹا ہوا۔

کٹا چھنی۔ (۱) بھر۔ سخت عداوت (۲) لڑائی بھڑائی۔ کشت و خون۔ کٹے پرنسک چھوڑنا۔ کٹے پر ٹون لگانا۔ (۱- محاورہ) زخم پر نیک ڈال کر تکلیف دینا۔ دکھ میں اور دکھ دینا۔ جیلے کو اور جلانا۔ سحر کو مانا۔

کٹے جانا۔ شرم کے مارے گڑھے جانا۔ نہایت شرمندہ ہونا۔

کٹا۔ (کٹ۔ کٹا) (۱- صفت) (۲) سخت۔ پکا۔ مضبوط (۳) طاقت و زور آور۔ (۴) [مثلاً] سوئی چول۔ (۵) دین (بھینس) کا بچہ۔

کٹا۔ (کٹ۔ کٹا) (۱- مذ) (۲) کھاڑا کھاڑا ہوا کبوتر۔

کٹا چھنی۔ (۱- محاورہ) ٹوک جھونک۔ عداوت۔

کٹا دینا۔ (۱- محاورہ) پرکٹے ہوئے کبوتر کو اس غرض سے جنبش دینا کہ اسے دیکھ کر دوسرے کبوتر آئیں۔

کٹار۔ (کٹ۔ کٹار) (۱- صفت) (۲) پیش قبض۔ (۳) ایک درندہ جو نیولے سے مشابہ ہوتا ہے۔

کٹار۔ (کٹ۔ کٹار) (۱- مذ) چھوٹا گھوڑا۔ شہر ریٹو۔

کٹار۔ (کٹ۔ کٹار) (۱- صفت) (۲) ایک دوا کے پودے کا نام۔

کٹاری۔ (کٹ۔ کٹاری) (۱- صفت) (۲) چھوٹا خنجر۔ (۳) خنجر کی شکل کے نشان جو لیشی گلبدن یا لنگھی وغیرہ پر ہوتے ہیں۔

کٹاری کی گوڑھی۔ (۱- صفت) وہ سوئی ٹوک جو کٹاری کے برے پر ہوتی ہے۔

کٹاریا۔ (۱- مذ) ایک قسم کا ریشمی کپڑا جس میں آڑھی دھاریاں ہوتی ہیں۔

کٹانا۔ (کٹ۔ کٹانا) (۱- صفت) (۲) دیکھنے کٹوانا۔

کٹاؤ۔ (کٹ۔ کٹاؤ) (۱- مذ) [مثلاً] تراش۔ تراش۔ (۲) گلکاری۔ (۳) تھکاری۔ (۴) زخم۔

کٹائی۔ (کٹ۔ کٹائی) (۱- صفت) (۲) فصل کا کٹنا۔ (۳) کٹوانے کی آہرت۔ (۴) فصل اٹھانے کا موسم۔

کٹ پیس۔ (Cutpiece)۔ (۱- مذ) کپڑے کے

تھانوں کے ٹکڑے۔

کٹتی کٹتی بائیس۔ (۱- صفت) (۲) طے کی باتیں۔ جلی کٹی باتیں۔

کٹتی کٹتا۔ (۱- صفت) (۲) برائی کرنا۔ کسی کے خلاف کھانا۔

کٹڑ۔ (کٹ۔ کٹڑ) (۱- صفت) (۲) سنگ دل۔ بے شرم۔ سخت دل۔

کٹڑ کٹڑ۔ (کٹ۔ کٹڑ) (۱- صفت) (۲) موٹا چتر۔

کٹڑا۔ (کٹ۔ کٹڑا) (۱- مذ) (۲) احاطہ۔ چھوٹا سا کچیہ۔ (۳) منڈی۔

چوک۔ چھوٹا سا بازار۔ (۳) بھینس کا تر بچہ۔ (۴) کاٹھ کا گونڈا۔

تر کی بجائے تر بھی مستعمل ہے۔

کٹڑی۔ (کٹ۔ کٹڑی) (۱- صفت) (۲) دریا کے کنارے کی زمین۔

چوک۔ چھوٹا سا بازار۔ (۳) بھینس کا تر بچہ۔ (۴) کاٹھ کا گونڈا۔

تر کی بجائے تر بھی مستعمل ہے۔

کٹ سٹوئی۔ (کٹ۔ کٹ سٹوئی) (۱- مذ) ایک پرندہ۔

کٹک۔ (کٹ۔ کٹک) (۱- صفت) (۲) لشکر۔ فوج۔ سیاہ۔

کٹکٹانا۔ (کٹ۔ کٹکٹانا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹی۔ (کٹ۔ کٹکٹی) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔

کٹکٹا۔ (کٹ۔ کٹکٹا) (۱- صفت) (۲) دانوں کا آپس میں رگڑنا۔



کج ادائیگی - (دف۔ ا۔ مٹ) ۱۱، بے مروتی۔ بے وفائی۔ بے رنجی۔ (۲۰)  
 کج بخت - (دف۔ ج۔ صفت) وہ شخص جو اُلٹی سیدھی بحث کے  
 کج بختی - (دف۔ ا۔ مٹ) نامعقول گفتگو۔ فضول تکرار۔ اُلٹی پلوی بحث  
 کج خلقی - (دف۔ ج۔ صفت) بد مزاج۔ اُکھڑ۔ بے مروت۔ بد اخلاق

کج خلقی بد نحو۔ بد سرشت۔  
 کج دار و مرہیز - (دف۔ مثل) پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو ٹیڑھا رکھنا  
 مگر گرانا نہیں۔ ایسے موقع پر بولتے ہیں۔ جب کسی شخص کو تنگ کرنے  
 کے لیے اُسے دو متضاد باتوں کی میل پیم پیم پور کیا جائے۔

کج راستے - (دف۔ ج۔ صفت) وہ شخص جس کی تدبیر اور راستے درست  
 کج رفتار - کج رو۔ (دف۔ ج۔ صفت) ٹیڑھی چال چلنے والا۔ ناہنہار۔  
 کج روی - (دف۔ ج۔ ا۔ مٹ) ۱۱، ٹیڑھی چال چلنا۔ (۲۰) اُلٹے راستے  
 پر چلنا۔  
 کج سرشت - کج طبع۔ کج مزاج۔ (دف۔ صفت) بد نحو۔ بد طبیعت۔  
 بد اخلاق۔

کج فہم - (دف۔ صفت) خود رائے۔ اُلٹی رائے کا۔  
 کج فہمی - (دف۔ ا۔ مٹ) نا سمجھی۔ غلط فہمی۔  
 کج کلاہ - (دف۔ صفت) ۱۱، ٹیڑھی ٹوٹی رکھنے والا۔ شاہان ایران کا لقب  
 (۲۰) بالکا۔ تریچھا۔ (۳) دکنا (بند) معشوق۔  
 کج کلاہی - (دف۔ ا۔ مٹ) باکھین۔ خود نمائی۔  
 کج بیان - کج زبان۔ (دف۔ صفت) ۱۱، وہ شخص جس کا کلام فصیح نہ ہو۔  
 (۲۰) وہ شخص جو صاف نہ بول سکے۔

کج مدار - (دف۔ صفت) ٹیڑھی چال چلنے والا۔  
 کج مریز - (دف۔ صفت) انکار میں درپردہ اقرار کرنے والا۔  
 کج نظر - (دف۔ صفت) ٹیڑھی نظر والا۔ بد باطن۔  
 کج نظری - (دف۔ ا۔ مٹ) تریچھی نگاہ سے دیکھنا۔ بد باطنی۔  
 کج نہاد - (دف۔ ا۔ صفت) بد سرشت۔ بُری فطرت والا۔  
 کججا - (کج۔ جا) [فت۔ تابع فعل] ۱۱، کدم جا کا محضف۔ کہاں۔  
 کس جگہ۔ (۲۰) نفع کے واسطے بھی آتا ہے۔

کججا - (۱) مذ۔ کوزہ کا بگڑا ہوا۔ دیکھیے "کوزہ"  
 کججات - (کج۔ جات) (۲۰) صفت [کینی ذات کا۔ کینہ۔ نیچی قوم کا۔  
 (۲) غیر ذات کا۔

کجاوہ - (کج۔ جا۔ وہ) (۱) مذ [اؤٹ کی کاٹھی۔ جس پر دو  
 شخص ایک دوسرے کے متقابل بیٹھے ہیں۔  
 کججا - (کج۔ تا) (۱) صفت [کجگین۔  
 کججا - (۱) مذ [کابل۔

کچھل پکھلنے کا کاشا - (۳۰) جوان بھیس۔  
 کٹیلا - (ک۔ ٹی۔ یا) (۱) مذ [۱۰۰۔ ا۔ مذکر] ۱۱، ایک خاردار بوٹی۔ (۲۰)  
 ایک تکرکی موٹی گھاس۔  
 کٹیلا - (ک۔ ٹی۔ ا۔) (۲۰) صفت [۱۱، خاردار۔ نوک دار۔ (۲۰) دل  
 میں کھینچنے والا۔ درہما۔ (۳۰) زہریلا۔ قاتل۔ (۴۰) تیز۔ آبدار۔  
 (۵) چالاک۔ بہادر۔

## ک۔ ش

کٹافت - (ک۔ شاف۔ فٹ) (ع۔ ا۔ مٹ) [گاڑھ پان۔ گھنپان۔  
 موٹائی۔ (۲) غلاظت۔ نجاست۔

کٹافت سہیا - غلاظت کو ناپنے والا آلہ (Pvrometer)  
 کثرت - (کث۔ زت) (ع۔ ا۔ مٹ) [۱۱، زیادتی۔ افراط۔ بہتات۔  
 (۲۰) مجازاً] انہو۔ هجوم۔ پھیڑ۔ بھڑمٹ۔

کثرت رائے - لوگوں کی رائے کا کسی امر کی طرف زیادہ ہونا۔  
 کثیر - (کث۔ تیز) (ع۔ صفت) بہت۔ زیادہ۔ افراط سے۔ بے شمار۔  
 کثیر المصالح - (ع۔ صفت) بہت سے ضلعوں کی شکل۔  
 (اقلیدس)۔

کثیر العیال - کثیر الاولاد - (ع۔ صفت) وہ شخص جس کی اولاد  
 بہت زیادہ ہو۔ بہت سے بال بچوں والا۔  
 کثیر العلائق - (ع۔ صفت) کثرت سے تعلقات رکھنے والا۔  
 کثیر المعانی - (المعنی) (ع۔ صفت) وہ لفظ جس کے بہت سے  
 معنی ہوں۔

کثیر المقاصد - (ع۔ صفت) جس میں بہت سے مقاصد شامل  
 ہوں۔ (Multipurpose)

کثیر التوجس - (ع۔ صفت) کثرت سے واقف ہونے والا۔  
 کثیف - (کث۔ ثیف) (ع۔ صفت) [۱۱، دبیز۔ غلیظ۔ گاڑھا۔  
 (۲) گندہ۔ میلا۔ ناپاک۔  
 کثیف الطبع - میلا آدمی۔ غلیظ آدمی۔ وہ شخص جو پاک صاف  
 نہ رہے۔

## ک۔ ج

کج - (کج۔ صفت) [۱۱، خمیدہ۔ ٹیڑھا۔ تریچھا۔ آڑھا۔  
 کج اخلاق - (دف۔ ج۔ صفت) بد اخلاق۔ بد مزاج۔ اُکھڑ روکھا۔  
 کج ادب - (دف۔ صفت) بد مروت۔ بے وفائی۔ روکھا۔  
 اُکھڑ۔

گجڑی۔ (۱-۵)۔ مرث) گیت کی ایک قسم جو عموماً ہولی میں گائے جیسے۔  
 گجکت۔ (رک۔ بجات)۔ [فت۔ ۱۰۔ مذکر] [تعلیمی کا آنکس۔  
 گجکول۔ گجکول۔ (رک۔ کول) (رک۔ کول) (فت۔ ۱۰۔ مذ) [جھیک  
 کی جھولی۔ کھکول۔ جھیک کا ٹھیکرا۔ زنبیل (۲) (مجازاً) وہ  
 بیاض جس میں منتخب اشعار یا مضامین ہیں درج ہوں۔  
 گجکلا۔ (رک۔ لا)۔ [۱۰-۱۵] [مذ] [کابل کی تصنیف۔  
 گجکلا نا۔ (رک۔ لانا)۔ [مض۔ ۱۱] آگ کا بھجوانا۔ (۲) سانولا بھجانا۔  
 گجکولٹی۔ (رک۔ کوئی)۔ [۱۰-۱۵] مرث] [کابل کی ڈبیا۔ سرمدانی۔  
 گجٹی۔ (رک۔ ٹی)۔ [۱-۵] مرث] [۱۱] [کابل (۲) ہمتی۔  
 گجلی بن۔ (۱-۵) مرث] ہاتھیوں کا جنگل۔  
 گجی۔ (رک۔ جی)۔ [فت۔ ۱-۵] مرث] [ترجمان۔ تمیدگی۔ ٹیرٹھاپن۔  
 گجی۔ (رک۔ جی)۔ [۱-۵] مرث] [چھوٹا گودہ۔  
 گجی دینا۔ (۵-۶) معاوہ) روغن تاز ملنا۔ خوشامد کرنا۔

گچا جانا۔ (۱-۵) معاوہ) استعاطا حمل ہونا۔ ادھورا بچہ پیدا ہونا۔  
 گچا چٹھا۔ (۱-۵) مذ) صیح صیح حال۔ کل کیفیت۔  
 گچا ڈو دو دھ پینا۔ (۱-۵) معاوہ)۔ [کنٹینا] طینت میں غامی ہونا۔ غامی شرت  
 ہونا  
 گچا ڈو دو دھ سب نے پیا ہے۔ (۱-۵) مثل) اس جگہ بولتے ہیں جہاں  
 یہ کہنا ہو کہ انسان سے معمول چوک ہو رہی کہ تی ہے۔  
 گچا ساتھ۔ (کنیہ)۔ (۱-۵) مذ) چھوٹے چھوٹے بچوں کا کنیہ۔  
 گچا کاغذ۔ (۱-۵) مذ) وہ کاغذ یا دستاویز جن پر اسٹامپ لگا ہوا۔  
 گچا کرنا۔ (۱-۵) معاوہ) [۱۱] ذلیل کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ (۲) کچی سلائی کرنا۔  
 گچا کوڑ۔ (۱-۵) مذ) دریا کا ڈھلوان کنارہ۔ دریا برد آمد زمین۔  
 گچا کھا جانا۔ (۱-۵) معاوہ) نہایت شغلی کے موقع پر بولتے ہیں۔ یعنی  
 ایسا غصہ ہے کہ پہلے میں بھی دیر نہ لگاؤں گا۔ کچا ہی کھ  
 جاؤں گا۔  
 گچا کو۔ (۱-۵) مذ) ایک قسم کی نرکاری جو اروی کی قسم سے ہے اور  
 نمک مرچ اور کھٹائی وغیرہ ڈال کر کھاتے ہیں۔  
 گچا نڈ (گچا ہنڈ) [۱-۵] مرث] [آئی ہوئی چیز کے گچا رہ جانے کی بول  
 گچا ہونا۔ (۱-۵) معاوہ) ہمت ہارنا۔ شرمندہ ہونا۔ (۲) کھینا ہونا۔  
 (۳) نا تجربہ کار ہونا۔  
 گچے کئے دن۔ (۱-۵) معاوہ) [۱۱] حمل کے چوتھے پانچویں مہینے تک کا زمانہ  
 جس میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ (۲) برسات کا موسم جس  
 میں بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔  
 گچے دھاگے میں بندھنا۔ (۱-۵) معاوہ) [کنٹینٹ] میٹھ ہونا۔ فرماں بردار  
 ہونا۔  
 گچے گھرے پانی بھرنا۔ (۱-۵) معاوہ) [۱۱] دشوار اور ناممکن کام کرنا (۲)  
 سخت مشکل یا تکلیف اٹھانا۔ بہت بڑی مصیبت چھیلنا۔  
 گچے گھرے کی چڑھنا۔ (۱-۵) معاوہ) [۱۱] نشے میں غرق ہونا۔ (۲) پائل  
 ہونا۔ دیوانہ ہونا۔  
 گچے پینچ۔ (۱-۵) مرث) کیچڑ۔ دلہل (۲) کیچڑ میں چلنے کی آواز۔  
 گچا۔ (رک۔ را)۔ [۱-۵] [مذ] [کچا پیلن۔ (۲) کچا خرزوزہ۔ (۳) کپاس کا  
 ڈوڈا۔  
 گچے پچھر۔ (رک۔ چڑ۔ پ۔ چڑ)۔ [۱-۵] مرث] [۱۱] مٹی میں نست پست کیچڑ میں  
 بھرتا ہوا۔ (۲) بھیگا ہوا۔  
 گچے پچھر ہونا۔ (۱-۵) معاوہ) دلہل یا کیچڑ میں چلنے کی آواز ہونا۔ نست  
 پست کیچڑ ہونا۔  
 گچے چڑ۔ (رک۔ چڑ۔ ک۔ چڑ)۔ [۱-۵] مرث] [کچے پھل کھانے کی آواز۔  
 (۲) بک بک شہر و غل۔  
 گچے چڑی۔ (رک۔ رٹی)۔ [۱-۵] مرث] [۱۱] ایک بھل۔ چھوٹا کچا۔  
 گچے چڑو نا۔ (رک۔ ٹرانا)۔ [۱-۵] مرث] [۱۱] [کھولوں میں کیچڑ آنا۔  
 گچے۔ (۱-۵) مرث] [۱۱] بک۔ بک۔ نکلا۔ جنت۔

# ک۔ چ۔ ک۔ ج

کچ۔ (۵-۶) مرث] [۱۱] کچا کا مختلف۔ خام۔  
 کچ۔ (۱-۵) مذ) چھوٹے چھوٹے۔ کم عمر لڑکے بالے۔  
 کچ پھینچا۔ (۵-۶) مرث] [۱۱] بولا۔ کمزور (۲) اوجھا۔ (۳) غیر منتقل مزاج۔  
 کچ ولا۔ (۵-۶) مرث] [۱۱] بولے دل کا آدمی۔ بزول۔ وہ شخص جو مشکل  
 کام میں ہمت ہار جائے۔  
 کچ دھات۔ (۵-۶) مرث] [۱۱] کچی دھات۔ فلز۔ دھات اور دیگر چیزوں  
 کا مرکب۔  
 کچ کونڈا۔ (۵-۶) مذ) کچا آنا۔ کچے آگے کا پیرا۔  
 کچ کھو۔ کچ کھو۔ (۱-۵) مذ) پیپ لائٹ ہوا خون  
 کچ۔ (۵-۶) مرث] [۱۱] چوچی چھاتی۔ پستان۔ حقن۔ (۲) سر پستان۔  
 کچ۔ (رک۔ چا)۔ [۱-۵] مرث] [۱۱] خام۔ ناپختہ۔ (۲) بولا۔ (۳) طام۔  
 (۲) بن پکا۔ (۵) وہ بچہ جو پیدا ہونے کے معمولی اوقات سے  
 پہلے جو جائے۔ (۲) [۱۱] بولے کار (۲) اڑ جانے والا رنگ (۲) ایسا  
 زمان جو صرف مٹی کا بنا ہوا ہو۔ (۲) آدھ گلا۔ (۱۱) چھوٹا جس  
 کا مواد پکا نہ ہو۔  
 کچا پکا۔ (۱-۵) مرث] [۱۱] نیم کھیت (۲) مذرب (۲) وہ تعمیر جس میں  
 کہیں اینٹ پھرنا اور کہیں اینٹ گارے کی چٹائی ہو۔  
 کچا پکا کرنا۔ (۱-۵) معاوہ) [۱۱] آدھ چھنا کرنا۔ (۲) کسی بات پر نیم راضی کرنا۔  
 کچا بن۔ پنا۔ (۱-۵) مذ) غامی۔ ناپختگی۔ نا تجربہ کاری۔  
 کچا مٹا گا۔ (۱-۵) مذ) [۱۱] بغیر میل دیا ہوا سوت۔ (۲) نا ذک چیز۔  
 کچا تخمینہ۔ (۱-۵) مذ) سرسری اندازہ۔ ناقص اندازہ۔

چکچکیانا۔ (ک۔ چ۔ نا) (ق۔ مص) عاجز آنا۔  
 چکچکیانا۔ (ہ۔ مص) غصے سے دانت پینا۔  
 چکچکیا ہٹ۔ (ہ۔ ا۔ مرث) چکچکیا کا حاصل مصدر۔ دانتوں کے پینے کی حالت۔ زور سے دانت پینا۔  
 چکچکی۔ (ک۔ ب۔ جی) (ہ۔ ا۔ مرث) چکچکیا ہٹ۔  
 چکچکڑ۔ (ک۔ ک۔ کڑ) (ہ۔ ا۔ غ۔ ا) چکچکے یا دھیل مچھلی کی ہڈی۔  
 چکچکول۔ (ک۔ ک۔ کول) (ا۔ ا۔ غ۔ ا) دیکھنے کی جگہ۔  
 چکچکانا۔ (ق۔ مص) دق ہونا۔ پریشان ہونا۔  
 چکچکلا۔ (ک۔ ل۔ لا) (ہ۔ ا۔ مذ) ایک نہر پلاصل۔ ایک نہر ملی دوا۔  
 چکچکانا۔ (ک۔ ل۔ لا۔ جانا) (ہ۔ مص) (۱) پس جانا۔ مسلا جانا۔ (۲) پامال ہونا۔ (۳) مالا جانا۔ پٹا جانا۔  
 چکچ جینا۔ (ک۔ جین۔ دے نا) (ہ۔ مص) [مسل دینا۔ پس دینا۔ موٹا موٹا پس دینا۔  
 چکچل ڈالنا۔ (ہ۔ مص) (۱) پس ڈالنا۔ (۲) مسل دینا۔ (۳) پامال کر دینا۔ روند ڈالنا۔  
 چکچکنا۔ (ک۔ چک۔ ن) (ہ۔ مص) (۱) مسنا۔ رگیدنا۔ روندنا۔ (۲) مارنا۔  
 چکچکنا۔ چکچکنا۔ چکچکنا۔ (۳) کسی چیز کو ہم کو ب کرنا۔  
 چکچکی۔ (ک۔ ک۔ کی) (ہ۔ ا۔ مرث) نوک دار دانت۔ کٹا دانت۔  
 چکچکی۔ (ک۔ ک۔ کی) (ق۔ ا۔ مرث) کینپلی۔  
 چکچکن۔ (ق۔ ا۔ مذ) زور۔ طلا۔  
 چکچکار۔ چکچنال۔ (ک۔ ک۔ نال) (ہ۔ ا۔ مرث) ایک درخت اور اس کے پھول جو سبزی کی طرح پکا کر کھائے جاتے ہیں۔  
 چکچکو۔ (ک۔ ک۔ کچو) (ہ۔ ا۔ مذ) پچالو کی طرح کا ایک پھل۔  
 چکچکواٹ۔ (ک۔ واط) (ق) نفرت۔  
 چکچکانا۔ (ک۔ و۔ نا) (ق) مص [جی مثلانا۔ نفرت کرنا۔ رچ کرنا۔  
 میرا ہونا۔ دق ہونا۔ پہلو ہتی کرنا۔  
 چکچکانسی۔ (ک۔ واط۔ سی) (ہ۔ ا۔ مرث) بسوانسی کا میواں حقدہ  
 چکچکو۔ (ک۔ ک۔ کچو) (ہ۔ ا۔ مرث) اچ کی مقدار۔  
 چکچوری۔ (ک۔ چو۔ زری) (ہ۔ ا۔ مرث) ماش کی وال بھری ہوئی پوری۔  
 چکچوری کے سے گال۔ (ا۔ مذ) چھوٹے چھوٹے گال۔  
 چکچوکا۔ (ک۔ جو۔ کا) (ہ۔ ا۔ مذ) نوکدار چیز۔ بھونکنا۔ دکنایت، طعن و تشنیع۔  
 چکچومر۔ (ک۔ بچ۔ مر) (ہ۔ ا۔ مذ) ایک طرح کا اچار۔ جس میں کیریاں وغیرہ کتر کر جاتے ہیں۔  
 چکچومر کر دینا۔ (ا۔ محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ہلاکت کے قریب

پہنچا دینا۔  
 چکچومر نکالنا۔ (ا۔ محاورہ) بھر کس نکالنا۔ بہت مارنا۔  
 چکچونا۔ (ک۔ چو۔ نا) (ہ۔ مص) [چھونا۔ بھونکنا۔ گھونپنا۔  
 چکچوہ۔ (ک۔ چو۔ ہ) (ہ۔ ا۔ مرث) [تہا] کا تباہ کن جزئیہ کے لیے آتا ہے جیسے ہلر کچوہ۔  
 چکچوہ۔ (۱۔ مذ) (۱) بن۔ پہلو (۲) دیوار کا کونا (۳) پوتر (۴) انعام نہانی۔  
 (۵) چھوٹا۔ سنگ پشت (۶) سکھوں کا چانگھیا  
 چکچوہ۔ (ہ۔ مص) (۱) ڈھلکسی قدر۔ حقوڑا۔ (۲) استفہام کے لیے کیا؟ کہیں؟ کوئی؟ (۳) کثرت کے لیے) بہت کچھ۔ بہت زیادہ۔ (۴) بطور انکار۔ نہیں کی تاکید۔ بالکل۔ مطلق۔ (۵) (جب مگر آتا ہے) حالت کا جلد بولنا یا بر کرتا ہے۔ (۶) کسی مہلک چیز کے صدر یا اشارے کے لیے جہاں قرینہ دلالت کرے (کچھ کھار کر مر گیا)۔  
 چکچوہ سے نہیں۔ (ا۔ محاورہ) قدیم سے ہے۔ ہمیشہ سے ہے۔  
 چکچوہ آتسو کچھ گئے۔ (ا۔ محاورہ) کسی قدر کم ہو گیا۔ کسی قدر تسلی ہو گئی۔  
 چکچوہی خبر ہے۔ (ا۔ محاورہ) اپنی حالت کا بھی کچھ پتہ ہے۔  
 چکچوہ اتنا فرق نہیں۔ (ا۔ محاورہ) کوئی زیادہ فرق نہیں۔  
 چکچوہ اجارہ ہے۔ (ا۔ محاورہ) قابو نہیں۔ کچھ دعویٰ نہیں۔  
 چکچوہ اور۔ (ا۔ صفت) (۱) اور بھی (۲) دوسری بات۔ (۳) تازہ۔ جدید۔ نئی۔  
 چکچوہ اور بات ہے۔ (ا۔ محاورہ) (۱) شک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں کوئی اور بات ہے۔ (۲) خلاف امید بات ہے۔  
 چکچوہ اور عالم ہو گیا ہے۔ (ا۔ محاورہ) حالت اور کیفیت بدل گئی ہے۔  
 چکچوہ ایسا نہیں۔ (ا۔ محاورہ) جیسا خیال ہے ویسا نہیں۔  
 چکچوہ بات بھی ہے۔ (ا۔ محاورہ) کوئی وجہ بھی سوال کے لیے؟ کسی لیے؟ آخر کوئی سبب بھی؟  
 چکچوہ بات نہیں۔ (ا۔ محاورہ) معمولی بات ہے۔  
 چکچوہ بات ہے۔ (ا۔ محاورہ) کس لیے؟ کیوں؟  
 چکچوہ کی بھی خبر ہے؟ (ا۔ محاورہ) دنیا کے حالات سے بھی واقف ہو؟  
 چکچوہ بنیاد ہے۔ کوئی اصل اور حقیقت نہیں۔ کیا اصل ہے؟ نہایت منفس اور عاجز ہے۔  
 چکچوہ پروا نہیں۔ (ا۔ محاورہ) کیا ڈر ہے۔ کچھ مضائقہ نہیں۔  
 چکچوہ پر لپایا ہے۔ (ا۔ مثل) جب کسی آدمی کو بغیر کسی ظاہری سبب کے موش دیکھتے ہیں تو یہ فقرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا غیب سے کوئی نعمت اٹھ آگئی ہے؟  
 چکچوہ سمجھ سمجھ سمجھ۔ (ا۔ مثل) کسی امر کا نہیں خیال ہوا اور کسی بات کا نہیں۔ ہم تم برابر ہیں۔

کچھ تم نے سنا۔ (۱- محاورہ) حیرت کے قابل بات کہنے سے پہلے یہ فقرہ کہا جاتا ہے۔

کچھ تو۔ (۱- محاورہ) ذرا تو۔ غصوڑا بہت۔ کسی قدر۔ کوئی چیز۔ کچھ تو خروڑوڑہ بیٹھا اور کچھ اوپر سے فند پڑا۔ (۱- مثل) دل میں لالچ تو تھخای اور پھر سے نفع ہوا، حرص اور بڑھ گئی۔

کچھ تو بیٹھا ہے۔ (۱- مثل) ضرور کچھ غرض ہے۔

کچھ تو ہے۔ کوئی وجہ ضرور ہے۔ کوئی راز ہے۔

کچھ ٹھکانا ہے۔ (۱- محاورہ) کثرت اور عظمت کے موقع پر بولتے ہیں۔ کچھ حقیقت نہیں۔ (۱- محاورہ) بے حقیقت ہے۔ بے وقعت ہے۔

کچھ خبر ہے؟ (۱- محاورہ) حیرت اور تعجب کی جگہ کہتے ہیں۔

کچھ وال میں کالا کالا ہے۔ (۱- مثل) کوئی راز ہے۔ کوئی معاملہ ہے۔ کوئی شائبہ امر ہے۔

کچھ دلایتیے۔ کچھ دلوائیے۔ (۱- محاورہ) غصوڑا بہت ضرور دیکھیے۔

کچھ دور نہیں۔ (۱- محاورہ) بعد میں ہے۔ جوسکتا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو۔

کچھ دیا ہی آگے آگیا۔ (۱- مثل) کبھی کی دی ہوئی خیرات کام آگئی کہ خدا نے اس مصیبت سے بچالیا۔

کچھ دیکھ کر۔ (۱- محاورہ) کچھ نقص پا کر۔ (۲) سمجھ بوجھ کر۔ (۳) طبع سے۔ لالچ سے۔

کچھ ڈر نہیں۔ (۱- محاورہ) اندیشہ نہ کرو۔ وہشت نہ کھاؤ۔

خوف نہ کرو (۲) کیا پرواہ ہے بدلے کر چھوڑیں گے۔

کچھ راہ پر آتے ہیں۔ (۱- محاورہ) نیم راضی ہو گئے ہیں۔ کچھ درست ہو گئے ہیں۔

کچھ سمجھ کر۔ (۱- تابع فعل) کسی مصلحت سے۔

کچھ سنا چاہتے ہو۔ (۱- محاورہ) گالیاں سنا چاہتے ہو؟

کچھ سونا کھوٹا کچھ سٹار کھوٹا۔ (۱- مثل) ہر طرح نقصان۔

(۲) اُستاد اور شاگرد دونوں ٹکے۔ (۳) بیکار دونوں طرف سے ہوتا ہے۔

کچھ سے (کا) کچھ ہو جانا۔ (۱- محاورہ) (۲) غصوڑی بات کا بڑھ جانا۔

(۲) کوئی بڑا یا جھلا کام خلاف توقع ہو جانا۔ (۳) معاملہ کا رنگ بدل جانا (۴) انقلاب ہونا۔ حالت و گرد گول ہونا۔

کچھ شک نہیں۔ (۱- محاورہ) بلاشبہ۔ بے شک۔ کسی امر کا گمان کر رہے نہیں۔ یقیناً۔

کچھ کا کچھ سمجھنا۔ (۱- محاورہ) اٹھا سمجھنا۔

کچھ کا کچھ کرنا۔ (۱- محاورہ) اصل کے خلاف کہنا۔ اُمید کے خلاف۔

کچھ کرنا۔ (۱- محاورہ) انقلاب ہونا۔ حالت و گرد گول ہونا۔

کچھ کام نہیں۔ (۱- محاورہ) کچھ واسطہ نہیں۔ کچھ تعلق نہیں۔

کچھ کام ہو جانا۔ (۱- محاورہ) کچھ تعلق پیدا ہو جانا۔ ضرورت پیش

آنا۔ کوئی عمدہ بل جانا۔

کچھ کان میں چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) (۲) کچھ بڑائی کرنا۔ (۳) کوئی منتر یا جادو کرنا۔ (۴) کچھ کرنا میں چھوڑنا۔ (۵) کانا چھوڑی کرنا۔

کچھ کچھ۔ (۱- صفت) ذرا ذرا کسی قدر۔ تقریباً۔ غصوڑا بہت۔ گت۔ قدر سے قلیل۔

کچھ کتے دھرتے بن نہیں پڑتی (پڑتا)۔ (۱- محاورہ) عاجز ہونے کے لیے مستعمل ہے۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔

کچھ کر دینا۔ (۱- محاورہ) (۲) کوئی کام کر کے دکھانا۔ (۳) جاؤ کر دینا۔

کچھ کر لینا۔ (۱- محاورہ) نیکی کرنا۔ ثواب کا کام کرنا۔ نقصان پہنچانا۔ بدلہ لینا۔

کچھ کھا جانا۔ کچھ کھا لینا۔ (۱- محاورہ) زہر کھا جانا۔ کوئی ہلکے دو اکھا کر خود کھنی کر لینا۔

کچھ کھا کے سو رہنا۔ (۱- محاورہ) زہر کھا کے سو رہنا۔ خود کھنی کرنا۔ ایزن کھنا یا سنبھالنا کھنا۔

کچھ کھربے پھینکا۔ (۱- محاورہ) کھربے پھینکا۔ کوئی ناگوار بات کہہ دینا۔

کچھ کھوکھو کے سیکھنا۔ (۱- محاورہ) (۲) نقصان سے تجربہ حاصل کرنا۔ (۳) کھوکھو کر کے کھا کے سیدھا ہونا۔

کچھ کھیل نہیں ل۔ (۱- محاورہ) کچھ آسان نہیں۔

کچھ گره میں بھی ہے۔ (۱- محاورہ) کوئی رقم بھی پاس ہے۔ کوئی ہنر یا خوبی بھی ہے۔

کچھ گوشہ جھکے کچھ کھان۔ (۱- مثل) صلح کے لیے طرفین میں نرمی چاہیے۔ کچھ تم نرم ہو کچھ وہ نرم ہوں جب کام بنے۔

کچھ گہول بیلے کچھ جندرے ڈھیلے۔ (۱- مثل) ہبانہ کرنے والی عادت کی نسبت کہا جاتا ہے۔

کچھ لے رہنا۔ (۱- محاورہ) کچھ حاصل کرنا کچھ فائدہ اٹھانا۔

کچھ ملا دینا۔ (۱- محاورہ) کوئی ہلکے چیر کھانے میں ملا دینا۔ زہر ملا دینا۔

کچھ منہ سے نکالنا۔ (۱- محاورہ) زبان سے کچھ کہنا۔ بڑھلا کرنا۔

کچھ نہ اکھاڑنا۔ (۱- محاورہ) ذرا نقصان نہ پہنچانا۔ قابو نہ چل سکانا۔

کچھ نہ پوچھو۔ کچھ نہ پوچھو۔ (۱- محاورہ) (۲) کہنے کے قابل نہیں۔ قابل اظہار بات نہیں۔ (۳) کیا کہتا ہے۔ کیا بات ہے۔

کچھ نہ چینا۔ (۱- محاورہ) کچھ پیش نہ جانا۔

کچھ نہ کچھ۔ (۱- محاورہ) کسی نہ کسی قدر۔ غصوڑا بہت۔ کوئی نہ کوئی چیز۔

کچھ نہ کچھ ہو رہنا۔ (۱- محاورہ) غصوڑی بہت کامیابی ہونا۔

کچھ نہ نکلا۔ (۱- محاورہ) بالکل شراب نکلا۔ اکارت گیا۔

کچھ نہ ہوا۔ (۱- محاورہ) کوئی نتیجہ نہ نکلا۔

کچھ نہیں۔ (۱- محاورہ) کوئی بات نہیں (۲) بالکل نہیں۔ (۳) بڑا ہے۔

کچھ نہیں آنا۔ (۱- محاورہ) جاہل ہے۔ کچھ نہیں جانتا ہے۔

کچھ نہیں چلنا۔ (۱- محاورہ) کچھ بس نہیں چلنا۔ قابو سے باہر ہے۔

کچھو - (ق - صفت) کچھو۔  
 کچھو کے کچھو - (ارشل) بڑوں کے بڑے۔ بدذاتوں کے بدذات۔  
 کچھوا - (کچھو وا) [ھ - ا - مذ] سنگ پشت۔ ایک دریائی جانور۔  
 کچھواہا - (کچھو وا - ہا) [ھ - ا - مذ] راجپوتوں کی ایک گوت جو راجپنڈ  
 و جی کے بیٹے کشور سے ہونے کی دعویٰ دار ہے۔  
 کچھوئی - (کچھو - وئی) [ھ - ا - مثن] گلوئی - کچھو۔  
 کچھوئی - (کچھو - وئی) [ھ - ا - مثن] کچھو سے کی مادہ۔  
 کچھتی - (ھ - صفت) کچھ کے علاقے کا گھوڑا، جس کی کڑیج میں سے ٹھکی  
 ہوتی ہے۔

کچھیانما - (ھ - ا - مذ) وہ کھیت جس میں ساگ اور ترکاریاں بونی ہوتی

کچھی - (کچھ - پچی) [ھ - صفت] کچھیا کی تانیت  
 کچھی آسامی - (ا - مثن) [ھ - ا - مذ] غیر موروثی زمیندار۔ چند روزہ - (۲)  
 قائم مقامی - عارضی بلکہ فوری۔  
 کچھی مہمی - (ا - مثن) وہ بھی جس میں رقم کے زیادہ یا کم کرنے اور  
 ظلمی درست کرنے کا اختیار ہو۔  
 کچھی بدیشی - (ا - مثن) [ھ - ا - مذ] اپیل کی پہلی شنوائی جس پر اس کے  
 قابل سماعت اور لائق غور ہونے یا نہ ہونے کا دارومدار  
 ہوتا ہے۔

کچھی ترکاری - (ا - مثن) ہری ترکاری - سبز ترکاری۔  
 کچھی تول - (ا - مثن) کچھے بٹوں کے موافق وزن - کچھے وزن کے

کچھی لوٹنا - (ا - محاورہ) کم عمری میں ہی ازالہ بکر ہونا۔  
 کچھی رسوئی - (ا - مثن) [ھ - ا - مذ] وہ روٹی جسے جوگ سے باہر نہ کا  
 سکیں - (۲) گھی کے بغیر روٹی۔

کچھی رسید - (ا - مثن) مشروط صداقت نامہ زر جو چند روز کے  
 لیے باقاعدہ صداقت نامہ زر کا قائم مقام ہوتا ہے۔  
 کچھی رشیدی دسترخوال کا ضرر - (ارشل) نادان اور ناتجربہ کار  
 کی صحبت میں بدنامی اور افشائے لا راز کا اندیشہ ہونا ہے۔  
 طفل کو نیز سے احتراز کرنا چاہیے۔

کچھی سرٹک - (ا - مثن) وہ سرٹک جس پر گنکر وغیرہ کوٹ کر زمین  
 کو سخت اور پختہ نہ کیا گیا ہو۔  
 کچھی سلمانی - پیچھی - بھنگیا - نا - بنگر۔

کچھی عقل - (ا - مثن) ناقص عقل۔  
 کچھی عمر - (ا - مثن) ناتجربہ کاری اور نا سمجھی کی عمر۔  
 کچھی کلی - (ا - مثن) منہ بند کلی - (۲) باکرہ - دو شیخہ - نابالغہ۔

کچھی کلی ٹوٹنا - (ا - محاورہ) [ھ - ا - مذ] چھوٹی عمر میں مر جانا - (۲) کم سنی میں  
 ازالہ بکر ہونا۔  
 کچھی گولیاں کھیلنا - (ا - محاورہ) مٹی کی گولیوں سے کھیلنا جو بولد

کچھ نہیں رہا - (ا - محاورہ) کوئی چیز باقی نہیں بچی بالکل برہاد ہو گیا (۲)  
 بچنے کی امید نہیں - (۳) طاقت ختم ہو گئی ہے (۴) بہت بواب دے گئی ہے  
 کچھ نہیں گیا - (ا - محاورہ) ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ نقصان نہیں  
 کچھ نہیں ہو سکتا - (ا - محاورہ) کوئی بکرہ کارگر نہیں ہو سکتی۔  
 کچھ نہیں کیا - (ا - محاورہ) [ھ - ا - مذ] کوئی بھلائی نہیں کی۔ کوئی نیکی نہیں کی۔  
 (۲) کوئی کام کی بات نہیں کی۔ (۳) بڑا کیا۔ اچھا نہیں کیا۔  
 کچھ بچو - (ا - محاورہ) ہرچہ بادا باد - جو جو سو سو - کیا پروا ہے۔  
 کچھ ہو جانا - (ا - محاورہ) [ھ - ا - مذ] سایہ ہو جانا۔ آسیب چمٹ جانا - (۲) کسی  
 لائق ہونا۔

کچھ ہورہنا - (ا - محاورہ) [ھ - ا - مذ] کسی قابل ہو جانا۔ (۲) غھوڑا بہت فیصلہ  
 ہو جانا۔

کچھ ہی کرو - (ا - محاورہ) جو چاہو سو کرو - جو مرضی آئے سو کرو۔  
 کچھ ہی کہو - (ا - محاورہ) ذرا نہیں سنا - کہا نہیں ماننا کچھ پرواہ  
 نہیں۔

کچھ ہی ہو - (ا - محاورہ) دیکھئے کچھ ہو - تاکید و تاکید۔  
 کچھ ہے - (ا - محاورہ) [ھ - ا - مذ] کوئی بات ہے۔ دال میں کالا ہے۔ (۲)  
 بہت کچھ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ (۳) بڑا ہی ہے۔ کھوٹ ہے۔  
 ارادہ نارسد ہے۔

کچھ ہیں - (ا - محاورہ) کسی قابل ہیں۔ کسی لائق ہیں۔ کسی شمار میں ہیں۔

کچھیا - (کچھ - چھا) [ھ - ا - مذ] دیکھئے کچھ۔  
 کچھار - (کچھ - چھار) [ھ - ا - مذ] [ھ - ا - مذ] دریا کا کنارہ (۲) دریا کے قریب کی  
 زمین۔ (۳) ترائی جہاں شیر رہتا ہے۔

کچھری - (کچھ - چھری) [ھ - ا - مذ] [ھ - ا - مذ] حکم عدالت۔ انصاف گاہ۔  
 کچھری برخواست ہونا - (ا - مثن) عدالت بند ہونا تعیل  
 ہونا۔ چھٹی ہونا۔

کچھری چڑھنا - (ا - محاورہ) عدالت تک جانا۔ عدالت میں مقدمہ  
 لے جانا۔ نالاش کرنا۔

کچھری کرنا - (ا - محاورہ) عدالت میں بیٹھ کر منصف مات طے کرنا۔  
 اجلاس لگانا۔

کچھری کے کہنے - (ا - مذ) عدالت کے چپراسی اور اہل کار جو رشوت  
 کے لیے سنٹینٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔

کچھری گرم ہونا - (ا - محاورہ) شور مچل جانا۔ (۲) کچھری میں اہل معاملہ  
 کا جمع ہونا۔

کچھری لگانا - (ا - محاورہ) [ھ - ا - مذ] اجلاس کرنا (۲) بہت سے آدمیوں  
 کا جمع کرنا۔ زور شور دکھانا۔ غل جانا۔

کچھنا - (کچھ - نا) [ھ - ا - مذ] [ھ - ا - مذ] جانتھیا۔ کھٹنا۔  
 کچھتی - (کچھ - تی) [ھ - ا - مذ] [ھ - ا - مذ] کچھنا کی تانیت  
 کچھتیا - (کچھ - تیا) [ھ - ا - مذ] [ھ - ا - مذ] کچھنی کی تصغیر۔ ڈھیلا ڈھیلا۔  
 کھٹنا یا جانتھیا۔ کھٹا یا۔





کذیب - [ع۔ ا۔ نذ] جھوٹ - دروغ

## ک۔ ر۔

کر - (س۔ ا۔ نذ) ہاتھ (۲) ہاتھی کی سونڈ - (۳) [مؤنث] چنگی کا معمول -

کر - (م) خراج - ماگڈاری - (۵) ٹیکس (۶) جرمانہ - تاوان (۷) جزئیہ -

کر - (ف۔ صفت) (۱) بہرہ - اضم (۲) [نذ] زور - طاقت - قوت - توانائی - (۳) شان و شوکت -

کروفر - (ف۔ ا۔ نذ) شان و شوکت - دھوم دھام - ٹھٹھا باٹ - زور و توانائی - (۳) ترک و امتشام -

کر - (۱) تابع فعل (ماضی کے بعد اگر یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلا فعل پہلے ہوا اور دوسرا بعد میں - (۲) رعایت سے - لحاظ سے - (۳) مصدک کا امر -

کر - (۱) محاورہ (کوئی بات بغیر سوچے سمجھے اختیار کر لینا - جلدی سے غلطی میں کوئی کام کرنا -

کر تو ڈر نہ کر تو بھی ڈر - (۱) مثل (جب کسی بے گناہ پر کوئی الزام آئے تو کہتے ہیں - (۲) عداسے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے -

کتنے دھرتے بن نہیں پڑتی - (۱) محاورہ (کچھ کام نہیں ہو سکتا کچھ کرتے بن نہیں پڑتا -

کرتے کی سب بڈیا ہے - (۱) مثل (عمل کرنے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے -

کر چکنا - (مض۔ مرکب) کوئی کام مکمل کرنا -

کر دیکھنا - (۱) محاورہ (آدماکر دیکھ لینا - تجربہ کرنا -

کر سیوا کھا میوا - (۱) مثل (خدمت کرنے سے ہی آرام ملتا ہے -

کر گزرتا - (۱) محاورہ (ضد پراثر رہنا - ہٹ سے باز نہ آنا بمشکل کام کر کے چھوڑنا -

کر لینا - (۱) محاورہ (بہوی بنا لینا - ملازمت کرنا -

کر - (۱) مثل (مصول چنگی - (۲) خرچ - ماگڈاری - (۳) تاوان - جرمانہ (۴) وہ کام جس کا کرنا لازم ہو جاتے -

کر باندھنا - (۱) محاورہ (ہمیشہ کے لیے کوئی معمول بنا لینا -

کر - (۱) صحت اصناف (کا

کرات و مرات - (کرت - رات - رمز - لات) [ع] بہت دفعہ بار بار

کرتار - (کرت - لار) [ع۔ صفت] (۱) بار بار حملہ کرنے والا - جھگڑنے والا -

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کالتب -

کرار - (ک - نار) [ع۔ ا۔ نذ] دیکھ کر اڑ

کرار - (ک - لار) [ع۔ صفت] (۱) سخت اکڑا ہوا (۲) زور آور - بہادر -

ہٹا کٹا (۲) خستہ - پھیر پھرا (۳) ہنگامہ - گلاں (۵) وہ سکہ جس کے

سرور نہ بیٹھے ہوں (۶) ایک قسم کی شیرینی (۷) تازہ - نیا -

کدوانہ - (۱) پیٹ کا ایک قسم کا کپڑا - (۲) گرم شکم - (۳) وہ بیماری جس سے سارے بدن پر سبز کدو کی مانند پھسپھس نکلتی ہیں -

کدو کش - (ف۔ ا۔ نذ) ایک آگ جس سے کدو کو رگڑ کر باریک کرتے ہیں -

کدوانا - (کدوانا) [ع۔ ا۔ نذ] (۱) گدلا پن - تلچھٹ ڈکڑگی

کدورت - (ک - فوڑت) [ع۔ ا۔ نذ] (۱) گدلا پن - تلچھٹ ڈکڑگی (۲) زرخش - آزدگی - (۳) ط کاغبار -

کدورت رکھنا - (۱) محاورہ (کینہ رکھنا - کپٹ رکھنا

کدہ - (ک - ذہ) [ف۔ ا۔ نذ] (۱) جگہ - مقام - گھر - خانہ - مرکبات میں بطور

حق استعمال ہوتا ہے جیسے کدہ -

کدھال لگ - (ف۔ ا۔ نذ) کب تک کہاں تک -

کدھر - (ک - دھر) [ع۔ ا۔ نذ] (۱) کہاں - کس جگہ - کس طرف - (۲) کس طرف نپٹے -

کدھر آیا کدھر گیا - (۱) محاورہ (۱) آنے جانے کی کچھ بھی خبر نہ ہوتی - (۲) غفلت اور بے خبری کے اظہار پر بھی بولا جاتا ہے -

کدھر جاؤں کیا کروں - (۱) محاورہ (ہر طرح مجبوری اور بے بسی ہے -

کوئی ہی تدبیر کروں - (۱) محاورہ (ہر طرح مجبوری اور بے بسی ہے -

کدھر کا چاند نکلا - کدھر بھول پڑے - (۱) محاورہ (مقام حیرت

تعبیب اور عمل استعجاب پر بولتے ہیں - (۲) کسی دوست یا عزیز کے دفعتاً آجانے پر کہتے ہیں - یعنی کہاں سے آگئے -

یہ بات کیونکر ہو گئی -

کدھن - (ک - دھن) [ف۔ ا۔ نذ] (۱) صفت (۲) کدھن - کدھن - کدھن -

کدھیں - (ک - دھیں) [ف۔ ا۔ نذ] (۱) صفت (۲) کدھیں - کدھیں -

## ک۔ ڈ۔

کڈھٹ - (ک - ڈھٹ) [ع۔ ا۔ نذ] بے ڈھب -

بے سوچ - (۲) بڑا - زبرد - بے ربط -

کڈھنگ - کڈھنگا - (ک - ڈھنگ) (ک - ڈھنگ - گا) (ع۔

صفت) [برسلیقہ - بے ڈھنگ - (۲) وحشی - بد اخلاق -

کڈھیلڈ - کڈھیلڈا - (ک - ڈھیلڈ) (ک - ڈھیلڈ - ل - ڈا) (ع۔ ا۔ نذ) [سوتیلہ بیٹا - پھنگو بیٹا -

## ک۔ ذ۔

کڈاؤ کڈا - (ع۔ ا۔ نذ) [ع۔ ا۔ نذ] (۱) اس طرح - اس طرح - ایسا اس کی مانند -

کڈاب - (کڈاب) [ع۔ ا۔ نذ] (۱) نہایت جھوٹا - جھوٹوں کا

بادشاہ -

کراچی - دک - را۔ بی ( [ آر۔ ا۔ مذ ] ۱۵ عیسائی - نصرانی - کرسچین - (۲۵)  
انگریزی دفتر کا لکڑ - محترم -  
کراہ - دک - راہ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) وہ آواز جیسی دکھ یا درد کے باعث  
نکلے - ہستے ہستے -

کراہ - دک - راہ ( [ ھ۔ ا۔ مذ ] ۱۰ مٹ ) ہٹھا راستہ - ٹیڑھا راستہ - غلط راستہ -  
کراہنت - دک - راہ - ہنت ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) نفرت - بیزاری - کج  
کراہتا - دک - راہ - نا ( [ ھ۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) ہائے ہائے کرنا - دکھ یا درد سے  
آہ آہ کرنا -

کراؤ - دک - راہ - او ( [ ھ۔ ا۔ مذ ] ۱۵ ) ہندو جانوں وغیرہ میں بیوہ کی  
شادی کی رسم - (۲۵) رنڈی کا کسی گوشہ پر بنالینا -  
کراؤ کرنا - (۱۵) محاورہ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) شادی کرنا (۲۵) بیوہ کا کسی مرد کے  
ساتھ خود نکاح پڑھوانا -

کراؤ - دک - راہ - او ( [ ھ۔ ا۔ مذ ] ۱۰ مٹ ) ایک قسم کا چھوٹا مٹر -  
کراؤن - دک - راہ - آن ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ -  
کراؤن پرنس - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) ولیعہد سلطنت -  
کرایہ - دک - راہ - یہ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کسی چیز کے استعمال کی اجرت -  
بھارتی مزدوری -

کرایہ آگاہنا - (۱۵) محاورہ ) کرایہ وصول کرنا - بھاڑا لے کر جمع کرنا -  
کرایہ پر چلانا - کراہے پر دینا - (۱۵) محاورہ ) بھاڑے پر دینا -  
اجرت پر چڑھانا - (۲۵) کسی عورت کی خرچی کھانا -  
کرایہ دار - کراہے دار - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کسی مکان میں رہنے  
والا - اُسامی - رعیت - (۲۵) پیٹ کے اندر کا بچہ -  
کرایہ دہکراہے ) دار آترنا - (۱۵) محاورہ ) کسی مکان میں کرایہ دار  
آکر رہنا - (۲۵) حاملہ ہونا -

کرایہ کرنا - (۱۵) محاورہ ) بھاڑا مقرر کرنا - بھاڑے پر دینا -  
کرایہ کا - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) وہ چیز جو کرایہ پر دی جائے -  
کرایہ نامہ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) وہ کاغذ جو مکان وغیرہ لینے کی بابت کرایہ  
دار کی جانب سے بطور اقرار نامہ لکھ کر دیا جائے -  
کراچی - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کوہ پین - صفائی -

کرب - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) رنج و الم - دکھ - مصیبت - (۲۵) بے قراری -  
اضطراب ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کوہ پین - صفائی -  
کرب انگیز - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) دکھ دینے والا - تکلیف پڑھانے والا  
کڑبڑا - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) دکھ دینے والا - تکلیف پڑھانے والا  
کڑبڑی - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) دکھ دینے والا - تکلیف پڑھانے والا  
دھولے رنگ کی -

کڑبڑا - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) دکھ دینے والا - تکلیف پڑھانے والا  
میں اُس جگہ کا نام جہاں حضرت امام حسین نے شہادت پائی -  
( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) وہ جگہ جہاں تعزیے دفن کئے جاتے ہیں - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) وہ جگہ  
جہاں پانی نہلے ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) مدفن شہید - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) اصل میں یہ لفظ

کھارے دم - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) تازہ دم - توانا - جو خشک ہوا نہ ہو - ثابت قدم -  
کھراپن - دک - راہ - پین ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سختی - کڑ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) مضبوطی -  
( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سختی - بھراپن -

کھری - دک - راہ - ری ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کھرا کی تائینٹ -  
کھڑ - دک - راہ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) دوکاندار - نکلے کا ناہر - بنیا -  
کھڑا - دک - راہ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) دریا کا بگنڈہ - رہ - دریا کے کنارے  
کی بلندی -  
کھڑا - دک - راہ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) جھنڈو کتاب - چھوٹی سی غیر عمد  
کتاب -

کھڑا - دک - راہ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کلنگ - سارس - من - تہ -  
( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) ایک قسم کا بگلا -  
کھڑا - دک - راہ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) بڑے بڑے دانتوں والا -  
ڈراؤنا خوشحال -

کھرام - دک - راہ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) جمع - بڑے لوگ - ذی  
رتبہ اشخاص - سختی لوگ -  
کھرامت - دک - راہ - مات ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کھرامت کی جمع - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ )  
بزرگیاں - کھرامتیں - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) بڑائی ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ )  
خرق عادات - جو ولی سے ظاہر ہوں -

کھرامانی - دک - راہ - مات ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کھرامت دکھانے والا - صاحب  
کشمہ -  
کھراما کاتبین - دک - راہ - سن - کات - بین ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) بزرگ  
لکھنے والے - (اصطلاحاً) وہ دو فرشتے جو انسان کے اعمال  
لکھتے رہتے ہیں -

کھرامت - دک - راہ - مات ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) بزرگی - بڑائی فضیلت -  
( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سخاوت ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کھرامت تخریق عادت - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ )  
خوبی - عمدگی - اٹھاپن - جمع - کھرامت -  
کھرا - دک - راہ - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) کھرا - انتہا -  
کھرا - دک - راہ - نا ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) دوسرے سے کام لینا - کرنا - کھرا -  
دکھانا ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) -

کھرا نا - دک - راہ - نا ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) مختلف قسم کا مسالا وغیرہ - پیچوں - ایک  
جنس کی چیز کو دوسری سے الگ کرنا -  
کھرا نٹ - دک - راہ - نٹ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) ایک پیانہ -  
کھرا نٹ - دک - راہ - نٹ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سبقت لے جانا - آگے بڑھنا -  
( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) بھرم نکل کر اعمال پذیر ہونا - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سبقت لے جانا - ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ )  
منطقہ حارہ -

کھرا نٹ - دک - راہ - نٹ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سبقت لے جانا - آگے بڑھنا -  
کھرا نٹ - دک - راہ - نٹ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سبقت لے جانا - آگے بڑھنا -  
کھرا نٹ - دک - راہ - نٹ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سبقت لے جانا - آگے بڑھنا -  
کھرا نٹ - دک - راہ - نٹ ( [ ھ۔ ا۔ مٹ ] ۱۰ مٹ ) سبقت لے جانا - آگے بڑھنا -

کرب دہلا ہے۔  
 کر بلائی - (کرنہ - نہ - لا - ائی) [اُر - صفت] کر بلا سے مشوب۔  
 کر بیٹھنا - (کرنہ - بیٹھ - نا) [ہ - محاورہ] (۱) جلدی سے کسی کام کو کر گزنا۔  
 کسی کام کو اختیار کر لینا۔ (۲) خاندان کر لینا (۳) جو رو بٹنا لینا۔  
 کر پا - (کرنہ - پا) [ہ - ۱۔ صفت] مہربانی رعایت۔ نوازش۔ گرم۔  
 کر پا کرنا - (صفت مرکب) مہربانی کرنا۔ عنایت فرمانا۔  
 کر مت - (کرت - رُت) [ہ - صفت] بے موسم۔ خلاف موسم۔  
 کرت - (کرنہ - رُت) [ب - ۱۔ صفت] دفعہ۔ باری۔ نوبت۔ نمبر۔  
 کرتا - (کرنہ - تا) [ت - ۱۔ مذ] دیکھے کرتے۔  
 کرنا دھرتا - (کرنہ - تا - دھرتا) [ہ - ۱۔ مذ] (۱) کرنے والا۔ فاعل۔  
 (۲) خالق۔ (۳) مالک۔ مختار۔ (۴) تجربہ کار۔ واقف کار۔  
 کرتار - (کرنہ - تار) [ہ - ۱۔ مذ] کرنے والا۔ خالق۔ پیدا کرنے والا۔  
 کرتب - (کرنہ - تبت) [ہ - ۱۔ مذ] (۱) کام۔ فعل۔ (۲) کمال۔ بہتر (۳)  
 چالاکي۔ ہوشیاری۔ عیاری (۴) طلسم۔ عجیب و غریب کام۔  
 (۵) مشق۔ مہارت۔ عمل (۶) فن۔ سپرگری۔  
 کرتب دکھانا - (۱) محاورہ کمال دکھانا۔ کھیل دکھانا۔ سپاہ گری  
 کا بہتر دکھانا۔  
 کرتب کی پدیا ہے۔ (۱) مثل، ہر کام مشق و مہارت سے ٹھیک  
 ہوتا ہے۔  
 کرتبی - (کرتبیا - کر - مت - بی - کرنہ - تبت - یا) [ہ - ۱۔ مذ] (۱)  
 حامل۔ کرنے والا۔ فن۔ سپرگری میں مشاق و ماہر۔ (۲) شعبہ کار  
 بھانستی۔  
 کرتبی - (کرتب - ت - نی) [ت - ۱۔ صفت] ابنیر آستینوں کے چھوٹا  
 کرتب جو جوتے میں پہنتی ہیں۔  
 کرتوت - (کرتوت - نوت) [ہ - ۱۔ مذ] کام۔ فعل۔ عمل (۲) چالاکي۔  
 فریب۔ کرتب (۳) بلا کام۔ بد عادت۔ (۴) جاؤ۔ ٹونا۔  
 کر توڑ کر توڑ - (ہ - مثل) [انسان کو چاہیے کہ خواہ گناہ کرے  
 یا نہ کرے خدا سے ڈرتا رہے۔ اکثر کسی بے گناہ کے بتلاتے  
 مصیبت ہونے پر بولتے ہیں۔  
 کرتے - (کرتے - تے) [ت - ۱۔ مذ] جسم دھنکنے کا سلا ہوا کپڑا۔ بے کار  
 کی قیمت۔  
 کرتھی - (کرتھی - جھی) [ہ - ۱۔ صفت] ایک قسم کا ناچ جو خنکاش کی  
 طرح چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔  
 کرتی - (کرتی - تی) [اُر - ۱۔ صفت] آستینوں کے بغیر اوپن کرتبے  
 عورتیں انکیا کے اوپر پہنتی ہیں۔ (۲) وردی کا کوٹ۔  
 کر جانا - (کرنا - جانا) [ہ - صفت] کسی دھار دار چیز کی دھار ٹوٹ جانا۔  
 کر جاتے (کرے) ڈاڑھی والا۔ پکڑا جاتے مویچوں والا۔  
 (ہ - مثل) کرے کوئی بھرے کوئی۔ جب بزم کسی کا جو اور

پکڑا جائے دوسرا تو اس موقع پر بولتے ہیں۔  
 کرنگ - (کرنہ - بگت) [ہ - ۱۔ مذ] کام کرنے کا زمانہ۔ موجودہ زمانہ۔  
 کر سنج - (کر - سنج) [ت - ۱۔ صفت] (۱) بھٹا۔ ڈتہ۔ ٹھوٹا۔  
 کر سنج - (کر سنج - کب - سنج) [ہ - ۱۔ صفت] (۱) ایک قسم کی لمبی تلوار۔  
 کر سنج جھاڑنا - (ق - صفت) پرندے کا پر جھاڑنا  
 کر سچا - (کرنہ - سچا) [ہ - ۱۔ مذ] (۱) سب سے کا ایک ڈنڈی والا ظرف جس میں  
 مٹی وغیرہ دانتے ہیں۔ (۲) فرانینگ پین۔  
 کر سچی - (کرنہ - سچی) [ہ - ۱۔ صفت] کر سچا کی تائیسٹ۔  
 کر سخت - (کر - سخت) [ت - صفت] سخت۔ کڑا۔  
 کر سختی - (کر - سخت - ت - برگی) [ت - ۱۔ صفت] کڑا پن۔ سختی  
 کر وار - (کرنہ - وار) [ہ - ۱۔ مذ] (۱) جٹا۔ بد لوائی (۲) کٹنی۔ دھڑا۔  
 کر وار - (کرنہ - وار) [ت - ۱۔ مذ] (۱) طریق۔ (۲) قاعدہ (۳) شکل۔ کام۔  
 (۴) چلن۔ خصلت۔ عادت۔  
 کر وار نگاری - (کر - وار - نگاری) [ت - ۱۔ صفت] اشخاص قصہ کے  
 احوال و اطوار لکھنا۔  
 کر دکھانا - (کرنہ - دکھا - نا) [ہ - صفت] کوئی کام بنا کر دکھانا۔ عمل کر  
 کے دکھانا۔ (۲) انجام کو پہنچا دینا۔  
 کر دگار - (کرنہ - دگار) [ت - ۱۔ مذ] خالق۔ خدا تعالیٰ۔  
 کر دنی - (کرنہ - دنی) [ت - صفت] (۱) کرنے کے لائق (۲) اُتر کر  
 اعمال۔  
 کر دنی خوشی آمدنی پیش - (کر - دنی) [ت - ۱۔ صفت] بڑے کام کا بڑا نتیجہ۔ جیسا  
 کیا تھا ویسا پایا۔  
 کر دوار - (کر - دوار) [ت - ۱۔ مذ] وہ دوا جس سے لنگڑی باز مہی جائے۔  
 کر دہ - (کرنہ - دہ) [ت - صفت] کیا ہوا۔ عمل میں لایا ہوا۔  
 کر دہ پیشیاں نا کر دہ اماں - (کر - دہ) [ت - صفت] اس فعل کی نسبت کہتے  
 ہیں جس کا کرنے والا بچپانے اور نہ کرنے والا تمنا کرے۔  
 کر دھنی - (کر - دھنی) [ہ - ۱۔ صفت] ایک قسم کی زنجیر جسے ہندو بچے کر میں باندھتے  
 ہیں۔  
 کر دیکھنا - (کرنہ - دیکھ - نا) [ہ - ۱۔ صفت] (۱) تجربہ کر لینا۔ آزما کر دیکھ  
 لینا۔ (۲) برائی بھلائی سے واقفیت پیدا کر لینا۔  
 کر گڑ - (کر - گڑ) [ت - ۱۔ صفت] (۱) زڑا۔ (۲) کسی چیز کے  
 پختنے کی آواز۔  
 کر گڑی - (کر - گڑی) [ت - صفت] سخت۔  
 کر سال کا پٹی - (کر - سال) [ت - ۱۔ مذ] عورتوں کا وہ ریور جو کر کے گرد پہنا  
 جاتا ہے۔  
 کر نشاں - (کر - نشاں) [اُر - ۱۔ مذ] عیسائی نصرانی۔  
 کر سچین - (کر - سچین) [ت - صفت] (Christian)  
 کر شل - (کر - شل) [ت - ۱۔ صفت] (Crystal) سک۔ رسس۔ شل۔ [انگ - ۱۔ مذ] بطور  
 بقرہ نما۔



یعنی کام کرنے کی جگہ  
 کہہ کر چھوڑ کر تار لٹا جاتے۔ ناخانی چوٹ جو لاہا کھاتے۔ (دانش)،  
 ایسے موقع پر ہونے ہیں جب کوئی شخص دوسروں کی ریس کر  
 کہے یا فائدہ اپنا نقصان کرے یا تکلیف اٹھائے۔  
 گرم۔ (دک۔ رزم) [ع۔ ۱۰۔ مذ] [۱۱۔ بزرگی (۲) بہتت۔ جو افزوی (۳) بخشش  
 والی۔ پرن۔ (۴) عنایت۔ مہربانی۔  
 گرم بخشی۔ (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) مہربانی۔ عنایت۔  
 گرم پرورد۔ گرم فرما۔ گرم گشت۔ (ع۔ ف۔ صفت) مہربانی کرنے والا۔  
 مہربان۔ عنایت کرنے والا۔  
 گرم کرنا۔ (۱۔ مص۔ مرکب) [۱۱۔ مہربانی کرنا۔ عنایت کرنا، (۲) شریف  
 لانا۔ قدم بچھ فرمانا۔ (۳) رنگ کرنا۔ بخشنا۔  
 گرم۔ (دک۔ رزم) [کس۔ ۱۔ مذکر] [۱۱۔ کام (۲) لکری (۳) فرض (۴) چالان  
 (۵) مذہبی رسم (۶) ذات کے فرائض (۷) معمول (۸) قسمت۔  
 نصیبہ (۹) مومنالغ (۱۰) دوم ہونے ہیں)۔  
 گرم صوگ۔ (۱۰۔ مذ) پہلے جنم میں کیے ہوتے کاموں کا پھل۔ بھلائی  
 بڑائی کا نتیجہ۔  
 گرم چھوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) [۱۱۔ بر نصیب ہونا۔ (۲) رانڈ ہونا۔ (۳) بری  
 اچھڑا دی ہونا۔  
 گرم جاری۔ (۱۰۔ صفت) کارکن  
 گرم ریکھ۔ گرم ریکھا۔ (۱۰۔ مٹ) تقدیر کا کھا ہوا۔ نوشتہ۔ ازل۔  
 گرم کا بنیادیا۔ گرم کا دھنی۔ (۱۔ محاورہ) [۱۱۔ زبردست نیبے والا (۲)  
 (طنزاً) بد قسمت۔  
 گرم کی ریکھا نہیں ملتی۔ (۱۔ محاورہ) تقدیر کا کھا ہوا نہیں ملتا۔  
 نوشتہ۔ ازل جو کہ رہتا ہے۔  
 گرموں کو رونا۔ (۱۔ محاورہ) قسمت کو رونا۔ افسوس کرنا۔  
 گرم۔ گرم کلا۔ (دک۔ رزم۔ ک۔ رزم۔ کلن۔ لا) [فت۔ ۱۔ مذ] بند گوی۔  
 گرم۔ (فت۔ ۱۔ مذ) کیرا۔ کھوڑا۔  
 گرم پیلیر۔ (فت۔ ۱۔ مذ) ریشم کا کیرا۔  
 گرم پھور۔ (فت۔ صفت) گلن لگا ہوا۔ پیلانا۔ بوسیدہ  
 گرم اللہ کو چھڑ۔ (۱۱) خدا نے اس کے لئے کوئی بڑی دی۔ حضرت علیؑ کے نام  
 کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے قبل از اسلام ہی بتوں  
 کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔  
 گرمک۔ (دک۔ نکت) [فت۔ ۱۰۔ مذ] گرم کی تصغیر۔ چھوٹا کیرا۔  
 گرمک شب۔ افزو۔ (دک۔ شب۔ تاب۔ شب۔ چرخ۔ چگونہ۔  
 گرم گرم۔ (دک۔ رزم۔ ک۔ رزم) [۱۰۔ مٹ] بھر بھری، لکڑی چیز جس کا  
 کی آواز۔  
 گرمٹل۔ (دک۔ نکت) [۱۰۔ مذ] کٹ پیرا۔ کالوں کے نیچے کا دم۔  
 گرمی۔ (دک۔ ۱۰۔ مٹ) [سبب]۔  
 گرمی۔ (دک۔ نکت) [۱۰۔ مذ] پورب کے ہندو زمینداروں کی ایک ذات۔

کرن۔ (دک۔ رزن) [کس۔ ۱۔ مذ] [۱۱۔ کان۔ گوش۔ (۲) شنت کا قاعدہ۔  
 کرن پھول۔ کان کا ایک زیور۔ گوشوارہ  
 کرن۔ (دک۔ رزن) [۱۰۔ مٹ] [۱۱۔ سورج یا چاند کی شعاع۔ (۲) منبری  
 یا رُوپئی گولے کا تار۔  
 کرن کا پھرا۔ نور کا تڑکا۔ علی الصبح۔  
 کرنا۔ (دک۔ نا) [ھ۔ مص] [۱۱۔ بنانا۔ عمل میں لانا (۲) انتظام کرنا۔ بندوبست  
 کرنا۔ (۳) بڑھ کر کسی سے شادی کر لینا (۴) بیوی بنانا۔ (۵) جامد کرنا۔  
 ٹوٹا کرنا۔ (۶) کاروبار کرنا (۷) مجامعت کرنا (۸) فوج کرنا (۹) شروع  
 کرنا۔ (۱۱) [مذ] ایک قسم کی گلگلی۔  
 کرنا خدا کا کیا ہوتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا واقعہ پیش آتا ہے عجیب واقعہ  
 پیش آتا ہے۔  
 کرنا دھنا۔ (۱۔ محاورہ) انتظام کرنا۔ بندوبست کرنا۔  
 کرنا۔ (دک۔ نا) [دک۔ نا۔ کر۔ نا] [فت۔ ۱۰۔ مٹ] [فت۔ ۱۰۔ مٹ] [فت۔ ۱۰۔ مٹ] [فت۔ ۱۰۔ مٹ]  
 کرنا۔ (دک۔ نا) [دک۔ نا] [ھ۔ مص] [دیکھیے کر جانا۔  
 کرنا۔ (دک۔ رزن) [فت۔ ۱۰۔ مٹ] [فت۔ ۱۰۔ مٹ] [فت۔ ۱۰۔ مٹ] [فت۔ ۱۰۔ مٹ]  
 کرنٹ۔ (Current) [انگ۔ ۱۔ مذ] [رہ۔ خاص طور  
 سے بجلی کی۔  
 کرنا۔ (۱۔ مذ) [حکارت سے] [میبائی۔ کرستان۔  
 کرنا۔ (دک۔ رزن) [جا] [ھ۔ مص] [آرزو چتر۔ کیرا۔ نیلی آنکھوں والا۔  
 کرنا۔ (دک۔ رزج۔ وا) [ھ۔ ۱۔ مذ] [۱۱۔ ایک درخت اور اسی کا خالی پھل  
 (۲) خالی رنگ۔  
 کرنجی۔ (دک۔ رزن) [جی] [ھ۔ صفت] [کرنا کی تائینٹ۔ ایک قسم کا  
 بونا۔  
 کرنجی آنکھ۔ (۱۰۔ مٹ) [نیلی آنکھ۔ کیری آنکھ۔ چشم آرزو۔  
 کرنا۔ (دک۔ رزج) [ھ۔ ۱۔ مذ] [لاکھ اور ریت سے بنا ہوا پتھر جو ہنسیا  
 تیز کرنے کے کام آتا ہے۔  
 کرنا۔ (دک۔ رزن) [جی] [ھ۔ ۱۔ مٹ] [۱۱۔ سر کی چادر (۲) کپڑے ریشم  
 کی لنگی۔  
 کرنسی۔ (Currency) [دک۔ رزن] [جی] [انگ۔ ۱۔ مٹ] [سکہ  
 راج الوقت۔ کسی ملک کا روپیہ۔  
 کرنسی آفس۔ (Currency Office) [انگ۔ ۱۔ مذ] [نوٹ  
 کے روپے بدلنے کا محکمہ۔  
 کرنسی نوٹ۔ (Currency Note) [انگ۔ ۱۔ مذ] [نقدی  
 کی بجائے لین دین میں متبادل ہونے والا سرکاری نوٹ۔  
 کرنا۔ (دک۔ نکت) [فت۔ ۱۰۔ مٹ] [صفت] [سوکھا۔ کرا۔  
 کرنل۔ (Colonel) [دک۔ نکت] [انگ۔ ۱۔ مذ] [سرور فوج۔ لیٹن  
 یا فوج کا اعلیٰ افسر۔ اعلیٰ فوجی عہدہ دار۔ کرنل۔  
 کرنی۔ (دک۔ فی) [۱۰۔ مٹ] [۱۱۔ کام فعل (۲) مسماروں کا ایک اوزار  
 جس سے گارا چھڑانا گاتے ہیں۔



کریہہ مسطر۔ (ع۔ صفت) بد صورت۔ بڈنکل۔ بڈنا۔

# ک۔ ٹ

کرمی۔ (ق۔ کی)۔  
کرے۔ (ق۔ کے)۔

کرے دار۔ (ق۔ ا۔ مذ) ایک پہل کا نام  
کریڈٹ۔ (Credit)۔ (رک۔ رے۔ ٹوٹ) [انگ۔ ۱۰۔ مذ] (۱۵)

نیک نامی۔ شہرت۔ ساکھ۔ پت۔ امتیاز۔ بھرم۔ عزت۔  
وقت۔ شہسہرا (۲۲) قرض۔ اذھار۔ یافتنی۔

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] ایک کانٹوں والا پودا جس کے پودے چمچے نہیں ہوتے۔

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] پندوں کے پڑانے پر گزانا۔ (۲۲)  
پندوں کے پڑھانے کی کیفیت۔

کریہہ چھوڑنا۔ (۱۰۔ محاورہ) پندوں کو بچوں میں چھوڑ دینا تاکہ پڑانے پڑھانے سے پر نکالیں۔

کریہہ۔ (Crease)۔ (رک۔ ریز) [انگ۔ ۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کریہہ۔ (رک۔ ریز) [۱۰۔ مذ] (۱۵) تکی ٹکان یا خط  
دیکھنا وغیرہ کا (۲۲) پھیلنے والے اور گیند پھینکنے والے کی حرکت

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔

کڑ۔ (۱۰۔ ۵)۔ (موت) کسٹہ گایج (۲۲) گاڑی یا چکڑے کا لٹھ جانا۔



کرٹاہی - دک (ڑاہی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] چھوٹا کڑھاؤ۔ سوجے کا ٹوٹ۔  
 (۲) بھین۔ سگھ (سوا ۳) شیرینی کی نیاز۔  
 کرٹاہی چڑھنا۔ (۱) کرٹاہی کا کسی چیز کے تھلے کے لیے چھلے پر رکھا جاتا۔ (۲) کھان کا کلا جانا۔ (۳) شادی کے کھانوں اور ضیافت کا سامان ہونا۔  
 کرٹاہی میں ہاتھ ڈالنا۔ اپنی صداقت جتانے کو جلتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈال کر دکھادینا کہ ہم سچے ہوں گے تو ہاتھ نہیں جلے گا۔  
 کرٹا بڑا۔ دک۔ ب۔ ٹا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] آدھیڑ۔ وہ شخص جس کی ڈاڑھی میں سیاہ اور سفید بال ہوں۔ (۲) ابق۔ چکنگرا۔  
 کرٹا بڑی ڈاڑھی۔ (ہ۔ ۱۔ مٹ) وہ ڈاڑھی جس میں سیاہ اور سفید بال ہوں۔

کرٹا پ - دک (ڑاہی) [ق۔ ۱۔ مٹ] شکم۔ پیٹ۔  
 کرٹا پی۔ (دک۔ ب۔ ٹی) [ق۔ ۱۔ مٹ] وہ برتن جس میں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ (۲) عورتوں کا کمر تا جس میں آستین نہیں ہوتی۔  
 کرٹا دینا۔ (۱) محاورہ) ناز کرنے دکھانا۔  
 کرٹا دینی۔ (ق۔ ۱۔ مٹ) غصے کی نظر (بات)۔  
 کرٹک۔ دک۔ ٹک۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] بجلی کی آواز۔ سخت اور قہیب آواز۔ (۲) کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ (۳) گھوڑے کی پوہ رشتا۔  
 کرٹک بانٹکا۔ (۱) صفت) بانٹا تیر چھوٹا بھرا۔ کرٹیل بھرا۔  
 کرٹک بجلی۔ (۱) مٹ] [ق۔ ۱۔ مٹ] تڑپے دار بندوق۔ وہ بندوق جس کی آواز نہایت ہیبت ہو۔ (۲) کرٹکے کی آواز والی عورت۔ بڑبڑاب والی عورت۔

کرٹک کر۔ کرٹکے کی آواز سے۔ سخت آواز سے۔  
 کرٹک۔ دک۔ ٹک۔ [ا۔ ۱۔ مٹ] [ا۔ ۱۔ مٹ] وہ مرنے والا بڑے دینے سے ڈر گئی ہو۔ (۲) صفت) خالی کھڑا۔ تہی۔  
 کرٹک نامتھ۔ ایک قسم کا مریخ۔  
 کرٹک ہونا۔ (۱) محاورہ) مرنے کا انڈے دینے سے باز رہنا  
 کرٹکا۔ دک۔ ٹکا۔ [ا۔ ۱۔ مٹ] کھل کر۔ بجلی کا شور۔ آواز۔ (۲) رجز۔ میدان میں دل بڑھانے والے اشعار یا گیت۔ (۳) وہ آواز جو قہیب بادشاہ کی سواری کے آگے لگاتے ہیں۔ (۴) رزم نامہ۔ بہادری کے گیت (۵) کناہ (ق)

کرٹ کرٹ۔ (ہ۔ ۱۔ مٹ) [ا۔ ۱۔ مٹ] کسی سخت چیز کے ٹوٹنے کی آواز۔ (۲) کسی سخت چیز کے چبانے کی آواز۔ (۳) انگلیوں کے پھٹنے کی آواز۔  
 کرٹ کرٹ۔ (ہ۔ ۱۔ مٹ) مرنے کے بلانے یا بھگانے کی آواز۔  
 کرٹ کرٹ۔ (ہ۔ ۱۔ مٹ) دانوں کے باہر گر کر کھانے کی آواز۔  
 کرٹ کرٹا۔ (دک۔ کرٹا) [۱۔ صفت] زور کا۔ شدت کا (دھاڑا)  
 کرٹ کرٹا جاڑا۔ (۱) نہایت زور کی سردی۔ شدت کا جاڑا۔  
 کرٹ کرٹا۔ دک۔ ٹک۔ ٹا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] گھی یا تیل کے بھگانے

کی آواز نکھنا۔ بگھارنا۔ فارغ دینا۔  
 کرٹ کرٹا۔ دک۔ ٹک۔ ٹا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] دانوں کا باہر گر کر کھانے کی آواز دینا۔  
 کرٹ کرٹا۔ دک۔ ٹک۔ ٹا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] مرنے کے بلانے کا بولنا۔ (۲) بڑ بڑانا۔ (۳) جلنا۔ خند کرنا۔  
 (۴) بڑ بھلا کہنا۔

کرٹ کرٹا۔ دک۔ ٹک۔ ٹا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] گرجنا۔ بجلی کی آواز پیدا ہونا۔ (۲) سچ کر بولنا۔ (۳) باجے یا فونٹ کا زور سے بھنا۔  
 کرٹ کرٹا۔ دک۔ ٹک۔ ٹا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] مڑکنا۔ چپکنا۔ تڑخنا۔ (۲) موتی میں بال آنا۔ موتی کا ٹوٹ جانا۔ (۳) پھر مڑ جانا۔  
 کرٹ کرٹو۔ (دک۔ ٹک۔ ٹا) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [ہ۔ ۱۔ مٹ] بد مزاج عورت (۲) بے ہوشہ عورت۔  
 کرٹ کی۔ (ق۔ ۱۔ مٹ) محفوظ۔

کرٹ کی۔ دک۔ ٹک۔ ٹی۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] وہ چیز جس سے لڑکے چھوٹے پڑتے پرنے سے بڑھتے ہیں۔  
 کرٹ کینٹ۔ (دک۔ ٹک۔ ٹی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [ہ۔ ۱۔ مٹ] قہیب (۲) وہ شخص جو میدان جنگ کے اندر نظر یا نثر میں بہادریوں کو بخش اور عزت دلاتا ہے۔  
 کرٹنگا۔ دک۔ ٹنگا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] [ہ۔ ۱۔ مٹ] سنت کلام۔ سخت گو۔ (۲) قوی۔  
 کرٹا۔

کرٹ وا۔ (دک۔ ٹا) [ہ۔ ۱۔ مٹ] [ہ۔ ۱۔ مٹ] نیم کے مٹے کا (۲) تیز بند۔ (۳) کھاری نیکیں۔ (۴) بد مزاج۔ خفیہ۔ (۵) سخت۔ اکٹھ۔  
 کرٹ وا خٹھو۔ پیشا پھٹ پھٹ۔ (۱) مٹل) بڑی چیز چھوڑ دینا  
 اور اپنی چیز لے لینا۔  
 کرٹ وا پیل۔ (۱) مذ) سرسوں وغیرہ کا تیل۔ روغن تلخ۔  
 کرٹ وا پل کرنا۔ (۱) محاورہ) سختی سمیٹنا۔ بہت بانڈھنا۔ ناگوار بات کی برداشت نہ کرنا۔

کرٹ وا زہر۔ (۱) صفت) نہایت تلخ۔ زہر ملا۔  
 کرٹ وا کر پلا۔ (۱) محاورہ) نہایت بد مزاج۔  
 کرٹ وا کر پلا نیم چڑھا۔ (۱) مٹل) دیکھیے کرٹ وا کر پلا اور نیم چڑھا۔  
 کرٹ وا کیلا۔ (۱) صفت) تلخ۔ ناگوار طبع۔  
 کرٹ وا گنا۔ (۱) محاورہ) تلخ معلوم ہونا۔ (۲) ناگوار ہونا۔ بڑا معلوم ہونا۔  
 کرٹ وا ہونا۔ (۱) محاورہ) [ا۔ ۱۔ مٹ] کسی چیز کا تلخ اور بد مزہ ہونا۔ (۲) سخت ہونا۔ بگڑنا۔

کرٹ وا ہٹ۔ (۱) مشہ) تلخی۔ تیزی۔  
 کرٹ وا کیلے دن۔ (۱) مذ) بڑے بھلے دن۔ سختی اور معیبت کے دن۔ یعنی کا زمانہ۔ (۲) گل کا آٹھواں پھیند۔  
 کرٹ وا کے گھونٹ۔ (۱) مذ) شکل اور ناگوار بات۔ کشن کام۔ کار۔ سخت۔

کرٹ وا نا۔ دک۔ ٹا۔ نا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] کرٹ وا ہٹ آجانا (۲) بگڑنا۔ خفا ہو جانا۔  
 صہیند میں بھرنا  
 کرٹ وا۔ دک۔ ٹو۔ ٹا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] [ہ۔ ۱۔ مٹ] حکم اعلیٰ۔ وہ حاکم جو ادرائیسوں پر افسر کرٹ وا۔ دک۔ ٹو۔ ٹا۔ [ہ۔ ۱۔ مٹ] [ہ۔ ۱۔ مٹ] حکم اعلیٰ۔ وہ حاکم جو ادرائیسوں پر افسر



کس زبان سے تعریف ہو۔ (۱۔ مثل) تعریف نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھا ہے۔  
کس شخص کا منہ دیکھ کے اٹھا ہوں۔ (۱۔ محاورہ) جب کسی شخص کو کوئی  
زحمت پیش آتی ہے تو یہ فقرہ کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ صبح اٹھ کر کسی  
منوس آدمی کا منہ دیکھا تھا کہ یہ زحمت پیش آئی۔

کس شمار و قطار (گنتی) میں ہے؟ (۱۔ محاورہ) کون پوچھتا ہے؟  
کوئی نہیں جانتا۔ کچھ قدر و منزلت نہیں۔

کس طرح؟ (۱۔ تابع فعل) کیونکر۔ کیسے۔ کس سبب سے؟  
کس قدر۔ (۱۔ تابع فعل) (۱) کتنا؟ (۲) نہایت۔ حد سے زیادہ۔  
کس قیامت کے۔ (۱۔ صفت) کس بلا کے! کس غضب کے!

کس کا؟ (۱۔ تابع فعل) کس شخص کا؟ کون سے آدمی کا؟  
کس کا سہرا لائیں؟ (لا قول)؟ (۱۔ محاورہ) کسی شخص کی مدد چاہنے  
کے لیے کہتے ہیں۔ کوئی ہوتو تو یہ کام سہرا انجام ہو سکے۔ (۲۔ بعض اوقات  
کسی کی باتوں سے تنگ آ کر بھی کہتے ہیں۔

کس کا فکرو اعتبار آئے گا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو اعتبار نہیں آئے گا۔  
کس کام آئے گا۔ (۱۔ محاورہ) بیکار ہے۔ فضول ہے۔

کس کام کا (کی۔ کے) [۱۔ صفت] نیکو۔ بھئی۔ بے کار۔ ناکارہ۔  
کس کام کو نکلا نکھڑا کیا کہ آیا۔ (۱۔ محاورہ) جب غلطی سے اصل مقصود کو قبول  
کر آئی کوئی اور کام کو بیٹھنا ہے تو بولتے ہیں۔

کس کا منہ ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس کی طاقت ہے۔ کس کی حیثیت ہے۔  
کس کان سے سنوں۔ (۱۔ محاورہ) یہ بات بڑی ناگوار ہے۔

کس کان میں فرشتے نہیں پھونکتے۔ (۱۔ مثل) مفروضہ کی نسبت  
کہتے ہیں۔

کس کتاب میں لکھا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس قانون کے مطابق ہے؟  
دستور کے خلاف ہے۔

کس کس دکھ کو روئیں۔ (۱۔ محاورہ) کون کون سی مصیبت بیان کریں۔  
کس کو؟ (۱۔ تابع فعل) کس شخص کو؟ کیسے؟  
کس کی بگری کون ڈالے گھاس! (۱۔ مثل) دوسرے کی چیز کوئی نہیں  
منجھاتا۔ سب اپنی ہی چیز کی رکھوالی کرتے ہیں۔

کس کی بی رہی۔ (۱۔ محاورہ) عروج اقتدار ہمیشہ قائم نہیں رہتے۔  
کس کی رہی کس کی رہ جائے۔ (۱۔ محاورہ) دل کی امانت نکلنے  
کے موقع پر کہتے ہیں۔

کس کی گور کون ڈھواں کرے۔ (۱۔ محاورہ) غیر کا کام کوئی نہیں کرتا۔  
کس کی ماں کا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے قابو اور اختیار کا نہیں۔

کس کی ماں کو ماں کہیں؟ (۱۔ محاورہ) تیم یا غریب بچے کی مصیبت  
پر بولتے ہیں کہ ماں نہ تھی کسے ماں کہتا یا کہتی اور وہ املا کرتی۔  
کس لیے۔ کس واسطے؟ (۱۔ تابع فعل) کیوں؟ کس سبب سے؟ کس  
دب سے؟

کس مرض کی دوا ہے؟ کس مرض کی دوا ہو؟ کس کام کا ہے۔  
عمس نما اور بے فائدہ ہے۔ کیا کام آئے گا۔ کسی کام کا نہیں۔

کس دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) سونے کو کسوٹی پر لگانا۔ سونے کو ناپنا۔  
کس۔ (۱۔ مثل) عورت کی شرگاہ۔ اندام نہانی۔ عورت کی پیشاب  
کرنے کی جگہ۔

کس۔ (۲۔ کلہ استفہام) کون۔ کدما؟  
کس بات پر بھولا ہے۔؟ (۱۔ مثل) کس گھنڈ میں ہے؟ کس خیال  
میں ہے؟

کس باخ (دکھیت) کی مٹولی ہے؟ کس باخ (دکھیت) کا بھولا  
ہے۔؟ (۱۔ مثل) بے حقیقت ہے۔ کیا اصل حقیقت ہے۔ کس شمار  
قطار میں ہے؟ کسی حساب میں نہیں۔ کون پوچھتا ہے؟

کس برتے پرتتا پانی۔ (۱۔ مثل) کس سولے پر پھینا مارتے ہیں۔ اس  
مقدار اور حقیقت پر غور؟  
کس بلا کا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس غضب کا ہے۔ تعریف کے موقع پر  
بولتے ہیں۔

کس بلا کو پیچھے لگایا۔ (۱۔ مثل) جب کسی ضدی سے پالا پڑ جائے  
تو بولتے ہیں کہ ہم کس عذاب میں چینس گئے۔

کس پیچھے سے سر چھوڑیں۔ (۱۔ مثل) کس سے فریاد کریں۔  
کس پر بھولے ہو؟ (۱۔ مثل) کس بات پر غور ہے۔ کونسا وسیلہ؟  
کس پوڑے پر؟ یعنی کس نوع۔ کس امید اور کس دوست کی آمد  
پر؟ کون سے بھروسے پر؟

کس جانور کا نام ہے؟ (۱۔ محاورہ) کیا بے حقیقت چیز ہے؟  
کس جنم کے کالے لہجے ہیں۔ (۱۔ محاورہ) کس زمانے سے  
اطاعت اور فرمانبرداری کا بیڑا اٹھایا ہے؟

کس جوگن سے۔ (۱۔ محاورہ) کس شان سے؟  
کس چکنی کا پسیا کھا ہے؟ (۱۔ محاورہ) کس چکی کا آٹا کھا ہے کہ  
اتنے سونے ہو گئے ہو۔

کس حساب میں ہے۔ (۱۔ محاورہ) کون پوچھتا ہے۔ کس گنتی میں ہے۔  
کس خدا نے تپایا دکھا۔ (۱۔ محاورہ) بے پردہ یا بے وقوفی کی بات  
کرنے والے کو کہتے ہیں۔

کس خیال میں ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا سوچتا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتا۔  
کیوں بے خبر ہے؟

کس درد کی دوا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس کام کا ہے۔ تجھ سے کیا امید ہے۔  
کیا کام آئے گا؟

کس دل سے؟ (۱۔ محاورہ) کس برتے پر۔ کس ہمت پر؟  
کس دن کو (کے لیے) اٹھا رکھا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کب کے لیے توتی

کیا ہے۔ کہتے کیوں نہیں؟  
کس زبان سے؟ (۱۔ محاورہ) کس طرح؟ جو شخص کچھ کہے کہہ کے مگر جانے  
یا اپنے کہے کے خلاف کہے اس کی نسبت کہتے ہیں۔

کس زبان سے بیان ہو۔ (۱۔ محاورہ) زبان اس کے بیان سے  
قاصر ہے۔

کس مُنہ سے۔ (۱۔ متعلق فعل) (۱۵) بات کرنے کا مُنہ نہیں۔ (۱۶) کوئی اعتراض کرنے کی وجہ نہیں۔ (۱۷) اتنی عزت نہیں کہ ایسی بڑی بات مُنہ سے کہہ بیٹھیں۔ (۱۸) ایسی خوبی نہیں کہ اتنی بڑی بات مُنہ سے نکالیں۔ (۱۹) اتنا حوصلہ اور بُرائت نہیں (۲۰) کس دل سے؟ (۲۱) کون سی بات پر۔ کس ہنر پر۔

کس مُنہ سے کوسوں۔ (۱۔ محاورہ) کونسی زبان سے بدوعداؤں کی کہہ کر کوسوں۔

کس نے کہا تھا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی غلط کام کرنے پر اعتراض کے طور پر کہتے ہیں کس نے صلاح دی تھی۔

کس نیند سوتا دسور یا سوبا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کس بے خبری میں ہے؟ جوش پڑو۔ عبرت حاصل کر۔

کس جو میں ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا سمجھے ہوئے ہے؟

کسا۔ (دک۔ سا) (اک۔ سا) (۱۔ صفت) (۲) کھینچا ہوا۔ (۳) تاشا ہوا۔ (۴) تنگ۔ (۵) چست۔ (۶) ان معنوں میں ہوا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ (۷) وزن میں کم۔

کسا جانا۔ (۱۔ محاورہ) کھانے کا بزمزہ چروانا۔

کسا کسا یا۔ (۱) تیار رہتند۔ کا مٹی رکھا رکھا۔ (۲) گاڑی میں جتنا جتنا یا۔ کسا ہوا۔ (۱۔ صفت) کھینچا ہوا۔ تاشا ہوا۔ تنگ۔ چست۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۱۔ مذ) (۲) لیکر کی چھال۔ (۳) لیکر کی چھال میں بنی رو ہوئی شراب۔ ٹھرا۔

کسا۔ (دکن۔ سا) (۱۔ مذ) پھاوٹا کڈال۔

کسا و۔ (دک۔ سا) (۱۔ ص) (۲) صفت) [مٹ] جس کا نہ بننا۔ عدم خریداری اشیا۔

کسا بازار میں۔ (دک۔ ص) (۱۔ ص) (۲) صفت) بازار میں خرید و فروخت کا نہ ہونا۔ مندا ہونا۔

کسا زانا۔ (دک۔ سا۔ نا) (۱) ق میں [مگر ہنا۔

کساری۔ (دک۔ سا۔ ری) (۱۔ ص) (۲) صفت) [مٹ] ایک قسم کی وال۔

کسالا۔ (دک۔ سا۔ لا) [عربی لفظ کسا لہ کا موزوں۔ (۱) مذ] (۲) تکلیف۔ دکھ۔ درد۔ محنت۔ مشقت۔ (۳) سستی۔ کاہلی۔ آگسی۔

کسالت۔ (دک۔ سا۔ لت) (۱۔ ص) (۲) صفت) [مٹ] (۱) سستی۔ کاہلی۔ آگسی۔

کسان۔ (دک۔ سان) (۱۔ مذ) [کسانتکار۔ کھیتی باڑی کرنے والا۔ مزارع۔

کسانا۔ (دک۔ سانا) (۱۔ ص) (۲) صفت) [مٹ] (۱) امتحان کرنا۔ پرکھوانا۔ کسوٹی پر گوانا۔ (۲) تورانا۔ کھووانا۔ (۳) نور کو موڑ کر آزمائش کرنا۔ (۴) بیروں کو لانے کے لیے باہم کشی کرانے کے دیکھنا۔ (۵) مشکل کاموں میں آسانی کا امتحان کرانا۔

کساوٹ۔ (دک۔ سا۔ وٹ) (۱۔ ص) (۲) صفت) [مٹ] دیکھیے کساو۔

کساو۔ (دک۔ سا۔ او) (۱۔ مذ) (۲) صفت) [مٹ] (۱) کھپاوٹ۔ (۲) تھلی چٹی (۳) بزمی۔ کیلاپن۔ وہ کیفیت جو مانے یا پھیلنے کے برتن میں کسی

نوش چیز کے رکھنے سے پیدا ہوجاتی ہے۔

کسب۔ (دک۔ س) (۱۔ مذ) (۲) حاصل کرنا۔ (۳) پیشہ۔ (۴) دھندا۔ کام۔ (۵) ہنر۔ فن۔ (۶) وہ کمائی جو عورت بدکاری سے حاصل کرے۔

کسب کرنا۔ کسب کمانا۔ (۱۔ محاورہ) بدکاری سے کمائی کرکھانا۔ پیشہ کرنا۔ کوشحے پر بیٹھنا۔

کسب کمال کی کہ عزیز جہاں شومی۔ (دک۔ ص) (۱) کسی ہنر میں کمال حاصل کرنا کہ دنیا میں ہر روز بڑھتا ہے۔

کسبنت۔ (دکن۔ بنت) (۱) اڑنا۔ (۲) صفت) [مٹ] (۱) پیشہ کا وہ غیلا جس میں جٹام اور جٹاج اپنے اوزار رکھتے ہیں۔ (۲) چڑھے کا ٹکڑا جو سٹے اکثر اپنے بائیں پنجڑ پر حفاظت کے لیے باندھتے ہیں۔

کشی۔ (دکن۔ بی) (۱) (دک۔ س) (۲) پیشہ ور۔ دستکار۔ کاریگر۔ (۳) [صفت] اپنی کوشش سے حاصل کیا ہوا مال۔ (۴) [مٹ] (۱) فاحشہ۔ بھار عورت۔ (۲) بازاری عورت۔

کٹورا۔ (دکن۔ ٹو۔ لا) (۱۔ ص) (۲) ایک قسم کا ہرن جس کی ناک سے منگ ناف نکلتا ہے۔ (۳) ایک قسم کی مچھلی جس کے سینک ہوتے ہیں۔ (۴) ایک قسم کا سیاہ رنگ کا خوش آواز پرندہ۔ (۵) اباہیل کا نصاب جو بہت متوی ہوتا ہے۔

کٹوری۔ (دکن۔ ٹو۔ ری) (۱) [مٹ] (۲) منگ۔ (۳) وہ نموش بوز دار چیز جو کٹورے ہرن سے نکلتی ہے۔

کسٹرد۔ (Custard)۔ (دکن۔ ٹرڈ) (۱) [مٹ] (۲) دودھ اڈے اور چینی کی پیسی۔ انگریزی فیبری۔

کسٹم۔ (Custom)۔ (دکن۔ ٹم) (۱) [مٹ] (۲) معمول و راجد معمول چینی۔ بکری لگان۔ (۳) رسم و رواج۔ دستور۔

کسٹمر۔ (Customer)۔ (دکن۔ ٹم) (۱) [مٹ] (۲) خریدار۔ گاہک۔

کسٹودیئن۔ (Custodian)۔ (دکن۔ ٹو۔ یئن) (۱) [مٹ] (۲) محافظ۔ بچران۔ رکھوالا۔

کسر۔ (دک۔ س) (۱) [مٹ] (۲) [مٹ] (۳) ٹوٹ چھوٹ۔ (۴) ٹکڑا حصہ۔ جزو۔ (۵) زیر کی حرکت کسر۔ (۶) علم حساب میں اکائی کا ایک حصہ یا کئی حصے۔

کسرا عشریہ۔ وہ کسر جو دن کا کوئی حصہ ہو۔ اس کی نشانی ع ہے۔

کسرا عشریہ منوالی۔ (دک۔ س) (۱) [مٹ] (۲) وہ کسرا عشریہ جس میں کچھ حصے بار بار آتے ہیں۔ ان کے پہلے اور آخری ہندسے پر نقطہ لگایا جاتا ہے۔

کسرا واجب۔ کسرا طفوی۔ (دک۔ س) (۱) [مٹ] (۲) وہ کسر جس کا شمار کٹندہ یعنی کسر نما، نسب ناما کے برابر یا اس سے بڑا ہو۔ جیسے ۳/۴

کسرا حریب۔ (دک۔ س) (۱) [مٹ] (۲) وہ رقم جس میں کسر کے ساتھ عدد صحیح بھی موجود ہے۔ ۳/۴

کسرا مصناف۔ (دک۔ س) (۱) [مٹ] (۲) وہ کسر جس میں کسر کے کسرا کسرا لکرا



کسوٹی پر رکھنا۔ کسوٹی پر لگانا۔ کسوٹی پر کسنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسوٹی پر تھمس کر سونے چاندی کا کھوٹا کھر پر کھنا۔ (۳) آزمانا۔ جانچنا۔ کسوٹی۔ دکھ۔ (شور) (ع۔ ۱۔ مٹھ) [کسوٹی جمع۔ کسوٹ۔ اجزا۔ ٹکڑے۔ کسوڑا۔ عشاریہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹھ) وہ کسوٹی جن کا نسب نادر یا دس کی کوئی قوت رکھتا ہو۔ کسوڑا۔ عام۔ (ع۔ ۱۔ مٹھ) وہ کسوٹی جن کا نسب ناکھا جائے۔ کسوٹ۔ (ک۔ کسوٹ) (ع۔ ۱۔ مٹھ) چاند کا زمین اور سورج کے درمیان اگر سورج پر اپنا سایہ ڈالنا۔ کسوٹ۔ (ک۔ کسوٹ) [صفت] آنٹی آنکھ کا (گھوڑا) بھینگا۔ (۲) چابک سوار۔ کسوٹی۔ (ک۔ کسوٹی) (جی) [ع۔ ۱۔ مٹھ] ایک درخت کا نام۔ کسوٹی۔ (کسوٹی) (جی) [ع۔ ۱۔ مٹھ] (۱) چھوٹا سپاٹرا۔ پیچہ۔ (۲) دو قدم کے برابر فاصلے کا ایک پیمانہ۔ کسوٹی۔ (کسوٹی) [ع۔ ۱۔ مٹھ] کوئی چیز۔ کوئی آدمی۔ کوئی بات (۲) نامعلوم الاسم (۳) غلام شخص معلوم۔ (۴) وہ شخص جس کا نام نہ لیں قرینے سے اس کی طرف اشارہ کریں۔ شعر: کبھی رقیب کبھی عاشق اور کبھی مشرق کی بات کسوٹی سے اشارہ کرتے ہیں۔ کسوٹی بات سے ہاتھ اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) کسوٹی بات یا کام کو چھوڑ دینا۔ کسوٹی بات سے باز آنا۔ دست بردار ہونا۔ ناامید ہونا۔ مایوس ہونا۔ ترک کر دینا۔ کسوٹی بات کی کمی نہیں۔ (۱۔ محاورہ) ہر چیز موجود ہے۔ امیر ہیں۔ کسوٹی بات کے لالے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات کا دشوار ہونا۔ (۲) کسی بات کا بہت عراہٹ مند ہونا مگر اسے پورا نہ کر سکتا۔ (۳) مایوسی ہونا۔ ناامیدی ہونا۔ کسوٹی پر ادھار کھلنے ہیں۔ (۱۔ محاورہ) کسی ارادے پر مٹنے ہوئے ہیں۔ کسوٹی پر بھولے پھرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی امید یا حمایت پر اتلائے پھرنا۔ کسوٹی پر تکیہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی پر پھر دہرا غتا و کرنا۔ کسوٹی پر جہان جہانا۔ کسوٹی پر جہان و دینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی پر بافتق و منتون ہونا۔ کسوٹی پر دیوانہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے عشق میں مینون و سودائی ہونا۔ کسوٹی پر فریفتہ ہونا۔ کسوٹی پر ہاتھ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) نسق دینا۔ کسی کا حامی و مددگار ہونا۔ کسوٹی پر ہاتھ صاف کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) دھوکہ دینا۔ نقصان پہنچانا۔ کسوٹی پہلو۔ (۱) تابع فعل (کسوٹی ڈھب۔ کسی طریقہ سے کسی طرح سے۔ (اس کے بعد سے " لانا خلاف فصاحت ہے) کسوٹی چیز پر آنکھ نہ چھڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کمال استغناء سے کسی چیز کو خاطر میں نہ لانا۔ (۳) نہایت خوبصورت ہونا۔ (۴) کسی چیز کی آب و تاب اور چمک و دک کے باعث اس پر نظر نہ پھر

سکتا۔ کسی چیز پر لات مارنا۔ (مٹھوگنا) (۱۔ محاورہ) کسی چیز کو ٹھکانا یا خاطر میں نہ لانا۔ کسی چیز پر نہ مٹھوگنا۔ (۱۔ محاورہ) خاطر میں نہ لانا۔ کسی چیز سے نہایت اکراہ اور نفرت ظاہر کرنا۔ کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھنے دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) فروخت کی اشیاء میں نہایت بے پروائی اور ترش روی سے کام لینا۔ (۳) گرانی کے باعث کسی چیز کو پھینکنے نہ دینا۔ کسی چیز کا وصول اٹانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز کو خاک میں ملانا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ کسی چیز کو رو بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی چیز سے ناامید اور مایوس ہو جانا۔ (۳) صبر کر بیٹھنا۔ (۴) ماتم کر بیٹھنا۔ کسی سے ٹکر لینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی سے مقابلہ کرنا۔ کسی کے مقابل ہونا۔ کسی سے دل لگانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی سے دوستی کرنا۔ کسی سے سائی کسی سے بدھائی۔ (۱) بٹل (بھوٹی خاطر داری۔ ہر ایک سے وعدہ و وعید۔ کسی طرح۔ کسی طور کسی عنوان۔ (۱) تابع فعل (دیکھیے کسی پہلو۔ کسی قابل نہ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) بیکار کر دینا۔ مخلص کر دینا۔ کسی قدر۔ (۱) تابع فعل (۲) ذرا سا۔ کچھ قدر سے۔ قلیل۔ (۳) بہت کچھ۔ بہت سا۔ کسی کا۔ (۱) تابع فعل (۲) کسی شخص کا (۳) شخص معلوم کا۔ (۴) (مجازاً) معنون۔ دلربا کا۔ (۴) دوسرے کا۔ غیر کا۔ (۵) اپنا۔ اپنی ذات کا کسی کا پاس ہونا۔ (۱۔ محاورہ) لحاظ ہونا۔ خیال ہونا۔ خیال رکھنا۔ کسی کا دیا نہیں کھاتا۔ (۱) مثل۔ (۲) گناہتہ کسی کا محتاج نہیں۔ دست نہ کرتے ہیں۔ کسی کا کچھ نہیں جانا۔ (۱) مثل۔ کسی کا کچھ نقصان ہونا۔ کسی کا کچھ (دین) نہیں چلتا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی پیش نہیں جاتی۔ قابو اور اختیار سے باہر ہے۔ کسی کا کلمہ بھڑنا (پڑھنا)۔ (۱۔ محاورہ) کسی کا نہایت مطیع و معتمد ہونا۔ کسی پر ایمان لانا۔ (۲) کسی کو ہر وقت یاد کرنا۔ کسی کا کیا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کسی کا کیا اجارہ ہے۔ کسی کا گھر چلے کوئی تاملے۔ (۱) مثل۔ کسی کا نقصان ہو اور کوئی خوشی مناسبتے۔ ایک کی معیبت دوسرے کی خوشی۔ کسی کام کا نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) محض نکتا اور بے کار ہونا۔ کسی کا منہ تھکنا۔ (۱۔ محاورہ) منہ سے کسی بات کے سمجھنے کا آرزو مند ہونا۔ کسی بات کا مستحق ہونا۔ (۲) کچھ حاصل کرنے کی امید ہونا۔ (۳) مدد کے لیے عاجزانہ نظر ڈالنا۔ کسی کا نقشہ سمجھنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کا قبضہ ہونا۔ دخل ہونا۔ بات بننا۔ کسی کا ہاتھ چلے کسی کی زبان چلے۔ (۱) مثل۔ (۲) ایک شخص ماننا

کسی کی کسی کو خبر نہیں۔ (۱۔ مثل) کسی جماعت میں بے ہوشی اور غفلت کا عالم چہلے پر بولتے ہیں۔  
 کسی کی مٹی خراب ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی نہایت بے قدری ہونا۔ کمال وقت اور خواری پیش آنا۔  
 کسی کی نہیں ٹھنٹا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی بات نہیں مانتا۔ بے پرواہ ہے۔  
 کسی کے آگے بانی بھرنا۔ (۱۔ محاورہ) عاجزی ظاہر کرنا۔ میٹھ ہونا۔  
 کسی کے آگے کان پھڑنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو اپنا اُستنا دانا۔ سب سے بڑھ کر تسلیم کرنا۔ جگت اُستنا دانا۔ سروار ماننا۔  
 کسی کے آگے (سامنے) چلنا نہ چلنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نہایت رعب چھانا۔ رعب غالب ہونا۔ (۲) بات نہ چلنا۔ اثر نہ ہونا۔ (۳) لوہو دست کے آگے پیش نہ چلنا۔  
 کسی کے پالے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی کے قابو میں آنا۔ (۳) کسی سے واسطہ پڑنا۔  
 کسی کے ٹکڑوں میں پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) دوسرے کی روٹیاں کھانا۔ ٹھنٹ کی روٹیاں توڑنا۔ دوسرے کے گھر کھانا۔  
 کسی کے حال پر ہونا آنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی پر رحم آنا یا افسوس ہونا۔  
 کسی کے حق میں کانٹے بولنا۔ کسی کے لیے بُرائی کرنا۔ کسی کی طوت سے بدگمان کرنا۔  
 کسی کے خون کے پیاسے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی جان کا دشمن ہونا۔  
 کسی کے درپے قتل ہونا۔ کسی کی جان کا لاگو ہونا۔  
 کسی کے گھر ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی کے پیچھے پڑنا۔ (۳) کسی کے فتنے پڑنا۔  
 کسی کے کھاتے کسی کے گیت گائے۔ (۱۔ مثل) فائدہ کسی سے اُٹھانے اور تعریف کسی کی کرے۔  
 کسی کے کیے میں گھی گھڑے۔ کسی کے کیے میں پتھر پڑے (۱۔ مثل) ایک سی کام اگر دو تہندہ یا قسمت والا کرے تو اس سے بیک نام ہو جاتا ہے۔ وہی کام دوسرا بد قسمت غریب کسے تو اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔  
 کسی کے نئے لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) بحث و گفتگو میں عاجز اور ناکام معقول کرنا۔ (۳) تنگ کرنا۔ آڑے ہاتھوں لینا۔  
 کسی کے لینے دینے میں نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی سے غرض اور سروکار نہ ہونا۔  
 کسی کے مُنہ پر پڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) برابری کرنا۔ متقابل ہونا۔ (۳) قُرب حاصل کرنا۔  
 کسی کے مُنہ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی کی باتوں میں برابری کرنا۔ بہکام ہونا۔ (۳) قُرب حاصل ہونا۔ اخلاص سے باہیں ہونا۔  
 کسی کے نام کا کڈنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو سوائے نام کرنا۔  
 کسی لائق ہونا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی قابل ہونا۔ (۳) کسی ہینڈ یا لیاقت میں قابل ہونا۔

بے توڑ و سرا زبان سے گالی دے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ (۲) پز زبانی کا بیخبر مار کھانا اور ستانے کا بیخبر کوسنے سنانا ہے۔ (۳) ہر شخص اپنے مفرد اور امکان کے مطابق انتقام ضرور لیتا ہے۔  
 کسی کا ہور سنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کا میٹھ و فرمان بردار ہونا۔  
 کسی کروٹ کل (دھین) نہ آنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی پہلو آرام نہ آنا۔ کسی طور قرار نہ آنا۔  
 کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) نہایت بے پروائی کا اظہار کرنا۔ (۳) نہایت شرم والا ہونا۔ (۴) نہایت مغرور ہونا۔  
 کسی کو اپنا کر رکھو یا کسی کے مور ہو۔ (۱۔ معقولہ) یا تو خود کسی کی مشابہت اختیار کر لو یا کسی کو اپنا میٹھ و فرمان بردار بنا لو۔  
 کسی کو اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی بات کو نہی میں مال دینا۔  
 کسی کو بیگنہ بیالے کسی کو ان پیچ۔ (۱۔ مثل) بعض اوقات ایک ہی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے نقصان رساں۔  
 کسی کو خیال میں نہ لانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ کسی کو کچھ نہ سمجھنا۔ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ کسی کی طوت توجہ نہ کرنا۔ پیچ سمجھنا۔  
 کسی کو کسپا بڑی ہے۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو کیا غرض ہے۔  
 کسی کی آنگ میں پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینا۔ ہمدردی کرنا۔ تکلیف کے وقت ساتھ دینا۔  
 کسی کی آنکھیں دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) سبق لینا۔ دیکھنا۔ (۳) صحبت اختیار کرنا۔  
 کسی کی آئی مجھ کو آچھانے۔ (۱۔ کلام بد دعا) دوسرے کی موت مجھے آجاتے۔ نہایت غصے یا تکلیف کی حالت میں اپنے آپ کو بد دعا دینے کا فقرہ ہے۔  
 کسی کی بات پر چھانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی پر اعتبار کرنا۔ کسی بات کا خیال رکھنا۔  
 کسی کی جان سے دُور۔ (۱۔ دُعا) عزتیں مُردہ یا میت کا ذکر کرتے وقت یہ فقرہ کہتی ہیں تاکہ اس کا اثر دُور نہ پہنچے۔  
 کسی کی خبر لینا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) کسی کی خبر گیری کرنا۔ مدد کرنا (۳) مارنا۔ پٹنا۔ سیدھا کرنا۔ (۴) لعنت طاعت کرنا۔ (۵) کسی کی بیار پرسی کرنا۔  
 کسی کی دھول اُڑا دینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کو ملیا میٹ یا برباد کر دینا۔  
 کسی کی راہ میں کانٹے بچھانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کر دینا۔  
 کسی کی رُوح سپاسی تھنی۔ (۱۔ مثل) جب پانی کا بھرا جوا گھڑا یا مڑا اُتر دُور ٹوٹ جاتا ہے تو یہ فقرہ زبان پر لاتے ہیں۔  
 کسی کی کاٹ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بُرائی کرنا۔ اثر زائل کرنا۔

کسی مرض کی دوا نہیں۔ (۱۔ محاورہ) بے کار ہے۔ بے فائدہ ہے۔  
 کسی نہ کسی۔ (۱۔ تین فعل) کوئی نہ کوئی۔ ایک نہ ایک۔  
 کسی نہ کسی طرح۔ (۱۔ تین فعل) جس طرح بھی ہو سکا۔ (۲۔) بے یہ  
 بچنے حال سے  
 کسی نے پایا دودھ کسی نے پیا پانی سب کو ایک پن گوانی۔  
 (۱۔ مثل) امیر اور غریب۔ بے اور بچنے سب کی گذر جاتی ہے۔  
 کسی وقت کام آئے گا۔ (۱۔ محاورہ) ضرورت کے وقت کام  
 آئے گا۔

کئے۔ (ک۔ سے) (ت) کوئی آدمی۔ کوئی شخص۔  
 کے باشد۔ کوئی جو۔

کئے۔ (ک۔ سے) (جہ۔ کلمہ انتہام) کس شخص کو؟ کون سے آدمی کو؟  
 کئے دماغ؟ (۱۔ محاورہ) کسی کو اتنی برداشت نہیں۔  
 کئے کہتے ہیں۔ (۱۔ محاورہ) کیا وقعت رکھتا ہے؟  
 کیا جانا۔ کیا مانا۔ کس۔ یا۔ مانا۔ کس۔ یا۔ مانا۔ (۲۔) میں کیا جانا  
 مانا۔ کسا۔ آجانا۔

کیسیرا۔ (ک۔ سے) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) ٹھیکر۔ تانے پیل اور کانی کے  
 برتن بنانے اور بیچنے والا۔

کیسیرن۔ (ک۔ سے) (زن) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔)  
 کیسیرو۔ (ک۔ سے) (رو) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔)  
 اور بیون رکھتے ہیں۔

کیسیرہٹا۔ (ک۔ سے) (ہٹ) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔)  
 جہاں تانے۔ پیل اور کانی کے برتن فروخت ہوتے ہیں۔  
 کیسیں۔ (ک۔ سے) (بیس) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔)  
 کے پونے کے تیار ہوتی ہے۔

کیسیلا۔ (ک۔ سے) (سی) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔) (۱۔) (۲۔)  
 اور طاق کو پکڑے۔

کیسیلا پن۔ کسا۔ کیا۔

# ک۔ش

ککش۔ (ت۔ صفت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 میں متعل ہے جیسے محنت کش۔ (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کش۔ (ت۔ صفت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 نکار۔

کش۔ (ت۔ صفت) تمل کرنے والا۔ کشن مصدر کا صیغہ امر جو اسم کے بعد  
 آکر اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے۔ جیسے جانشیم کش۔ محس کش۔  
 کش۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کش۔ (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کا صیغہ امر۔ (مربکات میں متعل ہے جیسے مشکل کشا)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کل۔ (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 پھیلاؤ۔

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 پھولا۔ پھیلا ہوا۔

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 ماسے والا۔ خندہ پیشانی۔ ہنس مکھ۔ خوش اخلاق۔

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 پر وہ اٹھا دینے والا۔

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کسا۔ مزارع۔

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)

کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)  
 کشا۔ (ک۔ ش) (ت) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲)



سے کام نہ لینا۔ (۲) مات ہونا۔

کشتگان - رکشت۔ گان (۱) ف - ۱۔ مذ [کشتہ کی جمع۔ (۱) منقولہ۔ (۲) عشاق کشتہ کشتا - رکش - تم۔ کشت - تا] (۱) مذ [کشم کشتا ہونا۔ لپٹ جانا۔ کشتی - رکش - ت - بی (۱) ف - صفت (۲) گردن مارنے کے قابل۔ گردن لونی۔

کشتہ - (رکش - ش) (۱) ف - صفت (۲) مقتول۔ قتل کیا ہوا۔ (۲) [مذ] لال - جسم نرودہ۔ (۳) عاشق۔ منتون۔ (۴) ماری ہوئی دعوت۔ کشتہ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) قتل کرنا۔ شہید کرنا۔ (۳) دعوت کا چھوڑنا۔ اکیر بنانا۔ (۴) تباہ و برباد کرنا۔

کشتہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) قتل ہونا۔ (۳) فوج ہونا۔ (۴) عاشق ہونا۔ کسی پر مرنا۔ (۳) دعوت کا آگ میں چمک کر اکیر ہونا۔ کشتوں کے کشتے لگ جانا۔ (۱) محاورہ (۲) لافوں کے ڈھیر لگ جانا۔ بہت خون خرابا ہونا۔

کشتی - (رکش - تی) (۱) ف - ۱۔ مٹاؤ۔ بڑی۔ سفینہ۔ ڈونگا۔ (۲) ایک قسم کی پیالی۔ (۳) [آرٹا پینی۔ لمبا حوران۔ کشتی بادہ۔ (۱) ف - ۱۔ مٹاؤ] [مٹاؤ] شراب کا پیالہ جو کشتی کی شکل میں ہوتا ہے۔

کشتی بان - (د - ۱) مذ - فاح - مانہی۔ کشتی - (رکش - تی) (۱) ف - ۱۔ مٹاؤ] زور آزمائی - دو پہلوانوں کا باہم لگنے لگتا ہونا۔

کشتی برا کر رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) ایک دوسرے پر غالب نہ آنا۔ بار بیت کا فیصلہ نہ ہونا۔ کشتی جیتنا۔ (۱) محاورہ کشتی مارنا۔ پچھاڑنا۔ کشتی کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) زور آزمائی کرنا۔ لانا جھگڑنا۔ (۳) دوزخ کرنا۔ پہلوانی کرنا۔

کشتی لڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) باہم لڑنا۔ مقابلہ کرنا۔ (۳) زور آزمائی کرنا۔ آپس میں لگتا جانا۔

کشت - (د - ۱) مذ - ۱۵ - دکھ - سختی۔ (۲) وقت۔ (۳) تنگی۔ مصیبت تکلیف۔ مذاہب۔ پینا۔ کشت اٹھانا۔ کشت بھوگنا۔ (۲) محاورہ (۳) مصیبت اٹھانا۔ تکلیف چھیننا۔

کشتا - (رکش - تا) [آر - ۱] مذ [۱] زرد آلو (۲) شفتالو۔ (۳) ایک قسم کا چھوٹا اور زرد آلو۔ کشت - (رکش - ش) (۱) ف - ۱۔ مٹاؤ] (۲) کشیدگی۔ کھینچاؤ۔ جڈ۔ (۳) دلربائی۔ ناز و کشمیر۔ (۴) رُجمان۔ رُجمت۔ (۵) [آر] دیر۔

توقت - (۵) مصیبت۔ سختی۔ (۶) شکر رنجی۔ انقباض۔ (۷) حروف کی کشت، جیسے کہ کشت گ کی کشت وغیرہ۔ کشت [انصال]۔ (د - ۱) مٹاؤ] علم طبیعیات میں اجسام

کے اس پاس کے اجزا کو آپس میں ملا کر رکھنے کی قوت۔ کشت انا سبب شعری۔ (د - ۱) مٹاؤ] وہ قوت جس سے مانعات اپنی سطح ہموار سے اوپر پڑھ جاتے ہیں۔ کشت ششقل۔ (د - ۱) مٹاؤ] وہ کشت جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کشت زمین۔ (د - ۱) مٹاؤ] زمین کی کشت جو ہر شے کو مرکز زمین کی طرف مائل کرتی ہے۔

کشت گہر بانی۔ (د - ۱) مٹاؤ] وہ قوت جس کے ذریعے سے گہر باغود، گھاس کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ کشت کیمیائی۔ (د - ۱) مٹاؤ] وہ قوت جس کے اثر سے دو مختلف چیزیں ہل کر ایک ہی چیز بن جاتی ہے۔

کشت مقناطیسی۔ (د - ۱) مٹاؤ] پتھر کی وہ قوت جس کے ذریعے سے وہ لوہے اور پارے کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ کشتکش۔ (د) کیمیا مانی۔ جھگڑا۔

کشتکش میں پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) سوچ میں پڑنا۔ منحصر میں پڑنا۔ کشت - (د - ۱) مذ (۲) کھولنا۔ ظاہر کرنا۔ پردہ اٹھانا۔ (۳) عیب کی باتوں کا اظہار۔ اٹکنا۔ الہام۔ انعام۔

کشت عجیب۔ (د - ۱) مذ (۲) پردہ اٹھ جانا۔ معرقت حاصل کرنا۔ کشت فنور۔ (د - ۱) مذ (۲) صوفیوں کا وہ مرتبہ جس میں انہیں مرد کی قبر سے حالات معلوم ہوجاتے ہیں۔ کشت و کلمات۔ (د - ۱) مٹاؤ] اعجاز و تصرف بخسوق عادت۔

کشتی - (رکش - تی) (۱) ف - صفت (۲) کشت سے منسوب۔ کشتول۔ (رکش - بول) (۱) ف - ۱۔ مذ [کچول - فقیروں کا پیالہ۔ بھیک کا ٹھیکرا۔ زنبیل۔

کشتل۔ (د - ۱) مٹاؤ] عافیت۔ نیرتیت۔ صحت۔ ندرستی۔ کشتش۔ (رکش - ش) (۱) ف - ۱۔ مٹاؤ] ایک قسم کے چھوٹے سونے کے ٹکڑے۔

کشتش کی طرح تنکے موجود۔ (۱) مٹاؤ] عورتیں اس جگہ بولتی ہیں۔ جہاں کسی ٹکڑے کی ذات میں کوئی نقص ہو۔ کشتشی۔ (رکش - شی) (۱) ف - صفت [کشتش سے منسوب۔ کشتش کے رنگ کا۔

کشمیر۔ (رکش - می) (۱) مذ [۱] کشمیر کا بنا ہوا آونی کپڑا۔ کشمیر۔ (رکش - می) (۱) مذ [۱] کشمیر سے منسوب۔ (۲) [مذ] باشڈہ کشمیر۔ (۳) [موزنٹ] اہل کشمیر کی زبان۔

کشتش۔ (رکش - ش) (۱) ف - ۱۔ مٹاؤ] گدا۔ نکیہ۔ گدیلا۔ کشتش۔ (رکش - ش) (۱) ف - ۱۔ مٹاؤ] کشتش جی کا نصف۔ کشتشہ۔ (د - ۱) مٹاؤ] ناقص۔ مارنے والا۔ کشتشیز۔ (رکش - نیز) (۱) مذ [۱] دھینا۔

کعبہ ہونواس طرف منہ نہ کروں۔ (۱۔ مثل) کسی جگہ سے اس قدر بیزار ہونا کہ اگر وہ مقام مقدس اور خدا کا گھر بھی ہونوادھر رخ نہ کرنا۔ نہایت بیزار ہونا۔

# ک۔ف

کُف۔ (Cuff) (انگ۔ ۱۔ مذ) کپڑے کی دوہری سٹی جو تھپس کی آستین کے آگے لگاتے ہیں۔

کُف۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) روکن (۲) بھر کے روکن کے سانوںی حرفت کو سانط کر دینا۔ (۳) ہاتھ۔ پنجہ۔ ہتھیلی۔

کُف۔ (ف۔ ۱۔ مذ) (۱) کٹوا۔ پاؤں۔ پاؤں کے نیچے کا حصہ۔ (۲) پنجہ و دست (۳) ہاتھ کی ہتھیلی۔ (۴) کپڑے کی دوہری سٹی جو آستینوں اور خاص کر تھپس کی آستینوں میں لگاتے ہیں۔ (۵) جھاگ پھین۔ (۶) [اُر] شوک۔ بٹم۔

کُف آبگینہ۔ (ف۔ ۱۔ مذ) وہ جھاگ جو شیشہ پگھلا لے سے اُپر آجاتی ہے۔

کُف آنا۔ (۱۔ محاورہ) منہ سے پھین گرنا۔ منہ سے جھاگ نکلنا۔

کُف افسوس کھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ کھانا۔ (۲) افسوس کرنا (۳) پھینانا۔

کُف بر کُف۔ (تابع فعل) شرط بدرک۔ (ف)

کُف پا۔ (ف۔ ۱۔ مذ) پاؤں کا تھوا۔

کُف پانی۔ (۱۔ مٹ) زمانہ بلبلیہ۔ ایک قسم کی تیل اڑی کی جوتی۔

کُف خاک۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) (معنی بھر خاک)۔ (کنایت) انسان۔

کُف دریا۔ (۱) ہاتھ کی ہتھیلی (۲) بلا بر۔ جوار۔ یکساں۔

کُف دست میدان۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ویران جگہ چھیل میدان۔ بیابان۔ سناں۔ جنگل۔

کُف گیر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) ڈوئی۔ کپڑے۔ ڈنڈی والا بڑا پیمہ۔

کُف لانا۔ کُف لے آنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) جھاگ لانا۔ (۳) غصہ لانا۔

بدمزاج ہونا۔ (۳) ہڈی یا شرازت کرنا۔

کُف لسان۔ (ع۔ ۱۔ مذ) زبان کو روکنا۔ بدگوئی سے باز رہنا۔

کُف جفا۔ (ک۔ نا۔ ج۔ فا) (۱۔ مٹ) (۲) ظلم و ستم۔ (۳) [اُر] بشکل تمام۔ جوڑوں کر کے۔

کُف غار۔ (کُف۔ غار) (ع۔ ۱۔ مذ) کافر کی جمع۔ ناشکرے۔ کافر لوگ۔ انکار کرنے والے۔

کُف غارہ۔ (کُف۔ فا۔ زہ) (ع۔ ۱۔ مذ) گناہ و صودینے والا۔ گناہ یا خطا کا بدلہ۔ تصور کا ڈنڈہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔

کُف غارہ دینا۔ (۱۔ محاورہ) گناہ کا عوض ادا کرنا۔ خطا کا بدلہ دینا۔

کُف فاف۔ (ک۔ فاف) (ع۔ ۱۔ مذ) روزمرہ کا خرچ و وظیفہ۔ روزیہ۔

کُشود۔ (ک۔ شود) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھلنا۔ (۲) پھیلاؤ۔ (۳) خوشی سے پھیننا۔ (۴) کامیابی۔ فائدہ۔

کُشود کار۔ (ف۔ ۱۔ مذ) مطلب حاصل ہونا۔ مشکل حل ہونا۔

کُشود و کُست۔ (ف۔ ۱۔ مذ) کھلنا۔ بند ہونا۔ (کنایت) انتظام۔

کُشور۔ (ک۔ شور) (س۔ ۱۔ مذ) (۱) لڑکا۔ جوان۔ (۲) ہندوؤں کے نام کا آخری پڑو۔ (۳) جاند کا پیچہ۔

کُشور۔ (کُش۔ فز) (ف۔ ۱۔ مٹ) [ولایت۔ اقلیم۔ ملک۔ دیس۔

کُشور کشا۔ کُشور گیر۔ (ف۔ ۱۔ مذ) بادشاہ۔ ملک کا بادشاہ۔

کُشی۔ (ک۔ شی) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھینچنا۔ (۲) برداشت کرنا۔ (۳) امریکتا میں استعمال ہوتا ہے جیسے دل کُشی۔ فاقہ کُشی۔

کُشید۔ (ک۔ شید) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھینچنا۔ (۲) عرق نکالنا۔

کُشیدگی۔ (ک۔ شیدگی) (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) کھنچاؤ۔ کشش۔ (۲) شکر بخالی۔

کُشیدہ۔ (ک۔ شی۔ ۵۵) (ف۔ صفت) (۱) کھینچا ہوا۔ (۲) رنجیدہ۔

کُشیدہ طول۔ (۳) دراز۔ بلند۔ (۴) (مذکر) سُئی کا کام۔ (۵) زردوزی۔

کُشیدہ خاطر۔ (ف۔ صفت) رنجیدہ دل۔ آزرده۔ ناراض۔

کُشیدہ قامت۔ (ف۔ ع۔ صفت) لمبے قد والا۔ دراز قد۔

کُشیدہ کار۔ (ف۔ صفت) کڑھائی کا کام کرنے والا۔ زردوزی سُئی کا کام کرنے والا۔

کُشیدہ کاری۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) کڑھائی۔ سُئی کا کام۔

کُشیدہ کاڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) سُئی کا کام کرنا۔ باریک کام کرنا (۲) سستی سے کام کرنا۔ دیر لگانا۔

# ک۔ع

کُعب۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) ٹخنہ (۲) پائسر۔ (۳) علم حساب میں جب کوئی عدد تین مرتبہ باہم ضرب کھانا ہے تو اس کا حاصل ضرب کُعب کہلاتا ہے۔

کُعبتین۔ (کُعب۔ تب۔ تین) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) کُعب کا تثنیہ۔ (۲) دو تون ٹخنہ۔ (۳) ہڈی کے دو مرتب کشش پہلو پائے جن سے چومر اور جوڑا

کیا جاتا ہے۔ (۳) ہر دو کُعب یعنی مکہ معظمہ اور بیت المقدس۔

کُعبہ۔ (کُعب۔ یہ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) چار گوشوں والی چیز مربع۔ (۲) مکہ

مکرمہ۔ اہل اسلام کے منبرک اور مقدس مقام کا نام جہاں ہر

سال حج ہوتا ہے۔ یہ عمارت چار گوشوں والی ہے۔

کُعب کی طرف ہاتھ اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) کُعبہ کو اپنی قسم اور عہد کا گواہ ٹھہرانا۔

کُعبہ کی قسم کھانا۔

کُعبہ مضمود۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (کنایت) اصل مضمود۔

روٹی کپڑا - نان و نغفقہ - (۲) اغازہ -  
 کفالت - (ک - ف - کث) [ع - ۱ - مٹ] ذمہ داری - ضمانت - ضمانت  
 بار اٹھانا -  
 کفالت المال - مال کی ضمانت - ایسی دستاویز جس کے ذریعے  
 سے کوئی شخص اقرار کرے کہ میں قانوناً ذمہ دار ہوں -  
 کفالت خاص - کسی شخص کا کسی چیز کے نہ دینے یا رکھ چھوڑنے کا  
 اس بنا پر دعویٰ وار ہونا کہ اس نے مذکورہ چیز پر ضمانت یا  
 روپیہ صرف کیا ہے -  
 کفالت نامہ - (ع - ف - ۱ - مذ) ضمانت کی دستاویز - ضمانت نامہ -  
 کفایت - (ک - ف - ا - ی - ت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) کافی ہونا - حسب ضرورت  
 فائدہ حاصل ہونا - (۲) بچت - کمی - صرفہ -  
 کفایت سے - (۱) تابع فعل - بجزرسی سے - واجبی خرچ سے -  
 کفایت شعار - (ع - ص - ف) کم خرچ کرنے والا - بجزرس -  
 کفایت شعاری - (ع - ف - ۱ - مذ) کم خرچ - بجزرسی - صرفہ -  
 کفایت کرنا - (۱) کافی ہونا - پورا ہونا - (۲) بچت کرنا - صرفہ کرنا (۳)  
 قیمت میں کمی کرنا -  
 کفایتار - (ک - ف - ت - ا - ر) [ف - ۱ - مذ] [ب - ۲] چرخ - (۳) کفن چور -  
 کفیر - (ک - ف - ی - ر) [ف - ۱ - مذ] (۱) چھوٹا کھیر (۲) سانپ کا بچن -  
 کفر - (ع - ۱ - مذ) (۱) ناشکری - (۲) خدا کو ماننا - بے دینی - (۳) ہٹ -  
 ضد - آڑ -  
 کفر توڑنا - (۱ - محاورہ) (۱) دیندار بنانا - (۲) ضد توڑنا - ہٹ توڑنا -  
 (۳) مطیع کرنا - خرید کرنا -  
 کفر توڑنا خدا خدا کر کے - (۱ - محاورہ) نہایت مشکل سے مانا یا واقعی ہونا -  
 کفرستان - (ع - ف - ۱ - مذ) کافروں کا ملک -  
 کفر کا فتویٰ دینا - (۱ - محاورہ) از روئے شرع کسی کو کافر قرار دینے  
 کا حکم جاری کرنا -  
 کفر کا کلمہ بولنا (ممنہ سے نکالنا - بگنا) (۱ - محاورہ) بے دینی کے  
 الفاظ زبان پر لانا -  
 کفر چیری - (۱ - مٹ) بڑی محبت - بدنگت -  
 کفران - (ک - ف - ان) [ع - ۱ - مذ] ناشکری - ناپاسی -  
 کفرانِ نعت - (ع - ۱ - مذ) احسان فراموشی - نعت کی ناشکری -  
 نیک عزائم -  
 کفش - (ف - ۱ - مٹ) بھرتی - پاپوش - نعلین -  
 کفش بردار - (ف - ص - ف) (۱) ادنیٰ ترین - ادنیٰ مرتبہ کا - (۲) غلام  
 بے وام -  
 کفش پا - (ف - ۱ - مٹ) پاؤں کی بھرتی -  
 کفش خانہ - (ف - ۱ - مذ) عزیز خانہ - (انگسار) اپنا مکان  
 چھوڑنا -  
 کفش دوڑ - (ف - ص - ف) موچی - بچتے بنانے والا - چمار -

کفش کاری - (ف - ۱ - مٹ) جوتے مارنا - سزا دینا -  
 کفش کن - (ف - ۱ - مذ) درگاہ کا وہ خادم یا دروازہ جہاں زیارت کو  
 آنے والے جوتے اتارتے ہیں -  
 کفش نشین - (ف - ص - ف) بہتوں میں بیٹھے والا - حاشیہ نشین - ادنیٰ  
 مرتبہ کا آدمی -  
 کفتاب - (ک - ف - ت) [ع - ۱ - مٹ] (۱) ہاتھ کی ہتھیلی - (۲) پاؤں کا  
 تلو - (۳) ہندی لگا ہوا پاؤں کا تلو -  
 کفن - (ک - ف - ن) [ع - ۱ - مذ] آدمی یا حیوان کے چھوڑنے -  
 کفن - (ک - ف - ن) [ع - ۱ - مذ] وہ کپڑا جس میں مردے کو بیٹھے ہیں - مردے  
 کی چادر -  
 کفن پھاڑ کر بولنا - (۱ - محاورہ) دفعۃً بول اٹھنا یا چیخ مارنا - نہایت  
 بے تاب اور مضطرب ہو کر بولنا -  
 کفن چور - (۱ - مذ) (۱) قہر کو دکھ کر کفن چرانے والا - (۲) شریر - بے رحم -  
 کفن و فن - (ع - ۱ - مذ) تجزیہ و تکفین -  
 کفن سمر سے باندھنا - (پہینا) - (۱ - محاورہ) جان پر کھینا - مرنے پر  
 آمادہ ہونا -  
 کفن سمر سے باندھے پھرنا - (۱ - محاورہ) لڑنے مرنے کو تیار ہونا -  
 جان ہتھیلی پر لیے پھرنا -  
 کفن کو کوڑی نہیں - (۱ - محاورہ) نہایت مفلس و قلاش ہے -  
 کفن کو گئے - (۱ - محاورہ) (۱) کچھ پاس نہ ہونے کی نسبت قسم کھاتے ہیں -  
 یعنی اگر کچھ ہو تو کفن کو گئے - (۲) اگر کوئی ناہند آدمی کسی سے روپیہ  
 لے اور کسی صورت میں اس سے واپسی کی امید نہ رہے تو اسے بطور  
 بددعا کہتے ہیں کہ یہ رقم تیرے کفن پر گئے -  
 کفن کھسوٹ - (۱ - مذ) (۱) کفن چور (۲) لوگوں کا مال کھا جانے والا -  
 کفن میللا نہ ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) مرے ہوئے کو زیادہ زمانہ نہ  
 گذرنا - (۲) تازہ معاملہ ہونا -  
 کفن نصیب نہ ہو - (۱ - کوسنا) بے گور و کفن رہے -  
 کفنانا - (ک - ف - نا - نا) [ا - ر - مص] [میت کو کفن پہنانا - مردے کو پہنلا  
 دھلا کر کفن میں پیشنا -  
 کفنی - (ک - ف - نی) [ف - ۱ - مٹ] (۱) فقیروں کے پہننے کا پیرا جس جو  
 مردے کی کفنی کی طرح ہوتا ہے - (۲) وہ بے آستین کڑنا جو مردے  
 کو پہناتے ہیں -  
 کفو - (ک - ف - و) [ف - ۱ - مٹ] (ع - ص - ف) (۱) ہم جنس - ہم ذات - ہم قوم -  
 ہم خاندان - (۲) مانند - برابر - (۳) فرقہ - قوم - برادری -  
 کفیلان - (ک - ف - ان) [ف - ۱ - مٹ] (ع - ص - ف) [مست -  
 کفیل - (ک - ف - ی - ل) [ع - ص - ف] ذمہ دار - صامن -  
 جو ابده -  
 کفیل ہونا - (مص مرکب) ضامن ہونا - ذمہ دار ہونا ضمانت  
 دینا -



کُل صرف - فقط -  
 کُل جلد پید لہینڈ - (ع۔ مثل) ہرئی چیز مزہ بار ہوتی ہے۔  
 کُل صحیح - (ع۔ ۱۔ مذ) کُل سرمایہ - میزان کُل۔  
 کُل مخصوص بارہ ڈ - (ع۔ منقول) ہر ترش چیز سرد ہوتی ہے۔  
 کُل شئی و چیز حوالی آٹھلہ - (ع۔ مثل) ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔  
 کُل طویون (مخمس) آلا عمرہ - (ع۔ مثل) ہر لہجے قد والا بے وقوف ہوتا ہے  
 (سولتے حضرت عمر کے)  
 کُل قبیل فتنہ آلا علی - (ع۔ مثل) جھوٹے مذکا آدمی شرارتی ہوتا ہے (دہرا  
 حضرت علی کے)

کُل کائنات - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) حیی مخلوق (۲) ساری صحیح پونجی تمام سرمایہ۔  
 کُل کلا - کُل کلاں - (۱) اسی قدر (۲) لے دے کے - بہرہ و جوہر (۳) بالکل -  
 پورا پورا - (۴) مختار کُل - حاکم نماز۔  
 کُل من علینا فان - (آیت) دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔  
 کُل - (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خاندان - گھرانہ - کنبہ - (۲) ذات - ذم۔  
 کُل اچھال - (۱) مذ) خاندان کو بدنام کرنے والا آدمی - تنگ خاندان۔  
 کُل بکھانا - (۱) محاورہ) (۱) کسی خاندان کی تعریف و توصیف کرنا۔  
 (۲) کسی خاندان کا نسب نامہ پڑھنا - (۳) خوشامد اور تعریف  
 کرنا۔ کسی کے بڑوں کو بڑا کہنا۔  
 کُل دھرم - (ع۔ ۱۔ مذ) خاندانی رسم و قاعدہ - بڑوں کی ریت۔  
 کلا - (ک۔ لا) (ک۔ ل) (۱) سوتل - بہت چھوٹا حصہ - ذرے کا آٹھواں  
 حصہ - (۲) چاند کے قطر کا سولھواں حصہ - (۳) منٹ - درجے کا  
 سولھواں حصہ - (۴) فریب - کمر - دھوکا - (۵) بہانہ (۶) شعبہ  
 (۷) کُن - بہتر فن - (۸) روشنی - (۹) گانے کے جوڑے کمال - (۱۰) نٹ  
 لاکرتب - (۱۱) کلامت - بیچرہ -

کلا بازی - قلا بازی - وہ حرکت جو زمینچے اور پاؤں اوپر کر کے نٹ  
 کیا کرتے ہیں - (اُردو میں عموماً قلا بازی مستعمل ہے)۔  
 کلا جنگ - (۱) مٹلگتی کا ایک داؤ۔  
 کلا کار - (۱) فن کار - صاحب ہنر (۲) نگار - فریبی - دغا باز - (۳) فسادی -  
 دنگا کرنے والا - شعر بجانے والا -  
 کلا - (ق۔ صفت) سبے پر فانی - کمال - سکت۔  
 کلا - (ک۔ ل) (۱) [ع۔ ۱۰۔ ۱۰۔ ۱۰] مذ) (۱) کونیل - (۲) گال - (۳) جبرٹا - (۴) سرد ایسپ  
 کا وہ ٹیزہ جس میں بی لگائی جاتی ہے - (۵) بلند آوازی - (۶) ہڈیانی  
 شور و غل - (۷) کمر - فریب (ق۔)  
 کلابہ کلا لڑنا - (۱) محاورہ) (۲) ڈو بڑو لڑنا - (۳) برابری کے ساتھ مقابلہ  
 کرنا۔

کلا پھلانا - (۱) محاورہ) (۲) گالوں میں ہوا بھرنا - (۳) مغرور ہونا - (۴) دسی  
 خشکی یا رنج کے باعث منہ سببانے رکھنا۔  
 کلا توڑ - (۱) صفت) برابر کا - (۲) دندان شکن۔  
 کلا ٹھلا - (۱) مذ) (۲) زبان دلازی - (۳) ظاہر داری (۴) رعب داب۔

کُل مہنہ - کُل مہنہ - (۱) صفت) (۲) کالے منہ کا آدمی - (۳) کم بخت - کم نصیب۔  
 کُل مہی - کُل مہی - کُل مہی - (۱) مٹ) (۲) نابکار - ذلیل (عورت)  
 (۳) بد نصیب - کم بخت (عورت)۔  
 کُل - (۱۰۔ مٹ) (۱) مٹین - آلہ - (۲) کسی چیز کا حصہ یا جوڑ۔  
 کُل بڑھ جانا - کُل بڑھنا - (۱) محاورہ) (۲) مٹین کا بیکار ہو جانا - (۳) مزاج  
 کا بڑھنا۔  
 کُل دار - (۱) صفت) کُل کے ذریعے سے بنا ہوا سکتہ - چہرہ شاہی  
 روپیہ۔

کُل دار بندوق - (۱) صفت) توڑے دار بندوق کا لقبین - گھوڑے  
 کی بندوق - چانپ دار بندوق۔  
 کُل کا - (۱) صفت) کُل کے ذریعے سے بنایا ہوا۔  
 کُل کا پتلا - (۱) مذ) کُل کی طرح کا حرکت کرنے والا - (۲) دوسرے  
 کی مدد سے کام کرنے والا - دوسرے کا تابع - (۳) کل ہارتلی۔  
 کُل کا ذکر ہے - (۱) منقول) تھوڑی مدت کی بات ہے۔  
 کُل کا گھوڑا - (۱) مذ) وہ گھوڑا جو کل اور پڑوں سے چلے۔  
 کُل جس نے دیکھی ہے - (۱) مثل) ناخیر نہ کرو، معلوم نہیں کل کیا ہے۔  
 کُل کل - (۱) مٹ) جوڑ جوڑ - بند بند - انجھنجر۔  
 کُل کل توڑ دینا - (۱) محاورہ) - جوڑ جوڑ بلا دینا - بند بند بلا دینا -  
 بلا دینا - ایک ایک عضو کو ڈھیلا اور بیکار کر دینا۔  
 کُل کو نہ کہنا - (۱) محاورہ) آئندہ الزام نہ دینا۔  
 کُل کی خبر نہیں - (۱) منقول) خدا جانے آئندہ کیا ہو۔  
 کُل مروڑنا - (۱) محاورہ) (۲) مٹین کو پتلا کرنا - کل درست ہونا - (۳)  
 خلاف کر دینا - طبیعت کو پھیر دینا - برگشتہ کر دینا۔  
 کُل - (ق۔ ۱۔ مذ و مٹ) (۱) ترکیب - حکمت - (۲) قرارہ - (۳) بندوق  
 کا گھوڑا۔

کُل - (ع۔ ۱۔ مٹ) آرام - چین - سکون - قرار - الطینان۔  
 کُل آنا - (۱) محاورہ) الطینان ہونا - آرام ہونا - چین پڑنا۔  
 کُل سیکل ہونا - (۱) محاورہ) بے آرام ہونا - بل جانا - (۲) بے ترتیب  
 ہو جانا - (۳) انجھنجر بل جانا۔  
 کُل پانا - (۱) محاورہ) آرام پانا - الطینان ہونا۔  
 کُل پڑنا - (۱) محاورہ) جی چھڑنا - الطینان ہونا - چین پڑنا۔  
 کُل نہ پڑنا - (۱) محاورہ) تڑپنا - آرام نہ کرنا - چین نہ پڑنا۔  
 کُل - (۱۔ ۱۔ مذ) (۲) پاسا (۳) پاست کا دیوتا - (۴) لڑائی - جنگ - (۵) فساد۔  
 (۶) کسی قسم کی سب سے بری چیز۔  
 کُل جگ - (ک۔ ل) (۱) چوتھا جگ - وہ زمانہ جس میں فساد و گناہ  
 کی کثرت ہو۔

کُل - (ق۔ ۱۔ مذ) چھوڑا۔  
 کُل - (ق۔ ۱۔ مذ) خاندان۔  
 کُل - (ع۔ صفت) (۱) تمام - سب - جملہ - پورا - کامل - (۲) ہر - ہر ایک



سوزش ہونا۔ (۳) جلنا۔

کلا نا۔ دک۔ لا۔ نام [۵] مصل [۱۵] سکننا۔ رولنا۔ اناج کا چھڑانا۔  
کلا بچ۔ دک۔ لا۔ لاج [۱۰] آر۔ [۱۱] مصل [۱۲] دیکھنے کے لئے۔

کلا ٹوٹت۔ دک۔ لا۔ وشت [۱۱] ہا۔ [۱۲] مذ [۱۳] ایک قسم کے ڈوم  
(۲) معنی۔ گرتا۔

کلا وہ۔ دک۔ لا۔ وہ [۱۰] زت۔ [۱۱] مذ [۱۲] نکلے پر لپیٹا ہوا کپڑا سوت۔ (۲)  
دار۔ سرخ سوت۔ سولی۔

کلاہ۔ دک۔ لاہ [۱۰] زت۔ [۱۱] مصل [۱۲] لپی۔ [۱۳] تاج شاہی۔ [۱۴] لپی۔  
کلاہ تیزی۔ دت۔ [۱۰] مذ [۱۱] تاناری لپی۔ [۱۲] تاج شاہی۔

کلا مکس۔ (Climax)۔ دک۔ لا۔ ای۔ میکس [۱۱] انگ۔ [۱۲] مذ۔  
نقطہ عروج۔ ختم ہونے کی حالت۔

کلائی۔ دک۔ لا۔ ای [۱۰] مصل [۱۱] سامر۔ پہنچا۔ ہاتھ اور پستی  
کا درمیانی حصہ۔ (۲) قلمی۔ (۳) دق

کلائی کرنا۔ (۱) محاورہ) اپنی کلائی کو حریت کے ہاتھ سے چھڑا کر اس  
کی کلائی پر اپنا ہاتھ پہنچا دینا۔

کلائیال کرنا۔ (۱) محاورہ) ٹھوڑے یا شیر وغیرہ کا پاؤں اٹھا کر خاص  
انداز سے چلنا۔

کلب۔ (Club)۔ دک۔ لب [۱۰] انگ۔ [۱۱] مذ [۱۲] انجمن۔ سبھا۔  
بزم۔ (۲) ڈنڈا۔ سونٹا۔ ٹکڑے۔ (۳) گلف کے کھیل وغیرہ کا

ڈنڈا۔  
کلب۔ دت۔ [۱۰] مذ [۱۱] کتا۔ جمع۔ کلاب۔

کلبن۔ دک۔ لب [۱۰] مصل [۱۱] آفت۔  
کلب۔ دک۔ لب [۱۰] مصل [۱۱] کیڑوں کا ریگنا۔ (۲) کچھ پچھ۔ (۳)  
بچے بچے۔

کلبانا۔ دک۔ لب۔ لا۔ نا [۱۰] مصل [۱۱] کیڑوں کو ٹروں کا پیٹ کے بل  
چلنا۔ کلب کرنا۔

کلبانا۔ دک۔ لب۔ لا۔ نا [۱۰] مصل [۱۱] آہستگی سے چلنا۔ (۲) کلبانا۔ (۳)  
بیترا ہونا۔ تڑپنا۔ (۴) کیڑوں کا ریگنا۔ (۵) انٹریوں کا بولنا۔  
(۶) گدگدیاں کرنا۔

کلبا ہٹ۔ دک۔ لب۔ لا۔ ہٹ [۱۰] مصل [۱۱] کیڑوں کا ریگنا۔  
(۲) آہستگی سے حرکت کرنا۔

کلبہ۔ دک۔ لب [۱۰] مصل [۱۱] چھوٹا سا گھر۔ غریبوں کا جمونہ پڑا۔ (۲)  
گوشہ۔ کرنا۔

کلبنا حزال۔ دت۔ [۱۰] مذ [۱۱] مگر۔ جنوں کا گھر۔ ماتم کرہ۔  
کلبی۔ دت۔ مصل [۱۰] دینا سے بیزار۔ تنگ پڑھا۔

کلبیتیت۔ دت۔ [۱۰] مصل [۱۱] مردم کے ناری۔ قیش سے نفرت۔  
کلب۔ (س۔ [۱۰] مذ [۱۱] وید کے سچے انگوں میں کا ایک انگ۔ وید کی ایک  
فصل۔ (۲) قیامت۔ (۳) خطہ۔ (۴) اندیشہ۔ (۵) خشک و شہ۔ (۶) مطلب۔  
مرد۔ (۷) دیوتاؤں کے ہزار جگ کے برابر کا زمانہ۔ (۸) صرف و

نخ۔ گماہر۔  
کلب برہم۔ کلب برکش۔ (س۔ [۱۰] مذ [۱۱] بہشت کا ایک درخت۔  
کلب۔ (Clip)۔ دک۔ لب [۱۰] انگ۔ [۱۱] مذ [۱۲] کاغذوں یا بالوں کو اکٹھا  
کرنے کی چوٹی۔

کلبانا۔ دک۔ لب۔ نا [۱۰] مصل [۱۱] ستانا۔ دکھ دینا۔ ظلم کرنا۔ بیترا کرنا۔  
تڑپانا۔

کلبینا۔ دک۔ لب۔ نا [۱۰] مصل [۱۱] دکھ پانا۔ ستنا یا جانا۔ گھسنا۔ (۲)  
کوسنا۔ بد دوما دینا۔ (۳) افسوس کرنا۔

کلبت کا۔ دک۔ لب۔ کا [۱۰] ق [۱۱] مذ [۱۲] مہار۔  
کلبتن۔ دک۔ لب۔ تن [۱۰] ق [۱۱] مصل [۱۲] بڑا۔ بڑیلید۔  
کلبتھی۔ دک۔ لب۔ ہی [۱۰] مصل [۱۱] ماش۔

کلبا۔ دک۔ لب۔ نا [۱۰] مصل [۱۱] مذ [۱۲] ایک قسم کا کھانا۔  
کلب جانا۔ دک۔ لب۔ جانا [۱۰] مصل [۱۱] کیلا جانا۔ (۲) منتر کے ذریعے ٹالو کر لینا۔  
کلب جگ۔ (س۔ [۱۰] مذ [۱۱] وہ زمانہ جس میں گناہ کی کثرت ہو۔ بہت بڑا زمانہ۔  
ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق چوتھا جگ۔

کلبج۔ دک۔ لب [۱۰] انگ۔ [۱۱] مذ [۱۲] وہ آکر جس سے مشین  
چلائی یا ٹھہرائی جاتی ہے۔

کلبچا۔ دک۔ لب۔ چا۔ کل [۱۰] مصل [۱۱] مذ [۱۲] ایک قسم کی میدے کی چھوٹی  
خمیری روٹی جو تھوڑی سی پکائی جاتی ہے۔  
کلبچا سا۔ (۱) مصل [۱۱] کھانے کی مانند چھوٹا ہوا۔

کلبچر (Culture)۔ دک۔ لب۔ چر [۱۰] انگ۔ [۱۱] مذ [۱۲] ثقافت۔ تہذیب۔  
ترقی (ذہنی)۔ (۲) زراعت۔ کاشت۔ کھیتی۔

کلبچر۔ (س۔ [۱۰] مذ [۱۱] ایک خوش آواز پرندہ۔ (۲) ایک قسم کا پتنگ (۳) فقیر  
(۴) کالے رنگ کا۔

کلبچرل۔ (Cultural)۔ دک۔ لب۔ چر [۱۰] مذ [۱۱] مصل [۱۲] ثقافتی۔  
کلبچن۔ دک۔ لب۔ چن [۱۰] مصل [۱۱] بچپن۔ بچہ۔ بچپن۔ بچہ دار۔

کلبچی۔ دک۔ لب۔ چی [۱۰] ق [۱۱] مصل [۱۲] انگوٹوں کا جوڑ۔  
کلب۔ دک۔ لب [۱۰] مصل [۱۱] شجر۔ شجر۔ (۲) مصل [۱۱] وہ زمین جس  
میں شوریت کے سبب کچھ پیدا نہ ہو۔ (۳) مذ [۱۲] شور۔

کلب۔ دت۔ [۱۰] مذ [۱۱] چور۔ لٹیڑا۔  
کلبکر۔ (Clerk)۔ دک۔ لب۔ کر [۱۰] انگ۔ [۱۱] مذ [۱۲] محرر۔ منشی۔  
مستعدی۔ اہم۔

کلبکر کی۔ دک۔ لب۔ کر [۱۰] کی [۱۱] آر [۱۲] مصل [۱۳] منشی۔ مری۔ محرری۔ (Clerkship)  
کلبکرن۔ دک۔ لب۔ کرن [۱۰] مصل [۱۱] مورت [۱۲] جو تک لگانے والی عورت۔  
کلبکس۔ دک۔ لب۔ کس [۱۰] مذ [۱۱] انگ [۱۲] کے اوپر کا ٹوک دار حصہ۔ (۲)  
سنہری کلبی جو مندروں، مسجدوں یا گنبدوں پر لگی ہوتی ہے۔  
کلبسا۔ دک۔ لب۔ سا [۱۰] مذ [۱۱] تانبے یا پتیل کا تنگ نمہ کا بڑا ٹکڑا۔  
دیچہ۔ گاگر۔

کلمت - دکن - سنٹ (ق - صفت) کالا - سیاہ۔  
 کلٹی - دکن - جلی (اُر۔ ا۔ مرث) ۱۱ پرندوں کے خوش نما پرندوں کا پودا  
 اپنے تاج - ٹوپی یا چوٹی پر لگاتے ہیں - جینہ - طرہ - (۲) سور یا  
 پرندوں کے سر کا تاج - پرندوں کی چوٹی - (۳) کس۔  
 کلف - دق - (۱) مذ - قفل - تالا۔  
 کلفا - دکن - (نا) (اُر۔ ا۔ مذ) ایک سرخ رنگ کا پھول۔  
 کلف - دکن - لفت (اُر۔ ا۔ مذ) ایک پکا ہوا پس دار مادہ جسے پانی  
 میں ملا کر پڑے کو اس میں ڈبو دیتے ہیں - (۲) ہار - (۳) وہ  
 سیاہ و جیتے بخون کے بگاڑے سنہ پر جو جلتے ہیں -  
 چھپ - (۴) دسمہ - خضاب۔  
 کلفت - دکن - فنٹ (ع - ا۔ سنٹ) ۱۱ رنج - تکلیف - معیبت۔  
 (۲) کدورت - رنجش۔  
 کلفت و دور ہونا - (۱) محاورہ - (۲) رنج و تکلیف کا دور ہونا - (۳)  
 کدورت کا جانا رہنا۔  
 کلفہ - دکن - (مذ) (ا۔ مذ) دیکھیے قلفہ اور ترنہ۔  
 کلف - دق - (۱) مذ و مرث [ نیزہ جس کا ظم بناتے ہیں - نئے نرسل -  
 (۲) (اُر) قلم - تار۔  
 کفار مارنا - دکن - کار (ق - محاورہ) [ زور سے چلانا۔  
 کفارنا - دکن - کارنا، (۱) محاورہ [ پکارنا - نعرہ لگانا - چینا۔  
 کفاری - دکن - کاری، (۱) سنٹ [ چیخ - زور کی آواز - (۲) بندر  
 کی آواز۔  
 کفاری مارنا - (۱) محاورہ - (۲) چیخ مارنا - چلانا - تہمتہ لگانا - لوگنا۔  
 زور سے پکارنا - (۲) بندر کا گلیا - بندر کا چیخ مارنا۔  
 کالانا - دکن - کانا (ق - مع) [ بددعا دینا - (۲) شور کرنا۔  
 کلکٹر - (Collector) (دکن - کت - کت) (مذ) (انگ - ا۔ مذ) ۱۱  
 صاحب - مسیح - ڈپٹی کمشنر (۲) محفل - وصول کرنے والا - آگاہنے  
 والا۔  
 کلکٹری - دکن - کت - کت (ری) [ (۱) سنٹ] ۱۱ کلکٹر کا عہدہ -  
 (۲) کلکٹر کا کام - (۳) کلکٹر کی چوٹی۔  
 کلکل - دکن - کل (ع - ا۔ سنٹ) ۱۱ بک - بک - (۲) جیکڑا - (۳) شور و  
 غل - (۴) عورتوں کا بلند آواز سے لڑنا۔  
 کلکل پیٹ پیٹ - (۱) سنٹ (۱) بکوا - بک - بک (۲)  
 جیکڑا - خساد۔  
 کلکل کاٹنا - (۱) مذ - بچوں کا ایک کھیل جس میں کپڑے کھینچ کھینچ کر چپا  
 دیتے ہیں۔  
 کلکل کرنا - (۱) محاورہ (۱) بکواس کرنا - (۲) باہم تھکار کرنا - (۳) دماغ  
 پریشان کرنا۔  
 کل کلٹ - دق - (۱) مرث] صبر - آہ۔  
 کلکلانا - دکن - کک - لانا (۱) مذ - مع [ کاٹ کھانے کو ڈوڑنا - بد مزاج

اور ترش رُو ہونا - چڑچڑانا۔  
 کلکم - دکن - کم (ق) [ آجمن۔  
 کلکنا - دکن - کت - کت (۱) مذ - مع [ کت کے بچے کا پر واز میں تیزی  
 کرنا - (۲) چر پالیوں کے بچوں کے میدان میں اچھلنا کودنا - (۳) نکلنا۔  
 زہر مار کرنا - بے رغبتی سے ٹھانا۔  
 کلکوٹ - دکن - کوٹ (ق) [ ہوس - لالچ۔  
 کلکی - دکن - کی (ق) [ مرث] [ مٹا کو پینے کی نئے۔  
 کلکنا - دکن - کک (اُر۔ ا۔ مذ) اولہ - مسالے دار تہمتہ بھری ہوتی بکری کی  
 انتڑی۔  
 کلکناٹ - دکن - یل - مات (ع - ا۔ مذ) کتہ و مرث [ کلمہ کی جمع۔  
 کلکھی - دق - صفت (صفت) سیاہ رُو - کالی۔  
 کلکھ - دکن - یل - مٹ (ع - ا۔ مذ) ۱۱ لفظ - بات - قول (۲) وہ  
 با معنی لفظ جو آدمی کے منہ سے نکلے - (۳) دین اسلام کی صدا  
 کا عقیدہ (مجازاً) خدا کا نام - جمع - کلمات۔  
 کلکھہ - دق - (مذ) (ا۔ مذ) دیکھیے قلفہ اور ترنہ۔  
 کلک - دق - (۱) مذ و مرث [ نیزہ جس کا ظم بناتے ہیں - نئے نرسل -  
 (۲) (اُر) قلم - تار۔  
 کلکار مارنا - دکن - کار (ق - محاورہ) [ زور سے چلانا۔  
 کلکارنا - دکن - کارنا، (۱) محاورہ [ پکارنا - نعرہ لگانا - چینا۔  
 کلکاری - دکن - کاری، (۱) سنٹ [ چیخ - زور کی آواز - (۲) بندر  
 کی آواز۔  
 کلکاری مارنا - (۱) محاورہ - (۲) چیخ مارنا - چلانا - تہمتہ لگانا - لوگنا۔  
 زور سے پکارنا - (۲) بندر کا گلیا - بندر کا چیخ مارنا۔  
 کلکانا - دکن - کانا (ق - مع) [ بددعا دینا - (۲) شور کرنا۔  
 کلکٹر - (Collector) (دکن - کت - کت) (مذ) (انگ - ا۔ مذ) ۱۱  
 صاحب - مسیح - ڈپٹی کمشنر (۲) محفل - وصول کرنے والا - آگاہنے  
 والا۔  
 کلکٹری - دکن - کت - کت (ری) [ (۱) سنٹ] ۱۱ کلکٹر کا عہدہ -  
 (۲) کلکٹر کا کام - (۳) کلکٹر کی چوٹی۔  
 کلکل - دکن - کل (ع - ا۔ سنٹ) ۱۱ بک - بک - (۲) جیکڑا - (۳) شور و  
 غل - (۴) عورتوں کا بلند آواز سے لڑنا۔  
 کلکل پیٹ پیٹ - (۱) سنٹ (۱) بکوا - بک - بک (۲)  
 جیکڑا - خساد۔  
 کلکل کاٹنا - (۱) مذ - بچوں کا ایک کھیل جس میں کپڑے کھینچ کھینچ کر چپا  
 دیتے ہیں۔  
 کلکل کرنا - (۱) محاورہ (۱) بکواس کرنا - (۲) باہم تھکار کرنا - (۳) دماغ  
 پریشان کرنا۔  
 کل کلٹ - دق - (۱) مرث] صبر - آہ۔  
 کلکلانا - دکن - کک - لانا (۱) مذ - مع [ کاٹ کھانے کو ڈوڑنا - بد مزاج



ک۔ ل۔

**کلوروفارم** - (Chloroform) (رک۔ لو۔ رو۔ فا۔ زم) [انگ۔ ۱۶۸]   
 داروئے سے ہوشی۔ ایک دقیق دوا جو سہویشی پیدا کرتی ہے۔   
**کلورین** - (Chlorine) (رک۔ کو۔ رین) (ک۔ لو۔ رین) [انگ۔ ۱۷]   
 انگریزی دوا۔

**کلوکسیم** - (Colocum) (رک۔ لو۔ ک۔ ام) [انگ۔ ۱۰۱]   
 مجلس مذکرہ۔

**کلول** - (ک۔ لو۔ ل) (ک۔ لو۔ ل) [رک۔ ۱۔ مٹھ] [انگ۔ ۱۰۷]   
 کیمل کوڈ۔ اچھل کود (۲) دل لگی۔ سیر۔ (۳) شوخی۔ چپلا پن۔ پیابا مذاق۔

**کلول کرنا** - (۱) محاورہ (۲) کیٹنا۔ (۳) کھینا۔ (۴) کھینا۔ (۵) کھینا۔ (۶) کھینا۔ (۷) کھینا۔ (۸) کھینا۔ (۹) کھینا۔ (۱۰) کھینا۔ (۱۱) کھینا۔ (۱۲) کھینا۔ (۱۳) کھینا۔ (۱۴) کھینا۔ (۱۵) کھینا۔ (۱۶) کھینا۔ (۱۷) کھینا۔ (۱۸) کھینا۔ (۱۹) کھینا۔ (۲۰) کھینا۔

**کلوچی** - (ک۔ لو۔ جی) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 ایک قسم کے سیاہ بیج جو اکثر   
 اچار میں ڈالے جاتے ہیں۔

**کلونس** - (ک۔ لو۔ نس) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 کالک۔ سیاہی کا جہل۔ (۲) داغ۔   
 دھبہ۔ (۳) بنا نامی۔

**کلویٹ** - (فعل۔ ویتھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 ہرن کا ترہ۔ (۲) کالا۔   
**کلہ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 گلاہ کا تخفیف۔ ٹوپی۔

**کلہ شجرہ** - (۱) سلسلہ خاندان۔ (۲) آرا مال۔ اسباب۔   
 استر لیٹر۔   
**کلہ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 مذکرہ اسم۔ کھڑی۔ دیکھیے گلہ۔

**کلہارنا** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 دل کا چپکا جلا کر اٹھانا۔

**کلہاری** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 جگہ جو عورت جگہ جو عورت   
**کلہارٹا** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 بڑی کلہاری جس سے کلہاری کاٹتے   
 اور بھاڑتے ہیں۔

**کلہاری** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 کلہاری پھاڑنے اور کھانے کا   
 چھوٹا آلہ۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 مٹی کا بڑا آنکھڑہ۔ (۲) ایک قسم کی   
 آتش بازی۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ پورا کا پورا۔   
**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔   
**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔

**کلہڑ** - (ک۔ لہ) (ف۔ ۱۰) [انگ۔ ۱۱۱]   
 سب کا سب۔ تمام۔ کامل۔ پورا۔ (۳) [انگ۔ ۱۱۱]   
 صرف۔ فقط۔

**کلن** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔   
**کلنا** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنتر** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنچ** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنڈرا** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

**کلنک** - (ک۔ لن) (رک۔ ۱۔ مٹھ) [انگ۔ ۱۱۱]   
 زخم کی ٹیس۔ (۲) درد۔

باغ باغ ہو جانا۔

کلیجا بیٹھا جانا۔ (۱- محاورہ) دل کا خوف اور ناتوانی کے باعث ڈرنا جانا۔ نہایت منہصل ہوا جانا۔

کلیجا پاش پاش ہو جانا۔ (۱- محاورہ) دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ دل ٹوٹنا۔

کلیجا پتھر ہو جانا۔ (۱- محاورہ) دل کا نہایت سخت ہو جانا۔

کلیجا پک جانا۔ (۱- محاورہ) دکھی ہو جانا۔ جلتے جلتے کباب ہو جانا۔ چھاتی کپکپانا۔

کلیجا پکڑ کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) دل مسوس کر رہ جانا۔ (۲) کسی صدمے کی بے تابی کو روکنے کے لیے کلیجے پر ہاتھ رکھنا۔

کلیجا پکڑ لینا۔ (۱- محاورہ) کسی صدمے سے بے تاب اور مضطرب ہو جانا۔

کلیجا پک کر کے پھوٹا ہونا۔ (۱- محاورہ) کمال صدمہ پہنچنا۔

کلیجا پھینکا۔ (۱- محاورہ) عاجز آنا۔ دل جلنا۔ تنگ آ جانا۔ چھاتی کا پکنا۔

کلیجا پھینکا جانا۔ کسی صدمے کی تاب نہ لا سکتا۔

کلیجا پھٹ جانا۔ (۱- محاورہ) دل پاش پاش ہو جانا۔ (۲) کسی کے تیر نظر کا گھاس ہو جانا۔ (۳) رشک سے جل مرنا۔ (۴) دکھ سے رہ جانا۔

کلیجا پھٹنا۔ (۱- محاورہ) کسی کی مصیبت نہ دیکھ سکتا۔ ترس آنا۔ (۲) دل پر صدمہ گذرنا۔ دل بھرا آنا۔ (۳) جلنا۔ رشک کھانا۔ حسد کرنا۔

کلیجا پھوٹنا۔ (۱- محاورہ) کلیجے بے تاب ہونا۔

کلیجا پھینکا۔ (۱- محاورہ) کلیجے جلنا۔

کلیجا تر ہو جانا۔ (۱- محاورہ) پرٹ تر ہونا۔ دولت کے سبب بے نگر ہونا۔ دولت مند ہونا۔

کلیجا تنھام تنھام کر رونا۔ (۱- محاورہ) بے تابانہ گریہ و زاری کرنا۔ نار و قطار رونا۔ بے تابی کے باعث دل کو پکڑ پکڑ کر رونا۔

کلیجا تنھام کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) دل مسوس کر رہ جانا۔ نہایت بے قرار اور بے تاب ہو جانا۔ تڑپ کر رہ جانا۔ (۲) صبر کر بیٹھنا۔ رنج و غم کا اظہار نہ کر سکتا۔

کلیجا تنھام لینا۔ (۱- محاورہ) صدمے کی شدت سے جگر پکڑ لینا۔ سخت بے چین ہونا۔

کلیجا تھر تھرا۔ (۱- محاورہ) سخت سردی لگنا۔ (۲) سخت خوف اور وحشت ہونا۔

کلیجا ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) دل پر چوٹ لگنا۔ دل پر صدمہ پہنچنا۔

کلیجا ٹوک ٹوک ہونا۔ (۱- محاورہ) دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ دل پھینکا۔ دل پر صدمہ گذرنا۔ دل بے تاب ہونا۔

کلیجا ٹھنڈا رہنا۔ (۱- محاورہ) ماتا خوش رہنا۔ سب خوش رہنا۔ چین اور

میں ڈالتے ہیں۔ نرینہ (۶) ایک قسم کا صراحی وار حقتہ۔ (۷) نرینہ۔ (۸) قلعی۔ (۹) شعلہ۔ چراغ کی کو۔ (۱۰) قلعی۔

کلی چپکنا۔ (۱) چھوٹا۔ (۲) چھوٹا۔ (۳) چھوٹا۔ (۴) چھوٹا۔ (۵) چھوٹا۔ (۶) چھوٹا۔ (۷) چھوٹا۔ (۸) چھوٹا۔ (۹) چھوٹا۔ (۱۰) چھوٹا۔

کلی مر جانا۔ (۱- محاورہ) چغندر پڑ مر رہا ہونا۔ (۲) طبیعت بگڑ جانا۔ (۳) کبیرہ ہونا۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

رگلی۔ (۱- رگلی) [۱-۱۰- مٹ] منہ میں پانی بھر کر لگنا۔ غرغہ۔ غرارہ۔

کلیجیا منہ کو آنا۔ (۱- محاورہ) دل گھبرا۔ (۲) جی آگنا یا خفقان ہونا۔  
 کلیجیا نکال کے رکھ لے جانا۔ (۱- محاورہ) کسی کی دولت لے جانا۔ مال مار کر لے جانا۔ (۲) بچن کر سب سے اچھی چیز لے جانا۔  
 کلیجیا نکال کر (کے) رکھ دینا۔ (۱- محاورہ) جان دے دینا۔ مرجانا۔  
 (۳) بہترین چیز نکال کر دینا۔ (۳) کسی امر کی صداقت کے لیے بے حد کوشش کرنا۔  
 کلیجیا نکال لینا۔ (۱- محاورہ) دیکھیں کلیجیا کا ٹھہ لینا۔  
 کلیجیا ہاتھ بھر کر ہو جانا۔ کلیجیا ہاتھ بھر ٹھہر جانا۔ کلیجیا ہاتھوں بٹھ جانا۔ (۱- محاورہ) ہمت بٹھ جانا۔ حوصلہ بٹھ جانا۔  
 کلیجیا ہل جانا۔ (۱- محاورہ) خوف یا دہشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔  
 کمال خوف ہونا۔  
 کلیجی پر ہنجر رکھ لینا۔ (۱- محاورہ) صبر کرنا۔  
 کلیجی پر پتھر یا چوٹ لگنا۔ (۱- محاورہ) سخت اندرونی صدمہ پہنچنا۔  
 کلیجی پر چوٹی سی چل جانا۔ (۱- محاورہ) دل پر تیر سا لگنا۔ دل پر صدمہ سا گزرنے۔  
 کلیجی پر سانس پ لوٹنا۔ (۱- محاورہ) دل پر نہایت افسوس سا گزرنے۔  
 رشک گزرنے۔ صدمہ گزرنے۔ رنج و صدمہ گزرنے۔  
 کلیجی پر گھوٹسا لگنا۔ (۱- محاورہ) دل پر نہایت صدمہ گزرنے۔  
 دل پر چوٹ لگنا۔  
 کلیجی پر ہاتھ دھر کے دیکھنا۔ (۱- محاورہ) اپنے دل کا حال دیکھنے کے دل کا جانا۔  
 کلیجی پر ہاتھ دھرے پھرنا۔ (۱- محاورہ) بے تاب اور مضطرب ہونا۔  
 کر پھرنا۔ دل پر بے پھرنا۔  
 کلیجی سے دھواں اٹھنا۔ (۱- محاورہ) کمال دل جلنا۔ نہایت تنگی اور برا فرشتگی ہونا۔ دل سے دھواں نکلنا۔  
 کلیجی سے لگا کے رکھنا۔ (۱- محاورہ) نہایت عزیز کر کے رکھنا۔  
 (۲) کمال احتیاط اور حفاظت سے رکھنا۔ (۳) چھپا کے رکھنا۔  
 (۴) جان سے زیادہ رکھنا۔  
 کلیجی کا ٹکڑا۔ (۱) بڑی کھنت بکر۔ فور پشیم۔ پارہ دل۔  
 کلیجی کے اندر پھانسی لگنا۔ (۱- محاورہ) اندرونی صدمہ یا رنج پہنچنا۔  
 کلیجی کے بار ہو جانا۔ (۱- محاورہ) سخت ناگوار ہونا۔  
 کلیجی میں تھم لگنا۔ (۱- محاورہ) (۲) دل بگڑنا یا سینے میں کسی چیز کے کھانے سے سوزش ہونا۔ (۲) نہایت پیاس اور تشنگی ہونا۔  
 (۳) کسی صدمے سے دل بے قرار ہونا۔  
 کلیجی میں برسی گزرتا۔ (۱- محاورہ) روحانی ایذا یا صدمہ پہنچنا۔  
 کلیجی میں بیٹھے لگنا۔ (۱- محاورہ) کمال بے قراری ہونا۔  
 کلیجی میں چٹکیاں لینا۔ (۱- محاورہ) دل جلانا۔ طعنے بھنے کی باتوں سے ذہنی صدمہ پہنچانا۔  
 کلیجی میں چھید ڈالنا۔ (۱- محاورہ) کمال ایذا پہنچانا۔

سکھ سے رہنا۔  
 کلیجیا ٹھنڈا کرنا۔ (۱- محاورہ) چین دینا۔ تسکین دینا۔ کسی کو خوش کرنا۔  
 خوشی پانا۔ راحت حاصل کرنا۔  
 کلیجیا ٹھنڈا ہونا۔ (۱- محاورہ) (۲) جی خوش ہونا۔ دل کو آرام ملنا۔ (۲) تسلی پانا۔ (۳) صبر آنا۔ چین آنا۔  
 کلیجیا جلانا۔ (۱- محاورہ) (۲) دل جلانا۔ آزرہ کرنا۔ (۲) [کنایتہ] عوام (زیادہ سخت پینا۔ (۳) کلیجی پر کسی گرم چیز کا اثر کرنا۔  
 کلیجیا جلنا۔ (۱- محاورہ) کوفت ہونا۔ آزرہ لگی ہونا۔  
 کلیجیا جلی۔ (۱- صفت) دل سوزنا۔ غم رسیدہ۔  
 کلیجیا چاہیے۔ (۱- محاورہ) ہمت چاہیے۔ حوصلہ چاہیے۔  
 کلیجیا چھلنی ہونا۔ (۱- محاورہ) وطن و شہر سے سخت رنج پہنچنا۔ باتوں کا سخت ناگوار گزرتا۔  
 کلیجیا چھیدنا۔ (۱- محاورہ) دلی صدمہ پہنچانا۔ بولی زنا۔ طبعی تشنگی سے رنج پہنچنا۔  
 کلیجیا خون کرنا۔ (۱- محاورہ) سخت صدمہ پہنچانا۔  
 کلیجیا دھڑکنا۔ (۱- محاورہ) خوف یا افسوس کے باعث دل کا پینا۔ دل لرزنا۔ دل کی پینا۔ دل میں دھڑکن ہونا۔  
 کلیجیا دھک دھک ہونا۔ (۱- محاورہ) دل کا پینا۔ خوف چھا جانا۔  
 کلیجیا دھک سے ہو جانا (زرہ جانا)۔ (۱- محاورہ) دل پر خوف چھا جانا۔ صدمہ سا لگنا۔ دل دہل جانا۔ (۲) سختی ہو جانا۔ حیرت زدہ ہو جانا۔ دنگ رہ جانا۔  
 کلیجیا سہل ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کی مالی تہی کی تعریف کرنا۔  
 کلیجیا سٹکنا۔ (۱- محاورہ) دل جلنا۔ دل کی بک کرنا۔ رنج کرنا۔  
 کلیجیا سٹھکنا۔ (۱- محاورہ) دل تمام لینا۔ دل کو قابو میں کرنا۔  
 کلیجیا کا ٹھہ لینا۔ (۱- محاورہ) (۲) ڈانٹ کی طرح بکر کھا جانا۔ (۲) فریفتہ کر لینا۔ (۳) چوٹی کی یا بیچ کی عمدہ چیز نکال لینا۔  
 کلیجیا کا پینا۔ (۱- محاورہ) (۲) خوف چھانا۔ دل کا لرز جانا۔ (۲) مردی لگنا۔ کچی چھوٹنا۔  
 کلیجیا کباب ہونا۔ (۱- محاورہ) جی ٹھیکنا۔ دل جلنا۔ کوفت ہونا۔  
 کلیجیا کٹنا۔ (۱- محاورہ) (۲) ہیرے کی کٹی یا کوئی اور زہریلی چیز کھا جانے سے دل یا بکر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ (۲) خوشی دست آنا۔ اسہال آنا۔ (۳) دل دکھنا۔ دل پر نہایت صدمہ گزرنے۔ (۴) حادثہ گزرنے۔  
 کلیجیا کھرتنا۔ (۱- محاورہ) خوب بیوقوف لگنا۔  
 کلیجیا کھلانا۔ (۱- محاورہ) (۲) دولت کھلانا۔ (۲) [کنایتہ] جان تک کمال کر سولے کر دینا۔ (۲) از حد خاطر تواضع کرنا۔  
 کلیجیا مستوس کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) صدمے کو ضبط کر کے چھپ رہ جانا۔ دل ہانک رہ جانا۔  
 کلیجیا کھنا۔ (۱- محاورہ) کسی صدمے سے بے تاب ہو کر دل کو پکڑ لینا۔  
 دل دکھانا۔

# ک۔م

کلمہ - (د۔ صفت) تھوڑا - ذرا سا - نحیف - قلیل - (۱۲) ادنیٰ - گھٹیا - کم از کم - (د۔ صفت) کم سے کم - بہت کم - تھوڑے سے تھوڑا - کم اصل - (د۔ صفت) ع۔ ا۔ صفت) ۱۱) بیچ ذات کا - کینہ - ذلیل - (۱۳) نالائق - کم اصل سے بنا نہیں - (۱۴) مغلوبہ - کینے سے دفا داری کی امید نہ رکھنی چاہئے - کم اوقات - (د۔ صفت) ع۔ صفت) کم حیثیت - بے حیثیت - کم بخت - (د۔ صفت) بد بخت - بد نصیب - بھانگی - کم بخت گئے ہاٹ - گراؤ ملنے نہ ہاٹ - (۱۵) مثل - بد نصیب مکان سے سودا لینے جاتے تو ترازو دار ہاٹ نہیں ملتے - نہایت بد نصیبی کے اظہار پر بولتے ہیں - کم بختی - (د۔ صفت) ۱۔ صفت) ۱) بد بختی - جستی - (۱۶) بد شکونی - بدفالی - (۱۷) مصیبت - برے دن - کم بختی آنا - (۱۸) محاورہ) شامت آنا - برے دن آنا - مصیبت پڑنا - آفت نازل ہونا - کم بختی جب آئے اونٹ پر چڑھے کو گستاخانے - (۱۹) مثل - نصیبی میں چاہے لاکھ احتیاط کرو، ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے - کم بختی کا مارا - (۱۰) مذ - بد نصیبی کا مارا ہونا - بد نصیب - کم بختی کے دن - (۱۱) مذ - برے دن - ایام خسرت - کم بختی تے تو نہیں گھیرے - کم بختی تو نہیں آتی - (۱۲) مثل - تہاری شامت آگئی ہے - ۹ پتے کو تو ہی نہیں چاہتا - کم بضاعت - (د۔ صفت) ع۔ صفت) کم حیثیت - ٹٹ پونیا - کم پایہ - (د۔ صفت) پست حوصلہ - (۱۳) اندھا - نابینا - کم پڑنا - (۱۴) محاورہ) جتنی ضرورت ہو اس سے کم پڑنا - تھوڑا جانا - کم تر - (د۔ صفت) بہت کم - بہت تھوڑا - (۱۵) نہایت ادنیٰ - کم ترین - (د۔ صفت) بہت ہی کم - (۱۶) خاکسار - ناچیسز - عزیزوں اور خراسنوں میں یہ لفظ فدوی یا خاکسار کی جگہ نہیں کے معنی میں مستعمل ہے - کم توہمتی - (د۔ صفت) ع۔ ا۔ صفت) بے پرواہی - بغفلت - کم حوصلگی - (د۔ صفت) ع۔ ا۔ صفت) بے ہمتی - تھوڑی - کم حوصلہ - (د۔ صفت) ع۔ صفت) کم ظرف - ادھیچا - تھوڑا - کم حیثیت - (د۔ صفت) ۱۱) ٹٹ پونیا - کم بضاعت - کم سرمایہ - منظوری سی پونجی والا - (۱۲) کینہ - سرفہ - ذلیل - (۱۳) تھوڑا - ادھیچا - کم خرچ - (۱۴) صفت) ۱۱) کفایت شنار - جندرس - (۱۵) کمبختی - کم خرچ بالا نشین - (د۔ صفت) مثل) ۱) قیمت میں کم ادا پائیداری میں

کلیجے میں ڈال رکھنا - (۱) محاورہ) فروخت کے باعث یا ماتا کے مارے دل کے اندر رکھ لینا  
 کلیجے میں ہاتھ ڈالنا - (۲) محاورہ) ۱) دل میں گھر کرنا - مقرب اور عزیز ہونا - (۲) دولت پر ہاتھ مارنا - (۳) دل دکھانا - تکلیف دینا - کلیجی - (ک۔ ل۔ جی) ۱) صفت) [مٹ] بکرے وغیرہ کا کلیجہ جس میں بگڑا ہوا پیپر ڈالی وغیرہ شامل ہے - کلیجہ - (ک۔ ل۔ پیچ) [مٹ] ۱) دیکھے چھاپا - کلیجہ - (ک۔ ل۔ بیدر) [مٹ] ۱) چابی - کچی (بکرہ اقل بھی صحیح ہے) کلیجہ - (Clear) (ک۔ ل۔ پیچ) [مٹ] ۱) صفت) ۱) صاف - شفا - (۲) ظاہر - واضح - صریح - ہموار - (۳) کھلا - بے روک - صاف (۴) بے ہاک - پاک - کلیئرنگ سیل - (Clearing Sale) (ک۔ ل۔ نئی - رنگ سیل) [مٹ] ۱) مٹ - [مٹ] ۱) دکان کو موجودہ مال ختم کرنے کے لیے سستے داموں فروخت - کلیسیا - (ک۔ ل۔ لی سا) [یو - ۱] مذ] ۱) گرجا - قوم ترسا کا معبد - کلیسیائی - (ک۔ ل۔ لی سا - ای) [یو - صفت] [مٹ] ۱) منسوب بہ کلیسیا - کلیسیا - (ک۔ ل۔ لیس - یا) [یو - ۱] مذ] ۱) عیسائیوں کی ایک جماعت جو حضرت مریم کے بت کو مانتی ہے - کلیش - (ک۔ ل۔ لیش) [اس - ۱] مذ] ۱) ڈکھ - تکلیف - درد - سختی - مصیبت - (۲) جگڑا - فساد - لڑائی - دنگا - کلیگرا - (ک۔ ل۔ گرا) [ق - ۱] مذ] ۱) تروٹنہ - کلیل - (ک۔ ل۔ لیل) [ع - ۱] مٹ] [مٹ] ۱) چوپایوں کا خوشی میں اچھلنا - کودنا - کلیل میں غلیل گنا - (۱) محاورہ) خوشی کی حالت میں دغہ بخش پیدا ہونا - رنگ میں جھگ پڑنا - کلیل - (ک۔ ل۔ لین) [ف - صفت] ۱) کند - رست - (۲) تھکا ہوا - (۳) رنگا - کلیتم - (ک۔ ل۔ پیم) [ع - صفت] ۱) بات کرنے والا - ہم سخن - (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب - کلیم اللہ - (ع - صفت) تمہارے کلام کرنے والا - حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب - کلیتم - (Claim) (ک۔ ل۔ پیم) [مٹ] ۱) [مٹ] ۱) حق - دعویٰ - مطالبہ - (۲) استغاثہ - مالش - کلیئر - (ک۔ ل۔ نٹ) [مٹ] ۱) صاف کرنے والا - (۲) لاری کے ڈرائیور کا مددگار - کلینک - (Clinic) (ک۔ ل۔ بی - بک) [مٹ] ۱) [مٹ] ۱) صحت گاہ - شفا خانہ - کلیئم - (ک۔ ل۔ نیہ) [ع - ۱] مذ] ۱) گروہ - ایک اندرونی عقو - کلیئم - (ک۔ ل۔ بی - بیہ) [ع - ۱] مذ] ۱) بڑبڑیہ کی ضد - عام فائدہ - (۲) کالج - (۳) یونیورسٹی - (۴) جمعی - تمام پن - (۵) تمام وکمال - سب کاسب -

زیادہ۔ (۲) تھوڑے داموں میں بڑا کام نکلانے والی۔  
 کم خوابی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) نیند نہ آنے کا مرض۔  
 کم تھور۔ کم تھوراک۔ (د۔ صفت) تھوڑا کھانے والا۔  
 کم ڈولا۔ (د۔ صفت) (۱) بڑول۔ ڈرپوک۔ (۲) کجروش۔  
 کم ذات۔ (د۔ صفت) رذیل۔ کمینہ۔ بیچ ذات۔  
 کم کرو۔ (د۔ صفت) سخت رفتار۔  
 کم گرو۔ (د۔ صفت) بد صورت۔  
 کم گڑگان۔ (د۔ صفت) کم لوتے والا۔  
 کم گزور۔ (د۔ صفت) (۱) ملازماں۔ (۲) نا طاقت۔ (۳) ہکا۔  
 کم گزور مار کھانے کی نشانی۔ (۱۔ مٹ) زیر دست ہمیشہ دبار ہتا ہے۔  
 کم گزوری۔ (د۔ ۱۔ مٹ) ضعف۔ نا طاقتی۔ نفاقت۔  
 کم سال۔ (د۔ صفت) کم عمر۔ تھوڑی عمر کا۔  
 کم گلشن۔ (د۔ صفت) کم لوتے والا چوپ۔ کم گو۔  
 کم گلشنی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) کم گوئی۔ تھوڑا بولنا۔  
 کم گرسن۔ (د۔ صفت) چھل عمر کا۔  
 کم گشتا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) توجہ نہ کرنا۔ تھیال میں نہ لانا۔ (۲) اونچا مٹنا۔  
 کسی قدر بہرا ہونا۔  
 کم سخی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) بچپن۔ تھوڑی سی۔ طفلیت۔  
 کم سواد۔ (ع۔ ف۔ صفت) کم فہم۔ ناقص العقل۔  
 کم سے کم۔ (۱۔ صفت) دیکھیے۔ کم از کم۔  
 کم طالبی۔ (د۔ صفت) بد نصیبی۔ کم انیسبی۔  
 کم ظرف۔ (د۔ صفت) (۱) کم حوصلہ۔ اچھا۔ تھوڑا دلا۔ (۲) کمینہ۔  
 سفلہ۔ عالی ظرف کا نقیض۔  
 کم ظرفی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) کم حوصلگی۔ (۲) کمینہ پن۔ رذالت۔  
 اوچپان۔  
 کم عقل۔ (د۔ صفت) بے وقوف۔ نادان۔ کم فہم۔ موڑکھ۔  
 کم عقلی۔ (د۔ صفت) بے عقلی۔ نادانی۔ کم فہمی۔ نا کھمی۔  
 کم عمر۔ (د۔ صفت) دیکھیے کم رسن۔  
 کم لگیار۔ (د۔ ع۔ صفت) وہ روپیہ جو کم قیمت پر چلے غیر معیاری۔  
 کھوٹا۔  
 کم فرصتی۔ (د۔ ع۔ صفت) بہت بھروسہ ہونا۔ عدم فرصت۔  
 کم فہم۔ (د۔ ع۔ صفت) نادان۔ نا سمجھ۔  
 کم فہمی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) نادانی۔ نا کھمی۔  
 کم قدر۔ (د۔ ع۔ صفت) بے وقعت۔ بے قدر۔  
 کم قسمت۔ (د۔ ع۔ ۱۔ مٹ) کم نصیبی۔ بد قسمتی۔  
 کم قیمت۔ (د۔ ع۔ صفت) سستا۔ ارزاں۔ نرخ میں کم۔  
 کم گزونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) گھٹانا۔ (۲) دفع کرنا۔ (۳) سخت کرنا۔  
 (۴) مختصر کرنا۔ اختصار کرنا۔  
 کم کم۔ (د۔ صفت) (۱) تھوڑا تھوڑا۔ (۲) کچی کچی۔ (۳) آہستہ آہستہ۔

بندرتیج۔  
 کم کھانے عم نہ کھائے۔ (۱۔ مٹ) کم کھانے سے آدمی نہیں مٹتا لیکن  
 عم کھانے اور نکر کرنے سے آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔  
 کم گفتار۔ کم گو۔ (د۔ ۱۔ مٹ) دیکھیے کم سخن۔  
 کم گفتاری (رگوتی)۔ (د۔ ۱۔ مٹ) کم سخنی۔ خاموشی۔ چوپ۔  
 کم مایگی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) بے حیثیت ہونا۔ بے بضاعتی۔  
 کم مایہ۔ (د۔ صفت) تھوڑی پونجی والا۔  
 کم محنت۔ (د۔ ع۔ صفت) کام چور۔ محنت مشقت سے دل  
 چلانے والا۔  
 کم نصیب۔ دیکھیے کم بخت۔  
 کم نظر۔ (نگاہ)۔ (د۔ ع۔ صفت) کوتاہ نظر۔ وہ شخص جسے کم  
 دکھائی دیتا ہو۔  
 کم پیش۔ (د۔ صفت) تھوڑا بہت۔ تقریباً لگ بھگ۔  
 کم بہت۔ (د۔ ع۔ صفت) کم حوصلہ۔ بڑول۔ ڈرپوک۔ کام چور۔  
 کم بہتشی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) بڑوالی۔ کم حوصلگی۔ کام چوری۔  
 کم بوٹا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تھوڑا۔ گھٹنا۔ (۲) کسر رہنا۔  
 کم کباب۔ (د۔ صفت) (۱) کم لٹنے والا۔ (۲) نادر۔ نایاب۔  
 کم کبابی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) نا پیدگی۔ نایابی۔ قلت۔  
 کما۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) ع۔ تابع فعل (جیسا۔ جس۔ قدر۔  
 کما حقہ۔) (ع۔ ۱۔ مٹ) تابع فعل (بخوبی۔ ٹھیک ٹھاک۔ بخوبی۔ جیسا اس کا  
 حق ہے۔  
 کما ہی۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) جیسا کہ وہ ہے۔ پورا۔ کامل۔  
 کما مینہ۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) جیسا کہ چاہیے۔ حسب اطمینان۔ بخوبی۔  
 کما مچ۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مچ۔ (۲) مچ۔ (۳) مچ۔ (۴) مچ۔ (۵) مچ۔ (۶) مچ۔ (۷) مچ۔ (۸) مچ۔ (۹) مچ۔ (۱۰) مچ۔  
 کہیں سے تپلی اور کہیں سے موٹی ہو۔ (۱) مچ۔ (۲) مچ۔ (۳) مچ۔ (۴) مچ۔ (۵) مچ۔ (۶) مچ۔ (۷) مچ۔ (۸) مچ۔ (۹) مچ۔ (۱۰) مچ۔  
 گول چیز۔ (۳) کڑی کا گول ٹکڑا جو چوب نیمہ کے اوپر ہوتا ہے۔  
 کما چیر۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مچ۔ (۲) مچ۔ (۳) مچ۔ (۴) مچ۔ (۵) مچ۔ (۶) مچ۔ (۷) مچ۔ (۸) مچ۔ (۹) مچ۔ (۱۰) مچ۔  
 کما۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مچ۔ (۲) مچ۔ (۳) مچ۔ (۴) مچ۔ (۵) مچ۔ (۶) مچ۔ (۷) مچ۔ (۸) مچ۔ (۹) مچ۔ (۱۰) مچ۔  
 راجا کا بیٹا۔ (۳) فرزند۔ پستہ۔  
 کما۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مچ۔ (۲) مچ۔ (۳) مچ۔ (۴) مچ۔ (۵) مچ۔ (۶) مچ۔ (۷) مچ۔ (۸) مچ۔ (۹) مچ۔ (۱۰) مچ۔  
 لڑکی۔ بن بیابھی لڑکی۔ (۲) شہزادی۔  
 کما کھانا۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) محاورہ [محنت مزدوری سے پیٹ  
 پالنا۔  
 کما کئی۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔ (۶) مٹ۔ (۷) مٹ۔ (۸) مٹ۔ (۹) مٹ۔ (۱۰) مٹ۔  
 کما۔ (د۔ ۱۔ مٹ) (۱) مٹ۔ (۲) مٹ۔ (۳) مٹ۔ (۴) مٹ۔ (۵) مٹ۔ (۶) مٹ۔ (۷) مٹ۔ (۸) مٹ۔ (۹) مٹ۔ (۱۰) مٹ۔  
 (۱) [مٹ] عجیب کام۔ (۲) لڑکی بات۔ (۳) لڑکی۔ (۴) لڑکی۔ (۵) لڑکی۔ (۶) لڑکی۔ (۷) لڑکی۔ (۸) لڑکی۔ (۹) لڑکی۔ (۱۰) لڑکی۔  
 (۱) [مٹ] صنعت۔ کارگری۔ استاد۔ (۲) لڑکی۔ (۳) لڑکی۔ (۴) لڑکی۔ (۵) لڑکی۔ (۶) لڑکی۔ (۷) لڑکی۔ (۸) لڑکی۔ (۹) لڑکی۔ (۱۰) لڑکی۔  
 (۱) [مٹ] لڑکی۔ (۲) لڑکی۔ (۳) لڑکی۔ (۴) لڑکی۔ (۵) لڑکی۔ (۶) لڑکی۔ (۷) لڑکی۔ (۸) لڑکی۔ (۹) لڑکی۔ (۱۰) لڑکی۔  
 جمع : کمالات۔

غلبہ ہونا۔

کمان دار۔ (فت۔ صفت) (۱) دیکھیے کمان بردار۔ (۲) محراب دار۔ توسن نامی کمان رستم۔ (۱۔ مٹ) توسن قزح۔

کمان زہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) کمان پر چلتے چڑھنا۔

کمان سے نکلنا تیر اور تیر سے نکلی بات پھر نہیں آتی۔ (۱۔ مثل) بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔

کمان کش۔ (فت۔ صفت) کمان کھینچنے والا۔ تیر انداز۔

کمان گر۔ (۱) کمان بنانے والا۔ کمان ساز۔ کنگر۔ (۲) ہاتھ پاؤں کی بڑیوں کو جوڑنے اور بانڈھنے والا۔

کمان گری۔ (۱) کمانوں کے بنانے کا کام یا پیشہ۔ (۲) بڑیوں کے جوڑنے یا بانڈھنے کا پیشہ۔

کمان میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) زیرِ حکم ہونا۔ تابع ہونا۔

کمانا۔ (ک۔ ما۔ نا) [۱۔ مصل] (۱) روپیہ حاصل کرنا۔ (۲) لوسے کی سختی ڈو کرنا۔ (۳) چٹا صاف کرنا۔ (۴) منی صاف کرنا۔ (۵) پیشہ کرنا۔ (۶) بڑا کام کر کے روپیہ حاصل کرنا۔ (۷) ارتکاب کرنا۔ ذمے لینا۔ (۸) زمین کو زرخیز بنانا۔ (۹) کمزور کرنا۔ (۱۰) کم کرنا۔ گھٹانا۔

کمانچہ۔ (ک۔ مان۔ پچھ) [فت۔ ۱۔ مذ] کمان کی تصویر۔ چھوٹی کمان۔ (۲) دھکی جس سے ٹوٹی دھنتے ہیں۔ (۳) ایک قسم کی سارنگی۔ چڑانا۔ (۴) [مجازاً] طاقت۔ محراب چھت۔ فولاد کی کمانی۔

کمانڈر۔ (Command) [انگ۔ ۱۔ مذ] دیکھیے کمان۔

کمانڈر۔ (Commander) [ک۔ مان۔ ڈر] [انگ۔ ۱۔ مذ] فوج کا بڑا افسر۔ سالار لشکر۔

کمانڈر انچیف۔ (Commander-in-Chief) [انگ۔ ۱۔ مذ] امیر فوج۔ سالارِ عظمیٰ۔ جنگی لاٹ

کمانڈنٹ۔ (Commandant) [ک۔ مان۔ ڈنٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] کیدان۔ فوجی سردار۔ جنگی حاکم۔

کمانڈو۔ (Commando) [انگ۔ ۱۔ مذ] چھاپا مار سپاہی۔

کمانہ۔ (فت۔ ۱۔ مذ) بڑھی کی کمان جس سے وہ برما چلاتا ہے۔

کمانی۔ (ک۔ ما۔ نی)۔ (۱۔ مٹ) وہ خمیدہ اور پکدار لوسہ کی توس یا ملحقہ وغیرہ جو اکثر گاڑیوں۔ گھڑیوں اور کرسیوں وغیرہ میں لگتے ہیں۔

کمانی نہ بہتیا گاڑی جو ت میرے جھیتا۔ (۱۔ مثل) غزبت میں شہینگی۔

کمانے کو بھیر۔ کمانے کو شیر۔ (۱۔ مثل) جہول اور نیکے آدمی کے لیے بولتے ہیں۔

کمانو۔ (ک۔ ما۔ او) [۱۔ صفت] (۱) روپیہ کمانے والا (مذکر) (۲) معنی۔ مزدور۔ (۳) خاوند۔ مالک۔ شوہر۔

کمانو آئے ڈرتا، مٹھو آئے لڑتا۔ (۱۔ مثل) نکٹھو اور نکٹھا گھروالوں پر اپنا ناجائزِ محب ڈالتا ہے۔ اور کمانو بے چارہ خاموشی سے

کمال پیدا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) نحوئی پیدا کرنا۔ ہنر پیدا کرنا۔

کمال حاصل کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کوئی ہنر یا فن بہم پہنچانا۔ لیانت یا تابلیت حاصل کرنا۔ (۲) کسی کام میں بیطلانی رکھنا۔ مہارت کامل بہم پہنچانا۔

کمال ور جسے کا۔ (۱۔ صفت) ازحد۔ نہایت، کامل۔ پورا۔

کمال دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہنر یا کرب دکھانا۔ گمن دکھانا۔ جو ہنر دکھانا۔ (۲) کرامت دکھانا۔ کوشہ دکھانا۔

کمال کا۔ (۱۔ صفت) بہت اچھا۔ عمدہ۔ اعلیٰ عجیب۔

کمال کا بنا ہوا۔ (۱۔ صفت) (۱) پرفن۔ بڑا کربتی۔ (۲) نہایت عیار۔ آفت کا پر کالہ۔ (۳) فریبی۔ چال باز۔ (۴) نہایت ہوشیار

کمال کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کوئی عجیب اور اٹھکا کام کرنا۔ (۲) مبالغہ کرنا۔ (۳) دھوکا دینے میں کامل ہونا۔ (۴) کسی بات میں غالی بننا۔

کمال کو پہنچنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی بات میں کمال حاصل ہونا۔ (۲) پورا ہونا۔ ختم ہونا۔

کمالا۔ (ک۔ ما۔ لا) [۱۔ مذ] صلیغ کے ساتھ کشتی کرنا۔ پہلوانوں کی جنگ زرگری۔ (۲) نور کشتی۔

کمالاٹ۔ (ک۔ ما۔ لاٹ) [ع۔ ۱۔ مذ] کمال کی جمع۔

کمالت۔ (ق۔ ۱۔ مٹ) کمال۔ انتہائے کمال۔

کمالیت۔ (ک۔ ما۔ لی۔ یث) [ع۔ ۱۔ مٹ] کمال۔

کمالینا۔ (ک۔ ما۔ لے۔ نا)۔ (۱۔ محاورہ) (۱) باعزت کر لینا۔ چھڑے کو ملائم اور درست کر لینا۔ (۲) لوگوں کی یا تجارت کے وسیلے سے روپیہ پیدا کر لینا۔ (۳) نجاست صاف کر لینا۔ (۴) کمزور کو دینا۔ بچھڑ لینا۔

کمان۔ (ک۔ کان) [انگ۔ ۱۔ مذ] کمانڈو۔ کامور۔ (۱۔ مٹ) (۱) حکم۔ (۲) بولی جس پر سپاہی قواعد کرتے ہیں (ہدایت (۲) بڑی۔ قیادت۔ امارت۔

کمان افسر۔ (۱۔ مذ) کمانڈر۔ فوج کا سردار۔ کمانیر۔ سالار لشکر۔

کمان بولی جاننا۔ (۱۔ محاورہ) لوگ کی نکلنا۔ ڈیرنی بنانی جاننا۔

کمان پر جاننا۔ (۱۔ محاورہ) جنگی خدمت پر جاننا۔ لڑائی پر جاننا۔

کمان۔ (ک۔ مان) [فت۔ ۱۔ مٹ] (۱) ایک نمدار آلہ جس سے تیر پھلاتے ہیں۔ توس۔ دھنک۔ (۲) دائرے کا کوئی حصہ (۳) خمیدہ۔ کبر۔ (۱۵) جھکا ہوا۔ پکدار

کمان ابرو۔ (فت۔ صفت) (۱) کمان بیسی ابرو والے والا۔ (۲) دھمازا، مشوق۔

کمان بردار۔ (فت۔ ۱۔ مذ) کمان اٹھا کھینچنے والا۔ کمان دار۔ تیر انداز سپاہی۔

کمان کپشت۔ (فت۔ ۱۔ صفت) کپڑا۔

کمان نائنا۔ (۱۔ محاورہ) کمان چڑھانا۔ کمان کھینچنا۔

کمان چڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) باقبال ہونا۔ ڈھکا جینا۔ دھو دور ہونا۔

کمپنی کاراج - (۱) مذ ۱۵۶ء کی بغادت سے پہلے برمنیہر پارلیمنٹ انڈیا کمپنی کی حکومت۔

کمپنی کمانڈر (Company Commander) فوجی دستے کا قائد  
کمپنی مارک - (Company Mark) مخصوص علامت جو کسی کمپنی  
سے تجویز کر رکھی ہو۔

کمپوزٹو - (کمپوزٹو) [آر۔ ا۔ مذ ۱۵] کمپ - لنگر گاہ - چھاؤنی - (۲) ڈیرے نیچے  
(۳) فوج - لنگر - سپاہ - (۴) فوج جو ایک جہز کے ماتحت ہو۔

کمپوزنگ (Composing) - کمپوزنگ - (انگ - ۱) مذ [ٹائپ  
کے حروف کو جوڑنا - جانا - مرتب کرنا۔

کمپوزنگ سٹک - (Composing Stick) وہ تالاب یا  
سائچ جس میں ٹائپ کے حروف جوڑ کر رکھے جاتے ہیں۔

کمپوزٹر (Compositor) - کمپوزٹر - (انگ - ۱) مذ [ٹائپ  
کے حروف جوڑنے یا طابانے والا۔

کمپوٹ - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

کمپوٹا - (کمپوٹا) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -  
مکتبی - (کمپوٹ) [انگ - ۱] مذ [گمیر - اعلاط -

گزارہ کر لیتا ہے  
کماؤ پوت - (۱) مذ [کمانی کرنے والا بیٹا -  
کماؤ مختصر کس نے نہیں چاہا - (۱) مثل، جس شخص سے کوئی فائدہ ہو  
اسے ہر ایک چاہتا ہے۔

کماؤ دھن - (۱) مذ [بیٹا - فرزند - (۲) جھاڑے کا ٹوٹ - کرانے کی گاڑی -  
(۳) فوجی جہز کی ناقص اور طوائفوں نے پالی ہونا تاکہ اس سے پیشہ کرانے  
اس کی کمانی کمانی جاسکے۔

کمانی - (کمانی - ما - ائی) [۱ - مٹا - آمدنی - پیدا - یافت - (۲) نفع -  
فائدہ - (۳) کام - مزدوری۔

کمانی میاں خان خاناں، اڑائیں میاں فہیم - کماؤے ٹوپی  
والا اڑائے دھوتی والا - (۱) مثل، کوئی کمانے کوئی کمانے۔  
دوسرے کے مال پر لقمے اڑانے والے کی نسبت بولتے ہیں۔

کمانی - (کمانی - بن - اڑ) [۱ - مذ [ایک قسم کی موٹی آونی ٹوپی -  
کمانی اوڑھنے سے فقیر نہیں ہوتا - (۱) مثل، فقیری نیکی اور صاف  
باطنی سے حاصل ہوتی ہے صرف گوڑی پہننے پر موقوف نہیں۔

کمانی پوشن - (۱) مذ [دور دریش جو ہمیشہ کمانی ہی اڑھے یا پہنے۔  
کمانی نے پکڑ لیا - (۱) مثل، اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی شخص  
کسی سے جان چھڑانا چاہے مگر وہ اس کا بیچا نہ چھوڑے۔

کمانی پھوہ - (کمانی - پھوہ) [۱ - مذ [ایک قوم -  
کمانی - (کمانی - اس - ۱) مذ [گھڑا - ملا - (۲) ہاتھی کا سر سٹک (۳) گیارہواں  
آسانی سرج - دو (۲) ہر دور کارمید جو بارہویں برس ہوتا ہے۔

کمانی - (کمانی - پ) [۱ - مذ [لاسگی ہونی لمبی چھڑی یا بانس جس سے پرندوں  
کو پکڑتے ہیں۔

کمانی لگانا (دانا) - [۱ - محافہ] [۱] لاسہ کے ذریعے سے جانور کو پکڑنا (۲)  
کسی کتا بولیں لانا - واؤں لگانا۔

کمانی کمپارٹمنٹ (Compartment) - (کمانی - پارٹ - محفٹ) [انگ - ۱] مذ  
(۱) کمرہ - حجرہ - (۲) درجہ - ڈبا۔

کمانی کمپاس - (Compass) - (کمانی - پاس) [انگ - ۱] مٹا [۱] قطب نما -  
تبدلنا - (۲) ٹرک کار - (۳) حدود و دائرہ - رقبہ - (۴) پیمائش کا آلہ جس  
سے زمین ناپتے ہیں۔

کمانی کمپاؤنڈ - (Compound) - (کمانی - پاؤنڈ) [انگ - ۱] مذ [اعلاط -  
مکان - (۲) مرکب۔

کمانی کمپاؤنڈر - (Compounder) - کمپاؤنڈر - (انگ - ۱) مذ [دوسرا  
ڈاکٹر کا ماتحت اور مددگار۔

کمانی کمپیشن - (Competition) - (کمانی - پی - ٹی - شین) [انگ - ۱] مذ  
مقابلہ (استحقاق یا سجات میں) رقابت - مسابقت۔

کمانی کمپنی (Company) - کمپنی - (انگ - ۱) مٹا [۱] کارخانے  
کے شرکا جن کا نام ظاہر کیا جائے، (۲) ٹوپی - منڈلی - رکھنے والے  
دالوں کی، (۳) فوجی دستہ (جو عام طور پر کمانی کے ماتحت ہوتا ہے)







اوجھا - کم ظرف - (۳) نالائق - نابکار - (۴) گوکہ چاکر - بیچ ذات کے لوگ -  
 کمین - (دک - بین) [ع - امش] گھات - دشمن یا شکار کے لیے چھپ کر بیٹھنا - شب خون -  
 کمین گاہ - (د - امش) گھات کی جگہ - وہ جگہ جہاں چھپ کر شکار یا دشمن کو ماریں -  
 کمینڈر - (ک - مینڈ) [م - ۱ - ۵] مد - دغا - فریب - مکر -  
 کمینڈیا - (ک - مینڈ) [با - ۱ - ۵] مد - دغا باز - فریبی - مکار - چال باز -  
 کمینٹی - (ک - مین - گی) [ف - ۱ - ۵] مؤنث [ا - ۱] اوچھاپن - کم ظرفی بیغلہ پن - کمین پن -  
 کمینہ - (دک - می - ن) [ف - صفت] اوچھا - سفہ - کم ظرف - (۲) بیچ ذات کا - کم اصل -  
 کمینٹریں - (ک - بی - ن) [م - ۱] مد - اوچھاپن - رذالت - کم ظرفی -  
 کمینے سے خدا کا نام نہ ڈالے - (۱) شیل - براصل اور کم ذات سے خدا پالانہ ڈالے -  
 کمیون (Commune) (ک - یون) [انگ - ۱ - ۵] مد - پرگنہ - تعلقہ -  
 ملکی انتظام کا سب سے چھوٹا مرکز -  
 کمیونٹی (Community) (ک - یو - ن - ٹی) [انگ - ۱ - ۵] [م - ۱] ساجھا - ملکیت مشترکہ - (۲) طبقہ - فرقہ - گروہ - (۳) بستی آبادی - متحدہ - برادری -  
 کمیونزم (Communism) دیکھیے اشتراکیت - وہ معاشرتی نظریہ جس کے مطابق دولت آفرینی کے تمام ذرائع، زمین، بنکٹ ٹیکریٹری وغیرہ محنت کرنے والوں کی مشترکہ ملکیت ہوں اور ہر شخص کو بقدر محنت یا بقدر ضرورت اجرت ملے -  
 کمیونسٹ (Communist) (دیکھیے اشتراکی - کمیونزم کے نظریہ پر عمل کرنے والا -

## ک - ن

کرن - (۱ - ۵) (ن - ۱) ریزہ - ذرہ - ذراسا - (۲) اناج کا دانہ - غلہ - (۳) ٹکڑو -  
 چھتہ - پھول (۴) طاقت - بل - زور - (۵) بیم - آدھا - کونہ - گوشہ -  
 جیسے کن انکھیاں اپنی گوشہ چشم - (۶) کان (ق) (۷) نزدیک (ق) (۸) سے (ق) -  
 کن انکھیوں سے دیکھنا - (۱) محاورہ) ترجمی نگاہ سے دیکھنا - گوشہ چشم سے دیکھنا - آنکھ چڑا کر دیکھنا - نیچی نظر سے دیکھنا - نظر بھا کر دیکھنا -  
 کن بٹائی - (۱ - ۵) (م - ۱) فصل کو چند حصہ داروں میں نسبتہ تقسیم کرنا -

کرن بھینا - (۱) مذ وہ شخص جس کے کان بیٹھے ہوتے ہوں -  
 کرن بھول - (۱) مذ کرن بھول -  
 کرن پھیڑ - (۱) مذ وہ درم جو کان کے نیچے سے گلے کی مزنک آجاتا ہے -  
 کن ٹوٹ - (۱) مذ ایک قسم کی بڑی لوطی جس سے کان ڈھکے رہتے ہیں -  
 کن چھیدا - (۱) مذ وہ شخص جس کے کان چھیدے ہوں -  
 کن چھیدن - (۱) مذ بچوں کے کان چھیدنے کی رسم -  
 کن کرن - (۱) صفت (۲) راگ رنگ بستے کا مزہ - (۳) ہائیں سننے کا مزہ - (۴) کالوں کاراگ کی آوازوں سے آشنا ہونا - (۵) بڑگوئی سننے کی عادت -  
 کن رسیا - (۱) مذ وہ شخص جسے گانا سننے کا شوق ہو - راگ کے سمجھنے اور لطف حاصل کرنے کا ذائق رکھنے والا -  
 کن سلائی - (۱) مٹھ ایک قسم کا لمبا خار دار کپڑا جو برسات میں تھلہے اور اکثر کان میں گھس جاتا ہے - کن کھجورا - ہزار پاپیہ -  
 کن سٹوئیاں لینا - (۱) محاورہ) چھپ کر باتیں سننا - خفیہ جھد لینا - ٹوہ رکنا - جاسوسی کرنا -  
 کن کٹا - (۱) صفت (۲) گوش بریدہ - بوجا - (۳) دوسروں کے کان کاٹنے والا -  
 کن کھجورا - (۱) مذ ہزار پاپیہ - ایک زہریلا کپڑا جو کان میں گھس جاتا ہے یا جسم سے چپٹ کر اپنے پاؤں کا ڈوبتا ہے -  
 کن - (د - صفت) کھودنے والا - (مرکبات میں مستعمل ہے جیسے گورکن - چاہ کن -  
 کرن - (۵) کلمہ استفہام) کس کی جمع -  
 کن آنکھوں سے دیکھوں - (۱) محاورہ) دیکھا نہیں جانا -  
 کن وقتوں کی - (۱) صفت) پرانے زمانے کی - پرانی -  
 کن - (د - صفت) کرنے والا - (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے) جیسے کارکن -  
 کن - (ع - صفت) امر حاضر) ہو جا - وجود میں آجا - خدا تعالیٰ کو جب مالک کا پید کرنا منظور ہوا تو یہ لفظ فرمایا -  
 کن ڈکال - (ع - فعل) ہو جا پس وہ ہو گئی (مجازاً) دُینا - مخلوقات - موجودات - کائنات -  
 کن فیکون - (ع - فعل) ہو جا پس وہ ہو گیا - (مجازاً) مخلوق - کائنات -  
 کٹا - (ک - ن) [نا - ۱ - ۵] (۱) کنارہ - لب - کور - (۲) پتنگ کا وہ حصہ جس میں ڈور باندھتے ہیں - (۳) خون کی نیچے کا کنارہ -  
 کٹا کل جانا - (۱) محاورہ) کنارے کا چھٹ جانا - کنارہ ٹوٹ جانا -  
 کٹے ڈھیلے ہو جانا - (۱) محاورہ) (۲) رگ و پے کا ست اور عضو کا بیکار ہو جانا - (۳) ٹھک جانا - عاجز آ جانا - پتلا حال ہونا - جرش جوانی اور غرور و عزت کا جانا رہنا - (۴) کھوسے کے بازو ڈھیلے ہو جانا -  
 کٹا - (ق - مصل) کہنا -  
 کٹا - (ک - ناز) [ف - ۱ - ۵] مٹھ (۱) بنل - آغوش - گود - سینہ - چھاتی - (۲) جدائی - علیحدگی - مفارقت -

کنارہ - دک (نار) [ف ۱۔ مٹ] حاشیہ۔ کنارہ۔ کور۔ سجاوٹ۔ منظر۔ پہلو۔

کنارہ - دک (نار) [اُر۔ ا۔ مذ] گھوڑے کا زکام۔

کنارہ - دک (نار) [اُر۔ ا۔ مذ] دیکھے کنارہ۔

کنارہ - دک (نارہ) [ف ۱۔ مذ] ساحل۔ لب دریا۔ کراٹا۔ (۲) طرف۔ گوشہ۔ گھونٹ۔ (۳) انجام۔ بسرا۔ انتہا۔ حد۔ (۴) جدائی۔ علیحدگی۔

انتطاع [ہ] [گوف۔ کنارہ۔ پتو۔ حاشیہ۔ فیئنتہ۔

کنارہ کرنا۔ (۱) محاورہ) علیحدگی اختیار کرنا۔ الگ ہونا۔ چھوڑ دینا۔ باز آنا۔ گوشہ نشین ہونا۔ دست بردار ہونا۔ بچنا۔

کنارہ کش ہونا۔ (۱) محاورہ) دیکھے کنارہ کرنا۔

کنارہ کشی۔ (۱) مٹ) علیحدگی۔ جدائی۔ قطع تعلق۔

کنارے آگنا۔ (۱) محاورہ) ساحل پر آکر ٹھہرنا۔

کنارے بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) الگ بیٹھ جانا۔ (۲) گود میں پاؤں دھکاتے ہونا۔

کنارے کنارے۔ (۱) محاورہ) الگ الگ۔ پہلو میں۔

کنارے کنارے چلنا۔ (۱) محاورہ) بچ کر چلنا۔

کنارے لگانا۔ (۱) محاورہ) دریا پار آنا۔ (۲) مدد کرنا۔ (۳) انجام کو پہنچنا۔

کنارے لگنا۔ (۱) محاورہ) ساحل پر پہنچنا۔ دریا پار ہونا۔ (۲) اعتماد پر پہنچنا۔ (۳) قریب مرگہ ہونا۔

کنارے ہوجانا۔ (۱) محاورہ) راستے سے بچ جانا۔ ایک طرف ہٹ جانا۔

کنارہ جانی۔ (دک۔ نارہی) [اُر۔ ا۔ مٹ] دوپٹوں وغیرہ کے کنارے پر لگانے والا ٹیگا گولٹا۔

کنارہ بات۔ (۱) مذ) کناری بننے والا۔

کناس۔ (دکن۔ ناس) [ع ۱۔ مذ] مہتر۔ خاکروب۔ حلال خور۔ (۲) جلاؤ۔ چھانسی دینے والا۔

کناگت۔ (دک۔ نا۔ گت) [ہ۔ ا۔ مٹ] سراوہ۔

کنال۔ (دک۔ نال) [اُر۔ ا۔ مٹ] ایک پہاڑے کا نام۔ ۲۰ میل کے برابر زمین کا پیمانہ۔ گھاؤں کا آٹھواں حصہ۔ چھینے کا چرخہ حصہ۔

کنائی۔ (دک۔ نا۔ ای) [ہ۔ ا۔ مٹ] راہ۔ گذرگاہ۔ راستہ۔

کنائی کاٹنا۔ (۱) محاورہ) ایک راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا۔

کنایت۔ (دک۔ نایت) [ف ۱۔ مٹ]۔ عربی کنایت کا مفسر۔

دیکھے کنایت۔

کنایت۔ (دک۔ نا۔ سی۔ تن) [ع ۱۔ تابع فعل] اشارہ۔ ضمنا۔ مجازاً۔

کنایت۔ (دک۔ نایت) [ف ۱۔ مذ] عربی کنایت کا مفسر۔ ایما۔ رمز۔ اشارہ۔ مبہم بات۔ (۲) منشا۔ مطلب۔ معنی۔ مراد۔ (۳) مجازاً استعارہ۔

کنیہ میں کہنا۔ (۱) محاورہ) اشارے سے مطلب ظاہر کرنا۔ صاف

الفاظ میں نہ کہنا۔

کنبنا۔ کنبہ۔ (کن۔ نب۔ کم۔ بہ) [ہ۔ ا۔ مذ] قبیلہ۔ گھرانہ۔ خاندان۔ (۲) بال بچے۔ اہل و عیال۔ لڑکے ہالے۔ آل و اولاد۔

کنبہ پرورد۔ (۱) صفت) بال بچے اور رشتہ داروں کی خبر گیری کی کنیہ۔

کنبہ پروری۔ (۱) مٹ) خاندان اور آل و اولاد کی پرورش۔

کنبہ جوڑنا۔ (۱) محاورہ) رشتہ داروں اور عزیزوں کو جمع کرنا۔ (۲) بھید لگانا۔ جیسے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جمانا۔ مٹی سے کنبہ جوڑنا۔

کنبٹ۔ (کن۔ بٹ) [ق ۱۔ مذ] کسان کاشت کار۔ رعیت۔

کنبہ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) دیکھے کنبہ

کنٹا۔ (کن۔ تن) [ق ۱۔ مٹ] (۱) گودھری۔ دلق۔ (۲) کٹھا۔ قصبہ۔

کنٹر۔ (کن۔ ٹر) [انگ (Decanter)] کا مہندہ۔ (۱) مذ] شراب رکھنے کا شیشہ۔ قراب۔ میناسے شراب۔

کنٹرول۔ (Control) (کنٹ۔ ٹول) [انگ۔ ا۔ مذ] اقتدار حکومت۔ قابو۔ نگرانی۔ (۲) روک۔ رکاوٹ۔ بندش۔

کنٹرولر۔ (Controller) (کنٹ۔ ٹر) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) محاسب سکاری (۲) ناظم۔ ناظر۔

کنٹریکٹ۔ (Contract) (کن۔ ٹ۔ ٹریکٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] معاہدہ۔ قرارداد۔ ٹھیکہ۔

کنٹریکٹر۔ (Contractor) (کن۔ ٹ۔ ٹریکٹ۔ ٹر) [انگ۔ ا۔ مذ] مستاجر۔ ٹھیکیدار۔

کنٹک۔ (کن۔ ٹکٹ) [ہ۔ صفت] [بھنیل۔ کنوس۔ ٹنگ۔ دل۔ خبیث۔

کنٹیننٹ۔ (Continent) [انگ۔ ا۔ مذ] بالائی خورج۔

زائد خورج۔ (۲) حصہ۔ خورج کا حصہ۔

کنٹونمنٹ۔ (کن۔ ٹون۔ منٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] صدر کیسپ۔ سجاوٹی۔

کنٹونمنٹ بورڈ۔ (Cantonment Board) [انگ۔ ا۔ مذ] علاقہ میں میونسپل کمیٹی کی طرح کام کرنے والا ادارہ۔

کنٹھ۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) گلا۔ (۲) گلے کی بڑی۔ کانٹھی۔ (۳) آواز۔ سُمر۔ (۴) حفظ۔ ازبیر۔

کنٹھ بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) آواز بیٹھ جانا۔ گلا پر جانا۔ (۲) موت کے آثار ظاہر ہونا۔

کنٹھ سٹھنا۔ (۱) محاورہ) پیاس یا خشکی سے گلا خشک ہو جانا۔ (۲) ڈبلا ہو جانا۔ لاغر ہو جانا۔

کنٹھ مالا۔ (۱) مذ) (۱) خنازیر۔ گلے کا مرض جس میں گلیاں ہوتی ہیں (۲) ایک زیور مالا کے طور پر پہنا جاتا ہے۔

کنٹھ ٹھکانا۔ (۱) محاورہ) کنٹھ بیٹھنا۔ گلے کی بڑی کانیاں ہونا۔ بانج ہونا۔

گنہی ہاتھ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کے مزاج پر تقابو ہونا۔ (۲۔) خزائن پر قابو ہونا۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ صفت] نیلی۔ کمرہ جی۔ نیگیوں (سکھیں) کچن۔ (کن۔ جن) [ھ۔ ۱۔ مذکر] سونا۔ زر۔ طلا۔ (۲۔) ایک قوم جو اپنی عورتوں کو بچواتی اور ان سے کسب کرواتی ہے۔ (۳۔) حوالی۔ (صفت)

گنہی بچہ۔ (۱۔ مذکر) کچن کا بیٹا۔ کسی کا جتنا بڑا۔ بیسوا پتر۔ کچن برسنہ۔ (۱۔ محاورہ) (۲۔) روپیہ برسنہ۔ کثرت سے آمدنی ہونا۔ (۳۔) زرخیزی اور خوب پیداوار ہونا۔

گنہی نیر۔ (۱۔ مذکر) (۲۔) صاف و شفاف پانی۔ مستحکم پانی۔ (۳۔) آب زر۔ کچنی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] بیسوا۔ رندی کسی۔ ناپسنے والی۔ رقاہ۔

گنہی۔ (کن۔ بی) [لا۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] خاردار۔ کاٹنے والا۔ کچ۔ (۱۔ مذکر) زیادہ۔ گوشہ۔ کونہ۔ کنارہ۔

گنہی تینائی۔ (خلوت) [ھ۔ ۱۔ مذکر] گوشہ۔ عزلت۔ کابل تہائی۔ کچ نقس۔ (۲۔) صفت] پچھلے کا کونہ۔

گنہی قاعدت۔ (۱۔ مذکر) صبر کا گوشہ۔ گوشہ تسلیم و رضا۔ کچ لحد (گور) [ھ۔ ۱۔ مذکر] قبر کا گوشہ۔

گنہی۔ (کن۔ بی) [لا۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) درختوں کے ساتھ میں بیٹھنے کی جگہ۔ بیل بولوں کی جگہ۔ (۳۔) [ھ۔ ۱۔ مذکر] گوہر۔ مجاہد۔ (۴۔) ہتھیار۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھول والا۔ گرہ چتر۔ کنبال۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] کانی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] جس سے نیل نکالا جاتا ہے۔ کچتر۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۳۔) ایک خانہ بدوش قوم۔ ساسی۔ (۴۔) صفت] کینہ۔ اڑل۔ بدوئع۔ بڑسکل۔ (۵۔) بے سرو سامان

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] ناپسنے والی قوم۔ بھڑوا۔ کچتر۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۳۔) بھل۔ (۴۔) بڑا اور توی الجھ۔ ہتھی۔ (۵۔) پڑانا۔ (کن)

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

گنہی۔ (کن۔ جی) [ھ۔ ۱۔ مؤنث] (۲۔) صفت] کچھو قوم کی عورت۔ (۳۔) ایک قسم کے نقش گیت۔ (۴۔) لپن [رندی۔ کسی۔

کندہ - (کن۔ ڈے) [ہ۔ ۱۔ مذ] اُپلا۔ تعالیٰ۔ ارنہ۔  
 کندہ ہونا - (۱۔ محاورہ) خشک ہونا۔ ڈبلا ہونا۔  
 کندہ - (کن۔ ڈے) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) حلقہ۔ لوسے کا وہ حلقہ جس میں زنجیر طائے  
 ہیں۔ (۲) زنجیر کندہ۔  
 کندہ - (کن۔ ڈان) (ق) ۱۔ مونت آکٹولی۔  
 کندہ گارٹن (Kindergarten) (کن۔ ڈے۔ گار۔ ٹن) [انگ۔  
 ۱۔ مذ] چھوٹے بچوں کا مدرسہ جہاں کھلونوں سے تعلیم دی جاتی ہے۔  
 کندہ کٹر (Conductor) کن۔ ڈکن۔ ٹن۔ [انگ۔ ۱۔ مذ] رہنما۔  
 کنڈر۔ پشیرو۔ (۲) منتظر۔ ہنتمنہ۔ منصرم۔ داروغہ۔ (۳) کرائے کی  
 گاڑیاں چلانے والا۔ (۴) موصل۔ ناقص۔ (حکومت)  
 کندہ - (کن۔ ڈکن) [ہ۔ ۱۔ مذ] پیاز کا موٹا چھلکا۔  
 کندہ - (کن۔ ڈکن) [س۔ ۱۔ مذ] حلقہ۔ داروغہ۔ پکڑ۔ (۲) کان کا بالہ۔ (۳)  
 چاند یا سورج کا حلقہ۔ ہالہ۔  
 کندہ مارنا - (۱۔ محاورہ) (۱) سانپ کا جسم کو جلیبی کی شکل میں بست کر  
 بیٹھنا۔ (۲) چاند کا ہلکے نشین ہونا۔ سورج کا کندہ میں ہونا۔  
 کندہ - (کن۔ ڈکن) [ہ۔ ۱۔ مذ] [۱۵] چھوٹا سا حلقہ (۲) دور بچکر۔ گھیرا۔  
 (۳) جنم پتر۔ (۴) سانپ کا جلیبی کی طرح ہن کر بیٹھنا۔  
 کندہ بنا نا - (۱۔ محاورہ) زانچہ بنانا۔ جنم پتر بنانا۔  
 کندہ لیا لیا - (۱۔ مذ) (کن۔ ڈکن) (ق)  
 کندہ - (کن۔ ڈکن) (Condemned) کامورو۔ صفت [ناکارہ۔ نکما۔  
 دو کیا ہوا۔ مسترد۔  
 کندہ م کرنا - (۱۔ محاورہ) ناکارہ کرنا۔ رد کرنا۔ ناکارہ قرار دینا۔  
 کندہ کنسر (Condenser) (کن۔ ڈکن۔ ڈکن۔ سٹر) [انگ۔ ۱۔ مذ] آلہ  
 تکثیف۔ بھاپ کے تکثیف ہونے کا خانہ (انجن میں)  
 کندہ - (کن۔ ڈکن) (ق) [ہ۔ ۱۔ مونت] دروازے کی زنجیر۔ حلقہ۔ دو۔  
 کندہ - (کن۔ ڈکن) کندہ کی لگانا - (۱۔ محاورہ) زنجیر لگانا۔ دروازہ بند کرنا۔  
 کندہ کھڑکھڑانا۔ کھٹکھٹانا - (۱۔ محاورہ) دروازے پر زنجیر مار کر ٹکانا۔  
 دستک دینا۔ پکڑنا۔  
 کندہ ٹونڈنا - (۱۔ محاورہ) دروازہ بند کرنا۔  
 کندہ ٹیشن (Condition) کن۔ ڈکن۔ ڈکن۔ ٹیشن) [انگ۔ ۱۔ مذ] حالت۔  
 احوال۔  
 کندہ - (کن۔ ڈکن) [ہ۔ ۱۔ مذ] خزانہ۔ مخزن۔ گنجینہ۔ جمع دیکھو۔  
 کنڈس - (کن۔ ڈکن) [ہ۔ ۱۔ مذ] ستر کا ایک عالم راہ جسے سری کرشن نے ہلاک کیا تھا۔  
 کنڈسٹر - (کن۔ ڈکن) [انگریزی] (Canister) کاہندہ۔ ۱۔ مذ] ٹین کا  
 جس۔ پیپا۔  
 کنڈسروٹیر - (کن۔ ڈکن۔ ڈکن۔ ڈکن) [انگ۔ ۱۔ مذ] محافظ۔ نگراں مال۔  
 کنڈسٹر (Concert) (کن۔ ڈکن۔ ڈکن۔ ڈکن) [انگ۔ ۱۔ مذ] نغمہ سرد  
 کنڈسٹر - (کن۔ ڈکن) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) گروہ۔ فار۔ کھڑ۔ (۲) تالاب۔ حوض۔ پانی

پارس بن مانا۔  
 کنڈن سارنگ - (۱۔ مذ) نہایت سنہری اور زرد رنگ۔ چمکتا ہوا  
 سنہری رنگ۔  
 کنڈن سادکن - (۱۔ محاورہ) سونے چاندی کی طرح چمکنا۔  
 کنڈورا - (کن۔ ڈور۔ را) [ق] [ہ۔ ۱۔ مذ] دسترخوان۔  
 کنڈوری - (کن۔ ڈور۔ ری) [ق] [ہ۔ ۱۔ مذ] دسترخوان۔ روٹیوں  
 پر بیٹھے کا رومال۔ (۲) بیوی کی صمک۔ (۳) [ہ۔ ۱۔ مذ] ایک قسم  
 کا جنگی جہاز۔  
 کنڈہ - (کن۔ ڈے) [ق] صفت [کھدا ہوا۔ منتقل۔  
 کنڈہ کار - (۱) صفت [قلم کار۔ نقش و نگار کھونے والا۔ نسبت کار۔  
 کنڈہ کرنا - (۱۔ محاورہ) کھونڈنا۔ قلم کاری کرنا۔ نقاشی کرنا۔  
 کنڈہ - (کن۔ ڈے) [ق] [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) موٹی کڑی کا ٹکڑا۔ (۲) بندوق کی  
 کڑی۔ (۳) وہ کڑی کا ٹکڑا جس پر قصائی قیدہ کٹتے ہیں۔ (۴) وہ  
 کڑی جس میں سوراخ کر کے بچھڑوں کے پاؤں ٹھونک دیتے  
 ہیں (۵) نیز دیکھیے کنڈا۔  
 کنڈہ تراش - (ق) صفت [ان گڑی کڑی (۲) (ماہر) احمق۔ بے وقوف۔  
 نالائق۔ بے تیز۔  
 کنڈھا - (کن۔ ڈھا) [ہ۔ ۱۔ مذ] شانہ۔ موٹھا۔  
 کنڈھا ہلنا - (۱۔ محاورہ) ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر بوجھ لینا۔  
 ڈولی اٹھانے والوں کا موٹھا ہلنا۔  
 کنڈھا دینا - (۱۔ محاورہ) جنازے کو کندھے پر لینا۔ (۲) مدد دینا۔ سہارا  
 دینا۔ (۳) باری باری کندھے پر لینا۔  
 کنڈھا ڈالنا - (۱۔ محاورہ) پل کا اپنے کندھے پر سے جو اتار دینا۔ (۲)  
 تھک جانا۔ ہمت ہار دینا۔  
 کنڈھا لگنا - (۱۔ محاورہ) بوجھ یا رگڑ کے سبب کندھے کا زخمی ہونا۔  
 کنڈھے چڑھانا - (۱۔ محاورہ) (۱) بچوں کو کندھے پر اٹھانا۔ (۲) پہلوانوں  
 کو کشتی جیتنے کے بعد کندھوں پر چڑھا کر لوگوں کو دکھانا۔  
 کنڈھم جنس باہر جنس پرواز - (ق) [ہ۔ ۱۔ مذ] ہر چیز اپنی ہم جنس کی طرف  
 رجوع کرتا ہے۔ اعلیٰ اعلیٰ کی طرف، ادنیٰ ادنیٰ کی طرف۔ اتم سے  
 اتم۔ طے۔ طے بیچ سے بیچ۔  
 کنڈنی - (کن۔ ڈنی) [ہ۔ ۱۔ مذ] [ہ۔ ۱۔ مذ] کڑی کا وہ ٹکڑا جس پر دروازے  
 کی چول کھومتی ہے۔  
 کنڈی - (کن۔ ڈنی) [آر۔ ۱۔ مذ] [ہ۔ ۱۔ مذ] دو حصے ہونے یا رینگے ہوئے کپڑوں  
 کو صفائی کرنے کا کام۔ کپڑوں کی صفائی جو موگروں کے ذریعے  
 سے کی جائے (۲) موگروں۔ (۳) مار پیٹ۔ زور و کوب۔  
 کنڈی کرنا - (۱۔ محاورہ) (۱) موگروں سے کپڑوں کی صفائی کرنا۔ (۲) استری  
 کرنا۔ (۳) مارنا۔ پیٹنا۔ گت بنانا۔  
 کنڈی گر - (۱) صفت [ریشمی اور عمدہ کپڑوں کو صاف کرنے والا۔  
 کنڈی - (س۔ ۱۔ مذ) (۱) گروہ۔ فار۔ کھڑ۔ (۲) تالاب۔ حوض۔ پانی

کنکوا اڑانا۔ کنکوا بڑھانا۔ (۱۔ محاورہ) پتنگ بازی کرنا۔ گڈی کو ہوا پر تمانا۔

کنکوا کاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) مخالفت کے پتنگ کی ڈور کو اپنی ڈور کے گھسے اور پتنگ کے زور سے اٹا دینا۔

کنکوا اڑانا۔ (۱۔ محاورہ) پتنگ بازی کرنا۔ پتنگوں کا باہم اڑا رکھتوں سے کاٹ دینا یا کٹو دینا

کنکوت۔ (کن۔ کوٹ) [ھ۔ ۱۔ مذ] کھڑے کھیت کا تختہ لگانے والا۔

کنکئی۔ (کن۔ کنی) [ھ۔ ۱۔ مٹ] [پاول کا پھرا۔ چاول کے ٹکڑے۔ ۷۵]

کنکر (کن۔ کنکر) [کن۔ کنکی۔ آں] [ق۔ ۱۔ مٹ] [چاول کے ٹکڑے ہونے لگنے۔

کنگال۔ (کن۔ کی۔ آں) [ق۔ ۱۔ مٹ] [چاول کے ٹکڑے ہونے لگنے۔

کنگال۔ (کن۔ گال) [ھ۔ ۱۔ مٹ] [مغس۔ محتاج۔ نادار۔ تنگ مال۔ ۷۳]

کنگال بانگا۔ (کن۔ مٹ) [فادست۔ مغس شوقین۔

کنگال کر دینا۔ (مٹ۔ مرکب) مغس بنا دینا۔ نردھن کر دینا۔ محتاج کر دینا۔

کنگال گھر کا۔ (۱۔ صفت) غریب گھر کا۔ محتاج خاندان کا۔

کنگال ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) مغس ہو جانا۔ محتاج ہو جانا۔ اغلاس میں گر جانا۔

کنگائی۔ (کن۔ گائی) [ق۔ ۱۔ مٹ] [کنکئی۔

کنگرو۔ (Kangaroo) رنگ۔ (۱۔ مذ) آسٹریلیا کا ایک جانور جس کی گلی ٹانگیں چھوٹی اور پھیلی پڑی ہوتی ہیں۔ اس کے پیٹ میں ایک تیلی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے بچے کو بھالیتا ہے۔

کنگرہ۔ (کن۔ گ۔ ر) [ق۔ ۱۔ مذ] دیکھیے کنگرہ

کنگرہ۔ (کنگت۔ ر) [ق۔ ۱۔ مٹ] [زر خرید لوڈی۔ محتاج۔

کنگرہ۔ (کنگت۔ ری) [ھ۔ ۱۔ مٹ] [۱۵] ایک قسم کی بین (پ) کپڑوں پر لگانے کا بہترین نلکے دار فیٹہ۔

کنگڑا۔ (کن۔ گڑ۔ کن۔ گڑا) [ق۔ ۱۔ مٹ] [مٹھا۔ فریہ۔ قوی۔ ہیکل۔

کنگلا۔ (کنگت۔ لا) [ھ۔ ۱۔ مٹ] [کنگلا کی تعصیر۔ مغس۔ تلاش۔ محتاج۔ نادار۔

کنگلی۔ (کنگت۔ لی) [ھ۔ ۱۔ مٹ] [کنگلا کی تانیث۔ فاقہ زدہ۔ بھوک عورت۔ محتاج عورت۔

کنگن۔ (کن۔ گن) [ھ۔ ۱۔ مذ] کلائی کا ایک زور۔ دستینہ۔

کنگنا۔ (کنگت۔ نا) [ھ۔ ۱۔ مذ] ڈورا جو ڈولہا کی کلائی پر باندھا جاتا ہے۔

کنگنی۔ (کنگت۔ نی) [ھ۔ ۱۔ مٹ] [۱۵] کانس۔ دیوار کی لگر۔ (۷۵) ایک چھوٹا سا پینا ناچ۔

کنگورا۔ (کن۔ گور۔ کن۔ گور۔ ر) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] طاقتور جنسی قلعہ یا ڈوسری عایشان عمارتوں میں خوبورتی کے لیے بنا دیتے ہیں۔

کنگھا۔ (کن۔ گھا) [ھ۔ ۱۔ مذ] [۱۵] بال لہجانے کا اوزار جس میں دندائے ہوتے ہیں۔ شانہ۔ (۷۳) جولاہوں کا ایک اوزار جس سے بانا لگتے ہیں۔

کجابہ۔

کنشیشن۔ (Concession) (کن۔ سے۔ شن) انگ۔ ۱۔ مذ] رعایت۔ کنسورٹیم۔ (Consortium) (انگ۔ ۱۔ مذ) ادارہ۔ اجمن۔

کنش۔ (کن۔ نش) [ق۔ ۱۔ مٹ] [کنسورس۔ بجنیل۔ کنش۔ (کن۔ نش) [ق۔ ۱۔ مٹ] [کنسورس۔ بجنیل۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔ کنشیشن۔ (کن۔ نشن) [ق۔ ۱۔ مذ] [۱۵] آتش کدہ۔ (۷۲) بت خانہ۔

کنگھی - (کن، گھٹی) (۱-۱۰-مست) کنگھائی تانیٹ - چھوڑا کنگھا جس کے دونوں طرف دندانے ہوتے ہیں - (۲) ایک درخت کا نام جس کے پھول میں کنگھی کے سے دندانے ہوتے ہیں۔

کنگھی چوٹی - (۱-صفت) آرائش - بناؤ سنگھار -

کنگھی چوٹی کرنا - (۱-محاورہ) بناؤ سنگھار کرنا - بال سنوارنا - سرگوندھنا -

کنگھی چوٹی میں الجھا رہنا - (۱-محاورہ) بناؤ سنگھار میں مشغول رہنا -

کنگھی کرنا - (مضمرکب) بال بنانا - بالوں کو کنگھی سے سلجھانا -

کنگھانا - (کن - م - نا - نا) [ھ - مضمر] بے چین ہونا - (۲) مُذکر کرنا -

کنگھہ - (کن - بن - ہ) [ت - صفت] آکرنے والا - (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے تحریر کنگھہ -

کنو - (۱- مذ) سنگترے کی جدید ترنی یافتہ قسم جو سنگترے سے زیادہ شیریں اور زیادہ بہتر ہے -

کنوار - (۱- مذ) ایک پودا جو کثیر دواؤں میں کام آتا ہے - (۲) صبح کا پہلے -

کنوارا - (کن - وا - را) [۱-۱۰- مذکر] ابن بیبا مہرود - مجرود -

کنوار پٹ (پٹا) کنوار جھلن - (کن - وار - پٹ - کن - وار - جھلن) -

[۱- مذ] دوشیزگی - لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے کا زمانہ -

کنوار پن - کنوار پینا - (کن - وار - پن - کنوار - پینا) [۱- مذ] [

دیکھیے کنوار پٹ :

کنواری - (کن - وار - ری) [ھ - ۱- مذ] ابن بیبا ہی لڑکی - بارہ -

کنواری ارمان - بیبا ہی پشیمان - (۱- مثل) کام نہ کرنے والا تو ایس

ہیں پریشان اور کرنے والا سعیدت میں حیران -

کنواری کو سداسدنت - (۱- مثل) آزاد اور تجرد آدمی کے لیے ہر وقت خوشی ہے -

کنواری کھائے روٹیاں بیبا ہی کھائے لوٹیاں - (۱- مثل) کنواری کے سنے

میں لڑکی کا خرچ پھر زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ بیبا ہی کے قبضہ کا خرچ والدین پر پڑھ جاتا -

کنواں - (کو - آل) [ھ - ۱- مذ] چاہ - کھو -

کنواں اگاڑنا - (۱- محاورہ) کنوئیں کی مٹی نکالنا - کنواں صاف کرنا -

کنواں اندھا ہو جانا - (۱- محاورہ) کنوئیں کا پانی خشک ہو جانا - کنوئیں

کی تہہ کا بیٹہ جانا -

کنواں بیچا ہے کنوئیں کا پانی نہیں بیچا - (۱- مثل) بے فائدہ تکرار اور

خواہ مخواہ محبت کا اظہار -

کنواں ٹوٹنا - (۱- محاورہ) کنوئیں کا پانی کم ہو جانا -

کنواں چھوڑ دینا - (۱- محاورہ) کنوئیں کا پانی چلا دینا - (۲) کنواں بند

کر دینا - آپناشی سے باز رہنا -

کنواں کھوونا - (۱- محاورہ) کنواں تیار کرنا - (۲) کسی سے بدی کرنا -

(۳) دوسرے کے گرانے کو گڑھا کھوونا -

کنواں کھوونے والا - (۱) چاہ کن - (۲) مجازاً [ بلانی کرنے والا -

کنوئوں (کنوئیں) میں بانس ڈالنا - (ڈلوادینا) (۱- محاورہ) بہت

دیکھ جمال کرنا - نہایت ڈھونڈھنا -

کنوئیں جھانگ پڑنا - (۱- محاورہ) سب کا متوالا اور پاگل ہو جانا - اودھنے

سے لے کر اگلے تک کامت دہے ہوش بلکہ از خود فرستادہ اور پوانہ ہو

جانا - کسی عقل کا بھی سلیم اور سجا نہ دینا -

کنوئیں پر سیکہ پیسا آنا - (۱- محاورہ) فیض کی جگہ جاکر محروم آنا -

کنوئیں جھانگنا - (۱- محاورہ) نہایت جستجو و تلاش کرنا - (۲) حیران

پریشان ہونا - (۳) کنوئیں میں گرنا -

کنوئیں جھنکانا - کنوئیں جھنکوانا - (۱- محاورہ) کنوئیں کا پانی یا تہہ دکھانا -

(مجازاً) حیران کرنا - آوارہ پھرانا - در بدر پھرانا - تھکا مارنا -

کنوئیں کھودتے کو کھانا تیار - (۱- مثل) اوروں کی بلانی کرنے والے

کو بھی نقصان اور ضرر پہنچ کر ہی رہتا ہے - چاہ کن لا جاہ ور پیش -

کنوئیں کی مٹی کنوئیں کو لگتی ہے - (۱- مثل) جس قدر آمد ہوتی ہے اسی

قدر خرچ بھی ہوتا ہے - جہاں کی کمائی ہوتی ہے وہیں صرف بھی

ہوتی ہے -

کنوئیں میں بولنا - (۱- محاورہ) نہایت آہستہ اور دبی آواز سے بولنا -

قریب مرگ ہونے کی آواز -

کنوئیں میں پھینک دینا - (۱- محاورہ) کنوئیں میں گرانا - (۲) ضائع کرنا -

کنوئیں میں دھیل دینا - (۱- محاورہ) لڑکی کی شادی کسی مری جگہ کر دینا -

کنوئیں میں ڈوب مرو - (۱- مثل) شرم کرو - بیعت کرو -

کنواں (کنواں) (سا) [ھ - ۱- مذ] نواسے کا بیٹا -

کنواں (کنواں) (سی) [ھ - ۱- مذ] نواسی کی بیٹی -

کنواں (Convoy) [کن - وا - اسے] [۱- مذکر] (۱)

بدرقہ - (۲) فوجی دستہ یا سامان رسد (جس کے ہمراہ بدرقہ ہو)

کنوئی - (کن - وئی) [ھ - ۱- مذ] [۱- گھوڑے کا کال - (۲) کان کی بالی -

مڑکی -

کنوئیاں بدلنا - کنوئیاں کھڑی کرنا - (۱- محاورہ) گھوڑے کا دونوں

کانوں کو کھڑا کرنا - چوکنا ہونا -

کنوٹھا - (کن - ٹوٹھا) [ھ - ۱- مذ] [۱- کوٹہ - گوشہ - (۲) بعض - آغوش

(۳) بلا برکابھائی -

کنوور - (کن - وور) [ھ - ۱- مذکر] درم جو کانوں کی جڑ میں ہوتے ہے -

کنوور - (کن - وور) [ھ - ۱- مذکر] [۱- لڑکا - بیٹا - پسر - (۲) راجہ کا بیٹا -

ٹیکا - شہزادہ - (۳) اعزازی خطاب -

کنوول - (کن - وول) [۱- مذکر] ایک پھول - گل نیلوفر - (۲) قنبر - سرخ کاغذ یا

ابرق کا پھول جس میں کوم سٹی جلاتے ہیں - (۳) شیشے کے ایک

نظرت کا نام جس میں شمع روشن کرتے ہیں -

کنول کھلنا - (۱- محاورہ) گل نیلوفر کا شگفتہ ہونا - (۲) دل کا خوش خرم

اور شاہاب ہونا -

کنول کھٹا - (۱- مذ) کول ڈوڑے - کھانا - کنول کا بیج -

کنول نہیں - (۱- صفت) کنوڑا سی آنکھوں والا -

گنیوا دان - (ہ۔ ا۔ ۱۔ ۵) نڈ (۱۱) لڑکی کا بیاہ کرنا۔ (۳) جہیز دان - (۳) بیٹی کے بیاہنے کے لیے لوگوں سے لہتہ پھ مانگنا۔  
 گنیوانا - (کن۔ ن۔ یا۔ نا) [ہ۔ مصل] (۱) کلکوسے کا ایک طرف کولھنا۔ پٹنگ کا کٹی کھانا۔ (۲) کنارہ کرنا۔ بچنا۔ کترانا۔ (۳) شرانا۔ آکلہ سامنے نہ کرنا۔  
 گنیپٹ - (کن۔ ن۔ ینت) [ع۔ ا۔ ۱۔ مرث] [ع۔ نام جو باپ۔ ماں۔ بیٹا۔ بیٹی وغیرہ کے تعلق سے بولا جاتے۔]  
 گنیٹر - (کن۔ نیتز) [ہ۔ ا۔ ۱۔ نڈ] ایک تلخ زہریلا درخت اور اس کا پھل پتوں کے سفوف کے جو شاندرے سے پتوں اور گھٹل مر جاتے ہیں۔  
 گنیٹر کھچول - (۱) گل خمر زہرہ (۲) لڑائی کا گھر۔ فتنہ پرداز۔ فتنہ انگیز۔  
 گنیٹر - (کن۔ نیتز) [ت۔ ۱۔ مٹ] [لوڈی -  
 گنیٹر ٹک - (کن۔ ن۔ ین۔ رکت) [ت۔ ۱۔ مٹ] [کنیز کی تعریف۔  
 گنیٹیشہ - (کن۔ بی۔ ینت) [ت۔ ۱۔ نڈ] [مرگ جا۔ یہودیوں اور مسیحیوں کا عبادت خانہ۔  
 گنیٹ - (کن۔ نیتف) [ع۔ ا۔ ۱۔ نڈ] بیت الخلاء۔ پاخانہ۔ جانے ضرور۔

گنو نڈا - (کن۔ ژن۔ ڈا) [ہ۔ صفت] (۱) شرمندہ۔ شرمسار۔ (۲) بنام۔  
 گنوا - ذلیل - (۳) مہبی۔ ناقص۔  
 گنوٹری - (کن۔ ژن۔ ڈی) [ہ۔ صفت] گنوٹری کی تائیف۔  
 گنوٹری تہی جوڑے سے کان کتر واتی ہے۔ (۱) نیش (اسانڈی شرمسار کرتی ہے۔  
 گنوٹشن - (Convention) کنن - ژن - مٹن (انگ - ۱۔ نڈ) [تلفظ - مجلس۔ اجتماع۔  
 گنوٹشمر - (Canvasser) کنن - ڈے - نڈ (انگ - ۱۔ نڈ) [دوسرے کے حصول کے لیے کوشش کرنے والا۔  
 گنہ - (ع۔ ا۔ ۱۔ نڈ) (۱) کسی چیز کی انتہا۔ نہرہ۔ حقیت۔ (۲) (بھاڑ) گنہ۔ باریکی۔ بانٹ کی تہہ۔ جطر - (۳) کسی چیز کی وجہ۔ طرز۔  
 گنہ کو چھیننا - (۱) محاورہ) کسی بانٹ کی تہہ کو چھیننا۔  
 گنہ نکالنا - (۱) محاورہ) دشمنی نکالنا۔ گینہ نکالنا۔  
 گنہائی - (کن۔ ن۔ ی) [ہ۔ ا۔ ۱۔ نڈ] (۱) سمری کرشن جی - (۲) [نوش] گنہائی فضل کا تخنیت۔  
 گنہتیا - (کن۔ ہی۔ یا) [ہ۔ ا۔ ۱۔ نڈ] (۱) سمری کرشن جی - (۲) خوبصورت۔ لڑکا۔ [ار] مشوق۔  
 گنی - (کن۔ نی) [ہ۔ ا۔ ۱۔ مٹ] [کھرا۔ ریزہ۔ پارہ۔ الماس کا ریزہ۔ (۲) ٹوٹے ہوئے چاول۔ (۳) خامی۔ چاولوں کا وہ حصہ جو جگنے سے رہ گیا ہو۔  
 گنی - (کن۔ نی) [ہ۔ ا۔ ۱۔ مٹ] [نوش] (۱) عاشیہ۔ بیکارہ۔ سخاوت۔ نیت۔ (۲) کلکوسے کا بازو۔ (۳) تباہ کوئی کوٹلیں جو ایک دفعہ لٹھنے کے بعد دوسری دفعہ نکلتی ہیں۔  
 گنی بانہا - (۱) محاورہ) پٹنگ کے بازو میں دھبی بانڈھ کر اس کے دونوں بازوؤں کو ہم وزن کرنا۔  
 گنی وار - (۱) [صفت] وہ کپڑا جس کے کناروں پر کسی رنگ کی کنار ہو۔ کنارہ دار۔  
 گنی وانا - (۱) محاورہ) قابو میں آنا۔ (۲) عاجز کرنا۔ پٹنگ کرنا۔  
 گنی وینا - (۱) محاورہ) (۲) مٹھ و فرماں بردار ہونا۔ عاجز ہونا۔ مغلوب ہونا۔ (۳) جھینپنا۔ بھانا۔ شرم کرنا۔ آکلہ بچی کرنا۔ (۴) ڈرنا۔ خائف ہونا۔  
 گنی کاٹنا - (۱) محاورہ) کترانا۔ نظر بچا کر پٹے جانا۔ ایک طرف ہو کر پٹے جانا۔  
 گنی کھانا - (۱) محاورہ) پٹنگ کا ایک رخ کو بھنگنا۔ کلکوسے کا ایک طرف سے نیچا ہو کر اڑنا۔  
 گنی - (کن۔ پائ۔ نزدیک - (۲) قبضے میں - (۳) گھر پر۔  
 گنیٹیا - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] [۱] چھوٹی عمر کی لڑکی بھروسہ۔  
 گنیٹ - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] (۱) بیٹی۔ دختر۔ (۲) دلہن۔ عروس۔  
 گنیٹ - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] (۱) بٹی۔ دختر۔ (۲) دلہن۔ عروس۔  
 گنیٹ - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] (۱) بٹی۔ دختر۔ (۲) دلہن۔ عروس۔  
 گنیٹ - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] (۱) بٹی۔ دختر۔ (۲) دلہن۔ عروس۔

ک - و

کوڑ - (ہ۔ علامت مفعول) واسطے۔ لیے۔ بڑے۔  
 کوڑ - (کن۔ ب۔ ۱۱) کب - (۱) کون۔ کس نے۔ (۲) کبھو۔ (۳) کوس۔  
 کوڑ - (ت۔ ۱۔ نڈ) گلی کو چہر۔ عورت۔  
 کوڑہ کوڑ - (ت۔ ۱۱) نڈ (۱) کوڑہ۔ (۲) کوڑہ۔  
 کوڑی - (ت۔ ۱) مار پیٹ۔ مرکبات میں استعمال ہونے والے جیسے میزوں کی۔  
 کوڑا اٹھانا - (۱) محاورہ) ملن میں جب گوشت کا ٹکڑا نکل جائے تو اسے درست کرنا۔  
 کوڑا - (کن۔ و۔ ا) [ہ۔ ا۔ ۱۔ نڈ] (۱) لاغ۔ (۲) گاگ (۳) گوشت کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو آدمی کے ملن میں ہوتا ہے۔  
 کوڑا پرٹی - (۱) مٹھ) کالی عورت۔ جیش۔  
 کوڑا پھانسنے کی چال ہے۔ (۱) نیش) جو شیار آدمی کو دام فریب میں لانے کی تدبیر ہے۔  
 کوڑا ٹھٹھا تاہی ہے، دھان پکتے ہی ہیں - (۱) نیش) دشمن کے بڑا چاہنے سے بڑا نہیں ہوتا۔  
 کوڑا چلا اٹھنے کی چال اپنی ہی بھول گیا - (۱) نیش) اپنی اذات سے بڑھ کر حوصلہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی پھلی حیثیت ہی گنھا دیتا ہے۔  
 کوڑا ناک لے گیا ناک کو نہیں دیکھتے، کوڑے کے سیمے دوڑے جانے ہیں - (۱) نیش) جہاں کوئی شخص جھوٹی بات کی پیروی کرتا ہے وہ اذیتین کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وہاں یہ مثل بولی جاتی ہے۔

کوتی - (کن۔ نی) [ہ۔ ا۔ ۱۔ مٹ] [نوش] (۱) عاشیہ۔ بیکارہ۔ سخاوت۔ نیت۔ (۲) کلکوسے کا بازو۔ (۳) تباہ کوئی کوٹلیں جو ایک دفعہ لٹھنے کے بعد دوسری دفعہ نکلتی ہیں۔  
 کوئی بانہا - (۱) محاورہ) پٹنگ کے بازو میں دھبی بانڈھ کر اس کے دونوں بازوؤں کو ہم وزن کرنا۔  
 کوئی وار - (۱) [صفت] وہ کپڑا جس کے کناروں پر کسی رنگ کی کنار ہو۔ کنارہ دار۔  
 کوئی وانا - (۱) محاورہ) قابو میں آنا۔ (۲) عاجز کرنا۔ پٹنگ کرنا۔  
 کوئی وینا - (۱) محاورہ) (۲) مٹھ و فرماں بردار ہونا۔ عاجز ہونا۔ مغلوب ہونا۔ (۳) جھینپنا۔ بھانا۔ شرم کرنا۔ آکلہ بچی کرنا۔ (۴) ڈرنا۔ خائف ہونا۔  
 کوئی کاٹنا - (۱) محاورہ) کترانا۔ نظر بچا کر پٹے جانا۔ ایک طرف ہو کر پٹے جانا۔  
 کوئی کھانا - (۱) محاورہ) پٹنگ کا ایک رخ کو بھنگنا۔ کلکوسے کا ایک طرف سے نیچا ہو کر اڑنا۔  
 کوئی - (کن۔ پائ۔ نزدیک - (۲) قبضے میں - (۳) گھر پر۔  
 کوئیٹیا - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] [۱] چھوٹی عمر کی لڑکی بھروسہ۔  
 کوئیٹ - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] (۱) بیٹی۔ دختر۔ (۲) دلہن۔ عروس۔  
 کوئیٹ - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] (۱) بٹی۔ دختر۔ (۲) دلہن۔ عروس۔  
 کوئیٹ - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] (۱) بٹی۔ دختر۔ (۲) دلہن۔ عروس۔  
 کوئیٹ - (کن۔ ن۔ یا) [س۔ ا۔ مٹ] (۱) بٹی۔ دختر۔ (۲) دلہن۔ عروس۔



کوٹے اڑانی - کوٹے کھنی - (۱- شش) (۱۱) نہایت اونچی درجہ کی ملازمہ۔  
(۱۲) دیوانی - پگلی - باؤلی۔

کوٹے اڑجا - (۱- محاورہ) جب کوئی پردہسی آنے کو ہوا اور کوٹا گھر میں آ بیٹھے، تو عورتیں یہ فقرہ کہہ کر اس امر کا خطوط لیتی ہیں کہ اگر وہ آنے والا ہوگا، تو یہ اڑجے گا۔ ورنہ بیٹھا رہے گا۔

کوٹے کھانے ہیں - (۱- شش) (۱۱) یعنی بڑی عمر کا ہے۔ اس عمر میں بھی بال سیاہ ہیں (عوام کا خیال ہے کہ چونکہ کوٹے کی عمر بڑی ہوتی ہے اس لیے کوٹے کھانے والے کی عمر بھی بڑی ہوجاتی ہے اور بال سیاہ رہتے ہیں۔ (۱۲) بہت باتیں کرنے والے کے متعلق بھی کہتے ہیں۔

کوآپریٹو سوسائٹی - (Cooperative Society) [انگ - ۱- مٹ] (۱۱) انجمن امداد باہمی - (۱۲) مشترکہ سرمائے سے کام کرنے والی جماعت۔

کوآر - (۱- ۱- مذ) ہندی چٹھا بیہندہ - اسوج۔  
کوآر جاڑے کا ڈوار - (۱- ۱- شش) (۱۱) اسوج کے پھینے سے سردی شروع ہوجاتی ہے۔

کوآرا - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) دیکھیے کنوارا۔  
کوآر پٹ - کوآر پٹل - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) دیکھیے کنوار پٹ۔ کنوار چل۔  
کوآر پن - کوآر پنٹا - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) دیکھیے کنوار پن۔ کنوار پنٹا۔

کوآرٹر - (Quarter) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) چوتھا حصہ۔ چوتھائی مربع۔ (۱۲) ہینڈ روپٹ کا چوتھا حصہ۔ ۲۸ پونڈ کا وزن۔ (۱۳) سرمایہ۔ سال کا چوتھا حصہ۔ (۱۴) مقام۔ محلہ۔ چھاؤنی۔ قیام۔ (۱۵) محنت۔ ٹولہ۔ (۱۶) سپاہیوں یا افسروں کے رہنے کا قیام۔

کوآرٹر گارڈ - (Quarter Guard) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) چھاؤنی۔ فوج یا پولیس گارڈ کی حوالات، جہاں قید کی سزا پانے والے سپاہی رکھے جاتے ہیں۔  
کوآرٹر ماسٹر - (Quarter Master) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) فوجی محکمے کا وہ افسر جو چھاؤنیوں کے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہے۔

کوآرٹی - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) دیکھیے کنواری۔  
کوآڑ - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کلہری کا تختہ جس سے دروازہ بند کرتے ہیں۔ (۱۲) دروازہ۔  
کوآڑ بند کرنا - (ممن مرکب) کوآڑ پھیرنا۔ پٹ پھیرنا۔ کوآڑ موندنا۔

کنڈی لگانا - دروازہ بند کرنا۔  
کوآڑ بند ہوجانا - (۱- محاورہ) خاندان میں سے کسی کا زہینا۔  
کوآڑ توڑ کے کھانا - (۱- محاورہ) مصیبت کے دن کاشا۔ جنوں ٹوں مشر بسر کرنا۔

کوآڑی - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کوآڑ کی تفسیر۔ (۱۲) انگ کے کارڈ۔ وہ کپڑا جسے کھانے کے دنوں طرف ہوتا ہے۔ (۱۳) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) نیلام کی چیزیں بیچنے والا۔ کھانا۔  
کوآسا - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) دیکھیے کنواسا۔  
کوآکت - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کوآکب کی صبح۔ روشن ستارے۔

کوآنا - (۱- ۱- مذ) (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآنا - (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآنا - (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآناج - (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآناج - (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآناج - (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (۱- ۱- مذ) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (Coil) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Coil) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Coil) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (Cobalt) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobalt) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobalt) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔

کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔  
کوآلف - (Cobra) [انگ - ۱- ۱- مذ] (۱۱) کناٹہ بدھواس ہوجانا۔



خستہ ہونا۔ فازی، تباہی کرنا۔

کو کچی (کوچی) - [ ھ - ۱ - مٹ ] سفیدی کرنے یا سونے چاندی کا برش  
کوڈ - ( ۱۰ - ۵ ) مٹ ] جست، جھلانگ۔

کوڈ پڑنا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ کسی معاملے میں بے جا دخل دینا۔

کوڈ چھاندا - ( ۱۰ - ۵ ) مٹ ] اچھل کوڈ - ڈور ڈھوپ۔

کوڈک - ( کوڈ - دک ) [ ۱ - مذ ] طفل - لڑکا - بچہ - جمع - کوڈکان۔

کوڈن - ( کوڈ - دن ) [ ۱ - مذ ] - ( ۱۰ - ۵ ) است رفتار - بارش گھوٹا - ( ۱۰ )

( صفت ) گندہنم - ٹورکھ - ٹوانا - اہمن -

کوڈنا - ( کوڈ - نا ) [ ھ ] مٹ ] اچھلنا - چھاندا - چھلانگیں مارنا - ( ۱۰ ) نہایت

خوش ہونا - خوشی میں پھولنا سمانا - ( ۱۰ ) گھنڈو کرنا - اترا نا۔

کوڈول - ( کوڈ - دون ) [ ھ - ۱ - مٹ ] ایک قسم کا سخت فطرہ۔

کوڈول دانا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ سخت کام لینا کھنکھان کام کرنا۔

کوڈول دے کر پڑھنا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ منت پڑھنا - کم خرچ کر کے پڑھنا۔

ناقص تعلیم پانا۔

کوڈول کا جھات کن جھاتوں میں میا ساس کن ساسوں میں -

( ۱۰ - ۵ ) مٹ ] ڈور کے رٹنے کا کیا اعتبار۔

کوڈیاں - ( ۱۰ - ۵ ) مٹ ] تلابازیاں۔

کوڈ - ( Code ) [ انگ - ۱ - مذ ] ( ۱۰ ) جمودہ قوانین - ( ۱۰ ) اسٹاروں کا

کلام - تفسیر لغت - بڑی اور بھری فوجی اشاروں کے ضوابط

کا مجموعہ۔

کوڈر ( Cover ) ( دک - ڈر ) [ انگ - ۱ - مذ ] ( ۱۰ ) ڈھکن - ڈھکن - برزش

پہنی - ( ۱۰ - ۵ ) پیشکش - غلاف - ( ۱۰ ) کتاب کا پتلا - مقوی - دفنی -

سرورق۔

کور - ( Corps ) [ انگ - ۱ - مٹ ] فوج کا دستہ - ( جو کسی خاص کام

کے لیے متعین کیا جاتے )۔

کور - ( ۱۰ - ۵ ) مٹ ] کنارہ - حاشیہ - کتی - ہرا - سجات - مغزی -

کور دینا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ ( ۱۰ ) کتی دینا - ( ۱۰ ) معادہ ہونا - مغلوب ہونا۔

کور کسہ - ( ۱۰ - ۵ ) مٹ ] کسی نقص - عیب - کمی بیشی - برائی مصلاتی - تصور۔

قباحت۔

کور کسہ نکالنا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ گھانا پورا کرنا - کمی پورا کرنا - نقص ڈور کرنا۔

عیب ڈور کرنا۔

کور - ( دن - صفت ) اندھا - نابینا - جمع - کورال -

کور باطن - کور دل - ( دن - صفت ) گندہنم - کچ طبع - کم ذہن - نامسوم -

کورن - کیزہ رکھنے والا۔

کور بخت - ( دن - صفت ) برجنت - بد نصیب - تیرہ بخت -

کور چشم - کور دیدہ - کور نگاہ - ( دن - صفت ) اندھا - نابینا -

کور دہ - ( دن - ۱۰ - مذ ] ( ۱۰ ) کم آباد اور چھوٹا گاؤں جسے کوئی نہ جانتا ہو -

( ۱۰ ) ماہوں کی ہستی -

کور مادر زاد - ( دن - صفت ) پیدائشی اندھا۔

کوٹھی کھلا کوٹھا نہ لگانا سب کچھ آپ کا ہے - (ایشل) ایسے موقع پر  
رہتے ہیں جہاں کوئی مملوہ چیز تو نہ دے مگر زبانی کہتا جائے کہ سب  
کچھ آپ کا ہے۔

کوٹھی وال - ( ۱۰ - ۵ ) صفت ) ساہوکار - مہاجن - صراف - ہندی کا بیچ بیچا  
کرنے والا۔

کوٹھڑ - ( کوٹھڑ - ج ) [ ۱ - مذ ] بہشت کی ایک نہر - جنت کا حوض -

کوٹھڑے دھلی ہوئی زبان - ( ۱۰ - ۵ ) مٹ ] پاک اور شگفتہ زبان۔

کوٹج - ( ق ) کچھ -

کوٹجین - کوٹجہ - ( ق ) کچھ کا کچھ۔

کوٹج - ( Couch ) [ انگ - ۱ - مذ ] صوفہ - پنگڑی - سپرنگ والی  
کرسی۔

کوٹج - ( Coach ) [ انگ - ۱ - مٹ ] ( ۱۰ ) شاہی گاڑی - سواری گاڑی -

( ۱۰ ) ریل گاڑی - ( ۱۰ ) آستارہ میل - ( خصوصاً کھیلوں کا )

کوٹجیان - کوٹجیان - ( ۱۰ - ۵ ) مذ ] گھوڑا گھوڑی چلانے والا۔

کوٹج - ( ۱۰ - ۵ ) مذ ] ( ۱۰ ) جلاہوں کی تانی صاف کرنے والا برش - ( ۱۰ ) [ موزخ ]

وہ موٹا پٹھا جو آدمی کی ایڑی کے اوپر اور چوپایوں کے گلے کے نیچے

پرتا ہے - ( دوسرے معنوں میں بیشتر جمع میں مستعمل ہے )۔

کوٹجیں کاٹنا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ ایڑی کے اوپر سے پاؤں کے پٹے کاٹنا - قدم

کاٹ ڈالنا - ٹولنا بنا دینا۔

کوٹج - ( دن - ۱۰ - مذ ] روانگی - رحلت - نقل مکان - ایک جگہ سے دوسری  
جگہ جانا۔

کوٹج بول دینا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ روانگی کا حکم دینا - روانہ ہونا۔

کوٹج کا دن - ( ۱۰ - ۵ ) مذ ] روانگی کا دن - موت کا دن۔

کوٹج کرنا - ( ۱۰ ) روانہ ہونا - سفر کرنا - ( ۱۰ ) مڑنا - وفات پانا - ( ۱۰ ) شخصیت

ہونا - وداع ہونا۔

کوٹج مقام - ( دن - ۱۰ - ۵ ) مذ ] جینا اور ٹھہرنا۔

کوٹجا - ( کوٹجا ) [ ھ - ۱ - مذ ] کچھ کا - کسی کو کھارچہ یا تلوار وغیرہ کا ٹھوڑا

ساد تم جو آ پار نہ ہوا ہو۔

کوٹجا ( کوٹجے ) دینا - ( مارنا ) ( ۱۰ - ۵ ) معادہ ( ۱۰ ) گودنا - زخم ڈالنا ( ۱۰ )

ٹھنہ مٹھنے دینا۔

کوٹجا - ( کوٹجا ) [ ۱ - ۱ - مذ ] ( ۱۰ ) اہلی کی برہمنی جسے مریح کے ساتھ پیش

کر کھلتے ہیں۔

کوٹجک - ( دن - صفت ) چھٹا - خرد - کوتاہ - نھا - جھنسن۔

کوٹجنا - ( کوٹج - نا ) [ ھ - مٹ ] چھوٹا - چھری یا کھنڈے سے گودنا۔

کوٹجیز - ( کوٹجیز ) [ ۱ - ۱ - مذ ] کوئی تصنیف - گلی - مملہ - باڑہ - تنگ ماہ -

کوٹجہ بکوبچہ - ( دن - تابع فعل ) گلی گلی - کھلے کھلے - کوٹجیز۔

کوٹجہ بندی کرنا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ مملوں یا گلیوں کی مد

کوٹجہ گردی - ( دن - ۱ - مٹ ] آوارہ گردی - گلیوں کو چھانتے پھرنا۔

کوٹجہ گردی کرنا - ( ۱۰ - ۵ ) معادہ آوارہ گردی کرنا - آوارہ پھرنا - خواب

کورس (Chorus) - کورس [انگ۔ ۱۔ مذ] وہ نمبر جو سبیل کورس میں شامل ہو۔ (۲) گانے والوں کی جماعت۔ بچوں۔ طالبانہ۔

کورس کوئز - (۱۔ ۵۔ مرث) کئے گئے پتے کو بلاٹ کی آواز۔

کورم (Quorum) - کورم [انگ۔ ۱۔ مذ] امکان کی وہ تعداد جن کی موجودگی سے جلسہ کی کارروائی جائز اور موثر ہو سکتی ہے۔

کورنش - (کورنش، نش) [ت۔ کورنش کا مترس۔ ۱۔ مرث] انہی کی جھگڑ۔

تیسیم - بندگی۔ آداب۔ منجھ کر سلام کرنا۔

کورنش بجالانا - (۱۔ محاورہ) آداب بجالانا، تیسیم عرض کرنا۔ بندگی کرنا۔

کورنشات - (کورنش، نشات) [ت۔ ۱۔ مرث] کورنش کی فارسی تبع بقاعدہ عربی (غلاف فصاحت)

کورو - (کو۔ رو) [س۔ ۱۔ مذ] دھرت راشتہ کے بیٹے - مہا بھارت کی لڑائی میں بڑی پانڈوؤں کے مقابلہ پر تھے۔

کورو - (کو۔ رو) [ھ۔ ۱۔ مذ] غلے وغیرہ کی کوڑھی یا جھاڑو۔

کوروی - (کو۔ ری) [ت۔ ۱۔ مرث] انہاں۔

کوروی - (کو۔ ری) [ھ۔ ۱۔ مرث] کوڑھی کا تانیٹ۔

کوروی انگنہ سے دیکھنا - (۱۔ محاورہ) بے حیائی سے دیکھنا۔ نڈر ہو کر دیکھنا۔

کوریدار - (Corridor) - کوریدار [انگ۔ ۱۔ مذ] غلام۔ گردش۔ متدد و کوروں کے سلسلے کا راستہ۔ (۲) کسی ملک کی مقبوضہ زمین کا وہ تنگ قطعہ جو کسی دوسرے ملک کے علاقے میں سے گزرتا ہو۔

کوڑ - (ق۔ صفت) دیوانہ۔ بے وقوف۔ گنوار۔ احمق۔

کوڑا - (کو۔ ٹا) [ھ۔ ۱۔ مذ] بڑی کوڑھی۔

کوڑے کر ڈالنا - (۱۔ محاورہ) بیچ دینا۔ اڑنا بیچ ڈالنا۔ دام کھرے کرنا۔

کوڑا - (کو۔ ٹا) [ھ۔ ۱۔ مذ] چاک۔ ڈوہ۔ تازیانہ۔ (۲) تیسیر۔ گومال۔

کوڑا لگانا - (۱۔ محاورہ) چاک مارنا۔ تازیانہ لگانا۔ (۲) تیسیر کا جھوٹا کرنا۔

کوڑا - (کو۔ ٹا) [ھ۔ ۱۔ مذ] گھاس پھوس۔ خس و خاشاک۔ (۳) خراب اور کھجی چیز۔ الا بلا۔

کوڑا کرکٹ - (۱۔ مذ) گھاس پھوس۔ ردی اور کھجی چیز۔

کوڑا کرکٹ سمجھنا - (۱۔ محاورہ) فضول خیال کرنا۔ کوئی وقعت نہ دینا۔

کوڑا کرنا - (۱۔ محاورہ) خس و خاشاک پھیلانا۔ کوڑا کرکٹ کھینا۔

کوڑھ - (۱۔ ۵۔ مذ) برص۔ جذام۔ ایک مرض جو فساد جنوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں یا تو بدن پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں یا اعضا پر درم ہو کر انگلیاں وغیرہ گر گئے ہوتی ہیں۔

کوڑھ پھینکنا (چونا) - (۱۔ محاورہ) برص یا جذام کی شدت سے ہاجا یا زخم ہو کر پھینکنا۔

کوڑھ میں کھاج - (۱۔ ۵۔ مذ) آفت پر آفت۔ تکلیف میں تکلیف۔ ایک تو کوڑھ اس پر پھیل اور بھی جذاب جان۔

کوڑھنگ - (۱۔ صفت) نمک حرام۔ ناشکلا۔ احسان فراموش۔

کوڑھ - (۱۰۔ مرث) (۱) دھوکا۔ فروب۔ (۲) علم۔ دشمنی۔

کوڑھ - (۱۔ ۵۔ مذ) دیکھنے کو ل۔

کورہ - (کو۔ طا) [ھ۔ صفت] نیا۔ غیر مستعمل (۲) سادہ۔ صاف۔ بے لگ۔

کورہ - (۱۔ ۵۔ مرث) (۱) احمق۔ نادان۔ (۲) غریب نفس۔ تنگ دست۔

کورہ - (۱۔ ۵۔ مرث) بے مروت۔ بے وفا۔ روکھا۔ (۲) خالص۔ بالکل۔

کورہ بچینا - (۱۔ محاورہ) صاف بچنا۔ بال بال بچنا۔

کورہ برتن - (۱۔ ۵۔ مرث) (۱) غیر مستعمل برتن۔ (۲) مجازاً [دو چیزہ لڑکی۔ کنواری بچی۔

کورہ پینڈا - (۱۔ ۵۔ مرث) (۱) بیباہ عورت۔ کنواری۔ کنواری۔

کورہ جانا - (۱۔ محاورہ) خالی ہاتھ جانا۔

کورہ رکھنا - (۱۔ محاورہ) (۱) کچھ نہ کھانا۔ (۲) بالکل محروم رکھنا۔ وعدہ وفا نہ رکھنا۔

کورہ رہ جانا - (۱۔ محاورہ) بالکل محروم رہ جانا۔ (۲) کچھ حاصل نہ ہونا۔ (۳) ہاں رہنا۔

کورہ کا غزہ - (۱۔ ۵۔ مذ) بے لکھا کاغذ۔ سادہ کاغذ۔

کورے آسترے سے سر نہ ڈالنا (کوٹ نہ ڈالنا) - (۱۔ محاورہ) نہایت تکلیف دینا۔ سخت مزاحیہ۔ (۲) ٹوٹ لینا۔ سب کچھ چھین لینا۔

کورہ نکل جانا - (۱۔ محاورہ) بے داغ بیچ جانا۔ صاف بیچ جانا۔

کورہ نڈ - (کو۔ را۔ ت) [ت۔ صفت] انہوں کی طرح۔

کورٹ - (Court) [انگ۔ ۱۔ مذ] (۱) قاضی۔ (۲) جج۔ (۳) عدالت۔ (۴) دیار۔ (۵) ٹیس کھیلنے کا میدان۔

کورٹ آف وارڈ - (Court of Ward) [انگ۔ ۱۔ مرث] نابالغوں کی جائیداد کے انتظام کا سرشتہ۔

کورٹ انسپیکٹر - (Court Inspector) [انگ۔ ۱۔ مرث] پولیس کا وہ نمبر دار جو سرکار کی طرف سے عدالت میں مقدمات کی پیروی کرتا ہے۔

کورٹ شپ - (Courtship) [انگ۔ ۱۔ مذ] شادی سے قبل لڑکے لڑکی میں راز و نیاز۔

کورٹ مارشل - (Court Martial) [انگ۔ ۱۔ مذ] جنگی عدالت۔ فوجی عدالت۔

کورٹرا - (ق۔ ۱۔ مرث) کورس۔

کورس - (Course) [انگ۔ ۱۔ مذ] (۱) تعلیم کا زمانہ۔ (۲) درسی کتاب۔ (۳) گھوڑوں کا میدان۔

کورس - (Coarse) [انگ۔ ۱۔ صفت] ادنیٰ۔ معمولی۔ گھٹیا موٹا۔

کورس کلا تھ - (Coarse Cloth) ادنیٰ۔ موٹا اور کھردرا کپڑا۔

کورس کپڑا۔

کوڑھی کو نہ پوچھنا۔ (۱- معاودہ) (۱۱) ذرا قدر نہ کرنا۔ مفت میں کام نہ لینا۔ (۱۲) نہایت حقیر اور ذلیل جاننا۔  
 کوڑھی کی بات ہو جانا۔ کوڑھی کی عزت ہو جانا۔ (۱- معاودہ) بات بڑھانا۔ بکھڑت نہ رہنا۔ آبرو نہ رہنا۔  
 کوڑھی تے تین تین بکھنا۔ (۱- معاودہ) (۱۱) نہایت انداز اور سستا بکھنا۔ (۱۲) کمال بے قدری اور حقیر ہونا۔  
 کوڑھی کے کام کا نہیں۔ (۱- معاودہ) مضنیکتا اور ناکارہ ہے۔ بالکل بے معرفت اور بے کار ہے۔  
 کوڑھی کے ٹول بکھنا۔ (۱- معاودہ) نہایت سستا اور ارزاں بکھنا۔  
 کوڑھی نہ پلٹنا۔ (۱- معاودہ) بکھ نہ پلٹنا۔  
 کوڑھی نہیں گانٹھ میں چلے باغ کی میسر۔ (۱- مثل) کم مالگی کی حالت میں بڑے سوسے کریموالے کی نسبت بولتے ہیں۔  
 کوڑھیوں کے ٹول بکھنا۔ (۱- معاودہ) نہایت انداز اور بے قدری سے فروخت ہونا۔ سستا بکھنا  
 کوڑھیوں کے ٹول نہ لینا۔ (۱- معاودہ) ناکارہ اور بے قدر سمجھنا۔ مفت بھی نہ لینا۔  
 کوڑھے کر ڈالنا۔ (۱- معاودہ) دام کھرے کرنا۔ اونے پونے بیچ ڈالنا۔  
 کوڑھیا۔ (رک - فوڑیا) (۱- معاودہ) چھوٹا دروازہ۔ کھڑکی کا پٹ۔  
 کوڑھیالا۔ (کوڑھی - لا) (۱- معاودہ) (۱۱) ایک قسم کا سفید چیتوں والا زہریلا سانپ۔ (۱۲) ایک بوٹی۔ (۱۳) مالدار۔ دولت مند۔ امیر۔  
 کوڑھ۔ (دفع - صفت) خمیدہ۔ کھڑا۔  
 کوڑھ پشنت۔ کوڑھ پشنت۔ (دفع - صفت) خمیدہ پشنت۔ کھڑا۔  
 کوڑھ۔ (کوڑھ) (۱) [دفع - ۱۱] ڈونگا۔ (۱۲) ٹنگی۔ (۱۳) مصری کے گول گل ڈولے۔ (۱۴) مٹی کا بستن۔ (۱۵) مٹی کا آبخورہ۔  
 کوڑھ گر۔ کپہار۔ کاسہ گر۔ کلال۔  
 کوڑھ نہایت۔ (دفع - ۱- معاودہ) مصری کا کوڑھ۔  
 کوڑھ سے ہیں دریا بند کرنا۔ (۱- معاودہ) کسی بڑے مضمون یا بیان کو نہایت مختصر کر کے لکھ دینا کہ اختصار بھی ہو جائے اور مطلب بھی فوت نہ ہونے پائے۔  
 کوڑھیاں۔ (کوڑھ - یاں) [دفع - ۱- معاودہ] مٹی کے چھوٹے آبخورے۔  
 کوش۔ (۱- ۱۰- ط) [دفع - ۱۱] راستہ کی ایک حدیقینہ۔ فرسنگ۔ تین ہزار گز کی لمبائی۔ سنگ نشان جو ہر فرسنگ پر ہوتا ہے کہ وہ ۵-۵ [دفع - ۱۱] آستین کا کٹ۔  
 کوس نیلی، باہل پاسبی۔ (۱- مثل) کام کے شروع ہوتے ہی ہمت ہار دینا۔ تنک جاننے کا اظہار کر دینا۔ بڑا طبل۔ دھولیا۔  
 کوش۔ (دفع - ۱- معاودہ) نقارہ کلال۔ دامہ۔ بڑا طبل۔ دھولیا۔  
 کوش برعلت۔ (دفع - ۱- معاودہ) کوچ کا نقارہ۔ روانگی کی گھنٹی۔  
 کوش بہن الملک۔ (دفع - ۱- معاودہ) بڑائی کا ڈھکا۔ کُن ترانی۔  
 کوسا۔ (کوڑھ - سا) [دفع - ۱- معاودہ] دھاتے بد۔ بڑا بھلا کہنا۔

کوڑھ۔ (۵- معاودہ) مددک۔ بے وقوف۔ احمق۔  
 کوڑھ پن۔ کوڑھ پٹنا۔ (۱- معاودہ) بدبختی۔ بدبختی۔ بے وقوفی۔  
 کوڑھ مخمڑ۔ (دفع - معاودہ) بے وقوف۔ کند ذہن۔ ابل۔  
 کوڑھی۔ (کوڑھی) [دفع - ۱- معاودہ] جدائی۔ مجھوم۔ کوڑھ۔ مرض۔  
 کوڑھی کے بچوں نہیں پڑتی۔ (۱- مثل) جو خود ملکیت زدہ ہے اس پر کیا آفت آئے۔ دراصل کوڑھی کا خون خراب ہو جاتا ہے جسے بچوں بھی پینے کے لائق نہیں سمجھتی۔  
 کوڑھی۔ (کوڑھی) [دفع - ۱- معاودہ] ایک بیسی۔ بڑی۔  
 کوڑھی۔ (کوڑھی) [دفع - ۱- معاودہ] ایک قسم کا چھوٹا سا کھجور جیڑا کی طرح اپنی ہے۔ (۱۲) کٹاری کی لوک۔ (۱۳) (مجازاً) روپیہ۔ دولت مند ذلیل۔ (۱۴) جتہ۔ دھڑی۔ پانی۔  
 کوڑھی بھر۔ (۱- معاودہ) تھوڑا سا۔ ذرا سا۔  
 کوڑھی پاس نہ ہونا۔ (۱- معاودہ) نہایت غلٹ اور سنگدست ہونا۔  
 کوڑھی پھرننا۔ (۱- معاودہ) چند آدمیوں کا کسی امر پر مشتاق اور دم لگے ہونا۔  
 کوڑھی پھیر کرنا۔ (۱- معاودہ) بہت سے پھیرے کرنا۔ بار بار آنا جانا۔  
 کوڑھی دانتوں سے اٹھانا۔ (۱- معاودہ) بہت کج بولی کرنا۔  
 کوڑھی کا کر دینا۔ (۱- معاودہ) بے وقت کر دینا۔ بے عزت کر دینا۔  
 کوڑھی کا مال نہیں۔ (۱- معاودہ) مضنیکتا ہے۔ بے حقیقت ہے۔  
 کوڑھی کا ہوجانا۔ (۱- معاودہ) نیک اور خراب ہو جانا۔ کام کا نہ رہنا۔ نظروں سے گرجانا۔  
 کوڑھی کا آدمی۔ (۱- معاودہ) حقیر و ذلیل آدمی۔ بیکار اور نیکل آدمی۔  
 کوڑھی کفن کو نہ ہونا۔ (۱- معاودہ) نہایت غلٹ اور محتاج ہونا۔  
 کوڑھی کوڑھی۔ (۱- معاودہ) ایک ایک کوڑھی۔ دھا ذرا ذرا جہ جہ۔  
 کوڑھی کوڑھی ادا کرنا۔ (۱- معاودہ) ایک ایک جہ جہ چکا دینا۔ دام دام بے باقی کر دینا۔  
 کوڑھی کوڑھی بھر پانا۔ (۱- معاودہ) کھل وصول پانا۔  
 کوڑھی کوڑھی پر جان دینا۔ (۱- معاودہ) بہت کج بولنا۔  
 کوڑھی کوڑھی پر داشت رکھنا۔ (۱- معاودہ) بہت لالچی ہونا۔  
 کوڑھی کوڑھی ہوننا۔ (۱- معاودہ) تھوڑا تھوڑا روپیہ جمع کرنا۔ نہایت کفایت شناری اور کج بولی سے پس انداز کرنا۔  
 کوڑھی کوڑھی کا حساب۔ (۱- معاودہ) چھوٹی سے چھوٹی رقم کا حساب کھل حساب۔ اتنا حساب۔  
 کوڑھی کوڑھی کو تنگ (حیران) ہونا۔ (۱- معاودہ) نہایت سنگدست ایک ایک پیسے کے لیے حیران و پریشان ہونا۔  
 کوڑھی کوڑھی لینا۔ (۱- معاودہ) سب کچھ وصول کرنا۔  
 کوڑھی کوش دوڑنا۔ (۱- معاودہ) نہایت لالچی اور حرص ہونا۔ ایک ایک کوڑھی کے لیے کوش بھر کا کچھ لگانا۔ (۱۲) نہایت محنت و مشقت کرنا۔

کوسا کافی۔ کوسا کاسمی۔ (۱۔ مذ) کوسن۔ دماغے پر۔ پھنکار۔  
 کوشتا۔ (کوش۔ نا) [آدھ مصل] دماغے بدورینا۔ بڑا بھلا گنا۔ (۲) پیلٹنا۔ ماتم  
 کرنا (۳) (مذ) دماغے بد۔  
 کوسنا لگ جانا۔ (۱۔ محاورہ) بد دماغا کا اثر جونا۔  
 کوشنگ۔ (دق۔ صفت) بد شجرت۔  
 کوسوں بھاگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) دور چلے جانا۔ الگ رہنا۔ (۲) اڑھلنا  
 کرنا۔  
 کوسوں تنگ۔ (۱۔ تابع فعل) دُور تنگ۔  
 کوسوں دُور۔ (۱۔ تابع فعل) بہت دُور  
 کوسے جنین ایسے مریں۔ (۱۔ مثل) جن کو بد دماغی جاتی ہے وہ زندہ  
 رہتے ہیں اور جن کو دماغی جاتی ہے وہ مر جاتے ہیں۔  
 کوش۔ (دس۔ ۱۔ مذ) (۱) خزانہ۔ گنجینہ۔ (۲) ڈکٹری۔ لغت۔ (۳) ایام۔  
 نیام۔ خانہ۔  
 کوش۔ (دق۔ ۱۔ مثن) بغیر اڑی کا بڑتا۔ سیلپر۔  
 کوش۔ (دق۔ صفت) برواشت کرنے والا۔ بھیلنے والا۔ درکبات میں  
 مستقل ہے جیسے سڑکوش۔  
 کوشال۔ (دق۔ مثن) [دق۔ صفت] کوشش کرنے والا۔  
 کوشش۔ (دق۔ مثن) [دق۔ ۱۔ مثن] (۱) سہی۔ جدوجہد۔ عین۔ دوڑوڑو۔  
 (۲) نقد۔ (۳) شہتو۔ (۴) پیروی۔  
 کوشش کرنا۔ (مسن مرکب) جدوجہد کرنا۔ ہاتھ پاؤں مارنا۔ دوڑوڑو۔  
 کرنا۔  
 کوشنگ۔ (دق۔ شکست) [دق۔ ۱۔ مذ] قصر۔ محل۔ ایران۔ اونچی اور بلند  
 عمارت۔ راج مندر جمع۔ کوشنگا۔  
 کوشنی۔ (دق۔ مثن) [دق۔ ۱۔ مثن] برواشت کرنا۔ جینا۔ (۳) محنت کرنا۔  
 کوشش کرنا (مرکبات میں مستعمل ہے)  
 کوفت۔ (دق۔ ۱۔ مثن) (۱) صدر۔ آزار۔ آسیب۔ (۲) [آر] درد۔ دکھ۔  
 سختی۔ مصیبت۔ (۳) غم۔ رنجش۔ (۴) ٹھکن۔ نکان۔  
 کوفت اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) ملکیت یا تکلیف برواشت کرنا۔  
 کوفتہ۔ (دق۔ مثن) [دق۔ صفت] (۱) آسیب رسیدہ۔ رنج دیدہ (۲)  
 کوٹے جو قبیلے کے گول کباب جو شور بے میں ڈالنے میں۔ جسم۔  
 کوفٹگان۔  
 کوفتہ بختہ۔ (دق۔ تابع فعل) کوٹ چمان کر۔  
 کوفتہ لاناں تہی کوفتہ است۔ (دق۔ مثن) دکھی اور غریب کے لیے  
 شوکھی روٹی بھی غنیمت ہے۔  
 کوئی۔ (دق۔ مثن) [دق۔ صفت] (۱) عراق کے شہر کوفہ سے منسوب۔ (۲)  
 (دق) کوفہ کا باشندہ۔ (۳) [مجازاً] (صفت) بے وفا۔  
 کوکو۔ (دق۔ ۱۔ مثن) کچی سلائی۔ بے بے ٹانگے۔ بچینہ۔  
 کوکت۔ (دق۔ ۱۔ مثن) (۱) آواز بلند۔ صدائے بلند۔ (۲) [آر] سرلی آواز۔  
 ترانہ۔ (۳) قمری، فاختہ اور کتے کی آواز۔ (۴) پیچ۔ شور۔

کلاری۔ (دق۔ ۱۔ مذ) آہ نالہ۔ (۲) گھڑی، گھنٹے یا باجے وغیرہ میں  
 چابی دینا۔  
 کوکت۔ (Coke) [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا کوئلہ جو کول سے تیار  
 کرتے ہیں یہ دھواں نہیں دیتا۔  
 کوکت شاستر۔ (دق۔ ۱۔ مذ) وہ کتاب جس میں عورتوں کی تیس اور عورتوں  
 کے آسنوں کے ٹونگ لکھے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام کوکا  
 تھا۔ اس پر اس کتاب کا نام 'کوکت شاستر' رکھا گیا۔  
 کوکت مارنا۔ (۱۔ محاورہ) پیچ مارنا۔ (دق)  
 کوکا۔ (دق۔ ۱۔ مذ) سکوں کے اس فرقے کا نام ہے بھائی رام سنگھ دھمی  
 نے قائم کیا تھا۔  
 کوکا۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) جموٹی سی میخ۔ باریک کیل۔  
 کوکا سبلی۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) گلی نیلر۔ کنول۔  
 کوکت۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) روشن تارہ۔ بڑا تارہ۔ محض ستارہ۔  
 کوکتہ۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) شان و شکوہ۔ (۲) شاہی جوس۔ جیلو۔  
 کوکتہ۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) گنا۔ سنگ۔  
 کوکتہ لیس کرنا۔ (دق۔ ۱۔ مذ) فدا کی ذرا سستنا۔ بہت کم آرام لینا۔ بہت  
 کم ٹھہرنا۔  
 کوکتہ چندی۔ (دق۔ ۱۔ مثن) ایک جنگلی بوٹی جس کے پتوں کو پیس کر سنگ  
 گزیدہ کے زخم پر لپکھتے ہیں۔  
 کوکلا۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) کول۔ (۲) ہڈ ہڈ۔  
 کوکلاش۔ (دق۔ ۱۔ مذ) بادشاہ کا درودھ شریک بھائی۔  
 کوکلس کلین۔ (Ku-Klux-Klan) کوک۔ کلس۔ کلین (۱)  
 [انگ۔ ۱۔ مثن] امریکہ کی جنوبی ریاستوں کی ایک تحفید انجمن جس  
 کا مقصد امریکہ سے عیشیوں کو نکالنا ہے۔  
 کوکن۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) آلو۔ (۲) پکا ٹھنڈا ناچ۔  
 کوکنا۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) کھی سلائی کرنا۔ ٹنگر ٹھاننا۔ دھاگا ڈالنا۔  
 کوکنا۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) چھینا۔ چلانا۔ شور کرنا۔ (۲) کول کا پرلنا۔  
 (۳) گھڑی گھنٹے یا باجے میں چابی دینا۔ (۴) کلاہنا۔ درد کی آواز نکالنا۔  
 کوکنا۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) مٹا۔ پوست بخشنا۔ کھانڈنا۔  
 کوکینی۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) چھوٹا۔ ننھا۔ (۲) ادنی درجہ کا۔ گھٹیا۔  
 کوکینی۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) ایک رنگ جو شہاب، لاجورد اور پتھر کی  
 سے تیار ہوتا ہے۔  
 کوکو۔ (دق۔ ۱۔ مذ) [دق۔ ۱۔ مثن] فاختہ کی آواز۔ قمری کی آواز۔  
 کوکو۔ (دق۔ ۱۔ مذ) [دق۔ ۱۔ مثن] کوکا۔ زراعت۔ (۲) بچوں کو ڈرانے کی آواز۔  
 کوکو۔ (Cocoa) (دق۔ ۱۔ مذ) [انگ۔ ۱۔ مثن] ایک قسم کا سفوف جو  
 ایک درخت کے بیجوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ (۲) ایک قسم کی چائے  
 جو اس سفوف سے تیار کی جاتی ہے۔  
 کوکو۔ (دق۔ ۱۔ مذ) (۱) انا کا بیٹا۔ دودھ پلانے والی کالو کا۔ برادر رضاعی۔

دودھ شریک جمانی۔ (۲) [مست] آنا کی بیٹی۔ دودھ شریک بہن۔

گوکھ۔ (۱۔ مست) ۱۱ پیٹ۔ شکم بطن۔ نیچے کی وہ جگہ جہاں ہڈی نہیں ہوتی۔ (۲) عمل۔ گرہ (۳) مجازاً۔ اولاد۔

گوکھ آباد رہے۔ (۱۔ دعا) بچے جیتے رہیں۔

گوکھ اُجڑ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ۱۱ عمل کا گر جانا۔ عمل کا قرار نہ پانا۔ عمل نہ رہنا۔ (۲) اولاد کا مرجانا۔ اولاد کا زندہ نہ رہنا۔

گوکھ بند۔ (۱۔ صفت) بانجھ۔ عقیم۔

گوکھ جلی۔ (۱۔ صفت) وہ عورت جسے بچوں کے مرنے کا صدر پہنچا ہو۔

گوکھ سے ٹھنڈی ہے۔ (۱۔ مثل) اولاد سے خوش ہے۔ اولاد والی ہے۔

گودھیری ہے۔

گوکھ ماسی جانا۔ (۱۔ محاورہ) بانجھ ہو جانا۔ عمل کے قابل نہ ہونا۔

گوکھ مانگ بھری پُرسی رہے۔ (۱۔ محاورہ) تنہاری اولاد اور خاوند زندہ و سلامت رہے۔ گود بھری اور سہانگی مینی رہو۔ (دعا ہے۔)

گوکھ مانگ سے ٹھنڈی ہونا۔ (۱۔ محاورہ) آل اولاد اور خاوند سے خوش ہو کر اس کا شکہ دینا۔

گوکھ کی آج۔ (۱۔ صفت) مادی محبت۔

گوکھیں لگنا۔ (۱۔ محاورہ) مجوک کے مارے کوکھوں کا خالی معلوم ہونا۔ بھوکا ہونا۔

گوکھیں کوکھ۔ (ق) زار و زار رونا۔ دعا ٹہری مارنا۔

گوکھنی۔ (کو۔ کن۔ ائی) [آر۔ ۱۔ مست] ایک قسم کا ادوارنگ۔ کوکھی رنگ۔

گوکی۔ (۱۔ مست) دودھ شریک بہن۔ گوکھ کی ماہیٹ۔

گوکین۔ (Cocaine) (کو۔ کین) [انگ۔ ۱۔ مست] ایک نشہ آور اور بے جس کر دینے والی دوا۔

کوٹن۔ (۱۔ مذ) ۱۱ لقمہ۔ نوالہ۔ (۲) اناج کی وہ مقدار جو کھنی میں پینے کے لیے ڈالتے ہیں۔ کالا۔ (۳) کچا اناج جو بیٹوں کر یا اسی طرح کھاتے ہیں۔ (۴) ایک قسم کی مچھلی۔ (۵) (پ) کوٹلا۔ (۶) کشتیری پنڈتوں کی ایک گوت۔ اچھے خاندان کا۔

گول۔ (Coal) [انگ۔ ۱۔ مذ] ۱۱ کوئلہ۔ (۲) پنجر کا کوئلہ۔

گول تار۔ (Coaltar) تار کوئل۔

گول ٹیشن۔ (Coal Station) [انگ۔ ۱۔ مذ] وہ مقام جہاں ریل کا آبن یا جہاز کو کوئلے سے پلے ہیں۔

گول گیس۔ (Coal Gas) (کو۔ گے) کوئلے کی گیس۔

گول۔ (۱۔ مذ) ۱۱ نیچ۔ کھاڑی۔ (۲) خار۔ سوراخ۔ (۳) گلی۔ راستہ۔

گول۔ (Cool) [انگ۔ صفت] ٹھنڈا۔ سرد۔

گوللا۔ (کو۔ لا) (۱۔ مذ) ۱۱ دروازے کا ادھر ادھر کا پہلو۔ کوئلہ۔ گوشہ۔ (۲) وہ اناج کی بولی جو کھٹنے کو دی جائے۔ (۳) نیل۔ گود۔ (۴) رنگتار۔ نارنگی۔

گوللا۔ (ق) ۱۔ مذ) گیلڈر۔

گوللا۔ (۱۔ مذ) دیکھیے کوئلہ۔

گوللا۔ کوکھا۔ (کو۔ لا۔ کو۔ لھا) [انگ۔ ۱۔ مذ] پٹھ۔ پٹھا۔ چوڑ۔ سرین۔ آزاد بند۔ بندھنے کی جگہ۔

گوللا اُتر جانا۔ (اُترنا)۔ (۱۔ محاورہ) کوئلے کی ہڈی کا اپنی جگہ سے ہرک جانا۔

گوللا کاشنا۔ سزا دینا۔ سخت صدر پہنچانا۔

گوللا کاشنا۔ گوللا مار کر چلنا۔ (۱۔ محاورہ) چوڑ پٹھانا۔ گوللا پھڑکانا۔

گوللا لٹی۔ (ق) صفت) گرہ باز۔

گوللا نیال۔ (ق) ۱۔ موشٹ) قلا بازوں۔

گوللا لٹی۔ (ق) ۱۔ موشٹ) جلتی ہوئی گوللی۔

گوللا لٹا۔ (کول۔ ڈا) [ق] ۱۔ مڈکڑا کوٹلا۔

گوللا۔ (Cooler) (کو۔ کولر) [انگ۔ ۱۔ مذ] ٹھنڈا کرنے کا برتن یا مشین۔ خشک ساز۔

گولسا۔ (کول۔ سا) [ق] ۱۔ مذ) کوٹلا۔

گولھو۔ (کو۔ لھو) [انگ۔ ۱۔ مذ] تیل یارس بیٹے کا آکر۔ نیل یارس نکالنے کی کل۔

گولھو سے پٹینا۔ (۱۔ محاورہ) بہت ایزادینا۔

گولھو سے کھل اُترتی بھی سبیلوں جوگ۔ (۱۔ مثل) آدمی بوڑھا ہو کر نہما ہو جاتا ہے۔

گولھو کا بیل۔ (۱۔ صفت) تیل کا بیل۔ نہایت منتی محنت کش۔ وہ جو ہر وقت کام میں لگا رہے۔

گولھو کاٹ موکری بنانا۔ اونٹے کام کیلئے بڑا کام خراب کرنا۔ ایک بڑے کام کی چیز کو بگاڑ کر چھٹی چیز بنانا۔

گولھو کے بیل کو گھر ہی کو س پچاس۔ گولھو کے بیل کو گھر ہی میں منزل ہے۔ (۱۔ محاورہ) مصیبت زدہ کو گھر میں بھی قرار نہیں دینا۔

گولھو کے بیل کی طرح چلنا۔ (۱۔ محاورہ) سخت محنت و مشقت کرنا۔ کسی کام میں دن رات مصروف رہنا۔

گولھو میں پلو ا دینا۔ (۱۔ محاورہ) شہینے میں کھنوا دینا۔ سخت بے رحمی کی سزا دینا۔

گولھو میں پیل ڈالنا (اپلینا)۔ (۱۔ محاورہ) سخت سزا دینا۔ سخت تکلیف دینا۔

گوللی۔ کوئی۔ (کو۔ لی۔ کول۔ یا) [انگ۔ ۱۔ مست] گود۔ دونوں ہاتھوں کا حلقہ۔ گولی۔ آغوش۔

گولی بھرنا۔ گولی میں بھر لینا۔ (۱۔ محاورہ) گودی بھرنا۔ نبل میں دبانہ۔ نبل گیر ہونا کھلے گانا۔

گولی۔ (کو۔ لی) [انگ۔ ۱۔ مذ] ۱۱ گولہ۔ (۲) وہ سیاہی جو ہندی ٹھانے کے بعد ہندی لگے ہاتھوں میں نمودار ہوتی ہے۔

گولیشن۔ (Coalition) (کو۔ لی۔ ٹیشن) [انگ۔ ۱۔ مست] اتحاد۔ اتفاق۔ (۲) مختلف جماعتوں کی متحدہ حکومت۔

کونم - (ق ۱۰- مذکر) پوسے کے نوک ۔  
 کونٹ - (کوڑن) [ص ۱۷] زم - طام - نازک - (۴) شیریں - میٹھا۔  
 کونٹل - (۳) فصیح - کوٹھیل - کوڑن - کوڑ - مٹل - کون - بھلن (۱۰- مذ) [ص ۱۷]  
 سیندھ - نقب - شکاف جو چور دیوار میں کر کے مکان کے اندر  
 گھس آتے ہیں۔  
 کونٹل لگانا - (۱) محاورہ) نقب لگانا - سیندھ لگانا۔  
 کونٹ - (ع ۱- مذ) (۱۱) ہونا - وجود میں آنا - (۲) عالم موجودات - دنیا -  
 جہان بہتتی - (۳) حادث ہونے والی چیز۔  
 کونٹ و فساد - (ع ۱- مذ) موجود ہونا اور تباہ ہو جانا - ہو کر بڑھانا۔  
 بردنی و نابودنی۔  
 کونٹ و مکان - (ع ۱۰- مذ) دنیا - جہان - جگ - سنسار۔  
 کونٹ - (کلمہ استفہام) کلام (۲) کیا چیز ہے - بے حقیقت۔  
 کونٹ بشر ہے - (۱) روزمرہ) کونٹ شخص ہے - ہم نہیں جانتے۔  
 کونٹ پرانی آگ میں گرتا ہے - (۱) (شیل) کوئی شخص کسی کے عرص  
 نصیبت میں نہیں پڑتا - دوسرے کی نصیبت کوئی اپنے سر نہیں  
 لیتا۔  
 کونٹ جانتے - (۱) روزمرہ) خدا جانے (۲) کونٹ نہیں جانتا - (۳) میں  
 نہیں جانتا۔  
 کونٹ دن تھے - (۱) روزمرہ) کیسے اچھے دن تھے - کیا اچھا زمانہ تھا۔  
 (ق)  
 کونٹ سا - (۱) حرف استفہام (۲) کونٹ - (۳) کیا - (۴) کس قدر - کتنا۔  
 کونٹ سادہ رخت ہے جسے ہوا نہیں لگتی - (۱) (شیل) عیب اور  
 تنبیہ سے کوئی خالی نہیں۔  
 کونٹ ساڑھل گیا ہے - (۱) روزمرہ) کیا برائی ہو گئی ہے۔  
 کونٹ سنتا ہے - (۱) محاورہ) کوئی نہیں سنتا۔  
 کونٹ سے مرض کی دوا ہو - کس کام کے ہو - محض نکلے اور بے مصلحت ہو۔  
 کونٹ سی بات آشکار بھی ہے - (۱) روزمرہ) کوئی کسرتا ہی نہیں  
 رہتی۔  
 کونٹ سے قرآن میں لکھا ہے - (۱) روزمرہ) کس قلم سے  
 جاز ہے۔  
 کونٹ سے لعل لگے ہیں - (۱) روزمرہ) کیا خاص بات ہے۔  
 کونٹ کہتا ہے - (۱) روزمرہ) کوئی نہیں کہتا - میں نہیں کہتا۔  
 کونٹ کہے - (۱) روزمرہ) بیان نہیں ہو سکتا۔  
 کونٹ وقت ہوا - (۱) روزمرہ) دیر ہو گئی - مدت ہو گئی۔  
 کونٹ وقتوں سے - (۱) روزمرہ) بڑی دیر سے۔  
 کونٹ ہوتا ہے - (۱) محاورہ) (۱) اسے کیا واسطہ ہے - وہ کیا تعلق  
 رکھتا ہے - (۲) کیا رشتہ ہے۔  
 کونٹ ہے - (۱) کلمہ استفہام

کونٹ کوئی ہے - (۱) صفت) (دولالوں کی اصطلاح) (ق ۹)  
 کونٹ - (ف ۱۰- مٹ) متعقد - گاڑ - سفیرہ۔  
 کونٹ ختم - (۱) مرد نادان - احق - بے وقوف - بے تیز - مورکھ (۲) گندہ  
 دماغ۔  
 کونٹا - (کونا) [ع ۱۰- مذ] (۱) گوشہ - زاویہ (۲) طرف - جانب - پہلو - کولا۔  
 کونٹا کوٹنا چمکانا - (۱) محاورہ) بے انتہا تلاش کرنا - جستجو کرنا۔  
 کونٹا کھدرا - کونٹا کھترا - (۱) مذ) کونٹ ووشہ - گوشہ ووشہ۔  
 کونٹے میں بیٹھ رہنا - (۱) محاورہ) گوشہ نشین ہو جانا۔  
 کونٹے میں پڑا رہنا - (۱) محاورہ) سب سے الگ رہنا۔  
 کونٹیل - (کونٹ - پن) [ع ۱۰- مٹ] شکوہ - کلی - نئی چھوٹی طام پتی جو درخت  
 میں سب سے پہلے نکلتی ہے۔  
 کونٹیل پھوٹنا - کونٹیل نکلنا - (۱) محاورہ) شکوہ نکلنا - نئے نئے پھوٹنا۔  
 کونٹیل - (۱) مٹ) اندازہ - تخمینہ - مکمل - تشیص۔  
 کونٹنا - کونٹنتنا - (کوقت - نا) کونٹنا - (نا) [ع ۱۰- مٹ] براز کے واسطے  
 زور کرنا - حالت قبض میں زور لگا کر پاخانہ نکلانا۔  
 کونٹنج - (۱) مٹ) تازہ - کلنگ - راج ہنس - حواصل - مرغابی۔  
 کونٹنجی - (۱) مٹ) سبزی فروش عورت - کونٹیا کی تائیت۔  
 کونٹنج دی اپنے ہیرے نہیں بتاتی - (۱) (شیل) کوئی اپنی چیز کو برا  
 نہیں کہتا۔  
 کونٹنج - (۱) مٹ) ایک زہریلا درخت اور اس کی پہلی کانام۔  
 کونٹنج - (۱) مٹ) دیکھیے کونٹنج۔  
 کونٹنچا - (کونٹ - چا) [ع ۱۰- مذ] بھر بھر بھونے کا کڑچا جس سے بالو وغیرہ  
 نکالتے ہیں۔  
 کونٹنچا - (کونٹ - چا) [ع ۱۰- مذ] گھاس کا بودا۔  
 کونٹچی - (کونٹ - چچی) [ع ۱۰- مٹ] دیکھیے کونٹچی۔  
 کونٹد - (۱) مٹ) بگی کی چمک۔  
 کونٹدا - (۱) مذ) دیکھیے کونٹد۔  
 کونٹدنا - (کونٹد - نا) [ع ۱۰- مٹ] بگی چمکانا۔  
 کونٹڈ - (۱) مٹ) (۱) نانڈ - (۲) مقبتہ۔  
 کونٹڈا - (کونٹ - ڈا) [ع ۱۰- مذ] (۱) آغا گوندھے کا مٹی کا ظرف - نانڈ۔  
 پرات - (۲) نذر نیاز کی شیرینی۔  
 کونٹڈا بھرتا - (۱) محاورہ) نذر پوری ہونے پر امام جعفرؑ کی نیاز دلوانا۔  
 کونٹڈا کرنا - (۱) کسی کے نام کی نیاز دلوانا - (۲) دو تین آدمیوں کا بل کر  
 کسی کے ساتھ بڑا کام کرنا۔  
 کونٹڈار - (ق) قید بند۔  
 کونٹڈی - (کونٹ - ڈی) [ع ۱۰- مٹ] اچھا کونڈا جو اکثر مٹی یا پتھر کا بنا  
 ہوا ہوتا ہے۔ ڈوڑی۔  
 کونٹرا - (کونٹ - نا) [ع ۱۰- مٹ] بے اداس - بدحواس - (۲) کائیں  
 کائیں سے گھبرا یا ہوا۔



کوئٹل - (Counsel) (دکون - سئل) (انگ - ۱۰ - مٹ) [۱۰] جماعت۔  
 مجلس - سبھا - (۱۲) مجلس شوری - مؤخر - دیوان - (۳۰) ارکان مجلس۔  
 کوئٹل کرنا - (۱۰) معاوضہ) صلاح مشورہ کرنا - منصوبہ کا طعنا۔  
 کوئٹلسٹر - (Councillor) (دکونٹن - رنر) (انگ - ۱۰ - مٹ) [۱۰] مجلس شوری  
 کارکن - کونسل کارکن - مشیر - صلاح کار۔  
 کوئٹلسٹی - (دکونٹن - لی) [۱۰ - ۱ - مٹ] صلاح کار - کونسل کامبر - مشیر۔  
 ویل - پیروکار۔  
 کوئل کوئل - (دھ - ۱ - مٹ) کتے کے پتوں کی آواز۔  
 کوئی - (کوئی - نی) [۱۰ - ۱ - مٹ] وہ شخص جسے ملت متاع ہو۔ بولیا - گاندو۔  
 کوئین - (کوئین - بی) [۱۰ - ۱ - مٹ] (دکون کاتینہ) دونوں جہاں - بہرہ و مال۔  
 دین و دنیا - ہر دوسرا۔  
 کوئینین - (Quinine) (کوئن - این) [انگ - ۱۰ - مٹ] ایک مشہور  
 انگریزی دوا جو بیمار اور بالخصوص طبر یا سبب میں استعمال کی جاتی ہے۔  
 کوہ - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑ - وہ سنگلاخ قطع جو سطح زمین سے بلند ہو۔  
 کوہ آتش فشاں - (دھ - ۱۰ - مٹ) وہ پہاڑ جس میں سے گندھک کا مادہ  
 ہونے کے باعث آگ کے شعلے اُٹھتے رہتے ہیں۔ جو آلا سکی۔  
 کوہ آدم - (دھ - ۱۰ - مٹ) نکاک کے سلسلہ کوہ کی وہ بلند چوٹی جس کے متعلق خیال  
 کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے یہیں اترے تھے۔  
 کوہ الہرز - (دھ - ۱۰ - مٹ) ایران کے شمال میں ایک مشہور بلند پہاڑ کا نام۔  
 کوہ بے ستون - (دھ - ۱۰ - مٹ) ایران کا ایک پہاڑ جسے فراد نے کھود کر  
 اپنی معشوقہ شیریں کے لیے جوئے شیر نامی نہر نکالی تھی۔  
 کوہ پیکر - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑ جیسے جو والا - گمانڈیل - قوی جتن۔  
 کوہ ٹوٹا - (۱۰ - معاوضہ) بہت بڑی سنگی پڑنا۔  
 کوہ جگر - (دھ - ۱۰ - مٹ) باحوصلہ آدمی - شجاع - دلیر - بہادر۔  
 کوہ چوٹی - (دھ - ۱۰ - مٹ) وہ پہاڑ جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی  
 طوفان کے ختم ہوجانے پر ٹھہری تھی۔  
 کوہ رحمت - (دھ - ۱۰ - مٹ) کوہ سغدر کے پاس ایک پہاڑی۔  
 کوہ رواں - (دھ - ۱۰ - مٹ) چلنے والا پہاڑ (۲۰) مجازاً گھوڑا - ہاتھی۔  
 کوہسار - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑی جگہ - (۲۰) سلسلہ کوہ - جمع - کوہسار۔  
 کوہستان - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑی ملک - (۲۰) پہاڑوں کا سلسلہ - پہاڑ۔  
 کوہستانی - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑی - کوہی - پہاڑ کا - (۲۰) (دھ) پہاڑ  
 کا رہنے والا۔  
 کوہ سینا - کوہ طور - (دھ - ۱۰ - مٹ) شام کا وہ مشہور پہاڑ جس پر خدا  
 تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی اور وہی  
 شریعی احکام نازل فرمائے تھے۔  
 کوہ صفا - (دھ - ۱۰ - مٹ) صفا اور مردہ - مگر منظر کے نزدیک دو مقدس  
 پہاڑیاں ہیں - جن کے بیچ میں حاجیوں کو سات بار دوڑنے  
 کا حکم ہے۔  
 کوہ قاف - (دھ - ۱۰ - مٹ) ایک پہاڑ جو ایشیائے کوچک کے شمال میں

واقع ہے۔ (۲۰) [انگ] وہ جگہ جہاں آدمی کا گزرنہ ہو سکے۔ نہایت دشوار  
 گزار اور نسان پہاڑ۔  
 کوہ کئی - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑ کھودنے والا - شیریں کے عاشق فریاد کا  
 لقب جس نے کوہ بے ستون کھود کر ایک نہر شیریں کے محل تک  
 پہنچائی تھی۔  
 کوہ گدڑن ، کاہ بر آوزون - (دھ - ۱۰ - مٹ) بے تیج کام کرنا - ایسا کام کرنا  
 جس میں مشقت زیادہ اور فائدہ کچھ نہ ہو۔  
 کوہ گہنی - (دھ - ۱۰ - مٹ) پہاڑ کھودنا۔  
 کوہ کو کاہ سمبھنا - (۱۰ - معاوضہ) دشوار کام کو آسان سمبھنا۔  
 کوہ نور - ہندوستان کا ایک نہایت مشہور و معروف پہاڑ جو آجکل  
 انگلستان میں حکومت برطانیہ کے پاس ہے۔  
 کوہاڑا - (دھ - ۱۰ - مٹ) مشکل - (۲۰) تردد - مکہ - اندیشہ - غم۔  
 کوہان - (دھ - ۱۰ - مٹ) اونٹ کی پیٹھ کی ہڈی - (۲۰) سانڈ  
 یا بیل کا اونچا کندھا۔  
 کوہی - (دھ - ۱۰ - مٹ) [دھ - ۱۰ - مٹ] پہاڑ کا باشندہ۔  
 کوہی - (دھ - ۱۰ - مٹ) [دھ - ۱۰ - مٹ] بھری - ایک قسم کا شکار جو اکثر کبوتروں کو  
 پکڑ لیتا ہے۔  
 کوہلا - (دھ - ۱۰ - مٹ) [دھ - ۱۰ - مٹ] ملی ہوئی لکڑی کا بچھا یا جو ٹکڑا یا کان  
 سے نکالا ہوا سیاہ مادہ - دیکھیے کولہ۔  
 کوٹوں پر ٹھہر جونا - (۱۰ - معاوضہ) بڑے بڑے اخراجات پر توجہ نہ کرنا اور  
 اسے خرچ پر کفایت دکھانا۔  
 کوٹوں کی دلالی میں (منہ میں جھبی کا لاکھڑے بھی کالے) ہاتھ کالے۔  
 (۱۰ - مٹ) جس کام میں ناحق نام بدنام ہو اس کی نسبت بولتے ہیں۔ بڑے  
 کاموں میں پڑنے کا انجام بدنامی ہے۔  
 کوٹوں کے ٹول - (دھ - ۱۰ - مٹ) بہت سستا۔  
 کوٹے کی کان - (۱۰ - مٹ) وہ کان جس میں سے پتھر کا کوٹہ نکلتا ہے۔  
 کوٹی - (دھ - ۱۰ - مٹ) [دھ - ۱۰ - مٹ] کچھ کسی - (۲۰) نامعلوم شخص - (۲۰) تقریباً۔  
 گجگ - تخمیناً - (۲۰) ایک آدھ - [دھ - ۱۰ - مٹ] کہیں - ممکن ہے۔  
 (۲۰) ذرا - ایک۔  
 کوٹی آب بولے کوٹی جب بولے میری مکٹی شپا شپ بولے۔  
 (۱۰ - مٹ) نہایت بے شرم اور بے حیائی نسبت بولتے ہیں جو بے عرت  
 ہو کر بھی کھواس کرتا چلا جائے۔  
 کوٹی آنکھوں کا اندھا کوٹی عقل کا اندھا۔ (۱۰ - مٹ) کوئی جہالت کے  
 سبب سے بے وقوف اور کوئی پڑھا لکھا ہو کر جاہل۔  
 کوٹی آنا نہیں - (۱۰ - معاوضہ) کسی کو اتنی توفیق نہیں۔  
 کوٹی بات اٹھانا نہ رکھنا۔ (۱۰ - معاوضہ) کچھ کسر نہ رکھنا - سب کچھ لینا۔ سب  
 تدبیریں کر لینا۔  
 کوٹی پل کا ہمان - (۱۰ - مٹ) چند گھڑی کا ہمان - مرنے کے قریب۔  
 کوٹی پوچھنا نہیں - (۱۰ - مٹ) کوئی پرسیاں حال نہیں - کوئی توجہ نہیں دے گا۔

کوئی تقدیر کے لکھے کو بٹا نہیں سکتا۔ (۱۔ مثل) کسی تمیر سے تقدیر نہیں بدل سکتی۔

کوئی تن دکھی کوئی سن دکھی، دکھی سارا سنسار۔ (۱۔ مثل) کسی کو کوئی دکھ کسی کو کوئی۔ دنیا میں کوئی کسی نہیں۔

کوئی تو پوچھے گا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی تو باز پرس کرے گا۔ کوئی تو سنے گا کسی کو تو ضرور آئے گا۔

کوئی تو لوں بھاری، کوئی مولوں بھاری۔ کوئی تو لوں کم کوئی مولوں کم۔ (۱۔ مثل) کوئی کسی سبب سے مراد اور عزت والا ہے کوئی کسی سبب سے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق عزت رکھتا ہے۔

کوئی جیسے کہ مرے ان کو اپنے کام سے کام۔ (۱۔ مثل) خود غرض آدمی کی نسبت بولتے ہیں جس کو کسی کے رنج و راحت کی پرواہ نہ ہو۔

کوئی چیر رہے۔ (۱۔ محاورہ) بے کار چیز ہے۔

کوئی حال مست کوئی مال مست۔ (۱۔ مثل) کوئی اپنی غریبی پر قناعت کے ہوتے ہے کوئی اپنی دولت کے نشے میں مچر۔ ہر ایک اپنے حال پر خوش ہے۔

کوئی دم کا دامہ ہے۔ (۱۔ مثل) زندگی بہت تھوڑی ہے۔

کوئی دم کا جمان۔ (۱۔ محاورہ) قریب مرگ۔ جلد رخصت ہونے والا۔

کوئی دن۔ (۱۔ تابع فعل) چند روز۔ تھوڑے دنوں کے لیے۔

کوئی دن جاتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) عنقریب ہے۔ تھوڑی مدت میں۔

کوئی دن کی ہوا کھانا۔ (۱۔ محاورہ) تھوڑے دن کی زندگی اور ہونا۔

کوئی دن یاد کرو گے۔ (۱۔ محاورہ) ہماری قدر کچھ دن بعد ہوگی۔

کوئی کسی کا درد بانٹ نہیں لیتا۔ (۱۔ محاورہ) رنج و غم خود ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔

کوئی کسی کی آگ میں نہیں گرتا۔ (۱۔ مثل) کسی کی معیبت اور بلا کو کوئی شخص اپنے سر نہیں لیتا۔

کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا۔ (۱۔ مثل) کوئی کسی کے عوض نہیں مڑتا۔

کوئی ہر شخص اپنی ہی جواب دہی کرے گا۔

کوئی گل نہ بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی طرح چین نہیں ہے۔

کوئی کوئی نہ سمجھے۔ (۱۔ روزمرہ) (مجبوری) یعنی آپ بڑے بد ذات ہیں۔

کوئی کوئی۔ (۱۔ صفت) ایک آدم۔ اکا دکا۔ شاذ و نادر۔

کوئی کہاں سے لائے۔ (۱۔ تابع فعل) ناپید ہونے اور مجبوری ظاہر کرنے کے موقع پر کہتے ہیں۔

کوئی کیا جائے۔ (۱۔ روزمرہ) کسی کو نہیں معلوم۔ مجھ کو نہیں معلوم۔

کوئی کیا کرے۔ (۱۔ روزمرہ) مجبوری ہے۔ چارہ نہیں (۲۰) بیکار ہے۔

کوئی مرے کوئی ظہار گائے۔ (۱۔ مثل) جب کسی کی معیبت پر کوئی خوشی منائے اس موقع پر بولتے ہیں۔

کوئی نہ کوئی۔ (۱۔ متعلق فعل) ایک نہ ایک۔ یہ نہیں وہ۔

کوئی کھڑی کا جمان ہے۔ (۱۔ مثل) مرنے کے قریب۔ قریب مرگ ہے۔

کوئی نہیں پوچھتا کہ منہ میں کسے داشت ہیں۔ (۱۔ مثل) (۱۵) نہایت امن پسین کا زمانہ۔ ہر شخص بے خوف و آلاہ ہے۔ (۲۰) کس پر کسی کا اظہار۔

کوئی ہو۔ (۱۔ روزمرہ) کسے باشد۔ جو چاہے۔ کسی کی خصوصیت نہیں۔

کوئی ہے۔ (۱۔ محبت ندا) (۱۵) ملازم کو بلانے کی آواز۔ (۲۰) کیا کوئی شخص موجود ہے؟

کوئیے۔ (کو۔ اے) (ف) (۱۔ مذ) دیکھیے کو۔

کوئی۔ (ک۔ وی) (س) (۱۔ مذ) اصل کو) (۱۵) شاعر (۲۰) عالم و فاضل شخص۔

کوئی راج۔ (س) (۱۔ مذ) ملکہ لشوار۔

کوئے ارمحانا۔ (۱۔ شگون) جب کوئی پردیس سے آنے والا ہو اور کو امانڈیر پر آکر بولے تو عورتیں یہ فقرہ کہہ کر شگون لیتی ہیں کہ اگر وہ آنے والا ہو گا تو کو آرمحانا ہے گا۔

کوئے کو سا کریں کھیت پکا کریں۔ (۱۔ مثل) نامحن بددعا کا اثر نہیں ہوتا۔

(۲۰) دشمن کے برا چاہنے سے بُرا نہیں ہوتا۔

کوئے کو سننے سے کہیں ڈھور مرتے ہیں۔ (۱۔ مثل) کسی کی بددعا سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔

کوئے کھلتے ہیں۔ (۱۔ مثل) عوام کا اعتقاد ہے کہ کوئے کھانے سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور بال کالے ہو جاتے ہیں۔ (۲۰) بہت بولنے والے کی نسبت کہتے ہیں۔

کوئے کی دم (گاڈ) میں انا رکھی۔ (۱۔ مثل) کالے رنگ کا آدمی رنج لباس پہنے تو کہتے ہیں۔

کویا۔ (کو۔ یا) (ھ) (۱۔ مذ) (۱۵) آنکھ کا کوہ۔ گوشہ چشم۔ (۲۰) شریف یا کھل کا دانہ یا گودا۔ (۲۰) ریشم کے کیڑے کا نول۔

کویل۔ (کو۔ یل) (ھ) (صفت) ایک خوش آواز کالے رنگ کے پرند کا نام جو آسمان کے موسم میں یہاں آتا ہے۔

کویل کوگنا۔ (صفت) کویل کا بولنا۔

کویلو۔ کویلی۔ (کوئے۔ لو۔ کوئے۔ لی) (ق) (۱۰ مرث) کچھریل۔

# ک۔ ۵

کہ۔ (ف) (۱۵) بیان کے لیے نیز "جو" کی بجائے جو بیان کے موقع پر آتا ہے

(۲) علت۔ سبب۔ (۳) ناگاہ۔ دفعہ (۴) بمعنی یا۔

کہ۔ (ف) (صفت) چھوٹا۔ کم تر۔ ادنیٰ۔

کہ تر۔ (کہتر) (ف) (صفت) بعض [ زیادہ چھوٹا۔ ادنیٰ۔ بہتر کیفیت۔

کہترین۔ (کہترین) (ف) (صفت) (کفیل) [ سبب سے چھوٹا۔ سبب سے حقیر۔

کہ و مہ۔ (ف) (صفت) چھوٹا بڑا۔ خورد و کلاں۔ خاص و عام۔ بہتر۔

کہ۔ (ف) (۱۔ مذ) اکاہ کا صفت۔



سی پیدا کر دیتے ہیں۔  
 کہہ را۔ (د۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کا ایک خاص رنگ۔ کیت رنگ۔  
 کہہ را۔ (د۔ ۱۔ مذ) گھوڑے کا ایک خاص رنگ۔ کیت رنگ۔  
 کہہ رام۔ (د۔ ۱۔ مذ) رام [ مذ ] رونا۔ واویلہ۔ آہ و نالہ۔ آفت۔ قیامت۔  
 شہزادہ چمنیا۔ (۱۔ محاورہ) ماتم ہونا۔ رونا پینٹا پڑنا۔ شور و شیون ہونا۔  
 آفت پر پا ہونا۔  
 کہہ روا۔ (د۔ ۱۔ مذ) کہہ راوں کا ناچ اور گانا۔ وہ گانا جو بظاہر نہیں  
 جمع کے وقت گایا کرتی ہیں۔

کہہفت۔ (د۔ ۱۔ مذ) غار۔ گڑھا۔ (۲) وہ کھود جس میں اصحاب کہف  
 جا کر سوئے تھے۔  
 کہہل۔ (د۔ ۱۔ مذ) ادھیڑ۔ میانہ سال۔ نہ بڑھا نہ جوان۔  
 کہہلا بھیجنا۔ (۱۔ محاورہ) کہہ۔ لا۔ بھیج۔ نا [ دھ۔ مص ] پیغام بھیجنا۔ بلا  
 بھیجنا۔

کہہلانا۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] دوسرے شخص کی معرفت پیغام دینا۔  
 لینا۔ (۳) دوسری دفعہ پھووانا۔ (۴) مشہور ہونا۔ نامور ہونا۔  
 کہہلوانا۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] دیکھنے کا کہہلانا۔ مل۔ مل۔  
 کہہن۔ (د۔ ۱۔ مذ) کہہن [ دھ۔ مص ] کہنے کا دھنگ۔ طرز گفتار۔ کہاوت۔  
 قول۔ بچن۔ بات۔ بقولہ۔

کہہن سال۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] کہنے سال خوردہ۔  
 کہہن سالی۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] بڑھا پیا۔ پیری۔ منیعنی۔  
 کہہنا۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] بیان کرنا۔ زبان پر لانا۔ (۲) کھولنا۔  
 ظاہر کرنا۔ (۳) اطلاع دینا۔ خبر کرنا۔ (۴) نام رکھنا۔ (۵) بڑا کہنا۔  
 گالی دینا۔ (۶) شعر کہنا۔ (۷) سمجھانا۔ نصیحت کرنا۔ (۸) تشبیہ کرنا۔  
 کان کھولنا۔ (۹) مذکر۔ قول۔ کہاوت۔ (۱۰) ذکر۔ بیان۔  
 (۱۱) نصیحت۔ پند۔ (۱۲) حکم۔ ارشاد۔ فرمان۔ (۱۳) گفتگو۔ بات چیت۔  
 (۱۴) جواب دینا۔ (۱۵) عرض۔ (۱۶) روایت بیان کرنا۔ (۱۷) شکوہ کرنا۔

(۱۸) پیغام دینا۔  
 کہہنا بجا لانا۔ (۱) محاورہ) حکم کی تعمیل کرنا۔  
 کہہنا لانا۔ (۱۔ محاورہ) بات نہ مانا۔  
 کہہنا سننا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) بھگانا۔ درغلانا۔ (۳) گالی گلوچ کرنا۔ بڑا بھگانا۔  
 (۴) دخل۔ رسائی۔ پہنچ۔ (۵) حکم۔ اختیار۔  
 کہہنا کرنا۔ کہہنا ماننا۔ (۱۔ محاورہ) حکم بجا لانا۔ کہنے پر چلنا۔ تعمیل ارشاد کرنا۔  
 بات ماننا۔

کہنے پر جاننا۔ (۱۔ محاورہ) کہا ماننا۔ کسی بات کا خیال کرنا۔ کسی بات کا  
 یقین کرنا۔  
 کہنے سے بات چلانی ہو جاتی ہے۔ (۱۔ مثل) مُتہ سے نکالی ہوئی بات  
 پر قابو نہیں رہتا۔  
 کہنے سے ضد سوا ہوتی ہے۔ (۱۔ مثل) آدمی کو جس قدر سمجھاؤ اسی قدر

زیادہ جھٹ کرتا ہے۔  
 کہنے مٹنے میں آجانا۔ (۱۔ محاورہ) لگائی جھجائی پر عمل کرنا۔  
 کہنے کو۔ (۱۔ تابع فعل) (۲) نام کو۔ برائے نام (۳) عیب لگانے پانکالنے کر۔  
 کہنے کو بات رہ گئی۔ (۱۔ مثل) وقت نکل گیا۔ شکوہ شکایت اور گلہ بانی  
 رہ گیا۔  
 کہنے کو مُتہ میں زبان رکھتے ہیں۔ (۱۔ محاورہ) (۲) سوال کا جواب دے  
 سکتے ہیں۔ جیسا کہو گے ویسا سونو گے۔ (۳) برائے نام زبان ہے گویا بی  
 کے قابل نہیں۔

کہنے کی بات نہیں۔ (۱۔ مثل) کہنے کے قابل نہیں بلکہ کہا نہیں جاسکتا۔  
 مشکل ہے۔  
 کہنے کی باتیں ہیں۔ (۱۔ محاورہ) خالی باتیں ہی باتیں ہیں۔ صرف زبانی  
 جمع خرچ ہے۔ عمل میں لانا مشکل ہے۔  
 کہنے میں۔ (۱۔ تابع فعل) (۲) میطیع۔ فرمانبردار۔ (۳) قابو میں۔ بس میں۔  
 کہنے میں آجانا۔ (۱۔ محاورہ) بھگانے میں آجانا۔ دھوکے میں آجانا کسی  
 بات کا اعتبار کر لینا۔ کہے کا یقین کر لینا۔

کہنے میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بس میں ہونا۔ اختیار میں ہونا۔  
 کہنگی۔ (کہن۔ گی) [ دھ۔ ۱۔ مٹ ] آپرانا میں۔ بڑھا پیا۔ پیری۔ قدامت۔  
 کہنتہ۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] صفت [ کہنا۔ ویرینہ۔ سال خوردہ۔  
 کہنتہ مشق۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] مشق۔ تجربہ کار۔  
 کہنتی۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] [ دھ۔ مص ] کھلائی اور بازو کا جوڑ۔  
 کہنتی مارنا۔ کہنتی چلانا۔ (۱۔ محاورہ) کہنتی کی ضرب لگانا۔ کہنتی سے ہٹانا۔  
 کہنو۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] [ دھ۔ مص ] کوہل کی آواز۔  
 کہنونا۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] [ دھ۔ مص ] دیکھنے کا کہنونا۔

کہوں کی سُننے رات کی۔ کہو کھیت کی سُننے کھلیان کی۔ (۱۔ مثل)  
 سوال کچھ جواب کچھ۔ سوال کے برخلاف جواب دینا۔  
 کہوں کُت۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] [ دھ۔ مص ] آغاز پیری۔ بڑھا پیا  
 کی شروعات۔  
 کہوں تو ماں ماری جائے نہ کہوں تو باوا کُتا کھاتے۔ (۱۔ مثل)  
 اُس موقع پر بولتے ہیں حسب کسی بات کے کہنے اور نہ کہنے میں  
 دونوں طرح خوابی پیدا ہونے کا ڈر ہو۔

کہی۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] [ دھ۔ مص ] بات۔ کہا۔  
 کہی بدی۔ (۱۔ مٹ) قول و قرار۔ باہمی عہد و پیمان۔  
 کہی سنی۔ (۱۔ مٹ) گوگوں کا کہنا سننا۔ درغلانا۔ بھگانا۔  
 کہے جانا۔ (۱۔ محاورہ) لگانا۔ (کوئی بات کہنا بار بار کہنا۔)  
 کہے دینا۔ (۱۔ محاورہ) کسی بات سے خبردار کرنا۔  
 کہے مٹنے سے۔ (۱۔ تابع فعل) سمجھانے جھانے سے۔  
 کہے میں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بس میں ہونا۔ اختیار میں ہونا۔  
 کہیں۔ (د۔ ۱۔ مذ) [ دھ۔ مص ] بہت چھوٹا۔

کہیں کیا۔ (۱۔ روزمرہ) کیا شکایت کریں۔ کیا بیان کریں۔

کہیں کچھ کر کے کچھ - (۱- مثل، ان کی بات کا اعتبار نہیں - کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں - کہیں - دکن (پٹنہ) [۷- تابع فعل] کسی جگہ - جائے - جا - دوسری جگہ - اور جگہ - (۲- کسی طرف - کسی جانب - (۳- شاید - ایسا نہ ہو - کہیں اور - (۱- تابع فعل) کسی اور جگہ - دوسری جگہ - کہیں اوس سے پیاس بجھتی ہے - (۱- مثل، تھوڑی چیز کسی طرح کافی نہیں ہو سکتی - کہیں بوڑھے طوطے بھی پڑھتے ہیں - (۱- مثل، زیادہ عمر کا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا - کہیں پاؤں رکھتے ہیں کہیں پڑتا ہے - (۱- مثل) نشہ یا ضعف کی یہ حالت ہے کہ قدم لڑکھواتے ہیں - کہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں - (۱- مثل، بہت جرم ہے - بالکل بگڑ نہیں - کہیں دانی سے پیٹ چمپتا ہے - (۱- مثل، خاص لوگوں سے راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا - کہیں ڈوبے بھی ترسے ہیں - (۱- مثل) بگڑوں کا سنورنا و شوار ہے - کہیں سنا ہے - (۱- مثل) تعجب کی بات ہے - کہیں سے - (۱- تابع فعل) کسی جگہ سے کسی مقام سے - کہیں کا کہیں - (۱- تابع فعل) اظہار بقید و فرقی عظیم کے موقع پر بولتے ہیں کہاں کا کہاں - کہیں کا نہ رہنا - (۱- محاورہ) کسی جگہ اور کسی موقع کے قابل نہ رہنا - ورنہ دینا سے جانا - کسی کام کا نہ رہنا - کسی قابل نہ رہنا - محض ملتا ہوا جانا - کہیں کا ہوا رہنا - (ہو جانا) - (۱- محاورہ) کسی جگہ رہ پڑنا - جہاں جانا کی جگہ کا ہونا - جا کر واپس نہ جانا - کہیں کہیں - (۱- تابع فعل) بہت کہ کسی کسی جگہ - کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا - جہاں مٹی نے گنبد جوڑا - (۱- مثل) بے میل رشتہ جتانے کے موقع پر بولتے ہیں - کہیں گرجیں کہیں برسیں - (۱- مثل) ایک کا غصہ دوسرے پر نکالنا - کہیں ناشن سے بھی گوشت جھدا ہوا ہے - (۱- مثل) اپنوں سے چھوڑنا شکل ہے - رشتہ کسی طرح نہیں چھوڑتا - اپنوں سے اپنے نہیں چھوٹ سکتے - کہیں نہ کہیں - (۱- تابع فعل) کسی نہ کسی جگہ - ضرور - کسی نہ کسی مقام پر - کہیں نہیں - (۱- تابع فعل) کسی جگہ نہیں - کسی موقع پر یا مقام پر نہیں - بالکل پتہ نہیں - کہیں ہاتھوں کی لکیر بھی مٹی ہیں - (۱- مثل) کہیں تقدیر بھی خف کرتی ہے -



کھا بڑنا - (۱- محاورہ) غضب کرنا - خاموش ہو جانا - برداشت کرنا - جواب

نر دینا - کھا بیٹھنا - (۱- محاورہ) رقم دیا لینا - کھا جانا - (۱- محاورہ) ہڑپ کر جانا - بھل جانا - (۲- نہیں کرنا - (۳- صرف ہو جانا - (۴- اُجاڑ دینا - (۵- کسی کو غصے کی نظر سے دیکھنا - (۶- چھا ڈالنا - کھا کے ڈکار نہ لینا - (۱- محاورہ) پرایا مال بالکل ہتیم کر جانا - کھا بڑ - (کھا - بڑ) [۷- صفت] اونچا نیچا - ناہموار - کھا بڑ - (۱- مثل) ٹھیکری - کھانت - (۱- مثل) وہ میلا باگھو راجے گڑھا کھو دکر دبا رکھتے ہیں اور کچھ عرصہ میں نکال کر کھیتوں میں ڈالتے ہیں - (۲- بوسیدہ اور گلی سڑی چیزیں کھاؤ - کھانا - (کھانا) [۷- ۱- مذ] حساب کی کتاب - روزنامہ - لیکھا - مہی - دھالین دین - کھانا مہی - (۱- مثل) ہراسامی کے لیے ملندہ حساب کی کتاب - کھاتے پڑنا - (۱- محاورہ) حساب میں درج ہونا - روزنامہ سے کچی بھی پڑھا جانا - کھاتا پیتا - (کھاتا - پیتا) [۷- صفت] خوش حال - آسودہ حال - نمر قرہ الحال - کھاتا ڈالنا - (۱- محاورہ) کسی سے لین دین جاری کرنا - کھاتری - (کھات - ری) [۷- ۱- مثل] دریا کے کنارے کی فصل - کھانگ - (۱- مثل) بُرائی - موشنی - کھانگی - (کھات - گی) [۱- مثل] کھانا - خوراک - غذا - کھاتی - (کھا - تی) [۷- ۱- مذ] بڑھتی - سجاؤ - کھاتے پیٹتے لائیں مارنا - (۱- محاورہ) آسودگی میں بھی قسمت کا شاکی ہونا - کھاٹ - (۱- مثل) چار پائی - پنگڑی - کھاٹ پر پڑ کے کھانا - بیاری پر اٹھنا - بیاری میں صرف ہونا - بیاری کھاٹ پڑنا - (کھاٹ سے لگ جانا) (۱- محاورہ) بیار ہو کر چار پائی پر پڑنا - صاحب فرارش ہونا - کھاٹ سے اُتار لینا - (۱- محاورہ) قریب مرگ آدمی کو چار پائی سے اُتار کر زمین پر ڈال دینا - تاکہ مرکز صحت نہ بن جائے - (ہندوؤں کا عقائد) کھاٹ سے لگ جانا - (۱- محاورہ) بیار ہو کر چار پائی پر پڑ جانا - بیاری کے باعث بہت کمزور ہو جانا - کھاٹ کھولا - (۱- مذ) استریسٹر - انگریز گنگو - مال اسباب - بوریا بندھنا - کھاٹ نکلنا - (۱- محاورہ) جنازہ نکلنا - ارضی نکلنا - مرنا - کھاج - (۱- مثل) کھلی - خارش - (۲) جماع کی خواہش - کھا جا - (کھا - جا) [۷- ۱- مذ] خوراک - غذا - (۲) ایک قسم کی مٹھائی - کھاؤ - (۱- مذ) دیکھیے کھات - (۲) پیشگی جو کاشت کار کو خوراک کے لیے دی جاتی ہے - (۳) کوڑا کرکٹ اور بوسیدہ اور گلی سڑی چیزیں جو کھیت میں ڈالتے ہیں -



کھانے کو اونٹ کھانے کو بچوں - کھانے کو شیر کھانے کو بکری - (ش)، کھانے میں سب سے زیادہ اور زبردست، کھانے میں سب سے کم اور پست -

کھانے کو سبم اللہ کھانے کو استغفر اللہ - (۱۰) ش، کھانے میں چٹنی اور کام کاج میں لستی کا اظہار - کام چور -

کھانے کو دوڑنا - (۱۰) محاورہ، ۱۵) ہمزایا سے پیش آنا - (۱۰) ڈرانا - (۱۰) کاٹ کھانے کو دوڑنا -

کھانے کے دانٹ اور چہرے دکھانے کے اور - (۱۰) ش، اظہار باطن کے خلاف ہے۔ قول کچھ ہے عمل کچھ -

کھانپ - (۱۰) مٹ، چھانک - کھڑا - کھانچا - (۱۰) مٹ، چا، [۱۰-۱۰] مذ، ۱۵) مرغیوں کے بند کرنے کا اونچا ٹوکرا ٹپا -

۱۵) چھار، خزان، خزانچہ - (۱۰) وقفہ - ویر - ڈھیل - (۱۰) فرق - تباہ - (۱۰) مگر کھا ہورک یا راستے میں ہوں -

کھانچا پڑنا - تسلسل میں فرق ہونا - وقفہ ہونا - ناخوش ہونا - کھاندنا - (کھاند - نا) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) ایک جگہ سے کھو کر دوسری جگہ ورت لگانا - (۱۰) درخت لگانے کے لیے گڑھا کھودنا -

کھانڈ - (۱۰) مٹ، پھینک - شکر سفید - کھانڈا - (۱۰) مٹ، [۱۰-۱۰] مذ، ۱۵) ایک قسم کی سیدھی دورخی تلوار تینہ - (۱۰) پھلی کا تھک - (۱۰) قصائی کا ہنڈا -

کھانڈا بکنا - (۱۰) محاورہ، تلوار چلنا - شمشیر زنی ہونا - جنگ ویدل ہونا - کھانڈے کی دھار پر چلنا - (۱۰) محاورہ، خطرناک کام کرنا -

کھانٹنا - (۱۰) مٹ، [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) کھانسی کی آواز نکالنا - کھول کھول کرنا - کھانٹنا -

کھانسی - (۱۰) مٹ، [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) سرف - سُعال - خارش گلو - کھر کھر - کھول کھول -

کھانکڑ - (۱۰) مٹ، خشک - ٹوکھا ہوا - وہ چیز جو بہت خشک ہو گئی ہو - کھانکھ - (۱۰) مٹ، خندق - کھائی -

کھانک - (۱۰) مذ، ہاتھی یا سونے کے باہر نکلے ہوئے دانٹ - کھاؤ - (۱۰) مذ، [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) پرتھو - بہت کھانے والا پیٹھ - چٹورا - (۱۰) رشوت خورد - (۱۰) بہت خرچ کرنے والا -

کھاؤ اڑاؤ - (۱۰) مٹ، فنون خرچ - مصروف - چٹورا - تن پرور - کھاؤ میت - (۱۰) مٹ، کھانے پینے کا درست - مطلب کا یار -

مطلب کا آشنا - خود غرض - کھانے بکری کی طرح - شوکے گڑھی کی طرح - (۱۰) ش، بہت کھا کر ڈبلا نظر آنے والے کی نسبت بولتے ہیں -

کھانے پر کھایا وہ بھی گنویا - (۱۰) ش، زیادہ ترس کرنے والا پہلا بیج جتنا بھی کھو بیٹھا ہے -

کھانے جاتا - (۱۰) مٹ، [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) اس موقع پر بولتے ہیں جب کسی چیز سے بے مددغوف معلوم ہوتا ہو - (۱۰) تقاضا کر کے سنانا -

تھک کرنا -

کھائیں تو کھی سے نہیں جائیں جی سے - (۱۰) ش، ہوتو اچھا ہونہیں تو بھوکا مزا منظور ہے -

کھائے من بھاتا پھینے جگ بھاتا - (۱۰) ش، جس چیز کو بھی چاہے وہ کھائی چاہیے، لباس ایسا پہننا چاہیے جو رواج کے مطابق ہو -

کھایا پیا اگل دینا - (۱۰) محاورہ، ۱۵) عمر بھر کی کھائی پیش کر دینا - (۱۰) قے کر دینا - کھایا پیا ایک نہ لگنا - (۱۰) محاورہ، خوراک کا جزو و بدن نہ ہونا - روز بروز ڈبلا اور لاغر ہوتے جانا -

کھایا پیا نکالنا - (۱۰) محاورہ، [کناٹیا] خوب پھینا - ایسی محنت لینا کہ آڑی بے حد تھک جائے -

کھایا ہوا اگلنا پڑا - (۱۰) مٹ، [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) جو رقم ماری تھی وہ دینی پڑی - کھتا - (کھت - با) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) بایاں - اگلا - چپ - (۱۰) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) ہاتھ سے کام کرنے والا -

کھٹ جانا - کھٹنا - (کھٹ - جانا - نا) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) گھس جانا - گڑھا جانا - چھب جانا - (۱۰) سما جانا - پسند خاطر ہونا - نقش ہونا - (۱۰) دل نشین ہونا -

کھٹ کھٹ - (۱۰) مٹ، [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) ختم دار - کھٹاے - (کھ - با) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) چھب والے - بانگے - تر چھے کھتی - (کھت - بی) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) کھٹا کی تائیت -

کھٹاٹا - (کھ - پا) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) بانس کی تیلی - کھٹاچ - (کھ - پاچ) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) بانس کا کھڑا - چھانس - (۱۰) مٹ، ۱۵) نہایت ڈبلا پتلا آدمی -

کھپا دینا - کھپانا - (کھ - پا - دے - نا - کھ - پا - نا) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) برتنا صوت کرنا - کام میں لانا - (۱۰) مٹ، ۱۵) کھلانا - تحلیل کرنا - (۱۰) کام تمام کرنا - (۱۰) تباہ کرنا - برہادر کرنا - (۱۰) مٹ، ۱۵) کھونا - گھونا - (۱۰) مٹ، ۱۵) جذب کرنا -

کھپانا - (۱۰) مٹ، [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) سمانا - بھڑنا - کھپت - (کھ - پت) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) صرف - خرچ - گھٹاٹس - گنار - کھائی -

کھپت - (کھت - پت) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) صرف - خرچ - گھٹاٹس - گنار - کھائی - کھپٹ - (کھت - پت) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) صرف - خرچ - گھٹاٹس - گنار - کھائی -

کھپٹا - (کھت - نا) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) گڑھی یا اینٹ کا بنایا ہوا ٹکڑا - (۱۰) کچے آم کا خشک کیا ہوا ٹکڑا -

کھچ - (کھ - پچ) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) دیکھنے کھچا - کھچا - (کھت - چا) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) گڑھی کا کٹ گیر -

کھچنی - (کھت - چنی) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) گود - نل - آغوش - کھچی - (کھ - پچ - چنی) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) بانس کا چہرا ہوا ٹکڑا - بانس کی تیلی یا پٹی - (۱۰) مٹ، ۱۵) لاغر - ڈبلا - پتلا -

کھچتر - (کھت - پتر) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) کھوپڑی - سر کی ڈھی - (۱۰) تونبی - تونے کا بنا ہوا برتن - (۱۰) مٹ، ۱۵) خون کی حدیث یا قربانی جو دینا کو چڑھائی جاتی ہے - (۱۰) مٹ، ۱۵) کھول (ق) -

کھچرا - (کھت - را) [۱۰-۱۰] مٹ، ۱۵) چھال - چھکا - پوست - (۱۰) چھانک -

تماش - (۲) مٹی کا ٹھیکڑا جو کھیر ل پر پکچایا جاتا ہے (۳) ایک قسم کا کھڑا جو  
 کھیروں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ شرنسری (۵) پورے پیل کا تیز  
 کھیری - (دکھت - ری) [۱- مرث] مٹی کا چھوٹا ٹھیکڑا (۲) چھوٹا ٹھیکڑا جس پر  
 دوئی پجاتے ہیں۔  
 کھیری ٹمنہ میں لگانا - (۱) محاورہ) تہمت لگانا۔ رُسا کرنا۔  
 کھیر ل - (دکھت - ری) [۱- مرث] کھیروں سے چھانی ہوئی چھت  
 کھپ کھپاٹ - (ق - ۱) مرث) غصتہ - رشک -  
 کھپکھپانا - (دکھت - کھ - پانا) [ق - ۱] مرث) غصہ میں آنا۔ رشک و حسد  
 کرنا۔ (۲) پھیر کرنا۔ ٹھننا۔  
 کھپلا - (دکھت - لا) [۱- مرث] دیکھنے کھپنا۔ (۲) کھڑنڈ۔  
 کھپنا - (دکھت - نا) [۱- مرث] صوت ہونا۔ صرخ میں آنا۔ (۲) سانا۔ اٹنا۔  
 کسی چیز کا کسی چیز کے اندر آجانا۔ (۳) جذب ہونا۔ شوکنا۔ خشک  
 ہونا۔ (۴) بچھا ہونا۔ فروخت ہو جانا۔ (۵) کھٹنا۔ تحلیل ہونا۔ (۶) کام  
 آنا۔ مارا جانا۔ (۷) سائی ہونا۔ گزر ہونا۔  
 کھتا - (دکھت - تا) [۱- مرث] وہ گڑھا جس میں غلہ بھر کر رکھتے ہیں۔ کھتی -  
 (۲) ذریعہ - ڈھیر - (۳) خزانہ - گنجینہ۔  
 کھتر - (ق) خاطر۔  
 کھتر - (ق - ۱) مؤنث) جنگ - رزم گاہ۔  
 کھتر - (دکھت - را) [۱- مرث] کونہ - گوشہ - (۲) [صفت] جس کے ٹمنہ  
 پر سچھک کے دلج ہوں۔  
 کھتری - (دکھت - ری) [۱- مرث] [۱] کھتری کی تانیٹھ - کھری  
 کی جو رو - (۲) کھتری قوم کی عورت۔  
 کھترتا - (دکھت - رزم) [۱- مرث] کھتریوں کی برادری۔  
 کھتری - (دکھت - ری) [۱- مرث] ہندوؤں کی ایک قوم۔  
 کھتونی - (دکھت - تو) [ق - ۱] مرث] گاؤں کی زمین کا حساب کتاب مع  
 کیفیت تقسیم وغیرہ۔  
 کھتونی عام - (۱) مرث] ایک کتاب جس میں سیاہی کی ہر رقم درج ہوتی  
 ہے اور پورا پول کے پاس رہتی ہے۔  
 کھتی - (دکھت - تی) [۱- مرث] [۱] کھتا۔  
 کھتی - (دکھت - تی) [۱- مرث] روپے پیسے جمع کرنے کی گولک - خزانہ۔  
 دولت۔  
 کھتیانا - (دکھت - یا) [۱- مرث] روزانہ سے نکال کر کھاتے میں پٹھنا۔  
 کھاتے میں جمع کرنا۔  
 کھٹ - (۱- مرث) چیزوں کا باہم ٹکرانے کی آواز۔  
 کھٹ پٹ - (۱) [د] جلد جلد چلنے کی آواز۔ (۲) متواتر ٹکرانے کی آواز۔  
 (۳) لڑائی جھڑائی۔ اُن بن۔ ناچاتی۔  
 کھٹ چھٹ کرنا - (۱) محاورہ) فتنہ و فساد برپا کرنا۔  
 کھٹ پٹ ہونا - (۱) محاورہ) لڑائی جھگڑا ہونا۔  
 کھٹ کھٹ - (۱) دو چیزوں کے باہم ٹکرانے، ٹوٹے جانے یا بچنے

کی آواز۔ (۲) جھگڑا۔  
 کھٹ مٹھا - (۱) [صفت] کھٹا مٹھا۔  
 کھٹ - (۱- مرث) کھٹا کھٹا کھٹت۔  
 کھٹ مٹھا - چارپائی مٹینے والا۔  
 کھٹ مٹھا - (۱) کھٹا مٹھا۔ (۲) ایک پیل جو ڈالتے میں کھٹا مٹھا ہوتا ہے  
 کھٹ - (دس - صفت) سچہ شش۔  
 کھٹ راگ - (دس - ۱) [د] [۱] چھ راگ - بھیرن - مالکوس - سری - بیگم۔  
 ہنڈول معاورد ویک - (۲) جھگڑا۔ ٹنٹا۔ بکھیرا۔ تفسید۔ عذاب۔  
 کھٹ راگ میں پڑنا - (۱) محاورہ) بکھیرے میں پڑنا۔ فضول اور بے کڑ  
 کام میں پھنستا۔ جھیلے میں پڑنا۔ جنہاں میں پڑنا۔  
 کھٹ - (۱- مرث) [۱] کسی چیز کے کھٹنے کی آواز۔ کھٹکا۔ بچوں کے یا کسی  
 توڑتے وقت گھٹنے کے نام کو اوپر کے دانت سے کھٹ کر  
 نکلنے کی آواز۔ یعنی یاری کٹ  
 کھٹ بڑھی - (۱- مرث) کھٹ پھوڑا۔ ہر ہر۔ ایک ایسی چرخ والا  
 پر ہر ہر جو درخت کھود کر اس کے اندر اپنا گھر بنا کر رہتا ہے۔  
 کھٹا - (دکھت - ٹا) [۱- مرث] [۱] ایک ٹریش پھل۔ گھٹل - (۲) [صفت]  
 ٹریش۔  
 کھٹا چوک - (۱) صفت) نہایت ٹریش۔ بہت کھٹا۔  
 کھٹا کھا رہنا - (۱) محاورہ) کسی سے ناراضگی ہونا۔ عشا ہونا۔ خفا ہونا۔  
 کھٹا مٹھا - (۱) صفت) کھترش کھترش۔ کھٹ مٹھا۔  
 کھٹا مٹھا ہونا - (۱) محاورہ) [۱] دل لپٹانا۔ لالچ ہونا۔ منہ میں پانی بھر  
 آنا۔ (۲) شکر رنجی ہونا۔ اُن بن ہونا۔  
 کھٹا ہو جانا۔ کھٹا ہونا - (۱) محاورہ) [۱] ٹریش ہو جانا۔ (۲) اچار کا تیار  
 ہو جانا۔ (۳) سر ہونا۔ (۴) بیزار اور متنفر ہو جانا۔  
 کھٹے میٹھے دن - (۱) محاورہ) بڑے دن - کڑوے کیلے دن۔ (۲) ایام صل۔  
 کھٹا پٹ - (دکھت - پٹ) [۱- مرث] [۱] اُن بن۔ لڑائی۔ ٹکرار۔  
 ناراضگی۔ ناچاتی۔ (۲) ہتھیاروں یا کسی چیز کے متواتر ٹکرانے کی آواز۔  
 کھٹا پٹی - (دکھت - پٹ) [ق - ۱] مرث] ہتھیاروں کا باہم ٹکرانا۔ (۲) لڑائی  
 جھگڑا۔ ٹکرار۔ جگاڑ۔ ناموافقت۔  
 کھٹا پٹی ہونا - (۱) محاورہ) اُن بن ہونا۔ ناموافقت ہونا۔ زنجبش ہونا۔  
 لڑائی ہونا۔ جھگڑا ہونا۔ شکر رنجی ہونا۔  
 کھٹاس - (دکھت - ٹاس) [۱- مرث] [۱] ترشی۔ کھٹائی۔ (۲) خشکی۔ ناراضگی۔  
 بد مزگی۔ کلفت۔ (۳) ایک قسم کا نیولا۔  
 کھٹا کا - (دکھت - ٹا) [۱- مرث] دو چیزوں کے ٹکرانے کی آواز۔ گرنے یا  
 ٹوٹنے کی آواز۔ کھرا۔  
 کھٹا ہونا - (ق - ۱) مرث] آزرہ ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔  
 کھٹائی - (دکھت - ٹا) [۱- مرث] [۱] ترشی۔ کھٹاس۔ کھٹاپن۔ (۲) کپے  
 آم کی شوگی ہوئی چھائیں۔ اجور۔  
 کھٹائی کھانا - (۱) محاورہ) [۱] ترشی کھانا۔ (۲) ترشی سے وضعت رکھنے والا۔



(۸) خانم ہونا۔ ڈورنا۔ وینا۔ کھینا۔ بکننا۔ چوکنا۔ (۹) ترو ڈورا اور ترو  
 کرنا۔ (۱۰) دل پراثر کرنا۔ (۱۱) جھلا گنا۔ کھٹنا۔  
 کھٹلنا۔ (۱۲) نکتہ۔ (۱۳) [میں] پرند کے بچے کا انڈے میں چونچ مار کر باہر  
 نکلنا۔ (۱۴) چھکا آتارنا۔  
 کھٹکھٹا۔ دکھٹ۔ کھٹا (۱۵) [مذ] جھگڑا۔ بھجھڑا۔ جھبھلا۔ (۱۶) کام۔  
 دھندا۔

کھٹکھٹانا۔ دکھٹ۔ کھٹا۔ نا۔ [میں] کھڑکھڑانا۔ دستک دینا۔  
 کھٹکھٹی۔ کھٹ۔ کھٹی۔ کھٹی۔ (۱۷) [میں] آہستی۔ کھٹکھٹی۔  
 کھٹکھٹی مار کر ہٹنا۔ (۱۸) [میں] دور سے تہمت مار کر ہٹنا۔ (۱۹)  
 کھٹکی۔ کھٹ۔ کھٹی۔ (۲۰) [میں] ڈور یا ناگے کو دانت سے کاٹ کر ٹوٹ جانے  
 کے قابل کر دینا۔

کھٹکی لگانا۔ (۲۱) [میں] ڈور کو دانت سے کاٹ دینا۔ ڈور میں دانتوں  
 سے نشان ڈال دینا۔  
 کھٹلا۔ کھٹ۔ لا۔ [میں] نا اتفاقی۔ لڑائی جھگڑا۔ (۲۲) رکاوٹ۔ (۲۳)  
 چیزیں جو قبضے یا ملکیت میں ہوں۔ (۲۴) مال و اسباب۔ (۲۵) سلمان سحر  
 (۲۶) سامان خانہ داری۔ (۲۷) محنت مشقت۔ (۲۸) کام دھندا۔ (۲۹) مشکل  
 کام۔ (۳۰) معاملہ مقدمہ۔

کھٹلے۔ کھٹ۔ لے۔ [میں] کان کے اوپر کے سوراخ جو عورتیں زبرد  
 سینے کے لیے چھدواتی ہیں۔  
 کھٹل۔ کھٹ۔ ل۔ ایک سیاہی مال سمن رنگ کا کیترا جو اکثر چارپائی  
 میں پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی کا خون پھر سٹا ہے۔  
 کھٹنا۔ کھٹ۔ نا۔ [میں] حاصل کرنا۔ فروخت کرنا۔  
 کھٹو۔ کھٹ۔ ٹو۔ [میں] کماؤ۔ کمانے والا۔ مخفی بیخفت کرنے  
 والا۔

کھٹوٹی پٹوٹی۔ کھٹ۔ ٹو۔ ٹی۔ پٹ۔ وا۔ ٹی۔ [میں] [میں] دیکھے  
 اڑائی کھٹوٹی۔  
 کھٹولا۔ کھٹ۔ ٹو۔ لا۔ [میں] [میں] چھوٹا پنکب۔ (۳۱) پالنا۔ جھولنا۔ چکر لانا۔  
 کھٹولنا۔ کھٹ۔ ٹول۔ ٹنا۔ [میں] [میں] کھٹولا۔  
 کھٹولی۔ کھٹ۔ ٹولی۔ [میں] [میں] [میں] چھوٹی سی چارپائی۔ کھٹیا۔  
 کھٹی۔ کھٹ۔ ٹی۔ [میں] [میں] کھٹا کی تائیت۔ (۳۲) [میں] [میں] بیزار۔  
 کھٹو۔ [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹی چھاپو سے بھی گئے۔ (۳۳) کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹی چیز کو جی چاہنا۔ (۳۴) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹی چھٹی بائیس سنہنا۔ (۳۵) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ کھٹ۔ یا۔ [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 چارپائی۔ (۳۶) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹیا پر بیٹھ کر کھانا۔ (۳۷) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا نکلنا۔ (۳۸) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹیا کا مادی۔ (۳۹) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا میں پڑنا۔ (۴۰) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۴۱) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا میں ڈالنا۔ (۴۲) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۴۳) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۴۴) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۴۵) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۴۶) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۴۷) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۴۸) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۴۹) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۰) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹیا۔ (۵۱) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۲) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۳) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۴) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۵) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۶) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۷) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۸) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۵۹) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۰) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹیا۔ (۶۱) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۲) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۳) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۴) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۵) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۶) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۷) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۸) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۶۹) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۰) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹیا۔ (۷۱) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۲) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۳) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۴) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۵) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۶) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۷) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۸) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۷۹) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۰) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹیا۔ (۸۱) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۲) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۳) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۴) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۵) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۶) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۷) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۸) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۸۹) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۰) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹیا۔ (۹۱) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۲) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۳) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۴) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۵) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۶) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۷) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۸) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۹۹) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۰) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

کھٹیا۔ (۱۰۱) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۲) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۳) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۴) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۵) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۶) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۷) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۸) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۰۹) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔  
 کھٹیا۔ (۱۱۰) [میں] [میں] کھٹی۔ [میں] [میں] کھٹی۔

**کچھری** - (کچھ - بڑی) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ایک عموماً کھجور والی اور چھال  
 ملا کر پکاتے ہیں۔ (۲) بیری کا پھول۔ (۳) ملی نلی اشتریاں اور روپے  
 (۴) خفیہ صلاح مشورہ۔ (۵) سیاہ اور سفید بال۔ (۶) خلط طہ۔  
 ملا جلا۔

**کچھری پکانا** - (۱) عمارہ) بیری کے درخت میں پھول آنا۔ (۲) پھی کے دوز  
 زہر کے لیے سیکے سے کچھری آنا۔

**کچھری پکانا** - (۱) عمارہ) وال اور چاول ملا کر پکانا۔ (۲) خفیہ صلاح مشورہ  
 کرنا۔ سازش کرنا۔

**کچھری پکانا** - (۱) عمارہ) کسی کام کے متعلق خفیہ صلاح مشورہ ہونا۔ کھسر  
 پھینکنا۔ چھپنا۔ چھپنے سے بچنا۔

**کچھری پکے کھد بڈھوں** - (۱) بٹل) فضول اور احمقانہ حرکت۔

**کچھری ڈوڑھی** - (۱) مٹھ) وہ ڈوڑھی جس میں کچھ سیاہ بال ہوں اور کچھ  
 سفید۔

**کچھری کھلتے پہنچا اترنا** - (۱) عمارہ) ناسخ کی اور سچوئی نزاکت جتنا۔  
 کمال نازک ہونا۔

**کچھری ہوجانا** - (۱) عمارہ) ۱۱) بالوں کا سیاہ اور سفید ہوجانا۔ (۲) گڈ گڈ  
 ہوجانا۔ بل بل جانا۔

**کچھ کچھ** - (کچھ - کچھ) [ھ - ۱ - مٹھ] کچھ میں پلنے کی آواز۔  
 کچھ کے بلنا۔ (۱) عمارہ) صاف دلی سے نہلنا۔

**کچھ کچھ** - (۱) مٹھ) دھکا پیل۔ کش کش۔ زیادہ آدمیوں کا ایک ہی چیز  
 کو اپنی طرف کھینچنا۔

**کچھنا** - (کچھ - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) کساہا۔ تننا۔ (۲) کھشنا۔ (۳) کنارہ کش  
 ہونا۔ کشیدہ ہونا۔ (۴) عرق نکلنا۔ (۵) عرصہ گزنا۔ طول چرنا۔ (۶)  
 اترنا۔ نقل ہونا۔ (۷) گراں ہونا۔ ہنگام ہونا۔ (۸) کشش ہونا۔

**کچھو آنا** - (کچھ - وا - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] کچھنا کا متعقہ

**کھدانا** - (کھ - دا - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] وہ گڑھا جہاں سے پکینی مٹی کھودے ہیں۔  
**کھدائی** - (کھ - دا - ای) [ا مٹھ] (۱) کھودنے کا فعل۔ (۲) کھدوانے کی آہٹ  
 (۳) کندہ کاری۔

**کھد پد** - (کھ - پد) [ھ - ۱ - مٹھ] کسی اناج کے ابلنے کی آواز۔ پکینے کا  
 شور۔

**کھد بدانا** - (کھ - ب - دا - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] ابلنا۔ پکنا۔ کھولنا۔  
**کھد بڈھی** - (۱) مٹھ) ابل پیل۔ ٹکروا نہ لیشہ۔ (۲) شوق و ہوس۔

**کھدر** - (کھ - در) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) موٹا۔ کھدر یا سفید ویسی کپڑا۔ (۲)  
 موٹا کھدرا۔

**کھدرا** - (کھ - را) [ھ - ۱ - مٹھ] کھدرا۔ ناہوار۔ اودھنا۔

**کھدڑنا** - (کھ - ڈڑ - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] ق۔ مٹھ] ابلنا۔  
**کھدنا** - (کھ - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) کندہ ہونا۔ کھودا جانا۔ (۲) نقش کیا جانا۔

(۳) اکھڑنا۔ مسار ہونا۔  
**کھدنی** - (کھ - نی) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) خلال۔ (۲) کھدائی۔ دولت کی

**کھٹیک** - (کھ - ٹیک) [ھ - ۱ - مٹھ] چھرا رنگنے والا۔ (۲) ہندوؤں کی  
 ایک قوم جس کا پیشہ عموماً ہر قسم کے جانور پالنے اور رکھنے کا ہے۔  
 اہیری۔

**کھج** - (کھ - ج) [ھ - ۱ - مٹھ] رنجیدگی۔ ملال۔ رنج۔ تنگی۔ ناراضی۔ چوڑچوڑ۔  
 کھجانا۔ (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] چھڑنا۔ چھیرنا۔ جلانا۔ ناراض کرنا۔

**کھجانا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔  
**کھجنا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔  
**کھجنا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔

**کھجنا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔  
**کھجنا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔

**کھجنا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔  
**کھجنا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔

**کھجنا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔  
**کھجنا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناراض کرنا۔

**کھجور** - (کھ - جور) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) عمارہ) (۲) درخت خرما۔ (۳) ایک قسم  
 کی مٹھانی جس پر کھجور کی مانند نشان ڈال کرتے ہیں۔

**کھجور چھری** - (کھ - چھ - ری) [ھ - ۱ - مٹھ] ایک قسم کا ریشی کپڑا جس پر کھجور کی ڈنڈوں  
 کے شاخ چھریاں بنی ہوتی ہیں۔

**کھجوروا** - (کھ - جو - وا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) کھجور۔ جس میں پیل نہیں لگتا۔  
**کھجوری** - (کھ - جو - ری) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) کھجور سے منسوب کھجور کی منج  
 کا۔ کھجور کی ٹہنی یا درخت کی مانند۔

**کھجوری چوٹی** - (کھ - جو - ری) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) کھجور سے منسوب کھجور کی منج  
 کا۔ کھجور کی ٹہنی یا درخت کی مانند۔

**کھچا** - (کھ - چا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) تنا ہوا۔ کسا ہوا۔ کھڑا ہوا۔ (۲) کشیدہ۔  
 ناراض۔ (۳) گراں۔ ہنگام۔

**کھچا جانا** - (کھ - چا - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) گراں ہوجانا۔ بھاڑ چڑھنا جانا۔ (۲) کشش  
 کے سبب کسی طرف چلا جانا۔

**کھچا چلا آنا** - (کھ - چا - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) عمارہ) کشش سے چلا آنا۔ (۲) مال کا تیزی سے چلا آنا۔  
**کھچا رہنا** - (کھ - چا - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) الگ اور دور دور رہنا۔ (۲) رکا رہنا۔ (۳)  
 آرزو رہنا۔ کشیدہ رہنا۔

**کھچا کھچا** - (کھ - چا - نا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) ناراض۔ کشیدہ خاطر۔  
**کھچا کچھ** - (کھ - چا - کچھ) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) صفت] خوب بھرا ہوا۔ بکثرت۔ کثرت سے۔  
**کھچا وٹ** - (کھ - چا - وٹ) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) تناوٹ۔ کساوٹ۔ (۲)  
 کشش۔ ہذب۔ (۳) رکاوٹ۔ کشیدگی۔ انقباض۔

**کھچا وٹ** - (کھ - چا - وٹ) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) تناوٹ۔ کساوٹ۔ کھچا وٹ۔ کشیدگی۔  
 کشش۔

**کھج جانا** - (کھ - جانا) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) آرزو اور خفا ہو کر ترک ملاقات  
 کرنا۔ (۲) کنارہ کش ہوجانا۔

**کھچوڑا** - (کھ - چو - را) [ھ - ۱ - مٹھ] (۱) نکین کھانا جن میں گیہوں اور تمام دالیں کھال کر عشرہ محرم  
 میں پکاتے ہیں۔



چار پائی جس پر کھچونا نہ ہو۔  
کھڑی چار پائی پر سو کے آتے ہوں۔ (۱۔ مثل) حیب کوئی شخص خواہ مخواہ  
بد مزاجی کی باتیں کرتا ہے تو اس سے کہتے ہیں۔ یعنی یہ بد مزاجی بد مزاجی  
کا نتیجہ تو نہیں ہے۔

کھڑی کھاٹ - (کھڑی - سے لا) [صفت] کھلی والا۔ ناراضی۔

کھڑے دام - (کھڑے - سے لا) [صفت] پوری قیمت۔  
کھڑے رہے - (کھڑے - سے لا) [صفت] اچھے رہے۔ فائدے میں رہے۔

کھڑیا - (کھڑیا - سے لا) [صفت] ایک قسم کی سفید مٹی۔ چاک۔

کھڑیا میں کوئلہ - (کھڑیا - سے لا) [صفت] ناموزوں اور بے میل بات۔

کھڑیا - (کھڑیا - سے لا) [صفت] کپڑا چننے کا کٹوری جیسا آلہ۔ (۲) گھٹنے  
کی چوٹی۔

کھڑیلہ - (کھڑیلہ - سے لا) [صفت] گھوڑے کے بال صاف کرنے اور  
گرد نکالنے کا آہنی کنگھا۔ کھڑکھا۔

کھڑ - (کھڑ - سے لا) [صفت] قیمتی موتی کا ریزہ۔ (۲) کالج کا ٹکڑا۔ (۳)  
گھاس۔

کھڑا - (کھڑا - سے لا) [صفت] سیدھا۔ اٹھا ہوا۔ قائم۔ (۳) کچھا۔  
اودھ گلا۔ (۴) کچی سلائی کیا ہوا۔ (۵) عمود۔ (۶) بغیر شائبہ کھیت۔

(۷) نصب۔ برقرار۔

کھڑا پانی - (کھڑا - سے لا) [صفت] وہ پانی جو بہتا نہ ہو۔ بند پانی۔

کھڑا پانی نہ پینا - کھڑے پانی نہ پینا۔ (۱۔ محاورہ) ترست چلا جانا۔ نورا  
چلا جانا۔ ذرا نہ ٹھہرنا۔ نہایت نفرت یا خشکی کے موقع پر بولا

کرتے ہیں۔

کھڑا پچھاڑیں کھانا - (۱۔ محاورہ) بچے کا شغف یا صند کے سبب اپنے  
آپ کو ہلکا کرنا۔ کھڑے ہو سو کر گر پڑنا۔ (۲) اچانک کوئی

صدرہ پہنچنا۔

کھڑا داؤں - قرار بازی میں وہ داؤں جو چلتے چلتے گیا جاتا ہے۔

آخری دانگ۔

کھڑا دونا - (۱۔ مذ) حضرت علی کریم التدریجہ کی نیاز جو مراد پوری  
ہونے پر فوراً دی جاتی ہے۔

کھڑا رکھنا - (۱۔ محاورہ) استاد اور تلامذہ رکھنا۔ (۲) حساب چلتا رکھنا۔  
باقی رکھنا۔ بے باقی نہ کرنا۔

کھڑا رہنا - (۱۔ محاورہ) حیرت یا محویت میں کھڑا رہ جانا۔

کھڑا رہنا - (۱۔ محاورہ) (۱) ٹھہرا رہنا۔ (۲) استادہ رہنا۔ (۳) منتظر  
رہنا۔ راہ نہ کھنا۔

کھڑا زبر - (۱۔ مذ) عربی رسم الخط میں وہ چھوٹا الف جو کسی حروف پر  
ڈال دیا جاتا ہے۔

کھڑا زبر - (۱۔ مذ) وہ زبر ہے یا تے جھول کی طرح پڑھا جائے۔

کھڑا کر کے دکھانا - (۱۔ محاورہ) مانگنے کے جواب میں گموٹھا کھڑا کر کے  
دکھانا۔ صاف انکار کرنا۔

کھڑا - (کھڑا - سے لا) [صفت] ناہموار۔ داندار۔ اونچا نیچا۔

کھڑا پن - (۱۔ صفت) ناہمواری۔ کھڑکھاہٹ۔ (۲) درشتی۔

کھڑسا - (کھڑسا - سے لا) [صفت] وہ موسم جس میں گرمی کے باعث  
گھاس وغیرہ میل جاتی ہے۔ (۳) نقطہ۔ کال خشک سالی۔

کھڑسیلا - (کھڑسیلا - سے لا) [صفت] کھلی والا۔ ناراضی۔

کھڑک - (کھڑک - سے لا) [صفت] وہ مکان جس میں چوپائے بند  
کیے جاتے ہیں۔

کھڑکھا - (کھڑکھا - سے لا) [صفت] کھڑا۔ ناہموار۔ (۳) [مذ] خرخرنا۔  
کھڑیا۔

کھڑگونیا - (کھڑگونیا - سے لا) [صفت] کینہ۔ کو عقل۔ سفد۔

کھڑل - (کھڑل - سے لا) [صفت] ایک قسم کی پتھر کی گوندی جو دوا میں  
پیسنے اور صل کرنے کے کام آتی ہے۔

کھڑل کرنا - (۱۔ محاورہ) کسی دوا کو کھڑل میں حل کرنا۔ خوب باریک کرنا۔  
کھڑلی - (کھڑلی - سے لا) [صفت] اچھریوں کو چارہ دینے کی جگہ۔

کھڑن - (کھڑن - سے لا) [صفت] سیاہ معلقہ جو طبلہ پر جاتے ہیں۔

کھڑنجا - (کھڑنجا - سے لا) [صفت] کھڑی ایٹھوں کا فرش۔ (۲) پتھر کا  
فرش یا سٹوک۔

کھڑنڈ - (کھڑنڈ - سے لا) [صفت] نزم کا انگہ۔ وہ خشکی جو زخم اچھا ہو جانے  
کے بعد اس کے اوپر جم جاتی ہے۔

کھڑنڈ بندھنا - کھڑنڈ جمانا۔ (۱۔ محاورہ) زخم کا انگوڑ بندھ کر اس پر خشکی  
آجانا۔ زخم کے اوپر پڑی بندھ جانا۔

کھڑنی - (کھڑنی - سے لا) [صفت] ایک درخت اور اس کا میٹھا پھل۔

کھڑوٹ - (کھڑوٹ - سے لا) [صفت] منڈی۔ وہ شہر جس میں منڈی ہو۔ (۲) داسن  
کوہ گاؤں۔

کھڑوچا - کھڑوچا - (کھڑوچا - سے لا) [صفت] روچ۔ روچ۔ (۱۔ مذ) خروش۔  
رگڑ۔

کھڑوچینا - (کھڑوچینا - سے لا) [صفت] نوچنا۔ پنجر مارنا۔

کھڑوٹٹ - (کھڑوٹٹ - سے لا) [صفت] [صفت] دیکھو کھڑوچا۔

کھڑی - (کھڑی - سے لا) [صفت] کھڑکی کا ٹائیسٹ۔ خالص۔ بے میل۔  
صاف۔ چوکھی۔ عمدہ۔ صاف گو۔

کھڑی بات - (کھڑی - سے لا) [صفت] بے لگاؤ بات، جس میں کسی کی  
ظرفداری نہ ہو۔

کھڑی بولی - (کھڑی - سے لا) [صفت] خالص زبان۔ (۲) کھسالی زبان۔

کھڑی سنانا - (۱۔ محاورہ) صاف صاف سنانا۔ لگی لپیٹ نہ رکھنا۔

کھڑی مزدوری چوکھا کام - (۱۔ مثل) نقد مزدوری دینے سے کام  
بہت اچھا اور جلد جاتا ہے۔

کھڑی - (کھڑی - سے لا) [صفت] جوتی کے نلے کا وہ حصہ جو اڑی کے  
نیچے رہتا ہے۔ جوتی کا وہ حصہ جہاں نعل لگاتے ہیں۔

کھڑی - (کھڑی - سے لا) [صفت] کھڑکی کا ٹائیسٹ۔ کھڑی چار پائی وہ

کھڑا کرنا - (۱- محاورہ) ، (۲) استناد کرنا ، اٹھانا ، سیدھا کرنا ، (۳) برپا کرنا ،  
(۴) ٹھہرانا ، روکنا ، (۵) جاری کرنا ، (۶) قائم کرنا ، (۷) کچی سلائی کرنا ، (۸)  
نصب کرنا ، گاڑنا ، (۹) گمانا حاصل کرنا -

کھڑا کھیت - (۱) نہ سبز کھیت چرا بھی کاٹنا نہ گیا ہو - (۲) لمبا میدان  
کھڑا کھیل - (۱) نہ ترتت کا معاملہ ، ہاتھوں ہاتھ کھلام -

کھڑا کھیں میں پڑنا - (۱) معاملہ جھیلے میں پڑنا ، فضول باتوں میں لگنا -  
کھڑا کھیں فرخ آبادی - دیکھیے کھرا کھیل -  
کھڑا نقشہ - (۱) نہ لمبا چہرہ -

کھڑا ہونا - (۱) اٹھنا ، استناد ہونا ، (۲) گھوڑے کا چراغ پا ہونا -  
(۳) برپا ہونا - بنیاد پڑنا ، (۴) ٹھہرنا ، سھتتا - (۵) گڑنا ، نصب  
ہونا - (۶) کنکاشی [ لڑنے پر آمادہ ہونا - (۷) حاصل ہونا - ہاتھ  
لگنا ، (۸) کسی سرکاری ادارہ یعنی آبپاشی وغیرہ کے لیے بطور امیدوار  
کھڑا ہونا -

کھڑے پاؤں - (۱) تابع فعل ، کھڑے کھڑے - فوراً ، اسی وقت - مرتب -  
کھڑے پاؤں بیچک دینا - (۱) محاورہ ، فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ  
شکل کش کی نیاز دلوانا - مرتب ادا کرنا - ہاتھوں ہاتھ فاتحہ  
یا نیناز دلوانا -

کھڑے پیر کا روزہ رکھنا - (۱) محاورہ ، برابر کھڑے رہنا - بیٹھے کانام  
ت لینا -

کھڑے ترڑے - (۱) تابع فعل ، کبھی کبھی گلبے گلبے -  
کھڑے رہ جانا - (۱) محاورہ ، محروم رہ جانا -  
کھڑے شوکھا کرنا - (۱) محاورہ ، کسی کے انتظار میں دیر تک کھڑے رہنا -

کھڑے کا کھڑا رہ جانا - (۱) محاورہ ، حیران رہ جانا -  
کھڑے کرنا - نقد کرنا ، اٹھانا ، حاصل کرنا ، جمع ہانا -  
کھڑے کھڑے - (۱) تابع فعل ، (۲) فوراً ، جلد ، شتاب ، اسی وقت -

(۳) ذرا کی ذرا - مخوڑی سعی دیکر کہ بے تاثیر - (۴) دیر تک کھڑے  
رہ کر - عرض تک انتظار کر کے -  
کھڑے کھڑے پھرنا - (۱) محاورہ ، مضطرب پھرنے کے قرار پھرنا - پیٹ  
پڑے پھرنا - نہایت مملانا - گھبرا یا گھبرا یا پھرنا -

کھڑے کھڑے ہو جانا - (۱) محاورہ ، ذرا کی ذرا ہو جانا - لمحہ بھر کو آجانا -  
مخوڑی سعی دیکر آجانا -

کھڑے گھاٹ کپڑے ڈھلوانا - (۱) محاورہ ، کھڑے کھڑے کپڑے ڈھلانا -  
کپڑے ڈھلنے کی جگہ جا کر کپڑے ڈھلوانا -

کھڑاڑا - (نق - ۱) نہ ڈرنا -  
کھڑا کا - (۱) نہ ڈرنا ، کا - (۲) نہ کھڑا ، کھٹکا -  
کھڑا کو - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑاؤں - (۱) نہ ڈرنا ، اول [ (۲) - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑ پڑ - (۱) نہ ڈرنا ، (۲) صفت [ مٹاپ کی ستوا تر آواز - کھٹ کھٹ -  
کھڑ پیچ - (۱) نہ ڈرنا ، پیچ - (۲) عیب ، نقص - جھجت -

کھڑ وا - (۱) نہ ڈرنا ، (۲) ہندو بچوں کے پاؤں کا زیور -  
کھڑی - (۱) نہ ڈرنا ، (۲) ایک قسم کی تیرالی جس میں سیدھے کھڑے  
ہو کر تیرتے ہیں - (۳) صفت [ کھڑی تاثیرت - استنادہ - اٹھنی  
جوتی - (۴) پیچ -

کھڑی اپڑی - (۱) صفت ، ایسی اپڑی جس میں نم نہ ہو -  
کھڑی بولی - (۱) صفت ، مردوں کے سب دلچسپی میں چونگٹنکوئی جاتی ہے -  
اس کو کھڑی بولی کہتے ہیں - (۲) گناہ و جینا کے دوا بے کی زبان -  
کھڑی چوٹ - (۱) تابع فعل ، فوراً ، اسی وقت - (۲) سیدھی چوٹ

کھڑیل - (۱) صفت ، خوبصورت -  
کھڑک - (۱) نہ ڈرنا ، کا - (۲) نہ کھڑا ، کھٹکا -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) نہ ڈرنا ، اول [ (۲) - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑ پڑ - (۱) نہ ڈرنا ، (۲) صفت [ مٹاپ کی ستوا تر آواز - کھٹ کھٹ -  
کھڑ پیچ - (۱) نہ ڈرنا ، پیچ - (۲) عیب ، نقص - جھجت -

کھڑیل - (۱) صفت ، خوبصورت -  
کھڑک - (۱) نہ ڈرنا ، کا - (۲) نہ کھڑا ، کھٹکا -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -  
کھڑکی - (۱) صفت ، مخڑا ، گھوڑا -  
کھڑوں - (۱) صفت [ کھڑی کی جوتی -

زبردستی لے لینا۔

کھسیانا - (دکھن - یا - نا) [ھ - صفت] رونی صورت کا۔ رو دینے والا چڑھا۔  
(۲) شرمندہ جھل - نام۔ محبوب۔

کھسیا کرنا - (۱) عمارت چٹانا - لڑانا۔ شرمندہ کرنا۔ شرم دلانا۔

کھسیانا ہو جانا - (۱) عمارت [ھ - صفت] روئے کو تیار ہو جانا۔ رو دینا۔ رو پڑنا،  
شرمندہ ہونا۔ نام ہونا۔

کھسیان پت - (ق - ۱) مرث (شرمندگی - ندامت

کھسیانی - (دکھن - یا - فی) [ھ - صفت] کھسیان کی تائینٹ۔

کھسیانی بی کھسیا نوچے - (۱) شل (شغے والا اور شرمندہ شخص دوسروں  
پر اپنی جھلاہٹ اور شرمندگی آتا رہتا ہے۔

کھسیانی ہنسی - (۱) مرث (وہ ہنسی جو حالت شرمندگی یا تہر و غضب میں  
ہو۔ زہر خند۔

کھٹا - (کھٹ - کا) [ھ - ۱] مذ [۱] خاک - پنجابی فوج کا وہ آدمی جسے غد میں  
میرکاری خاکی پرشاک ملی تھی۔ (۲) عیار - پڑانا۔ (ق)

کھٹل کھٹل - (کھٹ - کٹ - کھٹ - کٹ - کھٹ - کٹ) [ھ - صفت] کھوکھلا۔ خالی۔

کھٹھ - (۱) [ھ - صفت] کھوکھلا۔ خالی۔ (۲) تہی دست۔ بغلس۔ نادار۔

کھٹھارنا - (کھ - کھار - نا) [ق - مصل] [۱] زمین کو پتوں سے کھودنا۔ (۲)

کھینا۔ بخونی تلاش کرنا۔ (۳) معلوم کرنا۔

کھیکھیر - (کھ - کھیر - کھ - کھیر - کھ - کھیر) [ھ - ۱] مرث [رج - مصیبت -

مصیبت - زحمت - پینا - سوزت - محنت -

کھیکھیراٹھانا - (مصل مرکب) [۱] مصیبت جھیلنا۔ رنج و مصیبت ہونا۔

سختی برداشت کرنا۔

کھگ - (ھ - ۱) مرث، ایک قسم کی ہندو وانہ اونچی پگڈنڈی۔

کھل - (س - ۱) مرث، کھلی۔ تیل یا سرسوں کا پھوک۔

کھل کھل - (۱) عمارت [ھ - صفت] استمال خریدنے والے گاہک کو پڑانے کے

لیے کہتے ہیں۔ یعنی پتھر میں اس چیز کے کھلنے یا خریدنے کی لیاقت

اور حوصلہ نہیں، اس کی جگہ کھل خرید لے جو سستی ہوگی۔

کھل - (ھ - ۱) مرث، کھال کا منقہ - چڑا۔ پرست۔

کھل پاڑ - (۱) کھال ادھیڑنے والا۔ (۲) لینے کے لیے کھال تک میں سے

نکال لینے والا۔ (۳) بچ بخت۔

کھلا - (ق - ۱) مذ [۱] چاند کا لالہ۔ (۲) خرمن - اناج کا ڈھیر۔

کھلا - (کھ - لا) [ھ - صفت] [۱] کشادہ - وا - فراخ - چوڑا۔ (۲) ننگ - صاف۔

(۳) بے روک - آزادانہ - (۴) عام - مشہور - (۵) ظاہر - علانیہ۔

کھلا دشمن - ظاہری دشمن۔

کھلا ڈالا - (۱) صفت، بے تحلف - بے باک۔

کھلا کھلا - (۱) صفت صاف - کھرا کھرا۔ (۲) دور دور ناصحے سے۔ (۳) فراخ

کشادہ۔

کھلا - (۱) صفت، شگفتہ - خوش۔

کھل بازار کھلے بند - کھلے بندوں کھلے خزانے - (۱) صفت، کھلم کھلا۔

کھڑی سواری - (۱) عمارت (تھوڑی دیر کے لیے۔

کھڑی لگانا - (۱) عمارت کھڑے رہ کر تیزنا۔ کھڑی کی تیزائی تیزنا۔

کھڑی مسور - (۱) مرث، ثابت مسور - سالم مسور۔

کھڑی نیاز دینا - (۱) عمارت [ھ - صفت] مراد پوری ہونے پر فوراً نیاز دینا۔

کھڑی ہنڈی - (۱) مرث، وہ ہنڈی جس کا روپیہ ادا نہ ہوا ہو۔

کھڑی بچ - (کھ - بچ) [ھ - ۱] مرث [۱] خفیت زخم - کھروٹ -

(۲) کینہ - دشمنی - بغض - عداوت - (۳) نکتہ چینی - (۴) چھیر چھپا۔

بے جا کھار۔

کھڑی بچ رکھنا - (۱) عمارت [ھ - صفت] کینہ رکھنا۔ عداوت رکھنا۔

کھڑی بچ نکالنا - (۱) عمارت [ھ - صفت] عیب چینی کرنا - نقص نکالنا۔ (۲) دشمنی

کرنا۔ (۳) چھپ چھپا کرنا۔ (۴) نکتہ چینی۔ (۵) نکتہ چینی۔ (۶) نکتہ چینی۔

کھڑی بچیا - (کھ - بچ - یا) [۱] نکتہ چینی - سادہ - عیب بچ - دشمن - بیری -

مترق -

کھٹاٹ - (ق - ۱) مرث، کھوسٹ - بڑھی عورت۔

کھٹار - (کھ - سار - ق) [۱] مذ [بیکھے کو ہٹار۔

کھٹاری - (کھ - ساری) [ھ - ۱] مرث [۱] ایک قسم کا نڈ جس کی مال

کھاتے ہیں۔

کھٹانا - (کھ - سانا) [ھ - مصل] [۱] دیوار کوئی حصہ گزانا۔

کھٹنا - (کھ - ساں - وا) [ق - ۱] مذ [کندھا۔

کھٹ پھٹ - (کھٹ - پھٹ) [ھ - ۱] مرث [دیکھیں کھٹ پھٹ۔

کھٹا - (کھٹ - وا) [ھ - ۱] مرث [چھوٹی چھپک - دیکھیں خسر۔

کھٹ پھٹ - (کھ - پھٹ - پھٹ - سر) [ھ - ۱] مرث [۱] کانا پھوسا - مرگوشی۔

چیکے چیکے پائیں کرنا۔

کھٹانا - (دکھن - یا - نا) [ھ - مصل] [۱] ہٹانا - ہرکانا۔ (۲) روانہ کرنا۔

ٹالنا۔ (۳) الگ کرنا۔ غائب کرنا۔ (۴) چٹانا۔ (۵) ملتوی کرنا۔

کھٹک جانا - کھٹکنا (کھٹک - جانا - کھ - کھٹ - نا) [۱] عمارت [ھ -

۱] بڑک جانا۔ ہٹ جانا۔ (۲) چلا جانا۔ آٹھ بچا کر نکل جانا۔ پیچکے

سے نکل جانا۔ (۳) پھیل جانا۔ جگہ سے ہٹ جانا۔

کھٹک - (کھٹ - کھٹ) [ھ - ۱] مرث [کھاس کٹنے کی آواز۔

کھٹکھٹا - (کھٹ - کھٹ - کھ - سا) [ھ - صفت] کرکرا۔

کھٹکھٹا - (کھٹ - کھٹ - کھ - سا) [ھ - مصل] کرکرا۔

کھٹکھٹا ہٹ - (کھٹ - کھٹ - کھ - سا - ہٹ) [ھ - ۱] مرث [کھٹکھٹا

کرکرا ہونے کی کیفیت۔

کھٹکھٹا - (کھٹ - کھٹ - نا) [ھ - مصل] [۱] ہٹنا۔ کھٹکھٹا۔ جگہ سے

ہٹ جانا۔

کھٹوٹا - (کھٹ - سوٹ) [ھ - ۱] مذ [کشتی کا ایک داؤں جس میں حریف

کو اٹکے گھیٹ لیتے ہیں۔

کھٹوٹا - (کھٹ - سوٹ - نا) [ھ - مصل] [۱] نوچنا۔ بال اکھاٹنا۔ (۲)

علانیہ - ڈنکنے کی چوٹ - (۲) بے تکلف - آزادانہ ظاہر - (۳)  
 وہ شخص جو پابند نہ ہو -  
 کھلے بالوں - (۱) صفت، بال کھولے - بے حجابانہ -  
 کھلے بھواؤ - (۱) صفت، عام نرخ سے -  
 کھلے میدان میں - (۱) تابع فعل، اعلانیہ -  
 کھلابی - دکھ - لا - ب - لی، (۱) ص - (۱) مرث [ دیکھیے کھلابی -  
 کھلابانا - (۱) محاورہ، خوشی سے ہنسنے جانا -  
 کھلار - (دکھ - لاڑ) [ ۱-۱۰ مذ ] (۱) ڈھولان جگہ - (۲) خار - گرٹھا - تہہ -  
 کھلاڑ - (دکھ - لاڑ) [ ۱-۱۰ صفت ] آفاحشہ - مردوں کے ساتھ کھیلنے  
 والی بدکار عورت - (۲) [ مذ ] وہ شخص جو عیب شنی اور لہو ولوب  
 کی طرف مائل ہو -  
 کھلاڑ پن - (۱) صفت، مہنٹ، چھینال پن - چھینالا - شوخی، چھینل پن -  
 کھلاڑن - (دکھ - لاڑن) [ ۱-۱۰ صفت ] دیکھیے کھلاڑ  
 کھلاڑی - (دکھ - لاڑی) [ ۱-۱۰ صفت ] کوئی کھیل یا بازی جلتنے والا -  
 استاد - (۲) بخاری - جوا - کھیلنے والا - (۳) کھنڈرا - کھیل کود میں  
 مصروف رہنے والا -  
 کھلال - (قی - صفت) تریتر -  
 کھلا لا - (دکھ - لا - لا) [ ۱-۱۰ مذ ] بہت شور کرنے والی ندی، نالہ یا  
 چشمہ - (۲) سریر پانی ڈال کر نہانا -  
 کھلانا - (دکھ - لا - نا) [ ۱-۱۰ صفت ] تناول طعام کرنا - (۲) دعوت دینا -  
 روٹی کرنا - (۳) بھلانا - بچے کا دل خوش کرنا - (۴) شگفتہ کرنا -  
 (۵) دانہ دانہ الگ کرنا - (۶) مال چٹ کرنا - (۷) پٹوانا - (۸)  
 کیلیں کرنا یا پھلانا - (۹) خستہ کرنا - بھڑ بھڑ کرنا -  
 کھلاؤ - (دکھ - لا - او) [ ۱-۱۰ صفت ] دوسروں کو مال کھلانے والا - دیال -  
 سخی -  
 کھلائی - (دکھ - لا - ای) [ ۱-۱۰ صفت ] (۱) خرداک - خورش - (۲) خرداک  
 کی قیمت - (۳) بچوں کو کھلانے والی عورت - دایہ -  
 کھلائی پلائی - (۱) صفت، کھانے پینے کی قیمت -  
 کھلائے سونے کا نوالہ - دیکھیے شیر کی نظر - ڈار - نیش، اولاد کو کھلانے  
 تو حجب و خواہ، مگر ادب و تہذیب سکھانے کے لیے اپنا  
 رعب ضرور قائم رکھے -  
 کھلانے کا نام نہیں لگائے کا نام ہے - ڈار - مش، (۱) نیک کام  
 کی کوئی داد نہیں دیتا، مگر تری بات فوراً پکڑ لی جاتی ہے -  
 کھلابا - (دکھن - ب - لا) [ ۱-۱۰ صفت ] بے چین -  
 کھلابانا - (۱) صفت، کھولنا، اُبلنا، جوش میں آنا -  
 کھلابا ہٹ - (۲) صفت، ایک ٹکڑے میں دوسری ٹکڑے پیش آنے کی گھبراہٹ -  
 اضطراب -  
 کھلابی - (دکھن - ب - لی) [ ۱-۱۰ صفت ] (۱) ہل چل - ہنگامہ - فتنہ -  
 شور و شر - فتنہ و فساد - (۲) گھبراہٹ - اضطراب - بے قراری -

جلدی -  
 کھلابی پڑنا - کھلابی چمپنا - (۱) محاورہ، (۱) ہل چل ہونا - ہنگامہ برپا ہونا -  
 شور و شر ہونا - ہڑ چمپنا - (۲) گھبراہٹ ہونا - اضطراب اور بفراری  
 ہونا - جلدی پڑنا -  
 کھل بیٹھنا - (دکھن - بیٹھ - نا) [ ۱-۱۰ محاورہ ] (۱) اچھی طرح آرام سے  
 چار زانو ہو کر بیٹھنا - ولی کدورت ظاہر ہونا -  
 کھل پڑنا - (دکھن - پڑ - نا) [ ۱-۱۰ صفت ] بے تکلف ہو جانا - شرم کو  
 درمیان سے اٹھا دینا - (۲) کسی چیز کا کھل کر گر پڑنا -  
 کھلنا ہوا - (۱) صفت، موزوں - صاف -  
 کھل جا ستم ستم - (۱) مذ، جاؤ کے وہ الفاظ جن کے سونے سے خزانے کا  
 دروازہ کھل جاتا ہے - الفت لیلیٰ کی کہانی میں اس کا ذکر ہے -  
 کھل جانا - (دکھن - جانا) [ ۱-۱۰ صفت ] دیکھیے کھلنا -  
 کھل جانا - (۱) محاورہ، شگفتہ ہو جانا، عرش ہو جانا -  
 کھلاڑ - (دکھن - لڑ) [ ۱-۱۰ صفت ] (۱) وہ لڑھی عورت جس کے جسم پر گوشت  
 کی بجائے کھال ہی کھال ہو - (۲) بچہ سے کی گتھی -  
 کھلاڑی - (دکھن - لڑی) [ ۱-۱۰ صفت ] کھال کی تصغیر، پوست - چیرا - کھال  
 کھل کر (دکھ - دکھن - کر) [ ۱-۱۰ صفت ] (۱) آرام سے اچھی طرح -  
 آزادانہ - جی کھول کر - (۲) بے تکلف ہو کر -  
 (۳) ظاہر - علانیہ  
 کھل کر بیٹھنا - (۱) محاورہ، دیکھیے کھل بیٹھنا -  
 کھل کر کہنا - (۱) محاورہ، صاف صاف کہنا - اعلانیہ کہنا -  
 کھل کھل - (۱) صفت، (۱) صفت، شغفے یا تشفیہ کی آواز -  
 کھلکھلا کر (دکھ - ہنسنے) کھلکھلانا - (۱) محاورہ، زور سے ہنسنے -  
 تہفہ ماننا - بہت ہنسنے - خندہ زنی کرنا - خرم و شاداں ہونا -  
 کھلکھلانا - (دکھن - کھ - لا - نا) [ ۱-۱۰ صفت ] (۱) خرمیوں کا گڑ گڑ بولنا -  
 پیٹ بولنا  
 کھل کھینٹنا - (دکھن - کھینٹ - نا) [ ۱-۱۰ صفت ] شرم و حجاب اٹھا کر علفیہ  
 کوئی محبوب کام کرنا - مطلق آزاد ہو جانا - شرم و حجابا لائے  
 طاق رکھنا -  
 کھلکا - (دکھن - گا) [ ۱-۱۰ صفت ] جھینسا -  
 کھلکھلا - (دکھن - کھن - لہ - لا) [ ۱-۱۰ صفت ] بے روک ٹوک - علانیہ -  
 کھلانا - (دکھن - نا) [ ۱-۱۰ صفت ] ناگوار ہونا - ڈوہر ہونا -  
 کھلنا - (دکھن - نا) [ ۱-۱۰ صفت ] (۱) ملی کا پھولنا - پھول کا شگفتہ ہونا - (۲)  
 پھول آنا - (۳) خوش ہونا - ہنسنے - (۴) زریب دینا - چھیننا -  
 سبنا - کھننا -  
 کھلنا - (دکھن - نا) [ ۱-۱۰ صفت ] (۱) ظاہر ہونا - معلوم ہونا - کسی بندھی ہوئی چیز کا  
 واہو جانا - (۲) پھٹ جانا - شق ہو جانا - (۳) عریاں ہو جانا - نکا ہونا -  
 (۴) اُدھر دجانا - (۵) سی ٹڑا جانا - (۶) صاف ہونا - کٹا دہ ہونا - (۷)  
 جاری ہونا - بہنے لگنا - (۸) بے تکلف و بے حجاب ہو جانا - شرم اٹھ جانا -

(۳) کھنٹا [خندہ - (۴) گڑھا جہاں سے مٹی کھودی جاتے۔

کھنڈل - (۵-۱) ند - وسیع میدان -

کھنڈلنا - (کھن - ڈل - نا) [ھ مص] پال کرنا - پاؤں میں ملنا - سلنا - کھلنا -

کھنڈ - (۵-۱) ند - (۱۵) کھنڈا - حصہ - منزل - درجہ - (۳) خطہ - دسیس - تک -

(۴) کتاب کا حصہ - باب - ادھیسے - (۶) [مشت] کھانڈ -

کھنڈ سا - (۵-۱) [مشت] کھانڈ بنانے کا کارخانہ -

کھنڈا - (کھن - ڈا) [ھ - ۱-۱] مکر - (۱۵) چاولوں کا چوڑا - (۲) کھانڈ کا مختلف -

نوار -

کھنڈا - (کھن - ڈا) [ھ - ۱-۱] مکر - کھنڈ - جو نیز نہ ہو -

کھنڈے اُسترے سے سرٹوڑنا - (۱-۱) [مماورہ] (۱۱) بن دھار کے

اُسترے سے حجامت کرنا - خوب تکلیف دینا - (۱۲) خوب صفایا

کرنا - ٹوٹنا -

کھنڈانا - (کھن - ڈا - نا) [ھ مص] [بھیننا - تتر تتر کرنا - پرگانہ کرنا -

کھنڈت - (کھن - ڈت) [س - ۱-۱] [مشت] (۱۱) کھوے ہونا - ابتری پرگانہ -

(۲) خلل - مزاحمت - دست اندازی - حرج - (۳) تردید - تیسخ -

کھنڈت پڑنا - (۱۱) [مماورہ] (۱۱) کسی کام میں حرج واقع ہونا - (۲) کسی بات

کا سلسلہ نہ رہنا -

کھنڈر - (کھن - ڈر) [ھ - ۱-۱] مذ [ٹوٹا ہوا مکان - ویران مکان - ویرانہ -

(۲) ٹوٹے ہوئے مکانوں کے نشان -

کھنڈر مٹی - (کھنڈ - ری) [ھ - ۱-۱] [مشت] (۱۱) فقیروں کا لباس جس میں یونہی

کے ہوتے ہیں - (۲) ایک قسم کا پتھینہ جس میں مختلف رنگ کے پرتے

ہوتے ہیں -

کھنڈلا - (کھنڈ - لا) [ھ - ۱-۱] مذ قاش - پھانک - قتلہ - ڈکڑا -

کھنڈلا - (کھنڈ - لا) [ھ - ۱-۱] مذ [تقریباً] جھونپڑا - چھوٹا سا گھر - ٹوٹا ٹھونڈا مکان -

[صفت] وہ لڑکا جس کے آگے کے دودھ کے دانت ٹوٹ گئے ہوں -

کھنڈن - (کھن - ڈن) [ھ - ۱-۱] مذ [تردید - تیسخ - (۲) بُت شکنی - (۳) -

ٹکڑے کرنا - تقسیم کرنا - (۴) ٹوڑنا - (۵) کاٹنا - (۶) تباہ و برباد کرنا -

کھنڈنا - (کھنڈ - نا) [ھ مص] [بھیننا - پھیلنا - پریشان ہونا - منتشر ہونا -

پرگانہ ہونا -

کھنڈوی - (کھنڈ - وی) [ھ - ۱-۱] [مشت] ایک قسم کی مین کی غذا -

کھنڈی - (کھن - ڈی) [ق - ۱-۱] [مشت] وزن مساوی میں من -

کھنڈس - (کھ - نس) [ھ - ۱-۱] [مشت] (۱۱) نفرت - (۲) دشمنی - (۳) غصہ - (۴) -

حد - (۵) رشک -

کھنڈانا - (کھن - سانا) [ھ مص] (۱۱) حد کرنا - (۲) دشمنی کرنا - (۳) بونی

چوڑھانا - (۴) لٹائی بچھانی کرنا -

کھنڈی - (کھن - سی) [ھ - ۱-۱] [مشت] (۱۱) لڑاکا - چوڑچڑا - (۲) خفا - (۳) حد کرنا -

کھنڈ - (کھ - نک) [ھ - ۱-۱] [مشت] بچنے کی آواز - جھنکار - کھوک - روپے

کی آواز - (۲) بوڑھا - ضعیف - (ق) -

کھنکا - (کھن - کا) [ق - ۱-۱] [مشت] جھنکار -

کھنڈ جانا رہنا - (۱۱) ابریا کھٹا کا ہٹ کر مطلع صاف ہو جانا - بادل نہ

رہنا - (۱۲) آزاد رہنا - (۱۱) مزین ہونا - چھب جانا - (۱۳) گڑھے سے

جانا رہنا - (۱۴) روک نہ رہنا - بے کام ہو جانا -

کھنڈرا - (کھ - نڈ - را) [ھ - ۱-۱] [صفت] کھلاڑی - کھیل کود میں مشغول

ہونے والا -

کھنڈری - (کھ - نڈ - ری) [ھ - ۱-۱] [صفت] کھنڈرا کی تائیت -

کھنڈو - (کھن - نو) [ھ - ۱-۱] [صفت] ہر وقت ہنستی (ہنستا)

رہنے والی - (وال) کھنڈری - کھنڈرا -

کھنڈو باولی - (۱-۱) [صفت] بے موقع ہنسنے والی - ہنسور -

کھلوانا - (کھن - وانا) [ھ مص] [کھلانا کا متضدی -

کھلوانا - (کھ - نو - نا) [ھ - ۱-۱] [م] بچوں کے کھیلنے کی چیز - (۲) نازک اور دکھاوے

کی چیز - (۳) خوش طبع یا مسخر آؤمی -

کھلی - (کھ - لی) [ھ - ۱-۱] [مشت] آبل یا مرموں کا چھوک - کھن -

کھلی - (کھن - لی) [ھ - ۱-۱] [مشت] ہنسی - ٹھٹھا - چٹھل - مذاق - مسخر -

کھلی اڑانا - کھلی کرنا - (۱-۱) [مماورہ] ہنسی اڑانا - مذاق کرنا - چھیڑنا - رسوا

کرنا - فحشیت کرنا -

کھلیان - (کھن - بیان) وہ جگہ جہاں جنس میں سے ناز برباد کر دیتے

ہیں - عزم - غصے کا انبار - کوشی -

کھلیان کر دینا - (۱-۱) [مماورہ] توڑ پھوڑ کر ڈھیر کر دینا - نینا ناس کر دینا -

تروبال کر دینا - تباہ و برباد کر دینا

کھم - (ھ - ۱-۱) مذ (۱۱) قہم - ستون - (۲) ڈکن - (۳) مینار (۴) لائٹ -

کھماج - (کھ - ما - ج) [ھ - ۱-۱] [مشت] ایک راگنی -

کھمانا - (کھ - نا - نا) [ق - ۱-۱] [مشت] ٹھکانا -

کھمبا - (کھم - با) [ھ - ۱-۱] [مذ] دیکھیے کھم

کھمبی - (کھم - بی) [ھ - ۱-۱] [مشت] ایک قسم کی سفید نباتات جو اکثر برسات

میں از خود پیدا ہو جاتی ہے اور ستے ل کر کھاتے ہیں -

کھمڈ - (ق - ۱-۱) مذ - روزان - سوراخ -

کھن - (ھ - ۱-۱) مذ [ھ - ۱-۱] [مذ] کڑی میں سوراخ کرنا - (۲) روپیہ بچنے کی آواز -

(۳) کھنڈ کا مختلف - منزل - درجہ - حصہ - (۴) آسان (ق) (۵) -

معدن - کان - (ق) -

کھن - (ق - ۱-۱) [مشت] (۱۱) منزل - (۲) عاجز - معیبت زدہ -

کھنال - (ق - ۱-۱) [صفت] درجہ درجہ -

کھنجری - (کھنج - ری) [ھ - ۱-۱] [مشت] دیکھیے کھنجری -

کھنجن - (کھن - جن) [ھ - ۱-۱] [مشت] (۱۱) ایک سیاہ رنگ کا پرندہ - شاما -

کھنچاؤ - (کھن - چا - او) [ھ - ۱-۱] [مذ] دیکھیے کھچاؤ -

کھنچنا - (کھنج - نا) [ھ مص] [دیکھیے کھنچنا -

کھنڈ - (ھ - ۱-۱) مذ - دیوار کا چھوٹا حلقہ -

کھنڈانا - (کھن - ڈا - نا) [ھ - ۱-۱] [مذ] (۱۱) تلوار وغینہ کی باؤہ میں

پڑ جانے والا دندانہ - (۲) کڑی یا دیوار کا خفیہ سوراخ -



کھنکار - کھنکار - کھنکار - کھن - کار - کھن - کھار - [ھ - ۱ - مٹ] (۱) بغم - کھت - (۲) کھانسی کی آواز - وہ آواز جو بغم کو مٹانے یا گلاصاف کرنے کے واسطے نکالی جائے۔

کھنکارنا - کھنکارنا - کھن - کار - نا - کھن - کھار - نا - [ھ - مٹ] (۱) کھانسی سے کھانسی نکالنے کی آواز نکالنا - (۲) کھانسی کے ذریعے سے اشارہ کرنا - (۳) کھانسی کھنکھانا - گلاصاف کرنا۔

کھنکانا - کھن - کان - نا - [ھ - مٹ] [بجنا - کھنکارنا - کھکانا - روپیہ بجانا - کھنکتی ہوئی آواز - (۱) مذ - ولفرب آواز۔

کھنکڑی - کھنکت - ٹری - [ھ - ۱ - مٹ] [ایک قسم کا پاڑ - کڑاری چوری - کھنکنا - رکھ - نمت - نا - [ھ - مٹ] [بجنا - کھنکارنا - کھنکارنا - پرنکھتے وقت روپیہ لایجنا - (۲) ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کی آواز۔

کھنکھ - [ھ - صفت] (۱) بہت خشک - (۲) کمزور - (۳) بوڑھا۔

کھنکھڑ - کھن - کھن - [ھ - صفت] (۱) خشک - سخت - (۲) مرتضیٰ ہوا۔

کھنکھن - کھن - کھن - [ھ - ۱ - مٹ] [بچے کے ناک میں رونے کی آواز - کھنکھن کرنا - بیماری کے باعث بچے کو ناک میں رونا۔

کھنکھنا - کھن - کھ - نا - [ھ - ۱ - مٹ] [مٹی کا برتن جس میں دراڑ پڑ جائے - کھنکھنا - کھن - کھ - نا - نا - [ھ - مٹ] [دیکھنے کھنکانا۔

کھنکھنا - کھن - کھ - نا - نا - [ھ - مٹ] [بچے کو بیماری کے باعث ناک میں رونا۔

کھنکھ - [ق - ۱ - مٹ] کھانسی۔

کھنکھلنا - کھن - کھال - نا - [ھ - مٹ] [پانی ڈال کر برتن بلانا اور اسے پینک دینا - پانی سے برتن صاف کرنا - (۲) سرسری طور پر کپڑے کو دھونا اور صاف کرنا۔

کھنکھڑ - کھن - گڑ - کھن - گڑ - [ھ - ۱ - مذ] (۱) بہت سی جلی ہوئی اینٹوں کا مجموعہ - (۲) دھات کا میل جو کھنکھنے کے بعد نکلتا ہے۔

(۳) ایک قسم کا مسالہ کا پتھر جس سے چھاپے کا پتھر صاف کیا جاتا ہے۔

کھنکھڑ لگ جانا - (۱) محاورہ) پڑیاں نکل جانا - گوشنت اور جسم گل کر صاف پڑیاں رہ جانا۔

کھوٹ پھینا - (۱) محاورہ) ضائع کر دینا - (۲) تباہ و برباد کر دینا۔

کھو جانا - (۱) محاورہ) بڑا حس ہو جانا - (۲) کم ہو جانا - (۳) سٹ پٹا جانا۔

کھو کر سیکھنا - (۱) محاورہ) نقصان کر کے تجربہ حاصل کرنا۔

کھو - کھو - [ھ - ۱ - مٹ] [غار - بھٹ - گڑھا - پہاڑ کے اندر کا کھوکھلا حصہ۔

کھوا - کھ - [ھ - ۱ - مذ] [شائے - مونڈھا - کندھا - دوش - شانہ کی پڑی۔

کھوے سے کھوا چھلنا - (۱) محاورہ) (۱) نہایت بھیڑ بھار ہونا۔

لوگوں کی کثرت کے باعث کندھے سے کندھا چھلنا - شانہ شانہ گرد کھانا۔

کھوے رہ جانا - (۱) محاورہ) مونڈھے تنک مانا۔

کھوڑ - کھوڑ - [ھ - ۱ - مذ] [دھتورے کی لکڑی کی برآمدگی۔

کھوٹھینا - (ھ - مٹ) ضائع کرنا - برباد کرنا - نجاہ کرنا۔

کھوپڑا - (کھوپ - را) [ھ - ۱ - مذ] (۱) کھوپڑا - ناریل کا مغز - (۲) کاسہ سر - کھوپڑی۔

کھوپڑی - کھوپڑی - (کھوپ - ری - کھوپٹ - ٹری) [ھ - ۱ - مٹ] [کاسہ سر - سر کے اوپر کا حصہ - سر کی پڑی۔

کھوپڑی پھیننا - پھینکا - (۱) محاورہ) کاسہ سر کا شق ہونا - تالو پھیننا - شدت کی گرمی کے باعث کاسہ سر کا ٹھنک جانا۔

کھوپڑی چل پھلانا - (۱) محاورہ) مار کھانے کو جی چاہنا۔

کھوپڑی کھا جانا - (۱) محاورہ) دماغ چٹ کر جانا - (۲) ستانا - دق کرنا۔

کھوپڑی بک کر کے بھیجا کھانا۔

کھوپڑی بچی کرنا - (۱) محاورہ) اس قدر مارنا کہ سر کے بال اڑ جائیں بہت مارنا۔

کھوٹ - (ھ - ۱ - مٹ) (۱) ملاوٹ - آمیزش - (۲) [مذکر] نقص - عیب۔

روش - قباحت - خطا - تصور - (۳) نقصان - ضرر - (۴) بری برائی۔

شرارت - بد ذاتی - حرامزدگی - (۵) دغا - فریب - کینہ - کپٹ - چل۔

کھوٹ کرنا - (۱) محاورہ) برائی کرنا - تصور کرنا - (دوسرے کو نقصان یا ضرر پہنچانا۔

کھوٹ پلانا - (۱) محاورہ) (۱) خالص سونے چاندی میں کوئی اورنی دھات ملانا - نقص کرنا - غل ڈالنا - (۲) برائی کرنا۔

کھوٹ نکالنا - (۱) محاورہ) کسی چیز کا نقص یا عیب نکالنا۔

کھوٹا - کھو - نا - [ھ - صفت] [کھوٹا نقص - جلی - غیر خالص سکہ - (۲) بڑا بڑا۔

شہریر - عیبی - ناقص - نکم - ناکارہ - (۴) دغا باز - فریبی - بکار - (۵) جبر سے ادا سے والا - بذیت۔

کھوٹا بیٹا - (۱) مذ - کپوت - ناخلف - نالائق بیٹا۔

کھوٹا پن - (۱) صفت) کھوٹا ہونا۔

کھوٹا پیسا - (۱) مذ) گھسا ہوا پیسا - وہ پیسا جو چلنے کے قابل نہ ہو۔

کھوٹا پیسا (کھوٹا بیٹا) بڑے وقت کام آتا ہے - (۱) نکل - نکمی اور خراب پیر بھی وقت پر کام دے جاتی ہے۔

کھوٹا سکہ - (۱) مذ) ناقص سکہ۔

کھوٹا سماں - (۱) مذ) بڑا زمانہ - کل جگ۔

کھوٹا کھرا (پرکھنا) دیکھنا - (۱) محاورہ) بڑے سبلی کی آزمائش کرنا - پرکھنا۔

کھوٹا کھرا ہونا - (۱) محاورہ) نیت کا ڈانواں ڈول ہونا - نیت بڑانا - لپچانا۔

کھوٹا مال - (۱) مذ) ناقص مال۔

کھوٹی - کھو - ٹی - [ھ - صفت] (۱) کھوٹا کی تائینت - غیر خالص - جلی - (۲) بد - (۳) ناقص - نکمی - (۴) دغا باز - (۵) بکار - فاحشہ - (۶) کینہ نواز۔

کھوٹی بات - (۱) مذ) دھوکے کی بات - (۲) بری بات۔

کھوٹی کرنا - (۱) محاورہ) (۱) کھوٹ ملانا - (۲) بری کرنا - برائی کرنا۔

کھوٹی گھڑی - (۱) مٹ) (۱) بری گھڑی - بڑا وقت - منحوس گھڑی - بڑی ساعت - کھوٹے داموں - کم قیمت پر۔

کھوڑا - (کھوڑا) [ص م] گڑھا کرنا (۱) گڑھا کرنا (۲) جڑے اٹھا کرنا (۳) خالی کرنا۔  
 کھچنا - کرینا (۴) نقاشی کرنا۔ کندہ کرنا۔  
 کھوڑنی - (ق) ۱۰۔ مٹ (جستجو - تلاش - دریافت - سراغ -  
 کھوڑی - (ق) ۱۔ مٹ (زیادہ کاشت زمین -  
 کھوڑینا - (ص م) ۱۰۔ صانع کر دینا - برابو کر دینا (۲) ٹکا کر دینا (۳) غائب  
 کر دینا - گم کر دینا - گنوا دینا۔  
 کھور - (ص م) ۱۔ مٹ (۱) مویشیوں کے گئی کھانے اور پانی پینے کی ناند پانی -  
 (۲) خار - کھوہ - جھوٹی وادی - (۳) راستہ - گلی - (۴) بیچنی - ڈھکن - برتن  
 (۵) بھارت - رضائی -  
 کھوڑو - (کھو - رو) [ص م] ۱۔ مذ [۱] کھوڑا جانوروں کی وہ حالت جس میں  
 وہ زمین کو اپنے کھروں یا ٹموں سے کھوڑ کر کسی خواہش کا اظہار  
 کرتے ہیں (۲) بڑی، خسارہ - بھارت - جھڈا - تنازع (۳)  
 شہابی عیب (ق)  
 کھوڑلانا - (ص م) ۱۔ عوارہ (۱) حیوانوں کا زمین پر کھرا یا ٹم دے دے مارنا -  
 (۲) شور مچانا - (۳) جھڑا کرنا - شرارت کرنا - فساد کرنا۔  
 کھوڑل - (ص م) ۱۔ مٹ (۱) دیکھنے کھوڑا (۲) مرے ہوئے بزرگوں کی ناراضی -  
 (۳) آسیب - بخل -  
 کھوڑل - (ص م) ۱۔ مٹ (۱) وہ تک جو ہندو لوگ مندر یا سیندر وغیرہ کا  
 لگاتے ہیں۔  
 کھوڑا - (ق) ۱۔ مٹ (بہتر کڑی - (۲) کڑی جو مویشی کے گلے میں باندھے ہیں۔  
 کھوڑکا - (ق) ۱۔ مذ [۱] سوکھا درخت -  
 کھوڑل - (ق) ۱۔ صفت [انفص - عیب دار -  
 کھوسا - (کھو - سا) [ص م] ۱۔ وہ شخص جس کے ڈاڑھی اور مونچھ نہ ہو۔  
 (۲) [پن] [کھو - دا] - ایک قوم -  
 کھوسٹ - (کھو - سٹ) [آر - صفت] [اڑھا چھوس - پیر فرزت - نہایت  
 بد - بہن سال -  
 کھوسرا (کھوسرا) [۱] مذ [پرائی اور ٹوٹی ہوئی جوتی -  
 کھوسنا - (کھو - سنا) [ص م] ۱۔ کسی چیز کو کسی چیز میں اڑس دینا - اٹکا  
 دینا - اٹھانا (۲) بال نوچنا -  
 کھوکر سیکھنا - [ص م] [نفصان اٹھا کر تیز حاصل کرنا -  
 کھوکھا - (کھو - کھا) [ص م] ۱۔ مذ [۱] وہ ہنڈی جس کے روپے دیئے جا  
 چکے ہوں - (۲) لڑکا - طفل - [صفت] [خالی - تہی - ٹھونٹھا - (۳)  
 کڑی کا بڑا صندوق -  
 کھوکھلا - (کھو - کھلا) [ص م] ۱۔ صفت [پولا - خالی - کھٹل - بے مغز - ٹھونٹھا -  
 کھوکھیا نا - (ص م) [وہیجے خونچا نا -  
 کھولا - (ق) ۱۔ مذ [۱] جھولی - (۲) صندوق -  
 کھولا ماتھا - (کھولا - ماٹ) [ص م] ۱۔ مذ [خار پست - سیہہ -  
 کھولانا - (کھو - لا) [ص م] ۱۔ مذ [۱] جوش دینا - ابلانا - (۲) جلانا - غر دینا -  
 کھول کر - (۱) [تابل - نفل] (۲) ظاہر کر کے - فاضح طور سے - (۳) بے روک ٹوک -

کھوٹے کھرے کو پرکھنا - (۱) عوارہ) نیک و بد کی جانچ و پڑتال کرنا -  
 کھوج - (ص م) ۱۔ مذ [۱] سراغ - آدمی کے پاؤں کا نشان - (۲) ٹھکانا -  
 پتہ - نشان - (۳) تلاش - جستجو - (۴) خبر - واقفیت - (۵)  
 'بب -  
 کھوج پانا - (ص م) ۱۔ سراغ لگانا - خبر پانا - نشان ملنا - ٹھکانا معلوم  
 کھوج ڈھونڈھنا) کرنا - (ص م) ۱۔ عوارہ) ڈھونڈھنا - تلاش کرنا - پتہ لگانا -  
 سراغ لگانا -  
 کھوج کھونا - (ص م) ۱۔ ستیاناس کرنا - (۲) میٹر افرق کرنا - (۳)  
 کسی کام کا نہ رکھنا - (۴) نشان ملنا - سراغ لگوانا -  
 کھوج لگانا - (ص م) ۱۔ پتہ لگانا - سراغ لگانا - کسی شخص یا کسی چیز کے بڑی  
 تلاش کے بعد نشان معلوم کرنا - تعقیب کرنا -  
 کھوج مٹا - (ص م) ۱۔ خانہ خراب - خانہ ویران - بے نام و نشان - چرما -  
 (عورت کے لیے کھوج مٹی) -  
 کھوج مٹانا - (ص م) ۱۔ عوارہ) نام و نشان نہ رکھنا - نیست و نابود کرنا -  
 بچ گئی کرنا - استیصال کرنا -  
 کھوج بھٹ جانا - (ص م) [۱] عوارہ) نام و نشان نہ رہنا - معدوم  
 ہو جانا - نیست و نابود ہو جانا -  
 کھوج ملنا - (ص م) ۱۔ سراغ ملنا - پتہ لگانا - خبر معلوم ہونا -  
 کھوج نکالنا - (ص م) ۱۔ دیکھنے کھوج لگانا -  
 کھوج ہاتھ آتا - (ص م) ۱۔ عوارہ) پتا لگنا - سراغ ملنا -  
 کھوجانا - (کھو - جانا) [ص م] ۱۔ گم ہو جانا - غائب ہو جانا -  
 کھوجڑ - (کھو - جڑ) [ص م] ۱۔ مذ [آر] چوک -  
 کھوجڑا - (کھوج - آرا) [ص م] ۱۔ مذ [۱] کھوج - سراغ - (۲) نام و نشان -  
 بچ و بنیاد -  
 کھوجڑا جانا - (ص م) ۱۔ عوارہ) ستیاناس جانا - اُجڑ جانا - غارت ہونا - نام  
 نشان تک نہ رہنا - نیست و نابود ہونا -  
 کھوجڑا جاتے - (ص م) ۱۔ غارت ہو - بر باد - ستیاناس ہو - نام و  
 نشان تک نہ رہے -  
 کھوجڑے پٹیا - (ص م) ۱۔ عوارہ) خاد خواب - گولہ -  
 کھوجنا - (ص م) [ص م] تلاش کرنا - دریافت کرنا -  
 کھوجی - کھوجیا - (کھو - جی) [ص م] ۱۔ کھوج (یا) [ص م] ۱۔ مذ [سراغ لگانے والا -  
 سراغ رسال - کھوج نکالنے والا - جو تہہ -  
 کھوجڑ - (کھو - جڑ) [ص م] ۱۔ مذ [۱] ہوتے ہوئے کام کو روک دینے والا -  
 رخنہ انداز - چلتی گاڑی میں روڑا ٹکانے والا - فسادی -  
 کھوڑ - (ص م) ۱۔ مٹ (۱) کھوڑے کا نفل - (۲) کھوج - گھونپ - بھونک -  
 کھوڑ کر پھینا - (ص م) ۱۔ عوارہ) کھوڑ کر پھینا - خوب چھان بین کرنا -  
 طرح طرح سے پھینا - نہایت تعقیب کرنا -  
 کھوڑا اتنا - (ص م) ۱۔ عوارہ) زمین اٹھا کرنا - (۲) کھچنا - کر دینا - (۳) کندہ کرنا -  
 نسبت کاری کرنا - (۴) جڑے نکالنا - (۵) خالی کرنا - (۶) تلاش کرنا -

آزادانہ - (۳) بخرنی - بیسا چاہیے۔

کھول کر کہنا - (۱) عمارہ کسی بات کو خوب ظاہر کر کے اور علانیہ کہنا۔ بے لگ کہنا۔ صاف کہنا۔

کھول کیسہ کھا ہر لیبہ - (۱) شل، گرہ کا زرخیز کر اور دنیا کا مزہ اٹھا۔  
کھولن - (کھولن) [ ۱ - مٹ ] [ ۱۵ ] جوش - ابال - (۲) جلن - سوزش - (۳) زخم - ٹیس۔

کھولنا - (کھولنا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] ابلنا - پکنا۔ جوش کھانا۔ نہایت گرم ہونا۔ (۲) دل ہی دل میں غم کھانا۔ (۳) زخم یا پھوڑے میں جلن یا ٹیس ہونا۔

کھولنا - (کھولنا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] کسی بندھی چیز کا وا کرنا۔ (۲) ظاہر کرنا۔ (۳) بھانڈا پھوڑنا۔ (۴) بھاڑنا۔ چیننا۔ (۵) اُدھڑنا۔ (۶) با کرنا۔ آزاد کرنا۔ (۷) تنگ کرنا۔ عزایاں کرنا۔ (۸) سلجھانا۔ صل کرنا۔ (۹) صاف کرنا۔ (۱۰) حجاب دور کرنا۔ خاموشی دور کرنا۔ ہم باز بنانا۔ (۱۱) گھٹیا بادل کا دور کرنا۔ بارش روکنا۔ (۱۲) پھڑکا کرنا۔ (۱۳) قید و بند سے آزاد کرنا۔ (۱۴) کسی بندھے ہوئے جانور کی چوری کرنا۔ (۱۵) ہتھیار کر کے جدا کرنا۔ (۱۶) نقل کو زنجیر سے دور کرنا۔

کھونا - (کھونا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] گم کرنا۔ گنونا۔ (۲) جھلانا۔ لبرنا۔ (۳) ضائع کرنا۔ برباد کرنا۔ (۴) بے قابو کرنا۔ (۵) بگاڑنا۔ (۶) رفع کرنا۔

کھوٹپ - (۱) مٹ [ ۱۵ ] ایک قسم کی لمبی لمبی سیلاقی۔ جسے لپٹا لپٹے۔  
کھوٹپ کرنا - (۱) عمارہ (۱) موٹا موٹا سینا بنگانا۔ شینگے مارنا۔ (۲) حقارتا سینا۔

کھوٹپ - (۱) مٹ [ ۱۵ ] کونہ گوشہ۔ زاویہ۔ (۲) جانب۔ طرف۔ سمت۔ پہلو۔ (۳) کان کا میل۔ (۴) ملک کا حصہ۔ قطعہ۔  
کھوٹا - (کھوٹا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] بیخ۔ کیل۔ چوب۔ (۲) کولھوکی لاٹھ۔ (۳) پھل کا ہتھا۔

کھوٹا سا - (۱) مٹ [ ۱۵ ] میخ کی مانند سیدھا اور مضبوط گڑا ہوا۔  
کھوٹا نکڑا ہونا - (۱) عمارہ (۱) چنگتہ سہارا ہونا۔ بڑا آدھی مددگار ہونا۔  
کھوٹا سا بیٹھ جانا (گڑ جانا) [ ۱۵ ] عمارہ (۱) مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جانا۔

کھوٹے کی طرح جم جانا۔  
کھوٹے پر مارنا - (۱) عمارہ (۱) خاطر میں لانا۔ جوڑنے کی نوک پر مارنا۔ پروانہ کرنا۔

کھوٹے سے بندھنا - (۱) عمارہ (۱) میخ سے بندھنا۔ (۲) پابند ہونا۔ (۳) نکاح یا شادی ہونا۔

کھوٹے کے بل کوٹنا - (۱) عمارہ (۱) کسی کی حمایت پر اتارنا۔ کسی کے بھروسے پر گھنڈا کرنا۔

کھوٹی - (کھوٹی) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] چھوٹی میخ۔ کیل۔ (۲) سازگی یا ستار کے کان۔ (۳) بالوں کی جڑ۔

کھوٹی لینا - (۱) عمارہ (۱) چھوٹے چھوٹے بال مونڈنا۔

کھوٹی مروڑنا - (۱) عمارہ (۱) گوشائی کرنا۔ مزوینا۔ کان اینٹھنا۔  
کھوٹی نہ پھوڑنا - (۱) عمارہ (۱) بہت صفائی سے حجامت بنانا۔ (۲) ٹوٹ کر بالکل صفیا کر دینا۔

کھوٹخ - (۱) مٹ [ ۱۵ ] پڑھے وغیرہ کی وہ جگہ جو کیل یا کانٹے سے اُبھ کر پھٹ جائے۔ (۲) چار پائی کی کان۔ (۳) جسم کا وہ حصہ جو کسی صدمہ سے پھٹ جائے۔

کھوٹخ آنا - کھوٹخ لگنا - (۱) عمارہ (۱) کپڑے لاکسی چیز سے اُبھ کر پھٹ جانا۔

کھوٹخا - (کھوٹخا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] بڑی کھوٹخ۔  
کھوٹخا - (کھوٹخا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] سارھے چھ کا پہاڑ۔

کھوٹخو - (کھوٹخو) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] دیکھنے کو چڑھ۔  
کھوٹخوڑنا - (کھوٹخوڑنا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] پامال کرنا۔ روندنا۔ پاؤں سے ملنا یا کپٹنا۔

کھوٹڈا - (کھوٹڈا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] وہ لڑکا جس کے آگے کے دودھ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ گھنڈلا۔ (مؤنٹ کے لیے کھوٹڈی)

کھوٹسرا - (کھوٹسرا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] پڑنی اور ٹوٹی ہوئی جڑنی۔

کھول کھول - (۱) مٹ [ ۱۵ ] کھانسی کی آواز۔

کھول کھول کرنا - (۱) عمارہ (۱) کھانسا۔ دھانسانا۔

کھوہ - (۱) مٹ [ ۱۵ ] پہاڑ کی غار۔ گنچا۔

کھوئی - (کھوئی) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] گئے یا ایکھ کی بھوک جو رس نکالنے کے بعد رہ جاتا ہے۔

کھوٹے سے گئے - [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] پٹا گئے۔ گھبر گئے۔ حواس باختہ اور متیز ہو گئے۔ اوسان جاتے رہے۔

کھویا - (کھویا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] بہت کھانے والا۔ پیٹو۔

کھویا - (کھویا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] ناؤ چلانے والا۔ تاج۔ مانجھی۔

کھویا مر کھو - (کھویا) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] دودھ کا دادا۔ روڑی۔

کھویا (کھوٹے) جانا - (۱) مٹ [ ۱۵ ] گم ہو جانا۔ جانا رہنا۔ (۲) گھبرانا۔

بھواس ہو جانا۔ سیران ہو جانا۔ (۳) لاجواب ہو جانا۔

کھویا کھویا رہنا - (۱) عمارہ (۱) کسی خیال میں غور رہنا طبیعت کا بند رہنا۔ انقباض رہنا۔

کھے - (۱) مٹ [ ۱۵ ] میلا۔ گوہ۔ سجاست - (۲) خاک دھول۔ راکھ۔

کوڑا کرکٹ - گندگی۔

کھے کھانا - (۱) عمارہ (۱) جھک مارنا۔ بے ہودہ بکنا۔ (۲) [پن] بڑا کام کرنا۔

کھیارا - (کھی) [ ۱۵ ] زق۔ صفت [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] عیار۔ بے مروت۔

کھیاری - (کھی) [ ۱۵ ] بے مروت عورت۔ عیارن۔

کھیانا - (کھی) [ ۱۵ ] مٹ [ ۱۵ ] کھسکانا۔ سرکانا۔ (۲) گھس جانا۔

پلانا ہو جانا۔

کھیپ - (۱) مٹ [ ۱۵ ] دریا بی سفر۔ (۲) بھرتی۔ بوجھ۔ (۳) دفعہ

شمار - بار - مرتبہ (۴) کھوٹ  
 کھیت بھرنی - (۱) محاورہ) بوجھ لادنا - مال بھرنی -  
 کھینٹ - (۱) مذکر - (۲) کشت - وہ زمین جس میں بویا جوتا جائے -  
 (۲) زمین - ملک - دیس - خطہ - (۳) کارزار - جنگ و جدل -  
 جنگاہ - (۴) چاند کی روشنی - (۵) تلوار کا پھل -  
 کھیت آنا - (۱) محاورہ) کام آنا - مارا جانا - قتل ہو جانا - شہید ہونا -  
 مقتول ہونا -  
 کھیت اٹھانا - (۱) محاورہ) کھیت لگان پر دینا -  
 کھیت بھر - (۱) تابع فعل) ایک کھیت کے ناصٹے پر -  
 کھیت پتھر - (۱) مذکر - زمین کا زمین نامہ - زمین کا کاندہ - خط زمین -  
 کھیت پڑنا - (۱) محاورہ) کسی بگڑ چنگ و جدل کا واقع ہونا - بہت سے  
 کونوں کا مارا جانا - گھسان پڑنا -  
 کھیت چٹھا - (۱) مذکر) پیمانوش والوں کی کتاب جس میں زاویہ کی پیمائش  
 لکھی جاتی ہے - پیمانوں کا خسرہ -  
 کھیت چھوڑ جانا - (۱) محاورہ) میدان جنگ سے بھاگ نکلنا -  
 پیٹھ دکھانا -  
 کھیت رہنا - (۱) محاورہ) کام آنا - مارا جانا - قتل ہونا - (۲) فریفتہ  
 ہو جانا - جان دینا -  
 کھیت کاٹنا - (۱) محاورہ) فصل کاٹنا - غلہ کاٹنا -  
 کھیت کا لکھا پڑھا - (۱) صفت) کسان - دہقان - دیہاتی - ہل  
 چلانے والا -  
 کھیت کرنا - (۱) محاورہ) چاند نکلنا - (۲) زراعت کرنا - بونا بوننا  
 کھیت لگانا - (۱) محاورہ) محنت کر کے کھیت کی زمین کو پیداوار کے  
 قابل بنانا -  
 کھیت کھائے گدھا مارا جائے جو لالہ - (۱) مثل) قصور کوئی کرے  
 سزا کسی کوٹے -  
 کھیت اہلبانا - (۱) محاورہ) کھیت کا سرسبز و شاداب ہونا -  
 کھیت نلانا - (۱) محاورہ) زراعت کو خود رو گھاس سے صاف کرنا -  
 گھاس پائے نکال کر پودوں کی جڑوں کو گوتے مانا -  
 کھیت ہاتھ ہونا - کھیت ہاتھ رہنا - (۱) محاورہ) میدان ہاتھ رہنا -  
 نتیجہ بی ہونا - پلا جیننا -  
 کھیتی - (کے - تی) [۱] مرث [۱] زراعت - کشت - بویا ہوا کھیت -  
 (۲) فصل - اناج - غلہ - (۳) کاشتکاری -  
 کھیتی باڑی - (۱) مرث) کسی - کاشتکاری -  
 کھیتی باڑی کرنا - (۱) محاورہ) زراعت کرنا - بوسے جوتنے کا کام کرنا -  
 کھیتی پانی - کھیتی اور گھوڑے کا تنک (۱) مثل) کھیتی کرنا چھٹی  
 اپنے ہاتھ سنوارے جلے لاکھ ہوں تنک (۱) گھنسا اور گھوڑے کو تنک  
 کو اپنے ہاتھ سے درست کرنا چاہیے -  
 کھیتی تخم مینتی - (۱) مثل) کام مالک ہی کی وجہ سے خوب ہوتے ہیں -

گر مالک کسی کام میں خود نوجہ نہ دے اور دوسروں پر چھوڑ دے  
 تو وہ کام حسب دیکھا نہیں ہو سکتا -  
 کھیتی رکھے باڑو، باڑو رکھے کھیتی کو - (۱) مثل) بادشاہ رعیت کے  
 سبب اور رعیت بادشاہ کے سبب قائم ہے -  
 کھینچر - (کچی - چم) [۱] مرث [۱] شراکت - شری -  
 کھید - (۱) مرث [۱] دنگ - درو - تکلیف - (۲) سوچ - فکر - (۳) غم -  
 ماتم - سوگ - (۴) بیماری - روگ -  
 کھیدل - (کھے - (۱) [۱] مذکر) جنگلی ہاتھیلوں کے پکڑنے کا گرمھا، جسے  
 گھاس چھوس اور پتی پتی کھڑکیوں سے پارٹ کر مٹی سے چھپا  
 دیتے ہیں -  
 کھیدنا - (کھید - نا) [۱] مرث [۱] نکالنا - ہانکنا - باہر کرنا - (۲) ستانا -  
 (۳) ہاتھیلوں کا شکار کرنا -  
 کھیر - (۱) مرث) دودھ اور چاول کا پکا ہوا ایک لذیذ کھانا -  
 شیر برج -  
 کھیر کا دلیا ہو جانا - (۱) محاورہ) دہ) قسمت پٹ جانا - اقبال جانا رہنا -  
 (۲) کچھ سے کچھ ہو جانا - سوا ہوا کام بگڑ جانا -  
 کھیرا - (کھے - ر) [۱] مرث [۱] صف [۱] محوٹرا - محوٹلا - خاک - (۲) [۱] مذکر  
 ایک قسم کا کبوتر -  
 کھیرا - (کچی - ر) [۱] مرث [۱] ایک قسم کی چھوٹی اور موٹی کلاڑی -  
 کھیرا کلاڑی کرنا - بے دردی سے کرنا - کھیرے کلاڑی سے بھی کم سمجھ  
 کر کسی کام پر چاہنا -  
 کھیری - (کچی - ری) [۱] مرث [۱] باکھ کا گوشت - جانوروں کے  
 تھنوں سے اوپر کا گوشت، جس میں دودھ بنتا ہے اور  
 رہتا ہے -  
 کھیرا - (کھے - ر) [۱] مرث [۱] بستی - چھوٹا سا گاڑی - (۲) کوئی  
 قسم کا جلا جلا اناج -  
 کھیرٹی - (کھے - ٹی) [۱] مرث [۱] ایک قسم کا سخت اور عمدہ  
 لوبا - فولاد - اسپات -  
 کھیس - [۱] مرث [۱] ایک قسم کا سوتی کپڑا جو اوڑھنے اور بچانے  
 کے کام آتا ہے -  
 کھیس - [۱] مرث [۱] وہ گاڑھا دودھ جو بچہ پیدا ہونے پر پہلے  
 عین روز نکلتا ہے -  
 کھیسا - (کچی - سا) [۱] مرث [۱] پتیلی - کیسہ - جیب - پاکٹ - (۲) وہ  
 تھیلی جس کو ہاتھ میں پہن کر بدن کا میل صاف کرتے ہیں - کپڑے  
 کا سھانواں -  
 کھیس نکالنا - (۱) محاورہ) ہنسی میں دانت نکالنا -  
 کھلی کھلی - (کھتی - کھتی) [۱] مرث [۱] ہنسنے کی ناگوار آواز -  
 کھے - (کھے - کھے) [۱] مرث [۱] ہے ہے کے مترادف - جھگڑا مٹنا  
 دانتا کیل -

کھیلنا - (کھیل - نام) ۱۔ مٹ جاسکتی مصیبت  
 کھیل - (۱۔ مذ) ۱۵۔ بازی، بازیچہ، تماشا، کرتب - (۲)۔ دل بہلاوا، پیر-  
 مشغلہ، شغل - (۳)۔ کارگرگی - (۴)۔ کام، کاج، فعل - دھندا -  
 (۵)۔ چھوڑنا، چشمہ جس میں مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں - (۶)۔ [صفت]  
 سہل، آسان -  
 کھیل بگاڑنا - (۱)۔ محاورہ) بنانا یا کام خراب کرنا۔ رخنہ ڈالنا -  
 کھیل بگڑ جانا - (۱)۔ محاورہ) بنے ہوئے کام کا بگڑ جانا۔ کام میں رخنہ پڑنا -  
 کھیل بنانا - (۱)۔ محاورہ) کام بنانا۔ پارہانہ لگانا۔ بات بنانا -  
 کھیل جانا - (۱)۔ محاورہ) ۱۵۔ گزار دینا، کھانا دینا، جو کھوں یا بلاکت میں  
 ڈال دینا - (۲)۔ مر جانا، ہلاک ہو جانا - جان سے جانا، رہنا -  
 کھیل جانا (سمجھنا) - (۱)۔ محاورہ) آسان جانا۔ بہت ہی سہل جانا -  
 سبج سمجھنا -  
 کھیل کرنا - (۱)۔ محاورہ) ۱۵۔ مذاق میں ڈالنا، کسی کام کو کام کی طرح نہ کرنا -  
 (۲)۔ کھیلنا -  
 کھیل کود - (۱)۔ مذ) اہو و لعب - اچھل کود -  
 کھیل کود کے گزارنا - (۱)۔ محاورہ) کھیل کود میں وقت کا لٹنا -  
 کھیل کھانا - (۱)۔ محاورہ) بد چینی اور آوارگی میں زندگی گزارنا -  
 کھیل کھلانا - (۱)۔ محاورہ) ۱۵۔ بازی کرنا - (۲)۔ سنانا - وق کرنا -  
 کھیل کے دن - (۱)۔ مذ) لڑکپن کا زمانہ -  
 کھیل بنیہ - (۱)۔ محاورہ) آسان نہیں ہے - دشوار ہے -  
 کھیل ہاتھ لگانا - (۱)۔ محاورہ) دل کا بہلاوا ہاتھ آنا، شغل ہاتھ لگانا -  
 کھیل ہے - (۱)۔ محاورہ) ۱۵۔ ایک ادنیٰ بات ہے - (۲)۔ تماشا ہے -  
 شغل ہے - (۳)۔ سہل ہے - آسان ہے -  
 کھیل - (۱)۔ مٹ) ۱۵۔ بچنے ہوتے چاول یا اناج، جو پھول گیا ہو -  
 (۲)۔ ذرا سا قلیل مقدار - (۳)۔ بچتا ہوا سہاگہ یا دھات جو  
 پھول جاتے -  
 کھیل اڑ کر مرنے میں نہ جانا - (نہ پڑنا) - (۱)۔ محاورہ) کوئی چیز نہ کھا -  
 بالکل نہ کھانا -  
 کھیل بتا سول کا میل ہے - (۱)۔ مثل) نہایت موزوں ہیں -  
 خوب جوڑی ملی ہے -  
 کھیل کھیل ہو جانا - (۱)۔ محاورہ) ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یا پیرہ پیرہ ہو  
 جانا - تختہ ہو جانا - پارہ پارہ ہو جانا -  
 کھیل ہونا - (۱)۔ محاورہ) بچن کر کھیل کی مانند ہو جانا -  
 کھیلےں - (۱)۔ مٹ) بچنے ہوئے دھان جو خشک ہو جاتے ہیں -  
 (۲)۔ ہر وہ چیز جو بچن کر خشک ہو جائے -  
 کھیل کھایا - (۱)۔ صفت) تجربہ کار - آزمودہ کار -  
 کھیلنا - (کھیل - نا) [۱]۔ مٹ) [۱۵]۔ بازی کرنا - کھیل کرنا - (۲)۔ اچھلنا، کودنا -  
 (۳)۔ اہو و لعب کرنا - (۴)۔ کام کرنا، کوئی فعل کرنا - (۵)۔ دل بہلانا -  
 (۶)۔ گزارنا، بیٹنا - (۷)۔ جو کھیلنا - (۸)۔ تمار بازی کرنا - (۹)۔ جوت پڑت

یا جن پری کے اثر سے سر ملانا -  
 کھیلنا کھانا - (۱)۔ محاورہ) زندگی کا لطف اٹھانا -  
 کھیلنا - (کھے - نا) [۱]۔ مٹ) [۱۵]۔ ناؤ چلانا، پھوڑے کشتی چلانا - (۲)۔ برداشت  
 کرنا - سہنا - (۳)۔ جلانا - آگ پر رکھنا - دھونی دینا - (۴)۔ ضرورت پر  
 کسی کے کام آنا -  
 کھینچ - (۱)۔ مٹ) [۱]۔ کشش - کھینچاؤ - (۲)۔ کمی - قلت - قحط - کال -  
 کھینچ ہونا - (۱)۔ محاورہ) زبردستی ہونا -  
 کھینچ مٹان کے - (۱)۔ تابع فعل) کوشش سے - زبردستی - گھسیٹ گھٹ  
 کر - بدقت - مشکل -  
 کھینچ کرنا - (۱)۔ محاورہ) کمی کرنا - رکاوٹ کرنا -  
 کھینچ لانا - (۱)۔ محاورہ) پھڑلانا - گھسیٹ لانا -  
 کھینچتانی - (کھین - چا - تا - نی) [۱]۔ مٹ) [کٹنا - کش - لڑائی جھگڑا -  
 کھینچنا - (کھینچ - نا) [۱]۔ مٹ) [۱۵]۔ کھیلنا، تماننا - اچھنا - (۲)۔ جذب کرنا -  
 چڑھنا - (۳)۔ غور کرنا - اکرنا - (۴)۔ جلد جلد لکھنا - (۵)۔ تصویر بنانا -  
 عکس آنا - (۶)۔ میان سے تلوار باہر نکالنا - (۷)۔ باہر لانا - نکالنا -  
 (۸)۔ گناہ، (۹)۔ لگانا، چڑھانا، (۱۰)۔ روکنا - سینا - (۱۱)۔ بھرنا - لبا یا ٹھنڈا  
 سانس لینا - (۱۲)۔ حلقہ بنانا - گھیرنا - اساطیر کرنا - سرکل بنانا - (۱۳)۔  
 کاڑھنا، نقش بنانا - (۱۴)۔ اوپر لانا - اوپر چڑھانا - (۱۵)۔ چلانا، پانڈھنا -  
 کھینوا - (کھے - وا) [۱]۔ مٹ) [۱۵]۔ ناؤ کا گراہ - (۲)۔ کشتی - ناؤ - (۳)۔ دریا کے  
 پار اترنا - (۴)۔ کشتی میں بیٹھنے والوں کا گروہ -  
 کھینوا پار کرنا - (لگانا) - (۱)۔ محاورہ) ۱۵۔ کشتی کو کنارے پہنچانا - میرا پار لگانا -  
 (۲)۔ عاقبت بچ کرنا - نجات دینا -  
 کھیوٹ - (کھے - وٹ) [۱]۔ مٹ) [۱۵]۔ وہ سرکاری زمین جس میں گول  
 کی کیفیت مندرج ہوتی ہے - کاغذات بند و برت - (۲)۔ خراج  
 کی قسط - (۳)۔ قلع -  
 کھیوٹ دار - (۱)۔ صفت) گاؤں کا شریک - شریک حصہ -  
 کھیوٹ کھنونی - (۱)۔ مٹ) [۱۵]۔ گاؤں کے بندوبست کا حساب کتاب -  
 (۲)۔ مالکان اور ان کی زمینوں کا حساب کتاب -  
 کھیوٹیا - کھیوٹ ہار - کھیوٹیا - (کھے - وٹ - یا - کھے - ون - ہار - کھے  
 وکی - یا) [۱]۔ مٹ) [۱۵]۔ کھوٹیا - کشتی بان - قلع - مانجھی -  
 کھیبی - (کھے - ای) [۱]۔ مٹ) [۱۵]۔ سوسھی ہوئی جھاڑی یا جھڑی کے  
 وہ درخت جو ہار لگانے اور جلانے کے کام آتے ہیں -

## ک - ۶

کٹی - (ک - ای) [۱]۔ صفت) چند - کتنے ہی - دوچار -  
 کٹی ایک - (۱)۔ صفت) چند - چند ایک - دوچار -  
 کٹی ہار - (۱)۔ تابع فعل) چند مرتبہ - چند بار - اکثر - بار بار - کتنی دفعہ -

کئی ہاتھ - (۱) تابع فعل (چند ہاتھ - بہت سا۔

## ک۔ی

کی - (۱) حرف اضافت (کا کی تائینث -

کی خاطر (۱) تابع فعل کے لیے -

کے - (۱) حرف جار (۱) کا کی جمع - الفاظ جمع سے پہلے "کا" کی جگہ مستقل ہونا ہے - (۲) دونوں کے درمیان اظہار عطف کے لیے جیسے پڑھ کے آیا -

کے - (۱) استفہام عددی کہتے؟

کے بار - (۱) تابع فعل کتنی دفعہ -

کے - (۱) حرف جار (۱) رٹا بادشاہ (۲) خاندان کی نیاں کا بادشاہ (حرف

استفہام اکب -

کے آمدی دسکے پیر شدی - (۱) مثل (مثل) تھوڑے پتھر لے پر اترانے دے کو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ کرو تو سہی، اتنی جلدی کہاں سے سب سے کار ہو گئے -

کیا - (۱) استفہام (۱) چہ (۲) آیا - (۳) خواہ - (۴) پہلے - (۵) کس قدر کتنا - (۶) استفہام انکاری - (۷) کون - (۸) کلام - (۹) اظہار عظمت کے لیے - (۱۰) برائے نفی - (۱۱) برائے تعین و افزین - (۱۲) کراہت و نفرت کے واسطے - (۱۳) کونسی بڑی بات ہے - (۱۴) کیوں - کس لیے - کس واسطے - (۱۵) حیرت و تعجب - (۱۶) برائے کثرت -

کیا آدمی ہے - (۱) محاورہ (خوب آدمی ہے - (۲) [ظفر] بڑا اثری آدمی ہے -

کیا آسمان کے تارے ہیں - (۱) مثل (ایسی نایاب چیز تو نہیں کہ نہ مل سکے -

کیا آگ لگاؤں؟ (۱) محاورہ (کیا کروں - نہایت بیزاری اور اکراہ کے موقع پر بولتے ہیں -

کیا آگ لینے آئے تھے؟ (۱) محاورہ (فورا آکر چلے جانے والے کی نسبت طنزاً بولتے ہیں -

کیا آنکھوں میں خاک ڈالتے ہو - (۱) محاورہ (کیا صریح دھوکا دیتے ہو - کیا آئے کیا چلے - (۱) محاورہ (جب کوئی آتے ہی جانے کا ارادہ کرنا ہے تو اس وقت بولتے ہیں کہ یہ آمانہ آنا تو برابر ہے -

کیا اجارہ ہے - (۱) محاورہ (قابو نہیں - دعوے نہیں - کیا ادھار کی ماں مری ہے - (۱) محاورہ (کیا لین دین کا دستور دنیا سے لٹو گیا ہے - لہذا دو گے تمہارا دوہرا جانی موجود ہے - جب کوئی قرض دینے میں حجت کرے تو کہتے ہیں -

کیا اصل ہے - (۱) محاورہ (کیا حقیقت ہے - کیا اٹھاڑ سکتا ہے - (۱) محاورہ (کچھ نقصان یا سز نہیں پہنچا سکتا -

کیا اُن ہی کے سر ٹیکا دسہرا ہے - (۱) محاورہ (یہ کام اُن ہی پر موقوف و متعمر نہیں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں -

کیا ایسے لعل گئے ہیں - (۱) محاورہ (کون سی خوبی ہے - کیا بات ہے - (۱) محاورہ (کیا کہنا ہے - کیا خوب؛ سبحان اللہ؛ شاباش؛ مرجبا؛ واہ؛ وا؛ [ظفر] ابھی کہا جاتا ہے -

کیا بات رہی - (۱) مقولہ (کیا عورت رہی - کیا بڑا تھا - (۱) محاورہ (بہت اچھا تھا - بہت غنیمت تھا - کیا برائی ہے - (۱) محاورہ (کچھ عجیب نہیں -

کیا بڑا کام ہے - (۱) محاورہ (کچھ نہیں - آسان کام ہے - کیا بڑی عمر ہے - (۱) محاورہ (جب کوئی شخص اپنی یا اپنا ذکر ہوتے وقت آجاتے تو اسے یہ فقرہ سناتے ہیں - اور خیال کرتے ہیں

کہ ایسے شخص کی عمر بڑی ہوتی ہے - کیا بسا طے ہے - (۱) محاورہ (کوئی قیمت نہیں - کچھ حقیقت نہیں - کیا بکتا ہے - (۱) محاورہ (خط لکتا ہے - بے ہودہ کہتا ہے -

کیا بگڑتا ہے - (۱) محاورہ (کیا نقصان ہوتا ہے - کیا بلا - (۱) صفت (عضب کا - قیامت کا - کیا بلا ہے - (۱) محاورہ (کوئی چیز نہیں - کچھ نہیں - بیچ ہے

کیا بلی نے چھینک دیا ہے - (۱) محاورہ (تم نے کیوں اس کام کو نہیں کیا - کیا بورے لڈو ہیں - (۱) محاورہ (کوئی نایاب چیز نہیں -

کیا بھاڑ میں جھونکیں - (۱) محاورہ (بیکار ہے - فضول ہے - کیا بھروسہ ہے - (۱) محاورہ (کیا اعتبار ہے - کچھ ٹھکانا نہیں - اطمینان کے قابل نہیں -

کیا پاؤ گے - (۱) محاورہ (کچھ نہیں ملے گا کچھ حاصل نہ ہوگا - کیا پاؤں میں ہند کی لگی ہے - (۱) محاورہ (کونسی بات یہاں آنے میں مانع ہے - جب کوئی شخص تکبر کے باعث آنے جانے میں چھوڑ کر سے تو اس موقع پر بولتے ہیں -

کیا پدمی کیا پدمی کا شور با - (۱) مثل (نہایت بے قدر اور حقیر چیز کی نسبت بولتے ہیں -

کیا پروا ہے - (۱) محاورہ (کچھ مضائقہ ہے - کیا بات ہے! کیا پڑی ہے - (۱) محاورہ (کیا فکر ہے -؟

کیا پوچھنا ہے -! کیا کہنا ہے! کیا بات ہے! کیا پھولا پھرتا ہے - (۱) محاورہ (کیوں اس قدر غافل ہے - کیوں اس قدر مضروب ہے -

کیا تعلق ہے - (۱) محاورہ (کوئی تعلق نہیں - کیوں - کس وجہ سے - کیا تماشا ہے - (۱) محاورہ (حیرت کے قابل بات ہے - اٹھی بات ہے! کیا تمہارے شرخاب کا پر لگا ہے -؟ تم میں کونسی خوبی ہے؟ کیا تہی

سب سے بڑھ کر ہو - کیا تھا کیا ہوا - کیا تھا کیا ہو گیا - (۱) محاورہ (۱) بنا ہوا کام یا بنی ہوئی بات بگڑ گئی - (۲) زمانہ درگزر اور الٹ پٹٹ ہو گیا -

عادت ڈالی ہے۔

کیا وال بجات کا نوا رہے؟ (۱۰۔ مثل) کچھ آسان بات نہیں۔  
کیا دخل ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) ممکن نہیں۔ کیا ممکن۔  
کیا درجہ رکھا ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیا حال کر رکھا ہے۔ کیا درگت بنا  
رہی ہے۔

کیا درزی کا کوچ کیا مقام۔ (۱۰۔ مثل) اکیلے آدمی کو سفر و حضر میں کئی  
”کلیف نہیں ہوتی۔“ منگس کو سفر کا زور نہیں کرنا پڑتا۔

کیا دم (زندگی) کا بھر دسہ ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) زندگی کا کچھ نمنا نہیں  
کیا دم ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) اچھی طاقت ہے۔ بہت دم ہے۔

کیا دل تھے۔ (۱۰۔ محاورہ) ایام گذشتہ کیسے اچھے تھے جو اب یاد  
آتے ہیں۔

کیا دوسرے۔ (۱۰۔ مثل) کچھ تعجب نہیں۔ کچھ بعید نہیں۔  
کیا دھوپ میں بال سفید کیے ہیں؟ (۱۰۔ مثل) بوڑھے اور عمر رسیدہ  
ہونے پر بھی کوئی تجربہ نہ ہوا۔

کیا ڈر ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کچھ مضائقہ نہیں۔ کیا اندیشہ ہے۔ کوئی  
نقصان نہیں۔

کیا ذکر ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) قطعاً انکار کرنے کے موقع پر بولتے ہیں کسی  
چیز کا وجود کیا، اس کا تو ذکر تک نہیں۔

کیا رکھا ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کچھ باقی نہیں۔ (۲۰) کیا خصوصیت ہے۔  
کیا انوکھا پان ہے۔

کیا رنگ ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیسی حالت ہے۔ کیا حال ہے۔  
کیا رہا۔ (۱۰۔ محاورہ) کوئی امید نہیں رہی۔ (۲۰) کچھ باقی نہیں رہا۔  
آس ٹوٹ گئی۔ توقع اٹھ گئی۔ وقت نزع قریب آ پہنچا ہے۔

کیا زمانہ ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیسا بڑا وقت ہے۔ کیا انقلاب ہے۔  
کیا سانپ سونگھ گیا ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیوں نہیں بولتے۔

کیا سانپ کا پاؤں دیکھا ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) جب کوئی ناممکن بات  
ہو تو کہتے ہیں۔

کیا سبب۔ (۱۰۔ محاورہ) کس وجہ سے۔ کس غرض سے۔  
کیا ستم ہے؟ (۱۰۔ محاورہ) اندھیرے۔ تہرے۔

کیا سمجھا تھا۔ (۱۰۔ محاورہ) شاید کچھ اور سمجھا تھا۔ جیسا مشاہدے اور  
تجربے میں آیا ویسا ہی سمجھا تھا۔

کیا سمجھ کر؟ (۱۰۔ تابع فعل) ناحق۔ عبث۔ اپنی بساط اور فہم کے خلاف  
سمجھ کر۔

کیا سوچھی؟ (۱۰۔ محاورہ) کیا خیال پیدا ہوا۔ کیا دھن بندھی ہے۔  
کیا سے کیا ہو جانا۔ (۱۰۔ محاورہ) انقلاب عظیم ہو جانا۔ کچھ کا کچھ ہو جانا۔

کیا شاخ تنکلی ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کونسی اڑھی اور عجیب بات ہو گئی  
ہے۔ ایسی کیا شان شکوہ اور شیخی بڑھ گئی ہے۔

کیا شان میں بٹا لگ جائے گا۔ (دیکھتے پڑ جائیں گے)؟ (۱۰۔ محاورہ)  
کونسا عرت میں بٹا لگ جائے گا۔ جب کوئی شخص کسی کام کے کرنے

کیا ٹوٹا کرنے آئی نہیں؟ (۱۰۔ محاورہ) جب کوئی عورت اگر جلد  
چلی جائے یا تھوڑی دیر کے لیے آئے تو طنزاً یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔

کیا ٹھکانہ۔ (۱۰۔ محاورہ) کوئی حد نہیں۔ کوئی انتہا نہیں۔  
کیا جاتا۔ (۱۰۔ محاورہ) کون سا نقصان ہو جاتا۔ کون سا کام بگڑ جاتا۔ کیا بگڑتا۔

کیا جاتی دنیا دیکھی ہے؟ (۱۰۔ محاورہ) جب کسی بے رحم اور بے مروت  
سے کوئی رحم یا مروت کا کام ہو جائے یا کسی تخیل سے سخاوت ظہور  
میں آئے تو اس وقت کہتے ہیں۔ کیا سبب ہوا جو تم نے دنیا کو فانی

سمجھ کر خلاف عادت بات کر دی ہے۔  
کیا جان پائی ہے۔ کیا جان ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیا تاب و طاقت اور  
کیا مجال ہے۔!

کیا جانے۔ کیا جانیے۔ (۱۰۔ محاورہ) خدا جانے۔ ہمیں خبر نہیں۔ لاعلمی  
ظاہر کرنے کو بولتے ہیں۔

کیا جائے گا۔ (۱۰۔ محاورہ) کیا نقصان ہو گا؟  
کیا جوڑ۔ (۱۰۔ محاورہ) کیا مقابلہ۔

کیا چاہیے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیا ضرورت ہے۔ کس چیز کی حاجت ہے۔  
کیا مانگتے ہو۔ (۲۰) کیا بات ہے۔ کیا کہنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے۔

کیا چلائی۔ (۱۰۔ محاورہ) کیا بات ہے۔ کیا کہنا ہے۔  
کیا چلے۔ (۱۰۔ محاورہ) کچھ تو اور اختیار نہیں۔ عالم جمہوری و ناچار کی ہے۔  
کیا چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ (۱۰۔ محاورہ) جب کوئی شخص کسی کام کے  
کرنے میں سعی کرے تو طنزاً یہ کلمہ زبان پر لاتے ہیں۔

کیا چھاتی ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیا سہل ہے۔ بڑا سہل ہے۔  
کیا چیز ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیا حقیقت ہے۔ کم قدر اور حقیر چیز کی نسبت  
بولتے ہیں۔

کیا حقیقت ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کچھ حقیقت نہیں۔ ذلیل ہے۔  
بیچ ہے۔

کیا خاک رہا۔ (۱۰۔ محاورہ) کچھ نہیں رہا۔ کچھ نہیں بچا۔  
کیا خاک ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) دیکھیے کیا چیز ہے۔

کیا خبر۔ (۱۰۔ محاورہ) خدا جانے۔ کیا معلوم۔ کچھ خبر نہیں۔  
کیا خدائی ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) خدا تعالیٰ کی کیسی قدرت اور کیسی شان ہے!  
خدا کی قدرت ہے۔

کیا خوب۔ (۱۰۔ تابع فعل) (۱۰) کلمہ طنز و تعریف (واہ۔ کیا کہنا  
ہے۔ سیمان اللہ۔ ۲۰) ہوش کی کو عقل سے بات کرو۔

کیا خوب آدمی تھا۔ (۱۰۔ محاورہ) کسی نیک آدمی کے مرمانے کے بعد  
جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کلمہ اسوس کے ساتھ زبان پر  
لاتے ہیں۔

کیا خوب آدمی ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) نہایت اچھا آدمی ہے۔ قابل تعریف  
ہے۔ بھلا مانس ہے۔

کیا خوب سمجھتے ہیں۔ (۱۰۔ محاورہ) آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔  
کیا خوشگالی ہے۔ (۱۰۔ محاورہ) کیسی عادت امتیاز کی ہے۔ کیا بُری

میں پس و پیش کرتا ہے اس وقت طنز یا فقرہ بولا جاتا ہے۔  
 کیا شک ہے؟ (۱۔ محاورہ) یقین ہے۔  
 کیا شے ہے۔ (۱۔ محاورہ) عجیب چیز ہے۔ (۲۔ محاورہ) بے وقعت ہے۔ بے قدر ہے۔  
 کیا ضرور ہے۔ (۱۔ محاورہ) کوئی ضرورت نہیں۔  
 کیا علاج (ہے)۔ (۱۔ محاورہ) کچھ چارہ نہیں۔ کوئی تدبیر نہیں۔  
 کیا عرض۔ (۱۔ محاورہ) کیوں۔ کس لیے۔  
 کیا غضب کیا۔ (۱۔ محاورہ) کیا تہر کیا۔ بڑا ستم کیا۔  
 کیا غضب ہے۔ (۱۔ محاورہ) اندھیرے تہرے۔ ستم ہے۔  
 کیا غم ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا اندیشہ ہے۔ کیا فکر ہے۔ (۲۔ کچھ ڈر نہیں۔ کیا مضائقہ ہے۔  
 کیا فائدہ۔ (۱۔ محاورہ) بے فائدہ۔ بے نتیجہ۔  
 کیا فرض ہے۔ (۱۔ محاورہ) کچھ فرض نہیں۔ کچھ ضرورت نہیں۔ کوئی ٹکڑی نہیں۔  
 کیا فائنٹی کی گدھی چڑائی ہے؟ ہم نے کونسا گناہ یا جرم کیا ہے جس کے سبب ڈریں؟  
 کیا فائنٹی گلہ کرے گا؟ (۱۔ مثل) کچھ نقصان یا ضرر نہیں ہوگا۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ کوئی نام نہیں دھرے گا۔ کوئی منہ پر بات نہ لائے گا۔  
 کیا تہر ہے۔ (۱۔ مثل) کیا غضب ہے۔ کیا ستم ہے۔  
 کیا نیامت ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا بڑا ہے۔ کیا ستم ہے (۲۔ نہایت خوبصورت ہے۔ کس قدر حسین ہے۔  
 کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے۔ (۱۔ مثل) بے وقوف ہر جگہ ہوتے ہیں۔  
 کیا کام؟ (۱۔ تابع فعل) کچھ کام نہیں۔  
 کیا کچھ؟ (۱۔ تابع فعل) کس قدر۔ کتنا۔ بہت کچھ۔  
 کیا کچھ سنا چاہتے ہو۔ (۱۔ محاورہ) کلہ استغیا میر۔ گائیاں سننے کو جی چاہتا ہے۔  
 کیا کرنا ہے۔ (۱۔ محاورہ) ایسا نہ کر۔ کیا کام کر رہے۔  
 کیا کر لیا۔ (۱۔ محاورہ) کیا نقصان پہنچا یا۔ کچھ نقصان نہ پہنچا کے۔  
 کیا کروں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) جیرانی۔ تیج اور مجبوری کے موقع پر پولا جاتا ہے۔ یعنی جیران ہوں مجبور ہوں۔ کوئی تدبیر تیار۔ کسی طرح تیار دو۔ (۲) کس کام میں لاؤں؟ مجھے نہیں چاہیے۔  
 کیا کرے۔ (۱۔ محاورہ) مجبور ہے۔ کچھ علاج نہیں ہو سکتا۔  
 کیا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ (۱۔ محاورہ) کچھ نہیں کر سکتا یا کیا کر سکتا ہے۔  
 کیا کرے گا ڈر کہ جسے دے مولاً۔ (۱۔ مثل) جسے سولا دے اُسے۔  
 تدبیر ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دین میں کسی کو دخل نہیں۔  
 کیا کمی ہے۔ (۱۔ محاورہ) سب کچھ ہے۔ بہت کچھ ہے۔  
 کیا کوسوں؟ کیا کہہ کر کوسوں؟ (۱۔ محاورہ) سرتو ایسے ناراض ہیں کہ کوئی بددعا بھی ایسی نہیں پلے جسے اس طالع کو رفع کرے اور ہمارا دل خندا ہو۔

کیا کوئی آگ لگائے۔ (۱۔ محاورہ) بالکل بے کار ہے۔  
 کیا کہنا ہے۔ (۱۔ روزمرہ) کلمہ نعتین وطنز۔ کیا بات ہے؛ کیا پوچھنا ہے!  
 کیا کہیں۔ مجبوری اور بے بسی ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیا بیان کریں کیا شکایت کریں۔ قابل بیان نہیں۔  
 کیا کہیں گے۔ (۱۔ محاورہ) کیا خیال کریں گے۔ کیا شبہ کریں گے۔  
 کیا کیا؟ (۱۔ تابع فعل) افسوس۔ تعجب۔ حیرت اور پریشانی کے موقع پر بولتے ہیں۔ یعنی برا غضب کیا۔ نہایت شرم کی بات ہے۔ (۲) کون سا بڑا کیا۔ کوئی بے جا بات نہیں کی۔  
 کیا کیا؟ (۱۔ تابع فعل) (۱) کون کون سا۔ (۲) سب کچھ۔ کس قدر۔ کیسے کیسے۔ کیا کیا کچھ۔ (۱۔ تابع فعل) کون کون سی بات۔ کون کون سی چیز بہت کچھ کیا کیا کچھ کہا۔ کیا کیا کچھ نہ کہا۔ (۱۔ محاورہ) بہت بڑا بھلا کہا۔ کون کون سی بات نہ تھی۔  
 کیا کیا نہ ہوا۔ (۱۔ محاورہ) کون سی بات رہ گئی۔ کون سی بے عزتی تھی جو باقی رہ گئی۔  
 کیا کیجیے۔ (۱۔ روزمرہ) کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔  
 کیا کہ گزری؟ کیوں کہ سبیر ہوئی۔ کیا ہوا؟  
 کیا گت ہو گئی۔ (۱۔ محاورہ) کیا حالت ہو گئی۔  
 کیا گل پھولا (کھلا) ہے۔ (۱۔ مثل) کیا ہنساں اٹھا ہے۔ کیا خردالی نکل چھو؟ کون سی عجیب و غریب بات ظہور میں آئی ہے؟  
 کیا گونگے کا گونگہ لایا ہے؟ (۱۔ مثل) کیوں نہیں بولتے۔ کیوں خاموشی اختیار کر لی ہے۔ کس لیے گونگے بن گئے ہو؟  
 کیا گیا۔ (۱۔ محاورہ) کیا نقصان ہوا۔  
 کیا نعل لگے ہیں۔ کیا ایسے نعل لگے ہیں؟ (۱۔ مثل) کون سی خوبی ہے (وطنز)۔  
 کیا لگتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا خرچ (نقصان) ہوتا ہے۔ (۲) کچھ تجنب نہیں۔  
 کیا لوگے۔ (۱۔ محاورہ) کیا فائدہ اٹھاؤ گے۔ کیا حاصل ہوگا۔ کیا پاؤ گے۔  
 کیا مال ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا حقیقت ہے نہایت کم قدر اور حقیر ہے۔ بے حقیقت اور ناچیز ہے۔ کون ہے۔  
 کیا مجال ہے۔ (۱۔ محاورہ) کیا مقدور ہے۔ کیا تاب و طاقت ہے۔ کیا کر سکتا ہے۔ کیا حوصلہ ہے؟  
 کیا مچھلیاں سڑی جاتی ہیں؟ (۱۔ مثل) کیا جلدی تھی۔ کس بات کی جلدی پڑی تھی۔  
 کیا مذکور۔ (۱۔ روزمرہ) (۱) کیا تعریف۔ (۲) کچھ توقع نہیں۔ عمل نہیں۔  
 کیا مزے کی بات ہے۔ (۱۔ روزمرہ) کس قدر حیرت انگیز ہے جس قدر پر لطف بات ہے!  
 کیا مصیبت ہے۔ (۱۔ روزمرہ) بڑی مصیبت ہے۔  
 کیا معرکہ مارا۔ (۱۔ روزمرہ) بڑی فتح حاصل کی۔



کیا ہو گیا۔ (۱۔ روزمرہ) (۱) حیرت تعجب۔ افسوس اور دفعہ کسی معنی کے درگوں بولنے پر بولتے ہیں۔ (۲) کچھ ڈر نہیں۔  
کیا ہوتا ہے۔ (۱۔ روزمرہ) کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بیکار ہے۔ (۲) اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ کیا انقلاب ہوتا ہے۔  
کیا ہے۔ (۱۔ تابع فعل) (۱) بہت ہی۔ بجزرت۔ (۲) عمدہ۔ حسبِ خواہ۔ مبارک۔

کیا ہے (۱۔ روزمرہ) (۱) کیا بات ہے۔ کیا معاملہ ہے۔ (۲) کون ہے۔ (۳) بیکار ہے۔ بنگما ہے۔ بے حقیقت ہے۔ (۴) کیوں ہے۔ (۵) کیا کہتے ہو۔

کیا بچھڑے لہ مار تے ہیں۔ (۱۔ مثل) [طنزاً] آنے سے کیوں ڈرتے ہو؟  
کیا یاد کرو گے۔ کیا یاد رکھو گے۔ (۱۔ محاورہ) بہت یاد رکھو گے۔ مدت تک یاد کرتے رہو گے۔

کیے کا پھیل پانا۔ (۱۔ محاورہ) بڑے اعمال کی سزا پانا۔

کیا۔ (دک۔ یا۔ ق) (۱۔ مذکر) کہا۔ حکم۔  
کیا۔ (دک۔ یا۔ جھ) (۱۔ مذکر) کیا ہوا فعل۔ عمل۔ بڑے افعال۔  
کیا آگے (سامنے) آئے۔ (۱۔ محاورہ) بڑے فعل کا نتیجہ اٹھانا پڑے۔

کیا پانا۔ (۱۔ محاورہ) دیکھیے۔ کیا آگے آنا۔  
کیا دھرا اکارت ہونا۔ (۱۔ محاورہ) جو کچھ کیا تھا سب غارت ہو جانا۔  
کیا کرنا۔ (۱۔ محاورہ) پیشہ کوئی کام کرنا۔ کوئی کام مسلسل کرنا۔

کینا۔ (ع۔ صفت) مکار۔ عیار۔ فریبی۔ مکر کرنے والا۔  
کیاری۔ (دک۔ یا۔ بری) (۱۔ صفت) اکھیت یا باغ کا چھوٹا حصہ یا تختہ۔ تختہ باغ۔

کیاست۔ (دک۔ یا۔ سرت) (ع۔ ا۔ صفت) [دانا] زیرکی۔ فہم و فراست۔ ہوش و خرد۔

کیانی۔ (دک۔ یا۔ نی) (ع۔ صفت) کے کی طرف منسوب۔ بادشاہوں کے لائق۔

کیانگ۔ (دک۔ یا۔ مذ) تبت کا گرجا۔

کینبرا۔ (Cabaret) (انگ۔ ا۔ مذ) ناچ کی ایک قسم۔

کینبن۔ (Cabin) (کے۔ بن) (انگ۔ ا۔ صفت) کڑھڑی۔ کمرہ۔

کیبل۔ (Cable) (کے۔ بن) [سمنڈر کا برقی تار۔ بحری تار۔

کیبنٹ۔ (Cabinet) (کے۔ بن) [کابینہ] (انگ۔ ا۔ صفت) [کابینہ] (۱۔ صفت) [کابینہ] (۲) وزیروں کی مجلس۔ کابینہ (۳) چھوٹا کمرہ۔ کونٹری۔

کیپ۔ (Cap) (انگ۔ ا۔ صفت) [کپ] (۱۔ صفت) [کپ] (۲) ٹوپی۔

کیپٹن۔ (Captain) (کیپ۔ ٹن) (انگ۔ ا۔ صفت) [کپٹن] (۱) ایک فوجی عہدہ۔

کیپٹن۔ سردار۔ لیڈر رکھیا۔ (۲) جہاز پاکستان۔ جنگی جہاز کا سردار۔

کیپسول۔ (Capsule) (کیپ۔ سول) (انگ۔ ا۔ صفت) [کپسول] (۱) گویاں

کیا ہوتا ہے۔ (۱۔ روزمرہ) کیا حاصل ہوتا۔ کیا فائدہ ہوتا۔ کون سا کام بناتا۔ (۲) کیا بگڑ جاتا۔ کیا نقصان ہو جاتا۔ (۳) کیا مصیبت پڑتی۔ (۴) کیا اچھا ہوتا۔ !

کیا ہوگا۔ (۱۔ روزمرہ) (۱) کیا پیش آئے گا۔ کیا گذرے گا۔ (۲) کیا نقصان ہوگا۔ کیا بگڑے گا۔ (۳) کونسی آفت آجائے گی؟ (۴) کچھ نہیں ہوگا۔

کیا مقدر۔ (۱۔ روزمرہ) کیا حیثیت۔ کیا مجال۔ کیا تاب۔

کیا معنی؟ (۱۔ محاورہ) (۱) کیا وجہ۔ کیا سبب۔ کیوں۔ (۲) کیا مراد۔ کیا غرض۔ (۳) کیا حوصلہ۔ کیا مجال۔

کیا ممکن۔ (۱۔ روزمرہ) ناممکن ہے۔ نہیں ہو سکتا۔

کیا مُنہ۔ (۱۔ محاورہ) کیا مجال۔ کیا اُترتے۔ کیا حقیقت۔

کیا مُنہ پر پھٹکار برستی ہے۔ (۱۔ مثل) کیا لعنت برستی ہے۔ کیا بے لگتی اور اڑاں چرو ہے۔

کیا مُنہ دکھاؤ گے؟ (۱۔ مثل) کیا جواب دو گے؟ کیوں کر سامنے آؤ گے؟ کیا مُنہ دکھائیں۔ (۱۔ مثل) بڑے شرمندہ ہیں۔ سخت منہفعل ہیں۔

کیا مُنہ سے پھول چھڑتے ہیں۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کیسا خوش گفتار و خوش بیان ہے! کیا ایچ ہے! (۲) کونسی شخص کی بولائی پر طنز ناہمی کہا جاتا ہے۔

کیا مُنہ کا لوار ہے؟ (۱۔ مثل) یہ کچھ آسان کام تو نہیں کہ جلد ہو جائے۔ کیا مُنہ لے کر جاؤں۔ (۱۔ مثل) کس مُنہ سے جاؤں۔ جلتے ہوئے شرم آتی ہے۔

کیا مُنہ میں پتھیری (گھنگنیاں) ہے۔ (۱۔ مثل) بولتے کیوں نہیں۔

کیا مُنہ ہے؟ (۱۔ مثل) کیا حوصلہ ہے۔ کیا مقدر ہے؟

کیا ناک لے کر بولتے (بات کرتے) کہو۔ (۱۔ مثل) کس مُنہ سے بات کرتے ہو؟ اپنے گریبان میں منڈال کر شرم ماؤ۔

کیا لشر پیاسے۔ (۱۔ روزمرہ) کیوں بہکی بہکی کرتے ہو۔

کیا تنگی نہاتے گی، کیا پچھڑے گی۔ (۱۔ مثل) منہفلس آدمی کیا دوسے گا۔ کیا دلانے گا؟ منہفلس کے پاس کیا دھرا ہے؟

کیا نہ چاہیے۔ (۱۔ روزمرہ) (۱) کیا نہا ہے۔ کیا بات ہے۔ (۲) سب کچھ چاہیے۔ (۳) سب کچھ موجود ہے۔

کیا واسطہ۔ (۱۔ تابع فعل) (۱) کیا تعلق۔ کیا ملائہ۔ کیا نسبت۔ (۲) کیوں۔ کس لیے۔ کیا سبب؟

کیا ہاتھوں میں ہندی لگی ہے۔ (۱۔ مثل) کام کیوں نہیں کرتے۔

کیا ہستی ہے۔ (۱۔ روزمرہ) کیا حقیقت ہے۔ کچھ حقیقت نہیں۔ کیونہ ہے۔ کیا ہو (۱۔ روزمرہ) تہاری کوئی حقیقت نہیں۔ اب کیا کیا جانتے۔

کیا بچوگا؟ (۱۔ روزمرہ) (۱) کیا سال گرا۔ (۲) کون سا نقصان رہ گیا۔ کیا بچوگا؟ (۳) کیا بات ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ (۴) کچھ تعجب نہیں۔

کیا ہوا تھا؟ (۱۔ روزمرہ) کس خیال میں تھا۔ عقل کہاں تھی۔ حواس کہاں تھے؟

کیا ہوتا؟ (۱۔ روزمرہ) کیا حاصل ہوتا۔ کیا فائدہ ہوتا۔ کون سا کام بناتا۔ (۲) کیا بگڑ جاتا۔ کیا نقصان ہو جاتا۔ (۳) کیا مصیبت پڑتی۔ (۴) کیا اچھا ہوتا۔ !

کیا ہوگا۔ (۱۔ روزمرہ) (۱) کیا پیش آئے گا۔ کیا گذرے گا۔ (۲) کیا نقصان ہوگا۔ کیا بگڑے گا۔ (۳) کونسی آفت آجائے گی؟ (۴) کچھ نہیں ہوگا۔

یاد دانی رکھنے کی عملی دارو ڈیبا۔ (۲۰) جھلی دار لغتاً فریاد لغت۔ (۲۱) خاتہ۔  
گھر۔ ڈوڈا۔  
کیبت۔ (۱-۲) ایک درخت اور اس کا ترش پھل۔  
کیبت۔ (۱-۲) ڈا، ڈم دار ستارہ۔ کینٹو (۲) نوال ستارہ۔ (۳) کینٹو  
کا مختلف جو ایک شہور پھل ہے۔ (۴) کوٹرا۔ تازیانہ۔ بید۔ مچی۔  
کیٹک۔ (کی) ٹینک [ق] کہاں تک۔  
کیٹکی۔ (کیٹ) کی، (ہ) مٹ [ا] ایک خوشبودار پودا جو کیوڑے کے  
درخت کے مشابہ ہوتا ہے۔  
کیٹلی۔ (کیٹ) لی، (ا) ر [ا-۱] مونسٹ [ا] انگ (Kettle) کا موڈ  
ایک ٹوٹی والا ظرف جس میں چائے یا پانی جو شش کرتے ہیں۔  
آفتاب۔  
کینٹھا۔ (کے) تھا، [ہ] مذ [ا] دیکھیے کیبت۔  
کینٹھانا۔ (کے) تھا، نا، [ہ] مذ [ا] ذکر [ا] کائناتوں کا محقق۔  
کینٹھولک۔ (Catholic) (کے) تھو۔ تک [ا] انگ۔ مذ [ا]  
گرو اور راج العقیدہ عیسائی۔ رومن کینٹھولک مذہب  
کا پابند۔  
کینٹھی۔ (کے) تھی، [ہ] مڑتھ [ا] ہندی زبان جو کائتھ  
کہتے ہیں۔  
کیتھیڈرل۔ (Cathedral) (کے) تھے۔ ڈ۔ رل [ا] انگ۔  
[ا] مذ [ا] بڑا گرجا جس میں اسقف کا تخت ہوتا ہے کینتھ اسقف۔  
کیبتے۔ (کی) تے [ق] کہتے  
کیٹ۔ (۱-۲) (۱) چراغ کی گاد۔ (۲) حلقے کا میل۔ (۳) کیٹرا کوٹرا۔  
کیٹلاگ۔ (Catalogue)۔ (کیٹ) لاگ [ا] انگ۔ امٹ [ا]  
فرد۔ فہرست۔  
کیچ۔ (Catch) (ا) انگ۔ مذ [ا] پکڑ۔ گرفت۔ کرکٹ میں گیند  
دوبچنے کا عمل۔  
کیچ۔ (کی) پکڑ [ا] (۱-۲) مٹ [ا] گا۔ نلیظ مٹی۔ دلدل۔  
(۳) چرک چشم۔ چیپٹ۔  
کیچڑا اچھلانا۔ (۱) محاورہ، الزام لگانا۔ بتان بانہنا۔ (۲) کیچڑا پھینکانا۔  
کیچڑا کی کوڑی دانوں سے اٹھانا۔ (۱) محاورہ، بے حد تکلیف ہونا۔  
کیچڑا میں پھینکانا۔ (۱) محاورہ، دلدل میں دھنسانا۔ (۲) کسی صیدیت یا  
دقت میں گھرنے۔  
کیچل۔ کیچلی۔ (کے) چیل، کیچ (لی) [ا] مٹ [ا] دیکھیے کیچلی۔ کیچلی۔  
کیچڑا۔ (کیچ) (طے) [ا] مذ [ا] ایک قسم کا لبا اولہ منرخ رنگ کا کپڑا  
جو اکثر برسات کے موسم میں مناک زمیں میں پیدا ہو جاتا ہے (۲)  
ایک قسم کا پیٹ کا کپڑا۔ کرشمہ۔  
کیڈ۔ (۱-۲) مکر۔ فریب۔ دھوکا۔ دغا۔  
کیڈھر۔ (کی) دھر [ا] (۱) تاج فصل [ا] کدھر (ق)  
کیڈٹ۔ (Cadet) (کے) ڈٹ [ا] انگ۔ ا۔ مذ [ا] فوجی کالج

کھالاب علم۔  
کیئر۔ (ق) مذ [ا] (۱) عضو تناسل۔ آلت۔ (۲) کیئر (ق)  
کیئر۔ (کے) را [ا] (۱) صفت [ا] تیلی آنکھوں والا۔ کرنگا۔ ارزق چشم  
کیئر لین۔ (انگ)۔ (۱) مٹ [ا] ایک قسم کا عمدہ کپڑا۔  
کیئرٹ۔ (کی) رت [ا] (۱) مٹ [ا] شہرت۔ نیکی۔  
کیئرٹن۔ (۱-۲) مذ [ا] تعریف۔ ذکر۔ گفتگو۔ (۲) کیمٹوں کا گرتھ صاحب  
کوگا کر پٹھنا۔  
کیئر ٹری۔ (Carrier) (کے) ری۔ (۱) (۱) مٹ [ا] (۲) بوجھ سے  
جانے والا۔ حمال۔ مزدور۔ (۲) بائیسکل کا پچھلا حصہ جس پر ساربا  
باندھا جاتا ہے۔  
کیئر ٹری۔ (Career) (کے) ری۔ (ا) [ا] مٹ [ا] چال۔ روش۔  
ترقی۔ نشوونما۔  
کیئرٹی۔ (کے) ری [ا] (۱) مٹ [ا] کچا آم (۲) ایک قسم کا ظرف جس میں  
عطر رکھ کر گلے میں لگاتے ہیں۔  
کیئرٹی۔ (۱-۲) مٹ [ا] تیلی یا فانتھ رنگ کی آنکھ۔ (۲) کرنجی آنکھ والی عورت۔  
کیئرٹی۔ (۱-۲) کرنجی آنکھ۔ چشم ارزق۔  
کیئرٹی۔ (Character) (کے) ریکٹ۔ ٹر [ا] (انگ)۔ (۱) مذ [ا] کردار۔  
شخص یا قوم کی خصوصیت۔ مہرشت۔ سیرت۔ خاصیت۔  
چال چلن۔ (۲) وہ افراد جو افسانہ نویس وغیرہ اپنے قصوں میں  
ایجاد کرتے ہیں۔ کردار۔  
کیئر ٹری۔ (انگ)۔ (۱) مذ [ا] ایک تختہ جس پر قرص نما ٹیپوں سے کھینچے ہیں۔  
کیئرٹی۔ (Caricature) (کے) ری۔ (کے) پیر [ا] (انگ)۔ (۱) مذ [ا]  
کسی شخص یا چیز کے نمایاں حصے کو لے کر تصویر، تحریر یا بیان کے  
ذریعے سے خاکہ اڑانا۔ خندہ آور بگاڑی ہوئی تصویر۔ جوگی  
تصویر۔  
کیئرٹرا۔ (کی) ٹرا [ا] (۱-۲) مذ [ا] گرم۔ کوٹرا۔ حشرات الارض۔ گھمن۔  
رینکنے والا جانور۔ (۲) سانپ۔ ناگ۔  
کیئرٹرا اچھلانا۔ (۱) محاورہ، عتق مشائخ کا زور کرنا۔  
کیئرٹرا دبانے۔ (۱) محاورہ، نفسانی خواہش کا مٹانا۔ ٹیل مٹانا۔  
کیئرٹرا ساسا۔ (۱) صفت، چھوٹا سا۔ ڈولنا پٹنا۔  
کیئرٹرا کلبانا۔ (۱) محاورہ، خواہش نفسانی کا زور ہونا۔ ٹیل مٹوانے کو دل  
چاہنا۔  
کیئرٹرا لگنا۔ (۱) محاورہ، دیک لگنا۔ گرم خوردہ ہونا۔ گھن لگنا۔  
کیئرٹرا پٹنا۔ (۱) مٹ [ا] سے کسی چیز میں گرم پیدا ہو جانا۔ (۲) عیب  
ہونا۔ نقص ہونا۔  
کیئرٹرا پٹس۔ (۱) روزمرہ۔ (۲) دغاے بد گئے مڑے۔  
کیئرٹرا ڈالنا۔ (۱) محاورہ، عیب نکالنا۔ نقص نکالنا۔  
کیئرٹرا کا چاٹ جانا۔ (۱) محاورہ، کیئرٹرا کے کپڑے کو کھا جانا۔  
کیئرٹرا۔ (کی) ٹری [ا] (۱) مٹ [ا] (۲) چوٹی۔ (۲) جڑ تک۔

**کیفیٹیہا یا۔** ( Cafe Teria ) ( ایکم۔ ۱۔ مذ ] وہ طعام کا چھانچا ہیک  
 عمومی ضرورت کی چیزیں نکال کر استعمال کرتا ہے۔ اپنی خدمت  
 خود کرتا ہے۔  
**کیغہ۔** ( کے۔ قر ) [ ف ۱۰ مذ ] سزا۔ پاداش۔ بڑے کام کا بدلہ۔  
**کیغہ گردوار۔** ( و ت۔ ۱۰۔ مذ ) کیے کی سزا۔ کار بد کی سزا۔ بڑے کام کا بدلہ۔  
**کیغہ گردار کو پہنچنا۔** ( ۱۔ محاورہ ) اپنی سزا کو پہنچنا۔ کیے کی سزا پانا۔ نجات  
 اٹھانا۔ کرنی کا چل پانا۔  
**کیغنی۔** ( کے۔ بی ) [ ع۔ صفت ] ( ۱۔ متوالا۔ مدہوش۔ سرسور۔ محمور۔  
 سرشار۔ نشہ میں چور۔ ( ۲۔ ) [ اُر ] نشہ باز۔  
**کیغنی۔** ( Cafe ) ( کے۔ نے ) [ ایکم۔ ۱۔ مذ ] قہوہ خانہ۔  
**کیغنییت۔** ( کے۔ فی۔ بیت ) [ ع۔ ۱۔ مرث ] ( ۱۰۔ حالت۔ احوال۔ حیثیت۔  
 ( ۲۔ ) عالم۔ رنگ۔ ڈھنگ۔ ( ۳۔ ) [ اُر ] شرح۔ تفسیر۔ تشریح۔ ( ۴۔ )  
 جون۔ رونق۔ ( ۵۔ ) مزہ۔ لطف۔ جمع۔ کیغنیات۔  
**کیغنییت بندوبست۔** ( ع۔ ف۔ ۱۔ مرث ) بندوبست کی رپورٹ۔  
 تحقیقات مکمل ہونے کی رپورٹ۔  
**کیغنییت جب ہے۔** ( ۱۔ محاورہ ) لطف جب ہے۔  
**کیغنییت طلب کرنا۔** ( ۱۔ محاورہ ) استفسار کرنا۔ پوچھنا۔ سرکاری طور پر  
 دریافت کرنا۔ باز پرس کرنا۔  
**کیغنییت لکھنا۔** ( ۱۔ محاورہ ) تحریر کی رپورٹ کرنا۔  
**کیغنییت میں رہنا۔** ( ۱۔ محاورہ ) نشہ میں رہنا۔  
**کیغنیقباد۔** ( دینق۔ باد ) [ ف۔ صفت ] ( ۱۰۔ عادل۔ برحق۔ ) [ مذ ] عجم کا ایک بادشاہ  
 جس نے سو سال تک حکومت کی۔ ( ۲۔ ) دہلی کے بادشاہ مظفر الدین کا  
 لقب جو امیر خسرو کا مدوح تھا۔  
**کیک۔** ( Cake ) ( ایکم۔ ۱۔ مذ ] ایک قسم کی انگریزی مٹائی یا روٹی  
 جو میدہ۔ انڈے۔ میوے وغیرہ وال کر سانچے کے ذریعے تیار  
 میں پکائی جاتی ہے۔  
**کیکاؤس۔** ( کے۔ کا۔ اس ) [ ف۔ ۱۔ مذ ] ایران کا ایک مشہور بادشاہ۔  
**کیکلیاٹ۔** ( کی۔ ک۔ باڑ ) [ ف۔ ۱۔ مذ ] جانوروں کا چارہ۔  
**کیکیر۔** ( کی۔ کر ) [ ہ۔ ۱۔ مذ ] بول کا درخت۔ منیلاں۔  
**کیکیری۔** ( کیگت۔ ری ) [ ہ۔ ۱۔ مرث ] ( ۱۰۔ چھوٹا ٹیکہ۔ ٹیکہ کا پودا۔ ( ۲۔ ) ایک  
 قسم کی بھائی جو کھڑے کو کتر کر کنگرے سے اسی کے اندر بناتے چلے  
 جاتے ہیں۔  
**کیکیرا۔** ( کیگت۔ ٹرا ) [ ہ۔ ۱۔ مذ ] سرطان۔ کرک۔ ایک آبی کیرا جو بچھڑے  
 مشابہ ہوتا ہے۔  
**کیکینا۔** ( کیگت۔ نا ) [ ہ۔ مع ] چینا۔ چلانا۔ پکانا۔ بندر کا کھاری مارنا۔  
**کیکیل۔** ( ہ۔ ۱۔ مرث ) ( ۱۰۔ میخ۔ لوسہ کی کھونٹی۔ ( ۲۔ ) ہاسوں یا چوڑے کے  
 اندر کی جی ہوتی پیپ۔ ( ۳۔ ) ناک میں پینے کا زید جو لونگ کی شکل  
 کا ہوتا ہے۔ ( ۴۔ ) لوسہ کی کپلیں جو پکی میں ہوتی ہے۔ ( ۵۔ ) نشتر۔

**کیس۔** ( Case ) ( ایکم۔ ۱۔ مذ ] ( ۱۰۔ معاملہ۔ وقوعہ۔ حالات۔  
 کیفیت۔ ( ۲۔ ) مقدمہ۔ دعویٰ۔ نالش۔ عرض حال۔ ( ۳۔ ) مرین  
 جو ڈاکٹر کے زیر علاج ہو۔ بیمار کی حالت مرض۔ ( ۴۔ ) ڈھکنا۔ خانہ۔  
 پتی۔ کس۔ ( ۵۔ ) ثابت رکھنے کا خانہ لادر کس یا فریم۔ ( ۶۔ ) نظیر  
 تمثیل۔ حوالہ۔  
**کیس۔** ( ۱۔ ۱۰۔ مذ ] ( ۱۰۔ بال۔ موٹے سر۔ لیے بال۔ ( ۲۔ ) بڑی چوٹی۔  
 کیسا۔ ( کے۔ سا ) [ ہ۔ صفت ] ( ۱۰۔ کس قسم کا۔ ( ۲۔ ) کس چیز کا۔  
 ( ۳۔ ) کس کام کا۔ ( ۴۔ ) کیوں۔ کس لیے۔ ( ۵۔ ) کس قدر۔ کتنے۔ کس وجہ۔  
 از حد ( ۶۔ ) کس ڈھنگ سے ( ۷۔ ) استفہام ( کھاری ) کیا ذکر۔  
 ( ۸۔ ) کہاں کا۔ کس کا۔  
**کیسا علاج کرتا ہوں۔** ( ۱۔ محاورہ ) قرار دانی سزا دینے کی جگہ بولتے  
 ہیں۔  
**کیسا کیسا۔** ( ۱۔ ) ( ۲۔ ) ( ۳۔ ) ( ۴۔ ) ( ۵۔ ) ( ۶۔ ) ( ۷۔ ) ( ۸۔ ) ( ۹۔ ) ( ۱۰۔ )  
**کیسا ہی۔** ( ۱۔ ) ( ۲۔ ) ( ۳۔ ) ( ۴۔ ) ( ۵۔ ) ( ۶۔ ) ( ۷۔ ) ( ۸۔ ) ( ۹۔ ) ( ۱۰۔ )  
**کیسیر۔** ( کے۔ سر ) [ ہ۔ ۱۔ مرث ] زعفران۔ زرد رنگ کا ایک نہایت  
 خوشبودار پھول۔  
**کیسیری۔** ( کیسین۔ ری ) [ ہ۔ صفت ] زعفرانی۔ زرد۔  
**کیسری پانا۔** ( ہ۔ ۱۔ مذ ] زعفرانی پوشاک جو ہندو ڈولہا کو پہناتے  
 ہیں۔ ہندو راجپوت میدان جنگ میں یہی لباس پہن کر جایا  
 کرتے تھے۔  
**کیسہ۔** ( کی۔ سر ) [ ف۔ ۱۔ مذ ] جیب۔ پاکٹ۔ تھیلہ۔  
**کیسہ بڑ۔** ( و ت۔ صفت ) گتھ کتر۔ جیب کتر۔ اچکا۔  
**کیسے میں نہیں کھل کی ڈلی** { ( ۱۔ ) مثل ) منطقی میں اترانا  
**کیسی۔** ( کے۔ سی ) [ ہ۔ صفت ] ( ۱۰۔ ) ( ۲۔ ) ( ۳۔ ) ( ۴۔ ) ( ۵۔ ) ( ۶۔ ) ( ۷۔ ) ( ۸۔ ) ( ۹۔ ) ( ۱۰۔ )  
**کیسی مسجد کیسا مندر،** جو دیکھو وہ دل کے اندر۔ ( ۱۔ ) مثل ) یہ قول  
 وحدت الوجود والوں کا ہے۔ اس سے ان کا یہ مراد ہے کہ دل میں  
 سب کچھ موجود ہے۔ خدا پر مجھ موجود ہے۔  
**کیش۔** ( ف۔ ۱۔ مذ ] ( ۱۰۔ مذہب۔ دین۔ اعتقاد۔ ( ۲۔ ) مادت۔ غصلت۔  
 ( ۳۔ ) صفت۔ وصف۔ طور۔ طریقہ۔ ڈھنگ۔ روشنس۔ ( ۴۔ )  
 ترکش۔ تیردان۔  
**کیش۔** ( Cash ) ( ایکم۔ ۱۔ مذ ] نقد روپیہ پیسہ۔ نقدی۔ روکر۔  
**کیش بک۔** ( Cash Book ) ( ایکم۔ ۱۔ مرث ] روکر۔ ہی۔  
 نقد کے حساب کی کتاب۔  
**کیف۔** ( ع۔ ۱۔ مذ ] ( ۱۰۔ نشہ۔ شمار۔ سرور۔ ( ۲۔ ) حالت۔ کیفیت۔  
 کیونکر کیسا۔  
**کیف و کم۔** ( ع۔ صفت ) کیسا۔ کتنا۔

زقبی ڈیرا - نیمہ زن ہونا -

کیکمپ کلرک - (Camp Clerk) [انگ۔ ۱۔ مذ] وہ دفتر یا منشی جو

شکرگاہ میں آمدنی و خرچ وغیرہ کا حساب رکھتا ہے۔

کیکھوت - رکی، محنت، [ف۔ ۱۔ مذ۔ مٹ] گھڑے یا گدھے کی پیٹھ کی کھال۔  
 دانہ دار چیرا - گھوڑے کا چیرا۔

کیکمر - (Camera) [کیئم۔ ع۔ ا۔ انگ۔ ۱۔ مذ] عکسی تصویر کھینچنے کا آلہ۔ (۲)  
 بیج کا پوشیدہ کرا۔

کیکمرک - (Cambric) [کیئم۔ رکت۔ انگ۔ ۱۔ مٹ] ایک نہایت عمدہ اور باربارک لٹھا جوین سکھ کے مشاہیر ہوتا ہے۔

کیکمرٹ - (Chemist) [کے۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] کیسیا دان۔ دواسا۔  
 دوا فروش۔

کیکمرٹری - (Chemistry) [کے۔ مٹ۔ ری] [انگ۔ ۱۔ مٹ]  
 علم کیمیا - (رسانہ دویا)

کیکوس - [کے۔ ٹوس] [کے۔ ۱۔ مذ] وہ رفیق شخص جو عمدہ میں کٹا  
 ہضم ہونے کے بعد پیدا ہو۔ غذا کا معدے میں ڈوسرا ہضم۔

کیکیمیا - [کی۔ می۔ یا۔ ع۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مذ] کو پانڈی یا تانبے کو سونا  
 بنانا۔ (۲) (مجازاً) رسائن - اکسیر (۳) خاصیت و ماہیت اشیا کا

علم - کیمسٹری - (۲) [اے۔ صفت] نہایت مفید - تیر بہدت مینڈیٹیب۔  
 کیسیا اثر - (ف۔ ع۔ صفت) کیمیا کا اثر رکھنے والی چیز - فوری اثر

کرنے والی۔

کیسیا بنانا - (۱) (مادہ) [انگ۔ ۱۔ مٹ] رسائن بنانا - پانڈی کا سونا بنانا۔ (۲) ہطلب حاصل  
 کرنا - آسانی سے روزی حاصل کرنا۔

کیسیا گر - (ف۔ صفت) [انگ۔ ۱۔ مٹ] کیسیا بنانے والا - قورساز - (۲) پالاک -  
 منگار۔

کیسیا گری - (ف۔ صفت) [انگ۔ ۱۔ مٹ] پانڈی سونا بنانے کا فن۔

کیسیا وی - کیمیائی - [کیئم۔ یا۔ وی۔ کیئم۔ یا۔ ای] (ف۔ صفت) آکسیا کے  
 متعلق - کیسیا وی - کیمیا وی اشیا - وہ اشیا جو کیمیا وی اعمال سے حاصل  
 ہوں یا ان میں استعمال ہوں۔

کیسیائی الف - کیمیائی نسبت - (مماندت - (Chemical Affinity)  
 کیمیائی تبدیلی - کیمیائی کا پلٹ - تغیر کنی - بالکل بدل جانا۔ ٹھوس چیز

کیمیائی اور سیال چیز کا گیس بنا - (Chemical Transformation)  
 کیمیائی توازن - کیمیائی مساوات برابر (Chemical Equilibrium)

کیمیائی کاشت - کیمیائی کھیتی باڑی - (Chemiculture)  
 کیمیائے احمد - (ع۔ ۱۔ مٹ) شرح گندھک ہونا یا ب ہے اور جس کے  
 متعلق خیال ہے کہ اس سے تانبے کا سونا بن جاتا ہے۔

کیمن - (ف۔ ۱۔ مٹ) انفاق - حسد بغض - دشمنی - عداوت - بیر۔  
 کیمنال - (کی۔ نال) [ق۔ ۱۔ مٹ] متاع۔

کیمنٹ - (Cantab) [کیمن۔ ٹب] [انگ۔ ۱۔ مٹ] کیمرج یونیورسٹی  
 کے متعلق - کیمرج یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ۔

کیل ڈالنا - (۱) (مادہ) بس میں لانا۔ (۲) سانپ کو منتر کے زور سے  
 ڈسنے سے روکنا۔ (۳) کھیل پر منتر پڑھ کر اس کے ذریعے کسی کو قابو  
 کر لینا۔

کیل کا کھٹکا نہیں - (۱) (مادہ) کسی شے کا خوف و اندیشہ نہیں۔  
 کیل کاٹنا - (۱) (مذ) [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا زیور۔ (۲) بچوں کا ایک کھیل۔

کیل کانٹے سے درست (لیس) ہونا - (۱) (مادہ) مسخ ہونا۔ اپن  
 سامان یکے تیار ہونا۔

کیل گھر - (۱) (مذ) [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 کیل نکالنا - (۱) [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

مادہ نکالنا۔ (۲) مارتے مارتے گوہ نکالنا۔ خوب ٹھیک بنانا۔  
 (۳) گائے بھینس وغیرہ کے بیلے پر قندوں میں سے جھا ہوا اور وہ نکالنا۔

کیللا - [کے۔ لا] [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک درخت اور اس کا پھل جس کی پھلی بچی  
 اور میٹھی ہوتی ہے۔

کیللا - [کی۔ لا] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 گوشت خورد جانوروں  
 کے وہ دونوں بڑے دانت جن کے ذریعے سے وہ گوشت کھاتے  
 یا شکار پکارتے ہیں۔ چیل - کتا دانت۔

کیلسیم - (Calcium) [کیلن۔ س۔ یم] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 کیلٹا - (۱) [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

کونوں میں کیلیں گاڑنا تاکہ وہاں آسبب کا اثر نہ ہو۔ (۲) کیلیں ٹھونکا۔  
 (۳) آنے جانے سے روک دینا۔ (۴) قابو میں کرنا۔ (۵) ہاڈو کے  
 زور سے کسی کو روکنے سے باز رکھنا۔ (۶) تشہیر کرنا۔

کیلنڈر - (Calendar) [کے۔ لن۔ ڈر] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 تقویم۔ نظام۔ فہرست۔ پترا۔

کیلوس - [کے۔ ٹوس] [کی۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 کیلی - [کی۔ لی] [انگ۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مٹ] [انگ۔ ۱۔ مٹ]

کشتی کا ایک داؤل (۲) پیچ۔  
 کیلی بار چلانا - (۱) (مادہ) کٹواں چلانا۔ کٹوں کا پانی بیلوں کے  
 ذریعے سے نکالنا۔

کیلی کرنا - (۱) (مادہ) پیلوانوں کا کشتی کے وقت وہ پیچ کرنا جسے کیلی  
 کہتے ہیں۔ [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

کیلی والا - کیلیا - (۱) (صفت) [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 وہ شخص جو کٹوں کے بیل جوتا ہے۔ (۲)  
 پانی کا چرس ڈالنے اور نکالنے والا۔

کیلیڈسکوپ - (Kaleidoscope) [کے۔ لے۔ ڈوس۔ کوس] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

کیلیڈسکوپ - (Kaleidoscope) [کے۔ لے۔ ڈوس۔ کوس] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

کیلیڈسکوپ - (Kaleidoscope) [کے۔ لے۔ ڈوس۔ کوس] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

کیلیڈسکوپ - (Kaleidoscope) [کے۔ لے۔ ڈوس۔ کوس] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

کیلیڈسکوپ - (Kaleidoscope) [کے۔ لے۔ ڈوس۔ کوس] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

کیلیڈسکوپ - (Kaleidoscope) [کے۔ لے۔ ڈوس۔ کوس] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]  
 [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ] [انگ۔ ۱۔ مذ]

**کیولری** - (Cavalry) [کے۔ ولسر۔ ری] (انگ۔ ۱۔ مٹ) چھاؤنی اور فوج۔ سواروں کا رسالہ۔  
**کیوں** ؟ (۱۔ کلہرے استفہام) کس لیے۔ کس سبب سے۔ کس خاطر۔ کس وجہ سے۔ کس باعث۔

**کیوں** اندھا بنوٹا کیوں دوبلائے۔ (۱۔ مٹ) اپنی بے ذوقی سے دوگنا نقصان اٹھانے کی جگہ بولتے ہیں۔ یعنی اندھے شخص کو بٹاؤ گے تو ایک کے ساتھ دوسرا بھی آئے گا کیونکہ اندھا کسی کی مدد کے بغیر نہیں آسکتا۔

**کیوں** بے۔ کیوں رسے۔ (۱۔ تابع فعل) [حقارتاً] کیوں جی؟ کیوں جان نکلتی ہے۔ کیوں دم نکلتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کس لیے مرا جاتا ہے۔ کس لیے گھبراتا ہے۔ تجھے کیا غرض۔ تجھے کیا مطلب۔ تجھ کو کیا پڑی ہے۔ (۱) جلد ہی کیل ہے۔

**کیوں** جی۔ (۱۔ تابع فعل) کیوں صاحب۔  
**کیوں** چبا چبا کر بائیں کرتے ہو۔ (۱۔ مٹ) کس لیے طنز آمیز باتیں کرتے ہو۔ کس واسطے اس قدر اتراتے ہو۔

**کیوں** وانت نکالتا ہے۔ (۱۔ روزمرہ) بے عمل ہنسنے پر کہتے ہیں۔  
**کیوں** کانٹوں میں گھیسٹے ہو۔ (۱۔ مٹ) کس لیے شرمندہ کرتے ہو۔  
**کیوں** کر۔ (۱۔ تابع فعل) کس طرح۔ کس لیے۔ کیسے۔ کس بنا پر۔

**کیوں** کہ عرض کروں۔ (۱۔ متقولہ) کہہ نہیں سکتا۔ بیان کرنا مشکل ہے۔  
**کیوں** کہ ہو۔ (۱۔ تابع فعل) کیا سامان ہو۔ کیا تدبیر ہو۔ کیسے ہو۔  
**کیوں** کہہ دیکھو کہہ۔ (۱۔ تابع فعل) اس لیے کہ۔ اس طرح کہ۔  
**کیوں** کیسی کہی۔ (۱۔ محاورہ) کیسی انوکھی بات کہی۔

**کیوں** گولہ کا پیٹ پھڑواتا ہے۔ (۱۔ مٹ) کیوں پوشیدہ عیبوں ظاہر کرتا ہے۔  
**کیوں** مرے جانتے ہو۔ (۱۔ محاورہ) کیوں گھبرائے ہو۔ کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہو۔

**کیوں** مغز کھاتا ہے۔ (۱۔ محاورہ) چُپ رہو۔ بگ بگ نہ کرو۔  
**کیوں** نہ ہو۔ (کلہرے تمسین و آفرین) سجان اللہ۔ واہ وا۔ کیا کہنا ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

**کیوں** نہیں۔ (کلہرے اقرار) (۱) کیا وجہ۔ کیا سبب۔ (۱) ضرور۔ بلاشبہ۔ (۱) ایسے ہی ہو۔ ایسا ہی ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے۔  
**کیوں** ہم نہ کہتے تھے۔ (۱۔ محاورہ) آخر وہی ہوا جو ہم کہتے تھے۔

**کیوں** کہاں۔ (کے۔ ہاں) [فت۔ ۱۔ مڈ] دیکھیے گیہاں۔ زمانہ جہاں۔  
**کیوں**۔ (کے۔ ہاں) [فت۔ ۱۔ مٹ] شدید گرمی جب ہوا بند ہو۔ جس کیسے کی سزا پانا۔ (۱۔ محاورہ) نرے کاموں کی سزا کھٹانا۔

**کینٹین**۔ (Canteen) (کین۔ ٹین) (انگ۔ ۱۔ مٹ) چھاؤنی اور باروں میں خورد و نوش کی دوکان۔  
**کینٹیل**۔ کینٹیل۔ (کین۔ ٹیل۔ کینج۔ لی) [فت۔ ۱۔ مٹ] (۱) سانپ کی سینہ جھلی جو اس کے جسم کے اوپر سے اترتی ہے۔ (۱) جھانا [لباس۔ پوشاک۔

**کینٹیلی** بدلنا۔ کینٹیل جھاڑنا۔ (۱) سانپ کا پرانی جھلی بدل کر نئی جھلی لانا۔ (۱) [ظرافتاً] پوشاک بدلنا۔ بگھرنا۔ روپ نکالنا۔  
**کینچوا**۔ (کینج۔ وا) [فت۔ ۱۔ مڈ] دیکھیے کینچوا۔  
**کینٹا**۔ (کین۔ ڈا) [فت۔ ۱۔ مڈ] نمونہ۔ پیمانہ ڈول۔ اندازہ۔ خاکہ۔ ناپ۔ وجہ۔

**کینڈا کرنا**۔ (۱۔ محاورہ) سرسری پیمائش کرنا۔ ناپنا۔ تخمینہ لگانا۔  
**کینڈل**۔ (Candle) (کین۔ ڈل) (انگ۔ ۱۔ مٹ) [موم۔ تلی۔ شمع۔

**کینڈل پاور**۔ (Candle Power) (انگ۔ ۱۔ مٹ)۔  
**کینڈل**۔ (کین۔ ڈل) (انگ۔ ۱۔ مٹ)۔  
**کینڈل**۔ (کین۔ ڈل) (انگ۔ ۱۔ مٹ)۔

**کینسر**۔ (Cancer) (کین۔ سر) (انگ۔ ۱۔ مڈ) (۱) سرطان کی بیماری۔ بگھندر۔ راج پھوٹنا۔ ٹیکڑا۔ خطہ سرطان (۱) خراب عادت جو ناسور کی طرح لاعلاج ہو گئی ہو۔

**کینسل**۔ (Cancel) (کین۔ سل) (انگ۔ ۱۔ مٹ) قلمزد کرنا۔ منسوخ کرنا۔  
**کینٹگل**۔ (کین۔ گل) (ق۔ ۱۔ مڈ) ایک قسم کا میوہ جو جڑ کی شکل میں زمین میں بڑھتا ہے۔

**کینوس**۔ (Canvas) (کین۔ وس) (انگ۔ ۱۔ مڈ) کراچی۔  
**کینوس**۔ (کین۔ وس) (انگ۔ ۱۔ مڈ) کراچی۔  
**کینوس**۔ (کین۔ وس) (انگ۔ ۱۔ مڈ) کراچی۔

**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔  
**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔  
**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔

**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔  
**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔  
**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔

**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔  
**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔  
**کینٹ**۔ (کین۔ ٹ) (فت۔ ۱۔ مڈ) کین۔ حد۔ بغض۔ عداوت۔ کینٹ۔

**کیورٹی**۔ (کیو۔ ٹی) [فت۔ ۱۔ مٹ] آبی ہوئی والیں۔  
**کیوریٹر**۔ (Curator) (کیو۔ رسے۔ ٹر) [انگ۔ ۱۔ مڈ] (۱) منتظم۔  
**کیورٹا**۔ (کیو۔ ٹا) [فت۔ ۱۔ مڈ] ایک درخت اور اس کے پھول کا نام جس کی خوشبو نہایت عمدہ ہوتی ہے۔ (۱) کیورٹے کا عرق۔  
**کیورٹی**۔ (کیو۔ ٹی) [فت۔ ۱۔ مڈ] (۱) ایک۔ واحد۔ اکیلا۔ (۱) صرف۔ نر۔ (۱) تمام۔ بائیں۔ کاہل۔ (۱) علم و حدایت۔

# گ

گدگات، گت۔ ۱۔ مذم اردو کا آنتیسواں، فارسی کا چھبیسواں اور ہندی کا تیسرا حرف۔ حساب اکبر میں کان شمار ہوتا ہے اور اس کے بھی بیس عدد فرض کیے گئے ہیں۔

## گ-۱

گاجھی۔ (گا۔ جھی، ۱-۵۱۔ مٹ) کشتی یا جہاز کا ایک پردہ جو بادبان کی قسم کا ہوتا ہے۔

گگات۔ (گ۔ س۔ ۱-۵۱۔ مٹ) وضع۔ اسلوب، (۲۔ حمل۔ پیٹ، ۳۔ عورت کی چھاتیوں کی ہیئت۔ لیستان کا اٹھارہ، عورت کا ادرک کا دھڑ۔

گگات اکھڑنا۔ عورت کے بالغ ہونے پر اس کی چھاتیوں نمودار ہونا۔

گگات اکلنا۔ چھاتیوں اکھڑنا عورت کے بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہونا۔

گگات سے ہونا۔ حمل سے ہونا۔ حاملہ ہونا۔

گگات نکالنا۔ جسم کی خوشحالی ظاہر کرنا۔

گگاتی۔ (گا۔ تی، ۱-۵۱۔ مٹ) چادر یا شیلے کو کندھوں کے اوپر لے جا کر سینے پر باندھنے کا خاص طرز۔

گگاتی باندھنا۔ چادر یا شیلے کو دونوں کندھوں پر ڈال کر سینہ پر باندھنا۔

گگاتے گگاتے۔ (گا۔ تے، ۱-۵۱۔ مٹ) گگاکر۔ الاب الاب کر۔

گگاتے گگاتے کلاؤنت، ہو ہی جا ماسے۔ (۱۰۔ جش) ہم کرتے کرتے آدمی

گا۔ (۵۱۔ علامت مستقبل۔ جیسے گے گا۔ پڑے گا، ۲۔ گانا۔ مصدر سے فعل امر۔

گا۔ (۱-۵۱۔ مٹ) گودا۔ مرغ۔

گابا۔ گابھا۔ (گا۔ با۔ گا۔ بھا، ۱-۵۱۔ مٹ) پیڑ کا نیا پتا، (۲۔ لٹری کا گودا۔

۳۔ پرائی روٹی، ۴۔ درخت کے پوست کا تازہ حصہ۔ خاص کر کھیلے کے پوست کا تازہ حصہ، ۵۔ گھڑی کی پتی۔ کچا ناچ۔ درخت کے اندر کا نرم حصہ۔ مرغ۔

گاجھ۔ (۱-۵۱۔ مٹ) حیوانات کا گل (۲، کچی فصل۔ کم پختہ غلہ۔

گگاجھ ڈالنا۔ حیوانات کا خام گل کرنا۔

گگاجھن۔ گگیا جھن۔ (گا۔ جھن، ۱-۵۱۔ مٹ) حیوان جس کے پیٹ میں بچہ ہو، حامل عورت۔

گگاجھن (گا جھنی) گا جھڈالتی ہے۔ بڑا عرب اور دبہ ہے غون کے

کاٹھن جو بکار ہوتا ہے۔ سیکھتے سیکھتے انسان ماہر ہوجاتا ہے۔

گاجی (بق) کا ٹھنڈ۔

گاج (۱-۵۶)۔ مٹ (گرج، بجلی، برقی، غضب، قہر، خفتہ۔

گاج پڑنا۔ بجلی گزنا

گاج کرنا۔ جھا کا قبر نازل ہونا۔

گاجر۔ اکا۔ جس (۵۶)۔ مٹ (نارنجی یا سیاہ رنگ کی ایک مخروطی جڑ جو کھائی جاتی ہے۔

گاجر کھانچوٹا چھینکا۔ مال رسی مال میراٹک ٹک سہاگ بوہڑا۔

(۱) مثل (بوی سے نفرت کرنے والا شوہر اس کی طرف ذرا متوجہ ہو یا حیب کوئی آدمی کسی غریب کی طرف التفات کرے۔ تو یہ مثل بولی جاتی ہے۔

گاجر مٹولی۔ دو ترکاریوں کے نام (۱) جاجرا) بے قدر۔ بے وقعت۔ سستی

گاجر مٹولی سمجھنا۔ کم قیمت خیال کرنا۔ بے قدر جاننا۔

گاجنا۔ گاج (نا، ۵۶)۔ مٹ (گرجنا۔ چنگھا پڑنا۔ دھاڑنا، ۲)۔ خوش درختم ہونا (۳)۔ ناگوار گزرتا۔

گاج (۱-۵۶)۔ مٹ (جالی کی طرح کا پارک کر پڑا۔

گاج (۱-۵۶)۔ مٹ (تھمٹ (۲)۔ تیل یا شربت کے نیچے بیٹھا ہوا میل۔ نیچے کا گلا اور گارھا تیل وغیرہ۔

گاجو بیٹھنا۔ تھمٹ کا نیچے بیٹھ جانا۔

گادا۔ رگا۔ (۱-۵۶)۔ مٹ (سمجھا، ہوا خام گھول اور جرد (۲) گھول اور بڑی قریب قریب تیار فصل۔

گادنا۔ رگا (نا، ۵۶)۔ مٹ (دانا، ٹھونڈنا، بھڑنا۔ بیچنا۔

گادسی۔ رگا (سی، ۵۶)۔ مٹ (پور یا گدی، گدلا۔

گاڈ۔ (God) (۱) ٹک (۱)۔ خدا۔ الخور۔ اللہ تعالیٰ۔

گاڈر۔ رگا (ڈر، ۵۶)۔ مٹ (بھیڑ۔

گاڈر۔ (Garder) (۱)۔ رگا (ڈر، ۱)۔ ٹک (۱)۔ مٹ (لوہے کا بڑا شہتیر۔

گاڈرو۔ رگا (ڈر، ۱)۔ مٹ (۱)۔ ٹک (۱)۔ مٹ (سناپ کے زہر کا اثر دور ہوجانا ہے (۲)۔ طاری سناپ پالنے والا۔

گار۔ (۱)۔ مٹ (کنے والا۔ مرکبات میں لاحقہ کے طور پر آتا ہے۔ جیسے گار۔ مٹ، مٹ، گار۔

گار۔ (۱-۵۶)۔ مٹ (اولا۔ نالا۔ پالا (۲)۔ ایک سفید پتھر (رق)

گارا۔ رگا (را، ۵۱)۔ مٹ (گاندھی ہوئی مٹی جس سے ایشیں چنے یا لپائی کرتے ہیں (۲)۔ ایک رنگی کانام۔

گار اہنا۔ گارا کرنا۔ مٹی کو گدھنا۔ مٹی میں پانی ملانا

گار اگانا۔ گارا راک گانار، لمبی چوڑی کمانی سنانا۔

گارو۔ (Guard) (۱)۔ مٹ (سپاہیوں کی چھوٹی ٹولی پہرہ دار سنتری (۲)۔ سپاہیوں کے رہنے کی جگہ جو جگہ۔

گارو۔ (Guard) (۱)۔ ٹک (۱)۔ مٹ (محافظ۔ پہرہ دار۔ ریل گاڑی کا نگران۔

گارڈن۔ (Garden) (۱)۔ رگا۔ ٹن (۱)۔ ٹک (۱)۔ مٹ (باغ۔ گلستان۔

جمن۔ گلزار۔ پھولاری۔

گارڈن پارٹی۔ (Garden Party) وہ ضیافت جو کسی باغ میں دی جائے اور اس میں پھل اور چائے وغیرہ کا انتظام ہو۔

گارڈنر۔ (Gardener) (۱)۔ رگا۔ ڈر۔ ٹک (۱)۔ ٹک (۱)۔ مٹ (مالی۔ باغبان۔

گارڈینیا۔ (Gardenia) (۱)۔ رگا۔ ٹی۔ ٹی۔ ٹک (۱)۔ ٹک (۱)۔ مٹ (ایک پھل جو عام طور پر مکان یا باغ کی باڑھ کے کام آتی ہے۔

گارڈین۔ (Guardian) (۱)۔ رگا۔ ڈر۔ ٹک (۱)۔ ٹک (۱)۔ مٹ (وہ شخص جو کسی باغ کی ذات یا جائیداد یا دونوں کا محافظ ہو (۲)۔ سرپرست۔ نگران۔

گارنٹی۔ (Guarantee) (۱)۔ رگا۔ ٹن۔ ٹی (۱)۔ ٹک (۱)۔ مٹ (ذمہ داری۔ ضمانت

گاڑا۔ رگا۔ ٹا (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (مذم۔ بندوبست کی گولی (۲)۔ کین گاہ۔ گھات کی جگہ (۳)۔ وہ لوگ جو کین گاہ میں بیٹھیں (م)۔ گاڑنا۔ مصدر سے فعل ماضی (۴)۔ بہت بڑی گاڑی (۴)۔ گاڑھا (رق)

گاڑا بھٹانا۔ گاڑے بھٹانا۔ (۱)۔ مٹ (دوہ)۔ پوشیدہ جگہ کسی کتاگ میں بھٹانا تاک گاڑا بیٹھنا۔ گاڑے بیٹھنا۔ (۱)۔ مٹ (دوہ)۔ گھات لگانا۔ شکاریوں کا گھات میں بیٹھنا (۲)۔ چوروں ڈاکوؤں یا قسمن کی گھات میں بیٹھنا۔

گاڑنا۔ رگا۔ ٹا (۱)۔ مٹ (مٹ (مٹھونکا (۲)۔ کسی چیز کا زمین میں دفن کرنا۔ دفنانا (۳)۔ آگ کو رکھ کے نیچے دبانا (۴)۔ پودا لگانا۔

گاڑھ۔ (۱)۔ مٹ (مصیبت۔ مشکل۔ دشواری (۲)۔ مٹ (کرگہ کپڑا بننے کا کرگھا۔

گاڑھ پڑنا۔ (۱)۔ مٹ (مصیبت پیش آنا۔ مشکل پڑنا۔

گاڑھا۔ رگا۔ ٹا (۱)۔ مٹ (صف (مٹھاد)۔ دیز (۲)۔ غلیظ۔ پتلا کی ضد جیسے گاڑھا دودھ (۳)۔ چالاک (۴)۔ ایک قسم کا مٹھا کپڑا۔ کھڑ (۵)۔ لڑائی کا مست ہاتھی (۶)۔ گہرا۔ دلی۔ جانی (۷)۔ مشکل۔ سخت۔ دشوار۔

گاڑھا پد۔ (۱)۔ مٹ (گہرا پردہ۔

گاڑھا پسینہ۔ (۱)۔ مٹ (محنت و مشقت۔

گاڑھا پن۔ (۱)۔ مٹ (کثافت۔ موٹا ہونا۔

گاڑھا ڈھوتر۔ (۱)۔ مٹ (معمولی موٹا کپڑا۔

گاڑھا وقت۔ (۱)۔ مٹ (مشکلات کا زمانہ۔ مصیبت کا وقت۔

گاڑھے پسینے کا پستہ۔ (۱)۔ مٹ (محنت اور مشقت کی کمائی۔

گاڑھے پن۔ زبردست ہیں۔ غالب ہیں۔ بڑھ کر ہیں (۲)۔ خوب نفع ہے۔

گاڑھی۔ رگا۔ ٹی (۱)۔ مٹ (صف (دیز)۔ موٹی (۲)۔ غلیظ۔ پتلا کی ضد (۳)۔ دلی جانی (۴)۔ مشکل۔ دشوار۔

گاڑھی چھٹنا۔ (۱)۔ مٹ (جھنگ کا خوب گاڑھا چھٹانا جانا (۲)۔ مجازاً (۳)۔ آپس میں خوب میل جول کرنا۔ کمال محبت ہونا (۴)۔ نکلنے اور مذاق میں ایک دوسرے کو سخت سست کہنا (۵)۔ جھنگ کی کرفشتہ میں ہونا۔

گاڑھی دوستی۔ (۱)۔ مٹ (بہت زیادہ میل جول۔ بہری یاری۔

گاڑھی کمائی۔ (۱)۔ مٹ (وہ مال جو کمال محنت و مشقت سے حاصل کیا گیا ہو (۲)۔

گاڑھے پسینے کی کمائی۔ (۱)۔ مٹ (وہ کمائی جو بڑی محنت اور مشقت سے تمنا کی گئی ہو۔

(۱۷) رنجیدہ ہونا - غصہ کرنا - منہ سجانا -

گال بچک جانا - (۱۶) محاورہ) گالوں کا بیٹھ جانا - بولا ہو جانا -

گال توڑنا - گال کاٹنا - کسی کا گال مسکنا - گال میں جلی لینا - زور سے بوسہ لینا کہ گال میں دانت کا نشان پڑ جائے - رخسار پر دانت مارنا -

نقصان پہنچانا -

گال سجانا - (۱۶) محاورہ) منہ پھلانا - روٹھ جانا - شستے میں ہونا -

گال سے گال جھرانہ ہونا - (۱۶) محاورہ) دسل میں ہم آغوش ہونا -

گال کرنا - (۱۶) محاورہ) زبان درازی کرنا - گالی دینا -

گال نیلے کرنا - (۱۶) محاورہ) زیادہ بوسوں سے گالوں کا نیلا ہو جانا -

گال میں جاول بھرنا - (۱۶) محاورہ) طعن و طنز سے باتیں کرنا - ڈینگ مارنا -

گال والا جینتے - مال والا ہارے - (مثل) زبان دراز کے آگے جھیلے مانس کو خاموش ہونا پڑتا ہے - چالاک جھوٹا آدمی سچے کو جھٹلا دیتا ہے -

گال - (۶۷) ۱ - مذ) کچھڑ - گالا -

گالا - (۶۷) ۱ - مذ) دھنی، ہوئی، روئی کا جھپٹا سا گچھا، برف کی مانند سفید -

کی مانند سفید چیز -

گالاسا - (۱۶) تابع فعل) روئی کی مانند ملائم، برف کی مانند سفید -

بہت زیادہ سفید -

گالا سے بال - (۱۶) صف) سفید بال - دھلے بال -

گالے (کرنا، بڑانا - (۱۶) محاورہ) دھکی اور صاف کی ہوئی روئی کے

گروے بنانا -

گالے ڈوئیں - پتھر تریں - (مثل) جھوٹا آدمی سچا ثابت ہو جائے اور

سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے - ایمان دار کا نقصان ہوا دے ایمان کا فائدہ -

کینے کی عزت ہو جائے اور شریف کی ذلت ہو -

گاللم گولج - (۶۷) ۱ - مذ) گلی، بوج، ۱ - ۵۶) ۱ - مذ) گالی گشتار - دشنام دہی -

گالینا - (۶۷) ۱ - مذ) مٹھ، گلانا، بچھلانا -

گالو - (۶۷) ۱ - مذ) مٹھ، بانوئی، بکواسی -

گالی - (۶۷) ۱ - مذ) دشنام - بدزبانی - بخش بات -

گالی جڑھانا - (۱۶) محاورہ) ایسا کہنا جس سے کوسرالی رشتہ بنتا ہو -

گالی ڈینا - (۱۶) محاورہ) دشنام دینا - بڑی بات منہ سے نکالنا -

گالی دیے سے گولگالولے - (مثل) بڑی بات کوئی بھی نہیں سہارتا

گالی کھانا - (۱۶) محاورہ) دشنام سننا - بخش بات سننا -

گالی کھنا - (۱۶) ۱ - مذ) گالی گولج - باہمی دشنام دہی -

گالی ملنا - (۱۶) محاورہ) گالی دی جانا -

گالیاں بکنا - (۱۶) محاورہ) مٹھ یا مٹھ منہ سے نکالنا -

گالیاں بانا - (۱۶) محاورہ) بڑا جھٹلانا - سخت دسست ہلکا جانا -

گالیاں بڑھانا - (۱۶) محاورہ) گالیاں دی جانا -

گالیاں ڈینا - (۱۶) محاورہ) بدزبانی کرنا - بڑا جھٹلانا - دشنام طرازی کرنا -

گالیاں سننا - دشنام سننا -

گالیاں سہانیاں - (۱۶) مثل) معشوقوں یا پیاروں کی گالیاں

جو اچھی معلوم ہوں -

گاڑی - (گاڑی) (۵) ۱ - مذ) اسباب لادنے یا سوار ہونے کی پیسے دار چیز جھپٹا - پہلی رتھ - مخم - تانگر، قین وغیرہ (۲) ریل گاڑی - موٹر -

گاڑی بان - گاڑی والے (۱۶) ۱ - مذ) کوچران - گاڑی چلانے والا -

گاڑی پھیر - (۱۶) صف) بہت سا - بہت زیادہ - آت گت -

گاڑی بھرا کشتائی ہو بھرنانا - (۱۶) مثل) معمولی سی رشتہ داری بہت زیادہ

دوستی سے بہتر ہے -

گاڑی بھرا راستہ - (۱۶) ۱ - مذ) اتنا راستہ جس میں سے گاڑی نکل جائے - چوڑا

سارا راستہ -

گاڑی جو تانا - (۱۶) محاورہ) کچی وغیرہ میں گھوڑے کو بھڑانا -

گاڑی چلانا - (۱۶) محاورہ) گاڑی ہانکنا - کوچران کرنا (۲) گاڑی کو کرائے پر دینا

باخوردلانا -

گاڑی چھوٹنا - (۱۶) محاورہ) ریل کا اسٹیشن سے رواد ہونا -

گاڑی خانہ - (۱۶) ۱ - مذ) گاڑیاں رکھنے کی جگہ - بچگی خانہ -

گاڑی دیکھ کر پاؤں پھوٹتے ہیں - (مثل) آرام کے لیے بہانہ جب

کوئی خود بہت دکھے اور دوسروں کے سہارے چلے کرتے ہیں -

گاڑی سا ڈبل کھل جانا - سوتے آدمی کا ڈبلا ہو جانا -

گاڑی کاٹنا - (۱۶) محاورہ) ٹرین میں کوئی ڈبہ الگ کرنا، گاڑی سے مال

چوری کر لینا -

گاڑی کھینچنا - (۱۶) محاورہ) رکتنا، کہنے کا بوجھ کسی کام کی ذمہ داری اپنے رکتنا -

گاڑی لیٹ، ہونا - (۱۶) محاورہ) گاڑی کا وقت مقررہ پر نہ پہنچنا -

گاڑی ہانکنا - (۱۶) محاورہ) گاڑی کے جالور کو چلانا -

گاڑ - (۱) ۱ - مذ) ایک قسم کی قینچی (۲) شیع کا گل کترنے کی قینچی گل

گیر، ہری گھاس -

گاڑ - (Gauze) (۱) ۱ - مذ) سوتی دھاگوں سے بنا ہوا کپڑا -

گاڑ - (۶۷) ۱ - مذ) کپڑے دھونے والا - دھوئی -

گاف - (۶۷) ۱ - مذ) ایک حرف کا نام (۲) بیہودہ باتیں - بکواس - حد

سے زیادہ بڑھ جانا -

گاف - (Golf) (۱) ۱ - مذ) ایک مغربی کھیل جو میدان میں ہاکی ٹاکری

اور چھوٹی گیند سے دو آدمی کھیلتے ہیں -

گاگر - (گاگر) (۱) ۱ - مذ) مٹی بادھات کا گھڑا - مٹی کا وہ برتن جس میں

شریت بھر کر منہ پر سرخ کپڑا اور پھولوں کے ہار ڈال کر مزاروں پر

چڑھاتے ہیں

گال - (۱) ۱ - مذ) رخسار (۲) ایک قسم کا تمباکو (۳) گفتگو - باتیں (۴) لقمہ

لقمہ گھونٹ (۵) اندک کی مٹھی جو کچی میں ڈالیں - (۶) روئی کا ٹکڑا -

رے (۷) مٹھ گالی -

گال سجانا - (۱۶) محاورہ) منہ سے جہیم کی آواز نکالنا (۲) بیہودہ کہنا، بڑیک

ماڑنا - سچی بھڑانا -

گال پر گال چڑھ جانا، چڑھنا - (۱۶) محاورہ) موٹاپے سے گالوں کا پھول

جانا (۲) بہت موٹا ہونا -

گال جھٹلانا - گال سجانا - (۱۶) محاورہ) گالوں میں ہوا بھر کر نہیں اڑنا کرنا



گالیاں گھڑ گھڑ کے دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، نئی نئی گالیاں دینا۔ بنانا کرنا یا دینا۔

گالیوں پر آنا۔ ۱۶۔ محاورہ، برا بھلا کہنے لگ جانا۔  
گالیوں پر زبان کھولنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گالیوں پر منہ کھولنا۔ گالیاں دینے لگنا۔  
گالیوں کا جھاڑ باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گالیوں کی ٹوچھا ڈرنا۔ لگانا۔  
گالیاں دینے جانا۔

گالیوں کی بھر مار۔ گالیوں کی کثرت۔ ۱۶۔ منہ لگانا۔ بے شمار گالیاں۔  
گام۔ ۱۶۔ انداز قدم، ۲، ایک قدم کا فاصلہ، ۳، کھوٹے کی ایک چال۔

گام زن۔ ۱۶۔ صفت، پھینے والا۔ تیز رو۔ تیز رفتار۔

گام فرسائی۔ ۱۶۔ ۱۔ منہ تیز چلنا۔

گامچی۔ ۱۶۔ گام۔ ۱۔ منہ، ساز کا ایک ٹکڑا جو کھوٹے کی دم میں لگایا جاتا ہے۔

گانا۔ ۱۶۔ گانا۔ ۱۔ حصہ، ۲۔ لگنا۔ ترغیم سے آواز نکالنا، ۳۔ ہونہ باتیں کرنا، ۴۔ سراہنا۔ تعریف کرنا، ۵۔ اپنے مطلب کی بات کرنا۔  
۱۶۔ مذراگ۔ نغمہ۔

گانا بجانا۔ ۱۶۔ مذراگ۔ نغمہ۔ سرود۔

گانا رو ناکس کو نہیں آتا۔ ۱۶۔ مثل، ایسی باتیں سب جانتے ہیں۔

گانا بھننا۔ گانٹھ بنا۔ ۱۶۔ منہ، ۱۔ میٹھی کی چٹائی کرنا۔ بڑونا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ ۱۔ منہ، ۲۔ جوڑ بند، ۳۔ ٹھوس، ۴۔ جڑا، ۵۔ عداوت، ۶۔ نفاق، ۷۔ عہد، ۸۔ پیمانہ، ۹۔ قول و قرار، ۱۰۔ ہاتھ پاؤں اور انگلیوں کے جوڑ گئے اور بانس وغیرہ کی گرہ۔

گانٹھ اٹھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ، جوڑ بٹل جانا۔

گانٹھ باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گرہ دینا، ۲۔ یاد رکھنا، ۳۔ عقد باندھنا نکاح کرنا۔

گانٹھ بڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گرہ لگنا، ۲۔ آن بن ہونا، ۳۔ طامح کھانے کا بچتے بچتے بستہ ہو جانا۔

گانٹھ جوڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ دار۔ ۱۶۔ صفت، گراں رکھنے والا۔

گانٹھ دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، گانٹھنا۔ گرہ دینا۔ گرہ لگانا۔

گانٹھ ڈالنا۔ ۱۶۔ محاورہ، کسی چیز میں گرہ ڈال دینا۔

گانٹھ سے جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، ذاتی نقصان ہو جانا۔ اپنی جیب سے روپیہ نکل جانا۔ اپنے پاس سے خرچ ہو جانا۔

گانٹھ کا۔ ۱۶۔ صفت، اپنا۔ ذاتی۔ اپنے پاس کا۔

گانٹھ کا پورا۔ ۱۶۔ صفت، دولت مند۔ مالدار، ۲۔ عیار۔ جالاک، مطلب کا پکا۔  
گانٹھ کا پورا عقل کا اندھا۔ ۱۶۔ مثل، بوقوف مالدار جو سستی چیز بیٹھے

دا مول خریدے، احمق دولت مند جو جلد فریب میں آجائے۔

گانٹھ کا پیسہ۔ ۱۶۔ مذم ذاتی روپیہ۔ اپنا روپیہ۔ سچی رقم۔

گانٹھ کا دیدے پڑھیں میں نہ پڑھے۔ ۱۶۔ مثل، ضامن بننے سے

نقد نہ ترہے۔  
گانٹھ کا دینا اور لڑائی مول لینا۔ ۱۶۔ مثل، اپنا نقصان برداشت

کر کے جھگڑا مول لینا۔ پاس سے رقم لے کر دشمنی خریدنا۔  
گانٹھ کاٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، جیب کترنا۔ ٹھکانا۔

گانٹھ کا کھونا۔ ۱۶۔ محاورہ، اپنی گرہ کا روپیہ ضائع کرنا۔

گانٹھ کترنا۔ ۱۶۔ صفت، جیب کترنے والا، جیب کترا

گانٹھ کترنا۔ ۱۶۔ محاورہ، جیب کاٹ لینا، ۲۔ جرانہ، ۳۔ غبن کرنا۔

گانٹھ کٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، جیب کاٹ جانا، ۲۔ جیب سے روپیہ چوری ہونا۔ ٹھکانا جانا۔

گانٹھ کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، اتفاق کرنا۔ سازش کرنا، ۲۔ اپنی جیب میں روپیہ رکھنا، ۳۔ جمع کرنا۔ جوڑنا۔

گانٹھ کھولنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گرہ کھولنا، ۲۔ دکنا، ۳۔ کینہ درد کرنا۔ صلح صفائی کرنا، ۴۔ خوب فرج کرنا۔

گانٹھ گھسیلا۔ ۱۶۔ مذراگہ دار۔ بہت سی گرہوں والا، ۲۔ مضبوط۔

گانٹھوں سے گٹھا ہوا۔

گانٹھ گرہ میں کچھ نہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، بالکل مفلس ہونا۔ پاس کچھ نہ ہونا۔

گانٹھ گرہ میں نہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، پاس کچھ روپیہ پیشہ ہونا۔

گانٹھ لینا۔ ۱۶۔ محاورہ، قبضہ میں کر لینا، ۲۔ ہم خیال کرنا۔ ملانا، موافق کر لینا۔

گانٹھ میں باندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، نصیحت کی بات یاد رکھنا، عبرت حاصل کرنا، ۲۔ اپنے قبضے میں کر لینا۔

گانٹھ میں بندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، سب خرچ کر ڈالنا۔

گانٹھ میں رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، نقدی پٹے رکھنا۔ اپنی جیب میں رکھنا۔ اپنے قبضے میں رکھنا۔

گانٹھ میں نہ رہے تو نہ رہے نہیں تو خرچ ہے۔ ۱۶۔ مثل، اگر آدمی کے پاس دولت ہے تو وہ سب سے داناء اور عقلمند ہے۔

در نہ بوقوف ہو سکتے۔  
گانٹھ نہ مٹھی، پھر پھر طائی مٹھی۔ ۱۶۔ مثل، پاس تو کچھ نہیں خرچ کرنے کو بھی چاہتا ہے۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

گانٹھ۔ ۱۶۔ محاورہ، نکاح کرنا۔ بیاہ کرنا۔

میں سے تیسرا سُر۔

سوراخ کرنا۔  
 گاکھی (گال، ہی، ۵۱-۱۰۱)۔ مثلاً، لوہے کا پھل جو تیروں لگاتے ہیں۔  
 گاکھن (گال، گن، ۵۱)۔ مثلاً، ایک قسم کا چھوڑا۔ ڈوبل۔ وہ چھوڑا جس  
 کا منہ اوپر کی طرف نہ ہو۔  
 گاؤں (۵۱-۵۲)۔ مثلاً، گاؤں۔ موضع۔ دیہ۔ بست۔  
 گلنے والے کا منہ نہیں رہتا اور ناپھنے والے کا پیر (۱۱)۔ مثل، جس کی  
 جو عادت ہوتی ہے وہ اکثر جاری رہتی ہے۔  
 گاؤ (۵۱)۔ مثلاً، گاؤں۔ ایک برج کا نام۔  
 گاؤرواری (۵۱)۔ مثلاً، گھر کا بلا یا پیل۔ موٹا تازہ پیل۔  
 گاؤنشت (۵۱)۔ صفت، مخزومی (۲۲)۔ آسمان۔  
 گاؤنٹنگ (۵۱)۔ مثلاً، زرافہ۔  
 گاؤنٹیکر (۵۱)۔ صفت، گلے کے ہون کا، فرید دل کے گزر کا نام۔  
 گاؤنٹیکہ (۱۱)۔ مثلاً، لبا اور پراکھہ جس کو پس پشت لگا کر بیٹھے ہیں۔  
 گاؤنٹیم (۱۱)۔ مثلاً، بڑی بڑی آنکھوں والا (۲۲)۔ ایک انگریزی چھول طینتی۔  
 گاؤنٹراس (۵۱)۔ مثلاً، گھوڑا۔  
 گاؤنٹورن (۱۱)۔ مجاورہ، بر باد ہونا۔ جہاں ہونا۔ ضائع ہونا۔  
 گاؤنٹوم (۵۱)۔ صفت، مخزومی (۲۲)۔ تری، قرنا۔  
 گاؤنٹوبان (۵۱)۔ مثلاً، ایک مشہور دوا، جس کے پتوں پر گائے کی زبان  
 کی طرح کے اُچھاڑ ہوتے ہیں (۲۲)۔ ایک قسم کا لمبو ترا پاشا جو تنور میں پکایا  
 جاتا ہے۔  
 گاؤنٹوزین (۵۱)۔ مثلاً، سونے کا پیار جس کی شکل گائے جیسی  
 ہوتی ہے (۲۲)۔ گاؤنٹوسامری۔  
 گاؤنٹوزین (۵۱)۔ مثلاً، قدیم خیال کے مطابق وہ پیل جس کے ایک سینک  
 پر زمین رکھی ہوتی ہے۔  
 گاؤنٹوزہرہ (۵۱)۔ مثلاً، چھوٹا پتھر (۲۲)۔ وہ پتھر جو گائے کے پتے سے  
 نکلتی ہے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔  
 گاؤنٹوسامری (۵۱)۔ مثلاً، وہ سونے کا پتھر جو حضرت موسیٰ کے زمانہ  
 میں سامری نے بنایا تھا۔  
 گاؤنٹوغیر (۵۱)۔ مثلاً، وہ سمندری گائے جس کی نسبت لوگ خیال کرتے  
 ہیں کہ وہ غمناک ہوتی ہے۔  
 گاؤنٹولک (۵۱)۔ مثلاً، گاؤنٹو دروں۔ بچہ ٹور۔  
 گاؤنٹونسی (۵۱)۔ مثلاً، گائے کو ذبح کرنا۔ ذبح گائے۔  
 گاؤنٹو کو بان دار (۵۱)۔ مثلاً، بچل گالوں کا ایک قسم۔ نر کے کو بان ہوتے ہیں۔  
 گاؤنٹو گاہ سماہی، براہ مہر گاہ (۵۱)۔ مثلاً، مقولہ، طبیوں کا خیال  
 سے کہ گائے کا گوشت کبھی کبھی، مچھل، براہ ایک بار اور بکری کا گوشت  
 ہر روز کھانا چاہیے۔  
 گاؤنٹو ماہی (۵۱)۔ مثلاً، ایک جانور جو نصف مچھلی اور نصف پیل  
 ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق زمین اس کے سینک  
 پر کھڑی ہے۔  
 گاؤنٹو شش (۵۱)۔ مثلاً، بھینس۔

گادون (گادون، اق، ۱)۔ مثلاً، گائے کا نئے والی۔  
 گاہ (گہ۔ گاہ۔ گہ۔ گہ)۔ مثلاً، ۱۔ مدت۔ سال (۲)، جگہ۔ مقام۔ مکان (۲)،  
 بار۔ دفعہ۔ موقع، کبھی کبھی۔  
 گاہ بہ گاہ۔ گاہ گاہ۔ ۱۔ مدت۔ تاہن فصل، کبھی کبھی کسی وقت (۲)،  
 چھوٹے ہرے۔  
 گاہک (گاہک، پک، ۵۱)۔ مثلاً، خریدار، مشتری۔  
 گاہکی (گاہکی، کی، ۵۱)۔ مثلاً، خریداری، طلبکاری۔  
 گاہکن (گاہکن، کن، ۵۱)۔ مثلاً، ہل چلاتے ہوئے کھیت کی گھاس دور  
 کرنے کا سارا۔  
 گاہنا (گاہنا، نا، ۵۱)۔ مص (۱)۔ مثلاً، روٹنا۔ اناج پر پیلوں کو بچھانا،  
 بچھنا اور اناج الگ الگ ہو جانے۔  
 گاہے (گاہے، ای، ۵۱)۔ کبھی کسی وقت۔  
 گاہے گاہے (گاہے، گاہے، ۵۱)۔ تاہن فصل، کبھی کبھی۔  
 گاہے باشد کہ کوڑے ناواں (۵۱)۔ مثلاً، پتھر پتھر سے  
 زغلط پر ہدف زند تیرے اُٹھانے پر تیر مار دیتا ہے جب  
 کوئی شخص اتنا قیہ صحیح بات کہہ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے۔  
 گاہے لولہ گاہے ماشہ (۵۱)۔ مثلاً، متون مزاج شخص کے متعلق  
 کہا جاتا ہے۔  
 گاہے ماہے (۵۱)۔ تاہن فصل، مینے بعد۔ مینے میں ایک دفعہ (۲)، کبھی  
 کبھی۔  
 گاہیڈ (Guide) (گاہیڈ، ڈ، ۱)۔ انگ۔ (۱)۔ رہنا۔ پینٹوا۔ رہبر۔  
 گاہنگ (گاہنگ، نگ، ۱)۔ اس (۱)۔ مدت۔ گونا۔ گانے وال۔ قوال۔ ڈوم۔  
 گائین (گائین، ن، ۱)۔ مثلاً، گاہنگ کی تائیت۔ گانے والی۔  
 گاؤن (Gown) (گاؤن، آن، ۱)۔ انگ۔ (۱)۔ مغربی وضع کا  
 لمبا چغز۔ جبہ جو پادری عموماً اور ڈگری لینے والے طلباء اور وکلاء  
 اور یونیورسٹی کے اراکین وغیرہ خاص موقعوں پر پہنتے ہیں (۲)۔ مغربی  
 عورتوں کا ایک لباس۔  
 گائے (گاہے، ای، ۵۱)۔ مثلاً، مادہ گاؤ۔ گنو (گنا، غریب  
 بے ہرزہ بے زبان۔  
 گائے جئے۔ پیل کی ڈم پھیٹے (۱۱)۔ مثل (۱)۔ سنی دے اور حاسد کو صدمہ۔  
 گائے کا، کھچتا تلے اور کھچیا گا گائے تلے کرنا۔ (۱۷)۔ مجاورہ، حکمت  
 عملی سے کام لیتا۔ مذہب سے مطلب باری کرنا۔  
 گائے کرنا۔ گائے ذبح کرنا۔  
 گائے کو نئے سینک بھاری نہیں ہوتے۔ (۱۷)۔ مثل (۱)۔ ماں باپ کو  
 اولاد کی پرورش مشکل معلوم نہیں ہوتی۔ مالک کو اپنی چیز خواہ وہ تکلیف دہ  
 کیوں نہ ہو۔ گوار نہیں کرنی۔  
 گائے کی طرح کا نہیں (۱۷)۔ مجاورہ، بہت ڈرنا۔  
 گائے نہ چھٹی۔ نیند آئے اچھی (۱۷)۔ مثل (۱)۔ جس کے پاس کچھ نہیں  
 دہ بے فکری کی نیند سوتا ہے۔  
 گائے (۵۱)۔ صفت (۱)۔ جس نے اپنی بکارت کھودی ہو۔ کنواری لڑکی





دولہا دلہن (۳) دو آدمیوں کا ایک دل ہونا دوستی۔  
 گٹھ پوڑ باندھنا (۱۶) محاورہ دو دلہا دلہن کے آنچلوں کو گرہ لگانا۔ بیاہ کرنا۔  
 نکاح کرنا عقد باندھنا دوستی کرنا۔  
 گٹھ کرٹ۔ گٹھ لٹا۔ (۱۵) مذمہ جیب کترا۔ اچھا ٹھیک۔  
 گٹھا۔ گٹھ بٹھا (۱۵) مذمہ کسی چیز کا بڑا ٹکڑا۔ بوجھ (۲) بقیہ ۳ پیاز لہسن  
 کی کاٹھ (۲) تین گرہ کا پیمانہ۔ جریب کا بیسواں حصہ۔  
 گٹھا۔ دگ۔ ٹھا (۱۵) مذمہ (گ)۔  
 گٹھانا۔ دگ۔ ٹھانا (۱۵) مص (۱) سلوانا۔ بیوند لگانا۔ چرٹے کے سامان  
 کی مرمت کرنا۔

## گ۔ ج

گٹھا ڈ۔ (۱۵) مذمہ (۱) جوڑنا۔ ملانا (۲) بنانا۔ بنیاد۔ تعمیر (۳) تدبیر مشورہ  
 سازش (۴) ملاوٹ۔ جوڑ۔  
 گٹھا ڈ باندھنا۔ (۱۶) محاورہ (۱) تعلق پیدا کرنا (۲) انجمن بنانا (۳) مشورہ کرنا۔  
 گٹھائی۔ دگ۔ ٹھائی (۱۵) مذمہ (۱) سلوائی۔  
 گٹھا۔ (۱) گٹھ (۲) را۔ (۳) مذمہ سرمایہ۔ بونجی۔  
 گٹھا۔ (۱) گٹھ۔ ٹھٹھا (۱۵) مذمہ بڑی گٹھی۔ انہار۔  
 گٹھ پڑی۔ گٹھ پڑی (۱۵) مذمہ (۱) بچی (۲) مقدار۔ تعداد۔  
 گٹھ پڑی باندھنا۔ (۱۶) محاورہ (۱) متفرق چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا یا  
 جمع کرنا۔  
 گٹھ پڑی حلال لقمہ سردار۔ (۱۷) بتل (۱) کسی کی بہت بڑی چیز کو حلال  
 جان کر خوردبرد کرنا۔ اور گٹھ پڑی سی چیز کو حرام سمجھ کر اس میں  
 ایمان داری ظاہر کرنا۔  
 گٹھ پڑی کر دینا۔ (۱۷) محاورہ (۱) ہاتھ پاؤں باندھ کر یا توڑ کر ایک جگہ ڈال دینا  
 کسی کو باندھ دینا۔ پوٹ بنا دینا۔  
 گٹھ پڑی مارنا۔ (۱۶) محاورہ (۱) ٹٹنا حال مارنا جوڑی کرنا چرانا۔  
 گٹھل۔ دگٹھ۔ ٹھل (۱۵) مذمہ بڑی گرہ۔ بڑی گٹھ (۲) گٹھی۔ خورد۔  
 (۳) بڑی گٹھی (۴) مص (۵) گرہ (۶) سخت (۷) جما ہوا۔ بستہ،  
 گٹھل۔ گند (۸) گند (۹) غبی۔  
 گٹھل۔ گٹھلی۔ (۱۵) مذمہ (۱) پھل کا بیج۔ تخم (۲) گٹھی (۳) گٹھ۔  
 گٹھنا۔ دگٹھ۔ نا (۱۵) مص (۱) سلنا۔ بیوند لگانا (۲) مل جانا۔ شریک ہونا (۳)  
 سبنا۔ زیم دینا۔  
 گٹھوانا۔ دگٹھ۔ دان (۱۵) مص (۱) جڑوانا۔ سلوانا۔  
 گٹھوانسی۔ دگٹھ۔ دان (۱۵) مص (۱) جریب کے گٹھے کا بیسواں  
 حصہ جو پانچ انچ ہوتا ہے۔  
 گٹھوت۔ دگ۔ ٹھوت (۱۵) مذمہ (۱) میل چول (۲) سازش۔  
 گٹھوتند۔ دگ۔ ٹھوتند (۱۵) مذمہ (۱) تھیل میں رکھی ہوئی امانت۔  
 گٹھی۔ دگٹھی۔ ٹھی (۱۵) مذمہ (۱) گرہ۔ گٹھ (۲) بڑھ۔ بند۔  
 گٹھیا۔ دگٹھ۔ یا (۱۵) مذمہ (۱) جوڑوں کے درمی ایک بیماری۔ بیچ مفاسل  
 گٹھیا بانی (۲) انانج باندھنے یا روٹی رکھنے کی گٹھ پڑی۔  
 گٹھیل۔ دگ۔ ٹھی (۱۵) مذمہ (۱) گرہ دار۔ گٹھیل (۲) والا (۳)  
 مضبوط۔ سخت۔

گٹھیلی۔ دگ۔ ٹھی۔ لی (۱۵) مص (۱) گٹھیل کی تانیت۔ گرہ والی۔  
 گٹھ وار۔  
 گٹھی۔ دگٹ۔ ٹی (۱۵) مذمہ (۱) نیل کا مزاج کاٹا ہوا ٹیکڑا (۲) مٹی کا ڈھیلہ  
 دگٹھی۔ دگٹ۔ ٹی (۱۵) مذمہ (۱) بھیر کی۔ ریل جس پر تانکا لپٹا ہوتا ہے۔  
 (۲) جگم کی ٹھیکری۔

گج۔ گج۔ گج۔ گج۔  
 گج بان۔ (۱۵) مذمہ (۱) بکس۔ ہاتھی چلانے کا ہتھیار۔  
 گج پال۔ (۱۵) مذمہ (۱) نیلیاں۔ جہازت۔  
 گج پٹی۔ ہاتھیوں کا جوار (۲) ہاتھی کا مالک (۳) سب سے بڑا ہاتھی بہ جہازت نیلیاں۔  
 گج دنت۔ (۱۵) مذمہ ہاتھی دانت۔  
 گج گھرات۔ (۱۵) مذمہ نیل بان (دق)۔  
 گج راج بہت بڑا ہاتھی۔ ہاتھیوں کا سردار۔  
 گج گاہ۔ (۱۵) مذمہ (۱) گاؤں کے چھندے جو ہاتھی کے سر کے دونوں طرف بچاؤ  
 کے لیے لٹکاتے ہیں۔  
 گج گھنی۔ (۱۵) مذمہ (۱) ہاتھی کی چال (۲) شاندار ستانہ چال۔  
 گج مٹی۔ (۱۵) مذمہ مست ہاتھی (دق)۔  
 گج موٹی۔ (۱۵) مذمہ بہت بڑا موٹی رہندوں کا خیال ہے کہ سب سے بڑا  
 مٹی ہاتھی کی پیشانی سے لٹکتا ہے۔  
 گج نال۔ بہت بڑی بگلی توپ۔ قلعہ شکن توپ۔  
 گجاگ۔ (۱۵) مذمہ پھوڑے کا ایک حصہ (۲) ایک قسم کی مٹھائی۔ خرما۔  
 بالوشاہی۔  
 گج۔ دگ۔ ج۔ (۱۵) مذمہ گٹھ یا گٹھالی کی آواز۔ جار بے۔ اٹھ بے اور ہانجے  
 گٹھ پرنچند میں (۲) صحیح و صادق کا وقت (۳) گاجر کا مختلف (۴) مٹیوں یا جو  
 یا شیخ دستف کیوں لے ہوئے۔  
 گج۔ گٹھ۔ گٹھالی کا لگانا۔ سبنا۔ صحیح و صادق کے وقت گٹھالی یا سبنا  
 بیچ ہونا۔ بڑا کا ہونا۔  
 گج۔ گج۔ دگ۔ (۱۵) ذمہ (۱) علی الصباح بڑے۔ بہت سویرے۔  
 گج گھٹ۔ گج گھٹنا۔ (۱۵) مذمہ (۱) کدکش میں سے نکال کر دوڑھا اور چادلوں میں  
 پکائی ہوئی گاجر۔ کجھلا۔  
 گج گھٹنا۔ بھانا۔ (۱۶) محاورہ (۱) غلط ملک کرنا۔ اچھے بڑے کا ملانا۔  
 گج۔ (دق)۔ را۔ (۱۵) مذمہ (۱) بھولوں کا ہار۔ بھولوں کا زور جو عورتیں کھانوں  
 میں پہنتی ہیں (۲) کلانی میں پہننے کا ایک قسم کا زیور (۳) ایک قسم کا  
 ریشمی کپڑا۔ مشروع۔  
 گج ہار۔ ڈیرا گندھا ہوا بھولوں کا ہار (۲) گلے میں پہننے والا سونے کا  
 خوبصورت ہار۔  
 گج۔ دگ۔ دی۔ (۱۵) مذمہ (۱) کلانی میں پہننے کی موٹی سی پوڑی۔



گدہ پانا۔ (۱۱۔ محاورہ) رنج و غم سے بول نہ سکا (۲) خوش ہونا۔  
گدہ رگ۔ (گدہ۔ ۵۶) صفت (ادھ پکا۔ نیم پختہ ۲) پھل جو پک جانے کے  
قریب ہو۔

گدہ رانا۔ (گدہ۔ ۵۶) صفت (نیم پختہ ہونا۔ پھل کا پک جانے کے قریب پہنچنا)۔  
جوانی کا آغاز ہونا۔ جو بن پرانا۔

گدہ راجھٹ۔ (گدہ۔ ۱۔ ۵) صفت (پھل کے پکنے کے قریب  
ہونے کی حالت۔

گدہ ریا۔ (گدہ۔ ۱۰) صفت (ادھ پکا ادھ پکا پکنے کے قریب۔

گدہ ریا یا ہوا بدن۔ (۱۶۔ مذ) جوانی میں بھرا ہوا بدن۔ گشت سے  
خوب بھرا ہوا جسم۔

گدہ رسی۔ (گدہ رسی۔ ۵۶) صفت (فیروز کا مجھ جس میں بہت سے ہونڈ  
لگے ہوئے ہوں۔ گودھی۔ جرقہ ۲) وہ بازار جس میں ہر قسم کی چرائی  
چیزیں بکتی ہوں۔

گدہ رسی میں (لعل) لال۔ (۱۶۔ شل) غریب گھرانے میں صاحب ہزر ہونا (تھوٹا  
میں لال) وہ ہزر مند جو اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہے۔

گدہ ریا۔ (گدہ ریا۔ ۵۶) صفت (گدہ کی تصویر۔ چھوٹی گدہ رسی)۔  
وہ شخص جو گدہ رسی پہنہ ہے (۳) پھل پانے کے پرنے پہننے والا (۳)

خیمہ اور بڑی کراہ پر ہونے والا۔  
گدہ ریا ویر۔ (گدہ ریا۔ ۱۶) صفت (گدہ رسی پہننے والا فقر۔

گدہ کا۔ (گدہ کا۔ ۵۶) صفت (گدہ کا پھل کا پھل ہونا)۔  
گدہ کا۔ (گدہ کا۔ ۱۶) صفت (گدہ کا پھل کا پھل ہونا)۔

گدہ گدہ۔ (گدہ گدہ۔ ۵۶) صفت (نرم۔ ملائم۔ پیلا۔  
گدہ گدہ)۔ (گدہ گدہ۔ ۵۶) صفت (انگلیوں سے جو پھو کر ہنسانا (۲)

اُبھارنا۔ بھڑکانا (۳) بھڑکانا۔ مذاق کرنا (۴) شوق بڑھانا۔ گھوڑے  
کے پیٹ کو یاد لگانا کہ جست و نیز میں آئے۔

گدہ گدہ ہٹ۔ (گدہ گدہ۔ ۵۶) صفت (گدہ گدہ کا اثر۔  
گدہ گدہ ایسے وہاں تک جہاں تک ہستی نہ آئے۔ (۱۶) شل (دل لگی رہیں

درد و تکلیف)۔ (گدہ گدہ۔ ۵۶) صفت (انگلیوں سے جو ہونے کے باعث  
ہنسی کی کیفیت (۲) جوش۔ شوق۔ ہستی۔

گدہ گدہ کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) انگلیوں کو بدن سے نکال کر ہنسانا۔ چھیڑنا۔  
گدہ گدہ کرنا۔

گدہ گدہ۔ (گدہ گدہ۔ ۵۶) صفت (گدہ گدہ کی گھنٹیاں جو نرم  
اور ملائم ہو گئی ہوں۔

گدہ لال۔ (گدہ لال۔ ۵۶) صفت (ملا۔ مکدر۔ گاڑھا۔ غلیظ۔  
گدہ لالین۔ (۱۶۔ مذ) میل کدورت۔

گدہ لانا۔ (گدہ لانا۔ ۵۶) صفت (رقیق شے کا مٹی ملنے کی وجہ سے میلنا ہونا۔  
گدہ لانا)۔ (گدہ لانا۔ ۵۶) صفت (ایک قسم کا ملائم پشیدار کیل۔

گدہ نا۔ (گدہ نا۔ ۵۶) صفت (سوتی سے جسم کے کسی حصہ میں سرمہ یا  
نیل بھرا جانا۔

گدہ نا۔ گدہ نا۔ بدن پر سوتی اور تیل وغیرہ سے بیل بوٹے ہونا۔  
گدہ دانی۔ (گدہ دانی۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہٹ۔ (گدہ ہٹ۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ گدہ)۔ (گدہ گدہ۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ گدہ۔ (گدہ گدہ۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ گدہ)۔ (گدہ گدہ۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

گدہ ہا۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔  
گدہ ہا)۔ (گدہ ہا۔ ۵۶) صفت (مٹا ہوا پھل بوٹے گدہ دانے کی ہجرت۔

## گ۔ د۔ گ۔ ڈ۔

گڈ - (۱۰۱۔ ۱۰۵) گاڑی کا مختلف - گاڑی - چھکڑا (۲، ۱۲) مذکر (مرد آدمیوں یا چند آدمیوں کا اتفاق) ۱۳) کا غنڈوں کا مجموعہ - ملے جملے کا غنڈ (۴) مجموعہ۔

گڈ ٹرک - گڈ ٹرک - (۵) صفحہ - طاجلا - گڑبڑ۔

گڈ ٹرک کرنا - (۱۶) عمارت - ملارینا - گڑبڑ کرنا۔

گڈ ٹرک ہونا - (۱۶) عمارت - مخلوط ہونا - مل جمل جانا۔

گڈ - (Good) (۱) اچھا - عمدہ - نفیس - خوب (۲) پارسا۔

گڈ - (۳) نیک - ترہین - مفید۔

گڈ فرائی ڈے - (Good Friday) مسیحی عقیدے کے مطابق

حضرت عیسیٰ کے شعلی چڑھنے کا دن (۲) عیسائی تیوہار جو اپریل میں جمعہ

کے دن منایا جاتا ہے۔

گڈ مارنینگ (Good Morning) صبح کو سلام بمعنی صبح ستانی

سے گذرے۔

گڈ ڈا - (۱) گڈ ڈا - (۱) مذم - چھکڑا - بوجھ لانے کی گاڑی۔

گڈ ڈا - (۱) گڈ ڈا - (۱) مذم - کپڑے کا بنا ہوا آدمی یا چٹلا۔

گڈ ڈا بنانا - (۱۳) عمارت - بنام کرنا - رسوا کرنا - دلیل کرنا۔

گڈے گڑیا کی شادی - (۱۰) مذم - بچوں کا ایک کھیل ہے جس میں وہ کپڑے

کے نئے بوتے گڈے گڑیا کی شادی چھانے میں (۲) معمولی کام۔

گڈ ریٹرنگ ٹور - (۱) مذم - بیرون گھریاں چھانے والا - گھالا - برقی چھانے والا

جو چھانے والا

گڈس (Goods) (۱) اچھا - (۲) مال - سامان - اسباب۔

گڈس آفس - (Goods Office) (۱) اچھا - (۲) مال کا

دفتر۔ مال گڈام کا دفتر۔

گڈس ٹرین - (Goods Train) (۱) اچھا - (۲) مال گاڑی۔ وہ

جو ریل گاڑیوں میں صحت سامان آتا جاتا ہے۔

گڈس کلرک - (Goods Clerk) (۱) اچھا - (۲) مال گڈام کا

باہر - ریل کا باہر۔

گڈھ - (۱) مذم - گڑھ - کوٹ - قلعہ - جھار۔

گڈھ جیتنا - (۱۳) عمارت - گڑھ فرخ کرنا - قلعہ فرخ کرنا (۲) کوئی اہم کام کرنا - کسی

مشکل یا مصیبت سے رہائی پانا۔

گڈھ کپتانی - (۱) مذم - قلعہ کا افسر - قلعے کی صحت کرانے والا افسر۔

گڈھھا - (۱) مذم - گڑھا۔

گڈھی - (۱) ڈھی - (۱) مذم - گڑھی - جھوٹا قلعہ - کوٹ۔

گڈھی - (۱) ڈھی - (۱) مذم - (۱) لمبی - بٹھا - پٹلی (۲) گاڑی - چھکڑا۔

گڈھی - (۱) ڈھی - (۱) مذم - (۱) بیلوں کا جوڑ (۲) ایک قسم کا پتنگ (۳) پرندے کے بچے کی گرہ جو لسنے سے اڑنے سے باز رکھنے کے لیے باندھ دیتے

ہیں (۴) گڑیا۔

گڈھے کو آدمی بنانا - (۱۶) عمارت - بیوقوف کو غلط بنانا۔

گڈھے کو آنسوئی باغ - گڈھے کو پوری حلوا - گڈھے کو گلشن (۱۶) (ش)

اچھن کر بڑا ترے - نالائق کو بڑا کام۔

گڈھے کو باب بنانا - (۱۶) عمارت - کام نکلنے کے لیے بیوقوف کی

منبت خوشامد کرنا۔

گڈھے کو حلوا کھلا کر لائیں کھانا - (۱۶) عمارت - بڈوں کے ساتھ جھلانے کے

ڈکھانے کی گٹھیا۔

گڈھے کو گڈھا کھچتا ہے - (۱۶) مثل - (۱) اچھن کو اچھن ہی سہا ہے۔

گڈھے کے سر سے سینک جانا - (۱۶) مثل - (۱) کسی چیز کا کوئی نشان

نہ ہونا - بالکل نہ ہونا۔

گڈھے کے ہل چلانا - (۱۶) عمارت - کسی شہر یا جگہ کو اجڑانا - تباہ و

برباد کر دینا۔

گڈھے کے منہ میں خشکنا - (۱۶) مثل - (۱) نا اہل کو کوئی اچھی چیز دینے کے

موتع پر کہتے ہیں۔

گڈھے والا - (۱۶) مذم - وہ شخص جو کرایے کے لیے گڈھے رکھے (۲) وہ شخص جو گڈھے

پر چیزیں لانے کا کام کرے۔

گڈھیڑی - (۱) ڈھی - (۱) مذم - بے تمیز اور بے سلیقہ

عورت - بھوپڑ عورت۔

گڈھیلا - (۱) ڈھی - (۱) مذم - (۱) وہ شخص جس کے پاس بہت گڈھے ہوں۔

گڈھی - (۱) ڈھی - (۱) مذم - (۱) عمارت - تخت شاہی - مندر حکومت (۲) گڈھیلا مندر

(۳) کاغذ یا کپڑے کی تہ۔

گڈھی بریٹھنا - (۱۶) عمارت - مندر حکومت پر جلوہ گرہ کرنا (۲) کسی پیر یا بزرگ

یا گڑھی کے بعد اس کا گڈھی نشین ہونا۔

گڈھی سے آمارنا - (۱۶) عمارت - حکومت سے معزول کرنا - تخت سے اُتارنا۔

گڈھی نشین - (۱) مذم - تخت نشین۔ وہ شخص جو حکومت کی گڈھی پر بیٹھے

(۲) درویشوں پر دل اور فقیروں کا جانشینی۔

گڈھی نشینی - (۱) مذم - تخت نشینی (۲) پیر یا گڑھی وغیرہ کا جانشینی

گڈھی - (۱) ڈھی - (۱) مذم - (۱) سر کا پھیلنا - گردن کا پھیلنا (۲)

گڈھی جھاننا گڈھی نامہ - (۱۶) عمارت - دھپ لگانا - گڈھی پر

دھولیں چڑانا۔

گڈھی سے ڈہان کھینچنا (ڈکھاننا) - (۱۶) عمارت - گردن کے پھیلے

مٹنے کو پیر کر اس راستے سے زبان نکال لینا (۲) مزائے موت دینا (۳)

چھاننے کے لیے ایک سزا۔

گڈھیلا - (۱) ڈھی - (۱) مذم - (۱) رومی کا گڈھا - نوشک (۲) ہاتھی کے

اوپر کھینے کی گڈھی۔

گڈھیہ - (۱) ڈھی - (۱) مذم - گڈھی کرنا - بھیک مانگنا۔



گرا جانا۔ ۱۶۔ محارہ، کمزوری محسوس کرنا۔ گھبرا جانا۔  
 گرا کر کہہ کر۔ ۱۷۔ صفت اب بہت جلد گرا جا رہا ہے۔  
 گرا نہیں سنبھلتا۔ ۱۸۔ نیشنل ذات پاک پھر وقار حاصل نہیں ہوتا۔  
 گرتے پڑے کا سووا۔ ۱۱۔ نیشنل ۱۵۔ معاملہ جو خوشامد و نامد کے  
 دہایا جاتے۔  
 گرتے پڑے وقت کا ٹکڑا۔ ۱۱۔ محارہ ۱۵۔ چیز جو مصیبت  
 کے وقت کام آئے۔  
 گرواب۔ رگ۔ راب ۱۱۔ ا۔ مذم کاروس کے چھڑوں سے بڑی  
 گولی۔ بڑا چھڑا۔  
 گرواری۔ رگ۔ راب ۱۱۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا دھاگا پارسی ٹپنے کا آلہ ۱۲۔ دھاگا  
 پٹینے کی ریل ۱۳، کوئین کی چرچی ۱۴، مشینوں کا پرزہ جو پیسے کی شکل  
 کا ہوتا ہے۔  
 گراڑ۔ رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم زرسور ۲۔ شجاع بہادر۔  
 گراس۔ رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم لقمہ۔ نالار۔  
 گراس۔ (Grass) رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم (مٹا) ہری گھاس۔  
 گراس کٹ گراس کٹر۔ (Grass Cut) (Grass Cutter)  
 گھسیارا گھاس کاٹنے والا۔ سائیس۔  
 گراف۔ (Graph) رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم خاکہ اعداد و شمار کا ملائی خاکہ۔  
 گرام۔ رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم گاڑن۔ موٹو۔ بستی۔ ۲۔ راک کے سڑوں  
 کا مجموعہ۔  
 گرام۔ (Gramme) ایک مکعب سنٹی میٹر مقل پانی کا وزن جب کمال  
 کثافت رکھتا ہے۔ اور غلامیں تو ملائے۔ وزن تقریباً ایک ماشہ۔  
 اشاری نظام کا ایک حصہ۔ ہزار گرام یا ایک سیر آٹھ ٹولے کے برابر  
 وزن۔  
 گرامر۔ (Grammar) رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم صرف دستور۔  
 زبان کی قواعد۔  
 گراموفون۔ (Gramophone) رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم فون، (۱) ایک  
 آلہ جس کے ریکارڈسے آواز نکلتی ہے۔  
 گرامی۔ رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم بہت بزرگ رقوم۔ معظم ۲۔ فارسی کے  
 شاہ مولانا غلام قادر جانندی کا تخلص۔  
 گرامی منش۔ ۱۔ مذم (۱) قدر بزرگ طبیعت والا۔  
 گرامی نامہ۔ ۱۔ مذم (۱) بڑے کا خط۔  
 گران۔ (رق) گری۔  
 گراں۔ رگ۔ راب ۱۱۔ ۱۔ مذم اقیل۔ ذہنی۔ بھاری۔ پوجھل ۲۔ ہنگامہ ۳،  
 ناگوار۔ تکلیف دہ ۴۔ ہمیش قیمت۔ انمول ۵۔ سخت۔ درشت۔ کڑا ۶،  
 مست۔ کھال ۷، مشکل۔ دشوار۔  
 گراں بار۔ ۱۔ مذم (۱) بھاری پوجھ لدا ہوا ۲، باردار۔ پھل لانے  
 والا ۳، مالدار۔  
 گراں شمار۔ ۱۔ مذم (۱) بھاری۔ پریشانی۔  
 گراں بہا۔ ۱۔ مذم (۱) قیمتی۔ بیش قیمت۔

# گ۔ر

گ۔ر۔ ۱۔ حرف شرط، اگر کا مخفف جب (صفت) گار کا مخفف۔ بنانے والا۔ کرنے  
 والا۔ امریکات میں استعمال ہوتا ہے۔ گار گرانڈ گروفیرہ۔  
 گری دولت برسی مسیت نہ گردی، امرودی ۱۔ ۱۔ نیشنل (۱) غرب  
 بلوہ تو شیدن وہوشیار شستن پہل است (۱) پی کر ہوشیار ہونا  
 آسان ہے۔ لیکن دولت مل جائے پر دست دھکنہ نہ ہونا۔ بڑے جی مرد  
 کا کام ہے۔ یعنی مردہ ہے جو دولت کے نشے میں مست ہو۔  
 گریبر من نشین، لذت، بکشم کہ نازنینی۔ ۱۔ نیشنل (۱) اگر تو  
 میرے سر آنکھوں پر بیٹھے تو کھائے کرتیار ہوں کیونکہ تو میرا محبوب  
 ہے اور میں تیرے ناز آنکھانا چاہتا ہوں۔  
 گر جہاں طلبی مھالقمہ نیست۔ زر طلبی سخن دریں است۔  
 (۱) نیشنل (۱) اگر جہاں مانگے تو حاضر ہے۔ لیکن اگر پیسے مانگے تو مشکل ہے  
 بخیل کر دوسرے جہاں سے عزیز ہوتا ہے۔  
 گر جہاں طلبی مھالقمہ نیست۔ زر طلبی سخن دریں است۔  
 (۱) نیشنل (۱) اگر جہاں مانگے تو حاضر ہے۔ لیکن اگر پیسے مانگے تو مشکل ہے  
 بخیل کر دوسرے جہاں سے عزیز ہوتا ہے۔  
 گر ضرورت بود روا باشد۔ ۱۔ نیشنل (۱) ضرورت کے وقت  
 سب کچھ کر لیتے۔  
 گر قبول فتی ز سے عزت و شرف۔ ۱۔ نیشنل (۱) اندر کسی تنفے کے  
 پیش کرتے وقت کہا کرتے ہیں۔ مطلب۔ اگر یہ حقہ قبول ہو جائے تو  
 کیا ہی عزت اور بزرگی ہے۔  
 گرنہ بودے چوب تر۔ فرمان نہ بودے گاؤد تر۔ ۱۔ نیشنل (۱) اگر  
 نیکی ناکوسی نہ ہو تو گائے اور گدھا حکم نہیں مانتے۔ جب تک کسی کا دند نہ ہو  
 کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔  
 گر ہمیں گنہ، ہمیں مٹا کر اطفالان تمام خواہ شد۔ ۱۔ نیشنل (۱) (مٹا)  
 جب بڑے کا یہ حال ہو تو چھوٹوں کا خدا حافظ۔  
 گر۔ ۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم اصول۔ قاعدہ۔ کلیہ۔ راز ۲، کسی کام کرنے کا خاص طریقہ کار  
 یا قاعدہ۔ انگریزی میں اُسے فارمولہ (Formula) کہتے ہیں ۳، گرد  
 کا مخفف۔ مرشد۔ رہنما۔ استاد ۴، نکتہ۔ پدی۔  
 گر بھائی۔ ۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم پیر بھائی۔ ایک گور کے چیلے ۲، ایک استاد کے  
 شاگرد ۳، جم جمعیت۔ ہم کتب۔  
 گرد و دارہ۔ ۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم گرد کے رہنے کا مکان ۲، کھوں کی دھرم سال۔  
 گرد بیدیا۔ مسر سر گیان۔ ۱۔ ۵۱۔ ۱۔ نیشنل (۱) ہر گرد اور مرشد کا علم نیک مشاف ہوتا  
 ہے جیسے ہر پیش عقل اور ذہانت مختلف ہوتی ہے۔  
 گر کھلی۔ ۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم (۱) گور کے منہ دکھ، کی زبان یعنی پنجابی زبان رسکھ  
 پنجابی کو گور بھی کہتے ہیں، گور بھی رسم الخط جو ناگری سے بنا جاتا ہے۔  
 گرا۔ (رگ، راب) ۱۔ ۵۱۔ (صفت) سرخی مائل لاکھی رنگ۔  
 گرا۔ رگ۔ راب ۱۱۔ ۵۱۔ (صفت) محتاج۔ غریب۔ ذلیل۔  
 گرا (رگ، راب) ۱۶۔ (صفت) زمین پر گرا اور پٹا ہوا ۲، ذلیل۔ بخوار۔  
 گرا پڑتا۔ ۱۶۔ محارہ ۱۵۔ گرا پڑنا کسی چیز پر حد سے زیادہ رغبت کرنا۔



گرگج سنگ - ریح گرگج، ۱س۔ ۱۔ مٹ ایک گھاس جو میل کی طرح پھیلتی ہے۔  
 گرگو - ۱۔ مٹ، غبار، لاکھ، دھول (۲)۔ بے تہیت۔ تاجیہ (صف)  
 پھرنے والا چکر کھانے والا۔ سفر کرنے والا۔ مرکبات میں استعمال  
 ہوتا ہے۔ آوارہ گرد۔ جہاں گرد وغیرہ۔

گرد آفتاب - ۱۔ مٹ (۲)۔ آوارہ گرد جو سورج کی کرنوں میں چمکتے ہیں۔  
 گرد آلودہ - ۱۔ مٹ (صف)۔ مٹی میں ملا ہوا غبار آلودہ چیز جس پر گرجی ہوئی ہو۔  
 گرد آٹھنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ غبار اٹھانا۔ خاک کرنا۔ ۲۔ شاہ کرنا۔ ہر بار کرنا۔  
 گرد آڑنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ غبار اٹھانا۔ شاہ کرنا۔ ہر بار کرنا۔

گرد باد - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ، بھولنا۔ پھرنے والی ہوا۔ ہوا جس میں غبار ملا ہوا ہو۔  
 گرد بٹھنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ غبار کا نشیبی ہونا۔ غبار کا نیچے جم جانا۔ ۲۔ میل  
 جمانا۔ اندھی کا کہ ہونا۔  
 گرد پڑنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ غبار کا اڑ کر کسی کے جسم یا چیزوں وغیرہ پر پڑنا۔

گرد پوش - ۱۔ مٹ (صف)۔ وہ کاغذ جو کتاب کو میلا ہونے سے بچاتا ہے۔  
 گرد پوچھنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ دھول صاف کرنا۔  
 گرد چھنا - ۱۱۔ محاورہ (۲)۔ غبار کا ایک جگہ بیٹھ جانا۔  
 گرد چھڑنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ دھول صاف کرنا۔ ۲۔ سزا دینا۔  
 گرد کرنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ بے نور کرنا۔ ماند کرنا۔ مات کرنا۔ بہرانا (۲)۔

گردے میلے کرنا۔  
 گرد کو نہ پہنچنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ پیچھے رہ جانا۔ برابری نہ کر سکتا۔ عاجز رہنا۔  
 گرد نامہ - ۱۔ مٹ (۱)۔ وہ مربع کاغذ کا ٹکڑا جس پر دعائیں لکھ کر گھر کے  
 ستونوں میں یا کسی درخت کے گرد باندھتے ہیں، تاکہ بچا گیا ہو آدمی

واپس آجائے۔  
 گرد پوش - ۱۔ ارد گرد۔ آس پاس۔ قریب۔  
 گرد و غبار - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹی اور دھول۔ خاک اور دھول۔  
 گرد ہونا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ مات ہونا۔ خاک ہونا۔ بے اثر ہونا۔ ۲۔ بے رونق  
 ہونا۔ ۳۔ شرمندہ ہونا

گرد ہسے - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ بیخ ہے۔ بے تہیت ہے۔ کچھ حیثیت  
 نہیں رکھتا۔  
 گرد - ۱۔ مٹ (صف)۔ آس پاس۔ نواح (۲)۔ مدور۔ گول (۳)۔ حلقہ۔  
 گھیرا (۴)۔ بیچھے۔

گرد بائش - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ، وہ گول اور چھوٹا گیارہ جو سوتے وقت رخساروں  
 سے نیچے رکھا جائے۔  
 گرد پھینا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ طواف کرنا۔ صدف ہونا۔  
 گرد چھنا - ۱۱۔ مٹ (صف)۔ آوارہ گرد (۲)۔ فلس تماش بین۔  
 گرد بھادہ - ۱۔ مٹ (۱)۔ جس کے ذریعے سمت معلوم کی جائے۔ (Periscope)  
 گرد پوش - ۱۔ مٹ (۱)۔ نواح (۲)۔ مٹ (۱)۔ آس پاس کا علاقہ۔

قرب و جوار۔  
 گرد ہونا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ پیچھے پڑنا۔ درپے ہونا۔  
 گرد - ۱۔ مٹ (صف)۔ بہادر شخص۔ پہلوان۔ فاتح۔ تور۔ جمع۔ گرداں۔  
 گردا - ۱۔ مٹ (۱)۔ آوارہ گرد۔ دھول۔ غبار۔

گرداب - ۱۔ گرد۔ ناب، ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ، بھولنا۔ پانی کا چکر کھین گھیری۔  
 گرد و گرد - ۱۔ گردا۔ گردا (۱)۔ مٹ (۱)۔ تابع فعل (چاروں طرف)۔ ارد گرد۔  
 گردال - ۱۔ گرد۔ دان (۱)۔ مٹ (صف)۔ پھرنے والا۔ دو ڈار (۲)۔ اٹا۔ پٹا ہوا۔  
 گردان - ۱۔ گرد۔ دان (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، پھرنے والا۔ ترتیب کے مطابق صیغوں کا  
 دہرانا۔

گردان کرنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ صیغوں کو بالترتیب زمانہ اور وحدت جمع وغیرہ  
 کے لحاظ سے پڑھنا۔  
 گرداننا - ۱۔ گرد۔ دان (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، کسی مصدر کے تمام صیغوں کو کھینا۔ ۲۔ دہرانا  
 دور کرنا۔ ۳۔ ماننا۔ تسلیم کرنا۔

گردانی - ۱۔ گرد۔ دان (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، چادر یا ٹوپے جو عورتیں نماز پڑھنے وقت  
 خاص طریقے سے اڑھتی ہیں۔  
 گرد اور - ۱۔ گرد۔ دا۔ ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ، چادر یا ٹوپے کے حلقے یا جگی کے علاقے کا افسر گشت  
 کرنے والا عہدے دار۔

گرد اور سی - ۱۔ گرد۔ دا۔ ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گرد اور کا عہدہ (۲)۔ دورہ  
 گشت (۳)۔ مٹ (۱)۔ گشت کرنے کا حلقہ یا علاقہ۔ مٹ (۱)۔ کسی  
 عہدیدار کا فہلوں کے اندراج کے لیے گشت۔  
 گردوش - ۱۔ گردوش (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، چکر۔ دور۔ پھیرنا۔ انقلاب۔ تغیر۔ ۲۔ ادبار۔

بدیسی۔ بد اقبالی روی۔ سختی۔ مصیبت۔ آنت۔  
 گردوش استعمال (ایلام)۔ سخت ٹک، (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش کی گردوش  
 بدیسی۔  
 گردوش چشم - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش کی حرکت توجہ سے دیکھنا۔  
 گردوش دوران (زمنا) - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش دوران کا چکر۔

گردوش زردہ - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش دوران کا چکر۔  
 گردوش زمین - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش دوران کی ایک محوری جس  
 میں زمین اپنے محور کے گرد ۲۴ گھنٹے میں اپنا پورا چکر لگاتی ہے جس سے  
 دن رات بنتے ہیں۔ دوسری گردوش جس میں زمین ۳۶۵ دن گھومتی  
 ہے۔ ۲۹ مٹ اور بارہ سیکنڈ میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے۔ جس  
 سے مختلف موسم ظہور میں آتے ہیں۔ اس پورے چکر کو ایک سال کہتے ہیں جسے  
 شمسی سال کہا جاتا ہے۔

گردوش رکنا، کھانا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ گھومنا۔ چکر کھانا۔ پھرنا۔ مصیبت میں مبتلا ہونا۔  
 گردوش لیل و نہار - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش دوران کا چکر۔ آنت۔ مصیبت۔  
 گردوش میں آنا (ہونا) - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ چکر میں آنا۔ مصیبت یا پست  
 میں پھنسنا۔

گرد گال - ۱۔ گرد۔ گال (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش دوران کا چکر۔  
 گردن - ۱۔ گرد۔ دن (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش دوران کا چکر۔  
 سے نم شروع ہوتا ہے۔  
 گردن اڑانا (اڑا دینا) - ۱۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ مٹ، گردوش دوران کا چکر۔  
 گردن اڑ جانا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ گردن اڑنا۔ تھک جانا۔ گردن کے  
 چھوٹے کا سخت ہوجانا۔

گردن اٹھنی رہنا - ۱۱۔ محاورہ (۱)۔ خفا رہنا۔ اکھا اور کھی رہنا۔

گردن بند - ۱۰۔ مذم ایک زبور کا نام۔  
 گردن پر احسان ہونا - ۱۲۔ مجاورہ ہارا احسان سے مرعجا ہونا۔  
 گردن پر بوجھ رہنا - ۱۶۔ مجاورہ عذاب سر پر رہنا ۲۰۔ احسان مند ہونا ۳۰۔  
 ناکار ہونا ۳۰۔ سرگردانی کا موجب ہونا۔  
 گردن پر بوجھ لینا - ۱۱۔ مجاورہ اپنے سر زمر داری لینا۔ ممنون احسان ہونا۔  
 گردن پر بوجھ ہونا - ۱۱۔ مجاورہ ہارا احسان میں رہنا ۲۰۔ گناہوں کے عذاب کا سر پر ہونا ۳۰۔ ناکار خاطر ہونا ۳۰۔ گراں بار ہونا۔  
 گردن پر جو رکھنا - ۱۶۔ مجاورہ بوجھ اٹھانا ۳۰۔ کوئی بھاری کام ذمے لینا۔  
 گردن پر پھیرنا - ۱۶۔ مجاورہ ذبح کرنا ۲۰۔ مزید ظلم کرنا۔  
 گردن پر پھیری چھیننا - ۱۔ مجاورہ ذبح کیا جانے پر، حق تلفی ہونا۔ بہت ظلم ہونا۔  
 گردن پر ترقی کرنا - ۱۱۔ مجاورہ کسی کے ذمے کسی کا حق رہنا۔  
 گردن پر خط چھیننا - ۱۶۔ مجاورہ قتل کرنے کے لیے جلاؤ کا قتل سے پہلے گردن پر نشان لگانا تاکہ تلوار نشان پہنکے۔  
 گردن پر خوجھلانا - ۱۶۔ مجاورہ بہت نظر کرنا۔  
 گردن پر خون کرنا - ۱۶۔ مجاورہ کسی کے قتل کا وبال گردن پر رہنا۔  
 گردن پر خون ہونا - ۱۶۔ مجاورہ کسی کے قتل کا عذاب یا گناہ سر پر ہونا قتل کے گناہ کا جویم اور خون کا ذمہ دار ہونا۔  
 گردن پر خون سوار ہونا - ۱۱۔ مجاورہ خوبی کا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر کسی کے پیچھے پڑنا۔  
 گردن پر خون لینا - ۱۶۔ مجاورہ قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا۔  
 گردن پر ستوار ہونا - ۱۶۔ مجاورہ کسی کی گردن پر چھٹنا ۲۰۔ سخت لٹکانا کرنا۔ کسی بات یا کام کے لیے از حد تنگ اور مجبور کرنا۔  
 گردن پر دبال ہونا - ۱۶۔ مجاورہ کسی ذمے عذاب ہونا ۳۰۔ کسی گناہ کا بوجھ حسب قیمت کفارہ اور نہ ہو، ہونا۔  
 گردن پر نکال دینا - ۱۶۔ مجاورہ اپنے عزت کر کے نکال دینا۔ گردن میں ہاتھ ڈال کر نکال دینا۔  
 گردن پھینسانا - ۱۶۔ مجاورہ گردن کو پھندے میں ڈالنا ۲۰۔ اپنے آپ کو پھیندے میں پھینسانا ۳۰۔ ضامن ہونا۔ ذمہ داری لینا۔  
 گردن پھینستا - ۱۶۔ مجاورہ بلا میں گرفتار ہو جانا۔ خطرے میں پڑنا۔  
 گردن پھیرنا - ۱۶۔ مجاورہ مغز ہونا۔ سرکشی کرنا۔ حکم نہ ماننا۔  
 گردن توڑنا - ۱۶۔ مجاورہ ایک خطبہ تک بھاری جس میں گردن اکڑ جاتی ہے۔  
 گردن توڑنا - ۱۲۔ مجاورہ کسی کو مارنا۔ پھینسا۔ سزا دینا۔ مغلوب کرنا۔  
 گردن چھکا کر چھیننا - ۱۶۔ مجاورہ آنکھ داری کرنا۔  
 گردن چھکانا - ۱۶۔ مجاورہ گردن نیچے کرنا بوجھ کے مارے گردن خم کرنا ۲۰۔ تسلیم نہ کرنا۔ ادب سے سلام کرنا ۳۰۔ اطاعت کرنا۔ متابعت کرنا ۴۰۔ شرمندہ ہونا۔ احسان مند ہونا ۵۰۔ عاجزی کرنا۔

گردن چھکانا - ۱۱۔ مجاورہ گردن نیچے ہونا ۲۰۔ سلام کے لیے چھکانا ۳۰۔ زبردبار احسان ہونا ۴۰۔ شرمندہ ہونا ۵۰۔ مصلیح ہونا ۶۰۔ عاجزی ظاہر کرنا۔  
 گردن چھپانا - ۱۶۔ مجاورہ مصیبت سے نجات دلانا۔ آزاد کرنا۔  
 گردن ڈبانا - ۱۶۔ مجاورہ مغلوب کرنا۔ قابو کرنا۔  
 گردن دینی ہونا - ۱۶۔ مجاورہ ممنون احسان ہونا۔  
 گردن ڈالنا - ۱۱۔ مجاورہ گردن نیچے کرنا ۲۰۔ شرمندگی سے یا عاجزی سے گردن جھکا دینا۔  
 گردن ڈھلکانا - ۱۶۔ مجاورہ گردن کا ٹوٹ جانا۔ شکلا ڈھلکا ۲۰۔ مرنے کے قریب ہونا۔  
 گردن زدن - ۱۶۔ مذم جلاؤ۔  
 گردن سے جو اتارنا - ۱۶۔ مجاورہ آزاد ہونا۔ اطاعت اور فرمانبرداری سے نجات پانا۔  
 گردن سیدھی ہونا - ۱۲۔ مجاورہ مغزور ہونا۔  
 گردن فراز ہونا - ۱۶۔ معاف کرنا۔ بیکسر۔ باغی۔  
 گردن کا بوجھ اتارنا - ۱۶۔ مجاورہ ذمہ داری سے سیکدوش ہونا۔  
 گردن کاٹنا - ۱۶۔ مجاورہ گردن سے سر جدا کرنا۔ قتل کرنا ۲۰۔ حق تلفی کرنا بہت ظلم ڈھکانا۔  
 گردن کا ڈورا - ۱۶۔ مذم وہ سیاہ ڈورا جو نظر بد کے خیال سے گلے میں پہنتے ہیں ۲۰۔ ایک خاص انداز معشوقانہ سے گردن کی لپک۔  
 گردن کا منکا (مہرہ) - ۱۰۔ مذم پشت کی وہ ہڈی جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے۔  
 گردن کا منکا ڈھلکانا (ڈھلکانا) - ۱۶۔ مجاورہ گردن کی پھلی ہڈی کا نیچے ٹک جانا ۲۰۔ مرنے لگنا۔  
 گردن لٹکنا - ۱۶۔ مجاورہ لٹکنا۔ مرجانا۔ قتل ہونا۔ حلال ہونا ۲۰۔ تباہ ہونا۔ برباد ہونا۔ زبردستی مال لیجانا۔  
 گردن کش - ۱۶۔ مذم مغز۔ باغی۔ بیکسر۔  
 گردن کشی - ۱۶۔ مذم قیادت۔ سافرمانی ۲۰۔ غزور۔ بیکسر۔ ۳۰۔ شرارت۔ خونگی۔  
 گردن مارنا - ۱۱۔ مجاورہ قتل کرنا۔ ہلاک کرنا ۲۰۔ تکلیف دینا۔ نقصان پہنچانا۔  
 گردن ماروا اور گریبان میں مٹھ ڈالو - ۱۶۔ مثل نقصان کرنے کا چالوئی کرنا۔ بظاہر نیک بن کر لوگوں کو ٹھکوا۔  
 گردن مردانا - ۱۶۔ مجاورہ قتل کرنا۔ ہلاک کرنا۔  
 گردن مردانا - ۱۱۔ (مص) گلا گھونٹنا ۲۰۔ کسی جانور کو بغیر ذبح کیے گلا گھونٹ کر مارنا۔  
 گردن مینا - ۱۶۔ مذم صراحی کی گردن۔ صراحی کا اوپر کا پتلا حصہ۔  
 گردن میں تسبیح ڈالنا - ۱۶۔ مجاورہ زبردستی اختیار کرنا۔  
 گردن میں ہاتھ دے کر نکالنا - ۱۶۔ مجاورہ نہایت بے عزتی سے نکال دینا۔

گردن میں ہاتھ دینا۔ ۱۶۔ محاورہ نکالنے کے لیے گردن پکڑنا، ۲۱۔ تھما کرنا۔  
سمت کرنا۔

گردن ناپنا۔ ۱۷۔ محاورہ درزی کا گردن کی پیمائش کرنا، ۲۲۔ گردن پکڑنے  
نکال دینا، ۳۳۔ مار ڈالنا۔

گردن سچی ڈالنا۔ ۱۶۔ محاورہ شرم سے گردن جھکا لینا۔  
گردن سچی ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ گردن جھکا کر، شرمندہ ہونا، ۲۳۔ غرور  
ٹھٹھکے جانا۔

گردن نہ اٹھانا۔ ۱۶۔ محاورہ شرمندگی سے آنکھ سامنے نہ دکھانا، نہ کرنا۔ دم  
نہ مارنا، ۲۴۔ انکار نہ کرنا۔

گردن دہاں ماریے جہاں پانی نہ ہو۔ ۱۱۔ مثل بہت بُرے کے  
متعلق کہا جاتا ہے۔

گردن ہلانا۔ ۱۷۔ محاورہ انکار کرنا۔ ٹھکرنا، ۲۲۔ اقرار کرنا۔  
گردن ہلنے لگنا۔ ۱۹۔ محاورہ بڑھاپے سے باعث گردن میں رعشہ ہوجانا۔

بہت بوڑھا ہوجانا۔  
گردنا۔ گردنا، ۱۷۔ مذموم گردن، ۲۲۔ دھول دھپا۔

گردنی۔ گردنی، ۱۷۔ مذموم گردن کے پڑاؤ کے لیے کہا جاتا ہے۔  
گردنی بھولنا۔ ۱۷۔ محاورہ ہوتا ہے رہا سقن کا ایک داڑ۔

گردنی دینا۔ ۱۷۔ محاورہ گردن میں ہاتھ دوسے نکال دینا۔ گردن پر  
جاتا نکالنا۔

گردنی مارنا۔ ۱۷۔ محاورہ گردن پر ہاتھ مارنا۔  
گردنوں۔ گردنوں، ۱۷۔ مذموم آسمان چرخ، ۲۲۔ رتھ پہلی رتھ گاڑی۔

چھوڑا، ۲۳۔ گھومنے والا۔  
گردوں اقتدار۔ ۱۷۔ مذموم صاحب منزلت صاحب قدرت زبردست۔

گردوں پر دماغ ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ آسمان پر دماغ ہونا۔ بہت متکبر ہونا۔  
گردوں پر کلاہ پھینکنا۔ ۱۶۔ محاورہ لوٹی اچھالنا۔ خوشی سے اترا۔  
فخر کرنا۔

گردوں پناہ۔ ۱۶۔ صفا بادشاہ کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔  
گردوں ٹھکیں۔ ۱۷۔ صفا عزت یا طاقت میں آسمان کے برابر۔

گردوں پر تھوڑے اسی پر پڑے۔ ۱۶۔ مثل آسمان پر تھوڑا  
اپنے منہ پر آتا ہے۔

گردوں رکاب (سریر)۔ ۱۶۔ صفا بادشاہ۔  
گردوں سرسنت۔ ۱۷۔ صفا مغرور جھکے، ۲۲۔ باوقار، ۲۳۔ ناموافق۔

گردوں گرداں۔ ۱۶۔ مذموم بھرنے والا آسمان۔  
گردوں وقار۔ ۱۷۔ صفا بڑے اختیار یا مرتبے والا۔

گردوں ہمت۔ ۱۷۔ صفا بلند ہمت۔  
گردہ۔ گردہ، ۱۷۔ مذموم خاک، ۲۲۔ مصروفوں کے استعمال کا سفوف،  
گردہ۔ گردہ، ۱۷۔ مذموم دائرہ حلقہ۔ کنڈلی، ۲۲۔ احاطہ، ۳۳۔ ایک قسم

کی خمیری روٹی، ۲۳۔ چھوٹی گولی تیکہ۔  
گردہ۔ گردہ، ۱۷۔ مذموم انسان یا جوان کا ایک اندرونی عضو جس  
میں پیشاب چھنسا ہے، ۲۳۔ جراثیم، ۳۳۔ حوصلہ۔ دلیری، ۳۳۔ ایک قسم

کی چھوٹی ٹوپ۔

گردہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ حوصلہ ہونا۔ دلیری ہونا۔ جراثیم ہونا۔

گردہ۔ ۱۶۔ صفا حوصلہ۔ لالچی۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا مرگت میں مستعمل ہوتا ہے۔ بدبختی۔ بد نصیبی  
جیسے بادشاہ گردی۔

گردیدہ۔ ۱۷۔ صفا پھرا۔ مڑا ہوا، ۲۲۔ چلا ہوا، ۳۳۔ ناراض۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ مذموم گردی کا ایک جائز، ۲۲۔ نیل کٹھنہ۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ مذموم گردی کا ایک ہتھیار جو اوپر سے گول موٹا اور پیچھے سے پتلا  
ہوتا ہے۔

گردی بردار۔ ۱۷۔ صفا گردی اٹھانے والا۔  
گردی گاؤں۔ ۱۷۔ صفا گردیوں بادشاہ کے گرد گانا، ۲۲۔ گردیوں کی  
شکل گانے کے سر کی ہو۔

گردی مار۔ ۱۷۔ مذموم گردی کا ایک (توڑ جو گڑ لیے پھر تپے اگر کوئی خیرات دے  
تو اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے۔

گردی (Gross) اور۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گردی۔ ۱۷۔ صفا گردی۔ ۱۷۔ صفا ہارہ درجی۔ ۲۲۔ عدد۔

گرگ آشتی 70۔ ا۔ مٹا (منافقانہ صلح) مکرر فوج کی دوستی۔  
 گرگ آشنائی 71۔ ا۔ مٹا (خاہری دوستی)۔ بظاہر دوستی اور  
 باطن میں دشمنی۔  
 گرگ اجل 72۔ ا۔ مٹا (موت کا بھیر طیا)۔ یعنی موت۔  
 گرگ باران دیدہ 73۔ صفت (بجز کارخانہ)۔ آزمودہ کار  
 گرگ بنگل 74۔ گرگ بنگلی (7۔ صفت) چھپا ہوا دشمن جو ساتھ  
 کر دشمنی کرے۔  
 گرگ کہن 75۔ صفت (پڑھا اور پڑھا بجھ گیا)۔ بڑا بیماری مکار۔  
 گرگ کا دگرہ کا 76۔ (نذ) چھوٹا۔ چھلا۔ شاکر (2، 3)۔ لاکر۔ ادنیٰ ملازم (3، 4)۔ بکاد۔ بدینہ۔  
 (4) نہایت شرمیلہ۔  
 گرگ کابی 77۔ (گرگ کابی) (1)۔ ا۔ مٹا (جس کو جھوٹے پتے تک ہوتا ہے۔  
 اگر گٹ۔ گرگٹ) (1)۔ (نذ) ایک قسم کی جس کی طرح طرح کے رنگ  
 بدلتے ہیں۔  
 گرگٹ کا تیر لینا 78۔ (محاورہ) ایک حالت پر قائم رہنا۔  
 گرگٹ کی دوڑا بٹورے تک 79۔ (مثل) ہر شخص اپنے ٹھکانے پر جا کر پناہ  
 لیتا۔ ہر شخص اپنے مری پر بھروسہ کرتا ہے۔  
 گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا 80۔ (محاورہ) نہایت سنہلن مزاج ہونا۔ ایک  
 مال پر نہ رہنا۔ گھڑی میں کچھ ہونا۔ گھڑی میں کچھ (2)۔ نیلی پٹی آنکھیں ہونا۔  
 گرگٹ کی طرح کبھی کالا کبھی لال ہونا۔ 81۔ (مثل) غصہ سے چہرے  
 کا رنگ بدلتا۔  
 گرگ کرانا 82۔ (گرسن)۔ لانا۔ 83۔ مص (بیروں کو جال کی طرف ہٹکانا۔  
 گرگ کرنا۔ گرگیا۔ گرگ۔ زسی)۔ (گرسن)۔ لانا۔ 84۔ (مث) چڑیا۔  
 گرگ (Girl) 85۔ لنگ 86۔ صفت (لاٹ)۔ بچی۔ دوخیزہ کنواری۔  
 گرگ اسکول (Girl School) 87۔ لڑکیوں کا سکول۔  
 گرگ گائیڈ (Girl Guide) 88۔ لڑکیوں کا گائیڈ۔ (نذ) سکاؤٹنگ  
 کی طرح لڑکیوں کا نظام۔  
 گرم 89۔ (ن صفت) اجلتا ہوا۔ دھکتا ہوا (2)۔ اختلاف رکھنے والا (3)۔ مستعد۔  
 تند تیز (4)۔ خفا۔ ناراض (5)۔ گرم اثر رکھنے والا (6)۔ تیز دھار (7)۔  
 شوخ۔ چھلکا (8)۔ صفت (وسی) (9)۔ بارونق (10)۔ غالب۔ فائق (11)۔  
 بڑا تر۔ پُزور (12)۔ بہت زیادہ۔ (تابع فعل) شتاب جلد (13)۔  
 خوب کھرسے۔ چوکے۔  
 گرم اختلاف 90۔ (ن صفت) از حد بے تکلف۔ بھر ادبست۔  
 گرم اختلافی 91۔ (ن صفت) گہری دوستی۔ بہت بے تکلفی۔  
 گرم بازاری 92۔ (ن صفت) بڑی گائی اور خریداری۔ خرید و فروخت کی  
 شہرت۔ بڑا لین دین اور بوج پار۔ بگاڑی۔  
 گرم بولنا 93۔ (محاورہ) بد مزاجی سے جواب دینا۔ تیز ہونا۔  
 گرم جوش 94۔ (ن صفت) تپاک۔ (ن صفت) (2)۔ سرگرمی۔ جوش۔  
 شوق (3)۔ کوشش۔ سعی۔  
 گرم خانہ 95۔ (ن صفت) سردیوں میں نازک کو رکھنے کا مکان (2)۔  
 سردیوں کا موسم گزارنے کا مکان۔

گرم خیر 7۔ (ن صفت) عام خیر۔ افواہ۔ دھوم۔  
 گرم خور 76۔ (ن صفت) غضبناک۔ تند خو۔ تیز مزاج۔  
 گرم خیز 77۔ (ن صفت) تیز چلنے والا۔ چالاک۔  
 گرم دست 78۔ (ن صفت) تیز دست۔  
 گرم رفتار (رو) 79۔ (ن صفت) تیز رو۔ جلدی چلنے والا۔  
 گرم رفتاری 80۔ (ن صفت) تیز چلنا۔  
 گرم ستھن 81۔ (ن صفت) ہونا۔ (محاورہ) بات نہایت میں مشغول ہونا۔  
 گرم سرد 82۔ (ن صفت) شیر گرم (2)۔ بڑا جھلا۔ نیک و بد۔  
 گرم سردا ٹھکانا 83۔ گرم سرد سہنا۔ 84۔ (محاورہ) بڑا جھلا وقت دیکھنا۔  
 کی مصیبتوں کو برداشت کرنا۔  
 گرم عنال 85۔ (ن صفت) تیز دوڑانے والا۔  
 گرم فغان 86۔ (ن صفت) رونے دھونے میں مصروف۔  
 گرم فقہر سوجھنا 87۔ (محاورہ) کوئی نئی شوقی کی بات سمجھ میں آنا۔  
 گرم کپڑے 88۔ (ن صفت) (نذ) آؤنی یا روٹی دار کپڑے۔ جالٹے کی  
 پوشاک۔  
 گرم کرنا 89۔ (محاورہ) آگ پر رکھ کر کینا (2)۔ غصہ دلانا تیز کرنا۔ دوڑانا۔  
 گرم مزاج 90۔ (ن صفت) بد مزاج۔ غصیلما۔ تند خو۔  
 گرم مزاجی 91۔ (ن صفت) تند خوئی۔ بد مزاجی۔  
 گرم مسالہ 92۔ (ن صفت) (نذ) زیرہ۔ سیاہ مرچ۔ لونگ۔ الائچی اور  
 دارچینی کا مجموعہ۔  
 گرم سرد آڑ مانا 93۔ (محاورہ) زمانے کی مصیبتیں سہنا۔ تجربہ کار ہونا۔  
 گرم سرد رہنا نہ چشیدہ 94۔ (ن صفت) تجرہ کار۔ جس نے رنج و غم کھا  
 ہوں۔ معتبر۔  
 گرم ہونا۔ تپنا۔ جلد ہوا۔ جوش ہونا۔ اُبنا۔ سرد۔ خفا ہونا۔ تیز ہونا (2)۔  
 بارونق ہونا۔  
 گرم۔ (نذ) ما۔ 95۔ (ن صفت) گرمی کا موسم۔  
 گرمابہ۔ (نذ) ما۔ 96۔ (ن صفت) حمام۔ نہانے کا گرم مکان۔ گرم  
 غسل خانہ۔  
 گرم گرم۔ (نذ) ما۔ گرم (ن صفت) اجلتا ہوا (2)۔ تازہ تازہ (3)۔ جوش۔ رقت خیز  
 (4)۔ ظریف الطبع۔ مجرب زبان (5)۔ شوخ۔ چھلکا (6)۔ تپاک۔ پُشاق۔  
 گرم گرم باتیں 97۔ (ن صفت) شوخ باتیں۔ محبت کی باتیں۔  
 گرم گرمی 98۔ (ن صفت) تیزی۔ شوخی۔ جوش۔  
 گرم گرمی سے 99۔ (ن صفت) (نذ) (تابع فعل) بڑے تپاک سے  
 تیزی اور جوش کے ساتھ۔  
 گرم مانا۔ (نذ) ما۔ (نذ) (ن صفت) (2)۔ خفا ہونا۔ غصے میں جھننا  
 (3)۔ جوش میں آنا (4)۔ گرم رفتار ہونا (5)۔ مادہ جانور کا شہتی میں  
 آنا۔ خواہش جماع کرنا۔  
 گرم مانی۔ (نذ) ما۔ (نذ) (ن صفت) گرمی۔ تپش۔  
 گرمی۔ (نذ) (نذ) (ن صفت) تپش۔ حرارت (2)۔ موسم گرم (3)۔  
 تپاک۔ گرم جوشی (4)۔ شوخی۔ طراری (5)۔ تیزی۔ تندی (6)۔ آتشک







## گ۔ ر۔ ط۔

گوط۔ ۱۔ ۵۶۔ مذ ا گنے کا جہا ہوارس۔ قند سیاہ (۲)، مٹھاس۔ شیرینی۔

گوط ۳، مٹھا۔ خیرین۔

گوط ابند۔ ۱۱۔ مذ ا گڑے شیرے میں پکانی ہوئی کچے آموں کی پھانکیں۔

گوط دھانی۔ بھنے ہوئے پادروں یا گیہوں میں گڑ ملا کر بنائے ہوئے مرٹھے۔

ایک قسم کی مٹھائی۔

گوط دیے مرے توڑ ہریوں دیکھیے۔ گڑ سے جو مرے

توڑ ہریوں دو۔ ۱۱۔ مثل ا جو کام آسانی اور نرمی سے نکل سکے اس

پر میں سختی نہیں چاہیے۔

گوط دینا۔ ۱۷۔ محاورہ ا بیٹھی بیٹھی باتیں کرنا (۲)، بوسہ دینا۔

گوط کا شہرہ۔ ۱۷۔ مذ ا گڑا کھبت گاڑھا شہرت (۲)، راب۔

گڑ کھلیا (کھلیا) میں چھوٹا۔ ۱۷۔ محاورہ ا کسی ظاہر کرنے والے کا کام پڑھنا

مطہ پر پڑھانا، کوئی خفیہ مشورہ کھل جانا۔

گڑ کھلیا، کھلیا میں چھوٹا۔ ۱۷۔ محاورہ ا ناممکن کام کرنا۔

گڑ کھانا اور گلنگوں سے پر تیز کرنا۔ ۱۷۔ مثل ا چھوٹی بڑائی سے بچنا اور

بڑی بڑائی کا خیال نہ کرنا۔

گڑ کھانے کا اور اندھیرے میں اگے گا۔ ۱۱۔ مثل ا نفع کی امید پر تکلیف

بھی برداشت کرے گا۔

گڑ کی جوتی۔ (مثل ا) اس موقع پر بولتے ہیں جب کسی چیز کے ناماب بھونے

پر عزیز لوگ اس کی شکل تک دیکھنے کو تڑپیں مگر امیر لوگ اُسے

بے توجہ استعمال کریں۔

گڑ لینا۔ (محاورہ) بوسہ لینا۔ چوناق۔

گڑ نہ دے تو گڑ سی بات تو کہے۔ ۱۱۔ مثل ا کوئی اچھا کام دکر کو تو نرمی سے

بول کسی غرض کر دو۔

گڑ ہوگا تو مٹھیاں بھی آئیں گی۔ ۱۱۔ مثل ا دولت ہوگی تو بہتر سے یار

بن جائیں گے۔

گڑار آگ۔ ۱۱۔ ۵۱۔ مذ ا بڑا پوچار، ڈھیر۔ کھلیاں (۳)، فعل ا گڑا بصد

سے فعل ماضی مطلق۔

گڑا بٹائی۔ ۱۱۔ مثل ا ناچ وغیرہ کی وہ تقسیم جو اندازے سے انبار لگا

کر کی جائے۔

گڑا او با مال۔ ۱۷۔ مذ ا وہ مال جو دفن کیا گیا ہو۔

گڑے سردے اکھاڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ ا بڑانے قصے دہرانا (۲)، بھولی

سے بھری بات کو بھینا (۳)، مسے ہونے بڑوں کے عیب لگانا۔

گڑا لو۔ رگ۔ بڑا گڑ (۱۔ ۵)۔ مذ ا گڑا ہوا تمباکو۔ بنا ہوا تمباکو۔ پینے

کا تمباکو۔

گڑا ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ ا دبا ہونا۔ دفن ہونا۔

گڑ بڑ۔ گڑ بڑ (۱۔ ۵)۔ مثل ا پیٹ کے ہونے کی آواز (۲)، جسمیلا بکھیرا۔

انرا کفری۔ بے انتظامی۔ کھل ملی رہا۔ گڑ بڑ۔

گھر سے اکثر جھگ جلنے والا۔

گگریز کرنا۔ ۱۱۔ مص مرکب ا بھانکا۔ فرار کرنا (۲)، پیریز کرنا (۳)، متنفر ہونا۔

گگریزاں۔ رگ۔ رسے۔ زراں، ۱۶۔ صفت ا بھانگے والا۔ بھانگتا

بھا۔ متنفر۔

گریس۔ (Grease) رگ۔ ریس، ۱۱۔ انگ۔ ۱۔ مثل ا چربی۔ چکنائی۔ روغن

ایک بیماری جو کھوڑے کے پیروں میں ہو جاتی ہے۔

گریک۔ (Greek) رگ۔ ریک، ۱۱۔ مذ و مث ا یونانی۔ یونان کا

باشندہ (۲)، یونانی زبان۔

گرگیل۔ رگ۔ ریل، ۱۱۔ ۵۱۔ مذ ا وہ آدمی جو مستحی کے باعث کسی بکر پڑا رہے (۲)، ۵۱۔

بکو تو جو رین کے مکان پر گئے۔

گرگیمبر۔ (Grammar) رگ۔ گ۔ سے، ۱۱۔ مثل ا صرف و نحو۔

قواعد زبان (۲)، صرف و نحو کی کتاب۔

گرگیمبرین۔ (Grammarian) رگ۔ گ۔ سے، ۱۱۔ رین، ۱۱۔ انگ۔ ۱۰۔ مذ ا

قواعد زبان کا جاننے والا۔ ماہر صرف و نحو۔

گرین۔ (Grain) رگ۔ رین، ۱۱۔ انگ۔ ۱۔ صفت ا نخج۔ تخم (۲)، اناج۔ جلتے۔

(۲)، دانہ۔ رین۔ بکر پڑا، بڑ بھرنی کا ایک ذریعہ (۵)، نہایت خفیف تھدار۔

گرین۔ (Green) رگ۔ رین، ۱۱۔ انگ۔ صفت ا سبز۔ ہرا۔

گرگینٹ۔ رگ۔ رینٹ، ۱۱۔ ۵۱۔ مثل ا وہ کلٹی جس پر کونوں کی چرخی

پڑتی ہے۔

گرگینڈ۔ (Grand) رگ۔ رینڈ، ۱۱۔ انگ۔ صفت ا بڑا۔ عظیم (۲)، عالیشان۔

خوبصورت (۳)، عالی ظرف۔ عالی حوصلہ۔

گرگینڈ۔ (Gernade) رگ۔ رے، رینڈ، ۱۱۔ انگ۔ ۱۔ مذ ا چھوٹا نام کا گولا۔

پتھر لولا۔

گرگیر۔ رگ۔ ریر، ۱۱۔ مذ ا رونا پیتا۔ آہ وزاری کرنا۔

گرگیر شادی۔ رگ۔ ۱۱۔ مذ ا خوشی کی حالت میں رونا۔

گرگیر شہنم۔ رگ۔ ۱۱۔ مذ ا اُس کرنا۔

گرگیر شمع۔ رگ۔ ۱۱۔ مذ ا موم کے قطرے جو موم تپنے کے جلنے سے گرتے ہیں۔

گرگیر ششم۔ رگ۔ ۱۱۔ مذ ا شرب کا حراجی سے جام میں کرنا۔

گرگیر کرنا۔ ۱۱۔ مص مرکب ا رونا۔ پیتا۔ دادیلا کرنا۔ ماتم کرنا۔ آنسو پانا۔

گرگیر کتاں۔ رگ۔ ۱۱۔ صفت ا رونا۔ پیتا۔ ناں۔ گریاں۔

گرگیر مستانہ۔ رگ۔ ۱۱۔ مذ ا خراب کی مستی میں رونا۔

گرگیر مند (تاک)۔ رگ۔ ۱۱۔ صفت ا روتے والا۔

گرگیر وزاری۔ رگ۔ ۱۱۔ مثل ا دادیلا۔ کبرام۔ آہ و بکا۔

رونا پیتا۔

گرگے یاؤنڈ۔ (Grey Hound) رگ۔ ۱۱۔ انگ۔ ۱۰۔ مذ ا کتے کی ایک

نسل جس کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔ آنکھیں تیز ہوتی ہیں اور دجا پاتا

ہوتا ہے۔ شکاری کتا۔

گرگڑھ جھاننا - (۱۔ مذم) میتھ اور آندھی ۲، بد نظمی۔  
 گرگڑھ نخرنا - (۱۱۔ محاورہ) پیٹ بولنا ۲، گدگد کرنا مال گول کرنا (۳)۔  
 جھگڑا جھیلنا۔  
 گرگڑھ ٹانا، گرگڑھ ب۔ ٹانا، ۵۶، مصم گھبرانا، پریشان ہونا۔  
 گرگڑھ ہٹا ہٹ، گرگڑھ ب۔ ہٹا، ہٹ (۱۔ ۵۶)۔ مرث (۲) گرگڑھ ب۔  
 افراتفری۔  
 گرگڑھ ٹانی، (تی۔ صف) دہشت مند۔  
 گرگڑھ بڑی، (گرگڑھ ب۔ ٹی ۵۶)۔ مرث (کھلی)۔ افراتفری۔  
 بد انتظامی۔  
 گرگڑھ، (رگ۔ ٹپ) ۵۶، (۱۔ مرث) جلدی سے کسی ملائم چیز میں  
 چمکس جانے کی آواز۔ غرغ ۱۲، جھٹ۔  
 گرگڑھ پنکھ، (۱۔ ۵۶)۔ مذم) بڑے بڑے پردوں والا پرندہ (۲)۔ ڈھیلی بوتلک  
 سینے والا آدمی۔  
 گرگڑھ تی، (گرگڑھ تی، تی) ۱۔ مذم) مساحتی، دوست۔ یار۔  
 گرگڑھ جانا، (گرگڑھ جانا، ۵۶)۔ مصم) دھن جانا، ۲، دب جانا، نہایت شرمندہ  
 ہونا، مصم) قائم ہونا، دھجما دھجما۔ ارجمانا۔  
 گرگڑھ دینا، (تی۔ مصم) سرونا۔  
 گرگڑھ ریا، (رگ۔ ریا، ۵۶)۔ مذم) جدواہ، گدھریا۔ بھیدوں کو پالنے اور  
 چرانے والا۔  
 گرگڑھ ٹوٹ، (گرگڑھ ٹوٹ، تی) ۱۔ مذم) قلعہ۔  
 گرگڑھ کا، (گرگڑھ کا، تی) ۱۔ مذم) پاجامہ۔  
 گرگڑھ ج، (رگڑھ ج، ۵۶)۔ مذم) قلعہ کا وہ بروج جس پر توپیں نصب  
 کی جاتی ہیں۔  
 گرگڑھ لڑ، (رگڑھ لڑ، ۵۶)۔ مرث) پیٹ کے بولنے کی آواز (۲)۔  
 یہ جو حقہ پینے کی آواز۔  
 گرگڑھ لڑ کرنا، (۱۱۔ محاورہ) پیٹ بولنا، آنتوں کا بولنا، حقے کا گڑھ لڑنا۔  
 گرگڑھ لڑا، (رگڑھ لڑا، ۵۶)۔ مذم) جھاننا۔  
 گرگڑھ لڑانا، (رگڑھ لڑا، نا، ۵۶)۔ مصم) گزینا۔ کران (۲) توپوں کا  
 لگانا جھوننا۔  
 گرگڑھ لڑانا، (رگڑھ لڑا، نا، ۵۶)۔ مصم) عاجزی کرنا، منت کرنا خوش  
 کرنا، اتنا کرنا۔  
 گرگڑھ لڑانا، (رگڑھ لڑا، نا، ۵۶)۔ مصم) آنتوں کا بولنا، پیٹ کا آواز دینا۔  
 قرار ہونا، حقے کا بولنا۔  
 گرگڑھ لڑا ہٹ، (رگڑھ لڑا، ہٹ، ۵۶)۔ مرث) گرج، کرک، توپوں  
 کے لگانا جھوننے کی آواز۔  
 گرگڑھ لڑا ہٹ، (رگڑھ لڑا، ہٹ، ۵۶)۔ مرث) سماجیت۔  
 خوشامد، انجانا۔  
 گرگڑھ لڑا ہٹ، (رگڑھ لڑا، ہٹ، ۵۶)۔ مرث) پیٹ  
 بولنے کی آواز۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، ۵۶)۔ مرث) ایک خاص وضع کا

جھوننا سا حقہ۔  
 گرگڑھ لکھنا، (رگڑھ لکھنا، بل، تی) متفق۔  
 گرگڑھ لڑ، (رگڑھ لڑ، ۵۶)۔ مذم) جھٹ پانے کے بڑے۔ جیتھوٹے۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، تی) ۱۔ مرث) ابا جامہ۔  
 گرگڑھ کے لومٹری جھگانا، (۱۶۔ محاورہ) ٹکر نہ ہونا، سوچا (تی)۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، ۵۶)۔ مذم) ورم جو سر پر چوٹ گنے سے ہو جائے۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، ۵۶)۔ مرث) دلزل بھوٹ۔  
 گرگڑھ لڑنا، (رگڑھ لڑنا، ۵۶)۔ مصم) دہنا، (۲) دفن ہونا، (۳) چھینا (۴) چھنا (۵) قائم ہونا،  
 (۶) کھڑا ہونا، (۷) شرمندہ ہونا۔  
 گرگڑھ لڑت، (رگڑھ لڑت، ۵۶)۔ مرث) دینے، زمین میں گڑھی ہونی چیز وہ  
 چیز جس پر منتر پڑھ کر زمین میں دفن کر دیا جائے۔  
 گرگڑھ لڑنگ، (رگڑھ لڑنگ، ۵۶)۔ مرث) اسی۔ ٹیوینگ۔ بڑائی۔  
 گرگڑھ لڑنگ، (رگڑھ لڑنگ، نا، ۵۶)۔ مرث) شعی گھارنے والا، ڈینگ ماننے والا، ڈینگنا۔  
 گرگڑھ لڑنا، (رگڑھ لڑنا، ۵۶)۔ مذم) پانی رکھنے کا برتن۔ لونا، (۲) آنسو، (۳) آنسو۔ ٹوٹی  
 والا (۴) برسوں کے پھولوں کا گلہ رستہ۔  
 گرگڑھ لڑنا، (رگڑھ لڑنا، نا، ۵۶)۔ مصم) زمین میں دلوانا، (۲) دفن کرنا۔  
 گرگڑھ لڑنا، (رگڑھ لڑنا، نا، ۵۶)۔ مصم) زمین کھدوانا، کھیت سے گھاس نکلوانا۔  
 گرگڑھ لڑنا، (رگڑھ لڑنا، ۵۶)۔ مذم) ایک جھونٹی گاڑی جس پر بچے کو کھڑے  
 ہو کر چلنا سکھاتے ہیں۔  
 گرگڑھ لڑنا، (رگڑھ لڑنا، نا، ۵۶)۔ مصم) گاڑنا، گھسیٹنا (۲) سوراخ کرنا۔  
 جھیننا۔ جھیننا۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، نا، ۵۶)۔ مرث) قلعہ۔ حصار۔ دھم۔  
 گرگڑھ جیتنا، (۱۶۔ محاورہ) قلعہ فتح کرنا، کوئی بڑا کام کرنا، کسی مشکل  
 یا مصیبت سے رہائی پانا۔  
 گرگڑھ کیتان، (۱۶۔ مذم) جھدار، (۲) حاکم قلعہ، (۳) قلعوں کی مرمت  
 کرنے والا، انسر۔ انجینیر۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، نا، ۵۶)۔ مذم) غار، (۲) کھڈ، کھان (۳) قبر۔ گور۔  
 گرگڑھ لڑنا، (۱۶۔ محاورہ) گرگڑھ کو ٹی سے پرن کرنا، (۲) بڑی بھلی چیز سے پیٹ  
 بھر کر کرنا، (۳) کمی یا کھانا پورا کرنا۔  
 گرگڑھ لڑت، (تی۔ مرث) متادیل، بوجہ۔  
 گرگڑھ لڑت، (رگڑھ لڑت، ۵۶)۔ مرث) گرگڑھ لڑنے کا انداز۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، ۵۶)۔ مذم) ایک درخت جس میں سبھ رنگ کے پھول  
 ہوتے ہیں۔ اس کے پھولوں کا شربت بنا تے ہیں۔  
 گرگڑھ لڑنا، (رگڑھ لڑنا، ۵۶)۔ مصم) ڈھالنا، بنانا۔ تیار کرنا، دھات کو گڑھ لڑ  
 کر کوئی شکل دینا۔  
 گرگڑھ لڑت، (رگڑھ لڑت، ۵۶)۔ مرث) شکل۔ بناوٹ، (۲) بات بنانا۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، نا، ۵۶)۔ مصم) موٹا، گاڑھا۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، نا، ۵۶)۔ مرث) جھوننا، (۲) کھڈ، (۳) کھڈ کا اسم مصفف،  
 (۴) محاورہ) کار نمایاں کرنا۔ بڑی بہاری کا کام کرنا۔  
 گرگڑھ لڑی، (رگڑھ لڑی، نا، ۱۶۔ محاورہ) قلعہ کا شکت کھانا۔



گزر کرنا (17- محاورہ) اتفاق سے جانٹکنا، ۲، دن کاٹنا۔ بسراوقات کرنا، پورا کرنا۔ بنانا۔  
 گزری کی صورت 11- مثلاً اوقات بسر کرنے کا ذریعہ یا تدبیر۔  
 گزری گاہ (7- صف) راستہ، ۲، سڑک۔ شارع عام، ۳، گھاٹی۔  
 گزری گزبان کیا جھونپڑی کیا میدان (17- مثل) انہرے میں بہت سی زندگی گزری ہو۔ اچھا بڑا سب برابر ہے۔  
 گزریا (17- محاورہ) بیت گیا، ۲، مر گیا۔  
 گزریا نامہ (17- مذم) پروانہ عراہداری۔  
 گزبان (گزبان، اُڑنا۔ مثلاً گزبان اوقات بسری۔  
 گزبان (گزبان، 7- صف) گزبانے والا۔ تاپا پیدار۔  
 گزباننا۔ گزبان، 7- اُڑنا، ۲، اُڑنا۔ پیش کرنا۔  
 گزبانا (گزبانا، 7- اُڑنا، ۲، پیش کرنا۔  
 کوچ کرنا (3- اتفاق سے کسی جگہ نکل آنا، 4) چھوڑنا، 4) پیش آنا (4) بسر کرنا، 5) نہ کرنا۔ موافق آنا، 8) پار ہونا، 9) رخصت ہونا۔  
 چٹنا (11- دل میں سمٹنا۔ مرضی ہونا، 11) حد سے بڑھ جانا، 12) جی میں خیال آنا، 13) بازار آنا، 14) رائیگاں جانا۔ ضائع ہونا۔

گزیدہ۔ رگ۔ زین۔ وہ، 1۰، ف۔ صف) غنیمت۔  
 گزنی۔ رگ۔ زنی، 1۰، اُڑ۔ 1- مذم) موٹا سوتلی کپڑا۔  
 گزنی کا ڈھاپہ بنتا۔ 11- محاورہ) ٹوٹا چھوٹا پڑا پین کر گزارہ کرنا۔  
 گزینڈا آنسر۔ 1۶، گ۔ 1- مذم) وہ آنسر جس کا نام سرکاری کوٹ میں چھپتا ہے۔  
 گزیر۔ رگ۔ زین، 1۰، ف۔ صف) دوم یا اس سے اعلیٰ آنسر ہوتا ہے۔  
 گزیر (Gazetteer) رگ۔ زینٹ، 1۱، اُڑ۔ 1۱، گ۔ 1- مذم) ایسی لغت یا انسائیکلو پیڈیا جس میں جگہوں کے تاریخی اور جغرافیائی حالات درج ہوں۔  
 گزیدہ۔ رگ۔ زنی، 1۰، ف۔ صف) ڈسا ہوا۔ کاٹا ہوا۔ جمع۔  
 گزیدہ گان۔  
 گزیدہ۔ رگ۔ زنی، 1۰، ف۔ صف) چٹا ہوا۔ برگزیدہ۔ اچھا۔  
 گزیر۔ رگ۔ زین، 1۰، ف۔ صف) چارہ۔ علاج۔ اُردو میں صرف ناگزیر کو ترکیب سے مشتمل ہے۔  
 گزین۔ رگ۔ زین، 1۰، ف۔ صف) پسندیدہ۔ دلچسپ، ۲، پسند کرنے والا۔ اُردو میں صرف مرکبات میں مشتمل ہے۔ غلوت گزین عزت گزین۔

## گ-س

گزری (گزری، 17- 1- 10- مثلاً شام کا بازار، 2) وہ مقام جہاں شام کو کسی راستے کے کنارے سوونا بیچنے والے آکر بیٹھ جاتے ہیں وہ مصیبت پیش آئی۔  
 گزری سولہی پر گزری، 17- مثل) سب صحت دل پر اٹھائے اور زبان سے اُن تک نہ لی۔  
 گزشتہ (گزشتہ، 1۰- مثل) جو کچھ اب تک ہوا وہ ہو گیا۔ اُتدہ اعتبار چاہئے، 4) بڑا صدمہ ہوا جو قابل بیان نہیں۔  
 گزشتہ۔ رگ۔ زشت، 1۰، ف۔ صف) گزرنے والی۔ گزرنے کے قابل۔  
 گزشتہ۔ رگ۔ زین، 1۰، ف۔ صف) گزرا ہوا۔ بیٹا ہوا۔  
 گزشتہ راصلوۃ۔ اُتدہ را احتیاط۔ 7- مثل) گزری ہوئی بات کو جانے دو۔ اُتدہ کے لیے احتیاط کرو۔  
 گزک۔ رگ۔ زک، 1۰، ف۔ 1- مثلاً وہ چیز جو نشہ پیتے وقت منہ کا ڈالنا بند کرنے کے لیے کھائیں، 2) نقل، 3) ایک مٹھائی۔  
 گزک۔ مثل شکر۔  
 گزک وال۔ 1۰- 1۰- مذم) گزک رکھنے کا ظرف۔  
 گزک کرنا۔ 17- محاورہ) نقل کرنا۔ ناشتہ کی بجائے کھانا، 2) اڑانا، 3) چٹ کر جانا۔  
 گزندہ۔ رگ۔ زند، 1۰، ف۔ 1- مذم) صدمہ۔ آنت، 2) رنج، 3) نقصان، 4) دکھ۔ 1- اُتدہ تکلیف۔  
 گزندہ بھجانا۔ 17- محاورہ) نقصان پہنچانا۔  
 گزندہ ہونا۔ 17- محاورہ) تکلیف ہونا۔ صدمہ ہونا۔ 1- اُتدہ ہونا۔  
 گزندہ۔ رگ۔ زندہ، 1۰، ف۔ 1- صفت) ڈنگ مارنے والا۔ ڈسنے والا۔ سانپ۔ بچھو۔

گس (Guess) (گس، 1- 1۰- مذم) قیاس۔ اندازہ۔ سرسری تخمینہ۔  
 گس پیپر (Guess Paper) (گس، 1- 1۰- مذم) امتحان کا پرچہ جو قیاس سے تیار کیا جائے۔ پرچہ سوالات جس میں قیاس سے امتحان طرز کے سوال دیئے جائیں۔  
 گستا۔ رگ۔ سا، 1۰- 1۰- مذم) لقمہ۔ نوالہ۔  
 گسار۔ رگ۔ سار، 1۰، ف۔ صف) دُور بارش کرنے والا، 2) کھانے پینے والا۔  
 مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے تم گسار سے گسار۔  
 گسائیں۔ رگ۔ سا، 1۰- 1۰- مذم) گوسائیں کا مخفف۔ گایوں کا سائیں۔  
 گسائیں کا مالک (2) سوامی (3) ناہر جوئی سنت۔ محبت۔  
 گسٹا۔ رگ۔ گس، 1۰، ف۔ صف) شوخ ہے ادب۔ شرم ہے شرم۔  
 گسٹا۔ رگ۔ گس، 1۰، ف۔ صف) وہ شخص جس کی آنکھوں سے غضب اور غصہ ظاہر ہو، 2) وہ شخص جس کی آفت سے آنکھ نہ بچھے ہے باقی میں کامل۔  
 گسٹا۔ رگ۔ گس، 1۰، ف۔ صف) اچالک۔ سبک دست۔  
 گسٹا۔ رگ۔ گس، 1۰، ف۔ صف) بے ترقی۔ بے حیالی۔  
 گسٹا خانہ۔ رگ۔ گس، 1۰، ف۔ صف) شوخی سے۔ گسٹاخی سے بے اوبانہ۔  
 گسٹاخی۔ رگ۔ گس، 1۰، ف۔ 1- مثلاً شوخی۔ بے ادبی۔ بے ترقی۔  
 گسٹاخی۔ رگ۔ گس، 1۰، ف۔ صف) شہرت، 2) شہرت اور شہرت۔  
 گسٹاخی کرنا۔ 17- محاورہ) بے ادبی۔ شہرت کرنا۔ شوخی کرنا۔

# گ۔ ف

گفتاخی معاف - 11۔ روزمرہ ( میری خطا معاف فرمائیے ) معذرت  
 گفتا فکر - ( گن - تاں - گرا - 10۔ صف ) بے وقوف بے شعور یا حق  
 جاہل ناشائستہ۔  
 گستر - ( گن - تران صف ) پھیلانے والا۔ کسی چیز کی افراط کرنے والا۔  
 مرکبات میں مستعمل ہے جیسے گرم گستر۔ سن گستر۔  
 گستر 10۔ 11۔ صف ( وہ چیز جو پھیلائی جائے ) پھیلا یا ہوا۔  
 گسٹ - ( Guest ) 11۔ انگ - 1۔ مذم بہمان۔  
 گسٹ ہاؤس - ( انگ - 1۔ مذم بہمان خانہ۔  
 گسٹاپو - ( Gestapo ) ( رگس - ٹا - پو ) ( انگ - 1۔ مذم ) شکر کے نکلنے  
 کی پیش رو یعنی فیضی پولیس۔  
 گسستہ - رگ - سس - تر - 11۔ صف ( ٹوٹا ہوا ) گستاہوا۔  
 گسستہ عثمان - 11۔ صف ( آزاد بے لگام رہا ) کھلا۔ بے قید۔  
 گسل - 11۔ صف ( لاشہ ) تباہ کرنے والا۔ توڑنے والا۔ اسم کے بعد آکر  
 اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے جیسے ماں گسل۔  
 گسیختہ - 11۔ صف ( ٹوٹا ہوا ) شکستہ۔  
 گسیختہ عثمان - 11۔ صف ( وہ گھوڑا جس کی بجاگ ٹوٹ گئی ہو۔  
 کھنبتا ہے تابو۔

# گ۔ ش

گشت - 11۔ 1۔ صف ( دور - جگہ - دورہ ) پھرنا۔ چکر لگانا۔  
 گشت پھرنا۔ گشت کرنا۔ گشت لگانا۔ گشت مارنا۔ ( 11۔ محاورہ )  
 دورہ لگانا۔ چکر لگانا۔  
 گشت سلامی - 11۔ 1۔ صف ( وہ نذرانہ جو حاکم کو دورے کے  
 وقت دیا جاتا تھا۔  
 گشت کرنا۔ ( 11۔ محاورہ ) پھرنا۔ دورہ کرنا۔ چکر لگانا۔  
 گشت ناجیتا۔ ( 11۔ محاورہ ) پھینچنے والی بات کے آگے ناپتے ہوئے جاننا۔  
 ( 11۔ برات کے ساتھ ناپتے ہوئے جاننا۔  
 گشتا سب - ( گش - تا - سب ) 11۔ 1۔ صف ( ایران کے بادشاہ اسفندیار  
 کا باپ ) بزرخ۔  
 گشتہ - 11۔ 1۔ صف ( پھرا ہوا۔ اٹا ہوا۔ بدل ہوا بنا ہوا ) مرکبات میں  
 استعمال ہوتا ہے جیسے برگشتہ۔  
 گشتی - ( گش - تی ) 11۔ 1۔ صف ( پھرنے والی ) گشت لگانے والی ( 11۔ پیرا  
 سنتری - ادارہ گردی۔  
 گشتی چٹھی - وہ حکم جو تمام افسروں کو بھیجا جائے۔  
 گشتیا - ( 11۔ 1۔ صف ) چکر مارنا۔ روزہ 11۔ 1۔ صف ( گشتا کرنے والا۔  
 گشت - ( رس - 1۔ 1۔ صف ) سازش۔ ایسا میل جول جو کسی کو نقصان  
 پہنچانے کے لیے کیا جائے۔

وگف - ( 11۔ 1۔ صف ) موٹا گاڑھا۔ خوب ٹھونک کر مینا ہوا۔  
 گفت - ( 11۔ 1۔ صف ) بات چیت۔ بول و لفظ ( 11۔ 1۔ صف ) گفتنی۔ مصدر  
 سے ماہنی کا صیغہ اس نے کہا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے  
 گفت و شنید - 11۔ 1۔ صف ( ذکر و اذکار ) بحث۔ رد و بدل ( 11۔ 1۔ صف )  
 کہنا۔ سننا۔  
 گفتار - ( وگف - تار ) 11۔ 1۔ صف ( بول چال ) گفتگو۔ قول۔  
 مقولہ ( 11۔ 1۔ صف ) کہنے والا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔  
 گفتگو جیسے شیریں گفتار۔  
 گفتگو - ( وگف - گو ) 11۔ 1۔ صف ( بات چیت ) بول چال۔ تقریر۔  
 گفتگو آنا۔ ( 11۔ 1۔ صف ) بات چیت ہونا۔ ذکر و اذکار ہونا۔  
 گفتگو بڑھ جانا۔ ( 11۔ 1۔ صف ) محاورہ ( تقریر میں طوالت ہونا ) ( 11۔ 1۔ صف )  
 بڑھ جانا۔  
 گفتگو درمیان آنا۔ ( 11۔ 1۔ صف ) محاورہ ( بات چیت ہونا۔  
 گفتگو کرنا۔ ( 11۔ 1۔ صف ) مرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔  
 گفتنی - ( وگف - تی ) 11۔ 1۔ صف ( کہنے کے لائق ) بیان کرنے  
 کے قابل۔  
 گفٹ - ( Gilt ) ( انگ - 1۔ 1۔ صف ) عطا۔ بخشش۔ عطیہ۔ ہدیہ  
 ( 11۔ 1۔ صف ) خداداد قابلیت۔

# گ۔ گ

گگ - ( Gig ) ( انگ - 1۔ 1۔ صف ) ہلکی کاری۔ ٹیم۔  
 گگرا - ( انگ - 11۔ 1۔ صف ) دھات کا گٹھا۔ پانی کا جڑا برتن۔  
 گگری - گگریا۔ ( انگ - 11۔ 1۔ صف ) ہلکی کاری۔ ہلکی کاری۔  
 گجینی گلا۔  
 گگل - ( 11۔ 1۔ صف ) ایک درخت جس کی گوند خوشبو دار ہوتی ہے۔ گوگل۔  
 گگلا۔ ( انگ - 11۔ 1۔ صف ) لالہ۔  
 گگن - ( رگ - گن ) 11۔ 1۔ صف ( آسمان ) ( 11۔ 1۔ صف ) نہایت اونچا ( 11۔ 1۔ صف )  
 لہر سے پانی کا اچھٹا۔  
 گگن کھینا۔ ( 11۔ 1۔ صف ) آبی کا بلندی کی طرف اچھٹا۔ لہر دل کا خوب  
 اچھٹا۔  
 گگن کے پچھے والی مرضی - ( 11۔ 1۔ صف ) اٹریا۔ پردین۔ سات سیلیوں  
 کا گگنا۔  
 گگن ہونا۔ ( 11۔ 1۔ صف ) بلند ہونا۔ اونچا ہونا۔ آسمان سے گگنا۔

# گ۔ ل

گل ۱۰۵۶۔ مذم گلا کا مخفف (۲)، گلل کا مخفف (۳)، گالی کا مخفف (۴)۔  
 بات چیت (۶)، معاملہ۔  
 گل بہیمان (ریاں) ڈالنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ محبت یا پیار سے گلے میں ہاتھ ڈالنا۔ ناز کرنا۔  
 گل پھیرا (گل پھیرا)۔ مچھلی کا جڑا جس سے وہ سانس لیتی ہے (۲) پرندہ کی جو پنج سے نیچے ٹھکتی ہوئی کھال۔  
 گل پھولنا۔ ۱۶۔ مذم وہ شخص جس کے گل مجھ لے ہوئے ہوں۔  
 گل پھینٹنا۔ ۱۰۵۷۔ مذم گلے کی گھٹی۔ گردن کی تشطیل۔  
 گل تکیہ۔ ۱۷۔ مذم وہ چھوٹا درگول تکیہ جو سوتے ذلت رخصاروں سے رکھتے ہیں۔  
 گل تنگ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کمال بے خبر ہونا۔ غافل ہونا۔  
 گل تینی۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ بیلوں کے گلے کی رستی جو جوئے کے ساتھ ہاندھی جاتی ہے۔  
 گل جنڈٹا۔ ۱۰۵۶۔ مذم کپڑے کا ٹکڑا جو گلے میں لٹکا کر ضرب رسیدہ ہاتھ کو اس میں لٹکائے رکھتے ہیں۔  
 گل جوٹ۔ ۱۰۵۶۔ مذم وہ رسی جو دو بیلوں کو آپس میں جتے رہنے کے لیے باندھتے ہیں۔  
 گل خٹ۔ (گنٹ) ۱۱ کا تھاپائی۔ باہمی تکرار۔  
 گل خور۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۲ پھینڈے دار رستی، جو مویشیوں کے گلے میں ڈالتے ہیں۔  
 گل دینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ مچھانسی دینا (۲)، کسی چیز کو کنڈی میں لگا دینا۔  
 گل گل جو تھک ملانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ منے اڑانا۔ خوشی منانا (۲) ترال کھانا۔  
 گل لچا۔ ۱۰۵۶۔ مذم گلے کا لچھا۔ سہاگ لچھا۔ (ق)۔  
 گل مالہ۔ ۱۰۵۶۔ مذم گنٹھا۔ لچرا گلے کا بار۔  
 گل منچے (گنٹھے)۔ ۱۰۵۶۔ مذم رخصاروں کے پاس خوب بڑھانے ہوئے بال۔  
 گل ۱۰۵۶۔ ۱۔ مٹا ۱ گارا۔ گیلی مٹی (۲) کیچڑ۔ دلدل۔  
 گل اڑنی۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ ایک قسم کی سیاہی مائل سرخ مٹی۔  
 گل حکمت (کپڑوٹی)۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مٹی اور کپڑے سے برتن کا منہ بند کرنے کا عمل تاکہ مچھاپ باہر نہ نکلنے پائے۔  
 گل حکمت کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ مٹی اور کپڑے سے کسی چیز کا منہ بند کرنا کہ مچھاپ باہر نہ نکل سکے۔  
 گل خراسانی۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ کھریا مٹی۔  
 گل خورہ۔ ۱۰۵۶۔ مذم کینچوا۔  
 گل درگل۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مٹی میں مل کر مٹی جو جانا۔  
 گل مالہ۔ ۱۰۵۶۔ مذم ایک آلہ جس سے مٹی پیستے ہیں۔

گل ۱۰۵۶۔ ۱۔ مذم پھول (۲)، جسم کو داغنے کا نشان (۳)، چراغ کی جی کا جلا ہوا یا جلتا ہو سارا دم، جوتے کی اڑی کا چھوڑ دھ، معشوق (۴) داغ۔ دھتیر (۵)، مچھانسی (۶) تھے کا جلا ہوا تھپا کو (۷) وہ سفید دھتیر جو آنکھوں میں پڑ جاتا ہے (۸)، آگ سے جل جانے کا نشان۔  
 گل آفتاب۔ ۱۰۵۶۔ مذم سورج کھلی پھول۔  
 گل احمد۔ ۱۰۵۶۔ مذم سرخ پھول۔  
 گل اشرفی۔ ۱۰۵۶۔ مذم ایک قسم کا گول پھول۔  
 گل اقبال۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مچھانسی پھول کھینچنے والا (۲)، ایک قسم کی آتش بازی۔  
 گل پھل پھول (۳) خوش گنٹھا (۴)۔  
 گل اشتافی کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲ خوش بیانی سے باتیں کرنا (۲)، طعن و طنز کرنا باتیں کرنا۔  
 گل انار۔ ۱۰۵۶۔ مذم انار کا پھول (۲)، سرخ۔ لال۔ ارغوانی رنگ (۳)، ایک قسم کا انار کا درخت جس میں پھول نہیں نکلتا۔ صرف پھول ہی نکلتے ہیں۔  
 گل اندام۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مچھانسی پھول کے سے جسم والا۔ معشوق۔  
 گل اد رنگ۔ ۱۰۵۶۔ مذم ایک قسم کا پھول جو گنٹھی کی وضع کا ہوتا ہے ایک قسم کا گنڈا۔  
 گل ہار (گلبار)۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مچھانسی پھول برسانے والا۔  
 گل ہارسی۔ مچھانسی برسانا۔  
 گل ہاری۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مچھانسیوں کا کھیل جس میں پھول ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں۔  
 گل بانگ۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مچھانسی پھول کی آواز (۲)، شادی کی دھوم دھام (۳) کا شور (۴)، نعرہ جنگ (۵)، خوشخبری۔ شردہ۔  
 گل بدن۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مچھانسی پھول کے بدن والا معشوق۔ ایک قسم کا دھابا دار رستی کپڑا۔  
 گل برگ۔ ۱۰۵۶۔ مذم گلاب کی جی۔ گلاب کی پتھڑی (۲)، نازک اندام۔ معشوق۔  
 گل بکاؤلی۔ ۱۰۵۶۔ مذم سفید رنگ کا ایک خوشبودار پھول جس کے پودے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہوتا ہے۔  
 گل بچن۔ ۱۰۵۶۔ مذم گلاب کا پودا (۲)، گلاب کے پودے کی جڑیں کسی درخت کا دھتیر جو زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔  
 گل بو۔ ۱۰۵۶۔ مٹا ۱ مچھانسی خوشبو۔  
 گل بوٹا۔ ۱۰۵۶۔ مذم پھول اور اس کا پودا (۲)، بیل بوٹا۔ زیب و زینت۔  
 گل بوٹے جمانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲ مچھانسی بوٹے زیب سے اگانا۔  
 گل بیگانہ۔ ۱۰۵۶۔ مذم خود پھول جننگلی پھول۔  
 گل پالوش۔ مچھانسی۔ ۱۰۵۶۔ مذم وہ پھول جو ایشیم یا کلا تون سے بنا کر ڈھانچے جوتوں پر مٹا سکتے ہیں۔  
 گل پلاس۔ ۱۰۵۶۔ مذم ڈھاک کا پھول جو سرخ ہوتا ہے۔  
 گل پوش۔ ۱۰۵۶۔ مذم پھولوں سے چھپا ہوا۔ بہت پھول نکلے ہوئے۔

گل کا برتن۔  
 گل داؤدی - 7 ف - 10 - مذ 1 - ایک قسم کا پھول۔  
 (Chrysanthemum)  
 گل دستہ - 1 ف - 1 - مذ 1 - پھولوں کی ٹہنیوں کا مجموعہ پھولوں کا گچا (۲) طاق  
 یا حجاب جہاں اذان پور، مغزول کا رساں یا مجموعہ۔  
 گل دستہ بانڈھنا - 1 - مذ 1 - محاورہ 1 - پھولوں کا خاص ملنے سے سماں۔  
 گل دم - 7 ف - 1 - مذ 1 - بلبیل کی قسم کا ایک پرنڈہ جس کی دم کے نیچے  
 سرخ نشان پڑتا ہے۔  
 گل دوپہری - گل دوپہریا - 1 ف - 1 - مذ 1 - ایک قسم کا پھول جو دوپہر  
 کو کھلتا ہے۔ سورج مٹتی۔  
 گل ڈوز - 7 ف - 1 - صف 1 - وہ چیز جس پر پھول پوسے کڑھے ہوں۔  
 گل دیگر شگفت - 7 ف - 1 - صف 1 - ایک اور نئی بات ٹہور میں آئی ایک  
 اور پھول کھلا۔  
 گل دینا - 16 - محاورہ 1 - جسم کو داغنا۔ پچانسی پر چلانا۔ حق،  
 گل رخ - گل رخسار - 1 ف - 1 - صف 1 - وہ شخص جس کا چہرہ یا رخسار گلاب کی  
 طرح سرخ ہوں۔ خوبصورت - معشوق۔  
 گل رعنا - 7 ف - 1 - مذ 1 - ایک قسم کا سرخ اور زرد پھول (۲) معشوق۔  
 گل رنگ - 7 ف - 1 - صف 1 - جس کا رنگ سرخ ہو۔ لال۔ ارغوانی۔  
 گل رنگ - 7 ف - 1 - صف 1 - گلاب کے سے چہرے والا۔ خوبصورت۔  
 گل ریز - 7 ف - 1 - مذ 1 - کپڑا جس پر سرخ پھول کڑھے ہوئے ہوں (۲) ایک قسم  
 کی آئینہ بازی پھلجھڑی خزاں کا موسم۔  
 گل ریزی - 7 ف - 1 - مذ 1 - پھولوں کا جھڑنا (۲) پھلجھڑی (۳)  
 خوش بیانی۔  
 گل زار - 7 ف - 1 - مذ 1 - باغ - گلشن - پھولاری (۲) رونق۔  
 گلزار ابراہیم (خلیل) - 7 ف - 1 - مذ 1 - وہ آگ جس میں نمرود نے  
 حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈال دیا تھا اور وہ خدا کے حکم سے  
 سرد ہو کر باغ بن گئی تھی۔  
 گلزار خالی (قالین) - 7 ف - 1 - مذ 1 - وہ پھول بولے جو قالین پر پنے  
 ہوئے ہوں۔  
 گل زمیں - 7 ف - 1 - مذ 1 - زمین کا سرسبز اور شاداب قطعہ (۲)  
 قطعہ زمین۔  
 گلستان - 7 ف - 1 - مذ 1 - باغ - گلزار - چمن - پھولاری (۲) شیخ سعدی کی  
 مشہور کتاب کا نام۔  
 گل سرا - گل سہرا - ایک زلیو جو شادی شدہ عورتیں گلے میں پہنتی ہیں (۲)  
 گل سرسید - 7 ف - 1 - مذ 1 - سب سے اچھا پھول - کنا تیا کھمہ  
 منتقہ۔  
 گل سورا - 16 - مذ 1 - سورج مکھی پھول (۲)۔  
 گل سوئی - 7 ف - 1 - مذ 1 - بہت خوشبودار گلاب۔  
 گل سوسن - 7 ف - 1 - مذ 1 - آملتی رنگ کا ایک پھول۔

گل پھولوں کا لباس پہننے ہوئے۔  
 گل پھولنا - 16 - محاورہ 1 - پھول کھلنا (۲) کوئی عجیب بات ظہور میں آنا۔  
 گل پیادہ - 7 ف - 1 - مذ 1 - وہ گلاب جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔  
 سدا گلاب۔  
 گل پیڑہن - 7 ف - 1 - صف 1 - پھولوں کے سے لباس والا۔ معشوق۔  
 گل پیڑہنی - 7 ف - 1 - صف 1 - پیراہن کا پھول کی طرح ہونا۔  
 (۲) نزاکت۔  
 گل پھینکنا - 16 - محاورہ 1 - ایک دوسرے کو پھول ماننا۔  
 گل تر - 7 ف - 1 - مذ 1 - تازہ پھول (۲) سینوں کا چہرہ - حسین  
 معشوق۔  
 گل تراش - 7 ف - 1 - مذ 1 - چراغ کی جی تپنے کی تیغی - گلگیر۔  
 گل تراشتا - 16 - محاورہ 2 - بتی یا شمع کا علا ہوا حصہ قینچی یا گلگیر  
 سے الگ کرنا۔  
 گل تسبیح - 7 ف - 1 - مذ 1 - تسبیح کا امام جو تمام دانوں کے اوپر  
 پڑھ دیا جاتا ہے۔  
 گل جھڑی - 7 ف - 1 - مذ 1 - ایک قسم کا زرد پھول جو گیندے کے مشابہ  
 ہوتا ہے (۲) زرد رنگ۔  
 گل جھڑنا - 16 - محاورہ 1 - چراغ یا سگریٹ کی راکھ گزنا (۲) درخت  
 سے پھولوں کا اڑنا اور گزنا۔  
 گل جاننی - 7 ف - 1 - مذ 1 - ایک قسم کا سفید پھول جو چاندنی رات  
 میں کھلتا ہے۔ گل ہتاب۔  
 گل جہنم - 7 ف - 1 - صف 1 - وہ شخص جس کی آنکھ میں پھلی یا سفیدی ہو۔  
 گل چکال - 7 ف - 1 - مذ 1 - جوا کا پھول۔  
 گل چہرہ - 7 ف - 1 - صف 1 - پھول جیسے چہرے والا۔ معشوق۔  
 گل چھڑی - 16 - مذ 1 - پھولوں کی چھڑی۔  
 گل چپس - 7 ف - 1 - صف 1 - پھول توڑنے والا۔ مالی۔ باغبان۔  
 گل خال - 7 ف - 1 - صف 1 - دھبے والا۔ چنگبر - چیتی دار۔  
 گل خٹمی - گل خیر - 7 ف - 1 - مذ 1 - نیلے رنگ کا ایک پھول جو بطور  
 دوا استعمال ہوتا ہے۔  
 گل خن - 7 ف - 1 - مذ 1 - بھیٹی - نور - جوا (۲) کوزا کرکٹ۔  
 گل خن - 7 ف - 1 - صف 1 - پھولوں کے پھلنے والا۔  
 گل خندان - 7 ف - 1 - صف 1 - کھلا ہوا پھول۔  
 گل خندہ - 7 ف - 1 - مذ 1 - منہ کھول کر ہنسنے - قہقہہ۔  
 گل خود رو - 7 ف - 1 - مذ 1 - ایسے پھول جو جنگل اور باغ کے لواحق  
 میں خود بخود آئیں۔  
 گل خود رو - 7 ف - 1 - صف 1 - داغ کھانے ہوئے۔  
 گل دار - 7 ف - 1 - صف 1 - وہ چیز جس پر پھول بنے ہوں (۲) داغ  
 دار - دھبے دار۔  
 گل دام - 7 ف - 1 - مذ 1 - پھولوں کا جال (۲) جال (۳) پنجرہ۔  
 گل دان - 7 ف - 1 - مذ 1 - پھول دان - پھولوں کا گلڈستہ رکھنے

گلِ شنب افرورز۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۲ رات کو کھینے والے ایک پھول  
 گلِ کانا نام۔  
 گلِ شبنو۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ایک پھول جو رات کے وقت خوشبو دیتا ہے۔  
 خوشبو و شب بوی، شب تو خوشبو دینے والا۔  
 گلِ تیکر۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ گلِ کھنڈ۔  
 گلِ شمع۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ شمع کا گل، شمع کی لو۔  
 گلِ شبن۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ باغ۔ پھولاری جیسی گلزار۔ باغ۔  
 گلشن آرا۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ باغبان۔ باغ کو سجانے والا۔  
 گلشن ابرباد۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ دنیا۔  
 گلِ صدر برگ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ گیندے کا پھول۔  
 گلِ عباسی۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ایک پھول کا نام۔  
 گلِ غدار۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ پھول جیسے رنساڑوں والا۔ لال لال گالوں  
 والا (۲)، خوبصورت۔  
 گلِ فام (گلِ فام)۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ پھول کے سے رنگ والا۔  
 گلِ فشان۔ گلِ فشان۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱، پھول جھاڑنا۔  
 (۲) خوش بیانی۔  
 گلِ قند۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ایک دو ابو گلاب کے پھولوں کو شکر میں  
 ملا کر تاتے ہیں۔  
 گلِ کار۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ نقاشی کا کام کرنے والا۔  
 گلِ کاری۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ نقاشی۔ بیل بوٹے کا کام۔  
 گلِ کترنا۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) پھول تراشنا۔ گلکاری کرنا (۲)، چلی ہوئی جی  
 کو کاٹنا۔ جی کا جلا ہو سرا بھانڑنا (۳)، عجیب و غریب کام کرنا (۴)،  
 شرارت کرنا (۵)، انوکھی بات کرنا (۶)، اہتمام لگانا۔  
 گلِ کدہ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ باغ۔ پھولاری۔  
 گلِ کترنا۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) چراغ بجھانا۔ پھلنا۔ پھاڑنا۔  
 گلِ کھانا۔ مسد کرنا (۲)، تنک کرنا (۳)، باقی بچنا  
 گلِ کھلانا۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) پھول کھلانا (۲)، فساد کھڑا کرنا۔ آفت لانا۔ کوئی عجیب  
 مزید اور انوکھا کام کرنا (۳)، الزام دینا۔ جھٹ دھرنانا۔  
 گلِ کھنڈ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) پھول کا شگفتہ ہونا (۲)، کوئی نئی یا انوکھی بات  
 ظاہر ہونا (۳)، مجید کھنڈنا (۴)، دھوم بچھانا (۵)، فساد پھیلنا ہونا (۶)،  
 طوفان اٹھنا۔ بہتان لگانا۔  
 گلِ کیس۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ایک پھول کا نام۔  
 گلِ گشت۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) باغ کی سیر۔ سیر جین۔  
 گلِ گول۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) گلاب کی طرح شربت رنگ کا (۲)، چالاک گول۔  
 گلِ کونہ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) غار۔ رنگین سنوٹ جیسے عورتیں خوبصورتی کے  
 لیے چہرے پر ملتے ہیں۔ آئینا۔ پاؤڈر۔  
 گلِ گریز۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) شمع باجراش کی جی کرتے کی تینچی۔  
 گلِ لالہ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) ایک قسم کا شربت پھول۔  
 گلِ لٹہ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) کو تھیں کا پھول۔

گلِ مشکئی۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ایک سیاہ رنگ کا خوشبو دار پھول۔  
 گلِ مہندی۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ایک مشہور پھول۔ ہانسم۔  
 گلِ میخ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ایک موٹی ٹیل جس کے اوپر موٹا سا پھول بنا ہوتا  
 ہے (۲) موٹی ٹیل۔  
 گلِ گنار۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ گل انا ر کا مختلف (۲)، گنار کا پھول۔ گنار  
 کا درخت۔ انا ر سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس میں پھول نہیں آتا  
 (۳)، شربت رنگ والا۔  
 گلِ ناشگفتہ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) غنیہ (۲) کواری لڑکی۔  
 گلِ نافرمان۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) اُدبے رنگ کا پھول۔  
 گلِ نسیم۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ جنگلی گلاب۔ سیوئی۔  
 گلِ نشاط۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) شراب۔  
 گلِ نیلوفر۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ گنول۔  
 گلِ دہلیز۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ عاشق و معشوق۔  
 گلِ دلالہ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) معشوق لوگ (۲)، طوائف۔ ادا بے نشاط۔  
 گلِ سزارہ۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) ایک قسم کا بہت سی پگھلاؤں والا  
 پھول۔ گیندا۔  
 گلِ ہونا۔ چراغ جھٹانا (۲)، رونق نہ ہونا (۳)، عزت کا گر جانا۔  
 گلِ ہل۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) گولی کا مختلف (۲)، ٹکڑا (۳)، گھسی (۴)، عقود۔  
 گلِ بھٹی۔ گلِ بھٹی۔ (۱) ف۔ ۱۔ مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) درگہ، ٹنک (۲)، تخمین۔ بل (۳)، کدورت  
 طلال طبع، ایک آتش بازی کا نام۔  
 گلِ چیر سے۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ مذ۔ لطف۔ عیش۔ مزہ۔  
 گلِ چھپرے اڑانا۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) خوب عیش کرنا (۲)، مزے اڑانا (۳)،  
 دولت برباد کرنا۔  
 گلہ۔ دگ۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) نصف لگا ہوا۔ خوب لگا ہوا (۲)، بوسیدہ۔ بے جان (۳)، سڑا  
 ہوا (۴)، پگھلا ہوا۔  
 گلہ سڑا۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) بوسیدہ۔ ٹکٹا۔ خراب۔  
 گلہ۔ دگ۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) دکاندار کا بھری کی نقدی رکھنے کا برتن (۲)، انداز۔ دلا  
 غلہ (۳)، جلنے ضرور۔ پاخاند۔  
 گلہ۔ دگ۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) (۱) مذ۔ ۱۱۔ محاورہ) حلقہ حلق (۲)، آواز۔ سر (۳)، گریبان۔  
 گلہ آنا۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) حلق کے گوشے کو درم کر جانا۔ گلے میں جھالا یا درم ہو  
 جانا۔ گلے میں درد ہونا۔  
 گلہ اٹھانا۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) حلق کے اندر کو سے کو رومال یا انگوٹھے سے دبانا تاکہ  
 وہ اپنی جگہ پر آجائے۔ بچوں کے نالو کو انگوٹھے سے اٹھانا۔  
 گلہ بلانا۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) گولیوں کا گانے کے وقت گلے میں آواز  
 کو گردش دینا۔  
 گلہ بند ہو جانا۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) آواز بیٹھ جانا۔  
 گلہ بندھانا۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) قرض لینا۔ مقروض ہونا (۲)، دھار ہونا۔ اپنے  
 اوپر بوجھ لینا (۳)، نکاح بڑھالینا۔ آزادی بچھانا (۴)، ضروری اخراجات  
 روک کر کچھ جمع کرنا۔  
 گلہ بندھنا۔ (۱) ف۔ ۱۱۔ محاورہ) قرض دار ہونا۔ مقروض ہونا۔



گلا بیٹھ جانا۔ گلا پڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ آواز کا بھاری ہو جانا۔ آواز بھڑا جانا۔  
گلا پکڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کھون پکڑنا (۲)۔ کسی چیز کھانے سے گلے میں تکلیف ہونا (۳)۔ تنگ کرنا۔ ستانا۔  
گلا چھڑانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ زور سے بولنا بیخ کر بولنا۔ چلانا۔  
گلا چھینا سنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کسی چیز سے گلا دبانا (۲)۔ قرض میں جتنا ہونا۔  
گلا چھٹ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ آواز کا زور سے نکلنا (۲)۔ آواز کا بے لرا ہو جانا۔  
گلا بھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ آواز کا حسب مراد گانے میں بھڑنا۔  
گلا پھولنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلہ پھولنا۔ گلا سوجنا۔ گلے میں ورم ہونا۔  
گلا خشک ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلے میں رطوبت بانی نہ رہنا (۲)۔ پیاس لگنا۔  
گلا داہنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلے کو دبانا (۲)۔ بولنے سے روکنا۔  
گلا دباننا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلا کھنڈنا۔ سانس روکنا (۲)۔ بات کرنے سے روکنا۔  
گلا دایا جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۲ ظلم ہونا۔ زبردستی کی جانا (۲)۔ بولنے سے رد کا جانا۔  
گلا کاٹ مرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ خودکشی کرنا۔  
گلا کاٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ سر قلم کرنا۔ قتل کرنا (۲)۔ حق دباننا۔ زبردستی کسی کا حق لینا (۳)۔ ظلم کرنا۔ شکنج کرنا۔  
گلا کاٹی۔ ۱۶۔ مسٹ اسازگی سے بنتا جتنا ایک باجا۔  
گلا کھٹانا۔ گلا کھٹانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ مقول ہونا۔  
گلا کھل جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ اچھی ہوئی آواز کا صاف ہو جانا۔  
گلا کھولنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلے کا پھیندنا (۲)۔ کرنا (۲)۔ گلے کی آواز صاف ہونا۔  
گلا کھٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلا پھینا۔ گلا دینا۔  
گلا کھونٹ کے سلا دینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلا کھونٹ کے مار دینا۔  
گلا کھونٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ گلا دباننا۔ بولنے نہ دینا۔  
گلا ملانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ آواز ملانا۔  
گلے باز۔ ۱۶۔ صفت خوش آواز۔ اچھی آواز والا۔  
گلے بندھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ذمے پڑنا۔ بلا خواہش کسی چیز کا سر پڑنا (۲)۔ کسی ناپسند عورت کا نکاح میں آنا۔  
گلے پر پھیری پھیرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ بہت ظلم کرنا۔  
گلے پر پھیری پھیرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کسی چیز کا سر پڑنا (۲)۔ کسی ناپسند عورت کا نکاح میں آنا۔  
گلے پر پھیری پھیرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کسی چیز کا سر پڑنا (۲)۔ کسی ناپسند عورت کا نکاح میں آنا۔  
گلے پڑنے سے سو دا کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ زبردستی بیچنا۔ خواہ مخواہ کٹا چیز دینا۔  
گلے پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ذمے پڑنا (۲)۔ پیچھے پڑنا (۲)۔ زبردستی چھٹے جانا

۱۶۔ بلا خواہش نکاح ہونا (۲)۔ بغیر خواہش یا مرضی کے کوئی چیز دینا۔  
گلے پڑنے کا سودا۔ ۱۶۔ مثل ۱ زبردستی کا سودا جو جبراً کسی شخص کا ہو جائے۔  
گلے تک بھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کسی طرف کو پورا پورا بھڑنا۔  
گلے تک پانی ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ڈوب جانے کے قریب ہونا۔  
گلے دراز۔ ۱۶۔ صفت ۱ زبان دراز۔ حالاک (۲)۔  
گلے سے اترنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ حلق سے اترنا۔ نکلا جانا۔ سمجھ میں آنا۔  
گلے کا تعویذ بنانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ کمال حفاظت سے رکھنا (۲)۔ ہر وقت ساتھ رکھنا۔  
گلے کا توڑا۔ ۱۶۔ مذہنگے میں سینے کی سونے کی زنجیر۔  
گلے کا جوڑا۔ ۱۶۔ مذہنگے کا لباس جو زیب تن ہوتا۔  
گلے کا ہار۔ ۱۶۔ ۱ ایک زیور جو گلے میں پستا جاتا ہے (۲)۔ وہ پتھر جو ہر وقت ماں سے پیٹا رہے (۳)۔ ناگوار خاطر۔ اجیرن (۴)۔ وہ جو کسی وقت جلدنا پڑے (۵)۔ نہایت عزیز۔ پیارا۔  
گلے کا ہار ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ چھٹنا۔ پیچھے پڑنا (۲)۔ وبال جان ہونا (۲)۔ بار خاطر ہونا۔  
گلے کی رگیں ٹھیلانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ غصے ہونا۔ ناراض ہونا۔  
گلے گلے۔ ۱۶۔ تین تین گلے تک۔  
گلے گلے پانی۔ ۱۶۔ مذہنگے میں آدمی کی گردن ڈوب جائے۔  
گلے لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ چھاتی سے لگانا۔ پیار کرنا۔ چھٹانا (۲)۔ زبردستی کوئی چیز ڈسے لینا۔  
گلے لگ کر رونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ مل کر رونا۔ درد مندوں کا باہم مل کر رونا۔  
گلے لگنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ہنگامہ ہونا۔ چھاتی سے لگنا۔ لپٹنا۔ چھٹنا۔  
گلے ملنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ ہم آغوش ہونا۔ گلے لگنا (۲)۔ صفائی کرنا۔ سلوک کرنا (۳)۔ ملاقات کرنا۔  
گلے ملنا دینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ صلہ کروا دینا۔ صفائی کر دینا۔ رنجش دور کرنا۔  
گلے پر پھینا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ زبردستی کوئی چیز گلے ڈالنا۔ خواہے کرنا۔  
گلے میں اگنا۔ ۱۶۔ گلے میں پھیننا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ بد مزہ یا ناپسند کھانے کا حلق سے نیچے ڈالنا۔  
گلے میں پانی ٹپکانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ دم نکلنے وقت حلق میں پانی جوانا۔  
گلے میں جان اٹھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ نزع کا عالم ہونا۔  
گلے میں زنجیر پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ بیاہ ہونا (۲)۔ بند ہونا۔ مقید ہونا۔  
گلے میں طوق پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ دلوئے کا زنجیروں سے جکڑا جانا (۲)۔ مصیبت میں مبتلا ہونا (۳)۔ کسی کی غلامی کرنا۔  
گلے میں کانٹے پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ حلق خشک ہونا۔  
گلے میں گرہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ آواز نہ نکلنا۔  
گلے میں گھنکر و بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱ نزع کا وقت ہونا۔

گنے میں ہاتھ ڈالنا - ۱۶۔ مجاورہ گردن میں ہاتھ ڈال کر تقاضا کرنا۔  
گنے میں بڑی نہیں - ۱۶۔ مجاورہ آواز نہایت دلکش ہے گنے میں ماہر ہے۔

گلاب - رنگ ملبا، ۱۶۔ مذ ۱۔ ایک پھول ۲، گلاب کا پودا ۳، گلاب کے پھول کا عرق۔

گلاب پاش - ۱۶۔ ف ۱۔ مذ ۱۔ وہ سراچی نما برتن جس میں عرق گلاب بھرا کر چھڑکتے ہیں۔

گلاب جامن - ۱۶۔ مذ ۱۔ ایک قسم کا جامن جس میں گلاب کی سی خوشبو سرائی ہے (۲) ایک قسم کی مٹھائی جس کا رنگ جامن کی طرح ہوتا ہے۔  
گلاب کھجوا - ۱۱۔ مجاورہ، گلاب کا عرق نکوانا۔

گلاب ٹھینا - ۱۶۔ مجاورہ، گلاب کا عرق نکالنا۔  
گلاب کی پتی - گلاب کی پتکھڑی - ۱۶۔ مذ ۱۔ رنگ گل ۲، لب نازک معشوق کے ہونٹ۔

گلاب بدگل - آہ، ۱۶۔ مذ ۱۔ گلابا بچھا جا۔  
گلابی - ۱۶۔ مذ ۱۔ مذ ۱۔ مذ ۱۔ مذ ۱۔ صفت گلاب کے پھول کی طرح ہلکے سرخ کا۔

(۲) شراب کی بوتل - شراب کا گلاس - ساغر۔

گلابی آنکھ - ۱۶۔ مذ ۱۔ شہری آنکھ۔ محمود آنکھ۔

گلابی اردو - ۱۶۔ مذ ۱۔ اردو تحریر کا وہ اسلوب جسے ملازمی نے رواج دیا۔

گلابی لوش - صوف ہف، وہ شخص جو گلابی لباس زیب تن ہو۔  
گلابی جھاڑا - ۱۶۔ مذ ۱۔ ہلکا جھاڑا۔ سردی کے ابتدائی اور آخری دن۔

گلابا - ۵۱۔ مذ ۱۔ گولائی، گول ہونا۔

گلاش - ۵۱۔ مذ ۱۔ گلاس ۲، انگ ۱۔ مذ ۱۔ بانی شے کا برتن پیالہ، ساغر، ایک قسم کا مجورہ ۲، شیشہ - کاغذ ۳، آئینہ۔

گلال - ۵۱۔ مذ ۱۔ لال ۱۔ مذ ۱۔ ایک قسم کا سرخ مضمون جو بولی کے دلوں میں ہندو لوگ ایک دوسرے پر چھڑا کر خوشی مناتے ہیں (۲) سگھاڑے کا باریک پیسا ہوا آنا جس میں مختلف قسم کے رنگ ملتے ہیں۔

گلال پالسی - ۱۶۔ مذ ۱۔ وہ شاہی باغ جو شاہی محل کے طبعی بودا ۲، وہ باغ جو بڑے مکان کے طبعی ہو۔

گلال چشم - ۱۶۔ صفت سرخ آنکھوں والا۔  
گلالا - ۱۶۔ مذ ۱۔ پھول کا زیرہ۔

گلاتا - ۵۱۔ مذ ۱۔ پھلانا ۲، گوشت ترکاری وغیرہ کو پکا کر نرم کرنا ۳، سترانا ۴، بیماری یا غم کو بدن کو دہلا کر دینا۔

(۵) ضائع کرنا ۶، بوسیدہ کرنا۔

گلاوا - گلابہ - رنگ - لا، دا، دگ - لا، نہ، ۵۱۔ مذ ۱۔ چمچ - دل - لہ - گارا۔

مٹی میں پانی ملا ہوا - لیب پوت۔  
گلاوٹ - رنگ - لا، ڈٹ، ۵۱۔ مذ ۱۔ گلانے کی اہلیت - تحلیل - وہ چیز جس سے گوشت وغیرہ گل جائے۔

گلاڑ - رنگ - لا، ۵۱۔ صفت گنے والا - جلد سڑنے والا پھل - گلابی - رنگ - لا، ۵۱۔ مذ ۱۔ گولائی - گولایا - گول ہونا

گلا ٹیڈر - (Glider) رنگ - لا، ۵۱۔ ذر (انگ ۱) ایک قسم کا بوائی جہاز جو انجن کے بغیر چلے۔

گلگتھی - رنگ - لٹحہ - تھی ۵۱۔ مذ ۱۔ ایسے ہونے زیم پاوٹ (۲) رصفت، ملائم - نرم۔

گلگٹ - (Gilt) رنگ - لا، ۵۱۔ مذ ۱۔ طلاہری خوبصورتی اوپر کی سجاوٹ۔

گلگٹ - رنگ - لٹ، ۵۱۔ مذ ۱۔ بڑی گٹھی - نرم۔  
گلگٹی - رنگ - لٹی، ۵۱۔ مذ ۱۔ مٹا - گرتھ - گرہ ۲، غدود (۳) گنے کے اندر کا چھوڑا۔

گلگڈ - (Guild) رنگ - لا، ۵۱۔ مذ ۱۔ ہمیشہ لوگوں کی انجمن۔  
جماعت - یونین۔

گلگڈ انگ - رنگ - ڈانگ (Bull Dog) بل ڈاگ، ۱۶۔ مٹورہ - مذ ۱۔ بڑے جڑوں والا ایک قسم کا شکاری کتا - بل ڈاگ۔

گلگسرسن - (Glycerine) رنگ - بس - سرین، انگ ۱۔ مذ ۱۔ ایک صفت آئینہ بے رنگی - طبی اور سیال شے جو چکنائی سے تیار ہوتی ہے اور تیل یا دودھ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

گلگٹہ - رنگ - گٹ، ۱۶۔ مذ ۱۔ مٹھا پوڑا۔

گلگل - رنگ - گل، ۱۶۔ مذ ۱۔ ایک قسم کا پوڑا اور لمبوترانیو - ترنج۔  
گلگلا - رنگ - لا، ۵۱۔ مذ ۱۔ ایک قسم کا مٹھا پوڑا۔

گلگلا - رنگ - گلا، ۵۱۔ صفت گلابی گلابا - نرم۔  
گلگلاٹا - رنگ - گلا، ۵۱۔ صفت نرم کرنا - پھلانا۔

گلگلاہٹ - رنگ - گلا، ہیٹ، ۵۱۔ مذ ۱۔ نرمی - ملائمت (۲) نرم کرنے کا فعل۔

گلگلی - رنگ - گلی، ۵۱۔ مذ ۱۔ گلاب کا اسم تصغیر - چھوٹا گل - گوٹھنا۔

گلگلی - رنگ - گلا، ۵۱۔ صفت گوشت سے بھرا ہوا موٹا پھل - بھاری بھاری - کم۔

گلگم - رنگ - گم، ۵۱۔ مذ ۱۔ سخت آماس جو پیشانی یا سر پر کسی چوٹ کے باعث پیدا ہو جائے - گرہم۔

گلگنا - رنگ - نا، ۵۱۔ مذ ۱۔ گھلنا ۲، پگھلنا ۳، پگنا ۴، بوسیدہ ہونا۔

گلگنا - رنگ - نا، ۵۱۔ صفت گلاب ہونا ۲، گرا - ستیاناس ہونا ۳، گرا -

گلگنا - رنگ - نا، ۵۱۔ صفت گلاب ہونا ۲، گرا - ستیاناس ہونا ۳، گرا -

گلگنا - رنگ - نا، ۵۱۔ صفت گلاب ہونا ۲، گرا - ستیاناس ہونا ۳، گرا -

گلگنا - رنگ - نا، ۵۱۔ صفت گلاب ہونا ۲، گرا - ستیاناس ہونا ۳، گرا -

گلگنا - رنگ - نا، ۵۱۔ صفت گلاب ہونا ۲، گرا - ستیاناس ہونا ۳، گرا -

گلگی۔ رنگ (لی، اف) نصف اٹلی کا بنا ہوا۔ کچا۔ نا پائیدار۔ کچی۔ رنگ (لی، اف)۔ مٹ (مٹ) مٹی کا جھنڈا، کھیلنے کا بھول (۳) وہ گول اور چھوٹی گلابی جو خول کے اندر دی جاتی ہے، ہم، چاندی سونے کا ڈالا، ہ، صیقل کرنے کا ایک اوزار، ہ، دونوں طرف لٹک دار چھوٹی سی مکڑی کا گواہ جسے لٹکے لٹکے سے مار کر اچھالتے ہیں، شہد کی ہمال۔

گلی بندھنا۔ (۱) محاورہ (۱) پورا جوان ہونا۔ سن بلوغت کو پہنچنا، (۲) شہد کا جمال میں پک جانا۔

گلی ڈنڈا۔ (۱) مذراؤں کے ایک کھیل کا نام جو گلی ڈنڈے سے کھیلا جاتا ہے۔ اس میں دو مکڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی جسے گلی کہتے ہیں۔ دوسری بڑی اور لاتی جسے ڈنڈا کہتے ہیں۔

گلی ڈنڈا کھیلنا۔ (۱) محاورہ (۱) گلی ڈنڈے کا کھیل کھیلنا، (۲) ذہن ضائع کرنا، آوارہ پھرنا۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیان۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیانا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلیا۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

## گ۔ م۔

گم۔ (Gum) (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گم۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلو۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلو۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلو۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلو۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلو۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلو۔ رنگ (لی، اف)۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (Globe) (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔

گلوب۔ (۱) مذراؤں کا نام جو۔



گناہ - رگ - نا، ۱۰۱ - مذ ۱ - چند مرتبہ بار - جیسے چونکا - سو گناہ -  
 مرکبات میں مستعمل ہے -  
 گناہ - رگ - نا، ۱۰۱ - مذ ۱ - نیشکر - لونڈا -  
 گناہ - رگ - نا، ۱۰۱ - مذ ۱ - مص - شمار کرنا - گونا -  
 گناہ - رگ - نا، ۱۰۱ - مذ ۱ - مذہبی احکام کے خلاف عمل - عیسیاں  
 پریم - خطا - قصور - پاپ -  
 گناہ - امر زرخش - ۱۰۱ - مذ ۱ - نصف اگناہ - بخشے موالا - ۱۱ - مذ ۱ -  
 خدائے تعالیٰ -  
 گناہ - سختنا - ۱۱ - محاورہ - خطا معاف کرنا - قصور معاف کرنا -  
 گناہ بے لذت - ۱۱ - مذ ۱ - وہ گناہ جس کے کرنے میں کچھ فائدہ  
 نہ ہو -  
 گناہ دھوٹنا - ۱۱ - محاورہ - گناہ مٹانا یا محو کرنا -  
 گناہ رکھنا - ۱۱ - محاورہ - کسی پر ناکردہ تصور ثابت کرنا - جھوٹا  
 الزام لگانا -  
 گناہ سمٹنا - ۱۱ - محاورہ - گناہ کا دبا لے لینے - سر لینا -  
 گناہ طعیرہ - ۱۰ - مذ ۱ - معمول گناہ - اپنی گناہ - جرم - خفیف -  
 گناہ کا دبا ل پڑنا - ۱۱ - محاورہ - گناہ کا خمیازہ بھگتنا - قصور کی  
 سزا پانا -  
 گناہ کبیرہ (عظیم) - ۱۰ - مذ ۱ - بھاری جرم - بڑا گناہ - وہ گناہ  
 جس کی سزا قرآن شریف یا شرع میں مقرر ہو - ذرائع مذہبی  
 کا ادا نہ کرنا -  
 گناہ کرنا - ۱۱ - معنی مرکب کو اپنی ایسا کام کرنا جس کے کرنے کی قانون و  
 مذہب میں ممانعت ہو - تصور کرنا -  
 گناہ گار - گنہگار - ۱۰ - مذ ۱ - عاصی - پاپی - بدکار - فاسق -  
 ۱۰ - خطا کار - مجرم -  
 گنہگار کرنا - گنہگار بنانا - ۱۱ - محاورہ - گناہوں میں مبتلا کرنا -  
 شرمندہ کرنا - ۱۰ - مذ ۱ - ملزم بنانا -  
 گناہ گاری - گنہگاری - ۱۰ - مذ ۱ - معنی قصور - خطا - جرم - ۱۰ - مذ ۱ - مدنی جو مالی  
 عدالت کی طرف سے وصول کی جائے - جرمانہ - تادان -  
 گناہوں کی گنہگاری - ۱۱ - مذ ۱ - معنی بہت سے گناہوں کا بوجھ -  
 گنبد - ۱۰ - مذ ۱ - رگم - بد - بروج - گول چھت - عمارت کا بالائی  
 حصہ جو گول ہو -  
 گنبد ازرق - گنبد فیروزہ رنگ - ۱۰ - مذ ۱ - آسمان -  
 دلفظی معنی نیلا آسمان -  
 گنبد بے در - ۱۰ - مذ ۱ - آسمان -  
 گنبد خضر - آسمان (۲) - انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار  
 مبارک کا گنبد لفظی معنی سبز گنبد -  
 گنبدی آواز - ۱۰ - مذ ۱ - گنبد کی گونج - ۱۰ - مذ ۱ - جیسا کہ آواز آواز -  
 گنبد گرداں - ۱۰ - مذ ۱ - آسمان دلفظی معنی گھومتے والا گنبد -  
 گنبد مینا - گنبد مینائی - ۱۰ - مذ ۱ - آسمان دلفظی معنی

نیلا گنبد -  
 گنبدی - ۱۰ - مذ ۱ - ایک قسم کا ایک ستون والا خیمہ - گول خیمہ -  
 گنبد کی شکل کا -  
 گنبت - رگ - بنت - ۱۰ - مذ ۱ - معنی علم حساب -  
 گنبت بدیا - ۱۰ - مذ ۱ - معنی علم ہندسہ - علم ریاضی -  
 گنبت - ۱۰ - مذ ۱ - گناہ -  
 گنتی - رگ - تی - ۱۰ - مذ ۱ - معنی حساب - تعداد - اندازہ - شمار - ۲۰ - محاورہ -  
 گنتی کے - گھوڑے سے - چند -  
 گنتی کے دن - ۱۱ - مذ ۱ - زندگی کے چند دن -  
 گنتی گونا - ۱۱ - محاورہ - نام کی تعداد ظاہر کرنا - نمائشی خانہ پری  
 کر کے دکھانا -  
 گنتی میں لانا - ۱۱ - محاورہ - شمار میں لانا - حساب میں داخل کرنا - ۱۰ - بات  
 بوجھنا - خاطر میں لانا -  
 گنٹا - رگ - ٹا - ۱۰ - مذ ۱ - تالاب -  
 گنٹھا - رگ - ٹھا - ۱۰ - مذ ۱ - پیاز کی گڑھ -  
 گنٹھڑا - رگ - ٹھا - ۱۰ - مذ ۱ - سرسبز - پونجی - اصل -  
 گنٹھنا - رگ - ٹھا - ۱۰ - معنی سپا جانا - کاٹنا جانا -  
 گنٹھیا - رگ - ٹھا - ۱۰ - معنی بھڑوں کا درز - تقریب - روح المغاصل -  
 گنج - ۱۰ - مذ ۱ - خزانہ - دینہ - ۲۰ - ذخیرہ - گودام - ۱۰ - مخزن - خزینہ - ۱۰ - مالج  
 کی مٹلی - بانڈا - انہار - ڈھیر جمع - گنجما -  
 گنج بخش - ۱۰ - مذ ۱ - بہت بڑا فیاض - لکھ داتا - ۲۰ - حضرت  
 علیؑ جو پری کا لقب -  
 گنج بے رنج نہیں - ۱۱ - مثل - امیر آدمی کو کسی پریشانیوں ہوتی  
 گنریں -  
 گنج حکیم - ۱۰ - مذ ۱ - سودا فاتحہ -  
 گنج ڈالنا دلگنا - ۱۱ - محاورہ - آماج کی مٹلی آباد کرنا - ۲۰ - انبار لگانا -  
 گنج رواں - ۱۰ - مذ ۱ - قانون کا خزانہ جو عدالت کے مطابق برابر زمین میں دھنستا  
 جا رہا ہے - ۲۰ - ذخیرانہ جو کبھی خالی نہ ہو -  
 گنج شاکال - ۱۰ - مذ ۱ - بہت بڑا خزانہ یا چیز جو بادشاہوں  
 کے لائق ہو -  
 گنج شہیدان - ۱۰ - مذ ۱ - وہ گنٹھیا پری قبر جس میں شہیدوں یا مقتولوں کو  
 اور بٹے بھر کر دفن کر دیتے ہیں - ۲۰ - شردول کا ڈھیر -  
 گنج فریدوں - ۱۰ - مذ ۱ - ایرانی موسیقی کے ایک راگ کا نام -  
 گنج قاروں - ۱۰ - مذ ۱ - قانون کا خزانہ - گنوس دولت مند کا خزانہ - ۲۰ - بہت  
 بڑا خزانہ جس میں سے کچھ خرچ نہ ہوا ہو -  
 گنج - ۱۰ - مذ ۱ - ایک مرض جس میں سر کے بال جھڑ جاتے ہیں -  
 گنٹا - ۱۰ - مذ ۱ - وہ شخص جس کے سر سے بال نہ ہوں - جیسے سردال آدمی -  
 گنٹے کو خدا مانا جن نہ دے جو سر کھائے - ۱۱ - مثل - کیوں کو خدا اس  
 قدر اختیار نہ دے کہ وہ شریفوں کو تنگ کرے -  
 گنجان - رگ - جان - ۱۰ - مذ ۱ - نصف اگناہ - پاس پاس متصل -

گنجانا۔ رگن۔ جا۔ نا، ۵۶۔ مص ۲، مٹھسے ملانا۔  
 گنجانی۔ رگن۔ جاتی، ۵۱۔ ۱۔ مٹھ جگنا ہوتا۔  
 گنجائش۔ رگن۔ جا، نش، ۱۸۔ مٹھ ۱، سمائی، مٹھکانہ۔ جگہ ۲، فائدہ  
 بخت۔ کفایت۔ حصہ۔ مقدور۔  
 گنجائش پذیر۔ ۶۔ صنف سامنے کے قابل جو سما سکے۔  
 گنجائش رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱، اتنی جگہ ہونا کہ اس میں سما سکے۔  
 گنجائی۔ رگن۔ جا، ای، ۵۶۔ ۱۔ مٹھ ۱، ایک کپڑے کا نام جو برسات میں  
 پیدا ہوتا ہے۔ کسٹلانی۔  
 گنجرنا۔ رگن۔ بخر، نا، ۵۶۔ مص ۲، زور سے چیخنا۔ دہڑانا۔ گرجنا۔  
 گنجھ۔ رگن۔ فہ، ۱۶، ۱۔ مٹھ ۱، ایک کھیل کا نام جس میں ۹۴ گول  
 پتے ہوتے ہیں اور تین گولڈری۔  
 گنجھ ابر ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱، گنجھ کے ناقص پتے جھ سے ملنا۔  
 گنجھ باز۔ ۶۔ صنف گنجھ کیسے والا ۲، مکار۔ چال باز۔ فریبی۔  
 گنجھ کا درق۔ ۱۶۔ مٹھ گنجھ کا پتا۔  
 گنجلک۔ رگن۔ کب، ۵۶، ۱۔ مٹھ ۱، شکم۔ سلوٹ ۲، گانٹھ۔ گرہ  
 عقدہ ۲، المین جیکوٹا۔ بکھڑا۔  
 گنجلک کی باتیں۔ ۱۶۔ مٹھ ۱، پیچیدہ باتیں۔ گول مول باتیں۔  
 گنجر۔ رگن۔ بخر، ۶، فہ ۱۔ ۱۔ مٹھ ۱، دولت مند۔ امیر آدمی۔ صبح  
 سنجے دہے۔  
 گنچھیا۔ رگن۔ یا، ۵۶، ۱۔ مٹھ ۱، ایک قسم کا تل ہوا سوسہ۔  
 گنچی۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹھ ۱، وہ عورت جس کے سر پر بال نہ ہوں۔  
 گنچی پنہاری اور گوگھرو کا اینٹروا۔ ۱۶۔ مثل ۲، اپنی حیثیت  
 سے بڑھ کر کام کرنا۔  
 گنچی کبوتری حملوں میں ڈیرا۔ ۱۶۔ مثل ۱، بدصورت اور کینے کو کسی اعلیٰ درجے  
 کا پودیکھ کر کہتے ہیں۔  
 گنچیا۔ رگن۔ یا، ۵۶، ۱۔ مٹھ ۱، گاڑی بان یا گھسیارے کے اوزاروں  
 کا تھیلا۔  
 گنچیا۔ رگن۔ یا، ۵۶، ۱۔ مٹھ ۱، کان کا ایک زیور۔  
 گنچیرتی۔ رگن۔ جے، ٹری، ۵۶، ۱۔ مٹھ ۱، گانچا پینے والا۔  
 گنجیٹھ۔ رگن۔ جی۔ فہ، ۱۶، ۱۔ مٹھ ۱، گنجیٹھ۔  
 گنجینہ۔ رگن۔ جی۔ نا، ۱۸۔ مٹھ ۱، خزائنہ۔ دفتینہ ۲، ذخیرہ۔  
 مال گودام۔  
 گنجینہ دار۔ ۱۸۔ صنف خزانچی۔  
 گند۔ ۶۔ ۱۔ مٹھ ۱، بدبو۔ عنونت۔ تعفن ۲، نچا سست۔  
 غلاظت پیدا کی ۳، گوند کرکٹ ۴، شراب اور کئی چیز ۵،  
 مھنگڑا۔ بھونٹا۔  
 گندپاک ہونا۔ گندکٹھا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱، مھنگڑا پاک ہونا۔ رنج و شفقت  
 سے نجات پانا۔  
 گند پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱، کوڑا کرکٹ پھیلنا ۲، مھنگڑا ہونا۔  
 گندار۔ رگن۔ دا، ۶، ۱۔ صنف ۱، ناپاک۔ غلیظ۔ نجس۔ میلا۔ بدبو دار۔

گند انڈا۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹھ ۱، اندا جو خراب ہو گیا ہو ۲، بد چلن بیٹیا۔  
 گند بانی۔ میلا۔ غلیظ بانی ۲، شراب ۳، شیباب ۴، ریم، آئینو۔ منی  
 گند مٹھ۔ ۱۸۔ ۱۔ مٹھ ۱، وہ زرد چھوٹے چھوٹے پودے جو بچوں کے  
 بچوں کے نکلنے میں ۲، وہ بال جو بچوں کے جسم پر سب سے پہلے  
 نکلتے ہیں۔  
 گندانا۔ ۱۸۔ مٹھ ۱، گوندھنا۔  
 گندار۔ رگن۔ در، ۵۶، ۱۔ مٹھ ۱، ایک قسم کا کبیرا جو راج میں لگ جاتا ہے۔  
 گندک۔ رگن۔ دک، ۵۶، ۱۔ مٹھ ۱، گندھک۔  
 گندگی۔ رگن۔ دک، ۶، ۱۔ مٹھ ۱، بدبو۔ عنونت۔ بسا ہند ۳، غلاظت  
 نجاست۔ ناپاکی۔  
 گندگی پھیلانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱، بدبو پھیلانا۔ مٹھ ۱، پھیلانا ۲، کسی جگہ کو میلا  
 یا گندنا کرنا ۳، ناپائیدار کھنگڑا کرنا۔  
 گندم۔ رگن۔ دم، ۶، ۱۔ مٹھ ۱، گیوں۔ کنگ۔  
 گندم ار گندم بروید جو جو۔ ۱۸۔ مثل ۱، جھسا کر دے دیا جھوٹے لفظی  
 معنی گندم سے گندم آتا ہے اور جو ہونے سے جو آتا ہے۔  
 گندم اگر بھیم نرسد جو (نجس، غنیمت است)۔ ۱۸۔ مثل ۱، اگر  
 زیادہ فائدہ میسر نہ ہو تو تمھوڑا ہی سہی (لفظی معنی۔ اگر گندم نہ مل سکے تو  
 جو ریا تجس ہی سہی)۔  
 گندم گول۔ ۱۶۔ مٹھ ۱، گندمی رنگ کا۔ ساٹولا۔  
 گندم نما۔ ۶۔ ۱۔ صنف ۱، دھوکے باز۔ مکار۔ چالاک۔ دغا باز۔  
 گندم نما جو فروش۔ ۶۔ ۱۔ صنف ۱، گندم دکھا کر جو بیچنے والا۔ جس کے ظاہر  
 باطن میں فرق ہو۔ مکار۔ دغا باز۔ دھوکا دینے والا۔  
 گندم نمائی۔ ۶۔ ۱۔ مٹھ ۱، فریب۔ دغا بازی۔  
 گندمی۔ رگن۔ ڈمی، ۱۸۔ ۱۔ صنف ۱، گندم کے رنگ کا ساٹولا۔  
 گندنا۔ گندنا، ۶، ۱۔ مٹھ ۱، ایک ترکاری کا نام جو بسن سے مشابہ ہوتی ہے۔  
 گند پڑنا۔ رگن۔ ڈو، ۱۸، ۵۔ مٹھ ۱، کھانڈکی گنیا یا روٹی جو ہندو شادیوں  
 میں تقسیم کرتے ہیں۔  
 گندہ۔ رگن۔ ڈہ، ۶، ۱۔ صنف ۱، ناپاک۔ غلیظ۔ نجس ۲، بدبو دار ۳، بگاڑا  
 مٹھ ۱، بھانڈا ۵، بد زبان ۶، بڑا ۷، شراب ۸، بے ہودہ۔  
 گندہ بروزہ (بروزہ)۔ ۱۸۔ ۱۔ مٹھ ۱، ایک بدبو دار مادہ جو چھڑکے درخت سے نکلتا  
 ہے۔ ایک قسم کی گوند۔  
 گندہ بغل۔ ۶۔ ۱۔ صنف ۱، وہ شخص جس کی بغلوں سے بو آئے۔  
 گندہ بہار۔ ۶۔ ۱۔ مٹھ ۱، وہ بارش جو موسم سرما میں ہو۔  
 گندہ دماغ۔ ۶۔ ۱۔ مٹھ ۱، مغزور۔ مکتبہ۔  
 گندہ دہسن۔ ۶۔ ۱۔ مٹھ ۱، وہ شخص جس کے منڈے بو آئے۔  
 گندہ گھڑا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱، ناپاک کرنا ۲، خراب کرنا ۳، عصمت بگاڑنا۔  
 گندہ۔ رگن۔ ڈہ، ۶، ۱۔ صنف ۱، مٹھا۔  
 گندھ۔ ۱۸۔ مٹھ ۱، بدبو دار ۳، سرخ صندل۔ گسسا بھانڈل۔  
 گندھار۔ رگن۔ دھار، ۵۶، ۱۔ مٹھ ۱، ایک ہندوستانی راگ کا نام۔  
 گندھاوٹ۔ رگن۔ دھا، وٹ، ۵۱، ۱۔ مٹھ ۱، ہالوں کے گندھنے کا انداز

۲۱۔ بھولوں کا ہار بنانے کا طریقہ۔  
 گندھرب۔ رگن۔ دھرب ۱۶س۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ راجہ اندر کے دربار کا گویا،  
 اچھا گائے والا۔ قوال۔ بنتی (۳)۔ ایک پڑے کا نام (۴) جو بھوت  
 حسینہ (۵) مزیدار لگ۔  
 گندھرب بیباہ۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ عورت اور مرد کا اپنی مرضی سے  
 بغیر کسی رسم کے بیاہ کرنا۔  
 گندھک۔ رگن۔ دھک ۱۰۔ مذ ۱۔ مسٹ از رو رنگ کا ایک مادہ جو  
 زمین سے نکلتا ہے۔  
 گندھنا۔ رگن۔ نا۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ مسٹ آئے میں پانی ڈال کر ملانا، سر کے  
 بالوں کا گتھنا، ہار کا گتھنا۔  
 گندھوانا۔ رگن۔ نا۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ مسٹ آئے میں پانی ڈال کر ملانا، بال  
 یا ہار کا گتھنا۔  
 گندھی۔ رگن۔ دھی ۱۰۔ مذ ۱۔ عطر پھیل پھینچنے والا عطر۔  
 گندھی۔ رگن۔ دھی ۱۱۔ مذ ۱۔ ناپاک عورت خلیقا عورت  
 (۲) فخر مندب گتھنا، (۳) خراب ناکارہ بھی چیز۔  
 گندی بوٹی کا گندھا شوربا۔ ۱۶۔ مذ ۱۔ بدوں کی بڑی اولاد۔ بڑے  
 کام کا برا نتیجہ۔  
 گندی گندی بائیں کرنا۔ ۱۶۔ مذ ۱۔ محاورہ آگالیاں بکنا۔ بے شرمی  
 کی باتیں زبان پر لانا۔  
 گندیلا۔ رگن۔ دی۔ لا۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ صفت آگوند والا۔ وہ درخت جس میں سے  
 گوند نکلے۔  
 گند۔ رگن۔ ند۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ بھاری تھج۔  
 گند۔ رگن۔ ڈ۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ مذ ۱۔ حلقہ۔ چلا۔ کر۔ چوڑی دم، چار عدد۔  
 چار کوڑیاں (۳) گھوڑوں کے گلے میں ڈانے کا پٹہ دم، وہ بڑا ڈورا  
 جس میں منتر یا کوئی عمل پڑھ کر رکھتے جاتے ہیں اور یہ بچوں کے گلے  
 یا بازو پر بھاری دھڑ کرنے کے لیے باندھے ہیں۔  
 گند بانڈھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۰۔ اسوں پڑے ہوئے چند سیاہ دھاگوں کو دھج  
 آسب یا از ان مرض کے لیے گلے میں باندھنا۔  
 گند اٹھانا۔ ۱۱۔ مذ ۱۔ سازه گھوڑے کے گلے میں ڈالتے ہیں۔  
 گند اٹھنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۰۔ گند اٹھنے میں ڈالنا۔  
 گند انگوٹہ۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ منتر جنت۔ جھاڑ بھونگ۔ جا دو ٹونا۔  
 گند سے دار۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۰۔ حلقہ دار۔ دھاری دار (۲) بے سلیقہ  
 بے قاعدہ۔  
 گند سے دار آواز۔ ۱۱۔ صفت وہ آواز جو تان لگاتے وقت کسی جگہ  
 سے ٹوٹ جائے اور گویا جالوں اور خوبصورتی سے اس کی جگہ کوئی دھرا  
 پھل پھل کر کے آخربک پہنچانے۔  
 گند۔ رگن۔ ڈ۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ لجا۔ شہا۔ بدکار۔ ادب۔ بد معاش۔  
 گند کر دی۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ صفت بد معاشوں کا دود دودہ۔  
 گندوں کا راج۔  
 گند اس۔ رگن۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ ۵۶۔ چارہ کاٹنے کا ہتھیار (۲) لاطھی میں

لگا ہوا لوطیہ کا تیز ہتھیار۔  
 گنداسی۔ رگن۔ ڈ۔ سی۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ مسٹ آگنداسا کی تانیت (۲) چھڑا  
 گنداسا۔  
 گندلا۔ رگن۔ لا۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ دائرہ۔ حلقہ۔ گنڈل۔  
 گندلی۔ رگن۔ لی۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ مسٹ آگندلا کی تانیت۔  
 گندلی مارنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۰۔ سانپ کا حلقہ کر کے بیٹھنا۔  
 گندم۔ رگن۔ دم۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ مسٹ آگندم۔ مصیبت۔  
 گندلا۔ رگن۔ لا۔ ۱۰۔ مذ ۱۔ کٹھنہ مالا۔  
 گندولا (Gondola)۔ رگن۔ ڈو۔ لا۔ ۱۱۔ طالی ۱۰۔ مذ ۱۔ شہر ویش کی نہروں  
 میں چلنے والی کشتیاں۔  
 گندی۔ رگن۔ ڈی۔ ۱۰۔ ۱۔ مذ ۱۔ جا دو کا حلقہ (۲) مٹی کا بند جو تالاب  
 کے گرد بناتے ہیں۔  
 گندی۔ رگن۔ ڈی۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ مسٹ آگندی کی چھوٹی سی پوری۔  
 گندی دار۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت گریوں والا۔ جتنے کا نیچا (۲) رنگ  
 برنگ کی چیز۔  
 گنسر (Gunner)۔ رگن۔ نر۔ ۱۰۔ ۱۔ مذ ۱۔ بندوچی۔ توپچی۔ توپ خانے  
 کا انسداد (۲) سکاری۔ بندوچی سے تھکار کھیلنے والا۔  
 گنگ۔ ۱۰۔ ۱۔ مذ ۱۔ دریا کے گنگا جو ہندوستان میں ہے۔  
 گنگ۔ ۱۰۔ ۲۔ صفت آگنگا۔ زبان سے نڈول سکے والا۔  
 گنگ محل۔ اگر بادشاہ کا وہ محل جو اس نے انسان کی طبعی زبان دریافت  
 کرنے کے لیے جوایا تھا۔  
 گنگا۔ رگن۔ گگا۔ ۱۰۔ ۱۔ مذ ۱۔ ہندوستان کا مشہور دریا جس میں نہانے سے  
 ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق پاپ دور ہوتے ہیں۔ اور اس میں مردوں  
 کی راکھ یا ہڈیاں ڈالنا باعث نجات سمجھا جاتا ہے۔  
 گنگا اٹھانا۔ دریا کے گنگا کا پانی ہاتھ میں لے کر رقم اٹھانا۔  
 گنگا اٹھنا۔ گنگا نہان۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ گنگا میں نہانا۔  
 گنگا بہانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۰۔ فیض جاری کرنا (۲) کسی کام سے فراغت کرنا۔  
 گنگا بہنا۔ دریا کے گنگا کا پانی ہاتھ میں لے کر رقم اٹھانا۔  
 گنگا بار کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۰۔ جلا وطن کرنا۔  
 گنگا بیل۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ دریا کے گنگا کا پانی جسے پتر مانا جاتا ہے۔  
 گنگا جلی۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ وہ رتن جس میں گنگا کا پانی رکھا جائے۔  
 گنگا جلی اٹھانا۔ ۱۱۔ محاورہ ۱۰۔ گنگا کا پانی ہاتھ میں لے کر رقم کھانا۔  
 گنگا جھنا۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ ہندوؤں کے دو مقدس دریاؤں کے نام  
 (۲) ملاحظہ۔ دود گنگا۔  
 گنگا جھنی۔ ۱۰۔ ۱۶۔ صفت ملاحظہ۔ دود گنگا، سہری اور روپہلی (۲) کان کا  
 ایک زیور (۲) سیاہ اور سفید رنگ سابق۔  
 گنگا دھر۔ ۱۰۔ ۵۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ جمادوی۔ توٹھو۔  
 گنگا سار۔ ۱۰۔ ۱۶۔ ۱۔ مذ ۱۔ وہ جگہ جہاں گنگا سمندر سے ملتی ہے۔ دریا کے  
 گنگا کا پانی (۲) ہندوؤں کے استعمال کا توڑنی دار لوٹا۔ آفتاب۔  
 گنگا کس نے کھدائی ہے۔ (۱۱۔ متل) ایسے کام قدرتی ہوتے ہیں۔

گنگا لاکھ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ انگلہ پر جا کر مرنا۔  
 گنگا مدار کا ساتھ۔ ۵۶۔ مذمہ ہندو مسلم اتحاد۔  
 گنگا نہانا۔ ۱۶۔ محاورہ دریائے گنگا میں اٹھان کرنا۔ ۲۲۔ کسی مشکل کام کو انجام  
 پر پہنچانا۔ ۳۰۔ پاک ہونا۔ گناہ دھلانا۔ ۴۰۔ قرضہ سے سبکدوش ہونا۔ ۵۰،  
 بیٹھنے سے فرض سے فارغ ہونا۔ ۶۰۔ ثواب کمانا۔  
 گنگا یا کرا۔ ۱۔ ۵۶۔ مٹا ہونے کے لیے دریائے گنگا پر جانا قریب  
 المگ آدمی کو گنگا کنارے لے جانا۔  
 گنگا گال۔ رگن۔ گال۔ ۵۶۔ مذمہ پانی رکھنے کا بڑا برتن۔ گاگر۔  
 گنگنا۔ رگن۔ رگنا۔ ۵۶۔ نصف آنک میں بولنے والا۔ ۲۰۔ نیم گرم پانی۔  
 گنگنا۔ رگن۔ رگنا۔ ۵۶۔ مص آنک میں بولنا۔ ۲۰۔ دھیمی آواز سے  
 رونا۔ گنا۔ منہ میں منہ میں گانا۔  
 گنگنا ہنٹ۔ رگن۔ رگنا۔ ہنٹ۔ ۵۶۔ مٹا ہونے کا فعل۔  
 گنگن کر کے۔ ۵۶۔ تابع فعل ایک ایک کر کے۔ ۲۰۔ سنبھال سنبھال کر کر کے۔  
 رچھاٹ چھاٹ کر کے۔ ۲۰۔ مشکل تمام۔ جوں جوں کر کے۔  
 گنگن کر کے۔ ۱۶۔ اکاٹھا، گزارنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ مصیبت سے دن پھینے  
 کرنا۔ ۲۰۔ جوں جوں کر کے۔ ۲۰۔ محاورہ ۱۔  
 گنگن کر کے قدم رکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ آہستہ آہستہ چلنا۔ ۲۰۔ ڈر ڈر اور سنبھل کر  
 چلنا۔ ۳۰۔ نہایت اذیت سے قدم اٹھانا۔  
 گنگو تری۔ رگن۔ گوت۔ ۱۰۔ مٹا ہونے کے مبع گنگا کے منبع کا نام جو

مقصد میں پیشاب کے مقام سے سب نکلتی ہے۔ سوزاک۔  
 گنگہ۔ رگن۔ ۱۰۔ مذمہ گناہ کا تخفیف۔ جرم۔ خطا۔ قصور۔ جمع۔  
 گنگا۔  
 گنگہ گارہ ہوجانا۔ ۱۶۔ محاورہ اپنی بن جانا۔ ۲۰۔ تصور وار ہونا۔  
 ملزم ٹھہرنا۔  
 گنگی (Gungeal) رگن۔ گنی۔ ۱۰۔ مذمہ سونے کا ایک سکہ جو  
 انیس شلنگ کا ہوتا ہے۔  
 گنگی بونی لیمیا شور بار بوٹیاں گنی ہوئیں اور مایا ہوا شور با۔ ۱۰۔ فعل  
 صرف گزارنے کے قابل۔ بقدر ضرورت۔ بہت کچھ بچان کر۔ نہایت کفایت  
 اور شعاری۔ گنجوسی۔  
 گنگی۔ رگن۔ گنی۔ ۵۱۔ صف ہنر مند۔ کامل۔ خدار سیدہ (۳)، لائق  
 فائق (۴)، سانپ کا منتر جاننے والا (۵)، سبانا۔ جاوڈ لٹونا  
 کرنے والا۔  
 گنگیا۔ رگن۔ گنا۔ ۵۱۔ مذمہ مضروب فیہ جس میں ضرب دیں (۲)، بڑھی کا تیرا  
 ٹیڑھی جو کوسیدھا کرنے والا۔  
 گنگیش۔ رگن۔ گیش۔ ۱۰۔ مذمہ شوخی اور پارہی کا بیٹا۔ جسے ہندو  
 دانائی اور مشکل کشائی کا دیوتا مانتے ہیں۔  
 گنگیش چوتھ۔ ۵۶۔ مٹا ہونے کا ایک بہوار۔

## گ - و

گو۔ ۵۶۔ ۱۔ مذمہ گوہ غلاظت۔ فضلہ۔ میلا۔ برادر۔ نجاست۔  
 گو اچھالنا۔ ۱۶۔ محاورہ بڑی بات کو شہرت دینا۔ بدنام کرنا۔  
 گو اٹھاتے پھرنے۔ ۱۶۔ محاورہ اسو والی بنے پھرنے۔ مجوزانہ حرکتیں کرنے  
 پھرنے۔ دیوانہ وار پھرنے۔ پاگل ہوجانا۔  
 گو سے کھانا کرنا۔ از حد ذلیل و رسوا کرنا۔ بے حد نفرت گئے قابل سمجھنا۔  
 گورہ کراہت کی نظر سے دیکھنا۔  
 گو کا لاکر اصریر اٹھانا۔ ۱۶۔ محاورہ بڑی سر پر لینا۔  
 گو کا لاکر۔ ۱۱۔ مذمہ کہ بڑا جو فضلہ میں پیدا ہوتا ہے۔  
 گو کا لاکر گوہی میں خوش رہتا ہے۔ ۱۶۔ فعل جو شخص جیسی صحبت میں پلا  
 ہوتا ہے ایسی ہی صحبت اس کو بھی معلوم ہوتی ہے۔  
 گو کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ میلا کرنا۔ یا کھنا۔  
 گو کھانا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ جھک مارنا جھوٹ بولنا۔ بہودہ کہنا۔  
 گو میں ڈھیلا ڈالیں نہ چھینٹیں پڑیں۔ گو میں ڈھیلا پھینکے  
 گا۔ سو چھینٹے کھانے گا۔ شریر یا کھینے آدمی سے اچھے نہ ذلت  
 اٹھائے گا۔  
 گو میں کوڑھی کرے تو دانتوں سے اٹھائے۔ ۱۶۔ مثل ایسا کجوس جو نہایت  
 سہر کی جی پرواہ نہیں کرتا۔  
 گو نہ کھا۔ ۱۶۔ محاورہ ۱۔ جھک نہ مار۔ کجوس نہ کر۔ بک بک نہ کر (۲)، جھوٹ

گوہ بحالیہ میں واقع ہے۔  
 گنگنا۔ رگن۔ گنا۔ ۵۶۔ مص لکھنی کرنا۔ شمار کرنا۔ جانچنا۔ اندازہ کرنا۔  
 گنگنا۔ رگن۔ گنا۔ ۵۶۔ مص لکھنی کرنا۔  
 گنوار۔ رگن۔ گوار۔ ۵۶۔ مذمہ گواروں کا پہنے والا آدمی۔ دیہاتی (۲)، کسان۔  
 زمیندار (۳)، نادان (۴)، آن بڑھ۔ جاہل۔ غیر جذب۔  
 گنوار سن ۱۶۔ صف ۱۔ بے سلیکی۔ بد ہنسی۔ بھونپی۔  
 گنوار کا لکھ۔ ۱۶۔ مذمہ آہستان کی بڑی موٹی لاکھی (۲)، ناشائستہ بے تمیز (۳)،  
 بد اخلاق سخی خلیق۔  
 گنوار کا کالسا لور سے پالسا۔ ۱۶۔ مثل ۱۔ محق کا مذاق نقصان  
 دیتا ہے۔  
 گنوار گنوار سے بھیل دے۔ ۱۶۔ مثل ۱۔ بے وقوف آدمی حسرت  
 کر کے نقصان اٹھاتا ہے۔  
 گنوار۔ رگن۔ گوار۔ ۵۶۔ صفت گنواروں کا سا۔ بد نما۔ بھدا  
 گنوار۔ رگن۔ گوار۔ ۵۶۔ صفت گنواروں کا سا۔ بد نما۔ بھدا  
 بد زب۔  
 گنوار۔ رگن۔ گوار۔ ۵۶۔ صفت گنوار کی طرح (۲)، صفت  
 بد نما۔ بھدی۔  
 گنوار سی بائیں۔ ۱۶۔ مٹا ہونے کی سی باتیں۔  
 گنوار۔ رگن۔ گوار۔ ۵۶۔ صفت ضائع کرنا۔ برباد کرنا۔ کھونا۔  
 گنوار۔ رگن۔ گوار۔ ۵۶۔ صفت شمار کرنا۔  
 گنواریا۔ (Gonorrhoea) رگن۔ گوار۔ ۱۰۔ مذمہ جنسی





گوٹا - رگوٹا، ۱۱-۱۔ نام کناری چاندی یا سونے کے تاروں کا ہفتہ۔  
 جلی لیس۔  
 گوٹا کناری - ۱۱۔ مٹا، چاندی سونے کی تاروں کی لیس جو ریشم کے  
 بانے کی بنی جاتی ہے۔  
 گوٹوچ - ۱۶۔ مٹا، آق، اسرار پوشیدہ بات۔  
 گوچر - گوچر، ۱۶-۱۔ مذم، برصغیر کی ایک قدیم زمیندار قوم۔  
 گوچرا - گوچ، ۱۶-۱۔ مذم، گہیوں اور جو ملا ہوا ناچ۔  
 گوچری - گوچری، ۱۶-۱۔ مذم، سری، گچ، تری، ۱۵-۱۶۔ مٹا، گوچر کی تائیت۔  
 گوچر قوم کی عورت۔  
 گوچھا - گوچھا، ۱۶-۱۔ مذم، عجیب، کیسہ، پاکٹ، ۱۶، ایک قسم کا چکوان سبوتا  
 ۱۶، ایک قسم کی خار دار گھاس، زم، غصیہ، چٹھا ہوا۔  
 گوچھے کا گھاڑا رانی جلنے یا راؤ - ۱۶۔ مٹل، گھر کی تکلیفیں کچھ گھر  
 والے ہی جانتے ہیں۔  
 گوچنا - گوچنا، ۱۶-۱۔ مذم، نا، گوچ، ۱۶-۱۔ مٹا، کسی چیز کا ہوا کے رخ اس  
 طرح ہاتھوں پر لینا کر زمین پر گرنے نہ پائے۔  
 گوچنی - گوچ، ۱۶-۱۔ مٹا، گہیوں اور پتے ملا ہوا غلہ۔  
 گوچی - ۱۶-۱۔ مٹا، آغوش، پہلو، کنار۔  
 گوچھانا - ۱۶-۱۔ مذم، متبہ، زنا، لے، پاک بنا نا۔  
 گوچھنا - ۱۶-۱۔ مذم، احاطہ عورتوں کی ریشم، گھون کے طور پر دوسری عورتیں  
 حاملہ کی گود میں سات قسم کے میوے سے اگاسات قسم کی ترکاریاں رکھتی ہیں۔  
 گوچھری - ۱۱۔ مٹا، اپنے والی صاحب اولاد۔  
 گوچھری رہے - ۱۶-۱۔ مذم، گود میں ہر وقت بچہ رہے۔ اولاد زندہ  
 سلامت رہے۔  
 گوچھار کے کوسنا - ۱۶-۱۔ مذم، ہاتھ پھیلا کے یا دامن پھیلا کے  
 کسی کے لیے بد دعا کرنا۔  
 گوچھارنا - گوچھیلانا، دامن پھیلانا، مانگنا۔ سوال کرنا۔  
 گوچھینا - ۱۶-۱۔ مذم، ایسا بچہ کسی گود میں ڈالنا۔  
 گوچکا - ۱۶-۱۔ مذم، دودھ پیتا بچہ، شیر خوار، ۱۵-۱۶۔ مٹا، بچہ جو گود میں ہو۔  
 گوچکا پالا - ۱۶-۱۔ مذم، بہت پیارا۔  
 گوچھلانا - ۱۶-۱۔ مذم، بچے کو گود میں رکھ کر بہلانا، گود میں پالنا، پرورش کرنا۔  
 بچہ کو دودھ پلانا۔  
 گوچھلایا گود میں نہیں رہتا - ۱۶-۱۔ مٹل، انسان ہمیشہ کیساں اور ایک  
 حال میں نہیں رہتا۔  
 گوچھلنا - ۱۶-۱۔ مذم، متبہ، زنا، لے، پاک بنا نا۔  
 گوچھینا - ۱۶-۱۔ مذم، گود میں دھندلور، ۱۶-۱۔ مٹل، چیز پلاس پڑی ہے اور تلاش  
 کسی اور جگہ کی جاتی ہے۔  
 گوچھین لینا - ۱۶-۱۔ مذم، گود میں لینا، آغوش میں لینا، دونوں  
 زانوؤں پر بٹھانا۔  
 گودا - گوچ، ۱۶-۱۔ مذم، مغز، بھیجا، ۱۶، گری، ۱۶، اندر دنی حصہ، دم، خلاصہ۔

کسی چیز کا بہترین حصہ، ۱۵، بڑی کے اندر کی نرم چیز، مغز، سٹخوان۔  
 گودا - گودا، ۱۶-۱۔ مذم، ہڈی سے مغز یا ہرنکانا۔  
 گودے دار - ۱۶-۱۔ مذم، پر مغز، ۱۶، گری دار۔  
 گودام گداام - (Godown) کا مورو - گو - دام، گ۔ دام،  
 ۱۶-۱۔ مذم، ذخیرہ، ڈھیر، انبار۔  
 گودڑ - گوڑ، ۱۶-۱۔ مذم، بھٹا، ٹاننا، اور ناکارہ پڑا، ۱۶، پرائی روٹی جو لاف  
 وغیرہ سے نکالی جائے، ۱۶، آنکھوں کا میل۔  
 گودڑ نسل - ۱۶-۱۔ مٹا، چھوٹا اور بد طریقہ عورت۔  
 گودڑ کا لال (لعل) - ۱۶-۱۔ مذم، وہ شریف اور نجیب شخص جو غلطی میں مبتلا  
 ہو، زبھورت آدمی جھٹھے پڑانے لباس میں، ۱۶، وہ صاحب کمال جس کا حال  
 معلوم نہ ہو، چھپا رستم۔  
 گودڑ کا سٹھنا - ۱۶-۱۔ مذم، ہاتھ پانے کپڑے میں بیوند لگانا۔  
 گودڑ میں سے گندوڑا نکلتا - ۱۶-۱۔ مذم، جاہلوں کے ہاں عالم کا پیدا  
 ہونا، بڑوں میں اچھا نکلتا۔  
 گودنا - گوڈ، ۱۶-۱۔ مٹا، بدن میں سوئی سے سُرمہ یا نیل بھرنا، ۱۶،  
 آم یا آملہ یا کسی اور پھل میں سوئی یا کسی اور شے سے سوراخ کرنا۔  
 گوڈوہ - ۱۶-۱۔ مذم، کیلن کالوڑا تھا۔  
 گوڈی - گوڈی، ۱۶-۱۔ مذم، آغوش، کنار، جمبولی، ۱۶، پہلو، کوکھ، ۱۶،  
 دامن، آنکھ، ۱۶، ہند گاہ کا ایک حصہ۔  
 گوڈی پھیلا پھیلا کر دعا دینا - ۱۶-۱۔ مذم، دل سے دعا دینا۔  
 گوڈی میں بیٹھنے کے واسطی نوچے - ۱۶-۱۔ مٹل، بہت بے ادب ہے جس  
 سے نفع حاصل کرے کسی کو تو نہیں کرے۔  
 گوڈا - گوڈا، ۱۶-۱۔ مذم، گھٹنا، ٹانوا۔  
 گور - ۱۶-۱۔ مٹا، ایک ہندوستانی راگنی کا نام، ۱۶، گوری، پارہی۔  
 ۱۶، ہندوؤں کی ایک رسم۔  
 گور - ۱۶-۱۔ مٹا، قبر، تربت، مزار۔  
 گور بنانا - ۱۶-۱۔ مذم، قہر کھودنا۔  
 گور پر چونا پھیرنا - ۱۶-۱۔ مذم، مرے ہوئے کی یاد تازہ کرنا۔  
 نام رو پیش کرنا۔  
 گور پر رونا - ۱۶-۱۔ مذم، قہر پر بیٹھ کر رونا، ۱۶، کسی کے اچھے صفات یاد  
 کر کے رونا۔  
 گور رسمت - ۱۶-۱۔ مٹا، صیف، قبر کی پریش کر کے والے۔  
 گور پر گور نہیں ہوتی - ۱۶-۱۔ مٹل، ایک شخص کے قابض ہوتے ہوئے  
 دوسرے کو دخل نہیں ہوتا۔  
 گور جھانک آنا - ۱۶-۱۔ مذم، بیمار کا مرتے مرتے نوحہ جانا۔  
 گور خانہ - ۱۶-۱۔ مذم، مقبرہ، قبر، خار، گرگھارا، ۱۶، ایسا مکان جس میں  
 کھڑکی روشن شان نہ ہو۔  
 گور خضر - ۱۶-۱۔ مذم، جنگلی گدا۔  
 گورستان - ۱۶-۱۔ مذم، قبرستان، مڑوں کے دفن ہونے  
 کی جگہ۔

گورنرس (Governers) رگ۔ فدریس، اگ۔ مٹ (آستانی قانون  
 اناٹین۔ روس کے گھروں میں جمہوریت چھوٹی کی نکلان۔  
 گورنر (Governor) رگ۔ ڈر۔ ٹر، اگ۔ مذ۔ حاکم اعلیٰ۔  
 نانکم اعلیٰ، صوبے کا حاکم اعلیٰ (۲)، کالج یا سکول کا انفر اعلیٰ یا اس  
 کی مجلس انتظامیہ کا رکن (۲) وہ پرنس جس کے ذریعے مشین کو تکیس  
 پہنچتی ہے۔  
 گورنر جنرل (Governor General) صوبہ دار  
 اعلیٰ۔ ڈائری۔  
 گورنری رگ۔ ڈر۔ ن۔ ری (۱۔ ا۔ مٹ) گورنر کا عہدہ (۲)، گورنر  
 کی حکومت۔  
 گورنمنٹ (Government) رگ۔ ف۔ ن۔ مٹ (۱۔ اگ۔ مٹ)  
 حکومت حکمرانی سیاست (۲) اختیار (۳) سرکار۔  
 گورنمنٹ ہاؤس (۱۔ اگ۔ ۱۔ مذ) گورنر کی سرکاری اقامت گاہ  
 گورنر (گورنر) (۱۔ ۵۱۔ ۱۔ مذ) گائے بھینس اور دوسرے سینک  
 والے مویشی۔  
 گورنر (۱۔ ۵۱۔ ص) دیکھ کر کے مرکبات۔  
 گوری رگ۔ بری (۱۔ ۵۱۔ مٹ) ہما دیو کی استری (۲) چھوٹی پتی  
 باہرہ۔ دو فسیہ (۳) ہاگوس رنگ کی دوسری رنگی کانام (۵۱۔ ص) (۱۔)  
 گوراکھ تھنیت۔ سفید چٹی خوبصورت عورت۔  
 گوری کا جوہن پٹلیوں میں جانا (۱۱۔ محاورہ) اس کے سن کی بے قدری  
 ہونا کسی چوکی خول کا بے فائدہ ضائع جانا۔  
 گوریا۔ گوریا۔ رگ۔ بر۔ یا (۱۱۔ ۵۱۔ مٹ) چڑیا (۲) مٹی کا  
 چھوٹا حقہ۔  
 گوریل (Gorilla) رگ۔ بری (۱۱۔ ۵۱۔ مٹ) ہاگ۔ بن مانس۔  
 گوریل جنگ (۱۱۔ اگ۔ ۱۔ مٹ) چھاپے مار سپاہیوں کی لڑائی۔  
 گوریل سپاہی (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) غیر منظم مسلح قوت کا ایک رکن چھاپے مار  
 گور (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) بنگال کا درمیانی حصہ (۲) گورڈ کا باشندہ (۳) برہمن کا ایک اعلیٰ  
 فرقہ (۴) بنگال کے قدیم دار الحکومت کا نام۔  
 گورڈ (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) بافل۔ قدم تھا پٹیل ٹانگ (۳) گھنٹہ دم، گڑاق، (۵) جاڈو  
 دق (۶) زمین کھودنا۔ کھیت یا تھالے کی مٹی کھود کر پٹینا۔  
 گورڈ پڑنا۔ گورڈ لگنا۔ (۱۱۔ محاورہ) ہاؤں پڑنا۔ خوشامد کرنا۔  
 گورڈینا۔ گورڈ کے رکھ دینا۔ (۱۱۔ محاورہ) خراب کر دینا۔ پڑھا لکھا  
 بھلا دینا۔  
 گورڈا۔ رگ۔ ٹر (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) گورڈا۔ گھٹنا۔  
 گورڈے بسا جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) پاؤں پھیلانا دینا (۲) ہمت ہار دینا  
 حوصلہ چھوڑ دینا۔  
 گورڈے ٹوٹ جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) گھٹنے ٹوٹ جانا (۲) چلتے چلتے ہانگیں تھک  
 جانا چلنے کی ہمت نہ رہنا (۳) نا امید ہونا۔  
 گورڈنا۔ رگ۔ ٹر (۱۱۔ ۵۱۔ مٹ) ہاں چلانا۔ زمین کھودنا (۲) اناج صاف کر کے  
 جس سے نکالنا (۳) خراب کرنا۔

گور سے پیٹھ نہ لگتا۔ (۱۱۔ محاورہ) مرنے کے بعد بھی چین نہ ملنا۔  
 گورغریاں۔ زمین کا وہ کڑا جہاں مسافروں کو دفن کرتے ہیں۔ بیکسون  
 کا گورستان غریبوں کی ٹوٹی چھوٹی قبروں۔  
 گورگامتہ جھانکنا بھرتا، (۱۱۔ محاورہ) کسی ہلک بیماری سے نجات  
 پانا۔ (۲) سرفروزی حاصل کرنا۔  
 گورگھن کرنا۔ (۱۱۔ ۱۔ مذ) تجزیہ و تھن کرنا۔  
 گورگھن (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) فر کھودنے والا۔ وہ شخص جس کا پیشہ قبر کھودنے اور مردہ  
 دفن کرنے کا ہو۔ (۲) بنگال کا مصدر سے بمعنی کھودنا۔  
 گورگھن سے جا لگنا (۱۱۔ محاورہ) مرنے کو تیار ہونا۔ قریب مرگ  
 ہونا (۲) نہایت بوڑھا ہونا۔  
 گورگی کو دینا پلٹنا۔ (۱۱۔ محاورہ) کمال ایذا اور تکلیف میں پرورش پانا۔  
 گور کے مردے اٹھانا۔ (۱۱۔ محاورہ) پھیلے پاؤں کو یاد کرنا (۲) پڑانے  
 چھکڑے نکالنا۔  
 گور کے مردے سے پدتر ہونا۔ (۱۱۔ محاورہ) کمال لاغر اور ضعیف  
 ہونا۔  
 گورگال۔ ۶۔ ص) عیش و عشرت کرنے والا (۲) تیمور کا لقب۔  
 گورگھٹھا۔ (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) تجزیہ و تھن۔  
 گورگھٹھا کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) مردے کی تجزیہ و تھن کرنا (۲) نیست و  
 نابود کرنا۔  
 گور میں انکار سے بھرتا۔ (۱۱۔ محاورہ) گنہ گار ہونا۔ بدی کرنا۔  
 غراب کمانا۔  
 گور میں پاؤں لٹکانے بیٹھے ہیں۔ (۱۱۔ مٹ) چند روز کے ہمان  
 بین نہایت بوڑھے ہیں۔ مرنے سے قریب ہیں۔  
 گور میں دھواں اٹھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) غراب قبر ہونا۔ قبر میں  
 سلگنا۔ جلنا۔  
 گور میں کھڑے ٹپس۔ لاش میں کھڑے ٹپس (درد دعا)۔  
 گور میں لات مار کر کھڑا ہونا۔ (۱۱۔ محاورہ) سخت بیماری  
 سے شفا پانا۔  
 گورزا۔ (۱۱۔ ۵۱۔ ص) چٹا۔ سفید رنگ والا (۲) خوبصورت۔ حسین۔  
 (۳) یورپین سپاہی۔ فرنگی۔  
 گورزا۔ (۱۱۔ مذ) رنگ کی سفیدی۔ صباوت۔  
 گورزا چٹا۔ (۱۱۔ ص) خوبصورت۔ حسین۔ دھیل۔  
 گورزا سپاہی۔ گورڈوں کے استعمال کا مضبوط (۲) فرنگی سپاہیوں کے پہننے  
 کا بہت مضبوط ٹوٹ۔  
 گورڈا (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) سرخ و سفید (ق)۔  
 گورڈا گورڈا۔ (۱۱۔ ص) بہت خوبصورت۔ حسین۔ صبح۔  
 گورڈا (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) چڑیا کا کر۔ گورڈا کا کر۔  
 گورڈا۔ رگ۔ ٹر (۱۱۔ ۵۱۔ مذ) نیپال کا پیشہ ورسا سپاہی۔ نیپالی۔  
 گورڈا دھندا۔ رگ۔ رکھ۔ دھن۔ (۱۱۔ ۵۱۔ ۵۱۔ مذ) ایک پیچیدہ فعل جس کا  
 کھول مشکل ہوتا ہے (۲) پیچیدہ معاطہ۔

گوٹھی (گورٹھی) ۱۵۱۔ مٹھ (مٹھ) فائدہ - نفع - وہ مال جو محنت و مشقت کے نتیجہ حاصل ہو ۱۲۵ چوری کرنا - لے جانا (۳، ۶) گڑھی شراب - (۴) ایک راکھی -  
 گوٹھی کرنا ۱۶۔ محاورہ کم ماننا ۲۲، فائدہ اٹھانا -  
 گوٹھی ہاتھ سے جانا - ۱۶۔ محاورہ کمائی نہ ہونا - کچھ ہاتھ نہ لگنا -  
 (۲) شکار جانا رہنا -  
 گوٹھیت - رگ (ٹھیت) ۶۱۔ مذم کا ڈول کا چوکیدار ۲۲، بخر -  
 گوز ۶۱۔ ۱۔ مذم پاد - یرح - وہ گندی ہوا جو مقعد سے با آواز خارج ہو -  
 گوزاڑانا، گوز مارنا ۱۶۔ محاورہ پاد مارنا - بادی پھیلانا -  
 گوزہ، گوز و صنوبر و صنو - ۱۱۔ مثل، ایسے سکار کی نسبت کہتے ہیں -  
 گوز شتر (۶) نصف (۱) بے بنیاد - بے وقعت - یاد ہوائی - بیہودہ -  
 سے اثر - بے تاثیر -  
 گوز شتر زمین کا نہ آسمان کا - ۱۶۔ مثل ایسے جس سے معنی بات کی نسبت کہتے ہیں -  
 گوز شتر سمجھنا - ۱۶۔ محاورہ خاطر میں نہ لانا - بیہودہ اور لغو خیال کرنا  
 بے وقت سمجھنا -  
 گوزن - (گوزن) ۱۶۔ مٹھ پہاڑی یا جھگی گائے - بارہ سنگھا - سانبھر -  
 گو سالہ - (گو سالہ) ۱۶۔ مذم گائے کا ایک سالہ بچہ - بچھڑا - جمع - گو سالہ ہا -  
 گو سالہ فلک - ۱۶۔ مذم برج ثور -  
 گو سیندھ کو سفندھ (گوش) پندہ گوش - سفندھ ۱۶۔ مٹھ بھٹیڑ بھٹیڑی -  
 پندہ - مینڈھا - بکری بکیرا - جمع - گو سیندھال - گو سفندھال -  
 گوش ۶۱۔ ۱۔ مذم کان - جمع - گوش ہا -  
 گوش براوازہ ہونا - ۱۶۔ نصف کسی کی بات کے سننے کا منتظر ہونا کسی گیت فہرے آنے کی امید رکھنا -  
 گوش بریدہ ۱۶۔ نصف کن گنا - جس کا کان کٹا ہو -  
 گوش بخر یاد - ۱۶۔ نصف مزیاؤں سننے پر متوجہ -  
 گوش دل سے سننا - ۱۶۔ محاورہ ذوق و شوق سے سننا - بڑی توجہ سے سننا -  
 گوش زور ۱۶۔ وہ بات جو سنی جائے -  
 گوش شنوا - ۱۶۔ مذم سننے والا کان - جو سن کر کہا جائے اور عبرت حاصل کرے -  
 گوش گزار کرنا - ۱۶۔ محاورہ سننا - اطلاع دینا - آگاہ کرنا -  
 گوش مال - ۱۶۔ مٹھ تلبیہ تادیب - سزا -  
 گوش مالی (گوشمالی) دینا - ۱۶۔ محاورہ کان اٹھینا - تلبیہ کرنا -  
 گوشوارہ ۱۶۔ مذم کان کا بالادیزہ ۲۲، بہت بڑا موتی ۲۲، خلاصہ  
 حساب میں ان جوڑوں میں کسی نقشے یا درجہ کی پیشانی -  
 گوش ہوش ۱۶۔ ۱۔ مذم ہشیاری -

گوکوش ہوش سے سننا - ۱۶۔ محاورہ غور سے سننا - نصیحت کھڑنا -  
 گوکشت ۱۶۔ ۱۔ مذم لحم - ماس -  
 گوکشت پوست ۱۶۔ ۱۔ مذم تمام اعضاء -  
 گوکشت خرد دندان سگت ۱۶۔ مثل خراب چیز خراب جگہ میں ہوتی ہے  
 داخلی معنی گڑھے کا گوشت کتے کے دانتوں کے لیے ہے، اور بڑے شخصوں کے  
 آپس میں لڑنے کے موت پر کہا جاتا ہے -  
 گوکشت خوار ۱۶۔ نصف گوشت کھانے والا -  
 گوکشت سے ناخن جدا کرنا - ۱۶۔ محاورہ اپنوں کو چھڑانا - گہرے  
 دوستوں میں تفرقہ ڈالنا -  
 گوکشت سے ناخن جدا ہونا - ۱۶۔ محاورہ اپنوں کا چھوٹ جانا کوئی ناممکن  
 اور دشوار کام ہونا -  
 گوکشت کا لوتھڑا - ۱۶۔ مذم گوشت کا ٹکڑا ۲۲، بالکل نکاح سے کچھ نہ ہوسکے -  
 ابا ج - سست - بوقوف -  
 گوکشت میں بھرا ہونا - ۱۶۔ محاورہ بھر گوشت ہونا - فرہ ہونا -  
 گوکشت ناخنوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا - ۱۶۔ مثل انسان رشتہ دار کی  
 اور عزیزوں سے جدا نہیں ہوسکتا -  
 گوشہ (گوشہ) ۱۶۔ مذم گونہ ۲۲، خلوت - تنہائی - کنارہ - تجلیہ (۳) طرف  
 جانب رہ، کمان کا سرا -  
 گوشہ تنہائی - ۱۶۔ ۱۔ مٹھ تنہائی کی جگہ - خلوت -  
 گوشہ چشم - آنکھ کا گونہ -  
 گوشہ دار ۱۶۔ مذم آنکھ کو رکھنے والا -  
 گوشہ دل میں جگہ دنیا - ۱۶۔ محاورہ یاد رکھنا -  
 گوشہ زنجیر - ۱۶۔ مذم زنجیر کا حلقہ -  
 گوشہ معافیت - ۱۶۔ مذم وہ جگہ جہاں کوئی جھگڑا بکھیڑا نہ ہو -  
 امین کی جگہ -  
 گوشہ کماں - ۱۶۔ مذم کمان کی لوک جس میں تانتا اٹکی  
 ہوتی ہے -  
 گوشہ گیر ہونا - ۱۶۔ محاورہ گوشہ نشین ہونا - دنیا سے کنارہ  
 کش ہونا -  
 گوشہ میں بیٹھنا - ۱۶۔ محاورہ محکم ہونا - دنیا کے بکھیڑوں  
 سے الگ ہوجانا -  
 گوشہ نشین - گوشہ گیرین - ۱۶۔ نصف تنہائی میں رہنے والا - سب سے  
 الگ رہنے والا - تارک الدنیا -  
 گوشہ نشینی - ۱۶۔ مٹھ عزلت - تنہائی - علیحدگی -  
 گوشہ ل - رُو - نقل ۱۶۔ ۱۔ مذم گوشہ جی کی پیدائش کا مقام -  
 گوشہ لکھا - رُو - لکھا ۱۶۔ ۱۔ مذم گائے کا چھڑا - اتمق - بوقوف -  
 گوشہ ل - رُو - لکھا ۱۶۔ ۱۔ مذم ایک کاٹا جو سوس گوشہ ہوتا ہے - بھگڑا -  
 گوشہ لکھا کو پودا یا میل (۲) لوسے کے پتے ہونے کا نٹے جو دشمن کی راہ  
 میں ڈال دیتے ہیں (۳) دہ، کان کا ایک زیور (۵) مقدیش کا موٹرا  
 ہوا کھڑا -

گول کا سڑک ٹوکا (دھڑ) ۱۰۔ مذکر دلوں کا پیر۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ مذکر گندھک۔ بریت۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ مذکر ایک درخت کا خوشبودار گوند۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ مذکر کرکٹ کی گیند پھینکنے کا ایک طریقہ۔

گول (Goal) (گول) ۱۔ مذکر ہاکی۔ پولو۔ فٹ بال اور بعض دوسرے مغربی کھیلوں میں دونشاؤں کے بیچ کی جگہ جس میں ہاکی وغیرہ کی گیند کھلتے ہیں (۳)، ایک بانڈا جیت۔  
 گول (۵۱۔ صفت) مدور۔ بچکر دار (۲)، وہ بات جو بوجھتی سمجھ میں نہ آئے بشکوک اور پیکار بات (۳)، کرہ۔ دائرہ۔  
 گول بات (۱۶۔ صفت) مبہم بات۔ جو ٹھیک طرح سمجھ میں نہ آئے بیچ دار بات۔

گول لائی (گول لائی) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولڈ (Gold) (گولڈ) ۱۔ مذکر سونا۔ زر طلا (۲)، ریشم۔ پیسہ۔ مال دولت (۳)، خوبصورت۔ شاندار۔ قیمتی۔  
 گولڈن (Golden) (گولڈن) ۱۔ مذکر (۱) گولڈن (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔

گول بدن (۱۶۔ مذکر) جسم جو مٹاپے کی وجہ سے گول ہو گیا ہو۔  
 گول شاخ (۱۶۔ مذکر) بھری ہوئی شاخ جو کسی جانب دلی ہوئی نہ ہو۔  
 گول گیا (۱۶۔ مذکر) گول مٹول۔ موٹا تازہ (۲)، ایک قسم کی مٹھائی۔  
 گول کڑا (۱۶۔ مذکر) گولین کا کل پرچ۔  
 گول کال (۱۶۔ صفت) مشتبہ۔ مبہم۔ مشکوک (۲)، مدور۔ گول۔  
 گول گول کہنا (۱۶۔ محاورہ) صاف صاف نہ کہنا۔ اس طرح بیان کرنا کہ بوجھتی سمجھ میں نہ آئے۔

گولہ (گولہ) ۱۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔  
 گولہ (گولہ) ۱۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔  
 گولہ (گولہ) ۱۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔

گول گول (گول گول) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گول گول (گول گول) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔

گولہ کا بھیل (۱۶۔ مذکر) نایاب کیلیا۔ ناپید۔  
 گولہ کا پیٹ پھڑوانا (۱۶۔ محاورہ) بھید کھلوانا۔ پوشیدہ یا دبی ہوئی بات کو ظاہر کرنا۔  
 گولہ کا کیاب (۱۶۔ مذکر) ایک قسم کا کیاب جو گوشت کو جوش دے کر اور پودینہ اور سرخ مرچ بھر کر پکا ہے۔

گولہ کھرا (۱۶۔ مذکر) کھلا۔ جلا جلا (۲)، سازش (۳)، عین۔ عیان۔  
 گولہ مال کرنا (۱۶۔ محاورہ) گولہ کرنا، عین کرنا عیان کرنا (۳)، غائب کرنا (۴)، لہنا (۵)، اٹسٹ کرنا۔ سازش کرنا۔  
 گولہ مرچ (۱۶۔ صفت) کالی مرچ۔  
 گولہ منہ (۱۶۔ مذکر) آفتابی چہرہ۔ چوٹا منہ۔  
 گولہ مول (۱۶۔ مذکر) مدور۔ نہایت گول (۲)، موٹا تازہ اور ٹھنڈا آدی (۳)، موٹا بے وقت۔

گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔

گولہ مول جواب (۱۶۔ مذکر) جو عیدہ جواب۔ مبہم جواب۔  
 گولہ بھورہ (۱۶۔ صفت) خاموش۔ بھورہ۔ جواب نہ دینا۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ مذکر (۱) گولہ (۲) صفت) اطلالی۔ سہری۔ سونے کا (۲)، چمکدار۔ قیمتی۔ عمدہ (۳)، زرخیز۔

گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔

گولہ (گولہ) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ (گولہ) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔

گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔

گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔

گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔

گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔

گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔  
 گولہ کرنا (گولہ کرنا) ۱۰۔ صفت) دور۔ بچکر۔



گوندہ ملار۔ رگوندہ۔ م۔ لار۔ ۵۱۔ ۱۔ مٹا ایک قسم کی ہندوستانی راگنی۔  
 گونڈا۔ رگول۔ ٹا۔ ۵۲۔ ۱۔ مذہباز کا پشتیر۔  
 گونگا۔ رگول۔ گا۔ ۵۱۔ ۱۔ مذم وہ شخص جو بول نہ سکے۔ گنگا، چنپ  
 پاب خاموش۔  
 گونے کا اشارہ گونگا ہی سمجھے۔ ۱۶۔ شل ۲، جنس اپنی ہی جنس سے  
 میل کھاتی ہے۔  
 گونے کا خواب یا سپینا۔ ۱۱۔ مذم وہ بات جس سے کوئی دھت ہو کر نہ رہے  
 نہ کہہ سکے، ۲۲۔ بہم بات جس کا سمجھنا مشکل ہو۔  
 گونے کا گڑا۔ وہ لذت جو بیان نہ ہو سکے  
 گونے کا گڑا کھانا۔ ۱۲۔ جمادہ ۲ جب سارہنا کچھ بیان نہ کر سکتا۔  
 گونے کا گڑ نہ کھانا نہ میٹھا۔ ۱۱۔ شل ۱ بیان نہ کر سکنے کے قابل۔  
 ناقابل اظہار۔  
 گونے کی منٹھائی۔ ۱۶۔ مٹا نہایت ہی لطیف اور مزیدار چیز۔ ایسا لطف  
 بر جو بیان سے باہر ہو۔  
 گونے نے سپینا دیکھا من ہی میں پچھتائے۔ ۱۶۔ شل کسی بات کے  
 بیان کرنے کو چاہے مگر بیان نہ کر سکے۔  
 گونئی۔ رگول۔ گی۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا گونگا کی تائیت۔ وہ عورت جو  
 گونہ بول نہ سکے۔  
 گونہ بھول۔ رگول۔ نم۔ مٹا ۱۔ ۵۶۔ مذم منٹھا کر چپ، بولہانے والا۔  
 گونہ۔ رگول۔ مذ۔ ۶۱۔ ۱۔ صفت اسلوب، وضع، کسی قدر۔  
 گونہ گونہ ۱۔ صفت طرح طرح کا۔ اذاع و اقسام کا۔  
 گوہنہار۔ رگول۔ ہار۔ ۵۶۔ ۱۔ مذم مٹا وہ عورتیں جو دلہن کے ساتھ  
 بیٹے سے سسرال جاتی ہیں ۲، وہ لوگ جو دلہا کے ساتھ گونے کے  
 لیے جلتے ہیں۔  
 گونئی۔ اق۔ ۱۔ مٹا بانی یا غلہ رکھنے کا جڑا مٹی کا برتن۔  
 گونئی۔ رگ۔ مذ۔ ۶۱۔ ۱۔ مٹا شیر کے رہنے کی جگہ۔ خار۔ کھو۔  
 گونیا۔ رگول۔ یا، ۱۔ ۱۔ مٹا ایک شگفتہ شکل کا اونار جس سے عمارت  
 یا دیوار کی بنی اور راستی دریافت کتے ہیں۔  
 گوہ۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا ایک رنگینے والا جانور جو پھسکل کے مشابہ ہوتا  
 ہے۔ سوسما۔  
 گوہ۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا دیکھنے کو اس کے مرکب بھی وہاں دیکھیے،  
 گوہا جی جی۔ رگ۔ ہا۔ جی، ۱۔ ۱۔ مٹا غلاقت۔ نجاست۔  
 پلیدی ۲، بک۔ بک۔ جھک۔ جھک دگالی۔ بدہندہ ۳، جھکڑا  
 ۴، رسوائی ۵، بخت۔ بھگوار  
 گوہار۔ رگول۔ ہار۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا فادیلہ۔ فریاد۔ استغاثہ ۲، غل  
 شور ۳، ایک آدمی کا کسی آدمیوں سے مقابلہ، گالی۔ گلوچ۔  
 ۵، امدادی۔  
 گوہار لڑائی۔ ۱۱۔ جمادہ ۲ ایک آدمی کا بہت سے لوگوں سے لڑائی کرنا۔  
 گوہار لڑی۔ رگول۔ ہار۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت اسٹی۔ مدگار ۲، میت نہ خیز زمین۔  
 گوہان۔ رگول۔ ہان۔ ۵۶۔ ۱۔ مذم گاؤں۔

گونا گونئی۔ رگول۔ ہا۔ جی۔ ۱۔ ۱۔ مٹا ایک قسم کی پھسی جو بک کے نیچے ہوتی ہے۔  
 گوہانی۔ رگول۔ ہا۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا گاؤں کے آس پاس کے کھیت (۲)  
 عمدہ قسم کی زمین۔  
 گوہانی۔ رگول۔ ہا۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا ایک قسم کی پھسی جو گونا گونئی، بیوں سے  
 زندہ کر دینے کا لانا کھانا۔  
 گوہر۔ رگول۔ ہر۔ ۶۱۔ ۱۔ مذم موتی۔ مروارید ۲، جواہر۔ قیمتی پتھر ۳،  
 مادہ۔ اصل نسل۔  
 گوہر آگین۔ ۱۶۔ صفت وہ چیز جس میں موتی جڑے ہوں۔  
 گوہر افشال۔ ۱۶۔ صفت فیض پہنچانے والا ۲، خوش بیان۔  
 گوہر مار۔ ۱۶۔ صفت موتی برسانے والا۔ ابر زبان اور قلم کی صفت  
 میں استعمال ہوتا ہے۔  
 گوہر بندھنا۔ ۱۱۔ جمادہ ۲ موتی میں سوراخ کرنا۔  
 گوہر تاب۔ ۱۱۔ مذم ایک پرہیز جسے عورتیں گرمیوں کے موسم میں پہنتی ہیں اور  
 وہ اس قدر باریک ہوتی ہے کہ سارا جسم نمایاں ہوتا ہے۔  
 گوہر تر۔ ۱۶۔ مذم آسودہ، اچھی باتیں۔  
 گوہر سفتہ۔ ۱۶۔ ۱۔ مذم بندھا ہوا موتی ۲، وہ بات جو شہور ہو۔  
 گوہر سبج۔ ۱۶۔ صفت خوش بیان۔  
 گوہر شب تاب۔ گوہر شب چراغ۔ ۱۶۔ ۱۔ مذم ایک قسم کا نل جو  
 رات کو چراغ کی طرح چمکتا ہے۔  
 گوہر غلطاں۔ ۱۶۔ ۱۔ مذم اعلیٰ قسم کا گوہر۔  
 گوہر فردوس۔ ۱۶۔ ۱۔ مذم موتی جینے والا۔  
 گوہر نگار۔ ۱۶۔ صفت جڑا۔ موتیوں سے جڑا ہوا۔  
 گوہر سی۔ رگول۔ سی۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت جوہری۔ موتی والا ۲، گوہر کی آب و  
 تاب رکھنے والا۔  
 گوہر ہونا۔ رگول۔ ہونا، ۱۔ ۱۔ مذم ایک قسم کا سانپ۔  
 گوہر ہی۔ رگول۔ ہی، ۱۔ ۱۔ صفت آگہ سے تھوڑا ہوا۔ بہت گندہ۔ غلیظ۔  
 گوہر ٹھا۔ رگول۔ ٹھا، ۱۔ ۵۶۔ ۱۔ مذم اچھا کینڈا۔  
 گوہر بندہ۔ رگول۔ ان۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت کہنے والا کہنے والی۔ متجز۔ مہاسوس۔  
 گوہر بندہ۔ رگول۔ انڈا، ۱۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا گاؤں کے پاس کی زمین۔  
 گوئی۔ رگول۔ ہی، ۱۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا ایک ہل میں بیٹے ہوئے دو ذیل ۲، روٹی کی وہ  
 مقدار جو ایک بار انگلیوں میں لٹھی جائے۔  
 گوئے۔ رگول۔ لے، ۱۔ ۶۱۔ ۱۔ مذم کینڈ۔  
 گوئے ہانہ۔ ۶۔ صفت آگینڈ کیلنے والا ۲، وہ ہانہ رگول کی گینڈے کر ہوا  
 میں پھینکتا ہوا پکڑتا ہے۔  
 گوئے سبقت لے جانا۔ ۱۱۔ جمادہ ۲ غالب آنا۔ بڑھ جانا۔  
 گوئیال۔ رگول۔ یال۔ ۱۔ ۵۶۔ ۱۔ مٹا، سہلی۔  
 گوئیٹرا۔ رگول۔ ایس، ۱۔ ۵۶۔ ۱۔ مذم گاؤں کے قوسب کی زمین۔  
 گویا۔ رگول۔ یا، ۱۔ ۶۱۔ صفت بولنے والا خوش گفتار ۲، مانڈ۔ شل۔ جوہر ۳، تسلیم  
 کیا جانا ۴، جویان نام۔  
 گویا۔ رگول۔ ہی، ۱۔ ۵۶۔ ۱۔ مذم گانے والا۔ مطرب۔ مثنی۔





گھاتیں بتانا۔ چالیں بتانا۔ چال بازیوں سکھانا۔  
گھاتے میں۔ ۱۱۔ تابع فعل، غریب کی ہوتی چیز سے زیادہ منافع میں  
منفعت۔

گھاتیو۔ ۱۰۔ صفت، وفا باز، مکار، ہلک۔  
گھاتی۔ (گھاتی، ۵۶۔ صفت، موقع تاکنے والا۔ داؤ گھات رکھنے والا، چال  
باز، خود غرض، مطلبی۔

گھاتیا۔ (گھات، ۵۶۔ صفت، وہ شخص جو کسی کی گھات میں رہے، ۲،  
خود غرض، مطلبی۔

گھاتیں بتانا۔ ۱۷۔ محاورہ، چالیں بتانا۔ چال بازیوں سکھانا۔  
گھات۔ ۵۶۔ ۱۔ مذمذم دیا یا تالاب سے اترنے کا مقام، ۲۔ تلوار کی وہ جگہ جہاں  
سے اس کا تم شروع ہوتا ہے، ۳۔ طرف، جانب۔ سمت، ۴۔ اگلیا کا کریان، ۵۔ ماہ  
راستہ، ۶۔ ناؤ کا گراہ، رع، کھی، ۸۔ وفا۔

گھات اترنا۔ ۱۷۔ محاورہ، گھات کو عبور کرنا۔  
گھات کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ، کھی کرنا۔ دعا کرنا۔ فریب کرنا۔  
گھات کھڑا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ، بہانہ سازی کرنا، دق،  
گھات گھات کا پانی پینا۔ ۱۷۔ محاورہ، جگہ جگہ پر تجربہ حاصل کرنا، جہل مزیدہ  
اور تجربہ کار ہونا۔

گھات لگنا۔ ۱۷۔ محاورہ، کشتی کو کنا سے پر لگانا۔  
گھات مار۔ ۱۷۔ صفت، برہمنی اور راہاری کا معمول نہ دے۔  
گھات مارنا۔ ۱۱۔ صفت، پیل کا معمول نہ دینا۔ اترائی کا معمول

ادا نہ کرنا۔  
گھات مانجھی۔ ۱۷۔ مذمذم وہ طاح جو کشتیوں کے کرائے کا انتظام  
کرتا ہے۔

گھات وال۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت، وہ برہمن جو گھاٹوں پر اشنان کرتا اور  
ٹیکا لگاتا ہے۔

گھاتا۔ (گھاتا، ۵۶۔ ۱۔ مذمذم نقصان۔ خسارہ۔ کمی۔  
گھاتا آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، نقصان ہونا۔

گھاتا اٹھانا۔ ۱۱۔ محاورہ، خسارہ برداشت کرنا۔  
گھاتا بھرنا۔ ۱۱۔ محاورہ، نقصان کی تلافی کرنا۔

گھاتا بڑھنا۔ ۱۷۔ محاورہ، نقصان ہونا۔  
گھاتا دیکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ، خسارہ کا اندیشہ کرنا۔

گھاتا ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ، خسارہ ہونا، نقصان ہونا۔  
گھاتی۔ (گھاتی، ۵۶۔ ۱۔ صفت، دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ  
پہاڑ یا پہاڑیوں کے درمیان خشکی کا قطعہ، ۲۔ پروانہ۔  
راہداری چالان۔

گھاتیا۔ (گھاتی، ۵۶۔ ۱۔ صفت، وہ برہمن جو گھاٹوں پر اشنان کرتا ہے۔  
گھات ڈال۔

گھات۔ (گھات، ۵۶۔ ۱۔ صفت، بہتا، مصیبت۔  
گھاس۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت، گاہ۔ گایا، ۲، چھوس، ۳، چارہ، ۴، دم، ساگ  
پات۔ بھڑی۔

بڑنا۔ رفتی گھٹنا۔ ماند بڑنا، ۳، کسی عضو کا پیدائشی ٹریڈھا پیدا ہونا۔  
گھتی۔ (گھتی، ۵۶۔ ۱۔ صفت، وہ گائے جو چاند گبن کے وقت پیدا ہو اور اس  
کے بدن پر کئی نقصے ہوں، ۲، چھٹے قدر تک لگائے۔

گھوا۔ (گھوا، ۵۶۔ ۱۔ مذمذم جو چنا چٹھا۔  
گھوانہ۔ (گھوانہ، ۵۶۔ ۱۔ مذمذم جہد۔ چنگوڑا۔ ہنڈولا۔ بچوں کے سٹائے  
یا ہلانے کا جھولارہ، ۲، وہ چار پائی جس پر عراب نما کھڑیاں باندھ کر گھولوں  
کا جنازہ سے جاتے ہیں۔

گھوال رنگ۔ (گھوال رنگ، ۱۶۔ ۱۔ مذمذم گندی رنگ۔  
گھنے۔ (گھنے، ۵۶۔ ۱۔ صفت، گائے کا بے کھتف، کبھی کبھی۔

گھسرا۔ (گھسرا، ۵۶۔ ۱۔ صفت، ایک چھوٹا سا زہر پلا کر پڑا جو مٹی سے رنگ  
تعمیر کا ہوتا ہے اور اکثر رنگوں یا کھنڈروں میں پل بنا کر رہتا ہے، ۲، ایک  
قسم کا بہانہ یا زہر پلا کر گھٹ۔

## گ - ۵

گھابرا۔ (گھابرا، ۵۶۔ ۱۔ صفت، گھبرا ہوا۔ پریشان۔  
گھات۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت، ۱۔ تاک۔ داؤوں۔ موقع، ۲، فریب، دھوکا  
۳، ارادہ۔ مطلب، ۴، کمین گاہ۔ وہ جگہ جہاں شکار یا دشمن کے  
اشنار میں بیٹھیں، ۵، جاؤ، ۶، ٹونا۔

گھات پانا۔ ۱۷۔ محاورہ، موقع پانا۔ قابل حاصل کرنا۔  
گھات پر آنا۔ گھات پر چڑھنا۔ ۱۷۔ محاورہ، قابل میں آنا۔  
چال میں آنا۔

گھات تاکنا۔ ۱۱۔ محاورہ، موقع دھونڈنا۔  
گھات چلانا۔ ۱۷۔ محاورہ، داؤ چلانا، دار کرنا، ۲، جاؤ کرنا۔

گھات چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ، چال بازی کا کار کرنا، ہونا۔  
گھات شو بھینا۔ ۱۱۔ محاورہ، تدریب کا ذہن میں آنا۔  
گھات کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ، خفیہ تدریب کرنا۔

گھات کھینا۔ ۱۷۔ محاورہ، دوسرے کو غافل پا کر اپنا مطلب نکالنا۔  
گھات لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ، تاک میں بیٹھنا۔

گھات میں آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، دم میں آنا۔ دھوکے میں آنا۔ چال میں  
آنا۔ فریب کھانا۔

گھات میں بیٹھنا۔ ۱۷۔ محاورہ، شکار یا دشمن کی تاک میں کسی جگہ چھپ کر  
بیٹھنا، ۲، موقع دھونڈنا۔

گھات میں بھرتا۔ ۱۷۔ محاورہ، تاک میں بھرتا۔ موقع دھونڈتے بھرتا  
داؤں میں رہتا۔

گھات میں رہنا۔ ۱۷۔ محاورہ، تاک میں رہنا۔  
گھاتا۔ ۵۶۔ ۱۔ صفت، مولیٰ ہوتی چیز پر کوئی چیز سے لینا۔  
گھاتک۔ ۱۔ ۱۔ مذمذم نوقی، قاتل، ۲، جان کا لگو۔ چھو کا پیاسا۔  
گھاتوں میں آنا۔ ۱۷۔ محاورہ، چالوں میں آنا۔ فریب میں آنا۔

گھاس بات ۱۷۔ مٹ، نس وناشاک۔ سبزی۔  
 گھاس چھوس ۱۶۔ مٹ، کوٹا کرٹ۔  
 گھاس کاٹنا ۱۱۔ محاورہ گھاس کا ترشادر، بے سوچے سمیچے جلد جلد لونگ  
 سمجھیں نہ سکے ۱۳۔ بے دلی سے کام کرنا۔  
 گھاس کھانا، گھاس کھا جانا ۱۱۔ محاورہ حیوانوں کا گھاس چرنا، بے عقل ہو  
 جانا، حماقت کی بات کرنا۔  
 گھاس کھوونا ۱۶۔ محاورہ زمین سے اُگی ہوئی میزبان گھاٹنا، عقل و شعور کے  
 خدات کام کرنا۔ ذلیل کام کرنا۔  
 گھاس کے گٹھے میں سوئی ڈھونڈنا ۱۱۔ مٹ، بے کار  
 کام کرنا۔  
 گھاس والا ۱۱۔ محاورہ گھاس بیچنے والا۔ گھاس کٹنے والا۔  
 گھاگ ۵۱۔ صفت، ٹرانا تجربہ کار آدمی۔  
 گھاگر ۱۔ گھاگر ۵۶۔ مٹ، بڑی ایک قسم۔  
 گھاگھرا گھاگرا ۱۔ گھاگھرا۔ گھاگھرا، ۵۱۔ مذم لہنگا۔ پیشوا ۲، ایک  
 دریا کا نام ۳، ایک قسم کا کھوڑ۔  
 گھاگھرا چوڑا ۱۔ سکاٹ لینڈ کے پہاڑی گروں کی پلٹن جو ایک قسم  
 کا گھبراہٹ ہے۔  
 گھاگھرا گھول ۱۔ صفت، پریشان رہے قرار۔  
 گھاگھس ۱۔ گھاگھس۔ گھا۔ گھس ۵۱۔ مذم ایک قسم کا  
 دوغلا مرغ۔  
 گھال ۵۱۔ مٹ، شرارت ۲، نقصان ۳، آفت، مصیبت ۴، تباہی۔  
 گھال میل ۵۱۔ صفت، ملا جلا، گڈ مڈ، میل ملاپ، ربط ضبط۔  
 گھال میل رکھنا ۱۱۔ محاورہ ۱ میل ملاپ رکھنا، اتحاد رکھنا۔  
 گھال میل کر دینا ۱۶۔ محاورہ ۱ ملا جلا دینا، گڈ مڈ کر دینا، خط ملا  
 کر دینا۔  
 گھال لا ۱۔ مٹ، آفت، مصیبت ۲، شرارت، نقصان۔  
 گھالنا ۱۔ رکھال ۱، نا، ۵۶۔ مٹ، برباد کرنا۔ تباہ کرنا ۳، ڈالنا، پھینکنا  
 (ق، ۳۱، قائم کرنا) ۲۔  
 گھام ۵۶۔ مٹ، دھوپ، گرمی، تپش۔  
 گھامڑ ۱۔ گھامڑ ۵۶۔ صفت، گرمی کی ماری ہوئی گائے، بدحواس۔ بے اوسان  
 ۳، احمق۔ سادہ لوح ۴، بدسلوکی، سمجھ بڑھ، ہست بکامل۔  
 گھان ۱۔ مٹ و مٹ، اناج یا سرسوں کی وہ مقدار جو کوبہوں کی بارگی  
 ڈالی جائے ۲، کپان کی وہ مقدار جو ایک دفعہ کڑا ہی میں ڈالی جھائے ۳،  
 چنے کی وہ مقدار جو ایک دفعہ چھوٹی جھائے۔  
 گھان آٹا رانا ۱۶۔ محاورہ گھان تیار کرنا  
 گھان ڈالنا ۱۶۔ محاورہ ۱ ایک دفعہ کسی معین مقدار کا کڑا ہی چکی یا سجاڑ  
 میں ڈالنا، کسی کام کو ہاتھ لگانا۔  
 گھانٹ ۱۔ گھانٹ ۱۱۔ مٹ، گھنٹی۔  
 گھانٹی ۱۔ گھان ۱، مٹ، اناج کا حلق کا کواد ۳، گھانٹھ، کئی رنگ کے  
 چیتھڑے جو جرم کے غیر پاؤں میں باندھتے ہیں۔

گھانٹس ۱۱۔ مٹ، دیکھیے گھاس جو فصیح ہے۔  
 گھانی ۵۱۔ گھاسی، ۵۱۔ مٹ، تلوں یا سرسوں کی وہ مقدار جو کوبہوں میں پلٹنے کے  
 واسطے ڈالی جائے ۲، مٹی کا تغار ۳، تیل پلٹنے کی مشین کے کارس نکلنے  
 کی مشین۔  
 گھانی کرنا ۱۶۔ محاورہ ۱ کوبھولنا، تیل نکلانا۔  
 گھاؤ ۱۔ گھاؤ ۵۶۔ مٹ، گھرا زخم جرحست ۲، نقصان، خسارہ۔  
 گھاؤ آنا ۱۶۔ محاورہ ۱ زخمی ہونا۔  
 گھاؤ بھگنا ۱۶۔ محاورہ ۱ زخم کا چھا ہو کر برابر ہونا ۲، نقصان کی  
 تلافی ہونا۔  
 گھاؤ کرنا ۱۶۔ محاورہ ۱ زخم ڈالنا۔  
 گھاؤ کھانا ۱۱۔ محاورہ ۱ زخمی ہونا۔  
 گھاؤ کھپ ۱۱۔ صفت، فضول خرچ ۲، فن کرنے والا۔  
 گھاؤ کھپ کرنا ۱۶۔ محاورہ ۱ فضول خرچ کرنا، غبن کرنا۔  
 گھاؤ میں تون مرتج لگانا ۱۶۔ محاورہ ۱ دکھ پر دکھ پہنچانا۔  
 گھائی ۱۔ گھائی ۵۶۔ مٹ، دو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ۲،  
 نبل۔ فریب، دھوکا۔ مغالطہ ۳، چلبے کی وہ جگہ جہاں روٹی سینکتے  
 ہیں۔  
 گھائی کی میری تو سے کی تیری ۱۶۔ مٹ، خود غرضی کرنے والے  
 کے متعلق کہتے ہیں۔  
 گھائیاں بتانا ۱۶۔ محاورہ ۱ فریب دینا، دھوکا دینا ۲، ٹالنا۔  
 جملہ بیانا۔  
 گھامیں ۱۔ گھامیں ۵۶۔ مٹ، اطراف، جانب ۲، مددگار، ساتھی، ہمراہی  
 طرفدار ۳، بدلہ، دفعہ۔  
 گھامیں مائیں کر دینا ۱۶۔ محاورہ ۱ ادھر ادھر کر دینا، اڑا دینا، غائب کر دینا۔  
 ۲، آج کل کرنا، ٹالنا۔  
 گھامیل ۱۔ گھامیل ۱۶۔ گھامیل، ۱۶۔ صفت، زخمی ۲، عشق کا مارا  
 دل بگاڑ۔  
 گھامیل کی گت گھامیل جانے ۱۱۔ مٹ، مصیبت زدہ کی قدر مصیبت  
 زدہ ہی جانتا ہے۔  
 گھامیل ہونا ۱۶۔ محاورہ ۱ زخمی ہونا۔ مجروح ہونا ۲، عاشق ہونا۔  
 گھبرا جانا ۱۔ گھبرا ۱۶۔ محاورہ ۱ بدحواس ہونا۔ بے قرار ہونا  
 پریشان ہونا۔  
 گھبرا کر ۱۶۔ تابع فعل، مضطرب ہو کر ۲، جلدی سے  
 گھبرانا ۵۶۔ مٹ، بے اوسان ہونا، سٹ پٹانا، تھلانا۔ بے قرار ہونا۔  
 پریشان ہونا، ڈر جانا، اچھا بھجانا۔  
 گھبراہٹ ۱۔ گھبراہٹ ۱۶۔ مٹ، اے قراری، مضطرب، بے چوکی  
 بل چل، جلدی، پریشانی۔  
 گھبرانی ہوئی ڈو منی پھر پھر سبے گائے ۱۶۔ مٹ، گھبراہٹ کے وقت  
 عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔  
 گھبیر ۱۔ گھبیر ۱۶۔ مٹ، گھبیر، ۱۶۔ صفت، گھبیر۔

گھب - ۵۶ - صفت نہایت تاریک - سخت اندھیرا -  
گھبلا - رگھب - ۵۶ - اندم گڑبڑ - جھگڑا ۲، شوہر و خن ۳، حساب کی غلطی -

گھبلاڑنا - ۱۱ - محاورہ ۱ گڑبڑ بوجانا - حساب میں غلطی پڑنا -

گھبلاڑنا - ۱۲ - محاورہ ۱ جھگڑا ڈالنا - گڑبڑ کر دینا -

گھبنا - رگھب - ۵۶ - صفت گھوٹا جانا -

گھبنا - رگھب - ۵۶ - صفت گھوٹا جانا -

گھبوتا - رگھب - ۵۶ - صفت گھوٹنا -

گھبتر - رگھب - ۵۶ - صفت گھوٹنا -

گھٹ - ۵۶ - ۱ - مذ ۱۱، دل - من بھی ۲، کم - حقوڑا ۳، گھٹا - بادل ابرو، دھبٹاق -

گھٹ کا مال - ۱۶ - مذم ادنیٰ درجہ کا مال - کم قیمت مال -

گھٹ - ۱۶ - مذم گھوٹ -

گھٹا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - بادل کالی بدلی ۲، فیماوردت -

گھٹا گھٹنا - ۱۶ - محاورہ ۲ بادلوں کا آسمان پر بڑھنا - بدلی جھانا -

گھٹا اُٹھنا - ۱۱ - محاورہ ۲ گھٹا اُٹھنا - بادل کا گھر آنا - بادل گھرنے -

اُبر کا کثرت سے چھلنا -

گھٹا ٹوٹ - ۱۶ - صفت ۱ - پانی، مینس یا گھوڑا گاڑی کا غلاف جو گرودنبار اور بادش سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈالتے ہیں ۲، وہ اندھیرا جو بادلوں کے گہرے ہونے سے ہوتا ہے - اندھیرا گھپ -

گھٹا جھومتی آنا - ۱۶ - محاورہ ۲ گھٹا کا چاروں طرف سے گھرنے -

گھٹا جھومنا - ۱۶ - محاورہ ۲ بادل چھانا - بادلوں کا گھرنے -

گھٹا چھانا - ۱۶ - محاورہ ۲ اُبر گھرنے - بادل گھرنے - اُبر کا آسمان پر محیط ہونا -

گھٹا - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - نقب - سینہ ۲، چھید - رخنہ ۳، شکست - دروازہ ۴، وہ نشان جو مسجدوں کی کثرت سے ملتے پڑ جاتا ہے ۵، خاک - دھول - گرودنبار -

گھٹا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - سخت دل -

گھٹانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کم کرنا ۲، نرخ کرنا ۳، درجہ توڑنا ۴، منہا کرنا - وضع کرنا ۵، ڈبلا کرنا -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - قلت - تخفیف ۲، دریا کا اتار -

گھٹاؤ رگھب - ۱۶ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

گھٹاؤ - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - کمی - کمی - ترقی - تنزل -

جانا - گھٹن -  
گھٹک - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - دلال ۲، ثالث ۳، درمیان میں پریشانی کرانے والا شخص -

گھٹکانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - غیب کرنا ۲، نگلنا -

گھٹ گھٹ پینا - ۱۶ - صفت کسی رفیق چہرہ آہستہ آہستہ پینا -

گھٹ گھٹ کے - ۵۱ - تملع فعل ۱ - رگ رگ کے - سانس رگ رگ کر -

گھٹ گھٹ کے مرنا (جان دینا) - ۱۶ - محاورہ ۱ - تنگی اور تکلیف برداشت کر کے جان دینا - بے کسی اور کس پسر کی حالت میں مرنا -

گھٹن - رگھب - ۵۶ - ۱ - صفت ۱ - بوا بند ہونے سے ایسی گرمی کہ دم گھٹ جائے -

گھٹنا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کم ہونا - تھوڑا ہونا ۲، اُترنا ۳، تنزل ہونا ۴، ڈبلا ہونا ۵، نرش کم ہونا - بھادو کرنا -

گھٹنا بڑھنا - ۱۶ - محاورہ ۱ - کمی زیادتی ہونا -

گھٹنا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - پست - صل ہونا - کھل ہونا ۲، یک جان ہونا ۳، پالش ہونا ۴، ریگ مال ہونا ۵، سرخمند ہونا - صدغایا ہونا ۵، دم گھٹنا - سانس رگ رگ، بھرنے - پھلنا - سمانا ۷، موافقت کرنا -

۱۸ - دوستی ہونا -

گھٹنا - رگھب - ۵۶ - ۱ - مذ ۱ - ناؤ - پنڈلی - گوڈا - ران کے بیچ کا جوڑ - ران اور رانر پنڈلی کے درمیان کا جوڑ -

گھٹنا - ۱۶ - مذم گھٹوں تک یا جامہ جو جانگے سے بڑا ہوتا ہے ۲، باجاسے سے نیچے پہننے کی کوشش -

گھٹنوں کے بل چلنا - ۱۶ - محاورہ ۲ زانو کے بل چلنا - رینگنا - آہستہ آہستہ چلنا -

گھٹنوں گھٹنوں - ۱۱ - تابع فعل ۱ گھٹنوں تک -

گھٹنوں میں سروے کے بیٹھنا - ۱۶ - محاورہ ۲ غم یا فکر کے مادے سے سرجھا کر رو رو بیٹھنا - سوز میں بیٹھنا ۲، مایوس ہو کر بیٹھ جانا -

گھٹنوں میں سروے لینا - ۱۶ - محاورہ ۲ شرما جانا - شرم کے مارے گردن بھی کر لینا -

گھٹے ٹیک دینا - ۱۶ - محاورہ ۲ گھٹے زمین پر رکھ دینا ۳، ہنکست تسلیم کرنا -

گھٹے سے لگائے بیٹھ رہنا - ۱۶ - محاورہ ۲ پاس سے جھانکنا ہونے پر دینا - جان کے ساتھ لگ کر رکھنا -

گھٹے یوں یوں نہیں گے تو پیٹ کی طرف ۱۱ - شل ۱ - ہر شخص انہوں کی پاس داری کرتا ہے -

گھٹنوں چلنا - دونوں ہاتھوں اور دونوں زانوؤں کے بل چلنا -

گھٹنت - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹنتی - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹنوار - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹوانا - رگھب - ۵۶ - صفت ۱ - کمی - تخفیف -

گھٹورہ، دھٹ - ۵۶۱ - صفحہ ۱۰۶ - دغا باز - بے مروت - سنگدل - ہستی سے کام کرنے والی نوکرانی - کام چور -  
گھٹی - دھٹ - ٹی - ۵۶۱ - ۱ - مٹا - کمی -  
گھٹی - دھٹ - ٹی - ۵۶۱ - ۱ - مٹا - جو بیچے کا پیٹ صاف کرنے کے لیے خوش سحر دے کر پلاتے ہیں، ۲ - عادت طبیعت - شخصیت -  
گھٹی میں بڑھنا - ۱۱ - محاورہ، عادی، بونا، طبیعت میں داخل ہونا، بچپن میں کسی چیز کا عادی ہونا -  
گھٹی میں پلانا - ۱۱ - محاورہ، گھٹی کی جگہ پلانا، ۲ - بچپن سے کسی بات کا عادی کرنا -  
گھٹی میں ہونا - ۱۶ - محاورہ، فطرت میں ہونا، بچپن سے کسی بات کا عادی ہونا -  
گھٹیا، گھٹیل - دھٹ، یا، دھٹ، یل، ۱۰ - صفحہ ۱۰۶ - کم قیمت - معمولی امدان - ۱۲ - ۱۲ - دوسرے زمین -  
گھچا گچ - دھٹ - چا - بیچ - ۱۰ - ۱ - مٹا، گوشت کے اندر تمھارے متواتر گھسنے یا لٹپٹنے کی آواز - بیچ -  
گچ - بیچ - بیچ - ۱۰ - ۱ - مٹا، کثرت - بیچ، جھگھٹ، ۲ - بہت گنجانا اور پاس پاس لکھا ہوا -  
گچ بیچ بولنا - ۱۱ - محاورہ، گچ بیچ بکنا - جلدی جلدی بولنا کہ کچھ سمجھیں نہ آئے -

گھر - ۵۶ - ۱ - ۱ - مکان - خانہ، ۲ - رہنے کی جگہ - مسکن - ۳ - ٹھکانہ، رہنمائی - کہیں رہ، سمیٹ - کھوہ - پل - ۴ - گھوسلا - آشیانہ، ۵ - وطن - دیس - جائے پیدائش - خاندان - گھرانا -  
گھر آباد کرنا - ۱۶ - محاورہ، گھر میں بسنا، ۲ - بیوی لانا، شادی کرنا -  
گھر آپڑنا - ۱۶ - محاورہ، کسی کے گھر میں جا کر ٹھہر جانا -  
گھر کے لئے کو بھی نہیں نکالتے - ۱۶ - نیشل اپنے گھر پر کسی کی بے عزتی نہیں کرتے - ہر کسی کی خاطر تواضع کی جاتی ہے -  
گھر آئے کی شرم - گھر آئے کی لاج و شرم، ۱۱ - محاورہ، گھر پر آنے کا لحاظ اور پاس -  
گھر آئے ناگ نہ لیجے - بائبی پوجن چلے، ۱۶ - نیشل، جو گھر آئی دولت چھوڑ کر دوسری جگہ تلاش کو جانے - یہ مثل اس کی جہالت اور حماقت پر بولتے ہیں -  
گھر آجڑنا - ۱۶ - محاورہ، ۱ - گھر پر بار ہونا - خانہ دیرانی ہونا، ۲ - گھر لٹنا، ۳ - میاں بیوی میں نا اتفاقی ہونا، ۴ - خاوند یا جوہد کا مرجانا - رانڈ ہونا -  
گھر آف ہو جانا - ۱۶ - محاورہ، خانہ خراب ہو جانا، گھر کا بالکل تباہ ہو جانا -  
گھر آف ہو جانا - ۱۶ - محاورہ، گھر منہدم کر جانا -  
گھر بار - گھر خاوند - مکان، ۲ - اسباب خانہ داری، ۳ - بال بچے، ۴ - خاندان، کتنے -

گھر بسا لینا - ۱۶ - محاورہ، شادی کرنا -  
گھر بار بسنا - ۱۶ - محاورہ، شادی ہونا -  
گھر بار تمہارا کوٹھی گھٹھے کو ہاتھ نہ لگانا - ۱۶ - نیشل، یہ کہاوت ایسے موقع پر کہتے ہیں جب چھوٹی باتوں سے دل پر جانا مقصود ہو اور مطلوبہ شے نہ دینے کا ارادہ ہو -  
گھر بار چھوڑنا - ۱۶ - محاورہ، مکان اور گھر ہستی کے سب تعلقات ترک کرنا، ۲ - دس چھوڑنا -  
گھر بار خالصے لگ جانا - ۱۶ - محاورہ، گھر ضبط ہو جانا - گھر تباہ ہو جانا -  
گھر بار کا دھندا - ۱۶ - مذم خانہ داری کا کام -  
گھر بار لٹانا - ۱۱ - محاورہ، گھر تباہ کر دینا -  
گھر بارو - ۱ - مذم، وہ شخص جو گھر اور عیال و اطفال رکھتا ہو مگر قابل اعتبار -  
گھر بار ہونا - ۱۱ - محاورہ، اہل و عیال ہونا -  
گھر باری - ۱۶ - صفحہ ۱۰۶ - عیالدار - بال بچھ دار، ۲ - دینا دار - گھر ہستی -  
گھر برباد کرنا - ۱۶ - محاورہ، مٹا کر دیوارت کو تخریب پہنچ کر دینا -  
گھر برباد ہونا - ۱۶ - محاورہ، گھر تباہ ہونا - خانہ خراب ہونا، ۲ - شوہر یا بیوی کا جانا، ۳ - کسی سر پرست اور بزرگ کا سر سے اٹھ جانا -  
گھر بسا - وہ شخص جو بروقت گھر میں بیٹھتا ہے، ۲ - سہت - کابل -  
گھر بسنا - گھر آباد ہونا - ۱۶ - محاورہ، شادی ہونا، ۳ - گھر کا ختم ہونا -  
گھر بسی - ۱۶ - صفحہ ۱۰۶ - بیوی - زوجہ - جوہو -  
گھر لگاڑنا - ۱۱ - محاورہ، گھر تباہ کرنا، ۲ - میاں بیوی میں نا اتفاقی کرنا - ۳ - اٹوا کرنا -  
گھر سبکڑنا - میاں بیوی میں نا اتفاقی ہونا، ۲ - بیوی کا مرجانا -  
گھر پتالینا - ۱۱ - محاورہ، مکان تعمیر کر لینا، ۲ - رسائی حاصل کرنا -  
گھر پٹانا - ۱۱ - محاورہ، مکان بنانا - مکان کی تعمیر کرنا، ۲ - پاؤں جمانا، ۱ - اطمینان سے بیٹھنا، ۳ - گھر بھرنے، ۴ - گھر سنوارنا، ۵ - گھر کا انتظام کرنا، ۶ - شادی کرنا، گھر آباد کرنا -  
گھر بند کرنا - ۱۶ - محاورہ، شطرنج کی چال میں بادشاہ یا کسی اور مہرے کو کسی خانے میں جھانے سے روکنا جو مہر کی بازی میں گھٹ کا گھر بند کرنا -  
گھر بند ہو جانا - ۱۶ - محاورہ، شطرنج یا جوہر میں کسی مہرے کا کسی خانہ میں نہ جاسکنا، ۲ - گھر کو قفل لگانا، ۳ - گھر کا کوئی والی وارث نہ رہنا، ۴ - بیوی کا مرجانا -  
گھر بندی - ۱۱ - مٹا، وہ نوٹھی جو خانہ زاد ہو -  
گھر بول اٹھنا - ۱۱ - محاورہ، رونق آجانا، ۲ - گھر کے آثار سے ظاہر ہونا -  
گھر لو لٹنا - ۱۱ - محاورہ، ٹیکل کا پکنا - خوش الحان پرندہ کا چھو جانا -  
گھر بھائیں بھائیں کرتا ہے - ۱۶ - محاورہ، گھر سے ڈر لگتا ہے گھر سنان ہے -  
گھر بھر - ۱۱ - بیچ فعل، گھر کے سب لوگ -

گھر تنگ ہو جو جنگ ۱۶۔ مثل ۱۲ اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرنے کے  
موت پر پوتے ہیں۔

گھر جاتا رہنا ۱۷۔ محاورہ ۲ خاندان سے تعلق منقطع ہونا طلاق میں آنا، خاندان  
کا مرجانا۔ گھر بھجنا۔

گھر جانا ۱۷۔ محاورہ ۱ اپنے مکان کو جانا، گھر بڑھنا، خاندان ویران ہونا، خاندان سے  
چھوٹنا، دوستی جانا۔

گھر جانی من مانی ۱۷۔ مثل ۱۲ اپنی خواہش کے مطابق ہر کام کرنا۔  
گھر جانے کا راستہ نہ ملنا ۱۱۔ محاورہ ۱ گھر جانا۔

گھر جلے کسی کا تاپے کوئی ۱۷۔ مثل ۱ نقصان کسی کا ہونا فائدہ  
کوئی اور ہی اٹھائے۔

گھر جنوائی ۱۷۔ مذمومہ داماد جو سسرال میں آباد ہو جائے۔  
گھر جنوائی رکھنا ۱۶۔ محاورہ ۱ بیٹی کو بیاہ کر داماد سمیت اپنے گھر  
رکھنا۔

گھر جوت ۱۱۔ مثل ۱ اپنی کھیتی گھری کھیتی ذاتی زراعت۔  
گھر جھانکنا ۱۱۔ محاورہ ۱ چھوٹی دیر کے لیے گھر میں قدم رکھنا۔

گھر چینی ۱۱۔ مثل ۱ وہ عورت جو دوسرے گھروں میں ماری ماری ہے۔  
گھر چہرے گھر دوزخ سے ۱۲۔ مثل ۱ گھر مصیبت اور لڑائی بھڑائی  
کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں۔

گھر چٹھ کر پڑنے کو آنا ۱۱۔ محاورہ ۱ کسی کے مکان پر اگر لڑنا۔  
گھر چلانا ۱۱۔ محاورہ ۱ گھر کا خرچ اٹھانا۔ گھر کا انتظام سنبھالنا۔

گھر چلانا ۱۱۔ محاورہ ۱ گھر کا انتظام چلانا۔ گھر کا خرچ اٹھنا۔  
گھر چھوڑنا سمدھیانہ بڑا ۱۱۔ مثل ۱ حقیقت گھر شہرہ زیادہ۔

گھر چھوڑنا خیلہ قائم ۱۶۔ مثل ۱ گھر چھوڑ کر جو بیڑا اختیار کرنا۔ فائدہ چھوڑ کر  
نقصان کی طرف دوڑنا۔

گھر چہن تو باہر چہن ۱۱۔ مثل ۱ گھر میں آرام ملے دل خوش ہو تو باہر بھی  
بہرے۔ اچھی معلوم ہوتی ہے۔

گھر خاک سیاہ کرنا۔ (گروینا) ۱۷۔ محاورہ ۱ گھر تباہ کر دینا۔  
گھر خاک میں ملانا ۱۷۔ محاورہ ۱ گھر تباہ کرنا۔

گھر خالی کرنا ۱۶۔ محاورہ ۱ گھر سے اسباب وغیرہ نکال لینا۔  
گھر خالی ہونا ۱۶۔ محاورہ ۱ مکان کا غیر آباد ہونا۔

گھر دار ۱۱۔ نصف گھر والا۔ دھار دار۔ بال بچے والا۔ گھر والا۔  
گھر داری ۱۶۔ مثل ۱ خانہ داری کر رہتی۔

گھر داماد ۱۶۔ مذمومہ دیکھنے گھر جنوائی۔  
گھر دار ۱۶۔ مذمومہ شوہر شوہر کا گھر۔

گھر دکھانا۔ مکان کی شناخت کر دانا۔  
گھر داری۔ معمول جو بگھر سے وصول کیا جائے۔

گھر دوار ۱۶۔ مذمومہ گھر بار۔  
گھر دوڑ بھڑانا بھاری ۱۱۔ مثل ۱ گھر دوسرے اور بوجھ بھاری ہے۔

یعنی سخت مصیبت ہے۔  
گھر دیکھ رکھنا ۱۱۔ محاورہ ۱ گھر تاک رکھنا۔

گھر بھر کر باہر بھرسے۔ دو عالمیہ فقرہ، اس قدر دولت ہو کر گھر میں رکھنے کی  
جگہ نہ ملے۔

گھر بھرتا ۱۶۔ محاورہ ۱ مکان کو اسباب یا پتے سے پُر کرنا، دولت گھسیٹنا، (۳)  
رکھنا پورا کرنا، لوگوں کو مکان میں جمع کرنا۔

گھر بے گھر ۱۱۔ تاہم فعل ۱ گھر گھر خانہ بھاد۔  
گھر بے گھٹنا ۱۱۔ محاورہ ۱ سہانی اختیار کرنا، بیکار ہونا، کام کا چھوڑنا، عطا  
سے دست بردار ہونا، مکان کا جانا، مسافر ہونا۔

گھر بیٹھے ۱۶۔ تاہم فعل ۱ بے سعی و کوشش۔ بلا تردد۔ خانہ نشینی  
کی حالت میں۔

گھر بیٹھے بہرہ وڑانا ۱۱۔ محاورہ ۱ سحر اور جادو کے دوسرے کسی کو اپنے گھر بلوانا،  
چراغ کسی کو گھر بلوانا۔

گھر بیٹھے پانا ۱۱۔ محاورہ ۱ بغیر محنت و مشقت حاصل کرنا۔  
گھر بیٹھی روٹی ۱۱۔ مثل ۱ بلا محنت و مشقت کیے آمدنی۔ گھر سے باہر کئے جانے  
کے پیر کا پی پتھن۔ وظیفہ کرایہ

گھر بیٹھے کی تنخواہ ۱۶۔ مثل ۱ وہ تنخواہ جو بغیر محنت ملے۔  
گھر بیٹھے مول لینا ۱۱۔ محاورہ ۱ بازار جانا، گھر کے دروازہ پر سودا خرید لینا۔

۱۱۔ خواہ خواہ اپنے سر مزد داری لینا۔  
گھر بے چراغ ہونا ۱۶۔ محاورہ ۱ دالی وارث کے مر جانے سے  
گھر کا ویران ہونا۔

گھر بگکا آتی ۱۶۔ مثل ۱ بغیر محنت و مشقت کے کام ہو جانا۔  
گھر بڑا رہنا ۱۶۔ محاورہ ۱ گھر سے باہر نہ جانا، (۲) کسی سے گھر  
بہر وقت رہنا۔

گھر بڑھنا ۱۱۔ محاورہ ۱ عورت کا کسی مرد کے نکاح میں آنا  
گھر بھڑھنا ۱۱۔ محاورہ ۱ کسی جگہ ٹھہر جانا۔ تمام کرنا۔

گھر کونسا کرنا۔ گھر کی ضرورتیں پوری کرنا، (۲) اپنا نقصان پورا کرنا۔  
گھر چھانڈنا ۱۶۔ محاورہ ۱ چوری چھپے بند کالی کے لیے کسی کے گھر جانا۔ چور  
کا دیوار چھانڈ کر اندر آنا۔

گھر چھوٹے گنوار لوٹے ۱۶۔ مثل ۱ گھر میں نا اتفاقی ہو تو دوسرے فائدہ  
اٹھاتے ہیں۔

گھر چھوڑنا ۱۶۔ محاورہ ۱ غیب لگانا۔ چوری کرنا۔  
گھر چھوڑنا تماشا دیکھنا ۱۱۔ محاورہ ۱ دولت برباد کر کے خوش ہونا، (۲)  
فضول خرچی سے خوش ہونا، (۳) نقصان، خاک و تجربہ حاصل کرنا، محنت اور  
بے وقوفی سے کام لینا۔

گھر تانکنا ۱۱۔ محاورہ ۱ نقب لگانے کے لیے کوئی گھر تلاش کرنا، (۲) گھر  
ڈھونڈنا۔

گھر تہنا ۱۱۔ محاورہ ۱ گھر چھوڑ دینا۔ تارک الدنیا ہونا۔  
گھر تک پہنچانا ۱۱۔ محاورہ ۱ کسی کو گھر تک چھوڑنا، (۲) انجام تک پہنچانا۔ پورا  
پورا حاصل کرنا۔ کوئی محنت باقی نہ رہنا۔

گھر تک پہنچنا ۱۱۔ محاورہ ۱ کسی کے مکان تک جانا، (۲) مال بہن  
کی گالی دینا۔

گھر دیکھ لینا۔ ۱۱۔ محاورہ کسی کے گھر بار بار جانا، ۲۔ مکان دیکھ لینا۔ گھر سے واقف ہونا۔ مانوس ہو جانا۔

گھر ڈوبنا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر برباد کرنا۔ گھر بھانٹنا، ۲۔ ٹانڈان کو بدنام کرنا۔ گھر ڈھانا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر منہدم کرنا۔

گھر سبیل۔ ۱۶۔ مثل وہ سرکاری روپیہ جو زمینداروں کو گھرنائے کے لیے تقاضی کے طور پر دیا جاتا ہے۔

گھر سجانا۔ ۱۱۔ محض مرگب (مکان) کو راستہ کرنا۔

گھر سرسراٹھانا۔ بہت خود دخل بچانا، ۲۰۔ گھر کا انتظام یا خرچ اپنے سر پر لینا۔

گھر گھر تو باہر چلیں۔ ۱۱۔ مثل گھر میں راحت ہے تو باہر بھی آرام ملتا ہے۔

گھر گھونٹنا ہو جانا۔ ۱۱۔ تابع فعل، مکان سے بہت سے آدمیوں کا نکل جانا۔

گھر سے۔ ۱۱۔ تابع فعل، مکان سے (۲، گرہ سے پہلے سے ۳) اندرون خانہ سے مراد بوسہ گھروالی۔

گھر سے باہر پاؤں (قدم) نکالنا۔ ۱۱۔ محاورہ ا حد سے بڑھ کر کام کرنا۔

گھر سے باہر کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر سے نکال دینا۔ گھر میں نہ رکھنا۔

گھر سے گھر کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر سے باہر نکال دینا۔

گھر سے پاؤں نکالنا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲ باہر پھرنے کی عادت ڈالنا، ۲۔ حد سے باہر جانے لگنا۔

گھر سے دینا۔ ۱۱۔ محاورہ ۲ پتے سے دینا۔ گرہ سے دینا۔ اپنے پاس سے دینا۔ نقصان اٹھانا۔

گھر سے کافر ہو۔ ۱۱۔ مثل گھر سے نکلو۔

گھر سے گھونٹنا۔ ۱۱۔ محاورہ گرہ سے خرچ کرنا۔ ضائع کرنا۔ (۲) نقصان اٹھانا۔

گھر سے لڑ کر تو نہیں چلے۔ ۱۱۔ مثل یہ مثل کسی کے ساتھ خواہ مخواہ ہونے کے وقت ہوتے ہیں۔

گھر سے مرنے دم نکلتا۔ ۱۱۔ محاورہ زندگی بھر گھر میں رہنا۔

گھر سینا۔ ۱۱۔ محاورہ ہر وقت گھر میں پڑے رہنا۔ گھر سے باہر نہ نکلتا، ۲۔ بیکار اور بیکار رہنا سست ہو جانا۔

گھر صاف رکھ دینا، کرنا۔ ۱۱۔ محاورہ جھاڑو سے گھر کی صفائی کرنا، گھر کے رہنے والوں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔

گھر عید تو باہر عید۔ ۱۱۔ مثل گھر میں آرام ہو تو باہر بھی دل خوش رہتا ہے۔

گھر کا۔ ۱۱۔ نصف گھر تو گھر سے متعلق (۲، اپنا، ذاتی، ۳، رشتہ دار، ۴، قریبی جو ہمیشہ خدمت کرتا ہو۔ جیسے گھر کا نانی، گھر کا دھونی وغیرہ۔

گھر کا آدمی۔ ۱۱۔ مذم رشتہ دار۔ جیانی بند، ۲، ذاتی ملازم۔ بیخ کا غلام، ۳، واقف کار۔ جان بچانے والا، ۴، بندہ، ملک، ۵، جو رو۔ خاوند۔

گھر کا آئین ہو جانا (ہونا)، ۱۱۔ محاورہ گھر تباہ ہو جانا۔ خانہ ویرانی ہونا۔

گھر کا اٹھا کون لگایا کرے۔ ۱۱۔ مثل اپنی گرہ سے کون خرچ کرنے

گھر کا اجالا۔ ۱۱۔ مذم نہایت عزیز، ۲، بیٹا۔

گھر کا باغن۔ ۱۱۔ مذم بڑا بہت۔ برہمن۔ گرو۔

گھر کا باوا آدمی۔ ۱۱۔ مثل اس گھر کی بہنات کو کچھ ہے۔

گھر کا بوجھ اٹھانا۔ (سنجھنا)۔ ۱۱۔ محاورہ گھر کا انتظام کرنا۔ گھر کے خرچ کا نیکل ہونا۔

گھر کا بوجھ بڑھنا۔ گھر کے انتظام اور اخراجات کا بوجھ اپنے سر ہونا۔ امور خانہ داری میں مبتلا ہونا۔

گھر کا بھارتا۔ ۱۱۔ مذم مکان کا کرایہ۔

گھر کا بھرا۔ ۱۱۔ نصف، خاندانی امیر۔

گھر کا بھولا۔ ۱۱۔ نصف، گھر میں سب سے زیادہ بے وقوف رسیدھا سادا۔ ہوران احمق۔

گھر کا بھیدی۔ ۱۱۔ مذم وہ شخص جو گھر کے کل ماز جانتا ہو۔ امور خانگی سے آگاہ، ۲، مازدان۔ محرم بہدم۔

گھر کا بھیدی لنگھا دھائے۔ ۱۱۔ مثل رازدار کی دشمنی سخت خطرناک ہوتی ہے۔

گھر کا جوگی جوگنا، ان گاؤں کا سدھ۔ ۱۱۔ مثل اپنے وطن میں قدر نہیں ہوتی۔

گھر کاٹ کھانے رکاٹنے، کو دوڑتا ہے۔ ۱۱۔ مثل گھر میں جی گھرتا ہے گھر میں رہنا خوش نہیں آتا۔ گھر نہایت بھیمانک اور ویران معلوم ہوتا ہے۔

گھر کا چراغ۔ ۱۱۔ نصف گھر کا اجالا، گھر کا لڑ۔ اولاد عزیز۔

گھر کا حساب۔ ۱۱۔ مذم ذاتی حساب کتاب۔ خانگی لین دین، ۲، اپنی ہی سمجھ کا حساب۔

گھر کا خرچ۔ ۱۱۔ مذم اخراجات خانگی۔

گھر کا دھندا۔ ۱۱۔ مذم گھر کے کام کاج۔ امور خانگی۔

گھر کا راستہ۔ ۱۱۔ مذم وہ راستہ جو اپنے مکان کی طرف جائے، ۲، نہایت آسان اور سہل کام۔

گھر کا راستہ تانا۔ ۱۱۔ محاورہ امانت رکھنا۔

گھر کا راستہ بھول جانا۔ ۱۱۔ محاورہ کسی جگہ ایسا جی کھانا کہ گھر جانے کا خیال نہ آئے۔

گھر کا راستہ سمجھنا۔ ۱۱۔ محاورہ کسی کام کو نہایت آسان اور سہل جاننا۔

گھر کا راستہ لو۔ ۱۱۔ محاورہ سداچارو۔ پلو۔ پلو۔ رخصت ہو جاؤ۔ چلتے پھرتے نظر آؤ۔

گھر کا راستہ لینا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر کو سداچارو۔ کسی جگہ سے واپس آنا۔

گھر کا کام (کاج)۔ ۱۱۔ مذم گھر کا دھندا۔

گھر کا گھر۔ ۱۱۔ مذم کتبہ بھر گھر کے تمام لگ۔ گھر بھر۔ سارا گھر، ۲، گھر کا تمام مال و اسباب۔

گھر کا گھر وا کر دینا۔ دیکھئے گھر کا گھر وا ہو جانا۔

گھر کا گھر وا ہو جانا۔ گھر کا تباہ و برباد ہو جانا، ۲، بڑے گھر کا چھوٹا گھر رہ جانا۔

مٹی کے برتن اور باسی ساگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مگر باہر سخی گھکاری جاتی ہے۔

گھر کی پونجی - ۱۱۔ مٹا گھر کا سرمایہ۔ گھر کا مال و متاع۔

گھر کی جلی بن میں کٹی بن میں لگی آگ - ۱۱۔ شل (۱) بد نصیب کا بن بھارہ کیا کرے جو ہیں ہمارے بھلاگ آگ کیوں ٹھکانہ نہیں جہاں جائے گا نصیبت ہی اٹھائے گا۔

گھر کی چور مٹی جو کسی کہاں تک - ۱۱۔ شل اپنے ہی گھر میں رہنے والے شخص کی تمکینانی کرنی پڑی شکل ہے۔

گھر کی سو بھاگھر ولے سے - ۱۱۔ شل (۲) مکان کی رونق صاحب نمازیہ سے معنی ہے۔

گھر کی طرح بیٹھنا - ۱۱۔ محاورہ (۱) آلام سے بیٹھنا فرغت سے بیٹھنا چین سے بیٹھنا۔ بلا تکلف بیٹھنا۔

گھر کی طرح رہنا - ۱۱۔ محاورہ (۲) بے تکلفی سے بسر کرنا۔ اپنا گھر سمجھ کر رہنا۔

گھر کی کھاڑ کر کری جو جی کا گڑ مٹھا - ۱۱۔ شل (۱) ممال کی کمانی کی قدر نہیں۔ البتہ ناچار کمانی زیادہ بند آتی ہے۔

گھر کی کھیتی - ۱۱۔ مٹ (۱) بچ کی کھیتی۔ اپنی کھیتی (۲) موروثی مال۔

گھر کی نوٹھی - ۱۱۔ مٹ (۱) گھر کی نیز (۲) بے حد مطیع بیہت اطاعت گزار۔

گھر کی مرغی وال برابر - ۱۱۔ شل (۱) گھر کی اچھی چیز کی بھی قدر نہیں ہوتی گھر کے پاس نہ پھٹلنا۔ (۱) محاورہ (۲) گھر کی طرف مطلق رخ نہ کرنا۔

گھر کے پیر دل کو تیل کا طیلہ - ۱۱۔ شل (۱) گھر والوں کے قدری اور غیر دل کی خاطر دلائل۔

گھر کے جالے لیتے پھرنے - ۱۱۔ محاورہ (۲) گھر کے کونے کونے کو جاکتے اور لوٹتے پھرنے (۲) بے فائدہ کام کرنا۔

گھر کے گھر - ۱۱۔ مذ (۱) گھر ہی میں۔ گھر کے اندر (۲) برابر۔ نفع میں نہ نقصان میں (۳) بہت سے گھر بہت سے خاندان۔

گھر کے گھر بند ہو گئے - ۱۱۔ محاورہ (۱) سب سے گھر تباہ ہو گئے (۲) بستیاں دیران ہو گئیں۔

گھر کے گھر بیٹھ گئے - ۱۱۔ محاورہ (۱) بارش کی کثرت سے بہت سے مکانات گر پڑے۔

گھر کے گھر رہنا - ۱۱۔ محاورہ (۲) نفع ہونا نہ نقصان۔ برابر برابر رہنا۔

گھر کے گھر صاف ہو جانا - ۱۱۔ محاورہ (۲) بہت سے خاندانوں کا تباہ ہو جانا۔

گھر کے گھر میں - ۱۱۔ تابع فعل، باہمی طور پر۔ آپس میں۔

گھر کے لوگ رادھی - ۱۱۔ مذ (۱) بال بچے۔ سارا گھر۔

گھر کے ہوئے نہ در کے - ۱۱۔ شل (۱) نہ گھر کے قابل رہے نہ باہر کے کہیں کے نہ رہے۔

گھر گھر سست - ۱۱۔ مٹ (۱) گھر کا نظام (۲) گھر سے متعلق۔

گھر کا مال - ۱۱۔ مذ (۱) دولت خانہ (۲) ذاتی روپیہ۔ ذاتی دولت (۳) سامان خانہ۔

گھر کا مالک - ۱۱۔ مذ (۱) گھر والا۔ مالک مکان (۲) شوہر۔

گھر کا مرد - ۱۱۔ مذ (۱) شوہر (۲) خاندان یا کنبہ قبیلہ کا مرد (۳) وہ مرد جو اپنے گھر میں خیر اور باہر بھیرے ہو۔

گھر کا نام آجھانا رو لونا - ۱۱۔ محاورہ (۲) گھر کا نام بدنام کرنا۔ خاندانی عزت بردار کرنا۔ خاندان کو بیٹ لگانا۔

گھر کا نہ نکھٹا کا - ۱۱۔ صفت (۱) کہیں کا نہیں۔ بالکل ناکارہ۔

گھر کا ہوا نہ در کا - ۱۱۔ صفت (۱) کہیں کا نہ رہا۔ پانچا ہو گیا۔

گھر کتی کا - ۱۱۔ صفت (۱) گھر کے کتے ہوئے شوت کا (۲) گھر کا بنا ہوا سوت۔

گھر کا ستر بلا سرد و دھڑ - ۱۱۔ شل (۱) خانداری ستر بلاؤں کے قبول کرنے کے برابر ہے۔

گھر کرنا - ۱۱۔ گھر کرنا۔ رسائی کرنا۔ گھنٹا کرنا (۲) گھر بنا کر رہنا۔ گھر آباد کرنا (۳) خاندان سے تباہ کرنا (۴) بیٹھنا۔ گھسنا (۵) قبضہ کرنا۔ تصرف کرنا (۶) گھر بنانا۔ رہنا۔ بنانا (۷) گھوسلنا بنانا (۸) چھید کرنا۔ سوراخ کرنا (۹) گھر کے کام کا حق میں نہایت کفایت شعاری کرنا (۱۰) بیاہ کرنا

باہم عقد کرنا (۱۱) قیام کرنا جمننا (۱۲) اثر کرنا۔ سرمایہ کرنا (۱۳) سمانی کرنا۔ گھنٹا کرنا۔

گھر کھا لینا - ۱۱۔ محاورہ (۲) کسی کا گھر لوٹنا۔ ستیاس کر دینا۔

گھر کھائے جانا ہے - ۱۱۔ گھر کھانے کو دوڑتا ہے (۱) محاورہ (۲) رہی گھبراتا ہے۔

گھر کھوج مٹا - ۱۱۔ صفت (۱) خانہ دیران خانہ خراب۔

گھر کھوج مٹی - ۱۱۔ صفت (۱) وہ عورت جس کے گھر کا تباہی اور بربادی میں نام و نشان تک مٹ گیا ہو۔ خانماں برباد۔

گھر کھوج مٹے (بد دعا) گھر برباد ہو جائے۔ تباہ ہو جائے۔

گھر کھو کر میدان کر دینا - ۱۱۔ محاورہ (۲) گھر کو منہدم کر دینا۔

گھر کھو کر تماشا دیکھنا - ۱۱۔ محاورہ (۲) گھر کی دولت ضائع کر کے پیش کرنا۔

گھر کھونا - ۱۱۔ محاورہ (۲) گھر برباد کرنا۔ گھر اچاڑنا (۲) خاندان سے بگاڑ کرنا۔

گھر کی - ۱۱۔ صفت (۱) خانہ ساز۔ خانگی (۲) ذاتی۔ اپنی۔ سخی (۳) آپس کی۔

گھر کی ادھی نہ باہر کی ساری - ۱۱۔ شل (۱) گھر کی کم آمدنی باہر کی زیادہ آمدنی سے بہتر ہے۔ وطن کی ادھی روٹی پردیس کی ساری سے اچھی ہے۔

گھر کی بات - ۱۱۔ مٹ (۱) گھر کا مجید (۲) آپس کی بات آپس کا معاملہ (۳) اپنے ہاتھ

کا کام۔ نہایت سہل اور آسان کام۔

گھر کی بیوی ہانڈنی گھر کتوں جو کا - ۱۱۔ شل (۱) جب گھر کی بیوی ادھر ادھر بھرتگی

تو گھر میں کتے لوش گئے۔

گھر کی پوکی باسی ساگ - ۱۱۔ شل (۱) بے جا سخی گھکارنا۔ گھر میں

بیابا ہوتے ہی سارا بائکنین نکل جاتا ہے۔ بیوی آتے ہی گھر باریک  
 فکر ہو جاتی ہے۔

گھر میں چھوٹی بھانگ نہیں ہے اور باہر نیوتے سات۔ ۱۱۔ نیشل منفس  
 دھواں ہوتے ہوئے بھی بڑی شہی بگھاتے ہیں۔

گھر کی بی بی بکھو آتا رہ۔ باہر میاں تھا سیدار۔ ۱۱۔ نیشل گھر میں  
 لی لی فلی بن کروٹیں۔ اور باہر میاں حکومت جتا کروٹیں ۲۰، گھر میں عزت  
 اور میاں شہی خورے۔

گھر میں بیٹھے رہنا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ گوشہ نشینی ہو جانا۔

گھر میں بیٹھے شکار کرنا رکھینا ۱۱۔ عمارہ ۲ گھر بیٹھے مال مارنا گھسے اند  
 ہی لوگوں کو ٹھکانا ۲۲، گھر کے اندر مڑے اڑانا۔

گھر میں بڑنا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ بیوی بنتا۔ کسی بیسوا کا پیشہ ترک کر کے  
 نکاح میں آنا۔

گھر میں جو رو کا نام بہو بگھر رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ ۱۱۔ نیشل اپنی  
 عزت لینے مند سے نہیں ہوا کرتی۔

گھر میں جو شہد ہے تو کاسے کو بن جائیں۔ ۱۱۔ نیشل اگر بغیر  
 قنوت و شفقت کے روزی مل جائے تو روز دھوپ کی کی ضرورت ہے۔

گھر میں جو ہے لوتے ہیں گھر میں جو ہے قلا بازیاں کھاتے  
 ہیں۔ ۱۱۔ نیشل اس قدر منفس ہیں کہ گھر کے جو ہے تک بھوک کے ماسے لوتیاں  
 لے رہے ہیں۔

گھر میں خاک اڑنا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ نہایت غریبی اور منفسی ہونا۔

گھر میں دوا، ہائے ہم مڑے۔ ۱۱۔ نیشل اس سے وقف  
 آدمی کے متعلق کہا جاتا ہے جس کے پاس ضرورت کی چیز موجود ہو۔ مگر وہ اس  
 کا استعمال نہ جانتا ہو۔

گھر میں دھان نہ پان، بیٹی کو بڑا گمان۔ ۱۱۔ نیشل منفسی میں غرور کرنا۔  
 اور بی بی بھارنا۔

گھر میں دیکھو چھلنی نہ جھاج، باہر میاں تیر انداز۔ ۱۱۔ نیشل غریبی شہی غرور  
 کے متعلق کہتے ہیں۔

گھر میں ڈالنا کسی یا بیسوا کے ساتھ نکاح کر کے اُسے بیوی بنا لینا  
 گھر میں داخل کرنا۔

گھر میں سوت نہ کیا س جولہ سے لٹھ لٹھا۔ ۱۱۔ نیشل دیکھو  
 سوت نہ کیا س۔

گھر میں شیر باہر بکھیر۔ ۱۱۔ نیشل گھر والوں پر بے جا حکومت کرنا اور باہر  
 والوں سے ڈرنا۔

گھر میں کھانے کو نہیں اٹاری پر دھواں۔ ۱۱۔ نیشل شہی باز کے  
 متعلق کہتے ہیں۔

گھر میں گھر لڑائی کا ڈر۔ ۱۱۔ نیشل ایک گھر میں دوسرا گھر بنا دیا جائے تو  
 ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے۔

گھر میں نہ سکانا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ گھر میں نہ آسکانا۔ مکان کی گنجائش سے  
 زیادہ ہونا۔

گھر میں نہیں تاگا۔ ایسا مالکے پاگا۔ گھر میں نہیں دلنے بی بی چلی بھاننے

گھر گھر سستی۔ ۱۱۔ منٹا گھر کا انتظام ۲، گھر میں رہنے والی شہی عزت  
 گھر گھٹا۔ ۱۱۔ منڈ جال ڈھال بنگ ڈھنگ۔ طور طریق ۲، خوشصفت عادت  
 طبیعت ۲، نشان پتر۔ مقام ٹھکانا۔

گھر گھٹا معلوم ہونا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ عام باتوں کی واقفیت اور آگاہی ہونا طور  
 طریق معلوم ہونا سارے بھید جاننا۔

گھر گھٹانا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ گھر برباد کرنا۔ ٹوٹنا فریب سے مال مارنا ۲، عاشق بنانا  
 ۳، موہنا، فریفتہ کرنا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ تابع فعل ۲ خانہ بھاد۔ ہر گھر میں۔ ہر مکان میں۔ سب جگہ ۲، سب  
 کے گھروں میں۔ ہر کس و ناکس کے گھر میں۔

گھر گھر جانا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ مارا مارا بھجنا۔

گھر گھر بھاننا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ ہر گھر میں جانا  
 گھر گھر جانا جانا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ ہر گھر میں خوشی ہونا۔ عام خوشی ہونا۔

گھر گھر عید ہے۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ عام خوشی ہے۔ سب خوش و فرم ہیں۔

گھر گھر کے جالے لینا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ ہر ایک کو ٹھولتے پھرنے۔

گھر گھر پھرنے۔

گھر گھر کے مزے پکھنا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ ایک گھر میں نہ رہنا۔ ملازم یا ڈاکر کا  
 ایک بگڑے پھرنے، کتنا تیرا تجربہ کار ہونا۔

گھر گھر لے پھرنے۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ ہر جگہ لے پھرنے۔ زبرداری لے پھرنے۔

گھر گھر ملتے پھرنے۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ ہر گھر سوال کرتے پھرنے ۲، قرض  
 لیتے پھرنے۔

گھر گھر مٹیلے جو ہے ہیں۔ ۱۱۔ نیشل سب ایک جیسے ہیں کوئی آسودہ  
 اور فارغ البال نہیں۔ سب ایک حال میں ہیں۔

گھر گھر مٹو۔ گھر گھسنا۔ ۱۱۔ صفحہ ۲ وہ مرد جو ہر وقت نشان خانہ میں بیٹھا  
 رہے۔ عورتوں میں بیٹھنے والا شخص۔

گھر گھر پڑا، شخص اس میں مومل۔ ۱۱۔ نیشل ایسے دکھائے کسی چیز کی تعریف کرنا ۲،  
 فضول اور بے فائدہ کام۔ جو چیز یا س نہ ہو اس کی قیمت چکانا۔

گھر گھی۔ ۱۱۔ صفحہ ۲ خانہ خراب۔ بڑا۔ بڑا۔

گھر گیا۔ ۱۔ صفحہ ۲ بگڑا، گھر بڑانا۔ خانہ خراب۔

گھر لٹانا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ بے جا داد و پیش کرنا ۲، بہت فضول خرچی کرنا۔

گھر لٹ جانا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ مکان میں چوری ہونا ۲، کسی موت سے  
 گھر کا تباہ ہونا۔

گھر لینا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ مکان مول لینا ۲، گھر لینے پر لینا۔

گھر ملتا ہے کوئی نہیں ملتا، بڑ ملتا ہے تو گھر نہیں ملتا۔ ۱۱۔ نیشل بھڑیوں  
 کو اچھا رشتہ نہ پکھا جاتا ہے۔

گھر مٹو۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ گھر میں چوری کرنا۔ گھر کا صفایا کرنا۔ ٹوٹنا۔

گھر میں۔ ۱۱۔ تابع فعل ۲ کتنا زور جو بیوی۔

گھر میں لگانا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ گھر کا تباہ کرنا نیست دنا بود کرنا۔

گھر میں آنا۔ ۱۱۔ عمارہ ۲ مکان میں داخل ہونا ۲، کسی سپاہ سے کا بروج میں داخل  
 ہونا ۲، اپنے ہاتھ لگنا اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا۔

گھر میں آئی جوئے۔ طیر صہی بگڑا سی سیدھی ہوئے۔ ۱۱۔ نیشل



۱۱۔ مثل مغس شمشکانے متعلق کہتے ہیں۔

گھر نہ ہار میاں محلے دار۔ ۱۷۔ مثل مفت کی شینی بگھارنے اور خواہ مخواہ  
آمانے والا۔

گھر کی دینا۔ ۱۱۔ محاورہ ہجر کی ڈانٹنا۔ ڈھکانا۔ ڈرانا۔

گھر نہ بڑ۔ ۱۱۔ مثل اہلی عورت۔

گھر کی گھانا۔ گھر کی سننا۔ ۱۱۔ محاورہ گھر کی برداشت کرنا۔

گھر نہ ہونا۔ ۱۱۔ محاورہ آپس میں نہینا۔

گھر گٹ۔ ۱۱۔ مثل مذم کر گٹ۔

گھر نہ ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ نباہ نہ ہونا۔ موافقت نہ ہونا۔ خانہ داری  
کا انتظام نہ ہونا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر واس۔ ۱۱۔ مثل مذم رہنے کی جگہ مکان۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر والی۔ ۱۱۔ مثل گھر کی مالک، بیوی۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر والے کا ایک گھر گھر کے گھر گھر۔ ۱۷۔ مثل شہدے  
بد معاشوں کے لیے ہر جگہ ہی گھر ہے۔ آزاد اور درویش جہاں گھر جائے  
دہیں گھر ہو گیا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر ویران ہونا۔ ۱۱۔ مثل مرکب گھر گھر ہونا۔ گھر تباہ و برباد ہونا، بیوی کا ہلنا  
میاں بیوی میں نا اتفاقی ہونا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ ہر کام تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہو گا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر ہوتا۔ ۱۱۔ محاورہ ہونا میاں بیوی میں اتفاق ہونا، گھٹیں سلیقہ اور انتظام  
ہونا، سوار ہونا، چھپر ہونا، گنجائش ہونا۔ سولی ہونا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر۔ ۱۱۔ محاورہ ایک دوکان نام، گھنگھرو۔ عزم فرہ وہ  
آواز جو حالت نزش میں سانس ٹکڑک کر گھنگھرو سے پیدا ہوتی ہے۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر اچلنا۔ ۱۱۔ محاورہ حالت نزش میں گھنگھرو ہونا۔ اخیر دم ہونا۔ مرتے  
وقت سانس ٹکڑک کر نکلتا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر اگھنا۔ ۱۱۔ محاورہ گھنگھرو ہونا۔ اخیر سانس چلنا، قریب المرگ ہونا۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ محاورہ گھر گھر۔

گھر گھر۔ ۱۱۔ مثل گھر گھر۔

گھڑی میں ادلیا گھڑی میں بھوت ۱۶۔ مثل، ذراسی بات میں خوش ہونا۔  
 ذراسی باتوں بگھانا۔  
 گھڑی میں لوگ گھڑی میں ماشہ ۱۱۔ مثل، غیر مستقل مزاج۔ کبھی کبھی کچھ۔  
 دم بھر میں طبیعت بدلتے والا۔  
 گھڑی میں گھڑیاں ہے ۱۱۔ مثل امرتے دیہ نہیں گتی۔ گھڑی میں کچھ ہے تو  
 دم بھر میں کچھ۔  
 گھڑیا ۱۱۔ مثل گھڑا کی تصغیر، کھال جس میں سونا چاندی لگھلایا جاتا ہے۔  
 ۱۳، شہد کی مکھیاں یا بھڑوں کا چمٹا۔ جمال، رم، رقم۔ بچہ دان۔  
 گھڑیاں گننا ۱۱۔ محاورہ، شدت سے انتظار کرنا۔ کسی کے انتظار میں  
 دقت کاٹنا۔  
 گھڑی ۱۱۔ مثل، ایک قسم کی آتش بازی۔  
 گھڑیاں، گھڑیاں، ۱۱۔ مثل، جیل کا وہ گھنٹہ جو مندروں یا امیروں کے دروازے  
 پر بٹکایا جاتا ہے، ۱۲، مگر۔ گھنٹہ۔ ہنسک۔  
 گھڑیاں، گھڑیاں، ۱۱۔ مثل، گھڑیاں جانے والا۔  
 گھس ۱۱۔ مثل، گھاس کا مخفف۔  
 گھس گھسا ۱۱۔ مثل، گھسیارا۔ گھاس کھونٹے والا، ۲، ادنیٰ۔ کینہ  
 رزیل، ۳، انڈی، ناشائستہ۔ ناکارہ۔ ناان۔ اجتم۔ بے وقوف۔  
 گھسا ۱۱۔ صفت، اجنا ہوا۔ ٹٹھ۔ جسم۔  
 گھسا گھسا، ۱۱۔ صفت، گھسا ہوا۔ فرسودہ۔ پرانا۔ کینہ، مستعمل۔  
 گھستا۔ گھس، ۱۱۔ مثل، گھڑا، گھڑا، ۲، گھوڑے کی گھبی میں جوتے  
 کے لیے سدھانے کی کلڑی۔  
 گھستا گھتا، ۱۱۔ محاورہ، رکڑا، رکڑا، رکڑا۔ گھسے کا نشان پڑنا۔  
 گھستا میری ۱۱۔ مثل، بچوں کا ایک کھیل جس میں وہ ڈور ڈال کر گھستے ہیں۔  
 گھستے دینا ۱۱۔ محاورہ، رکڑا دینا۔  
 گھسن ۱۱۔ فعل، گھستا مصدر کا فعل امر۔  
 گھسن آنا ۱۱۔ محاورہ، گھسن آنا، ۱۱۔ مثل، بلا اجازت مکان  
 میں داخل ہونا۔  
 گھسنا، گھسنا، ۱۱۔ مثل، داخل کرنا، گھسنا، سما، بھرتا۔  
 گھساؤ۔ گھساؤ، ۱۱۔ مثل، فرسودگی۔  
 گھسائی۔ گھسائی، ۱۱۔ مثل، فرسودگی، گھسانے کی اُہرت۔  
 گھسن پیٹھنا، گھسن۔ پیٹھنا، ۱۱۔ مثل، اندر رہو پیٹھنا، ۲، چھپ جانا، ۳،  
 باس باس پیٹھنا۔  
 گھسن پڑنا، گھسن۔ پڑنا، ۱۱۔ محاورہ، بے کھٹکے کسی مکان میں داخل ہونا۔  
 گھسن پس کرنا، گھسن۔ ۱۱۔ محاورہ، لباس کا خوب کام میں آنا۔ کپڑوں کا پوری طرح  
 مستعمل ہو کر آنا۔  
 گھسن پیٹھ۔ گھسن۔ پیٹھ، دخل۔ پیٹھ رسائی و بار پانی، ۲، رسائی پیدا  
 کر کے۔ رسوخ حاصل کر کے۔ یاد بنا کر، ۳، داخل ہو کر۔ گھسن کر۔  
 اندر پہنچ کر۔  
 گھسن پیٹھ کر کے، یاد آنا، گھنٹہ کر، راہ و رسم پیدا کر کے۔  
 گھسن پیٹھنا، ۱۱۔ صفت، غیر کی حدود میں زبردستی یا چوری چھپے داخل ہونے

گھڑ مٹھا ۱۱۔ مثل، وہ شخص جس کا منہ گھوڑے کے منہ سے ملتا جلتا ہو  
 لیے منہ یا تھو تھنی والا۔  
 گھڑ ناں ۱۱۔ مثل، ٹوپ۔ ربکھ۔  
 گھڑا، گھڑا، ۱۱۔ مثل، مٹھیا، مٹھی کا شکا۔ گاگر۔  
 گھڑوں پانی پڑ جانا ۱۱۔ محاورہ، نہایت شرمندہ ہو جانا۔ شرم کے ماسے  
 پسینہ پسینہ ہو جانا۔  
 گھڑے لٹھانا ۱۱۔ محاورہ، گھڑے کا پانی بہانا، بہت شرمندہ کرنا۔  
 گھڑا، گھڑا، ۱۱۔ مثل، مٹھیا، مٹھی کا شکا۔ گاگر۔  
 گھڑا دن ۱۱۔ مثل، دن، ۱۱۔ مثل، گھڑنے کی اُہرت۔  
 گھڑائی ۱۱۔ مثل، مٹھیا، مٹھی کا شکا۔ گاگر۔  
 گھڑت۔ ساخت۔ بنا دت۔  
 گھڑت۔ گھڑت، ۱۱۔ مثل، ساخت، بنا دت۔ تصنع، ۲، بنائی  
 ہوئی بات۔ جھوٹی بات۔  
 گھڑا گھڑا، گھڑا، گھڑا، ۱۱۔ مثل، گھڑا گھڑا کی آواز۔ گاڑی یا چکی  
 چلنے کی آواز۔ گھڑا گھڑا بھی مستعمل ہے۔  
 گھڑنا، گھڑنا، ۱۱۔ مثل، مٹھیا، مٹھی کا شکا۔ گاگر۔  
 زیور بنانا، جھوٹی بات بنانا، ۵، قلم۔ پنسل بنانا، ۲، روٹی بنانا۔  
 ۲، مارنا۔ زد و کوب کرنا، ۸، گزرتا، واقع ہونا، ۱۱۔  
 گھڑت۔ گھڑت، ۱۱۔ مثل، گھڑت۔  
 گھڑ و بچی۔ گھڑ۔ گھڑ، ۱۱۔ مثل، گھڑا، گھڑا، ۱۱۔ مثل، گھڑا، گھڑا، ۱۱۔  
 گھڑی۔ گھڑی، ۱۱۔ مثل، گھڑی کا ۲۵ حصہ۔ ۳۳ منٹ کا وقت۔ رات  
 دن کا ساتھواں حصہ۔ ساعت، ۲، وقت، زمانہ، ۳، سال، ۳، وقت بتانے  
 کا آلہ، دم، گھڑا کی تصغیر۔ جھوٹا گھڑا۔  
 گھڑی بھاری ہونا ۱۱۔ محاورہ، گھڑی کا گزرتا نہایت دشوار ہونا۔ وقت  
 مشکل سے گزرتا۔  
 گھڑی بھر۔ ۱۱۔ تاہم فعل، ایک گھڑی، ایک ساعت، ۲، لمحہ بھر۔ طغ بھر۔  
 گھڑی بھر کی بے شرمی، سانسے دن کا آرام۔ ۱۱۔ مثل، بے شرم کچھ نہ کچھ  
 حاصل کر لیتا ہے۔ عموماً زندگیوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔  
 گھڑی بھر میں۔ ۱۱۔ تاہم فعل، دم بھر میں۔ ایک لمحہ میں۔ فوراً۔  
 گھڑی میں کی اس نہیں کہے کال کی بات ۱۱۔ مثل، دم بھر کا بھر سا نہیں  
 کل کی نسبت بات کہتے ہیں۔  
 گھڑی پہاڑ ہونا ۱۱۔ محاورہ، وقت مشکل سے گزرتا۔  
 گھڑی دو گھڑی۔ ۱۱۔ تاہم فعل، گھوڑی دیر میں۔  
 گھڑی ساز۔ ۱۱۔ مثل، گھڑی کی مرمت کرنے والا۔  
 گھڑی ساعت ہونا ۱۱۔ محاورہ، مرنے کے قریب ہونا۔ کوئی دم کا مہمان ہونا  
 دم توڑنا۔  
 گھڑی کوٹنا ۱۱۔ محاورہ، گھڑی کو چابی دینا۔  
 گھڑی گھڑی۔ ۱۱۔ تاہم فعل، دم بھر۔ لمحہ بھر۔ لمحہ بھر۔ بار بار پے  
 در پے۔ متواتر۔ گاتار۔







گھنٹی سادھنا - ۱۶۔ محاورہ، جان کر خاموش ہو جانا۔  
 گھنٹی سمسسی - ۱۱۔ مٹا، مٹ کر۔ دیدہ دانستہ جنگ کتنے کے لیے چپ سادھ جانے والی۔  
 گھنٹیا - رنگن، سیا، نا، ۱۶۔ (مض) کسی مکروہ چیز سے طبیعت کا لگن کھانا۔ گندی چیز سے نفرت کرنا۔  
 گھنیرا گھنیری - مد کو۔ نے، را، گھ۔ نے، ری، ۱۶۔ صفت، گھنا، گہرا، بہت۔  
 گھنٹیس - گھنٹیش - رنگ، نیش - گھ، نیش، ۱۶، ۱۰۔ مذم - ایک آبی بوند سے کا نام۔ دھنٹیس۔  
 گھو - گھو، ۱۶، ۱۰۔ مذم، ایک کیڑے کا نام جو پانی کے کنارے رہتا ہے، ۱۶۔ سرکنڈے کے اوپر کا پھول جو روٹی کے مانند ہوتا ہے۔  
 گھوٹ - گھوٹ، ۱۰، ۵۰۔ مذم، گھوٹا، پائش۔  
 گھوٹا - گھوٹا، ۱۰، ۵۰۔ مذم کا مذ گھوٹے کا مہر اوصاف یا چمکلا بنانے کا اوزار (۲)۔  
 آسترے سے سر یاد اڑھی کی صفائی، چار اڑو کا صفنا۔  
 گھوٹا - گھوٹا، ۱۰، ۵۰۔ (مض) رگڑنا، حل کرنا، باریک کرنا، مہرے سے صفائی لانا، ۱۶۔  
 گھوٹا - گھوٹا، ۱۰، ۵۰۔ (مض) آسترے سے اس طرح منڈوانا کہ گھوٹتی جنگ باقی نہ رہے۔  
 گھور - ۱۰، ۱۶۔ مذم و صفت، غلاظت، میل، چرک (۲) خوفناک، مہیا، تک، ڈراؤنا۔  
 گھور - ۱۶، ۱۰۔ مذم، نظر بندی، غصہ کی نظر، ۱۶، ۱۰۔ مذم، شب۔  
 گھور گھور دیکھنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، تند نظر سے دیکھنا۔  
 گھورا - گھور، ۱۰، ۱۶۔ مذم، چوپایوں کے رہنے کی سایہ دار جگہ۔  
 گھورا - گھور، ۱۰، ۱۶۔ مذم، وہ جگہ جہاں کوڑا کرکٹ کھینکا جائے (۲)۔  
 گھورا - گھور، ۱۰، ۱۶۔ مذم، وغیرہ جو خاک روپ صاف کیے جاتے ہیں۔  
 گھورا - گھور، ۱۰، ۱۶۔ مذم، نظر بازی، ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے بخور دیکھنا۔  
 گھورچی - گھورچی، ۱۰، ۱۶۔ مذم، آگے کی گرہ - اٹھیں۔  
 گھورنا - گھورنا، ۱۰، ۱۶۔ (مض) ٹھنکی ہانڈھ کر دیکھنا، غور سے دیکھنا، ہنگی کی نظر سے دیکھنا، تیز نگاہ سے دیکھنا، دیار بازی کرنا، محبت کی نظر سے دیکھنا، آنکھیں طمانا۔  
 گھوری - گھوری، ۱۰، ۱۶۔ صفت، غلیظ، میلا، گندا۔  
 گھوڑا - گھوڑا، ۱۰، ۱۶۔ مذم، ایک چوپایہ جس کے سُم ٹھوس ہوتے ہیں اور دم اور بال لمبی ہوتی ہے اور سواری کے کام آتا ہے (۲)۔ اسب مرکب - قوسن (۳)۔ شطرنج کا ایک مہرہ، دم، بندوق کا گنا۔ دو چوہنی جس کے دبانے سے بندوق ملتی ہے۔  
 گھوڑا اٹھانا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کو دوڑانا، گھوڑا بھگانا۔  
 گھوڑا اٹھانا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کو سر پٹ دوڑانا۔  
 گھوڑا اڑنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کا بگڑے نہ ہونا۔ گھوڑے کا سر پٹ کرنا۔  
 گھوڑا اٹھنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے پر پہلی بار سواری کرنا۔

گھوڑا اٹھنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کا روگردان ہونا۔ واپس مڑ جانا۔  
 گھوڑا اور پھوڑا جتنا رولو اتنا ہی بڑھے - ۱۱۔ منس (دو دنوں پر ہاتھ پھیرا) جلتے تو بہت بڑھتے ہیں۔  
 گھوڑا بڑھانا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کو آگے کرنا، ۱۶۔ گھوڑا تیز چلانا۔ گھوڑا دوڑانا۔  
 گھوڑا بڑھ جانا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کا سبقت لے جانا۔  
 گھوڑا اٹھ جانا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کا بند بند تھاک کر بھڑکنا۔  
 گھوڑا پالانا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے پر کھانا یا زین رکھنا۔  
 گھوڑا پائے پر چڑھانا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، بندوق کے ٹکٹے کو چٹانے پر زور ڈالنے کے لیے اٹھانا۔  
 گھوڑا پھیرنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کو سدھانا، ۱۶۔ گھوڑے کو واپس کرنا۔  
 گھوڑا چھینکنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کو کسی چیز کے پیچھے دوڑانا، گھوڑا ڈالنا۔  
 گھوڑا حراش یا ہونا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کا کھپکھپانا، گھوڑا بھڑکنا۔  
 گھوڑا چھڑھنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، بندوق کی چانپ کو ٹوٹی پر بندوق دانسنے کے لیے چڑھانا۔  
 گھوڑا اچھکنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کو تیز چلانا۔  
 گھوڑا چھوڑنا - گھوڑے کو گھوڑی پر بچھنے کے لیے بڑھانا، ۱۶۔ گھوڑا دوڑانا۔  
 گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑنا، ۱۶۔ جتنے ہوئے گھوڑے کو گاڑی سے نکلانا، ۱۶۔ گھوڑے کو جسے کے لیے کھلا چھوڑنا۔  
 گھوڑا داغ ہونا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، ہونا، سواروں کے زمرے میں لوکر ہونا۔  
 گھوڑا دوڑانا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑا بھگانا۔ گھوڑے کو سر پٹ کرنا، گھوڑا تیز چلانا۔  
 گھوڑا ڈالنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کو سر پٹ دوڑانا، ۱۶۔ گھوڑے کو کسی کے پیچھے لیکھنا۔  
 گھوڑا امان کئے نیچے ہونا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کی سواری ہونا۔  
 گھوڑا اکستا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑا سواری کے لیے تیار کرنا۔  
 گھوڑا اگھاس سے آشنائی کرنے تو بھوکا مٹے - ۱۶۔ مثل، مزدور مزدوری دے تو بھوکا مٹے، معاملے کی جگہ موت برتنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنا مطلب کوئی نہیں چھوڑنا۔  
 گھوڑا گھڑ سال ہی میں قیمت پاتا ہے - ۱۶۔ مثل، ہر چیز اپنی ہی جگہ قابل قدر ہوتی ہے۔ گھوڑے کی پوری قیمت تھان ہی پر ملتی ہے۔  
 گھوڑا مارنا - گھوڑا بھگانا۔ گھوڑے کو ایڑ لگانا۔  
 گھوڑا ملا لو کوڑا بھی مل جائے گا - ۱۶۔ مثل، بڑا کام، بوجھ تو چھوٹے کی کیا ٹکڑوہ بھی ہو جائے گا۔  
 گھوڑا نکالنا - ۱۰، ۱۶۔ محاورہ، گھوڑے کو گاڑی کے لیے سدھانا، گھوڑے کو سواری کے قابل بنانا، ۱۶۔ گھوڑے کو آگے لے جانا، گھوڑا بڑھانا، ۱۶۔ محرم کے دنوں میں شیوں کا ڈنڈل نکالنا۔

گھوڑوں کو گھرنی دُور ۱۶۔ مثل گھوڑوں کے آگے مسافت اور فاصلہ کچھ چیز نہیں۔ دُور کر ڈرا پہنچ جاتے ہیں۔ کام کرنے والے کے لیے سب کچھ آسان ہے۔

گھوڑے بیچ کر سونا ۱۶۔ عمارہ ۲ پاؤں پھیلا کر سونا بے فکری سے سونا۔ گھوڑے جوڑے کی خیر ۱۶۔ دعا میں بومی اور سواری کا گھوڑا سنا ہے۔

گھوڑے دوڑانا ۱۶۔ عمارہ ۲ کرنا یہ بہت محنت کرنا۔ بہت کوشش کرنا۔ دور کی باتیں سوچنا۔

گھوڑے دوڑیے ۱۶۔ مثل، خواہش، طاقت یا قوت کا تخم بھانا۔ گھوڑے سوار ۱۶۔ مذرا سب سوار۔ گھوڑے جلد باز۔

گھوڑے کولات اور آدمی کو بات ۱۶۔ مثل، نادان کو مار پیٹ اور آدمی کو اشارہ کرنا ہے۔

گھوڑے کی دم بڑھے گی تو اپنی ہی کھلی اڑائے گا ۱۶۔ مثل ہر شخص اپنی ترقی سے خود ہی فائدہ اُٹھاتا ہے۔ اُوروں کے کام نہیں آتا۔

گھوڑے کی شادی کرنا ۱۶۔ عمارہ ۲ گھوڑا بچپنا رچو گھوڑے کی نسبت بچپن کا لفظ استعمال کرنا برا سمجھتے ہیں۔ اس لیے بچپن کی بجائے شادی کرنا کہتے ہیں۔

گھوڑے کے دانت کی سیاہی ۱۶۔ دانت کی سیاہی جس سے گھوڑے کی عمر کا اندازہ لگا جا سکتا ہے۔

گھوڑے گھوڑے لڑیں۔ موحی کا زین لڑے ۱۶۔ مثل زبردستی کچھ کچھوں میں کمزور نفع نقصان پہنچائیں۔ کرے کوئی بھیرے کوئی۔

گھوڑے کے گھول کا لاج آیا ۱۶۔ مثل، شرفین گئے ہو قوف ان کی جگہ قائم مقام ہوئے۔

گھوڑی ۱۶۔ (گھوڑی، ۵)۔ ۱۔ مثل، گھوڑی کا تائیت ۱۶، مادہ اسب۔

۱۶۔ سو پان بنانے کا آکر رس وہ لکڑی جو گھوڑے کے تھپنے کیلئے تیار کیے جیسے گھوڑی کر دیتے ہیں ۱۶، کچرا ڈالنے کی جوتی تپانی ۵، بچوں کا ایک کیل یعنی جس کی چلی لیں اُسے گھوڑی کہتے ہیں ۱۶، بانس کے بیج میں سے چری ہوئی لکڑی جس سے تھنے کے وقت کھال دبا کر کاٹتے ہیں۔

گھوڑی چڑھانا ۱۶۔ رسم ادا کرنا ۱۶، چری ہوئی لکڑی سے بچے کے عضو مخصوص کی کھال بچوڑا کرنا ۱۶، بات چڑھانا۔

گھوڑی چڑھنا ۱۶۔ تندرست ہو کر کسی مندس جگہ دھوم دھام سے شکرے صحت ادا کرنے کے لیے جانا ۱۶، تمذ کی رسم ادا ہونا ۱۶، دلہان کو دلہن کے مکان پر جانا۔

گھوس ۱۶۔ ۱۔ مذرا ایک قسم کا بڑا جہا۔ گھوس ۱۶، رشوت۔

گھوس دان ۱۶۔ ۱۔ مذرا چھبے دان۔ جس میں جہے کھلتے ہیں۔

گھوسنت ۱۶۔ ۱۔ مذرا آؤ۔ چھوٹا آؤ۔

گھوسلا ۱۶۔ گھوسن، لا ۱۶۔ ۱۔ مذرا مرہوں کا ایک قبیلہ۔

گھوسم گھولنا ۱۶۔ گھو۔ سم گھولنا، سا ۱۶۔ ۱۔ مذرا مکا بازی۔ مار کٹائی۔

زود کوب ۱۶۔

گھوسن ۱۶۔ گھوڑن، ۵)۔ ۱۔ مثل، گوان۔ دودھ بچنے والی۔

گھوسی ۱۶۔ گھو، ہی، ۵)۔ ۱۔ مذرا گائے بھینس پرانے والا ۱۶، گھاس کا ٹنڈا لگھیا ۱۶، ۳)۔ گوالا۔ دودھ بچنے والا۔

گھوس ۱۶۔ ۱۔ مذرا گھوس، گھول کی آواز ۱۶، چنگھاڑ۔ دباڑ ۱۶، زبان ۱۶، گوالا کے سہنے کا مقام ۱۶، گوالوں کی ذات ۱۶، بنگالی کا سٹھلہ کی ایک گوت۔

گھولنا ۱۶۔ گھو، یک ۵)۔ ۱۔ مصل ۱۶، سب کا بار بار ٹھنڈا کرنا۔ یاد کرنا۔

گھوس ۱۶۔ گھو، سن، ۵)۔ ۱۔ مذرا برت۔ غصیل۔ کڑکچ۔

گھولی ۱۶۔ گھو، گی، ۵)۔ ۱۔ مثل، حبیب۔ کیسہ ۱۶، گھلی۔ فاختہ۔ ٹوڑو۔ گھول ۱۶۔ مثل، گھولنا۔ مصدر کا صیغہ امر۔

گھولا ۱۶۔ گھولا، ۵)۔ ۱۔ مذرا پانی میں مل کر ہوئی انہوں۔ گھولوا ۱۶۔ ایک قسم کی مچھلی۔

گھول پینا ۱۶۔ گھول پلنا ۵)۔ ۱۔ مصل ۱۶، شریک طرح پانی میں ڈال کر پی جانا ۱۶، کچھ بھی نہ سمجھنا بیچ جانا ۱۶، مار ڈالنا۔

گھول کے پلانا ۱۶۔ عمارہ ۲ تعویذ گھول کے پلانا ۱۶، کسی کو جلد کچھ سیکھا دینا۔

گھول کھال کے ۱۶۔ گھولن۔ گھال۔ کے ۱۶، تابع فعل ۱۶، گھول کے پانی میں حل کر کے۔

گھول کھالا ۱۶۔ گھولم۔ گھالا، ۵)۔ ۱۔ مذرا ۱۶، گھولی ہوئی انہوں ۱۶، شکل میں پھینسا۔

گھول میل ۱۶۔ گھول میل ۵)۔ ۱۔ مذرا میل جول۔ میل ملاپ۔

گھولنا ۱۶۔ گھولنا، ۵)۔ ۱۔ مصل ۱۶، پانی یا کسی رقیق چیز میں کچھ ملانا۔ حل کرنا۔

گھولوا ۱۶۔ گھول ۵)۔ ۱۔ مذرا پانی میں مل کر ہوئی انہوں۔ گھولوا کرنا ۱۶، عرق ۱۶، شہد با بیچ دینا۔

گھولوا پڑنا ۱۶۔ عمارہ ۲ کسی کام میں دقت پیش آنا۔

گھولوا گھولنا ۱۶۔ عمارہ ۲ رقیق بنانا۔ گھول کر پینا کرنا ۱۶، انہوں کو پانی میں حل کرنا ۱۶، دیر لگانا۔ ڈھیل کرنا

گھولے میں پڑنا ۱۶۔ عمارہ ۲ غلاب میں پڑنا۔ کسی ایسے کام میں پڑنا جو تمام نہ ہو۔

گھولے میں ڈالنا ۱۶۔ عمارہ ۲ کھیرے میں ڈالنا۔ شش پنج میں ڈالنا۔ ٹھالی ہو کر متحول کرنا۔ آج کل کرنا۔

گھولنا کھاتا ۱۶۔ گھولم۔ تا۔ کھام۔ تا ۱۶، صفت ۱۶، پھرتا پھرتا۔

گھولتی کھامتی ۱۶۔ گھولم۔ تی۔ کھام۔ تی ۱۶، صفت ۱۶، پھرتی پھرتی۔ گھولتا کھامتا ۱۶۔ عمارہ ۲ چکر لگانا۔ دودھ کرنا۔ سیر کرنا۔

گھولتی ۱۶۔ گھولم۔ ہی، ۵)۔ ۱۔ مثل، دوران سر۔ سرزد۔

گھونٹا - گھونٹا، نا، ۱۰۱ - صفحہ تجربہ کار غرائط - ہوشیار۔  
 گھونٹنا - گھونٹنا، نا، ۱۰۶ - (مصل) برقی طرح سینا، ۲۲ - گھسیڑنا - جھونکن۔  
 گھونٹ ۱۰ - ۱۰۱ - مذم تجربہ جھینگی، پانی یا کسی رقیق چیز کی وہ مقدار جو ایک ذوقِ خلق سے اترے (۲) تھکے کا دم - شش۔  
 گھونٹ آنا - ۱۱ - محاورہ گھونٹ خلق کے نیچے جانا۔  
 گھونٹ بھڑنا - ۱۲ - محاورہ تجربہ پینا ۲۲ تھکے کا دم لگانا۔  
 گھونٹنی کر رہ جانا - ۱۱ - محاورہ رکنا پینا، غصہ، ضبط کرنا۔  
 گھونٹ بھونٹ کر کے پینا (آنا) - ۱۱ - محاورہ ذرا ذرا پینا بھونٹا۔  
 گھونٹ کر کے پینا۔  
 گھونٹ گھونٹ کر کے (رکھنا) - ۱۱ - محاورہ مجبور کر کے رکھنا بھونٹنا۔  
 گھونٹ گھونٹ کر مارنا - ۱۱ - محاورہ رنج دے دے کر مارنا۔ جلا جلا کر  
 مار مارنا ۲۲ اندرونی مار دینا۔  
 گھونٹ لگانا - ۱۲ - محاورہ تھکے کا دم لگانا۔  
 گھونٹ لینا - ۱۱ - محاورہ پانی کا گھونٹ لینا ۲۲ تھکے کا دم لینا۔  
 گھونٹنا - گھونٹنا، نا، ۱۰۶ - (مصل) گلا دھانا - دم روکن - سانس بند کرنا ۲۲،  
 تنگ کرنا - دق کرنا۔  
 گھونٹنا - گھونٹنا، نا، ۱۰۶ - (مصل) گھونٹنا جل کرنا - رکھنا ۲۲، کسی چیز سے دگر  
 کے کا ذکر بچانا کرنا ۲۳، کسی چیز کو اولیٰ یا کسی اور طرف میں ڈال کر دستہ یا  
 ہلکڑی سے پینا ۲۴، بار بار رشتنا۔  
 گھونٹوانا - (گھونٹ - وا، نا، ۱۰۱ - (مصل) گھونٹنا کا متعدی متعدی ۲۲، استر  
 سے طوطی اس طرح منڈانا کر پال کی گھونٹی تک کا نشان بھی باقی نہ رہے۔  
 گھونٹ دیکھنے گھونٹانا۔  
 گھونٹی - (گھونٹی، ۱۰۱ - ۱۰۱ - مٹ) ایک دو ان جو نولودینے کو اس کا بیٹ صاف  
 کرنے کیلئے دیتے ہیں گھونٹی زیادہ مستعمل ہے۔  
 گھونس - (۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) گھونس دا، پڑا جو ہار، رشوت۔  
 گھونسا - (گھونسا، نا، ۱۰۶ - ۱۰۱ - مذم) گھونسا، رشوت، رشوت، رشوت، رشوت۔  
 گھونسا جڑنا - گھونسا جھلانا - گھونسا مارنا - گھونسا لگانا - ۱۱ - محاورہ  
 مکا لگانا۔  
 گھونسا لکنا - ۱۶ - محاورہ اچھا بگ صدہ ہونا۔  
 گھونسوں کا کیا اُدھار - ۱۱ - (مصل) ہرم کی سز میں کیلاہر - مار کا بڈلا فوراً۔  
 گھونسوں لڑنا - ۱۱ - محاورہ مگوں سے لڑنا، دگ، بازی کن۔  
 گھونسللا - (گھونٹس، ۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) ہرندوں کا گھر، آشیانہ ۲۲، چھوٹا گھر۔  
 جھونپڑا۔  
 گھونسلنا بنا نا - ۱۱ - محاورہ ہرندوں کا گھر یا آشیانہ بنانا، چھوٹا سا گھر تعمیر کرنا، (۱۰۱ - ۱۰۱)  
 کسی کو معمول سی ملازمت دلانا۔  
 گھونسلنا نوچنا - ۱۱ - محاورہ آشیانہ کو دریاں کرنا۔  
 گھونٹس گھاسا - (گھونٹس - ستم، گھا، سا، ۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) گھونٹس گھونٹس۔  
 زڈ کوک۔  
 گھونٹس - (گھونٹس، نا، ۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) رشوت خوار کھٹو یار۔  
 گھونٹکا - (گھونٹ، نا، ۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) ایک قسم کے دیانی کیڑے کا خول جو بڑی کی مانند

سیسی یا سیکو کی قسم سے ہے۔  
 گھونٹ گھونٹ - گھونٹ گھونٹ - گھونٹ گھونٹ - ۱۰۱ - ۱۰۱ - (مصل) برقع - نقاب  
 بدمہ چادر کا منہ پر پڑا، اوکھا ۲۲، روک جھاب - دروازے کی اندرونی دیوار  
 پر ۲۲، شرم - جہا - لاج - لحاف۔  
 گھونٹ گھونٹا اٹھانا - ۱۱ - محاورہ پردہ دور کرنا - دلہن کا سامنے ہونا ۲۲،  
 پردہ اُٹھانا کرنا۔  
 گھونٹ گھونٹا لکنا - ۱۱ - محاورہ دلہن کا بے جھاب ہونا ۲۲، گھونٹ بھادینا۔  
 گھونٹ گھونٹ کا چراغ ڈالنا - ۱۱ - مذم ایک قسم کا چراغ ڈالنا۔  
 گھونٹ گھونٹ کا چھٹنا - ۱۱ - محاورہ گھونٹ لگانا۔  
 گھونٹ گھونٹ کرنا - ۱۱ - محاورہ پردہ کرنا، ڈوپٹے سے منہ چھپانا ۲۲، لحاف کرنا۔  
 شرم کرنا ۲۳، گھونٹے کا اپنی گردن کو چھبے کی طرف موڑنا ۲۴، فتح  
 کا پھینکا ہونا۔  
 گھونٹ گھونٹ گھانا - ۱۱ - محاورہ لشکر یا فوج کا ٹر جانا یا رخ بدنا ۲۲، شکست  
 کھانا، منہ موڑنا، جھگ لکھنا۔  
 گھونٹ گھونٹ لکنا - ۱۱ - محاورہ پردہ یا جھاب دور کرنا، منہ دکھانا۔  
 گھونٹ گھونٹ کی دیوار - ۱۱ - مذم دروازے کے سامنے کی اندرونی دیوار  
 پر دے کی دیوار۔  
 گھونٹ گھونٹ لینا - ۱۱ - محاورہ گھونٹ چہرے پر لینا، منہ چھپانا۔  
 گھونٹ گھونٹ لکنا - ۱۱ - محاورہ پردہ کرنا، منہ چھپانا۔  
 گھونٹ گھونٹ والی - ۱۱ - محاورہ برقع پوش عورت۔ پردہ دار - حیوادالی شرم  
 والی ۲۲، دلہن عروس۔  
 گھونٹ گھونٹ (۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) ہاؤں کا قدرتی بیج و تخم۔  
 گھونٹ گھونٹ والے ہال - گھونٹ گھونٹ والے ہال - ۱۱ - مذم بیج در بیج ہال - جڑے  
 جڑے ہال۔  
 گھونٹ گھونٹ - (گھونٹ، ۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) ایک قسم کا زلیور جو پاؤں میں جھپٹے ہیں  
 اور ہر ۱۳ ہالوں کے گلے میں ڈالتے والی جھپٹی سی گھونٹ - گھونٹ گھونٹ۔  
 گھونٹ گھونٹ - (گھونٹ، گھی، ۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) مٹی کا لکایا ہوا گھونٹ کے شکل کا گڑا۔  
 جو کھجور کے بیج میں کھریل میں رختہ بندی کرنے کے لیے رکھتے ہیں ۲۲، ایک  
 زڈ کیڑے کا نام۔  
 گھونٹ گھونٹ (۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) گھونٹ گھونٹ، اُٹے ہوئے پتے گھونٹ گھونٹ وغیرہ۔  
 گھونٹیاں - ۱۱ - مذم) ایک قسم کی ترقاری - آروی۔  
 گھونٹ گھونٹ (۱۰۱ - ۱۰۱ - مذم) روغن تندہ چھلایا ہوا کھن ۱۰۲، صف، نرم، ملائم۔  
 گھونٹ گھونٹا - ۱۱ - محاورہ گھی بذب کرنا۔  
 گھی جاٹ کا تیل ہارٹ کا - ۱۱ - مذم) گھی زمیندار کے ہاں ہی خالص مل سکتا ہے  
 اور تیل دکاندار کے ہاں کیونکہ وہاں پڑا رہنے سے اس کی میل بیٹھ جاتی ہے۔  
 گھی جھڑنا - ۱۱ - (مصل) مرکب آروی کی چیز پر تھوڑا سا گھی لگانا۔  
 گھی داغ کرنا - ۱۱ - محاورہ گھی کا تالا لگانا۔ گھی کو لڑانا۔  
 گھی سنوارے (دسائن) کام بڑی، مہو کا نام - ۱۱ - مذم) کرے کوئی نام کسی کا  
 ہو۔ لذت گھی سے درست ہوئی ہے اور نام پلکنے والی کا ہو جاتا ہے۔  
 گھی کا تیل لکھنا - ۱۱ - محاورہ روغن زرد کا لکھنا، ۲۲، کسی بہت بڑے رئیس، امیر





گیارھواں - رگ - بارہ - ۵۶ - ۵۷ - ص ۱۲ - دسویں کے بعد کا گیارہ سے منسوب -

گیارھویں - رگ - بارہ - ۵۶ - ۵۷ - ۱ - ص ۱۲ - دسویں کے بعد ۲۰ حضرت خوش الاعظم کی نیاز جو گیارھویں ذیح الاخر کو دی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہر قمری مہینے کی گیارھویں تاریخ کو دیتے ہیں -

گیارہواں - رگ - آن، اس - ۱ - ص ۱۲ - علم - دانش - عقل - فہم - علم الہی - علم معرفت - عرفان -

گیان چرچا - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - علمی یا مذہبی ذکر اذکار - علمی یا مذہبی مباحثہ - گیان چوتھوں - ۵۱ - ۱ - ص ۱۲ - ایک قسم کی چور جو کاغذ پر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور پانچ یا سات کوڑیوں سے پھیلی جاتی ہے -

گیان دورانا - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - محاورہ - بہت سوچ - بچار کرنا - سوچ میں ڈوب جانا -

گیان دان - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - عالم - فاضل - دو دان -

گیانی - رگ - آن، اس - ۱ - ص ۱۲ - عارف - خدا شناس - عالم - فاضل -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - امری گھاس - خشک گھاس - کاہ -

گئے پچھارے روز سے رستے ایک کم نہیں - ۱۶ - مثل - جب پہلا روزہ رکھ لیا تو باقی کے پچھارے برابر رکھو - ۱۲ - جب ایک مشکل کام کا کوئی حصہ کر لیا تو وہ آسان نظر آئے گا -

گئے تھے روزے بخشوانے نماز گلے طہی گئے تھے نماز بخشوانے روزے گلے پڑے - ۱۶ - مثل - ایک کام سے ہند کر لیا - دوسرا کام اور سپرد ہو گیا - اٹلے تینے کے دینے پڑے -

گئے گزرے - ۱۶ - ص ۱۲ - بوجہ ناکارہ - بیکار - بے وقعت - گئے گزرے زمانے میں - ۱۶ - مثل - بُرے وقت میں نفسی میں تنگ دستی ہیں -

گئے وقت میں - ۱۶ - تا ب فعل - بُرے وقت میں - بد اقبالی کے زمانے میں -

## گ۔ ی

گی - ۱۳ - لاحقہ مستقبل - گالی تانیث - ۱۶ - لاحقہ - اسم کیفیت - وہ لاحقہ جو ہائے معنی پر جمع ہونے والے کو دور کر کے "گی" کے بڑھانے سے اسم کیفیت بنا دیتا ہے - جیسے کشیدہ سے کشیدگی - سنجیدہ سے سنجیدگی وغیرہ - گے - ۱۲ - لاحقہ مستقبل - گالی جمع -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - سابقہ - گذشتہ - ۲۰ - چلا گیا - ۳ - گزرا جاتا رہا -

گیارہ اور آیا - ۱۶ - ص ۱۲ - فوراً واپس آنے کے لیے بولتے ہیں -

گیارہ بیٹا - گزرا ہوا - پچھلا ہوا - نکما - ناکارہ - ناقابل استعمال - بیکار - ۳ - خواب - بڑا -

گیارہ گزرا - ۱۶ - ص ۱۲ - گزرا ہوا - رفتہ - گذشتہ - ۲۰ - معدوم - مفقود - ۳ - ناکارہ - نکما - بیکار - ۳ - خواب - بڑا -

گیارہ بیکار - ۳ - خواب - بڑا - ۲۰ - کم حوصلہ - بزدل - ۲۰ - نہایت کمزور - ناقابل - ۲۰ - بے حیثیت - ناچیز - بے قدر - ۱۸ - بے شرم - بے حیا - بے غیرت - نالائق - بد چلن - ۱۹ - مفلس - غریب - فلتاش - ۱۰ - ناقابل قبول -

گیارہ - ۱۱ - تا ب فعل - وہ وقت جو گزر چکا ہو - ۲۰ - خوشی سے گزرا ہوا زمانہ -

گیارہ وقت پھر ہاتھ آتا نہیں - ۱۶ - مثل - گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں مل سکتا جو موقع ہاتھ سے نکل جائے - پھر میسر نہیں آتا - فرصت کو غنیمت سمجھو -

گیارہ بھگ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - حیوان کا عمل - گامبھ -

گیارہ ڈالنا - ۱۶ - ص ۱۲ - محاورہ - حمل کرنا - ۲۰ - خوف کے مارے وقت سے پہلے بچہ جن دینا - ۳ - بے حد ڈرنا -

گیارہ بھن - گیارہ بھن - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - اپٹ والی حاملہ - لفظ ظہن حیوانوں کے لیے آتا ہے -

گیارہ - رگ - بارہ - ۵۶ - ۱ - ص ۱۲ - ایک اور دس (۱۱) -



گیلا - اُگی - لا، ۵۱، صفت، بھگا ہوا، نم آلود تر۔  
گیلا سیلا - ۱۱، صفت، اسل کی وجہ سے نم۔  
گیلا ہونا - ۱۱، صفت مرکب، بھگانا، تر ہونا۔

گیلانی - اُگی - لا، نی، (ف) صفت، عراق کے ایک صوبہ یا نواح بغداد کے ایک گاؤں گیلان سے منسوب۔ گیلان کا رہنے والا۔ سبب غوث الاعظم کا لقب کیونکہ گیلان میں پیدا ہوئے عربی والوں نے اس لفظ کو جیلانی بنا لیا ہے۔

گیلری - (Gallery) - اُگے - ن، برنی، ۱۶، انگ - ۱، مرث، والاں۔ برآمدہ (۲)، کمرے کے اندر کا چھو۔ شہ نشین (۳)، تھیلر، سب سے اونچی نشست (۴)، گیلری میں بیٹھنے والے لوگ (۵)، ادنیٰ طبقہ کے حاضرین یا نظارین (۶)، تصویر خانہ، رنگ عمل۔

گیلا - اُگے - لا، ۱۰، صفت، پہلے خانہ کا وہ بچہ جسے عورت اپنے ساتھ دوسرے خانہ کے ہاں لائی ہو۔

گیلن - اُگے - ن، (Gallon) ۱۱، انگ - ۱، مرث، اسپال اور ترقی اشیائے کاپیانہ۔ جو دوسرے دس چھٹانک کے برابر ہوتا ہے۔

گیلی - اُگے - لی، ۱۰، ۵۱، مرث، اتنے کا کافی ہونی کو کلاسی جس سے ہتیر نکلتے ہیں۔

گیلی - اُگے - ی، یوقوف عورت (ق) - ۱۔

گیلی - اُگے - لی، ۱۱، انگ - ۱، مرث، چھانچے خانے کی اصطلاح میں کڑوی کا وہ خانہ جس میں کمپوز شدہ ٹاپ کی قطاریں لگی ہوں۔

گیلی - اُگی - لی، (ف) صفت، گیلان کا رہنے والا۔ گیلان کی رہنے والی۔

گیلی - اُگی - لی، (ف) صفت، گیلان کی تانیٹ۔ بھیلگی ہوتی۔

گیلی کڑوی سیدھی، ہو سکتی ہے (۱)۔ ٹیل (۲) کی تربیت ہو سکتی ہے۔

گیلی - اُگی - لی، (ف) صفت، گیلان کی جمع۔

گیم - (Game) ۱، انگ - ۱، مرث، کھیل (۲)، کھیل کی ایک بازی۔

(۳)، کسی کھیل کا پورا سامان، رم، دل، کلی، مسخر (۵)، سیر، نفع۔

(۶)، تماشا، سوانگ (۷)، شکار (۸)، شکار کے جانور (۹)، کام۔

منصوبہ - ہم۔

گیگن - (ف) صفت، اگن کا نطفہ۔ جو اسم کے بعد اگر اسے اسم صفت بنا دیتا ہے

اور بھرا ہوا کے معنی دیتا ہے۔ جیسے گلین۔ اندر گین، والا، سرگین، شرگین

گینا - اُگے - نا، ۱۰، ۵۱، مرث، چھوٹے تدرکایل (۲)، مال، دولت (ق) (۳)، جھاڑی۔

گینتی - اُگے - تی، ۱۰، ۵۱، مرث، زمین کھودنے کا ایک لوکار، آہنی

اونار کدال۔

گینینا - اُگینج - نا، (ہ) صفت، ہاتھ سے نل دل ڈالنا۔

گینند - اُگے - ند، ہاتھی۔

گینند - اُگے - ند، ۱۰، ۵۱، مرث، چمڑے کپڑے یا بڑ کا وہ گولا جس سے ٹکے کھینٹے ہیں۔

گینند بلا - اُگے - بلا، ۱۰، ۵۱، مرث، ڈپٹے اور گیند کا کھیل۔ کرکٹ۔

گینندا - اُگے - دا، ۱۰، ۵۱، مرث، گل صدر پرگ۔ ایک قسم کا زرد پھول اور اس کا پودا۔

گیندوا - اُگے - وا، ۱۰، ۵۱، مرث، (۱) تکیہ (۲) بیٹ میں پیدا ہونے والا ایک کپڑا۔

گینڈا - اُگے - ڈا، ۱۰، ۵۱، مرث، بھینٹے کے برابر ایک بڑا شہزور جو پایہ جس کی ناک پر ایک سینگ ہوتا ہے۔ گھال اتنی سخت اور مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی ڈھالیں بنتے ہیں۔

گینڈلی - اُگے - لی، ۱۰، ۵۱، مرث، سوت کا لچھا۔ سوت کی انٹی (۲)، سانپ کا حلقہ بنا کر بیٹھا۔ کنڈلی۔

گینگ - (Gang) ۱، انگ - ۱، مرث، جھٹھا، ٹولی، طائفہ۔ گروہ (۲)، مجرموں کا گروہ (۳)، وہ آلات جن کا سلسلہ ایک دوسرے سے ملا ہو اور ساتھ ساتھ کام کرتے ہوں۔

گینگٹا - اُگے - ٹا، ۱۰، ۵۱، مرث، کپڑا، سرطان۔

گینگٹلا - اُگے - ٹلا، (ق) صفت، بے وقوف۔ سادہ لوح۔

گینتی - اُگے - تی، ۱۰، ۵۱، مرث، چھوٹے قدر کی موٹی گائے۔

گینہان - اُگے - ہان، (ف) صفت، زمانہ۔

گینہان رخدا، خدیو۔ جہاں کا بادشاہ۔ خداوند۔

گینہوں - اُگے - ہوں، (۱)۔ ۵۱، مرث، گندم۔ ایک قوت بخش اناج۔

گیہوں کی بال نہیں دیکھی (۱)۔ مثل، نہایت ناتجربہ کار اور نادان ہے

کھڑے باہر بائیل قدم نہیں رکھا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ گیہوں کا پودا اور اس کی بال کیسی ہوتی ہے۔

گیہوں کی روٹی کو فولادی پیٹ چاہیے (۱)۔ مثل، نعمت کھا کر چپانے کو بھی حوصلہ چاہیے۔ دولت یا گرفتار رہنے کا مادہ چاہیے۔

گیہوں کے ساتھ گھن بھی چاہیے۔ امیروں کے ساتھ غریبوں کی بھی شامت آجاتی ہے۔ گناہ گار کے ساتھ اس کا بے گناہ ساتھی بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ بڑے کے ساتھ چھوٹے بھی دھریا جاتا ہے۔

# ل

ل - لام - (ع - مذ) اردو کا تیسواں، فارسی کا ستائیسواں، عربی کا تیسواں اور ہندی کا اٹھایسواں۔ حساب ابجد میں اس کے تیس عدد مانے گئے ہیں۔ یہ حرف اردو مصدر کو متعدی بنا لیتا ہے جیسے جینا سے جلانا، پینا سے پلانا۔ کبھی متعدی مصدر میں تاکید کی خصوصیت پیدا کرتا ہے جیسے دکھنا سے دکھلانا، بنانا سے بتلانا۔ کبھی الفاظ کے آخر میں آنے سے مصدریت کا فائدہ دیتا ہے جیسے دیکھ جال، چال و حال، کبھی نسبت کے واسطے آتا ہے جیسے بوجھل۔ عربی میں کلمہ کی ابتدا میں اگر تیس کے معنی دیتا ہے جیسے بلند۔ لفظ شوال کا مختلف بھی ہے۔ شمس حرف ہے، اس سے پہلے ال لگایا جائے تو پڑھا نہیں جائے گا البتہ دوسرے لام کو مشدّد کر دے گا جیسے التلطیف۔

## ل - ۱

لائی - (ع - مذ) لوگو کی جمع۔

لا - (۱ - فعل) لانا مصدر کا صیغہ امر۔

لا - (ع - کلمہ نغنی) بغیر بنا - نہیں بنا (۲) الجبر میں مقدار جموں نامعلوم۔

لا ابالی - (ع - ۵ - ف) میں پرواہ نہیں کرتا (۱) نذر - دیہ (۲) بے فکر۔

بے پرواہ - (۳) لامہب - زرد مشرب (۴) شوخ - بے شرم۔

لا ابالی پن - (۱ - مذ) بے پرواہی - بے فکری - شوخی۔

لا ابالی کارخانہ - (ع - ۱ - ف) نہ نسبت پرانتظامی۔

لا اخصی - (ع - متکلمہ) میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث نبوی

کی طرف اشارہ ہے جس کے معنی ہیں (اے خدا) میں تیری صفات

کا شمار نہیں کر سکتا۔ تجھ میں وہ سب موجود ہیں جو تو نے آپ اپنی

نسبت بیان فرمائی ہیں۔

لا اذری - (ع - کلمہ انکار) لا انعم - مجھے معلوم نہیں۔

لا اذریا - (ع - صفت) تشکیک - وہ شخص جسے خدا کے وجود اور

ہر چیز کے بارے میں شبہ ہو۔

لا اذریت - (ع - ۱ - مٹ) تشکیک کا نظریہ کہ ہم خدا اور کسی چیز کے

بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔

لا الہ - (ع - تابع فعل) لا الہ الا اللہ کا مختلف (۲) معاذ اللہ۔

تو یہ ہے۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ - (کلمہ طیب) خدا کے سوا کوئی

پرستش کے قابل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول

ہیں۔

لا بد - (ع - تابع فعل) (۱) بے شک - یقیناً - قطعی (۲) مجبوراً۔

لا بگری - (ع - صفت) لازمی - ضروری - یقینی۔

لا پتیا - (۱ - صفت) بے پتیا - وہ جس کا پتہ نہ ہو - کم - غائب۔

لا پروا - (ع - ۱ - مٹ) بے پروا۔

لا پروائی - (ع - ۱ - ف) مٹ (۱) بے پروائی - غفلت - (۲)

بے خونی۔

لا تخفی ولا تعد - (ع - صفت) لا تعداد - بے حساب - بے شمار۔

آن گنت۔

لا تعداد - (ع - صفت) بے حساب - بے شمار۔

لا ثانی - (ع - صفت) بے مثل - بے نظیر - یگانہ - یکتا - فرد۔

لا جرم - (ع - صفت) بغیر گھونٹ کے ایک ہی سانس میں پی جانا۔

لا جرم - (ع - تابع فعل) (۱) بے شک - یقیناً (۲) مجبوراً۔

لا جواب - (ع - صفت) (۱) خاموش - چپ (۲) مغلوب - عاجز (۳)

چھوٹا (۴) بے نظیر بے مثل - جس کا جواب نہ ہو۔

لا جواب کر دینا - (۱) محاورہ) ہر اوپنا جواب نہ بنے دینا - تھکا دینا۔

بند کر دینا۔

لاچار - (۱ - صفت) (۱) ناچار - لاعلاج (۲) محتاج - غریب - مفلس۔

(۳) بے بس - معذور (۴) ڈاکر - مجبور ہو کر تھک کر - (صحیح نام)

لاچار کرنا - (۱ - محاورہ) (۱) مجبور کرنا - بے بس کرنا - (۲) اپنا بچ کرنا۔

ناکارہ کرنا (۳) مفلس بنانا - تنگ دست کر دینا۔

لاچارگی - (۱ - صفت) (۱) ناچار - مجبوری (۲) محتاج - غریب - مفلس۔

لاچار ہونا - (۱ - محاورہ) (۱) لاعلاج ہونا (۲) مجبور ہونا (۳) عاجز ہونا۔

ڈارنا - تھکنا (۴) محتاج ہونا - (۵) مفلس اور تنگ دست ہونا۔

لاچاروی - (۱) ناچاروی (صحیح) مجبوری (۲) عاجزی - (۳) محتاجی - غریب -

مفلس - معیبت۔

لاچاروی پرست سے بھاری - (۱ - مثل) در ماندگی پہاڑ سے بھی

زیادہ بھاری ہے۔

لا حاصل - (ع - صفت) بے فائدہ - فضول - نکتا - بے کار - بے

لاصل - (ع - صفت) بوجھل نہ ہو سکے - مشکل - دشوار - کٹھن۔

دقیق۔

لا حول - (ع - کلمہ نفرت) اظہار نفرت و حقارت کلمہ۔

(۲) شیطان کے بھگانے اور بھوت پرست دفع کرنے

کا کلمہ۔



لااج - ( Lodge ) ( لاجگ ) ( ۱۔ مٹ ) مکان - منزل عمارت -  
 لاج - ( ۲۔ ۱۔ مٹ ) شرم - حیا - غیرت ( ۲۔ عزت ) آبرو -  
 لاج آنا - لاج لگنا - ( ۱۔ محاورہ ) شرم آنا -  
 لاج رکھنا - ( ۱۔ محاورہ ) آبرو نہ بگڑنے دینا - عزت بچانا - شرم رکھنا -  
 لاج سے مزنا - لاجوں مرننا - ( ۱۔ محاورہ ) بہت زیادہ شرمسار ہونا - شرم  
 کے مارے زمین میں گر جانا -  
 لاج کرنا - ( ۱۔ مٹ ) شرم کرنا -  
 لاج کھانا - ( ۱۔ محاورہ ) شرم کھانا یا آنا -  
 لاج کھونا - ( لگونا ) ( ۱۔ محاورہ ) بے شرم ہو جانا - بے حیا ہو جانا -  
 لاج کی آنکھ جھانسنے سے بھاری - ( ۱۔ مٹ ) عزت اور شرم کے مارے  
 بدل چلی نہ کرنا اور نقصان اٹھانا -  
 لاج بجانا - ( ۱۔ محاورہ ) شرمانا -  
 لاجینا - ( لاج - نا ) ( مٹ ) شرم کرنا -  
 لاجوڑو - ( لاج - وڑو ) ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) نیلے رنگ کا ایک چمکدار پتھر -  
 ( ۲۔ نیل - نیلا رنگ ) -  
 لاجوڑوی - ( لاج - وڑو ) ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) صفت [ لاجوڑو کے رنگ کا گہرا  
 نیلا ] -  
 لاجوتی - ( لاج - وتی ) ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) چھوٹی موٹی کاپودا ( ۲۔ شرم  
 والی - غیرت مند - پاکدامن ) -  
 لاجیا - ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) لڑھی تھم -  
 لاجین - ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) شاہین شکاری -  
 لاجتی - ( لاج - تی ) ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) صفت [ بلا ہوا - پیوستہ - وابستہ - کسی چیز کے  
 پیچھے لگا ہوا ] -  
 لاجتی ہونا - ( ۱۔ مٹ ) چمٹنا - پٹنا - وابستہ ہونا ( ۲۔ مٹ ) کوئی بیماری لگانا -  
 لاجتہ - ( لاج - تہ ) ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) صفت [ لاجتی کی تائینٹ پیچھے لگا ہوا ] -  
 لاجتی - ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) لفظ بنانے کے لیے لفظ کے آخر میں کوئی لفظ لگانا -  
 جیسے نامہ بر - دلبر - جمع لاجتی -  
 لاجو - ( مٹ ) بار - بوجھ - لدا ہوا بوجھ -  
 لاجوچھاند - ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) اسباب باندھنا اور بار کرنا -  
 لاجچلنا - ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) کوچ کرنا - بستر بوریاسمیت کرخصت ہونا -  
 لادوے لداوے ، لڈلے والاساتھوے - ( ۱۔ مٹ ) چہرہ  
 دے ، اُسے لداوے دے اور ایک آدمی بھی دے جو جاگرتا  
 دے - ہر طرح کا بوجھ دوسرے پر ڈالنے والا -  
 لادانا - ( لاد - نا ) ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) اسباب بھجنا - بوجھ رکھنا - بہت سا بوجھ  
 رکھ دینا -  
 لادو - ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) وہ جانور جس پر سامان لادتے ہیں - بوجھ لادنے  
 کے قابل -  
 لادھی - ( لاد - ہی ) ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) بوجھ - بوجھا - دھوبوں  
 کی گھڑی -

لات کا آدمی بات سے نہیں مانتا - ( ۱۔ مٹ ) شریہ اور بمعاش  
 آدمی سختی کے بغیر دست نہیں ہوتا -  
 لات مار کر کھڑا ہونا - ( ۱۔ محاورہ ) بچپن کی تندرستی کے ساتھ اٹھنا -  
 بٹنے سے بچتیت فرخ پانا -  
 لات مارنا - ( ۱۔ محاورہ ) پاؤں کی ٹھوکر لگانا ( ۲۔ مٹ ) نفرت ظاہر کرنا -  
 بے عزتی کرنا - ( ۲۔ مٹ ) ترک کر دینا - چھوڑنا - ہاتھ اٹھانا - دست برد  
 ہونا -  
 لات مکتی - لاتوں اور کٹوں سے مارنے کی لڑائی -  
 لاتوں کا بھوت ( دیو ) باتوں سے نہیں مانتا - ( ۱۔ مٹ ) کہینہ  
 بوجھیاں کھائے بغیر سیدھا نہیں ہوتا -  
 لاتیں چلانا - ( ۱۔ محاورہ ) لاتوں سے مارنا - ٹھوکر لگانا ( ۲۔ مٹ ) دولٹا  
 مانتا -  
 لاتیں کھانا - ( ۱۔ محاورہ ) لاتوں سے مارنا -  
 لات - ( ۱۔ مٹ ) ( مٹ ) بہت اودھناستون یا مینار - لاکھ ( ۲۔ مٹ ) کوشلہ -  
 لات - ( Lord ) [ کامند - ۱۔ مٹ ] ( ۱۔ مٹ ) مالک - آقا ( ۲۔ مٹ ) امیر ( ۳۔  
 مٹ ) برطانیہ کا اعزازی خطاب ( ۴۔ مٹ ) گورنر ( ۵۔ مٹ ) حکم صوبہ -  
 لات پادری - ( ۱۔ مٹ ) بڑا پادری - سب سے بڑا پادری -  
 لات - ( Lot ) ( لٹگ ) ( ۱۔ مٹ ) اڈاپیزوں کا انبار - ڈھیر بھوک -  
 لات بندی - ( ۱۔ مٹ ) چیزوں کے الگ الگ انبار لگانا -  
 لاتری - ( Lottery ) ( لٹری ) ( لٹگ ) ( ۱۔ مٹ ) ایک  
 قسم کی قرعہ اندازی - جوئے کی ایک قسم -  
 لاترنا - ( لٹ - نا ) ( مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) مٹا ڈیل کرنا -  
 لاتوں والی - ( ۲۔ مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) دیوی جو ڈوگاہی کا اڈنا  
 سبھی جاتی ہے -  
 لاکھ - ( ۱۔ مٹ ) ( ۱۰ ) تھم - ستون - کھبا ( ۲۔ مٹ ) کوٹھوکی موٹی اور لمبی کٹی -  
 ( ۳۔ مٹ ) ٹوٹل - دستہ - موگری ( ۴۔ مٹ ) چرمی کی سب سے لمبی اور بیج  
 کی کھوٹی -  
 لاکھی - ( لاکھی ) ( ۱۔ مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) عصا - جڑیب - ہاتھ کی کٹی -  
 لاکھی پاٹھی - ( ۱۔ مٹ ) ( ۱۔ مٹ ) مارپیٹ - زدو کو ب -  
 لاکھی پونگا - ( ۲۔ مٹ ) لاکھی اور سوٹا - لٹھ اور بانس - لٹھ لٹھا -  
 مارپیٹ - جوتی پزار -  
 لاکھی پونگا کرنا - ( ۱۔ محاورہ ) لٹھ لٹھا ہونا - جوتی پزار کرنا -  
 لاکھی ڈونے نہ ہاسن چھوٹے - ( ۱۔ مٹ ) اس طرح کام لینا کہ کسی کا بھی  
 نقصان نہ ہو - نرمی سے کام لینا -  
 لاکھی لٹھول - جوتی پزار - مارپیٹ - زدو کو ب -  
 لاکھی مارے پانی جٹا نہیں ہوتا - ( ۱۔ مٹ ) رشتہ داروں یا بھائی  
 بندوں میں ہر کانے ہر کانے سے فرق نہیں پڑ سکتا -  
 لاکھی ہاتھ کی ، بھائی ساتھ گا - ( ۱۔ مٹ ) لاکھی وہ جو ہاتھ میں ہو  
 اور بھائی وہ جو ساتھ دے -

لاسا۔ (لا۔ سا) [ھ۔ ۱۔ مٹ] ایک لیسار مادہ جو پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پرندوں کو کچڑا جانا ہے (۲) چمکا۔ عادت (۳) نشا ستہ۔ گوند۔

لاسا لگانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پرندے پکڑنے کے لیے کسی چیز پر چسپاں مادہ لگانا۔ (۲) دو شخصوں کو بھڑوانا۔ جھگڑا لگا دینا (۳) پھنسانا۔ پھپکانا۔

لاسا ہوجانا۔ (۱۔ محاورہ) چپک ہوجانا۔

لا سے پر لگانا۔ (۱۔ محاورہ) مالوس کرنا۔ پلانا۔ گردیدہ بنانا۔ یار بنانا۔ لاسکلی۔ (لا۔ سن۔ کی) [ع۔ ۱۔ مٹ] بلا تار کی برقی روجس سے

ریڈیو وغیرہ چلتے ہیں۔ وائرلیس (Wireless)

لاش۔ (ت۔ ۱۔ مٹ) مُردہ جسم۔ نعش۔ میت۔ جنازہ۔

لاش پٹی۔ (۱۔ مٹ) انخون یا سلب موت کی اطلاعی رپورٹ۔

لاش ٹیڑھنا۔ (۱۔ محاورہ) مانا جانا۔ ہلک ہونا۔ مُردہ ہو کر گرنا۔

لاش خواتن۔ (۱۔ محاورہ) قتل کرنا۔ مار کر ڈھیر کرنا۔

لاشعاعیں۔ (لا۔ ش۔ عا۔ بین) [ا۔ ۱۔ مٹ] وہ خاص قسم کی شعاعیں جو ٹھوس اجسام سے گزر جاتی ہیں اور اس سے جسم کے اندر کی تصویر لی جاتی ہے۔ (X-Rays)

لاشعہ۔ (لا۔ ش۔ عا۔ ف) [ا۔ ۱۔ مٹ] لاش۔ مُردہ جسم۔ (۲) لاغر۔ ڈبلا۔

لاطینی۔ (لا۔ طی۔ نی) [انگ (Latin)] [معرب۔ صفت]

قدیم روم کی زبان۔ رومی زبان۔ قدیم روم سے متعلق۔

لاغر۔ (لا۔ ع۔ عا۔ ف) [ع۔ ۱۔ مٹ] ڈبلا۔ پتلا۔ انزار۔

لاغری۔ (لا۔ ع۔ بری) [ع۔ ۱۔ مٹ] ڈبلا پن۔ کمزوری۔ ناطقتی۔ نالوائی۔

لاف۔ (ت۔ ۱۔ مٹ) شہمی۔ بڑائی۔ ڈینگ۔ خود ستائی۔

لاف زن۔ (ت۔ صفت) شہمی باز۔ ڈینگیا۔ بڑبولا۔

لاف زنی۔ (ت۔ ۱۔ مٹ) شہمی خود ستائی۔ تعنی۔

لاف زنی کرنا۔ (۱۔ محاورہ) لاف مارنا شہمی بھجانا۔ اُترانا۔ ڈینگ مارنا۔

لاف وگراف۔ (ت۔ ۱۔ مٹ) ہیوہہ سرائی۔ شہمی۔ تعنی۔

لاکٹ۔ (Locket) [انگ۔ ۱۔ مٹ] گھنڈی۔ بکمر۔ بک۔

تعموید۔ گلے میں پہننے کا زیور۔

لاکھ۔ (ھ۔ صفت) (۱) سو ہزار کی تعداد۔ لکھ۔ ۱۰۰۰۰۰ (۲) بہت۔

لے حد۔ بہتیرے۔ بہت سے۔ ہر چند (۳) ایک قسم کی گوند جو لاکھ کے ٹپٹے سے پیا ہوتی ہے۔ جسے گھگھلا کر ٹکر لگائی جاتی ہے۔

لاکھ بات کی ایک بات۔ (۱۔ مٹ) مختصر گھر پر مغز بات

لاکھ باتیں۔ (۱۔ مٹ) مختلف قسم کی باتیں۔

لاکھ بسوئے۔ (۱۔ مٹ) اصل ضرور۔ یقیناً۔ بلاشبہ۔

لاکھ پھاری سہنے۔ (۱۔ صفت) ہمارے۔ غالب ہے۔ کوئی مقابلہ

نہیں کر سکتا۔ لاثانی ہے۔ بے نظیر ہے۔

لاویا۔ (لا۔ ویا) [ھ۔ ۱۔ مٹ] بار بار وار۔ بوجھ لاد کر لے جانے والا۔ لاٹھی۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) لاٹھی۔ پیار۔ اغلاص۔ محبت۔

لاٹھی پیار۔ (۱۔ مٹ) پیار۔ اغلاص۔

لاٹھی لگانا۔ (۱۔ محاورہ) چاؤ چھلے میں پرورش کرنا۔ ناز و نعمت سے پالنا۔

لاٹھا۔ (لا۔ ڈا) [ع۔ ۱۔ مٹ] پیارا۔ معشوق۔ (۲) ناز و نعمت سے پالا جو (۳) لڑکر [عاشق (۴) دولہا

لاٹھا۔ لاٹھی۔ (۱۔ صفت) (۱) عاشق و معشوق (۲) دولہا۔ دلہن۔ لاٹھا۔ لاٹھی۔ بنا۔ بتی۔

لاٹھلا۔ (لاٹھ۔ لا) [ھ۔ صفت] پیارا۔ معشوق۔ ناز و نعمت سے پالا ہوا۔ لاٹھلا پُرت کٹوے موت۔ (۱) بشل (۲) زیادہ لاٹھ پیار سے اولاد بہت تیز اور گنتی ہو جاتی ہے۔

لاٹھ پیٹ کی باتیں۔ (۱۔ مٹ) ظاہر واری کی باتیں۔ گوال ل باتیں۔

لاٹھی۔ (لاٹھی۔ بتی) [ھ۔ صفت] لاٹھلا کی تائیت۔ پیاری۔ دُلا ری۔ ناز پر مُردہ۔

لاٹھو۔ (لا۔ ڈو) [ھ۔ صفت] (۱) لاٹھی [مٹ] (۲) دلہن۔ عروس۔

لاڑ۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) قطار۔ صفت۔ پُرا۔ اُونٹوں کی قطار۔

لاڑا۔ (لا۔ را) [ھ۔ ۱۔ مٹ] جیلہ۔ بہانہ۔

لاڑا لیری۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) جیلہ۔ حوالہ۔ مثال۔ مثول۔

لاڑا لیری کا پیار، کبھی نہ اُترے پیار۔ (۱) بشل (۲) جیلے بہانے بنانے والا ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس سے کوئی کام نہیں نکل سکتا۔

لاڑا لیری لگانا۔ (۱۔ محاورہ) جیلہ حوالہ کرنا۔ ثبات۔ آج کل کرنا۔

لاڑو۔ (Lord) [انگ۔ ۱۔ مٹ] دیکھیے لاٹ" ایک انگریزی خطاب۔

لاڑوا۔ (Larva) [د۔ ۱۔ مٹ] کیڑے کے لڑکے سے نکلنے کے بعد کی حالت۔ جھانچا۔ پہل کرپ۔

لاڑی۔ (لا۔ ری) [انگ۔ ۱۔ مٹ] ایک قسم کی موٹر گاڑی۔

لاڑی۔ (ھ۔ ۱۔ مٹ) [دیکھیے لاٹھی پیار۔

لاڑھیبا۔ (لاڑھیبا) [ھ۔ ۱۔ مٹ] بڑی چیز کی تعریف کر کے اُسے بجا دینے والا۔ دلال [صفت] مکار۔ فریبی۔ وغا باز۔

لاڑھیبا پن۔ (۱۔ مٹ) دغا بازی۔ دھوکہ بازی۔

لاڑم۔ (لا۔ زم) [ع۔ صفت] چٹھا ہوا۔ وابستہ۔ ملجی (۲) ضرور۔ واجب۔

فرض (۳) صرف و نحو میں وہ فعل جو صرف نامل پر ہی ختم ہو جائے اور مفعول کو تہ پتا ہے۔ ذمہ۔ تعلق۔

لاڑم آنا۔ (۱۔ محاورہ) ضروری ہونا۔ یقینی نتیجہ نکلنا۔

لاڑم و ملزوم۔ (ع۔ صفت) ایک دوسرے کے متعلق۔ ایک دوسرے سے وابستہ۔ واجب۔ ضرور۔

لاڑمنہ۔ (لا۔ ز۔ منہ) [ت۔ ۱۔ مٹ] جھوٹ۔ میل۔ سامان۔ ضروری اسباب۔

لاڑمنی۔ (لا۔ ز۔ منی) [ا۔ ۱۔ مٹ] ضروری ملا بدنی۔ واجب۔



لاکھ جان (جی) سے - (۱) تابع فعل، ہزار جان سے نہایت شوق سے بدل جان۔  
 لاکھ کا گھر خاک کر دینا - (۱) محاورہ) تمام دولت و عزت خاک میں ملا دینا۔ بالکل تباہ و برباد ہو جانا۔ بنا بنا یا کام بگاڑ دینا۔  
 لاکھ کوئی کہے - (۱) روزمرہ کوئی کچھ کہے۔ ہر چند کوئی کہے۔  
 لاکھ لاکھ بناؤ دینا - (۱) محاورہ) بہت زیب و زینت دینا۔ بہت بھلا کرنا۔  
 لاکھ لاکھ کوس - (۱) مذ) دُور دُور۔  
 لاکھ لاکھ شکر - (۱) صفت) خدا کا بے حد شکر۔  
 لاکھ من کا ہونا - (۱) محاورہ) بہت بھاری اور بوجھل ہونا۔ (۲) صفت) عزت و وقار ہونا۔ (۳) بھاری بھگر ہونا۔  
 لاکھ میں - (۱) تابع فعل) ہزاروں میں سینکڑوں میں۔ بہتیروں کے سامنے (۲) ضرور۔ یقیناً۔ بیشک۔  
 لاکھ میں ایک - (۱) صفت) نکتہ۔ چٹنا ہوا۔ چٹھا ہوا۔  
 لاکھ میں کتنا - (۱) محاورہ) علی الاعلان کتنا۔ کھل کر کتنا۔  
 لاکھوں - (۱) مذ) ہزاروں۔ سینکڑوں۔ بہت سے۔ بے شمار۔  
 لاکھوں گھڑے پانی پڑنا - (۱) محاورہ) بہت شرمندہ ہونا۔  
 لاکھوں میں - (۱) صفت) دیکھئے لاکھ میں۔  
 لاکھ ہاتھی ٹٹ گیا پھر سوا لاکھ ٹٹکے کا ہے - (۱) مثل) امریکہ کتنا ہی عزیز ہو جائے پھر بھی اس کی عزت بڑھتا رہتی ہے۔  
 لاکھا - (لاکھا) [۱] مذ) لاکھ کا سُرخ رنگ جسے غور میں خوبصورتی پڑتا ہے۔  
 لاکھی - (لاکھی) [۱] صفت) لاکھوں پر لگتی ہیں۔ ہونٹوں پر لگانے کی سُرخ (۲) لاکھی رنگ کا گھوڑا۔ (۳) ایک نم کا جنگلی سُرخ۔  
 لاکھوال - (لاکھ) وال) [۱] صفت) لاکھ کی نسبت رکھنے والا۔  
 لاکھی - (لاکھی) [۱] صفت) لاکھ کے رنگ کا۔ سُرخ۔ گھوڑے کا ایک رنگ۔ لاکھ کا بنا ہوا۔  
 لاگ - (۱) صفت) [۱] تعلق۔ علاقہ۔ نسبت (۲) انس۔ محبت۔  
 لگن - (۳) مزہ۔ چہک (۴) شوق۔ رغبت (۵) عداوت و دشمنی۔  
 بے - (۶) کرتب۔ شجہہ۔ طاسم دھا جاؤ۔ ٹوٹا۔ منتر (۸) دوا۔ دوا (۹) سہارا۔ دد۔  
 لاگ بانڈھنا - (۱) محاورہ) دشمنی پیدا کرنا۔  
 لاگ پیدا کرنا - (۱) محاورہ) عداوت پیدا کرنا۔  
 لاگ دار - (۱) صفت) [۱] رشتہ دار۔ ناما دار (۲) ہنوئی۔ سن کا ناما (۳) دوست۔ پیار۔ آشنا۔  
 لاگ ٹانٹ - (۱) صفت) [۱] آن بن۔ عداوت۔ بغض۔ عداوت۔  
 لاگ رکھنا - (۱) محاورہ) تعلق رکھنا۔ عداوت رکھنا۔ دشمنی رکھنا۔  
 لاگ سے - (۱) تابع فعل) دوسے۔ سہارے سے۔ اشتغال سے۔  
 لاگ کھلانا - (۱) محاورہ) [۱] کوئی جاو کی ہوتی چیز کھلانا۔ (۲) جاو کو کرنا (۳) کشتہ کھلانا۔

لاگ لپیٹ - (۱) صفت) [۱] طرفداری۔ پاسداری۔ حمایت (۲) وفا۔ کھربیب۔  
 لاگ گنا - (۱) محاورہ) [۱] عشق ہونا۔ لگن ہونا۔ (۲) شوق ہونا۔ اُنگ ہونا۔ نیارشتہ نکلنا (۳) میس گنا۔  
 لاگ لگی ہوئی ہے - (۱) مثل) آپس میں دشمنی ہے۔ (۲) بہت آہ اور تپ دوسے۔  
 لاگت - (لاگت) [۱] صفت) [۱] اصل خرچ۔ صرف (۲) قیمت۔ ممول۔ بھار۔ سُرخ۔  
 لاگت آنا۔ لاگت بدھنا۔ لاگت گنا - (۱) محاورہ) خرچ ہونا۔ صرف بدھنا۔ خرچ اٹھنا۔ وام بیٹھنا۔  
 لاگو - (لاگو) [۱] صفت) [۱] دوسرے (۲) پیار۔ دوست۔ آشنا (۳) ہوا۔ ہمنہ چلنے والا (۴) سامنے۔ خبر گیری (۵) طرفدار (۶) خریدار۔ گاہک (۷) دشمن۔  
 لاگو ہونا - (۱) محاورہ) [۱] ہوا خواہ ہونا۔ چاہنا۔ خواہش رکھنا (۲) خریدار ہونا (۳) پیچھے پڑنا (۴) شریک حال ہونا (۵) حامی ہونا۔ (۶) مطلب رکھنا۔  
 لاگوٹ - (رق) [۱] صفت) محبت۔ پیار۔  
 لال - (۱) صفت) [۱] سُرخ۔ اہم۔ سوا (۲) دکھتا ہوا۔ انگارہ (۳) [۱] صفت) گونگا ہوا (۴) خوشنک۔ غصے میں بھرا ہوا (۵) [۱] صفت) ایک قسم کا بیش قیمت پتھر۔ لعل۔ (۶) ایک چھوٹا سا خوش آواز پرند۔ (۷) صفت) پیارا۔ لاٹولا۔ ناز پرکھ (۸) قیمتی (۹) [۱] صفت) لڑکا۔ (۱۰) بیٹا۔ فرزند۔  
 لال اکھنا - (۱) محاورہ) منہ سے مٹی جھڑانا (۲) عجیب باتیں کرنا (۳) گایاں دینا۔  
 لال انگارہ - (۱) مذ) صفت) [۱] آگ کا انگارہ (۲) نہایت سُرخ۔ (۳) غصتہ میں بھرا ہوا۔ غضبناک۔  
 لال بھگڑا - (۱) صفت) پرلے درجے کا بے وقوف۔ وہ احمق جسے اپنی عقل پر بڑا گھنڈ ہو۔  
 لال بھار - (۱) مذ) منہ کی بخار میں جسم پر سُرخ دانے نکل آتے ہیں۔  
 لال بھوٹا - (۱) صفت) [۱] نہایت سُرخ (۲) غصتہ کے باعث سُرخ (چہرہ)  
 لال بیگ - (۱) مذ) [۱] خاکروبوں کا پتھرا (۲) ایک پروار کی پٹا۔  
 لال بٹی - لال بیگیا - (۱) مذ) لال بیگ کا مستند۔ خاکروب۔ مہتر۔ بھنگی۔  
 لال پانی - (۱) مذ) [۱] حیض کا نمون (۲) سُرخ رنگ کی شراب۔  
 لال پرسی - (۱) صفت) [۱] سُرخ پوشاک پہننے والی پرسی (۲) اندر سجا کے قفسے کی ایک پرسی۔ (۳) شراب سُرخ۔ لال شراب۔  
 لال پڑ جانا - (۱) محاورہ) سُرخ ہو جانا۔ غضبناک ہو جانا۔ انتہائی غصتہ آنا۔

لال پکلا۔ (۱۔ مذ) ایک قسم کا کبوتر جس کا رنگ سُرخ۔ پوٹا۔ دُم اور باز  
سفید ہوتے ہیں۔  
لال پیارا تو اُس کا خیال بھی پیارا۔ (۱۔ مثل) جو میں بھاجائے اُس  
کی ہر بات پسند ہوتی ہے۔  
لال پیلا۔ (۱۔ مذ) غضبناک۔ بھتہناک۔ غصہ میں بھرا ہوا۔  
لال پبلی آنکھیں کرنا (دنگالنا)۔ (۱۔ محاورہ) غصے کی نگاہ سے دیکھنا۔  
بہشت نازا منی ہونا۔  
لال خمال کا لکڑا۔ (۱۔ مذ) مجرم کو سزا دینے کا ایک بڑا بھاری شہتیر جو  
زیچ میں سے چلا ہوا اور سوراخ والا ہوتا ہے۔ اُس میں مجرم کے  
پاؤں رکھ کر دووں ٹکڑوں کو بلا دیتے ہیں۔  
لال ڈھورے۔ (۱۔ مذ) (۱) سُرخ تار۔ (۲) سُرخ تار کے (۳) لال لال  
رگیں، جو آنکھوں میں دکھائی دیتی ہیں۔  
لال لکابی۔ (۱۔ مرث) حضرت فاطمہ زہراؑ کی نیاز۔ صحنک۔  
لال سوداگر۔ (۱۔ مذ) وہ کم بایہ سوداگر جو ادھر مال لے اور ادھر  
چھٹ فتورے سے منافع پہنچ ڈالے۔ ٹٹ پونجیا۔  
لال کتاب۔ (۱۔ مرث) وہ کتاب جس میں جاہلوں کے نزدیک تمام  
باتوں کا جواب حسبِ مہنی یا حسبِ مال مل جائے۔ (۲)  
بندوبست کی کتاب۔ چواریوں یا قانون گویوں کی سرکاری کتاب۔  
لال کُرتی۔ (۱۔ مرث) گوروں کی پلیٹن جو سُرخ و روئی ہینتی تھی۔  
لال گودوڑ میں نہیں چھینتا۔ (۱۔ مثل) اچھی چیز چھپائے نہیں چھپتی۔  
لال مریج۔ (۱۔ مرث) سُرخ مریج۔  
لال ہونما۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سُرخ ہو جانا (۲) غصے میں چہرہ تہتا اٹھنا۔  
(۳) غضبناک ہونا۔ خفا ہونا۔ (۴) پھل کینا۔ بچھتہ ہونا۔  
لالوں کا لال۔ نہایت پیارا۔ لاڈلہ۔ سُرخ و سفید۔ رنگ و روغن والا۔  
لالوں لال۔ نہایت سُرخ۔ چھپاتا ہوا۔ سُرخ و شاداب۔  
لا لا۔ (لا۔ لا) (۱۔ مذ) (۱) غلام (۲) [صفت] روشن۔ درخشاں۔  
لا لا۔ (لا۔ لا) (۱۔ مذ) (۱) جناب۔ صاحبِ معزز۔ ہندوؤں کا  
خطاب (۲) نبیا۔ ساہوکار۔ مہاجن۔ (۳) والد کا خطاب۔ آبا۔  
باوا (۴) عزیز۔ پیارا۔ (۵) خسر۔ سسر۔  
لالا شاہی۔ (۱۔ مذ) پینے کا تمباکو  
لالٹین۔ (لال ٹین) [آنگ] (Lantern) کا منند۔ (۱۔ مرث)  
وہ فانوس جس میں شیشے کے ہوتے ہوں۔ شیشے کی قندیل۔  
لالچ۔ (لا۔ لچ) (۱۔ مذ) حرص۔ طمع۔ لوہہ (۲) بھینٹ۔ پھسلاوا (۳) شہوت  
لالچ بڑی بلا ہے۔ (۱۔ مثل) حرص سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں۔  
لالچ حمولا۔ (۱۔ صفت) لالچی۔ سرلیں۔ طمع کرنے والا۔  
لالچ دینا۔ (۱۔ محاورہ) طمع دینا۔ بوجھ دینا۔ پھسلانا۔ ترغیب دینا۔  
لالچ میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) لوہہ میں آنا۔ دم میں آنا۔ طمع میں چھیننا۔  
لالچی۔ (لال چچی) (۱۔ صفت) [حریص۔ طامع۔ لوہی۔  
لالچی بندہ۔ خود غرض۔ لوہی۔ مطلبی۔

لال لٹری۔ (لال لٹری) (۱۔ مرث) (۱۔ مذ) (۱) ممش [۱] چھوٹا لال۔ یا قوت (۲) نام لڑا۔  
لالین۔ (۱۔ مذ) معشوق۔ محبوب۔  
لالوں کا لال۔ (۱۔ مرث) (۱) سُرخ و سفید رنگ والا (۲) بہت پیارا۔ لاڈلا۔  
لالہ۔ (لا۔ لہ) (۱۔ لہ) (۱۔ مذ) ایک قسم کا سُرخ پھول جس کے اندر سیاہ  
دراغ ہوتا ہے۔  
لالہ بنا گوش۔ (۱۔ صفت) جس کے کان کی کو سُرخ ہو۔  
لالہ فرخ۔ لالہ رخسار۔ لالہ زرو۔ لالہ عذار۔ (۱۔ صفت) سُرخ  
چہرے والا معشوق۔ دلبر۔  
لالہ رنگ۔ (۱۔ صفت) جس کا رنگ سُرخ ہو۔  
لالہ زار۔ (۱۔ مذ) (۱) وہ کیفیت جس میں لالہ کے بوٹے ہوں۔  
(۲) باغ۔ گنوار۔ چمن۔  
لالہ زطور۔ (۱۔ مذ) آتش طور۔  
لالہ فام۔ لالہ گوں۔ (۱۔ صفت) لال۔ سُرخ رنگ کا۔  
لالی۔ (لا۔ لی) (۱۔ مرث) (۱) سُرخ [۱] (۲) سُرخ [۲] عزت۔ آبرو۔ سُرخ روئی۔  
(۳) عزیز۔ (۴) ہمیشہ۔ بہن۔ (۵) لالچ (۶) (۱)  
لالی رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) عزت رہ جانا۔ آبرو بچ جانا۔ بات بنی رہنا۔  
لالی پاپ۔ (Lollypop) [آنگ] (۱) بچوں کی مٹھائی۔  
لالے۔ (لا۔ لے) (۱۔ مذ) آرزو۔ اشتیاق۔ تمنا۔ درمان۔ (۲)  
کسی چیز سے ناامید ہونا۔  
لالے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ارمان ہونا۔ آرزو ہونا (۲) نہایت ناامید ہونا۔  
(۳) مصیبت میں پھنسا جانا۔ (۴) دشوار ہونا۔ مشکل ہونا۔  
لام۔ (لا۔ م) (۱۔ مذ) فوج یا پلیٹن کا مجموعہ وغیرہ۔ بریگیڈ۔ فوج کا دستہ (۲) لفظ  
غالب فرانسیسی لفظ (Larme) کا منند ہے۔  
لام باندھنا۔ (۱۔ محاورہ) چاروں طرف سے لشکر جمع کرنا۔ لڑائی کا سامان کرنا۔  
لام۔ (لا۔ م) (۱۔ مذ) (۱) حرفت۔ ل" کا تلفظ (۲) [صفت] عمیدہ۔  
میرٹھا (۳) تشبیہ۔ زلف۔  
لام کاف۔ (لا۔ م) (۱۔ مذ) گالی گفتار۔ بُرا بھلا۔ واہی تنہا ہی۔  
لام کاف بکنا۔ (۱۔ محاورہ) گالی گلوچ کرنا۔ بدزبانی کرنا۔ فحش کرنا۔  
لاما۔ (لا۔ ما) (۱۔ مذ) آفت کے بڑھ پیشواؤں کا لقب۔  
لامال۔ (لا۔ مال) (۱۔ مرث) [قطار  
لامس۔ (لا۔ مس) (۱۔ مرث) [صفت] چھوٹے والا۔  
لامسہ۔ (لا۔ م۔ س) (۱۔ مرث) [صفت] چھوٹے پاس کر کے والی قوت۔  
لامع۔ (لا۔ مع) (۱۔ مرث) [صفت] چھلکنے والا۔ روشن۔ درخشاں۔  
لان۔ (لا۔ ن) [آنگ] (۱) (Lawn) (۱۔ مذ) گھاس کا قطعہ۔ سبزہ زار۔  
لانا۔ (لا۔ نا) (۱۔ مذ) [صفت] (۱) حاضر کرنا۔ پیش کرنا۔ سلسلے کرنا۔  
(۲) اٹھانا۔ برپا کرنا۔ (۳) ٹول لینا۔ خریدنا۔  
لانابندی۔ (لا۔ نا۔ بند) (۱۔ مرث) معاملہ۔ مانگنا۔ آری۔ ہوں کے مطابق لگان۔  
لانبا۔ (لا۔ نا) (۱۔ مذ) [صفت] لمبا۔ اونچا۔ طویل۔ دلاز۔  
لانچ۔ (Launch) [آنگ] (۱) (۱۔ مذ) پیشرو اور بھاپ سے چلنے



(۴) ماشیہ۔ دور۔ کنی۔ (۵) منڈیر (۶) اُن [خٹوک۔ لعابِ دکن (۷)  
 ہونٹوں کے اوپر کے بال۔ موٹھیں۔  
**لب آب**۔ (د۔ ا۔ مذ) دریا، ندی یا حوض وغیرہ کا کنارہ۔  
**لب بام**۔ (د۔ ا۔ مذ) کھٹے یا چھت کا کنارہ۔  
**لب لبنتہ**۔ (د۔ ا۔ صفت) مٹھ بند۔  
**لب بند ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) (۱) شیرینی سے ہونٹوں کا چپک جانا (۲) منہ  
 بند ہونا۔ خاموش ہونا۔  
**لب پر لب**۔ (د۔ صفت) لب سے لب ملنے ہوئے (۲) مقابلہ  
 کرنے والا۔  
**لب پر آنا**۔ (۱۔ محاورہ) زبان پر آنا۔ کچھ کہنا جانا۔  
**لب پر آہ ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) زبان پر آہ و زاری ہونا۔ ظلم کی شکایت  
 ہونا۔ شکوہ ہونا۔  
**لب پر دم ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔  
**لب پر رکھا ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) پہلے سے کھینٹنے کو تیار ہونا۔  
**لب پر لانا**۔ (۱۔ محاورہ) کچھ کہنا۔ مذکرہ کرنا۔  
**لب پر نثر لگانا (کرنا)**۔ (۱۔ محاورہ) خاموش ہو جانا۔  
**لب نہ کرنا**۔ (۱۔ محاورہ) تھوڑا سا پانی پینا۔  
**لب نشنہ**۔ (د۔ مذ) پیاسا (۲) آرزو مند۔  
**لب نقریر**۔ (د۔ ا۔ مذ) کناٹیا تقریر۔  
**لب تیج**۔ (د۔ ا۔ مذ) تلوار کی دھار۔  
**لب جام**۔ (د۔ ا۔ مذ) پیالے کا کنارہ۔  
**لب بچو**۔ (د۔ ا۔ مذ) ندی کا کنارہ۔  
**لب چبانا**۔ (۱۔ محاورہ) کناٹیا حسرت افسوس کرنا۔  
**لب چوسنا**۔ (۱۔ محاورہ) ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر چوسنا۔  
**لب خشک ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) پیاس کا غلبہ ہونا۔ کناٹیا بے حد  
 تقریر کرنا۔  
**لب دریا**۔ (د۔ ا۔ مذ) دریا کا کنارہ۔ کراڑا۔ ساحل۔  
**لب دوز**۔ (د۔ صفت) سیسے ہوئے لب۔ چپ۔ خاموش۔  
**لب پریمز**۔ (د۔ صفت) بھرا ہوا۔ پُر۔ لبالب۔  
**لب سو قار**۔ (د۔ ا۔ مذ) تیرگی ٹوک۔  
**لب سینا**۔ (۱۔ محاورہ) بولنے نہ دینا۔  
**لب شیریں**۔ (د۔ ا۔ صفت) میٹھے ہونٹ بدشوق کے ہونٹ۔  
**لب کشانی**۔ (د۔ صفت) منہ کھولنا۔ بات کرنا۔  
**لب کھولنا**۔ (۱۔ محاورہ) بات کرنا۔ بولنا۔  
**لب گور ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) مرنے کے قریب ہونا۔ گور کے کنارے  
 پہنچنا۔  
**لب گویا**۔ (د۔ ا۔ مذ) بولنے والے لب۔  
**لب لگانا**۔ (۱۔ محاورہ) خٹوک لگانا۔ لعابِ دکن لگانا۔  
**لب نوشین**۔ (د۔ ا۔ صفت) میٹھے ہونٹ۔

**لب نہ بلانا**۔ (۱۔ محاورہ) چپ رہنا۔ خاموش رہنا۔  
**لب و بچہ**۔ (د۔ ا۔ مذ) تلفظ۔ طرزِ لہجہ۔ طرزِ گفتگو۔  
**لبوں پر جان آنا**۔ (۱۔ محاورہ) ہونٹوں پر دم آنا۔ جان کنی کا وقت  
 آنا۔ دم واپس ہونا۔ گدگد کر کے لگنا۔  
**لبوں پر ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) کنا سے پر پہنچنا۔  
**لبیں لینا**۔ (۱۔ محاورہ) موٹھیں منڈوانا۔ ہونٹوں کے بال نڈوانا۔  
**لب**۔ (د۔ ا۔ مذ) عطر۔ چوڑ۔ خلاصہ۔ سنت۔ معنی۔ جمع۔ لبوب۔  
**لب لباب**۔ (د۔ ا۔ مذ) خلاصے کا خلاصہ۔ عطر کا عطر۔ سنت  
 کا سنت۔ نہایت خالص۔  
**لبادہ**۔ (د۔ ا۔ با۔ دہ) [د۔ مذکر] رُوئی دار چینر۔ جُبہ۔  
**لباڑ**۔ (د۔ ا۔ با۔ ل۔ با۔ لڑی) [د۔ صفت] جھٹلا۔ لپائی (۲)  
 ٹپا۔ (ق)  
**لباس**۔ (د۔ ل۔ باس) [د۔ ا۔ مذ] (۱) پوشاک۔ جامہ۔ کپڑے (۲) روپ۔  
 مشکل۔ بھیس۔ جمع۔ لباسات۔ البسہ۔  
**لبالب**۔ (د۔ ل۔ با۔ لب) [د۔ صفت] مذکر لبریز۔ بھرا ہوا۔ کناروں  
 تک بھرا ہوا۔  
**لبالب ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) منہ۔ منہ تک بھرا۔ پُر ہونا۔ لبریز ہونا۔  
**لبد**۔ (د۔ ا۔ مذ) [د۔ صفت]۔  
**لبدا**۔ (د۔ ل۔ با۔ د) [د۔ صفت] لٹوٹا ہوا۔ بے ڈول۔ ڈنڈا۔  
**لبدا**۔ (د۔ ل۔ با۔ د) [د۔ صفت] فریفتہ۔  
**لبدان**۔ (د۔ ل۔ با۔ د) [د۔ صفت] لٹوٹے لگانا۔  
**لبدان ہاڑ**۔ (د۔ ل۔ با۔ د) [د۔ صفت] فریفتہ کرنا۔  
**لبدان ہاڑ**۔ (د۔ ل۔ با۔ د) [د۔ صفت] فریفتہ کرنے والا۔  
**لبدی**۔ (د۔ ل۔ با۔ د) [د۔ صفت] لٹوٹے لگانا۔  
**لبرتی**۔ (Liberty) [د۔ ل۔ ب۔ رتی] [د۔ صفت] آزادی۔  
 عجزیت۔  
**لبرل**۔ (Liberal) [د۔ ل۔ ا۔ ب۔ رل] [د۔ صفت] آزاد خیال۔  
 خود مختار۔ مطلق العنان۔ سب کا بھلا چاہنے والا۔ جمہوری اور  
 معاشرتی اصطلاحات کا حامی اور خیر خواہ خلاق۔  
**لبرل ازم**۔ (Liberalism) [د۔ ل۔ ا۔ ب۔ رل] [د۔ صفت] آزادی خیالی جمہوری  
 اور معاشرتی اصطلاحات کی موافقت کا نظریہ۔  
**لبڑ**۔ (د۔ ل۔ ب۔ ر) [د۔ صفت] جھوٹا۔ بیہودہ۔  
**لبڑ خندہ**۔ (۱۔ مذ) بیہودہ گو۔ جھوٹا۔ لپائی۔ مونٹ کی کیڑ خندہ۔  
**لبڑ دھول دھول**۔ (۱۔ صفت) غل۔ شور۔ ہنگامہ (۲) لپائی۔  
 (۳) بد انتظامی۔ بد عملی۔  
**لبڑ بڑ**۔ (۱۔ صفت) بیہودگی۔ بد سلیقگی۔ بھوڑ پین۔  
**لبڑو**۔ (د۔ ل۔ ب۔ ر) [د۔ صفت] جھوٹی۔ بیہودہ۔ بکواس۔ باتوئی۔  
 چرب زبان۔

کلیب - (کتب - کتب) [ہ - صفت] کم عقل - بے وقوف -  
 لیبلیا - (کتب - ل - با) [ہ - صفت] [لبس - وار - چکنے والا - لچک وار -  
 کلبلی - (کتب - ل - بی) (کتب - ل - بی) [ہ - ۱ - مرث] [بندوق اور  
 پستول وغیرہ کا وہ پزیرہ جس کو دھانے سے گھوڑا کرتا ہے -  
 کلبوس - (کتب - لوس) [ہ - صفت] [۱۹] - شگاہ - بے حیا [۲۰] بیوقوف -  
 کلبتن - (دل - یکن) [خ - ۱ - مذ] [۲۰] وودھ -  
 لیبلی - (کتب - نی) [ہ - ۱ - مرث] [مٹی کی چھوٹی سی ٹھیلیا -  
 کلبوب - (دل - بوب) [خ - ۱ - مذ] کتب [مغز] کی جمع - ایک قسم کی  
 معجون مغزیات - دیکھیے کلب -  
 لبوں پر آنا - (۱) عمارہ) کہنے کے لیے کوئی بات منہ پر آنا - (۲) ہتھکا کھینچنا  
 (۳) کناروں پر بچھنا -  
 لبوں پر جان (دوم) آنا - (۱) عمارہ) مرنے کا وقت قریب ہونا -  
 لبھانا - (ل - بھانا) [ہ - ۱ - مص] [۱۵] لاج وینا - لبھانا [۲۱] مائل کرنا عاشق  
 بنانا - موہنا [۳۲] بھیلانا - بھکانا - درغلنا -  
 لبھاور - (ل - بھاور) [ہ - ۱ - مذ] [۱۵] لاج - ترغیب [۲۲] روٹھکا کوئی چیز  
 جو سووے کے بعد سفت دی جائے -  
 لبھیٹر - (ل - بھے ٹرا) [ہ - ۱ - مذ] لٹوٹا -  
 لپی - (ل - بی) [ہ - ۱ - مرث] [کتے کا ابل ہوارس - راب -  
 لیتے آجانا - (۱ - ۵) عمارہ) تاؤ میں نرم ہو جانا -  
 لیبیب - (ل - بیب) [خ - صفت] [عکسند - دانا -  
 لبیدا - (ل - بے) [۱ - مذ] [سوسٹا - لٹھ -  
 لیرا - (ل - بی) [را - ۱ - مذ] [صحیح - چھیٹر - لیر -  
 لیبیک - (کتب - بیک) [خ - ۱ - مذ] [مرث] [حاضر ہوں - موجود ہوں -  
 حاجی لوگ میدان عرفات میں بار بار یہ کلمہ کہتے ہیں -  
 لبیں [۱] ہونٹوں کے اوپر کے بال - سوچیں -  
 لبین لینا - (۱) عمارہ) موچیں کترنا یا موٹھنا -

کی لہر - نمک بنوشوٹو -  
 لپٹ آنا - (۱) عمارہ) خوشبو کی لہر آنا - جھوٹا آنا -  
 لپٹ دینا - (۱) عمارہ) خوشبو دینا - نمک دینا -  
 لپٹ لگ جانا (لگنا) - (۱) عمارہ) لوگنا - آگ کی گری پہنچنا - شعلہ  
 جلا دینا -  
 لپٹ - (۱) تابع فعل) مصدر لپٹنا کا صیغہ امر -  
 لپٹ پڑنا - (۱) عمارہ) گتھ جانا -  
 لپٹ جانا - (۱) عمارہ) جوش محبت سے گلے لگ جانا -  
 لپٹ کر - (۱) تابع فعل) ہم بخل ہو کر -  
 لپٹا - (لپٹ - ٹا) [ہ - ۱ - مذ] [۱۵] موٹے موٹے آنے کا صلوا - (۲) راب - پتلا  
 شیرا [۳۲] ایک قسم کی کھاس [۳] برشتہ - ناٹا -  
 لپٹا جانا - (۱) عمارہ) ازبردستی کسی سے گتھ جانا -  
 لپٹا لینا - (۱) عمارہ) چھٹا لینا - بخل گیر ہونا [۳۲] کٹے ہوئے پتنگ کی  
 ڈور کو اڑتے ہوئے پتنگ میں اٹھایا لینا -  
 لپٹانا - (۵) مص) [لپٹ - ٹا - نا] [۱۹] چٹانا - گلے لگانا - پیار کرنا [۲۲] لپٹانا  
 دلینا - (۳) چکنا [۳۲] ساتھ لگانا [۵] پیچھے لگانا - بھڑانا [۶] کنکوا  
 اڑانا [۷] شادی کرنا - رشکت کرنا -  
 لپٹنا - (ل - پٹ) [نا] [ہ - ۱ - مص] [۱۹] چٹنا - پیچھے لگانا - چسپال ہونا چپکنا -  
 [۳] چھائی سے لگ [۲۲] عاشق ہونا [۵] دوستی ہونا - چھٹنا [۶]  
 بھڑنا - گتھنا [۷] بتلا ہونا - (۸) مصروف ہونا [۹] کھتی کرنا -  
 [۱۰] بل کھانا - [۱۱] کنکوسے کا لپٹنا - [۱۲] بند ہونا - طغوف ہونا -  
 لپٹنت - (لپٹ - ٹنت) [ہ - ۱ - مرث] [۱۵] بخل گیری - ہم آغوشی -  
 [۱۲] کشتی - لڑنت -  
 لپٹ جھپٹ - (لپٹ - جھپٹ) [ہ - ۱ - مرث] [۱۵] چھرتی - تیزی جلدی  
 [۲۲] فریب - نگاری - چالاکی - [۳] چوری - فوراً - فی الفور -  
 جھٹ پٹ -  
 لپٹ بھنجی - (لپٹ - بھنج - نی) [ہ - صفت] [عوشا مد کرنے والی - ڈلو -  
 بکواس (عورت) -  
 لپٹ - (لپٹ - پڑ) [ہ - ۱ - مذ] [تھپڑ - طابخہ - پانٹا -  
 لپٹ شپڑ - (ل - پڑ - ش - پڑ) [ہ - ۱ - مرث] [جلدی جلدی بولنا -  
 ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے - [۲۲] خلط ملط - گڈ مڈ - [۳۲]  
 ٹال مٹول -  
 لپٹ لپڑ - بے ڈھنگن سے کھانے پینے کی آواز -  
 لپڑ لپڑ کرنا - (ل - پڑ - ل - پڑ - کن - نا) [ہ - ۱ - مص] [بیوہ بکنا -  
 بکواس کرنا -  
 لپڑی - (لپٹ - ڈی) [ہ - ۱ - مرث] [۱۵] لبیب - بلیش - ضماو -  
 [۲۲] سدھے وغیرہ کی پوٹلی جس سے گورا یا شیک کرتے ہیں -  
 [۳۲] سر کی گڑھی - دستار -  
 لپڑی باندھنا - (۱) عمارہ) گلدی باندھنا - ضمہ و کرنا - پلٹش

# ل۔ ب۔ ل۔ پ

لب - (ہ - ۱ - مرث) [صحنی بھر -  
 لپا - (لپ - پا) [ہ - ۱ - مذ] [تھپڑ - چانٹا - لپڑ - لپاڈگی  
 لپاڈگی - (ہ - ۱ - مرث) گھوسوں اور تھپڑوں کی لڑائی - مار پیٹ -  
 لپاٹیا - (ل - پاٹ - ٹی - ل - پاٹیا) [ہ - صفت] [چھوٹا - دروٹو -  
 کا ڈب -  
 لپا لپ - (ل - پا - لپ) [ہ - ۱ - مرث] [جلد جلد - جھٹ پٹ - فوراً -  
 لپانی - (ل - پا - نی) [ہ - ۱ - مرث] [مکمل - پلتر لینے کا کام - لینے کی  
 اجرت -  
 لپٹ - (ل - پٹ) [ہ - ۱ - مرث] [۱۵] شعلہ - نو - آج - گری [۲۲] ہوا

والا - نحو شامدی .

پلیٹ - (دل - پیرٹ) [جھ - ا - مٹ] (۱۵) بیچ - بل (۲) مکر - فریب  
دغا (۳) گھیرا - دور - محیط (۴) الجھیرا - جینال (۵) مصیبت -

آفت -

پلیٹ چھپٹ - (دھ - ا - مٹ) فریب - مکر - بیچ - داؤ - فتنہ -  
پلیٹ لپاٹ کر - (ا - تابع فعل) باندھ کر - نہ کر کے -  
پلیٹ کی باتیں - (ا - مثل) چالاک اور فریب کی باتیں -

پلیٹ لینا - (ا - محاورہ) شریک کر لینا - (بلا لینا ، کر لینا) الجھالینا -  
پلیٹ میں آجانا - (ا - محاورہ) مصیبت میں پھنس جانا - پھنس جانا -  
پلیٹین - (دل - پے - من) [جھ - ا - مٹ] (۱۵) بیچ (۲) چمچ (۳) سینگ جس  
پر بوجھ لگے پھرتا پھرتے ہیں -

پلیٹینا - (دل - پیٹ - نا) [جھ - مص] (۱۵) تہ کرنا - سہنا - باندھنا - کستا (۲)  
آٹودھ کرنا - تعقیب کرنا (۳) الجھانا - بلانا (۴) چھپانا - ڈھانکنا -

پلیٹوال - (دل - پیٹ - وال) [جھ - صف] (۱۵) چھپو - مٹوٹ (۲)  
بلا ہوا - (۳) درپردہ - پوشیدہ (۴) بل دار - بیچ دار -

پلیٹوال ہاتھ - (ا - مٹ) گول ہاتھ - چھپو ہاتھ - چال کی بات  
فریب کی بات -

# ل - ت

لٹ - (دھ - ا - مٹ) (۱۵) بڑی عادت (۲) عُورِ خصلت - علت - لپکا -  
(۳) لات کا مٹفت - دولتی -

لٹ پٹ - (لٹفت پختہ) - (ا - صف) آٹودھ - بھرا ہوا (۲) آٹودگی -  
آئینہ (۳) نواب حال - خستہ حال -

لٹ پٹ کر دینا - (ا - محاورہ) آٹودھ کر دینا - بھرو دینا -  
لٹ پٹ ہونا - (ا - محاورہ) سمجھ جانا - بہت آٹودھ - مٹوٹ ہونا -

لٹ پڑنا - (ا - محاورہ) عادت پڑنا -  
لٹ پیچھے لگنا - (ا - محاورہ) کسی بات کا عادی ہوجانا -

لٹ خور (خورا) - (ا - صف) لائیں کھانے والا - ذیل - بکینہ - (۲)  
(مذ) غلام - برودہ (۳) دہیز - آستانہ -

لٹ ڈالنا - (ا - محاورہ) بڑی عادت کا عادی ہوجانا -  
لٹ گھٹ - (ا - مٹ) عاقبہ خصلتیں -

لٹا - (دس - ا - مٹ) انگور کی سیل - (۲) لمبی اور تپلی عورت -  
لٹا - (لٹ - تا) [جھ - ا - مذ] (۱۵) گورڈ - چھتھرا (۲) پارچہ کپڑا -

لٹاڑ - (دل - تاڑ) [ا - مٹ] (۱۵) ملامت - سرزنش (۲) دکھ - مصیبت (۳)  
کام کاج کی زیادتی (۴) دوڑ دھوپ (۵) پامالی (۶) دباؤ -  
لٹاڑ میں آنا - (ا - محاورہ) گردش میں آنا - مصیبت میں پھنسا -  
لٹاڑنا - (دل - تاڑ - نا) [جھ - مص] (۱۵) لائیں مارنا - روٹنا - پامال کرنا -

باندھنا -

لپٹری - (لپٹ - لڑنی) [جھ - ا - مٹ] (۱۵) کپڑا - بسترا - پھٹ پڑنا  
صافہ - کپڑی -

لپٹسی - (لپٹ - سنی) [جھ - ا - مٹ] (۱۵) موٹے آٹے کا پتلا علوہ - سیرا -  
لیٹی (۲) بوڑھا بچوںس - نہایت بوڑھا -

لپکت - (دل - پکت) [جھ - ا - مٹ] (۱۵) کوٹا - روشنی - جھکنا - جھک  
(۲) لاٹ - نو - شعلہ - لپٹ (۳) دھوک - تڑپ (۵) ٹیس - نرم  
کی سوزش -

لپک بھچک - (ا - مٹ) تیزی - طآری - چستی - پھرتی - جلد بازی  
لپک کر - (ا - تابع فعل) جلدی سے - دوڑ کر - فوراً - تڑت -

لپک لینا - (ا - محاورہ) چھپ کر لینا - اچھلتی ہوئی چیز کو ہاتھوں پر  
لینا - چھین لینا -

لپکا - (لپٹ - کا) [جھ - ا - مذ] (۱۵) بوجھاد (۲) لٹ - عادت - نحو -  
(۳) مزہ - چسکا -

لپکا پڑنا - (ا - محاورہ) (۱۵) مزہ پڑنا - چسکا لگنا (۲) بڑی عادت پڑنا -  
لپکا جانا - (ا - محاورہ) عادت ترک ہونا -

لپکانا - (لپٹ - کا - نا) [جھ - مص] (۱۵) اڑنا - بھگانا (۲) آگے کرنا - چھلنا  
لپکا ہونا - (ا - محاورہ) کسی بڑے کام کی عادت ہونا - چسکا پڑ جانا -

عادی ہوجانا -

لپکنا - (دل - پکت - نا) [جھ - مص] (۱۵) ڈوڑنا - چھٹنا - (۲) اچھنا - چھیننا -  
چھلانگ مارنا - ٹیس پڑنا - (۳) بجلی چمکنا (۵) دھڑکنا - پھرکنا (۶)  
اچھلنا - چھلانگ مارنا - چھلانا (۷) دوڑ کر جانا - حملہ کرنا (۸) آگ کا  
تیز ہونا - شعلہ بھڑکنا -

لپکی - (لپٹ - کی) [جھ - ا - مٹ] (۱۵) ٹانگنا - سیون - (۲) شلنگا کچی سلائی  
(۳) گولٹ کنارہ -

لپکی بھڑنا - لپکی مارنا - (ا - محاورہ) ٹانگنا لگانا - کچی سلائی کرنا -  
لپکی - (لپٹ - کی) [جھ - مٹ] (۱۵) ڈور - نحوٹ - دہشت (۲) ڈاسے  
چھپ جانا -

لپٹ لپٹ - (۵ - ا - مٹ) (۱۵) کتے کے کھانے پینے کی آواز (۲)  
برآں سے چاٹنے یا پوٹے منہ سے کھانے کی آواز -

لپ لپ کرنا - (۱۵) کھانے میں کتے کی طرح آواز نکالنا (۲) بکواس  
کرنا - بیہودہ بکنا -

لپ لپ کھانا - جلد جلد کھانا - بغیر جباتے کھا جانا -  
لپلپانا - (لپٹ - ل - پا - نا) [جھ - مص] [متعد کا بند ہونا اور کھٹنا - ڈرنا -  
نحوٹ کھانا -

لپینا - (لپٹ - نا) [جھ - مص] [استرکاری ہونا - لپتہ ہونا -  
لپوانی - (لپٹ - وا - ای) [جھ - ا - مٹ] لپانی کی اہرت - کھل کرنے  
کی مزدوری -

لپوڑ پا - (دل - پوڑ - یا) [جھ - صف] [منت سماجت کر کے کام نکالنے  
کی عادت -

خراب کرنا - (۲) دھنکا کرنا - علامت کرنا - (۳) محنت لینا - (ق)

لست محمد - (ق) صفت [خراب کرنا -

لُترا - (لُٹ - نا) [جہ - صفت] u، ادھر کی ادھر کہنے والا پُچھل غور - (۲) بکواسی - بکئی (۳) بے وفاء بے مروت -

لُتراپن - (۱-۵) [مذ] بات کا ادھر سے ادھر جانے والا - فساد کرنا -

لُتری - (لُٹ - زنی) [جہ - صفت] وہ عورت جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کے پُچھل محمد - پیٹ کی ٹلی -

لُتری کان لُتری - (۱) محاورہ] وہ عورت جو اپنے لُتر لے کر کسے کسے کان کاٹ دینے کے لائق ہو جس کے کان کاٹ دیے گئے ہوں - غمازہ -

لُتھر پُتھر - (۵) صفت] دیکھیے لُٹ پُت - بھرا ہوا - آلودہ -

لُتھر پُتھر - (ل - ٹھڑ - پ - ٹھڑ) [جہ - صفت] دیکھیے لُٹ پُتھر آلودہ -

لُتھر ٹا - (ل - ٹھڑ نا) [جہ - صفت] آمیز ہونا - بلنا (۲) بلانا (۳) آمیز کرنا (۴) لیپ کرنا لیپ لگانا -

لُتھر ٹا - (ل - ٹھڑ - نا) [جہ - صفت] (۱) کیچڑ یا کسی گاڑھی چیز میں لٹ پٹ کرنا (۲) موٹا موٹا لیپ لگانا - (۳) خراب کرنا -

لُتی - (لُٹ - تی) [جہ - ۱- صفت] (۱) لٹو کی ڈوری (۲) کپڑی - دستار -

لُتی - (لُٹ - یا) [جہ - صفت] بڑی عادت والا - عادت - بُلتی -

لُتی لُتی - (۱) محاورہ] دھجیاں اُڑانا (۲) آٹھ ہاتھوں لینا (۳) لٹاڑنا - سرزنش کرنا - (۴) مابوز کرنا (۵) ذلیل کرنا (۶) کپڑے اُٹارنا -

## ل - ٹ

لُٹ - (جہ - ۱- صفت] (۱) جٹا - بالوں کی لٹھی - لٹسہ (۲) رستی - ڈوری -

لُٹا - (جہ - صفت] (۱) ڈبلا - لاغر لڈکڑا جٹا - لٹسہ (۲) پیچیرہ -

لُٹا دھاری - (۵- ۱- مذ] جٹا دھاری - جوگی - لے لے بالوں والا فیتھر لُٹا پٹا - (۵) صفت] ٹوٹا ہوا - تباہ حال - برباد -

لُٹا ہاتھی بٹور سا - (۱) مثل] اُترا کے پاس تباہی میں بھی بہت لُٹا ہوتا ہے -

لُٹا ہاتھی سوا لٹھ - (۱) مثل] آگیا گنڈا میر بھی غریبوں سے بہتر ہے -

لُٹانا - (ل - ٹا - نا) [جہ - صفت] (۱) پسارنا - پھیلانا - فرش یا چارپائی پر ڈالنا (۲) بچے کو لٹانا (۳) قبر میں ڈالنا - (۴) کچھا ڈالنا (۵) چت کرنا -

لُٹانا - (ل - ٹا - نا) [جہ - صفت] (۱) اُڑانا - روپیہ برباد کرنا (۲) غارت

کرنا - فضول خرچی کرنا -

لُٹاؤ - (ل - ٹا - او) [جہ - صفت] فضول خرچ - اُڑاؤ - کھاؤ -

لُٹائی - (ل - ٹا - ٹی) [جہ - ۱- صفت] [پٹنگ کی ڈور لینے کی چھوٹی چوٹی

لُٹ سٹ - (جہ - صفت] (۱) رنگلا - بانگا - جھیل پھیلانا (۲) لٹیلنا - متوالا (۳) آٹسٹ پٹ (۴) اُلجھا ہوا (۵) آٹا - ترجمہ - بے ترتیبی سے پٹا ہوا -

لُٹ پٹانا - (۱) صفت] نقصان کرنا - لٹکھڑانا - بلانا -

لُٹ پٹی پٹوٹی (دوستار) - [۱- صفت] ٹیڑھی بندھی ہوئی پٹوٹی -

لُٹ پٹی چال - (۱) بول چال] مستانہ چال - خراب نامہ -

لُٹ پیٹے دن - (۱- ۵) [مذ] بر وضع اور بیوہ مرد -

لُٹر - (ل - ٹر) [جہ - ۱- مذ] [وضع اور بیوہ مرد -

لُٹر - (Litter) (انگ] اعشاری نظام میں سیال چیزوں کے پائے کا پیمانہ

لُٹریچر - (Literature) (لٹ - رنے - پڑے - انگ] (۱) مذ] [ادب - علم ادب - انشاپروازی -

لُٹس - (لُٹ - ٹس) [جہ - ۱- صفت] لُٹ مار - لُٹ کھٹوٹ -

لُٹس چانا - (۱) محاورہ] لُٹ چانا - چھینا چھین کرنا - غارتگری کرنا -

لُٹک - (ل - ٹک) [جہ - ۱- صفت] (۱) لٹکاؤ - آویزش (۲) ناز وادا -

آن بان (۳) لہر - موج - تڑنگ (۴) سایہ جھوت پریت وغیرہ کا اثر - (۵) لُٹ - عادت - (۶) لاپرواہی (۷) عشق - محبت (۸) براہ - بھالہ -

لُٹک جاتی رہنا - (۱) محاورہ] بانگین جانا رہنا - ناز وادا ناز نہ رہنا -

لُٹک چال - (۱) صفت] مستانہ چال - ناز وادا کی چال -

لُٹک میں آنا - (۱) محاورہ] موج میں آنا - تڑنگ میں آنا -

لُٹک کر چلنا - مستانہ چال سے چلنا - جھوم کر چلنا - تازہ نخرے سے قدم اٹھانا -

لُٹکا - (لُٹ - کا) [جہ - ۱- مذ] (۱) جاؤ منتر - لُٹکا (۲) شجودہ - کرتب - عیاری - چالاک - (۳) چٹکا - (۴) طور - طریقہ - تدبیر - داؤں - پیچ - (۵) شکل - دل بہلاوا - (۶) کمر - فریب (۷) چلتا ہوا نخرہ - اکسیر -

لُٹکا چل جانا - (۱) محاورہ] منتر یا جاؤ چل جانا -

لُٹکا رکھنا - (۱) محاورہ] آویزاں رکھنا - (۲) پیلے پہلے سے کسی کے کام کو ٹالتے رہنا - (۳) کسی کام کی تکمیل نہ کرنا - یا توں نہ ہونے دینا -

لُٹکا ہاتھ آنا - (۱) محاورہ] آسان تدبیر ہو جانا -

لُٹکانا - (لُٹ - کان) [جہ - صفت] (۱) معلق کرنا - آویزاں کرنا (۲) پھانسی دینا - (۳) اٹکاتے رکھنا - اُلجھانا (۴) امید میں رکھنا - انتظار میں رکھنا -

لُٹکن - (لُٹ - کن) [جہ - ۱- مذ] (۱) لٹکنے والی چیز (۲) ایک زبرد (۳) ایک قسم کی کوئی کی چھوٹی سی گھڑوئی جس پر گھڑا یا ضرعی رکھتے ہیں - (۴) گھڑی کا پندو لٹم -

ڈاکو۔ چور۔

# ل. ج

**لٹکتا۔** (لٹ۔ ٹکت۔ نا) [ھ۔ مص] (۱) آویزاں ہونا۔ معلق ہونا (۲) پھانسی لگن (۳) رکن۔ لٹکتا (۴) منتظر رہنا۔ امیدوار رہنا۔ (۵) مدتوں بیار رہنا۔ لاغر ہونا۔ ڈبلا ہونا (۶) آگے نہ بڑھنا۔ پیچھے رہنا۔  
**لٹمس۔** (Litmus) [لٹ۔ مٹس] (انگ۔ ا۔ مذ) ایک نیلا رنگ جو تیزاب ٹپکنے سے سرخ ہو جاتا ہے۔

**لٹنا۔** (لٹ۔ نا) [ھ۔ مص] [ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا۔ کمزور ہونا۔ لٹنا۔ (لٹ۔ نا) [ھ۔ مص] آتیا ہونا۔ برباد ہونا۔ چوری ہونا۔ مالی نقصان اٹھانا۔ گھر کا اڑونا۔ دیران ہونا۔

**لٹو۔** (لٹ۔ ٹو) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) ایک گول مخروطی کھلونا جو دریا تک گھومتا رہتا ہے۔ سیدھ معلوم کرنے کا ایک قول (۲) کناٹہ (۳) ماشق۔  
**لٹو ہونا۔** (۱) محاورہ (۲) عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا (۳) محو ہونا (۴) پکتہ کھانا۔

**لٹوانا۔** (لٹ۔ وا۔ نا) [ھ۔ مص] (۱) غارت کرنا۔ تباہ کرنا۔ صرف کرنا۔ ہنگامہ سوادا لوانا۔ نقصان کرنا۔

**لٹورا۔** (لٹ۔ ٹو۔ را) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) ایک قسم کا پرندہ (۲) بفتح دوم، اُسکے ہوتے بالوں کی لٹ۔

**لٹوری۔** (لٹ۔ ٹو۔ ری) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) لٹے ہوئے بالوں کی چھوٹی لٹ۔  
**لٹوریوں والی۔** ذرا ن۔ پٹیل۔ جاؤ گرنی۔

**لٹوریا۔** (لٹ۔ ٹو۔ ری) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) جٹا دھاری۔ لٹوں والا بونگی۔  
**لٹو دراز۔**

**لٹھ۔** [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) موٹی کڑی۔ سونٹا۔ لاٹھی۔ (۲) چرسے یا کسی اور چیز کی لاٹھ۔

**لٹھ باز۔** [ھ۔ ف۔ صفت] لاٹھی سے لڑنے والا۔

**لٹھ بازی۔** [ھ۔ ف۔ صفت] (۱) لٹھ بازی کی لٹھ۔ لٹھ لٹھا۔  
**لٹھ بند۔** [ھ۔ ف۔ صفت] لاٹھی باندھنے والا۔ (کناٹا) اچھڑ۔  
**لٹھ سار دینا۔** (۱) محاورہ (۲) سخت بات کہہ دینا۔ نہایت درشت جواب دے دینا۔

**لٹھا۔** (لٹھ۔ ٹھا) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) شبتیر۔ کڑی۔ ریلوے سیلیپر۔ (۲) جریب کا سوال حصہ (۳) ایک قسم کا موٹی کپڑا۔

**لٹھیا۔** (لٹھ۔ یا) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) لٹھی کی نوعیت۔ چھوٹی چھری۔

**لٹھیت۔** (لٹ۔ ٹھیت) [ھ۔ صفت] (۱) لاٹھی سے لڑنے والا۔ لٹھ باز۔ (۲) دستہ (۳) ہڈی۔

**لٹھیا۔** (لٹھ۔ یا) [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) چھوٹا سا لوٹا۔ گڑوی۔

**لٹھیا ڈلونا۔** (۱) محاورہ (۲) لوٹا پانی میں گرا دینا (۳) کاغذ بک دینا۔  
**لٹھیا بٹا۔** لٹھ بٹا۔ (۱) نقصان اٹھانا۔ ہمت اڑنا (۲) اڑو کھونا۔  
**لٹھیا توڑنا۔** لٹھیا توڑنا۔

**لٹھیا ڈوبی اے ہر داس۔** گھوڑی دانہ کھائے نہ گھاس۔  
دا۔ مقولہ (۱) کام بالکل بگڑ گیا ہے اب سڑھنے کی امید نہیں۔

**لٹھیا۔** (لٹ۔ ٹھیا) [ھ۔ صفت] ٹوٹ مار کرنے والا۔ راہزن۔ قزاق۔

**لج۔** [ھ۔ ا۔ مذ] (۱) لاج کا مخفف۔

**لجیا۔** (لج۔ جیا) [س۔ ا۔ مذ] شرم جیا۔ غیرت۔ لاج۔  
**لج جبت۔** (لج۔ جبت) [ف۔ ا۔ مذ] [عاجزی۔ منت۔ سماجیت۔ خوشامد۔

**لجٹو۔** (لج۔ ٹو) [ھ۔ صفت] (۱) شرم والا۔ باجیا (۲) مذکر [ایک بلوڈا جو آدمی کے ہاتھ لگانے یا گرم ہونے سے مرعجا جاتا ہے۔ لاجتوی۔ چھوٹی ٹوٹی۔

**لججام۔** (لج۔ جام) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) لگام کو معزب۔ باگ۔ عنان۔  
**لججانا۔** (لج۔ جانا) [ھ۔ مص] [شرمانا۔ شرمندہ ہونا۔ جھینپنا۔ نجل ہونا۔

**لججاؤ۔** (لج۔ جاؤ) [ھ۔ صفت] [دیکھنے لگاؤ۔ شرم جیا۔ لاج۔  
**لجلاج۔** (لج۔ لاج) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) شطرنج کا موجد (۲) شطرنج یا چوکر کا استاد۔ (۳) صاف کیا ہوا پارہ۔

**لجلیجا۔** (لج۔ لیجا) [ھ۔ صفت] [پھلپلا۔ پھلدار۔ ملائم۔ لیس دار۔  
**لججہ۔** (لج۔ ججہ) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) مذی۔ بھنور۔ منجدھار۔  
**لججہ آفت۔** [ع۔ ف۔ ا۔ مذ] سخت مصیبت۔

**لججیلا۔** [ھ۔ صفت] باجیا۔ شرمیلا۔ جیا دار۔

# ل. ج

**لج۔** [ف۔ صفت] (۱) رنگ۔ برہنہ (۲) بچپن۔ آوارہ۔ بدکار۔ بد معاش۔  
**لج بہاؤ۔** غنڈوں کا سردار۔ نہایت شہدا۔ بد معاش۔

**لجیا۔** (لج۔ جیا) [ھ۔ صفت] (۱) مذکر [۲] لے شرم۔ بے باک (۲) معاش۔  
**لجیلا۔** گنڈا۔ اوباش۔ (۳) فساد کی جھگڑاؤ۔ شرمیر۔ (۴) اچکا۔ جھگڑا۔

**لجلی۔**  
**لجلیپن۔** [ھ۔ صفت] (۱) مذکر [۲] شہداپن۔ بے شرمی۔ بے عزتی۔ بچپنی۔  
**لجلیپن۔** بدکاری۔

**لجنا۔** (لج۔ چانا) [ھ۔ مص] [ٹھیکھا کرنا۔ جھگانا۔ (۲) کمزور کرنا۔ معنوی۔

**لجچر۔** (لج۔ چچر) [ھ۔ صفت] (۱) کفو۔ مہل۔ بیہودہ۔ (۲) بے وقوف۔

**لججی۔** (لج۔ ججی) [ھ۔ صفت] (۱) لٹھی۔ (۲) لٹھی (بات)۔

**لجک۔** (لج۔ کجک) [ھ۔ صفت] (۱) مذکر [۲] لٹھی۔ (۳) لٹھی۔ (۴) لٹھی۔ (۵) لٹھی۔ (۶) لٹھی۔ (۷) لٹھی۔ (۸) لٹھی۔ (۹) لٹھی۔ (۱۰) لٹھی۔

**لجک۔** (لج۔ کجک) [ھ۔ صفت] (۱) لٹھی۔ (۲) لٹھی۔ (۳) لٹھی۔ (۴) لٹھی۔ (۵) لٹھی۔ (۶) لٹھی۔ (۷) لٹھی۔ (۸) لٹھی۔ (۹) لٹھی۔ (۱۰) لٹھی۔



لچک آجانا۔ (۱۔ محاورہ) جھٹکا آجانا۔ ضرب آجانا۔  
 لچک جانا۔ (۱۔ محاورہ) بل کھانا۔ مڑ جانا۔ لرز جانا۔ کاغذ پانا۔  
 لچک دار۔ (۱۔ صفت) وہ چیز جس میں لچک ہو۔ لرزاں۔ لہر دار۔  
 لچکا۔ (لج۔ کا) [جھ۔ ۱۔ مذ] (۱) ضرب۔ جھکا۔ بچکولا۔ (۲) موج۔ بچک (۳)  
 ایک قسم کا پتلا گوشہ۔ (۴) پیش۔ لرزش۔  
 لچکانا۔ (لج۔ کا) [جھ۔ ۱۔ مصدر] چیز کو ہلانا۔ لرزش دینا۔ پیش دینا۔  
 (ل۔ بچک۔ نا) [جھ۔ مصدر] (۱) خمیدہ ہونا۔ جھکانا۔ مڑنا۔ بل کھانا۔  
 (۲) لرزنا۔ کانپنا۔ ہلنا۔ ہلکانا۔  
 لچکبیل۔ (لج۔ کنی۔ لا) [جھ۔ صفت] لچک دار۔  
 لچک لچک۔ (جھ۔ ۱۔ مصدر) [پکھنے کی آواز۔  
 لچک لچکا۔ (لج۔ لی۔ چا) [جھ۔ ۱۔ مذ] ٹھاپا۔ ساسن۔ رگس وارساں۔  
 لچکانا۔ (لج۔ ل۔ چا۔ نا) [جھ۔ مصدر] ایسے وار ہونا۔ ٹھاب دار ہونا۔ لچکانا۔  
 لچکانا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصدر] (۱) جھکانا۔ ٹیرھا ہونا۔ (۲) فروغی کرنا۔ (۳) مغلوب  
 ہونا۔

لچکنا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصدر] کسی کے ڈھنگ کیسنا۔ کسی کے ڈھنگ کیسنا۔ کسی کے ڈھنگ  
 پر آنا۔ بڑی عادت پڑنا۔ ادا کیسنا۔  
 لچکنا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصدر] (۱) نمونہ۔ نمونہ اور پانی کی آمیزش۔ (۲) ایک گانا۔ لچکا  
 کی نصیحت۔  
 لچکانا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصدر] (۱) ڈھ دھاگے کا پستی پر لینا۔  
 لچکنا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصدر] (۱) [جھ۔ ۱۔ مصدر] میڈے کی طام اور چلی پوری۔  
 لچکنا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصدر] نہایت نرم پیٹ۔  
 لچکنا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصدر] (۱) شہدی۔ شہدی۔ برسین (۲) بانجو۔  
 لاکا۔ (۳) فضول خرچ (۴) بے ہودہ (عورت)  
 لچکبیل۔ (۱۔ صفت) لوجھار۔ لیسدار (۲) نرم۔ طام۔ نازک۔

ل۔ح

لحاظ۔ (ل۔ حاظ) [ح۔ ۱۔ مذ] (۱) نظر۔ نگاہ (۲) ادب۔ حفظ۔ مرتب۔  
 (۳) شرم۔ حیا (۴) مروت۔ ملاحظہ (۵) خیال۔ دھیان (۶) پرہیز  
 اجتناب (۷) توجہ (۸) غیرت۔ حمیت۔  
 لحاظ آنا۔ (۱۔ محاورہ) مروت آنا (۲) شرم آنا۔  
 لحاظ اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) بے شرم ہونا۔ بے عزت ہونا۔ بے  
 حیا ہونا۔  
 لحاظ رکھنا۔ (۱) دھیان رکھنا۔ خیال رکھنا (۲) ادب کا خیال رکھنا (۳)  
 شرم کرنا۔ پرہیز کرنا۔  
 لحاظ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ادب کرنا (۲) پاس کرنا (۳) شرم کرنا۔ حیا کرنا۔ (۴)  
 مروت سے پیش آنا۔  
 لحاظ کھونا (دکھو دینا)۔ (۱۔ محاورہ) ادب و مروت کو قائم نہ رہنے  
 دینا۔ (۲) شرم نہ رہنے دینا۔  
 لحاظ نہ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ادب نہ کرنا۔ حفظ۔ مرتب کا خیال نہ رکھنا  
 (۲) شرم نہ کرنا۔ حیا نہ کرنا۔ (۳) مروت سے پیش نہ آنا۔ خیال  
 نہ کرنا۔  
 لحاظ والا۔ (۱۔ صفت) (۱) شرم و حیا والا (۲) مروت۔  
 لحاف۔ (ل۔ حاف) [ح۔ ۱۔ مذ] رضائی جس میں روئی بھری ہو۔  
 لحد۔ (ل۔ حد) [ح۔ ۱۔ مصدر] (۱) قبور۔ مزار۔ تڑپت۔ گور۔ قبر کے اندر  
 کا وہ گڑھا جس میں مرد کو رکھا جاتا ہے۔  
 لحد سے اٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) نیا مت کے روز مردوں کا زندہ ہو کر  
 قبر سے اٹھنا۔  
 لحد میں اتارنا۔ (۱۔ محاورہ) مردے کو قبر میں دفن کرنا۔  
 لحد۔ (لج۔ ظ) [ح۔ ۱۔ مذ] [جھ۔ ۱۔ مصدر] دم کے دم۔ دم بھر۔  
 لحد۔ (۱۔ تابع فعل) دم بھر۔ سعادت بہ سلامت۔ ہر دم۔

لچکانا۔ (لج۔ نا) [جھ۔ مصدر] (۱) سوت کی انٹی (۲) ایک زیور (۳) لچکا  
 (۴) ڈور۔ (۵) مسلسل اور پیچیدہ پلٹے پلٹے تار۔ (۶) بہت باریک  
 کڑا ہوا پازیا اورک (۷) ریشم ایسے باریک تاروں کی ایک قسم  
 جو کھانڈے تیار کی جاتی ہے (۸) آواز کی پیچیدگی۔ لچکری۔  
 لچکے دار۔ (۱۔ ۵۔ صفت) (۱) پیچیدہ۔ پیچدار۔ پیچ در پیچ (۲) سلسلہ دار  
 متواتر۔ برابر (۳) ڈور سے دار (۴) حلقہ دار۔ پرت دار۔ (۵)  
 مزے دار۔  
 لچکے دار بائیں۔ (۱۔ صفت) مسلسل اور مزیدار بائیں۔ پیچ در پیچ  
 بائیں۔  
 لچکھی۔ (لج۔ ہی) [جھ۔ ۱۔ مذ] (۱) دولت کی مالک۔ دھن کی  
 دیوی۔ لکشمی (۲) دھن۔ دولت۔ مال۔ (۳) شان و شوکت۔  
 حشمت۔ (۴) دبدر (۵) سون۔ خوبصورتی۔ جمال (۶) ہو، بیٹے کی بڑی  
 (۷) لڑکیاں۔ بیٹیاں (۸) رام چندر جی کی بیوی، سیتا۔  
 لچھی بن آدھ کون ہے۔ (۱) [جھ۔ ۱۔ مصدر] دولت کے بغیر کوئی نہیں پوچھتا۔  
 لچھی گھر میں آنا۔ (۱۔ محاورہ) دولت کا گھر میں آنا۔ صاحب اقبال  
 ہونا (۲) گھر میں مبارک قدم ہونا آنا۔ (۳) خوش نصیب بیٹی  
 پیدا ہونا۔ (۴) خوش نصیب ہونا آنا۔  
 لچھی نانا تن کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بڑھ کرنا۔ کھانا شروع کرنا۔  
 لچھن۔ (لج۔ چھن) [جھ۔ ۱۔ مذ] (۱) علامت۔ نشانی۔ آثار۔ انازہ۔ (۲)  
 طور۔ طریق۔ ڈھنگ (۳) کرتوت۔ فعل۔ کام (۴) عادت۔  
 خلعت۔ کردار (۵) عجیب۔ بزدلی (۶) حال۔ کیفیت (۷) اعمال۔  
 کرم۔  
 لچھن چھڑ جانا۔ (جھڑنا)۔ (۱۔ محاورہ) پہلی سی رونق نہ رہنا۔ مٹنا  
 وزا آجانا۔ رنگ کوپ جانا۔ رہنا۔ حسن کا زوال پر ہونا۔

لداوا۔ (ل۔وا۔فا) [ھ۔ا۔مذ] بوجھ۔ بھار۔ اسباب۔  
 لداؤ۔ (ل۔وا۔او) [ھ۔ا۔مذ] بوجھ۔ بھار۔ لاوٹنے کا اسباب۔  
 لداؤ کی چھت۔ وہ چھت جو صرف چوڑے سے ڈاٹ لگا کر بنا دیں۔  
 اُس چھت پر کڑیاں نہیں ہوتیں۔ گنبد نما چھت۔  
 لدا سہے۔ (۱۔ محاورہ) گنا تیا بے وقوف (۲) بتلا۔  
 لدا نا۔ لدا جانا۔ (لڈ۔نا۔ کڈ۔ جا۔ نا) [ھ۔مض] (۱) بوجھ رکھا جانا (۲)  
 بھرا جانا۔ پڑھو جانا۔ (۳) چلا جانا۔ گذر جانا۔ (۴) مَر جانا۔ انتقال کر  
 جانا (۵) درخت پر بہت سا پھل ہونا۔  
 لڈنی۔ (ل۔ڈن۔نی) [ع۔ا۔مذ] خدا داد۔ وہ علم جو کھینے کے بغیر  
 وحی یا الہام وغیرہ کے ذریعہ حاصل ہو۔  
 لڈو۔ (لڈ۔ڈو) [ھ۔صفت] (۱) بوجھ اٹھانے کے قابل۔ باربرداری کے  
 لائق (۲) وہ حیوان جو بار برداری کے کام آئے۔  
 لڈو کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) بار برداری کے قابل بنانا (۳) سواری کے قابل نہ  
 نہ رکھنا۔

لداوانا۔ (لڈ۔وا۔نا) [ھ۔مض] لاوانا کا متعدی متعدی۔ بار کرنا۔  
 لداوائی۔ (۱۔ مٹ) لداوانے کی اجرت۔  
 لڈھڑ۔ (لڈ۔ڈھڑ) [ھ۔صفت] (۱) موٹا اور بد وضع کا غذا یا کپڑا (۲) بھائی  
 اور بھتیجا (۳) گند ذہن (۴) پانی کا ایک جانور۔

## ل۔ڈ۔ڈ

لڈو۔ (لڈ۔ڈو) [ھ۔ا۔مذ] (۱) ڈھیلا۔ ڈلا۔ کلوخ (۲) مین یا مونگ  
 پوسے آسنے کی گول مٹھائی۔ (۳) گن تیا۔ نفع۔ فائدہ۔  
 لڈو بانٹنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی خوشی کی تقریب پر شیرینی تقسیم کرنا۔ خوشی  
 منانا۔  
 لڈو کھلانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مٹھائی کھلانا۔ مُنہ میٹھا کرنا (۲) رشوت دینا۔  
 مُنہ بھرو دینا۔  
 لڈو کمنے سے مُنہ میٹھا نہیں ہوتا۔ (۱) منٹل (۲) زری چا پوسی اور خالی  
 باتوں ہی باتوں سے مطلب برآی نہیں ہوتی۔ بغیر لیے دیے کچھ  
 کام نہیں چلتا۔  
 لڈی۔ (پ۔ا۔مٹ) ایک قسم کا پنجابی مردانہ ناچ۔

## ل۔ذ۔ذ

لذات۔ لذائذ۔ (لڈ۔ذات۔ل) [ذ۔ا۔بذ] (ع۔ا۔مٹ) لذت کی  
 جمع۔ مزے۔ ذائقے۔ لذتیں۔  
 لذائذ نفسانی۔ (ع۔ا۔مٹ) حظ نفسانی۔ نفس کی خوشی۔ شہوت پرستی۔

لڈھڑی۔  
 لڈھ۔ (ع۔ا۔مذ) گوشت۔ ماس۔  
 لڈھیہ۔ (ع۔ا۔مذ) پروٹین۔ (Protein) (۱) وہ غذائیں جن  
 میں گوشت کے اجزا ایسے ملتے ہیں جتنے غذا کا اساسی عنصر ہے۔  
 لڈخن۔ (ع۔ا۔مذ) (۱) آواز (۲) سُرخ آواز۔ خوش آوازی۔  
 خوش خوانی۔  
 لڈن واؤدی۔ (ع۔ا۔مذ) حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو سُرخ  
 پن کی وجہ سے مشور ہے گنا تیا سُرخ آواز۔  
 لڈوٹ۔ (ع۔ا۔مذ) دو یا زیادہ چیزوں کا بل جانا۔ آمیزش۔  
 لڈوٹ۔ (ع۔ا۔مذ) لُحْم کی جمع۔  
 لڈجیم۔ (ل۔جیم) [ع۔صفت] موٹا۔ فریب۔  
 لڈجیم لڈجیم۔ (ع۔ف) موٹا۔ تازہ۔ فریب اندام۔ توانا۔

## ل۔خ۔خ

لڈخ۔ (ق۔ا۔مذ) لٹا کپڑا۔  
 لڈخت۔ (ق۔ا۔مذ) کپڑا۔ پارہ حصہ۔  
 لڈخت جگر۔ (ق۔ا۔مذ) جگر کا ٹکڑا۔ (۲) اٹلاؤ۔ بیٹا۔ بیٹی۔  
 لڈخت جگر کھانا۔ (۱۔ محاورہ) تکلیف برداشت کرنا۔  
 لڈختہ۔ (ق۔ا۔مذ) جگے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ ٹکڑا۔  
 لڈخ۔ (ق۔صفت) (۱) لاغر۔ ڈبلا۔ پتلا۔ (۲) بھوک۔ وہ آواز جن  
 کی شکل کے باعث نکلتی ہے۔  
 لڈخنا۔ (ل۔خ۔ل۔خنا) [ھ۔مض] بھوک پیاس سے تڑپنا۔ بھوک  
 سے نہ ڈال ہوجانا۔  
 لڈختہ۔ (ل۔خ۔ل۔خنت) [ق۔ا۔مذ] چند خوشبودار چیزوں کا مجموعہ جو  
 رُخ تقویت دماغ کے لیے مرہب کو شکھاتے ہیں۔  
 لڈخ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) پیاس کی شدت سے پرندوں کے گلے سے  
 آواز نکالنا۔

## ل۔د۔د

لدا پھندا۔ (ل۔د۔پھن۔دا) [ھ۔صفت] اچھی طرح لدا ہوا۔ بہت  
 بھرا ہوا۔ بوجھ میں دبا ہوا۔ اسباب ساتھ لیے جوئے۔  
 لدا کڈ۔ (ل۔د۔کڈ) [ھ۔ا۔مٹ] (۱) اُونچائی سے کسی چیز کے  
 گرنے کی آواز (۲) دختوں سے پھولوں کے گرنے کی آواز۔  
 (۳) گتوں میں گرنے کی آواز۔ (۴) گاتار۔ پلے درپلے۔  
 لدا نا۔ (ل۔دا۔نا) [ھ۔مض] بار کرنا۔ بوجھ دھروانا۔ اسباب لدا نا۔

ط ل

لذت - (لذت، لذت) [ع۔ ۱۔ ممت] [۱۱] مزہ۔ ذائقہ۔ سواد (۲) حظ۔  
 جمع۔ لذائذ۔ لذات۔  
 لذت آٹھانا - (۱۔ محاورہ) [۱۱] مزہ لینا۔ لطف حاصل کرنا۔ حظ آٹھانا۔  
 [۱۲] ذائقہ لینا۔  
 لذت آشنا - (ع۔ ف۔ صفت) لذت حاصل کرنے والا۔ لذت کا شوگر۔  
 لذت پرست - (ع۔ صفت) لذت اور مزے کا عاشق۔  
 لذت چکھنا - (۱۔ محاورہ) [۱۱] مزہ چکھنا۔ مزہ لینا۔ سوا پانا۔ (۲) لطف حاصل کرنا۔  
 لذت دینا - (۱۔ محاورہ) مزہ دینا۔  
 لذتیت - (ع۔ ۱۔ ممت) [۱۱] لذت پرستی۔  
 لذیذ - (ل۔ ذ۔ ذیق) [ع۔ صفت] [۱۱] خوش ذائقہ۔ مزیدار (۲) خوشگوار۔  
 پر لطف - (۳) عزیز۔ پیارا۔

لڈر - (۱۔ ممت) [۱۱] لڑی۔ بار۔ سلسلہ (۲) ڈور یا رستی کا بل۔ (۳) نظار۔  
 صفت (۴) پتھر کنارہ۔ واسن (۵) گبرہ۔ گانٹھ (۶) وسیلہ تعلق۔  
 رشتہ۔  
 لڈر بندھنا - (۱۔ محاورہ) تعلق ہونا۔ واسطہ ہونا۔  
 لڈر بندھی - (ع۔ فحش)۔  
 لڈر جانا - (۱۔ محاورہ) ٹکرا جانا۔ مقابلہ ہونا۔  
 لڈر لگانا - (۱۔ محاورہ) وسیلہ تعلق پیدا کرنا۔ بیابن۔ شادی کرنا۔  
 لڈر مڑنا - (۱۔ محاورہ) تکرار کرنا۔ جھگڑنا (۲) لوکر مڑنا۔  
 لڈر ملانا - (۱۔ محاورہ) تعلق پیدا کرنا۔ سلسلہ پیدا کرنا۔  
 لڈریں رہنا - (۱۔ محاورہ) [۱۱] کسی کا طرفدار بنا رہنا۔ ساتھ دینا۔ جیب میں ہونا۔ پٹے ہونا۔

لڑا - (ل۔ لڑا) [ع۔ ۱۔ مذ] لڑی کا مذکر۔ بڑی کڑی۔ سبک۔  
 لڑاکا - (لڑا کا۔ لڑاکو۔ ل۔ لڑاکا۔ ل۔ لڑا) [ع۔ صفت] جنگجو۔ جھگڑا تو (۲) شہریر۔ (۳) بدستور۔ بد مزاج۔ نریش۔  
 لڑا کا کے چار کان - (۱۔ ل۔ لڑا) [ع۔ صفت] جس عورت کو لڑائی کا چٹکا ہو وہ لڑنے کے لیے ہمیشہ کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے۔  
 لڑانا - (ل۔ لڑا۔ نا) [ع۔ ماضی] لڑائی کرنا۔ جنگ کرنا۔ کشتی کرنا۔ بھڑانا۔  
 فساد کرنا۔ (۲) دو چیزوں کو باہم ٹکرانا۔  
 لڑاؤ - (ل۔ لڑا۔ او) [ع۔ ۱۔ مذ] لڑنے کے قابل۔ ڈور جو ایک متریک کھڑا لڑنے کے قابل ہو۔ [ع۔ صفت] لڑنے کے قابل۔  
 لڑائی - (ل۔ لڑا۔ ای) [ع۔ ۱۔ ممت] [۱۱] جنگ۔ رزم۔ معرکہ۔ جھگڑا۔  
 فساد۔ مارپیٹ (۲) مقابلہ۔ آمناسدنا (۳) شیخی (۴) عداوت۔ تنگی۔  
 ان بن۔  
 لڑائی باندھنا - (۱۔ محاورہ) جنگ کی ٹھہرانا۔ دشمنی کرنا۔ جھگڑا کھڑا کرنا۔  
 لڑائی بھڑائی - (۱) دنگناؤ۔ جنگ و جدل۔  
 لڑائی اور آگ کا بڑھانا کیا - (۱) بشل، ان دونوں کا بڑھنا آسان ہے۔  
 لڑائی پیرا تہ آٹھانا - (۱۔ محاورہ) لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جانا۔  
 لڑائی پر جانا - (۱۔ محاورہ) لام پر جانا۔ میدان جنگ میں جانا۔  
 لڑائی نکل جانا - (۱) لڑائی نکل جانا۔ (۱۔ محاورہ) جنگ کا موقع قریب آ جانا۔  
 مہم سر پر آ جانا  
 لڑائی ٹھن جانا - (۱۔ محاورہ) لڑائی کا نتیجہ ہونا۔ لڑائی ٹھن جانا۔  
 لڑائی چھوڑنا - (۱۔ محاورہ) جنگ شروع ہونا۔  
 لڑائی کا گھر - (۱) مذ فساد کی جڑ۔ فتنہ پر واز۔ جھگڑا ڈلنے والا۔ فساد کرنے والا۔  
 لڑائی کا گھر ہانسی روگ کا گھر کھانسی۔ (۱) بشل، لڑائی کی ابتداء

ل ل

لہ - (۱۔ لہ) [ع۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا گز جس سے زمین ناپنی جاتی ہے۔ اس کی لہاں ساڑھے چار فٹ سے ساڑھے چھ فٹ تک ہوتی ہے۔  
 لہ - (ع۔ صفت) [ع۔ صفت] اجمل۔ بے تیز۔  
 لہ - (لہ۔ لہ۔ لہ) [ع۔ صفت] اجمل۔ بے تیزی۔  
 لہ ز آٹھنا - (۱۔ محاورہ) [ل۔ لہ۔ آٹھنا] خوف سے کانپ جانا۔  
 لہ ز جانا - (۱۔ محاورہ) خوف سے ڈر جانا۔ کانپ آٹھنا۔ ٹھرا جانا۔  
 لہ زال - (لہ۔ زال) [ع۔ صفت] لہ زنے والا۔ بٹنے والا۔  
 لہ زانا - (لہ۔ زانا) [ع۔ ماضی] لہ زنا۔ لہ زنا۔ خوف دلانا۔  
 لہ ز جانا - [ع۔ ماضی] لہ زنا۔ کانپ آٹھنا۔ ڈرنا۔  
 لہ زش - (لہ۔ زش) [ع۔ ۱۔ ممت] [ع۔ صفت] بے تیزی۔  
 لہ زنا - (لہ۔ زنا) [ع۔ ماضی] [۱۱] کانپنا۔ ٹھہرانا۔ ڈرنا۔ [۱۲] ہٹنا۔ جھٹل کرنا۔  
 لہ زہ - (لہ۔ زہ) [ع۔ ۱۔ مذ] [۱۱] بھڑکنا۔ لہ زش۔ بے تیزی۔ کانپنا۔ [۱۲] وہ کیچڑی جو خوف یا بیماری کی حالت میں ہوتی ہے (۳) لڑا۔  
 لہ زہ بھینچال۔  
 لہ زہ آٹھنا - (۱) کانپنا۔ خوف آٹھنا (۲) بھینچال آٹھنا۔  
 لہ زہ برانام - (ع۔ فحش) وہ جس پر کیچڑی طاری ہو۔ کانپنے والا۔  
 لہ زہ چڑھنا - (۱۔ محاورہ) کیچڑی چڑھنا۔ (بیماری یا خوف سے) بھڑکنا۔  
 کانپنا۔  
 لہ زے سے بھاگنا - (۱) بھٹ۔ (۲) کانپنا۔ کانپنا۔ کانپنا۔ کانپنا۔  
 آٹھنا۔

لڑکوں کا کھیل نہیں ہے۔ (ا۔ مثل) آسان کام نہیں ہے۔ جھوٹا ہے۔  
 لڑکے ہالے۔ بال بچے۔ بیوی بچے۔ عیال و اغفال۔ کتبہ۔  
 لڑکے کو مزہ لگاؤ، لڑائی کھسوٹے۔ (ا۔ مثل) کینہ منہ لگانے سے  
 سر پر چڑھتا ہے۔  
 لڑکے کے پاؤں پالنے میں پہچانے جاتے ہیں۔ (ا۔ مثل) ہونٹا  
 بچے کا ابتدا ہی میں پتہ چل جاتا ہے۔ (۲) کام کا انجام شروع ہی سے  
 معلوم ہو جاتا ہے۔

لڑکے والا۔ (ا۔ مذ) لڑکے کا باپ۔ ڈولہا کا باپ۔  
 لڑکھڑانا۔ (لڑکھ۔ ڈانگ۔ ڈانا) [ھ۔ میں] ڈانگنا۔ پاؤں کا پینا (۲) رزنا۔ تھرانا۔  
 (۳) ہلنا (۴) بلے راہ ہونا۔ بسکنا۔ نیست بولنا۔ ایمان میں فرق  
 آنا۔

لڑکی۔ (لڑکھ۔ کی) (ا۔ ۱۔ ۵۔ مرث) [ھ۔ چھو کری۔ کنیا۔ بیٹی۔ دختر (۲) و دخترہ۔  
 کم عمر۔ نادان۔ ناسمجھ۔  
 لڑکی تیرا سیاہ کرکے، کہا میں کیسے کہوں۔ (ای۔ مثل) جہاں کسی بات  
 کی خواہش ہو کرگزی نہ جاتے۔  
 لڑکی والا۔ (ا۔ مذ) لڑکی کا باپ۔ ڈولہن کا باپ۔

لڑکھڑنا۔ [ھ۔ میں] لڑکھڑانا۔ آخری دم تک متبادل کرنا۔  
 لڑکھڑانا۔ (لڑکھ۔ نا) [ھ۔ میں] [ھ۔ چھوڑنا۔ آنکھڑا کرنا (۲) بھڑانا۔ متبادل کرنا۔  
 ۳، ۴، ہا ہو بھڑانا، ۴، ہا ہو بھڑنا (۵)، زور آرائی کرنا، بھٹکنا۔ (۶)  
 مطابق ہو جانا۔ ایک شعر کا دوسرے کے شعر سے (۷) نصیب جاگ  
 جانا (قسمت لڑکھی) (۸) کاٹنا۔ ڈسنا۔  
 لڑنا بھڑنا۔ جھگڑنا۔ (ا۔ محاورہ) آپس میں جھگڑنا، فساد کرنا۔ بحث و مکالمہ  
 کرنا۔

لڑنا۔ [ھ۔ میں] چھوٹ جانا۔ چڑھنا (۲) لڑھکنا۔  
 لڑنا۔ [ھ۔ میں] کسی چیز کا زمین سے گڑھتے ہوتے چلنا (۲) زمین پر  
 لوٹنا۔  
 لڑتت۔ (ل۔ لڑتت) [ا۔ ۱۔ ۵۔ مرث] پہلوانی بگشتی۔ زور آرائی۔  
 جنگ۔

لڑنبتا۔ (ا۔ صفت) لڑنے والا۔ پہلوان۔  
 لڑکھڑا کر چلنا۔ (ا۔ محاورہ) ڈانگنا کر چلنا۔ مستانہ چال سے چلنا۔ ٹھوکر  
 کھانچنا۔

لڑکھڑانا۔ (لڑکھ۔ نا) [ھ۔ میں] ڈانگنا۔ نئے میں ادھر ادھر چھوڑنا۔  
 لڑانا۔ (لڑ۔ ا۔ نا) [ھ۔ میں] دیکھنے لانا۔ جھگڑا کرنا۔  
 لڑھانا۔ (ل۔ لڑھانا) [ھ۔ میں] [ا۔ پھسلنا (۲) لڑھکانا (۳) بہانا۔  
 گرانا (۴) مار کر گرانا۔ مار کر گرانا۔

لڑھکانا۔ (لڑھ۔ نا) [ھ۔ میں] گھومنا ہوا پھینکنا کسی چیز کو گھمانا۔  
 لڑھکننا۔ (ل۔ لڑھکننا) [ا۔ میں] [ا۔ پھسلنا۔ لڑھکنی کھانا۔ ڈانگنا۔  
 (۲) لیٹنا، لڑھکانا، سونا، (۳) مرنا۔ (۴) انتقال کرنا۔

لڑھکنی۔ (ل۔ لڑھکنی) [ا۔ ۱۔ ۵۔ مرث] لومنی۔ ٹوٹ۔ لڑھکن

ہنسے مذاق سے ہوتی ہے اور سیاری کا آغا زکھانی سے۔  
 لڑائی کی لڑٹ۔ (ا۔ مرث) جھگڑاؤ۔ فساد۔  
 لڑائی لڑنا۔ (ا۔ محاورہ) جنگ کرنا، جھگڑا کرنا۔  
 لڑائی مارنا۔ (ا۔ محاورہ) شکست دینا۔ حریت کو منسوب کرنا۔ لڑائی سر کرنا۔  
 میدان فتح کرنا۔

لڑائی ٹول لینا۔ (ا۔ محاورہ) خواہ مخواہ جھگڑے میں پڑنا۔ ماحق مصیبت  
 میں پڑنا۔ پھیر پھانی کرنا۔  
 لڑائی میں لڑو نہیں جیتے (مٹھائی) نہیں ہیتی۔ (ا۔ مثل) لڑائی  
 نحوشی کی جگہ نہیں۔ لڑائی آسان کام نہیں  
 لڑائی باندھنا۔ (ا۔ محاورہ) لڑائی کا سلسلہ جاری رکھنا۔  
 لڑائی ہونا۔ (ا۔ محاورہ) جنگ ہونا۔ تنازعہ ہونا۔

لڑ پڑنا۔ (لڑ۔ ب۔ لڑا) [ھ۔ صفت] [ا۔ دیکھیں، لڑھکانا۔ ملائم۔ لیس دار۔  
 لڑ پڑانا۔ (لڑ۔ ب۔ لڑا) [ا۔ ۵۔ میں] [ا۔ زبان میں گلت ہونا۔ بھگانا۔  
 مرگ کر ہونا۔ (۲) ڈانگنا۔ لڑکھڑانا۔  
 لڑ پڑھنا۔ لڑ پڑنا۔ (۵) [ھ۔ میں] خواہ مخواہ لڑنے لگانا۔ جھگڑا ٹول لینا۔  
 لڑتت۔ (ل۔ لڑتت) [ا۔ ۱۔ ۵۔ مرث] [ا۔ لڑتت] جنگ کرلے کا انداز بگشتی۔  
 لڑائی۔

لڑتی ہیں پڑنا۔ [ھ۔ میں] ہنڈال میں پڑنا۔  
 لڑتے کے پیچھے بھاگتوں کے آگے۔ (ا۔ مثل) بزدل اور ڈر پرک  
 آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔

لڑ جانا۔ (ا۔ محاورہ) متقابل ہونا۔ ٹکڑا جانا۔ لڑنا۔  
 لڑ جانا۔ (ق) اطاعت قبول کرنا۔ ہتھیار ڈال دینا۔  
 لڑکا۔ (لڑ۔ کا) [ا۔ ۱۔ ۵۔ مذ] طفل۔ چھوکرا۔ بانک بچہ (۲) بیٹا۔ پوت۔  
 پسر (۳) ناخبرہ کار۔ نادان۔

لڑکا بالا۔ (ا۔ مذ) بال بچہ۔ اولاد۔ عیال و اطفال۔  
 لڑکا پینا۔ (ا۔ محاورہ) بے ذوقی کی حرکت کرنا۔ نادانی کی بات کرنا۔  
 لڑکا بے دودھ یا لٹا۔ (ا۔ محاورہ) کسی نہ کسی سہارے پر اٹھنا۔ اُمید  
 پوری نہ ہونے دینا۔ اُلٹا۔

لڑکا جینے بیوی اور پتی باندھیں میاں۔ (ای۔ مثل) تکلیف کوئی  
 اٹھائے اور اظہار تکلیف کوئی کرے۔

لڑکا گود لینا۔ (ا۔ محاورہ) کسی بچے کو منہ جی بنا کر۔  
 لڑکپن۔ (ا۔ مذ) بچپن۔ طفولیت (۲) کم سنی کا زمانہ۔ اچھا پن۔  
 چھٹیچھوڑا پن۔

لڑکپن کی باتیں۔ (ا۔ مرث) نادانی کی باتیں۔ ناسمجھی کی باتیں۔  
 لڑکوں کا باوا (بابا) ہے۔ (ا۔ مثل) لڑکوں سے زیادہ شیر ہے۔  
 لڑکوں کا کھیل۔ (ا۔ مذ) بچوں کا کھیل۔ بچوں کا دل بھلاوا۔ (۲)

آسان کام۔ سہل بات (۳) (طرن) ادنیٰ کام۔  
 لڑکوں کا کھیل۔ بچوں کا کھرن۔ (ا۔ مثل) ناسمجھ کے آگے جان  
 کی کچھ قدر نہیں۔

**کسٹری** - (کنس۔ ٹری) (رق۔ ۱۔ مٹ) [ رسی -  
**کسکسا** - (کنس۔ ل۔ سا) [ صفت ] کُٹاب دار۔ لیس دار۔ چھپ دار۔  
**کسکسانا** - (کنس۔ ل۔ سانا) [ رقی۔ صفت ] سرسبز۔ تیز نازہ۔  
**کستن** - (کنس۔ کن) [ ۱۔ ۱۰۔ ۱۵ ] [ لسن - عقوم ] گودہ سرخ یا سیاہ داغ  
 جو جسم پر ہوجاتے ہیں۔  
**کسنا** - [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] آلودہ ہونا۔ [ ۲۰ ] [ لسن ] چھپا ہونا [ ۲۱ ] [ لسن ] ٹھیک  
 بیٹھنا۔  
**کسوطرا** - (کنس۔ ٹرا) [ ۱۔ ۱۰۔ ۱۵ ] [ لسن ] ایک چھپ دار۔ پھل۔ سپتان۔  
**کستی** - (کنس۔ بی) [ ۱۔ ۱۰۔ ۱۵ ] [ لسن ] پانی بلا ہوا دودھ۔ (۲۰) [ لسن ]  
 اور پانی کا مرکب پھچھا۔

کا فحل۔  
**کڑھکنی کھانا** - (۱۔ محاورہ) پھل مانا۔ تلابازی کھانا۔ لڑھکنا۔  
**کڑھکنا** - (کڑھ۔ نا) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] (۱) کڑھکنا۔ بھلنا (۲) ہٹنا۔ گھٹنا (۳)  
 بندوق یا توپ کا نشانہ بننا۔ (۴) مرجانا۔  
**کڑھی** - (۱۔ مٹ) ایک قسم کی بیل گاڑی۔  
**کڑھی** - (کن۔ ڈی) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] ہار۔ موتیوں کی مالا۔ کڑ (۲) بھڑی۔  
 سلسلہ۔ تسلسل۔  
**کڑے فوج** نام سردار (سرکار) کا۔ (۱۔ مٹ) کام کسی کا نام کسی کا۔  
**کڑیں سانڈ باڑی کا بھڑکس** - (۱۔ مٹ) بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں  
 کا نقصان ہونے سے۔

## ل۔ش

**کنش** - (کنش۔ ۱۔ مٹ) کنے کو کسی پر چھپانے کا اشارہ کرنے کی آواز۔  
 ہو چھہ ہو چھہ۔  
**کنشہ** - (کنش۔ نہ) [ صفت ] ناکارہ۔ سست۔  
**کنشہ پشتم** - (کنش۔ پشتم) [ لسن ] تم۔ کنش۔ تم۔ کنش۔ تم۔ کنش۔ تم۔  
 (۱۔ مٹ) بڑی سلی طرح۔ جو کونوں کر کے مشکل سے۔  
**کنشکارنا** - (کنش۔ کار۔ نا) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] کنے کو ناکارہ پر چھپانے کے لیے  
 کنش کننا۔  
**کنشکر** - (کنش۔ کن) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] فوج۔ سپاہ (۲) بھید بھار۔ ہجوم۔  
 چھاؤنی۔ کیمپ۔  
**کنشکر آرا** - (کنش۔ صفت) کنش کرنا کرنے والا۔ کنش کرنا کرنے والا۔  
**کنشکر اکٹھا کرنا** - (کنش۔ فوج) اکٹھی کرنا۔ سپاہ فراہم کرنا۔ (۲) بہت  
 سے آدمی جمع کرنا۔ بھید لگانا۔  
**کنشکر فوٹنا** - (کنش۔ فوٹنا) [ محاورہ ] فوج کا دشمن پر اچانک حملہ کرنا۔  
**کنشکر جزار** - (کنش۔ جزار) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] بڑا بھاری ٹکڑا۔  
**کنشکر جھانا** - (کنش۔ جھانا) [ محاورہ ] فوج کو تڑپ دینا۔  
**کنشکر کنسن** - (کنش۔ صفت) بہادر۔ دلیر۔ شجاع۔  
**کنشکر کا کنشکر** - (کنش۔ کنشکر) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] ہجوم۔ انہوہ۔  
**کنشکر کنشی** - (کنش۔ کنشکر) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] دھاوا۔ چڑھائی۔  
**کنشکر کی گاڑی** - (کنشکر۔ کنشکر) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] کنشکر کا سامنا اور  
 آنڈھی کا انہوہ دونوں نقصان دہ ہوتے ہیں۔  
**کنشکر کی بولی** - (کنشکر۔ بولی) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] کنشکر کی زبان۔  
 جس میں بھانت بھانت کی زبانیں مل گئی ہوں۔ ملی جلی زبان۔  
**کنشکر گاہ** - (کنشکر۔ گاہ) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] کیمپ۔ چھاؤنی۔ سپاہ کا پڑاؤ۔  
**کنشکر میں اونٹ بدنام** - (کنشکر۔ اونٹ) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] خواہ مخواہ کی بدنامی۔  
**کنشکر** - (کنشکر۔ کنشکر) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] فوجی۔ کنشکر۔

## ل۔ز

**کنوج** - (کنوج۔ ۱۔ مٹ) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] چھپ دار۔  
**کنوجت** - (کنوج۔ کنوجت) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] چھپ۔ کُٹاب۔  
**کنوون** - (کنوون۔ ۱۔ مٹ) چھپنا۔ چھپا ہونا۔  
**کنوونم** - (کنوون۔ مٹ) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] لازم ہونا۔ واجب ہونا۔ ضرور۔ لازم۔  
**کنوونم مالا پوزم** - (کنوون۔ مٹ) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] ضروری کو ضروری قرار دینا۔

## ل۔س

**کنس** - (کنس۔ ۱۔ مٹ) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] چھپ۔  
**کنسنگا** - (کنس۔ تعلق) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] واسطہ۔ سبب۔  
**کنس دار** - (کنس۔ چھپ دار)۔  
**کنسان** - (کنس۔ سان) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] بولی۔ بھاشا۔ جمع۔  
**کنسان العصر** - اپنے وقت کا فیصیح الکلام۔ اکبر الہ آبادی کا لقب۔  
**کنسان العیب** - عیب کی زبان۔ حافظ شیرازی کا لقب۔  
**کنسان** - (کنس۔ سان) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] بہت بولنے والا۔ کنج۔ (۲)  
 خوش گفتار۔ شیریں زبان (۳) چرب زبان۔ چکنی پچھری بائیں  
 بنانے والا۔  
**کنسانی** - (کنس۔ سانی) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] صفت [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] زبان سے متعلق۔  
**کنسانیات** - (کنس۔ سانی۔ ات) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] زبان کی ابتدا،  
 ارتقا، اور اس کی تشکیل کے قانون کا علم۔ زبان کی تاریخ کا علم۔  
**کنسٹ** - (List) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] فہرست۔  
**کنسٹرین** - (Listrine) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] رٹ۔ رین [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ]  
 جراثیم کش۔ تریبن۔ مرکب۔  
**کنسکر** - (کنسکر۔ ۱۔ مٹ) [ ۱۔ ۱۵ ] [ لسن ] واسطہ۔ سروکار۔

سے متعلق۔

# ل۔ ط

**لطافت** - (ل۔ ط۔ فٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) عمدگی۔ خوبی۔ خوبی (۲) نرمی۔ ملاہمت۔ پاکیزگی۔ صفائی (۳) نزاکت (۴) خوبصورتی (۵) مزہ۔ ذائقہ۔ لذت (۶) باریکی۔ نکتہ (۷) فصاحت۔

**لطائف** - (ل۔ ط۔ فٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] لطیفہ کی جمع۔ جھکے۔ ظرافت کی باتیں۔ باریکیاں  
**لطائف اخیل** - (ع۔ ۱۔ مٹ) جیلے۔ ہلنے، ہجو و سروں کو ناگوار نہ گزریں۔

**لطائف سبتہ** - (ف۔ ۱۔ مٹ) چھ لطیفہ جو سالکوں کے لیے حاصل کرنے لازمی ہیں۔ لطیف نفس، ذات کے مقام سے لفظ اللہ کا (۲) لطیف قلب، جس کا عمل دل ہے۔ (۳) لطیف روح، جس کا مقام سینہ میں دائیں طرف ہے (۴) لطیف سہر، جس کا مقام فرمہ ہے (۵) لطیف خفی، جس کا عمل پیشانی ہے (۶) لطیف خفی، جس کا مقام کانہ سر ہے۔

**لطائف عیبی** - (ع۔ ۱۔ مٹ) غیب کی نیکیاں۔ وہ نیکیاں اور عنایات جو محض خدا کی طرف سے ہوں۔

**لطف** - (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱) عنایت۔ مہربانی (۲) خوبی۔ عمدگی۔ (۳) نرمی۔ ملاہمت (۴) لذت۔ مزہ۔ حلاوت۔ (۵) خوش طبعی۔ جمع۔ الطاف۔

**لطف اٹھانا** - (۱) محاورہ) مزہ حاصل کرنا۔  
**لطف نہ تھا** - (۱) روزمرہ) مزہ اس وقت ملتا۔  
**لطف جانا** - (۱) محاورہ) بے لطفی ہونا۔ بدمزگی ہونا۔  
**لطف دینا** - (۱) محاورہ) پیار دینا۔ مزہ دینا۔

**لطف فرمانا** - (۱) محاورہ) مہربانی کرنا۔  
**لطف کن کھٹ** کہ پیکانہ نشو و خلقہ بگوش - (ف۔ مقولہ)۔ مہربانی کرنا کہ عین یعنی تیرے غلام ہو جائیں۔

**لطف بیہے** - (۱) روزمرہ) خوبی یہ ہے۔ عمدگی یہ ہے۔ عجیب ہے۔

**لطفی** - (لطف۔ نی) [ف۔ صفت] (۱) نعتی۔ نیک۔ پاک۔  
**لطفیہ** - (لطف۔ مٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) چھپڑ۔ طہاچہ۔ ٹکڑا (۲) دریا کا ٹھنڈا۔  
**لطیف** - (ل۔ طیف) [ع۔ صفت] (۱) نازک۔ نرم۔ ملاہمت (۲) صاف۔ شفاف (۳) پاکیزہ۔ شہنشاہ (۴) لذیذ۔ مزہ دار۔ خوب۔ عمدہ۔ (۵) پاک۔ مقدس۔

**لطیف الطح (المزاج)** [ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ] لذت و دل خوش مزاج۔ رحم دل۔ بالطنین۔  
**لطیفہ** - (ل۔ ط۔ فٹ) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) اچھی چیز۔ نیکی (۲) چھپڑ۔ بچپ

بات بگنڈ (۳) اونکا۔ عجیب۔ جمع، لطائف۔  
لطیفہ چھوڑنا۔ (۱) محاورہ) اونھی بات کہنا۔ بگنڈ چھوڑنا۔  
لطیفہ گو۔ (ع۔ ف۔ صفت) ظریف۔ خوش مزاج۔ بلخرنج۔ جھکے یا کرنے والا۔

# ل۔ ع

**لعاب** - (ل۔ عاب) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) ٹھوک۔ آب دہن۔ کف۔ رال۔ (۲) لیس۔ چیب۔

**لعاب دار** - (ع۔ ف۔ صفت) چیب دار۔ نشکا۔  
**لعان** - (ع۔ ۱۔ مٹ) ایک دوسرے پر لعنت کرنا (۲) اصطلاح فقہ میں شوہر کا اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانا اور پھر تاقاضی کے سامنے اپنے سچے ہونے کی چار تہ تہ قسم کھانا اور پانچویں مرتبہ کہنا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو محمد پر خدا کی لعنت ہو۔ اس طرح عورت کا قسم کھانا۔ اس کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

**لعب** - (ل۔ عبت) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) کھیل کود۔ دل بہلاوا۔ یہ ترناشا۔ جمع ملاعبت۔

**لعبت** - (لعب۔ بنت) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) پتلی۔ گڑیا۔ گڈا۔ مورت۔ بت (۲) کھلونا۔ کھیل۔

**لعبت چین** - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) چینی کا گڑیا (۲) کنایتاً معشوقہ۔  
**لعل** - (ع۔ ۱۔ مٹ) سُرخ رنگ جو اہر (۲) معشوق کے ہونٹ۔

**لعل آبدار** - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) چمکدار ہیرا۔ (۲) کنایتاً معشوق کے ہونٹ۔

**لعل اگلنا** - (۱) محاورہ) اٹھنے سے پھول جھڑنا۔ خوش کلام ہونا۔ بڑبانی کرنا۔ گالی بکنا۔

**لعل بدخشاں** - (بدخشاں) [ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ] بدخشاں کا معنی عمدہ لعل۔

**لعل پیکانی** - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) تیر کی شکل کا ترشا جو لعل، جسے عورتیں بندوں کی طرح کانوں میں پہنتی ہیں۔

**لعل زبانی** - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) سُرخ رنگ کا لعل۔  
**لعل شب چراغ** - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) رات کو چراغ کی طرح چمکنے والا لعل۔

**لعل گوڑی میں نہیں چھپتا** - (۱) مش) عمدہ و صفت چھپے نہیں رہتے۔

**لعل گوں** - (ع۔ ف۔ صفت) لعل کے رنگ کا۔ سُرخ۔  
**لعل لب** - (ع۔ ف۔ صفت) سُرخ ہونٹ۔

**لعل لگانا** - (۱) محاورہ) بہار بڑھا دینا۔ شان بڑھا دینا۔  
**لعل لگے ہونا** - (۱) محاورہ) اونکا ہونا۔ مناز ہونا۔

استعمال کے حکایت کا اظہار کرنا۔  
**لغزش** (ع۔ ا۔ مرث) معنا۔ بھارت۔ بیہیلی۔ چیتان۔  
**لغزش** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] (۱) پھسلنا۔ پھسلاہٹ۔ (۲) لرزش۔ جنبش۔ کپکپی (۳) خطا۔ سہو۔ غلطی۔ بھول چوک۔ گمراہی۔  
 ضلالت۔  
**لغزش آنا**۔ (۱) محاورہ) پھسلنا۔ بہکنا۔ لڑکھانا۔ استقلال میں فرق آنا۔ گمراہ ہونا۔ بیان میں فرق آنا۔  
**لغزش کرنا**۔ (۱) محاورہ) (۱) گمراہ ہونا۔ بہکنا (۲) ڈنگلانا۔ لڑکھانا۔ (۳) کانپنا (۴) بھول چوک کرنا۔  
**لغزش کھانا**۔ (۱) محاورہ) (۱) ڈنگلانا۔ پھسلنا (۲) بہکنا۔ گمراہ ہونا۔  
**لغزو** (ع۔ صفت) (۱) بیہودہ۔ واہیات۔ نامعقول۔ مہمل۔ بے معنی۔ بے کار۔ بے فائدہ (۲) بجواس۔ تڑل۔ جھک۔ لایعنی بات۔  
 جمع: لغویات۔  
**لغوبگنا**۔ (۱) محاورہ) بیہودہ بگنا۔ واہیات باتیں زبان پر لانا۔ بے معنی باتیں کہنا۔  
**لغوی** (ع۔ ا۔ مرث) (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ صفت] لغت سے منسوب۔ اصلی۔  
**ماہر لغت**۔  
**لغویات** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] لغت کی جمع۔ بیہودہ باتیں یا افعال، حرکات۔  
**لغویت** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] جمع لغویات۔

**لعل لگنا**۔ (۱) محاورہ) (۱) قیمتی ہونا۔ انمول ہونا (۲) انوکھا پن ہونا۔  
**لعل ٹاشفتہ**۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) بن چھدا لعل۔ وہ لعل جس میں سوراخ نہ ہو۔  
**لعلن** (ع۔ ا۔ مرث) لغت۔ کلامت کرنا۔ لغزی۔ پھٹکار۔ دھتکار۔  
**لعلن طعن**۔ (ع۔ ا۔ مرث) لغت۔ طاعت۔ طاعت۔ بڑا بھلا۔ لغزی۔ پھٹکار۔  
**لعلنٹ** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] پھٹکار۔ لغزی۔ سرزٹش۔ دھتکار۔  
**سخنت سست**۔ بڑا بھلا۔  
**لغنتہ اللہ علیٰ الکا فربین**۔ (ع۔ صفت) جموں لوہوں پر خدا کی لعنت۔  
**لغنت برسا**۔ (۱) محاورہ) بے رونقی ہونا۔ (۲) ہر شخص کا لعنت کرنا۔  
**لغنت بکار شیطاں**۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) روزمرہ کسی کام سے بیزاری ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔  
**لغنت بھیننا**۔ (۱) محاورہ) (۱) لغزی کرنا۔ بڑا بھلا کرنا۔ (۲) چھوڑنا۔  
**ترک کرنا** (۳) بددعا دینا۔ کوسنا۔  
**لغنت بھیجنا** نام نہ لو۔ (۱) غلطی، ذکر نہ کرو۔ جانے دو۔  
**لغنت کا طوق**۔ (۱) مذ) رسوائی۔ ذلت۔  
**لغنت کا مارا**۔ (۱) صفت) مردود۔ بد نصیب۔ بد بخت۔  
**لغنت طاعت کرنا**۔ (۱) محاورہ) بڑا بھلا کرنا۔ سخنت سست کرنا۔  
**تروندہ کرنا**۔ ذلیل کرنا۔ دھتکارنا۔ خیر لینا۔  
**لغنتی** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] (ع۔ صفت) مردود۔ بد نصیب۔ بد بخت۔  
**لغوق** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] چلنے کی لیس دار دوا۔ چٹنی۔  
**لغین** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] صفت [ع۔ ا۔ مرث] مردود۔ لغنتی۔ بد بخت۔  
 دوزخی۔ بہتھی۔

## ل - ف

**لف** (ع۔ صفت) لپٹا ہوا۔ تکیا ہوا۔ شہل۔ فسک۔  
**لف و لٹش** (ع۔ ا۔ مذ) لغوی معنی۔ لپٹنا اور پھیلنا۔ علم بیان کی اصطلاح میں، وہ صفت جس میں اول چند چیزوں کا ذکر کریں پھر چند اور چیزیں بیان کریں جو پہلی چیزوں سے نسبت رکھتی ہوں۔ مگر اس طرح کہ ہر ایک کی نسبت اپنے منسوب الیہ سے مل جائے۔  
**لغاظ** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] صفت [ع۔ ا۔ مرث] خوش گو۔ خوش بیان۔ شیریں زبان (۲) مبالغہ آمیز باتیں کرنے والا۔  
**لغاظی** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] صفت [ع۔ ا۔ مرث] خوش بیانی (۲) لسانی۔ بجواس۔ بک بک (۳) شیخی۔ ڈینگ۔  
**لغافہ** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] (۱) وہ چیز جو کسی چیز پر لپٹی جائے (۲) وہ کاغذ کا غلاف جس میں خط وغیرہ بند کیا جاتا ہے (۳) بناوٹ۔ دکھاوا۔ ظاہری سامان۔ دھوکا۔ غلطی۔ مٹع (۴) جلد لٹ جانیوالی چیز (۵) بھید۔ لانا۔  
**لغافہ بنانا**۔ (۱) محاورہ) ظاہری ٹیپ ٹاپ کرنا۔ دھوکا دینا۔

## ل - غ

**لغات** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] لغت کی جمع (۱) الفاظ (۲) زبانیں۔ (۳) فرہنگ۔ ڈکشنری۔ وہ کتاب جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ اور ان کے معانی درج ہوں۔  
**لغام** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] لغام۔ لغام۔  
**لغایات** (ع۔ ا۔ مرث) [ع۔ ا۔ مرث] لغت۔ لغت۔ فرہنگ۔ ڈکشنری۔ وہ کتاب جس میں الفاظ اور ان کے معانی و مطالب وغیرہ درج ہوں۔  
**جمع لغات**۔  
**لغنت تراش**۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) صفت [ع۔ ا۔ مرث] لغت بنانے والا  
**لغنت چھاڑنا**۔ (۱) محاورہ) علیت جتنا۔ غیر معروف اور مشکل الفاظ بولنا۔  
**لغنت چھاڑنا**۔ (۱) محاورہ) نہایت مشکل اور ناموزوں الفاظ





عورت ۔  
 لکچر ۔ (Lecture) (دکھت - پتخت) (گنگ - ۱۰۔ مذ) [۱۵] درس - سخن - وعظ - تقریر - زبانی مضمون - آپدیش ۔  
 لکچرار ۔ (Lecturer) (دکھت - ج - لار) (گنگ - ۱۰۔ مذ) [۱۵] واعظ (۲۲) درس دینے والا (۳) آپدیشک - تقریر کرنے والا - مقرر ۔  
 لکڈ ۔ (کڈ) [فت - امث] لات - شوکر - دولتی ۔  
 لکڈ زن ۔ (فت - صفت) لاتیں مارنے والا ۔  
 لکڈ کوپ ۔ (فت - ۱۰۔ مذ) لات مانا - ضرب ۔  
 لکڈ کنے ۔ (ق) [فرد] ۔  
 لکڈ ۔ (دکھت - کڈ) [۱۰۔ مذ] شستیر - بڑی کڑی - لٹھا ۔  
 لکڈ بٹھا ۔ (ل - گڑ - گنڈ - ہا) [۱۰۔ مذ] بھیر ٹیکے کی قسم کا ایک جنگلی جانور ۔  
 لکڈ ہارا ۔ (دکھت - کڈ) [۱۰۔ مذ] لکڑیاں بیچنے والا - لکڑیاں چیرنے پھاڑنے والا ۔  
 لکڑی ۔ (دکھت - ٹڑی) [۱۰۔ مٹ] [۱۵] ہیزم - کاٹھ - چوب (۲) چھڑی - ہاتھ میں رکھنے کی کڑی - لاطھی - عصا - سونٹا (۳) سہارا - مدد - آسرا (۴) پٹا - چوب بازی (۵) کٹنا یا - سخت - کڑا ۔  
 لکڑی پکڑنا ۔ (۱) محاورہ) سہارا دینا ۔  
 لکڑی پھینکنا ۔ (۱) محاورہ) پٹا پھینکنا - چوب بازی کرنا ۔  
 لکڑی کے بل بندر یا نا ہے ۔ (۱) مٹ] ہر شخص اپنے حماقتی کے بل پر گوتا ہے (۲) ڈر کے سبب کچھ کرنا پڑتا ہے ۔  
 لکڑی مارے پانی جڈا نہیں ہوتا ۔ (۱) مٹ] رشتہ داروں میں دوسروں کے برکتے سے بھگدا ہو بھی جائے، بھیر بھی وہ ایک ہو جاتے ہیں ۔  
 لکڑیاں چلانا ۔ (۱) محاورہ) لاطھیوں سے مار پیٹ ۔  
 لکڑیاں دینا ۔ (۱) محاورہ) مُردے کو چلانا - چنانا میں آگ دینا - کر یا کوم کرنا ۔  
 لکڑیاں کھانا ۔ (۱) محاورہ) لاطھیوں سے مار کھانا - لکڑیوں سے پینا ۔  
 لکشن ۔ (س - ۱۰۔ مذ) راجا رام چندر جی کے چوٹے بھائی کا نام، جس نے بن یاس میں وفاداری سے ان کا ساتھ دیا ۔  
 لکشنی ۔ (دکھت - جی) [س - ۱۰۔ مٹ] [دیکھیے لکھی - ۱۱] دولت کی دیوی - دولت (۲) عمر شہت لڑکی ۔  
 لک لکٹ ۔ [۱۰۔ مٹ] [چک - روٹی ۔  
 لک لکانا ۔ (دکھت - ل - کانا) [ق] بمص [پایس یا گرمی سے بے دم ہونا] ۔  
 لک لکایہ ۔ (دکھت - ل - کایہ) [ق] - ۱۰۔ مذ] لٹنڈ ۔  
 لک لک کرنا ۔ [ق] بمص [چمکنا] ۔  
 لک لکنا ۔ [ق] بمص [چمکنا] ۔  
 لکنا ۔ (دکھت - نا) [ہمص] [پوشیدہ ہونا - چھپنا - مخفی ہونا] ۔  
 لکننت ۔ (دکھت - ننت) [ع - ۱۰۔ مٹ] [ہلاکوں - ترک ترک کر بولنے کی حالت] ۔  
 لکنجن ۔ (ل - کن - جن) [۱۰۔ مذ] وہ مُردہ جس کی نسبت خیال ہے کہ

اُس کے لگانے سے آدمی دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے ۔  
 (دکھت - آجن) ۔  
 لکھ ۔ (دکھت - کھ) [فت - ۱۰۔ مذ] لکھنا - پارچہ (عام طور پر برابر دھوئیں کے ٹکڑے کے لیے مستعمل ہے) ۔  
 لکھ ۔ (۱۰۔ ۵) لاکھ کا محقق - سو ہزار کی تعداد - (مربطت میں مستعمل ہے) ۔  
 لکھ بٹش (وانا) ۔ (۱) صفت) نہایت سخی - دانا - قیامت - (۲) قطب الدین بیکت کا لقب ۔  
 لکھ پتی ۔ (۱) صفت) وہ شخص جس کے پاس لاکھ روپیہ ہو - دھنی - دولت مند - امیر ۔  
 لکھ پڑا ۔ (۱) مٹ] وہ باغ جس میں بہت سے پڑھوں (خصوصاً لکھ پڑوں) آموں کے) ۔  
 لکھ لٹ ۔ (۱) صفت) بہت بڑا فضول خرچ - شہرت - کھاؤ اڑاؤ ۔  
 لکھ وٹنا ۔ (۱) محاورہ) خیر کر دینا - نوشتہ تقدیر کر دینا ۔  
 لکھ رکھنا ۔ (۱) محاورہ) یاد رکھنا - یقین رکھنا ۔  
 لکھ رکھو ۔ (۱) متولہ) یاد رکھو - یقینی سمجھو ۔  
 لکھا ۔ (دکھت - کھا) [ل - کھا] [۱۰۔ مذ] نوشتہ - کھا ہوا - قضا - بھگ - تقدیر قسمت شدنی امر بغير تشدید معنی ہے ۔  
 لکھا آگے آنا ۔ (۱) محاورہ) قسمت کا کھا پیش آنا ۔  
 لکھا پڑھا ۔ (۱) صفت) تعلیم یافتہ - خواندہ ۔  
 لکھا پڑھی ۔ (۱) مٹ] نوشتہ و خواندہ - تحریر - دستاویز ۔  
 لکھا پڑا کرنا ۔ (۱) محاورہ) مصیبت برداشت کرنا - تجربے دن کاٹنا ۔  
 لکھے کورونا ۔ (۱) محاورہ) قسمت کو کورونا - تقدیر کا شاک ہونا ۔  
 لکھانا ۔ (ل - کھانا) [ہمص] [۱۱] لکھوانا - تحریر کرنا (۲) تحریری اقرار دینا لینا (۳) مشق کرنا ۔  
 لکھانی ۔ (ل - کھا) [ای] [۱۰۔ مٹ] [۱۱] تحریر لکھنے کا کام (۲) لکھنے کی مزدوری - لکھنے کی اجرت ۔  
 لکھنا ہے ۔ (۱) روزمرہ) روایت ہے - تحریر ہے ۔  
 لکھاڑی ۔ (۵) صفت) لکھنے والا - مصنف ۔  
 لکھنت ۔ (ل - کھنت) [ہم - ۱۰۔ مٹ] [۱۱] تحریر - نوشتہ (۲) اقرار دینا (۳) دستاویز ۔  
 لکھنت پڑھت کرنا ۔ (۱) محاورہ) تحریری عہد و پیمان ہونا - باہمی دستاویز لکھی جانا ۔  
 لکھن ۔ (ق - ۱۰۔ مٹ] [چال - رویتہ] ۔  
 لکھنا ۔ (دکھت - نا) [ق] بمص [دیکھنا] ۔  
 لکھنا ۔ (دکھت - نا) [ہمص] [تحریر کرنا - لکھانی کرنا] (۲) کتابت کرنا (۳) کسی کی قسمت میں مقرر کرنا ۔  
 لکھنا پڑھنا ۔ (۱) محاورہ) نوشتہ و خواندہ - لکھانی پڑھانی ۔  
 لکھنڈ ۔ (ل - کھنڈ) [ق] - ۱۰۔ مٹ] [تلا بازی] ۔  
 لکھنی لکھنی ۔ (دکھت - بی) [لیکھ - نی] [۱۰۔ مٹ] [کک - قلم] ۔

لکھوانٹ۔ (لکھ۔ واٹ) [رقی-ا۔ مرث] [تحریر۔  
 لکھوانا۔ رکتھ۔ وانا] [ھ۔ مص] [کھنا کا متعدی المتعدی۔  
 لکھوٹا۔ رن۔ کھوٹا] [ھ۔ ا۔ مذ] [مرفی جو عورتیں ہونٹوں پر لگاتی ہیں (۲)  
 لاکھ کی مٹر جو لافوں یا پارسلوں پر لگاتی جاتی ہے۔  
 لکھوری۔ رن۔ کھوری] [ھ۔ ا۔ مرث] [آیک قسم کی چھوٹی اینٹ (۲) ایک  
 قسم کی چھوٹی بھڑ۔ کھاری۔  
 لکھتی۔ (لکھ۔ کھی) [ھ۔ صفت] [کھتی۔ لاکھ روپے کی حیثیت والا۔  
 لکھے نموشی پر طھے خدا (۱) (منش) ایسی تحریر جو کسی سے پڑھی نہ جائے۔  
 لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل (۱) (منش) عاٹا نہ وضع رکھنے والا۔ جاہل۔  
 جنے کھنا پڑھنا تو نہ آتا ہو، کم وفصیلت کا دعویٰ نہ ہو۔  
 لکھیرا۔ (ل۔ کھے۔ را) [ھ۔ ا۔ مذ] [لاکھ کا کام کرنے والا۔ لاکھ کی چیزیں بنانے  
 والا۔  
 لکیر۔ (ل۔ کیز) [ھ۔ ا۔ مرث] [ا۔ خط۔ لائن۔ سلسلہ۔ قطار۔ سطر (۲) پرانا تو  
 رسم قدیم (۱)۔ محاورہ] پڑھنے طریقہ کے مطابق چلنا۔ پڑانی رسوں  
 کا یا بند رہنا۔  
 لکیر بیٹنا۔ (۱۔ محاورہ) پڑانی رسم پر چلنا (۲) فنون اور بے سود کام کرنا۔  
 (۳) افسوس کرنا۔ ہانڈھ مٹنا۔  
 لکیر کا فقیر۔ (۱۔ مذ) (۲) پڑانی رسم کا پابندہ شخص جو اپنی عقل سے کام نہ لے  
 (۲) کسی شے پر فریفتہ۔  
 لکیر کھینچنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) خط کھینچنا۔ ڈول کرنا (۲) نشان لگانا (۳) حد  
 بانہنا (۴) فلم پھیرنا۔ مٹانا (۵) توبہ کرنا۔ کان پکڑنا۔ عمد کرنا۔ (ان  
 معنی میں ناک کے زمین پر لکیر کھینچنا متعمل ہے۔  
 لکیرنا۔ (ل۔ کیز۔ نا) [ھ۔ مص] [۱] لکیر یا خط کھینچنا (۲) منتر سے محدود کرنا (۳)  
 ڈول یا خاکہ بٹانا۔

# ل-گ

لگ۔ (ھ۔ حرف ربط) [ا۔ قریب۔ پاس۔ تنگ۔ مرکبات میں متعمل ہے (۲)  
 لگنا کا امر۔  
 لگ بھگ۔ (۱) تابع فعل (قریب قریب۔ ملنا جٹنا۔ مُشابہ۔  
 لگ بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) قریب ہو کر بیٹھنا۔ بل کے بیٹھنا۔  
 لگ جانا۔ (۱) محاورہ) نغائب کیے جانا پیچھے پڑا رہنا۔  
 لگ جانا۔ (۱) محاورہ) پھو جانا (۲) چوٹ آجانا (۳) مالس ہو جانا۔ رجوع ہو  
 جانا (۴) شروع ہو جانا۔ (۵) اثر کر جانا۔ (۶) کھٹک جانا۔ چنوبہ جانا۔  
 (۷) بل جانا۔ (۸) بھر جانا۔ (۹) کپڑے وغیرہ کو کھا جانا۔ (۱۰) عادت ہو  
 جانا۔  
 لگ چلنا۔ (۱) محاورہ) (۲) ساتھ ہولینا۔ ہمراہ چلنا۔ پاس ہو کر چلنا۔ چھو کر

**لگام** - (ل۔ گام) [فت۔ ۱۔ مرث] باگ۔ عنان۔ گھوڑے کے منہ کا وہ تانہ۔  
**لگام چڑھانا**۔ لگام دینا۔ (۱۔ محاورہ) جانور کے منہ میں دبانہ چڑھانا۔ (۲)  
 آڑکنا۔ بند کرنا۔ تھامنا۔ قابو کرنا۔ (۳) چھپ کرنا۔  
**لگام چھوڑ دینا**۔ (۱۔ محاورہ) آزاد کر دینا۔ روک ٹوک موقوف کر دینا۔ (۲)  
 قابو نہ رہنا۔  
**لگام لیے پھرنا**۔ (۱۔ محاورہ) رسی لیے پھرنے۔ کسی کو پکڑنے کے لیے رسی  
 لیے پیچھے پیچھے پھرنے۔  
**لگان** - (ل۔ گان) [جھ۔ ۱۔ مذکر] معاملہ۔ خرچ۔ زمین۔ باج۔ سرکاری محصول۔  
 زر آمدن جو زمین سے حاصل ہو۔  
**لگانا** - (ل۔ گانا) [جھ۔ ۱۔ مصل] (۱) چھٹنا۔ (۲) جھڑنا۔ ملانا۔ پیوست کرنا۔ ٹانگنا۔  
 سینا۔ (۳) شامل کرنا۔ ساتھ جوڑنا۔ (۴) بونا۔ (۵) اکٹھا کرنا۔ اٹھانا۔ (۶)  
 چٹنی کھانا دیکھنا۔ (۷) ترتیب سے رکھنا۔ (۸) مشغول رکھنا۔ مصروف رکھنا۔  
 (۹) سدھانا۔ بلانا۔ (۱۰) چھٹانا۔ اٹھانا۔ (۱۱) تہمت دھنا۔ عیب لگانا۔  
 (۱۲) مقرر کرنا۔ (۱۳) قیمت لینا۔ (۱۴) محسوب کرنا۔ (۱۵) مال تجویز کرنا۔  
 (۱۶) داؤں پر رکھنا۔ بازی پر رکھنا۔ (۱۷) مارنا۔ ضرب لگانا۔ (۱۸) بنانا۔  
 (دیان)  
**لگانا بچھانا**۔ (۱۔ محاورہ) لڑائی بھگول کرنا۔ غیبت اور بدگوئی کرنا۔  
**لگانے میں آنا**۔ (۱۔ محاورہ) لگائی بچھائی کا اثر لینا۔ بہکانے میں آنا۔  
**لگانے والے**۔ (۱۔ صفت) مذ۔ چٹنل۔ خور۔ غیبت کرنے والے۔  
 درانداز۔  
**لگاوٹ** - (ل۔ گا۔ وٹ) [جھ۔ ۱۔ مرث] (۱) لگاؤ۔ تعلق۔ علاقہ۔ میلان۔  
 رُحمان۔ میل ملاپ۔ (۲) ساندش۔ (۳) دوستی۔ یارانہ۔ آشنائی۔  
 (۴) ناز۔ عزت۔  
**لگاوٹ دکھانا**۔ (۱۔ محاورہ) توجہ نہ دینا۔ دوستی کا دم بھرنے۔  
**لگاوٹ باز**۔ (۱۔ ۵۔ مذ) لگاوٹ کرنے میں مشاقی۔ (۲) یارانہ لگانے  
 والا۔  
**لگاوٹ کرنا**۔ (۱۔ محاورہ) (۱) محبت جتانے۔ آشنائی جتانے۔ اُنس ظاہر  
 کرنا۔ (۲) عزیزہ کرنا۔ ناز کرنا۔  
**لگاوٹ کی باتیں**۔ (۱۔ مرث) (۱) دوسرے کے دل میں محبت پیدا  
 کرنے والی باتیں۔ (۲) پھسلانے والی باتیں۔  
**لگاوٹ ہونا**۔ (۱۔ محاورہ) بناوٹی محبت کا اظہار ہونا۔  
**لگاؤ** - (ل۔ گا۔ و) [جھ۔ ۱۔ مذ] (۱) تعلق۔ علاقہ۔ نسبت۔ (۲) پیچ۔ دخل۔  
 بار باری۔ (۳) میل ملاپ۔ ماہ و رسم۔ محبت۔ پیار۔ (۴) رشتہ۔ تانا۔  
 بیگانگی۔ (۵) مناسبت۔ جوڑ۔ ہمسری۔ (۶) آمیزش۔ لاگ۔ (۷)  
 شرکت۔ (۸) رُحمان۔ میلان۔ طبع۔ (۹) ایما۔ اشارہ۔  
**لگائی** - (ل۔ گا۔ ای) [جھ۔ ۱۔ مرث] (۱) عورت۔ بیوی۔ (۲) آشا عورت۔  
 بدحوالہ۔  
**لگائی بچھائی** - (ل۔ گا۔ ای۔ ب۔ جھا۔ ای) [جھ۔ ۱۔ مرث] [چٹنل۔ خور]۔  
 بدگوئی۔ ہمزای۔ تہمت۔ بہتان۔ الزام۔

**لگائی لٹری** - (تاریخ فعل) ایک کی بُرائی دوسرے سے کہنا۔ لگائی بچھائی  
**لگت** - (۱۔ مرث) [ق۔ فوراً] اُسی وقت۔  
**لگت لگت** - (ق) [تاریخ فعل] فوراً۔ اُسی وقت۔ لگاتار۔ مسلسل۔  
**لگتا** - (صفت) متعلق۔ [تاریخ فعل] (۱) چھٹنا ہونا۔ (۲) چھٹنا ہونا۔ ناگوار۔ (۳) جلتا ہونا۔  
**لگتا ہوا** - (۵) ۱۔ چھوٹا ہوا۔ ملتا ہوا۔ مشابہ۔ ملتا جلتا۔ (۲) چھیننے یا  
 کھٹنے والا۔ کاٹ کرنے والا۔ زخم ڈالنے والا۔ (۳) موثر۔ (۴) قوی  
 قیاس (۵) ناگوار۔  
**لگتا ہے**۔ (۵۔ ۱۰۔ تاریخ فعل) معلوم ہوتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے۔  
**لگتی** - (لگت۔ قی) [صفت۔ مرث] (۱) چھتی۔ کھتی۔ کاٹ کر نیوالی۔  
 زخم ڈالنے والی (۲) ہنم شکل۔ مشابہ۔ ایسی چھتی (۳) اتر کرنے والی۔  
 موثر۔  
**لگتی کہنا**۔ (۱۔ محاورہ) چھتی بات کہنا۔ موثر بات کہنا۔ پسندیدہ بات  
 کہنا۔  
**لگتی لگاتی بات**۔ (۱۔ مرث) وہ بات جو کسی موقع پر چسپاں یا قرین  
 قیاس ہو۔ چھتی ہوتی بات۔  
**لگتے ہاتھ**۔ (۱۔ تاریخ فعل) ساتھ کے ساتھ۔ کسی کام کے ساتھ۔ لگے ہاتھوں۔  
**لگدی** - (لگت۔ دی) [جھ۔ ۱۔ مرث] کسی گیلی پسی ہوئی چیز کی گولی۔  
**لگڑ** - (ل۔ لگڑ) ایک قسم کا باز بھگڑا۔  
**لگڑا** - (لگت۔ لڑا) [جھ۔ ۱۔ مذ] چھٹنا۔ بھٹا پڑنا۔ کھڑا۔  
**لگڑ بھگڑ**۔ بھگڑا۔ (ل۔ لگڑ۔ بھگڑ) [جھت۔ گا] [جھ۔ ۱۔ مذ] پسین۔  
**لگڑ بھگڑ**۔ بھیرے کی قسم کا ایک جنگلی جانور۔  
**لگڑنا**۔ (ل۔ لگڑ۔ نا) [ق۔ مصل] [کرنا۔ نا]۔  
**لگسی**۔ (۱۔ مرث) ایسی لگڑی جس کا سر لٹھا ہوتا ہے اور اس سے فدیوں  
 سے پھل توڑنے کا کام لیا جاتا ہے۔  
**لگماترا** - (لگت۔ مات۔ را) [جھ۔ ۱۔ مرث] اعاب۔ حرفوں کی علامات۔  
 حرکات۔ زبر۔ زیر۔ پیش۔ وغیرہ (۲) یار آشنا۔  
**لگن** - (ل۔ گن) [فت۔ ۱۔ مذ] (۱) طشت۔ طاس۔ پرات۔ طب۔ چلمی۔  
 (۲) شعلہ۔ اگر دان۔  
**لگن** - (س۔ ۱۔ مرث) (۱) تعلق۔ نسبت۔ (۲) دھن۔ نیوال۔ چت۔ بشوق۔  
 خواہش۔ محبت۔ عشق۔ (۳) [مذ] گھڑی۔ ساعت۔ وقت۔ سال۔  
 صورت۔ (۴) پیمانہ شادی۔ شادی کی تاریخ اور وقت کا تقرر۔  
 (۵) آفتاب کے برج حمل میں تنویل کرنے کی ساعت۔  
**لگن دھنا**۔ (۱۔ محاورہ) شادی کا روز مقرر کرنا۔  
**لگن کندھنی**۔ (۵۔ ۱۰۔ مرث) جہم پڑا۔ زانگہ۔  
**لگن لگتا**۔ (۱۔ محاورہ) (۱) محبت ہونا۔ عشق ہونا (۲) دل گنا۔ دھیان  
 گنا۔ نیوال بندھنا۔  
**لگتا** - (لگت۔ نا) [جھ۔ ۱۔ مصل] (۱) چسپاں ہونا۔ ملنا۔ جھٹلانا۔ (۲) ملنا۔ ٹانگنا۔  
 (۳) شامل ہونا۔ سمٹی ہونا۔ (۴) جہم۔ قائم ہونا۔ (۵) اگنا۔ پیدا ہونا۔

لگی لپٹی رکھنا - (۱) محاورہ (۱) طرفداری کرنا۔ رمایت کرنا (۲) صاف نہ کرنا۔  
 نمک و شبنم میں رکھنا۔  
 لگی لگائی - (۱) صفت) لگی ہوئی۔ طے شدہ۔ مقررہ۔  
 لگی میں اور لگانا - (۱) محاورہ) مصیبت اور مصیبت ڈالنا۔  
 لگی نہ رکھنا - (۱) محاورہ) (۱) لاگ پیٹ نہ رکھنا۔ پاس نہ رکھنا۔ کسر نہ رکھنا۔  
 رورعایت نہ کرنا (۲) قطع تعلق کر لینا۔ بالکل بگاڑ لینا۔  
 لگی ہونا - (۱) محاورہ) محبت ہونا۔ دُص ہونا (۲) ناجائز تعلق ہونا۔  
 لگی ہوئی بات - (۱) صفت) منگنی۔ محبت  
 لگے - (ل-گے) [۱] باغ فعل [۲] قریب۔ پاس۔ نزدیک۔ ساتھ۔ ہمراہ۔  
 لگے لگی بکھڑے ہونیا بکھڑے (۱) محاورہ) تھوڑا سا سہارا پاکر اور آگے  
 بڑھنے کی کوشش کرنا۔ معمولی سہارا پاکر سر یہ چڑھنا۔  
 لگے بندے - (۱) صفت) علاقہ دار متعلقین۔ لگے بندے۔ (ق)  
 لگے جانا - (۱) محاورہ) (۱) ساتھ ساتھ جانا۔ پیچھے پیچھے چلا جانا (۲) چین نہ  
 لینے دینا۔ پیچھے پڑے رہنا۔  
 لگے دم مٹے غم - (۱) محاورہ) نشہ پینے سے غم دُور ہوتا ہے۔ (نشہ بازوں  
 کا مقولہ)۔  
 لگے رہنا - (۱) محاورہ) ساتھ ساتھ رہنا۔ ہمراہ رہنا۔ پیچھے رہنا۔  
 لگے لگے - (۱) باغ فعل) (۱) پاس پاس۔ قریب قریب۔ پہلو پہلو۔  
 ساتھ ساتھ۔ (۲) ایک ایک جس سے بندوں کو ہنساتے ہیں۔  
 لگے ہاتھ - لگے ہاتھوں - (۱) باغ فعل) (۱) ساتھ کے ساتھ۔ اسی وقت۔  
 (۲) اسی سلیطے میں۔  
 لگے پگ - (ق) [۱] فوراً۔ جمل ہی۔

(۹) کھڑا ہونا۔ نصب ہونا (۱۰) چوٹ آنا۔ ضرب پہنچنا۔ (۱۱) کمر  
 کھانا۔ (۱۲) محسوس ہونا۔ محس ہونا۔ (۱۳) مقابل ہونا۔ برابر ہونا۔  
 (۱۴) شروع ہونا۔ آغاز ہونا (۱۵) باہم آشنائی کرنا (۱۶) مؤثر ہونا۔  
 کارگر ہونا (۱۷) جینا۔ سلگنا۔ منتقل ہونا (۱۸) ہضم ہونا۔ اٹک لگنا۔  
 (۱۹) ہم بستری ہونا۔ جماع کرنا (۲۰) سر ہونا۔ پیچھے پڑنا (۲۱) سچا یا جانا۔  
 ترتیب سے رکھا جانا (۲۲) مشغول ہونا۔ مصروف ہونا (۲۳) ذمہ  
 پڑنا۔ سر پڑنا (۲۴) گھسنا۔ چبھنا۔ (۲۵) تیز ہونا۔ دھا پر رکھا جانا۔  
 (۲۶) کٹاؤ سے پہنچنا ہونا۔ خرچ ہونا۔ صرف ہونا (۲۷) بازی پر لگانا۔  
 داؤں پر رکھنا (۲۸) استعمال میں آنا۔ بڑا جانا (۲۹) جڑا جانا۔ مرتفع  
 کیا جانا (۳۰) جینا (۳۱) پان پتہ (۳۲) قیمت قرار پانا (۳۳) الزام لگانا۔  
 (۳۴) جوئے کا کاشنا۔ (۳۵) تاک میں ہونا۔  
**لگنت** - (لگت - نشہ) [۱] صفت) [۲] جماعت۔ جماعت۔ جماع۔  
**لگنت بدیا** - وہ علم جس میں جماع کے طریق اور ڈھنگ بتاتے گئے  
 ہوں۔ لوگ شناستر۔  
**لگنی** - (لگت - نی) [۱] صفت) [۲] چوٹا لگن۔  
**لگو** - لگو۔ بندھو۔ (لگت - گو۔ لگت - گو۔ بن۔ دھو) [۳] صفت) یار۔  
 آشنا۔ دوست۔  
**لگوا** - لگوا۔ (لگت - وا۔ لگت - وا) [۱] صفت) [۲] یاد آشنا۔  
 (۳) مطلبی۔ خود غرض۔ مطلب کا یار۔  
**لگوانا** - (لگت - وا۔ نا) [۱] صفت) [۲] لگانا کا متعدی متعدی۔ (۳) ترکا مادہ پر  
 چھوڑنا۔ جماع کرنا۔  
**لگوا** - (لگت - صفت) حملہ کرنے والا۔ چوٹ کرنے والا۔ (۲) یاد آشنا۔  
**لگت ہارن** - (Leghorn) [۱] صفت) [۲] ولایتی مرغیوں کی  
 ایک نسل۔  
**لگتی** - (لگت - گی) [۱] صفت) [۲] مہلی بکھڑے کی چمکدار چھری (۳) بانس  
 کی لمبی چھری۔ (۴) لمبی دھجی۔ لیر۔ ناؤ ٹھہرنے کا لمبا بانس۔  
**لگی** - (لگت - گی) [۱] صفت) [۲] خواہش۔ آرزو و عشق۔ لگن (۳) بھوک۔  
 انتہا۔  
**لگی بچھنا** - (۱) محاورہ) خواہش پوری ہونا (۲) روٹی پیٹ میں پڑنا۔  
 بھوک رفع ہونا (۳) غصہ دھیمہ ہونا۔  
**لگی بڑی ہوتی ہے** - (۱) مثل) عشق بڑی بلا ہے۔ محبت میں بڑا  
 بھلا کچھ نہیں سونھتا  
**لگی تو روزی نہیں تو روزہ** - (۱) مثل) انتہا کی عزت ہی کے متعلق کہا  
 جاتا ہے۔  
**لگی کو بچھانا** - (۱) محاورہ) (۲) عشق کی آگ کو دبانا (۳) آرزو پوری کرنا۔  
 (۴) پیٹ میں ڈالنا۔ بھوک مٹانا۔ (۵) غصہ فرو کرنا (۶) فتنہ و  
 فساد کو مٹانا۔  
**لگی لگنا** - (۱) محاورہ) طرفداری کی بات کہنا۔ موافق کہنا۔ خوشامد کرنا۔  
**لگی لپٹی** - (۱) صفت) کسی کے موافق۔ طرفداری کی۔

# ل-ل

**للا** - (لن - لا) [۱] صفت) [۲] بچہ۔ طفل۔ بالک۔ لاکا (۳) بیٹا۔ پوت۔  
 (۴) کرشن جی کا لقب (۵) [صفت] پیارا۔ لاڈلا۔ (۶) نادان۔ کم کرنا۔  
 نوعمر (۷) احمق۔ بیوقوف۔ گاؤ دی۔  
**للاٹ** - (ل - لاٹ) [۱] صفت) [۲] ماتھا۔ پیشانی (۳) بھاگ نصیب۔  
 قسمت۔  
**لکت** - (ل - لکت) [۱] صفت) [۲] مرغوب۔ پسند خاطر (۳) خوبصورت۔  
 حسین۔ (۴) شوخ۔ چھیخ۔ چھیخ۔ چھیخ (۵) دلولہ عشق۔ ہڈ بڑ محبت  
 (۶) ایک راگنی۔  
**لچچانا** - (لچ - چا۔ نا) [۱] صفت) [۲] لالچ کرنا۔ لالچ کرنا۔ حرص کرنا (۳)  
 آرزو کرنا۔ تمنا کرنا۔ (۴) مائل کرنا (۵) طمع دینا۔ لچچانا۔  
**لچچا ہٹ** - (لچ - چا۔ ہٹ) [۱] صفت) [۲] لالچ۔ طمع۔ حرص  
 (۳) خواہش۔ آرزو۔  
**لکت** - (ل - لکت) [۱] صفت) [۲] اُننگ۔ شوق (۳) جوش۔

دولہ (۳) لالچ - لوجھ - طبع - حویس (۴) خیال - دُمن - نو (۵) لہر -  
 نونج -  
 لاکار - (کن - کار) [جھ - ا - مرث] (۱) نعرہ - سخت آواز (۲) ہانک - پکار -  
 (۳) ڈپٹ - دھکی - جھڑکی - رُعب کی آواز  
 لاکارنا - (کن - کارنا) [جھ - مص] (۱) نعرہ مارنا - آواز لگانا (۲) پکارنا -  
 (۳) دھکانا - دھکانا - کڑک کر ہوننا  
 لکوں - (کن - نو) [جھ - ا - مرث] (۱) زبان - بیبھ (۲) بولی - بول پال بنگو -  
 (۳) چٹور پن - چاٹ -  
 لٹوٹو (۱) مرث خوشامد در آمد - چالوسی - سخن سازی - چکنی پچڑی باتیں -  
 لٹوٹو کرنا - (۱) محاورہ) زبانی عزت کرنا - خوشامد کرنا - سخن سازی کرنا -  
 لٹو میں سائب ڈسے - (دُعائے بد) جھوٹ بولنے والے کی زبان میں سائب ڈسے -  
 لٹو نہ رہنا - (۱) محاورہ) بن بولے نہ رہنا - زبان تالو سے نہ لگنا -  
 لٹمہ - (لا - لاہ) [ج - تابع فعل] خدا کے لیے - بلتے خدا - خدا کے نام پر -  
 لٹمہ محمد - (ج - کلمہ نما) (۱) سب تعریف خدا کے لائق ہے (۲) خدا کا شکر ہے -  
 لٹمہ محمد والہ مرث - خدا کا شکر واحسان ہے -  
 لٹمہ فی اللہ - خدا کی راہ - اللہ کے واسطے -  
 لٹبی - (ج - صفت) خدا کے لیے جس میں ذاتی غرض نہ ہو مطلب نہ ہو -  
 لٹہیت - (ج - مرث) بے غرضی - خلوص -  
 لٹیانا - (۱) مص) منت خوشامد کرنا - چالوسی کرنا -

## ل۔م

لَم - (ج - صفت) لمبا کا مختلف - طویل - دلاز - لانا - (مرکبات میں استعمال ہوتا ہے) -  
 لم تر لنگ - (۱) صفت) دلاز قد - قد آور -  
 لم کلنگ - لم کلنگو - (۱) صفت) بڑی بڑی اور لمبی ٹانگوں والا - (۲) لم لڈنگ - کلنگ -  
 لم چھڑا - لم چھڑا - (۱) لمبا - قد آور - طویل القامت (۲) بانس کی لمبی اور پتلی پچڑی -  
 لم دراز - (۱) مرث) ایک قسم کا سفید کپڑا جس کا عرض بڑا ہوتا ہے -  
 لم ڈگو - (۱) صفت) لمبے لمبے قدم بھرنے والا -  
 لم ڈور - (۱) صفت) لمبی ڈور - شمار کی ڈور -  
 لم ڈھینگ - (۱) مذ) ایک قد آور آبی طبع - لم کلنگو - (کنایت) بیوقوف -

اسحق -  
 لم کنتا - (۱) صفت) لمبے لمبے کانوں والا - ننگوش -  
 لم - (ج - صفت) نفی آتے - نہیں -  
 لم بزل - (ج - صفت) لازوال - اٹل - ہمیشہ رہنے والا غیر نانی -  
 لم - (ج - مرث) (۱) مرث) اصیت - کتہ - بات کی تہ - (۲) باعترت - سبب وجہ (۳) ہشام - الزام - تہمت -  
 لم دھنا - لم رکھنا - (۱) محاورہ) تہمت دھنا - الزام لگانا - عیب لگانا -  
 لم لگانا - (۱) محاورہ) الزام لگانا - عیب لگانا - قصور وار ٹھہرانا -  
 لمبا - (مذ - با) [۱] صفت) [۲] دلاز - طویل - بلند - اُدنچلہ - طویل القامت - (۲) بہت کثیر - زیادہ -  
 لمبا بنتا - (۱) محاورہ) رخصت ہونا - چل دینا - بھاگ جانا -  
 لمبا چوڑا - (۱) صفت) فراخ - کشادہ - کھلا ہوا - وسیع - طویل عریض  
 لمبا دفتہ - (۱) مذ) طویل صغیر -  
 لمبا سفر کرنا - (۱) محاورہ) دور کا سفر کرنا - دنیا سے کوچ کرنا - مرجانا -  
 لمبا گھرنا - (۱) محاورہ) [۲] دلاز کرنا - طول میں بڑھانا - (۲) روانہ کرنا - رخصت کرنا -  
 لمبا ہونا - (۱) محاورہ) [۲] دلاز ہونا - طویل ہونا - (۲) چل دینا - رونچھڑنا - رخصت ہونا -  
 لمبا لٹا - (مذ - با - با) [۱] مذ) شجاریوں جیسی ایک قوم -  
 لمبان - (مذ - بان) [۲] مرث) [۳] دلازی - لمبائی - طول - طوالت -  
 لمبان چوڑا - لمبائی چوڑائی - طول و عرض -  
 لمبا نا - (مذ - با - نا) [۲] مرث) [۳] لمبائی - لمبائی -  
 لمبائی - (مذ - با - ای) [۲] مرث) [۳] دلازی - طوالت - طول -  
 لمبائی چوڑائی - (۱) عرض و طول - لمبان چوڑا - (۲) قد و قامت - جسامت -  
 لمبر - (مذ - بر) انگریزی (Number) کا مترادف - ۱ - مذ) [۲] ہندسہ - عدد - رقم - (۲) درجہ - ترتیب - منصب - عمدہ (۳) باری - وار - نوبت - (م) مقررہ - نشان - علامت (۵) شمار - گنتی - تعداد -  
 لمبر آنا - (۱) محاورہ) [۲] نوبت آنا - باری آنا (۲) امتحان میں نمبر پانا -  
 لمبر چکھانا - (۱) محاورہ) امتحان میں ملنے والے نمبروں کو جس طرح میں سچ کرنا - (۲) درجہ میں ترقی دینا -  
 لمبر دار - (۱) مذ) مترادف - گاؤں کا چوہدری - وہ زمیندار جو مال گزارا ہی وصول کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرتا ہے -  
 لمبر سے خارج ہونا - (۱) محاورہ) خانوں یا فرست سے خارج ہونا - نام کٹنا - داخل دفتر نہ ہونا -  
 لمبر قائم رہنا - (۱) محاورہ) (قانون) پہلی ہی سہل پسکار واتی ہونا -  
 لمبر وار - (۱) صفت) نمبر وار - سلمدار - باری باری سے - درجہ بدرجہ -  
 لمبری - (مذ - سی - ری) [۲] صفت) [۳] مطابقت - نمبر کا - نمبر والا - (۲) نشان لگا ہوا - (۳) سرکاری طرف سے مقرر کیا ہوا پیمانہ -



**لنڈوری** - (نن - ڈو - ری) [ ۷ - صفحہ ۱۵ ] لنڈورا کی تائینٹ ۔  
بے بس ۔

**لنڈوری فاختہ** - (۱ - مش) وہ عورت جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ جسے  
لنڈھانا - (نن - ٹھا - نا) [ ۷ - صفحہ ۱۵ ] اوندھانا - بہانا۔ کسی ترقی چیز  
کو برتن سے زمین پر گرانا۔

**لنڈھنا** - (نن - ڈو - نا) [ ۷ - صفحہ ۱۵ ] ہنا (۲) لڑھکنا۔ غلطیہ ہونا۔  
**لنڈی** - (نن - ڈی) [ ۷ - مش ] حقارت کا کلمہ عورت کے واسطے۔  
**لنڈی** - [ ق ] لنڈوری - لنڈا کی تائینٹ۔

**لنز** - ( Lens ) ( لنک - ا - مذ ) [ ۱۵ ] عینک کا شیشہ۔ عدسہ (۲)۔  
آنکھ کا پردہ (۳)۔ ڈوربین یا خوردبین کا شیشہ۔  
**لنک** - ( ۱ - ا - مذ ) [ ۱۵ ] طویر انبار۔ تودہ (۲) [ مش ] باگ - عنان -

(۳) میان - کمر۔  
**لنک گنا** - (۱ - محاورہ) انبار گنا۔ طویر گنا۔  
لنک میں جو چھوٹا سوا پون ہی گڑ کا - (۱ - مثل) چھوٹے سے  
بڑے تک سب بڑی عادتوں میں مبتلا ہیں۔

**لنگ** - ( ف - صفحہ ۱۵ ) لنگڑا۔ ٹولا۔ اپانج [ مذکر ] لنگڑا پن۔ پاؤں کا  
نقص۔  
**لنگ کرنا** - (۱ - محاورہ) لنگڑانا۔ کسی نقص کے باعث پورا پاؤں  
زمین پر نہ لگانا۔

**لنگ** - ( ۱ - مذ ) [ ۱۵ ] قطار۔ صف۔ سلسلہ (۲) طرف۔ جانب۔  
سمت۔ سرا۔ کنارہ (۳) دیوار۔ قنات۔ اوٹ۔ پردہ (۴)  
دھوتی کا لڑیا پلا۔

**لنگ** - [ س - ۱ - مذ ] عضو تناسل۔  
**لنگ** - ( ف - ۱ - مذ ) [ ۱۵ ] گھٹنوں تک نہ بند۔ لنگٹی۔ (۲) آگے تناسل۔  
**لنگڑا** - ( ۱ - مذ ) [ ۱۵ ] لنگڑا۔ لنگڑا۔ لنگڑا۔ (۱ - صفحہ ۱۵) بے حیا۔  
بے شرم۔ ڈھیلٹ۔ (۲) لچا۔ لنگڑا۔ شہرا۔ (۳) شرمیہ۔ بدتمیاز

(۴) فساد۔  
**لنگڑا پن**۔ لنگڑا پن۔ (۱ - مذ) [ ۱۵ ] بے شرمی۔ بے حیائی۔ لٹھانی۔  
(۲) پچن۔ مگنڈا پن۔ (۳) شرارت۔ بدتمیاز۔

**لنگر** - (نن - گن - ف) [ ۱۵ ] جہاز یا قافلہ کا ٹھہراؤ۔ گوسے کی زنجیر  
یا رستہ جو کشتی ٹھہرانے کے لیے کسی جہاز کی جیر کے ساتھ کنارے  
پر باندھ رکھتے ہیں۔ (۲) خیرات خانہ۔ وہ جگہ جہاں روزانہ فقیروں  
کو کھانا تقسیم ہو۔ (۳) وہ کھانا جو مسکین و غرار کو دیا جاتا ہے۔ (۴)  
بڑے آدیوں کا باورچی خانہ۔ (۵) عیسوی گھڑا کرنے کا موٹار سا۔  
(۶) پہلو انوں کا لنگوٹ۔ (۷) دھڑکے نیچے کا حصہ۔ کوٹھے۔ چوڑوٹ۔  
(۸) بوجھ۔ بار۔ وزن (۹) گھنٹے کا ٹکڑا۔ پنڈولم۔

**لنگڑاٹھا**۔ (۱ - محاورہ) کشتی یا جہاز کا رستہ کھول کر اگے کو چلانا۔  
جہاز روانہ کرنا۔  
**لنگر باندھنا**۔ (۱ - محاورہ) [ ۱۵ ] پہلو انوں کا لنگوٹ باندھنا۔ (۲) گنا تیا

جماعت سے پرہیز کرنا۔  
**لنگر ٹیٹا**۔ (۱ - محاورہ) عزبا میں روزانہ مفت کھانا تقسیم ہونا  
لنگر توڑنا۔ (۱ - محاورہ) پہلو ان کا اپنے حریت کو زمین پر سے اٹھا  
لینا۔ شکست دینا۔

**لنگر جاری کرنا**۔ (۱ - محاورہ) خیرات تقسیم کرنا۔ سدا برت جاری  
کرنا۔  
**لنگر خانہ**۔ (۱ - مذ) مسکین و فقراء کے لیے روزمرہ کھانا تقسیم ہونے  
کی جگہ۔ خیرات خانہ۔ باورچی خانہ۔ رستوں۔

**لنگر ڈالنا**۔ (۱ - محاورہ) [ ۱۵ ] جہاز یا کشتی کو ٹھہرانا۔ (۲) ٹھہرانا۔ تیار کرنا۔  
(۳) بوجھ ڈالنا۔

**لنگر کا بوجھ**۔ (۱ - مذ) بہت وزنی۔  
**لنگر کا لنگڑا**۔ (۱ - مذ) خیرات کا کھانا۔ بھیک۔  
**لنگر کرنا**۔ (۱ - محاورہ) جہاز یا کشتی کا ٹھہرانا۔

**لنگر گاہ**۔ (۱ - مذ) بندر گاہ۔ جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔  
**لنگر لنگوٹ**۔ (۱ - مذ) پہلو انوں کا لنگوٹ۔  
**لنگر لنگوٹا باندھنا**۔ کسٹم کشنی کرنے کو تیار ہونا۔  
**لنگر لنگوٹا دینا**۔ لنگر لنگوٹا آگے رکھنا۔ (۱ - محاورہ) کسی پہلو ان کی  
شاگردی اختیار کرنا۔

**لنگر**۔ (نن - گز - ا - ۱) [ ۷ - صفحہ ۱۵ ] بے حیا۔ بے عزت (۲) لچا۔ لنگڑا۔  
بھیلن۔  
**لنگری**۔ (نن - ری) [ ۱۵ ] صفحہ ۱۵ ] لنگر سے منسوب (۲) بھیلے لنگر  
کا کھانا۔ (۳) [ مذ ] ایک قسم کا بڑا طشت [ ۱ - مذ ] [ ۱۵ ] وہ شخص جو  
محتاج خانہ میں مسکین و غرا کو کھانا تقسیم کرے۔ [ مش ] پان  
رکھنے کی چھوٹی گمری تھالی۔ لگنی۔ (۵) وہ آٹھلی تھالی جس میں  
لنگر کا کھانا تقسیم کرتے ہیں۔

**لنگرے**۔ (نن - گز - ا - ۱) [ ۱۵ ] وہ پتھر یا اینٹ کا ٹکڑا۔ جسے ڈور میں  
باندھ کر آپس میں لڑاتے ہیں۔ اس کیل کو لنگڑوچ کہتے ہیں۔  
**لنگڑا**۔ (لنگ - لڑا) [ ۱۵ ] صفحہ ۱۵ ] ایک ٹانگ سے مندر۔  
اپانج۔ پانگھتہ (۲) [ کنایت ] بودا۔ کزور (۳) ایک مشہور آدم۔  
**لنگڑانا**۔ (لنگ - لڑا) [ ۱۵ ] صفحہ ۱۵ ] باؤں میں نقص ہونا۔  
پورا پاؤں تک نہ چلنا۔

**لنگڑی**۔ (لنگ - لڑی) [ ۷ - صفحہ ۱۵ ] صفحہ ۱۵ ] لنگڑا کی تائینٹ۔ وہ عورت  
جس کے پاؤں میں نقص ہو۔  
**لنگڑی کا درد**۔ (۱ - مذ) دیکھنے عرق النسار۔  
**لنگڑی گنوا آسمان پر گھونسلنا**۔ (۱ - مثل) اپنی لیاقت سے بڑھ کر کام کرنا۔  
**لنگوٹ**۔ (نن - گوٹ) [ ۷ - ۱ - مذ ] کاجھا۔ کمر میں کپڑا جو فقرا یا پہلو ان  
باندھتے ہیں۔

**لنگوٹ بند**۔ (۱ - صفحہ ۱۵) [ ۱۵ ] لنگوٹ باندھے رہنے والا۔ (۲) مجرور۔  
عورت سے بچنے والا۔

لنگیا - (رُن - یا) [ھ - ا - مذکر] ایک قوم جس کا پیشہ کنوئیل کھدونا اور دیوار بنانا ہے۔

لنگوٹ پاٹنا - (۱ - محاورہ) کشتی لڑانا ترک کر دینا۔  
لنگوٹ وار - (۱ - صفت) وہ پتنگ یا لنگوٹا جس کے نیچے کی طرف لنگین شیشی یا لانا کا نڈ لگا ہوا ہو۔

# ل - و

لنگوٹ کا سچا - (۱ - صفت) وہ شخص جو غیر عورت سے پرہیز کرے۔  
لنگوٹ کھولنا - (۱ - محاورہ) (۱) مجاہدت کرنا (۲) زنا کرنا۔

لو - [ھ - ا - مثنیٰ] (۱) شعلہ - لپٹ - جھبکا - لاٹ (۲) دھیان - توجہ - نیچال - یکسوئی - (۳) آس - امید - توقع (۴) شوق - محبت (۵) کان کی جڑ، کان کے نیچے کے سُرخی نوک - پگیا۔

لنگوٹا - (رُن - گوٹا) [اُڑ - ا - مذ] دیکھیے لنگوٹ۔  
لنگوٹی - (رُن - گوٹی) [اُڑ - ا - مثنیٰ] (۱) لنگوٹا کی تائینٹ - (۲) چھوٹی دھوتی - کپڑے کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس کا ایک ہر اسٹریچ میں سے نکال کر کمر میں باندھ لیتے ہیں۔

لو اٹھنا - (۱ - محاورہ) شعلے کا بلند ہونا - لاٹ نکلنا۔  
لو بچھنا - (۱ - محاورہ) شعلہ فرو ہونا - (۲) خواہش ٹھننا۔  
لو بھڑکنا - (۱ - محاورہ) چلچل میں تیل شمع ہونے پر شعلہ کا بھڑک اٹھنا۔  
لو دینا - (۱ - محاورہ) شعلہ نکلنا - بے حد چمک دکھانا۔  
لو لگانا - (۱ - محاورہ) (۱) تصدق باندھنا - نیچال باندھنا - توجہ دینا - رجوع ہونا - ہر وقت دھیان لگانا - (۲) عشق کرنا - دل لگانا - عاشق بڑا (۳) خواہش کرنا - آرزو مند ہونا۔

لنگوٹی بندھو دینا - (۱ - محاورہ) زکنا پٹا بالکل منغل - تلاش بنا دینا۔  
لنگوٹی کھٹنا - (۱ - محاورہ) زکنا پٹے پر دے کی دیوار گر جانا - پردہ فاش ہو جانا۔

لو لگنا - (۱ - محاورہ) (۱) تصور بندھنا - خیال بندھنا - توجہ دینا - رجوع ہونا - (۲) عبادت یا ذکر خدا میں مصروف ہونا - (۳) خواہش ہونا - اشتیاق ہونا - (۴) امید بندھنا - آس بندھنا - دھتے پیش لگنا - لپٹ لگنا (۵) بار بار نام لینا - دینے تک ذکر کیے جانا۔

لنگوٹی میں پھاگ کھیلنا - (۱ - محاورہ) زکنا پٹے کی تنگدستی میں سڑے اڑانا - منغلی میں عیش و عشرت کرنا۔  
لنگوٹی میں مست - (۱ - صفت) غزبی میں خوش بنے فکر۔

لو - [ع - حرف شرط] اگر۔

لنگوٹے کا ڈھیلا - (۱ - صفت) عیاش - زانی۔  
لنگوٹے کا سچا - (۱ - صفت) پاکباز۔ دیکھیے لنگوٹ کا سچا۔

لو فرضنا - (ع - تابع فعل) اگر ہم نے فرض کیا - بالفرض - فرض کرو۔  
لو لاک - حدیث قدسی لو لاک لکنا خلقت الالفاک کی طرف اشارہ ہے - یعنی اگر تیری (رسول اکرم کی) ذات نہ ہوتی تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔

لنگوٹیا - (رُن - گوٹ - یا) [اُڑ - صفت] (۱) مذکر [۱] لنگوٹ بند (۲) ساتھ کا کھیل - بچپن کا یار - پرانا اور گرا دوست۔

لو (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگوچا - (رُن - گوچا) [ھ - ا - مذکر] (۱) بھیر بکری وغیرہ کی آنت جس میں قیمہ بھر کر سنتے ہیں۔  
لنگوڑ - (رُن - گوڑ) [ھ - ا - مذ] ایک قسم کا بندر جس کا منہ کالا اور دم لمبی ہوتی ہے۔

لو اور تماشو بچھو - (مقولہ) حیرت انگیز بات ظاہر کرنے پر کہتے ہیں۔  
لو اور سٹو - (۱ - روزمرہ) حیرت انگیز بات ظاہر کرنے پر کہتے ہیں۔  
لوچی (صاحب) (۱ - روزمرہ) تعجب اور حیرت کے مقام پر کہتے ہیں۔

لنگوری - (رُن - گوہری) [ھ - ا - مثنیٰ] (۱) چوری کا مال برآمد کرنے میں امداد (۲) چور پکڑانے کا انعام (۳) گھوڑے کی ایک سائ۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگھانا - (رُن - گھانا) [ھ - ا - مثنیٰ] (۱) پاریا سے پاک کرنا۔  
لنگھن - (رُن - گھن) [س - ا - مذ] (۱) کو دیکھنا - چھلانگ (۲) پار اڑنا - جھمک کرنا (۳) روزہ - فاقہ۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگھنا - (رنگھ - نا) [ھ - مثنیٰ] (۱) پاریا سے پاک کرنا۔ اگلا لنگھنا۔ چھلانگ جانا۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگی - (رُن - گی) [ھ - ا - مثنیٰ] پیشاب - بول - موت۔  
لنگی - (رُن - گی) [اُڑ - ا - مثنیٰ] (۱) تہ بند - دھوتی (۲) سر سے باندھنے کی زمین دھاری دار کپڑی۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگولیم - (Lniolum) (۱) بول - تو - لی - ایم) [انگ - ا - مذ] ایک قسم کی درجی جس پر مولو رومن پھرا ہوتا ہے۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگھنا - (رنگھ - نا) [ھ - مثنیٰ] (۱) پاریا سے پاک کرنا۔ اگلا لنگھنا۔ چھلانگ جانا۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگی - (رُن - گی) [ھ - ا - مثنیٰ] پیشاب - بول - موت۔  
لنگی - (رُن - گی) [اُڑ - ا - مثنیٰ] (۱) تہ بند - دھوتی (۲) سر سے باندھنے کی زمین دھاری دار کپڑی۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگولیم - (Lniolum) (۱) بول - تو - لی - ایم) [انگ - ا - مذ] ایک قسم کی درجی جس پر مولو رومن پھرا ہوتا ہے۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگھنا - (رنگھ - نا) [ھ - مثنیٰ] (۱) پاریا سے پاک کرنا۔ اگلا لنگھنا۔ چھلانگ جانا۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگی - (رُن - گی) [ھ - ا - مثنیٰ] پیشاب - بول - موت۔  
لنگی - (رُن - گی) [اُڑ - ا - مثنیٰ] (۱) تہ بند - دھوتی (۲) سر سے باندھنے کی زمین دھاری دار کپڑی۔

لو او (۱ - واؤ مجموعی سے) (۱) تابع فعل (۲) یکلو - سنبھالو (۳) کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کا کلمہ - سنو - دیکھو - خیال کرو (۴) کلام کو خوبصورت بنانے کا کلمہ - تجبین کلام کا کلمہ۔

لنگولیم - (Lniolum) (۱) بول - تو - لی - ایم) [انگ - ا - مذ] ایک قسم کی درجی جس پر مولو رومن پھرا ہوتا ہے۔



لواجتین (ع۔ ۱۔ مذ) لواجت کی جمع الجمع۔ (ثقہ لوگ نہیں ہوتے)  
 لوازا۔ (دل۔ وا۔ را) مذ [لو۔ سا۔ بھیرا۔ گانے کا بچہ۔  
 لوازم۔ (دل۔ وا۔ زم) [ع۔ ۱۔ مذ] لازم کی جمع۔ ضروری چیزیں۔ اسباب۔  
 لوازمات۔ (دل۔ وا۔ ز۔ مات) [ع۔ ۱۔ مذ] لوازم کی جمع۔ سامان۔  
 لوازمہ۔ (دل۔ وا۔ ز۔ مہ) [ع۔ ۱۔ مذ] لازمہ کی جمع۔ ضروری چیزیں۔ سامان۔  
 لواطت۔ (دل۔ وا۔ ظت) [ع۔ ۱۔ مذ] لواطت کے ساتھ بذمہ عمل کرنا۔  
 لوالانا۔ (۱۔ محاورہ) جاکر پینے کے ساتھ لانا۔  
 لوالے جانا۔ (۱۔ محاورہ) ساتھ ساتھ لانا۔ اُٹھولے جانا۔  
 لواصیح۔ (ع۔ ۱۔ مذ) دیکھنے والے میں سے جو جمع ہے۔  
 لواصہ۔ (ع۔ ۱۔ اسم مبالغہ) سخت طاقت کرنے والا (۲۔ د) نفس کی ایک قسم،  
 جو انسان کو برے کام کرنے پر طاقت کرتی ہے۔  
 لوانا۔ (دل۔ وا۔ نا) [ع۔ ۱۔ مذ] مصلحت مند آدمی المتعدی۔ (۱۔ خرید کر وانا بھل  
 لے لینا۔ (۲۔ اُٹھوانا۔ (۳۔ بلوانا۔  
 لواصح۔ (دل۔ وا۔ اح) [ع۔ ۱۔ مذ] دیکھنے والا جس کی یہ جمع ہے۔ دستور  
 (۲۔ روشنیاں۔  
 لویان۔ (لو۔ بان) [ع۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا گو مد جو آگ پر رکھنے سے خوشبو  
 دیتا ہے۔  
 لوہجہ۔ (۱۔ مذ) [ع۔ ۱۔ مذ] (۲۔ طبع۔ (۳۔ آرزو۔ (۴۔ بکوسی۔  
 لوہجہ کرنا۔ (۱۔ مصلحت۔ (۲۔ مصلحت۔ (۳۔ طبع کرنا۔ (۴۔ حرص کرنا۔  
 لوہجی۔ (لو۔ بھی) [ع۔ ۱۔ مذ] (۲۔ مصلحت۔ (۳۔ طبع۔ (۴۔ حرص۔ (۵۔ خواہش۔ (۶۔ مند۔  
 آرزو مند (۳۔ بکوسی۔ (۴۔ بھینٹ۔ (۵۔ شک۔  
 لویا۔ (لو۔ یا) [ع۔ ۱۔ مذ] ماش کی قسم کا پودا جس کی کچی پھلیوں اور  
 دانوں کو بچا کر کھاتے ہیں۔  
 لوپ۔ (ع۔ صفت) [ع۔ ۱۔ مذ] (۲۔ جھپٹا ہوا (۳۔ نیست و نابود۔ (۴۔ معدوم۔  
 لوپنا۔ (لوپ۔ نا) [ع۔ ۱۔ مذ] (۲۔ بھلا نا۔  
 لوٹہ۔ (ع۔ ۱۔ مصلحت۔ (۲۔ لاش۔ (۳۔ مردہ جسم۔  
 لوٹہ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) مردہ ہو کر گرنا۔  
 لوٹھ لوٹھ۔ (ع۔ صفت) نکھ کر چور۔ مردہ جسم کی طرح۔  
 لوٹھ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) مار کر ڈالنا۔ لاش ڈالنا۔  
 لوٹھ پڑنا۔ (لوٹھ۔ ڈا) [ع۔ ۱۔ مذ] گوشت کا بڑا ٹکڑا، جس میں ہڈی نہ ہو۔  
 ٹھنڈا۔ پارچہ۔ منجھتھون کا ٹکڑا۔  
 لوٹ۔ (ع۔ ۱۔ واؤ بجمول۔ (۲۔ مصلحت۔ (۳۔ لاش۔ (۴۔ غلطی۔ (۵۔ کھلی۔ (۶۔ کھلی۔  
 پہلو (۳) [ع۔ صفت] عاشق۔ مفتول۔ فریفتہ۔  
 لوٹ پوٹ۔ (۱۔ صفت) [ع۔ ۱۔ مذ] لوٹنا کھانا ہمارا۔ لٹھکا چھوٹا (۲) عاشق  
 فریفتہ۔ مفتول۔ مضطر۔ بے قرار (۳) اور پرتے۔ آگ پلٹ۔  
 لوٹ پوٹ ہو جانا (ہونا)۔ (۱) غلطانہ چیزیں۔ تروپ جانا۔ پھیرک  
 جانا۔ (۲) فریفتہ ہونا۔ (۳) تروپ کر جانا۔ دفعہ مر جانا۔  
 لوٹ جانا۔ لوٹ ہو جانا۔ لوٹ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) لٹھکنا  
 کھانے لگنا۔ زمین پر لوٹنے لگنا۔ (۳) غصہ آجانا (۴) مرجانا (۵) عاشق

ہو جانا۔ (۵) بے قرار ہو جانا۔ تروپ جانا۔ (۶) مکر جانا۔ انکار کر جانا۔  
 پھیر جانا۔ برگشتہ ہو جانا۔ (۷) از حد خوش ہونا۔ بہت پسند کرنا۔  
 (۸) لپکانا۔ رکھنا۔ (۹) قربان ہونا۔ تصدق ہونا۔ صدقے ہونا۔  
 لوٹ لگانا۔ (۱) محاورہ) لٹھکانا۔ لٹھکانا کسی پر عاشق ہونا (۲) چلنا۔  
 منکرنا۔  
 لوٹ ہو جانا۔ (۱) محاورہ) کسی چیز کے حق و خوبی کو دیکھ کر وہ جس میں آ  
 جانا۔ (۲) عاشق ہونا۔ (۳) کمال اکتساب ہونا۔  
 لوٹ۔ (ع۔ ۱۔ مصلحت) [ع۔ ۱۔ مذ] دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ۔ زبردستی  
 قبضہ۔ غارتگری۔ تاراج۔ پھینکا۔ (۲) ظلم۔ (۳) اندھیر (۴)  
 سوچ۔ لبر۔  
 لوٹ پر کمر باندھنا۔ (۱) محاورہ) لوٹ مار کا پیشہ اختیار کرنا۔  
 لوٹ پڑنا۔ (۱) محاورہ) لوٹ مار ہونا۔ غارتگری ہونا۔ ظلم  
 ہونا۔ اندھیر ہونا۔  
 لوٹ ڈالنا۔ (۱) محاورہ) زبردستی کرنا۔ غارتگری کرنا۔ کھلم کھلا  
 مال مارنا۔  
 لوٹ کا مال۔ (۱) مذ [ع۔ ۱۔ مذ] مال غنیمت (۲) چوری کا مال۔ ناجائز حاصل  
 کیا ہوا سامان (۳) مفت کا مال (۴) نہایت ستا مال۔  
 لوٹ کھانا۔ (۱) مصلحت۔ (۲) کسی کا مال زبردستی لے لینا۔  
 لوٹ کھسوٹ۔ مار۔ (۱) مصلحت۔ غارتگری۔ ڈاکہ۔ قرآنی۔ زبردستی  
 لوٹ کے متوسل بھی پہلے۔ (۱) مصلحت۔ (۲) مفت میں ادنیٰ چیز بھی ل  
 جانے کو قیمت ہے۔  
 لوٹ لائے، کوٹ کھائے۔ (۱) مصلحت۔ (۲) حاصل کیا  
 اور منے آرائے۔  
 لوٹ لینا۔ (۱) محاورہ) [ع۔ ۱۔ مذ] مال چھین لینا (۲) موہ لینا۔ عاشق کر لینا۔  
 (۳) چوری کر لینا۔ مال مار لینا۔ (۴) تباہ کرنا۔  
 لوٹ میں پڑنا۔ (۱) محاورہ) لوٹا جانا۔ (۲) لوٹ میں مصروف۔  
 لوٹ میں چرخہ بھی غنیمت ہے۔ (۱) مصلحت۔ (۲) لوٹ میں جو بھی مل  
 جانے وہی اچھا ہے۔  
 لوٹا۔ (۱) [ع۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کا ٹوٹی والا بنسن۔ آفتابہ۔ بڑی  
 لٹیا۔  
 لوٹا اُٹھانا۔ لوٹا رکھنا۔ (۱) محاورہ) ادنیٰ درجہ کی لوٹی کرنا۔  
 لوٹے ڈالنا۔ (۱) محاورہ) ہٹا کر پاک ہونا۔ غسل کرنا۔  
 لوٹے میں نمک ڈالنا۔ (۱) محاورہ) عدد کرنا۔ قسیمہ عدد کرنا۔  
 لوٹا سبھی۔ لوٹن سبھی۔ (ع۔ ۱۔ مصلحت) ایک قسم کی سفید یا گلابی رنگ کی کھانہ۔  
 لوٹا لوٹ۔ (لوٹ۔ ٹا) [ع۔ ۱۔ مذ] لوٹ مار۔ قرآنی۔ زبردستی۔  
 غارتگری۔ (۲) اندھیر۔ ظلم۔  
 لوٹانا۔ (لوٹ۔ ٹا) [ع۔ ۱۔ مذ] لوٹ مار کرنا۔ پھیرنا۔ (۲) اوپر تلے کرنا۔ نیچے  
 کا اوپر اور اوپر کا نیچے کرنا۔  
 لوٹ پوٹ۔ (ع۔ ۱۔ مصلحت) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) لوٹ پوٹ کی اصطلاح (۲) دزدنی چھپائی۔ دزد

پنٹہ چھپائی۔

لوٹنا پھرنا۔ (۱۔ محاورہ) ترپتے پھرنا۔ زمین پر لٹھکیاں لینا۔  
لوٹم لاٹ۔ (لوٹم۔ لاٹ) [جہ۔ ۱۔ مٹ] ایک دوسرے کو ٹوٹنا۔  
لوٹن۔ (لوٹن) [جہ۔ صفت] ٹوٹنے والا۔ پھڑکنے والا۔ ترپنے والا۔  
کوٹن کپوتر۔ ایک قسم کا کپوتر جس کے سر پر ماتھ پھیر کر چھوڑ دینے سے  
وہ لوٹیاں کھانے لگتا ہے۔ فلانا نیزاں کھانے والا کپوتر۔  
لوٹنا۔ (لوٹ۔ نا) [جہ۔ موص] [۱] واپس ہونا۔ پھرنا۔ ہٹنا۔ واپس پھرنا۔  
اٹٹنا۔ پٹٹنا۔ رُخ بدلنا۔

لوٹنا۔ (لوٹ۔ نا) [وفاؤ جمول سے] [جہ۔ موص] [۱] لٹھکنا۔ کرٹھیں بدلنا۔  
(۲) پھلنا۔ بچے کا منہ کھلنا (۳) پھولنا۔ بے قرار ہونا۔ تھلانا۔ بے یقین  
ہونا۔ (۴) عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ (۵) پاؤں پر گر پڑنا۔ (۶)  
وچھ میں آنا۔ نقص کرنا۔ نہایت خوش ہونا (۷) از حد پند کرنا۔  
لوٹنے کی جگہ ہے۔ (۱۔ محاورہ) [۱] کیا لطف ہے۔ عجیب کیفیت (۲) چرکنے  
کا موقع ہے۔ قربان ہونے کی جگہ ہے۔ دلچسپی کا مقام ہے۔  
لوٹنا۔ (لوٹ۔ نا) [جہ۔ موص] [۱] ٹوٹ کھسٹ کرنا۔ غارت کرنا۔ زبردستی  
چین لینا (۲) تباہ کرنا۔ برباد کرنا (۳) عاشق کرنا۔ شیدا کرنا (۴)  
مال بارنا۔ بنیں کرنا۔ (۵) معاصل کرنا۔ دمزا، لطف وغیرہ کے ساتھ۔  
لوٹنی۔ (لوٹ۔ نی) [وفاؤ جمول سے۔ ۱۔ ۵۔ ۱۔ مٹ] [۱] فلانا بازی لٹھکنی  
(۲) صاف جواب۔ بالکل انکار۔

لوٹنی لینا۔ (۱۔ محاورہ) بالکل انکار کرنا۔ صاف نکر جانا۔ بے لیاہی کرنا۔  
لوٹیاں کھانا۔ (۱۔ محاورہ) ترپنا۔ فلانا نیزاں کھانا۔ بے قرار ہونا۔  
پھڑکنا۔

لوٹھا۔ (لوٹھنا) [جہ۔ صفت] [۱] ہٹا کٹا۔ موٹا تازہ۔ لٹھا۔ مسٹھا۔  
لوٹھی۔ (لوٹھی) [جہ۔ صفت] [لوٹھا کی تائینٹ۔ تندہرست۔  
لوٹے اٹھوانا۔ (۱۔ محاورہ) ذیل کام لینا۔  
لوٹ۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] آمیزش۔ بلاوٹ (۲) آلودگی (۳) داغ۔  
عجیب۔

لوٹج۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] چھپ۔ بے (۲) نرمی۔ ملائمت۔ نزاکت۔ لچک۔  
لوٹج وار۔ (۱۔ صفت) [بے سدار۔ بے سار۔ ملائم۔ نازک۔ لچک دار۔  
لوٹرا۔ (۵۔ صفت) نامرد۔ ڈھیلا۔ بوسیا۔

لوٹین۔ (لوپین) [۱۔ مٹ] [۱] لٹھک۔ دیدہ۔ چشم۔  
لوٹج۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] لٹھکنے کی سختی (۲) قبر کے سر اٹھانے کا پتھر یا پل۔  
(۳) سر روق۔ ٹائیسٹیل سچ۔ سر نامہ عنوان (۴) وہ پل بولے جو  
کسی کتاب کے شروع میں بنا دیئے ہیں۔ جمع۔ الواح۔

لوٹ پیشانی (جبیں) [جہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] ماتھا۔ پیشانی۔  
لوٹ تربت ر لوٹ قبر۔ لوٹ مرتد۔ لوٹ مزار۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱]  
قبر کے سر اٹھانے کا پتھر جس پر تاریخ وفات وغیرہ لکھی جاتی ہے۔  
لوٹ برجد۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] مٹ] [۱] کٹھین [۱] تورات جو فرقہ کی شریعت  
سے منسوخ ہو گئی ہے۔

لوٹج سیس۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] چاندی کی تختی۔ (۲) کتابتہ مشوق  
کاپیٹ اور پیشانی۔

لوٹج طلسم۔ وہ تختی جس میں طلسم کے کھولنے کا طریق اور حقیقت  
کندہ کر کے دفن کر دیتے ہیں۔

لوٹج معفوفا۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] وہ تختی جس پر خدا نے دنیا میں ہونے والے  
ہر نسل کی نسبت ابتداء سے انتہا تک لکھ رکھا ہے۔ اور کوئی اس  
میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ علم الہی۔

لوٹج مشق۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] اسختہ مشق۔ وہ تختی جس پر بچے  
مشق کرتے ہیں۔ (۲) وہ چیز جو کثرت سے استعمال میں آئے  
(۳) نیر مشق۔

لوٹج نویس۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] نقاش۔ مصور۔ کتابوں کا طریق  
بنانے والا۔

لوٹج و قلم۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] تختی اور خامہ (۲) خدا کے احکام کی  
تختی اور اس کے کھینے کا قلم۔

لوٹج اللہ۔ (جہ۔ لکھتین) [۱] عربی میں لا اوحش اللہ [خدا وحشت  
نہ دے] تھا۔ تعظیم و استعجاب کے موقع پر بطور کلمہ تجسیم  
استعمال کرتے ہیں۔

لودہ۔ لودھرا۔ (لودہ۔ نا) [جہ۔ ۱۔ مٹ] ایک قسم کی بوٹی جو رنگنے  
کے کام آتی ہے۔ لودھر درخت کی چھال جو دودا کے طوط پر  
استعمال ہوتی ہے۔

لودھا۔ (لو۔ دھا) [جہ۔ ۱۔ مٹ] ایک نو مسلم فرقہ۔  
لودھی۔ لودی۔ (لو۔ دھی۔ لو۔ دی) [جہ۔ ۱۔ مٹ] پٹھانوں کا ایک  
قبیلہ۔

لود۔ (Load) [۱] لنگ۔ (۱۔ مٹ) [۱] بوجم۔ بھار۔ وزن۔  
لودو۔ (Ludo) [۱] لنگ۔ (۱۔ مٹ) ایک قسم کا کھیل جس میں پائتھ  
استعمال ہوتا ہے۔

لود۔ (جہ۔ ۱۔ مٹ) [۱] پناہ۔ پناہ گیری۔  
لودھی۔ (لو۔ ذی) [جہ۔ صفت] [۱] نسبت نفل مند۔ دانا۔ زود نہم۔  
لورا۔ (لو۔ را) [جہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] آوارہ مرد۔

لوری۔ (لو۔ ری) [جہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] آدمی آواز کے سربے گیت جو عورتیں بچوں  
کو سلاتے یا بھلانے کے لیے آہستہ آہستہ گاتی ہیں۔  
لوری دینا۔ (۱۔ محاورہ) بچے کے سلاتے یا بھلانے کے لیے گیت گانا۔

لوڑ۔ لوڑھ۔ (لو۔ پ) [۱۔ مٹ] [۱] ضرورت۔ خواہش۔ حاجت۔ چاہ۔  
لوڑا۔ (لو۔ ڈا) [جہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] آکر تراسل۔ ذکر۔ لنگ۔ لٹھ۔  
لوڑنا۔ (لو۔ ذی) [۱۔ مٹ] [۱] طلب کرنا۔ چاہنا۔ تلاش کرنا۔

لوڑھنا۔ (لوڑھ۔ نا) [جہ۔ موص] [۱] کپاس سے بیج علیحدہ کرنا۔  
لوڑھی۔ (لو۔ ٹھی) [جہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] کالی دیوی کا تموار۔  
لوڑیا پلینٹ۔ (لو۔ ڈی) [جہ۔ ۱۔ مٹ] [۱] گلوٹیکہ۔  
لوڑیجینا۔ (لو۔ ڈی۔ جینا) [جہ۔ موص] [۱] لازم ہونا۔ فرض ہونا۔

لوگر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) بادام (د) ایک شیشی وضع کی تراشی ہوئی مٹھائی۔  
لوڑاٹ۔ (لو۔ زات) (ع۔ ۱۔ مٹھ) لوڑکی جمع۔ بادام کی مٹھائی۔  
لوڑیاٹ۔ (لو۔ زئی، یات) (ع۔ ۱۔ لوڑٹ) بادام کا حلوہ۔  
لوڑیہ۔ (لو۔ زئی، نہ) (ع۔ ۱۔ مذ) بادام کا حلوہ (د) ایک قسم کی  
مٹھائی جس میں بادام ڈالتے ہیں۔  
لوڑ۔ (ع۔ ۱۔ مٹھ) جلن کی بوڑ۔ سالن وغیرہ جل جانے کی بوڑ۔  
لوڑ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ایک شور و غیب جینیں جھارے مکب شام کے شور و غیب کے  
لوگوں کی ہلایت کے لیے جھبیا۔  
لوڑی۔ (لو۔ طی) (ع۔ ۱۔ مذ) لوڑ پیڑ کی قوم (د) اجمازا، اظلام کر نیوالا۔  
لوگر۔ (Loafer) (رگ۔ مذ) کلنڈرا۔ آوارہ۔ وقت  
برباد کرنے والا۔  
لوگ۔ (س۔ ۱۔ مذ) انسان۔ آدمی۔ بشر۔ لوگ۔ مرد (د) عالم ارواح (د)  
دنیا۔ عالم۔ جہان (د) نیچے کا طبقہ۔ سخت اکثری۔  
لوگ آجھار۔ لوگ بیوپار۔ (ع۔ ۱۔ مذ) مگی رسوم۔ ملک کا دستور۔  
لوگ پائ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) راجہ۔ بادشاہ۔ جہاں پناہ۔  
لوگ سبھا۔ (ع۔ ۱۔ مٹھ) قومی اسمبلی۔ ایوان زیریں۔ پارلیمنٹ۔  
لوگ کشانی۔ (ع۔ ۱۔ مٹھ) وہ بن گئی عوامی انسا نے جو سینہ بہ سینہ  
پھلے آتے ہیں۔  
لوگ گیت۔ (ع۔ ۱۔ مذ) عوام کے قدیم گیت۔ (رگ) (Folksong)  
لوگ ناٹھ۔ (س۔ ۱۔ مذ) راجا۔ بادشاہ (د) مہادیو۔ شیو۔ برہما۔  
دشنو۔  
لوگ ناچ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) عوام کے قدیم ناچ جو کسی رسم یا نئی بار سے متعلق  
رکھتے ہوں۔ (رگ) (Folkdance)  
لوکا۔ (لو۔ کا) (ع۔ ۱۔ مذ) لاٹ۔ لو۔ لپٹ۔ آگ کا شعلہ (د) جلتی  
ہوئی لکڑی۔  
لوکا لگانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) آگ لگانا۔ جلانا۔ جھلنا (د) چھوڑنا۔ ترک  
کرنا (د) چٹنی کھانا۔ ادھر کی بات ادھر لگانا۔  
لوکا لگاتے۔ لوکا لگے۔ (دعا کے بد) آگ لگے۔ غارت ہو۔ چولے  
میں جلنے۔  
لوکاٹ۔ (لو۔ کاٹ) (ع۔ ۱۔ مذ) ایک زر درنگ کا پھل۔  
لوکارٹم۔ (لو۔ کار۔ ٹم) (ع۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا حساب، جو حساب کے  
پھیلو کو بہت مختصر کرتا ہے۔  
لوکا لوک۔ (لوکا۔ لوک) (س۔ ۱۔ مذ) پہاڑوں کا وہ فرضی سلسلہ جو تمام  
دنیا کے ارد گرد حد کے طور پر پھیل گیا ہے۔  
لوکڑا۔ (لوکڑا۔ ٹرا) (ع۔ ۱۔ مذ) لوکا۔ طفل۔ (تخصصاً وہ لڑکا جو مندریں  
کسی دیوی کی خدمت پر مانور ہو۔)  
لوکل۔ (Local) (لو۔ کل) (رگ) (صف) مقامی کسی خاص  
مقام سے متعلق۔  
لوکل سبٹ گورنمنٹ۔ (Local Self-Government)

(رگ) (صف) مقامی حکومت کو  
انتخابی ڈسٹرکٹ بورڈ اور ڈسٹرکٹ کیٹیاں۔ بلدیات۔  
لوکنا۔ (لوک۔ نا) (ع۔ ۱۔ مٹھ) جلی جھلنا۔  
لوکھڑی۔ (لوکھ۔ ڈی) (ع۔ ۱۔ مٹھ) لومڑی۔  
لوکی۔ (لو۔ کی) (ع۔ ۱۔ مٹھ) کدو۔ لبا لگیا۔  
لوگ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) بنی نوع انسان۔ بہت سے آدمی۔ اشخاص۔ جماعت۔  
لوگ ہاگ۔ عوام۔ عام لوگ۔  
لولا۔ (لو۔ لام۔ ع۔ ۱۔ مٹھ) لولا۔ جس کے ہاتھ پیر نہ ہوں۔  
(د) پیروں سے ابا ناچ۔ لنگڑا۔ (د) لنگڑا اور لنگڑا۔ ہاتھ پاؤں  
سے معذور۔ اپناچ۔ لنگڑا۔  
لولاسی۔ (لو۔ لاسی) (ع۔ ۱۔ مٹھ) پھولوں کی پھیریاں جو سالیانہ  
دو گھنٹوں روز رات ہی ہیں جب وہ پہلی دفعہ زمانہ مکان  
میں جاتا ہے۔  
لولا۔ (لو۔ لو۔ ع۔ ۱۔ مذ) موتی۔ مروارید۔ گوہر۔ جمع۔ لالی۔  
لوکو۔ (لو۔ لو) (ع۔ ۱۔ مذ) بچوں کا آدھرتنا سل۔ پھینو۔  
لوکو۔ (لو۔ لو) (ع۔ ۱۔ مذ) ایک فزنی ڈراؤنی چیز جس سے  
بچوں کو ڈراتے ہیں۔ جہا (د) ایران کی ایک خوبصورت قوم  
گرہمی (د) [ار۔ صف] بیوتوت۔ احمق (د) پاگل۔ سوداگی۔  
جھلی۔ دیوانہ۔ بازلا۔  
لوکو بنانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) احمق بنانا۔ پاگل بنانا۔  
لولی۔ (لو۔ لی) (ع۔ ۱۔ مٹھ) کینچی۔ رندی۔ ناچنے والی  
عورت۔  
لولی فلک۔ لولی گردوں۔ (ع۔ ۱۔ مٹھ) زہرہ۔ ایک مشہور  
ستارہ۔  
لو لین۔ (لو۔ لین) (ع۔ ۱۔ صف) محو۔ مستغرق۔ کسی خیال میں  
ڈوبا ہوا۔  
لو مٹھ۔ (لو۔ مٹھ) (ع۔ ۱۔ مٹھ) ملامت۔ ملامت کرنا۔  
لو مٹھ لایم۔ ملامت کرنے والے کی ملامت کرنا۔ رسوائی۔  
لو مڑی۔ (لو۔ مڑی) (ع۔ ۱۔ مٹھ) روباہ۔ پتی کے قدر کے  
برابر ایک جنگلی مہاندر۔ (د) کنائیتاً عیار۔ مکار۔ فرضی۔  
لو مڑی کے شکار کو جائیے تو شکار کا سامان کر لیجیے۔ (ع۔ ۱۔ مٹھ)  
سمولی سے کام کے لیے بھی کافی انتظام چلے۔  
لون۔ (ع۔ ۱۔ مذ) رنگ (د) چہرے کی رنگت (زردی)  
سُڑی (سفیدی)۔  
لون۔ (ع۔ ۱۔ مذ) نمک۔ کھار۔ لون۔ (لو۔ لون) (ع۔ ۱۔ مٹھ) بھی صحت سے  
لون مرج لگانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) (ع۔ ۱۔ مٹھ) ہات کو بٹھکا کر بیان  
کرنا۔ حاشیہ چڑھانا۔ بھڑکانا۔  
لونا۔ (لو۔ نا) (ع۔ ۱۔ صف) [د] سونا۔ نمکین (د) کھاری شور۔ گرٹوا۔  
(د) [ع۔ ۱۔ مٹھ] وہ کھا رجو دیار دل یا زمین میں پیدا ہو جاتا ہے۔

**لُونار** - (لُو۔ نار) [ہ۔ ۱۔ ۱۔ مذ] ۱) شور مگی زمین۔ وہ زمین جس میں گھاؤ (۲) وہ جگہ جہاں نمک بنایا جاتا ہے۔  
**لُونب** - (لُو۔ ن) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ۱) ٹوٹی۔  
**لُونبِز** - (لُو۔ ن) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ۱) لمبا۔ طویل القامت (۲) احمق۔ بے وقوف۔  
**لُونجی** - (لُو۔ ج) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] ۱) کچے آموں کی پھانوں کا اچار۔  
**لُونڈ** - (لُو۔ ڈ) [ہ۔ ۱۔ مذ] وہ مہینہ جو ہر مہینے کے سال شمسی حساب سے بڑھایا جاتا ہے۔ اس کو لوند کا مہینہ بھی کہتے ہیں (۲) لکنا پتھر [زیادہ۔ فاضل۔  
**لُونڈا** - (لُو۔ ڈ) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) ڈالا۔ ڈھیلا (۲) گندھی ہوئی سٹی یا مکھن وغیرہ کا ڈالا (۳) گندھی۔  
**لُونڈا** - (لُو۔ ڈ) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) لڑکا۔ چھوٹا۔ وہ لڑکا جس کے ڈاڑھی بچے نہ نکلی ہو (۲) بیٹا (۳) غلام (۴) کام کاج کرنے والا لڑکا (۵) یار۔ مفعول۔ بد فعلی کرانے والا لڑکا (۶) لکنا پتھر [نادان اور تجزیہ کار۔ (۷) سفید چھوٹا  
**لُونڈاپن** - (لُو۔ ڈ) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) چھوٹاپن۔ لڑکپن (۲) سفید پن۔ چھوٹاپن۔  
**لُونڈر** - (Lavender) [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک قسم کی خوشبودار گھاس (۲) ایک قسم کا انگریزی عطر  
**لُونڈوں** کھدیر کی (گھیر کی)۔ وہ عورت جو نوجوانوں کی تلاش میں سڑ۔  
**لُونڈوں ہانی** - (ہ۔ ۵۔ صفت۔ مٹ) لڑکوں سے محبت رکھنے والی عورت۔ لڑکوں سے صحبت رکھنے والی عورت۔  
**لُونڈی** - (لُو۔ ڈی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] ۱) کبوتر۔ باندی (۲) خدمت کرنے والی خادمہ۔ تہلنی۔ (۳) بیٹھ۔ فرما بورد (۴) احسان مند۔  
**لُونڈی** اور کے پیر دھوئے اپنے پیر دھوئی لجا تے۔ (۱) بیٹل۔  
**لُونڈوں** کا کام کرنا گرا پنا کام کرتے ہوئے مرنانا۔  
**لُونڈی جیہ** - (ہ۔ ۱۰۔ مذ) وہ شخص جو باندی کے پیٹ سے جو۔  
**لُونڈیا** - (لُو۔ ڈیا) [ہ۔ ۱۰۔ مٹ] لڑکی۔ چھوٹی (۲) بیٹی۔ دختر۔  
**لُونڈی** کو لُونڈی کہا رو دی، بیوی کو لُونڈی کہا تہنس حسی۔ (۱) بیٹل۔  
**لُونڈی** کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور ذلیل کا کم۔  
**لُونڈی** کی خوشامد سے سسرال میں باس۔ (۱) بیٹل، نوکر اور خادموں کو خوش رکھنے سے مالک بھی خوش رہتا ہے۔  
**لُونڈی** ہو کے کمانا بیوی ہو کے کھانا۔ (۱) بیٹل، محنت سے مار ڈرنے والا امیرانہ زندگی بسر کرتا ہے۔  
**لُونڈے باز** - (ہ۔ ۱۰۔ صفت) اِغلام کرنے والا۔ بچہ باز۔ لُوٹی۔  
**لُونڈے بازی** - (ہ۔ ۱۰۔ مٹ) اِغلام۔ لواطت۔  
**لُونڈے لارڈیے** - (ہ۔ ۱۰۔ مذ) ناجزیہ کار بچے۔  
**لُونگ** - (ہ۔ ۱۰۔ مٹ) ۱) قرض۔ ایک خوشبودار وخت کی کلی جو نہایت نیر اور خوشبودار ہوتی ہے (۲) ناک کا ایک زیور جو لونگ کی شکل کا ہوتا ہے۔ ناک کی کیل۔

**لُونگ چڑے** (لُونچڑے) بمیں کی پھکیاں۔ بمیں کی اسپیش سے بنائے ہوئے کباب۔  
**لُونی** - (لُو۔ نی) [ہ۔ ۱۰۔ صفت] ۱) شور۔ کھار۔ (۲) وہ نمکین مٹی جو دیواروں سے بھرتی ہے۔  
**لُونی لگنا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) دیوار میں شور لگنا۔  
**لُونیا** - (لُو۔ نیا) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) ایک قسم کا ساگ جو نمکین اور ترش ہوتا ہے (۲) نمک بنانے والا (۳) نمک فروش۔ نمک کی سوداگری کرنے والا۔  
**لُوہ** - (لُو۔ ہ) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) لوہا۔ آہن۔  
**لُوہ پھنگڑی** - (ہ۔ ۱۰۔ مٹ) ایک قسم کی پھنگڑی۔  
**لُوہ پھون** - (ہ۔ ۱۰۔ مذ) لوسے کا پھون۔ برادہ آہن۔  
**لُوہ** - (لُو۔ ہ) [ہ۔ ۱۰۔ مذ] ۱) آہن۔ جدید (۲) گنا پتھر [مضبوط۔ سخت بھاری (۳) تلوار۔  
**لُوہ بجاتا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) نیک زنی کرنا۔ تلواروں سے لڑنا۔  
**لُوہ برسنا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) تلوار چلنا۔ کشت و خون ہونا۔ جنگ ہونا۔  
**لُوہ تیز ہونا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) ۱) تلوار یا پھری کا تیز ہونا۔ (۲) قابو چلنا۔ زور چلنا (۳) خفا ہونا۔ بگڑنا۔ غالب ہونا۔  
**لُوہ جلنے** لوہا جلانے دھونکنے والے کی بلا جانے۔ (۱) بیٹل۔ اپنے معاملے کو تو فریقین ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں دوسرے کو کیا خبر۔  
**لُوہ ویشا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) کپڑے کو استری کرنا۔  
**لُوہ لالٹھ** - (ہ۔ ۱۰۔ صفت) ۱) نہایت مضبوط۔ بہت سخت (۲) مشکل لایریا ردیف کے اشعار۔  
**لُوہ لوٹ جانا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) تلوار کا ٹیڑھا ہونا (۲) وار خالی ہونا (۳) (۳) لکنا پتھر [کام بگڑ جانا۔ نصیب بگڑ جانا۔  
**لُوہ مان جانا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) کسی کی دلیری و شجاعت یا سنگدل کا قائل ہونا۔ (۲) کسی کو اپنے سے بڑا ماننا۔ کسی کی اُستادی کا قائل ہونا۔  
**لُوہار** - (ہ۔ ۱۰۔ مذ) لوسے کی چیزیں بنانے والا۔ آہن گر۔  
**لُوہار خانہ** - (ہ۔ ۱۰۔ مذ) جس جگہ لوہار کام کرتے ہیں۔  
**لُوہڑی** - (ہ۔ ۱۰۔ مٹ) دیکھیے لُوڑھی۔  
**لُوہو** - (ہ۔ ۱۰۔ مذ) لوسے کی قدیم صورت۔  
**لوسے ٹھنڈے ہو گئے** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) حوصلہ پست ہو گیا۔ اُمتگ غالب ہو گئی۔ امانہ جانا رہا۔  
**لوسے کا پانی** - (ہ۔ ۱۰۔ مذ) تلوار کی آب۔  
**لوسے کا دل** - (ہ۔ ۱۰۔ صفت) نڈر۔ سخت دل۔  
**لوسے کی چھاتی کر لینا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) ۱) پیڑ کا جگر کر لینا۔ دل سخت کر لینا۔ (۲) مصیبت سمجھنے کا جوڑ جو جانا۔  
**لوسے کے چینے** - (ہ۔ ۱۰۔ مذ) سخت اور مشکل کام۔  
**لوسے کے پتے چھانا** - (ہ۔ ۱۰۔ محاورہ) سخت اور مشکل کام کرنا۔

ترنگہ۔ (۳) وجد۔ حال (۴) دہم۔ خیال (۵) دیوانی۔ سوداگری۔ جنون (۶) کسی مرض یا زہر وغیرہ کا دورہ۔ مہلک (۷) سوزش۔ جلن۔ تیزی۔ ٹیس۔ چمک (۸) خواہش۔ جماع۔ خوستی (۹) کشیدہ کی دھاری۔ بیل۔ (۱۰) ہرے پودوں کی تیش۔ بلہماہٹ (۱۱) دھیان۔ کسی کی یاد یا خیال کا دل میں آنا۔ (بیخ اول دروم بھی صحیح ہے) لہر آنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱) موج آنا۔ تامل ہونا (۲) تصور بندھنا۔ خیال آنا۔ (۳) شوق پیدا ہونا (۴) زہر کے اثر سے پیچ قاب کھانا۔ لہر اٹھنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱) موج کا اوجھا ہونا۔ ترنگ آنا (۲) جوش اٹھنا۔ شوق پیدا ہونا (۳) ارادہ ہونا۔ خیال پیدا ہونا۔ (۴) ٹیس اٹھنا۔ لہر اڑانا۔ (۱- محاورہ) تان لگانا۔ مڑکھانا (۲) پیہم مارنا۔ متواتر پھینکنا۔ لہر بہر۔ (۱) نحو شمالی۔ خوش آتیالی (۲) کسی چیز کی افراط۔ لہر بہر ہونا۔ (۱- محاورہ) روپے پیسے کی طرف سے فارغ الجالی ہونا۔ اقبال یا ور ہونا۔

لہر چٹھنا۔ (۱- محاورہ) ۱۱) پانی کا زور پر ہونا (۲) زہر کا اثر کرنا۔ لہر چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) مستی چھوٹنا۔ جماع کو جی چاہنا۔ لہریں گنتنا۔ (۱- محاورہ) وقت ضائع کرنا۔ بگاڑ رہنا۔ تیسع اوقات کرنا۔ لہریں لینا۔ (۱- محاورہ) لہرانا۔ چھوٹنا۔ ہٹنا (۲) دریا کا موسم مارنا۔ لہرا۔ (دک۔ را) [دھ۔ ا۔ ڈ] [د] جلتی ہوتی ہے۔ طبیعت میں جوش پیدا کرنے والی سڑ۔ سازگی کی ایک گت (۲) سڑ۔ آواز۔ ٹے۔ تمانہ۔ غنہ۔ (۳) لکنا یا جو تیاں مارنا۔ تڑا تڑ مارنا۔

لہرا اڑانا۔ (۱- محاورہ) سڑی آواز سے گانا۔ (۲) غیب مارنا۔ لہرانا۔ (دک۔ را۔ نا) [دھ۔ م۔ ص] [موج مارنا۔ پانی کا لہریں لینا۔ (۳) بلہما ہٹنا۔ جبیش کرنا (۳) اڑنا (۴) خود لے بھرنے لپھانا۔ مائل ہونا (۴) سانپ کا چبنا۔

لہری۔ (دک۔ ری) [دھ۔ صفت] [د] تڑنگی۔ موجی۔ دل چلا۔ خود سر زندہ دل۔ ظریف۔ بھٹھول۔ خوش مزاج۔

لہریا۔ (دک۔ ری۔ یا) [دھ۔ صفت] [د] لہر دار۔ دھاری دار (۲) [دکنا] ایک قسم کا لہرا، جس میں آڑی ترچی دھاریاں ہوتی ہیں۔ لہسن۔ (دک۔ سن) [د] [دنا] دیکھ لسن۔ پیاز سے مشابہ ایک ترکاری جو ہنڈیا میں بطور مصالحہ استعمال ہوتی ہے۔ لہسنیا۔ (دک۔ سن۔ یا) [دھ۔ صفت] [لہسن کے رنگ سے مشابہ ایک مین قیمت جواہر۔ لہسن کا سا۔ لہسن سے متعلق۔

لہکت۔ (ل۔ ہکت) [دھ۔ ا۔ مٹ] [د] [د] شکل۔ لاسٹ (۲) بلہماہٹ۔ ہمار جوین۔ (۳) چمک۔ (۴) خوشبو جو ہوا کے ساتھ پھیلے۔

لہک لہک کر۔ (۱- تابع فعل) بھوم بھوم کر۔ خوش ہو کر۔ لہک لہک کرنا۔ (دک۔ کار۔ نا) [دھ۔ م۔ ص] [اچکا کرنا۔ نچکی دینا۔ لہکنا۔ لہکوں سے وغیرہ کو

لہکانا۔ (دک۔ کا۔ نا) [دھ۔ م۔ ص] [د] بھرنا۔ لہکانا۔ لہکانا (۲) لہکانا۔

لوہے میں ڈوبا ہونا۔ (۱- محاورہ) پوری طرح مٹ جونا۔ لوہیا۔ (دک۔ یا) [دھ۔ ا۔ صفت] [لوہے کی چیزیں جینے والا (۲) [صفت] [لوہے کا۔ لوہے کا بنا ہوا۔

لوئر۔ (Lower) [انگ۔ ا۔ صفت] [د] چوٹا۔ ادنیٰ بگھٹیل (۲) ماتحت (۳) ابتدائی۔

لوئر پرائمری (Lower Primary)۔ پہلی تاپا پانچویں جماعت۔ لوئر سکول۔ (انگ۔ ا۔ مذ) ابتدائی سکول۔ چھوٹا سکول۔ لوئر کلاس۔ (انگ۔ ا۔ مٹ) [د] ابتدائی جماعت۔ چھوٹا درجہ (۲) پچھلا طبقہ۔

لونی۔ (لن۔ اینی) [دھ۔ ا۔ مٹ] [د] ادنیٰ چادر (۲) گندھے ہوئے آٹے کا پٹا۔

لونی آڑنا۔ (۱- محاورہ) بے عزت ہونا۔ لوسے دل۔ (دھ۔ ا۔ و) [د] اوپر کو (۲) قریب۔ نزدیک۔ لوسے لگانا۔ (۱- محاورہ) یقین ہونا۔ اعتبار ہونا (۲) پاس آنا۔ قریب آنا۔ لوہیں پھرننا۔ (۱- محاورہ) نزع کی حالت میں کان کی لوہیں پھرننا۔

## ل۔ و

لہبار۔ (دل۔ بار) [دھ۔ ا۔ مذ] نشہ (۲) لہر۔ لہبار۔ (دل۔ بار) [دھ۔ ا۔ مذ] لہبار کا محقق۔ لہبارا۔ (ل۔ بار۔ ا) [دھ۔ ا۔ صفت] [نا و ہند۔ لین دین کا کھوٹا۔ لیکر نہ دینے والا۔

لہباس۔ (دل۔ باس) [دھ۔ ا۔ مذ] [د] موٹا رتہ (۲) جہاز کا رتہ (۳) بٹا ٹوکرا۔ بھال۔

لہباسی۔ (لن۔ باسی) [دھ۔ ا۔ مٹ] [د] کشتی کھینچنے کی چھوٹی رسی۔

لہبان۔ (لن۔ بان) [دھ۔ ا۔ صفت] [نخون آگود۔ لوسے بھڑکا ہوا۔ یہ لفظ لہو کے ساتھ بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے جیسے لہو بان۔

لہباؤ۔ (لن۔ با۔ او) [دھ۔ ا۔ مذ] [د] چھپلے۔ بخرنے۔

لہبہر۔ (دک۔ بر۔ ہ) [دھ۔ ا۔ مذ] [د] [د] پورے۔ لہباؤ۔ جبہ (۲) ایک قسم کا دراز قد طوطا۔ (۳) چھڑ۔ نیزہ۔ علم۔ بھندا۔ نشان۔

لہبٹا۔ (لن۔ ہٹ۔ نا) [دھ۔ م۔ ص] [طبیعت کا مائل ہونا۔

لہبجہ۔ (دک۔ بجہ) [دھ۔ ا۔ مذ] [د] الفاظ کی آواز۔ تلفظ کلام (۲) زبان۔ محاورہ۔ بول چال (۳) طرز کلام۔ انداز گفتگو۔ (۴) لے۔ سڑ۔ لہجوں۔ (دک۔ بچون) [دھ۔ ا۔ مذ] [د] لہجوں کا محقق۔ لوہے کا بڑا وہ۔ لہڈا۔ (لے۔ ہ۔ نا) [دھ۔ ا۔ صفت] [اسی واسطے۔ اسی لیے۔ پس۔ الحاصل۔ الغرض۔ التفصہ۔

لہر۔ (دھ۔ ا۔ مٹ) [د] پانی کی موج۔ تلاطم۔ جوار۔ بھاٹا (۲) اُننگ۔

اٹھانا۔ بہت محنت و مشقت اٹھانا۔

لہو پی کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) غصے کو ضبط کرنا۔ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جانا۔ جی ہی جی میں جلنا۔

لہو پیٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون پینا۔ خون چوسنا۔ (۲) تکلیف دینا۔ تھاق دق کرنا (۳) قتل کرنا۔ جان لینا۔

لہو پیٹو۔ [ق] لہو پیٹنے والا۔

لہو نرنگ۔ (۱- مذا ایسا نغمہ جس میں خون دل شامل ہو۔

لہو نھوکتا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون کی تھک کرنا۔ پھیپھڑے میں زخم کی وجہ سے منہ سے لہو آنے لگنا۔ (۲) تپ دق کا مرعین ہونا۔

لہو ٹپکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) لوگرنا۔ لہو پیٹنا (۲) نہایت سرخ و سفید ہونا۔ (۳) کسی جلدی مرض کے سبب جسم سے خون بہنا۔ کوڑھ ہو جانا۔ (۴) غصے سے آنکھیں سرخ ہو جانا۔

لہو جوش کھانا۔ (۱- محاورہ) خون کا جوش کھانا۔

لہو چاٹنا۔ (۱- محاورہ) لہو کا مزہ لینا۔ تلوار یا خنجر وغیرہ سے قتل کرنا۔ لہو چڑھنا۔ (۱- محاورہ) قاتل کی حرکات سے قتل کا اندازہ ہونا۔

لہو خشک ہونا۔ لہو سوکھ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون سوکھ جانا (۲) ڈر جانا۔ غم یا خوف سے جسم میں خون نہ رہنا۔ (۳) خوف کے مارے دم فنا ہونا۔

لہو وینا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون چھوڑنا (۲) فصد کھولنے وقت رگ سے خون نکلنا۔

لہو رونا۔ (۱- محاورہ) بہت رونا۔

لہو سفید ہو جانا۔ (۱- محاورہ) محبت نہ رہنا۔ مروت نہ رہنا۔ ہمدردی نہ رہنا۔

لہو کا پیا سا۔ (۱- صفت) جانی دشمن۔ جان کالا گور۔

لہو کا جوتشش۔ (۱- مذ) ماتنا۔ ماوری محبت۔ ایک خون ہونے کی محبت

لہو کا گھونٹ پی کر رہ جانا۔ (۱- محاورہ) غم و غصہ ضبط کرنا۔

لہو کا ہلکا۔ (۱- مذ) (۱) لطیف اور صاف خون والا۔ وہ شخص جس کا خون جلد اثر قبول کرے (۲) نہایت نرم دل (۳) وہ شخص جو کسی کا صدر پر خون دیکھ کر غش کھا جائے۔

لہو کٹنا۔ (۱- محاورہ) دیکھنے لہو آنا۔

لہو کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون میں ڈوبنا۔ (۲) دکھ دینا۔ عیش تلخ کرنا۔ لہو کی دھار چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) لہو کا دھارا بندھ کر کٹنا۔

لہو کی قسم دینا۔ (۱- محاورہ) لہو کا واسطہ دے کر قسم کھانا۔

لہو کی ندیاں بہانا۔ (۱- محاورہ) بہت خونریزی کرنا۔ لہو کے سے گھونٹ پلینا۔ (۱- محاورہ) غم کھانا۔ (۲) سخت تکلیف یا صدر اٹھانا۔ غصے کو مار کر رہ جانا۔ کمال ضبط کرنا۔ اُت نہ کرنا۔

لہو کھوٹنا۔ (۱- محاورہ) صبر کرنا۔ ضبط کرنا۔

لہو لگا کر شبیدوں میں (داخل ہونا) ہلنا۔ (۱- مثل) ذرا سا کام کر

آگ دہکانا۔ (۳) چمکانا۔ اُجھلانا۔ میتھل کرنا۔ (۴) آواز گونانا (۵) کسی پر بند کھولنا۔

لیکن۔ (۱- لکھنا) (۲) مص [چمکانا] چمکانا۔ نغمہ سرا ہونا (۳) بھرنے۔ جلنا۔ دیکھنا۔ مشغل ہونا (آگ کا) (۳) لکھنا۔ لہانا (۴) چمکانا۔ روشن ہونا۔

لیکلوٹ۔ (۱- لکھنا) (۲) صفت [۱] ناوہند (۲) بقیار۔ بنے ناسا۔

لیلہ بانا۔ (۱- لکھنا) (۲) مص [چھوٹنا] ہوا سے ہلنا۔ سبزہ کھیت۔ (۳) تروڑنا ہونا۔ چھوٹنا۔ چلنا۔

لہلہا ہٹ۔ (۱- لکھنا) (۲) ہٹ [۱] مرشد [۱] حکمت کے ہوا سے بٹنے کی کیفیت (۲) سرسری شاولی۔

لہن۔ (۱- مذ) وہ اجزا جنہیں عمیر کے شراب کہتے ہیں۔

لہنا۔ (۱- لکھنا) (۲) نغمہ۔ (۳) قسمت۔ نصیب۔ بھاگ۔ بخت۔ بہرہ (۲) نادمہ۔ نفع۔ حاصل۔

لہنا بہنا۔ (۱- مذ) (۱) قسمت کا سا بھاگنا۔ (۲) حاصل حصول۔ (۳) نصیب۔

لہنگا۔ (۱- مذ) دیمائی عورتوں کا غرارہ۔ گلگرا۔

لہنگا پھینا۔ (۱- محاورہ) (۱) زنانہ لباس پھیننا۔ عورت کا بھیس لینا۔ (۲) [ظن] چوڑیاں پھیننا۔ عورت بن جانا۔

لہو۔ (۱- لکھنا) (۲) لہو [۱] مذ لہو کا مخفف۔ خون۔ دم۔ ایک خلط۔ (۲) اپنی جگہ سے ایک باپ دادا کی اولاد۔ (۳) لگنا یا بہت سرخ۔

لہو آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون کے دست آنا۔ (۲) خون نکلنا۔

لہو اُترنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون جمع ہو جانا۔ (۲) آنکھوں میں غصے کی وجہ سے (۲) سخت غصہ آنا۔

لہو اُگنا۔ (۱- محاورہ) خون ٹھونکنا۔

لہو اُونٹنا۔ (۱- محاورہ) غم و غصہ کے سبب خون جوش میں آنا۔ لہو برسنا۔ (۱- محاورہ) خونریزی ہونا۔ غصے کی حالت میں آنکھیں سرخ ہونا۔ نہایت خونریزی ہونا۔

لہو بگڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون میں فساد آجنا (۲) کوڑھ ہو جانا (۳) آتشک ہو جانا۔

لہو بن کے دوڑنا۔ (۱- محاورہ) رگ و پے میں سرایت کر جانا۔

لہو بولنا۔ (۱- محاورہ) قتل کا ثبوت ہونا۔ خون کا ثبوت ہل جانا۔

لہو بہانا۔ (۱- محاورہ) (۱) خون نکلنا (۲) جان سے مار ڈالنا۔ قتل کرنا۔ (۳) جان دینا۔ ہلاک ہونا (۴) قتل خونریزی کرنا۔

لہو پانی پسیبہ ایک کرنا۔ لہو پانی کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) لگنا یا کسی کام میں سخت محنت اٹھانا (۲) بے حد رنج اٹھانا۔ اپنے آپ کو بے حد تکلیف دینا۔ (۳) ناراض ہونا۔ بگڑنا۔ غصہ کرنا۔ (۴) کسی کو سخت تکلیف دینا۔ ستانا۔

لہو پانی کرنا۔ (۱- محاورہ) رنج و غصہ میں مبتلا کرنا۔ (۲) بہت رنج

لے بڑھتا۔ پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) چسکا لگنا۔ عادت پڑنا۔ مزہ پڑنا۔  
 لے بھول جانا۔ (۱۔ محاورہ) عادت بھول جانا۔ (۲) سٹی گم ہو جانا۔  
 لے چھانا۔ (۱۔ محاورہ) آواز کا گونج جانا۔ کسی مقام میں کینیت طاری  
 ہونا۔  
 لے لینا۔ (۱۔ محاورہ) گانا۔ الاپنا۔  
 لے میں ڈوبی ہوئی آواز۔ (۱۔ مٹ) وہ آواز جو اصول موسیقی کے  
 مطابق نہ ہو۔  
 لے۔ (۵) یا بے بھول سے۔ ۱۔ نفل۔ بیباک امر (۱۱) پکڑ۔ گرفت کر (۲) نبھالنا۔  
 نالوں کو (۳) زحمت نذا و جہت امتیاز ہو۔ سن۔ جان۔ آگاہ ہو۔  
 دیکھ۔ (۴) تابع فعل آسے کر۔ ساتھ لے کر۔ کرنات کے شروع میں  
 استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لے بھاگ۔ لے آؤ وغیرہ۔  
 لے آنا۔ (۱۔ محاورہ) کوئی چیز اٹھا لانا۔ (۲) بھاگ کر کسی کو ہمراہ لانا (۳) باہر سے  
 لانا (۴) دوسرے مقام سے لانا۔  
 لے اڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لے کر بھاگ جانا (۲) بھڑکا دینا۔ تیز کرنا۔ (۳)  
 نشتے میں ہونا۔ نشتے میں ہوش و حواس کھو دینا۔ مزہ دو بلا کر دینا۔  
 (۴) رونق بڑھا دینا (۵) لے جانا۔ ہتھیار دینا (۶) نقل اڑا لینا (۷) طرز  
 حاصل کر لینا۔ (۸) ہانت کا ہتھیار بنا دینا۔  
 لے بھاگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی چیز کو لے کر فرار ہو جانا۔ لے کر چل دینا۔  
 (۲) بھاگ کر لے جانا۔ (۳) کسی کی طرز اڑا لینا۔  
 لے بھاگو۔ (۱۔ صفت) (۱) طرز اڑا لینے والا (۲) وہ شخص جس نے بغیر  
 اسناد کے کوئی کام اہمیتا کر لیا ہو۔ بے اسناد۔ عطائی  
 لے بھٹی۔ (۱۔ تابع فعل) میں کہتا ہوں۔ سنو یا۔ (۲) بڑا خوبصورت۔  
 لے بلٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) لے ڈوبنا۔ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی تباہ  
 برباد کر دینا۔ (۲) اپنے ساتھ کرنا (۳) کسی عورت کو گھر میں ڈال  
 لینا۔  
 لے پالک۔ (۱۔ صفت) متبہنی۔ گود لیا ہوا۔ وہ بچہ جسے لے کر پال  
 لیا گیا ہو۔  
 لے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) ساتھ لے کر لیٹ جانا۔ ساتھ لے کر گہ پڑنا۔  
 لے جانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلے جانا۔  
 لے دوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) بے مترغ اور بے ڈھنگے طریقے سے بیان  
 کرنا۔ (۲) ساتھ لے کر دوڑنا۔  
 لے دے۔ (۱۔ مٹ) (۱) لینا وینا (۲) کبھی لینا کبھی دینا (۳) دوڑ  
 ڈھوپ۔ جدوجہد۔ کوشش (۴) سرزنش۔ لعنت۔ ملامت۔ لٹا  
 لے دے کر (دے کر)۔ (۱۔ تابع فعل) بڑی محنت اور کوشش سے  
 بشکل (۲) بے باق کر کے دے دلا کر۔ کاٹے کاٹے بانٹ پٹ  
 کے (۳) صرف۔ فقط۔ مکہم۔  
 لے دے کرنا۔ (۱۔ محاورہ) خوب کوشش کرنا۔ جدوجہد کرنا۔ (۲)  
 سرزنش کرنا۔ لعنت ملامت کرنا۔ ڈانٹنا۔ (۳) مار پیٹ کرنا۔  
 لے دے ہونا۔ (۱۔ محاورہ) نقل و حرکت پر لٹا ہونا۔

کے اپنے آب کو بڑوں میں شمار کرنا۔ کسی کام میں غور و تامل  
 ہو کر اپنا نام کرنا۔  
 لٹو لٹان۔ (۱۔ صفت) خون آلودہ۔ خون میں لخترا ہوا۔  
 لٹو لٹان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ایسا زخمی کرنا کہ تمام بدن خون آلود ہو جائے  
 لٹو لینا۔ (۱۔ محاورہ) خون لینا۔ فصد کھولنا۔ فصد کھلوانا۔  
 لٹو پٹنا۔ (۱۔ محاورہ) میل جول ہونا۔ اتحاد ہونا۔  
 لٹو میں تھانا۔ (۱۔ محاورہ) بہت زخمی ہونا۔  
 لٹو میں ہاتھ زنگنا۔ (۱۔ محاورہ) خون کرنا۔ قتل کرنا۔ (۲) کسی کے  
 خون سے ہاتھوں کو رنگین کرنا۔  
 لٹو ہو کر بہرہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) دل وجگر کا خون ہو کر بہہ جانا۔ (شاعرانہ)  
 نچیل ہے۔  
 لٹو ہونا۔ (۱۔ محاورہ) مجروح ہونا۔ زخمی ہونا (۲) سُرخ ہونا۔ لال ہونا  
 لٹو۔ (۱۔ مکہ کر اکیل۔ بازی۔  
 لٹو و لٹیب۔ (ع۔ ۱۔ مکہ لٹیل کو۔ سیر و تفتاح۔ عیش و نشاط و تفریح۔  
 ہنسی۔ مذاق۔  
 لٹوا۔ (۱۔ ذ۔ ۱) (۱) لٹو لٹو۔ تلوار۔  
 لٹو اچا پٹا۔ (۱۔ محاورہ) لٹو اچا پٹا۔ بہادری دکھانا۔  
 لٹو اور۔ (۱۔ ذ۔ ۱) (۱) لٹو اور۔  
 لٹو پٹو۔ (۱۔ ذ۔ ۱) (۱) لٹو پٹو۔ (۱) مٹا لٹو پٹو کے ذریعے نئی جگہ  
 سے اچھی جگہ (دکیت وغیرہ) میں پائی پہنچانا۔

ل۔ و۔ ل۔

لٹی۔ (۱۔ صفت) بہت۔  
 لٹیے۔ (۱۔ تابع فعل) واسطے۔ اس غرض سے۔  
 لٹیے بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) فصد کرنا۔  
 لٹیے پھرتا۔ (۱۔ محاورہ) بار بار ذکر کرنا۔ بار بار کہنا۔ (۲) ساتھ لے کر  
 چلنا۔  
 لٹیق۔ (۱۔ ل۔ ۱) (۱) لٹیق۔ صفت آلتق۔ قابل۔  
 لٹییم۔ (۱۔ ل۔ ۱) (۱) لٹییم۔ صفت [۱] وہ بخوش جوتہ خود کھائے، نہ دوسروں  
 کو دے (۲) کینتہ سفید۔  
 لٹییم الطبع۔ (ع۔ صفت) وہ شخص جس کی طبیعت میں بخوشی اور حسرت ہو۔

ل۔ و۔ ل۔

لے۔ (۱۔ مٹ) (۱) آواز بھر آہنگ۔ لمن۔ ہمیر (۲) شوق۔ آرزو۔  
 تفتا۔ (۳) دھن۔ رٹ (۴) تسلسل۔ سلسلہ۔

کوشش ہونا۔

لے ڈالنا۔ (۱) محاورہ) شامل کر لینا (۲) تباہ کر دینا (۳) عاجز کر دینا۔ بڑا حال کروینا۔

لے وینا۔ (۱) محاورہ) دلو اوینا۔ خرید لینا۔ مول لے وینا۔

لے ڈوبنا۔ (۱) محاورہ) اپنے ساتھ دوسرے کو بھی ڈوبوینا۔ (۲) اپنے ساتھ دوسرے کو بھی نقصان پہنچانا۔

لے کر (کے) بیٹھنا۔ (۱) محاورہ) بیان کرنا۔

لے کے چاٹنا۔ (۱) محاورہ) جب کوئی چیز بیکار ہوتی ہے یا وہ دینے سے انکار کرے تو اس کی نسبت کہتے ہیں۔

لے ٹوٹ۔ (۱) صفت) قرض لے کر نہ دینے والا۔ ناوہند۔ لے کر نکر جانے والا۔ لیچٹ۔

لے لے جونا۔ (۱) محاورہ) اعتراضات جونا۔

لے لینا۔ (۱) محاورہ) (۱) چھین لینا۔ مار لینا۔ (۲) خرید لینا۔

اِنکار لینا۔ (۳) شہال لینا۔ قانون کر لینا (۴) واپس کر لینا۔ پھیر لینا (۵) جا پھینچنا۔ منزل طے کر لینا۔ (۶) جا لینا۔ پکڑ لینا (۷) ہم

پہنچانا۔ حاصل کر لینا۔

لے مرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) لے ڈوبنا۔ لے بیٹھنا۔ اپنے ساتھ دوسرے

کو بھی نقصان پہنچانا۔ (۲) الزام دھرنا۔ چوری لگانا۔ (۳) دبا لینا۔

مار لینا۔ (۴) حاصل کر لینا۔ کما لینا۔

لیئے۔ (بی۔ بی۔) (۱) حرکت مارا واسطے۔ برائے (۲) مفعول جمع مذکر کی صورت میں لیا کے بجائے (۳) تکمیل فعل کے لیے جیسے کیا آپ نے انگو رکھا ہے۔ (۴) [تابع فعل] لیے ہوئے ہے کہ۔

لیا بیا۔ (بی۔ بی۔) (۱) اعمال کا نتیجہ۔ کرنی کا پھل۔ وہ نیک جرمی کی جو۔ لیا دیا آگے آجانا۔ (۲) محاورہ) نیکی بڑی کا نتیجہ ملتا۔ کرنی کا پھل ملنا۔

لیاقت۔ (ل۔ یا۔ ق۔ ت۔) (۱) صفت) قابلیت۔ استعداد (۲)

وصفت جو بر۔ خوبی۔ عمدگی (۳) دانائی۔ ہوشیاری (۴) کسی

چیز کے حاصل کرنے کا مادہ (۵) شائستگی۔ تمیز (۶) حوصلہ (۷)

ظرف۔ مقدور۔ مقدرت۔

لیا گیا۔ (۱) محاورہ) (۱) شرمندہ ہوا۔ رسوا ہوا۔ ذلیل ہوا۔

لیا ہی نہیں جاتا۔ (۱) محاورہ) متانے نہیں مانتا۔ سنبھالے نہیں

سنبھلتا (۲) دھو کر نہیں کھاتا۔

لیا بی۔ (بی۔ بی۔) (۱) صفت) رائیں۔ لیل کی جمع۔

لیا م۔ (بی۔ بی۔) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹا۔ (بی۔ بی۔) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹا ٹھارا۔ (بی۔ بی۔) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیبارٹری۔ (Laboratory) (بی۔ بی۔) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیگ۔ (۱) صفت) وہ کمرہ جہاں سائنس کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ دارالتجربہ۔ عمل۔

لیبہر۔ (بی۔ بی۔) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیبر پارٹی۔ (Labour Party) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

مزدوروں کی جماعت (۲) انگلستان کی ایک سیاسی پارٹی جو

مزدوروں کی نمائندگی کی دعویٰ کرتی ہے۔

لیبر گورنمنٹ۔ (Labour Government) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

مرٹ [لیبر پارٹی کی حکومت۔

لیڈر۔ (بی۔ بی۔) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیڈل۔ (Label) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

یادداشت کا ٹکڑا جو کسی چیز پر اس کا نام، نوعیت اور مالک

کا پتہ نشان وغیرہ بتانے کے لیے لگا جاتا ہے۔ چٹ۔ سٹرک۔

لیٹیپ۔ (بی۔ بی۔) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

باروغض میں ملا کر کسی جگہ لگائی جاتی ہے۔ لیٹیپ۔ وہ دو دو چھاپائی

لیٹیا۔ (بی۔ بی۔) (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔

لیٹیا پوسٹا۔ (۱) صفت) لیتیم کی جمع۔ ویکیے لیتیم۔



لیٹ (Late) (انگ صفت) دیر سے آنے والا۔ (تابع فعل)  
 (۲) دیر سے بے وقت۔ وقت کے بعد۔ مار کے پیچھے۔  
 لیٹر (Letter) لے۔ لٹر [انگ ۱۰۔] لٹر خط۔ لٹھی۔  
 لیٹر بکس (Letter Box) خطوں کا صندوق۔ ڈاک خانہ  
 کا سرخ ڈب جس میں چٹیاں ڈالتے ہیں۔  
 لیٹرائن (Latrine) لینٹ۔ رن [انگ ۱۰۔] لٹر پاخانہ۔  
 سنڈاس۔  
 لیٹنا (لیٹ [نا] [اص] [و] سیدھا ہو کر پٹنا۔ لپٹنا۔ سونا۔ آرام کرنا۔  
 (۲) پاؤں پٹنا۔ (۳) خوشامد کرنا۔ عجز کرنا۔ (۴) بارمانا۔ منگولوب  
 ہونا (۵) زمین پر گر جانا۔  
 لیٹے جانا۔ (۱) محاورہ) خوشامد کرنا۔ بچ جانا۔ (۲) ہمت ہار دینا۔  
 لیج (لیجو) [ھ]۔ مٹ [ا] رسی جسے ڈول وغیرہ کے ساتھ بانڈھ کر کنویں  
 سے پانی نکالتے ہیں۔ (بیاتے جمول)۔  
 لیجر (Ledger) (لے۔ جمر) [انگ ۱۰۔] مٹ [ا] روزنامہ۔ یہی  
 ط کھاتہ۔ روزانہ حساب کی کتاب۔  
 لیجسلیٹیو اسمبلی (Legislative Assembly) لے۔ جن۔  
 لے۔ کیو۔ اسمب۔ لی [انگ ۱۰۔] مٹ [ا] صوبے (یا ملک)  
 کی مجلس قانون ساز۔  
 لیجسلیٹیو کونسل (Legislative Council) انگ ۱۰۔  
 مٹ [ا] صوبے یا ملک کی مجلس قانون ساز جس میں خاص طبقوں  
 کے نمائندے شامل ہوں۔  
 لیجی (لی۔ جھی) [ھ]۔ مٹ [ا] وہ چیز جو پان کی گلدی کو عرق نکلنے  
 کے بعد رہ جاتی ہے۔ (پان کی لہجی) (۲) کنایتاً گرم اور کھلی چیز۔  
 لیچر (لی۔ چر) [ھ]۔ صفت [ا] خیس۔ پھیل۔ کجسوں (۲) نادہند۔  
 قرض لے کر نہ دینے والا۔ بد معاملہ۔  
 لیچر پین (لی۔ نڈ) [نڈ] کجسوی۔ یعنی (۲) نادہندگی۔ بد معاملگی۔  
 لیچی (لی۔ چی) [جینی]۔ مٹ [ا] ایک گھر دوسے چھپنے والا۔ مٹھی  
 نال شیریں پھل۔  
 لیڈ (لی۔) [ھ]۔ مٹ [ا] گھوڑے، گدھے، باغی وغیرہ کا فصدہ یا گوہر۔  
 لیڈر (لے۔ ڈر) [انگ ۱۰۔] لڈ [ا] گنا یا پٹو چمڑا۔ (Leather)  
 لیڈر (Leader) (لی۔ ڈر) (۱) رہنما۔ سرکردہ۔ سربراہ۔ سردار۔  
 (۲) ایڈیٹر کا کھٹا ہوا مضمون ایڈیٹر ل  
 لیڈنگ آرٹیکل (انگ ۱۰۔) لڈ [ا] دیکھنے لیڈر۔  
 لیڈی (Lady) لے۔ ڈی [انگ ۱۰۔] مٹ [ا] بی بی بیگم۔  
 (۲) معزز عورت خاتون (۳) لارڈ کی بیگم۔  
 لیٹر (لی۔) [ھ]۔ مٹ [ا] جھی۔ کتر۔ کپڑے کی لمبی اور تنگی پٹی۔ چھتھر۔  
 لیٹر لیر کرنا۔ (۱) محاورہ) دھجیاں اڑانا۔ پھاڑ ڈالنا۔ ٹکڑے ٹکڑے  
 لیر کرنا۔  
 لیر لیر لگنا۔ (۱) محاورہ) پڑانا ہو کر لباس کا تار تار ہو جانا۔ (۲)

غریب ہونا۔  
 لیری (لی۔ ری) [ھ]۔ مٹ [ا] نکوت کے پچھلے میں لگنے کی  
 لمبی دھجی۔  
 لیرے (لی۔ رے) [ھ]۔ مٹ [ا] چھتھرے۔ دھجیاں (عوام جمع استعمال  
 ہوتا ہے)۔  
 لیرے لگنا۔ (۱) محاورہ) کپڑے بھٹ جانا۔ کپڑوں کا تار تار ہونا۔  
 لیوزم (لی۔ زم) [ف]۔ مٹ [ا] ایک قسم کی نرم اور چمک دار کان  
 جس میں لوہے کی زنجیر اور بہت سی ٹوٹیاں پڑی ہوتی ہیں۔  
 لیٹس (لی۔ صفت) کمر بستہ۔ بستہ۔ تیار۔ آمادہ۔ کپل کانٹے سے  
 درست۔  
 لیٹس (Lace) [انگ ۱۰۔] مٹ [ا] نیتہ۔ جھار۔ گولٹا کئی  
 ڈوری۔  
 لیٹس [ھ]۔ مٹ [ا] چھپ۔ چھپا پٹ۔ (ف۔ حرف) چاٹے  
 والا مرکبات میں جیسے کا سیر لیس۔  
 لیٹس (لی۔ صفت) چھپا۔ چھپنے والا۔  
 لیٹنا (لیٹس [نا] [اص] [و] پستہ کرنا۔ لیٹنا۔ لگانا۔  
 لینٹ (لے۔ ف) لیکن کا مخفف [بیاتے جمول] [ا]  
 لیٹ (لی۔) [ھ]۔ مٹ [ا] راہ۔ ہارٹ۔ شرک۔ کیڈی (۲) گاڑی  
 کے پیسے کا نشان۔ (۳) انعام جو حسب دستور کمپنیوں کو دیا جاتا  
 ہے وہی رقم و رواج۔ ریت۔ دستور۔ قاعدہ۔ داغ۔ عیب۔  
 لیٹ (لی۔) [ھ]۔ مٹ [ا] محاورہ) (۱) لیکر پٹنا۔ قدیم رقم و رواج اور چلنے  
 دستور پر چلنا (۲) کسی بات کو بار بار دہرانا۔  
 لیٹ سے لے لیک ہونا۔ (۱) محاورہ) گزرا ہونا۔ بے راہ ہونا۔  
 سیدھا راستہ چھوڑ دینا۔  
 لیٹ لیک چلنا۔ (۱) محاورہ) رستہ سے چلنا۔ راہ چلنا۔ چرنا  
 رقم و رواج کا پابند ہونا۔  
 لیٹر (Lacquer) لے۔ کر۔ [انگ ۱۰۔] لڈ [ا] لکڑی۔ پتیل اور  
 کاغذ وغیرہ پر لاکھ کی وارنش کا کام کشمیری نقش کاری۔  
 لیکن (لے۔ کن) [ف۔ حرف شرط] مگر۔ الا۔  
 لیکوریا (Lecueraea) [انگ ۱۰۔] لڈ [ا] احتناق ارحم۔  
 لیکوڈیٹر (Liquidator) [انگ ۱۰۔] لڈ [ا] بھگتان کرنے  
 والا۔ قرض بے باقی کرنے والا۔ وہ سرکاری افسر جو کمپنیوں یا  
 فرموں کے دیوالیہ ہو جانے پر بھگتان کرتا ہے۔  
 لیکوڈیشن (Liquidatin) [انگ ۱۰۔] مٹ [ا] لیکو  
 ڈیشن کی تحویل میں بھگتان۔  
 لیکنڈ (لی۔) [ھ]۔ مٹ [ا] لکھی ہوئی چیز۔ سحر یہ (۲) نام لکھنا۔ دستخط  
 [بیاتے جمول] [ا]  
 لیکنڈ (لی۔) [ھ]۔ مٹ [ا] چھوٹی بٹوں۔ دھکت (۲) لیکر۔ لیک۔  
 لیکنڈ (لے۔ کھا) [ھ]۔ مٹ [ا] حساب۔ لین دین (۲) پنکھ حساب۔

ہی لکھاتے (۳) معاملہ۔ برتاؤ۔  
 لیکھا جو لکھا۔ (۵-۱) لکھ دین۔ حساب کتاب۔  
 لیکھا کرنا۔ (۱-۱) محاورہ حساب کرنا۔ لین دین کی رقم معلوم کرنا۔  
 لیکھے والا۔ (۵-۱) لکھ ساہوکار۔ اکاؤنٹنٹ۔ محاسب  
 لیکھے۔ (۷-۱) لکھے بلیغ فعل حساب سے حسابوں۔ نزدیک۔  
 لیگت۔ (League) لگانگ۔ ۱۔ مٹھ [جمعیت مجلس جماعت۔  
 لیگ آف نیشنز (League of Nation) بین الاقوام  
 نیشن۔ (۱-۱) مٹھ [رات شب جمع: لیالی۔  
 لین و شمار۔ (۱-۱) لکھ رات اردو۔ شب دروز۔  
 لیلا۔ (۷-۱) لکھ۔ ۱۔ مذاکرہ بکری یا بھیڑ کا بچہ۔ بڑہ۔  
 لیلا۔ (۱-۱) لکھ۔ ۱۰۔ مٹھ اگیل۔ لہو و لعب۔ عیش و نشاط۔  
 سیر و تماشا کرتے۔ (۲) مہر و پ (۳) قدرت (۴) کرشمہ عجیب۔  
 لیلا و صاری۔ (۵-۱) مٹھ ایکڑ۔ تماشا دکھانے والا۔  
 لیلا جانا۔ (۱-۱) محاورہ سوانگ رچانا۔ تماشا کرنا۔  
 لیلا دیتی۔ عیش و عشرت۔ عیش و نشاط کی ریا عورت۔ (۲) خور و صبر۔  
 حسین۔  
 لیٹنٹ۔ (۷-۱) لکھ [رات شب۔ (اصل لیٹنگ  
 لیٹنٹ اکاؤنٹر۔ (۱-۱) مٹھ [شب معراج۔  
 لیٹنٹ لیٹنٹ۔ (۱-۱) مٹھ [قری سینے کی چوڑھویں رات جس میں  
 چاند پورا ہوتا ہے۔  
 لیڈر۔ (۱-۱) مٹھ [مفضلان المبارک کے آخری عشرہ کی  
 ایک طاق رات جس میں عبادت کرنے کا ثواب ہزار ماہ سے  
 زیادہ ہوتا ہے۔  
 لیلا۔ (۷-۱) لکھ۔ لکھ۔ (۱-۱) مٹھ [کالی شب  
 رنگ۔ سیاہ فلم۔ ساٹھویں (۲) قیس (مجنون) کی معشوقہ۔ (۳)  
 مشرق۔ خوبصورت۔ حسینہ۔ جمیلہ۔  
 لیلی را بہ چشم مجنوں باید دید۔ (۱-۱) مٹھ [معتوق کو عاشق کی نظر  
 سے دیکھنا چاہیے۔  
 لیلی تراود۔ (۱-۱) مٹھ [معتوق۔ ماہ و ش۔  
 لیلمپ۔ (Lamp) لنگ۔ ۱۔ لکھ [چراغ۔ دیا۔  
 لیمن۔ (Lemon) لکھ۔ ۱۔ لکھ [لیمون۔ نیبو۔ ترنج۔  
 لیمون۔ لیمون۔ (۱-۱) لکھ۔ ۱۔ لکھ [لیمون۔ ترنج۔ ایک  
 ترش گول پھل۔  
 لیمونوٹرا۔ (۱-۱) مٹھ [مفت خواہ۔  
 لیمونوٹ۔ (Lemonade) لیٹنٹ۔ (۱-۱) لکھ۔ ۱۔ لکھ [لیمون  
 کو بیٹھا پانی یا شربت۔  
 لیٹن۔ (۱-۱) لکھ [لینا کا محفت۔ حصول۔ حاصل کرنا (سب سے بھول)۔  
 لین دین۔ (۱-۱) لکھ [لینا دینا۔ داؤد دستد (۲) حساب کتاب (۳)  
 معاملہ۔ برتاؤ۔ بیوپار (۴) خرید و فروخت (۵) واسطہ و تعلق۔

سٹکار (۶) کاروبار۔ تجارت۔ سوداگری۔  
 لین دین کرنا۔ (۱-۱) محاورہ (۱) معاملہ کرنا (۲) معاملہ کرنا۔ بیوپار کرنا۔  
 (۳) خرید و فروخت کرنا۔ کاروبار کرنا۔ تجارت کرنا۔  
 لین۔ (Lane) لنگ۔ ۱۔ لکھ [مٹھ۔ لکھ۔  
 لین۔ [انگریزی لائن (Line) کا بلاگڑ۔ (۱-۱) مٹھ [۱۵] لکھ۔ خط۔ جڈل  
 لؤل۔ (۲) ڈوری۔ (۳) حد۔ (۴) مینڈھ (۵) قطار۔ صفت۔ باڑ۔  
 (۵) سطر (۶) لکھ کی پٹری۔ (۷) پٹری کی پٹری (۸) چھاونی کی پٹری۔  
 لین ڈوری۔ (۱-۱) مٹھ [۱۵] وہ حصہ جو آگے جانا ہے۔ پیش حصہ۔  
 (۲) وہ فوجی سامان جو کوچ سے پیشتر روانہ کیا جاتا ہے۔  
 لین کلیئر۔ (Line Clear) لنگ۔ (۱-۱) لکھ۔ (۲) پٹری کی پٹری صاف  
 اور قابل آمد و رفت ہونے کی سند۔  
 لینا۔ (۷-۱) لکھ [۱۵] پٹنا۔ گرفت کرنا (۲) حاصل کرنا۔ اخذ  
 کرنا (۳) سنبھالنا۔ سہارا۔ نفعنا (۴) خریدنا (۵) قرض لینا۔  
 (۶) بیچ کرنا۔ جیتنا (۷) وصول کرنا۔ آگاہنا (۸) استقبال کرنا۔ (۹)  
 پیش آنا (۱۰) [مٹھ] وہ روپیہ جو لینا ہو۔ قرضہ۔  
 لینا ایک نہ دینا دو۔ (۱-۱) محاورہ حاصل نہ حصول۔ فائدہ نہ غرض۔  
 کسی سے ایک لیں گے نہ دو دینے پڑیں گے۔  
 لینا دینا۔ (۱-۱) محاورہ [۱۵] لین دین۔ داؤد دستد (۲) حساب کتاب  
 (۳) برتاؤ۔ معاملہ۔  
 لینا لوانا۔ (۱-۱) لکھ [قابل وصول قرضہ۔  
 لینا لینا۔ (۱-۱) لکھ [مٹھ] بھاگتے ہوئے انسان یا چور کی نسبت  
 بولتے ہیں (۲) گرتے ہوئے کے متعلق، لینا تھامنا۔  
 لینا نہ دینا باتوں کا جمع ترمیم۔ (۱-۱) مٹھ [فصول وقت گزارنا۔  
 زری یا پس ہی آئیں کرنا، جن کا نتیجہ کچھ نہ نکلے۔ ناسخ کی درود کرنا۔  
 لینا نہ دینا، کار سے نہ مسئلے۔ (۱-۱) مٹھ [فصول بے حدود۔ لاکھا  
 بے فائدہ کچھ حاصل نہ حصول۔  
 لینے آنا۔ (۱-۱) محاورہ کسی کا استقبال کرنا۔  
 لینے دینے میں نہ آنا (دھونا)۔ (۱-۱) محاورہ بے تعلق ہونا۔ بے  
 غرض ہونا۔  
 لینے کو چھلی دینے کو کاٹنا۔ (۱-۱) مٹھ [لیتے وقت اچھی چیز لینا۔  
 اور دیتے وقت بری شے دینا۔  
 لینے کے دینے پڑ جانا (پڑنا)۔ (۱-۱) محاورہ فائدے کی جگہ نقصان  
 ہونا۔ مصیبت میں پھنس جانا۔  
 لینے میں نہ دینے میں۔ (۱-۱) مٹھ [نفع میں نہ نقصان میں۔  
 بڑے میں نہ چھلے میں۔ بے تعلق اور بے غرض۔  
 لینڈ۔ (Land) لنگ۔ ۱۔ لکھ [۱۵] زمین (۲) شکی (۳) سر زمین  
 ملک۔  
 لینڈ لارڈ۔ (Land Lord) لنگ۔ ۱۔ لکھ [۱۵] مالک زمین۔  
 زمین دار۔ (۲) مالک مکان۔

**لیبٹی** - (لے۔ فی) [ھ۔ ا۔ مٹ] وہ رسم جو بچے کو دایہ سے واپس لینے پر ادا کی جاتی ہے۔  
**لیوا** - (لے۔ وا) [ھ۔ صفت] او۔ ا۔ مذ [لینے والا۔ محصل (۳) گائے بھینس یا بکری کا تختن۔ (۳) ہانڈی کے پیندے پر چڑھانے کی مٹی۔

**لیوا ڈیپوے** - (لے۔ وا۔ ڈے۔ وے) [ن۔ لین دین۔  
**لیور** - (Lever) (ڈی۔ وڑ) [انگ۔ ا۔ مذ] مقبب میں لگی ہوئی دھات کی سلاح جو وزن کو ادر اٹھا سکے۔

**لیول** - (لے۔ ون) [انگ۔ ا۔ مذ] ہوا سطح (۲) مہاروں کا ایک اوزار جس سے سطح کی یکسانیت دیکھتے ہیں۔ گنیا۔ (۳) [صفت] مساوی۔ برابر۔ یکساں۔ ایک سطح پر۔ (Level)

**لیوی** - (Levy) (ڈی۔ وی) [انگ۔ ا۔ مٹ] [۱] تحصیل محصول (۲) حاصل مالگنداری یا لگان۔ وصولی ٹیکس (۷) جنگ کیلئے فوج کی بھرتی۔

**لیٹی** - (لے۔ ہی) [ھ۔ ا۔ مٹ] [دیکھتے لیٹی۔  
**لیٹی** - (لے۔ ای) [ھ۔ ا۔ مٹ] وہ لیدر مادہ جو میدے کو پانی میں پکا کر کاغذ وغیرہ جوڑنے کے لیے بہاتے ہیں۔

**لینڈ** - (ہ۔ ا۔ ند) فنڈ۔ موٹی لینڈمی۔ گندگی۔ گوہ (ریائے جموں) لینڈو - (Landau) لین۔ ڈو [انگ۔ ا۔ مٹ] چار پہیوں کی گاڑی جس کی چھت گرانی جاسکتی ہے۔ فن۔  
**لینڈمی** - (لین۔ ڈمی) [ھ۔ ا۔ مٹ] [۱] چھوٹا لینڈ۔ بندھا ہوا پانڈا۔ (۲) چھوٹا کتا جو شکار کے قابل نہیں ہوتا (۳) کتا (تیا) بڑوں۔ ڈرپوک۔ نامرو۔ (ریائے جموں)

**لینڈمی پھولنا** - (ا۔ محاورہ) مغرور ہونا۔  
**لینڈمی تر ہونا** - (ا۔ محاورہ) غرور زیادہ ہونا۔ گھمبند بڑھنا۔ بہت خوش ہونا۔

**لینڈمی کتتا** - (۱) بازاری اور عام کتا۔ (۲) ڈرپوک اور بڈوا کتا۔  
**لینڈمی کتے کی موت مارنا** - (ا۔ محاورہ) [۱] نہایت آسانی سے مار ڈالنا۔ (۲) نہایت ذلت سے ملنا۔

**لینن ازم** - (Leninism) (لے۔ ن۔ ن۔ از) [انگ۔ ا۔ مذ] روسی اشتراکی لیڈر لینن کا انقلابی نظریہ۔

**لینوٹائپ** - (Ljnotype) (لی۔ نو۔ ٹا۔ ٹپ) [انگ۔ ا۔ مذ] [۱] مشین جس میں الفاظ کی پوری سطر بیک وقت ڈھل جاتی ہے۔

[یم] (ع۔ مذ) اردو کا کیتسواں، فارسی کا اٹھا کیتسواں، عربی کا چوبیسواں اور ہندی کا پچیسواں حرف۔ حساب ابجد میں اس کے پالیس عدد فرض کیے گئے ہیں۔ یہ قمری حرف ہے اگر اس کے پہلے "ال" آئے گا تو ل، آواز دے گا۔ جیسے "المركز" عربی لفظ کے شروع میں مفتوح آئے تو اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے۔ جیسے مجلس مظلوم۔ مضموم آئے تو اسم فاعل بنا دیتا ہے۔ جیسے محافظ۔ فارسی میں محبوب کے ذہن کی علامت۔ فارسی میں اسمائے اعداد کے بعد اگر ان کو صفت تریبئی بنا دیتا ہے جیسے دوم۔

مقصود ہو تو بولتے ہیں۔

کابعد (ع۔ ف) پھلا بیچھے کا۔ پیچھے آنے والا۔ جو کچھ بعد میں آئے۔

کابعد الطبیعات (ع۔ ائٹ) الہیات۔ فوق الفطرت۔

کابعد الطبیعی (ع۔ صف) ۱۰۔ بعد الطبیعات سے منسوب۔

کابقا۔ مابقی۔ مابقیہ (ع۔ ف) باقی بچا ہوا۔ جو باقی رہ گیا ہو۔

کابہ الاضنیاج (ع۔ مذ) ضرورت کی چیز یا چیزیں۔ جن کی حاجت ہو۔

کابہ الاضنیاز (ع۔ مذ) وہ چیز جس سے شامت ہو سکے۔ باعث امتیاز نشان امتیاز۔

کابہ التزاع (ع۔ مذ) جھگڑے کی بنا۔ فساد کا باعث۔ وہ بات جس پر جھگڑا ہوا ہو۔

کامین (ع۔ تابع فعل) اثنا۔ وسط۔ دوران۔ درمیان۔ بیچ۔

کامین تحقیقات (ع۔ ف) تابع فعل، تحقیقات کے دوران میں۔

کامین فریقین (ع۔ تابع فعل) دو فریقوں (گروہوں) کے درمیان۔

کامحت (ع۔ صفت) ۱) زیر فرمان۔ زیر حکم۔ جو نیچے ہو تابع (۲) نائب۔ مددگار۔

ہاتھ بٹانے والا۔

کاتقدم (ع۔ صفت) آدل کا۔ پہلے کا۔ جو پہلے گزرے۔ مذکورہ بالا۔

کاتجرا (ع۔ مذ) ۱) مرکز شمت جو کچھ گزر گیا (۲) واقعہ۔ واردات (۳) حالت کیفیت۔

کامحصل۔ ماحاصل (ع۔ مذ) ۱) حاصل شدہ۔ حاصل کی ہوئی شے۔ نتیجہ۔ پھل۔ ثمرہ۔

کامحضر۔ (ع۔ مذ) ۱) جو کھا نامو بود ہو جو کچھ حاضر ہو۔ وہ کھانا جو تھوڑا سا ہو، اور

بے تکلف موجود اور حاضر ہو۔

کامحول۔ (ع۔ مذ) ۱) گرد و پیش۔ پاس پڑوس۔

کامادام۔ (ع۔ تابع فعل) ہمیشہ۔ مدا۔ دائم (۲) جب کہ جینک تا وقتیکہ (۳) [زنج]

بیگم۔ خاتون۔

کامادام الحیات۔ (ع۔ تابع فعل) عمر بھر۔ تمام عمر۔ زندگی بھر تا زیست۔

کامازخ (ع۔ قرآن شریف کی آیت) ما از اذ البصر و کا لطفی۔ کی طرف اشارہ ہے۔

یعنی آن حضرت نے معراج کی شب مقام قرب الہی میں نہ کسی طرف آنکھ پھیرا

اور نہ حکم الہی سے نافرمانی کی۔

کاماسبق (ع۔ صفت) گزشتہ۔ گزرا ہوا۔ جو پہلے گزر چکا ہو۔ جو میت چکا ہو۔ اول الذکر۔

کاماسلف (ع۔ صفت) گزرا ہوا۔ بیتا ہوا۔ گزشتہ۔

کاماسوا (ع۔ حرف استثناء) ۱) بجز۔ علاوہ انہیں۔ علاوہ ہمیں۔ اس کے علاوہ۔ اس

کے سوا (۲) مصنفین کی اصطلاح ذمت باری تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے اسوا

ہے۔

کاماشاء اللہ (کنز دوما) ۱) جو اللہ نے چاہا۔ جو اللہ چاہے۔ جو خدا کرے۔ اگر خدا نے چاہا

۱-۴

کامآب (م۔ آب) (ع۔ ائٹ) ۱) لوٹ کر جانے کی جگہ۔ جاتے بازگشت۔ ۲) اپنی کی جگہ (۳) جگہ۔ اردو میں جیسے عزت مآب۔ رسالت مآب۔ فضیلت مآب۔

کامآت (ع۔ مذ) ماہ کی تسخ صدا۔ کئی سو۔

کامآثر (م۔ کثیر) (ع۔ مذ) ۱) پچھے آثار۔ اچھے کام (۲) یادگار۔ نشانیں۔

(۳) قدیم مکان جس کے آثار باقی ہوں۔ مآثرہ کی جمع۔

کامآرب (ع۔ ائٹ) مآرب کی جمع۔ ضروری چیزیں۔ ضروریات۔

کامآل (م۔ آل) (ع۔ مذ) ۱) مریض۔ جاتے بازگشت۔ جاتے رجوع۔ ٹوٹنے کی جگہ۔

(۲) انجام۔ نتیجہ۔ خاتمہ۔ آخر۔

کامآل اندیش (ع۔ ف) صفت، دور اندیش۔ انجام کو سوچنے والا۔

کامآل اندیشی (ع۔ ف) ۱) صفت، دور اندیشی۔ سوچ بچار۔ انجام بینی۔

کامآل کار (ع۔ ف) ۱) تابع فعل (۲) انجام کار۔ آخر کار۔ آخر کو (۳) نتیجہ۔ کرنی

کا پہل۔

کامآ (م۔ ص) ۱) صفت، من کی جمع۔ ہم۔

کامآ (ع۔ حرف نفی) نہ۔ نہیں۔ صفت (۱) اسم مفعول، جو کچھ۔ جو کہ۔ کوئی چیز (۲) کلمہ

استفہام) کیا۔ کیا چیز (۳) کون۔ کدام (۴) کیوں کہ۔ کیسے۔ کیوں۔

کامآجیزو شامہ بسلامت (ف) لفقول، ہم غیریت سے، تم سلامتی سے۔ ہم جدا، تم

جدا۔ ہم الگ تم الگ۔ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔

کامآبدولت (ف) ۱) مذ۔ مو، وہ کلمہ جو بادشاہ اپنے متعلق استعمال کرتے تھے۔

کامآدریہ خیالیم و فلک در خیال است (ف) مثل (۱) ہم کس خیال میں ہیں اور

آسمان کیا سوچ رہا ہے (۲) خلاف امید کسی امر کے پیش آنے پر بولتے

ہیں۔

کامآچرمی سراہیم و ظنورہ ما چرمی سراہند (ف) مثل، بے تکی باتوں کے متعلق کہا جاتا

ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو۔

کامآازیں گیاہ ضعیف ایں مکان نہ بود (ف) مثل، مجھے اس کمزور گھاس سے

یہ توقع نہ تھی۔ جو کمزور شخص اپنی بہت سے زیادہ کام کرے تو اس وقت

کہتے ہیں۔

کامآچرازیں قصہ کہ گاؤ آمد و خور رفت (ف) مثل (ترجمہ) ہمیں اس سے کیسا

غرض کہہ لیں آیا اور گدھا چلا گیا۔ کسی کے آنے جانے پر بے پروائی کا اظہار

**ماپا** (۵-۱- مذ) [۱] بیانئش کرنے والا۔ رقبہ بندی کرنے والا (۲) [صفت] جس کی پیمائش کر لی گئی ہو۔ جس کی رقبہ بندی کر دی گئی ہو۔  
 ماپا شوربا اور پنی پوٹیاں [ائش] (۱) خشت۔ کجخوسی (۲) کفایت شعاری (۳) کھٹنے پینے کی چیزوں کی کمی۔

**ماپنا**۔ **رماپ**۔ **نا**۔ [۵- مص] [۱] پیمائش کرنا۔ جانچنا۔ اندازہ کرنا۔ ناپنا۔  
**مائت**۔ **ق**۔ [۱-ت] مال۔ مادہ۔

**ماست**۔ **ق**۔ [۱-ت] ہار۔ شکست۔ زک۔ ہزیمت۔ شطرنج یا بیٹ بازی کی ہار۔  
**مات دینا**۔ (۱- محاورہ) (۱) شکست دینا۔ ہراننا۔ زک دینا (۲) نچا دکھانا۔ مغلوب کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ جمل کرنا۔ بازی لے جانا (۳) شطرنج یا بیٹ بازی میں فریق مقابل پر غالب آنا۔

**مات کرنا**۔ (۱- محاورہ) شکست دینا۔ ہراننا۔ بازی لے جانا (۲) مغلوب کرنا۔ نچا دکھانا، شرمندہ کرنا۔ (۳) شطرنج یا بازی یا بیٹ بازی میں حریف کو ہرا دینا (۴) فریق سے جانا۔ کسی کام میں بڑھ جانا۔  
**مات کھانا**۔ (۱- محاورہ) بازی میں ہار جانا۔  
**مات ہو جانا**۔ مات ہونا۔ (۱- محاورہ) شکست کھا جانا۔ ہارنا (۲) شرمندہ ہونا۔ ماند ہو جانا۔

**ماتا**۔ (۵- اصفت) (۱) والدہ۔ ماں (۲) بڑی عورت کو عورت سے ماتا کہتے ہیں۔ (۳) چھپک۔ سینٹلا (۴) [صفت] مدہوش۔ مست۔

**ماتا پتا**۔ (۵- ۱- مذ) (۱) ماں باپ۔ والدین (۲) بزرگ۔ آقا۔ مالک۔ مائی باپ۔  
**ماتا پوجنا**۔ (۱- محاورہ) سینٹلا کی پوجا کرنا۔  
**ماتا سینٹلا کے دن**۔ (۵- ۱- مذ) وہ زمانہ جب چھپک کا بہت زور ہوتا ہے۔  
**ماتا نکلنا**۔ (۱- محاورہ) چھپک نکلنا۔ سینٹلا اُبھرنا۔

**ماترہ**۔ (ما- ترم) [س- اصفت] (۱) اکیلا۔ تنہا۔ فقط۔ تھوڑا سا۔ کسی قدر (۲) اندازہ۔  
**ماترا**۔ (مات- را) [س- اصفت] (۱) ناپ۔ پیمائش (۲) کسی دو کی مقدار یا اندازہ۔ (۳) ہندی حرفوں کے اعراب (۴) مال۔ دھن۔ دولت (۵) ناگری حروف کو حصہ یا جز (۶) وہ وقت جو چھوٹی حرکت کے بولنے میں لگے (۷) شبیشہ (۸) زیور۔ گہنا (۹) مادہ۔

**ماترا لگانا**۔ (۱- محاورہ) اعراب حروف علت کو حروف کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔  
**ماتم**۔ (ما- تم) [ع- ۱- مذ] (۱) مصیبت۔ آفت۔ پتا (۲) سوگ (۳) رنج۔ غم۔ ملال۔ الم۔ اندوہ۔ کہرام (۴) مرنے کا غم۔ گریہ و زاری (۵) سینہ زنی (۶) غم حسین میں سینہ کوٹنا۔

**ماتم پریمی**۔ [ع- ف- س- ت] تعزیت۔ پراسا۔ درٹانے میت کے ساتھ ہمدردی۔  
**ماتم پریمی کرنا**۔ (۱- محاورہ) تعزیت کرنا۔ پراسا دینا۔ درٹانے میت سے ہمدردی اور غم خواری کرنا۔

**ماتم پڑنا**۔ (۱- محاورہ) کسی کی موت پر کہرام مچانا۔  
**ماتم خانہ پراسا**۔ کدہ (۲) [ع- ف- ۱- مذ] غم کا گھر۔ سوگ کا گھر۔ وہ گھر جس میں کوئی مصیبت یا غم ہو گئی ہو۔

**ماتم دار**۔ [ع- ف- صفت] ماتمی۔ سوگوار۔ سوگی۔  
**ماتم داری**۔ [ع- ف- ۱- صفت] غم۔ سوگ۔ رنج۔ الم۔ گریہ و زاری۔  
**ماتم زدہ**۔ [ع- ف- صفت] سوگوار۔ ماتمی۔ غمگین۔ رنجور۔

جو خدا کی مرضی (۲) کلر جمین آؤس۔ ماشا راشد! آپ کے کیا کہنے سبحان اللہ! (۳) کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں جیسے فارسی میں چشم بڈور (۴) طنزاً بھی کہتے ہیں۔ ماشا۔ اللہ! ماہہ باؤن کھانے لگے ہو۔

**ما صدق**۔ [ع- مذ] (۱) جو کد درست ہو (۲) مضمون۔ یعنی۔  
**ما فات**۔ [ع- ۱- مذ] جو فوت ہوا۔ جو گزر گیا۔

**ما فوق**۔ [ع- صفت] جو فریق رکھتا ہو۔ جو اوپر ہو۔ اعلیٰ۔ اونچا۔ بلند۔ ممتاز۔ برتر۔ فائق بزرگ تر معظم۔

**ما فوق الفطرت**۔ [ع- صفت] عقل و ذہن سے بالاتر۔ انتہائی حیرت انگیز۔  
**ما فی الضمیر**۔ [ع- ۱- مذ] دل کی بات۔ نیت۔ غرض۔ مطلب۔ مقصد۔ مدعا۔

**ما فہما**۔ [ع- ۱- مذ] جو کچھ اس میں ہے۔

**ما قبل**۔ [ع- صفت] پینے کا۔ جو پہلے ہو۔

**ما قبل الذکر**۔ [ع- ۱- مذ] جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ مذکورہ بالا۔

**ما قبل و دل**۔ [ع- ۱- مذ] تھوڑا جس کے معنی زیادہ ہوں۔

**مالا کلام**۔ [ع- ۱- مذ] جس میں کسی شک اور اعتراض کی گنجائش نہ ہو۔

**مالا لطاق**۔ [ع- ۱- مذ] طاقت سے بڑھ کر کام۔ وہ کام جو کسی کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو۔

**مالا نیل**۔ [ع- ۱- مذ] وہ جس نہ ہو سکے۔ مشکل مسئلہ جو ناقابل حل ہو۔ یعنی کھن۔ سخت۔ بہت دشوار۔

**مالہ و مالطہ**۔ [ع- ۱- اصفت] جو اس کے لیے ہے اور جو کچھ اس پر ہے (۱) معاملہ کے نام) پیلو۔ (۲) برائی اور صلائی۔ نفع و نقصان۔

**ما مضی**۔ [ع- صفت] جو گزر گیا۔ جو ہو چکا۔ گزشتہ۔

**ما واجب**۔ [ع- ۱- مذ] جس کا کرنا واجب ہو۔

**ما وراہ**۔ [ع- صفت] بجز۔ سوا۔ اس کے علاوہ۔ علاوہ بریں۔ بالاتر۔

**ما تیکل**۔ [ع- صفت] جو گھٹن کا غائب ہو گیا ہو، جب کوئی چیز دوسری میں مل جو کر اپنا وجود کھو بیٹھی ہو۔

**ما یتحاج**۔ [ع- ۱- مذ] وہ چیز جس کی ضرورت ہو۔ انسانی ضرورت کی چیزیں۔ ضروریات۔

**ما یرید**۔ [ع- صفت] جو خدا چاہتا ہے (۲) خدا کی مرضی۔ شہادت خداوندی۔

**ما یعرف**۔ [ع- صفت] جو معلوم ہو۔ (۲) [ع- ۱- مذ] کل (۳) کل شے مقبوضہ۔

**ما یقرأ**۔ [ع- صفت] جو پڑھا جائے۔

**ما یطیق عن الہوئی**۔ (آیت قرآنی) نہیں بولتے اپنی مرضی سے۔ سورہ نجم کی آیت جس میں پیغمبر مسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ کہتے ہیں خدا کے حکم سے کہتے ہیں۔

**مایون**۔ [ع- ۱- مذ] وہ شخص جسے اعظام (علت اُبترہ) کی عادت ہو۔ پوسیا (۴) نامزد۔ زمانہ (۳) مشتبہ۔

**ما پ**۔ (۵- اصفت) (۱) پیمائش۔ ناپ۔ رقبہ بندی۔ جبرج کشی (۲) پیمانہ (۳) جانچ۔ اندازہ۔ طول و عرض کا تخمینہ۔

**ما پ قول**۔ (۵- اصفت) (۱) عرض و طول کی پیمائش (۲) جانچ۔ پڑتال۔ رقبہ۔

**ما پ کا پورا**۔ (۵- صفت) آدھی یا گھوٹا جو فوج اور پولیس کے قانون کے مطابق ان معمولوں میں لیا جاسکے۔

ماتی کرنا - (۱) میں جبرک (۱) رنج کرنا - غم کرنا - (۲) سوگ کرنا - مرے کو کوٹنا (۳) ہڑت  
خواب کرنا - سیدہ کوئی کرنا - اما مجیش کے غم میں سیدہ کوٹنا -  
ماتی - (ما - ت - ج) [ت - صفت] ماتم کرنے والا - سوگوار - ماتم سے تعلق رکھنے والا  
ماتی باجر - (ما - ت - ج) وہ باجر جو ماتم میں بجاتے ہیں -  
ماتی پوشاک (جامرہ - لباس) (۱ - ت - ہ) نیلے یا سیاہ رنگ کا لباس جو رنج و غم  
کی حالت میں پہنا جاتا ہے -  
مانتھا - (ما - تھ) (۱ - ہ - نڈ) [۱] پیشانی - جبیں - ناصبہ - جڑبہ - سرکا اٹکا حصہ -  
(۲) ناڈ کا اٹکا حصہ -  
مانتھا پٹینا - (۱ - عمارت) (۱) سرینٹا - ماتم کرنا (۲) پھٹانا - افسوس کرنا -  
مانتھا بہین کرنا - (۱ - عمارت) (۱) ظاہر داری کا سلام کرنا - (۲) مغربانا - دیر تک  
سمھانا -  
مانتھا پیٹی - (۱ - صفت) وہ عورت جس کا ماتھا پٹینا اور بدنام ہو -  
مانتھا ٹھکننا - (۱ - عمارت) (۱) کسی کام کی بدنامی کے متعلق پہلے سے خبر ہو جانا -  
مانتھا ٹھکننا - (۱ - عمارت) (۱) سجدہ کرنا - عبادت کرنا - خوشامد کرنا -  
مانتھا رگڑنا - (۱ - عمارت) (۱) پیشانی ٹھسنا - عاجزی سے سجدے کرنا جبیرہ ساتی  
کرنا - (۲) خوشامد کرنا - نہایت عاجزی کرنا -  
مانتھا کوٹنا - (۱ - عمارت) (۱) سرینٹا (۲) افسوس کرنا -  
مانتھا گوندا - (۱ - عمارت) (۱) دائم الجس قیدی یا غلام کی پیشانی پر علامت بنانا -  
مانتھا مارنا - (۱ - عمارت) (۱) سر مارنا - مغز بھری کرنا - سر کھینا -  
مانتھے تینا - آفت آنا - مصیبت آنا - کسی کے سر جانا -  
مانتھے پراشائ چٹنا - (۱ - عمارت) (۱) پیشانی پر ستارے جمانا عورتیں جو صورتی  
کے لیے ایسا کرتی ہیں -  
مانتھے پر رافت ٹھیننا - (۱ - عمارت) (۱) خیر ہو جانا - آزاد ہو جانا -  
مانتھے پر پل پڑنا - (۱ - عمارت) (۱) نا لاض ہونا - ٹھسے ہونا - جس پر جیس ہونا -  
مانتھے پر سینہ ہونا - (۱ - عمارت) (۱) حلیف، غم یا شرمندگی کی وجہ سے پیشانی  
پر سینہ آ جانا -  
مانتھے پر جیکہ ہونا - (۱ - عمارت) (۱) کسی امر کا کسی پر منحہ ہونا -  
مانتھے پر شکن ہونا - (۱ - عمارت) (۱) پیشانی پر پل چرنا - رنج یا ناگوار سے پیشانی  
پر پل بڑ جانا -  
مانتھے پر گولی لگنا - (۱ - عمارت) (۱) کسی بات کے ہونے سے پہلے اس کی بڑی  
علامتیں نظر آنے لگنا -  
مانتھے جانا - (۱ - عمارت) (۱) ذہر بڑنا - سر لگنا - تھینا (۲) نقصان ہونا -  
مانتھے چاند ٹھوڑی تارا - (۱ - مثل) (۱) خوب صورتی کی تعریف یعنی ماتھا چاند  
ساروشن ہے - اور ٹھوڑی تارے کی طرح چمک رہی ہے -  
مانتھے کا گٹا - (۱ - عمارت) (۱) وہ نشان جو سجدے کرتے کرتے پیشانی پر پڑ جاتا ہے -  
مانتھے مارنا - (۱ - عمارت) (۱) داپس کرنا - لوٹنا - پھیرنا - واپس کرنا  
مانتھے مرھنا - (۱ - عمارت) (۱) ذمے ڈالنا - زبردستی کوئی بات تھوپنا -  
مانتھے ہونا - (۱ - عمارت) (۱) فتنے ہونا -  
مانتھر - (ما - تھر) (س - ا - ہ) [نڈ] (۱) متھر کا رہنے والا - (۲) کاستھوں کی ایک نیت  
(۳) متھر کے برہمنوں کی ایک ذات -

ماتی (ما - تی) (۱ - ہ - صفت) (۱) سرشار مست - سوائی - مدبوشت - ممنور (۲) بالغ - نوجوان  
(۳) شاداب - شگفتہ - نرؤنازہ (۴) کامل - پورا - بھر پور -  
ماٹ [۱ - ہ - ہ] (۱) مٹکا - خم (۲) نیل کا خوش -  
ماٹ بگڑنا (۱ - عمارت) (۱) خراب ہو جانا (۲) کتیا افزا اڑنا -  
ماٹھ (۱ - ہ - ا) [مٹ] (۱) بھٹی (۲) [نڈ] بڑا مٹکا - خم - گول (۳) جھونپڑا (۴) خانقاہ  
(۵) ہندو فقیروں کی بھونپڑی (۶) مذہبی مدرسہ - پاٹ - شانہ -  
ماٹھو (ماٹھو) (۱ - صفت) (۱) مسخہ آرمی - بیوقوف شخص - (۲) ایک قسم کا بندر -  
ماتی (ماٹی) (۱ - صفت) (۱) مٹی - خاک - ڈھول - گرد - بخار (۲) زمین - دھرتی -  
ماتی چھانکنا (چھکننا) (۱ - عمارت) (۱) جلنا - حسد کرنا - دشمنی کرنا - تیر کرنا -  
ماتی میں کرنا - (۱ - عمارت) (۱) خاک میں ملنا - بدن کامٹی میں ملنا - دفن ہونا (۲) خواب  
ہو جانا - بناہ ہو جانا - بگڑ جانا -  
ماتور - ماتورہ (ما - تور، ماٹورہ) (ع - صفت) (۱) اثر قبول کیا ہوا (۲) جزا دیا گیا  
(۳) نقل کیا ہوا -  
ماجد (ما - ج) (ع - صفت) (۱) بزرگ - قابل احترام شخص - معزز -  
ماجدہ (ما - ج - دہ) (ع - صفت) (۱) قابل تعظیم عورت - مغفلہ - محترمہ - بزرگ عورت  
ماجد کی تائینٹ -  
ماجو (ما - جو) (۱ - ہ - نڈ) (۱) ماژو ایک دوا کا نام -  
ماجورج (ما - جو - ج) (ع - صفت) (۱) ایک قوم جو حضرت یافث بن نوح کی اولاد سے  
ہے - تاتاری لوگ - یا جو ج ماجوج -  
ماجور (ما - جو - ر) (ع - صفت) (۱) اجرد یا گیا - ثواب دیا گیا - نیک بدلہ دیا گیا -  
ماہوم (۱ - ہ - نڈ) (۱) مجنون کا مخرب (۲) ایک مٹھائی جس میں بھنگ لائی جاتی ہے -  
ماجھی (ما - جھی) (۱ - ہ - نڈ) (۱) لاج - کستی چلانے والا -  
ماچا (ما - چا) (۱ - ہ - نڈ) (۱) اونچی اور بہت بڑی چار پائی (۲) وہ اونچی جگہ جہاں  
بیٹھ کر کھیت سے پرندوں کو لڑاتے ہیں - ٹانڈ - مچان -  
ماچاٹور (۱ - ہ - صفت) (۱) جو ہر وقت چار پائی پر بڑا رہے - سست - کاہل (۲) راجپوت  
سپاہیوں کی ایک قسم جو بھنگ میں مست پڑے رہتے تھے کہ وقت جنگ بڑی  
بہادری دکھاتے تھے - انہیں اکبر کے عہد میں احدی کہا جاتا تھا -  
ماچھی (ما - جھی) (۱ - ہ - مٹ) [مچھی] (۱) ہا سی (پن) - سقد - بہشتی -  
ماچی (ما - جھی) (۱ - ہ - مٹ) (۱) چھوٹی چار پائی - پگڑھی (۲) وہ جالی دار تھیلہ جو  
گاڑی کے پیچھے اسباب سفر رکھنے کے لیے ہوتا ہے - (۳) لکڑی کا وہ  
آجر جو بل چلانے وقت بیلوں کے گلے میں ڈالتے ہیں -  
ماچی (ما - جھی) (ع - صفت) (۱) نیست کرنے والا - مو کرنے والا - مٹانے والا -  
ماخذ (ما - خذ) (ع - ا - ہ) [نڈ] (۱) وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے - اخذ کرنے یا لینے  
کی جگہ - منبع - نکاس (۲) اصل - بنیاد (۳) مادہ - مبداء -  
مانخوڑ (ما - خوڑ) (ع - صفت) (۱) گرفتار - پکڑا ہوا - پھنسا ہوا - باز پرس میں مبتلا  
(۲) اخذ کیا ہوا - جمع - مانخوڑین -  
مانخوڑ کرنا (۱ - عمارت) (۱) پکڑنا - گرفتار کرنا (۲) پھنسانا - پٹینا (۳) الزام لگانا -  
مانخولیا (ما - خول - یا) (یو - ا - نڈ) دیکھیے مانخولیا -  
مادوخ (ما - دوخ) (ع - صفت) (۱) تعریف کرنے والا -  
ماتور (ماتور، ات - احث) (۱) والدہ - ماں - اماں - ماتا - جمع : ماداں

مارچ بیچ پریم - سیاہ رنگ کا گٹھا جو بھنڈے کے سر پر لگا دیتے ہیں (۲)  
سانپ کی سی لہر (۳) کئی سانپوں کے مانند باہم پیچیدہ تصویر (۴) بیچ دار  
راستہ - ٹیڑھا راستہ -

مارخور - (ف-۱-اند) ایک قسم کا جنگلی بکرا -  
ماوروزبان - (ف-صفت) کنایتاً منافق آدمی کے لیے کہتے ہیں -  
مار زلف - (ف-صفت) زلف کا سانپ - معشوق کی زلف کو سیاہی اور بیچ خم  
کی وجہ سے سانپ سے استعارہ کرتے ہیں -

مار حناک - (ف-۱-اند) وہ سانپ جو بادشاہ حناک کے کاندھوں پر پیدا  
ہو گئے تھے - اور آدمی کا بھیجا کھاتے تھے -

مار گزیرہ - (ف-صفت) وہ جسے سانپ نے کاٹ کھایا ہو -  
مار گزیدہ از بسماں نبی ترسد - (ف-مض) سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا  
ہے جس چیز سے نقصان پہنچا ہو اس کے ہم شکل سے بھی خوف آتا ہے -

مارگیر - (ف-۱-اند) سانپ بچھڑنے والا سپیرا (۲) مکار - دغا باز - جیلہ ساز -  
مارگیسو - (ف-صفت) معشوق کی بیچ دار زلف - کاکل - معشوق کی لٹ -

مار ماہی - ایک قسم کی بھلی - بام چھل -

مار مہرہ - (ف-۱-اند) وہ جہر جو سانپ کے سر سے نکلا جاتا ہے (۲) زہر کا تریاق

مار (۱-اصح) (۱) چوٹ - ضرب - مار پیٹ - زرد کوکب (۲) دھکا - حد مرہ - آسیب

(۳) ڈکھ - درد - تکلیف - عذاب - رنج - کوفت (۴) تنگی - مفلسی -

(۵) ٹوٹا - خسارہ - گھاٹا - حق تلفی - خیانت (۶) ٹوٹ - غارت (۷) سزا

(۸) غضب الہی - وبال (۹) کثرت - بہتات - افراط (۱۰) طلاج و دفعیہ

مصلح - بدرقہ (۱۱) لالچ - طبع (۱۲) فریب - دغا - دھوکا - چال (۱۳) توڑ

زور (۱۴) سعی - کوشش (۱۵) کاروبار - کام کاج (۱۶) خرچ - صرفت -

(۱۷) لعنت - پشکار - مٹھنکار - بددعا - (۱۸) دھکی - ڈراوا (۱۹) ہلاک

کرنے والا (۲۰) پوتی مٹی (۲۱) جگنی مٹی جس میں دھان پیدا ہوتا ہے -

(۲۲) مارنا کا امر -

مار اتارنا - (۱-محاورہ) (۱) مار ڈالنا - ہلاک کرنا (۲) مرنے کے قریب کر دینا -

(۳) برباد کرنا تباہ کرنا - (۴) فریفتہ کرنا - عاشق بنا لینا - موہ لینا -

مار بھگانا - (۱-محاورہ) مار کر بھگانا - شکست دینا - ہرا دینا -

مار بیٹھنا - (۱-محاورہ) (۱) ٹھونک دینا - پیٹ دینا (۲) غضب کر لینا - مار لینا -

مار پٹائی - مار پیٹ - (۱-اصح) مار کٹائی - زرد کوکب - لڑائی جھگڑا -

مار پٹنا - (۱-محاورہ) مارا جانا - زرد کوکب ہونا -

مار پیٹ کے - (۱-مقولہ) بڑی مشکل سے - وقت سے -

مار پیٹ کیے جانا - (۱-محاورہ) (۱) متواتر مارے جانا (۲) کٹائیا کوشش

کیے جانا - کوشش میں کسر نہ اٹھا رکھنا -

مار پیچھے سنوارا - (۱-مض) لڑائی کے بعد صلح - رسوائی کے بعد نیک نامی -

زلفت کے بعد عزت -

مار چلنا - (۱-محاورہ) مار شروع کر دینا -

مار دیوانا - (۱-محاورہ) پھوانا - زرد کوکب کرنا -

مار دھکاڑا - (۱-اصح) (۱) مار پیٹ - زرد کوکب - (۲) لڑائی - جنگ و جدل -

(۳) ڈانٹ ڈپٹ -

مار پر خطا (ف-۱-اصح) حرامی - ولد الزنا -  
مار پیر آزاد دن - صفت، مکمل آزاد - بہتر قسم کی مذہبی یا اخلاقی پابندیوں  
سے آزاد -

مار پیر ہونا - مار رخو اہر کرنا (۱-محاورہ) گالی گلوچ کرنا - ایک دوسرے  
کو گالیاں دینا -

مار چودہ (بازاری گالی) جس نے اپنی مال کے ساتھ زنایا ہو - شریر - حرام زادہ  
بد ذات -

مار خواہی کرنا - (۱-محاورہ) مال کی گالی دینا -

مار رضاعی - (ف-۱-ع-۱-اصح) دودھ پلانے والی -

مار زیاد - پیدا نشی - جنم کا - جیسے مار زارا ندھا -

مار علیا - (ف-۱-اصح) سونیلی ماں -

مار لگیتی - (ف-۱-اصح) زمین - دھرتی ماتا -

مار لڑا - (۱-اصح) (ف-۱-اصح) ماں سے متعلق -

مار ری (۱-اصح) (ف-۱-اصح) ماں کی طرف منسوب (۲) پیدائشی - فطری -

مار ری زبان - (ف-۱-اصح) ماں کی زبان - گھر کی زبان - ذاتی زبان اپنی بولی

ماوہ (۱-اصح) (ف-۱-اصح) عورت ذات - ترکی نقیض - استری -

ماوہ (۱-اصح) (ع-۱-اصح) (۱) ہر چیز کی اصل جس سے کوئی شے بنائی جائے

(۲) جو پر قابلیت - صلاحیت (۳) ماخذ - اصل - جز - طبع (۴) کسی

بات کے سمجھنے کی قوت - عقلی - ادراک - سمجھ (۵) جسم - وجود -

(۶) مواد - پیپ - جمع مواد -

ماوہ پرست - (ع-۱-اصح) (ف-۱-اصح) ماوہ کو سب کچھ سمجھنے والا - خدا کا منکر - دہریہ -

ماوہ ہونا (۱) یاقوت یا استعداد ہونا (۲) کسی چیز کی اصلیت (جزو) ہونا -

ماوہ تولید - وہ رفیق ماوہ جو مرد کے عضو تناسل سے خارج ہوتا ہے - اور

استقرار حاصل کا باعث بنتا ہے (انگ) (Semen)

ماوہ (۱-اصح) (ع-۱-اصح) ذاتی - اصلی - قدرتی - طبعی -

ماوہ یات (ماوہ - یات) (ف-۱-اصح) مادیت کی جمع - مادی چیزیں - مخلوقات -

ماوہ یان (ماوہ - یان) (ف-۱-اصح) یہ لفظ واحد ہے - گھوڑی ماوہ اسپ -

ماوہ یوت (ماوہ - یوت) (ع-۱-اصح) (۱) ہرسانیت جمعیت - ماوہ ہونا - جمع : ماوہیات

ماوہ یوت (ف-۱-اصح) ہر حیوان اور پرندگی ماوہ -

ماوہ یوت (Modern) (انگ) (صفت) دیکھیے موڈرن -

ماوہ (Model) (ماوہ - ڈل) (انگ) (۱) نمونہ - نقشہ (۲) ناپ - پیمانہ

(۳) سانچہ - قالب (۴) طور طریق -

ماوہ (۱-اصح) (ع-۱-اصح) (۱) بنا رہا وہ جگہ جہاں سے اذان دی جائے جہاں سے

کسی چیز کا اعلان یا منادی کی جائے -

ماوہ (۱-اصح) (ع-۱-اصح) (۱) اجازت دیا گیا -

مار (ف-۱-اصح) (۱) سانپ - ناگ - افعی - جمع : ماراں - مارہا -

مار آستین (ف-۱-اصح) بیٹھی چھری - بغلی گھونسہ - دوست نمادشیں -

مار بربغ (ف-۱-اصح) (مض) خزانے پر سانپ - اس کی بوسے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس

کے پاس دولت تو ہو مگر نہ خود اپنی ذات پر خرچ کرے اور نہ کسی کو

دے -

مار مار کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بیٹھے کا حکم دینا (۲) جنگ جمل پر آگ لانا (۳) سرزنش کرنا  
تارنا (۴) نہایت کوشش کرنا۔ خوب جدوجہد کرنا۔ (۵) بہت محنت  
وشقت کرنا (۶) نہایت جلدی کرنا (۷) مار پیٹ کرنا (۸) شور  
مچل کرنا۔

مار مارنا۔ (۱- محاورہ) بیٹھنا۔ زد و کوب کرنا۔

مار مار ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) مار مار کرنا (۲) بڑا تقاضا یا تاکید ہونا۔

مار مرنا۔ (۱- محاورہ) دوسرے کو قتل کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ خودکشی کرنا  
مار میں جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ڈوبنا۔ ضائع ہونا۔ جانا ہونا (۲) ٹٹ جانا۔  
خارت جانا (۳) بیٹھے کھاتے میں پڑنا۔ وصول نہ ہونا۔

مار مٹانا۔ (۱- محاورہ) مار بھگانا۔ شکست دینا۔

مارا (ما۔ ما۔) (۵- صفت) (۱) کشتہ۔ (۲) مقتول (۳) ڈسا ہوا گزیدہ (۳) تباہ شدہ۔  
(۴) دکھی۔ ستا یا ہوا۔ مارا ہوا۔ مڑا۔

مارا جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) قتل ہونا ہلاک ہونا (۲) ضائع ہونا۔ تلف ہونا (۳) تباہ ہونا  
برباد ہونا (۴) غائب ہونا (۵) ذلیل ہونا (۶) ٹٹ جانا۔ جوڑی ہو جانا۔ (۷) بلا  
میں پھینسا۔ گرفتار ہونا (۸) شامت آنا (۹) فوج کا کٹ جانا۔

مار دھاری۔ (ق) مار پیٹ۔ جھگڑا۔

مارا مار۔ (۱- نث) (۱) کثرت۔ افراط۔ بہتات۔ زیادتی۔ (۲) افزونی (۳) کوشش۔

سی۔ دوز دھوپ (۳) مار پیٹ۔ مار دھاڑ (۴) ہل چل۔ (۵) افزائش۔ بھاگڑ

(۵) محنت۔ جان فشانی۔ مشقت (۶) کش مکش۔ کشاکش۔ دھکا پیل (۷)

ظلم و ستم ہو کسی پر ہر طرف سے ہو (۸) بوجھ۔ لگاتار۔

مارا مار کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دوز دھوپ کرنا۔ بہت کوشش کرنا (۲) جلدی  
کرنا۔ شنی کرنا۔

مارا مارا پھرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) آوارہ پھرنا۔ خراب و خستہ پھرنا۔ در بدر پھرنا  
(۲) ٹھوکرین کھاتے پھرنا۔ بھٹکتے پھرنا۔

مارا ہوا۔ (۱- صفت) (۱) قتل کیا ہوا (۲) تباہ کیا ہوا۔ برباد کیا ہوا۔ اچھا ہوا  
(۳) کشتہ کیا ہوا۔

ماربل (Marble) (ماربل) (انگ۔ ۱- مذ) [ سنگ مرمر۔ ایک قسم کا سفید

ماتریا (۱- صفت) جھلک۔ ہلاک کرنے والا۔

مارتا (ما۔ تا) (۵- ۱- مذ) مارنے والا۔ ضرب لگانے والا۔

مارتا پیر۔ (۱- مذ) (۱) زبردست آدمی۔ جو دوسرے پر قابو پا لے۔

مارتے خال۔ (۱- مذ) (۱) زبردست۔ زور آور (۲) بہادر (۳) ظالم۔

مارتے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے۔ کتے کا منہ نہیں پکڑا جاتا (۱- مثل) بد زبان کی  
بد زبانی نہیں روکی جاسکتی۔ مارنے والے کا ہاتھ تو پکڑا جاسکتا ہے۔ مگر کسی  
کی زبان کو نہیں روکا جاسکتا۔

مارتے کے پیچھے بھاگتے کے آگڑی۔ (۱- ۱- مذ) (۱) متعلق کہتے ہیں۔

مارتے مارنے پھور کر دینا۔ گھمڑی بنا دینا۔ (۱- محاورہ) بہت مارنا۔ بڑی  
طرح بیٹھا۔ نہایت سخت مارنا۔

مارتول۔ (ما۔ تول) (۵- ۱- مذ) [ مٹھوڑا۔ موگڑا۔ ٹھوکے کا آلہ۔

مارٹ۔ (Mart) (انگ۔ ۱- مذ) [ نیلام گھر (۲) منڈی۔ تجارتی مرکز۔

ماروینا۔ (۱- محاورہ) (۱) قتل کر دینا۔ ہلاک کر دینا (۲) مار پیٹ کرنا (۳) شکست  
دینا۔ ہرا دینا (۴) دست درازی کر لینا۔

مار ڈالنا۔ (۱- محاورہ) (۱) قتل کر دینا۔ ہلاک کر دینا (۲) تباہ کرنا۔ برباد کرنا۔

عاشق بنا لینا۔ فریفتہ کر لینا۔ موہ لینا (۳) بیٹاب کر دینا۔ پھڑکا دینا  
(۵) ہنسائے ہنسائے ٹوٹا دینا۔

مار ذبح کرنا۔ (ق) (۱- محاورہ) [ کام تمام کرنا۔ میتانہ چھوڑنا۔ قتل غارت  
کرنا۔ مار ڈالنا۔

مار رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کام تمام کرنا۔ بچ کر نہ جانے دینا۔ مڑے کے برابر  
کر دینا۔ (۲) فریفتہ کر لینا۔ عاشق بنا لینا (۳) تباہ کر دینا۔ برباد کر دینا۔

(۴) ناجائز طور پر قبضہ کر لینا۔ چتیا لینا۔

مار رہنا۔ (۱- محاورہ) زیادتی رہنا۔ افزونی رہنا۔

مار سے بھوت بھاتا ہے۔ مار کے آگے بھوت بھاتا ہے۔ (۱- مثل)  
مار کے آگے سب سرکش (۲) شرارت دہر ہو جاتی ہے۔ مار سے ہی شرم  
درست ہوتے ہیں۔

مار کٹائی۔ مار کٹیا۔ (۱- محبت) مار پیٹ۔ مار دھاڑ۔ زد و کوب۔

مار کر پٹا کر دینا۔ (۱- محاورہ) بہت مارنا۔ نہایت زد و کوب کرنا۔

مار کھا جانا۔ (۱- محاورہ) دھوکے میں آ جانا۔ فریب میں آ جانا۔

مار کھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پٹنا۔ سزا پانا۔ ضرب کھانا (۲) ہار جانا۔ شکست کھانا  
(۳) فریب یا دغا بازی سے کھانا۔

مار کھانے کی باہیں۔ (۱- محاورہ) سزا مانے کا کام۔

مار کھانے کی نشانی۔ (۱- صفت) کم زور کے متقی ہیں استعمال ہوتا ہے۔

مار کھلوانا۔ (۱- محاورہ) پٹوانا۔ سزا دلوانا۔  
مار کے۔ (۱- تابع فعل) (۱) پیٹ کر۔ زد و کوب کر کے (۲) بہت۔ بے حد۔

کثرت سے۔

مار کے آؤ بنا دینا۔ (۱- محاورہ) اتنا مارنا کہ بدن پر نشان پڑ جائیں۔ بہت  
زیادہ مارنا۔

مار کے پچھا دینا۔ مار کے لٹا دینا۔ (۱- محاورہ) بہت مارنا۔ بے حد  
زد و کوب کرنا۔

مار گتیاں تیری آس۔ (۱- مثل) لو کر مالک کو یا بیوی خاوند کو کہتی ہے  
کہ جتنا چاہے مارے۔ میں تو تیرے بھروسے بہر ہوں۔

مار لانا۔ (۱- محاورہ) (۱) شکار کرنا۔ مار کر لے آنا (۲) غضب کر کے لینا۔ دھوکے  
سے حاصل کرنا۔ پکڑ لینا۔ ٹوٹ کھسوٹ کر لانا۔

مار لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) دبا لینا۔ غضب کر لینا (۲) لوٹ لینا۔ تباہ کر دینا  
(۳) نہیں کرنا۔ ناجائز طور سے لے لینا (۴) پیٹ لینا۔ تھپڑ لگانا۔ (۵)

جیت لینا۔ فتح کر لینا۔ مغلوب کر لینا (۶) قابو کر لینا۔ مطیع کر لینا۔

مار مار۔ (۱- محبت) ہنکارتے جانے کا شور۔

مار مار دھول اڑا دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت مارنا (۲) مار کر۔ دبا کر۔ ناچار  
مار مار کر کے۔ (۱- تابع فعل) جلدی کر کے بہت کوشش کر کے۔ شکل تمام

مار مار کر کے پھرس نکال دینا۔ (۱- محاورہ) بہت مارنا۔

مار مار کر کے سیدھا کرنا۔ (۱- محاورہ) بہت پیٹ کر درست کرنا۔



(۳) حملہ کرنا (۴) سزا دینا - ڈانٹنا - (۵) لگانا - جڑنا (۶) وار کرنا - حملہ کرنا - قتل کرنا - ہلاک کرنا (۷) فنا کرنا - نیست و نابود کرنا - (۸) فسخ کرنا - جیتنا - تیس کرنا - (۹) بازی لینا - کشتی جیتنا (۱۰) حریف کے مہرے کو بیٹھنا (۱۱) ہسکانا - دھکانا - بھکانا (۱۲) پھانسا (۱۳) مہین کرنا - سخرہ بڑھ کرنا - اڑا لینا (۱۴) ٹپکانا - دسے مارنا - (۱۵) پھیلا کرنا (۱۶) قابو میں کرنا (۱۷) اشارہ کرنا (۱۸) پانی کے اندر جانا (غوطہ) -

مارننگ (Morning) (مارننگ) [انگ - امت] صبح -

مارنے والے سے جلائے والا بڑا سے [۱- ش] اُس موقع پر ہوتے ہیں جب دشمن بڑائی باہلاکت میں فوری کوشش کر چکے اور خدا کی مہربانی سے کوئی نقصان نہ پہنچے -

مارو - (ما - رو) [۵ - ا - مذ] (۱) مارنے والا - ہلاک کرنے والا (۲) مٹ - ایک راگنی (۳) مخالف سمتوں میں ملے ہوئے مہن کے دوہینگ -

مارواڑ - (مار - واڑ) [۵ - ا - مذ] (۱) جو دھپور کا علاقہ (۲) ایک قسم کے گیت جو راجپوتانہ میں گائے جاتے ہیں - (۱) ایک قسم کا سفید کیڑو جس کے پڑوں پر سفید پتیاں ہوتی ہیں -

ماروت - (ما - روت) [ع - ا - مذ] ایک فرشتہ جو ہاروت فرشتہ کے ہمراہ دینا میں آیا تھا - مشہور ہے کہ دونوں ایک طوافت زمہ پر عاشق ہو گئے اور اُسے آسمان پر جانے کا علم بتا دیا - وہ زمہ تو تیار ہن گئی اور اُن کو یہ سزا ملی کہ تا قیامت کنویں میں اُسٹے لٹکے ہوئے ہیں - یہ لوگوں کو جادو سکھا یا کرتے تھے -

ماروں گھنٹا پھونکے آنکھ - [۱- ش] بے عمل اور بے جوڑ بات -

مارمی - (ما - رمی) [۵ - ا - مٹ] مار -

مارمی پڑنا - (۱) محاورہ (مار پڑنا - شامت آنا - جان پرینا - صدر پینیا -

مارے سے (۱-۵) تابع فعل (۱) وجہ - سبب - خاطر - لیے - واسطے - کارن -

(۲) مارنا کا مضارع (۳) مارے ہوتے - مرکبات میں مستعمل ہے جیسے شامت مارے -

مارے آپ لگاؤ سے تاپ - (۱- ش) آپ کرے اور دوسرے کے سر لگاتے

مارے اور رونے نہ دے - (۱- ش) زبردست ظلم کرے اور فریاد بھی نہ سے -

مارے باندھے - (۱- تابع فعل) زبردستی - مجبوری سے -

مارے باندھے کا سودا - (۱- مذ) مجبوری کا معاملہ -

مارے جوتیوں کے سر پر ایک بال نہ رکھوں - (۱- محاورہ) کسی پر بہت سختہ ظاہر کرنے کے لئے یہ کلمات بولتے ہیں -

مارے سیاہی نام سردار کا - کاٹے باڑھ نام تلوار کا - (۱- ش) کام کوئی کرے نام کسی کا ہو -

مارے سے پیدا یا اچھا - (۱- ش) دھکی سے کام نکال لینا چاہیے -

مارے مارے پھرنا - (۱- محاورہ) بھٹکتے پھرنا - بیکار گھومنا -

مارے نہ چوبی نام فتح خاں - (۱- مش) ہفت میں بہادر مشہور ہو گئے -

مارے نہ کوئے دل ہی دل میں کھونٹے - (۱- ش) چپکے چپکے دل کو تکلیف پہنچانا - اندری اندر دل دکھانا -

مارے ہنسی کے لوٹ جانا - (۱- محاورہ) ہنسی کی شدت سے بے تاب ہو جانا

مارٹر - (Mortar) (۱) [انگ - امٹ] ادھکی ہاون (۲) ایک قسم کی چھوٹی توپ -

مارجین - (Margin) مار جین - [انگ - ا - مذ] حاشیہ - آخری حد (۳) زائد رقم جو کسی بیٹی پوری کرنے کو رکھی جاتے -

مارچ - (March) [انگ - ا - مذ] سنہ عیسوی کا تیسرا مہینہ - جو ۳۱ دن کا ہوتا ہے (۲) کوچ - روانگی (۳) باقاعدہ قدم اٹھانا - معین رفتار سے چلنا -

مارچ پاسٹ (March Past) [انگ - ا - مذ] فوج کی سلامی -

مارشل - (Marshal) (مار - شل) [انگ - ا - مذ] سپہ سالار - جنرل - سب سے اونچے درجے کا فوجی افسر -

مارشل - (Marshal) (مار - شل) [انگ - ا - صفت] (۱) جنگی - حربی - عسکری - فوجی - (۲) جنگ جو - بہادر -

مارشل لا (Martial Law) [انگ - ا - مذ] فوجی قانون - جنگی قانون -

مارفیا - (Morphia) (مار - فیا) [انگ - ا - مذ] افیون کا ست -

مارک - (Mark) [انگ - ا - مذ] (۱) جرمنی کا ایک سکہ (۲) سونے چاندی کا پیمانہ -

مارک - (Mark) [انگ - ا - مذ] (۱) نشانی - نشانہ - علامت (۲) کوئی نشان جو خواندہ آدمی دستخط کی جگہ بنائے (۳) امتحان کے سوالات کے نمبر (۴) داغ - دھبہ (۵) معیار سے بلند -

مارک کرنا - (۱- محاورہ) نشان لگانا - علامت بتانا - نقش کرنا (۲) نشان جو دھوا کپڑوں پر لگاتا ہے - (۳) نقشے پر کسی نشانی کو ظاہر کرنا -

مارکا - (مار - کا) [ا - ا - مذ] (۱) علامت - پیمانہ - نشانی (۲) وہ نشان جو کسی سلطنت کی طرف سے اس سلطنت کی علامت ظاہر کرے (۳) وہ علامت جو کوئی کمپنی اپنے کارخانہ کی مصنوعات کے لیے مقرر کرے -

مارکر - (Marker) (مار - کر) [انگ - صفت] (۱) نشان لگانے والا - نشان کرنے والا (۲) گھوچی -

مارکسزم - (Marxism) (مار - کم - زم) [انگ - صفت] مشہور جرمن

اشتراکی کارل مارکس کا عقیدہ - اشتالیات - مارکسی نظریات -

مارکسی - (مار - ک - سی) [ا - ا - مذ] اشتالی نظریات کو ماننے والا - کارل مارکس کے نظریات کا حامل -

مارکیتیت - (مار - ک - سی - بیت) [ا - ا - صفت] وہ اقتصادی - سیاسی اور سماجی نظریات جن کی بنا - کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے ڈالی تھی -

مارکوئیس - (Marquis Quess) مار - کو - ایس [انگ - ا - مذ] نواب ڈیوک سے چھوٹا - ایک انگریزی خطاب

مارکیٹ - (Market) (مار - کیٹ) [انگ - ا - مذ] (۱) بازار منڈی - گڈری پیٹھ (۲) بازار گنے کا دن - اردو میں مارکیٹ کہتے ہیں -

مارگ - [س - ا - مذ] (۱) راستہ - راہ - باٹ - سیبل - طریق - پیٹھ (۲) طرح - طور - طریقہ - رنگ - ڈھنگ - (۳) زہر کا اتار - بندھ (۴) چارہ - علاج - تدریس - آہستہ -

مارنا - (مار - نا) [۵ - حص] (۱) پیٹنا - زدو کو ب کرنا (۲) ضرب لگانا چوٹ لگانا

ماضی بعید - (ع-ف-ت-امٹ) وہ ماضی جس سے دُور کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ جیسے آیا تھا۔

ماضی تثنائی - ماضی شمرطی - (ع-ف-ت-امٹ) وہ ماضی جس میں تثنائی شرط پائی جاتے۔ جیسے کاش وہ آتا۔

ماضی قریب - (ع-ف-ت-امٹ) وہ ماضی جس سے قریب کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ جیسے عید آیا ہے۔

ماضی مطلق - (ع-ف-ت-امٹ) وہ ماضی جس سے زمانہ کے قریب و بعید ہونے کا لحاظ نہ ہو۔ بلکہ مطلق گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ جیسے باسط آیا۔

ماضی معطوفہ - (ع-ف-ت-امٹ) وہ ماضی جس میں کسی بات یا کلام کا بار بار ہونا ظاہر ہو بذریعہ عطف۔

ماضیہ - (ما-ضی-یہ) (ع-صفت) گزرا ہوا۔ بیتا ہوا۔ گزشتہ۔ پیشتر کا۔

ماخ - (ف-ت-ا-ند) ایک قسم کا کبوتر۔

ماقوتی - (ما-قوتی) (ع-امٹ) ایک قسم کا حلوا۔

ماکول - (ما-کول) (ع-صفت) (۱) کھایا ہوا۔ (۲) کھانے کی چیز۔ غذا۔

خوراک۔

ماکولات - (ما-کول-ات) (ع-کول-ات) (۱) ماکول کی جمع۔ کھانے کی چیزیں۔

ماکھن - (ما-کھن) (۱-۵-ا-ند) (۱) مکھن۔ مٹکا۔ کچا گھی (۲) روغن۔ تیل۔ (۳) گاڑھا پکا ہوا دودھ۔ ربڑی۔

ماکھو - (ما-کھو) (۱-۵-امٹ) (۱) افواہ۔ شہرت۔ چرچا۔ (۲) شہد کی مکھی۔

ماکیاں - (ما-ک-یاں) (ف-ت-امٹ) مرغی۔ لفظ جمع نہیں ہے مفرد ہے۔

ماگھ - (س-ا-ند) ہندی آٹھویں مہینے کا نام۔

ماگھ تنگی بیٹا کھھوکی - (۱-۵-امٹ) ہمیشہ بغلس۔ سدا کنگال۔

مال - (۱-۵-امٹ) (۱) دھرو جو چرخے میں نکلے کو متحرک کرتی ہے۔ (۲) مالا۔

مار - (۳-۱-پن) (پن) کوئیں کا موٹا رتہ۔ (۲) موٹی۔

مال - (Mall)۔ (انگ-کا-نٹ) شہر کی بڑی سڑک۔ ٹھنڈی سڑک۔

خیابان۔

مال - (ع-ا-ند) (۱) دھن۔ دولت۔ نقدی۔ مایہ۔ پونجی (۲) اسباب۔ جاندار

سامان (۳) سوداگری کی چیزیں (۴) خاص ملکیت جس میں دوسرے کا تصرف نہ ہو۔ (۵) بیش قیمت چیز قیمت نئے (۶) گائے۔ بیہنس۔ موٹی۔

عرب میں اونٹ۔ ذبہ وغیرہ۔ (۷) مال گزارا۔ لگان۔ محصول۔

خراج۔ معاملہ (۸) بیدار۔ آمدنی۔ زراعت (۹) نفیس کھانا۔ قیمتی

طعام (۱۰) اصلی حقیقت۔ کائنات۔ بہتی۔ وجود۔ (۱۱) ڈاک کی فیصل

(۱۲) وہ چیز جس پر سچے پڑے۔ لائری کا انعام (۱۳) ایک ہی عدد کے

باہمی ضرب سے جو حاصل ہو۔ جیسے سولہ۔ چار کا مال ہے۔ (۱۴) نیل جو

فروخت ہوتا ہے (۱۵) دانے دار نیل کی کار جو ٹھوس پانی خشک ہو

جانے پر رہ جاتی ہے۔ (۱۶) خوبصورت اور نوسرخ نوج (۱۷) خوب صورت

لڑکا۔

مال اٹانا - (۱-۵-امٹ) (۱) دوسرے کا مال۔ فضول خرچی کرنا (۲) لذت اور نفیس چیزیں

کھانا۔ (۳) روپیہ خرید کرنا۔ فین کرنا۔ خانت کرنا۔

مال باز یافتہ - (ع-ف-ت-ا-ند) وہ مال جو طرم (چور) سے برآمد ہوا ہو۔

مار سے ہول کے - (۱-۵-تایع) فعل (خوف) کی شدت سے۔ ڈر کے مارے۔

ماٹرا - (ما-ٹرا) (۱-۵-صفت) (۱) بودا۔ کم زور۔ کم طاقت۔ ناتوان (۲) ڈبلا پتلا۔

لاغر (۳) بوڑھا۔ ضعیف (۴) مغرب۔ اسکین (۵) مغلس کنگال۔ تنگ دست

(۶) نکمٹا۔ خراب۔ کھوٹا (۷) حقیر۔ ناچیز (۸) مکینہ۔ ادنیٰ۔ پیچ۔

ماٹری - (ما-ٹری) (۱-۵-صفت) (۱) ماٹرا کی تابش۔ کم زور۔ ناتوان۔ ضعیف۔

نخیزہ (۲) [صفت] کلفت۔ ابار (۳) اوپر کی منزل۔ اٹاری۔

مازو - (ما-زو) (ف-ت-ا-ند) [صفت] مازو ایک مشہور دوا۔

ماس - (س-ا-ند) (۱) مینہ (۲) جاندار۔ ماہ۔ (۳) گوشت۔

ماس سب کوئی کھاتا ہے۔ بڑی گلے میں کوئی نہیں باندھتا۔ [۱-۵-امٹ] اچھی

چیز سبھی چاہتے ہیں۔ بڑی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔

ماس کھاتے ماس بڑھے، گلے کھاتے بل ہو [۱-۵-صفت] گوشت کھانے سے

ساگ کھاتے اوچھ بڑھے ہوتا کہاں سے ہو۔ [۱-۵-صفت] بدن کا گوشت بڑھتا ہے، گلے

کھانے سے طاقت آتی ہے۔ ساگ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے

مگر طاقت نہیں آتی۔

ماس نوچنا - (۱-۵-امٹ) (۱) ماس کو کھانا بھینھوڑنا۔ گوشت اٹارنا۔

ماسٹر - (Master) (ماس-ٹر) (انگ-ا-ند) مالک۔ مختار۔ تابعی۔

(۲) آقا۔ کارخانے کا مالک (۳) صاحب خانہ۔ ماہر فن۔ حاکم (۴)

اُستاد۔ معلم (۵) کاربگر (۶) بڑے لوگوں کے بچوں کو ملازم اسی نام

سے پکارتے ہیں۔

ماسٹر پیس - (Masterpiece) (انگ-ا-ند) شاہکار۔ بہترین کاریگری

اعلیٰ صنعت۔

ماسکہ - (ما-س-ک) (ع-صفت) وہ قوت جو غذا کو معدے میں بھرنے کے لیے

روتی ہے۔

ماہری - (۵-۱-امٹ) مال کی بہن۔ خالہ۔

ماش - (۱-۵-ند) اُوڑو۔ ایک لیس دار نالج جس کی دال وغیرہ بناتے ہیں۔

ماش مارنا - (۱-۵-امٹ) (۱) ماش کے دالوں پر جاؤ تو ناکر کے کسی پر پھینکنا۔

تونا کرنا۔

ماشہ - (ما-شہ) (ف-ت-ا-ند) [صفت] آٹھ رتی کا وزن۔ تولہ کا بارہواں حصہ۔

ماشہ بھرا - (صفت) (۱) ایک ماشہ کی مقدار پورا آٹھ رتی (۲) ذرا سا۔ تھوڑا سا

ماشہ تولہ ہونا - (۱-۵-امٹ) (۱) ماشہ کی حالت پر قائم نہ رہنا۔

ماشو - (ما-شو) (ق-ا-ند) [صفت] ایک قسم کا کپڑا۔

ماشی - (ما-شی) (۱-۵-صفت) [صفت] ماش کے رنگ کا۔ سبز کا ہی۔ سیاہی یا گل سبز۔

ماضی - (ما-ضی) (ع-صفت) (۱) گزشتہ۔ گزرا ہوا زمانہ (۲) [صفت] مصدر سے

بنا ہوا وہ فعل جس سے گزشتہ زمانہ ثابت ہو۔

ماضی احتمالی - ماضی شکہ - (ع-ف-ت-امٹ) وہ ماضی جس سے گزشتہ

زمانہ میں کسی فعل کے صادر ہونے کا احتمال یا شک ہو۔ مثلاً بکر آیا

ہوگا۔

ماضی استمراری - ماضی ناقص - (ع-ف-ت-امٹ) وہ ماضی جس میں زمانہ

گزشتہ میں کسی فعل کا لگا تار واقع ہونا ظاہر ہو۔ جیسے کھاتا تھا یا

کھا رہا تھا۔

پرمیچا جاتے۔

مال کا منہ کرتا ہے جان کا منہ نہیں کرتا۔ (۱- مثل) بخیل کی نسبت بولتے ہیں۔ یعنی مال کے مقابلہ میں جان کی پروا نہیں کرتا۔

مال کا نقصان جان کی خبر۔ (۱- محاورہ) اُس وقت بولتے ہیں جب مال کا نقصان ہو کر جان بچ جائے۔

مال کٹنا۔ (۱) مال چوری جانا۔ (۲) مال کا کثرت سے بچنا۔

مال کنگنی۔ (۱- نٹ) ایک درخت جس کے بیج سے تیل نکالا جاتا ہے اور ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔

مال کھینچنا۔ (۱- محاورہ) مال کمانا۔ مال حاصل کرنا

مال کیا ہے۔ (۱- مقولہ) دولت کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا شے ہے۔

مال گزاری۔ (۱- نٹ) وہ بریل گازی جس میں مال روانہ کیا جاتا ہے۔

مال گزار۔ (۱- نٹ) مال گزاری ادا کرنے والا۔

مال گزاری۔ (۱- نٹ) زمین کا لگان۔ زمین سرکاری حصول (Land Revenue)

مال لا وارث۔ (۱- نٹ) وہ مال جس کا کوئی وارث اور دھوے وار نہ ہو۔

مال لئے سرکار کا ہڑا کھیلے بھاگ۔ (۱- مثل) دوسروں کے مال پر پیش آ کرانا۔

مال مارنا۔ (۱- محاورہ) بین کرنا۔ ٹھکانا۔ فریبے لینا۔ چوری کرنا۔

مال مارو۔ (۱- صفت) غبن کرنے والا۔ خرد برد کرنے والا۔ خائن۔ خاصب۔

مال متاع۔ (۱- نٹ) دولت۔ اسباب۔

مال مجرم۔ (۱- نٹ) چور۔ مال طرم۔

مال محکمہ۔ (۱- نٹ) مال جو بندر گیزی ناویا جہازوں کے لئے لگا کر لئے ہیں جہاز پر لدا اہل مال

مال مست۔ (۱- نٹ) دولت کے نشہ میں مرسار۔ دولت پر مغرور۔ بیگنا

مال مسروقہ۔ (۱- نٹ) وہ مال جو چوری کیا جائے۔ چوری شدہ مال۔

مال مصفت۔ (۱- نٹ) دولت یا کوشش کے بغیر حاصل کیا ہوا مال۔

رین داموں بنا ہوا مال۔

مال مصفت دی بے رحم۔ (۱- مثل) اُس موقع پر بولتے ہیں جب دوسرے کا مال بے دریغ صرف کیا جائے۔

مال مقوقہ۔ (۱- نٹ) وہ مال جو قرق کیا گیا ہو۔ ضبط شدہ مال۔

مال منقولہ۔ (۱- نٹ) وہ مال یا جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔

مال نموزی۔ نصیب غازی۔ (۱- مثل) بخیل کا مال کسی کو ملنے پر بولتے ہیں۔

مال والا ہارے۔ گال والا بچتے۔ (۱- مثل) آج کل پھربوں میں دی مقدمہ جیتتا ہے جس کا دلیل بہت بولنے والا ہوتا ہے۔

مال وقف۔ (۱- نٹ) وہ مال جو خدا کے نام پر عام استعمال کے لیے چھوڑ دیا جائے مثلاً مسجد۔ مندر۔ سرائے وغیرہ۔

مال و متاع۔ (۱- نٹ) سامان اور روپیہ پیسہ دولت و اسباب وغیرہ۔

مالی۔ (۱- نٹ) (۱) پھولوں۔ موتیوں یا سونے کا بنا ہوا ہار۔ (۲) ہنڈیوں کی تسبیح (۳) ایک درخت کا نام (۴) قطار۔ (۵) وہ نشان جو تیغ فولادی اور تیشہ ہندی کے دونوں طرف ہوتا ہے۔

مالا پھیرنا۔ چھنا۔ (۱- محاورہ) تسبیح پڑھنا۔ سمرن چھنا۔

مال برآمد۔ (ع- ف- ا- مذ) (۱) وہ مال جو سادرو کو بھیجا جائے۔ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں لے جا کر فروخت کرنے کی غرض (۲) چوری کا مال جو لزم سے واپس لیا گیا ہو۔

مال بچا بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) بین کرنا۔ خیانت کرنا۔

مال پر زکوٰۃ ہے۔ (۱- مثل) آمد پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ آمدنی ہی پر زکوٰۃ منسخر ہے۔

مال پرست۔ (ع- ف- صفت) مال کی پرستش کر کے والا۔ بندہ سیم و زر۔

مال بڑا پانا۔ (۱- محاورہ) بے محنت و مصت دولت ملنا۔

مال تال۔ مال ٹال۔ (۱- مذ) روپیہ پیسہ۔ مال و متاع۔

مال چیرنا۔ (۱- محاورہ) بین کرنا۔ مال معضم کرنا۔ غصب کرنا۔

مال حرام۔ (۱- صفت) ناجائز مال۔ چوری کا مال۔ بری کمائی۔ صفت کا مال۔

مال حرام ٹوڈ بچائے حرام رفت۔ (ف- مثل) ناجائز مال جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا جیسی بری کمائی تھی ویسی ہی بری جگہ خرچ ہوتی۔

مال حصہ داری۔ (ع- ف- ا- صفت) (۱) ساجھے کی پونجی۔ شرکت کا مال (۲) قانو

حصہ داری کا سرمایہ۔

مال خانہ۔ (ع- ف- ا- مذ) گودام۔ ذخیرہ۔ بھنڈار۔ کوشی۔ جنس گھر۔

مال دار۔ (ع- ف- صفت) دولت مند۔ دھنی۔ روپے والا۔ زبرد دار صاحب دار۔

مال داری۔ (ع- ف- ا- صفت) دولت مندی۔ تو بخری۔ ثروت۔

مال زادہ۔ (ع- ف- ا- مذ) حرام کا پھر پیشہ و صورت کا پھر۔ قریب سابق۔ بھڑوا

مال زادی۔ (ع- ف- ا- صفت) (۱) خاصہ عورت۔ زندگی قہ۔ بازاری عورت (دکھتی۔ ناگہ۔ دلالہ۔

مال سائر۔ (ع- ف- ا- مذ) مال گزاری کے علاوہ چنگی۔ سڑک۔ مدرسہ وغیرہ کے محاصل۔

مال ستے پر ڈھالنا۔ (۱- محاورہ) ستا بہنا۔

مال شراکت۔ (۱- محاورہ) حصہ داری کا مال۔ ساجھے پونجی۔

مال ضامن۔ (ع- ف- ا- مذ) نقدی کی ضمانت دینے والا۔ روپیہ ادا کرنے کا ذمہ دار۔

مال ضامنی۔ (ع- ف- ا- نٹ) مال کی ضمانت۔

مال ضبطی۔ (ع- ف- ا- مذ) سرکاری حکم سے قبضہ کیا ہوا مال۔ قرق کیا ہوا مال

مال طیب۔ (ع- ف- ا- مذ) پاکیزہ مال۔ حلال کی کمائی۔

مال عرب۔ پیش عرب۔ (ت- مثل) اپنا مال اپنی ہی آنکھوں کے سامنے محفوظ رہتا ہے۔

مال غنیمت۔ (ع- ف- ا- مذ) ٹوٹ کا مال۔ دشمن کا وہ مال چورائی میں پانچا

مالی غیر منقولہ۔ (ع- ف- ا- مذ) وہ مال جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا

جا سکے۔ جیسے زمین۔ مکان وغیرہ۔

مال فرود۔ (ع- ف- ا- مذ) (۱) مال اترنے کی جگہ۔ آڑھت۔ منڈی (۲) کوشی یا دوکان کا مال۔

مال کا بندوبست۔ (ع- ف- ا- مذ) خرچ کا انتظام۔ بندوبست۔ پیداوار

کا انصرام۔ مال گزاری کی تو بوز۔

مال کا برہ۔ (ع- ف- ا- مذ) وہ مال جس کی بازاریں مانگ نہ ہو اور کم قیمت

مال مال - (ما - لا - مال) (اُر - صف) (۱) دولت مند - تونگر - خوش حال - زر دار -  
 (۲) بہمت - کثرت - کثرت سے (۳) ہلیرز - معمور - بھرا ہوا -  
 مال مال کر دینا - امیر بنا دینا - دولت مند بنا دینا -  
 مال لچوا - (مال - پے - وا) (ہ - ا - ند) (۱) ایک قسم کی روشنی روٹی - ٹکٹلا -  
 مالتی - (مال - تی) (ہ - ا - ند) (۱) ایک بوٹی کا نام - ایک قسم کی بیل (۲) ایک قسم کے  
 پھول کا نام - جنیپلی (۳) جوان عورت (۴) دریا - چاندنی رات -  
 مالتی بسنت - (ہ - ا - ند) ایک گنتہ جو سونے کے درقوں اور موتیوں سے تیار  
 کیا جاتا ہے -  
 مالتی پھل - (ہ - ا - ند) جامل -  
 مالتی مالا - (ہ - ا - ند) جنیپلی کے پھولوں کا ہار  
 مالٹ - (مالٹ - ا - نگ) (۱) شراب سازی کے لیے تیار کیے ہوئے جو یا  
 کوئی اور اناج - شعیبہ -  
 مالٹا - (مال - ٹا) (اُر - ا - ند) ایک مشہور پھل جو ترش و شیریں ہوتا ہے -  
 مالدا - (ہ - ا - ند) ایک مشہور اعلیٰ قسم کا آم -  
 مال مسری - (مال - سن - ری) (س - ا - ند) ایک رنگینی جو بعد دو پہر لگنی پوس  
 میں گائی جاتی ہے - (۲) ایک خوشبودار پھولوں والا درخت -  
 مالیش - (مال - یٹ) (ف - ا - ند) (۱) ملنا - رگڑنا - (۲) متلی - جی کا متلا -  
 مالک - (مال - نگ) (ع - ا - ند) (۱) صاحب - آقا - خداوند (۲) خدا سے تعالیٰ -  
 رب - الہیور - (۳) کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا - (۴) خیمہ - شوہر - خاوند  
 پتی (۵) قابض - منقرض - مختار - اختیار والا (۶) حاکم - افسر - سردار  
 (۷) حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بہت بڑے امام - جن کے پیر و مالکی  
 کہلاتے ہیں -  
 مالک الملک - (ع - ا - ند) (۱) ملک کا مالک - بادشاہ - شہنشاہ (۲)  
 خدائے تعالیٰ -  
 مالک حقیقی - (ع - ا - ند) اصلی مالک - خداوند تعالیٰ -  
 مالک خود کا شمت - (ع - ف - ا - ند) اپنی زمین خود پونے والا مالک -  
 مالک علی الاطلاق - (ع - ا - ند) مالک مطلق - ہر کام کا مالک و مختار یعنی  
 خدائے تعالیٰ -  
 مالک کرنا - (۱) محاورہ) مالک بنانا - قبضہ دینا - مختار کرنا - اختیار دینا -  
 مالک مکان - (ع - ف - ا - ند) - گھر والا - صاحب خانہ -  
 مالک ہونا - (۱) محاورہ) (۱) وارث ہونا - جانی ہونا - قابض ہونا (۲) مختار ہونا  
 مجاز ہونا - (۳) سرپرست ہونا - مرنے ہونا -  
 مالکانہ - (مال - ل - کا - نہ) (ف - صف) (۱) مالک کے طور پر (۲) زمین داری کا  
 حق - یعنی زمین جو کا شمتکار سالانہ یا ماہانہ نقدی یا جنس کی صورت میں  
 زمین دار کو ادا کرتا ہے -  
 مالکانہ رسوم - (ف - ا - ند) ملکیت کا حق - حقیقت کا روپیہ -  
 مالکوس - (مال - کوس) (ہ - ا - ند) ایک راگ -  
 مالکی (مالکیم) (ع - صف) (۱) حضرت امام مالک سے منسوب - حضرت  
 امام مالک کا پیر و (۲) (ہ - ا - ند) ملکیت -  
 مالن - (مال - ن) (ہ - ا - ند) (۱) مالتی کی بیوی - پھول پیچنے والی -

مالوٹ - (ما - لوٹ) (ع - صف) عادی - شوگر - الفت کیا گیا - عزیز - پیارا -  
 انیس -  
 مالی - (ما - لی) (ہ - ا - ند) (۱) باغبان (۲) ایک قوم جو باغبانی اور کھیتی باڑی  
 کرتی ہے -  
 مالی - (ما - لی) (ف - صف) (۱) مال سے منسوب (۲) مال گزاری سے منسوب -  
 مالی پیشکار - (ع - ف - ا - ند) واصل - بانی نويس - مال گزاری یا معاملہ کا جمع  
 خرچ لکھنے والا - محرر مال گزاری -  
 مالی کام - (ع - ا - ند) مال گزاری کے متعلق کام - زمین کے متعلق کام کا ج -  
 مالیات - (ع - ا - نٹ) مالی امور خزانہ -  
 مالیاتی - (ما - لی - یاتی) (تی) مال کے متعلق - مالی معاملات متعلق (انگ) (Financial)  
 مالیات - (ما - لی - یات) (ف - ا - ند) (۱) پونجی - سرمایہ (۲) دھن - دولت  
 (۳) قیمت - مول (۴) قدر و منزلت - وقعت (۵) تشنیں - قیمت  
 جانچ -  
 مالچو گیا - (ما - لی - ٹو) (یا) (ف - صف) سودا - خیال خام - خلی داغ -  
 ایک قسم کا جنون - پائل پن - خفقان - ماخولیا -  
 مالیدہ - (ما - لی - دہ) (ف - صف) (۱) مل ہوا (۲) ایک قسم کا پشینے کا کپڑا جو ل  
 کر لائیم کیا جاتا ہے - (۳) یلیدہ - چورما -  
 مالیرہ - (ما - لی - ہر) (ف - ا - ند) (۱) مالیت (۲) مال گزاری - خراج - حکومت کی  
 سالانہ آمدنی -  
 ماش - (ہ - ا - صف) استطاعت - بساط - طاقت - بل - بوزند - (ف - ا - ند)  
 مال -  
 ماما - (ف - ا - ند) (۱) ماں - والدہ (۲) بوٹھی عورت (۳) کھانا پکانے  
 والی عورت - باورچن (۴) خادمہ - ملازمہ - وائی (۵) کینز - باندی  
 لونڈی -  
 ماما امیل - (ا - نٹ) لونڈی - باندی - کینز -  
 ماما گیری - ماما گیری (ا - صف) (۱) کھانا پکانے کی ملازمت (۲) خدمتگاری کا پیشہ -  
 ماماں - (ما - ماں) (ہ - ا - ند) ماں کا بھائی - ماموں -  
 مامشا - (مام - شا) (ہ - ا - ند) (۱) الفت - محبت - پیار (۲) ماں کی  
 محبت -  
 مامنا ٹھنڈی رہنا - (۱) محاورہ) بچے کو دیکھ دیکھ کر ماں کا خوش رہنا -  
 ماملہ - (ما - تم - لا) (ق) معاملہ -  
 مامن - (ما - من) (ع - ا - ند) پناہ گاہ - آرام کی جگہ - ٹھکانہ - جائے امن -  
 مامو - ماموں - (ما - مو) (ما - موں) (ہ - ا - ند) ماں کا بھائی (پن) ماماں - مامو  
 مامو (ماموں) کے کان میں اُٹیا (انہیاں) (۱) [شل] دوسروں کی دولت پر اترنا -  
 (۲) بایاں) بھانجا ارنڈا ارنڈا پھرے -  
 مامور - (ما - مور) (ع - صف) (۱) مقرر - متعین (۲) حکم کیا گیا - اجازت دیا گیا -  
 مامور ہونا - (۱) محاورہ) کوئی کام سپرد ہونا - مقرر ہونا -  
 مامول - (ع - صف) امید کیا گیا - وہ چیز جس کی امید ہو -  
 مامولن - (ما - موں) (ع - صف) (۱) محفوظ - بے خوف (۲) ہارون رشید  
 خلیفہ بغداد کے بیٹے کا نام -

ماں کا پیٹ کھار کا آوا۔ کوئی کالا کوئی گورا۔ (۱- مثل) جس طرح کھار کے آوے سے بڑے پکے پکے۔ سُرخ اور سیاہ نکلنے ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ سے بھی کالے اور گورے پچھے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مثل وہاں بلبل جاتی ہے جہاں ایک ہی ماں باپ کی اولاد بعض خوبصورت اور بعض بدصورت ہوتی ہے۔

ماں کا دودھ۔ (۱) شیر مادر (۲) نہایت مفید (۳) حلال۔ جائز۔ ماں کو نہ باپ کو جو بے سنگی سوا آپ کو۔ (۱- مثل) ہرنیک و بد مثل کا ذمہ ادا کرنے والا ہی ہوتا ہے۔

ماں کے پیٹ سے لے کر کوئی نہیں آتا۔ (۱- مثل) سیکھا سکھایا کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ کام سکھنے ہی سے آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر نکلتا۔ (۱- مثل) سیکھا سکھایا پیدا ہونا۔ سیکھے بغیر حاصل کر لینا۔

ماں مارے اور ماں ہی پکارے۔ (۱- مثل) اپنا چاہے کتنی ہی تکلیف دے پھر بھی اپنا ہی کہلائے گا۔ اپنی کوئی سختی بھی بڑی نہیں لگتی۔

ماں مرے ماسی جتنے۔ (۱- مثل) ماں مرے گی تو خالہ ہاں لے گی۔ یعنی ماں اور خالہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں۔

ماں نہ ماں کا چایا بھی لوگ پرایا۔ (۱- مثل) اُس جگہ کی نسبت بولتے ہیں جہاں کوئی اپنا واقعہ نہ ہو۔

مان۔ (۱- س)۔ مذ و مث (۱) گھنڈہ غرور۔ تکبر۔ نخوت۔ بکر (۲) عزت۔ قدر۔ منزلت (۳) خاطر، تواضع۔ آؤ بھگت۔

مان۔ (۱) ماننا کا امر۔ تسلیم کر۔ قبول کر (۲) (ت۔ ا۔ مذ) گھر۔ خسانہ (۳) اسباب خانہ۔

مان بھری۔ (۱- صف) مٹ (۱) ارمان بھری۔ آرزو مند۔ شائق۔ پڑا رمان (۲) مغرور۔ دماغ دار۔ مزاج دار۔ متکبر۔ گھنڈہ ٹی۔

مان بان۔ مان تان۔ (۱- مذ) عزت۔ آبرو۔

مان جانا۔ (۱- محاورہ) تسلیم کر لینا۔ منظور کر لینا۔ (۲) راضی ہو جانا۔ اقرار

کر لینا۔ (۳) اُستادی کا قائل ہو جانا۔ اعتراف کرنا۔

مان ڈھیننا۔ (۱- محاورہ) غرور نہ رہنا۔ گھنڈہ جاتا رہنا۔

مان رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بات رکھنا۔ عزت۔ رکھنا۔ خاطر مدارات کرنا۔ تعظیم و تکریم کرنا۔ (۲) تنہا پوری کرنا۔ مراد بر لانا (۳) بات ماننا۔ کہا ماننا۔

مان رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) عزت رہنا۔ بات رہنا (۲) ماتحت رہنا۔ زیر سایہ رہنا۔ تابع رہنا۔

مان کا پان بہت ہوتا ہے۔ (۱- مثل) عزت کے ساتھ ٹھوڑا مان بھی بہت ہوتا ہے۔

مان کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) تعظیم و تکریم کرنا۔ آؤ بھگت کرنا۔ (۲) سبک کرنا۔ غرور کرنا۔ گھنڈہ کرنا۔ دماغ کرنا۔ مزاج کرنا۔ اترا نا۔

مان گمان۔ (۱- مذ) گھنڈہ۔ غرور۔ تکبر۔ نخوت۔ ناز۔ تکنت۔ بکر۔

مان گون۔ (۱- مذ) (۱) ناز و نیاز۔ ناز برداری (۲) عزت۔ قدر۔ منزلت۔

مان گون رکھنا۔ (۱- محاورہ) حسب خواہش مراد پوری کرنا۔ دل رکھنا۔ ناز برداری

مامی۔ (۱- ما۔ جی)۔ (۱- ام۔ مٹ) (۱) ماموں کی بیوی۔ ممانی (۲) ماں کی محبت۔ ماں کی سحر طر داری۔

مامی پینا۔ (۱- محاورہ) کسی کی طرف داری کی بات کہنا۔ طرف داری کرنا۔

مامیرال۔ (۱- ما۔ جی)۔ (۱- ف)۔ (۱- مذ) ایک جوڑ جو ٹھیک اور ہلدی کے شہ بہوتی ہے۔ اور آنکھ کی دوا میں استعمال ہوتی ہے۔ میرا۔

ماں۔ (۱- ف)۔ (۱- انٹ)۔ (۱- ماں)۔ والدہ۔ مانا۔

ماں ایللی باپ تیلی، بیٹا پوت (پوت) شایخ زعفران۔ (۱- مثل) اُس وقت بولتے ہیں جب کوئی بیچ قوم یا کینہ سنی مارے یا کوئی ادنے ماں باپ کی اولاد

فرخاندان ہو جائے۔

ماں باپ کالا ڈالا۔ (۱- مذ) وہ لڑکا جسے والدین نے بڑے ناز و نعم سے

بالا ہو۔

ماں بہن کرنا۔ (۱- محاورہ) کسی کو ماں بہن کی گالی دینا۔

ماں بیٹیوں میں چھٹلا نہیں چھپتا۔ (۱- مثل) قریبی رشتہ داروں یا پاس

رہنے والوں سے عیب نہیں چھپ سکتا۔

ماں بیٹیوں میں لڑائی ہوتی تو کون لے جانا بیر پڑا۔ (۱- مثل) آپس کی لڑائی

کوئی لڑائی نہیں سمجھی جاتی۔

ماں پسنداری پوت چھلا، پوت پڑا بندے پور کا تھیلہ۔ (۱- مثل) غریب کا

بیٹا فیشن کرے تو کھتے ہیں۔

ماں پسنداری پھلی۔ باب بھفت ہزاری نہ بھلا۔ (۱- مثل) ماں کی محبت

باپ کی محبت سے زیادہ ہونے پر بولتے ہیں۔

ماں پر پوت پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ (۱- مثل) اولاد اپنے

ماں باپ پر ہوتی ہے۔

ماں تیلن، باب بھگان، بیٹا دیکھو شایخ زعفران۔ (۱- مثل) کیکنے

یعنی باز کے متعلق کہا جاتا ہے جب کوئی ادنی بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں۔

ماں ٹینی باپ کلنگ۔ بچے نکلے رنگ برنگ۔ (۱- مثل) دو ٹکی اور بدلوٹا

اولاد یا نالائق خاندان کے متعلق کہتے ہیں۔

ماں جایا (۱- مذ) برادر حقیقی۔ سگا بھائی۔

ماں جاتی۔ (۱- انٹ) ہمیشہ۔ لگی بہن۔

ماں جتا۔ (۱- مذ) بھائی جو ماں کے پیٹ سے ہو۔

ماں چاہے بیٹی کو، بیٹی چاہے مٹے ڈھنگ کو۔ (۱- مثل) ماں بیٹی

سے جس قدر محبت کرتی ہے۔ بیٹی کو ماں سے نہیں ہوتی۔ شادی کے

بعد وہ اپنے خاندان سے زیادہ محبت کرتی ہے۔

ماں چھوڑ موسیٰ سے شٹھا۔ (۱- مثل) اُس وقت بولتے ہیں جب کوئی چھوٹا

بذخیر کرے۔

ماں جیل باب کو۔ (۱- مثل) کم اصل۔ دوغلہ۔

ماں سے سوا چاہے تو پھیا پھیا لکھی کہلائے۔ (۱- مثل) ماں سے زیادہ

پیار جتنا ضرور کسی خاص غرض سے ہوتا ہے۔

ماں سے لے کر کون آیا ہے۔ (۱- مثل) سب سکھاتے ہی سکتے ہیں۔

ماں فقیرنی پوت فتح خاں۔ (۱- مثل) کم اصل اور بیچ خاندان کے مغرور آدمی

کی نسبت بولتے ہیں۔



لڑکی جس کی نسبت ہوگئی ہو (۳) شوہر - خاوند (۴) طلب بیسے  
ایسی چیزوں کی بڑی مانگ ہے (۵) انگیا کی دونوں کٹوریوں  
کے بیچ کی سلاخی -

مانگ اُجڑنا - (۱) محاورہ) بیوہ ہو جانا - راند نہ ہو جانا -

مانگ آنا - (۱) محاورہ) مانگ جانا - خریداری ہونا -

مانگ بھرننا - (۱) محاورہ) مانگ میں موتی یا سیندور بھرننا - جو  
اکثر شادی کے موقع پر پھرتے ہیں (۲) بیاہ دینا - شادی کر دینا -  
مانگ بھرنی - (۱) منٹ (۱) سہاگن - خاوند والی (۲) پیاری عرزہ  
(۳) جوڑو - بیوی -

مانگ بٹی - (۱) منٹ) بالوں کی درستگی - کنگھی چوٹی -

مانگ بٹنی میں لگا رہنا - (۱) محاورہ) بناؤ و سنگڑ میں مشغول رہنا -

مانگ ٹھنڈی رہے - (دعا) خاوند جیتا رہے سہاگ بنا رہے -

مانگ ٹھنڈی ہے - (۱) محاورہ) خاوند زندہ ہے - سہاگن ہے -

مانگ جلی - بیوہ کو عورت جس کا خاوند مر گیا ہو -

مانگ چرنا - آزار لگنا بکھونا - چیراٹھنا - کتوار پنا دور ہونا (طوائفوں کی)

مانگ ڈار - مانگیا (۱) منڈ) ایک قسم کا نکتو تو جس میں مانگ کی شکل ہی ہوتی ہے

مانگ دار خر لوزہ (۱) منڈ) ایک قسم کا لوزہ جس میں مانگ کی طرح  
بکیرس بنی ہوتی ہیں -

مانگ ستوارنا (۱) محاورہ) بال درست کرنا - کنگھی چوٹی کرنا -

مانگ کو کھ سے ٹھنڈی رہے (دعا) شوہر اور بیٹے بیٹے رہیں -

مانگ کھٹنا - (۱) محاورہ) ٹھیک لڑکے یا لڑکی کے مرجانے سے رشتہ نہ رہنا (۲)

پہاوی عورت کا مرجانا -

مانگ میں لگ لگنا - (۱) محاورہ) بیوہ ہونا - راند ہونا -

مانگ میں سیندور بھرننا - مانگ میں صندل بھرننا - مانگ میں موتی بھرننا -

(۱) محاورہ) عورتیں مانگ میں کبھی سیندور کبھی صندل بھرتی ہیں اور کبھی

مانگ کی جگہ موتی کی لڑیاں آدیریں کرتی ہیں -

مانگ نکالنا - سر کے بالوں کے بیچ میں کبیر بنانا -

مانگ - (۱) منٹ) خواہش - جاہ - ضرورت - حاجت - گاہی - خریداری (۲)

مانگ تانگ کر کام چلانا - (۱) محاورہ) اُدھر اُدھر سے لوہا کر کام نکالنا

ادھر اُدھر سے پورا کر کے گزارہ کرنا - قرض حام سے وقت گزارنا -

مانگ تانگ کر کھانا - (۱) محاورہ) جھبک مانگ کر بسر کرنا -

مانگ کھانا - (۱) محاورہ) مانگ کر کھانے والا (رق)

مانگ کیا مانگتا ہے - (۱) محاورہ) امیر لوگ کسی پر بہت مہربان ہو  
کر یہ کلمہ زبان پر لاتے ہیں -

مانگ لینا - (۱) محاورہ) عاریت سے لینا - مستعار سے لینا اُدھار لینا -

مانگ ہونا - (۱) محاورہ) ضرورت ہونا - طلب ہونا -

مانگنا - (مان - گا) (۱) صفت) طلب کیا ہوا - مستعار لیا ہوا -

مانگنا مانگنا - (۱) صفت) قرض لیا ہوا - اُدھار لیا ہوا - عاریت لیا ہوا -

مانگنا کرنا - مانگتے رہنا -

مانگنا ہوا - مستعار لیا ہوا - مطلوبہ -

مانگنا - (مانگ - نا) (۱) مص) درخواست کرنا - چاہنا - طلب کرنا (۲) نسبت

کی درخواست کرنا - سکاٹی چاہنا (۳) دعا - التجا (۴) اُدھار چاہنا (قرض

طلب کرنا) (۵) التجا کرنا -

مانگی تھی نیچے کو ملی اوپر کو - (۱) منٹ) اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز مانگی  
ہوئی چیز کے خلاف ملے -

مانگیے - (مان - گے) (۱) اُدھار - قرض - مستعار -

مانگے پرتا مانگا اور بڑھیا کی کرات - (۱) منٹ) کوئی بات درست نہیں  
خود مختار ہیں اور اُدھر اُدھر سے کام نکال لیتے ہیں - اس وقت کہتے ہیں جب

ایک شخص کوئی چیز خود مانگ کر لایا ہو اور دوسرا شخص اس سے وہی چیز

مانگ کر کام نکالے -

مانگے تلنے - (۱) مبالغہ فعل) قرض - اُدھار - مانگ تانگ کر - اُدھار

لے کر -

مانگے تلنے کا (دبی) - (۱) صفت - مذ - منٹ) مانگا ہوا - مانگی ہوئی (۲)

مستشاری ہوئی (۳) لی ہوئی -

مانگے تلنے کا کام چلے تو بیاہ کرے بلا ریزرار - (۱) منٹ)

جب آسانی سے کام ہو جائے تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے -

مانگے دینا - عاریت دینا - مستعار دینا -

مانگے کی منگنی اور گڑیا کا منگنا - (۱) منٹ) جب کوئی پرانی چیز مانگ

کر استعمال کرے اور اس پر اڑکے اس وقت کہتے ہیں -

مان لینا - (۱) مص) منظور کر لینا - تسلیم کر لینا (۲) راضی ہو جانا -

اقرار کر لینا -

مان مہنت - (مان - منٹ) (۱) مذ) شور وادب یا بیخ بیکار - بڑو بنگلہ

فعل غیاثی -

ماننا - (مان - نا) (۱) مص) تسلیم کرنا - قبول کرنا - منظور کرنا (۲) قیاس کرنا

(۳) خیال کرنا - اثر ماننا (۴) تسلیم کرنا (۵) تعظیم و تکریم کرنا - ادب

کرنا - احترام کرنا (۶) پاس داری کرنا (۷) استاد جاننا - کسی کے ہنر یا کمال

کا اقرار کرنا (۸) پرستش کرنا - اقتقاد رکھنا (۹) بندگان کی ارواح کیلئے پوچھنے

کا عہد کرنا (۱۰) راضی ہونا خوش ہونا (۱۱) اقرار کرنا - اقبال کرنا (۱۲) مانگ ہونا

مطیع ہونا (۱۳) کہا ماننا (۱۴) جاننا

ماننڈ - (۱) صفت) منٹ - نظیر - مشابہ - مطابق - جیسا (۲) جود ہو - یعنی نہ -

مانو - (مانو - نو) (۱) صفت) جیسا تو یا (۲) امر - تسلیم کرو قبول کرو (۳) قرض کرو

چالو (۴) پیار سے بلی کو کہتے ہیں -

مانو تو شور نہیں تو پیچھو - (۱) منٹ) اقتقاد ہی سے کسی کی عزت و حرمت کی جاتی

ہے - بلا اقتقاد کچھ بھی نہیں -

مانو نہ مانو - (۱) روضہ) تم کو ماننے نہ ماننے کا اختیار ہے -

مانوس - (مان - نو) (۱) صفت) مانل - مانوف - مانغب - شوگر (۲) پسند

مردوب - بلا ہوا -

مانوس ہو جانا - (۱) محاورہ) مل جانا - گھل مل جانا -

کی نسبت سلطان جلال الدین سلجوقی سے ہے جس کے زمانہ میں  
سنہ جلالی ایجاد ہوا۔

ماہ چار دہ - مہ چار دہ - ۵ - ۱ - مذہ چودھویں رات کا چاند۔

ماہ چہار ہفتہ - ۶ - ۱ - مذہ چاند بعد اٹھائیس روز کے بہت باریک ہو جاتا  
ہے اور نظر نہیں آتا کنایتہ معدوم چیز۔

ماہ در عقرب - چاند کا برج عقرب میں آتا - اس موقع پر اچھا کام کرنا  
منع ہے۔

ماہ دو ہفتہ - ۶ - ۱ - صفت چودھویں رات کا چاند۔

ماہ رُخ - (رُوی) - ۶ - ۱ - صفت (۱) چاند جیسے چہرے والا - مشرق (۲)  
سفید رنگ کا کبوتر۔

ماہ روزہ - ۶ - ۱ - مذہ رمضان کا مہینہ۔

ماہ سیام - ۶ - ۱ - مذہ وہ چاند جو مقنع نے خشب کے کٹوئیں سے نکالا۔  
یہ چار مہینے تک نکلتا رہا۔

ماہ سہما (طلعت) - ۱ - ۱ - صفت چاند جیسی پیشانی والا - محبوب  
کی تعریف میں مستعمل ہے۔

ماہ شمسی - ۶ - ۱ - مذہ شمسی سال کا مہینہ۔

ماہ صیام - مہ صیام - ۶ - ۱ - مذہ رمضان کا مہینہ۔

ماہ عزا - ۶ - ۱ - مذہ غم و ماتم کا مہینہ - کنایتاً محرم کا مہینہ -  
(سٹیوں کے نزدیک)۔

ماہ لقا - ۶ - ۱ - صفت چاند جیسی شکل والا - صفت محبوب میں مستعمل ہے۔  
ماہ کامل - ۶ - ۱ - صفت پورا چاند - چودھویں رات کا چاند - پورن ماشی  
کا چاند۔

ماہ کنعان - ۶ - ۱ - مذہ کنعان کا چاند - حضرت یوسفؑ سے مراد ہے۔  
ماہ مہینہ - ۶ - ۱ - مذہ چکنے والا چاند - کنایتہ حسین مشوق۔

ماہ خشب - ۶ - ۱ - مذہ وہ چاند جو حکیم ابن عطا معروف بہ مقنع نے اجینٹے  
سیاہی کی ترکیب سے بنا کر روشن کیا تھا - خشب مادہ اتہر کا ایک شہر  
ہے جہاں یہ چاند بنا گیا تھا۔

ماہ یو - ۶ - ۱ - مذہ مہینے کا پہلا چاند - نیا چاند - ہلال۔

ماہ یگم ماہ - ۶ - ۱ - مذہ چودھویں رات کا چاند۔

ماہ یوار - ۶ - ۱ - صفت ہر مہینہ - ماہ بہ ماہ - مشاہرہ - تنخواہ۔

ماہ یواری - ۶ - ۱ - مذہ (۱) ایک قسم کا تریزہ (۲) وظیفہ جو فکروں  
کو ہر مہینہ گزرنے کے بعد دیتے ہیں (۳) جہنم جو عورتوں کو ہر  
مہینے آتا ہے۔

ماہ وسال - ۶ - ۱ - مذہ (۱) ہمیشہ - مدام۔

ماہ دُش - ہوش - ۶ - ۱ - صفت چاند کی طرح کنایتاً محبوب۔

ماہ یانہ - ماہ سیانہ - ۶ - ۱ - مذہ (۱) ماہ - ماہ - ۶ - ۱ - صفت (۱) تنخواہ  
یا وظیفہ جو ہر مہینے کے بعد دیا جائے - وہ رقم یا چیز جو ہر مہینے کے  
بعد دی جائے۔

ماہ وہا ہی تک نہ لڑے پڑ جاتا - ۶ - ۱ - محاورہ (۱) بے حد خور و عمل ہونا (۲)

مانوس ہو جانا - ۱۶ - محاورہ (۱) ہل جانا بگھل ہل جانا۔

مانی - (دانی) - ۶ - ۱ - مذہ (۱) سلاطین کے ایک مشہور و معروف نقاش  
جو بڑے کاموں کا جوڑا دیتی کرتا تھا اور نقاشی کا اپنا مجوزہ بنا تھا - کتاب  
"ارتزنگ" اسی کی تصنیف ہے۔

مانی - (دانی) - ۶ - ۱ - مذہ (۱) مٹا دیا - آبا - بچوں کو کھلانے والی عدت (۲) وہ  
بھونٹا سی سورخ دار کھڑی جو چکی کی گلی میں ڈالی جاتی ہے - جس سے چکی  
کا پاٹ بہ آسانی پھرتا ہے۔

مانی - (دانی) - ۶ - ۱ - صفت مغرور - جھگڑے بگھڑی - مان کرنے والا۔

مانیٹر - (Monitor) - (دانی) - ۶ - ۱ - مذہ (۱) جماعت کا وہ ہوشیار  
(۲) کا جو اس کے بعد جماعت کا انتظام کرتا ہے (۳) ڈرانے والا  
(۴) آہن پوش جہاز۔

ماو - (دانی) - ۶ - ۱ - مذہ (۱) چائے پناہ - گھر - ٹھکانا۔

ماوا - (دانی) - ۶ - ۱ - مذہ (۱) اصل جو ہر (۲) بہت زیادہ کڑھا ہوا دودھ۔  
کھو یا (۳) سامان - مسالہ (۴) کلف - ماری - کاجی (۵) مرشد - غریب  
(۶) دودھ - نشاستہ (۷) انڈے کی زردی۔

ماوس - (دانی) - ۶ - ۱ - مذہ (۱) ماوس کا مختلف قسمی مہینے کا آخری دن۔

ماہ - ۶ - ۱ - مذہ (۱) چاند - قمر - ماہ تاب - چند زمان (۲) مہینہ - ماس۔

ماہ آب - ۶ - ۱ - مذہ (۱) قمر کا مہینہ۔

ماہ ابلی - موسم بہار کا ایک شمسی مہینہ - سنہ الہی کا مہینہ - اس سن کو  
شہنشاہ اکر نے ایجاد کیا تھا۔

ماہ بہ ماہ - ۶ - ۱ - مذہ (۱) ہر مہینہ - ماہ وار - ماہانہ۔

ماہ پارہ - ۶ - ۱ - صفت چاند کا ٹکڑا - خوب صورت - حسین مشوق - دلدار۔  
ماہ پز سست - ۶ - ۱ - مذہ چاند کی پورا کرنے والا (۲) مجازاً عاشق۔  
(۳) بچور۔

ماہ پیکر - چاند جیسے جسم والا - محبوب کی تعریف میں مستعمل ہے۔  
ماہ ہتاب - (ہتاب) - ۶ - ۱ - مذہ (۱) چاند - قمر (۲) کھجور کا وزیر (۳) ایک قسم  
کی آتش بازی (۴) مٹا - چاند کی روشنی۔

ماہ ہتاب دینا - ۱۶ - محاورہ (۱) نوب کے فتنہ میں آگ دینا۔  
ماہ تابال - ۶ - ۱ - مذہ چکنے والا چاند - مشوق کی تعریف میں کہا  
جاتا ہے۔

ماہ تابی - (ہتابی) - ۶ - ۱ - مذہ (۱) ایک قسم کا تریزہ (۲) بچورہ -  
(۳) ایک قسم کا کھڑا جس پر سنہری یا زردی رنگ کی انکھلیں منقوش ہوتی  
ہیں (۴) ایک قسم کی آتش بازی جس کے چھوڑنے سے چاند جیسی  
روشنی ہو جاتی ہے۔

ماہ تمام - ۶ - ۱ - صفت پورا چاند - چودھویں رات کا چاند - ماہ کامل۔  
بدر - پورن ماشی۔

ماہ جببیں - (ہتابیں) - ۶ - ۱ - صفت چاند جیسی پیشانی والا - صفت کے  
کے طور پر مشوق کو کہا جاتا ہے۔

ماہ جلالی - ۶ - ۱ - مذہ (۱) موسم بہار کا ایک شمسی مہینہ - فروردین اس





مبادا۔ دم۔ با۔ دا۔ ا۔ ف۔ کلہ دعاتیہ، ایسا نہ ہو۔ خدا نہ کرے۔ خدا نخواستہ۔  
مبادا۔ ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ جلدی کرنے والا ۲۔ گذشتہ۔ سابق (۳، جرات۔  
یادگیری کرنے والا۔

مبادرت۔ دم۔ با۔ ذرت، ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ جلدی۔ تیزی۔ شتابی۔ سرعت  
۲۔ سمجھت۔ پیشی (۳، دلیری۔ جرات۔ چالاک۔ حیثی۔

مبادلہ۔ دم۔ با۔ ذلہ، ۱۔ ۶۔ مذم۔ آؤن بدل۔ باہم تبادلہ کرنا۔

مبادلہ جنس۔ ۱۔ ۶۔ ف۔ ا۔ مذ۔ جنس دے کر جنس لینا (۱۱۔ انگ  
(Barter System)

مبادی۔ دم۔ با۔ دی، ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ مبادی جمع ۱۱، شروع۔ ابتدا۔ آغاز۔ بنیاد۔

اصل ۱۲، ابتدائی اصول۔ بنیادی باتیں جمع۔ مبادیات۔

مبادی العلوم۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ علم کی ابتدائی باتیں، جمع کا جانا حصول علم  
کے لیے ضروری ہے۔

مبادرت۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ مٹانا۔ کھونا۔ چھیننا۔

مبار۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ چلان۔ گلنے۔ پوٹے۔

مبارز۔ دم۔ با۔ رز، ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ مقابلہ پر چڑھ کر لڑنے والا کسی بڑھ کر لڑنے  
والا سپاہی۔ جنگ جو۔ جنگی بہادر۔ جن جلا۔ جمع۔ مہماندین۔

مبارزت۔ دم۔ با۔ رزرت، ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ لڑائی۔ جنگ (۲، لڑائی کے  
واسطے صف سے باہر آنا۔

مبارزت طلبی۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ لڑائی کے لیے اپنے مقابل یا حریف کو طلب کرنا  
قدیمی جنگوں میں اس کا رواج تھا۔

مبارک۔ دم۔ با۔ رگ، ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ باعث برکت۔ برکت دیا گیا (۲، خوش  
قسمت۔ نصیب۔ ور۔ بھاگوں (۳، نیک۔ سعید۔ موافق۔ لائق (۴، خوش آمدید  
خوشا۔ مبارکباد، خردہ خوش خبری۔

مبارکباد۔ ۱۔ ۶۔ ف۔ ا۔ مٹا۔ خوشخبری۔ خردہ۔ تہنیت۔ شادیاں (۲، دہلے خیر۔  
اشیر باد (۳، مبارک دے۔ برکت نصیب ہو۔

مبارکباد دینا۔ مبارکبادی دینا۔ ۱۔ ۶۔ محاورہ خوشی کی تہنیت دینا۔ بدھائی  
دینا۔ بدھاوا دینا۔

مبارکبادی۔ ۱۔ ۶۔ ف۔ ا۔ مٹا۔ خوش خبری۔ شادیاں۔ تہنیت۔  
بدھائی۔

مبارکبادی گانا۔ ۱۔ ۶۔ محاورہ شادی کے گیت گانا۔ شادیاں گانا۔  
بدھائی گانا۔

مبارک سلامت۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ خوشی کی ہادی مبارکباد آپس میں ایک  
دوسرے کو مبارکباد دینا۔

مبارک فال۔ ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ جس سے نیک ننگوں کا ظہر ہو۔

مبارک قدم۔ ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ وہ شخص جس کا آنا باعث برکت ہو۔

مبارک سمے۔ ہو۔ لا۔ کلہ دعاتیہ، خدا نیک کرے۔ اس آئے۔ سازگار ہو۔

مبارکی۔ دم۔ با۔ رگی، ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ مبارکبادی۔ تہنیت۔ (۲،

دعائے خیر (۳، نیک نغادات رہم، دانے جو تپ محرقہ میں  
نکل آتے ہیں۔

ماتول ٹھانا۔ ۱۔ ۶۔ محاورہ شادی سے کچھ روز پہلے دو لہاؤں کو زرد کر کے  
پہنا کر ٹھانا۔ خاص کر لڑکی کو ایسی جگہ ٹھکا دیتے ہیں جہاں بجز اس کی  
ہم سنوں کے اور کوئی نہیں جاتا۔

ماتول پٹھنا۔ ۱۔ ۶۔ محاورہ (۲، مجازاً، گوشہ نشین ہونا۔ خلوت نشین ہونا۔  
گھر سے باہر نکلنا۔

مایا۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ خدا کی قدرت۔ الشوری کی شکستی (۲، ظہور قدرت۔ نیچر۔  
۳، رحم۔ دیا کر پارہم، پارہمت (۵، دھوکا۔ قریب (۹، دھن۔

دولت۔ ڈرے، مجیب۔ نادر (۸، رونق۔ بہار۔ کیفیت (۹، کرامت  
کرشمہ (۱۰، روح۔ جان۔ آتما۔ پیران (۱۱، سامان۔ دستگاہ (۱۲،

دنیا۔ خلقت۔ مخلوق۔

مایا پتھر۔ ۱۔ ۶۔ مذم۔ دولت مند۔ مال دار۔ زردار۔ دھنی (۲، لالچی۔  
عریص۔ لوبھی۔

مایا پتی۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ ایشور۔ پریشور۔ خدا کے تعالیٰ۔

مایا خیال۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ دولت کا بچہ۔ حرص۔ لالچ۔ لوبھی۔

مایا فرنی۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ فریبی۔ پڑھنا۔ دھوکا کی طرح۔

مایا کوتاہی سے کمر لے کر ہاتھ (۱۔ ۶۔ اصل دولت مند کو اور دولت  
تلتی داس گریب کی کوئی نہ بوجھے بات (۱۔ ۶۔ مٹا۔ ہے۔ امیر لوگ امیر ہی کہتے  
ہیں۔ غریب کو کوئی بوجھتا تک نہیں۔

مایا کے ہیں تین نام۔ پریشور۔ برسا۔ پریش رام۔ ۱۔ ۶۔ اصل (۲، جوں جوں  
انسان کے پاس دولت جمع ہوتی جاتی ہے۔ اس کی عزت بڑھتی  
جاتی ہے۔

مایوس۔ ۱۔ ۶۔ رما۔ یوس، ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ نامید۔ نراس بے اس (۲، ناکام۔ نامراد  
بے نیل مرام (۳، دل شکستہ۔

مایوس کرنا۔ ۱۔ ۶۔ مٹا۔ مرکب۔ نامید کرنا۔ ناکام کرنا۔ نراس کر تمول توڑنا۔

مایوسی ہر ما پو۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مٹا۔ نامید۔ ناکامی۔ شکستہ ولی۔

مایہ۔ ۱۔ ۶۔ رما۔ ۱۔ ۶۔ مٹا۔ ا۔ لوبھی جمع۔ سرمایہ (۲، اصل۔ نراس المال (۳،  
مادہ۔ جوہر (۴، دستگاہ۔ سامان (۵، مال۔ دولت۔

مایہ دار۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ دولت مند۔ مال دار۔ دھن والا۔

مایہ ناز۔ ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ فخر و ناز کا سبب (۲، مستحق۔

## م۔ ب

مباح۔ دم۔ با۔ ح۔ ۱۔ ۶۔ ص ۱۔ جائز۔ روا۔ حلال۔ درست۔ پاک۔ شکرہ۔

پوڑھ۔ جمع۔ مباحات۔

مباح کرنا۔ جائز کرنا۔ حلال ٹھہرانا۔ جائز قرار دینا۔

مباحث۔ دم۔ با۔ حث، ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ بحثیں۔ بحث کے مقامات۔

مباحثہ۔ دم۔ با۔ حث، ۱۔ ۶۔ ا۔ مذم۔ بحث۔ مناظرہ۔ مکرار۔ سوال و جواب۔

مباحثہ کرنا۔ ۱۔ ۶۔ مٹا۔ بحث کرنا۔ مناظرہ کرنا۔





متاعی۔ رُم۔ تاعی، ۱۶ ع۔ ف۔ ا۔ رمت، اہل تشیع میں وہ عورت جس سے منہ  
کیا گیا ہو۔ مقررہ مدت کیلئے نکاحی ہوئی عورت۔  
مٹا لُحْم۔ رُم۔ ت۔ ا۔ لُحْم، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ پاپا ہوا۔ جسے رنخ پہنچا ہو۔  
رُنجیدہ۔ ڈکھیا۔

مُتالی۔ رُم۔ تالی، ۱۶ ع۔ رمت، وہ جگہ جو گھوڑے کے پیشاب کے لیے ہر (۲)  
گاموں میں بر گھوڑے نے پیشاب کیا ہو۔  
مُتَابِل۔ رُم۔ ت۔ ا۔ مُبَل، ۱۶ ع۔ ا۔ مذم، تابل کرنے والا۔ سوچنے والا۔  
مُتَانَا۔ رُم۔ تاننا، ۱۶ ع۔ موص، بھر کو پیشاب کرانا، ۱۶۔ مذکر، جسم میں پیشاب  
کرنے کی تھیلی۔ مثانہ، مِثْخَان۔

مُتَانَت۔ رُم۔ ت۔ ی۔ نَت، ۱۶ ع۔ رمت، اَسْمَد کی مضبوطی، چنگی۔ اَسْتَواری۔  
شنگینی، رت، تہذیب، رت، خیالات کی آراستگی اور درستی۔ زبان کا لیے بڑا  
الفاظ اور خیالات سے پاک ہونا۔

مُتَانِي۔ رُم۔ ت۔ ن۔ نِ، ۱۶ ع۔ اصل، اَصْبَل میں گھوڑے کے پیشاب کرنی  
جگہ گھوڑے کا پیشاب۔

مُتَابِل۔ رُم۔ ت۔ ا۔ بَل، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْبِیہ کرنے والا۔ بیابا۔ شادی  
شدرہ۔ بیوی بچکے والا۔

مُتَبَادِر۔ رُم۔ ت۔ با۔ وِر، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْجِدِی کے آگے بڑھ جانے والا۔  
(۲) جلد ذہن میں آنے والا اور جلد نکلنے والا۔

مُتَبَادِل۔ رُم۔ ت۔ با۔ وِل، ۱۶ ع۔ صفت، اَبْلَسْتے والا۔ باری سے آنے یا  
کام کرنے والا۔

مُتَبَادِل۔ رُم۔ ت۔ با۔ وِل، ۱۶ ع۔ صفت، وہ جو بے (۲) اصطلاح  
اقلدس، دو خطوط متوازی رجب تیسرا خط اگر گئے تو اس  
خط کے دونوں طرف کے داخلی زاویے قہار لہ کہلاتے ہیں بشرطیکہ

متعلقہ نہ ہوں۔

مُتَبَجِّر۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ج۔ جَر، ۱۶ ع۔ صفت، علم کا دریا۔ بہت بڑا عالم۔  
فَاضِل اَجَل۔

مُتَبَدِّل۔ رُم۔ ت۔ ب۔ دَر، ۱۶ ع۔ صفت، بدلا ہوا۔ تبدیل شدہ۔

مُتَبَدِّل۔ رُم۔ ت۔ ب۔ دَر، ۱۶ ع۔ صفت، بدلتے والا۔ تبدیل کرنے والا۔  
کسی چیز کا مواضع لینے والا۔

مُتَبَرِّك۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ر۔ رِک، ۱۶ ع۔ صفت، برکت والا۔ مقدّس۔  
پاک۔ صاف۔ پوچر (۲)، معزز، بزرگ۔ قابلِ تعظیم۔ ہونٹ  
کے لیے متبرک۔

مُتَبَرِّك۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ر۔ رِک، ۱۶ ع۔ صفت، برکت والی چیز یا ک چیز۔  
مُتَبَرِّق۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ر۔ رِک، ۱۶ ع۔ صفت، اَسْکَرَانے والا (۲) شگفتہ۔  
اُکھلا ہوا۔

مُتَبَع۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ب۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، پیچھے چلنے والا۔ پیروی کرنے والا۔  
مُتَبَتِّج۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ن۔ نَا، ۱۶ ع۔ صفت، فرزند میں لیا ہوا۔ گود لیا ہوا۔

مُتَبَتِّج۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ن۔ نَا، ۱۶ ع۔ صفت، فرزند میں لینا۔ گود لینا۔  
مُتَبَتِّج۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ن۔ نَا، ۱۶ ع۔ صفت، فرزند میں لینا۔ گود لینا۔

مُتَبَوِّع۔ رُم۔ ت۔ ب۔ و۔ وِع، ۱۶ ع۔ صفت، سردار۔ پیروی کیا گیا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔

مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔  
مُتَبَايَس۔ رُم۔ ت۔ ب۔ ا۔ بِن، ۱۶ ع۔ صفت، اَلْمِ میں ہونے والا۔



**مُتَصَدِّعٌ** - رُمّت. صَدّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ دوسرے دینے والا۔ تکلیف دینے والا۔  
**مُتَصَدِّی** - رُمّت. صَدّ (دخی) ۱ع۔ صَف ۱ دیوان۔ محاسب۔ جمع خراج نوپس، عمر، کاتب، منشی، نایب گاشتر، منظم، انظار کرنے والا، ذمہ دار، کسب، جمع ۱۔ مُتَصَدِّیان۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَدّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ فقہہ کرنے والا۔ قاجز۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ وہ چیز جو بیٹے میں آگئی ہو۔  
**مُتَصَدِّف** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ وصف کیا گیا، تعریف کیا گیا۔ موصوف جیسی کے ساتھ کوئی صفت لگی ہو۔  
**مُتَصَدِّف** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ صفت رکھنے والا۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ اتصال رکھنے والا۔ پاس، قریب، نزدیک لگا ہوا۔ ہر ایک سے والا۔ لگاتار لینے دینے۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ قطع کرنا۔ بناوٹ کرنا۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ تصور کرنے والا۔ دل میں نقشہ چھانینے والا۔ خیال قائم کرنے والا۔  
**مُتَصَوِّر** - رُمّت. صَوّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ تصور میں لایا ہوا۔ خیال کیا گیا۔ سوچا ہوا۔  
**مُتَصَوِّف** - رُمّت. صَوّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ صوفی بننے والا۔ جمع۔ متصوفین۔  
**مُتَصَادِر** - رُمّت. صَاد (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ برعکس خلاف، الٹا۔  
**مُتَصَدِّع** - رُمّت. صَدّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ روکنے والا۔ عاجزی کرنے والا۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ داخل کیا ہوا۔ شامل کیا ہوا۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ بیٹ میں لینے والا۔ داخل۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ غلام کی شکایت کرنے والا۔  
**مُتَصَدِّق** - رُمّت. صَف ۱ع۔ صَف ۱ خواہ۔  
**مُتَعَارِض** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ ایک دوسرے کے سامنے آ کر لے ایک دوسرے کے برخلاف۔ جمع۔ متعارضین۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ مشہور، معروف۔ آپس میں جان پہچان والے۔ جمع۔ متعارفین۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ مشہور، معروف، ظاہر۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ آقا، نبی، پیغمبر کے آنے والا۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ عہد و پیمانہ کرنے والا۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ باہم معاہدہ کرنا۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ عالی، بلند، برتر، بزرگ، خفا کے واسطے متصل ہے۔  
**مُتَعَالِی** - رُمّت. عَالِی (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ بلند، برتر، خدا تعالیٰ کا نام۔  
**مُتَعَوِّب** - رُمّت. عَوِّب (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ تعویب کرنے والا۔ ایران، مغرب، رنگ، شہنشاہ۔

**مُتَعَدِّد** - رُمّت. عَدّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ گنے ہوئے۔ تھوڑے، چند، بہت کئی، بہتر سے، مختلف، جدا جدا، متفرق، گنتی کے۔  
**مُتَعَدِّی** - رُمّت. عَدّ (دخی) ۱ع۔ صَف ۱ حد سے بڑھنے والا، ۲، طلب میں وہ مرض جو ایک سے دوسرے کو لگے، ۳، نوحی وہ فعل جو مفعول کو چلے۔  
**مُتَعَدِّی** - رُمّت. عَدّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ عیبت، عیبت سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔  
**مُتَعَدِّد** - رُمّت. عَدّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ مشکل، دشوار، محال کے قریب۔  
**مُتَعَدِّق** - رُمّت. عَدّ (دخی) ۱ع۔ صَف ۱ روکنے والا، ۲، آگے آنے والا۔  
**مُتَعَوِّب** - رُمّت. عَوِّب (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ تعویب کرنے والا۔ پنج یا قوم کی طرح گونے والا۔  
**مُتَعَوِّف** - رُمّت. عَوِّف (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ عفت والا۔ پارسا، متقی۔  
**مُتَعَوِّق** - رُمّت. عَوِّق (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ مڑا ہوا، سیدھا، لٹا ہوا۔  
**مُتَعَلِّق** - رُمّت. عِلّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ تعلق رکھنے والا۔ لگاؤ رکھنے والا، جمع، متعلقات، ۲، رشتہ دار، قرابتی، وابستہ، جمع، متعلقین، ۳، شامل شمولہ، منسلک، دم، ماتحت، تابع۔  
**مُتَعَلِّق** - رُمّت. عِلّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ شامل کرنا، ملانا، ملحق کرنا، جوڑنا، چسپاں کرنا، ساتھ لگانا، سونپنا، سپرد کرنا۔  
**مُتَعَلِّقَات** - رُمّت. عِلّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ متعلق کی جمع۔  
**مُتَعَلِّق** - رُمّت. عِلّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ کسی دوسری چیز سے وابستہ چیزیں۔  
**مُتَعَلِّق** - رُمّت. عِلّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ متعلق کی جمع، تعلق رکھنے والے، بڑی نیچے، گھر کے لوگ، ڈاکر جا کر۔  
**مُتَعَلِّم** - رُمّت. عِلّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ تعلیم پانے والا، طالب علم، شاگرد، تلمیذ، چیلہ، بلندی، جمع، متعلّیّین۔  
**مُتَعَدِّد** - رُمّت. عَدّ (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ عہد، عہد سے کئی عہد سے لگاؤ، ۲، ذمہ دار، کام میں مشغول، ۳، ہم عصر، ایک نفاذ کے، دھ، ٹھیکہ دار، متاجر۔  
**مُتَعَدِّق** - رُمّت. عَدّ (دخی) ۱ع۔ صَف ۱ تعین کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، کسی کام سے لگایا ہوا۔  
**مُتَعَدِّق** - رُمّت. عَدّ (دخی) ۱ع۔ صَف ۱ تعینات کرنا، مقرر کرنا، کام پر لگانا، نامزد کرنا، لوگوں کو رکھنا۔  
**مُتَعَدِّق** - رُمّت. عَدّ (دخی) ۱ع۔ صَف ۱ تعین کی ہوئی، مقرر کی ہوئی، کام پر لگائی ہوئی۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ الگ، جدا۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ غزل کہنے والا، غزل گو، شاعر۔  
**مُتَعَارِف** - رُمّت. عَارِض (دخ) ۱ع۔ صَف ۱ بدلا ہوا، تبدیل شدہ، بدلنا، ہوا۔

**مُتَقَدِّم**۔ رُم۔ ت۔ بنی۔ زین۔ (ع۔ صف) بدلنے والا۔ تبدیل ہونے والا۔ قابل  
تغییر۔ تیز رفتاری سے مستقل بے ثبات۔

**مُتَقَاوُت**۔ رُم۔ ت۔ فاروت۔ (ع۔ صف) فرق کیا گیا۔ دوڑ کیا ہوا۔

**مُتَقَاوُت**۔ رُم۔ ت۔ فاروت۔ (ع۔ صف) فرق رکھنے والا۔ ایک دوسرے  
سے دور ہونے والا۔ مختلف۔ متضاد۔

**مُتَقَبِّض**۔ رُم۔ ت۔ فح۔ حیض۔ (ع۔ صف) ڈھونڈنے والا۔ تلاش کرنے والا۔  
جستجو کرنے والا۔ متلاشی۔ کسوچی رہی تحقیق کرنے والا۔ محقق۔

**مُتَقَبِّض**۔ رُم۔ ت۔ قرین۔ (ع۔ صف) اگلا۔ تنہا۔ یگانہ۔

**مُتَقَرِّع**۔ رُم۔ ت۔ فر۔ برش۔ (ع۔ صف) کسی چیز سے اُس کی شان کی طرح  
لکھنے والا۔

**مُتَفَرِّق**۔ رُم۔ ت۔ فر۔ بریق۔ (ع۔ صف) جدا جدا۔ الگ الگ۔ پراگندہ۔ منتشر۔

**مُتَفَرِّقَات**۔ رُم۔ ت۔ فر۔ برجات۔ (ع۔ صف) متفرق کی جمع۔ مختلف چیزیں۔  
۲، حساب کی مختلف قسمیں زمین کے دو جدا جدا اور مختلف حصے

جو ایک گاؤں یا علاقہ میں شامل ہوں۔

**مُتَفَرِّق**۔ رُم۔ ت۔ فح۔ (ع۔ صف) اتفاق کرنے والا۔ ملا جلا۔ شامل۔ لگا ہوا۔  
۲، مضامند۔ موافق۔ ہم خیال۔ ہم رائے۔ ہم صلاح۔

**مُتَفَرِّق**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ بیث۔ (ع۔ صف) آہستہ آہستہ ہونے والا۔ ڈھونڈنے  
والا۔ جستجو کرنے والا۔ ترکی لفظ تلاش سے عروج طریقہ پر اسم فاعل

بنایا گیا ہے۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَقَدِّم**۔ رُم۔ ت۔ بنی۔ زین۔ (ع۔ صف) بدلنے والا۔ تبدیل ہونے والا۔ قابل  
تغییر۔ تیز رفتاری سے مستقل بے ثبات۔

**مُتَقَاوُت**۔ رُم۔ ت۔ فاروت۔ (ع۔ صف) فرق کیا گیا۔ دوڑ کیا ہوا۔

**مُتَقَاوُت**۔ رُم۔ ت۔ فاروت۔ (ع۔ صف) فرق رکھنے والا۔ ایک دوسرے  
سے دور ہونے والا۔ مختلف۔ متضاد۔

**مُتَقَبِّض**۔ رُم۔ ت۔ فح۔ حیض۔ (ع۔ صف) ڈھونڈنے والا۔ تلاش کرنے والا۔  
جستجو کرنے والا۔ متلاشی۔ کسوچی رہی تحقیق کرنے والا۔ محقق۔

**مُتَقَبِّض**۔ رُم۔ ت۔ قرین۔ (ع۔ صف) اگلا۔ تنہا۔ یگانہ۔

**مُتَقَرِّع**۔ رُم۔ ت۔ فر۔ برش۔ (ع۔ صف) کسی چیز سے اُس کی شان کی طرح  
لکھنے والا۔

**مُتَفَرِّق**۔ رُم۔ ت۔ فر۔ بریق۔ (ع۔ صف) جدا جدا۔ الگ الگ۔ پراگندہ۔ منتشر۔

**مُتَفَرِّقَات**۔ رُم۔ ت۔ فر۔ برجات۔ (ع۔ صف) متفرق کی جمع۔ مختلف چیزیں۔  
۲، حساب کی مختلف قسمیں زمین کے دو جدا جدا اور مختلف حصے

جو ایک گاؤں یا علاقہ میں شامل ہوں۔

**مُتَفَرِّق**۔ رُم۔ ت۔ فح۔ (ع۔ صف) اتفاق کرنے والا۔ ملا جلا۔ شامل۔ لگا ہوا۔  
۲، مضامند۔ موافق۔ ہم خیال۔ ہم رائے۔ ہم صلاح۔

**مُتَفَرِّق**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ بیث۔ (ع۔ صف) آہستہ آہستہ ہونے والا۔ ڈھونڈنے  
والا۔ جستجو کرنے والا۔ ترکی لفظ تلاش سے عروج طریقہ پر اسم فاعل

بنایا گیا ہے۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔

**مُتَلَاظِم**۔ رُم۔ ت۔ لا۔ ظم۔ (ع۔ صف) تلامذہ۔ شاگرد۔ تلامذہ۔ تلمیذ۔  
مدرسے والا۔ موجد۔ نطفائی۔



**ممتحن** - ر. م. ت - تک بکن ۱۶ - صف ۱ جگہ پڑھنے والا - قرار پھلنے والا -  
**متملق** - ر. م. ت - کل رنگ ۱۶ - صف ۱ تعلق کرنے والا خوشامدی - بال  
 میں بان ملانے والا -  
**متمم** - ر. م. ت - تم نیم ۱۶ - صف ۱ تمام کرنے والا پورا کرنے والا -  
 ختم کرنے والا -  
**متمنی** - ر. م. ت - کن بی ۱۶ - صف ۱ تمنا کرنے والا - آرزو رکھنے والا -  
 خواہش مند -  
**متمروج** - ر. م. ت - نور و نوح ۱۶ - صف ۱ مروج ہونے والا لہریں ماسے والا -  
**متمبول** - ر. م. ت - موزیل ۱۶ - صف ۱ مال دار - دولت مند -  
**متمیز** - ر. م. ت - تخی تیز ۱۶ - صف ۱ الگ ہونے والا جدا جدا -  
 ممتن - ر. م. ت - ہم کتاب کی اصلی عبارت کتاب پر لکھے یا سڑک کے بیچ کا  
 حصہ ۱۲ درمیان - وسط درمیان (۲) بیعت دم، مضبوط -  
**ممتنا** - ر. م. ت - نا ۱۵۱ - صف ۱ ایک قسم نیکوئی کی ایک قسم (۱۲) مص  
 مشورہ کرنا، صلاح کرنا، اتفاق کرنا، متفق ہونا -  
**ممتنا** - ر. م. ت - نا ۱۶ - صف ۱ مص متنا -  
**ممتنا** - ر. م. ت - نا ۱۶ - صف ۱ وہ سچے سے بستر پیشاب کر دینے کی  
 عادت ہو -  
**ممتنازع** - ر. م. ت - نا ۱۶ - صف ۱ تنازع کیا گیا جھگڑا کیا گیا وہ  
 چیز جس پر جھگڑا ہو -  
**ممتنازع** - ر. م. ت - صف ۱۱۶ - صف ۱ وہ جس میں نزاع ہو -  
**ممتنازعہ** - ر. م. ت - نا ۱۶ - صف ۱ وہ چیز جس کی بابت جھگڑا ہو -  
**ممتنا سبت** - ر. م. ت - نا سبت ۱۶ - صف ۱ ممتنا سب لکھنے والا، باہم  
 نسبت رکھنے والا -  
**ممتنا قصص** - ر. م. ت - نا قصص ۱۶ - صف ۱ قصص رکھنے والا، ناقص - نا تمام  
**ممتنا قصص** - ر. م. ت - نا قصص ۱۶ - صف ۱ قصص، مخالف، جگس  
 الٹ - خلاف -  
**ممتنا ہی** - ر. م. ت - نا ہی ۱۶ - صف ۱ ممتنا کو سمجھنے والا -  
**ممتنیہ** - ر. م. ت - نا ہی ۱۶ - صف ۱ ممتنیہ کیا گیا - خبردار - آگاہ -  
 ہوشیار - جو کس -  
**ممتنیہ** - ر. م. ت - نا ہی ۱۶ - صف ۱ ممتنیہ کرنا - خبردار کرنا - ہوشیار کرنا -  
**ممتنیہ** - ر. م. ت - نا ہی ۱۶ - صف ۱ ممتنیہ کرنا - خبردار کرنا - ہوشیار کرنا -  
**ممتنیہ** - ر. م. ت - نا ہی ۱۶ - صف ۱ ممتنیہ کرنا - خبردار کرنا - ہوشیار کرنا -  
**ممتنیہ** - ر. م. ت - نا ہی ۱۶ - صف ۱ ممتنیہ کرنا - خبردار کرنا - ہوشیار کرنا -  
**ممتنیہ** - ر. م. ت - نا ہی ۱۶ - صف ۱ ممتنیہ کرنا - خبردار کرنا - ہوشیار کرنا -  
**ممتنیہ** - ر. م. ت - نا ہی ۱۶ - صف ۱ ممتنیہ کرنا - خبردار کرنا - ہوشیار کرنا -

**متمنص** - ر. م. ت - فتن ۱۶ - صف ۱ سانس لینے والا جاندار (۲) -  
 انسان آدمی پیشہ شخص - نفر -  
**ممتنگ** - ر. م. ت - فتن ۱۶ - صف ۱ آدمی پیشہ شخص - نفر -  
**ممتنی** - ر. م. ت - فتن ۱۶ - صف ۱ آدمی پیشہ شخص - نفر -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -  
**متواتر** - ر. م. ت - واہتر ۱۶ - صف ۱ ایک کے بعد ایک کے بعد آگے  
 گاندر سلسلہ وار مسلسل -

مستی و دم برقی، ۱۰۵-۱۰۱-۱۰۰ (مٹ) تاریخ، تھوڑے (۲۰) ہوا، دستوری، کیش۔  
 مستی پینا، ۱۶- (مٹ) ۱۰۱-۱۰۰ (مٹ) تاریخ کا پورا ہو جانا۔ ہنڈی  
 کی میٹھا کا ختم ہو جانا۔  
 مستی صراطِ حیات، ۱۱- (مٹ) تاریخ ڈالنا، تاریخ لکھنا۔  
 مستی کاٹنا، ۱۰۵-۱۰۰ (مٹ) حساب جس کے مطابق ہنڈی پر مدت معینہ کا  
 سود لیتے ہیں۔ کوٹنی۔  
 مستی کاٹنا، ۱۰۱- (مٹ) حساب جس کے مطابق ہنڈی پر مدت معینہ کا  
 مستی وار، ۱۰۱- (مٹ) تاریخ وار۔  
 مستی، (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔

مستوی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مستی، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔

# م-ٹ

مٹ، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔

مٹ، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔  
 مٹا، ۱۰۱- (مٹ) یا، (ق) صفت، مست۔



بے اور کسی سے بات نہ کرے، مگھتا آدمی، وہ شخص جو اپنے دل کا حال کسی سے نہ کہے۔  
 مٹھولا، (م۔ٹھولا، ۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵)۔  
 مٹھولے لگانا - (۱) - محاورہ) مٹھ لگانا - ہتھ رس مٹھ مارنا۔  
 مٹھی - مٹھی (۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵) - مٹھی (۵)۔  
 مٹھی (مٹھی، مٹھی، ۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵) - مٹھی (۵)۔  
 مٹھ کے برابر مقدار۔ لب بھر م، گرنٹ، ریکڑ (۵) - بند ہاتھ کی مقدار جو پانے میں آتی ہے (۵) - مٹھ (۵) - مٹھی بھر غلہ جو خیرات کے لیے نکالتے ہیں۔

مٹھی بھر - (۵) - مٹھ (۵) - لب بھر - ایک مٹھ مقدار کے برابر۔  
 مٹھی رٹھکھیاں، بھرتا - چینی کرنا - باقوں دبانا - مٹھ کرنا۔  
 مٹھی گرم کرنا - (۱) - محاورہ) رٹھوت دینا - مٹھ بھر لی دینا - کسی کے ہاتھ میں نفدی دینا (۲) - مٹھ (۵) - مٹھی (۵) - مٹھی (۵)۔  
 مٹھی مٹھی (۱) - تابع نفل (مٹھی بھر - لب بھر۔  
 مٹھی ملنا - (۱) - محاورہ) رٹھوت پہنچانا۔  
 مٹھی میں - (۱) - تابع نفل (مٹھی میں - تابع میں۔  
 مٹھی میں دھرا ہونا - (۱) - محاورہ) پاس موجود ہونا۔  
 مٹھی میں دینا - (۱) - محاورہ) کسی کے ہاتھ میں دینا۔  
 مٹھی میں طاق ہونا - (۱) - محاورہ) استخارہ میں قاعدہ ہے اگر طاق ہو تا ہے

کام کی اجازت ہوتی ہے  
 مٹھی میں ہوا بند کرنا - (۱) - محاورہ) نامکمل کام کرنے کا خیال یا ارادہ کرنا۔  
 مٹھی میں ہونا - (۱) - محاورہ) قابو میں ہونا - قبضہ میں ہونا - اختیار میں ہونا۔  
 مٹھی (مٹھی یا، ۵) - (مٹھ) - (مٹھ) - (مٹھ) - (مٹھ) - (مٹھ) - (مٹھ) - (مٹھ)۔  
 رہتا ہے (۳) - قبضہ - مٹھی (مٹھ) - (مٹھ) - (مٹھ) - (مٹھ) - (مٹھ)۔  
 مٹھی سے اور اس میں ٹھونڈ کرنا - (مٹھی)۔

مٹھی قلم - چھوٹا قلم جو مٹھی سے چھوٹا ہوتا ہے۔  
 مٹھی کا مٹھا - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی میں لینا - مٹھی (مٹھی) - (مٹھی) - (مٹھی)۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵) - مٹھ (۵) - مٹھی (۵)۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔

مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔

مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔

مٹھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونے کی طرح فائدہ دیتی ہے۔  
 مٹھی پلید کرنا - ذلیل و رسوا کرنا۔ برمال کرنا۔ روگت بنانا (۲) - ستانا - دن کرنا۔ ہنسی اڑانا۔  
 مٹھی پلید ہونا - مٹھی خراب ہونا - مٹھی خمار ہونا - (۱) - محاورہ) ذلیل ہونا۔  
 مٹھی پلید ہونا - (۱) - محاورہ) مٹھی پلید ہونا - مٹھی پلید ہونا۔  
 مٹھی پلید ہونا - (۱) - محاورہ) مٹھی پلید ہونا - مٹھی پلید ہونا۔  
 مٹھی پلید ہونا - (۱) - محاورہ) مٹھی پلید ہونا - مٹھی پلید ہونا۔  
 مٹھی پلید ہونا - (۱) - محاورہ) مٹھی پلید ہونا - مٹھی پلید ہونا۔

مٹھی خراب رہنا - (۱) - محاورہ) پریشان رہنا - سرگرداں رہنا۔  
 مٹھی خراب کرنا - (۱) - محاورہ) مٹھی خراب کرنا - مٹھی خراب کرنا۔  
 مٹھی خراب کرنا - (۱) - محاورہ) مٹھی خراب کرنا - مٹھی خراب کرنا۔  
 مٹھی خراب کرنا - (۱) - محاورہ) مٹھی خراب کرنا - مٹھی خراب کرنا۔  
 مٹھی خراب کرنا - (۱) - محاورہ) مٹھی خراب کرنا - مٹھی خراب کرنا۔

مٹھی خراب ہونا - (۱) - محاورہ) مٹھی خراب ہونا - مٹھی خراب ہونا۔  
 مٹھی خراب ہونا - (۱) - محاورہ) مٹھی خراب ہونا - مٹھی خراب ہونا۔  
 مٹھی خراب ہونا - (۱) - محاورہ) مٹھی خراب ہونا - مٹھی خراب ہونا۔  
 مٹھی خراب ہونا - (۱) - محاورہ) مٹھی خراب ہونا - مٹھی خراب ہونا۔

مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔

مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔

مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔  
 مٹھی (مٹھی) - (۱) - محاورہ) مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا - مٹھی کا مٹھا۔

مٹیا۔ رمت۔ یا، (۵۔ رمت) مٹی کا چھڑا برتن جس میں دودھ، دہی گھی وغیرہ رکھتے ہیں۔  
 مٹیاری۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹی کا۔ مٹی کے رنگ کا بھورا، گدلا، مکڑ (۳،) پتھر، جھان عورت۔  
 مٹیالی۔ رمت۔ یا، (۵۔ مذ) گڑھا جس سے مٹی کھودی جائے۔  
 مٹیا لہ۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹی کا بنا ہوا، (۲،) مٹی کے رنگ کا بھورا، (۳،) مٹی میں بھرا ہوا۔ مٹی میں لٹھا ہوا۔  
 مٹیانا۔ رمت۔ یا، (۵۔ مص) سن کر طال جانا۔ مکران کرنا چپ سا رہنا، (۲،) درگزر کرنا، (۳،) چراغ گل ہو جانا، (۴،) مٹی سے ملنا۔  
 مٹی مل کر صاف کرنا، (۵،) مٹی کا پلستر کرنا، (۶،) مٹی ہو جانا، (۷،) ہموار ہو جانا۔

## م۔ٹ

مٹشاب۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثواب دیا گیا۔ اجر کے لائق۔ ثواب کے قابل۔ لائق۔  
 مٹشال۔ رمت۔ یا، (۵۔ رمت) نظیر نسل۔ مانند، (۲،) تصویر صورت۔ نمونہ۔  
 مٹشال دینا۔ (۱۱۔ محاورہ) تشبیہ دینا۔ مشابہت ظاہر کرنا۔ نظیر دینا۔  
 مٹشالی۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) نمونے کا۔  
 مٹشانہ۔ رمت۔ یا، (۵۔ مذ) جسم کے اندر مٹشاب کی کھلی۔  
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثابت کیا گیا۔ قائم کیا گیا۔ ساکن کیا گیا۔  
 جو منفی نہ ہو جس میں نکل کا ہونا چاہئے، (۲،) لکھا گیا۔  
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثابت کرنے والا۔ تصدیق کرنے والا۔  
 مٹشکت کرنے والا، (۲،) اقراوی۔ اشافی، (۳،) مدلل۔  
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثابت۔ ثابت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ثابت شدہ۔ مقرر شدہ، (۲،) تصدیق کیا، (۳،) لکھا، (۴،) ہموار، (۵،) مہر لگا ہوا، (۶،) مٹشاب لگا ہوا۔ نشان لگا ہوا۔  
 مٹشکت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹشاب پر اشام لگایا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
 مٹشقال۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) سارے چار ماشر ذکن، (۲،) سونے کا ایک سکہ جو عرب میں رائج ہے۔  
 مٹشل۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹشاب کاوت۔ مٹشال، (۲،) کہانی۔ داستان۔  
 مٹشل۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) ماشر۔ موافق۔ جیسا۔ ملتا ہوا، (۳،) شکل۔ یکساں۔  
 مٹشلی۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) درجے مسل۔  
 مٹشلا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) جیسے۔ جس طرح۔ گویا۔  
 مٹشلا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹشاب کاوت۔  
 مٹشلاب۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) عیب کی جگہ۔ جمع۔ مٹشاب۔  
 مٹشلت۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) لٹ، (۲،) لٹ، (۳،) سرگوشہ۔ ٹکون۔ وہ سطح جو تین

وغیرہ میں جلا یا جاتا ہے۔ کرو سین آئل۔  
 مٹی کا عطر۔ (۱۱۔ مذ) ایک قسم کا عطر جس کا جزو اعظم مٹائی یا پتھول مٹی کا پھینچا ہوا ہے۔  
 مٹی کا پھینچ لانا۔ (۱۱۔ محاورہ) قضا کا اس جگہ لانا۔ جہاں کی مٹی روت ہو۔  
 مٹی کا کھڑا بھی ٹھونک سجا کر لیتے ہیں۔ (۱۱۔ مٹش) ادنیٰ بیز بھی دیکھ بھال کر لینی چاہئے۔ معمولی کام بھی خوب سوچ سمجھ کر لانا احتیاط سے کرنا چاہئے۔  
 مٹی کا ملاحو۔ (۱۱۔ مذ) اٹنی بے خوف ہے۔  
 مٹی کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں ملانا۔ مٹی کی طرح بے قدر کرنا۔ خراب کرنا۔  
 بگاڑنا، (۲،) مٹی کے رنگ کا کرنا، (۳،) میلانا، (۴،) لٹھ کرنا۔ لٹھنا، (۵،) کر دینا، (۶،) بر باد کرنا۔ ٹٹنا۔  
 مٹی کی مورت۔ (۱۱۔ مٹش) مٹی کا بنا ہوا پتلا، (۲،) لٹنا، (۳،) جس میں شوخی نہ ہو۔  
 مٹی کے برابر۔ (۱۱۔ صف) نہایت بے عزت۔ کمال بے وقعت۔  
 مٹی کے مولی۔ (۱۱۔ صف) نہایت سستا۔ کوڑیوں کے مولی بہت ارزاں۔  
 مٹی لے ڈالنا۔ (۱۱۔ محاورہ) بار بار آنا جانا۔  
 مٹی ماٹنا۔ (۱۱۔ محاورہ) لوگوں سے اپنے ذہن میں شرکت کی تمنا کرنا۔  
 مٹی میں لٹنا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں لٹنا۔  
 مٹی میں رنگنا۔ (۱۱۔ محاورہ) مٹائی مٹی میں رنگنا۔  
 مٹی میں لوٹنا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں لٹنا۔  
 مٹی میں مٹی ملانا۔ (۱۱۔ محاورہ) ذہن کرنا، مٹنا۔ ناپید کرنا۔  
 مٹی میں مل جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں مل جانا، (۲،) جسم کا خاک ہو جانا، (۳،) بگاڑنا، خراب ہو جانا۔  
 مٹی میں ملانا۔ (۱۱۔ محاورہ) خاک میں ملانا۔ ستانا۔ ناپید کرنا۔ بے نشان کرنا، (۳،) ذہن کرنا، (۴،) بے لطف کرنا، (۵،) ضائع کرنا۔  
 گٹنا۔  
 مٹی کو جانا رہونا، (۱۱۔ محاورہ) خاک میں مل جانا۔ خاک ہو جانا، (۲،) بگاڑنا۔  
 بوسیدہ ہو جانا۔ ٹپکا ہو جانا، (۳،) بے رونق ہو جانا۔ ماند ہو جانا، (۴،) مرہ دل ہو جانا۔ (۵،) خراب جانا۔ شرمندہ ہو جانا، (۶،) کھلنے کا ٹھنڈا ہو کر بے لطف ہو جانا، (۷،) ذہن ہونا۔  
 مٹیا۔ رمت۔ یا، (۵۔ صف) مٹی کے رنگ کا، (۲،) کچی مٹی کی زمین۔  
 مٹیا پھوس۔ (۱۱۔ صف) نہایت بولہ بالا اور ناتواں جس کی مٹی یعنی جسم چھوس کر طرح ہو گیا ہو۔  
 مٹیا سانپ۔ (۱۱۔ مذ) بھورے رنگ کا سانپ جس پر کالی پتیاں ہوتی ہیں۔  
 مٹیا مٹیل۔ (۱۱۔ صف) مٹی کی بنا ہوا محل، (۲،) وہی کے ایک محل کا نام

## م-ج

خطوط مستقیم سے گھری ہوئی ہو۔ تین ضلعوں کی جیسے  $\Delta$ ، وہ  
 نظم جس کے ہر بند میں تین مصرعے ہوں وہ علم جس میں  
 مثلث بنا کر سطح کی پیمائش کی جاتی ہے (۵) زاویوں کی پیمائش کا  
 علم (۶) علم عروض کے ایک وزن کا نام جس میں تین رکن ہوتے ہیں۔  
 (۷) ایک خوشبو کا نام جس کے سرگوشہ قرص ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا تلوید  
 جس میں سہ در سر خانے ہوتے ہیں۔

مثلث حادۃ الزاویہ - (ع-۱) مذم وہ مثلث جس کا زاویہ قائمہ  
 سے کم ہو۔

مثلث قائم الزاویہ - (ع-۱) مذم وہ مثلث جس کا ایک زاویہ  
 قائمہ ہو۔

مثلث متساوی الاضلاع - (ع-۱) مذم وہ مثلث جس کے سبب ضلعے  
 آپس میں برابر ہوں۔

مثلث متساوی الساقین - (ع-۱) مذم وہ مثلث جس کے دو ضلعے  
 آپس میں برابر ہوں۔

مثلث مختلف الاضلاع - (ع-۱) مذم وہ مثلث جس کے تینوں  
 ضلعے برابر ہوں۔

مثلث منفرجۃ الزاویہ - (ع-۱) مذم وہ مثلث جس کا ایک زاویہ  
 قائمہ سے بڑا ہو۔

مشائی - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت کونا کونا کھوٹا۔  
 مشتکم - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت کان اور ناگ کا ثنا۔  
 مشتکے - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) جمع - مثلاً بمعنی مش۔

مشمم - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت شمردار - پھل دار (۲) فائدہ دینے والا  
 مشتمل - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت ہمشہ پہلو - آٹھ ضلعوں کا (۲) آٹھ  
 ضلعوں کی شکل (۳) اصطلاح عروض میں ایک وزن جس میں  
 مشتمل رکن ہوتے ہیں۔

مشمور - (ع-۱) معقول بہت - (ع-۱) صفت دولت (۲) بے ترتیب - لاتعداد۔

مثنیات - (ع-۱) صفت (۱) مثنیٰ - دو ہرے شکں والا (۲) ہیئت (۳)  
 رتیبہ (۴) گانا (۵) آوریٹ کے علاوہ بیرونی کی ایک کتاب۔

مثنیٰ - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) مذم ثنائی - دو سرا (۲) نقل مطابق اصل -  
 دو سرا بہت (۳) جوڑے جوڑا - جفت -

مثنیٰ بہ - وہ اصل جس سے نقل کی گئی ہو۔

مثنوی - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت (۱) دو دو والا (۲) نظم کی ایک  
 قسم جس میں کوئی مسلسل بات بیان کی جاتی ہے - اس میں ہر  
 شعر کا قافیہ سدا یکین ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم تانیہ ہوتے ہیں۔  
 ادرا شعاری تعداد مقرر نہیں ہوتی - جمع - مثنویات -

مخاب - (ع-۱) مضول (جواب دیا گیا (۲) منظور کیا گیا۔  
 مخائب اللغوات - (ع-۱) مذم وہ شخص جس کی دعائیں قبول کی  
 گئی ہوں۔

مخاویل - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت لڑنے والا جھگڑنے والا۔  
 مخاویلہ - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت لڑائی - جنگ - ہنگامہ - خوں ریزی  
 (۲) جھگڑا - بکھیرا - تنازع (۳) دشمنی - عداوت - خصومت (م-ث-ن-ی)

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے

مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے  
 مخاویب - (م-ث-ن-ی) (ع-۱) صفت جمع ہے مجذوب کی - دیوانے



عالی شان، پرنسپل، شانداز، بادشاہ، شاہانہ۔  
 مجسمہ - رُم - جس - ستم، (ع - صف) جسم دار - وہ چیز جس میں طول و  
 عرض اور عمق ہو۔ اسطرح (۲) سے پادن لکھ - سراپا۔  
 مجسمات - رُم - جس - من - مات، (ع - امد) وہ اجسام جن میں طول عرض  
 اور عمق پایا جاتے۔

مجسمہ - رُم - جس - من - مات، (ع - امد) میت - جمع - مجسمات -

مجسمہ ساز - (ع - ف - صف) مٹی اور پتھر کے بت بنانے والا۔

مجسمہ سازی - (ع - ف - ا - مت) میت بنانے کا کام۔  
 (انگ) (Modelling)

مجملہ - رُم - بیل - لا، (ع - صف) جلا گیا ہوا، چمکایا ہوا، صاف  
 کیا ہوا - روشن - آشکارا۔

مجملہ - رُم - بیل - لذ، (ع - صف) جلد بندھا ہوا - جلد بندی کیا ہوا۔

مجلس - رُم - جلس - (ع - ا - مت) مٹھنے کی جگہ - انجمن - بزم - مجلس  
 جمع - بھا - جگہ جہاں آدمیوں کا گروہ جمع ہو (۲) شہدائے کربلا۔

کے ماتم اور ناسخ کا مجمع جمع - مجلس

مجلس آرا - (افروز) - (ع - ا - مت) مجلس کو زینت دینے والا مجلس  
 کو رونق بخشنے والا۔

مجلس احتساب فلمی - (ع - ا - مت) وہ مجلس جو فلموں کی جانچ پڑتال  
 کے لیے مامور ہو (انگ) (Board of Film Censor)

مجلس انتظامیہ مجلس منتظم - (ع - ا - مت) انتظام کرنے والی جماعت  
 (انگ) (Executive Council Board)

مجلس برہم گونا - (ع - ا - مت) مجلس کے انتظام میں خرابی  
 پیدا ہونا۔

مجلس تقریر - (ع - ا - مت) وہ مجلس جسے ملازم رکھنے کے اختیارات ہے  
 گئے ہوں (انگ) (Appointment Committee)

مجلس حیران - (ع - ا - مت) ایک قسم کی نہایت عمدہ تھی جو  
 عورتیں کھتی ہیں۔

مجلس خانہ - (ع - ف - ا - مت) وہ مکان جو مجلس کے لیے مخصوص ہو (۲)

حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم کی مجلسیں ہونے کا مکان  
 (۳) دربار - دلایاں عام۔

مجلس شوری - (ع - ا - مت) مشورہ کرنے والی مجلس مجلس شوری  
 مجلس عادل - (ع - ا - مت) منتخب ارکان کی جماعت جو عملی طور پر  
 سارے لوگوں کی ذمہ داریوں ہے (انگ) (Working Committee)

مجلس عامہ - (ع - ا - مت) نام اجلاس - (انگ) (General Meeting)

مجلس علمی - (ع - ا - مت) علمی سوسائٹی کا معنی علوم۔

مجلس قائمہ - (ع - ا - مت) مستقل کمیٹی جو متقرر کرنے والوں کی موجودگی تک  
 قائم رہے۔ (انگ) (Standing Committee)

مجلس کرنا - (ع - ا - مت) جلسہ کرنا (۲) ماتم حضرت امام حسین علیہ السلام کے  
 لیے جلسہ کرنا (۳) مشورہ خواتین کرنا۔

منصب ماردر باری (۳) مشورہ نخل (۴) دعوئی۔  
 مجرمان - (ع - ا - مت) دیکھیے مجرمی (۲) ناپسندے لگانے والا۔ مجرم لگانے  
 والا (۳) سلام کرنے والا۔

مجرب - رُم - جرب - (ع - صف) تجربہ کرنے والا۔ آزمانے والا۔

مجرباں - (ع - ا - مت) تجربہ کی بونی اذکیات - آزمائے ہوئے  
 نئے (۲) وہ کتاب یا بیاض جن میں ان دواؤں کے نئے

درج ہوں۔

مجرب - رُم - جرب - (ع - صف) تجربہ کیا ہوا - آکھایا ہوا - آزمودہ - موثر۔

مجربو - رُم - جربو - (ع - صف) اجمیرہ - اکیلا - تہا (۲) وہ شے جو مادہ  
 سے پاک ہو (۳) بن بیا ہوا - غیر شادی شدہ - ناکتہ یا غیر بوی

بجوں والا (۴) وہ شخص جو دنیا سے الگ ہو گیا ہو - سنیاسی تارک  
 الدنیا (۵) وہ شے جو مادہ سے پاک ہو۔

مجرب رہنا - (ع - ا - مت) آزاد رہنا - اکیلا رہنا - بن بیا ہونا - رہنا شادی  
 نہ کرنا۔

مجرب سب سے علی جس کے لڑکانہ بالا - (ع - ا - مت) مثل (جھڑا  
 جھرد سب سے علی جس کے ستم نہ سالا) آدمی سب سے

اچھے جس کو کسی کا غم نہ فکر۔

مجربوات - رُم - جربوات - (ع - ا - مت) مجرب کی جمع - غیر جہانی وجود۔

مجربوس چیزیں (۲) ملاک - ارواح۔

مجربوی - رُم - جربوی - (ع - ا - مت) کوہا پن - تہا پن - آزادی - تجرؤ۔

مجربم - رُم - (ع - ا - مت) مجرب کرنے والا - گنہگار - خطا کار۔  
 پانی - غاسی۔

مجربم انتہاری - (ع - ا - مت) وہ مجربم جس کی گرفتاری کا انتہار  
 ہو چکا ہو۔

مجربم عادی - (ع - ا - مت) وہ مجربم جسے مجرب کرنے کی عادت ہو گئی ہو۔ بار  
 بار مجربم کرنے والا۔

مجربم فراری - (ع - ا - مت) بھاگا ہوا مجربم۔

مجربم قرار دینا - (ع - ا - مت) مجربم ٹھہرانا - قصور وار ٹھہرانا۔

مجربم ہونا - (ع - ا - مت) مجربم کرنے والا - خطا دار ہونا - قصور وار ہونا۔

مجربمانہ حملہ - (ع - ف - ا - مت) وہ حملہ جو کسی عورت پر زنا کی نیت  
 سے کیا جاتے۔

مجربموج - رُم - جربموج - (ع - صف) زخمی - گھائل - چوٹ کھایا ہوا۔ وہ  
 جس کے زخم لگا ہوں (۲) اُردو کے ایک مشہور شاعر میر ہمدی

دبلیو ٹیلڈن غالب کا مخلص۔

مجسٹریٹ - (Magistrate) رُم - جسٹ - ریٹ، (انگ)  
 (۱) مذاکم فریدی۔

مجسٹریٹی - رُم - جسٹ - سے - ٹ، (۱) ا - مت) مجسٹریٹ کا عہدہ  
 (۲) اختیار حکومت۔

مجسٹک - (Majestic) رُم - جسٹک، (انگ) صفی علم انسان



مجلس کی رونق - ۱۳- صفحہ، مجلس کی رونق برصغیر دالارہ، صفحہ -  
 مجلس محترم ہونگا - (۱۱- مجاورہ) مجلس میں رونق آنا۔ گر ماگرم بحث ہونا  
 بائیں ہونا۔  
 مجلس مضامین رائے مجلس میں ان قرار دادوں پر بحث کی جاتی ہے  
 جو اجلاس عام میں پیش کی جانے والی ہوتی ہیں۔  
 (انگ) (Subject Committee)  
 مجلسی درجہ بل رسی (ع- ۱- ۱۵) مجلس سے متعلق۔ بل مجلس - وہ  
 شخص جو شریک مجلس ہے۔  
 مجلہ - رقم - نکل (ع- ۱۵) صفحہ رسالہ انگیزین۔  
 مجسمہ - رنج - ہر (وہ برتن جس میں نوشیدنی پر جلائے ہیں۔ عود والی۔  
 مجمع - رنج - مع (ع- ۱۵) مجلس - لوگوں کے مجمع ہونے کی جگہ۔ جلسہ  
 راجہ - ہجوم - بھیر پڑا ہوا۔  
 مجمع اطلاق (ع- ۱۵) اچھے اوصاف کا مجموعہ۔  
 مجمع البحرین (ع- ۱۵) وہ جگہ جہاں سمندر یا دو دریا ملتے ہوں  
 دو دریاؤں کا ملاپ۔  
 مجمع الجزائر (ع- ۱۵) بہت سے جزیروں کا مجموعہ۔ اسٹے  
 جزیرے۔  
 مجمع جھنڈا - (۱۱- مجاورہ) بھیر دکھ ہونا۔  
 مجمع خلاف قانون - (ع- ۱۵) قانون کے خلاف لوگوں کا اکٹھا ہونا۔  
 خلاف قانون ہنگامہ۔ مجمع ناجائز۔  
 مجمع عوام (ع- ۱۵) عوام لوگوں کی بھیر۔ عوام کا ہجوم۔  
 مجمعہ - رنج - نم - غم - (۱۱- ۱۵) مذہب طریقیانہ - سینی۔  
 منجل - رنج - نکل (ع- ۱۵) صفحہ اجمال یا کیا گیا۔ مختصر خلاصہ۔ اختصار۔  
 منجمل حساب - (ع- ۱۵) وہ حساب جو تفصیل کے ساتھ نہ ہو  
 حساب کا گوشوارہ۔  
 منجملہ - رنج - نم - نکل (ع- ۱۵) تابع فعل (اجمال کے طور پر مختصر طریقے سے  
 فی الجملہ۔ اختصاراً۔  
 مجموعہ - رنج - نوح (ع- ۱۵) صفحہ، جمع کیا گیا۔ جمع۔ تمام۔ سب۔ میزان۔ نکل۔  
 مجموعہ - رنج - نوح (ع- ۱۵) صفحہ، جمع کیا گیا۔ اکٹھا کیا ہوا۔ جوڑا (۱۱- ۱۵)  
 ذخیرہ - خزائن - کلمات (۱۵) پشت تارہ - بندل - کٹھا۔  
 مجموعہ تعزیرات پاکستان - قانون کی وہ کتاب جس میں پاکستان  
 میں ہونے والے جرائم کے لیے سزائوں کا قانون درج ہے۔  
 (انگ) (Pakistan Penal Code)  
 مجموعہ تعزیرات ہند - وہ کتاب جس میں انگریزی حکومت نے اہل  
 ہند کے لیے سزائوں کے قانون درج کیے تھے۔ انڈین پنل کوڈ کا اردو  
 ترجمہ۔  
 (Indian Penal Code)  
 مجموعہ قوانین - (ع- ۱۵) قانون کا ذخیرہ۔ وہ کتاب جس میں متعدد  
 قوانین اکٹھے کیے گئے ہوں۔  
 مجموعہ کلام - (ع- ۱۵) کلام کا ذخیرہ۔ وہ کتاب جس میں کسی

شاعر کی منظومات جمع کر دی گئی ہوں۔  
 مجموعہ کا عطر - ایک عطر کا نام جس میں کئی خوشبو یا ت شامل ہوتی ہیں۔  
 مجموعی - رنج - نوح (ع- ۱۵) صفحہ، تمام۔ یک جا طور پر۔ اجمالی۔  
 مجموعی قیمت - (ع- ۱- ۱۵) صفحہ، اکٹھی قیمت، نکل - نام۔  
 مجنون - رنج - نکل (ع- ۱۵) صفحہ، دیوانہ۔ پاگل۔ بڑی۔ سووائی۔ غیبتی۔ بالکل  
 ۲، تیس عامری کا لقب جو بلی کا عاشق تھا۔ عشق کی دلچاسپی کے  
 سبب مجنون نام پر لگیا تھا۔ عاشق - شیدا - مفتون - زلیفہ - مہنایت  
 ڈیلا پٹلا اور کزرا آدمی - جمع - ۱- ۱۵ - مجانین۔  
 مجنون دوری - (ع- ۱۵) صفحہ، جو ہمیشہ پاگل نہ رہے۔ کبھی کبھی  
 پاگل ہو جاتا، سو۔  
 مجنون کر دینا - (۱۱- مجاورہ) دیوانہ بنا دینا۔ پاگل کر دینا۔ غیبتی کر دینا۔  
 مجنونوں کو لپٹائی کا کتا بھی پیا سا - (۱۱- مثل) جس سے محبت ہو اس کی ہر  
 چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔  
 مجنونیت - (ع- ۱- ۱۵) صفت، پاگل پن۔ دیوانگی۔  
 مجوزہ - رقم - نکل - نکل (ع- ۱۵) صفحہ، جوڑا گیا۔ جائز کیا گیا۔  
 مجوزہ - رقم - نکل - نکل (ع- ۱۵) صفحہ، جوڑا کرنے والے۔ رلنے دینے والا۔ فیصلہ  
 مینے والا۔ ۲، جائز رکھنے والا۔ ۳، اصرار کرنے والا۔ مقرر۔  
 مجوزان قانون - (ع- ۱۵) قانون بنانے والے۔ واضعین قانون  
 قانون بنانے والوں کی جماعت۔  
 مجوزہ - رقم - نکل - نکل (ع- ۱۵) صفحہ، جوڑا کیا ہوا۔ مقررہ۔ معینہ۔  
 جمع التجوزات۔  
 مجوس - رقم - نکل (ع- ۱۵) مجوسی کی جمع۔ آتش پرست۔  
 مجوسا - رقم - نکل (ع- ۱۵) لکڑی جو چھت کے نیچے ٹوٹی کرتے ہیں۔ اڑنا  
 مجوسی - رقم - نکل (ع- ۱۵) آتش پرست۔ گیزر زور شدت کا پسورد۔  
 مجوف - رقم - نکل (ع- ۱۵) صفحہ، جوڑا کیا ہو۔ اندر سے خالی۔  
 کھوکھلا۔ بولا۔ خوتھا۔  
 مجھ - (۱۱) (ع- ۱۵) صفحہ، ایک کلمہ ہے جو اپنے نفس پر اطلاق کیا جاتا ہے  
 جیسے مجھ کو۔  
 مجھ سے - (۱۱) تابع فعل (میری ذات سے ۲، مجھ جیسے۔  
 مجھ کو - (۱۱) ضمیر واحد شکلم (مجھے - میری ذات کو۔  
 مجھ کو پیٹے - (۱۱) کلمہ - قسم (میرا نام کہے۔ ایک قسم کی قسم ہے۔  
 مجھ میں آیا - (۱۱- مجاورہ) میں ذمہ دار ہو۔ میں ضامن ہوں  
 مجھار - (۱۱) بیخ میں۔ درمیان۔  
 مجھلا - (۱۱) (ع- ۱۵) صفحہ، جھکنا۔ بکھرا۔ جھمبلا۔  
 مجھلہ - (ع- ۱- ۱۵) صفحہ، کئی چیز جو بے ذوقی۔ غفلت یا جہالت ظاہر کرے۔  
 مجسول - رنج - نکل (ع- ۱۵) صفحہ، معلوم یا معلوم۔ غیر معلوم ۲، وہ فعل جس  
 کا قائل معلوم نہ ہو، سہسخت، کابل - آرام طلب۔ کتا۔ نکھتو۔  
 ۳، چرہ و مقابلہ میں نامعلوم رقم۔  
 مجہول مطلق - (ع- ۱۵) صفحہ، سخت جاہل۔



میخوانا۔ درج۔ داننا، (۱)۔ مصم، عمل کرنا جیسے عمل تمھانا۔

برخوانا۔ (درج۔ داننا، (۱)۔ مصم، بند کرنا۔ مند فانا۔

بچھڑنا۔ (۱۔ مڈ) بڑی بھلی۔

بچھڑنا۔ (۱۔ مڈ) بھلی کی بڑ۔

بچھڑنا۔ (۱۔ مڈ) ایک آبی پرندہ جو اکثر چھپھیاں پکڑا کر کھاتا ہے۔

رام چڑیا۔

مچھڑ۔ (درج۔ بچھڑ، (۱۔ مڈ) ایک چھوٹا سا پرندہ اور کیترا جو اپنے ڈنگ کے ذریعہ آبی اور جالندہ کا حلن جو ستا ہے۔ پتھر۔

مچھڑ کی بھول۔ (۱۔ مڈ) ہنریت کم قیمت اور ادنیٰ اور مہر کی چیز۔

مچھڑ کی بھول کا چور۔ (۱۔ مڈ) چھوٹی موٹی چیزیں چورنے والا بچکا

اٹھانی کیرا۔

مچھلہارا۔ (درج۔ چھل۔ (۱۔ مڈ) چھیرا۔

مچھلی۔ (درج۔ لی، (۱۔ مڈ) مایہ، مچھی، (۱۔ مڈ) انسان کے بازو کا گوشت جو کسی قدر اٹھیرا ہوتا ہے (۱۔ مڈ) ساقی حیوانات کا گوشت (درج۔ مچھلی کی شکل کا کان میں پھنسنے کا ایک زبور (۱۔ مڈ) ناک میں پھنسنے کا مطلق۔

(۱۔ مڈ) مچھی کی صورت کے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے زبورات میں لگتے

جانتے ہیں مے، مچھلی کا ایک قسم جس میں مچھلی کی شکل کا کھلونا یا لول میں لگتے اور دیکھتے ہیں (۱۔ مڈ) وہ گوشت جو رانوں کے جوڑ

مچھلی تو بہت کم مسٹر چمکتے گی۔ (۱۔ مڈ) مثل، اکثر اوقات مچھی کی شادی کی نسبت بولتے ہیں۔ یعنی اتنی جلدی کیا ہے۔ جب کہیں اچھا بڑے گا کر دیں گے۔

مچھلی کا تیل۔ (۱۔ مڈ) ایک خاص قسم کی مچھلی کے پیچھے کا تیل جو سب اور دوق میں مفید ہوتا ہے۔

مچھلی کا چارہ۔ (۱۔ مڈ) وہ چیز جسے کانٹے میں لگا کر مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔

مچھلی کا کھانا۔ (۱۔ مڈ) ایک قسم کی مچھلی کا کھانا۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلی کی بڑیاں پسلیاں۔

مچھلیاں بڑنا۔ (۱۔ مڈ) ہاروہ ۲ وندش کے باعث ڈنڈروں پر تیاری اگر

عصافوں کا اٹھیرا۔

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

(۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

## م-ح

مچھلیاں بڑنا۔ (۱۔ مڈ) ہاروہ ۲ وندش کے باعث ڈنڈروں پر تیاری اگر

عصافوں کا اٹھیرا۔

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش

مچھلدر۔ (درج۔ مچھل، (۱۔ مڈ) بڑی بڑی مچھلی والا (۱۔ مڈ) چوہا۔ موش



**محبت** (ج)۔ ۱۶۔ محاورہ، اظہارِ محبت کرنا، اُلفت ظاہر کرنا۔

**محبت دلی** (ک)۔ نہیں۔ ۱۶۔ مقولہ، عشق آسان نہیں۔  
**محبت دلی (قلبی)**۔ ۱۶۔ ۱۔ محبت بلکہ محبت۔ سچا عشق۔

**محبت رکھنا**۔ ۱۶۔ محاورہ، دوستی رکھنا، چاہنا، پیار کرنا۔

**محبت کا جھوکا**۔ ۱۶۔ صفت، محبت کا آرزو مند۔

**محبت کا پھوش**۔ ۱۶۔ انداز، دلورہ، عشق۔

**محبت کا دم بھرنا**۔ ۱۶۔ محاورہ، اُلفت کا اقرار کرنا، عشق ظاہر کرنا، دوستی کا دعویٰ کرنا۔

**محبت کرنا**۔ ۱۶۔ مص مرکب، چاہنا، پیار کرنا۔

**محبت کھل**۔ ۱۶۔ اُمت، سب سے برابر محبت، صوفیوں کی اصطلاح  
ہیں سب کو دوست خیال کرنا۔

**محبت کی نظر دکھانا**، **ڈالنا**۔ ۱۶۔ اُمت، اُلفت کی نگاہ سے دیکھنا۔

**نظرِ لغت** کرنا، **نظر** کی نگاہ کرنا۔

**محبت کے مارے** سدا محو کرنا، سے۔ ۱۶۔ مقولہ، عاشق ہمیشہ  
تکلیف میں رہتے ہیں۔

**محبت نامہ**۔ ۱۶۔ ف۔ انداز، خط یا چٹھی جو کسی عزیز کی طرف سے آئے۔

**محبتیں**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، انداز، قید خانہ۔ زندان، جیل خانہ۔

**محبوب**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، پیار، دوست۔ محب (۲)، معشوق  
دلدار، منظورِ نظر، دل ڈریا۔

**محبوبِ الہی**۔ خدا کا پیارا، حضرت نظام الدین اولیاء کا لقب، جن کا  
مزار دہلی میں موضع خاص دعام ہے۔

**محبوبِ خدا** (کیریا)۔ ۱۶۔ انداز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔

**محبوبہ**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، پیاری، معشوقہ۔

**محبوبی**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، پیارا، پیار۔

**محبوبیت**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، پیارا، پیار۔

**محبوس**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حبس میں رکھا گیا، قید میں رکھا گیا۔

**محبوبہ**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، پیارا، پیار۔

**محتاج**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، ضرورت مند، حاجت مند، طلبکار  
خواہش مند (۲)، لولا۔ تنگوا۔ اندھا۔ وہ شخص جس کے کسی عضو  
میں نقص ہو۔

**محتاج الیم**۔ ۱۶۔ انداز، وہ شخص جس کا کوئی دست ٹھک ہو۔

**محتاج خانہ**۔ ۱۶۔ انداز، وہ جگہ جہاں غریب اپنا بیچ ادا و معذور رکھے  
جاتے ہیں، وہ مکان جہاں محتاجوں کی پرورش کی جاتی ہے۔

**محتاج ہونا**۔ ۱۶۔ مص مرکب، حاجت مند ہونا، محض ہونا، دست نگر  
ہونا، انا بیچ ہونا۔

**محتاجی**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، تنگوا، راج۔ ریس، تنگوا، راج۔ ریس، تنگوا، دست  
نگری (۳)، مجبور، نہ چاری۔

**محتاجی**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، تنگوا، راج۔ ریس، تنگوا، دست  
نگری (۳)، مجبور، نہ چاری۔

برتے۔ احتیاط سے چلنے والا، ہوشیار۔

**مختر**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، اختراع کرنے والا، پرہیز برتنے والا۔  
لپٹے آپ کو پچانے والا۔ ہوشیار، جھٹھا۔

**مختر**۔ ۱۶۔ صفت، پیشہ ور۔ اہل حرفہ۔

**مخترق**۔ ۱۶۔ صفت، جلا، بوجھ، آگ لگی ہو۔

**مخترق**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، احترام کیا گیا معزز۔ واجب  
الاعتظام۔ بزرگ۔

**مختص**۔ ۱۶۔ صفت، مختص کی کیفیت۔ قابل تعظیم عورت۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔

**مختص**۔ ۱۶۔ راج۔ ریس، صفت، حساب لینے والا (۲)، وہ  
ساغر جو خلاف شرع باتوں کی معاملات کرے۔ حاکم شرعی مفتی  
قاضی، کوترال۔



**محسن گمشدہ**۔ احسان کرنے والے کے ساتھ بڑائی کرنے والا۔ ناشکرا۔ احسان نہ ماننے والا۔  
**محسنات**۔ ریح۔ سن۔ نیت۔ (ع۔ ۱۔ ۱۶)۔ مٹا۔ مٹا گیا۔ بھلائیوں۔ نیکیوں خوبیاں (۱۶)۔ احسانات۔ سلوک۔  
**محسوب**۔ ریح۔ سبب، (ع۔ ۱۔ ۱۶)۔ حساب کیا گیا۔ وضع کیا گیا۔ حساب میں لگا گیا۔  
**محسوب ہونا**۔ (ع۔ ۱۶)۔ محسب مرکب، حساب میں لگنا۔ وضع ہونا۔ مجرا ہونا۔  
**محسود**۔ ریح۔ سود، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، حسد کیا گیا۔ رفق کیا گیا۔  
**محسوس**۔ ریح۔ محسوس، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، وہ شے جو حواس خمسہ میں سے کسی کے ذریعہ معلوم ہو، (ع۔ ۱۶)۔ ظاہر معلوم، آشکارا۔  
**محسوس ہونا**۔ (ع۔ ۱۶)۔ محسوس ہونا۔ ظاہر ہونا۔ پہچانا جانا۔  
**محسوسات**۔ ریح۔ مشور۔ سات، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، محسوسہ کی جمع۔ وہ چیزیں جو محسوس ہو سکیں۔  
**محشر**۔ ریح۔ مشر، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، قیامت کے دن اکٹھا ہونے کی جگہ (۲)۔ قیامت۔  
**محشر بنا ہونا**۔ (ع۔ ۱۶)۔ محشر، (ع۔ ۱۶)۔ قیامت برپا ہونا، (ع۔ ۱۶)۔ بڑا بگاڑنا۔  
**محشر قائم**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، جس کا چلنا قیامت برپا کرنے شروع ہو رہا ہو۔  
**محشر**۔ ریح۔ مشر، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، قیامت میں اکٹھا کیا گیا۔  
**محشری**۔ ریح۔ مشر، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، محشر کے لوگ۔  
**محشری**۔ ریح۔ مشر، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، حاشیہ پر لکھا گیا۔ شرح کے ساتھ شرح۔  
**محصول**۔ ریح۔ حاصل، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، تحصیل کرنے والا۔ محصول وصول کرنے والا۔  
**محض**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، جس کی حفاظت کی جائے (۱۶)۔ پاک دامن۔ پارسا (۲)۔ بشارت شدہ (۲)۔ جس کے گرد دیوار بنائی جاتی ہے۔  
**محض**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، بھانے والا۔ حفاظت کرنے والا۔  
**محضات**۔ ریح۔ محض، نیت، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، محضہ کی جمع۔ نیکی۔ بیویاں۔ باعصمت بیویاں۔ شوہروالی۔ پارسا۔  
**محضہ**۔ ریح۔ محض، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، پارسا عورت۔ نیکی۔ بیوی۔  
**محصور**۔ ریح۔ محصور، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، محصر کیا گیا۔ گھرا ہوا۔ گھرا ہوا۔ قلعہ بند۔ روکا ہوا۔ محصور۔  
**محصور کرنا**۔ (ع۔ ۱۶)۔ محصور کرنا۔ گھیرنا۔ گھیراؤ لگانا۔ قلعہ بند کرنا۔  
**محصور ہونا**۔ (ع۔ ۱۶)۔ محصور ہونا۔ قلعہ بند ہو جانا۔ گھیرے میں آ جانا۔  
**محصورین**۔ ریح۔ محصورین، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، محصور کی جمع۔ گھیرے ہوئے قلعہ بند لوگ۔  
**محصول**۔ ریح۔ حصول، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، ذریعہ فراز۔ ذریعہ مال گزاری۔ نیکی۔

**محکم**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، کراہی، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، جمع۔ حاصل۔  
**محصول حقیقی**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، وہ معمول جو میں سبیل کئی شہر کی حدود میں لانے والی چیزوں پر لگاتی ہے۔  
**محصول سائنس**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، مختلف قسم کے معمول۔  
**محصولی**۔ ریح۔ محسول، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، قابل محسول شے۔ محصول لینے جانے کے قابل۔  
**محض**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، صرف۔ فقط (۲)۔ نرا۔ خالص (۲)۔ بالکل تمام۔ سرتاسر۔  
**محض**۔ ریح۔ محض، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، حاضر ہونے کی جگہ (۲)۔ وہ کاغذ جو قاضی کی مہر سے مزین کیا گیا ہو، (ع۔ ۱۶)۔ وہ کاغذ جس پر کسی بات کے لیے لوگ اپنے دستخط اور مہریں ثبت کریں۔ عام درخواست۔ مجموعی عرضداشت۔  
**محض قول**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، وہ محض جس کے اوپر کسی کے واجب القتل ہونے کی تصدیق کی گئی ہو۔ قتل نامہ (۲)۔ وہ محض جس سے کسی کا قتل کیا جانا ثابت کیا جائے۔  
**محض قید**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، وہ قید جس میں مشقت نہ ہو۔  
**محض نامہ**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، شہادتوں اور بہروں سے تصدیق کیا گیا کاغذ۔ متفقہ عرضداشت۔  
**محفوظ**۔ ریح۔ محفوظ، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، بہرہ مند۔ نصیب دار۔ مشرور خوش قسم۔ شاد۔ شاد دماغ۔ محسن۔ آئندہ۔  
**محفل**۔ ریح۔ محفل، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، مجلس جلسہ۔ انجمن۔ سبھا۔ جن۔ محفل۔  
**محفل**۔ ریح۔ محفل، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، مجلس مرکب، جلسہ ختم ہونا۔  
**محفل**۔ ریح۔ محفل، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، محفل کا بزم ہونا۔ لوگوں کا چلا جانا۔ محفل خراب ہونا۔  
**محفل پر چھایا جانا**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، اہل محفل پر زہب قائم کر لینا۔ محفل والوں پر زنگ بھال لینا۔  
**محفل چھانا**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، مجلس قائم کرنا۔  
**محفل**۔ ریح۔ محفل، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، ناسخ گانے کی محفل۔  
**محفل**۔ ریح۔ محفل، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، مجلس کا بے رونق ہو جانا۔  
**محفل**۔ ریح۔ محفل، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، شادی کی محفل۔  
**محفل کرنا**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، مجلس کرنا۔ سبھا جوڑنا۔  
**محفوظ**۔ ریح۔ محفوظ، (ع۔ ۱۶)۔ صفت، حفاظت کیا گیا (۲)۔ صحت سلامت۔  
**محقق**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، محقق کرنا۔ مشورہ کرنا۔ مشورہ کرنا۔ چلانا۔  
**محقق**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، تحقیق کرنے والا (۲)۔ انصاف کرنے والا (۲)۔ حق دار۔  
**محقق**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، حقیقہ کو ثابت کرنے والا۔ قدر کرنے والا۔  
**محقق**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، حقیقہ کو ثابت کرنے والا۔ حقیقہ کو ثابت کرنے والا۔ حقیقہ کو ثابت کرنے والا۔ حقیقہ کو ثابت کرنے والا۔  
**محققانہ**۔ (ع۔ ۱۶)۔ صفت، حقیقہ کی روش سے صداقت

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔

محمول (۶ ج، صف) حل کیا گیا۔



**محنت بر باد گناہ لازم** - (۱۶۔ مقولہ) محنت اکارت گئی اٹا لازم آیا۔  
محنت بھونکنے لگنا۔ (۱۷۔ محاورہ) کوشش کا صلہ ملنا۔ کسی کام میں کوشش کر کے کامیاب ہونا۔

**محنت شاقہ** - (۱۷۔ ع۔ ۱۔ صفت) سخت محنت۔ دشوار کام سے ملی بیخ  
محنت کش - (۱۷۔ صفت) محنت کرنے والا۔ جھاکش۔ مزدور۔

**محنت را سیکال ہونا** - (۱۶۔ محاورہ) محنت کا کچھ صلہ نہ ملنا۔  
محنت کو راحت ہے - (۱۶۔ مقولہ) محنت سے ہی انسان ترقی کرتا ہے۔  
محنت نہ رہے۔ (۱۷۔ تائید) اگر محنت کا صلہ دیکھنے کی نہیں۔  
محنتی - (۱۷۔ صفت) محنت کرنے والا۔ جھاکش (۱۶)۔  
مزدور۔ (۱۷)۔

**محو** - (۱۶۔ صفت) ازل۔ دور۔ گم۔ معدوم۔ مٹا ہوا۔ فناوارہ فریفتہ عاشق۔ (۱۷)۔  
چھلکا ہوا۔ مٹا ہوا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ صفت مرکب) مٹا دینا۔ دور کر دینا۔ گم کر دینا۔ بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ  
کر لینا۔ بھو لینا۔

**محو ہو جانا** - (۱۶۔ صفت مرکب) ۱۷۔ فکر میں ڈوب جانا، ہٹ  
جانا۔ گم ہو جانا۔ غائب ہو جانا، عاشق ہو جانا۔ فریفتہ ہو جانا۔  
ہم، حیران ہو جانا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ ع۔ ۱۔ صفت) دور کر دینا، گم کر دینا، بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ ہو جانا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ ع۔ ۱۔ صفت) دور کر دینا، گم کر دینا، بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ ہو جانا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ ع۔ ۱۔ صفت) دور کر دینا، گم کر دینا، بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ ہو جانا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ ع۔ ۱۔ صفت) دور کر دینا، گم کر دینا، بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ ہو جانا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ ع۔ ۱۔ صفت) دور کر دینا، گم کر دینا، بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ ہو جانا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ ع۔ ۱۔ صفت) دور کر دینا، گم کر دینا، بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ ہو جانا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ ع۔ ۱۔ صفت) دور کر دینا، گم کر دینا، بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ ہو جانا۔

**محو کر دینا** - (۱۶۔ ع۔ ۱۔ صفت) دور کر دینا، گم کر دینا، بھلا  
دینا، ۱۷۔ محو کر دینا۔ حیران کر دینا، عاشق کر لینا۔ فریفتہ ہو جانا۔

م.ع.م.

**مجھبی** - (رج. بی) (ع. صفت) مخلوق کو زندہ رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا  
صفتی نام۔

**مخ** - (ع. ۱۔ صفت) مغز سرگودا۔

**مخبرہ** - (ع. ۱۔ صفت) خبر رسائی۔ باہم خبریں پہنچانا۔

**مخارج** - (ع. ۱۔ صفت) اخراجات کی جمع۔ خالص ہونے کے مقامات۔  
نکلنے کی جگہیں۔

**مخازن** - (ع. ۱۔ صفت) دیکھنے والی چیزیں کی جمع ہے۔  
مخازن - (ع. ۱۔ صفت) مخصوص ہونے والا۔ دشمنی کرنے  
والا۔ دشمن۔

**مخاض** - (ع. ۱۔ صفت) منہ کی طرف سے۔  
مخاض - (ع. ۱۔ صفت) منہ کی طرف سے۔

**مخاطب** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مخاطبت** - (ع. ۱۔ صفت) مخاطب کرنے والا۔ مخاطب کرنے  
والا۔ مخاطب کرنے والا۔

**مختصر** - رنج - ت. من. کن. (ع. ف. تالیف فعل) اختصار کے ساتھ۔  
 خلاصہ، خلاصہ کے طور پر۔  
**مختصر نویس** - (ع. ف. ن. صفت) دیکھیے اختصار نویس۔  
**مختصری** - رنج - ت. فی. (ع. صفت) مختصراً لکھا گیا۔ چھپا ہوا پوشیدہ، خفیہ۔  
**مختل** - رنج - ت. (ع. صفت) بگڑا ہوا۔ درم۔ برجم۔  
**مختل الحواس** - (ع. صفت) حواس ہانتہ۔ مختلط الحواس۔ وہ شخص جس کے احوال میں متور لگتا ہو۔ فاجر العقل۔  
**مختلط** - (ع. صفت) ملا ہوا۔ گڈ۔  
**مختلط** - (ع. صفت) اختلاط کرنے والا (۲) نامعلوم گنم۔  
**مختلف** - رنج - ت. ل. (ع. صفت) علیحدہ۔ مجزا (۲) مخالف (۳) قسم قسم کا طرح طرح کا۔  
**مختلف الاضلاع** - (ع. صفت) وہ چکور یا مثلث جس کے اضلاع باہلو ایک جیسے نہ ہوں۔  
**مختلف الطباع** - (ع. ف. ن. صفت) قسم قسم کی طبیعتوں کے۔  
**مختلف العقائد** - (ع. صفت) الگ الگ عقیدوں کے۔  
**مختلف فیہ** - (ع. صفت) وہ جس میں اختلاف ہو جیسے کتب کی تذکرہ تائیت وغیرہ۔  
**مختلف نہ ہے** - بیخ لام۔  
**مختوم** - رنج - ت. (ع. صفت) مٹ گیا ہوا۔ مہر شدہ (۲) بند کیا ہوا۔  
**مختون** - رنج - ت. (ع. صفت) مٹ گیا ہوا۔  
**مختدر** - رنج - ت. (ع. صفت) پردہ میں رکھا ہوا۔ چھپا ہوا۔ پردہ نشین۔ پردہ میں بیٹھنے والی۔ پردہ دار۔  
**مختدر** - رنج - ت. (ع. صفت) سبے جس و حرکت کر دینے والا۔ من کر نیوالا۔  
**مختدر رات** - رنج - ت. (ع. صفت) رات (۱)۔ (ع. صفت) مختدر کی جمع۔ پردہ نشین۔ پردہ والی۔  
**مختدرات** - رنج - ت. (ع. صفت) مختدر کے جمع۔  
**مختدوش** - رنج - ت. (ع. صفت) خدشہ سے بھرا ہوا۔ خشک و شبہ کیا ہوا۔  
**مختدوش کیا ہوا**۔  
**مختدوم** - رنج - ت. (ع. صفت) خدمت کیا گیا۔ قابل تعظیم بزرگ۔ آغا مالک۔ ولی نعمت۔ مرتبی۔  
**مختدومہ** - رنج - ت. (ع. صفت) خدمت کی خدمت کی گئی۔ معظفہ۔ محترمہ۔  
**مختدول** - (ع. صفت) ذلیل کیا گیا۔ ذلیل و خوار۔  
**مختدو** - (ع. صفت) خاندان کرنے والا کہ۔  
**مخترب** - رنج - ت. (ع. صفت) خراب شدہ۔ بگڑا ہوا۔  
**مخترب** - رنج - ت. (ع. صفت) خراب۔  
**مخترب** - رنج - ت. (ع. صفت) خراب کرنے والا۔ برباد کرنے والا۔

**مختری** - رنج - ت. (ع. صفت) خفیہ خبر رسائی جاسوسی۔  
**مختبوط** - رنج - ت. (ع. صفت) مختلط۔ جنون۔ مجنون۔ بدحواس۔ سوداگی۔  
**مختبوط الحواس** - دیوانہ۔ پاگل۔ سوداگی۔  
**مختیار** - رنج - ت. (ع. صفت) اختیار۔ آزاد۔ مجاز (۲) سربراہ کار۔ ولی۔ سرپرست (۳) گماشتہ۔ دکیل (م) اختیار دیا گیا پسند کیا گیا۔  
**مختیار خاص** - (ع. صفت) وہ شخص جس کے ذمے کوئی خاص کام کیا گیا ہو۔  
**مختیار ریاست** - (ع. صفت) ریاست کا منتظم۔  
**مختیار عام** - (ع. صفت) وہ گماشتہ جسے ہر بات کرنے کا اختیار دیا گیا ہو وہ شخص جس کے نام مختار نامہ عام ہو۔  
**مختیار عدالت** - (ع. صفت) مختار کی اختیار۔ پبلک آٹارنی۔  
**مختیار کار** - (ع. صفت) کام کرنے کا مجاز۔ سربراہ کار۔ مہتمم۔  
**مختیار کرنا** - (ع. صفت) اختیار دینا۔ اجازت دینا۔ مجاز کرنا۔  
**مختیار مطلق** - (ع. صفت) پورا صاحب اختیار۔ مکمل اختیار جسے قطعی اختیار حاصل ہو۔ مارا المہام۔  
**مختیار نامہ** - (ع. صفت) وہ تحریر جس کے ذریعے کسی شخص کو اختیار دیا گیا ہو۔  
**مختیار نامہ خاص** - (ع. صفت) کسی خاص کام یا امر کی بابت نوشتہ۔  
**مختیار نامہ عام** - (ع. صفت) کسی شخص کو عام امور کی نسبت مختار کرنے کی تحریر۔  
**مختیار کرنا** - (ع. صفت) اختیار ہونا۔ مجاز ہونا۔  
**مختیاری** - رنج - ت. (ع. صفت) مختاری کا پیشہ کام۔  
**مختیاری کرنا** - (ع. صفت) مختاری کا پیشہ کرنا۔ اختتام کرنا۔  
**مختیالی** - (ع. صفت) مفرد۔ بیکہ۔ جو اپنے آپ کو مختبر سمجھے۔  
**مختتم** - رنج - ت. (ع. صفت) ختم کیا گیا۔  
**مختتم** - رنج - ت. (ع. صفت) ختم کرنے والا۔  
**مختبر** - رنج - ت. (ع. صفت) اختیار کرنے والا۔ بجا کرنے والا۔  
**مختبر** - بات نکالنے والا۔ موجود واضح۔ بانی۔  
**مختبر** - رنج - ت. (ع. صفت) بانی۔ موجود۔ ایجاد کرنے والا۔  
**مختبریات** - رنج - ت. (ع. صفت) وہ چیزیں جو ایجاد کی گئی ہوں۔  
**مختص** - رنج - ت. (ع. صفت) مخصوص کیا گیا۔ خاص کیا گیا۔  
**مختصر** - رنج - ت. (ع. صفت) اختصار۔ خلاصہ۔ انتخاب۔ مختل۔ مختوط (۲) چھوٹا جو ذیل نہ ہو۔  
**مختصر سی بات** - (ع. صفت) وہ بات جس میں طوالت نہ ہو۔  
**مختصر طور پر** - (ع. صفت) مختصر کرنا۔ اختصار سے۔  
**مختصر کرنا** - (ع. صفت) مختصر کرنا۔ گھٹانا۔ چھانٹنا۔





مدبر (م۔ دب۔ بر) (ع۔ صف) تدبیر کرنے والا۔ عاقل۔ دانشمند (۲) متبیر۔ صلاح کار۔

مدبران (م۔ دب۔ بان) (ع۔ ف۔ ۱۰۔ مذ) مدبر کی جمع۔

مدبران سلطنت (ع۔ ۱۔ مذ) اراکین سلطنت، کارپردازان سلطنت، امیر وزیر۔

مدبران ملک (ع۔ ۱۔ مذ) کتاہت، سات سیارے۔ سیو سیارہ۔

مدبری (م۔ دب۔ بی) (ع۔ ۱۔ مذ) انتظام۔ انصرام۔ (بجائز) عقلمندی۔ مدبر کا عہدہ۔

مدبرین (م۔ دب۔ برین) (ع۔ صف) مدبر کی جمع۔ عقلمند لوگ اہل دانش۔

مدت (م۔ دت) (ع۔ ۱۔ مذ) عرصہ۔ میعاد۔ مہلت (۲) وقت۔ نفاذ۔ دہم۔ وقفہ۔ ڈھیل۔

مدت العمر (ع۔ تابع فعل) ساری عمر۔ تمام زندگی۔ عمر بھر۔ جینے ہی۔

مدت حیات تمام ہوجانا (۱۰۔ محاورہ) زندگی کے دن پورے ہو جانا۔ عمر ختم ہوجانا۔

مدت عدت (ع۔ ۱۔ مذ) طلاق یا شوہر کے انتقال کے بعد کی میعاد جس کے اندر عورت کو نکاح کرنا جائز نہیں۔

مدت مدید (ع۔ ۱۔ مذ) زمانہ گزار۔ بہت زمانہ۔

مدت مقررہ (ع۔ ۱۔ مذ) میعاد معینہ۔ بندھی ہوئی میعاد۔ مدت میں۔ بہت عرصہ میں۔

مدت معلیٰ (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) عرصہ گزارا۔ بہت زمانہ ہو گیا۔

مدتوں (م۔ دتوں) (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) عرصہ گزارا کی بات۔

مدتہ (ع۔ صف) وہ جس نے کبیل یا لحاف لپٹا ہوا ہوا ہوا، قرآن شریف کی ایک سورت۔

مدح (ع۔ ۱۔ مذ) تعریف۔ توصیف۔ ستائش (۲) وہ نظم جس میں کسی کی تعریف کی گئی ہو۔

مدح خواں (ع۔ ف۔ صف) شاخاں۔ تعریف کرنے والا۔ ستائش کر۔

مدح خوانی۔ مدح سمرانی (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) شاگوئی۔ تعریف و توصیف کرنا۔

مدح حجت (م۔ حجت) (ع۔ ۱۔ مذ) مدح۔ تعریف۔ ستائش۔ مدح حیمہ (م۔ حیمہ) (ع۔ صف) قابل تعریف چیز۔ منسوب بہ مدح۔

مدخل (م۔ دخل) (ع۔ ۱۔ مذ) داخل ہونے کی جگہ (۲) آمدنی۔

مدخل (ع۔ صف) داخل کیا گیا (۲) داخل دفتر کیا گیا۔

مدخل (ع۔ صف) داخل کرنے والا۔ داخل ہونے والا۔ مدخن (م۔ خنت) (ع۔ ۱۔ مذ) مدح و دحوال لکھنے کی جگہ۔

مدحی۔ دودکش۔

مدحول (ع۔ صف) داخل کیا گیا۔

مدار کی بڑھیا (۱۔ مذ) آگ کے ڈوڑے میں سے نکلے ہوئے روئیں جو سما میں اٹھتے پھرتے ہیں۔

مدار (م۔ دار) (ع۔ ۱۔ مذ) گردش کی جگہ۔ دور کرنے کی بوجھل۔ دھری کی کبلی (۲) مٹھکھا گیا۔ موقوف کیا گیا جس پر کوئی بات ٹھہری ہو یا خاصہ (۳) دور۔ دائرہ (۴) قرار۔ ٹھہراؤ۔ قیام۔

مدار المہام۔ وہ شخص جس پر امور سلطنت کا دار و مدار ہو۔ وزیر اعظم۔

مدار کار (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) کام کا انحصار۔ موقوف علیہ۔

مدار (م۔ دار) (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) خاطر تواضع۔ آؤ بھگت۔ صلح۔ رعایت مآشتی۔

مدارات (م۔ رات) (ع۔ ۱۔ مذ) خاطر تواضع۔ اچھی طرح پیش آنا۔

مدارج (م۔ راج) (ع۔ ۱۔ مذ) مدحت کی جمع۔ درجے۔ نسبتے مناسب۔

مدارس (م۔ ریس) (ع۔ ۱۔ مذ) مدرسہ کی جمع۔ بکاتب۔ درس کا گاہی۔

مداری (م۔ راری) (ع۔ ۱۔ مذ) شہیدہ باز۔ ہاتھ کی چالکی سے کھیل تماشے کرنے والا (۲) بھان متی۔ ٹپ۔ بازی گر۔ بندر۔ رچھو اور سانپ کا تماشہ کرنے والا۔

مداریا (م۔ راریا) (ع۔ ۱۔ مذ) حضرت شاہ مدار کے سلسلہ کا پیرو۔ (۲) ایک قسم کا چھوٹا تختہ۔

مدافع (ع۔ صف) کسی کی مخالفت کی جائے۔ جیسے روکا جائے۔

مدافع (م۔ دفع) (ع۔ صف) دفع کرنے والا۔ ہٹانے والا۔

مدافعت (م۔ دافعت) (ع۔ ۱۔ مذ) دفع کرنا۔ روک۔ دفعہ۔ تنوید۔

مدام۔ (م۔ دام) (ع۔ صف) ہمیشہ۔ سمانت۔ دائم۔ متواتر۔ شراب سے۔

مداد (م۔ داوا) (ع۔ ف۔ ۱۔ مذ) مداد کا کثف۔ دوا۔ علاج۔ معالجہ۔ دواں۔ تدبیر۔ چارہ۔

مداد و مدت (م۔ دا۔ و۔ مدت) (ع۔ ۱۔ مذ) ہمیشگی۔ تمام مداد و مدت (م۔ دا۔ و۔ مدت) (ع۔ ۱۔ مذ) متا۔

مداد ہن (م۔ دا۔ ہن) (ع۔ ۱۔ مذ) سستی کرنے والا (۲) بات چھپانے والا۔

مدارہمت (م۔ دامت) (ع۔ ۱۔ مذ) خوشامد پر پزیرائی جوڑل میں ہوا اس کے خلاف ظاہر کرنا (۲) سستی۔

مدارح (م۔ دارح) (ع۔ ۱۔ مذ) مدح کی جمع۔ تعریفیں۔ ستائشیں۔

مدارح (م۔ دارح) (ع۔ ۱۔ مذ) مدح کی جمع۔ عراق عرب کا ایک شہر بلو شہر کا پایہ تخت تھا۔

مدارحنت (ع۔ ۱۔ مذ) قرضہ کا لین دین۔

مدبر (م۔ دب۔ بر) (ع۔ صف) بد نصیب۔ بد بخت۔ واپس آنے یا جانے والا۔ وہ جو پیٹھ پھیرے۔



**مدد آنا** - مدد لوگنا - مدد پکنا - ۱۶- محارہ (گھوڑے کے گندے پر زخم ہو جانا -  
**مدد سنا** - مدد سنا ہنی - مدد سنا - ۵۶- ۱- مدد ( ایک قسم کا مٹھا پیسہ جس کا پسینہ آب نہیں رہا -  
**مدد قرہ** - دم - دودھ (۶- صف) دائرہ نما گل -  
**مدد رون** - دم - دودھ (۶- صف) ترتیب دینے والا - جمع کرنے والا -  
**مدد رون** - دم - دودھ (۶- صف) جمع کیا، بڑا - ترتیب دیا ہوا -  
**مددھ** - ۵۶- ۱- مدد (شہد (۲، شراب (۲، کوئی منشی چیز (۳، غرور - تکبر (۴، موسم بہار - بسنت رت (۵) عینون شباب (۶، مستی (۷، وہ رطوبت جو درختوں سے ٹپکتی ہے (۸، (صف) درمیان - وسط - بیچ -  
**مددھ پر آنا** - مددھ میں آنا - ۱۶- محارہ ( جوان ہونا - پھیل کا سیکنے پر آنا -  
**مددھ مات** - ۵۶- ۱- مدد ( ایک راگنی کا نام -  
**مددھ ماتا** - ۵۶- صف ( دم) نشہ میں مست -  
**مددھرم** - دم - دھرم (۶- صف) میٹھا - مزے دار (۲، سُر پلا (۳، دل پسند - پیارا - مرغوب الطبع دم، خراماں - منگ چال - لنگ چال - معشوقانہ رفتار (۵، دھیما - نرم - ملائم - متوسط درجہ کا -  
**مددھربانی** - ۵۶- ۱- مدد ( شہد کی کلامی میٹھا لہلہ -  
**مددھرو لوگنا** - ۱۶- مص مرکب ( میٹھا لون - شہد کلامی سے پیش آنا -  
**مددھرا** - ۵۶- صف ( متوسط - درمیان - میانہ -  
**مددھری** - دم - دھرم (۱۶- صف) میٹھی - کھلی - مرغوب - دل پسند -  
**مددھرم** - ۵۶- ۱- صف ( آہستہ - دھیما (۲، متوسط - میانہ -  
 انہ اچھا نہ بڑا (۳، نیچا - کم (۴، ہلکا - خفیف (۵، بے آب - پھیکا (۶، ایک سُر -  
**مددھرم پیچنا** - ۱۶- محارہ ( سستا بیچنا - ارزاں کر دینا - قیمت سے گرا کر فروخت کرنا -  
**مددھرم ٹھٹھا ٹھ** - ۱۶- مدد ( سست آدمی (۲، سستا رکادہ ٹھٹھا جو دم دم سُر پر قائم کیا جائے -  
**مددھرم سُر** - ۱۶- مدد ( ناگ کا سُر جو گندھ سے ایک درجہ بلند ادراک کا خروج آمدہ ہے - دھیما سُر - اس کا خفیف ماسجہ -  
**مددھرم کرنا** - ۱۶- مص مرکب ( ٹھٹھا (۲، دھیما کرنا - مددھرم کرنا - پھیکا اور بے روپ کرنا -  
**مددھرم ہونا** - ۱۶- مص مرکب ( سست ہونا - کم ہونا - دھیما ہونا -  
**مددھرو** - دم - دھرم (۶- صف) شہد (۲، شراب (۲، موسم بہار -  
 دم، دودھ (۵، پانی (۶، میٹھا - شہد (۷، ایک قسم کا درخت (۸، ایک لاکشن -  
**مددھرو ماکھی** - ۶- ۱- مدد ( شہد کی مکھی -  
**مددھرو کر** - دم - دھرم (۶- صف) (۱- مدد) ہونا -

**مدد عیتہ** - (مرد - دُ - عی - نیہ) (۶- ۱- مدد) دعوئی کرنے والی عورت - مستغیثہ -  
**مدد غم** - (مد - غم) (۶- ۱- مدد) پوست کیا گیا - تشدید کے ذریعہ ایک حرف دوسرے میں ملا ہوا - ایک جنس کے دو حرفوں کو باہم ملا کر ایک کو ساتھ کر کے تشدید لگا دیتے ہیں - جیسے تمام اصل میں غم - مام تھا پہلے میم کو دوسرے میم میں مدغم کر دیا گیا -  
**مدد فن** - (مد - فن) (۶- ۱- مدد) فن، ہونے کی جگہ - وہ گڑھا جس میں مردہ دفن ہو گیا ہوتے - قبر - گور - مزار - مقبرہ -  
**مدد فرج** - (مد - فرج) (۶- ۱- صف) دفع کیا گیا -  
**مدد فون** - (مد - فون) (۶- ۱- صف) دا، دفن کیا ہوا - گاڑھا ہوا (۲، پویشیدہ - مخفی -  
**مدد قق** - (مد - قق) (۶- ۱- صف) باہر ایک میں - وقتیہ رس - باہر ایک باتیں بیان کرنے والا (۲، وہ چیز جو بڑی تحقیق کے بعد ثابت ہوگئی، بر -  
**مدد قوق** - (مد - قوق) (۶- ۱- صف) تپ دن کا مرلیں - وہ شخص جسے دن ہوگئی، بر -  
**مدد ک** - دم - دک (۵- ۱- مدد) ایک نشہ آور چیز جو تباہی کی طرح چلم میں بھر کر پیتے ہیں -  
**مدد ک باز** - مدد ک - مدد ک - ۵۶- ۱- صف ( مدد ک کا نشہ کرنے والا - مدد ک پینے والا -  
**مدد ل** - دم - دل (۶- ۱- صف) اصل زر - سرمایہ - پونجی -  
**مدد لکل** - دم - دل (۶- ۱- صف) دلیل سے ثابت کیا ہوا - معقول - ٹھیک - درست -  
**مدد لول** - (مد - لول) (۶- ۱- صف) دلالت کیا گیا - بتایا گیا -  
**مدد مینج** - دم - دم (۶- ۱- صف) (۶- ۱- صف) دماغ دار - شہد - مغز - مہندی دماغ (۲، دوسرے عربی طریقہ پر ایک قابل بتایا گیا ہے -  
**مدد ن** - دم - دن (۵- ۱- مدد) خواہش کرنے کا فعل (۲، محبت - عشق -  
 خوش جوانی - شہوت (۳، شہد کی مکھی (۴، موسم بہار (۵)، ہم نعل ہونے کا ایک طریقہ (۶، کئی پودوں کا نام -  
**مدد ن بان** - ۵۶- ۱- مدد ( محبت کا تہرہ (۲، پہلے کی قسم کا ایک شہرہ پھول -  
**مدد ن کار** - ۵۶- ۱- مدد ( ایک قسم کی خوش آواز لفظی -  
**مدد ن** - ۱۶- مدد ( جوانی کی مستی -  
**مدد ن** - دم - دن (۶- ۱- مدد) مدینہ کی جمع - بہت سے شہر -  
**مدد ن ایک** - (۱- مدد) (۶- ۱- صف) مدینہ کا شہر - شہری - مدینہ سے منسوب -  
**مدد ن** - (مد - ن) (۶- ۱- صف) مدینہ کا شہر - شہری - مدینہ سے منسوب -  
**مدد ن الطبع** - (۶- ۱- صف) فطرتا اپنے ساتھیوں سے بل بل کر بہنے والا - شہری پان -  
**مدد نیت** - (مد - نیت) (۶- ۱- مدد) شہریت - شہری پان -  
**مدد و** - (مد - و) (۵- ۱- مدد) کٹہر - کوہان - اونٹ یا سانڈ کی پیٹھ کا اجھرا ہوا حصہ (۲، وہ زخم جو گھوڑے کے دوش پر ہو - چار جا سے کے اوپر کی طرف خم -







**مُزَجَّج**۔ (م۔ ز۔ ج۔ ج۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ چھوڑنا۔ وہ سطح جس کے چاروں ضلعے باہم برابر ہوں اور چاروں زاویے قائمے ہوں (۷)۔  
 ہر چوکور چیز جس کے طول و عرض برابر ہوں (۳)۔ ایک قسم کی کشت  
 جمع۔ مزاج۔

**مُزَجَّج بَیضِیَّہ**۔ (۱۶۔ محاورہ) چار زاویہ بیضیا۔ آلتی یا تھی مار کر بیضیا۔  
**مُرکُوب**۔ (م۔ ر۔ ب۔ ط۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) صفت (مربط کیا گیا۔ بندھا ہوا۔ لگا ہوا۔ وابستہ۔  
**مُزَجَّجِکَا**۔ (م۔ ز۔ ج۔ ک۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) صفت (وہ جو گلخانے سے کبھی سیرتہ ہو۔  
 پیٹور (۷)۔ کنگال۔

**مُزَجَّجِی**۔ (۱۶۔ لفظ مرہ) سو جا۔

**مُزَنِّی**۔ (م۔ ز۔ ن۔ ن۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) مبدوش کرنے والا۔ تربیت کرنے والا۔  
 سرپرست۔ پشت پناہ۔ حامی۔

**مُزَنِّی بَنَانَا**۔ (۱۶۔ محاورہ) سرپرست قرار دینا۔ معاون بنانا۔ پشت  
 پناہ ٹھہرانا۔

**مُزَنِّی بَنِنَا**۔ (۱۶۔ محاورہ) سرپرستی اختیار کرنا۔ حامی بنانا۔ کسی کی پرورش  
 کا ذمہ لینا۔

**مُزَنِّی بِنَا**۔ (م۔ ز۔ ن۔ ب۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) اس صورت میں کامیابی ہو  
 سکتی ہے کہ کوئی مرئی ہو۔

**مُزَنِّی جُور پُراستے**۔ (ع۔ ۱۶۔) مثل (پراستے مال کی خاطر  
 جان دینا ہے وقتی ہے۔

**مُزَنِّی کُور کُورے**۔ (۱۶۔) مثل (نہایت کوشش سے بڑی محنت  
 سے سخت مشقت کے ساتھ۔

**مُزَنِّی نَا**۔ (ع۔ ۱۶۔) صفت (نیم جان۔ جان بلب۔ قریب ہلاکت۔

**مُزَنِّی نَا کُور کُورے**۔ (۱۶۔) مثل (جس کی جان پر آہنی ہے۔ وہ سب کچھ  
 کر گزرتا ہے۔

**مُزَنِّی نَا ہے**۔ (۱۶۔ محاورہ) (بڑا شوقین ہے۔ جان دیتا ہے۔ عاشق  
 ہے (۷)۔ مر رہا ہے۔

**مُزَنِّی نَا ہُن**۔ (م۔ ز۔ ن۔ ہ۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) ریاضت کرنے والا۔ علم و تہذیب و  
 دین میں مشقت اٹھانے والا۔

**مُزَنِّی نَا ہُن**۔ (م۔ ز۔ ن۔ ہ۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) صفت (ترتیب دیا گیا۔ قرینے  
 سے لگایا گیا (۷)۔ تیار۔ مکمل (۳)۔ اٹھا کیا گیا۔ تالیف  
 کیا گیا۔

**مُزَنِّی نَا کُور کُورے**۔ (۱۶۔) صفت (مربط کرنا۔ درست کرنا۔ بنانا۔ تالیف کرنا  
 قاعدہ سے چھیننا۔

**مُزَنِّی نَا کُور کُورے**۔ (م۔ ز۔ ن۔ ک۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) مرتب کرنے والا۔ باقاعدہ چھیننے  
 والا۔ جمع۔ مرتب۔

**مُزَنِّی نَا کُور کُورے**۔ (م۔ ز۔ ن۔ ک۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) مرتب کرنے والا۔ باقاعدہ چھیننے  
 والا۔ جمع۔ مرتب۔

**مُزَنِّی نَا کُور کُورے**۔ (م۔ ز۔ ن۔ ک۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) مرتب کرنے والا۔ باقاعدہ چھیننے  
 والا۔ جمع۔ مرتب۔

**مُزَنِّی نَا کُور کُورے**۔ (م۔ ز۔ ن۔ ک۔) ۱۔ (ع۔ ۱۶۔) مرتب کرنے والا۔ باقاعدہ چھیننے  
 والا۔ جمع۔ مرتب۔

**مُزَاہَلَت**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

**مُزَاہَلَتِی لَکھنا**۔ (م۔ ز۔ ہ۔ ل۔) ۱۔ (ع۔ ۱۔) مٹا، چھوڑنا۔ ۲۔ باہمی خط و کتابت۔ ایک  
 دوسرے کو چیلان لکھنا (۷)۔ قانون، اطلاعات۔ طلبی۔ سخن۔

جمع - مراتب -

مُرتد - (مرتد، ج ۱) - ہذا اسلام سے پھرا ہوا۔ منحرف مردود  
ملحد۔ ملعون۔ جمع - مُرتدین -

مُرتد ہو جانا - (۱) - مص مرکب (دین سے پھر جانا۔ ملحد ہو جانا۔  
کافر ہو جانا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتضیٰ - (مرتضیٰ، صفت) - (۱) - ہذا پسندیدہ۔ مقبول (۲) - حضرت  
علی کا لقب۔

مُرتعش - (مرتعش، صفت) - (۱) - صفت ارتعاش کرنے والا کانپنے والا۔

مُرتفع - (مرتفع، صفت) - (۱) - صفت ادا نچا۔ بلند۔

مُرتکب - (مرتکب، صفت) - (۱) - صفت ارتکاب کرنے والا۔ کسی فعل کا  
کرنے والا (۲) - قصور وار۔ مجرم۔

مُرتل - (مرتل، صفت) - (۱) - صفت نہایت کمزور۔ مرہل۔

مُرتلو - (مرتلو، صفت) - (۱) - صفت اجل۔ موت۔ قضا۔

مُرتسین - (مرتسین، صفت) - (۱) - صفت رکن رکین رکھنے والا۔ گرد رکھنے والا۔

مُرتسین کا بعض - (مرتسین، صفت) - (۱) - صفت مال یا جانیدار پر قبضہ رکھنے والا۔ گردوار۔  
موتے۔ (۲) - مرتا کی جمع۔

مُرتے جیتے - (۱) - تابع فعل (جس طرح ہو سکا۔ جوں توں کر کے۔

مُرتے جیتے بھلی طرح -  
مُرتے جیتے بھری ہونا - (۱) - محاورہ کسی کی کسی طرح زندگی کے  
دن پورے ہونا۔

مُرتے دم - (۱) - ہذا آخر وقت۔ حالت نزاع میں۔

مُرتے کو مارنا - (۱) - محاورہ مصیبت ندمہ کو اور مصیبت میں ڈالنا  
غریبوں کو ستانا۔

مُرتے کو ماریں شاہ مدار - (۱) - (۱) - شش (غریب ہی کو ہر ایک  
ستانا ہے۔

مُرتے مرنے - (۱) - محاورہ ساری زندگی - آخری وقت تک  
اسی حالت میں۔

مُرتے مرنے - (۱) - محاورہ ساری زندگی - آخری وقت تک  
اسی حالت میں۔

مُرتے مرنے - (۱) - محاورہ ساری زندگی - آخری وقت تک  
اسی حالت میں۔

مُرتے مرنے - (۱) - محاورہ ساری زندگی - آخری وقت تک  
اسی حالت میں۔

مُرتے مرنے - (۱) - محاورہ ساری زندگی - آخری وقت تک  
اسی حالت میں۔

مُرتے مرنے - (۱) - محاورہ ساری زندگی - آخری وقت تک  
اسی حالت میں۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔  
مُرتبہ - (مرتبہ، اسم) - مرتبہ، نشان کیا گیا۔ مہر لگایا گیا۔

**مُرحُوطِ اِین** - ۱۰۲-۱- مذ ۲ سر زوری۔ سینہ زوری۔ مرحوطے فیزیکی سی  
 مند۔ پھیلاؤ۔  
**مُرحُوطِ اِین دکھانا** - ۱۱- محاورہ ۲ مند چنے فیزیوں کی حرکتیں کرنا۔ سینہ  
 زوری دکھانا۔ سر زوری کرنا۔  
**مرحلینا** - ۵۶- مصلیٰ منہ کے قریب ہونا۔ مرنے لگانا۔  
**مرحنت** - (Merchant) - ذریعہ تجارت، آگے - ۱- مذ ۱ سوداگر۔ تاجر۔  
**مرچنگ** - (مرچنگ) - ۱۰۱- ۱۰۲- مذ ۱ ایک باجر جسے منہ سے پکڑ کر انگلیوں  
 سے بجاتے ہوں۔  
**مرچیا دیلو** - (مرچ) - یا - دیلو - ۵۶- صف ۱ ہونا اور پستہ قدر دیلو بہت  
 تیز مزاج اور غصیل آدھی۔  
**مرجبا** - (مرج) - یا - ۵۶- ۱- اشباحش - آفرین کیا کہنا۔ داہ ۱۰- سبحان اللہ۔  
**مرحله** - (مرح) - یا - ۵۶- ۱- سفر کی جگہ۔ کوچ کی جگہ (مر ۲) دن سحر کا سفر  
 منزل۔ بارہ میل کی مسافت، ۳، وہ جگہ جہاں سفر کے بعد  
 مسافر قیام کرے (مر ۱) ٹری منزل (۵) درجہ۔ مرتبہ، ۱۹، سفر کو  
 لے جانے کے لیے کسی قسم کی عمارت جس پر پیٹھ کر جگ کر کے سفر  
 جتنے۔ مرامل۔  
**مرحلی طے کرنا** - ۱۰۶- محاورہ ۱ منزل پوری کرنا (۲) کام پٹھانا۔ معاملہ طمانا  
 اہم کام کرنا۔  
**مرحمت** - (مرح) - یا - ۵۶- ۱- معنی مہربانی رحم۔ کرم۔ عنایت  
 نوازش۔ الطاف۔ بچہ۔ مرامل۔  
**مرحمت فرمانا** - ۱۰۶- مصلیٰ مرکب عنایت کرنا۔ کرم کرنا۔ مہربانی فرمانا۔  
**مرحمت نامہ** - ۵۶- ۱- مذ ۱ عنایت نامہ۔ نوازش نامہ۔  
**مرحوم** - (مرح) - یا - ۵۶- صف ۱ رحمت کیا گیا۔ مغفور۔ یعنی ۱۰۲  
 امرایا۔ فوت شدہ۔ متوفی۔ جمع۔ مرحومین۔  
**مرحومہ** - (مرح) - یا - ۵۶- صف ۱ رحمت کی گئی۔ مغفورہ (۲) مری ہوئی  
 فوت شدہ۔ مرحوم کی تائید۔  
**مرخص** - (مرح) - یا - ۵۶- صف ۱ رحمت کیا گیا۔ اجازت دیا گیا  
 ڈانڈ کیا گیا۔  
**مرخص ہونا** - ۱۰۶- مصلیٰ مرکب ۱ رحمت ہونا چل پڑنا۔ سدھارنا۔  
**مرخم** - (مرح) - یا - ۵۶- صف ۱ زخم کیا گیا (۲) وہ کلہ جس کا آفری حرف  
 اگر دیا گیا ہو جیسے گوز، مرغ ہے۔ "گوزن" کا اور "مال"  
 مرغ ہے "مانڈ" کا۔  
**مرد** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱- مذکر (۲) آدمی۔ بشر۔ شخص۔ نش (۳) خاوند  
 شوہر (۴) ہمہ دار۔ دلیر۔ فصیح۔ سورما۔ مع۔ مردمان۔ مردان۔  
**مرد آدمی** - ۱۰۶- ۱- انہما شریف۔ جھلا مائیں۔ ہند  
**مرد آخر میں مبارک بندہ است** - ۱۰۶- مقولہ عاقبت  
 اندیش انسان بہت بہتر ہوتا ہے۔  
**مرد آزار مانگن** - ۱۰۶- ۱- صف آدمی۔ شر زور۔  
**مرد آسا** - ۱۰۶- ۱- صف ۱ مرد کا طرح۔  
**مرد باید کہ ہر اسال نہ شود مشکلی نیست کہ آسان**

**نشود** - ۱۰۶- ۱- صف آدمی کو بہت نہ ہارنی چاہیے۔ ہر مشکل آسان  
 ہو جاتی ہے۔  
**مرد باید کہ گھر واندر گوشس**، گرنوشت است پند  
**دیوار** - ۱۰۶- ۱- مصلیٰ ۱ عقل مند ہے جو دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت کو  
 بھی حاصل کرے۔  
**مرد بچہ** - ۱۰۶- ۱- صف ۱ دلیر۔ جوانمرد۔ بہادر۔  
**مرد بینا** - ۱۰۶- ۱- محاورہ ۱- برأت دکھانا۔ حوصلہ دکھانا۔  
**مرد بین** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ مرد کی خاصیت۔ آدمیت۔ انسانیت۔  
**مرد تازہ ولایت** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ جو شخص حال ہی میں ولایت سے آیا ہو (۲)  
 (کھانا) وہ شخص جو اپنے ملک کی جانوں سے تو دور بھاگے اور غیر ملکوں  
 کی نقل کرے۔  
**مردوں پر نشود حرص جواں کی گردد** - ۱۰۶- ۱- مصلیٰ ۱ بڑھاپے میں  
 زور جاتی ہے۔  
**مرد حق** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ مصلیٰ عادت۔ یارسا۔  
**مرد خندا** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ خدا شناس۔ پریمیز کار (۲) شریف بزرگ کی شان میں  
 بھی کہتے ہیں خواہ وہ زاہد و متاخر ہو یا نہ ہو (۳) حسن کلام کے لیے  
 جملے مائیں کی جگہ اور کسی طنز کے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مرد خدا  
 تم کیسے بڑول ہو۔  
**مرد غیب** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ ایک غیب ہستی جو زمینی کے گرد چکر لگاتی  
 ہے۔  
**مرد کار آمد** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ وہ شخص جو کسی کام کو بخوبی انجام دے۔  
**مرد کی بات کا قول**، - ۱۰۶- ۱- مصلیٰ بات۔ مانتا۔ بات۔  
**مرد کی ذات**۔ مرد کی صورت۔ مرد کی جنس۔ مرد۔  
**مرد کی صورت نہ دیکھنا** - ۱۰۶- ۱- محاورہ ۱- عورت کا مرد کے پاس نہ جانا۔  
 عورت کا بھڑو رہنا۔  
**مرد کی موت نامر دے کا تھو** - ۱۰۶- ۱- محاورہ ۱- مصلیٰ اس وقت  
 جین جیسا کہ زور اور بہتت ہمّت کسی بہادر کو مارے۔  
**مرد مائیں** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ مرد کی ذات۔ مرد پیش۔ ٹیس۔  
**مرد مائیں گھر ہی چلے** - ۱۰۶- ۱- مقولہ شریف آدمی وہی ہے جو گھر ہی میں  
 رہے۔ یعنی آوارہ انداز نہیں ہو۔  
**مرد مرے نام کو نامر دے مان کو** - ۱۰۶- ۱- مصلیٰ شریف اور بہادر  
 لوگ عزت و شہرت کی خاطر جان تک دے دیتے ہیں۔ گروہیل آدمی رشتہ  
 کے لیے خواہلاتا ہے۔  
**مرد معقول** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ جھلا مائیں۔ شریف۔ بہند۔ شائستہ۔ ذی فہم۔ بہدار  
 دانہ زریک۔  
**مرد میدان** - ۱۰۶- ۱- صف ۱ بہادر۔ جوی۔ دلیر۔ سورما۔  
**مرد فون** - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ مرد و عورت۔ عام لوگ۔  
**مرد ہونا** - ۱۰۶- ۱- محاورہ ۱- بہادر ہونا۔ دلیر ہونا۔  
**مرداد** - (مرد) - یا - ۱۰۶- ۱- مذ ۱ پانچواں جنس مہینہ جو آگے ہی میں آگست  
 اور ستمبر میں پیدا ہوتا ہے۔

آٹھواں دن۔

مردار۔ مردار ہفت صفت، اپنی موت سے مراد ہوا رہا ناپاک نہیں حرام (۳)، شہرہ سیلے جان دم، ہنایت مختار کا کلمہ جو بحالت ناراضگی کسی کو کہا جاتا ہے، (۵)، فاشتر، ملائق، ناکبار۔

مردار پڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ ہے جان بوجھنا

مردار خوار۔ وہ جو مردہ جانوروں کو کھاتے جیسے گدھ چیل، کوا وغیرہ۔

مردار سنگ۔ ۱۔ مذم ایک دوکان نام جو پتھری ماہر بنا دیتی ہے  
مردار مال۔ ۱۔ مذم حرام مال۔ ناپاک دولت۔ خلاف شرع حاصل کیا، بوجھنا۔

مردار ہڈی پھاڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ حرام مال پر نگرار کرنا۔

مردار بوجھنا۔ ۱۶۔ محاورہ حرام، بوجھنا۔ ناپاک بوجھنا۔ ذبح کے قابل نہ رہنا۔

مردارسی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردا۔ مردی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردان۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردان خدا۔ ۱۔ مذم۔ خدا کے خاص بندے۔ باخدا لوگ۔

(۲)، بہادر۔

مردان علوی۔ سبتارے۔

مردانچی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانہ۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

رکھنے والا۔ مرد کے مانند (۲)، دلیری سے۔ جرات سے (۳)، مکان

کا وہ حصہ جہاں مرد بیٹھتے ہوں۔

مردانہ بھینس۔ ۱۶۔ مذم۔ مردوں کا لباس مرد کا روپ۔

مردانہ جوڑا۔ ۱۶۔ مذم۔ مردوں کے بیٹنے کا لباس۔

مردانہ جال۔ ۱۶۔ مذم۔ مردوں کی کسی رفتار۔

مردانہ کا قم۔ ۱۶۔ مذم۔ ہمت اور بہادری کا کام۔

مردانہ مکان۔ ۱۶۔ مذم۔ وہ مکان جس میں مرد رہتے ہوں۔ مردانہ

پیشک۔

مردانہ وار۔ ۱۶۔ مذم۔ مردوں کی طرح۔ بہادری کی مانند۔ دلیرانہ۔

مردانہ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، گھر کی عورتوں کا پردے میں چلا جانا۔ گھریں

پردہ بوجھنا۔

مردانی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مشا بہ بنائے (۲)، جرات والی عورت۔ بہادر خاتون۔ مردوں کے

سے کام کرنے والی عورت۔ چالاک عورت۔

مردانیت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانے۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانہ کی عجم

مردانے آدمی۔ بہادر لوگ۔ شجاع لوگ۔

مردانہ۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردانہ۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردک۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردگان۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

سے۔ واحد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جمع پر بھی۔

مردم آبی۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

جو سمندر میں رہتے ہیں۔

مردم آزار۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردی۔

مردم آمیز۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

مردم آفت۔ ۱۔ مذم۔ داری، ۱۶۔ مذم، مہش، چھپ کی۔ چل پاسہ۔

**مردہ دیکھنا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (سخت قسم، مراہوا دیکھنا۔ جنازہ دیکھنا جیسے بہا مردہ دیکھے ہو آج جاتے۔  
**مردہ سا پڑا رہنا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (سخت پڑا رہنا۔  
**مردہ سنگ**۔ دیکھتے مردار سنگ۔  
**مردہ شو**۔ ۱۷۔ اند (مردہ نہلانے والا۔ میت کو غسل دینے والا۔ غسل۔  
**مردہ شو کے حوالے**۔ ۱۷۔ بد دعا، مر جاتے، موت آجائے۔  
**مردہ شو لے جاتے**۔ ۱۷۔ بد دعا، میت نہلانے والا اٹھائے جاتے۔  
**غسال کے سیر دو**۔ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔  
**مردہ کر دینا** (کر ڈالنا)۔ ۱۷۔ عجاوہ (مرنے کے قریب پہنچا دینا، بہت کمزور کر دینا، مار ڈالنا۔ ذبح کر دینا۔  
**مردے سے بد کر**۔ ۱۷۔ صفت (بہت کمزور یا ضعیف۔  
**مردوں سے شرط باندھ کر سونا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (غیر معمولی دیر تک سونا بہت ناخوشی۔  
**مردوں کی ہڈیاں اٹھینا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (مرے ہوئے لوگوں کی باتیں نکالنا، ۲)۔ مردوں کو جراتی کے ساتھ یاد کرنا۔ اسانڈہ سلف کے کلام پر نکتہ چینی کرنا، ۲)۔ اگلے لوگوں کی پیروی کرنا۔ چرلنے مضمین باندھنا۔  
**مردوں کی ہڈیاں پھونکنا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرنا۔  
**مردے پر تین دن بھاری**۔ ۱۷۔ مثل (مردے کیلئے پہلے تین دن بہت سخت ہوتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تین دن تک مردے سے حساب و کتاب ہوتا رہتا ہے۔  
**مردے چلانا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (مردے زندہ کرنا۔  
**مردے پر خلیے سو من مٹی ویسے ہزار من**۔ ۱۷۔ مثل (جب مصیبت ہی ہے تو جیسی تھوڑی ویسی بہت۔  
**مردے سے بد کر**۔ ۱۷۔ صفت (بہت ضعیف اور کمزور۔  
**مردے کا مال**۔ ۱۷۔ مذ (مال، مال متروک، ۲)۔ لاوارث مال، ۳)۔ بہت سستا مال۔  
**مردے کو بیٹھ کر روتے ہیں اور روزی کو کھڑے ہو کر**۔ ۱۷۔ مثل (مردی کاغھ مردے کے غم سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔  
**مردے کی نیند سونا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (بہت ناخوش ہو کر سونا۔  
**مردے سے**۔ مردوں کی جمع۔ بہت سے مردے۔  
**مرد ہا**۔ دیر دو، ۱۷۔ ف۔ ۱۔ مذ (گڈوں کا حکم چھو بھاروں کا سردار، قاصدوں کا افسر، افضالوں کا ایک قبیلہ۔ میریہ بگا کہلاتے ہیں۔  
**مردی**۔ (مردی، ۱۷۔ ف۔ ۱۔ صفت) مردانگی، بہادری، ۲)۔ آدمیت، انسانیت، ۳)۔ قربت، باہ بوجلیت۔  
**مرد رہنا**۔ (مردہ، ۱۷۔ صفت) مرد رہنا، موت آجانا، ۲)۔ مجازاً (کام میں دیر لگانا۔ جہاں جانا وہیں بیٹھ رہنا، ۳)۔ بے خبر ہونا۔  
**سور رہنا**۔

پڑ جانا۔

**مردنی چھا جانا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (جیسے پر موت کے آثار ظاہر ہونا۔  
**مردنی میں جانا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (مردہ کی تجزیہ و تکلیف میں شریک ہونا۔  
**مردو**۔ (مردو، ۱۷۔ ۱۔ مذ۔ ۱۔ مرد کی تعریف، مردک، ۲)۔ غیر شخص، مرد لگانا۔  
**مردو**۔ (مردو، ۱۷۔ ۱۔ صفت) مرد لگانا۔ راندہ ہوا۔ بے عزت کیا گیا، ملعون ناپکار، ۲)۔ ناپاکی، بد نصیب، تکبر۔  
**مردو درگاہ خداوندی**۔ خدا کی درگاہ سے راندہ ہوا۔ شیطان۔  
**المیسس**۔  
**مردو الشہادۃ**۔ (۱۷۔ ۱۔ مذ۔ ۱۔ صفت) وہ شخص جس کی گواہی ناقابل قبول ہو۔  
**مردوں بوجانا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (باہر کیا جانا۔ ملعون۔  
**مردے از غیب بروں آید کارے بکنہ**۔ (۱۷۔ مثل) جب کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو غیب سے اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔  
**مردہ**۔ (مردہ، ۱۷۔ ۱۔ صفت) بے جان، بے روح، مرا ہوا۔ فوت شدہ، متوفی، ۲)۔ مجازاً، کمزور، نالواں، نحیف، ملاغز۔ ڈبلا، ۳)۔ بہت بوڑھا۔ نہایت عسمر رسیدہ، ۴)۔ مر جانا، ۵)۔ افسردہ، ۵)۔ لاش۔ میت۔ جنازہ۔  
**مردہ اٹھانا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (تجزیہ و تکلیف کرنا۔ گور گھر لگانا۔ میت کی رسمیں ادا کرنا۔  
**مردہ اٹھنا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (جنازہ اٹھنا۔  
**مردہ یاد**۔ ۱۷۔ لغو (مر جاتے۔ تباہ ہو جاتے۔  
**مردہ بن جانا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (بے جان، مرجانا، بہت کمزور ہو جانا۔  
**مردہ بہ دست زندہ**۔ ۱۷۔ مثل (مردہ زندہ کے ہاتھ ہیں۔ جب آدمی مر گیا تو زندہ ہو چاہے اس کا حال کسے۔ وہ بے اختیار ہوتا ہے، بے کس اور بے پس کے حق میں یہ بولتے ہیں۔  
**مردہ بھاری ہونا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (میت کا بوجھل ہونا۔ لاشہ کا وزن ہونا۔ عوام میں مشہور ہے کہ جو نہایت گنہگار مرتا ہے۔ اس کی لاش وزنی ہوجاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت گنہگار کے مرنے پر اطلاق ہونے لگا۔  
**مردہ پسند پرست**۔ (۱۷۔ صفت) مرنے کے بعد قدر کر نیوالا۔  
**مردہ چلانا**۔ ۱۷۔ صفت (میت کو چھو کر میت کو داغ دینا۔ ہندوؤں کی رسم جو کہ لاش کو چلاتے ہیں۔  
**مردہ خراب ہونا**۔ ۱۷۔ عجاوہ (میت کی مٹی پلید ہونا۔ مردہ کا رسوا ہونا۔  
**مردہ نوار**۔ (۱۷۔ صفت) مردہ کھانے والا، ۲)۔ نصیبت کرنے والا۔  
**مردہ دل**۔ (۱۷۔ صفت) اداس، آزرہ، زنجیرہ۔ دلگیر۔ غموم، ۲)۔ سخت کابل، ۳)۔ کمزور، ۴)۔ بے ذوق۔  
**مردہ دودخ میں جائے یا بہشت میں**۔ اپنے حلقوں اندر سے کام۔ (۱۷۔ مثل) خود غرض کو اپنے مطلب سے کام خواہ کوئی نہ کہے یا چاہے۔

مرز - (ت - ۱ - مذ) زمین - قابل کاشت زمین (۲) - حد - سرحد -  
 مرزبان - (ت - ۱ - مذ) زمین دار - حاکم زمین (۳) - سرحد کا افسر - سرحدی  
 صوبہ کا گورنر (۳) - صوبے دار حاکم (۴) - شاہ - قہر زادہ - آتش پرستوں  
 کا سردار - جمع - مرزبانان -  
 مرزبوم - (ت - ۱ - مذ) پیدا کنش کی جگہ (۲) - ملک کی حدود - (۳) -  
 مملکت - سلطنت -  
 مرزا - (مرز) (ت - ۱ - مذ) میرزا کا مخفف (۱) - امیرزادہ - شہزادہ (۲) - منگولوں  
 کا لقب - منغل زادہ (۳) - خاندان منغلیہ کے شہزادوں کا لقب -  
 مرزا پھوپھا - (۱) - صف (۲) - نہایت نازک اندام آدمی - لاغر - ڈبلا - پتلا - آرام  
 طلب - تن آسان آدمی -  
 مرزا جھیللا - (۱) - صف (۲) - جھیل جھیللا - رگیلا - سجلا -  
 مرزا منشی - (ت - ۱ - مذ) نازک طبی - نازک مزاجی -  
 مرزا ہمیں - (۱) - صف (۲) - کمال نازک بدن - ڈبلا - پتلا -  
 مرزانی - (۱) - (مرز) - ای (ت - ۱ - مذ) شہزادگی (۲) - حکومت کی بڑبیکتر  
 ضروری (۳) - حکومت - سرداری (۴) - صدری - کمری - واسکٹ - نیم پستین  
 (۵) - مرزا غلام احمد قادیانی کی پرورد -  
 مرزانی گزنا - (۱) - محاورہ - بگڑ کر نا - غرور کرنا -  
 مرزانی کی لوبہ - (۱) - مذ) حکومت کا نشہ - سلطنت کا گھنڈہ -  
 مرزا نصیبت - (۱) - (مرز) - ای - بیت (۲) - آر - صف (۳) - احمدیت - مرزا غلام احمد  
 قادیانی کو ماننے والا فرقہ -

مُزَرِّق - (مُزَرِّق - ذوق) (ت - ۱ - مذ) ذوق دیا گیا -  
 مرزنی - (مرز) - ای (ت - ۱ - مذ) مرزانی کا مخفف - پوری یا ادھی  
 آستین کی کمری -  
 مُرْسَل - (مُرْسَل - ۱ - مذ) ارسال کیا گیا - بھیجا ہوا - رسول - پیغمبر نبی -  
 جمع - مرسلین (۲) - حدیث کی ایک قسم -  
 مُرْسَل اللیہ - (۱ - مذ) جس کی طرف بھیجا جائے -  
 مُرْسَل - (مُرْسَل - ۱ - مذ) ارسال کرنا والا - بھیجنے والا - خط بھیجنے والا -  
 مُرْسَلہ - (مُرْسَل - ۱ - مذ) بھیجا ہوا - فرستادہ - ارسال کیا ہوا  
 (۲) - گلے کا ہار -  
 مرسلہ بند - (ت - ۱ - مذ) ہار کا کٹڑا -  
 مُرْسَلین - (مُرْسَل - لین) (ت - ۱ - مذ) مرسل کی جمع - بہت سے رسول  
 بہت سے پیغمبر -  
 مُرْسُوب - (ت - ۱ - صف) تلچھٹ - تہ میں بیٹھا ہوا -  
 مُرْسُوم - (مُرْسُوم - ۱ - صف) رحم ڈالا گیا - قاعدہ باندھا گیا (۲) - نشان  
 کیا گیا (۳) - خواہ - وظیفہ - مشاہرہ -  
 مُرْشَد - (مُرْشَد - ۱ - مذ) ہدایت کرنے والا - سیدھی راہ بتانے  
 والا - رہ نما - ہادی - پرورد - استاد - چالاک - عیار - خوشیار - شریہ خوبی  
 دغا باز - پاکھنڈی - گرد گھنٹال -

مُرشِد زادہ - (ت - ۱ - مذ) پیر کا بیٹا (۲) - بادشاہ کا رشتہ دار -  
 مُرشیدی - (مُرْشِد - ۱ - مذ) پیر ہونے کا پیشہ (۲) - راہ راست - لکھنا -  
 ہدایت کرنا (۳) - میرا پیر -  
 مُرْصَد - (ت - ۱ - مذ) امید گاہ - گھات (۲) - حد گاہ -  
 مُرْصَع - (مُرْصَع - ۱ - صف) جٹاڑ - موتی یا جواہرات جڑا ہوا -  
 (۲) - آراستہ (۳) - وہ شریفانہ نظر جس میں ہر لفظ کے مقابلہ میں دوسرا لفظ اسی  
 جینان یا قافیہ کا ہو رہا - خوش بانی سے آراستہ -  
 مُرْصَع رقم - (ت - ۱ - صف) نہایت خوبصورت لکھنے والا - نہایت  
 خوشنما لکھنے والے کا لقب کی تعریف -  
 مُرْصَع زبان - (ت - ۱ - صف) نہایت خوش بیان -  
 مُرْصَع ساز - (مُرْصَع - ۱ - صف) لکھنے یا جواہرات جڑنے  
 والا - جٹاڑ -  
 مُرْصَع سازی - (مُرْصَع - ۱ - صف) جڑنے کا کام - جڑت -  
 مُرْصَع نگار - (ت - ۱ - صف) بہت خوش قلم - نہایت خوشخط لکھنے والا -  
 مُرْصُوع - (مُرْصُوع - ۱ - صف) بہت مضبوط کیا ہوا - راتک  
 لایا ہوا - سیدھ پلایا ہوا -  
 مُرْصُوعہ - (مُرْصُوعہ - ۱ - صف) بہت مضبوط کی - یعنی - نہایت  
 کٹی ہوئی - مرصوع کی تائیت -  
 مُرْض - (مُرْض - ۱ - مذ) بیماری - دکھ - درد - آزار (۲) - علت - عادت  
 (۳) - امراض -  
 مُرْض کھڑا ہونا - (۱) - محاورہ - بیماری پیدا ہونا -  
 مُرْض اصلی - (ت - ۱ - مذ) وہ مرض جو خود پیدا ہو - اور کسی دوسرے مرض  
 کا تابع نہ ہو -  
 مُرْض الموت - (ت - ۱ - مذ) وہ مرض جس میں مبتلا ہو کر آدمی مرجائے -  
 مُرْض بگڑنا - (۱) - محاورہ - بیماری کا خراب صورت اختیار کر لینا - مرض کا  
 خطرناک حالت میں داخل ہونا - بیماری بڑھ جانا -  
 مُرْض حاد - (ت - ۱ - مذ) شدید بیماری -  
 مُرْض خانہ - (ت - ۱ - صف) (۱) - بیماری کا گھر (۲) - بیماروں کے  
 رہنے کا مکان -  
 مُرْض عارض ہونا - (۱) - محاورہ - بیماری چھپے لگ جانا - مرض  
 لاحق ہونا -  
 مُرْض کا طوطا ہونا - (۱) - محاورہ - کھیٹے میں چڑنا -  
 مُرْض کی دوا ہونا - (۱) - محاورہ - کسی مصروف کا ہونا - کسی کام کا ہونا -  
 مُرْض لاحق ہونا - (۱) - محاورہ - بیماری ہونا  
 مُرْض لاحقہ - (ت - ۱ - صف) (۱) - مذ) موجودہ بیماری -  
 مُرْض لا دوا - (ت - ۱ - صف) (۱) - مذ) وہ بیماری جس کا علاج نہ ہو - مجازاً - عشق  
 کو بھی کہتے ہیں -  
 مُرْض متعدی - (ت - ۱ - صف) (۱) - مذ) وہ بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگے -  
 مُرْض مُرْتَمِن - (ت - ۱ - صف) (۱) - مذ) پُرانی بیماری -  
 مُرْض مقامی - (ت - ۱ - صف) (۱) - مذ) وہ بیماری جو کسی خاص مقام سے نکلے ہو -

**مرض خانیگی** - ۱۰ ف - ۱ - مذم گھر کا بلا ہوا مرض۔ پالتومرغ۔  
**مرض خیال** - ۶ ف - ۷ - صف، خیال کا مرض۔ خیال کو پرداز کے باعث  
 مرض سے تشبیہ دیتے ہیں۔  
**مرض دست آموز** - ۶ ف - ۱ - مذم ہاتھ پر بلایا ہوا پند وہ سدھایا یا  
 پرند جو چوڑنے کے بعد پھر ہاتھ پر آئے۔  
**مرض دل** - ۶ ف - ۱ - مذم حرکت کرنے کی وجہ سے دل کا مرض سے  
 استعارہ کرتے ہیں۔  
**مرض دیباہ** - ۶ ف - ۱ - مذم رشیم کے دھاگے سے کپڑے پرورغ  
 کی بنتی ہوئی تصویر۔  
**مرض زنگین** (زندی) تاج - ۶ ف - ۱ - مذم تیرتر اور مور سے ملتا ہوا  
 مرضی کے برابر بنز رنگ کا ایک پند جس کے چکدار پر اور سر پر کلتی  
 ہوتی۔ جو ایک قسم کا چنگلی مرض۔  
**مرض سحر** (سحر) - ۶ ف - ۱ - مذم مرض جو سحر کے وقت اذان دیتا ہے  
 (۲) صبح کی چھپانے والے پرندے۔  
**مرض سدرہ** - ۶ ف - ۱ - مذم بیری پر رہنے والا پرندہ۔ مراد حضرت  
 جبرئیل۔ مسلمانوں کے عقیدے میں آسمان پر ایک بیری کا  
 درخت ہے جو کہ حضرت جبرئیل کا مقام ہے۔ اس کے آگے کسی  
 کی رسائی ممکن نہیں۔  
**مرض سلیمان** - ۱۰ ف - ۱ - مذم حضرت سلیمان کا پرندہ ہر جگہ حضرت سلیمان  
 کا خطے کر بقیوں کے سب کے پاس گیا تھا۔  
**مرض شادشاہانہ** - ۶ ف - ۱ - مذم ہر گاہ۔ اس کی کلتی کے دندانے  
 گلگی کی طرح ہوتے ہیں۔  
**مرض شنب** (سنگ) - ۶ ف - ۱ - مذم رات لگانے  
 والا پرندہ بیل مرغ۔  
**مرض عیسیٰ** (مسیحا) - ۶ ف - ۱ - مذم وہ پرندہ جسے حضرت عیسیٰ نے  
 منجا کا پرندہ سمجھا تھا۔  
**مرض قبلہ نما** - ۶ ف - ۱ - مذم آگے قبلہ نما کے اندر وہ پرندہ جو سمت قبلہ  
 بناتا ہے۔ قبلہ نما کی سوئی۔  
**مرض کی ایک ہی ٹانگ** - مرضی کی ایک ہی ٹانگ - ۱۲ - نسل اپنی  
 بات کی رٹ۔ اپنے جھڑے قول کی کج۔ بے جا بات کی اڑ۔  
**مرض جنوں** - ۶ ف - ۱ - مذم وہ پرندہ جس نے جنوں کے سر پر گھونٹا  
 بنا تھا۔  
**مرض مصطفیٰ** - ۶ ف - ۱ - مذم جو شخص ظاہر میں نمازی اور باطن میں  
 مکار ہو۔  
**مرض نامہ آور** - ۶ ف - ۱ - مذم ہر گاہ (۷) خط لانے والا کبوتر (۳)،  
 قاصد۔ پیک۔  
**مرض نامہ بر** - ۶ ف - ۱ - مذم وہ کبوتر جس کے گلے میں چٹھی باندھ  
 کر بھیجیں۔  
**مرض لوگروفتار** - ۶ ف - ۱ - مذم وہ پرندہ جو نانا پکڑا گیا ہو۔  
**مرض ہمالیوں** (خال) - ۶ ف - ۱ - مذم مبارک شگون والا طائر ہنما۔

**مرض ہنگامہ** - ۶ ف - ۱ - مذم ہنگامہ کرنے والا مرض۔ وہ بیماری جس میں  
 جان کا اندیشہ ہو۔  
**مرضہ** - مرضی (مرضہ) - ۶ ف - ۱ - مذم مرضی کی حج بہت سے بیمار۔  
**مرضہ** - (مرضہ) - ۶ ف - ۱ - صنف) بچے کو دودھ پلانے والی عورت  
 دانی۔ انا۔  
**مرضی** (مرضی) - ۶ ف - ۱ - مذم (پندیدگی پسند رہنا۔ خوشنودی۔ اقرار منطوقی۔  
 ۲۱، اجازت ۳، خواہش۔  
**مرضی پنا** (رلتا) - ۱۶ - محاورہ اتفاق راستے ہونا۔ دل ملنا۔ باہم  
 رضامند ہونا۔  
**مرضی ملے کا سودا** ہے۔ رضامندی کا معاملہ ہے۔ رضامندی پر موقوف ہے۔  
**مرضی ملے کا سودا** ہے۔ (۱۶ - مذم رضامندی کا معاملہ ہے۔ رضامندی  
 پر موقوف ہے۔  
**مرضی مولیٰ** (راحمہ اولیٰ) - ۶ ف - ۱ - مقولہ مالک کی رضا سب سے  
 بہتر ہے۔ ہر امر میں خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کناہ  
 ہے انسان کی لیے جیسی ہے۔  
**مرضی میں انا** - ۱۶ - محاورہ پسند ہونا۔ راستے میں انا۔ راستے کے  
 موافق ہونا۔  
**مرضیات** - مرضی - ۱۶ ف - ۱ - مذم مرضی کی جمع۔ پسندیدہ چیزیں۔  
**مرض طوط** - ۶ ف - ۱ - صنف (قر۔ گیلا۔ جمیگا ہوا۔ گیلا۔  
**مرض طوطیت** - (مرضی طوطیت) - ۶ ف - ۱ - صنف (قری - (Humidity)  
**مرض طوط** - (مرضہ) - ۶ ف - ۱ - صنف (مرضہ) میں آیا ہوا۔ ڈرا ہوا  
 ڈرنے والا  
**مرضی** - (مرضہ) - ۶ ف - ۱ - صنف (مرضہ) رعایت کیا گیا۔ لحاظ کیا گیا اس کا  
 کیا حکومت کیا گیا۔  
**مرض ہن** - ۱ - مذم ہری گھاس۔ سبزہ۔  
**مرض زار** - ۱۰ ف - ۱ - مذم سبزہ زار۔ گیلا ہن۔  
**مرض** - ۶ ف - ۱ - مذم پرندہ اڑنے والا جانور مرغ۔ خودس۔ جمع منوں  
**مرض آتش بازی** (مرض) - ۶ ف - ۱ - مذم ایک قسم کی آتش بازی۔  
**مرض آتش خوار** - ۶ ف - ۱ - صنف (مرضہ) چکور۔ چمک۔  
**مرض باونما** - ۶ ف - ۱ - مذم لمبی کا بنا ہوا وہ مرض جو بوا کا نفع دیتا ہے۔  
**مرض باڑی** - ۶ ف - ۱ - صنف (مرضہ) اور لڑانے والا۔  
**مرض بازی** - ۶ ف - ۱ - صنف (مرضہ) مرغ لڑانا۔  
**مرض ہام** - ۶ ف - ۱ - مذم بیل (۲) قاصد۔ قری۔  
**مرض نستم اللہ** - ۶ ف - ۱ - مذم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے مرغ  
 کی صورت میں لکھا جاتے۔  
**مرض چمن** (مرضہ) - ۶ ف - ۱ - مذم بیل۔ مندریب۔ وہ پرندہ  
 جس کی آواز صولٹی ہو۔  
**مرض چمن زاہد** - ۶ ف - ۱ - مذم وہ پرندہ جو باغ میں پیدا ہو۔  
**مرض حق گو** (مرضہ) - ۶ ف - ۱ - مذم ایک پرندہ جو رات کو  
 اکتا تک کر حق ہی کی آواز نکالتا رہتا ہے۔



مرغوں کی پالی - ۱۶۔ مٹ (۱۷) مرغوں کی لڑائی (۲۰) وہ جگہ جہاں مرغ  
لڑتے ہیں  
مرغوں کی پالی بندھنا - ۱۶۔ محاورہ (۱) مرغوں کی اکھاڑ جہاں مرغوں  
کی لڑائی ہوتی ہے۔  
مرغوں کی سسی لڑائی ہے - ۱۶۔ محاورہ (۲) بے لاگ ہے۔  
کوئی مطلب نہیں۔  
مرغوں کے خواب میں دانا ہی دانا - ۱۶۔ مثل (۱) انسان پر وقت  
اپنے مطلب ہی کی بات سوچتا ہے۔ جیسا خیال ہوتا ہے ویسے ہی  
خواب نظر آتے ہیں۔  
مرغا - (مرغ، غا، ۵۶۔ ۱۵۶) مرغی کا زعفران۔  
مرغا بنانا - ۱۶۔ محاورہ (۱) ٹانگوں کے پیچھے ہاتھ نکال کر کان  
پھیلنے پر مجبور کرنا۔  
مرغانہ ہو گا تو کیا اذان نہ ہوگی مرغا ہانگ نہ دے گا تو کیا صبح نہ  
ہوگی - ۱۶۔ مثل (۱) کوئی کام کسی کی ذات خاص پر موقوف نہیں رہتا۔ رہتی دنیا  
تک کام ہوتے ہی رہیں گے۔  
مرغا ہضم بکری پر دم - ۱۶۔ مثل (۱) چھوٹی چیز لیکر بڑی پر نظر رکھنا۔  
مرغابی - (مرغ، غابی، ۱۶۔ ۱۵۶) ایک آبی پرندہ۔  
مرغالی - (مرغ، غالی، ۱۶۔ ۱۵۶) جمع پرندے۔  
مرغالی اولیٰ لا جمعہ - ۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذ (۲) بازو رکھنے والے پرندہ۔ کتا یہ  
ہے مرغیوں سے۔  
مرغی - (مرغ، غی، ۱۶۔ ۱۵۶) بہت سا گھی بڑا، بوا، خوب روشن دار۔  
مرغوب - (مرغ، غوب، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) رغبت کیا گیا۔ پسندیدہ۔ دل پسند۔  
قابل رغبت۔ من بھانا (۲) دل کش۔ دل بڑیا۔ محبوب۔ پیارا (۳)،  
خوبصورت۔ مزیدار۔ لذیذ۔  
مرغوب آنا - ۱۶۔ محاورہ (۱) پسند آنا۔ من کو بھانا۔  
مرغوب الطبع - ۱۶۔ صفت (۱) دل پسند آنے والا۔ جو جی کو بھالتے۔  
مرغوبات - (مرغ، غوبات، ۱۶۔ ۱۵۶) مرغوب کی جمع۔ دل  
پسند چیزیں۔  
مرغول - (مرغ، غول، ۱۶۔ ۱۵۶) مرغول (۱) صفت (۱) پیچ دیا پیچیدہ  
عمدہ دار۔ ڈیڑھا۔ گنگھریال۔ بل کھاتے ہوتے۔ مڑا ہوا (۲) ڈنڈی دانیا  
گنگھریال دار خوب (۳) بھڑ بھڑا ہوا گھم گھم پیچیدہ آواز۔ گنگھی۔  
مرغولنا - ۱۶۔ ف - ۱۰۔ صفت (۱) چھپانا۔  
مرغولی - (۱) خوشی (۲) پرندوں کا چھپانا۔  
مرغی سدر - (مرغ، غی، ۱۶۔ ۱۵۶) مرغی کے مارے کا مارے۔  
مرغی اپنی جان سے گئی کھانے والے کو سواد (مرغ) نہ آیا۔  
۱۶۔ مثل (۱) ایک شخص نے دوسرے کے لیے بے حد کوشش کی۔  
مگر دوسرے نے کوئی قدر نہ کی۔  
مرغی اندھے کی بگمٹ - ۱۶۔ مثل (۱) نتیجہ بگمٹ۔ بے کار بگمٹ۔  
مرغی بٹھانا - ۱۶۔ محاورہ (۱) مرغی کو اندلوں پر سینے کے لیے بٹھانا۔  
مرغی کا - ۱۶۔ مثل (۱) بطور نکل لہتے ہیں یعنی مرغی کا جانا ہوا۔

مرغی کا گوہر - ۱۶۔ مذ (۱) ناکارہ شے۔ بگمٹی چیز۔  
مرغی کو تیکے کا (گھاؤ) داغ بہت ہے - ۱۶۔ مثل (۱) غریب کو  
تھوڑا نقصان بھی بہت ہے۔  
مرغی کی اذان بانگ - ۱۶۔ مذ (۱) وہ اذان جو خلافت فطرت مرغی سے  
بگمٹی ہے۔ لکن اسے سن کر خیال کر کے مرغی کو ذبح کر ڈالتے ہیں۔  
مرغی کی بانگ کون سنتا ہے - ۱۶۔ مثل (۱) عورت کی بات کا کیا بھیا  
مرغی میجر - ۱۶۔ مذ (۱) رنٹا، مرغیل کا سوداگر۔ مرغیاں پالنے والا۔  
مرغی نچاؤنی کا - ۱۶۔ مذ (۱) بطور دشنام کے استعمال کرتے ہیں پریرا کا۔  
مرغی والا - ۱۶۔ مذ (۱) گالی ہے، مرغی کا جانا (۲) وہ شخص جو مرغیاں پالتا ہے۔  
مرغی فرغ - (مرغ، فرغ، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) رفع کیا گیا۔ اٹھایا گیا۔ بلند کیا  
گیا (۲) علم صرف میں وہ عرف جس پر پیش ہو (۳) ۱۶۔ ۱۵۶) مٹ (۲)  
وہ حدیث جس کے راویوں کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
تک پہنچے۔  
مرغی القلم - ۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذ (۱) وہ جس کا حیرت م قابل باز پرس نہ ہو۔ معذور  
دیوانہ کا معمول الحواس۔  
مرغی - (مرغ، غی، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) مسودہ۔ خوش حال۔ پیٹ بھرا ہوا۔  
فارغ الیال۔  
مرغی الحال - ۱۶۔ صفت (۱) خوش حال۔ آسودہ۔  
مرغی - (مرغ، غی، ۱۶۔ ۱۵۶) سونے کی جگہ۔ آرام گاہ۔ خواب گاہ (۲)  
پیر غریب۔ قبر گور۔ مزار۔  
مرغی - (مرغ، غی، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) مرتت شدہ۔ جس میں پیچیدگی ہو۔  
تقریب کی گڈ بڑی (۲) تصویروں کی کتاب۔ البم - (۳) قطعہ  
مرغی کی کتاب۔  
مرغی آردانا - ۱۶۔ محاورہ (۱) تصویر کھینچنا۔  
مرغی بن جانا - ۱۶۔ محاورہ (۱) حیران ہو جانا۔ تصویر بن جانا۔  
مرغی درجہ و برتہ ہونا - ۱۶۔ محاورہ (۱) جو لوگ ایک جگہ جمع ہوں ان کا پریشان  
ہونا۔ اصحبت یا جلسے کا منتشر ہونا۔  
مرغی کھینچنا - ۱۶۔ محاورہ (۱) تصویر کھینچنا۔  
مرغی قوم - (مرغ، قوم، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) لکھا ہوا۔ لکھا گیا۔  
مرغی القلم - (مرغ، قوم، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) حاشیہ پر لکھا ہوا۔  
مرغی الذیل - ۱۶۔ صفت (۱) نیچے لکھا ہوا۔  
مرغی منہ - (مرغ، قوم، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) لکھا ہوا۔ لکھی ہوئی۔  
مرغی منہ بالا - ۱۶۔ ف - ۱۰۔ صفت (۱) اوپر لکھی ہوئی۔  
مرغی کانا - (مرغ، کانا، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) موڑنا۔ موڑنا۔ بل دینا۔  
مرغی کتب - (مرغ، کتب، ۱۶۔ ۱۵۶) مذ (۱) وہ شے جس پر سوار ہوں۔ سواری  
رجح، مراکتب۔  
مرغی تازی - ۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذ (۱) عربی گھوڑا۔  
مرغی چوبیس - ۱۶۔ ف - ۱۰۔ مذ (۱) کتا یا تالوت۔  
مرغی کتب - (مرغ، کتب، ۱۶۔ ۱۵۶) صفت (۱) ترکیب دیا ہوا۔ طابو۔ مخلوط (۲)  
ذرات کی سیاہی رجم، مرکبات۔

**مُرکب کرنا** - ۱۶۔ مص مرکب کسی چیزوں کو ملانا۔  
**مُرکبات** - دُر، رُکن، ک۔ ہات، ۱۷۔ ف۔ ۱۔ مذ۔ مرکب کی جمع۔  
**مُرکبات ناقصہ** - ۱۷۔ مذ۔ وہ مرکب کام جس سے نئے دالے  
 کو پورا فائدہ نہ ہو وہ ہمیشہ جمع کا جُود ہوتا ہے۔ گرامر میں اس  
 کی تقریباً تیرہ قسمیں ہیں۔  
**مُرکب (رکے)** - ۱۶۔ تابع فعلی، یہ مشکل تمام۔ نہایت دشواری سے (۲)،  
 مرنے کے قریب پہنچ کر۔  
**مُرکب پینا** دمر کے پینا (۱۶۔ محاورہ) مرتے مرتے پینا۔ ہلاکت کے قریب  
 پہنچ کر بچ جانا۔ دوبارہ زندگی پانا۔  
**مُرکب چھوٹا** - ۱۶۔ محاورہ) جان دے کر خلاصی پانا۔ موت کے لڑھکے لڑا پانا۔  
**مُرکب (مُرکب)** - ۱۷۔ مذ۔ کسی چیز کے کھٹے کرنے کی جگہ۔ لوگ دار  
 چیز (۲)، کسی چیز کا درمیانی حصہ۔ عین وسط۔ درمیان۔ قلب  
 (۳)، دار سے کے بیچ کا وہ نقطہ جس سے اس کے محیط تک جتنے  
 خط کھینچے جائیں سب آپس میں برابر ہوں (۶) وہ اڑی لکیر جو  
 کات یا کٹاف پر کھینچی جاتی ہے (۵) دُورہ کرنے کی جگہ۔ مدار  
 دھری۔ کیلی۔ وہ نئے جس کے گرد کوئی چیز گھومے۔ جمع۔ مرکز۔  
**مُرکز نقل** - ۱۷۔ ف۔ ۱۔ مذ۔ کسی جسم کا وہ نقطہ کہ جب اس جسم کو  
 کسی لوگ دار چیز پر ٹھہرایا جائے تو اس کے سارے اجزائے  
 رہیں اور جم گئے نہیں۔  
**مُرکز صریح** - ۱۷۔ مذ۔ آسمان کا مرکز۔ زمین۔ قدیم لوگوں کا خیال  
 تھا کہ تمام عالم کا مرکز زمین ہے اور آسمان زمین کے گرد  
 گردش کرتا ہے۔  
**مُرکز خاک** - ۱۷۔ ف۔ ۱۔ مذ۔ کرہ ارض کا مرکز۔ زمین کے پچھلے بیج۔  
**مُرکز غور شنید** - ۱۷۔ مذ۔ سورج کا مرکز جو تھا آسمان (۲) دنیا۔ قدیم لوگوں  
 کا خیال تھا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔  
**مُرکز دولت** - ۱۷۔ ف۔ ۱۔ مذ۔ دار السلطنت۔ پایہ تخت۔ راہداری۔  
**مُرکز زمین** - ۱۷۔ ف۔ ۱۔ مذ۔ زمین کا وسطی نقطہ۔ ماریاضی۔ ذیابکی  
**مُرکزہ** (Nucleus) مرکز - ۱۷۔ مذ۔ مرکزی شمعہ جس کے گرد  
 اور چیزیں جمع ہوتی ہیں۔  
**مُرکنا** - دُر، رُکن، نا۔ ۱۷۔ مص۔ مل کھانا۔ مڑنا۔ موج آنا۔ ٹوٹنا۔  
**مُرکنتا نکل** - (Mercantile) (مُرکنتا نکل) ۱۷۔ ناک۔ صفت) تجارتی  
 تاجرانہ کاروبار کے متعلق۔  
**مُرکزوز** - (مُرکزوز) ۱۷۔ صفت) حکم کیا ہوا (۲) مجازاً منظور کیا  
 گیا۔ پسند کیا گیا۔ دل نشین (۳) ایک نقطہ پر جمع کیا گیا۔  
**مُرکزوز خاطر** - ۱۷۔ ف۔ ۱۔ مذ۔ دل میں بیٹھا ہوا۔ دل نشین۔ دل  
 میں جما ہوا۔  
**مُرکزوز کرنا** - ۱۷۔ مص مرکب ایک نقطہ پر جمع کرنا۔  
**مُرکھینا** - ۱۷۔ مص) مرکز خاک میں مل جانا۔ مرکز تمام ہو جانا۔ بہت  
 زیادہ کوشش کرنا۔

**مُرکھنا** - (مُرکھنا) ۱۷۔ صفت) وہ جاذبہ سے سنگ مارنے کی عادت ہو  
**مُرکی** - (مُرکی) ۱۷۔ مذ۔ کان کا ایک زلزلہ۔ چھوٹی سی بالی۔  
**مُرکے** - ۱۷۔ تابع فعلی فوت ہو کر۔ دینا سے گزر کر۔  
**مُرک** - ۱۷۔ مذ۔ موت، اہل۔  
**مُرک آسان** - ۱۷۔ مذ۔ وہ موت جو آسانی سے آجاتے۔ جلدی  
 سے دیم نکل جائے۔  
**مُرک اتفاقی** - ۱۷۔ مذ۔ وہ موت جو اچانک آجائے ناگہانی  
 موت۔  
**مُرک ابورہ جھٹنے دار** - ۱۷۔ مذ۔ عام مصیبت ایک قسم کا جلدی جھٹن  
 بن جاتی ہے۔ عام مصیبت کا رنج نہیں ہوتا۔ دوسروں کی مصیبت دیکھ  
 کر اپنا رنج کم ہو جاتا ہے۔  
**مُرک بیچ** - ۱۷۔ مذ۔ بچوں کا ایک خاص قسم کا بیچ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ  
 اس بیچ کا ہانڈھنے والا مرنے پر تیار ہے۔  
**مُرک تازہ** - ۱۷۔ مذ۔ نیا مادہ (نیا مازا) نہا عشق۔  
**مُرک جوانانہ** - ۱۷۔ مذ۔ جوانی کی موت۔  
**مُرک طبعی** - ۱۷۔ مذ۔ قدرتی موت۔ اپنی موت۔ وہ موت جو پوری  
 عمر پر بیچ کر آتی ہے۔  
**مُرک میناغات** - (مُرک ناگہانی) ۱۷۔ مذ۔ اتفاقی موت۔  
**مُرک لو** - ۱۷۔ مذ۔ تازہ موت (۱۷) عشق۔  
**مُرک نو مبارک باد** - ۱۷۔ مذ۔ اس وقت بولتے جب کوئی تازہ  
 حادثہ پیش آجائے۔  
**مُرگ** - ۱۷۔ مذ۔ ہرن - ۱۷۔ مذ۔ ہرن - ۱۷۔ مذ۔ چھکارا (۱۷) چھپا ہوا۔ حیوان  
 (۱۷) پانچواں بچتر۔  
**مُرگ جھال** - ۱۷۔ مذ۔ ہرن کی بالوں سمیت کھال جس پر بیٹھ کر درویش  
 لوگ عبادت کرتے ہیں۔  
**مُرگ سال** - ۱۷۔ مذ۔ ہرن کے رہنے کی جگہ۔  
**مُرگ مٹی آنکھ** - ۱۷۔ مذ۔ ہرن کی طرح بڑی بڑی اور خوبصورت  
**مُرگ کی آنکھیں چھینکی سی کر** - ۱۷۔ مذ۔ خوب صورت عورت کی  
 تعریف میں کہتے ہیں۔  
**مُرگ مارنا** - ۱۷۔ محاورہ) ہرن کا شکار کھیلنا (۲) ایک رسم جس میں لڑکا پیدا  
 ہونے پر باپ زچہ کی چار پائی پر کھڑے ہو کر صحت میں حیرا مارتا ہے۔  
**مُرگ مادھ** - ۱۷۔ مذ۔ کستوری۔ مشک۔ ناف۔  
**مُرگ نین** - ۱۷۔ صفت) ہرن کی آنکھ (۲) ہرن جیسی  
 آنکھ والی۔  
**مُرگان** - (مُرگان) مرگ جھالا۔  
**مُرگانک** - (مُرگانک) ۱۷۔ مذ۔ دھات وغیرہ کا کٹھنہ۔  
**مُرگ کل** - (مُرگ کل) ۱۷۔ مذ۔ تلی ہوئی چھلی (۲) تلی ہوئی چھلی  
 کے ٹکڑے۔  
**مُرگ کھٹ** - (مُرگ کھٹ) ۱۷۔ مذ۔ مسان۔ شمشان۔ ہندوؤں کے

مردہ کے مردے کے (۱۶- تاہم فعل) بڑی مشکل سے بہت محنت  
پر داشت کر کے۔

مردہ کے بچنا (۱۶- محاورہ) مرنے کے قریب پہنچ کر جان بیچ جانا مریض  
فکک سے صحت پانا۔

مردہ کے جینا (۱۶- محاورہ) مرنے کے جنم سے پیدا ہونا۔ خطرناک بیماری  
سے نجات پانا۔

مردہ کے دن گزارنا (۱۶- محاورہ) بڑی مشکل سے زندگی کاٹنا۔  
مردہ مزم۔ دم۔ زرم۔ نم۔ (ع-۱۶- مذ) ترمیم کیا ہوا۔ اصلاح شدہ ٹھیک  
کیا ہوا۔ درست کیا ہوا۔

مردہ مزم۔ دم۔ زرم۔ نم۔ نم۔ (ع-۱۶- صفت) اصلاح کی ہوئی۔ ٹھیک کی ہوئی  
(مزم کی تائید)  
مردہ مزم۔ (صفت) رزم۔

مردہ (مزم۔ زن) (۱۶- مذ) تھا۔ موت۔ مرگ۔ نا اجل (۲۰) مرنے کا وقت  
وقت مرگ (۳) جان دینا۔ مرجانا۔

مردہ برت (۱۶- مذ) وہ فائدہ جسے کرنے کو کہتے ہیں انسان مرجانے۔  
مردہ (۱۶- صفت) موت ہو کر انتقال کرنا۔ وفات پانا۔ دم کلنا

دنیا سے گزرنے میں بسنا (۲۰) جان جو کونوں میں ڈالنا۔ بلاک ہونا۔  
جان دینا۔ جان سے گزرنے (۳) عاشق ہونا۔ فریق ہو کر ہونا۔ کھٹ ہونا۔

دم۔ کمال محنت کرنا۔ از حد مشقت کرنا۔ لہو پانی ایک کرنا کشت  
کرنا (۵) پسند ہونا۔ مرغوب ہونا۔ بھانا (۶) کوشش کرنا۔ سعی  
کرنا۔ ہاتھ پاؤں مارنا (۷) مرجھا نا۔ کلنا۔ پشمرہ ہونا۔ سوکھ

جانا (۸) طاقت نہ رہنا۔ سکت نہ رہنا۔ سوکھ کر خراب ہو جانا۔  
جیسے چونا مرنا (۹) ڈوبنا۔ وصول نہ ہونا۔ بسے کھاتے ہیں لکھا جانا

مثلاً (۱۰) ساری مرنا (۱۱) ٹٹا کرنا۔ خسارہ پیشا۔ نقصان ہونا (۱۲) تار بازوں  
کی اصلاح میں ہونا۔ جیسے بازی مرنا (۱۳) دھات وغیرہ کا کٹنا ہونا۔

جیسے پارہ مرنا (۳) تباہ ہونا۔ برباد ہونا (۴) سونا۔ نپہ لیا۔ آنکھ  
جھپکنا (۱۵) نہایت شرمندہ ہونا (۱۶) نہایت بیزاری اور ٹھکنے کا ہر

کرنے کیلئے بھی آتا ہے جیسے جاؤ مرو۔  
مرنا بھڑنا (۱۶- محاورہ) مصیبت جمیل۔ تکلیف اٹھانا۔

مرنا جینا (۱۶- مذ) موت زندگی۔ شادی غمی۔  
مرنا جینا لگ رہا ہے (۱۶- مثل) زندگی اور موت کا سلسلہ

باری ہے۔  
مرنا حال مریح۔ دم۔ زن۔ جان۔ نم۔ رنج (۱۶- صفت) کسی کو زخمیہ

کو زخمیہ زخمیہ ہو (۲۰) وہ شخص میں سے کسی کو زخمیہ دیکھتے۔ سب سے  
ہنس بول کر ہنسے والا۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- مذ) مرنے کے گھبروں وغیرہ جن میں گڑا  
کسی لاکھ لگے جن میں (۲۰) چمڑ۔ سوکھا ہوا۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) کرنا (۱۶- محاورہ) ٹھٹھری بنا نا۔ مڑو ڈنا۔  
(۲۰) پھوٹنا (۳) شیدا بنانا۔

مردہ سے پی رکھ (۱۶- صفت) جب بچ پانچ جینے کا ہو کر مٹیاں بند

مردے جلانے کی جگہ۔  
مردہ کا بھٹنا (۱۶- مذ) مسکن کا آسیب۔ پریت۔ ساہ۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- مذ) ایک مریض جس میں آدمی اچانک زمین پر گر کر  
لے بوش ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیر پٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور منہ سے  
جھاگ نکلتا ہے۔ مریح۔

مردہ آنا (۱۶- محاورہ) مرنے کا دورہ پڑنا۔ مرنے کا مریض ہونا۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) وہ آدمی جس کو مرنے کا مریض ہو۔  
مردہ مردوں جس کا فاتحہ نہ دے (۱۶- مثل) نکلے آدمی کی بات  
پر لیتے ہیں۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) بانسری سننے۔ انغورہ۔  
مردہ (۱۶- مذ) کرشن جی کا لقب۔ اکثر ہندوؤں کا نام

ہوتا ہے۔  
مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) بانسری کی مرنے اور نکش آواز۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) چھٹی مرنے۔ چھٹی بانسری۔  
مردہ (۱۶- محاورہ) چھٹی مرنے کا بھٹنا (۲۰) دست آنا۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) بدن کا کوئی نازک مقام۔ نازک عضو (۲۰)  
کسی چیز کا اندرونی حصہ۔ دل۔ اندر۔ باطن (۳) چورم، کوئی  
چیز جو خفیہ رکھی جاتی ہے۔ ساز۔ سمجید (۵) عالم۔ دانش۔ گمان (۶) مطلب  
متصد فرقین۔ بھگا۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) کنگولی مٹی (۲۰) پھری مٹان (۳) ٹھٹھنے  
ریزہ ریزہ۔ بچہ۔ روٹی۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) اصلاح۔ ٹوٹی ہوئی چیز  
کو ٹھیک کرنا۔ ترمیم۔ پچھے کپڑے کی درستی (۲۰) سزا۔ کوٹھانی

ماہیٹ۔  
مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) درستی کے قابل۔ ٹھیک ہو سکے لائق۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) درست کرنا۔  
مردہ کرنا (۱۶- محاورہ) ٹھیک کرنا۔ درست کرنا (۲۰) مارنا پٹنا۔ گوس  
مالی کرنا۔ گت بنانا۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) ہوجنا اور بے نشان ہو گیا (۲۰) عاشق۔  
مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) قتل ہونا (۲۰) کمال مشقت برداشت  
کرنا (۳) فنا ہو جانا۔ تباہ و برباد ہو جانا (۴) عاشق ہو جانا۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- مذ) ایک سفید یا نیل گول چمکدار پتھر۔  
مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) مرمی مانند۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) مرنے کے لئے جسے جان نہیں چاہتے وقت  
مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) مرنے کی آواز نکلتی ہے۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) مرمی کی بوری (۲۰) مٹا کر آدمی۔  
مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) کاکھرو (۱۶- مذ) ایک قسم کا بٹلا اور مڑا ہوا گڑا۔

مردہ (مزم۔ زن۔ ڈم) (۱۶- صفت) بہت مشقت اٹھانا۔



مردوڑی کھانا - ۱۶ - محاورہ) بیل کھانا - ایشٹھلا - ایلانا -

مردوڑق - دم - زو - ذوق - ۱۶ - ع - ۱ - صفت) صاف کیا ہوا - مصفا - مقطر - خالص -

مردوڑنا - ۱۶ - مصلحت گشت کرنا - آوارہ بھجنا -

مردوڑہ - ۱۶ - مذمومہ - ۱ - مذمومہ - مغلہ - مغلہ میں ایک پہاڑی -

مردوڑی - ۱۶ - صفت) روایت کیا گیا - بیان کیا گیا -

مردوڑہ - ۱۶ - صفت) ایک بار - ایک دفعہ -

مردوڑہ - ۱۶ - صفت) ایک قوم جو ہمارا قریب رہتا ہے -

مردوڑی - ۱۶ - صفت) مریض سے منسوب (۲) مریضی زبان (۳) ایک قسم کے گیت (۴) بد عملی - اہتری - بد نظمی -

مردوڑی ساڑھی - ۱۶ - صفت) ایک قسم کی ساڑھی جس میں پینڈلیاں کھلی ہوتی ہیں -

مردوڑی گھس گھس - ۱۶ - صفت) مریضوں کے راج کی بدانتظامی اور اہتری مشہور ہے - نہایت بد نظمی - کمال اہتری -

مردوڑم - ۱۶ - صفت) وہ کاڑھی - نرم اور چکنی دوا جو زخم پر لگائی جاتی ہے (مجازاً) کسی قسم کے زخم کا علاج - وہ چیز جو تشکیلی

مردوڑم پی کرنا - ۱۶ - محاورہ) زخم کا علاج کرنا - زخمی کا علاج کا معالجہ کرنا -

مردوڑم دان - ۱۶ - صفت) مردوڑم رکھنے کا ڈبہ -

مردوڑم رکھنا - ۱۶ - محاورہ) زخم پر مردوڑم لگانا -

مردوڑم زنگار - ۱۶ - صفت) ایک خاص قسم کا مردوڑم جو سبز رنگ کا ہوتا ہے -

مردوڑم کی جلی - ۱۶ - صفت) وہ جلی جو مردوڑم میں لٹ کر کے زخم بھرنے کے لیے رکھی جاتی ہے -

مردوڑم لگانا - ۱۶ - محاورہ) زخم پر مردوڑم چرانا - مردوڑم کا لپک کرنا -

مردوڑم - ۱۶ - صفت) تمباکو کا پورا - سوکھا اور گٹ ہوا -

مردوڑم - ۱۶ - صفت) مردوڑم کی لگا - گرد لکھا گیا -

مردوڑم - ۱۶ - صفت) اسیان مندہ - ممنون - شکر گزار -

مردوڑم - ۱۶ - صفت) اسیان رکھی ہوئی چیز -

مردوڑم - ۱۶ - صفت) اسیان رکھی ہوئی چیز -

مردوڑم - ۱۶ - صفت) اسیان رکھی ہوئی چیز -

مفت ثواب کمانا چاہیے -

مردی پڑنا - ۱۶ - محاورہ) ذہا پھیلنا - کسی عام مریض کا پھوٹ پڑنا -

مردی پڑنا - ۱۶ - صفت) کنا پیتہ - بہت کابل اور سست آدمی (۲) کنبوس -

مردی کیوں سانس نہ آیا - ۱۶ - مثل) اظہار مصیبت کے وقت بولتے ہیں -

مردی کی نشانی - ۱۶ - صفت) مریض کی یادگار - اولاد -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی جان - ۱۶ - صفت) میری جان - جان من - عزیز من - معشوق کیا اس کو جو بہت عزیز ہو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

مردی - ۱۶ - صفت) مریض کی محنت -

میرٹھنہ - دم - ری - نہ، (۱- مذ) اصل میں مرینو تھا۔ (Merino)  
ایک قسم کا لنی کپڑا جو مرینو بھیر کے اون سے بنایا جاتا ہے۔

## م - ط

مٹر آنا - مٹر آنا، (۱۱- مص) ٹوٹ آنا۔ واپس آنا۔ پلٹ آنا۔  
مٹر آسا - دم - ٹا - سا، (۵- ۱- مٹ) دیکھیے منڈا سا۔ پگڑی۔ دستار۔  
مٹرب - (۱- مذ) سرماہ۔  
مٹر جانا - (۱- مص) واپس ہوجانا۔ پھر جانا، (۲- جھکا۔  
مٹرک - دم - ٹرک، (۵- ۱- مٹ) آبیٹھ۔ ٹیٹھ۔ بل۔ کچی۔ مردوڑ، (۲- گڑ۔ قاعدہ  
کولتہ، (۳- ساز باز۔ داؤں لکھت۔ ٹوڑ جوڑ۔  
مٹر کر نہ دیکھنا - (۱۱- محاورہ) متہ مٹر کر نہ دیکھنا۔ دوبارہ نہ دیکھنا۔ رُخ نہ  
کرنا۔ بات نہ پوجنا۔  
مٹر کنا - دم - ٹرک - نا، (۵- مص) ٹوٹنا۔ چلنا۔ چٹ چٹ ٹوٹنا۔ جیسے  
چوڑیاں ٹوٹنا۔  
مٹر کے ٹھروٹ نہ لینا - (۱۱- محاورہ) توجہ نہ کرنا۔ خیر نہ لینا۔  
مٹر مٹر کر دیکھنا - (۱۱- محاورہ) پھر پھر کر دیکھنا۔ کسی عزیز کو بار  
بار پھر کر دیکھنا۔  
مٹرنا - (مٹو - نا، ۵- مص) ٹوٹنا۔ واپس ہونا۔ پلٹنا، (۲- بل کھانا۔  
خم کھانا۔  
مٹو - (۱- مذ) تالاب۔  
مٹو - (۱- مذ) واد - (۵- ۱- مذ) ایک قسم کا غلہ۔  
مٹوڑیاں - (۱- ق) بیچ و تاب۔  
مٹھنا - (مٹھ - نا، ۵- مص) کھال چڑھانا۔ منڈھنا۔ پوشش کرنا۔  
مٹھوانا - (مٹھ - وا - نا، ۵- مص) کھال چڑھوانا۔ پوشش کرنا۔  
مٹھوانا۔  
مٹھی - دم - ڈھی، (۵- ۱- مٹ) جھونپڑی، (۲- جھوٹا مندر۔ سادھ۔  
مٹھی - (۱- ۱- مٹ) باغ کی کیاری۔ کیفیت۔

## م - ز

مزا - دم - ذ، (۱- مذ) اصل میں یہ لفظ مزہ ہے لیکن تاقیے کے لحاظ سے  
کسی الف کے ساتھ بھی آتا ہے۔ سواد ذائقہ۔  
مزا کر گرا، ہونا - (۱۱- محاورہ) اُبے لطف ہونا۔ رنگ میں بھنگ پڑنا۔  
مزاج - دم - ز - اج، (۱- مذ) طبیعت۔ سرشت۔ خمیر، (۲- مٹی  
خاصیت۔ خاصہ۔ اثر، (۳- عادت۔ غصبت۔ سبھاؤ، دم، مادہ  
جوہر۔ حقیقت۔ اصلیت، (۵- منگیز۔ خورد۔ دماغ۔ سرکیر، (۴- دل، دہ،

ناز نخرہ۔ جمع۔ امزجہ۔

مزاج آشنا - (ع - ف - ص) طبیعت شناس۔ مزاج پہچانتے والا  
مزاج دان۔ عادت سے واقف۔

مزاج آگ کھرنا - (۱۱- محاورہ) طبیعت میں زیادہ گرمی پیدا کر دینا۔ بہت  
مترزی پیدا کر دینا۔ غصہ دلانا۔

مزاج آگ ہونا - (۱۱- محاورہ) طبیعت میں بہت زیادہ گرمی پیدا  
ہونا۔ غصہ میں آنا۔

مزاج آگیا - (۱۱- محاورہ) طبیعت کا مائل ہونا۔

مزاج اٹھانا - (۱۱- محاورہ) بد مزاجی برداشت کرنا۔ ناز برداری کرنا۔

مزاج اٹھنا - (۱۱- محاورہ) کسی کی ناز برداری کی بڑاشت ہونا۔ غم سے  
سبے جانا۔

مزاج اچھا - (۱۱- محاورہ) طبیعت تو درست ہے۔

مزاج اچھا ٹوسے - (۱۱- روزمرہ) طبیعت تو درست ہے۔ طنزاً، (۱- ص)  
چلوا جاتا ہے، (۲- خیریت دریافت کرنے کے لیے کہتے ہیں، (۳- جب  
کسی کے چہرے سے بیماری یا اُداسی ظاہر ہو اُس وقت بھی  
کہا جاتا ہے۔

مزاج اصلاح پر آنا - (۱۱- محاورہ) بد مزاجی کم ہونا، (۲- مرض میں افاقہ ہونا۔  
اچھا ہونا۔ تندرست ہونا۔

مزاج اعتدال پر ہونا - (۱۱- محاورہ) طبیعت میں زیادہ تیزی یا گرمی کا نہ ہونا  
مزاج ٹھیک حالت پر ہونا۔ مزاج درست ہونا۔

مزاج ایک حال پر رہنا - (۱۱- محاورہ) طبیعت کا ایک حالت  
پر قائم ہونا۔

مزاج ایک ہونا - (۱۱- محاورہ) خاصیت یکساں ہونا۔ طبیعتوں میں  
کامل موافقت ہونا۔

مزاج بحال ہونا - (۱۱- محاورہ) بیماری کی طبیعت کا اصلی حالت کی طرف آنا  
مرض کم ہونا۔

مزاج بدلا ہونا - (۱۱- محاورہ) طبیعت کا رنگ کچھ کچھ ہونا۔

مزاج بد ہونا - (۱۱- مص مرکب) مزاج بُرا ہونا۔ بد مزاج ہونا۔

مزاج بڑھ کر ہونا - (۱۱- مص مرکب) ناراض کر دینا۔ غصہ دلانا۔

مزاج برنگ ہونا - (۱۱- مص مرکب) ناراض ہونا۔ غصہ آنا۔ بڑھنا  
مزاج بگاڑنا - (۱۱- محاورہ) عادت خراب کرنا۔ طبیعت میں غصہ اور  
تیزی پیدا کرنا۔

مزاج بنا دینا - (۱۱- محاورہ) طبیعت کی اصلاح کر دینا، (۲- خاصیت  
پیدا کر دینا۔

مزاج بننا - (۱۱- محاورہ) طبیعت کی اصلاح ہونا۔

مزاج بہکنا - (۱۱- محاورہ) متخلل دماغ ہونا۔ دلوانا ہوجانا۔

مزاج بہلنا - (۱۱- محاورہ) طبیعت، بہلنا۔

مزاج بے مزہ ہونا - (۱۱- محاورہ) بیمار ہونا۔ علیل ہونا۔

مزاج پانا - (۱۱- محاورہ) توجہ پانا۔ رُخ پانا، (۲- رنگ طبیعت  
معلوم کرنا۔

مزاج مری کرنا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت کا حال بوجہنا۔ خیریت معلوم کرنا۔  
 مزاج بوجھنا۔ (۱۱- محاورہ) خیریت دریافت کرنا۔ مزاج کا حال بوجھنا۔  
 مزاج بوجھنا۔ (۱۱- محاورہ) مزاج شناسی ہونا۔ عادات سے واقف ہونا۔  
 مزاج پھرنانا۔ (۱۱- محاورہ) یاد دلانا ہونا۔ دیوانہ ہونا، بددماغ ہونا  
 مزاج پھرتا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت خوش ہو جانا۔  
 مزاج پھیرنا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت دوسری طرف متوجہ کرنا۔ طبیعت ہٹانا۔ برگشتہ ہونا۔  
 مزاج پٹی۔ (۱۱- صف- مت) درد دماغ، دماغ دار۔ مغزور۔ گھمنڈی عورت۔ تک جڑوسی۔  
 مزاج پیدا کرنا۔ (۱۱- محاورہ) کیفیت و خاصیت پیدا کرنا۔  
 مزاج توٹے ماشے ہونا۔ (۱۱- محاورہ) بہت نازک مزاج ہونا۔ ذرا ذرا میں طبیعت بدلتی رہنا۔  
 مزاج تیز ہونا۔ (۱۱- محاورہ) غمزور ہونا۔  
 مزاج ٹیڑھا ہونا۔ (۱۱- محاورہ) نازک مزاج ہونا۔  
 مزاج چل جانا۔ (۱۱- محاورہ) دیوانہ ہو جانا۔ دماغ خراب ہو جانا۔  
 مزاج چمکنے تلک پر ہونا۔ (۱۱- محاورہ) بہت مغزور ہونا۔  
 مزاج چھیننا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت کا حال ظاہر نہ ہونا۔  
 مزاج چلتا تھاپی۔ (۱۱- صف- ف) بے علمی کا ترجمان۔  
 مزاج حفا ہونا۔ (۱۱- محاورہ) ناموافق ہونا۔ فقہر آنا۔  
 مزاج دار۔ (۱۱- صف- ف) مغزور۔ تکبر خود پسند۔  
 مزاج دال۔ (۱۱- صف- ف) طبیعت سے واقف۔ مزاج سے آگاہ۔  
 مزاج در دست رکھنا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت کو ٹھیک حالت پر رکھنا۔  
 مزاج در دست ہونا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت کا ٹھیک حال پر ہونا۔  
 طبیعت کا اصلاح پر ہونا۔  
 مزاج دیکھنا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت کو دیکھنا کہ خوش ہے یا ناخوش۔  
 مزاج راہ پر آنا۔ (۱۱- محاورہ) مزاج اصلاح پر آنا۔ طبیعت درست ہونا۔  
 مزاج رنگین ہونا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت میں شوخی ہونا۔ مزاج میں رنگین ہونا۔  
 مزاج سالیوں آسمان پر ہونا۔ (۱۱- محاورہ) بہت مغزور ہونا۔ بڑا گھمنڈ کرنا۔  
 مزاج شاد ہونا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت کا خوش ہونا۔  
 مزاج شریف (عالی)۔ (۱۱- محاورہ) مہارک۔ (۱۱- صف- ف) کلمہ مزاج پری آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ خیریت سے ہیں۔ مزاج کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت اچھی ہے؟

مزاج عالی نہ تو تشک نہ نہالی۔ (۱۱- صف- ف) غزوی میں امیرانہ مزاج دکھانے والے پر فخر بولا جاتا ہے۔  
 مزاج شناسی۔ (۱۱- صف- ف) کسی کی طبیعت کو جاننا۔  
 مزاج عرش پر ہونا۔ (۱۱- محاورہ) ہمایت مغزور ہونا۔  
 مزاج قابو میں نہ رہنا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت بے اعتدال ہونا۔  
 مزاج قائم نہ ہونا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت میں استقلال نہ ہونا۔  
 مزاج کالفتشہ بگڑنا۔ (۱۱- محاورہ) کسی بات کا ناگوار کرنا۔  
 مزاج کرنا۔ (۱۱- محاورہ) غزور کرنا۔ گھمنڈ کرنا۔ بوجھ کرنا۔  
 مزاج کی اقتاد۔ (۱۱- صف- ف) طبیعت کا رنگ و صنگ۔  
 مزاج کی لینا۔ (۱۱- محاورہ) ڈینگ مارنا۔ شیخی بگھارنا۔  
 مزاج نئے مارے۔ (۱۱- صف- ف) تابع فعل، غزور کے سبب۔ بھرتے کے باعث گھمنڈ سے۔  
 مزاج کے مارے مرے جانا۔ (۱۱- محاورہ) بہت زیادہ غزور کرنا۔  
 مزاج لڑ جانا۔ (۱۱- محاورہ) دو شخصوں کے مزاج کا موافق آنا۔  
 مزاج مل جانا (ملنا)۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت کا دوسرے کی موافق ہونا۔  
 مزاج میں آنا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت میں آنا۔ سمجھ میں آنا۔ خیال میں آنا۔ اڑانا۔ غزور کرنا۔ سخت کرنا۔  
 مزاج میں خودی سما نا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت میں خود پسندی آجانا۔  
 مزاج میں دخل ہونا۔ (۱۱- محاورہ) کسی کی طبیعت پر قابو ہونا۔ کسی کے مزاج تک رسائی ہونا۔  
 مزاج نازک ہونا۔ (۱۱- محاورہ) ذرا سی بات بھی برداشت نہ کر سکتا۔  
 مزاج ناساز ہونا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت علیل ہونا۔ مزاج میں کچھ بر ہی ہونا۔  
 مزاج نہ پایا جانا۔ (۱۱- محاورہ) مزاج نہ ملنا۔ نہایت مغزور ہونا۔ بہت اترا غزور کے سبب کسی کی طرف توجہ نہ کرنا۔  
 مزاج والا۔ (۱۱- صف- ف) مغزور۔ تکبر۔ گھمنڈی۔  
 مزاج والی۔ (۱۱- صف- ف) مغزور عورت۔ تکبر خاتون۔  
 مزاج ہاتھ سے جانا رہنا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت بے قابو ہو جانا۔  
 مزاج ہوا پر ہونا۔ (۱۱- محاورہ) بہت مغزور ہونا۔  
 مزاج ہونا۔ (۱۱- محاورہ) مغزور ہونا۔  
 مزاج یک سٹو ہونا۔ (۱۱- محاورہ) طبیعت کا الطینان پر ہونا۔ طبیعت پریشان نہ ہونا۔  
 مزاجا۔ (۱۱- صف- ف) ذرا سخن، (۱۱- صف- ف) تابع فعل، طبیعت کی رگو سے بالخاصیت خاصیت کے اعتبار سے۔  
 مزاج۔ (۱۱- صف- ف) مذاق۔ ہنسی۔ بکسرا دل خوش طبیعت کرنا۔  
 مزاج۔ (۱۱- صف- ف) مذاق۔ ہنسی۔ بکسرا دل خوش طبیعت کرنا۔  
 مزاج۔ (۱۱- صف- ف) مذاق۔ ہنسی۔ بکسرا دل خوش طبیعت کرنا۔  
 مزاج۔ (۱۱- صف- ف) مذاق۔ ہنسی۔ بکسرا دل خوش طبیعت کرنا۔  
 مزاج۔ (۱۱- صف- ف) مذاق۔ ہنسی۔ بکسرا دل خوش طبیعت کرنا۔

کچھ تیز لگیا ہو۔

**مُزاحمات** - (مُ - ز - ح - ف - ا - ت) (ع - ص - ف - م - ذ) وہ بکور جن میں زحمت واقع ہوا ہو۔

**مُزاجم** - (مُ - ز - ج - م) (ع - ا - م - ذ) مزاحمت کرنے والا - روکنے والا - حاصل - مانع۔

**مُزاحم ہونا** - (م - ص - م - ک - ب) (ع - ح - ا - م - ن) روکنے والا - سبب ہونا - مانع ہونا۔

**مُزاحمت** - (مُ - ز - ح - م - ت) (ع - ا - م - ن) روک - ممانعت - قرض۔

**مُزاحمت لے جا** - (ع - ف - ا - م - ن) (ع - م - ن) قانون کے خلاف روک ٹوک۔

**مُزاحمت بالارادہ** - (قانون) وہ روک ٹوک جو جان بوجھ کر کی جائے۔

**مُزار** - (م - ز - ا - ر) (ع - ا - م - ن) زیادت کرنے کی جگہ - درگاہ - آستانہ - مقبرہ - قبر - تربت - درجہ - مزارات۔

**مُزارع** - (م - ز - ا - ر - ع) (ع - ا - م - ن) زمین کو کاشتکار - کاشتکار - زمین - مزارعین۔

**مُزارع تابع فرضی مالک** - (ع - ف - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) وہ کاشتکار جسے زمیندار جب چاہے نکال دے۔

**مُزارع چھپے بند** - (ع - ف - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) وہ کاشتکار جس کا حق قدیم سے چھپا آتا ہو۔

**مُزارع میر** - (م - ز - ا - ر - ع) (ع - ا - م - ن) مزار کی جمع - بالنسریاں - مسطریوں کے ہر قسم ساڑھ (۳) راک - گیت - راک میں کی جانے والی دعائیں۔

**مُزار میر داؤد** - (ع - ا - م - ن) حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کی آیتیں - نغمے - خوش آوازیں۔

**مُزار و جنت** - (م - ز - ا - و - ج - ن - ت) (ع - ا - م - ن) زوج ہونا۔

**مُزار و کت** - (م - ز - ا - و - ک - ت) (ع - ا - م - ن) کسی کام کو ہمیشہ کرنا روزمرہ مشق۔

**مُزارائل** - (Missile) (م - ز - ا - ی - ل) (ع - ا - م - ن) راکٹ - موٹرول کی طاقت سے پرواز کرنے والے خوفناک جنگی ہتھیار جنہیں ہزاروں میل دور مقررہ مقام پر گرایا جا سکتا ہے۔

**مُزار بک** - (ع - ا - م - ن) وہ مقام جہاں کوڑا کرکٹ اور نجاست ڈالتے ہیں۔

**مُزار بوز** - (م - ز - ا - ب - و - ز) (ع - ا - م - ن) اوپر لکھا ہوا - مذکورہ الصدر - مذکورہ بالا۔

**مُزار جات** - (م - ز - ا - ج - ا - ت) (ع - ص - ف - م - ذ) تھوڑا سا چتر - ادنیٰ۔

**مُزخرف** - (م - ز - خ - ر - ف) (ع - ا - م - ن) بناؤٹ کی بات - وہ جو بی بات جو بی کی طرح آراستہ کی گئی ہو - بیہودہ بات۔

**مُزخرفات** - (م - ز - خ - ر - ف - ا - ت) (ع - ا - م - ن) مُزخرف کی جمع جو بی باتیں - بناؤٹیاں - باتیں - فاطیات - باتیں۔

**مُزرد** - (م - ز - ر - د) (ع - ا - م - ن) مزدوری - اجرت - طلب - تنخواہ - صلہ بدلہ۔

**مُزرد لقمہ** - (م - ز - ر - د - ل - ق - م - ہ) (ع - ا - م - ن) منیٰ اور عرفات کے درمیان ایک مقام جہاں حاجی لوگ عرفات سے واپسی پر ۹ اور ۱۰ ذی الحجہ کی رات کو قیام کرتے ہیں۔

**مُزرد و ر** - (م - ز - ر - و - ر) (ع - ا - م - ن) مزدوری کرنے والا - اجرت پر کام کرنے والا - بوجھ اٹھانے والا - محنتی راصل لفظ مُزرد و ر۔

**مُزرد و ر خوش دل** - (م - ز - ر - و - ر - خ - و - ش - د - ل) (ع - ا - م - ن) اچھی اجرت پانچوالا مُزرد و ر زیادہ کام کرتے ہیں۔

**مُزرد و ر می** - (م - ز - ر - و - ر - م - ی) (ع - ا - م - ن) اجرت - کام کا معاوضہ محنت کا صلہ (۳) محنت - مشقت - محنت۔

**مُزرد و ر پر جانا** - (م - ز - ر - و - ر - پ - ر - ج - ا - ن - ا) (ع - ا - م - ن) مزدوری پر جانا - کام پر جانا۔

**مُزرد و ر می** - (م - ز - ر - و - ر - م - ی) (ع - ا - م - ن) محنت - مشقت کا کام کرنا۔

**مُزرد و ر لند و ر می** - (م - ز - ر - و - ر - ل - ن - د - و - ر - م - ی) (ع - ا - م - ن) مزدوری کو قیام نہیں ہوتا - کبھی بلی کبھی نہ ہلی۔

**مُزروع** - (م - ز - ر - و - ع) (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) کھیتی - کھیت - کشت۔

**مُزروع آخرت** - (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) عاقبت کی کھیتی - بجلی - بھلائی۔

**مُزروع** - (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) کھیت میں پونی پونی چیز۔

**مُزروع** - (م - ز - ر - و - ع) (ع - ا - م - ن) کاشت کیا ہوا پودا - کھیت - کاشت کی ہوئی زمین۔

**مُزوعرف** - (م - ز - ر - و - ع - ر - ف) (ع - ا - م - ن) زعفرانی - زرد دریا میں رنگے ہونے والے چاول کا پلاؤ۔

**مُزوعوم** - (م - ز - ر - و - ع - و - م) (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) صفت اگمان کیا ہوا - زعم کیا ہوا۔

**مُزوی** - (م - ز - و - ی) (ع - ا - م - ن) صفت ہاگ کیا گیا - زکوٰۃ دیا گیا۔

**مُزوی** - (م - ز - و - ی) (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) پاک کرنے والا (۲) زکوٰۃ دینے والا۔

**مُزولت** - (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) پھسلنے کی جگہ۔

**مُزولف** - (م - ز - و - ل - ف) (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) زلف والا - معشوق۔

**مُزمار** - (م - ز - م - ا - ر) (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) باجی - نئے۔

**مُزمر** - (م - ز - م - ر) (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) کچڑوں میں لپٹا ہوا اور قرآن شریف کی ایک سورۃ۔

**مُزمرین** - (م - ز - م - ر - ی - ن) (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) پڑانا - کہنے۔

**مُزمرور** - (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) مناجات۔

**مُزمرور** - (م - ز - م - ر - و - ر) (ع - ا - م - ن) (ع - ا - م - ن) وہ چمڑے یا رسی کا حلقہ جو گھوڑے





## م - ث

مترودہ - (مترودہ، ۱۸) ۱- مذہب خوش عبری - بشارت - مبارک ہار - تہنیت -  
مترودہ مادہ ۱۱۰ - کلچر (دعا، مبارک ہو - خوشخبری ہو -  
مترودہ باولے مرگ عیسیٰ آپ ہی جیسا رہے - ۱۷ - مثل جس سے اولاد  
کی توقع تھی - وہ خود مصیبت میں گرفتار رہے -  
مترودہ پہنچانا - ۱۱ - محاورہ خوشخبری دینا بشارت دینا -  
مترودہ سنانا - ۱۷ - محاورہ خوشخبری لاکر دینا -  
مترکال - (مترکال، ۱۸) ۱- مترکہ - شہرہ کی جمع - بلکیں -  
مترکہ - (مترکہ، ۱۸) ۱- مترکہ - ایک - راج، مترکال -

## م - س

مسن - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - موچیل کارواں -  
مسنیں بھینگنا - ۱۷ - محاورہ سبزہ آقا ہونا - موچیل نکلنا -  
مسن - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - چھینے کا فعل (م، گاڈ - رغبت - میل - رجمان (۱۷) چھونا  
ہاتھ لگانا - نکلنا - رگڑنا -  
مسن کرنا - ۱۷ - محاورہ چھونا - ہاتھ لگانا -  
مسن ہونا - ۱۷ - محاورہ رجمان ہونا - رغبت ہونا - میل ہونا - لگاؤ ہونا -  
مسن - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - ایک و حیات جس کے برتن وغیرہ  
بنتے ہیں -  
مسن خاتم - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - کچا تانا - وہ تانا جو کان سے نکلنے کے بعد باجی  
صاف نکلیا گیا ہو -  
مسن گم - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - تانے کے برتن بنانے والا - ٹھٹھیرا - کیرا -  
مسن لا لکل - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - خالص تانا -  
مسن - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - سیاہی روشنائی - ۱۲ - مذہب - بہانہ - حیلہ - غرور -  
مسن (Miss) ۱۱ - انگ - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - ناگتھا لڑکی (م، نشانے کا خطا مانا  
انعام رہنا (م، نہ مل سکتا دم، نہ پکڑ سکتا -  
مسن کرنا - (مسن، ۱۰-۱۱) ۱- مسن - مرکب - نمونہ - چوکن - غلطی سے چھوڑنا -  
چھوٹ دینا -

مسنا - (مسنا، ۱۰-۱۱) ۱- مسنا - گوشت کا سیاہ دانہ جو بدن  
پر پڑ جاتا ہے - بڑا تیل - خال کلال (م، ناند گوشت جو لاسیر  
کئے سبب مقعد میں پیدا ہوتا ہے (م، بندوق کی گھٹی دم،  
گھنڈی - آسبھا ہوا دانہ جو گھڑی کے ڈھکنے یا ڈبیوں پر  
ہوتا ہے -  
مستے پر بال بانڈھنا - ۱۷ - محاورہ مسنا کٹنے کے لئے گھوڑے کا بال بانڈھ  
دیتے ہیں اور ہر روز تھوڑا سا کٹ دیتے ہیں - یہاں تک کہ مسنا بزرگ کی  
کے جھڑ جاتا ہے -

مسا - (مسا، ۱۰-۱۱) ۱- مسام - شام - سانجھ -  
مسا - (مسا، ۱۰-۱۱) ۱- مسام - جلا جلا ہوا - موٹا - موٹا اناج - غریبوں کے کھانے  
کا مسام - اناج -  
مسا گستا - ۱۰-۱۱) ۱- مسام - چھڑنا اناج -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مسالقت - (مسالقت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالقت - باہم سمجھنے کے لئے ہونا -  
مسالحت - (مسالحت، ۱۰-۱۱) ۱- مسالحت - ماش کرنا - اعلیٰ طاقت کے لیے ہاتھوں  
سے جسم کو کھنا -

مساوات نکالنا - (۱- مجاوردہ) مساوات کی نامعلوم مقدار کی قیمت دریافت کرنا۔

مساوی - دم - مساوی، ۱-ع - صفت، برابر یکساں

مساوی الاضلاع - (۱-ع - ۱-م) وہ شکل جس کے سب ضلعے برابر ہوں۔

مساہلت - دم - سادہ - ملت - لا-ع - ۱-م (تساہل کرنا - تسبیح کرنا)

مساہمت - دم - سادہ - مت - (۱-ع - ۱-م) شرکت، سماج، قریب آمدنی۔

مساہل - دم - سادہ، (۱-ع - ۱-م) مسد کی جمع - سوالات - پوچھی، کوئی باتیں - امور دریافت طلب - (۲-م) مذہبی قواعد یا احکام۔

اصول مذہب -

مسبب - دم - سبب - (۱-ع - ۱-م) سبب پیدا کرنا۔ باعث - وجہ۔

مسبب - دم - سبب - (۱-ع - ۱-م) سبب پیدا کرنے والا۔

مسبب الاسباب - (۱-ع - ۱-م) سبب پیدا کرنے والا۔

مسبب حقیقی - (۱-ع - ۱-م) سبب کا اصل پیدا کرنے والا۔ خداوند تعالیٰ۔

مسبب - (۱-م - ۱-م) سبب، (۱-ع - ۱-م) سبب الاسباب کے سبب سے پیدا کرنے والا۔ وسیع کرنے والا۔

خدا تعالیٰ کو ایسی سے یاد کرنے والا۔

مستبحان طلاء علی - (۱-ع - ۱-م) فرشتوں سے مراد ہے۔

مستحب - دم - سبب - (۱-ع - ۱-م) شہادت کی انگلی تیار۔

مصنوع - دم - سبب، (۱-ع - ۱-م) سات خمد کیا گیا۔ سات پیلو والی چیز۔ سات برابر فعلوں والی شکل (۲-م) سات مصرعوں کے بند والے شعر۔

مستوبق - (۱-ع - ۱-م) سابق - گزرا ہوا۔ گزشتہ (۲-م) اصطلاح فقہ میں وہ شخص جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہو جانے کے بعد جماعت میں اگر شریک ہو، ہو۔

مستوبق الذکر - (۱-ع - ۱-م) جس کا سابق میں ذکر آچکا ہو۔ جو بیان کیا جا چکا ہو۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

مست - (۱-ع - ۱-م) متوالا۔ مدہ ماتا۔ نشہ میں چور۔ مخمور (۲-م) پر شوہت۔

کی بیماری کی ضروریات اور لوازم - جیسے تنک، مرتج، اہس، ہیا زماہلین کا مسئلہ ہے (۲-م) گونا گویا، گوگھر وغیرہ۔

مسالسا بنانا - (۱-ع - ۱-م) مسالا مرکب کرنا۔ مسالا تیار کرنا۔

مسالسا ٹانگنا - (۱-ع - ۱-م) مسالا تیار کرنا۔ مسالا تیار کرنا۔

مسالسا ڈالنا - (۱-ع - ۱-م) مسالا تیار کرنا۔ مسالا تیار کرنا۔

مسالے دار - (۱-ع - ۱-م) مسالا تیار کرنا۔ مسالا تیار کرنا۔

مسالے کا تیل - (۱-ع - ۱-م) مسالا تیار کرنا۔ مسالا تیار کرنا۔

مسالے کی سیل - (۱-ع - ۱-م) مسالا تیار کرنا۔ مسالا تیار کرنا۔

مسالک - دم - سا، (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مسالمہ - (۱-ع - ۱-م) مسالک کی جج - راہیں راستے۔ طریقے۔

مست ہاتھی - (۱۷) ہاتھی چوستی کے باعث دیوانہ ہو۔  
 مست ہو جانا - (۱۱) مصل مرکب (متوالا ہو جانا - نشتر میں چھو ہو جانا (۲) ہے، خوش ہونا (۳)، اترانا - گھنڈ کرنا - مغرور ہونا، اہم، اہمیت میں بھرنا۔ پرا نا (۱۵) جوانی میں بھرنا، خوشی میں آنا بہت خوش ہونا (۱۶) دیوانہ ہونا۔  
 جنوں ہونا۔ مجذوب ہونا۔  
 مستوں کے گھوڑے - (۱۶) مثل (نہایت احمق - نہایت بے وقوف -  
 مستاجر (رُسن - تاجر) (ع - ۱) مذ (ٹھیکہ دار - اجارہ دہ لینے والا - زمیندار -  
 مستاجر سرکاری (ع - ۱) مذ (سرکاری ٹھیکہ دار -  
 مستاجر - (رُسن - تاج - بی، بی) (ت - ۱) مش (ٹھیکہ داری - چارہ داری  
 مستاصل - (رُسن - تاج - صل) (ع - ۱) صف (جرطے اٹھنا، ہوا - برباد تباہ  
 مستاصل - (رُسن - تاج - صل) (ع - ۱) مذ (جرطے اٹھانے والا -  
 مستامین - (رُسن - تاج - مین) (ع - ۱) مذ (پناہ مانگنے والا - امن چاہنے  
 والا -  
 مستان - (رُسن - تاج - ن) (ع - ۱) مذ (مجذوب دیوانہ - جنوں - اس سے میں  
 بطور واحد مستعمل ہے -  
 مستان شاہ - (ع - ۱) مذ (مست فقیر - گدائے مجذوب -  
 مستانا - (رُسن - تاج - نا) (ع - ۱) صف (مستی پرانا - مدہ پرانا - گرما جانا -  
 مستانہ - (رُسن - تاج - نا) (ع - ۱) صف (مست کی طرح یا مانند - متوالے  
 کی طرح - مجذوب -  
 مستانچال - (ت - ۱) مذ (مست کے کسی لاکھڑائی چال - جھوٹی  
 چال -  
 مستانس - (رُسن - تاج - نین) (ع - ۱) صف (ألغت رکھنے والا - جوگر -  
 آرام پانے والا -  
 مستانفہ - (ع - ۱) صف (پہل کرنے والا (۲)، چدا - علیحدہ (۳) (اصطلاح نجوم) وہ جملہ جس کو سابقہ جملہ سے معنا تو ربط ہو مگر لفظاً  
 کچھ تعلق نہ ہو -  
 مستانی - (رُسن - تاج - نی) (ع - ۱) صف (دو - ۱) مذ (مست میں بھری ہوئی  
 عورت (۲) دیوانی - مجنونہ -  
 مستابل - (ع - ۱) مذ (نالائق - سزا دار -  
 مستبید - (رُسن - تاج - بد) (ع - ۱) صف (اکیلے کام کرنے والا (۲) خود نگار  
 مطلق العنان (جمع - مستبذین -  
 مستبذ - (رُسن - تاج - بد) (ع - ۱) صف (خود مختار - مطلق العنان -  
 مستبذل - (ع - ۱) صف (بدل کیا گیا - بدل جانا گیا -  
 مستبذل - (ع - ۱) صف (بدل کرنے والا - بدل چاہنے والا -  
 مستبشر - (ع - ۱) صف (خوش خبری چاہنے والا - خوش ہونے والا -  
 مستبصر - (ع - ۱) صف (بینائی چاہنے والا - جس کا دل بینا ہو -  
 مستبعد - (رُسن - تاج - عد) (ع - ۱) صف (دور - بعید (۲) دور از قیاس -  
 دشوار -  
 مستخرج - (رُسن - تاج - تج) (ع - ۱) صف (پھینے والا - پوشیدہ -  
 مستخلص - (رُسن - تاج - نین) (ع - ۱) صف (استخرا کیا گیا - الگ کیا گیا - چنا  
 کیا گیا -

گیا - چھوٹا ہو - ماسوا - الا - مگر بجز (۳) وہ شخص یا چیز جسے علیحدہ  
 کر دیا گیا ہو (۳) اصطلاح کوزمیں وہ اسم جو حرف استخرا کے بعد  
 واقع ہوا ہو (جمع - مستثنیات -  
 مستثنیٰ کرنا - (۱۶) محاورہ (علیحدہ کرنا - الگ کرنا - کسی میں سے کسی  
 کو جدا کرنا -  
 مستثنیٰ منہ - (ع - ۱) صف (وہ شخص یا چیز جس میں سے مستثنیٰ کو الگ  
 کر دیا گیا ہو -  
 مستثنیات - (رُسن - تاج - نین - یات) (ع - ۱) صف (مستثنیٰ کی جمع - الگ  
 کیے ہوئے امور -  
 مستجاب - (رُسن - تاج - حاب) (ع - ۱) صف (جواب دیا گیا (مجازاً) قبول  
 کیا گیا - مانا گیا -  
 مستجاب الدعوات - (ع - ۱) صف (مستجاب کی دعوات قبول ہو جس کی دعا مانگا  
 الہی میں شرف قبولیت پائے -  
 مستجمع - (رُسن - تاج - جم) (ع - ۱) مذ (جمع کرنے والا -  
 مستجمع - (رُسن - تاج - جم) (ع - ۱) مذ (جمع ہونے کی جگہ (۲) -  
 جمع کیا گیا -  
 مستجمع الصفات - (ع - ۱) صف (جس میں تمام خوبیاں جمع ہوں -  
 مستجیب - (رُسن - تاج - حاب) (ع - ۱) صف (جواب دینے والا - دُعا  
 قبول کرنے والا -  
 مستجیب الدعوات - (ع - ۱) صف (دُعائیں قبول کرنے والا - مُراد  
 خدائے تعالیٰ -  
 مستحاضہ - (رُسن - تاج - حاض) (ع - ۱) صف (وہ عورت جسے معمول سے  
 زیادہ عرصہ تک خون آئے -  
 مستحب - (رُسن - تاج - حبت) (ع - ۱) صف (محبت کیا گیا - پسند کیا گیا  
 پسندیدہ (۲) (۱) مذ (فقہ کی اصطلاح میں عبادات میں سے  
 وہ فعل جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما کر خود کیا ہو یا اس  
 کا ثواب بیان فرمایا ہو - جمع - مستحبات -  
 مستحسن - (رُسن - تاج - حین) (ع - ۱) صف (نیک - پسندیدہ - خوب بہتر -  
 مستحضر - (رُسن - تاج - حضر) (ع - ۱) صف (یاد رکھا ہوا - وہ بات جو  
 یاد ہو -  
 مستحق - (رُسن - تاج - حق) (ع - ۱) صف (حق دار - حق رکھنے والا - دعوے  
 دار (۲) لائق - قابل - سزا دار (۳) درویش - مفلس - مسکین - نادار  
 جمع - مستحقین -  
 مستحکم - (رُسن - تاج - حکم) (ع - ۱) صف (پکا - مضبوط - سخت - قائم کرنے  
 والا - اٹل - مضبوط -  
 مستحیل - (رُسن - تاج - حیل) (ع - ۱) صف (بدلا ہوا - ایک حال سے دوسرے  
 حال میں بھرنے والا (۲) ناممکن - محال -  
 مستخرج - (رُسن - تاج - رجا) (ع - ۱) صف (نکالا ہوا - خارج کیا ہوا -  
 مستخلص - (رُسن - تاج - نین) (ع - ۱) صف (چھوڑا گیا - خلاص  
 کیا گیا -



کرتے والا - فائدہ اٹھانے والا۔

**مُسْتَفِیض** - (مُس - ت - فیض، ع - صفت) فیض چاہنے والا۔ فیض کا خواہاں۔  
(۲) فائدہ اٹھانے والا۔

**مُسْتَقْبِل** - (مُس - ت - ق - بیل، ع - صفت) آگے آنے والا۔ آئندہ (۲) وہ فعل جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھے۔ زمانہ آئندہ۔

**مُسْتَقَر** - (مُس - ت - ق - ر، ع - صفت) ٹھہرنے کی جگہ بجائے قرار۔ ٹھکانہ۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) مضبوط۔ مستحکم۔ اٹل۔ برقرار۔ پائدار۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) ہمیشہ۔ مدام۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) مستقل جگہ۔ پکی اساسی۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) برقرار رہنا۔ برقرار رہنا۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) مزاج۔ وہ جس کے مزاج میں استقلال ہو۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) مزاج۔ پکا ہونا۔ پائدار ہونا۔ برقرار ہونا۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) ملازمت پر پکا ہونا۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) کسی عہدے پر پکا ملازم کیا جانا۔

**مُسْتَقِل** - (مُس - ت - ق - ل، ع - صفت) مضبوطی۔ مستحکم۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَقِیْم** - (مُس - ت - ق - ی - م، ع - صفت) سیدھا راستہ۔ درست۔ مضبوط۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔

**مُسْتَوْرَات** - (مُس - ت - و - ر - ا - ت، ع - صفت) مستور کی جمع۔ پردہ نشین۔



ہنا جنبش کرنا۔

**مُسکِنَات** - (م - سک - ک - ن ا ت) - (ع - صفت) مسکن کی جمع۔ مسکن  
دو تین۔ تسکین بخش دو تین۔

**مُسکِنَت** - (م - سک - ن ت) - (ع - ا - م ت) مسکنی۔ عزیسی۔ مفلسی  
(۲) عاجزی۔

**مُسکُوْرَط** - (Mess-court) انگریزی سے اُردو بنایا ہوا۔ ۱۶۔ مذ (ما،  
صلاح - مشورہ ۲)۔ توتھ - خفیہ سازش۔

**مُسکُوْرَا** - (م - سک - کو - ر ا) - (ع - ا - مذ) مسوڑھا۔

**مُسکُوْرَا** - (م - سک - کو - ر ا) - (ع - ا - مذ) مسوڑھا۔  
میں مرزئی نکل گئی۔

**مُسکُوْرَا لَیْنَا** - (۱۶۔ محاورہ) - (ع - ا - مذ) دھکے سے کودت لینا۔ دفعتاً پہلو بدلنا۔

**مُسکُوْرَا مَارَنَا** - (۱۶۔ محاورہ) - (ع - ا - مذ) زور سے ساتھ کودت لینا۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) بگڑ لگا ہوا۔ ٹھپتہ کیا ہوا۔ سرکاری  
جواب کا۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) سکونت کیا گیا۔ آباد (۲)۔  
رہنے کے قابل۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) تازہ نکلا ہوا کئی گھی جو تیار  
کیا ہو (۲)۔ اصطلاح کہیا میں پارہ جو داؤں سے میسر کیا گیا ہو۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) چالوسی کرنے والا۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) چالوسی کرنے والا۔

**مُسکُوْرَت** - (Musketry) (م - سک - کو - ر ت) - (ع - صفت) بندوق  
بندوق چلانے کا علم۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) مغلس۔ لنگال۔ نادار (۲)۔ عاجز  
انوار۔ بے چارہ (۳)۔ علم۔ بُرد بار (۴)۔ اصطلاح فقہ میں وہ شخص جس  
کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ زکوٰۃ واجب آئے۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) جس کی صورت پر مسکنی اور عزت برستی ہو  
(۲)۔ بعض اوقات اُسے کہتے ہیں شریر مگر ظاہر میں بھولا

بھالا نظر آتا ہو۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) مغرب طبیعت۔ علم۔ بُرد بار۔ وہ شخص جس کی  
طبیعت میں شرارت نہ ہو۔

**مُسکُوْن** - (م - سک - کو - ن) - (ع - صفت) مغرب طبیعت۔ علم۔ بُرد بار۔ وہ شخص جس کی  
عاجزی۔ فروختی۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَل** - (م - سک - ل) - (ع - صفت) کپل ڈالنا۔ رومہ ڈالنا۔

**مُسَقَط** - (م - س - ق - ط) - (ع - ا - مذ) گرنے کی جگہ (۲)۔ خلیج فارس کا ایک  
ساحلی شہر۔

**مُسَقَط الراس** - (ع - ا - مذ) پیدا ہونے کی جگہ۔ جاتے پیدائش۔ مولد۔  
وطن۔ زاد تویم۔ جیم جویم۔

**مُسَقَط کا علوا** - (۱۶۔ مذ) ایک قسم کا نہایت چمکدار علوا جو مسقط میں اوشن  
کے دوڑ سے تیار کیا جاتا ہے۔

**مُسَقَط** - (م - س - ق - ط) - (ع - صفت) ڈال گیا۔ پانا گیا۔ چھت دار  
جس پر چھت ڈالی گئی ہو۔

**مُسک** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مشک۔ کستوری۔

**مُسک** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) کپڑے کا ذرا سا بھار۔ زور پڑنے  
کے سبب کپڑے کا ذرا سا نکل جانا۔

**مُسک جانا** - (۱۶۔ محاورہ) - (ع - ا - مذ) کپڑے کا خفیف سا پھٹ جانا۔

**مُسک لینا** - (۱۶۔ محاورہ) - (ع - ا - مذ) کپڑے کا خفیف سا پھٹ لینا۔

**مُسکا** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) وہ چھٹکا جو چوہا یوں کے منہ پر باندھ دیتے  
ہیں کہ وہ کسی چیز پر بند نہ ڈال سکیں۔

**مُسکا مُسکی** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) دانا بھینچنا۔  
**مُسکا نا** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا کہ تانے کے تار الگ  
نہوں (۲)۔ لپٹنے والے کا اپنے بون کھٹکانا۔

**مُسکا نا** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکا و نا** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکا و نا** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَت** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَت** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَر** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَر** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَر** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَر** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَر** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَر** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔

**مُسکَر** - (م - سک) - (ع - ا - مذ) مصل کپڑے کو ایسا چھڑانا جیسے جوڑیاں  
مساکیں۔



**مُتَسَلِّطٌ** - رُشْنٌ سَلَا، (اق) مثل کجاوت۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - رُشْنٌ سَلَا، (ع) ۱۱- مص مرکب ۲، ہتھیار لگا کر لڑنے کو تیار ہونا، مکریتہ ہونا۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - رُشْنٌ سَلَا، (ع) ۱- انداز جاذبوں کے ذریعہ کونے کی جگہ - کیلا۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - رُشْنٌ سَلَا، (ع) ۱- صفت، سلسلہ دار - گنگا ندر - متواتر پہلے در پہلے۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - رُشْنٌ سَلَا، (ع) ۱- صفت (مغلوب) کیا گیا، فتح کیا گیا، ۲- مقرر کیا گیا، خصیاتی کیا گیا (۳) حاکم۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - رُشْنٌ سَلَا، (ع) ۱- صفت (تسلط) کرنے والا، قبضہ کرنے والا غالب - طاقت ور۔  
**مُتَسَلِّطٌ** ہونا - (۱۱- محاورہ) سر پر سوار ہونا (۲- چھایا ہو کر) قابو یافتہ ہونا۔  
**مُتَشَكُّكٌ** - (رُشْنٌ لُكٌ)، (ع) ۱- اندام - راہ - راستہ (۲- طریقہ - قاعدہ - دستور۔  
**مُتَشَكِّمٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (اسلام رکھنے والا) جس کا اسلام پر عقیدہ ہو، مذہب اسلام کا پیرو، مسلمان۔  
**مُتَشَكِّمٌ** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (لہجہ) کامل ثابت - سارا سب ۲- تسلیم کیا گیا، مانا گیا (۳- درست - سچا - محکم - پے شک (۴) ضرور واجب - فرض۔  
**مُتَشَكِّمٌ** القوت - (ع) ۱- صفت (جو قوت کا محتاج نہ ہو، مانا ہوا۔  
**مُتَشَكِّمٌ** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (مومن - مسلم - مومن - دین محمدی کا پیرو وہ جس کا مذہب اسلام ہو۔  
**مُتَشَكِّمٌ** ہونا - (۱۱- محاورہ) اسلام کا لانا - دین محمدی میں داخل ہونا۔  
**مُتَشَكِّمَاتٌ** درگزر و مسلمانانہ در کتاب - (ع) ۱- مثل (مسلمان مرگنے اور اسلام کہتوں میں لکھ کر دیا گیا، کچے مسلمانوں کے نہ ہونے پر بطور انٹوس کہتے ہیں۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (مسلمان عورت۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (مسلمان سے منسوب مسلمان سے نسبت رکھنے والا) (۲- (اردو صفت) اسلام - اسلامیات (۳) غیرت - نسبت دہم مسلمان عورت۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** آبادانی - (۱- داخل مسلمانانہ باعث برکت ہے۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (مسلمان عورت۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (مانی ہوئی باتیں - تسلیم شدہ امور۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (مسلم کی صحیح بہت سے۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (مسلم لوگ۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (مسلم بہت دینا۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (سلب کیا گیا - چین لیا گیا مثالیانہ۔  
**مُتَشَكِّمَانِي** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (جس کے اختیارات چین

لیے گئے ہوں۔  
**مُتَسَلِّطٌ** الخواس - مسلط العقل - (ع) ۱- صفت (جس کے حواس رور ٹھکانے نہ ہوں - ستر بہتر ۲، دیوانہ - یا کل - بیڑی - سودائی۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - (رُشْنٌ لُكٌ)، (ع) ۱- صفت (جاری کیا گیا - سلوک کیا ہوا - احسان کیا گیا) ۲، سلوک کرنے والا۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (سب کی بیماری والا) ۲، کھینچا ہوا۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (وہ جس کی رُشْنٌ لُجٌ، ہوئی، ہو سزا یافتہ۔  
**مُتَسَلِّطٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مختلف - مختلف - مخلوط - کئی طرح کے) مختلف النوع - (Miscellaneous)  
**مُتَشَاةٌ** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (وہ لفظ یا خطاب جو عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے) ۲، نام رکھی گئی۔  
**مُتَشَاةٌ** - رُشْنٌ لُجٌ، (ع) ۱- صفت (کیلی - کیلی - کیلی - ۲، (فت) گرایا ہوا - منہدم۔  
**مُتَشَاةٌ** کرنا - (۱- محاورہ) ڈھانا - منہدم کرنا - ویران کرنا - برباد کرنا۔  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مذموم) ۲، کالہ۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدر - وہ آکر جس کے دونوں سرے ڈاکڑا بنے کان میں اور آخری سر میں صفت سے لگانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدرین (Stethoscope)  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (وہ لفظ یا خطاب جو عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے) ۲، نام رکھی گئی۔  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مذموم) ۲، کالہ۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدر - وہ آکر جس کے دونوں سرے ڈاکڑا بنے کان میں اور آخری سر میں صفت سے لگانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدرین (Stethoscope)  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (وہ لفظ یا خطاب جو عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے) ۲، نام رکھی گئی۔  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مذموم) ۲، کالہ۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدر - وہ آکر جس کے دونوں سرے ڈاکڑا بنے کان میں اور آخری سر میں صفت سے لگانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدرین (Stethoscope)  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (وہ لفظ یا خطاب جو عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے) ۲، نام رکھی گئی۔  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مذموم) ۲، کالہ۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدر - وہ آکر جس کے دونوں سرے ڈاکڑا بنے کان میں اور آخری سر میں صفت سے لگانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدرین (Stethoscope)  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (وہ لفظ یا خطاب جو عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے) ۲، نام رکھی گئی۔  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مذموم) ۲، کالہ۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدر - وہ آکر جس کے دونوں سرے ڈاکڑا بنے کان میں اور آخری سر میں صفت سے لگانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدرین (Stethoscope)  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (وہ لفظ یا خطاب جو عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے) ۲، نام رکھی گئی۔  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مذموم) ۲، کالہ۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدر - وہ آکر جس کے دونوں سرے ڈاکڑا بنے کان میں اور آخری سر میں صفت سے لگانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدرین (Stethoscope)  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (وہ لفظ یا خطاب جو عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے) ۲، نام رکھی گئی۔  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مذموم) ۲، کالہ۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدر - وہ آکر جس کے دونوں سرے ڈاکڑا بنے کان میں اور آخری سر میں صفت سے لگانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدرین (Stethoscope)  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (وہ لفظ یا خطاب جو عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے) ۲، نام رکھی گئی۔  
**مُتَشَاةٌ** - (رُشْنٌ لُجٌ)، (ع) ۱- صفت (مذموم) ۲، کالہ۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدر - وہ آکر جس کے دونوں سرے ڈاکڑا بنے کان میں اور آخری سر میں صفت سے لگانا مرض کی تشخیص کرتے ہیں۔  
**مُتَشَاةٌ** الصدرین (Stethoscope)

مشکلہ (۱۔ من، ۲۔ ن، ۳۔ ع) (۱۔ مذ) سوال (۱۔ پوچھی ہوئی بات (۲۔ اور) (۳۔ دینی بات  
 رو دینی قانون - صحیح - ۱۔ مسائل -

مشکلہ لکھل جاننا (۱۶۔ محاورہ) مشکلہ حل ہو جانا۔ بات صاف ہو جانا۔ معاملہ  
 کی پیچیدگی دور ہو جانا۔

مستول (۱۔ من، ۲۔ اول) (۳۔ صفت) سوال کیا گیا، مانگا گیا، ذمہ دار جواب -  
 مسوکل الیہ (۳۔ صفت) جس سے سوال کیا جائے، جس سے مشکلہ  
 دریافت کیا جائے۔

مستی (۱۔ دم، ۲۔ منی، ۳۔ اسی) (۱۔ صفت) سیاہی، دھشتانی -  
 رستی (۱۔ دم، ۲۔ منی، ۳۔ اسی) (۱۔ صفت) آسانے کا، تلبے کا بنا ہوا۔

مستی جوتی (۱۶۔ تاریخ فعل) آسانے کا کھانا کھا  
 مستی خوش کرانا (۱۶۔ محاورہ) کھانا کھا کر گھانا۔

مستی (۱۔ من، ۲۔ اسی، ۳۔ وہ) (صفت) پینے کا آٹا ملی ہوئی روٹی -  
 رستی (۱۔ صفت) وال دانا، موٹے جھوٹے اناج کی روٹی -

مستی (۱۔ دم، ۲۔ منی، ۳۔ اسی) (۱۔ صفت) ایک قسم کا نمبی سے  
 عورتیں بطور سنگھار استعمال کرتی ہیں۔ (۲۔ عورتوں کی اصطلاحات

میں ایک تقریب شادی اس دن سے کیا گیاں مستی منا شروع کرتی  
 ہیں۔ اس روز بڑا جشن ہوتا ہے اور جو شخص اس رقم کا کفیل ہوتا ہے

وہ بارہ لڑکی کا ازالہ بیکارت کرتا ہے۔  
 مستی اُدھڑنا (۱۶۔ محاورہ) دانوں پر مستی کا نہ رہنا۔

مستی (۱۔ دم، ۲۔ منی، ۳۔ اسی) (۱۔ صفت) عورتوں کا سنگھار -  
 مستی کا جھل کرنا (۱۶۔ محاورہ) دانوں میں مستی منا اور انکھوں میں شہرہ

لگانا۔ عورتوں کا بناؤ سنگھار۔  
 مستی کرنا (۱۶۔ محاورہ) لڑکی کے ازالہ بیکارت کی تقریب کرنا۔

مستی کی دھڑی (۱۶۔ صفت) مستی کی تہ جو عورتیں، بڑوں پر جاتی ہیں۔  
 رستی کی لکیر (۱۶۔ صفت) وہ سیاہ خطہ مستی لگانے سے دانوں کے درمیان

ظاہر ہوتی ہے۔  
 مستی لگانا (۱۶۔ محاورہ) دانوں اور بڑوں پر مستی منا۔

مستی ہونا (۱۶۔ محاورہ) لڑکی کے سر ٹکے جلنے کی تقریب ہونا۔  
 رستی (۱۔ دم، ۲۔ منی، ۳۔ اسی) (۱۔ صفت) انوار علی کی زبان میں مسجد کا

بکرا ہوا تلفظ۔  
 مسیح (۱۔ دم، ۲۔ منی، ۳۔ اسی) (۱۔ صفت) حضرت عیسیٰ کا لقب جو

بطور معجزہ ہر دے کو زندہ کر دیتے تھے۔  
 مسیحا دم (۱۶۔ صفت) مسیحا نفس (۱۶۔ صفت) وہ جس کی پھونک میں مجاز مسیحا

ہو یعنی مردوں کو زندہ کر دے (۲، ۱۶، دکنایت)، مشوق اور حکیم حاذق  
 کے لیے آتا ہے۔  
 مسیحا نفسی (۱۶۔ صفت) جس کی پھونک میں زندہ کر دینے

کا اعجاز ہو۔ مسیحا  
 مسیحا (۱۶۔ دم، ۲۔ منی، ۳۔ اسی) (۱۶۔ صفت) حضرت عیسیٰ کے معجزے  
 کی روایت طاقت۔ حیات بخش۔  
 مسیحا (۱۶۔ صفت) دھانا (کرنا) (۱۶۔ محاورہ) زندہ کرنا۔ حیات بخشنا۔ اعجاز دکھانا۔

مستہ آرا (۱۔ صفت) مستہ کو زینت دینے والا۔ مستہ نشین۔  
 مستہ حکومت (۱۔ صفت) تخت شاہی۔

مستہ کا گدھا (۱۶۔ مذ) یہ وقت امیر۔  
 مستہ لگانا (۱۶۔ محاورہ) مستہ بچھانا۔

مستہ نشین (۱۶۔ صفت) مستہ پر آنے والا۔ بادشاہ۔ والی ملک۔  
 مستہ نشین ہونا (۱۶۔ مص مرکب) مستہ پر بیٹھنا۔ بادشاہ ہونا۔

مستہ نشین (۱۶۔ صفت) تخت نشین۔  
 مستہ (۱۔ من، ۲۔ مذ) (۳۔ صفت) دو سرے کی سند سے بیان کیا گیا (۲، ۱۶) سہارا

دیا گیا (۳، ۱۶) خوبی اصطلاح میں خبر کہتے ہیں۔  
 مستہ الیہ (۱۶۔ صفت) علم میں مبتلا کو کہتے ہیں۔

مستون (۱۔ من، ۲۔ ن، ۳۔ ع) (۱۔ صفت) سنت کی کمی، وہ کام جسے حضرت  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو۔

مستواک (۱۔ من، ۲۔ ناک) (۱۶۔ صفت) دانتوں۔ دانت صاف کرنے کی  
 ریشہ دار کھلی۔

مستواک کرنا (۱۶۔ محاورہ) دانتوں سے دانت صاف کرنا۔  
 مستوانا (۱۶۔ صفت) مستوانا (۱۶۔ مص) چوری کرنا۔

مستودہ (۱۔ دم، ۲۔ سو، ۳۔ وہ) (۱۶۔ مذ) وہ تحریر جو سرسری طور پر لکھی جائے  
 اور جسے صاف و صحیح کرنے کی ضرورت ہو۔ وہ تحریر جو بطور خاک لکھی

گئی ہو، ہر منصوبہ، قضا، طلب، جمع، مسودات۔  
 مستودہ کا ٹھکانا (۱۶۔ صفت) معنون بنا کر (۲، ۱۶) ارادہ یا نہنا۔ منصوبہ تیار کرنا۔

مستور (۱۔ دم، ۲۔ سو، ۳۔ وہ) (۱۶۔ صفت) ایک قسم کا غلہ جو بطور دال کے  
 لکایا جاتا ہے۔

مستور (۱۶۔ صفت) مستور (۱۶۔ دم، ۲۔ سو، ۳۔ وہ) (۱۶۔ صفت) دانوں کے  
 اڈر کا گوشت۔

مستوسا (۱۶۔ دم، ۲۔ سو، ۳۔ وہ) (۱۶۔ مذ) پھتا دار، ندامت۔ پیشانی (۲، ۱۶) نقصان  
 جو چپکے سے برداشت کیا جائے (۳، ۱۶) دباؤ، بوجھ۔ زور دم، جوش

جس کو دیا جائے۔  
 مستوسا سے دے رہنا (۱۶۔ محاورہ) صبر سے برداشت کرنا شکایت

زبان پر دلانا۔  
 مستوسنا (۱۶۔ دم، ۲۔ سو، ۳۔ وہ) (۱۶۔ صفت) بل دینہ مروڑنا۔ پھوڑنا (۲، ۱۶) پھمتانا

انہوں کو، دل میں رنج کرنا، کھانا۔ صدمے کے باعث دل پر ہاتھ  
 رکھنا، جبراً صبر کرنا، مارنا۔

مستول (۱۶۔ صفت) (۱۶۔ صفت) چھپر کھٹ۔ ایک قسم کا پردہ دار  
 چٹک جو عموماً چھپر سے محفوظ ہو کر سونے کے لیے بنایا

جاتا ہے۔  
 مشہل (۱۶۔ صفت) (۱۶۔ صفت) اہمال لائے والا۔ دست آور۔ وہ دو اہل  
 سے دست آئیں (۱۶۔ مذ) جلاب۔  
 مشہل (۱۶۔ صفت) (۱۶۔ صفت) مرکب (۱۶۔ صفت) اور دو اہل لگانا۔  
 مشہل لیتا (۱۶۔ صفت) مرکب (۱۶۔ صفت) لیتا۔ دست آور دو اہل لگانا۔

**مشافہ** - (م-مشافہ) - ہند (ع-۱) ہند (سائنس) - روبرو - مندر - منہ -  
**مشاق** - (م-مشاق) - (ع-۱) - صفت (نہایت مشق رکھنے والا - بہت  
 بہارت رکھنے والا - ماہر -  
**مشاقی** - (م-مشاقی) - (ع-۱) - صفت (بہارت مشق - تجربہ -  
**مشاکل** - (م-مشاکل) - (ع-۱) - صفت (بہم شکل - مانند (۲) عروض کی ایک جڑ -  
**مشاکلت** - (م-مشاکلت) - (ع-۱) - صفت (بہم شکل -  
**مشام** - (م-مشام) - (ع-۱) - صفت (مشم کی جمع - دماغ میں سونگھنے کی  
 قوت کی جگہ -

**مشام جال** - (ع-۱) - صفت (کنایتاً دماغ -

**مشاورت** - (م-مشاورت) - (ع-۱) - صفت (آپس میں مل کر مشورہ  
 کرنا - باہم صلاح کرنا -

**مشاہدہ** - (م-مشاہدہ) - (ع-۱) - صفت (دیکھنا - دید - معاینہ (۲) - صوفیوں کی  
 اصطلاح میں لورالی کا نظارہ - جمع و مشاہدات -

**مشاہدہ کرنا** - (م-مشاہدہ) - (ع-۱) - صفت (دیکھنا - معاینہ کرنا - دیکھ کر تجربہ کرنا - تصویق کی  
 اصطلاح میں لورالی سے مشرق ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (ماہوار - تنخواہ - طلب  
 وظیفہ - جمع - مشاہرات -

**مشاہیر** - (م-مشاہیر) - (ع-۱) - صفت (مشہور کی جمع - نامور لوگ - مشہور لوگ -  
**مشایخ** - (م-مشایخ) - (ع-۱) - صفت (شوخ کی جمع - بزرگ لوگ - اکابر  
 دین - جسے علماء - صوفیاء -

**مشائین** - (م-مشائین) - (ع-۱) - صفت (مشائی کی جمع (۱) - چلتے والے  
 (۲) - وہ حکماء جو ایک دوسرے کے پاس جا کر تحصیل علم کیا کرتے  
 تھے (۳) - ان حکماء کا ایک گروہ جو حقائق اشیاء کو دلائل سے  
 ثابت کرتے تھے -

**مشالیعت** - (م-مشالیعت) - (ع-۱) - صفت (رخصت کرنے کیلئے چند  
 قدم ساتھ جانا (۲) - پروردی - تعظیم -

**مشتبک** - (م-مشتبک) - (ع-۱) - صفت (جالی دار - وہ شے جس میں  
 سوراخ ہوں -

**مشتبہ** - (م-مشتبہ) - (ع-۱) - صفت (تشبیہ دیا گیا - مثال دیا گیا - نظیر دیا گیا - وہ  
 چیز جسے کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے -

**مشتبہ بہ** - (ع-۱) - صفت (وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے -  
**مشت** - (م-مشت) - (ع-۱) - صفت (مکا - گونسہ - لوگ (۲) - مت (مشت) -  
 تھوڑی چیز -

**مشت استخوان** - (م-مشت استخوان) - (ع-۱) - صفت (مٹھی بھر پڑیاں (۲) - کنایتاً (نہایت لاغر  
 بہت ڈبلا پتلا -

**مشت پر** - (م-مشت پر) - (ع-۱) - صفت (تھوڑے سے پر (۲) - کنایتاً (ذرا سی جان -  
 پرندوں کے لیے مستعمل ہے -

**مشت خاک** - (م-مشت خاک) - (ع-۱) - صفت (مٹھی بھر خاک (۲) - نماز (انسان جو  
 خاک سے بنا ہے -

**مشت زن** - (م-مشت زن) - (ع-۱) - صفت (مٹھے سے لڑنے والا - گونسہ باز (۲) - کشتی

(۲) - مرنے کو بچانا - جان بلیب - بیمار کو تندرست کرنا -

**مسیحی** - (م-مسیحی) - (ع-۱) - صفت (حضرت عیسیٰ سے شوب - عیسائی  
 نصرانی -

**مسیر** - (م-مسیر) - (ع-۱) - صفت (سیر کرنے کا مقام (۲) - جانا - چلنا  
 سیر کرنا -

**مسین** - (م-مسین) - (ع-۱) - صفت (مخارجہ) - سبزہ آغا زخا -

**مسینا** - (م-مسینا) - (ع-۱) - صفت (مونا مانا - عربوں کے کھانے  
 کا غلہ -

## م-مش

**مشاہیر** - (م-مشاہیر) - (ع-۱) - صفت (ماہر - مشق - نظیر - بہم شکل - مطالق  
 میساں - جمع - مشاہرات -

**مشاہرت** - (م-مشاہرت) - (ع-۱) - صفت (بہارت (ع-۱) - صفت (مطابقت - موافقت  
 (۲) - شکل - تشبیہ - تشبیہ -

**مشاہرت پالی جانا** - (م-مشاہرت پالی جانا) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 ایک دوسرے سے ہونا -

**مشاہرت** - (م-مشاہرت) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرت - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

**مشاہرہ** - (م-مشاہرہ) - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا  
 (۲) - مشاہرہ - (ع-۱) - صفت (مطابقت ہونا - موافقت ہونا -

لڑنے والے پہلوان (Boxer) ، ۳، جلیق لگاتے والا۔  
**مُشَّت زبَنی** (ن۔ ۱۔ مِش) جلیق لگانا، مٹھ مارنا۔  
**مُشَّت عِبَار** — (ن۔ ۱۔ مِش) مٹھی پھیر دھول (۲) مُردہ  
 انسان کی خاک جو بدن کے گل سر جھانے کے بعد ذرا سی رہ جاتی  
 ہے۔ مرد انسان۔

**مُشَّت مال**۔ **مُشَّت مال** (ن۔ ۱۔ مِش) ماش جو پہلوان  
 بدن کو سخت بنانے کے لیے کراتے ہیں۔ ماش جو عمام میں بناتے  
 داسے کراتے ہیں۔

**مُشَّتاق**۔ (مُش۔ تاق) (ع۔ صغ) آرزو مند۔ شائق خواہاں۔ طالبِ خواہند  
 (۲) منتظر۔ انتظار کرنے والا۔ جمع۔ مُشَّتاقان۔

**مُشَّتِی تَابِع**۔ (مُش۔ تابِع) (ن۔ صغ) مُشَّتاق کے مانند۔ آرزو مند۔  
**مُشَّتِیْب**۔ (مُش۔ ت۔ ب) (ع۔ صغ) مشکوک۔ جس میں شبہ ہو۔ شبہ والا۔  
**مُشَّتِیْت**۔ (ع۔ صغ) پرانگندہ۔ پریشان۔ متزلزل۔  
**مُشَّتَرک**۔ (مُش۔ ت۔ ر) (ع۔ صغ) شریک کیا گیا۔ شرکت کیا۔ ہم۔ وہ  
 لفظ جس کے کئی معنی ہوں۔

**مُشَّتَرک**۔ (مُش۔ ت۔ ر) (ع۔ صغ) شریک۔ شرکت کرنے والا۔  
**مُشَّتَرک**۔ (مُش۔ ت۔ ر) (ع۔ صغ) شریک کیا گیا۔ شرکت کا۔ ساچھے کا۔  
**مُشَّتَرِی**۔ (مُش۔ ت۔ ر) (ع۔ ۱۔ مِش) خریدار۔ مول لینے والا (۲)۔  
 ایک ستارہ کا نام جو چھٹے آسمان پر ہے اور سعدا کبر بھی جاتا ہے  
 (۳) کیا گردوں کی اصطلاح میں رانگ کی قلعی (۳) لکھنوی ایک مشہور  
 شاعر طوائف کا مخمض۔

**مُشَّتَرِی بِع**۔ **مُشَّتَرِی بَع**۔ (ع۔ صغ) شرط پر چیز خریدنے والا۔  
**مُشَّتَرِی**۔ **مُشَّتَرِی**۔ (مُش۔ ت۔ ر) (ع۔ صغ) شرط پر غلظت لولتے ہیں۔ جب  
 خریدار سودا کو بھال کر نہ لینے کے باعث نقصان اٹھائے۔  
**مُشَّتِیْل**۔ (مُش۔ ت۔ ی) (ع۔ صغ) بھولتا ہوا۔ شغلے مارنے والا۔  
**مُشَّتِیْل**۔ (مُش۔ ت۔ ی) (ع۔ صغ) مشغول ہونے والا۔ مصروف۔  
**مُشَّتِیْق**۔ (مُش۔ ت۔ ی) (ع۔ صغ) نکلا ہوا۔ وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے بنا یا

گیا۔ بحدہ صیغہ جو مصدر سے بنا ہو۔  
**مُشَّتِیْل**۔ (مُش۔ ت۔ ی) (ع۔ صغ) شامل ہونے والا۔ شامل۔ شریک۔  
**مُشَّتِیْر**۔ (مُش۔ ت۔ ی) (ع۔ صغ) شہرت دیا گیا۔ مشہور کیا گیا۔  
**مُشَّتِیْر کَرَنَا**۔ (۱۔ محاورہ) مشہور کرنا۔ اشتهار دینا۔ منادی کرنا۔  
**مُشَّتِیْر**۔ (مُش۔ ت۔ ی) (ع۔ صغ) شہرت دینے والا۔ اشتهار دینے  
 والا۔ مشہور کرنے والا۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ ت۔ ی) (ع۔ صغ) خواہش کرنا۔ آرزو کرنے والا (۱)۔  
 اشتهار پیدا کرنے والا۔ بھوک لگانے والا۔  
**مُشَّتے** کہ بعد از جنگ یاد آید بر کلہ ز خود باید زد۔ (ن۔ مِش) (۱) لڑائی کے  
 بعد اگر لگتا مارنا یاد آئے تو اپنے ہی منہ پر مارنا چاہئے۔ موقع کے  
 بعد کوئی بات یاد آنے سے سوائے بچوتائے کے کو حاصل نہیں۔  
**مُشَّتے** نمونہ (۱) خروار سے۔ (ن۔ مِش) (۱) دھیر میں سے مٹی پھر خروار سے  
 نمونے کے کل چہر کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔

**مُشَّت**۔ (۱۔ مِش) چپ۔ خاموشی۔  
**مُشَّت مارنا**۔ (۱۔ محاورہ) چپ رہنا۔ خاموش رہنا۔ سنی ان کی  
 کر دینا۔

**مُشَّت مارے جانا**۔ (۱۔ محاورہ) چپ چاپ چلے جانا۔  
**مُشَّت**۔ (س۔ صغ) شیریں۔ میٹھا۔

**مُشَّتَان**۔ (مُش۔ تان) (س۔ ۱۔ مِش) مٹھائی۔ لذیذ کھانا۔

**مُشَّتِیْن**۔ (مُش۔ تین) (ڈا) (ع۔ صغ) مٹھا تازہ۔ بٹا لگا۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَّتِی**۔ (مُش۔ تین) (ڈی) (ع۔ صغ) مٹھی تازی عورت سنی کٹی۔

**مُشَرِّک** - (مُش - ریک) (ع - صف) شرک کرنے والا۔ وہ شخص جو خدا کیساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ بُت پرست (جمع) مشرکین۔

**مُشَرَّب** - (ع - صف) پیا ہوا (۲) پینے کا چیز۔

**مُشَرَّوْج** - (ع - صف) کھول کر بیان کیا گیا۔

**مُشَرَّوْصاً** - (ع - تالیف) تشریح کے ساتھ - تفصیل کے ساتھ۔

**مُشَرَّوْط** - (ع - ص - شرط) کسی شرط پر موقوف۔

**مُشَرَّوْغ** - (مُش - روع) (ع - صف) شرع کے موافق - جائز کیا گیا۔

(۲) ایک قسم کا پزل جو ریشم اور روئی کے سوت کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔

**مُشَحَّر** - (مُش - عر) (ع - صف) خبر دینے والا - اطلاع دینے والا۔ جملانے والا۔ ظاہر کرنے والا۔

**مُشَعَّر** - (ع - ۱ - مذم) قربانی کی جگہ۔

**مُشَعَّرِ الحرام** - (مُش - ع - یول - ع - نام) (ع - ۱ - مذم) مکہ معظمہ میں وہ جگہوں پر آیا حج میں قربانی کرتے ہوئے مٹاتے اور مہادت کرتے ہیں۔

**مُشَعَّل** - (مُش - عل) (ع - ۱ - معش) - روشنی کی جگہ جہاں عدنان (۲) بہت موٹی بجتی تھیں۔

**مُشَعَّل برادر** - (ع - ۱ - ف - صف) مُشَعَّل اٹھانے والا۔ مُشَعَّل روشن کرنے والا۔

**مُشَعَّل جِلاناً** - (ع - ۱ - محاورہ) مُشَعَّل روشن کرنا۔

**مُشَعَّل دُخَاناً** - (ع - ۱ - محاورہ) رہ نمائی کرنا۔

**مُشَعَّل مَبی بُودِ مَاعٍ مِیں سَمَائِی سے** - (ع - ۱ - مثل) غوی میں نمکنت رکنا ہے۔ رسی جلی نمی بل نہیں گیا۔

**مُشَعَّل کے بچے سے لکلا ہوا ہے** - (ع - ۱ - مثل) زنانوں کے ساتھ ناچا ہوا ہے۔

**مُشَعَّل لے کر ڈھونڈنا** - (ع - ۱ - محاورہ) بہت تلاش کرنا۔ از حد جستجو کرنا۔

**مُشَعَّلِی** - (مُش - عل - جی) (ع - ۱ - مذم) مُشَعَّل اٹھانے والا۔ مُشَعَّل دکھانے والا۔

**مُشَعَّلِی آب ہی اندھا ہے** - (ع - ۱ - مثل) راہ نما آپ ہی ہے راہ ہے

**مُشَعَّلِی کو اپنے سامنے مُشَعَّل کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا۔**

**مُشَعَّلہ** - (ع - ۱ - مذم) جہاں عدنان - جمع دان۔

**مُشَعَّلہ** - (مُش - ع - یول) (ع - ۱ - مذم) مُشَعَّل کام - تفریح (۲) کھیل - تماشا۔

(۲) ہنسی - مٹول۔

**مُشَعَّلہ ہاتھ آنا** - (ع - ۱ - محاورہ) دل بہلانے کی بات بل جانا ہنسی اڑانے کا موقع ملنا۔

**مُشَعَّلِی** - (مُش - غول) (ع - ۱ - صف) مُشَعَّل میں لگا ہوا۔ مصروف۔

**مُشَعَّلِی** - (مُش - غول) (ع - ۱ - صف) مُشَعَّل۔

**مُشَعَّلِی** - (مُش - غول) (ع - ۱ - صف) مُشَعَّل۔

**مُشَقِّق** - (مُش - ق - ق) (ع - ۱ - مذم) مُشَقِّق کرتے والا۔ مہربان بینی

(جمع) - مُشَقِّقَات۔

**مُشَقِّق من** - میرے مہربان۔ مہربان ہمدہ۔ یہ فقرہ دوستوں کے خطوں

میں بطور القاب لکھا جاتا ہے۔

**مُشَقِّقاً** - (مُش - ق - ق) (ع - ۱ - صف) ہمدردانہ۔ دوستانہ۔

**مُشَقِّق** - (مُش - ق - ق) (ع - ۱ - صف) میرے دوست۔ میرے مہربان۔

**مُشَقِّق** - (ع - ۱ - مذم) مہارت۔ مہارت (۲) بار بار لکھنا یا کوئی کام کرنا (۲)۔

یعنی یا اصل جس کی مُشَقِّق کی ہو۔

**مُشَقِّق بڑھانا** - (ع - ۱ - محاورہ) کسی کام کو زیادہ کرنے کی عادت ڈالتے رہنا۔

**مُشَقِّق رِسْنَا** - (ع - ۱ - محاورہ) کسی بات کی عادت جاری رہنا۔

**مُشَقِّق سَمْعِن** - (ع - ۱ - مذم) شعر و سخن کی مہارت۔ شعر کہنا۔

**مُشَقِّق کَرْنَا** - (ع - ۱ - معص مرکب) مہارت پیدا کرنا (۲) بار بار لکھنا (۲)۔

گناہ کوئی کام کیے جانا۔

**مُشَقِّقَاب** - (ع - ۱ - مذم) رکابی۔

**مُشَقِّقَات** - (مُش - ق - ق) (ع - ۱ - مذم) محنت۔ ریاضت (۲) کام کا جھج مزوری (۲)۔

**مُشَقِّقَات اُٹھانا** - (ع - ۱ - محاورہ) محنت کرنا۔ دکھ جھیلنا۔ تکلیف برداشت کرنا۔

**مُشَقِّقَات اُٹھانا** - (ع - ۱ - محاورہ) تکلیف برداشت ہونا۔

**مُشَقِّق** - (مُش - ق - ق) (ع - ۱ - صف) مُشَقِّق کیا ہوا۔ منجھا ہوا (۲)۔ (ع - ۱ - مذم) حق کرنے کی وصلی (۲)۔ کھینے کا موٹا کاغذ۔

**مُشَک** - (ع - ۱ - مذم) پانی بھرنے کی کھال۔ وہ سلی ہوئی کھال جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔

**مُشَک اُٹھانا** - (ع - ۱ - محاورہ) سنے کا کام کرنا۔

**مُشَک ہے دریاؤ کی** - بچوں کا ایک کھیل ہے کہ جو ٹپے ٹپے مشکی طرح ایک ٹپے کو گھمرا کر لاد کر یہ فقرہ کہتے ہیں اور جب کوئی بچی پانی مانگا ہے تو کہتے ہیں۔ ایک بناؤ جیب وہ ایک بناؤ ہے تو خشک بناؤ پھاس کا ایک میں ٹھوک تیرا ہے۔

**مُشَکِی چھوٹنا** - (ع - ۱ - محاورہ) بہت دست آنا۔

**مُشَک** - (ع - ۱ - مذم) وہ خوشبودار سیاہ رنگ کا مادہ جو نیپال - تبت۔ تانار، خطا اور چین میں ایک قسم کے ہرن کی ناف سے نکلتا ہے۔ کستوری (۲)۔ شعراہ زلف۔ مُشَقِّق کی سپاہی کو مُشَک سے تشبیر دیتے ہیں (۲)۔ کالا سیاہ۔

**مُشَکِی اَلَسْت** کہ خود بخود پورنہ کہ عطار بگوید۔ (ع - ۱ - مثل) مُشَکِی وہ ہے جو خود خوشبودار سے ذکر عطار تیاے۔ اچھی چیز خود ہی اپنی خوبی ظاہر کر دیتی ہے۔ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

**مُشَکِی** - (ع - ۱ - صف) نہایت معطر۔

**مُشَکِی بَلَاؤ** - (ع - ۱ - مذم) ایک قسم کا جنگلی پتہ جس سے خوشبو آتی ہے۔

**مُشَکِی** - (ع - ۱ - صف) خوشبودار۔ معطر۔ معنیز۔ مُشَکِی میں لیا ہوا۔

**مُشَکِی بید** - (ع - ۱ - مذم) ایک قسم کا بید۔ جس کا سچول خوشبودار ہوتا ہے۔

**مُشَکِی قاصم** - (ع - ۱ - صف) جس کا رنگ مثل مُشَک کے ہو۔

کالا سیاہ۔

**مشک نافر**۔ (ف ۱۰۔ مذ ۲) ہرن کے بیٹ کی وہ تحصیل جس میں مشک ہوتا ہے۔

**مشکل**۔ (م ۲۔ نکت ۱) نکل (ع ۶۔ صفت) نکل دیا گیا۔ محترم۔

**مشکل**۔ (مش ۱۔ کل ۲) (ع ۶۔ صفت) دشوار۔ دشمن۔ سخت۔ (۲) پیچیدہ۔ الجھا ہوا۔

(۳) (۱۱۔ مٹ) دشواری۔ سختی۔ مصیبت۔ دقت۔ (جمع) مشکلات۔

**مشکل اُڑنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) مصیبت اُڑنا۔ یکایک کوئی دشواری پیش آجانا۔

**مشکل آسان ہونا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) دشواری دُور ہونا۔ سختی رفع ہونا۔ مصیبت سے نجات پانا۔ اڑی نکلنا۔ عذاب سے چھوٹنا۔ (۲) جان کنی سے نجات پانا۔ جان نکلنا۔ دم اُکھڑنا۔

**مشکل آنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) دشواری پیش آنا۔ مصیبت آنا۔

**مشکل بنا اُڑنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) مصیبت پڑنا۔ دقت پیش آنا۔

**مشکل لسنہ**۔ (ع ۶۔ صفت) دشواری پسند کرنے والا۔ وہ جو نظم و نثر میں مشکل اور آدنی الفاظ استعمال کرے۔

**مشکل راستہ**۔ (ع ۶۔ ف ۱۰۔ مذ ۲) دشمن راہ۔ وہ راستہ جس پر سفر کرنے میں تکلیف ہو۔

**مشکل سے**۔ (۱۱۔ تابع فعل) دقت سے۔ جوں توں کر کے۔

**مشکل سے مشکل**۔ (۱۱۔ صفت) بہت مشکل۔ کمال پیچیدہ۔

**مشکل سے نکلنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) مصیبت سے چھٹکارا پانا۔

**مشکل کٹ جانا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) مصیبت دُور ہوجانا۔

**مشکل کر دینا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) دشوار کر دینا۔

**مشکل کشا**۔ (ف ۱۰۔ صفت) مشکل حل کرنے والا۔ مصیبت دُور کرنے والا۔

**مشکل آسان کر دینے والا**۔ (۲) لقب حضرت علیؑ کا۔

**مشکل کشا کا کھڑا دونا**۔ (۱۷۔ مذ ۲) حضرت علیؑ کی نیاز جو مشکل دُور ہوئی کے اہر دی جاتی ہے۔

**مشکل کستانی**۔ (ف ۱۰۔ مٹ) مشکل آسان کرنا۔

**مشکل کشائی کرنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) کسی کا کام بنانا۔ آفت سے نجات دلانا۔

**مشکل کی بات**۔ (۱۱۔ مٹ) دقت طلب بات۔ پیچیدہ معاملہ۔

**مشکل میں پڑنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) آفت میں پھنسا۔ بجائیں گرفتار ہونا۔ مصیبت میں مبتلا ہونا۔

**مشکل میں کام آنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) مصیبت میں مدد دینا۔

**مشکل ہونا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) دُور بھر ہونا۔ دشوار ہونا۔

**مشکلوں سے**۔ (۱۱۔ تابع فعل) دقت سے۔ دشواری سے۔

**مشکلے نیست کہ آسان نہ شود**۔ مراد یہ کہ ہر اسال نہ شود۔ (ف ۱۰۔ مٹ) کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے۔ آدمی کو نانا امید نہ ہونا چاہیے۔ اس شعر کو مصیبت میں تسکین دینے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ مٹ) چراغ دان۔ نازس (۲) حدیث

کی مشہور کتاب۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) پسندیدہ (۲) شکر کیا ہوا۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ف ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) شکر گراسی۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) شکر کیا گیا۔ گمان کیا گیا۔ مشتبہ۔

**مشکوٰۃ بنا دینا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) اس طرح کام کرنا کہ اس کے دوست پر ہرے ہوئے نہ پڑ جائے۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) بہت خاندان (۲) عمل۔ جوہلی۔ گراسی

**مشکوٰۃ بالاجازہ**۔ (۲) غیر ملکی خسرو کا خلوت خانہ۔

**مشکوٰۃ زریں**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) بادشاہی حرم سرا۔ عمل

**مشکوٰۃ خانہ شاہی**۔ امر آرزو سا کا دولت خانہ۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) مشک کے رنگ کا۔ سیاہ (۲) سیاہ رنگ کا گھوڑا۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) چھوٹی مشک۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) دو دونوں بازو۔ دونوں شانے۔

**مشکوٰۃ باندھنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) شانوں کو پشت کی طرف ملا کر جوڑنا۔

**مشکوٰۃ کسنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) مشکیں باندھنا۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) مشک کے مانند۔ سیاہ۔ کالا۔ (۲) مشک کسی خوشبو کا مشک آلودہ۔

**مشکوٰۃ بزم**۔ (ف ۱۰۔ مذ ۲) سیاہ بادل۔

**مشکوٰۃ محمد**۔ (ف ۱۰۔ صفت) وہ میں کے بال سیاہ اور دراز ہوں

(انگنا، عشق)۔

**مشکوٰۃ**۔ (ع ۶۔ صفت) جس کے ہاتھ پیرے جس ہو گئے ہوں۔ ابا ہج۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) شامل کیا گیا۔ شکر کیا گیا۔ ملایا گیا۔

**مشکوٰۃ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) شامل۔ شریک۔ ملایا ہوا۔

ملحق۔ پیوستہ۔

**مشن**۔ (Mission) (م ۲۔ مٹ) (انگ۔ مذ ۲) رسالت۔ پیغمبری

(۲) ادریلوں کے رہنے کی جگہ (۳) سفارت۔ وفد۔ کیشن (۴) سفارت۔ مقصد تبلیغ۔

**مشن اسکول**۔ (Mission School) وہ اسکول جو کوئی مشن

چلائے (۲) عیسائیوں کا اسکول۔ وہ مدرسہ جہاں عیسائیت کی

تعلیم دی جاتی ہے۔

**مشنری**۔ (Missionary) (میش ۱۰۔ مٹ) (انگ۔ صفت) تبلیغی ادارے

(۲) تبلیغی جماعت کا کارکن۔

**مشورہ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) مشورہ۔ باہمی تجویز

(۲) سازش۔

**مشورہ کرنا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) صلاح کرنا۔ تجویز کرنا۔ سازش کرنا۔

**مشورہ لینا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) صلاح لینا۔ رائے لینا۔ تدبیر لوجھنا (۲) نظم و نثر میں اصلاح لینا۔

**مشورہ**۔ (میش ۱۰۔ مٹ) (ع ۶۔ صفت) صلاح۔ باہمی تجویز۔

**مشورہ دینا**۔ (۱۷۔ مجاہدہ) صلاح دینا۔



**مصدق** - رُم - صد - ذوق (ع - صفت) تصدیق کیا گیا۔ آزمائش کیا گیا۔ تجربہ کیا گیا۔  
**مصدق** - رُم - صد - ذوق (ع - صفت) تصدیق کرنے والا۔ سچائی کی گواہی دینے والا۔ ثابت کرنے والا۔ بیچ و مُصدقین۔  
**مصدقہ** - رُم - صد - ذوق (ع - صفت) تصدیق کیا ہوا۔ جس کی تصدیق ہوگی ہو۔ جیسے مصدقہ عدالت۔ بیچ و مصدقات۔  
**مصدق** - رُم - صد - ذوق (ع - صفت) تکلیف دینے والا۔ دردِ سر پیدا کرنے والا۔  
**مصدور** - مصدر - دورہ - (مض - دور - مض - دو - رہ) (ع - صفت) صادر کیا گیا۔  
**مصر** - (ع - ۱۔ اند) شہر - بلدہ - نگر (۲، ۱۰) خلیفہ کے شمال مشرق میں ایک ملک جو حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کی وجہ سے مشہور ہے۔  
**مصر** کا بازار - (۱ - اند) وہ بازار جہاں حضرت یوسفؑ کو قافلے والوں سے فروخت کیا تھا۔  
**مصر** - رُم - مصر (ع - صفت) امر کرنے والا۔ کسی چیز پر اثر جانے والا۔  
**مصرح** - رُم - مصر (ع - صفت) تصریح کیا گیا۔ تفصیل کیا گیا۔  
**مصرح** - رُم - مصر (ع - صفت) صراحت کرنے والا۔ تفصیل کرنے والا۔  
**مصرع** - مصرعہ - (مض - مصر - ع) (ع - ۱۔ اند) ایک کوڑا۔ ایک پٹ (۲) آدھا شعر۔ نصف بیت۔  
**مصرع** بر جستہ - (ع - ۱۔ اند) وہ مصرع جو بے ساختہ موزوں ہو جائے۔  
**مصرع** پیچیدہ - (ع - ۱۔ اند) وہ مصرع جس کا مضمون مشکل اور دقیق ہو۔  
**مصرع** تر - (ع - ۱۔ اند) شگفتہ اور عمدہ مصرع۔  
**مصرع** دو لخت، ہونا - (۱ - محاورہ) شعر کے دونوں مصرعوں میں ربط نہ ہونا۔  
**مصرع** طرح - (ع - ۱۔ اند) وہ مصرع جو بحر اور ردیف و قافیہ بتانے کے لیے بے طور نمود کے دیا جائے۔  
**مصرع** طرح کرنا - (۱ - محاورہ) طرح کے لیے مصرع تجویز کرنا۔  
**مصرع** قد - (ع - ۱۔ اند) قد کا استعارہ مصرعے کہتے ہیں۔  
**مصرع** لڑنا - (۱ - محاورہ) ایک شاعر کے مصرعے سے دوسرے شاعر کا مصرع مطالبی ہونا۔  
**مصرع** لگانا - (۱ - محاورہ) ایک مصرع پر دوسرا مصرع لگا کر شعر پورا کرنا۔  
**مصرف** - (مض - ذوق) (ع - ۱۔ اند) خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنے کا موقع۔  
**مصرف** - (مض - ذوق) (ع - ۱۔ اند) خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنے کا موقع۔  
**مصرف** - (مض - ذوق) (ع - ۱۔ اند) خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنے کا موقع۔  
**مصرف** - (مض - ذوق) (ع - ۱۔ اند) خرچ کرنے کی جگہ خرچ کرنے کا موقع۔

میں ملنا پڑنا۔  
**مصالحہ** - (ع - ۱۔ اند) دیکھنے مسالا۔  
**مصائب** - رُم - صا - اب (ع - ۱۔ اند) مصیبت کی جمع۔ تکلیفیں۔ مصیبتیں۔ آفتیں۔ بلائیں۔  
**مصباح** - (مض - باح) (ع - ۱۔ اند) چراغ۔ دیار (۲) صبح کے وقت شرباً پینے کا پیالہ۔ جام صوفی ریح (مض - باح)۔  
**مضطر** - (ع - ۱۔ اند) ایسا۔ مشہور لڑوی دوا۔  
**مضج** - رُم - صج - (ع - ۱۔ اند) صحت کرنے والا۔ صبح کرنے والا۔ جمع - مصمتین۔  
**مصحف** - (مض - صفت) وہ کتاب جس میں رسالے اور صحیفے جمع ہوں۔ قرآن مجید (بخارا) خزائن مشرق۔  
**مصحف** اٹھان - (۱ - محاورہ) کلام مجید کی قسم کھانا۔  
**مصحف** بغلی - (۱ - اند) چھوٹی تطبیح کا کلام مجید۔  
**مصحف** مجید (مقدس - ناطق) - (ع - ۱۔ اند) قرآن شریف کلام اللہ۔  
**مصحفی** - (مض - ح - نی) (ع - ۱۔ اند) صفت (مصحف سے نسبت رکھنے والا) (۲) اردو کے مشہور شاعر غلام محمدانی ساکن امرتسر کا تخلص جو شہر و ع میں دلی چلے گئے تھے اور انہیں لکھنؤ جا کر ۱۲۲۱ھ میں وفات پائی۔  
**مصحوب** - (مض - ح - وب) (ع - ۱۔ اند) ساتھ کیا گیا۔ ہمراہ۔ ساتھ۔  
**مصدق** - (مض - دان) (ع - ۱۔ اند) وہ چیز جو کسی کی صفائی ثابت کرے۔ اگر مصدق ثبوتِ صداقت ہے، وہ شے جس پر کوئی متنی لوے جاسکیں۔ جیسے جن سیرت اس کہتے ہیں اور اس کا مصدق آپ ہیں (۲) تصدیق کرنے والا۔ گواہ (۳) گواہی قبولت بات کی سچائی کا بخارا ثبوت۔  
**مصدق** - (مض - ذوق) (ع - ۱۔ اند) صادر ہونے کی جگہ۔ نکلنے کی جگہ۔ سرچشمہ۔ جز۔ بنیاد (۲) بھرا۔ بھرا آنے کی جگہ (۳) اسباب باعث (۴) کوئی وہ کلمہ جس سے فعل اور صیغہ خستق ہوں۔ اردو میں مصدر کے آخرین نا ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جیسے آنا لانا وغیرہ۔  
**مصدر** اصلی (وضعی) - (ع - ۱۔ اند) وہ مصدر جسے اہل زبان نے مصدر ہی کے لیے وضع کیا، جو جیسے ہونا۔ کہنا جانا وغیرہ۔  
**مصدر** غیر وضعی - وہ مصدر جن میں دوسری زبانوں کے الفاظ وطلاعت مصدری بڑھا کر مصدر بنا لیا گیا، جو جیسے دعا کرنا۔ خوش ہونا۔ آزمانا۔ ہٹ کرنا۔  
**مصدر** لازم - وہ مصدر جو صرف فاعل کو چاہے جیسے دوڑنا۔ سونا۔  
**مصدر** متعدی - وہ مصدر جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے۔ جیسے کھانا۔ لکھنا۔  
**مصدر** رمی - (مض - ذوق) (ع - ۱۔ اند) صفت (مصدر سے منسوب) اصل یا بنیاد کے متعلق۔



**مصطلحات خواہ** - (ع-ف-ص) خیر خواہ - جملائی چاہنے والا -

ہی خواہ -

**مصطلحات دید** - (ع-ف-ص) ، (د) جملائی بہتری دیکھنا ، نیک بات سونچنا -

**مصطلحات دیکھنا** - (۱) محاورہ خوبی دیکھنا - جملائی دیکھنا -

**مصطلحات کار** - (ع-ف-ص) نیک کام کرنے والا ، جو معاملات میں ماہر ہو -

**مصطلحات ملکی** - (ع-۱-ص) معاملات سلطنت کے مطابق تدبیر - رموز سلطنت - راجہ نیتی -

**مصطلحات وقت** - (ع-۱-ص) وقت کے مناسب -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) تاریخ فعل جملائی کی بنیاد پر -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) صلیب پر چڑھایا گیا سولی دیا گیا -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی (۱) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصطلحات** - (ع-۱-ص) نماز پڑھنے والا غازی -

**مصروع** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) وہ جسے مرگی کی بیماری ہو -

**مصروف** - (مصن-ر-ع) (ع-۱-ص) صرف کیا گیا - پھرا گیا ، مشغول کام میں لگا ہوا -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

**مصربی** - (مص-ر-ع) (ع-۱-ص) مصر سے منسوب -

مصیبت بن جانا - ۱۶- محاورہ ۲ جان کا عذاب، مو جانا، ڈوبھیر ہو جانا۔  
 مصیبت بھرننا (بجھکنا) - (۱- محاورہ) تکلیف اٹھانا، ڈکھ جھیلنا۔  
 مصیبت بڑھانا - (۱۶- محاورہ) آفت آنا، پتیا بڑھنا۔  
 مصیبت پینا - (۱۶- محاورہ) ڈکھ سہوگا، تکلیف اٹھانا۔  
 مصیبت چھیلنا - (۱۶- محاورہ) سختی برداشت کرنا، ڈکھ سہنا۔  
 مصیبت دیکھنا - (۱۶- محاورہ) مصیبت پیش آنا، تکلیف سہنا۔  
 مصیبت زدہ - (ع۔ ف۔ صفت) مصیبت کا مارا ہوا۔ بد قسمت۔ تباہ خستہ حال۔ خراب خستہ۔

مصیبت سے جان چھوٹنا - (۱۶- محاورہ) تکلیف سے نجات پانا۔  
 مصیبت کا ہاتھ - (۱۶- مذم) بڑی مصیبت۔  
 مصیبت کاٹنا - (۱۶- محاورہ) مصیبت برداشت کرنا۔  
 مصیبت کٹ جانا - (۱۶- محاورہ) ڈکھ کا زمانہ بسر ہو جانا۔  
 مصیبت کردہ - (ع۔ ف۔ ۱- مذم) مصیبت کا گھر۔ تکلیف کا مقام۔  
 مصیبت کے دن ٹالنا - (۱۶- محاورہ) ڈکھ کی مدت بسر کرنا۔  
 مصیبت کے دن کاٹنا - (۱۶- محاورہ) تکلیف کا زمانہ بسر کرنا۔  
 مصیبت مارا - (۱۶- صفت) آفت زدہ۔  
 مصیبت ٹھول لینا - (۱۶- محاورہ) خواہ خواہ کوئی بھگڑا اپنے ذمے سے لینا۔

مصیبت میں بڑھنا - (۱۶- محاورہ) آفت یا جھگڑے میں مبتلا ہونا۔  
 مصیبت تارک - (ع۔ ف۔ صفت) مصیبت میں مبتلا کرنے والا۔  
 مصیبت ناکھانی - وہ صدر یا حادثہ جو اچانک پیش آجائے  
 مصیقتن - (ع۔ ف۔ صفت) روشن کیا گیا۔ رنگ وغیرہ سے صاف کیا گیا۔

جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگا جائے جیسے اجد کی کتاب کیل میں کتاب مضاف اور اجد مضاف (ایسے اسم) اضافہ کیا گیا۔ زیادہ کیا گیا۔  
 مضاف الیہ - (ع۔ ۱- مذم) وہ اسم جس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم منسوب کیا جائے۔  
 مضافات - رقم۔ ضادات، (ع۔ ۱- مٹ) مضاف کی جمع متعلقہات منوبات - ضمیر - تہمت - ۲، قرب و جوار - ارد گرد - اطراف و جوانب مفصلات - شہر کے آس پاس کے قصبے اور گاؤں۔  
 مضافات تہر - (ع۔ ۱- مذم) شہر کے آس پاس کی آبادی گاؤں یا قصبے۔

مضامین - (م۔ ض۔ مین) (ع۔ ۱- مذم) مضمون کی جمع۔ مطالب - معانی۔  
 مضائقہ - (م۔ ض۔ نی۔ تہ) (ع۔ ۱- مذم) مٹکی - دشواری - ایک دوسرے کو تنگ کرنا، حرج - قہاحت ۳، ڈر خوف - پروا۔  
 مضبوط - (مض۔ ب۔ ط) (ع۔ صفت) مضبوط کیا گیا۔ قہقہہ کیا گیا، پکا پاتدار - ویرانہ - استوار ۳، تہ زور - قوی - طاقت والا ۳، توانا تندرست - بخشنا۔

مضبوط رہنا - (۱۶- محاورہ) مستقل رہنا، ہمار رہنا، ثابت قدم رہنا۔  
 مضبوطی - (مض۔ ب۔ ط) (ع۔ ۱- مذم) استیصال - پایاداری طاقت - بہمت - جرأت ۳، اطمینان - دل جمعی - سلی۔  
 مضحک - (ع۔ ۱- مذم) ہنسی کا مقام - وہ چیز جس پر لوگ ہنسیں۔  
 مضحک - (مض۔ ح۔ ک) (ع۔ صفت) ہنسانے والا۔  
 مضحکات - (ع۔ ۱- مذم) ہنسانے والی باتیں - لطیفے۔  
 مضحکہ - (مض۔ ح۔ ک) (ع۔ ۱- مذم) ہنسی، ٹھٹھا، مسخر - مذاق ۲، مسخرہ ۳، وہ شخص جس کا مذاق اڑائیں۔

مضحکہ اڑانا، کرنا - (۱۶- محاورہ) ہنسانا - ٹھٹھا کرنا - ذلیل کرنا۔  
 مسخرہ بنانا۔

مضحکہ خیز - (ع۔ ف۔ صفت) ہنسی مذاق میں ڈالنے والی بات۔  
 مضمر - (م۔ مز۔ ۱- مذم) چھپ چھپانے والا - نقصان رسال - جمع - معزات - اردو میں بغیر تشدید یا مستعمل ہے۔  
 مضمر ہونا - (۱۶- محاورہ) نقصان رسال ہونا۔

مضمر اب - (مض۔ اب) (ع۔ ۱- مذم) سناڑ بجاتے کا جھٹلا۔  
 مضمرات - (م۔ مز۔ رات) (ع۔ ۱- مذم) چھپ چھپانے والا - نقصان پہنچانے والی چیزیں۔  
 مضمرت - (م۔ مز۔ رت) (ع۔ ۱- مذم) چھپ چھپانے والا - نقصان پہنچانے والا چیزیں۔

مضمرت رسال - (ع۔ ۱- مذم) نقصان پہنچانے والا چیزیں۔  
 مضمرت رسائی - (ع۔ ۱- مذم) نقصان پہنچانا - تکلیف دہی - ایذا رسانی۔

مضروب - (مض۔ ب۔ ط) (ع۔ صفت) ضرب کھایا، ہوا - چوٹ لگا ہوا۔ وہ شخص جسے چوٹ آئی، ہورد، اصطلاح حساب میں وہ عدد جس کو ضرب دیا جائے۔

## م۔ جن

مضار - (م۔ ضار) (ع۔ ۱- مذم) مفرت کی جمع - نقصانات۔  
 مضاربت - (ع۔ ۱- مذم) تفع میں شریک بنا کر کسی کو تجارت کے لیے مال دینا، تلوار مارنا - لڑائی - جھگ۔

مضارع - (م۔ ضار) (ع۔ ۱- مذم) مشابہ - مانند ۱۲، اصطلاح قواعد زبان میں وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتیں۔

مضاعف - (م۔ ضاعف) (ع۔ ۱- مذم) صفت - دگنا - دونوں دو چہند - ۱۲، اصطلاح علم صرف میں وہ کلمہ جس کے آخر میں ایک جنس کے دو حرف آئیں۔

مضاف - (م۔ ضاف) (ع۔ صفت) جڑا ہوا - ملا ہوا - پیوستہ - تعلق کیا ہوا، مسلک - شامل میں منسوب - متعلق ۳، علم نہیں وہ اسم

مضروب فیہ - (ع. صفت) وہ عدد جس سے ضرب دی جائے۔  
 مضطر - (مضی، ظر) (ع. صفت) حرر رسیدہ - تکلیف میں مبتلا  
 کرنا۔ مجازاً بے بس۔ بے اختیار (۲) بے تاب۔ سبب قرار لینے میں  
 پریشان۔ آزرہ۔

مضطرب - (مضی، طرب) (ع. صفت) بے چین۔ بے قرار۔  
 مضطرب الحال - (ع. صفت) پریشان حال۔ کھرا یا بوا۔  
 مضطربانہ - (مضی، طرب) (ع. صفت) تباہ فعل، ہیچ قرار سے  
 بے چینی کی حالت سے۔

مضعف - (مضی، ع) (ع. صفت) ضعیف کرنے والا۔  
 مضعفہ - (مضی، ع) (ع. صفت) کمزور بنانے والا۔  
 مضعفہ گوشت - (ع. صفت) گوشت کا ٹھنڈا (۲) وہ جنین  
 جس میں ابھی جان نہ پڑی ہو، لقمہ لڑا۔

مضعفہ گوشت - (ع. صفت) گوشت کا ٹھنڈا (۲) لقمہ  
 اور بے کار آدمی۔  
 مضیل - (مضی، ع) (ع. صفت) مگر کرنے والا۔ ہکانے والا۔  
 مضیلت - (ع. صفت) گمراہی۔

مضمار - (مضی، مار) (ع. صفت) میداں۔ ہموار اور وسیع میداں۔  
 (۲) میداں جنگ۔ وہ جگہ جہاں گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ جمع، مضامیر۔  
 مضجعی - (مضی، ع) (ع. صفت) مسموم ہونے والا۔  
 (۲) کمزور۔ ڈبلا پتلا۔ نالواں۔ لاف (۳) اداس۔ دلگیر۔ رنجیدہ۔ مغموم۔

مضمحل ہونا - (ع. صفت) مضمحل ہونا۔  
 مضمر - (مضی، ع) (ع. صفت) پوشیدہ۔ مخفی۔ دل میں رکھا گیا۔  
 مضمرک - (مضی، ع) (ع. صفت) مخفی۔  
 مضمرین - (مضی، ع) (ع. صفت) مخفی۔  
 مضمرم - (مضی، ع) (ع. صفت) مخفی۔ وہ حرف جس پر  
 پیش ہو۔

مضمون - (مضی، ع) (ع. صفت) مضمون میں کیا ہوا۔ درمیان میں  
 ڈالی ہوئی چیز (۲) مطلب۔ معنی۔ بیان (۳) جواب مضمون۔ انشا  
 ادارہ (۴) بات۔ سخن۔

مضمون آفرین - (ع. صفت) نئی بات پیدا کرنے والا۔  
 مضمون آفرینی - (ع. صفت) نئی بات کا لانا۔  
 مضمون بانڈھنا - (ع. صفت) کسی مضمون کو شعر میں نظر کرنا۔  
 مضمون بٹھانا - (ع. صفت) مضمون کو عبارت میں ٹھیک  
 موقع پر جگہ دینا۔

مضمون بندھنا - (ع. صفت) مضمون نشر یا نظم میں آجانا۔  
 مضمون بست ہونا - (ع. صفت) مطلب گھٹنا ہونا۔  
 مضمون ٹیکنا - (ع. صفت) مضمون ظاہر ہونا۔  
 مضمون کھرا ہونا - (ع. صفت) دوسرے کے مضمون کو اپنے نام  
 پر چھان کرنا۔

مضمون ڈھل جانا - (ع. صفت) مضمون کا اچھی عبارت میں

لکھا جانا۔  
 مضمون روشن ہونا - (ع. صفت) مضمون صاف ہونا۔  
 مضمون سست ہونا - (ع. صفت) مضمون بے لطف  
 اور بے مزہ ہونا۔

مضمون سنبھالنا - (ع. صفت) بات کی پیچیدگی جاتی رہنا۔  
 مضمون سونجھنا - (ع. صفت) مضمون خیال میں آنا۔  
 مضمون کھینا - (ع. صفت) مضمون صادق آجانا۔  
 مضمون کی بندش - (ع. صفت) مضمون کی بناوٹ۔  
 مضمون کا سنبھالنا - (ع. صفت) مطلب حاصل کرنا۔

مضمون کڑھنا - (ع. صفت) تہمت لگانا۔  
 مضمون لڑنا - (ع. صفت) مضمون کا سبب نشا سونجھنا (۲) کسی کے  
 مضمون سے مضمون کا مقابلہ ہونا۔  
 مضمون مینڈل ہونا - (ع. صفت) مضمون کا اپنے مقام سے  
 گرا ہونا۔

مضمون نکالنا - (ع. صفت) مقصد سمجھنا۔ تہ کی بات نکالنا۔  
 مضمون نگار (نویس) - (ع. صفت) مضمون لکھنے والا  
 انشا پرداز۔

مضمون نگاری (نویسی) - (ع. صفت) مضمون لکھنا۔  
 مضمون واحد ہونا - (ع. صفت) مطلب ایک ہونا۔ ایک طرف میں  
 دو متصل کاشمال ہونا۔  
 مضمون ہاتھ (آٹا) لگانا - (ع. صفت) نئی بات کا خیال میں آنا۔

مضمون سونجھنا۔  
 مضی - (ع. صفت) گمراہی۔ گمراہی۔ گمراہی۔  
 مضی - (ع. صفت) گمراہی۔ گمراہی۔ گمراہی۔

م - ط

مطابح - (ع. صفت) مطبخ کی جمع۔ باورچی خانے۔  
 مطابح - (ع. صفت) مطبخ کی جمع۔ چھاپے خانے۔  
 مطابقت - (ع. صفت) موافق۔ برابر۔ یکساں۔ مانند (۲)  
 یہ موجب۔ حسب۔ مناسبت۔ بہ لحاظ۔

مطابقت - (ع. صفت) موافقت۔ مشابہت  
 برابر۔  
 مطابقت - (ع. صفت) مطابقت کی جگہ۔ بزوانی اڈہ۔  
 مطابقت - (ع. صفت) مطابقت کی جگہ۔ مشورہ۔  
 مطابقت - (ع. صفت) مطابقت کی جگہ۔ سردار۔ بزرگ۔ بزرگی

مطابقت - (ع. صفت) مطابقت کی جگہ۔  
 مطابقت - (ع. صفت) مطابقت کی جگہ۔  
 مطابقت - (ع. صفت) مطابقت کی جگہ۔

مطلب - رُم - طلب، (ع) - اِذْ - مطلب کی جمع - مقاصد - مرادیں۔  
 مُطالِبہ - رُم - مطالعہ، (ج) - (ع) - اِذْ - دعویٰ - نالاش (۲۲) اپنا حق چاہتا۔  
 در خواست - مانگنا - تقاضا کرنا۔  
 مُطالِبہ تَخْفِيف - (ع) - ف - رُوْزَمْرَه - عدالت خفیہ - بجی - چوٹی عدالت  
 جہاں معمولی دیوانی مقدمات فیصلہ ہوں۔ دیوانِ دعویٰ کرنا۔  
 مطلب لہجہ کرنا - (۱۷) - محاورہ (مطلب کرنا - تقاضا کرنا - مانگنا - در خواست  
 دار ہونا۔  
 مطالع - (رُم - ط - ل) - (ع) - اِذْ - مطالع کی جمع - طلوع ہونے کے مقامات۔  
 مُطالِعہ - (رُم - ط - ل) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - غور - توجہ - دھیان - کسی چیز کو اس  
 سے واقفیت پیدا کرنے کی غرض سے دیکھنا (۲۲) کتب بینی۔  
 مطالعہ کرنا - (۱۷) - محاورہ (پڑھنا، کتاب دیکھنا - آگے سبق نکالنا۔  
 مُطالَعَت - (رُم - ط - ل) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - اطلاع کرنا۔  
 فرماں برداری۔  
 مُطالِبہ - (رُم - ط - ل) - (ع) - اِذْ - غرض - طلبی - بہند - تفریح۔  
 مزارع - جمع - مطالعات۔  
 مُطَب - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - وہ مکان جہاں بیٹر کر طبیب و فیصل  
 کا علاج کرے۔  
 مُطَبَّح - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - کھانا پکانے کی جگہ - اور چھ خانہ۔  
 مُطَبَّح - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - طبع کرنے کی جگہ - چھاپنے کی جگہ۔  
 چھاپنا - پڑھنا۔  
 مُطَبَّوْج - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - آگ پر پکائی ہوئی - کچی ہوئی (۲۲) - (ع) - اِذْ -  
 پوٹا ہوا - پوٹا ہوا - پوٹا ہوا - پوٹا ہوا۔  
 مُطَبَّوْج - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - صفت - طبع کیا ہوا - چھپا ہوا (۲۲) - پسند کیا گیا۔  
 مرغوب - دل پسند - پسندیدہ۔  
 مُطَبَّوْعہ - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - صفت - طبع شدہ - چھپا ہوا - جمع - مطبوعات۔  
 مُطَبَّوْعَہ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - صفت - پینے کا آلہ۔  
 مُطَبَّوْل - (ع) - صفت - نقل کا مریض۔  
 مُطَبَّ - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - بارش - باران۔  
 مُطَبَّاق - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 مُطَبَّاب - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 کھانے والا - ڈوم - کھاؤ - میراثی۔  
 مُطَبَّابہ - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 مُطَبَّابہ - (ع) - صفت - تھوڑی - ناپسندیدہ (۲۲) - نکالا ہوا - چھپکا ہوا۔  
 مُطَبَّابہ - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 ہوا - شہر بیکار ہوا۔  
 مُطَبَّابہ - (ع) - صفت - کھلانے والا - کھانا۔  
 مُطَبَّابہ - (ع) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 مُطَبَّابہ - (رُم - ط - ب) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 مُطَبَّابہ - (ع) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 مُطَبَّابہ - (ع) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -

شخص جسے خلقت لغت طاعت کرے۔  
 مُطَلَّ - (رُم - ط - ل) - (ع) - صفت - ملا گیا گیا - سنبھرا - زرخیز - طلالی۔  
 مُطَلَّات - (رُم - ط - ل) - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 مطلب انگینا - (۱۷) - محاورہ (معرض اڑنا - معرض والیست ہونا (۲۲) -  
 خواہش پوری نہ ہونا۔  
 مطلب اُلٹ دینا - (۱۷) - محاورہ (مضمون کچھ کچھ کر دینا - مفہوم  
 بدل دینا۔  
 مطلب بر آرمی - (ع) - ف - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ - (ع) - اِذْ -  
 حصول مرعا۔  
 مطلب بر آرمی کرنا - (۱۷) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) -  
 ردائی کرنا۔  
 مطلب بر آرمی - (۱۷) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) -  
 مطلب پر آنا - (۱۷) - محاورہ (تہمید کے لہذا پختہ کتاب کی بات  
 کہنا یا لکنا۔  
 مطلب پر لانا - (۱۷) - محاورہ (مطلب پورا کرنے پر آمادہ کرنا۔  
 مطلب پورا کرنا - (۱۷) - محاورہ (مطلب پورا کرنا - مقصد میں کامیاب  
 کرنا۔  
 مطلب چھا جانا - (۱۷) - محاورہ (صاف صاف مطلب ظاہر کرنا۔  
 مطلب فعل ہونا - (۱۷) - محاورہ (مطلب سمجھ میں آنا (۲۲) - کار بر آرمی ہونا۔  
 مطلب ضبط ہونا - (۱۷) - محاورہ (بات بے معنی ہونا - تحریر یا تقریر  
 کا بے معنی ہونا۔  
 مطلب رکھنا - (۱۷) - محاورہ (معرض رکھنا - واسطہ رکھنا۔  
 مطلب سعدی دیگر اسدت - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) -  
 بے معنی ظاہریوں ہے مگر دلی مقصد کچھ اور ہے۔  
 مطلب سے مطلب ہونا - (۱۷) - محاورہ (اپنے کام سے کام ہونا۔  
 اپنے کام سے غرض رکھنا۔  
 مطلب قوت ہونا - (۱۷) - محاورہ (معرض حاصل نہ ہونا۔  
 مطلب کا اشتراک - (۱۷) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) -  
 مطلب کی غرض سے پار بنانا۔  
 مطلب کو پہنچانا - (۱۷) - محاورہ (کام بنا دینا - کامیاب کر دینا۔  
 مطلب کھل جانا - (۱۷) - محاورہ (معرض ظاہر ہو جانا۔  
 مطلب کھنی - (۱۷) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) -  
 مطلب کی بات - (۱۷) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) -  
 مطلب کی بات - (۱۷) - محاورہ (اپنی غرض کی بات کہنا۔  
 مطلب کی سوچنا - (۱۷) - محاورہ (معرض کی بات خیال میں آنا - اپنے  
 فائدہ کی بات سوچنا۔  
 مطلب کی کھات چلنا - (۱۷) - محاورہ (اپنا فائدہ دیکھنا - اپنے فائدہ کی  
 بات نظر رکھنا۔  
 مطلب سے واسطہ گدھے کو باپ بناتے ہیں - (۱۷) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) - (ع) -

نکلنے کے لیے ادنیٰ کی بھی خوشامد کرتے ہیں۔  
**مطلب نکالنا** - (۱۶- محاورہ) بات سمجھنا۔ غرض پوری کرنا۔ غرض حاصل کرنا۔  
**مطلب ہو جانا** - (۱۶- محاورہ) کام بن جانا۔ کامیاب ہو جانا۔

**مطلبی** - خواہش پوری ہونا۔  
**مطلبی** - (مطلب۔ ل. بی۔ مط۔ ل. بی۔ ا) (۱۰- ارد۔ ص) خود غرض۔ ابن الوقت۔

**مُطَّلِع** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ا۔ مذ۔ طلوع ہونے کی جگہ۔ مشرق۔ یورپ فضا ۱۲) غزال یا قنید سے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں قافیے ہوں۔

**مطلع صاف ہونا** - (۱۶- محاورہ) آسمان کا اردغبار سے صاف ہونا (۲۱- کسی جگہ ایک آدمی بھی نہ ہونا، ۱۳- دشمنوں سے مقام خالی ہونا روک لوگ نہ ہونا، کتنا تیار، واضحی مونیجہ کا نہ ہونا۔ ابھی سبزہ لگاؤ نہ ہونا۔

**مطلع صبح** - (۱۶- ص) افق کا وہ مقام جہاں صبح کی روشنی پہلے سے ظاہر ہوتی ہے۔

**مُطَّلِع** - (مط۔ ط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) اطلاع دیا گیا۔ خبردار کیا۔

**مُطَّلِع** - (مط۔ ط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) اطلاع دینا۔ خبردار کرنا۔ آگاہ کرنا۔

**مُطَّلِق** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) آزاد۔ بے قید (۲۰- بالکل قطعی جیسے آزاد مطلق رس، قرآن شریف کی وہ آیت جہاں ٹھہرنا چاہیے۔

**مطلق الریحین** - وہ گھوڑا جس کے پاؤں کا رنگ بدن کے رنگ سے مختلف ہو۔

**مطلق العنان** - (۱۶- ص) بے لگام۔ جس کی لگام چھوٹ گئی ہو (۲۰) آزاد۔ خود سر۔ بے باک۔

**مطلق الیدین** - (۱۶- ص) وہ گھوڑا جس کے اگلے دونوں

**مطلق الیسار** - (۱۶- ص) وہ گھوڑا جس کے دونوں پیچھے پاؤں سفید ہوں۔

**مطلق الیمین** - وہ گھوڑا جس کے دونوں دائیں پاؤں سفید ہوں۔

**مُطَّلِقاً** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) بالکل قطعی۔ اصلاً۔

**مُطَّلَقَةً** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طلاق دی ہوئی عورت۔ وہ عورت جسے خاندان سے چھوڑ دیا ہو۔

**مطلوب** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طلب کیا گیا۔ مانگا گیا خواہش کیا گیا۔ کنیت معشوق۔

**مطلوب** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) منظور کرنے کی جگہ (۲۰- مقصود ریح، مطابح۔ مطبخ نظر۔ (۱۶- ا۔ مذ۔ مرکز نگاہ۔ مقصد اصلی۔

**مطلوبن** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) المیٹان پانے والا۔ خاطر جمع رکھنے والا۔ بے فکر۔ آسودہ۔

**مُطْرَبَعَةٌ** - (۱۶- ص) وہ مسلمان جسے جہاد سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہو۔

**مُطْرَبَعٌ** - وہ اپنی خوشی سے جہاد کرے (۲۰) رضا کار۔

**مُطْرَبَعٌ** - (۱۶- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

م. ط

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**مُطْرَبَعٌ** - (مط۔ ل. نغ۔ ج. ۱۰- ص) طواف کرنے والا۔

**منظورون** - (منظ - فون) (ع. صفت) ظن کیا گیا۔ مشتبه۔ مشکوک۔  
**منظرتہ** - (منظ - فون) (ع. - مذ) گمان کرنے کی جگہ۔ شک کرنے کا موقع  
 (۲) گمان - قیاس - خیال۔  
**منظہر** - (منظ - ہر) (ع. - مذ) ظاہر ہونے کی جگہ۔ جانے پہنچنے والا۔  
 ایٹھ - اکھاڑا۔ تماشا دکھانے کا چھوڑا۔  
**منظہر** - (منظ - ہر) (ع. صفت) بیان کرنے والا۔ گواہ۔ شاہد۔ خبر۔  
 جاسوس۔ خبر رساں۔

## م - ع

**مع** - (ع. - تابع فعل) ساتھ۔ ہمراہ۔ سمیت۔ سنگ۔  
**مع الخیر** - (ع. - صفت) خیریت سے۔ سلامتی سے۔ بخیر و عافیت۔  
**مع ہذا** - (ع. - تابع فعل) علاوہ بریں۔ باوجود اس کے ساتھ  
 اس کے۔  
**معاً** - (م. - معن) (ع. - ف. - تابع فعل) ایک ساتھ۔ ساتھ مل کر (۲) فی الغور۔  
 فوراً اسی وقت۔ دفعتاً۔ ایک ہی وقت۔ ایک ہی دفعہ۔  
**معابد** - (م. - عابد) (ع. - مذ) معبد کی جمع۔ عبادت خانے مسجدیں  
 شوالے بڑھے وغیرہ۔  
**معابر** - (م. - عابر) (ع. - مذ) معبر کی جمع۔ گھاٹ۔ ٹیل۔ دریائے  
 پارا تانے کی جگہیں۔  
**معاتب** - (م. - عاتب) (ع. - صفت) عتاب کیا گیا۔ وہ جس پر  
 تنگی، کو۔ مکتوب۔  
**معاتب** - (م. - عاتب) (ع. - صفت) عتاب کرنے والا۔ خفا ہونے والا۔  
 نرسزئی کرنے والا۔  
**معاود** - (م. - عاود) (ع. - مذ) لوٹ کر جانے کی جگہ۔ واپس جانے کا  
 مقام (۲) مجازاً عقبی۔ آخرت۔ قیامت۔ حشر۔  
**معاودل** - (م. - عاودل) (ع. - صفت) برابر۔ مساوی۔ انصاف کیساتھ  
 عمل سے۔  
**معاورکت** - (م. - عاورکت) (ع. - مذ) برابر۔ مساوات  
 انصاف۔ نیاؤ۔  
**معاورن** - (م. - عاورن) (ع. - مذ) معدن کی جمع۔ کانیں۔ کھانیں۔  
**معاذ** - (م. - عاذ) (ع. - مذ) بچاؤ کی جگہ۔ جانے پناہ۔  
**معاذ اللہ** - (۱) کلمہ استغفار پناہ چاہتا ہوں میں خدا سے۔ خدا کی پناہ  
 اللہ محفوظ رکھے۔ توبہ۔  
**معاویج** - (م. - عاویج) (ع. - مذ) معراج کی جمع۔ زینے  
 سیڑھیاں۔  
**معارض** - (م. - عارض) (ع. - صفت) معترض۔ جھگڑا کرنے والا۔  
 مخالف۔ مدعی۔ حریفیت۔

**معارضہ** - (م. - عارضہ) (ع. - مذ) جھگڑا۔ مثلاً۔ مناقشہ۔  
**معارف** - (م. - عارف) (ع. - مذ) معرفت کی جمع (۲) شناسائی  
 (۳) جان پہچان کے مقامات (م. - شناسا لوگ (۵) علم و فضل۔ علاوہ  
 فون (۶) نام بزرگوں۔

**معارف** - (م. - عارف) (ع. - مذ) معرکہ کی جمع۔ لڑائی کے میدان  
 بزم گاہیں۔  
**معارکت** (معارکہ) - (ع. - مذ) لڑائی۔ جنگ۔  
**معارکت الاراء** - (ع. - صفت) عقلی لڑائی۔ اہم بحث و مباحثہ۔  
**معاش** - (م. - عاش) (ع. - مذ) روزی۔ خوراک۔ روزی (۲) دوشے  
 جس سے بسر اوقات کی جائے۔

**معاشرت** - (م. - عاشق) (ع. - مذ) کسی کیساتھ عیش کرنا  
 کسی کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا۔

**معاشرہ** - (م. - عاشق) (ع. - مذ) جماعتی زندگی میں  
 ہر فرد کو رہنے پھنے اپنی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے دوسروں  
 سے واسطہ پڑتا ہے۔

**معاشی** - (م. - عاشق) (ع. - مذ) معاشی۔ معاشی۔ معاشی (ع. - صفت)  
 روزی اور بسر اوقات کے متعلق - (Economic)

**معاشیات** - (م. - عاشق) (ع. - مذ) معاشی۔ معاشی۔ معاشی (ع. - صفت)  
 وہ علم جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم سے بحث کی جاتی ہے۔  
 (Economics)

**معاشیات دان** - (ع. - مذ) علم و معاشیات کا ماہر۔ کفایت  
 شمار۔ منتظم - (Economist)

**معاصر** - (م. - عاصر) (ع. - صفت) ہم عصر۔ ہم زمانہ۔ ہم عہد۔  
**معاصرین** - (م. - عاصر) (ع. - مذ) معاصر کی جمع۔ اپنے  
 ہم عصر۔ ہم زمانہ لوگ۔

**معاصی** - (م. - عاصی) (ع. - مذ) معصیت کی جمع۔ گنہ گری۔  
 جرم۔ پاپ۔

**معاظفت** - (م. - عاظف) (ع. - مذ) مہربانی۔ الطاف  
 عنایت۔

**معاظ** - (م. - عاظف) (ع. - صفت) ہنستا گیا۔ جھوٹا گیا۔  
 بری۔ آزاد (۲) درگزر۔ عفو۔

**معاظ رکھنا** - (م. - عاظف) (ع. - صفت) ہنستا گیا۔ جھوٹا گیا۔  
 (۱) مجاورہ) ہنستا۔ درگزر کرنا۔ عفو کرنا۔ چھوڑنا۔

**معاظ کرو** - (م. - عاظف) (ع. - صفت) ہنستا گیا۔ جھوٹا گیا۔  
 (۱) روزمرہ) جاؤ۔ رخصت ہو۔ سدھارو۔

**معافی** - (م. - عافی) (ع. - مذ) بخشش۔ رہائی۔ خلاصی۔ نجات  
 عفو۔ مغفرت (۲) وہ زمین جس کا لگان سرکار سے معاف ہو۔

**معافی استمراری** (وامتی) - (ع. - مذ) دائمی جائیداد۔ وہ زمین جو  
 ہمیشہ کے واسطے معافی کے طور پر دے دی جائے۔  
**معافی چاہنا** - (م. - عافی) (ع. - صفت) معذرت کرنا۔ عذر خواہی کرنا۔

**معافی حیات** - (ع. - مذ) وہ زمین جو کسی کو زندگی بھر کے

لیے بلا لگان عطا کی جائے۔

**معافی دار** - (ع. معف) عطا کی ہوئی زمین کا مالک۔  
**معافی مانگنا** - (۱۶. محاورہ) قصور سے درگزر کرنے کی درخواست

کرنا۔ **عذر مندرت کرنا**  
**معافی نامہ** - (ع. ف. ۱-۱. مذ) معافی کی درخواست۔ معافی  
کی تحریر۔

**مُعاقبت** - (ر.م. عاق. بیت، ع. ۱-۱۰. مٹ) سزا۔ ڈنڈ۔ سیاست۔  
رہن عقوبت۔ عذاب۔

**مُعاقبتہ** - (ر.م. عاق. بتد) (ع. ۱-۱. مذ) عقد کرنے والا۔ نکاح کرنے والا۔  
عہد بانہ حصہ والا۔

**معالج** - (ر.م. مار. ل. ج) (ع. ۱-۱. مذ) علاج کرنے والا۔ حکیم۔ طبیب۔ دید۔  
ڈاکٹر۔ جج، معالجین۔

**معالجات** - (ر.م. عاق. لی. جات) (ع. ۱-۱. مذ) معالجہ کی جمع۔  
دوا درمن۔ علاج۔

**مُعَالَجِیہ** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) علاج۔ دوا دارو۔  
**مُعَالَجِیہ** - (ع. ۱-۱. مذ) معلم کی جمع۔ تفتیشیاں۔ ملاحتیں۔ دیکھیے معلم۔

**معافی** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) معافی کی جمع۔ اذیتیں۔ پلندیاں۔  
**معاملات** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) معاملہ کی جمع۔ امور۔ کاروبار۔

**معاملاتِ مصلحتی** - (ع. ۱-۱. مذ) مصلحت کے کام۔ کاروبار حکومت مصلحتی امور۔  
**معاملت** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) مصلحت لین دین۔ یوبار۔ کاروبار (۲) کوئی

بات (۳) باہم کوئی فیصلہ کرنا۔ قول و قرار۔  
**مُعَامَلۃ** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) عمل۔ کام۔ کاج۔ کاروبار۔ دھندا

باہم مل کر کوئی کام کرنا (۲) لین دین۔ خرید و فروخت۔ بیچ۔ یوبار  
(۳) واقعہ۔ وہ بات جو عمل میں آئے (۴) قول و قرار (۵) بات جھگڑا

تقصیہ (۶) خاص بات۔ تعلق۔ واسطہ۔ سابقہ۔ برتاؤ (جمع، معاملات  
لہذا حاصل۔ مال گزارہ۔ لگان۔

**معاملہ ادا کرنا** - (۱۶. محاورہ) مال گزارہ دینا۔  
**معاملہ باندھنا** - (۱۶. محاورہ) ان باتوں کو نظم کرنا جو خیالی نہ ہوں بلکہ  
عمل میں آتی ہوں۔

**معاملہ بندھی** - (ع. ۱-۱. مذ) مٹنی ہوئی باتوں کو نظم کرنا۔  
**معاملہ بن جانا** - (۱۶. محاورہ) مقصد حاصل ہو جانا۔ کام درست  
ہو جانا۔

**معاملہ بنتا** - (۱۶. محاورہ) کام بننا۔ کام درست ہونا۔ بات چیت  
ہونا (۲) مباشرت ہونا۔

**معاملہ پڑنا** - (۱۶. محاورہ) کام پڑنا۔ تعلق پڑنا۔ واسطہ ہونا  
**معاملہ چمکا کر کرنا** - (۱۶. محاورہ) بات طے ہونا۔ قطعی فیصلہ ہونا۔  
سودا بیختہ ہونا۔

**معاملہ پیش کرنا** - (۱۶. محاورہ) فیصلہ کے لیے کسی کے پاس  
مصلحت سے جاننا۔

**معاملہ (دان) شناس** - (ع. ۱-۱. مذ) فہم۔ تجربہ کار۔

بات کی تہہ کو سینچنے والا۔

**معاملہ (دانی) رسی** - (معاملہ شناسی) فہمی۔ (ع. ۱-۱. مذ) رسی۔  
رہات کی تہہ پھینچنا۔ کاروبار سے واقفیت۔

**معاملہ سنگین** - (ع. ۱-۱. مذ) اہم بات۔ سخت معاملہ۔

**معاملہ کا کھوٹا** - (۱۰. مذ) یہ ایمان۔ دغا باز۔ خائن۔

**معاملہ کرنا** - (۱۶. محاورہ) بات چیت کرنا۔ کسی امر کی نسبت طے کرنا (۲) لین  
دین کرنا۔ سودا کرنا۔ خرید و فروخت کرنا (۳) فیصلہ کرنا (۴) عہد و پیمانہ  
کرنا۔ مل جل کر کام کرنا۔

**معاملہ کھٹائی میں پڑ جانا** - (۱۶. محاورہ) بات طے ہونے میں دیر  
ہو جانا۔

**معاملہ ہونا** - (۱۶. محاورہ) کام ٹھیک ہونا۔ بات چیت ہونا۔  
کام بنتا۔ کارروائی ہونا (۲) سودا طے ہونا۔ بھاؤ چھینا (۳)

فیصلہ ہونا۔  
**معلے کا (سٹیا) گھرا** - (۱۶. معف) لین دین میں ایمان دار۔ بات کا  
پورا۔ دیا سخت دار۔

**مُعَاہِدۃ** - (ر.م. عاق. بتد) (ع. ۱-۱. مذ) عہد کرنے والا۔ دشمن۔ مخالف۔  
عہد۔ بیعت۔ معاہدین۔

**مُعَاہِدَانۃ** - (ع. ۱-۱. ص) دشمنوں کی طرح۔  
**مُعَاہِدَت** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) دشمنی۔ عداوت  
چھکڑا۔ ٹٹٹا۔

**مُعَاہِدِیۃ** - (ع. ۱-۱. ص) بغل گیر ہونے والا۔ گلے ملنے والا۔  
**مُعَاہِدِیۃ** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) بغل گیر ہونا۔ گلے ملنا۔

**معافی** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) معافی کی جمع۔ مطالب۔ مقاصد۔  
مراہی (۲) وہ علم جس سے الفاظ کا صحیح موقع استعمال اور معنوں کا  
درست و موزوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔

**مُعَاوَدت** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) واپسی۔ واپس آنا۔  
لڑنا۔ پھیر آنا۔

**مُعَاوَدت** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) بدلہ۔ پٹا۔ تادان۔  
**مُعَاوَدتہ** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) بدلہ۔ پٹا۔ عوض (۲) ر۔  
آہرت۔ حق خدمت۔

**مُعَاوَدتہ دلانا** - (۱۶. محاورہ) عوض دلانا۔ تادان ادا کرنا۔ ہرج  
دلوانا۔

**مُعَاوَدت** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) اعانت کرنے والا۔ مددگار۔ دست  
گیر۔ حمایتی۔ بیعت و معاہدین۔

**مُعَاوَدتِ حُرْم** - (ع. ۱-۱. ص) مجرم میں شریک۔ مجرم کی مدد کرنا۔  
**مُعَاوَدت** - (ر.م. عاق. لی. ج) (ع. ۱-۱. مذ) مدد۔ حمایت۔ امداد۔  
سہارا۔ تائید۔

**مُعَاہِدۃ** - (ر.م. عاق. بتد) (ع. ۱-۱. مذ) عہد و پیمانہ کرنے والا۔ قول و قرار  
کرنے والا۔

**مُعَاہِدۃ** - (ر.م. عاق. بتد) (ع. ۱-۱. مذ) باہم قول و قرار۔ عہد نامہ۔

اس لیے ”وحی“ کے بغیر ہی اہل عقل و حکمت کو حیدر پر ایمان لا سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو منزه صفات خیال کرتے تھے۔ یعنی خدا میں متضاد صفات نہیں ہو سکتیں۔ مامول رشید کے دور میں برسرِ کار مذہب بن گیا تھا۔

**معتزلی** - (مذہب)۔ بڑی، (ع۔ ۱-۱۰) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔  
**معتزلی** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) فرقہ معتزلہ کا پیرو۔  
دالاماً توکل کرنے والا (۲) خدا کا بندہ۔

**معتضد** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) مدد لینے والا۔ امداد چاہنے والا۔  
**معتقد** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) اعتقاد رکھنے والا۔ جمع، معتقدین۔  
**معتقد ہونا** - (ع۔ ۱-۱۰) اعتقاد دلانا۔ ایمان لانا۔ پیروی کرنا۔

**معتکف** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اشکاف بیٹھنے والا۔ عبادت کے لیے ایک کونے میں بیٹھنے والا۔ گوشہ نشین۔ جمع، معتکفین۔

**معتل** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) کمزور، اصطلاح علم صرف میں وہ نسل یا اسم جس میں حوت علت ہو۔  
**معتدل** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) اعتدال رکھنے والا۔ قابل اعتبار۔

**معتدل الاعلیٰ** - (ع۔ ۱-۱۰) انتظام میں گورنر کے بعد کا عہدہ۔ معتدل خصوصی چیف سیکرٹری۔ (Chief Secretary)  
**معتدل علیہ** - (ع۔ ۱-۱۰) جس پر اعتبار کیا جائے۔ اعتباری آدمی۔

**معتدل** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) اعتدال رکھنے والا۔ معتدل سے لفظ  
**معتوب** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) جس پر عتاب کیا جائے۔ یہ لفظ کتاب سے بنایا گیا ہے۔ عربی میں یہ لفظ نہیں بیچ، معتوبین۔  
**معتوب** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معتوب۔ منکر۔ گنہگار۔

**معتوب** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معتوب میں ڈالنے والا۔ حیرت میں ڈالنے والا۔  
**معتور** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) چادر۔ اور حنی۔  
**معتور** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) طاقت بشری سے باہر۔

**معتور بیان** - (ع۔ ۱-۱۰) کمال فصاحت و بلاغت سے تقریر کرنے والا۔ بڑا خوش بیان۔  
**معتور بیانی** - (ع۔ ۱-۱۰) بیان میں اجماع ہونا۔  
**معتور رحم** - (ع۔ ۱-۱۰) جس کی تحریر کا دوسرے مقابلہ نہ کر سکیں۔

**معتور لکار** - (ع۔ ۱-۱۰) جسے مثل مضمون لکھنے والا۔  
**معتور کما** - (ع۔ ۱-۱۰) معجزہ دکھانے والا۔  
**معتور است** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) جمع، خلاف عادت باتیں۔

**معتور** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔

**معاہدہ ساقط النفاذ** - (ع۔ ۱-۱۰) ناجائز اقرار نامہ۔ وہ معاہدہ جو جاری نہ ہو سکے۔

**معاہدہ مکن الانساخت** - (ع۔ ۱-۱۰) ٹوٹ سکنے والا معاہدہ۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔  
**معاہدہ** - (مذہب)۔ (ع۔ ۱-۱۰) معیوب کی جمع۔ معیوب۔ نقائص۔

کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کو حیدر عقلاً معلوم ہو سکتی ہے



وہ خلافِ قانون قدرت بات چربی سے ظاہر ہو۔

**معجزہ دکھانا** - (۱۱- محاورہ) نبی یا پیغمبر کا وہ بات کر دکھانا جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔

**معجزہ کرنا** - (۱۱- محاورہ) قوت انسانی سے باہر بات کرنا۔

**مستعمل** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) فوراً - جلد - ہاتھوں ہاتھ - دست بدست۔

**مستعمل ہونے** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) جلدی کرنے والا - جلد باز۔

**مستعجب** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) نقطہ والا - حیرت - متعجب۔

**مستعجب** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) گوندھا ہوا (۲) کوئی حرکت دیا

جو کوئی دواؤں کو کھل کر آنے کی طرح گوندھ کر بنائی گئی ہو (۳) ملی ہوئی حرکت - آمینتہ (۴) قوم جو کھانڈ اور بھنگ سے

تیار کیا جاتا ہے۔

**مستعجب فلاسفہ** - ایک قسم کی مہون جو سرد مرضوں اور بوزھوں کے لیے مفید ہے۔

**مستقبل** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) پھرنے کی جگہ - واپسی کی جگہ۔

**مستقبل النہار** - آسمان پر وہ فرضی دائرہ جو خط استوا کے مخالفات میں ہے۔ آفتاب جب اس پر ہوتا ہے تو رات دن برابر ہوتے ہیں۔

**مستقبلت** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) عدل - انصاف۔

**مستقبل** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) وہ جگہ جہاں زمین کو گود رکھتا اور کوزہ وغیرہ نکالیں (جمع) معادن۔

**معدنی** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) معدن سے منسوب - کان - کان - قلزائی - دھاتی۔

**معدنیات** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) وہ چیزیں جو کان سے نکلیں - دھات - فلزات۔

**معدود** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) شمار کیا گیا - شمار کیا گیا (۲) چند - گنتی کے - تھوڑے۔

**معدودے چند** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) بہت تھوڑی تعداد میں معدودہ - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) وہ لفظ جو لکھنے میں لکھتے مگر پڑھنے میں نہ آئے۔ یہ بات داؤ (د) کے لیے مخصوص ہے۔ جیسے

خود - خوش کی داؤ لے داؤ معدود لکھتے ہیں۔

**معدوم** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) مٹا گیا - نیست کیا گیا - فنا کیا گیا۔

**معدوم البصر** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) اندھا - نابینا - کور۔

**معدوم کرنا** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) مٹانا - فنا کرنا۔

**معدومی** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) نامہدوم - کالعدم ہونا۔

**معدوہ** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) اہل بیت کے اندر کی سبھی عورتیں کھانا پتیا اور بھنم ہوتی ہے۔

**مغذوب** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) سزا دیا گیا - عذاب کیا ہوا۔

**مغذوبت** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) عذاب دینے والا۔

**معذرت** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) عذر - جلد - بہانہ۔

**معذور** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) عذر کیا گیا - بہانہ کیا گیا - مجبور ناچار (۲) اناج - جمع معذورین۔

**معذور احمد مت** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) لاکری سے معاف کیا گیا (۲) بیمار (۳) پیش یا نقتہ۔

**معذور رکھنا** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) معاف رکھنا - قابل عذر سمجھنا۔

**معذوری** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) معاف ہونا - مجبوری۔

**معصرا (معصری)** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) ننگا - برہنہ - خالی - سادہ (۲) وہ کتاب جس پر حاشیہ نہ چڑھا ہو (۳) بلا ترجمہ قرآن شریف (۴) پاک - معاف (۵) آزاد - کھلا ہوا۔

**معصراج** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) زینہ - سیڑھی - اوپر چڑھنے کی چیز (۲) درجہ اعلیٰ - مرتبہ بلند - وہ تہہ یا درجہ جس سے زیادہ

تصور میں نہ آئے (۳) حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا اور جمالیات الہی کا نظارہ کرنا۔

**معراج کی رات** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) رجب کی ستائیسویں رات جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے۔

**معرب** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) وہ لفظ جسے عربی بنایا گیا ہو اور دراصل وہ لفظ دوسری زبان کا ہو۔

**معرب** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) اعراب لگایا گیا۔

**معروض** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) ظاہر ہونے کی جگہ - دوران۔

**معرفت** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) معرفت کیا گیا (۲) نشان کیا گیا۔

**معرفت** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) معرفت کرنے والا - مداح (۲) وہ شخص جو دربار میں ہر درباری کو اس کے درجے اور نمبر پر بٹھاتا ہے (۳) وہ شخص جو کسی آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کرے اس کا حال بیان کرتا ہے۔

**معرفت** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) شناخت - پہچان (۲) علم الہی - قانون قدرت یا فطری اشاری و واقفیت (۳) خدا شناسی (۴) ذریعہ - سبب - وسیلہ۔

**مخرفہ** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) وہ اسم جو ایک معنی شے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔

**مخزکہ** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) میدان جنگ - لڑائی کا میدان - رزم گاہ (۲) لڑائی - جنگ (۳) جھگڑا - تصدیق - نزاع (۴) ہنگامہ۔

**مخزکہ آرا** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) جنگ آور - جنگ جو آرا (۲) زبردست - زور آور (۳) معرکے کو رونق دینے والا۔

**مخزکہ آرائی** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) ایک دوسرے کے مقابل ہونا - صفت آرائی - لڑائی - جنگ (کنایت) پُر زور - زبردست۔

**مخزکہ پڑانا** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) لڑائی ہونا - جنگ پیش آنا۔

**مخزکہ جمیلنا** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) لڑائی لڑانا - مقابلہ کرنا۔

**مخزکہ جیشنا** - (۱- معج - معج - معج - معج) - (ع - صفت) مقابلہ میں فتح حاصل کرنا - لڑائی میں غالب آنا۔

معرکہ کس کو بنا - (۱۶) محاورہ) مقابلے میں فتح حاصل ہونا۔  
 معرکہ کا - (۱۱) محاورہ) مشکل دشوار۔ بھاری۔ دھوم دھام کا۔  
 معرکہ کا - (۵) - (ع) ف۔ ا۔ مذ) لڑائی کی جگہ۔ میدان جنگ۔  
 معرکہ گرم ہونا - (۱۶) محاورہ) لڑائی کا زوروں پر ہونا۔ سخت ہنگامہ پڑنا۔  
 معرکہ کھڑا ہونا - (۱۱) محاورہ) جھگڑا ہونا۔ مقابلہ ہونا۔  
 معرکہ مارنا - (۱۶) محاورہ) مقابلے میں کامیابی حاصل کرنا۔  
 معرکہ ہونا - (۱۷) محاورہ) ہنگامہ ہونا۔ لڑائی ہونا۔ مقابلہ ہونا۔  
 معرکے کا آدمی - (ع) - (ا) مذ) مرد میدان۔ بہادر آدمی۔  
 معروض - (ع) - (ع) صفت) عرض کیا گیا۔ پیش کیا گیا (۱۶) (۱) (مشت)  
 التماس - عرض۔ گزارش۔ درخواست۔  
 معروضہ - (ع) - (ع) صفت) عرضی۔ عرضیہ۔ گزارش  
 معروض کی تائیت۔  
 معروضی - (ع) - (ع) صفت) خارجی واقعی (انگ) (Objective)  
 معروضیت - (ع) - (ع) - (ا) مشت) اصطلاح فلسفہ یہ نظریہ کہ خارجی  
 اشیاء کا علم مقدم اور حقیقی ہے (انگ) (Objectism)  
 معروف - (ع) - (ع) صفت) مشہور۔ معلوم۔ ظاہر المشرح  
 (۱۶) - (ع) - (ع) صفت) بات (۳) علم صرف میں فعل جس کا ناعلم معلوم  
 ہو جیسے نامرنے کریم سے کہا (ہم) وہ حرفت جس کے پہلے ہیں  
 ہو اور خوب کہیں کہ پڑھا جائے۔ جیسے لڑ۔ حور (۵) وہ یا نے  
 جس کے پہلے کسرہ ہو اور خوب کہیں کہ پڑھی جائے۔  
 جیسے وزیر۔ نظیر۔  
 معزز - (ع) - (ع) صفت) عزت دینے والا (۲) خدائے تعالیٰ  
 کا ایک نام۔  
 معزز - (ع) - (ع) صفت) عزت دار۔ یا وقت۔ بزرگ۔ بڑا  
 بڑا شریف (جمع) معززین۔  
 معزول - (ع) - (ع) صفت) موقوف کیا گیا۔ نوکری سے برطرف کیا گیا  
 سخت یا گدی سے اتار لیا گیا۔ بے کار کیا ہوا۔  
 معزولی - (ع) - (ع) صفت) موقوفی۔ معطلی۔ برطرفی۔  
 بے کاری۔  
 معسکر - (ع) - (ع) صفت) شکر اتارنے کی جگہ۔ پڑاؤ۔ چھاؤنی۔ کیمپ  
 لشکر کا۔  
 معشورہ - (ع) - (ع) صفت) آدمیوں کا گروہ (۲) سوسائٹی۔  
 معشرہ - (ع) - (ع) صفت) دس سے مشروب۔ دس پہلو کا (۳)  
 نظم کی ایک قسم۔  
 معشوق - (ع) - (ع) صفت) جس پر کوئی عاشق ہو۔ محبوب۔ پیارا۔  
 دلبر۔ دلدار۔ دلربا۔  
 معشوقانہ - (ع) - (ع) صفت) معشوق سے مشوب۔ محبوب  
 کے مانند (۲) دلکش۔ دلنریب۔  
 معشوقانہ انداز - (ع) - (ع) صفت) دل بھانے والی ادائیں۔  
 معشوقہ - (ع) - (ع) صفت) محبوبہ۔ پیاری۔ دہ عورت

جس پر کوئی عاشق ہو۔  
 معشوقی - (ع) - (ع) صفت) دل فریبی۔ دلبری۔ دہائی۔  
 محبوبیت (۲) دوستی۔ محبت۔  
 معصفر - (ع) - (ع) صفت) کسٹم سے رنگا ہوا۔  
 معصوم - (ع) - (ع) صفت) ایسے گناہ بے قصور۔ پاک دامن (۲) نسیا  
 کسی۔ بچہ (۳) بھولا۔ سیدھا سادہ۔  
 معصومیت - (ع) - (ع) صفت) اے گناہی پاکدامنی۔  
 سادگی۔ بھولائی۔ بچپن۔  
 معصیت - (ع) - (ع) صفت) اے گناہ۔ قصور۔ خطا۔ باپ (۲)  
 نافرمانی۔ انحراف۔ جین۔ معاصی۔  
 معطر - (ع) - (ع) صفت) خوشبودار خوشبوئیں لہا ہوا۔  
 معطل - (ع) - (ع) صفت) بے کار کام سے خالی (۲) سست  
 کاہل۔ ڈھیلا (۳) ٹکٹا دم، کچھ دنوں کے لیے بے کار (۵) تاجر غیر مزدوم  
 اقتادہ ترشہ۔  
 معطل ڈال رکھنا - (۱۶) محاورہ) بیکار رکھنا۔ کسی کام میں نہ لانا۔  
 معطل کرنا - (۱۶) محاورہ) کچھ عرصے کے لیے کام سے ہٹا دینا۔  
 معطلی - (ع) - (ع) صفت) بے کاری۔ کام  
 سے علیحدگی۔  
 معطوف - (ع) - (ع) صفت) پھیرا گیا۔ لپٹا ہوا۔ موڑا ہوا  
 جھکا لیا گیا (۲) (۱۶) مذ) خوبیں وہ کلر جو حرفت عطف کے بعد  
 واقع ہو۔  
 معطوف علیہ - (ع) - (ع) صفت) وہ کلر یا کلام جو حرفت عطف سے  
 پہلے واقع ہو۔  
 معطوفی - (ع) - (ع) صفت) اٹھا کرنے والا (۲) خدائے تعالیٰ کا ایک  
 نام۔ معطیان۔  
 معطوف لہ - (ع) - (ع) صفت) وہ جس کے لیے کچھ اٹھایا گیا ہو۔  
 معظّم - (ع) - (ع) صفت) بزرگی دیا گیا۔ بزرگ۔ بڑا شریف۔  
 واجب التعمیم۔  
 معظّمہ - (ع) - (ع) صفت) بزرگی عورت۔ محترم  
 خاتون۔ معظّمات۔  
 معظّمہ - (ع) - (ع) صفت) ہمیدہ۔  
 معقول - (ع) - (ع) صفت) عقل دیا گیا۔ عقل میں لایا گیا (۲) قون  
 عقل۔ پسندیدہ عقل (۳) مناسب۔ واجب۔ تمحیک۔ ہجا  
 درست دم، اچھا بھلا۔ پسندیدہ (۵) مہذب۔ ہمیدہ۔  
 شائستہ (۶) قابل۔ لائق۔ لائق۔ حسب اطمینان خاطر خواہ  
 (۸) موزوں۔ زیبا۔ شایان۔ چھپتا ہوا (۹) کافی (۱۰) قابل  
 ماننے والا (۱۱) مقابلے سے عاجز۔ بند۔ لاجواب (۱۲) وہ  
 جو خواہ چنگا نہ سے محسوس نہ ہو (۱۳) (طنزاً) کیا خوب (۱۴) فلسفہ  
 منطق جمع، معقولات۔  
 معقول آدمی - (ع) - (ع) صفت) اے مہذب آدمی۔ شائستہ انسان۔

سمجھ دار آدمی۔

معقول تنخواہ - (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) کوئی تنخواہ۔ اچھا مشاہرہ۔

معقول کرنا۔ (مجاورہ) قابل کرنا۔ لاجواب کرنا۔ عاجز کرنا۔

معقول می شوند جو معقول می شوند۔ (مٹ) مثل (جب لوگ اپنے مبدے سے ہٹا دیئے جاتے ہیں تو انہیں عقل آجاتی ہے۔

معقولات - (مٹ۔ قولات، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) معقول کی جمع۔ علوم حکمت و فلسفہ و منطق۔

معقولی - (مٹ۔ قولی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) معقول کی جمع۔ فلسفی۔

معقولیت - (مٹ۔ قولی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) انسانیت۔ سمجھ بوجھ پسندیدگی۔ مناسبت۔

مکسوس - (مٹ۔ کس، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) اٹا۔ اوندھا۔ ٹیڑھا۔

مغلا - (مٹ۔ غل، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) بلند کیا گیا۔ عالی۔ اونچا۔ بزرگ۔ منتظم۔

مغلی القاب - (ع۔ صف) بڑے القاب والا۔ عالی رتبہ عالی جاہ۔

مغلی - (مٹ۔ غل، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) لٹکا ہوا۔ آویزاں۔ لٹکا ہوا۔

مغلقہ - (ع۔ صف۔ مٹ) مغل کی تانیت۔ ٹکلی، ٹوٹی، وہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دے اور نہ اس سے تعلق قائم رکھے۔

معلم - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) علامت۔ نشانی (مجازاً) دنیا۔ جہاں۔

معلم - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) علم سکھانے والا۔ استاد۔ مدرس۔ ادیب۔ (مجاورہ) ۳، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) مدرسہ اور مدرسہ منورہ میں وہ شخص جو حج و عمرہ کرنے والوں کو دعائیں پڑھاتا ہے۔ (مغلی)۔

معلم الملکوت - (ع۔ ۱۶۔ ۱۔ مٹ) فرشتوں کا استاد۔ شیطان جس کی بابت مشہور ہے کہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔

معلم اول - (ع۔ ۱۶۔ ۱۔ مٹ) اسطو میں نے علم حکمت کو سب سے پہلے کتابت میں لاکر پڑھانا شروع کیا۔

معلم ثانی - (ع۔ ۱۶۔ ۱۔ مٹ) ابو نصر فارابی کا لقب جس نے اسطو کی کتب حکمت کا عربی میں ترجمہ کر کے تعلیم دینا شروع کیا۔

معلم ثالث - (ع۔ ۱۶۔ ۱۔ مٹ) ابو علی سینا کا لقب جس نے فارابی کے بعد اسطو میں تصنیف کیں۔

معلمہ - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) تعلیم دینے والی عورت۔

معلمی - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) (ع۔ ف۔ ۱۔ مٹ) بچوں کو پڑھانے کا پیشہ۔ مدرسہ۔ تالیفی۔

معلمین - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) اعلان کرنے والا۔

مغلول - (مٹ۔ لول، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) علت کیا گیا۔ وہ شے جس کا کوئی باعث یا سبب ہو۔ وہ چیز جسے علت یا اسباب سے ثابت کریں۔ ۲، اصطلاح منطق میں نتیجہ۔ پھیل۔ عمرہ۔

معلوم - (مٹ۔ لوم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) جانا گیا۔ تمیز کیا گیا، ظاہر ہوئی اور واضح۔ نمودار۔ مشہور۔ معروف۔ نام۔ نامعلوم۔ دستور۔

ان تک رسائی معلوم۔

معلوم دینا - (مجاورہ) دکھائی دینا۔ سوچنا۔ نظر آنا۔

معلوم کرنا - (مجاورہ) دریافت کرنا۔ کھوج لگانا۔ پتہ چلانا، سمجھنا۔ جانتا۔ خیال میں لانا۔ (مجاورہ) تمیز کرنا، دہم، تجربہ کرنا۔ آزمائش کرنا۔ جانچنا۔ امتحان کرنا۔

معلوم نہیں - (۱۶۔ ۱۔ مٹ) خبر نہیں۔ میں نہیں جانتا۔ خدا معلوم۔

معلوم ہوتا ہے - (مجاورہ) خیال گزرتا ہے۔ نظر آتا ہے۔

معلوم ہونا - (مجاورہ) ظاہر ہونا۔ سمجھ لگنا، (مجاورہ) دکھائی دینا۔ نظر آنا۔ سوچنا، (مجاورہ) تمیز ہونا۔ شناخت ہونا۔ پہچان میں آنا۔ دہم، محسوس ہونا۔ جس میں آنا، (مجاورہ) خیال گزرتا، (مجاورہ) سزا ملنا۔ پاداش کو پہنچنا، (مجاورہ) وقت پیش آنا۔ قدر عاقبت لگنا۔ تجربہ پڑنا۔

معلومات - (مٹ۔ لوم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) معلوم کی جمع۔ واقفیت۔ تجربہ۔ علمی لیاقت۔ محسوسات۔ علم۔

معلومہ - (مٹ۔ لوم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) جانی گئی۔ جس کا حال پہلے سے معلوم ہو۔

معملاً - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) چیتان۔ وہ بات جو بطور رمز بیان کی جائے (۳، بیچیدہ بات الجھا ہوا مسئلہ۔

معملاً محضاً - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) محض۔ پوشیدہ۔ مجہم۔ ناممکن۔

معملاً مشکل بات سلجھانا۔

معملاً کھلنا - (مجاورہ) پوشیدہ بات کا ظاہر ہونا۔ راز افشا ہونا۔

معملاً - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) عمارت بنانے والا۔ دلچ۔ مستری۔ معماری۔ (مٹ۔ ماری، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) راج گیری۔ عمارت سازی۔ مکان تعمیر کرنے کا پیشہ۔

معملاً - (مٹ۔ علم، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) عمر رسیدہ۔ بوڑھا۔ بڑی عمر کا کہن سال۔

معملاً - (ع۔ ۱۶۔ ۱۔ مٹ) عملی کرنے کی جگہ۔ تجربہ گاہ (Laboratory) معمور۔ (مٹ۔ مجور، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) معمور۔ (مجاورہ) آباد۔ بسا ہوا۔ (مجاورہ) بند۔ مغفل۔

معمور کرنا - (مجاورہ) بھرتا، (مجاورہ) آباد کرنا۔ بسانا، (مجاورہ) بند کرنا۔

بھرتا۔

معمورہ - (مٹ۔ مجورہ، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) آبادی۔ بستی، (مجاورہ) زمین۔ کاشت شدہ زمین (جمع) معمورات۔

معموری - (مٹ۔ مجوری، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) بھرتا، (مجاورہ) آباد ہونا۔

معمول - (مٹ۔ مول، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) عمل کیا گیا۔ وہ شخص جس پر عمل کیا گیا، (مجاورہ) وہ بات جو روزمرہ کی جائے (مجاورہ) دستور۔ قاعدہ۔ رواج۔ سرشت۔

معمول ہونا - (مجاورہ) دستور مقرر کرنا۔ روئے اختیار کرنا۔ قاعدہ باندھنا۔





مغضوب - (منع، صوبت) ۱ع۔ صفت غضب کیا گیا۔ جس پر غصہ ہو۔  
 مغفرت - (منع، ف۔ رشت، ۱ع۔ ۱۷-مشت) بخشش۔ نجات۔ رہائی۔ چھکارا۔  
 خلاصی۔ برأت۔  
 مغفور - (منع، ذر) (ع صفت) مغفرت کیا گیا۔ بخش گیا۔ مروجہ بہشتی۔  
 مغفل - (منع، غل) ۱ع۔ ۱۰-مذا) ایک قسم کا اصلی وطن منگولیا ہے۔ تاناری ترکوں  
 کا ایک اعلیٰ فرد ۱۲، سادہ دل، جمع، منڈاں۔ منول۔  
 مغفل پٹھان - ۱۷-مذا) ایک کھیل جو خانے کھینچ کر سولہ کھیلوں سے کھیلا  
 جاتا ہے۔  
 مغفل پٹھان لڑانا - ۱۷-معاورہ) کچھ پٹھانوں میں سے جو آواز نکلتی ہے اسے مغفل  
 پٹھان لڑا جاتے ہیں۔ کھد پدرونا۔ کھد پونا۔  
 مغفلا - (منع، لٹا، ات) ۱۰-مذا) منفل کا تصغیر۔  
 مغفلائی - (منع، لا۔ لی) ۱۷-مذا) منفل قوم کی عورت (۲) درزن۔ کپڑے  
 سینے والی عورت، خاص کر اس عورت کہتے ہیں جو خواتین مغفلیہ کے  
 خاص و صیغ اور تراش کے کپڑے سیا کرتی تھی ۳، محل سرا میں رہنے  
 والی خادمہ۔ ملازمہ۔ مارجج، منڈلیاں۔  
 مغفلائی - (منع، لا۔ ای) ۱ع۔ صفت) منفلوں کی طرز کا۔ منفلوں کی طرز و  
 روش کی چیز۔  
 مغفلظ - (رم۔ غل۔ لظ) ۱ع۔ صفت) گاڑھا ۲، ویز۔ موٹا۔ سخت۔ ہم مضبوط  
 دم۔ غش۔ ناپاک (۵) گندا۔ میلا۔  
 مغفلظ - (رم۔ غل۔ لظ) ۱ع۔ صفت) گاڑھا کرنے والا۔  
 مغفلظت - (رم۔ غل۔ لظ) ۱ع۔ صفت) غلٹاں (۱-مشت) موٹی موٹی گالیاں۔  
 غش باتیں۔  
 مغفلظت سنانا - غش گالیاں دینا۔ بڑی بڑی گالیاں دینا۔  
 مغشقی - (منع، لقی) ۱ع۔ صفت) بند کیا گیا۔ بند کیا ہوا۔ مقفل (۲) دقیق  
 منتقل۔ دور از فہم۔  
 مغشقم - (منع، لم) ۱ع۔ صفت) اغلام کرنے والا۔ موٹلی۔ لوہے سے باز۔  
 مغشولب - (منع، لوب) ۱ع۔ صفت) غلبہ کیا گیا۔ ہارا ہوا۔ مطروح۔ شکست  
 خوردہ (۲) دبا ہوا۔ عاجز۔ زیر۔ جمع۔ مغشولبان۔  
 مغشولب الغضب - (ع۔ صفت) جو غصہ جلد غشے میں آجھلنے۔  
 نیز مزاج۔ تند مزاج۔  
 مغشولب کرنا - ہانا، دبانہ، عاجز کرنا (۲) فح کرنا۔ تابلی کرنا۔ تھکانا۔  
 مغشولبتت - (منع، کوبلی، بیت) ۱ع۔ ۱۰-مشت) الاماعت۔ عاجزی۔ دباؤ۔ محکومیت  
 فرمال برداری۔  
 مغشولوط - (ع۔ صفت) غلط کیا گیا۔  
 مغشولوق - (ع۔ صفت) دروازہ بند کیا گیا۔  
 مغشولول - (ع۔ صفت) جس کی گردن میں لوق ڈالا گیا ہو۔  
 مغشلی - (منع، ل۔ ای) ۱ع۔ صفت) منفل سے منسوب۔  
 مغشلی چھوڑنا - ۱۷-مذا) ایک قسم کا چھوڑا جو بہت دلوں میں اچھا ہوتا ہے  
 اور بگ زب جیب کو گھٹا اور دیبا پور کی ریاستیں فتح کرنے و کون  
 گیا لڑائی لسنے عرصہ تک جاری رہی، کو عربی زبان میں آب و ہوا

سے سپاہیوں کے بدن میں بھوڑے ہو گئے جو بہت عرصہ میں  
 ٹھیک ہوتے تھے۔  
 مغشلی ٹوٹی - ۱۷-مشت) ایک قسم کی اُونچے گوشوں والی ٹوٹی۔  
 مغشلی ہاتھ - ۱۷-مشت) زبردست ہڈی۔ چڑھی چکی ہڈی۔ منفلوں کا چہرہ چوڑا  
 اور بدن کی ہڈیاں چکی ہوئی ہیں۔  
 مغشلی - (منع، لی، ف) ۱ع۔ صفت) منفل سے منسوب۔  
 مغشلی بیماری - ۱۷-مشت) آنکھوں کا ایک مرض جس میں ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے  
 ہیں۔ اُم الصبیان۔ پسلی کا غفل۔ مسان کا مرض۔  
 مغشلی بیچ - ۱۷-مشت) منفلوں کے داؤں گھات۔  
 مغشلی گھٹی - (ع۔ صفت) ایک خاص قسم کی گھٹی جو منفلوں میں بچوں کو دی  
 جاتی تھی۔  
 مغشلیہ - (رم۔ نقل، یا) (منع، لی۔ ی) ۱ع۔ صفت) منفل خاندان سے منسوب۔  
 جیسے منغلہ حکومت (۲) منفل قوم کا آدمی۔  
 مغشلم - (منع، منقول)۔  
 مغشورگم - (منع، موم) ۱ع۔ صفت) نعلین، رنجیدہ۔ طول۔ دل گیر۔ آرزو۔  
 غمزوہ۔ اداس۔ غمزدہ۔ پریشان۔  
 مغشلی - (منع، لی، ف) ۱ع۔ صفت) بے نیاز کر دینے والا۔ امیر یا آزاد کر دینے والا  
 (۲) غلامِ تعالیٰ کا ایک نام۔  
 مغشلی - (رم۔ غش، لی، ی) ۱ع۔ ۱۰-مذا) گھاسنے والا۔ گویا۔ دوم۔ میراث۔  
 مغشلیہ - (رم۔ غش، لی، ی) ۱ع۔ ۱۰-مشت) گانے والی عورت۔ دودھتی۔ میراث۔  
 مغشوی - (ع۔ صفت) گراہ کرنے والا۔ اٹھا کرنے والا۔  
 مغشویہ - (ع۔ ف۔ ۱-مشت) اغوا شدہ۔ وہ عورت جسے اغوا کیا  
 گیا ہو۔  
 مغشیلان - (رم۔ منی، لال) ۱ع۔ ۱-مذا) کیکر۔ ببول۔ ایک خادمہ اور رشتہ۔

## م-ف

مفاہیح - (رم۔ فایح) ۱ع۔ ۱۰-مشت) مفاہیح کی جمع۔ کہنیاں۔ جاہلیاں۔  
 مفاہیات - (رم۔ فایح) ۱ع۔ صفت) اچانک مدفعہ نگاہ۔ فوراً۔ یکایک  
 ناکال۔ آسنے والی۔  
 مفاہیشت - (رم۔ فایح) ۱ع۔ ۱۰-مشت) پڑائی۔ شجی۔ لاف زنی۔  
 ڈینگ۔ فخر۔ ناز۔ گمنڈ۔  
 مفاہد - (رم۔ فاد) ۱ع۔ ۱۰-مذا) فائدہ کی جگہ (۲) نفع۔ فائدہ۔ جمع۔ مفاہات۔  
 مفاہد پرست - (ع۔ ف۔ صفت) مطلبی۔ خود غرض۔ اپنے فائدے  
 سے غرض رکھنے والا۔  
 مفاہرت - (رم۔ فارت) ۱ع۔ ۱۰-مشت) مہدائی۔ فرقت۔ علمدگی۔  
 مفاہسد - (رم۔ فاسد) ۱ع۔ ۱۰-مشت) مفسدہ کی جمع۔ فساد۔ خرابیاں  
 بنائیاں۔ فتنے۔ جھگڑے۔  
 مفاہصل - (رم۔ فاحصل) ۱ع۔ ۱۰-مشت) مفصل کی جمع۔ ڈھی کے جوڑے۔ بند

مفاصلہ۔ رُم، فَا، ص، لہ، (ع۔ ۱۔ مذ) ہامی فرق۔ ووری۔ مسافت  
 (۲) وقفہ۔ دربر عرصہ۔  
 مفاوضات۔ رُم، فَا، و، ضات، (ع۔ ۱۔ مٹ) مفاوضہ کی جمع مرسلات  
 مکتوبات۔ وہ خطوط جو برابر والوں یا بزرگوں کو لکھے جائیں۔ وہ خطوط جو  
 اعلیٰ کی طرف سے ادنیٰ کو لکھے جائیں۔  
 مفاوضت۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) سپرد کرنا۔ ایک دوسرے کو سونپنا۔  
 مفاوضہ۔ رُم، فَا، و، ضہ، (ع۔ ۱۔ مٹ) خط بیچنی۔ نامہ مکتوب۔ جو  
 خط اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ہو۔ جمع، مفاوضات۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) بلا قیمت۔ بین داموں۔ بے عوض (۲) ناحق۔  
 بے فائدہ۔ لا حاصل (۳) صنایع (۱۳) اکارت۔ درانگال رُم بلا سبب  
 بے وجہ۔ بے قصور (۵) بیسے عمت۔ بیلا شقت۔  
 مَفْت انا۔ ۱۶۔ مجاورہ م بلا قیمت حاصل ہونا۔ بین داموں مل جانا۔  
 مَفْت برفان۔ مٹ بلا قیمت لے جانے والا۔ مَفْت خورا۔  
 مَفْت بہاؤنا۔ ۱۶۔ مجاورہ م قیمت پرستی پیچ ڈالنا۔  
 مَفْت جہی نہ لو پھینا۔ (۱۱۔ مجاورہ م نہایت بے قدری کرنا۔  
 مَفْت جان جانا۔ ۱۶۔ مجاورہ م ناحق مارا جانا۔  
 مَفْت خندا (مولیٰ)۔ (ن۔ مٹ) صنایع (۱۳) بیکار۔  
 مَفْت (خوب) خورا۔ (ن۔ مٹ) بلا عنت و اجرت کھانے والا۔  
 مَفْت راجہ گفت۔ (ن۔ مٹ) قول، جو جو چیز مَفْت ہے اس میں  
 کیا کلام۔  
 مَفْت ستال۔ (ن۔ مٹ) مٹ لے جانا۔  
 مَفْت ستانی۔ (ن۔ مٹ) مٹ مَفْت لینا۔  
 مَفْت کا۔ ۱۶۔ مٹ بے فائدہ۔ خواہ خواہ۔  
 مَفْت کا دروسر۔ ۱۶۔ مذ) بے فائدہ تکلیف۔  
 مَفْت کا شکار ہے۔ (۱۶۔ مجاورہ) بے شقت حاصل ہونے والی  
 چیز۔  
 مَفْت گرم و اشتتن۔ (ن۔ مٹ) خواہ خواہ احسان جانا۔  
 مَفْت کی ٹھائیں ٹھائیں۔ (۱۶۔ مٹ) بے کار بھگنا۔  
 مَفْت کی شراب۔ ۱۶۔ مٹ بین داموں کی چیز۔ بلا قیمت مال۔  
 مَفْت کی شراب قاضی کو بھی حلال ہے۔ ۱۶۔ مٹ) مَفْت کی چیز مال  
 کہنے میں باشرع آدمی بھی جائز دانا جائز کھانا نہیں کرتا۔  
 مَفْت لہنگار کرنا۔ ۱۶۔ مجاورہ م خواہ خواہ جھگڑے میں پھنسا دینا۔  
 مَفْت میں۔ ۱۶۔ مٹ) بے قیمت۔ بلا اجرت۔ یونہی۔ بین داموں (۲) ناحق  
 بلا سبب (۳) بیکار میں رُم، صنایع (۱۳) اکارت۔  
 مَفْت ہاتھ لگنا۔ ۱۶۔ مجاورہ م بلا داموں حاصل ہونا۔ بغیر محنت و  
 مشقت کے ملنا۔  
 مَفْت تاج۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) کچی چانی تالی جمع، مفاہج۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) فتح کرنے والا بیٹنے والا۔ فاتح (۲)  
 کھونے والا۔ وہ دو بوسندوں کو خارج کرے۔  
 مَفْتات۔ (ن۔ مٹ) فتح، فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) وہ دوائیں جو پتھری۔

مَفْت کے گنگلاوتی ہیں۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) فتح کرنے والا۔ شہنشاہ۔ ڈینگیا۔ لان زن۔  
 مَفْت کرنا، فرمانا۔ (۱۶۔ مجاورہ) فتح عطا فرمانا۔ عزت بخشنا۔  
 مَفْت حق۔ (ع۔ ۱۔ مٹ) فتح کیا گیا۔  
 مَفْت ضات۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مذ) مٹ) وہ چیزیں جو  
 فرض کی گئی ہوں۔  
 مَفْتی۔ (ن۔ مٹ) ی، (ع۔ ۱۔ مٹ) افترا بردار۔ الزام لگانے والا۔ بہتان  
 لگانے والا۔ (۲) شریہ۔ مفسد۔ (۳) باز۔ مَفْت۔  
 مَفْتش۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) لغتیں کرنے والا۔ دریافت  
 کرنے والا۔  
 مَفْتقر۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) فتح کرنا۔ غریب محتاج۔  
 مَفْتوح۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) کھولا گیا فتح کیا گیا۔ جیتا گیا (۳) وہ  
 حرف میں پر زبر ہو۔ جمع۔ مفتوحین۔ مفتوحان۔  
 مَفْتول۔ (ن۔ مٹ) تول، (ع۔ ۱۔ مٹ) مٹے میں ڈالا ہوا (۲) مٹکا۔ شیدا۔  
 فریفتہ۔ عاشق۔  
 مَفْتول ہونا۔ (۱۶۔ مٹ) مرکب م عاشق ہونا۔ شیدا ہونا۔  
 مَفْتی۔ (ن۔ مٹ) بقی، (ع۔ ۱۔ مذ) نونی بیٹے والا۔ حاکم شرع۔ فقیر۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مذ) قابل فتح۔ جس پر فتح کیا جاسکے۔ مائیناز  
 جمع۔ مفاخر۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) فتح کیا گیا۔ معزز۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) فتح کیا گیا۔ بزرگ۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مذ) مٹ مٹا گئے کی جگہ۔ جلے فرار۔  
 (۲) چارہ کار۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) مٹ مٹ دینے والا۔ خوش  
 کرنے والا۔ فرحت بخش (۲) اصطلاح طب میں وہ دوا جو  
 طبیعت کو فرحت بخشنے۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) مٹ مٹ دینے والی دوا۔  
 مَفْتات۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) مٹ مٹ دوائیں جو طبیعت کو  
 فرحت اور خوشی بخشتیں۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) مٹ مٹ دوا۔ (۲) واحد۔ ایک (۳)  
 غیر مرکب۔ لگانا۔ بکنا۔  
 مَفْت سوار۔ (ع۔ ۱۔ مذ) وہ سوار جو اکیلا میدان جنگ میں لڑے اور  
 کسی کی مدد کا محتاج نہ ہو۔  
 مَفْتات۔ (ن۔ مٹ) فات، (ع۔ ۱۔ مٹ) مٹ مٹ کی جمع۔  
 حروف جمعہ جب الگ الگ کیے جائیں جیسے۔ ا۔ ب۔ ت۔ د۔ ذ۔  
 ر۔ وہ کتاب جس میں مفرد دواؤں کا حال ہو (۲) امام راقب  
 اصحاب کی تفسیر قرآن کا نام۔  
 مَفْتس۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) فارسی بنا گیا۔ غیر زبان کا لفظ جیسے  
 فارسی بنائیں جیسے مَفْتس سے ڈبل۔  
 مَفْت۔ (ن۔ مٹ) فتح، (ع۔ ۱۔ مٹ) بہت زیادہ۔ افراط سے۔ کثرت سے۔

مُفْرور۔ (مُفْرَ، مُفْرِدٌ، مِ) صفت (بھاگا، بھاگا، فراری۔ ردپوش، ۲۱، وہ شخص جو کوئی جرم کر کے بھاگ جائے۔

مُفْروری۔ (مُفْرَ، مُفْرِدٌ، مِ) صفت (بھاگ جانا۔

مُفْرُوش۔ (مُفْرَ، مُفْرِدٌ، مِ) صفت (بھاگا گیا۔

مُفْرُوشِی۔ (مُفْرَ، مُفْرِدٌ، مِ) صفت (مفروض کیا گیا۔ مانگیا۔ فرضی قیاسی۔

مُفْرُوضِی۔ (مُفْرَ، مُفْرِدٌ، مِ) صفت (مفروض کیا، ہوا۔ وہ بات جیسا استدلال کی بنیاد کے طور پر مان لی جائے۔

مُفْرُوق۔ (مُفْرَ، مُفْرِدٌ، مِ) صفت (مفروق کیا گیا۔ جدا کیا گیا، ۲۲، وہ عدد جسے کسی عدد میں سے تقویٰ کیا گیا ہو۔

مُفْرُوقِی۔ (مُفْرَ، مُفْرِدٌ، مِ) صفت (وہ عدد جس میں سے کوئی عدد تقویٰ کیا گیا ہو۔

مُفْسِد۔ (مُفْسَدٌ، مِ) صفت (فساد کرنے والا۔ خرابی ڈالتے والا جھگڑا، ۲۳، باغی۔ بغاوت کرنے والا، ۲۴، لوگوں کو آپس میں لڑانے والا۔ شریر۔ جمع۔ ۱۔ مفسدین۔

مُفْسِدَان۔ (مُفْسَدٌ، مِ) صفت (مفسدین کی مانند فسادپوں کی طرح۔ قتلہ پردازوں کی طرح۔ باغیانہ۔

مُفْسِدِی۔ (مُفْسَدٌ، مِ) صفت (فساد۔ جھگڑا۔ فساد۔ ہلوا۔

مُفْسِدِی۔ (مُفْسَدٌ، مِ) صفت (فساد اٹھانا۔ جھگڑا کرنا۔

مُفْسِدِی۔ (مُفْسَدٌ، مِ) صفت (فسادی۔ جھگڑالو۔ قتلہ آئینہ۔ شریر۔

مُفْسِدِی۔ (مُفْسَدٌ، مِ) صفت (مفسدین کی طرف سے۔ شرارت۔

مُفْسِر۔ (مُفْسِرٌ، مِ) صفت (تفسیر کرنے والا۔ شارح۔ مسلمانوں کی اصطلاح میں کلام مجسمہ کے معنی اور مطلب بیان کرنے والا۔

مُفْصِل۔ (مُفْصِلٌ، مِ) صفت (مفصل۔ بیان کا جوڑ۔ اعضاء کا جوڑ۔

مُفْصِل۔ (مُفْصِلٌ، مِ) صفت (مفصل۔ بیان کرنا۔

مُفْصِل۔ (مُفْصِلٌ، مِ) صفت (مفصل۔ بیان کرنا۔

مُفْصِل۔ (مُفْصِلٌ، مِ) صفت (مفصل۔ بیان کرنا۔

مُفْصِل۔ (مُفْصِلٌ، مِ) صفت (مفصل۔ بیان کرنا۔

مُفْصِل۔ (مُفْصِلٌ، مِ) صفت (مفصل۔ بیان کرنا۔

مُفْصِل۔ (مُفْصِلٌ، مِ) صفت (مفصل۔ بیان کرنا۔

مُفْصِل۔ (مُفْصِلٌ، مِ) صفت (مفصل۔ بیان کرنا۔

بھوا، ہو۔

مُفْعُولِ تَانِی۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (مفعول کا دوسرا مفعول جیسے کہ ہم نے پنسل سے لکھا ہے۔

مُفْعُولِ فِیہ۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (مفعول جو وقوع فعل کے مکان یا زمانے پر دلالت کرے یعنی جس میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ جیسے

تمہوں نے صبح گھر پر سبق یاد کیا۔ اس میں صبح اور گھر مفعول نہیں۔

مُفْعُولِ لہ۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (مفعول جو فعل کے سبب پر دلالت کرے جیسے حامد نے کتاب پڑھنے کے لیے مانگی۔

مُفْعُولِ کَالْمِ لِسْتَمِ فَاغْلَہ۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو فاعل کا

مُفْعُولِ مَطْلُوق۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ حاصل مصدر جو بطور مفعول کے فعل کے ساتھ مذکور ہو۔ جیسے تم کسی چال چلتے ہو۔

مُفْعُولِ مَعْنٰی۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو ہمیشہ مفعول کے ساتھ شریک حال ہو جیسے

انہوں نے نام کے ساتھ کھانا کھایا۔

مُفْعُولِ مِثْل۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو فعل کے آکر ہونے پر دلالت کرے

جیسے بڑھتی ہوئی آری سے کڑھی پھری، میں آری۔

مُفْعُولِ مَعْنٰی۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو ہمیشہ مفعول کے ساتھ شریک حال ہو جیسے

انہوں نے نام کے ساتھ کھانا کھایا۔

مُفْعُولِ مِثْل۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو فعل کے آکر ہونے پر دلالت کرے

جیسے بڑھتی ہوئی آری سے کڑھی پھری، میں آری۔

مُفْعُولِ مَعْنٰی۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو ہمیشہ مفعول کے ساتھ شریک حال ہو جیسے

انہوں نے نام کے ساتھ کھانا کھایا۔

مُفْعُولِ مِثْل۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو فعل کے آکر ہونے پر دلالت کرے

جیسے بڑھتی ہوئی آری سے کڑھی پھری، میں آری۔

مُفْعُولِ مَعْنٰی۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو ہمیشہ مفعول کے ساتھ شریک حال ہو جیسے

انہوں نے نام کے ساتھ کھانا کھایا۔

مُفْعُولِ مِثْل۔ (مُفْعِلٌ، مِ) صفت (وہ مفعول جو فعل کے آکر ہونے پر دلالت کرے





ہونے تھے۔  
**مقام مصلیٰ** - (ع-۱) مذم کبیر شریف میں وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنے نماز پڑھتی تھی۔

**مقام معین** - (ع-۱) مذم مقرر جگہ۔ خاص جگہ۔

**مقام ہمو** - (ع-۱) مذم سننے کی جگہ۔

**مقام آہوتا** - (ع-۱) مذم محاورہ، ٹھہرنا۔ قیام ہونا۔

**مقامات** - (ع-۱) مذم مقام کی جمع (۱۲) احکام، قواعد (۳) علم موسیقی کے بارہ پرے۔

**مقام مرہم** - (ع-۱) مذم قمار باز۔ جواری۔

**مقام مرت** - (ع-۱) مذم قمار بازی۔ جو بازی۔

**مقامی** - (ع-۱) مذم قمار، سکن۔ قلم (۲) کسی خاص جگہ سے متعلق (۳) لوکل۔

**مقامی رنگ** - (ع-۱) مذم کسی مقام کا انداز۔ وہ انداز جو کسی زمین، جگہ یا علاقے سے منسوب ہو۔

**مقاومت** - (ع-۱) مذم قیامت، مقابلہ۔ برابری۔

**مقبرہ** - (ع-۱) مذم قبر کی جگہ۔ روضہ، درگاہ۔ مزار، گور۔

**مقبرہ** - (ع-۱) مذم عمارت جو قبر پر بنائی جائے (جمع) مقابر۔

**مقبول** - (ع-۱) مذم قبول، قبول کرنے والا (۲) اقبال مند۔ دولت مند۔ صاحب اقبال۔ بجاگ وان (۳) روئید ہونے والا۔

**مقبول** - (ع-۱) مذم قبول کیا گیا۔ روئید کیا گیا۔ منہ چرٹھا۔

**عزت والا**۔

**مقبوض** - (ع-۱) مذم قبضہ کیا گیا۔ بچھا گیا۔ قبضہ میں لیا گیا۔

**مقبوضہ** - (ع-۱) مذم قبضہ کیا گیا۔ وہ چیز جس پر قبضہ کیا جائے۔ جمع۔ مقبوضات۔

**مقبول** - (ع-۱) مذم قبول کیا گیا۔ مانا گیا۔ پسندیدہ۔ برگزیدہ۔ پیارا۔ محبوب۔ جمع۔ مقبولین۔ مقبولان۔

**مقبول بارگاہ** - (ع-۱) مذم صفت خدا کا پیارا۔ محبوب الہی۔

**مقبول ہونا** - (ع-۱) مذم قبول ہونا۔ پسندیدہ ہونا۔ منظور ہونا۔

**مقبولیت** - (ع-۱) مذم قبولیت۔ اجابت۔ منظوری۔

**مقبول** - (ع-۱) مذم قبول کرنے والا۔ روشنی لینے والا۔ دوسرے شخص سے فائدہ اٹھانے والا۔

**مقبول** - (ع-۱) مذم قبول کیا گیا۔ فائدہ اٹھایا گیا۔

**مقبول** - (ع-۱) مذم قبول کیا گیا۔ وہ شخص جس کی لوگ پیروی کریں۔ پیشوا۔ رہنما۔ جمہ۔ مقتدیان۔

**مقبول** - (ع-۱) مذم قبول کرنے والا۔ طاقتور۔ قوی۔ زور آور۔ معزز۔

**مقتدی** - (ع-۱) مذم پیروی کرنے والا۔ پیرو (۲) امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا۔

**مقتضا** - (ع-۱) مذم تقاضا کیا گیا، مجازاً۔ مطلب۔ مراد۔ چلا گیا۔ خواہش کی گئی۔ موقع مناسب۔ مصلحت۔

**مقتضائے الصاف** - (ع-۱) مذم انصاف کی نڈ سے۔ انصاف کے مطابق۔

**مقتضائے وقت** - (ع-۱) مذم مناسب وقت۔ حسب تقاضائے وقت۔ مصلحت۔ وقت کے مطابق۔

**مقتضیٰ** - (ع-۱) مذم ضابطہ، صفت (کالا گیا، کالا گیا، عروسی کی ایک بجر۔

**مقتضیٰ** - (ع-۱) مذم جنی، تقاضا کرنے والا۔ خواہش کرنے والا۔ چاہنے والا۔

**مقتل** - (ع-۱) مذم قتل کرنے کی جگہ۔ مذبح۔ مسلخ۔ کیلا۔

**مقتول** - (ع-۱) مذم قتل کیا گیا۔ مارا گیا (۲) مہارت عاشق۔ ذریعہ۔ بیخ و مشقین۔

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) اندازہ۔ شمار۔ وزن۔ قول (۲) جسامت۔ ذیل ڈول (۳) تعداد۔ رقم (۴) مجموعہ۔ میزان۔ جوڑ۔ حاصل (۵) پھیلاؤ۔ وسعت۔ ربح۔ مقدار۔

**مقدار متبہ** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی طرف جمع کی علامت ہو۔

**مقدار مجہول** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی

**مقدار مرکب** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کے کئی اجزاء

**مقدار معروف** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کے کئی اجزاء

**مقدار منفیہ** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

**مقدار** - (ع-۱) مذم (۱) جبرو مقابلہ میں وہ مقدار جس کی دہنی

مقدّم چمکانا ۱۶- محاورہ تقدیر جاننا۔ مجھے دن آنا۔ قسمت یاد رہنا۔  
 مقدّم ڈھیلوں سے پھوڑنا ۱۷- محاورہ کنایہ ہے بد قسمت ہے۔  
 مقدّم راستے پر آنا ۱۶- محاورہ قسمت سیدھی ہو جانا۔ اقبال کے دن آنا۔  
 مقدّم سامنے ہونا ۱۶- محاورہ قسمت موافق ہونا۔ طالب یاد ہونا۔  
 مقدّم سے زور نہیں چلنا ۱۶- محاورہ تقدیر کے سامنے تدبیر کارگر نہیں ہوتی جو قسمت میں ہے ہو کر رہتا ہے۔  
 مقدّم سو جانا ۱۶- محاورہ تقدیر کا برخلاف ہو جانا۔  
 مقدّم سیدھا ہونا ۱۶- محاورہ قسمت موافق ہونا۔  
 مقدّم کا توجیح ۱۶- مذم تقدیر کا کچھ۔  
 مقدّم کا سچو ۱۶- مذم قسمت کی کدھن۔  
 مقدّم کا ٹروٹ لینا ۱۶- محاورہ تقدیر بدلنا۔ اقبال مندی کا زمانہ آنا۔  
 مقدّم کا لکھا ۱۶- مذم لاشعہ تقدیر۔  
 مقدّم کا ہمیشہ ۱۶- صفت مذم قسمت۔ بد نصیب۔  
 مقدّم کے آگے کسی کی نہیں چلتی ۱۶- (شکل) لاشعہ تقدیر کے خلاف کسی کا زور نہیں چلنا۔  
 مقدّم لڑنا ۱۶- محاورہ قسمت موافق ہونا۔ اقبال یاد ہونا۔  
 مقدّم میں لکھا ہونا ۱۶- محاورہ لاشعہ تقدیر ہونا۔  
 مقدّم نہیں ہونا ۱۶- محاورہ تقدیر میں ہونا۔  
 مقدّم تہ - رفق - و - زرت - ع - ف - صفت قدرت طاقت قوت (۲) بساط - حیثیت۔  
 مقدّم س - رفق - و - ع - ف - مذم پاک جگہ - پاک جیسے بیت المقدس جمع مقدس۔  
 مقدّم س - مذم - ذم - ع - صفت پاک کیا گیا (۲) پاک معصوم بے گناہ (۳) بھنگ - پارسا - فرشتہ فصاحت۔  
 مقدّم س کتاب ۱۶- ع - صفت پاک کتاب آسمانی کتاب جیسے تورات زبور انجیل - قرآن مجید۔  
 مقدّم صہ - مذم - ذم - ع - صفت پاک - جیسے مقامات مقدّم (۲) صفت پاک عورت۔  
 مقدّم - رفق - ذم - ع - مذم آگہ - درود - تشریف آوری - قدم آریج فریانی - ردیف افزوی (۲) جگہ جہاں سے کئی آئے (۳) پاؤں رکھنے کی جگہ۔  
 مقدّم - مذم - ذم - ع - صفت ابرو کو آگے جانے والا پہاڑ (۲) پیش کرنے والا خدا تعالیٰ کا ایک نام۔  
 مقدّم - مذم - ذم - ع - صفت پیش کیا گیا - آگے کیا گیا (۲) پہلا - گلا - گزشتہ - سابقہ - قدیم (۳) اعلیٰ - اونچا - معزز - بڑے بزرگ (۴) واجب - فرض - ضروری - لازم - مناسب (۵) آگے کا حصہ (۵) گاؤں کا نمبر دار - چودھری - سرکردہ۔ (۶) زمین داروں میں ایک عزت کا لقب (۸) حساب پہلی

رقم (۹) تصابوں کی اصطلاح میں ران کا وہ حصہ جو چوٹ سے ملتی ہے (۱۰) منطبق میں شرط کا پہلا جز۔ قضیہ (۱۱) نجوم کی اصطلاح میں نمبر کی جمبوسری منزل۔  
 مقدّم جاننا کسی کام کا سب سے اول خیال رکھنا۔ ترجیح دینا (۲) اچھا سمجھنا۔ واجب جاننا۔ لازم قرار دینا۔  
 مقدّم جاننا (۳) سمجھنا۔ (۱۶) محاورہ زیادہ ضروری جاننا۔ کسی کام کو اول خیال کرنا۔  
 مقدّم ہونا ۱۶- محاورہ پہلے ہونا۔ کسی کام کا زیادہ ضروری ہونا۔  
 مقدّم سے ترجیح ہونا۔  
 مقدّمات - مذم - قذ - و - مات - ع - ا - مذ (۱) مقدّم کی جمع (۲) مقدّم سے معاملات۔  
 مقدّمہ - مذم - ذم - ع - ا - مذ (۱) آگے جانے والا (۲) آگے جانے والا (۳) فوج کا وہ حصہ جو آگے بھج دیا جائے۔ ہر اول (۳) دیا چہ - تمہید۔  
 مقدّمہ الجیش (۲) - ا - مذ (۱) وہ لشکر جو آگے بھیج دیا جائے۔ ہر اول فوج (۲) پیش خیر (۳) فوج کا حکم اعلیٰ سے سالار - سرغنہ۔  
 مقدّمہ - مذم - قذ - و - ع - ا - مذ (۱) ناش - دعویٰ - استناد - حلاوت - حق و حاکمیت واقع (۲) معاملہ موقع (۳) بات - مسئلہ۔  
 مقدّمہ اٹھانا ۱۶- محاورہ جھگڑا کھڑا کرنا۔  
 مقدّمہ باز - ع - ف - صفت وہ شخص جسے مقدّم سے لڑنے کا بہت شوق ہو۔  
 مقدّمہ بازی - ع - ف - ا - صفت (۲) ناش - عدالتی چاہہ چوٹی عدالت میں مقدمہ لڑنا۔  
 مقدّمہ بنانا ۱۶- محاورہ جھڑپا دعویٰ تیار کرنا۔  
 مقدّمہ جیتنا ۱۶- محاورہ عدالت سے دعوے میں کامیاب ہونا۔  
 مقدّمہ داخل دفتر ہونا ۱۶- محاورہ مقدمہ کی کارروائی بند ہونا۔  
 مقدّمہ قابل دست اندازی پولیس - ع - ف - ا - مذ (۱) وہ مقدمہ جس میں پولیس آفیسر وارنٹ کے خلاف کرے۔  
 مقدّمہ کھڑا کرنا ۱۶- محاورہ جھگڑا اٹھانا۔ نسا پیدا کرنا۔  
 مقدّمہ لڑنا ۱۶- محاورہ ناش کرنا۔ دعویٰ پیش کرنا۔  
 مقدّمہ مرتب کرنا ۱۶- محاورہ مقدمہ کو ترتیب دینا۔  
 مقدّمی - مذم - قذ - و - ع - ف - صفت مقدم کا پیشہ نمبر داری کا عہدہ (۲) مقدم کے حقوق (۳) مقدم کے متعلق۔  
 مقدّم و تر - رفق - و - ع - ف - ا - مذ (۱) قدرت - طاقت - قوت - نند - نلی - شکست - پوتا (۲) حوصلہ - تاب - مجال (۳) حیثیت - مجال - گنجائش - قابلیت - سمائی (۴) پس - قابو - دسترس - اختیار (۵) رسائی - پہنچ - وسیلہ - ذریعہ - ہمارا (۶) برأت - دلیری (۷) دولت - ثروت - مایہ۔  
 مقدّم و بھر (کتاب) - (۱) تابع فعل (۲) جہاں تک ممکن ہو۔ حدیث طاقت کے مطابق۔

مقدور چلنا - ۱۷- محاورہ (۱) بس چلنا۔ قابو چلنا۔ زور چلنا۔

مقدور رکھنا - ۱۷- محاورہ (۲) قدرت رکھنا۔ حوصلہ رکھنا۔ جرأت رکھنا۔  
دولت مند ہونا۔

مقدور سے باہر پاؤں رکھنا - ۱۷- محاورہ (۳) حیثیت سے بڑھ کر چلنا۔ اپنی حد سے آگے بڑھنا۔

مقدور کی بات - ۱۷- معنی (۴) درپے کا کھیل۔ دولت کی بات۔

مقدور والہ - ۱۷- صفت (۵) صاحب دولت۔ امیر۔ پیسے والا۔

مقدور ہونا - ۱۷- محاورہ (۶) حوصلہ ہونا۔ تاب ہونا۔ جال ہونا۔ قالی ہونا۔ بساط ہونا۔ حیثیت ہونا۔ زور ہونا۔ مال و دولت ہونا۔ زور ہونا۔ طاقت ہونا۔ سالی ہونا۔

مقدور نیبہ - (مقن - مؤ - بن - یہ -) (۷-۱) مذم ایوان کے شمال میں ایک شہر جو سکندر اعظم کا پایہ تخت تھا۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۸-۱) صفت (۹) اقرار کرنے والا۔ حاکم کار۔ اقراری۔ معترف۔

مقدور کرنے والا ماننے والا - تسلیم کرنے والا۔

مقدور مجرم - (۱۰-۱) مذم وہ مجرم جس نے اپنے مجرم کا اقرار کر لیا ہو۔

مقدور ہونا - (۱۱-۱) معنی مرتب (۱۲) اقرار کرنا۔ ماننا۔ تسلیم کر لینا۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۱۳-۱) مذم چلنے قرار۔ ٹھہرنے کی جگہ۔ مسکن قیام قرار گاہ۔

مقدور خلافت - (۱۴-۱) مذم دارالحکومت۔ دارالسلطنت۔

مقدور تحت راج دھانی -

مقدور ہونے پر حق - (۱۵-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور کی طرح زبان چلنا - (۱۶-۱) محاورہ (۱۷) بہت تیزی سے بولنا۔ جلدی جلدی باتیں کرنا۔

مقدور اضمہ - (مقن - ر - مذ -) (۱۸-۱) مذم ایک قسم کا ترجمان کا پھل قینچی کی طرح دو شاخہ ہوتا ہے (۱۹-۲) گلگشیر۔ گل تراش (۲۰-۳) ایک قسم کا گل۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۲۱-۱) صفت (۲۲) قریب کیا گیا۔ بزرگی دیا گیا

(۲۳-۱) مذم وہ شخص جسے قربت حاصل ہو۔ صاحب خاص دوست۔ ہمارے منہ پر ٹھا۔ منہ لگا۔ جمع۔ مقربین۔ مقربان۔

مقدور بارگاہ - (۲۴-۱) (۲۵-۱) مذم وہ شخص جسے دربار میں آنے کی اجازت حاصل ہو۔ بادشاہ کے پاس رہنے والا۔ معزز درباری۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۲۶-۱) صفت (۲۷) قرار کیا گیا۔ ٹھہرایا گیا۔ بچایا گیا۔

(۲۸-۳) تعینات۔ مامور۔ متین۔ دم۔ مہد کیا گیا (۲۹) بلا شبہ یقیناً۔ مزور۔

مقدور کرنا - (۳۰-۱) معنی مرتب (۳۱) اقرار کیا گیا۔ ٹھہرایا گیا۔ بچایا گیا۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۳۲-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۳۳-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۳۴-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۳۵-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۳۶-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۳۷-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۳۸-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۳۹-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۰-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۱-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۲-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۳-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۴-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۵-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۶-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۷-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۸-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۴۹-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۵۰-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۵۱-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۵۲-۱) معنی قینچی - کترن۔

مقدور - (م - ق - ط -) (۵۳-۱) معنی قینچی - کترن۔

صلی اللہ علیہ وسلم۔

مقصود۔ رفق (مؤن) (ع۔ ص) کہہ لیا گیا۔ چھوٹا کیا گیا۔

مقصودہ۔ (ع۔ ص) مقصود کی ثابت ۲، مسجد میں امام کے کھڑے

ہونے کی جگہ۔

مقطر۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) پڑھ لیا ہوا، نظرہ قطرہ کر کے ٹپکا یا ادر

صاف کیا ہوا۔

مقطع۔ رفق (مؤن) (ع۔ ص) غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر

کا تخلص آتا ہے۔

مقطع کا بند۔ (ع۔ ص) نظم کا آخری بند جس میں شاعر کا تخلص ہوا (۲) وہ خاص بات

جس کا کتبنا یا لکھنا اصل مقصود ہو۔

مقطع۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) تراشا ہوا۔ چھانٹا ہوا۔ تراکش

خراش سے آراستہ کیا ہوا۔ (۲) ہنڈب۔ سنجیدہ۔ شائستہ (۳)

قابل اعتبار۔ مستند۔

مقطع وارضی۔ (ع۔ ص) (۱) مشق کے مطابق تراشی ہوئی وارضی۔

مقطع صورت۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ شکل۔

مقطعات۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) (۱) کچھ کے ٹکڑے۔ کتہیں۔

ریشمی پورے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے (۲) بحر بزم کے اشعار۔

سبک وزن اشعار (۳) وہ حرف جو قرآن شریف کی بعض سورتوں کے

شروع میں آتے ہیں جیسے الحمد للہین۔

مقعد۔ رفق (مؤن) (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ چھوٹے کی جگہ۔ ڈب۔ گول۔

مقعد۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مفضل۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مفضیل کرنا۔ فضل لگانا۔ تالا لگا کر بند کرنا۔

مفضلی۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقلب۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقلب القلوب۔ دلوں کو پھیر دینے والا۔ خدائے تعالیٰ۔

مقلد۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقلد۔ (۲) نقال۔ مسخرہ (۳) وہ مسلمان جو چاروں اماموں کو ماننا ہو۔

مجمع بہ مقلدین۔

مقلوب۔ (م۔ فظ۔ ظ) (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

صنعت کا نام جس کی عبارت سیدھی اُلٹی یکساں پڑھی جائے

جیسے شاہ ش۔

مقلوب بعض۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

کہیں ملا کر عبارت موزوں کر لیں۔ ارم سے سام

مقلوب کل۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقلوب مستوی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقلوب مستوی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقلوب مستوی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقلوب مستوی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

مقناطیسی۔ (ع۔ ص) (۱) ہنڈب۔ گول۔

**مکارتھ** - (مق- قیش، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) سونے چاندی کے تار۔ سونے

چاندی کے تاروں کا بنا ہوا پتلا جیسے ذری۔ ہادر۔ الطس۔  
تھامی تاش۔

**مکارتھی** - (مق- کاردہ، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکارتھ عورت - فریبی۔

**مقیشی** - (مق- قیش، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) سونے چاندی کے تاروں کا ذریعت

**مکاسب** - (مق- کاسب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاسب کی جمع - ہنر- پیشہ۔

**مقیشی ڈاڑھی** - (مق- قیش، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) زردی مائل سفید ڈاڑھی۔ خوبصورت

**مکاشفت** - (مق- کاشفت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاشفت کا کشت -

**مقیشی براق ڈاڑھی** - (مق- قیش، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) سفید براق ڈاڑھی۔

**مکاشفہ** - (مق- کاشفہ، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاشفہ کا کشت -

**مقیشی گوگھرو** - (مق- قیش، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) ایک قسم کا گوگھرو تاروں کو موڑ کر بنایا

**مکاشفہ** - (مق- کاشفہ، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاشفہ کا کشت -

**مقیشی براق ڈاڑھی** - (مق- قیش، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) سفید براق ڈاڑھی۔

**مکاشفہ** - (مق- کاشفہ، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاشفہ کا کشت -

**مقیشی براق ڈاڑھی** - (مق- قیش، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) سفید براق ڈاڑھی۔

**مکاشفہ** - (مق- کاشفہ، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاشفہ کا کشت -

**مقیشی براق ڈاڑھی** - (مق- قیش، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) سفید براق ڈاڑھی۔

**مکاشفہ** - (مق- کاشفہ، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاشفہ کا کشت -

## م-ک

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

**مکان** - (مق- کانت، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکان کی جمع - مکان۔

**مکاب** - (مق- کاب، ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰) صفت (مکاب کی جمع - مکاب۔

مکتبہ کتب - ایک کتاب (ع) صفت آنکھ میں شرم لگا ہوا۔  
 مکتبہ سبب - ایک کتاب (ع) صفت کتاب کرنے والا۔ حاصل کرنے والا۔ فائدہ اٹھانے والا۔

مکتبہ نشی - ایک کتاب (ع) صفت کاپی پورا دوانی۔  
 مکتوب - ایک کتاب (ع) - مذکورہ لکھا گیا۔ لکھا ہوا خط نامہ۔ چھٹی۔

مکتوب الہی - (ع) - مذکورہ جس کے نام خط لکھا جائے۔

مکتوبہ - ایک کتاب (ع) صفت اچھا ہوا پوشیدہ۔ مخفی۔

مکتوبہ (س) - (ع) دیکھیے مکت۔  
 مکتی فوج - (ع) عیسائیوں کی ایک جماعت جس کا کام لوگوں میں عیسائیت کی تبلیغ کرنا ہے۔ (انگ)

(Salvation Army)

مکت - (ع) - (ع) مور تاج - وہ تاج جو ہندوؤں میں دلہا کے سر پر رکھتے ہیں۔

مکت مال - (ع) موتی کا تار۔

مکتا - ایک مٹا (ع) - مذکورہ پورا کرنے کی روشنی صحت۔

مکتا - (ع) - مذکورہ در وقت - دفعہ - ڈھیلے - ہجر تاجر - التوا - انتظار - سہل انگاری۔

مکتبہ - ایک کتاب (ع) - مذکورہ سرمردانی۔

مکتبہ - ایک کتاب (ع) - مذکورہ سرمردانے کا آلہ۔ سلاٹ۔

مکتبہ - ایک کتاب (ع) - صفت سرمردانے کی ہول آنکھ۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتبہ - (ع) - کذرت - (ع) صفت کدورت آمیز - کدلا - میٹلا - ہول تاروں کی بوندہ بنیں۔

مکتوبہ بندہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔

مکتوبہ - (ع) - مذکورہ میرے محترم - جناب من - بندہ پرورد بندہ نواز - بزرگوں کا القاب۔











ملا مرث - (م۔ ل۔ مٹ،) (ع۔ ا۔ مٹ) بڑا جھلا۔ جھروکی ڈانٹ ڈپٹ۔ سرزنش  
 لسن طین۔ فقیریت۔ دھتکار۔  
 ملا مرث کرنا - (ج۔ ا۔ مٹ) بڑا جھلا کہنا۔ جھوٹا۔  
 ملا متی - (م۔ ل۔ مٹ،) (ع۔ صفت) لعنتی لعنت کہا گیا مردود ۲، فقیروں  
 کا ٹولہ جو بظاہر احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتے مگر چھپ کر عبادت  
 کرتے ہیں۔

ملا ن - (م۔ ل۔ ن،) (ع۔ ا۔ مٹ) مقابلہ۔ تقابلی ۲، ملاپ - (تخار۔ اتفاق ۳،  
 فیصلہ۔ تصفیہ ۴،) (م۔ میزان -  
 ملا نا - (م۔ ل۔ ن،) (ع۔ مصلح) مطابق کرنا۔ مطابق کرنا۔ فرق نکالنا، ٹکرت کرنا۔  
 آمیز کرنا (۳)، شناسائی کرنا، ملاقات کرنا، شامل کرنا۔ ملحق کرنا (۵)، رازدار  
 بنانا۔ گمانٹھا ۲، لانا۔ مقابلہ کرنا۔  
 ملا نا - (م۔ ل۔ ن،) (ع۔ ا۔ مٹ) تھیرے ملا کر کہتے ہیں ۲، مسجد کی کوئی یاں  
 کھانے والا ۳، سیدھا سا آدمی ۴، صرف دین کی باتیں جاننے والا۔

ملا شہار - (م۔ ل۔ شہار،) (ع۔ ا۔ مٹ) طمانے والا۔  
 ملا تانی - (م۔ ل۔ تانی،) (ع۔ ا۔ مٹ) ملائی ہوئی۔ معتمد۔ آسانی۔  
 ملا نئے کھلانا - (ج۔ ا۔ مٹ) ملاؤں کی دعوت کرنا۔ مستحقوں کو کھانا کھانا۔  
 مسکینوں کو کھانا۔

ملا وا - (ع۔ ملاپ۔ وصل -  
 ملا ڈوٹ - (م۔ ل۔ ڈوٹ،) (ع۔ ا۔ مٹ) آمیزش۔ کھوٹ ۲، سازش۔  
 ملا ٹک (ملا ٹکھ) - (ع۔ ا۔ مٹ) ٹک کی جمع۔ فرشتے۔  
 ملا ٹم - (م۔ ل۔ ٹم،) (ع۔ صفت) نرم۔ چپلا ۲، بڑباد۔ ملیم ۳، (ا۔ مٹ)  
 ٹازک۔ ڈوبلا پتلا۔

ملا ٹم چارہ - (ع۔ ا۔ مٹ) مکی غذا۔ جلہ۔ چاول۔ کچھڑی وغیرہ۔  
 ملا ٹم کرنا - (ج۔ ا۔ مٹ) دھماکانا۔ ٹھنڈا کرنا۔ خفہ فرود کرنا۔ ۲، نرم کرنا۔  
 زمانا۔  
 ملا ٹمٹ - (م۔ ل۔ ع۔ مٹ،) (ع۔ ا۔ مٹ) نرمی ۲، نزاکت۔ لاغری۔  
 ۲، موافقت۔ مناسبت۔

ملا وا - (م۔ ل۔ وا،) (ع۔ ا۔ مٹ) میل۔ آمیزش۔ کھوٹ۔  
 ملائی - (م۔ ل۔ ای،) (ع۔ ا۔ مٹ) دوڑھ پادی کے اوپر کی پیچڑی ۲، گھوڑے کا  
 پٹا، ۳، گھوڑا سٹنکی اُمرت۔

ملائی پڑنا - (ج۔ ا۔ مٹ) دوڑھ پادی کے اوپر پیچڑی جتنا۔  
 ملائی یاں کھانا - (ج۔ ا۔ مٹ) دوسرے کے مال سے نفع حاصل کرنا۔  
 ملنا - (م۔ ل۔ نا،) (ع۔ ا۔ مٹ) کوڑا کرکٹ۔ خس و خاشاک ۲، گرسے ہوئے مکان کی  
 اینٹیں مٹی وغیرہ۔ پچانا مسالا۔  
 ملبا خرچ - (ج۔ ا۔ مٹ) وہ رقم جو خیر دار کا شکاںوں سے جمع کر کے انہوں کی اذیت  
 میں خرچ کرتے ہیں۔

مل بانٹ کے - (ع۔ ا۔ مٹ) بانٹ کے ساتھ۔ نفع میں شریک ہو کر۔  
 مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ صفت) لبا لب بھرا ہوا۔ لیریز۔ مزیح  
 مبرہا ہوا۔ بھر پور۔

مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ صفت) لباس پہنے ہوئے ۲، حطط ملط۔ بلا جھلا۔  
 مل بست - (ع۔ صفت) پوشیدہ کرنے والا۔ مکر و عیب چھپانے والا۔  
 مل بوس - (م۔ ل۔ بوس،) (ع۔ ا۔ مٹ) پہنے ہوئے کپڑے۔ آنا سے ہونے کپڑے۔ ارنٹ  
 ۲، پہنے کے کپڑے۔ لباس۔ پوشاک۔  
 مل بوسات - (م۔ ل۔ بوسات،) (ع۔ ا۔ مٹ) ملبوس کی جمع۔ کپڑے۔ پوشاکیں  
 جوڑے۔

مل بیٹھنا - (م۔ ل۔ بیٹھنا،) (ع۔ ا۔ مٹ) سلوک سے بیٹھنا۔ محبت سے رہنا۔  
 مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ ا۔ مٹ) گھسا ہوا سکر۔  
 مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ ا۔ مٹ) دین۔ مذہب۔ شریعت۔ دھرم ۲،  
 فرقہ۔ قوم۔ گروہ۔ جمع۔ مل۔  
 مل بست بیضا - (ع۔ ا۔ مٹ) کلتیہ مسلمان قوم۔  
 مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ ا۔ مٹ) ملاپ۔ راہ دھرم۔ میل جول ۲، صحبت  
 سنگت ۳، ملنساری۔

مل بست کا آدمی - (ج۔ ا۔ مٹ) ملنسار آدمی۔ ملاحظہ والا۔  
 مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ ا۔ مٹ) تاجل ۲، (ع۔ صفت) شہار۔ نازد۔ ریش۔  
 مل تانی - (م۔ ل۔ تانی،) (ع۔ صفت) طمان سے شوب۔ طمان کا طمان کارہنے والا  
 ۲، ایک قسم کی جھٹی مٹی کا بچ ۳، ایک رنگی۔  
 مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ صفت) چھپایا ہوا۔ پوشیدہ کیا گیا۔ جھک گیا گیا۔  
 مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ صفت) اٹھا کرنے والا۔ درخواست کرنے والا۔ منت  
 سماجیت کرنے والا۔

مل تیزم - (م۔ ل۔ تیزم،) (ع۔ صفت) التزام کرنے والا۔ اپنے اور کوئی بات  
 لازم کر لینے والا۔ وہ جو کسی چیز کی ذمہ داری لے۔ معمول۔ حصول  
 مل تیزم - (م۔ ل۔ تیزم،) (ع۔ ا۔ مٹ) بیت اللہ میں رکن یمان کے سامنے ایک  
 مقام جہاں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔

مل تیزت - (م۔ ل۔ تیزت،) (ع۔ صفت) التفات کرنے والا۔ متوجہ ہونے والا۔  
 مل بست - (م۔ ل۔ بست،) (ع۔ ا۔ مٹ) التماس کرنے والا۔ عرض کرنے والا۔ رو  
 مل توی - (م۔ ل۔ توی،) (ع۔ صفت) التوا کرنے والا۔ دیر کرنے والا ۲، توقف  
 کرنے والا۔ بھرنے والا۔

مل توی رکھنا - (ج۔ ا۔ مٹ) مل توی کرنا۔ ڈھیل میں ڈالنا۔ روکنا۔ ٹھہرانا۔ ہٹانا۔  
 کچھ عرصہ کے لیے موقوف رکھنا۔  
 مل توی ہونا - (ج۔ ا۔ مٹ) ترقف میں پڑنا۔

مل تیب - (م۔ ل۔ تیب،) (ع۔ صفت) بھڑکانے والا۔  
 مل تیب - (م۔ ل۔ تیب،) (ع۔ صفت) بھڑکانے والا۔  
 مل تیب - (م۔ ل۔ تیب،) (ع۔ صفت) بھڑکانے والا۔  
 مل تیب - (م۔ ل۔ تیب،) (ع۔ صفت) بھڑکانے والا۔  
 مل تیب - (م۔ ل۔ تیب،) (ع۔ صفت) بھڑکانے والا۔

مل طری - (Military) (م۔ ل۔ طری،) (ع۔ صفت) فوجی۔  
 مل طری پولیس - (Military Police) (م۔ ل۔ طری،) (ع۔ صفت) فوجی پولیس۔  
 مل طری - (م۔ ل۔ طری،) (ع۔ صفت) فوجی پولیس۔  
 ایک مشہور دو جو کھانسی کے لیے مفید ہے۔ عموماً پان میں ڈال

۳، کوئی پیموئی چیزوں کا انبار۔

مکھوٹ۔ رن۔ قوط (ع۔ ۱۰)۔ اندھ بڑھا گیا۔ جوڑنے میں آئے، ۲، منہ سے بولی ہوئی بات (جمع، طغذلات۔

ملفوظ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ لپٹا ہوا، لغاف نہیں بند۔ سر بند۔ بند۔ طغیب۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ لقب دیا گیا۔ خطاب دیا گیا۔ (۲، معرفت۔ نام زد۔

ملک۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ فرشتہ۔ جمع، ملائک۔ ملائک۔

ملک الموت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ موت کا فرشتہ۔ تابعن الارواح۔ جان نکالنے والا فرشتہ۔ عزرائیل۔

ملک الموت کا گھر دیکھنا۔ (۱۰)۔ محاورہ (گھر میں لگتا تو میں ہوجانا ملک خصلت۔ (ع۔ ۱۰)۔ صفت ملک سیرت۔ ملک ہنار۔ فرشتے کی سی عادت والا۔ معصوم۔ نیک۔ بے گناہ۔

ملک (رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ بادشاہ۔ سلطان۔ فرمان روا۔ شہر پلہ (۲، ایک خطاب جو اکثر مسلمان قوموں میں رائج ہے۔ جمع۔ ملوک۔

ملک التجار (ع۔ ۱۰)۔ صفت بہت بڑا تاجر۔

ملک الشعراء (ع۔ ۱۰)۔ اندھ شاعروں کا بادشاہ بہت بڑا شاعر راج کوی۔ وہ خطاب جو بادشاہ کی طرف سے اعلیٰ درجے کے شاعر کو دیا جائے (۲، حضرت ابراہیم ذوق کا خطاب۔

ملک العرش (ع۔ ۱۰)۔ اندھ عرش کا بادشاہ۔ خدا تعالیٰ۔

ملک زاوہ۔ (ع۔ ۱۰)۔ صفت شاہ زاوہ۔

ملک (ع۔ ۱۰)۔ امت، ملکیت۔ زمین داری۔ جاگیر۔ معانی۔ جامداد (۲، مال اسباب (۳، حق۔ حقیقت۔

ملک تمکین (ع۔ ۱۰)۔ صفت لوڈی۔ غلام۔

ملک (ع۔ ۱۰)۔ اندھ دلیں۔ ولایت۔ کشور۔ اقلیم (۲، سلطنت۔ راج بادشاہت۔ علاقہ۔ عملداری۔ قلمرو (۳، احاطہ۔ پرکرتہ صوبہ (۲، شہر نگر (۵، خلقت۔ لوگ۔ جمع، ممالک۔

ملک بدر کرنا۔ (۱۰)۔ محاورہ، جلا وطن کرنا۔

ملک بقا۔ (ع۔ ۱۰)۔ اندھ ہمیشہ رہنے والا ملک۔ عاقبت۔ اگلا جہان۔

ملک خدا۔ (ع۔ ۱۰)۔ اندھ دنیا کا سات۔

ملک خدا تنگ نیست ہائے گدا رنگ نیست (ع۔ ۱۰)۔ منہ خدا کا ملک تنگ نہیں اور فقیر کا پاؤں تنگ نہیں کسی خاص مقام پر موقوف نہیں ہر جگہ گوشش کرنے کا موقع ہے۔

ملک جموشاں۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ تباہی۔

ملک داری۔ (ع۔ ۱۰)۔ صفت حکومت۔ سلطنت۔

ملک رانی (ع۔ ۱۰)۔ صفت ملک کا انتظام کرنا۔ سیاست۔

ملک ستانی۔ ملک گیر می۔ (ع۔ ۱۰)۔ صفت ملک لیا جیت۔

فتح۔ تسخیر۔ فتح یابی۔ بیکرانی۔ بادشاہی۔

ملک سے خارج کرنا۔ (۱۰)۔ مص مرکب (دس نکال دینا۔ بن باس دینا۔

جلا وطن کرنا۔ شہر بیکرنا۔

ملک عدم۔ (ع۔ ۱۰)۔ اندھ وہ عالم جس میں مرنے کے بعد روح رہتی

کرکھتے ہیں۔

نلجا۔ رن۔ جا، (ع۔ ۱۰)۔ اندھ آجائے پناہ۔ پناہ ملنے کی جگہ۔ وہ مقام جہاں جا کر آدمی اپنی جان بچائے۔ مامن۔

طیواوا۔ (ع۔ ۱۰)۔ اندھ پناہ ملنے کی جگہ۔

مل جانا۔ (۱۰)۔ محاورہ (۱۰)۔ اندھ جانا۔ پیوستہ، پوجانا (۲، صلح و صفائی ہو جانا (۳، شامل ہوجانا۔ شریک ہوجانا (۴، دوچار ہونا۔ ملاقات ہونا (۵، حاصل ہونا۔ وصول ہوجانا۔

مل جل کر۔ (۱۰)۔ تباہ فعل، مل جل کر۔ کھٹے ہو کر۔ سلوک سے۔ استحد کے ساتھ۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ صفت پلہ۔ سیلا۔ ناپاک۔ غلیظ۔ گھوری۔ ناپاک قوم (۲، ہنگامی آدمی۔ دستی آدمی (۳، کافر۔ بے دین۔

رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ نمک۔ لون۔ کھار۔ شور۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ فاسق۔ کافر۔ بے دین۔ راہ حق سے پھرا ہوا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت کھرا ہوا۔ لگا ہوا۔ ملا ہوا۔ پیوستہ۔ منسک۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت اچھلنے والا پیچھے سے ملنے والا شامل۔ داخل شریک

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ وہ چیزیں جو بے دین ملادی گئی ہوں۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔

نلچہ۔ رن۔ قوت (ع۔ ۱۰)۔ اندھ صفت لیا گیا۔ خیال کیا گیا۔









من بھاتا - ۱۷ - صف (مذ) مزہب خاطر - دل پسند -  
من بھاتا کھلے جگ بھاتا پیہنے، (۱۷ - مثل) کھانا اپنی پسند کا کھانا چاہیے  
دہ لباس وہ پہننا چاہیے - جسے لوگ پسند کریں -  
من بھاری کرنا - کڑھنا - ڈراس ہونا - ٹکلیں -

من بھاؤنا - من بھاؤن - من بھاؤن - من بھایا - (۱۷ - صف - مذ)  
دیکھیے من بھاتا -

من بھائے (چاہے) منڈیا بلائے - (۱۷ - مثل) دل تو چاہتا ہے مگر  
بہ ظاہر انکار ہے - اذپری دل سے انکار -

من بھر - (۱۷ - صف) ایک من وزن - چالیس سیر وزن کے برابر ہے، خاطر خواہ  
دل کے موافق جی بھر کر -

من بھر جانا - من بھرتا - (۱۷ - محاورہ) طبیعت سیر ہو جانا -  
من بھر کر کاسر ہلانے میں پیسہ بھر کر زبان نہیں ہلانی جاتی - (۱۱ - مثل)  
مغزور آدمی کی نسبت کہ لڑتے ہیں جو کسرا کر جاب دے - مکر زبان سے  
جواب دے -

من پھٹ جانا - (۱۷ - محاورہ) طبیعت بیزار ہو جانا - نفرت ہو جانا -  
من چلا - (۱۷ - صف) دل چلا - بہادر - دلیر - دلدار - سوزما - نڈر -  
بے خوف - بیباک -

من چلتا ہے - ٹوٹ نہیں - (۱۷ - مثل) جو صل جڑا ہے متدور کہ نہیں جو صل  
ہے لیکن کچھ ہوتیں سکتا -

من چلتا - (۱۷ - محاورہ) دل چاہتا - کسی کی طرف دل کا رغبت کرنا، دل قابو  
میں ڈرنا - دلوانا - ہونا -  
من چنگا تو کھوتی میں کنگا - (۱۷ - مثل) اگر دل ٹھیک ہے اعتقاد سچا ہے تو  
خدا ہر جگ موجود ہے -

من چھوڑنا - (۱۷ - محاورہ) سانپ کا من نکال کر رکھ دینا -  
من رنجین - (۱۷ - صف) خوش گار - دل کا خوش کرنے والا - دل کو خوش  
کرنے کا فعل -

من سانپا تو سب سانپا - (۱۷ - مثل) اعتقاد ٹھیک ہو تو سب  
سہم کا ٹھیک ہوتے ہیں -

من سمجھوتی - (۱۷ - مثل) اطمینان خاطر - دل کا سمجھ لینا -  
من کا چیتلا - (مذ) دل کا چاہنا - دل کی خواہش -

من کا میللا (کھوٹا) - (۱۷ - مذ) بد بطن - کہتے پرور - دیکار - منافق -  
من چچا کرنا - (۱۷ - محاورہ) ہمت ہانا - دل ٹوٹنا -  
من کرنا - (۱۷ - محاورہ) دل چاہنا - خواہش کرنا - جی چاہنا -

من کھٹا ہونا - (۱۷ - محاورہ) طبیعت سیراز ہونا - جی بڑا ہونا -  
من کی ماری - (۱۷ - مثل) مردہ دل - افسردہ دل -  
من کی من میں رہنا - (۱۷ - محاورہ) دل کی حسرت دل ہی میں رہ جانا - ارٹان  
پورانہ کرنا -

من کی موج - (۱۷ - مثل) دل کی لہر - دل کی تریگ -  
من کے چہلتے ہونا - (۱۷ - محاورہ) دل کی مراد پوری ہونا -  
من کے لٹو چھوڑنا - (۱۷ - محاورہ) خیالی پھاڑ کھانا - دل ہی دل میں خوش ہونا -

منوع التصرفات - (۱۷ - مذ) وہ شخص جو آئندہ دخل دینے سے  
رد کر دیا جائے -

منوں - (م - م - ل - ۱۷ - مذ) احسان کیا گیا - وہ جس پر احسان کیا گیا ہو -  
احسان مند - شکر گزار -

منوں ہونا - (۱۷ - مثل) شکر گزار ہونا - احسان مند ہونا -  
منوں نیت - (م - م - ل - ۱۷ - مذ) نیت - (ع - ف - ۱۷ - مثل) احسان مندی -

منوں - (م - م - ل - ۱۷ - مذ) ایک جھوٹا پردہ جس کے پیٹ پر کالی دھاریاں  
ہوتی ہیں - جھانپو -

منوں چہننا - (۱۷ - محاورہ) بہت خاطر واقع کرنا - مارے خاطر کے کچھ  
جانا - سرا نکلوں پر چھٹانا -

منی - (Mummy) (م - م - ل - ۱۷ - مذ) مرمت، لاش جو سالانہ محفوظ کی  
جائے، (م - م - ل - ۱۷ - مذ) نیکے پیار سے بان کہتے ہیں -

منی (خمس) (م - م - ل - ۱۷ - مذ) خاندانی بوی کا ناموں -  
منی ساس - (م - م - ل - ۱۷ - مذ) خاندانی بوی کی مانی -

منیانا - (م - م - ل - ۱۷ - مذ) بوی کا پالنا - نہیں نہیں کرنا -  
منیت - (م - م - ل - ۱۷ - مذ) ۱) مارنے والا، ۲) خدا تعالیٰ  
کا ایک نام -

منیر - (م - م - ل - ۱۷ - مذ) ایک گیلی پڑا جو ہلدی سے مشابہ ہوتی ہے اور  
اکٹھ کی بیانی کے لیے نہایت مفید دوا ہے -

منیر - (م - م - ل - ۱۷ - صف) ماموں زاد - ماموں کا بیٹا -  
منیری - (م - م - ل - ۱۷ - صف) ماموں کی بیٹی -

منیر - (م - م - ل - ۱۷ - صف) تمیز کیا گیا - بچا گیا -  
منیر - (م - م - ل - ۱۷ - صف) تمیز کرنے والا - بھلے بسے  
کو پہچانتے والا -

منیرتہ - (م - م - ل - ۱۷ - صف) پہچاننے والی - تمیز  
کرنے والی قوت -

## م - ن

من - (۱۷ - مذ) دل - جی - خاطر - قلب - ضمیر (۲۱) چالیس سیر کا وزن (۳) سانپ  
کا ٹہرہ (م - ن - م - ل - ۱۷ - صف) کھینچ

من اکتان چھنکا - (۱۷ - مثل) دل گتے ہی بدن سوکھ گیا -  
من اکتانا - (۱۷ - محاورہ) دل آنا - عشق ہونا - محبت ہونا -

من اکتانا - (۱۷ - محاورہ) جی سیر ہو جانا - گھیرانا - لے زار ہو جانا -  
من اکتانا - (۱۷ - محاورہ) سانپ کو اپنے گہرے کو منہ سے نکالنا -

من اکتانا - (۱۷ - محاورہ) دیکھیے من اکتنا -  
من امراؤ کم دلدری - (۱۷ - مثل) دل میں امیر اثر حاصل ہے مگر قسمت  
خراب ہے -

من ایسا - (۱۷ - محاورہ) دل میں سانا - دل میں جگ کر لینا -









**مندوب** - (من - دُوب، (ع- ۱- مذ) مانند ممبر جو کام کے لیے بنایا گیا ہو۔  
**مندھرو** (من - دھو، (ق- ۱- مذ) مندر مکان۔  
**مندھیر** (من - دھیر، (ق) دیکھو "مندھر"۔  
**مندھی** - (من - دھی، (ہ- ۱- مٹ) گسدا ہزاری۔ مال کم ٹکنا۔  
**مندیل** - (من - دین، (ع- ۱- مٹ) طلالی پکڑی۔ نگی۔ سہری دستار، تلیہ  
 دو مال - (م) گھوڑا، ۳، کرکا پچکا۔ پیٹی۔  
**مند** - (ہ- ۱- مذ) (۱) سر۔ گھوپری (۲) ایک راکشس (۳) سر کردہ  
 سردار۔ سرغز۔ استاد، دم، درخت جس کے پتے گر گئے ہوں  
 (۵) شوخ۔ بے حیا (ق)۔

**مندھانا** - (۱- محاورہ) لٹ جانا۔  
**مندھڑا** - (۱- محاورہ) (۱) صفت ایک قسم کے فقیر جو پیر نہ ہونے پر اپنے سر پر  
 بدن کو زخمی کر لیتے ہیں۔ صندی۔ بی۔

**مندھڑا** - (۱- محاورہ) (۱) صفت (۱) ٹھیلنا۔  
**مندھا** - (من - ڈا، (ہ- ۱- مذ) بنگال کی ایک مشہور مٹھائی (۲) ایک قسم کی چپاتی (۳)  
 (۳) آنکھ کی چھٹی۔

**مندھا** - (من - ڈا، (ہ- ۱- مذ) صفت (۱) منڈا ہوا سر۔ وہ آدمی جس کا سر منڈا ہوا  
 ہو (۲) درخت جس کی شاخیں نہ ہوں (۳) جانور جس کے سینک  
 نہ ہوں (م) منڈار۔ گنبد۔ مندر۔ گرجا جس پر کلس نہ ہو (۵) ایک قسم  
 کا جوتا جس کی نوک نہیں ہوتی (۶) (۱- ۲) پین۔ (۱- مذ) لڑکا۔ بچہ۔ (۲) آنکھ  
 کا سرا۔

**مندھاسا** - (من - ڈا، (ہ- ۱- مذ) پھیٹا۔ بگڑی۔ عامہ۔ دستار۔  
**مندھاسا** باندھنا۔ (۱- محاورہ) بگڑی باندھنا (۲) سر جھٹانا۔  
**مندھاسا** بھانا۔ (۱- محاورہ) (ق) مص۔ پرہم ہونا۔ بے مروتی کرنا۔  
**مندھاسا** کھنا۔ (۱- محاورہ) دیکھو مندھاسا باندھنا۔

**مندھان** - (من - ڈان، (۱- صحت - ق) (۱) موجودات ظاہر شدہ  
 (۲) دنیا۔ جہان۔

**مندھانا** - (من - ڈانا، (۱- مص) استرا پھر دانا۔ بال صاف کرنا۔  
**مندھانی** - (من - ڈا، (ہ- ۱- مٹ) موٹنے کا کام۔ (۲) موٹنے  
 کی آہرت۔

**مندھپ** - (من - ڈپ، (س- ۱- مذ) وہ جگہ جہاں بیاہ وغیرہ کی کافی رونق  
 ہو۔ شامیانہ۔  
**مندھپ** - (من - ڈپ، (ق- ۱- مذ) مندھپ۔ شامیانہ۔  
**مندھپ** - (من - ڈپ، (س- ۱- مذ) انٹی۔ حجام۔

**مندھری** - (من - ڈری، (ہ- ۱- مٹ) گھٹنوں پر سر دے کر بیٹھنے  
 کا طریقہ۔  
**مندھڑی** - (من - ڈا، (ہ- ۱- مٹ) گھٹنوں میں سر دے کر سونا۔ اتوائی۔ کھٹوائی لے کر پڑ  
 جانا۔ ٹھکین حالت میں سونا۔

**مندھل** - (من - ڈل، (س- ۱- مذ) گھرا۔ دار۔ پکڑ گولا (۲) گول خیمہ یا تینو (۳) احاط  
 موبہ۔ مینج۔ پرکندہ (م) خیمہ دار۔ گاؤں کا پجاری (۵) گردش۔  
**مندھل** باندھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حرمٹ کرنا۔ حلقہ باندھنا۔ (۲)

**مندھو** - (من - ڈو، (ع- ۱- مذ) گھیر لینے والا (۲) موت بے شرط  
 متعلق۔ وابستہ۔  
**مندھو** - (من - ڈو، (ع- ۱- مذ) جس پر موقوف ہو۔  
**مندھو** - (من - ڈو، (ع- ۱- مذ) جھکا ہوا۔ خمیدہ۔ ٹیڑھا (۲) ڈبلا مگر۔  
 کدور۔ نیچے۔

**مندھوس** - (من - ڈوس، (ع- ۱- مذ) بد بخت۔ بد نصیب (۲) بڑا۔ بد۔  
 زشت (۳) کرودہ۔ گھناؤنا۔  
**مندھو** - (من - ڈو، (ع- ۱- مذ) تختیا۔ ناک کا سوراخ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) وہ جانور جو کھٹنے سے مرے ہو۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

**مندھو** - (ع- ۱- صفت) مٹ۔  
**مندھو** - (ع- ۱- صفت) نسبت بر کسی اسم کے بعد آ کر اسے صفت  
 بنا دے۔ اور والا۔ صاحب کے معنی دے جیسے دانش مند۔

یوٹی (۲) وہ جانور جس کے سینگ نہ ہوں (۳) بے لوگ کی جوتی (۴) ایک یوٹی (۵) سرگھو پری۔  
**منڈلی لولنا** (۱۷- محاورہ) غزو سے سراؤ نہ چا کرنا۔  
**منڈلیانا** (منڈ- یانا، ۱۷- مح) کھلت لگانا، فاضلی لگانا، ماڈنا چال کی پہنچ پختہ  
 دفرہ سے بڑے پاکھڑ کو سمٹ بنا کر صاف کرنا۔  
**منڈیہ** (منڈ- یا، ۱۵- مح) ہونڈی تصغیر چھوٹا سا سردی کھوپری۔  
**منڈیٹ** (Mandate) (من- ڈیٹ، ۱۱- مح) ایک- بند حاکم  
 عدالت کا حکم۔ ہدایت (۲) حق و کالت۔ انجمن اقوام کی طرف سے  
 کسی ریاست کو کسی ملک پر حکومت کرنے کا عارضی اختیار (۳)  
 (قانون) معاہدہ جس کی رو سے کوئی شخص بلا معاوضہ کسی خدمت  
 کے انجام دینے کا اقرار کرے۔  
**منڈیر** (من- ڈیر، ۱۰- مح) دیوار کا اوپر کا حصہ جو ڈھلان ہو تاکہ اسے (۲)  
 پشتہ- بندھو۔

**منڈیر باندھنا** (۱۷- محاورہ) پشتہ باندھنا۔ بند بنانا۔ ڈراسی دیوار اٹھا  
 کر حد بنانا۔  
**منڈیری** (من- ڈے، ۱۰- مح) منڈیر کی تصغیر۔  
**منڈینا** (من- ڈے، ۱۱- مح) صفت، شوخی، بے حیائی۔

**منڈیٹا** (من- ڈیٹا، ۱۱- مح) ڈول۔  
**منڈیر** (من- ڈیر، ۱۱- مح) اتنے کی جگہ۔ ٹھہرنے کا مقام۔ سرے  
 ٹھکانہ۔ مسافر خانہ۔ چٹاؤ (۲) ایک دن کا سفر۔ مرحلہ (۳) گھر۔ مکان۔  
 مسکن (۴) مکان کا ایک درجہ (۵) چاند کا گھر (نچتر (۶) قرآن مجید کے سات  
 حصوں میں سے ایک حصہ۔ جمع، منازل۔

**منزل اٹھانا** (۱۷- محاورہ) مکان بنانا۔  
**منزل اڈل** (من- اڈل، ۱۱- مح) پہلی منزل۔ مہماؤ۔ موت۔ قبر۔  
**منزل بہ منزل** (من- ف، ۱۱- مح) تابع فعل، پڑاؤ پڑاؤ۔ ایک ایک  
 پڑاؤ۔ درجہ بدرجہ۔

**منزل بھاری ہونا** (۱۷- محاورہ) سفر کا مشکل ہونا۔  
**منزل پر پہنچنا** (۱۷- محاورہ) اصل مقام پر پہنچنا۔  
**منزل دراز ہونا** (۱۱- محاورہ) معمولی مسافت کا لمبا معلوم ہونا۔  
**منزل دینا** (۱۷- محاورہ) جہاز سے کورساتے میں ڈراسی دیر کے لیے رکھ دینا۔

**منزل سے کو آرام دینا**۔  
**منزل طے ہونا** (۱۷- محاورہ) سفر لپوٹا ہونا۔ ٹھکانے پر پہنچنا۔  
**منزل کاٹنا** (۱۱- محاورہ) راستہ طے کرنا۔  
**منزل کھٹنا** (۱۱- محاورہ) سفر طے ہونا۔ مسافت طے ہونا۔

**منزل کھنڈ ہونا** (۱۷- محاورہ) منزل کڑی ہونا۔ راستہ کا دشوار ہونا۔  
**منزل کھنڈ ہونا**۔  
**منزل کھونی ہونا** (۱۷- محاورہ) راستہ میں تھکنے سے منزل تک ٹھیک وقت  
 پر پہنچ سکا۔ مقام مقصود تک پہنچنے سے رو جانا۔

**منزل کرنا** (۱۷- محاورہ) ایک پڑاؤ کا راستہ چلنا (۲) کچھ چل کر ٹھہر جانا۔  
**منزل گاہ** (من- ف، ۱۱- مح) آخر سے کی جگہ۔ قیام کرنے کی جگہ۔ گاہ

انڈھیرا جانا۔

**منڈلاتے** منڈلاتے پھرنے۔ (۱۷- محاورہ) ڈالنا ڈول چرنا۔ ادھر ادھر  
 مارے مارے پھرنے۔ ارد گرد پھرنے۔

**منڈلانا** (منڈ- لانا، ۱۷- مح) پھرنے۔ گھومنا۔ حلقہ باندھ کر پھرنے (۲) گول  
 دائروں میں اڑنا (۳) بادل کا گھرنے۔

**منڈلی** (منڈلی، ۱۰- مح) ٹولی۔ گروہ۔ جماعت۔ جمعیت۔  
**منڈلی** (منڈلی، ۱۰- مح) صفت (منڈلی ہوئی عورت)۔ وہ عورت جس  
 کے سر پر بال نہ ہوں۔

**منڈن** (منڈن، ۱۰- مح) سر کا منڈنا یا جانا (۲) بچے کے بالوں کا  
 پہلی دفعہ منڈنا یا جانا۔  
**منڈنا** (منڈنا، ۱۰- مح) عجمت بننا۔ بال منڈنے جانا (۲) چوری ہونا۔ لٹنا  
 (۳) دھوکے میں گرفتار ہونا۔

**منڈنا** (من- منڈنا، ۱۱- مح) ہونا۔

**منڈنی** (من- منڈنی، ۱۰- مح) وہ غلہ جس پر بیل چلائے جاتے ہیں۔  
**منڈنڈ** (من- ڈنڈ، ۱۰- مح) صفت (وہ عورت جس کا سر منڈا گیا ہو) بد بخت عورت  
 (۳) وہ عورت جس کا خاندان مر گیا ہو۔ راندی ہو۔

**منڈوا** (منڈ- وا، ۱۰- مح) ایک ادنیٰ قسم کا غلہ (۲) ٹھیکر۔ تماشا گاہ۔  
 پتال۔ شایانہ۔

**منڈوا** (منڈ- وا، ۱۱- مح) بال صاف کرنا (۲) چوری کرنا۔ لٹوانا۔  
 ٹھکانا (۳) دھوکے سے فریب کرنا۔  
**منڈو** (من- ڈو، ۱۱- مح) صفت (مرا می، پور۔ دلدارنا۔

**منڈھا** (من- ڈھا، ۱۰- مح) وہ سائبان یا شامیانہ جو ہندوؤں میں  
 شادی کے روز بطور رسم تانا جاتا ہے اور جس کے نیچے دو لہاؤں  
 کے پیرے ہوتے ہیں (۲) ایک قسم کے گیت جو ڈھن کی مرضی  
 کے وقت گائے جاتے ہیں۔

**منڈھا چھوٹا** (۱۷- محاورہ) شادی کا سائبان توڑنا۔  
**منڈھ جانا** (۱۱- مح) کسی کام میں پورے طور پر مصروف ہونا۔

**منڈھنا** (منڈھ- نا، ۱۱- مح) پوشش کرنا۔ کھڑا۔ کاغذ یا چمڑا پڑھانا۔  
 مٹھنا۔ چھیننا۔ ڈھانپنا۔ ڈھانکنا (۳) ڈھنے لگانا۔ بر کرنا۔ گلے مٹھنا۔  
 (۴) رجا۔ چھنا۔ ہونا۔

**منڈھوانا** (منڈھ- وا، ۱۱- مح) پوشش کرنا۔ مٹھنا (۲) کسی کے  
 سر ڈھانا۔ ڈھنے دھوانا۔

**منڈھوانی** (منڈھ- وا، ۱۱- مح) منڈھنے کی اجرت۔ پوشش  
 کرنا کی مزدوری۔

**منڈھی** (منڈھی، ۱۰- مح) منڈھی، منڈھی، منڈھی (۲) منڈھی (۳) منڈھی (۴) منڈھی  
 کٹیا (۲) جوتیوں کے رہنے کا چھوٹا سا گھنڈا۔ سائبان۔

**منڈھی** (من- ڈھی، ۱۰- مح) عجمت گاہ۔ بازار۔ ہاٹ۔ بڑا بازار۔  
 ٹھوک فروشی کی جگہ۔

**منڈھی لگنا** (۱۷- محاورہ) منڈھی کا رو بار شروع ہونا۔ بازار لگنا۔  
**منڈھی** (من- ڈھی، ۱۰- مح) بین بالوں کی بن شاتوں کی سر منڈی

منزل کا ہے،  
**منزل مارنا** - [۱۶- عمارت] مسافت طے کرنا۔ سفر ختم کرنا، ۲۰، مشکل حل کرنا۔  
**منزل مقصود** - [۱۷- عمارت] وہ جگہ جہاں پہنچنے کا ارادہ ہو۔  
**منزل مقصود کو پہنچنا** - [۱۸- عمارت] ٹھکانے پہنچنا۔ مراد حاصل ہونا۔  
**مطلب برآنا**۔  
**منزل سستی** - [۱۹- عمارت] کمائی، عمر زندگی۔  
**منزل** - [۲۰- عمارت] اچھے اتار گیا۔ نازل کیا گیا۔  
**منزل** - [۲۱- عمارت] اچھے اتارنے والا۔ نیچے اتارنے والا۔  
**منزل ہوتا** - [۲۲- عمارت] اچھے اتارنے والا۔ منی کلین۔ جھوٹا۔  
**منزلت** - [۲۳- عمارت] اچھے اتارنے والا۔ تدر، عزت۔ اعزاز۔ وقت، ۲۴، درجہ۔ مرتبہ۔  
**منزلہ** - [۲۵- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے دو منزلہ۔  
**منزلہ نوی** - [۲۶- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے غلط گوئی۔  
**منزلہ** - [۲۷- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۲۸- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۲۹- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۰- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۱- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۲- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۳- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۴- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۵- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۶- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۷- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۸- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۳۹- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منزلہ** - [۴۰- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔

منشا - [۱- عمارت] پیدا ہونے کی جگہ، ۲، مجازاً، سبب، باعث، وجہ۔  
**منشا** - [۳- عمارت] ارادہ، مطلب، مقصد، مراد، منصوبہ۔ عندیہ۔  
**منشآت** - [۴- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۵- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۶- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۷- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۸- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۹- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۰- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۱- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۲- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۳- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۴- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۵- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۶- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۷- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۸- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۱۹- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۰- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۱- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۲- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۳- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۴- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۵- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۶- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۷- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۸- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۲۹- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۰- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۱- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۲- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۳- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۴- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۵- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۶- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۷- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۸- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۳۹- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔  
**منشأ** - [۴۰- عمارت] اچھے اتارنے والا جسے نیک گوئی۔



منصفانہ۔ رتن برن۔ فائنٹ۔ صفت، آرزوئے انصاف، عدل کے اعتبار سے دو ذمہ ٹھیک ٹھیک۔

منصفی۔ رتن برن، رتی، (ع۔ ا۔ مٹ) انصاف۔ عدل۔ فیصلہ تصفیہ (۲) منصف کا مجدد۔ منصف کی عدالت۔

منصفی اٹھ جانا۔ (۱۶) محاورہ انصاف دہرنا۔ بے انصافی کرنا۔ ظلم کرنا۔

منصفی شرط ہے۔ (۱۶) محاورہ انصاف کرنا چاہئے۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) کھڑا سیدھا قائم۔ کھڑا کیا گیا (۲) وہ صورت جس پر زیر ہو۔ مقنوع۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) کھڑی ہوئی چیز (۲) تجویز، تدبیر۔ توڑ جوڑ۔ حکمت دانائی (۱۳) ارادہ مقصد۔ مشاہدہ عندیہ (۱) پلین۔

منصوب ہاڑ۔ (ع۔ ا۔ مٹ) صفت ارادے کا نشانہ والا۔ سوچنے والا۔ دو راہ نش۔ تدبیر۔

منصوب بندی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) عمل، تجویز کرنا۔ تدبیر کرنا۔ خاکہ نقشہ بنانا۔ طویل عمل تجویز کرنا (رنگ) (Planning)

منصوب باندھنا۔ (۱۱) محاورہ ارادہ کرنا۔ ٹھاننا۔ کسی بات کو دل میں بٹکتے کرنا۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) نظر دیا گیا، مدد دیا گیا، مظہر، فتمندہ (۱۲) ایک دلی اللہ کا نام جنہوں نے حالت جذب میں آنا لگی دیا تھا۔

جس پر انہیں سولی دے دی گئی تحقیق کیا گیا۔ ظاہر کیا گیا۔ کمال تحقیق کو مخصوص۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) تحقیق کیا گیا۔ ظاہر کیا گیا۔ کمال تحقیق کو

پہنچا ہوا (۱۲) قرآن مجید کی وہ آیت جو قابل تاویل نہ ہو (۱۳) وہ حدیث جو قابل طور پر ثابت ہو گئی ہو۔

منصوبہ۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) ظاہر ہونے کی جگہ۔ جلوہ گاہ (۱۲) وہ تخت یا جگہ جس پر دلہن کو بٹھا کر جلوہ گاہ عروس جگہ عروس سے خوب

منصوبہ شہود۔ (ع۔ ا۔ مٹ) وہ جگہ جہاں کسی چیز کا جلوہ دکھایا جائے۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) ہکانے والی دوا۔ وہ دوا جو مواد کو پکا قابل

افزاد کرے جو پکا کرنے والی دوا۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) جو پستہ کیا ہوا۔ مضبوط کیا ہوا۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) جو پستہ کرنے والا جو پستہ کرنے والا۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) ہکانے والا۔ شامل، جو پستہ۔ ملتی۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) ہکانے والا۔ منقوش ہونے والا۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) ہکانے والا۔ موافق۔ اوپر سے ٹھیک آنے والا۔

منصوب۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) ہکانے والا۔ سمجھا ہوا۔

منطق کوئی اور ناسخ کو ناسخ ثابت کرتا ہے علم دلیل۔ علم مناظرہ۔ منطق بگھارنا۔ منطق جھاننا۔ (۱۶) محاورہ تقریباً جھاننا۔ ثبوت کرنا۔ باتیں بنانا۔ چنانچہ نہیں کرنا۔ قیل کرنا۔

منطقیات۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) منطق کی جمع (۱) کہیں باندھنے کے پٹے (۲) وہ فرضی خطوط جو زمین کے گرد گردش کرتے ہیں۔ دائرے، ملتے۔

منطق۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) کہیں باندھنے کا پٹکا۔ وہ فرضی خطوط جو زمین کے چاروں طرف کھینچا ہوا ہے۔ دائرہ، حلقہ، رتیبہ۔

منطق۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) کہیں باندھنے کا پٹکا۔ وہ فرضی خطوط جو زمین کے چاروں طرف کھینچا ہوا ہے۔ دائرہ، حلقہ، رتیبہ۔

منطق البروج۔ (ع۔ ا۔ مٹ) دو بڑا دائرہ جس پر بارہ برج آسمانی واقع ہیں اس کے درمیان۔

منطقہ بارہ۔ (ع۔ ا۔ مٹ) وہ خطہ زمین جہاں تمام سال سخت سردی رہتی اور برف جمی رہتی ہے۔

منطقہ بارہ جنوبی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) خطہ جنوبی کے گرد کہ خطہ جہاں سارا سال نہایت سردی رہتی اور برف جمی رہتی ہے۔

منطقہ بارہ شمالی۔ (ع۔ ا۔ مٹ) خطہ شمالی کے قریب وہ خطہ جہاں تمام سال برف جمی رہتی اور سخت سردی رہتی ہے۔

منطقہ محارہ۔ منطقہ محرقہ۔ (ع۔ ا۔ مٹ) خطہ استوا کے قریب کادہ خطہ جہاں سورج کی کرنیں سیدھی چلنے کے باعث ہمیشہ نہایت گرمی رہتی ہے۔

منطقہ معتدلہ۔ (ع۔ ا۔ مٹ) زمین کادہ خطہ جہاں سردی اور گرمی برابر رہتی ہے۔

منطقہ منطقیہ۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) ایہ اصح اور دوسرا اضعاف علم منطقی جاننے والا۔ جتنی جھگڑا۔

منطوق۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) بولا گیا، کلام، سخن، بات، چیت۔ قول، مضمون۔

منطوقی۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) لپٹا ہوا۔ طوفت، سیمیدہ۔

منظر۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) جہاں نظر آئے۔ نظر، (۲) نظارہ، سیرگاہ، تماشا گاہ (۳) چہرہ، صورت، شکل (۴) منظر (۵) درجہ، کھڑکی، روزن، سورج (۶) اونچی عمدت ملاحظہ۔ مینار، رتیبہ، منظر۔

منظر چشم۔ (ع۔ ا۔ مٹ) منظر، آکھ کی ہنسی۔

منظر عام۔ (ع۔ ا۔ مٹ) کھلی جگہ، گرد گاہ عام، شاہ راہ عام۔

منظم۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) دھنگے میں پرو یا بوزار (۱۲) موزوں کلام (۱۳) چیز جو انتظام کے ساتھ ہو۔

منظور۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) دیکھا گیا، نظر کیا گیا (۲) پسندیدہ۔ مقبول۔ مانگایا۔

منظور خاطر۔ (ع۔ ا۔ مٹ) صفت ہول پسند، مقبول۔ پسندیدہ۔

منظور خدا۔ (ع۔ ا۔ مٹ) مرضی ہولا۔ مشیت الہیہ۔

منظور نظر۔ (ع۔ ا۔ مٹ) صفت نظر کو پسند، مرغوب (۲) عزیز۔ پیارا۔ محبوب۔

منظور۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) شخص جس پر کسی کی نظر رہتی ہو۔

منظور نظر۔ (ع۔ ا۔ مٹ) محاورہ دل کر اچھا لگتا۔ دل میں کھینا۔ نظر چڑھنا۔

منظوری۔ رتن، صنوب، (ع۔ ا۔ مٹ) مرضی۔ مقبولیت۔ اجازت۔ ہرمانی۔

**منقار** - (من فن، فار) (ع ۱۰) منٹ (پونج) -

منقار زیر پر رہتا (ہونا) - [۱۰] محاورہ خاموش رہنا۔ دسے رہنا۔  
منقارش - (ع ۷) - (۱) مذ) موجود سانس لگتے کرنے والا (۲) کانا لگانے  
اور بال اکھاڑنے کا آلہ۔

**منقلب** - (ع ۶) - (۱) مذ) ایک اوزار جس سے پیٹ سے پانی نکالتے ہیں۔  
**منقلبت** - (من قبی) - (ع ۱) - (۱) مت) تعریف - توصیف - شائستگی  
[۲] کوئی چیز جس پر انسان فکر سے یا جو اسے محنتاً بنا دے  
**منقبض** - (من قبی) یعنی (ع ۱) - (۱) مذ) کپٹ کر بندھا ہوا - پھینچا ہوا - سٹا ہوا۔  
سکڑا ہوا (۲) دل گرفتہ - ٹکڑے - ناراض - ناخوش۔

**منقح** - (م نقی) (ع ۱) - (۱) مذ) منقح کیا ہوا - پاک کیا ہوا - جھوٹ سے  
پاک - صاف بات۔  
**منقضم** - (من قبی) (ع ۱) - (۱) مذ) تقسیم کیا گیا - بانٹا ہوا - تقسیم شدہ۔  
**منقس** - (من قبی) (ع ۱) - (۱) مذ) تقسیم ہونے والا۔  
**منقش** - (م نقی) (ع ۱) - (۱) مذ) نقش کیا گیا - نقشنی - پیل بوٹے دار۔  
**منقصب** - (ع ۱) - (صفت) کا لایا گیا - جوا لیا گیا (۲) جوا لیا گیا سے ہٹ جائے۔  
**منقصت** - (من قبی) (ع ۱) - (۱) مذ) (۱) کئی - گھما - نقصان  
(۲) عیب نقص۔

**منقضبت** - (ع ۱) - (۱) مذ) عموم کی ایک بجز۔  
**منقضبت** - (من قبی) (ع ۱) - (۱) مذ) گزرنے والا گزرا ہوا - گزشتہ - بیٹا ہوا۔  
**منقطع** - (من قبی) (ع ۱) - (۱) مذ) قطع ہونے والا قطع کیا گیا (۲) اختتام کو  
پہنچا ہونا (۳) فیصلہ شدہ - تصدیق شدہ۔  
**منقطع ہونا** - [۱- محاورہ (۱) فیصلہ ہونا - تصدیق ہونا (۲) جاتا رہنا -  
ٹوٹنا - لگنا۔

**منقل** - (من قن) (ع ۱) - (۱) مت) ایٹھی - بگڑی - مچھا - مٹا۔

**منقلا** - (من قبی) (ع ۱) - (۱) مذ) فوج کا وہ حصہ جو لشکر سے آگے  
بے ہر اول۔  
**منقلب** - (من قبی) (ع ۱) - (۱) مذ) - پلٹنے والا - اُٹھنے والا۔  
(۲) اُوندھا۔

**منقلبات** - (ع ۱) - (۱) مذ) وہ برج جن کے طالع میں کام درست نہیں  
ہوتا جو چار ہیں - حمل - سرطان - جدی اور میزان (۳) متقلب کی جمع  
**منقولش** - (من قولش) (ع ۱) - (۱) مذ) نقل کیا گیا - لکھا ہوا۔  
**منقولش خاطر** - (من قولش) -

**منقوط** - (من قوط) (ع ۱) - (۱) مذ) نقطہ دیا گیا نقطے  
دار نقطے والا۔

**منقول** - (من قول) (ع ۱) - (۱) مذ) نقل کیا گیا - بیان کیا گیا (۲) لکھا گیا - آمارا  
کیا (۳) ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا گیا (۴) وہ علم جس میں صرف  
ان باتوں سے بحث ہو جو دوسروں نے بیان کی ہیں۔

**منقول عندہ** - (ع ۱) - (۱) مذ) وہ تحریر یا کتاب جس سے نقل کی گئی ہو۔  
**منقولہ** - (من قولہ) (ع ۱) - (۱) صفت) ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے  
کے قابل - قابل انتقال۔

**منظوری کی اسامی** (۱) - (۱) مت) وہ نوکری جس کی حکومت سے منظوری  
ہوتی ہو اور اس پر پیشن کا بھی حق ہو۔  
**منظوم** - (من ظوم) (ع ۱) - (۱) مذ) پروا گیا - ششک کیا گیا (۲) نظم کیا گیا۔

**منظور** میں لایا گیا - قاصد - نظم۔  
**منظومہ** - (من ظومہ) (ع ۱) - (صفت) دیکھنے کے منظوم - جمع - منظومات۔  
**منہج** - (ع ۱) - (۱) مذ) باز رکھنا - روکنا (۲) نادرست - نامناسب - ناجائز  
(۳) خلاف قانون - خلاف شرع - خلاف رسم و رواج - اُردو  
میں نفع دہم پولا جاتا ہے۔  
**منہج کرنا** - (۱) - (۱) مت) روکنا باز رکھنا۔

**منہجہ** - (منہج) (ع ۱) - (۱) مذ) نیست و نابود نہایت  
**منہجیت** - (منہجیت) (ع ۱) - (۱) مذ) پھرنے والا - لوٹنے والا - مڑنے والا  
نہایت  
**منہجہ** - (منہجہ) (ع ۱) - (۱) مذ) انعقاد پانے والا - بندھنے والا (۲) پھرنے  
والا - مڑنے والا۔

**منہجہ ہونا** - [۱- محاورہ] پھرنا - قرار پانا - قائم ہونا۔  
**منہگس** - (منہج) (ع ۱) - (۱) مذ) عکس قبول کرنے والا (۲) اٹھا - اُوندھا۔  
**منہجوں** - (منہجوں) (ع ۱) - (۱) مذ) وہ شاع جو اڑکڑا کر بولی ہو۔  
**منہجم** - (منہج) (ع ۱) - (۱) مذ) نعمت دینے والا (۲) امیر - مالدار دولت مند  
آقین بزرگ دار - متمول - دھنی (۳) آقا - ولی نعمت - مروتی ہم - فیاض  
سخا - بخیرہ - دیوال۔  
**منہجس** - (منہجس) (ع ۱) - (۱) مذ) گدلا - ٹکڑے - ناراض - رنجیدہ۔

**منہجہ** - (منہجہ) (ع ۱) - (۱) مذ) گزرا گاہ (۲) سوراخ - مسام - نرہ  
روزن - جمع - منافذ۔

**منہج** - (منہج) (ع ۱) - (۱) مذ) کشادہ - وسیع - کھلا ہوا (۲) خوش  
**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) صفت) پھیلا ہوا - کشادہ۔  
**منہجرت زاویہ** - (ع ۱) - (۱) مذ) وہ زاویہ جو قائم سے بڑا ہو۔

**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) صفت) فرحت دینے والا خوشی بخشنے  
والا (۲) خوش - شاد۔

**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) مذ) تہا - اکیلا (۲) پکڑا گیا - دبا ہوا۔  
**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) مذ) اچھا کیا گیا - علیحدہ کیا ہوا۔  
**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) صفت) تفصیل شدہ - فیصلہ شدہ۔

**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) صفت) نفع خاندہ - سود حاصل یافت۔  
**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) مذ) قبول کرنے والا (۲) نام  
شرمندہ - شرم سار۔

**منہجرت** - (ع ۱) - (صفت) حرج کرنے والا کسی کو روٹی کرا دینے والا۔  
**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) مذ) اچھا کیا گیا - اچھا کیا گیا۔  
**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) صفت) تفریق کیا گیا - تفریق کیا گیا (۲) جانچ  
کیا گیا - گھنٹا گیا۔

**منہجرت** - (منہجرت) (ع ۱) - (۱) صفت) مطیع - بالبدار - فرماں بردار۔



منہننا - رمن - نام - نا، (۵- معص) دیکھیے میں بنا کر بات کرنا۔

من من کر بگڑنا - (۵- معص) راہنی ہو کر ناراض ہونا۔

من منکا - (۱۱- من مانا) خاطر خواہ۔

منمنگی - رمن - من - منی، (۵- صفت) نہایت چھوٹی بپتہ قدر حقیر - بیچ۔

منمنگی آواز - رمن - من - منی، (۵- واز) [۵-۱-۱- مٹ] وہ آواز جو ناک سے نکلتی ہوئی معلوم ہو۔

منمن - رمن - منی، (۵- مٹ) ہر منت کی جمع - احسانات۔

منہنا - رمن - نا، (۵- معص) مٹھ کر راہنی ہونا - رعیت کی دفع کرنا۔

منہنا - رمن - نا، (۵- معص) گنہگار شمار کرنا - ناپنا۔

منو - من - نا، (۱- مذ) ۱) عقلمند - دانا - دانش مند ۲) انسان - سوچنے والی مخلوق ۳) دنیا کا پہلا انسان - آدم ۴) ہندوؤں کے مذہبی تالمن دھرم شاستر کا مصنف۔

منو - رمن - نا، (۵- مذ) ۱) بندہ - شیون - یژنہ ۲) بعض آدمیوں کا نام بھی ہوتا ہے۔

منوا - (من - نا) (۵- مذ) ۱) دل - روح - اتمارن منوا کا امر۔

منوا کے چھوڑنا - (۱۶- محاورہ) اپنی بات تسلیم کر لینا - اقرار کر لینا۔

منوال - (۱- رمن - وال) (۱- مذ) ۱) وہ لکڑی جس پر جلا پکڑا ہوا بن کر لپیٹا جاتا ہے ۲) عجاظاً طرز - ڈھنگ - طور طریقہ

منو - دستور - رسم - تسلیم کرنا - اقرار کرنا۔

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) روشنی - دیا گیا - نورانی - روشن - چمکدار۔

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) اس - اندام - مطلب - مدعا - مقصد - خواہش - ارادہ۔

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) دعا - مراد - برائے - مقصد پر راہ - جو۔

منو - رمن - من - نا، (۵- صفت) نیند لانے والی۔

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) حرف - وہ حرف جس پر دو ذریعہ یا دو پیش ہوں۔

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) اس صفت - دل - خوبصورت - صمیمی - خوب - تشکیل۔

منو - رمن - من - نا، (۵- صفت) منی - منی - نقطہ سے منسوب۔

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) سوراخ - روزن - چھید ۲) موری - موکھا - کھڑکی۔

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) دروازہ - در - دروازہ - دروازہ - گھاڑ - گھاڑ - تہ - ۵) راہ - راستہ

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) کلاس - ۶) دہلی - دیانہ - حکمہ - رے - چہرہ - ۵) رخ - ۸) شکل - صورت ۹) پاس - لحاظ - خاطر - ملاحظہ - ۱۰) لیاقت - جوصل - مقدرت

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) زبان - ۲) کھڑکی - کلام - ۱۱) دروہ - سامنے - ۱۲) نوک - دھار

منو - رمن - من - نا، (۵- مذ) ۱) طرف - سمت - جانب۔

منہ آنا - (۱۶- محاورہ) منہ اور زبان میں چھائے پڑ جانا ۲) کاندھے کنا - ٹھنڈا مانا۔

منہ کرنا - (۱۶- محاورہ) کنا - ٹھنڈا کرنا۔

منہ اپنا سارے کر چھ جانا - (۱۶- محاورہ) شرمندہ ہو کر جانا - ندامت

منہ اٹھا کر جانا - (۱۶- محاورہ) شرمندہ ہو کر جانا - ندامت

منہ اپنا سارے خورہ جانا - (۱۶- محاورہ) شرمندہ ہو کر جانا - ندامت

منہ اٹھانا - (۱۶- محاورہ) شرمندہ ہو کر جانا - ندامت

منہ اتر جانا - منہ اترنا - (۱۶- محاورہ) راہ چرو بے رونق ہونا ۲) چہرہ ڈبلا پڑ جانا ۳) چہرے کا رنگ روپ جانا ۴) ہاتھ سے رخسے کے آثار ظاہر ہونا۔

منہ اتنا سا نکل آنا - منہ اتر جانا - (۱۶- محاورہ) منہ لاغر اور ڈبلا ہو جانا ۲) پیر رنگ و دوغن نہ ہونا۔

منہ اٹھا کر - منہ اٹھائے - (۱۶- تابع فعل) بے دھڑک - اندھا دھند بلا سمجھے - بے پردائی سے - بے تحاشا - بغیر غور کیے۔

منہ اٹھا کر چلنا - (۱۶- محاورہ) رستہ دیکھ کر نہ چلنا - فتر بے ہمارا کی طرح چلنا ۲) بے خبر ہو کر چلنا - بے پردائی سے چلنا۔

منہ اٹھا کر کہنا - (۱۶- محاورہ) بے سوچے سمجھے کہنا۔

منہ اٹھانا - (۱۶- محاورہ) کسی طرف جانا - کہیں کارواہ کرنا۔

منہ اٹھائے جانا - (۱۶- محاورہ) بے دھڑک جانا - دیکھے بھالے بغیر جانا۔

منہ اٹھ جانا - (۱۶- محاورہ) بلا سوچے سمجھے کسی طرف نکلنا ہونا۔

منہ اٹھنے - منہ اٹھانے - (۱۶- تابع فعل) سویرے - تڑکے - دن نکلنے۔

منہ اٹھلا ہو جانا - (۱۶- محاورہ) چہرے کا رنگ نکھر آنا ۲) عدت رہ جانا ۳) سامی سے بچ جانا - سرخوئی ہونا۔

منہ اڑا س ہونا - (۱۶- محاورہ) چہرے سے ادا سی ظاہر ہونا۔

منہ اس قابل ہونا - (۱۶- محاورہ) اتنی لیاقت ہونا۔

منہ اسٹک نہ امدت دھونا - (۱۶- محاورہ) خسر مندہ ہو کر دونا۔

منہ اٹھکوں سے دھونا - (۱۶- محاورہ) بہت رونا - اتنا رونا کہ چہرہ کانسول سے تر ہو جائے۔

منہ اکھری - (۱۶- تابع فعل) زبانی - منہ کی۔

منہ اندھیرے - (۱۶- تابع فعل) صبح تڑکے - علی الصبح - پچھلے صبح صادق کے وقت۔

منہ اونڈھا کر لیٹنا - (۱۶- محاورہ) رنج یا کھد میں منہ لپیٹ کر پڑ رہنا ۲) ندامت ہو کر الگ جا پڑنا۔

منہ بانا - (۱۶- محاورہ) منہ کھولنا - منہ کھلانا - جمائی لینا ۲) اپنی بیوقوفی پر ہنس پڑنا ۳) مرہٹا چلنا۔

منہ باندھ کے بیٹھنا - (۱۶- محاورہ) منہ بند کر کے بیٹھنا ۲) خاموش رہنا - چپ رہنا۔

منہ باندھے ہوئے بیٹھنا - (۱۶- محاورہ) فالتے سے ہونا۔

منہ بخشنا - (۱۶- محاورہ) طاقت دینا - کوئی بات کرنے کی قوت عطا کرنا۔

منہ بڑا بنانا - (۱۶- محاورہ) رنجش سے تیوری پڑھنا - ناراضی ظاہر کرنا۔

منہ بسورنا - (۱۶- محاورہ) رونے کی صورت بنانا۔

منہ بگاڑ دینا - (۱۶- محاورہ) چہرے پر مار مار کر زخمی کر دینا ۲) منہ کا دائرہ خراب کر دینا۔

منہ بگاڑنا - (۱۶- محاورہ) منہ بنانا ۲) تیوری چڑھانا - غصے کی سی صورت

بنانا، ۳، ماردارک چہرہ زخمی کر دینا، ۴، منہ ٹیڑھا کر کے ہنسانا،  
 منہ کو دبھڑھ کرنا۔  
 منہ بگڑنا، ہونا، ۱۶۔ محاورہ ( غصہ یا قہر و غضب کا ظاہر ہونا۔  
 ناراض ہونا۔  
 منہ بگڑ جانا، بگڑنا، ۱۶۔ محاورہ (چہرے کی حالت خراب ہونا، صورت کا  
 درست نہ رہنا، ۲، منہ دبھڑھنا، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، ۳، توری  
 چڑھ جانا، چہرے کا رنگ متغیر ہونا، غصہ جانا۔  
 منہ بنا بیٹھنا، منہ بنا کر بیٹھنا، ۱۶۔ محاورہ ( بگڑا بیٹھنا، ناراض ہونا  
 منہ بچھلا کر بیٹھ جانا۔  
 منہ بند کر، ۱۶۔ محاورہ (چہرے سے نفرت ظاہر کر کے۔  
 منہ بنا کر بیٹھنا، ۱۶۔ محاورہ ( ناراض ہونا، بگڑا بیٹھنا۔ چین بچھین ہونا۔  
 منہ بنا لینا، ۱۶۔ محاورہ (خفا ہونا، ناراض ہونا، توری چڑھا لینا۔  
 منہ بنا نا، ۱۶۔ محاورہ ( توری صدمت بنا کر چہرے کو دبھڑھ کرنا، رونے کی صورت  
 بنانا، ۲، ناراض ہونا۔ غصے کی صورت بنانا۔ رنجیدہ ہونا، ۳، بد ذائقہ چیز  
 کھانے یا پینے وقت چہرے کی ہیئت بگاڑ لینا۔  
 منہ بناؤ، ۱۶۔ محاورہ (خوش میں آؤ  
 منہ بن جانا، منہ بننا، ۱۶۔ محاورہ ( توری چڑھنا، غصہ، ہونا، ناراض ہونا،  
 منہ ٹیڑھا ہونا، صورت بگڑ جانا۔  
 منہ بندو، ۱۶۔ محاورہ (خوش میں آؤ۔ خوش کی دوا کر دو۔  
 منہ بندو، ۱۶۔ محاورہ (لب بستہ خاموش، پپ چاپ، ۲، کنواری، دو شیزہ، باکرہ۔  
 منہ بند کر دینا، ۱۶۔ محاورہ (لٹنے سے روک دینا، چپ کر دینا۔  
 منہ بند کر لینا، ۱۶۔ محاورہ (۱، خاموش ہونا، ۲، منہ پر کھڑا یا ہاتھ  
 لٹھک لینا۔  
 منہ بند کرنا، ۱۶۔ محاورہ (لٹنے سے روکنا، خاموش کرنا، ۲، رشوت دے کے لپٹنے  
 خلاف کہنے سے باز رکھنا۔  
 منہ بندنگلی، ۱۶۔ محاورہ (۱، شگوفہ، بن کھلا بھول، ۲، باکرہ۔ دو شیزہ  
 کنواری۔  
 منہ بند ہونا، ۱۶۔ محاورہ (دکن بیٹہ ہونا، چپ ہونا، خاموش ہونا، بات نہ کرنا  
 (۱، کسی بدی یا چھٹی کرنے سے روکنا، ۳، زخم بھرنے۔  
 منہ بندھے، ۱۶۔ محاورہ (جینوں کے سادھو جو کپڑا منہ پر اس لیے باندھ رکھتے ہیں  
 کہ سانس سے کوئی کیراڈ مچ جائے۔  
 منہ بخوار کھو، منہ بخوارو، منہ بخوارو، ۱۶۔ محاورہ (اس قابل تو بہاؤ، امید دکھو  
 مزدور کھو، اس خیال سے باز آؤ۔  
 منہ ہونا، ۱۶۔ محاورہ (۱، منہ درست کرنا، ۲، لیاقت پیدا کرنا، کسی  
 کام کے لائق ہونا۔  
 منہ بولا، ۱۶۔ محاورہ (منہ سے کہا ہوا، زبان سے بولا، بولا۔  
 منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا، ۱۶۔ محاورہ (دو شخص سے زبان سے کہہ  
 کر بھائی یا بیٹا بنایا ہو۔  
 منہ بولتی، ۱۶۔ محاورہ (بولتی ہوئی، گویا، تصویر یا شبہ کی تعریف میں کہتے  
 ہیں۔ یعنی ایسی ہی ہونانی ہے کہ معلوم ہوتا ہے ابھی بولنے والی

ہے جیسے منہ بولتی تصویر۔  
 منہ بولی، ۱۶۔ محاورہ (منہ سے کہی ہوئی، زبان سے بتائی ہوئی۔  
 منہ بولی، ہنس، منہ بولی بیٹی، ۱۶۔ محاورہ (دو عورت جسے منہ سے ہنس یا بیٹی  
 کہہ دیا جائے۔  
 منہ بھرا آنا، منہ بھرا آنا، ۱۶۔ محاورہ (منہ میں پانی یا مٹی کا آجانا، جی  
 مالش کرنا، مٹی ہونا۔  
 منہ بھرائی، ۱۶۔ محاورہ (منہ زبان بندی، رشوت۔  
 منہ بھرائی دینا، منہ بھرا دینا، ۱۶۔ محاورہ (رشوت دینا۔  
 منہ بھرنے کے، ۱۶۔ محاورہ (۱، لہا لہا، لہریز، بھر پور، ۲، تمام دکھا، ۳،  
 نہایت، از حد، بھر پور، خاطر خواہ، سن مانا، نجوی۔  
 منہ بھرنے کو سنا، ۱۶۔ محاورہ (بیدردی سے کو سنا، بیدھڑک کر سنا۔  
 گونے میں کسر نہ اٹھا رکھنا۔  
 منہ بھرنے کا گالی دینا، ۱۶۔ محاورہ (غش بکنا۔ سخت اور قابل شرم  
 ٹھکانی دینا۔  
 منہ بھرنے، ۱۶۔ محاورہ (۱، منہ بڑھ کرنا۔ منہ میں لغو دینا، ۲، سائل کو اتنا  
 دینا کہ اس کی قیمت بھر جائے، ۳، رشوت دینا۔ رشوت دے  
 کر منہ بند کرنا۔  
 منہ بھری، ۱۶۔ محاورہ (رشوت۔  
 منہ بھڑاک، ۱۶۔ محاورہ (منہ کے بل۔ آوندھا۔ گرنے کے لیے  
 مستعد ہے۔  
 منہ بھی سامنے نہ ٹھرتا، ۱۶۔ محاورہ (۱، ذرا توجہ نہ کرنا، ۲، شکل  
 نہ دکھانا۔  
 منہ پانا، ۱۶۔ محاورہ (توجہ پانا، رخ پانا، راضی پانا، خوش پانا۔  
 منہ پر پاؤں رکھنا، ۱۶۔ محاورہ (بہت منت سماجت کرنا۔  
 منہ پر، ۱۶۔ محاورہ (۱، تالیق فعل، سامنے، دو بڑو، بالمقابل، ۲، بونٹوں پر، لب پر، ۳، چہرے  
 پر، چہرے کے اوپر۔  
 منہ پر آنا، ۱۶۔ محاورہ (۱، زبان پر آنا، ۲، ظاہر ہونا، پیش ہونا۔  
 نمودار ہونا۔  
 منہ پرانی بات، ۱۶۔ محاورہ (زبان پر کئی ہوئی بات۔  
 منہ پرانی، ہوئی، تمہیں مر گئی ہے۔ ۱۶۔ محاورہ (۱، بات زبان پر آجاتی ہے  
 کہہ دینا، ہی ہوتی ہے۔  
 منہ پر بات لانا، ۱۶۔ محاورہ (مجید کھولنا۔ سازناش کرنا۔ بات کا  
 اظہار کرنا۔  
 منہ پر کھالی ہونا، ۱۶۔ محاورہ (چہرے پر تانگی ہونا۔  
 منہ پر کھانا، ۱۶۔ محاورہ (صورت سے ظاہر ہونا، چہرے سے آشکار  
 ہونا، چہرے سے پانا جانا۔  
 منہ پر لسنٹ، چھوٹا، منہ پر لسنٹ، کھلنا، ۱۶۔ محاورہ (چہرہ زرد پڑنا  
 خوف چھانا، منہ پیلا پڑنا۔  
 منہ پر پانی پھیر جانا، ۱۶۔ محاورہ (چہرے پر رونق آجانا، چہرہ بھر جانا، منہ پر تانگی آجانا۔  
 تندرستی اور صحت کا چہرے سے ظاہر ہونا۔

منہ پر پٹا رکھ کے رونا - ۱۱- عمارہ ڈپٹے کا کونا منہ پر رکھ کر رونا۔  
 منہ ڈھانپ کر رونا۔  
 منہ پر چوٹی بیچھے صراحی موت - ۱۱- نسل (سانسے تعریف غیر جانبداری میں بدگئی۔  
 منہ پر پھینکا ہوا برسا - ۱۱- عمارہ (منہ کا بے رونق ہونا۔  
 منہ پر پھینک مارنا - ۱۱- عمارہ (شکل سے کوئی چیز واپس کر دینا منہ پر مارنا۔  
 منہ پر جھوک دینا - ۱۱- عمارہ (چہرے پر جھوک ڈالنا، نہایت شرمندہ اور ذلیل کرنا۔ منہ پر عیب صاف ہو کر دینا۔  
 منہ پر پھیکری رکھ لینا - ۱۱- عمارہ (ملاحظہ کرنا۔ بے مروتی کرنا۔  
 منہ پر جانا - ۱۱- عمارہ (ملاحظہ کرنا۔ خیال کر کے مروت برتنا۔  
 منہ پر چھوٹی لگنا - ۱۱- عمارہ (نہایت شرمندگی حاصل ہونا۔  
 منہ پر جو کئی ہونا - ۱۱- عمارہ (چہرے سے بد شکوئی کے آثار ظاہر ہونا۔  
 منہ پر جھجکا کرنا - ۱۱- عمارہ (سانسے بات کہنا۔  
 منہ پر چڑھنا - ۱۱- عمارہ (مقابلہ کرنا۔ سامنا کرنا۔ لڑنے کو کھڑے ہونا۔  
 ۱۲- مقابل ہونا۔ سانسے ہونا۔ ٹد بڑ ہونا۔ ۱۳- استیلا ہونا۔ ۱۴- منہ لگنا۔ مصائب بننا۔  
 منہ پر چھو پانا - ۱۱- عمارہ (چہرے پر جانا۔ خاموشی اختیار کرنا۔  
 منہ پر خاک اڑنا - ۱۱- عمارہ (چہرے کا بے رونق اور پریشان ہونا۔  
 منہ پر خاک ملی ہے - ۱۱- مثل (بہی چیز کو تیزی طرح سے رکھا ہے، ۱۲- مٹھی نظر کر کے دولت کو چھپایا ہے۔  
 منہ پر خوشامد نہ کرنا - ۱۱- عمارہ (پاسداری نہ کرنا۔ صاف بات کہنا لگی لپٹی نہ کرنا۔  
 منہ پر دامن رکھ کے رونا - ۱۱- عمارہ (منہ ڈھانپ کر رونا۔  
 منہ پر رکھنا - ۱۱- عمارہ (دیکھے منہ پر کہنا۔  
 منہ پر رکھ دینا - ۱۱- عمارہ (چہرے پر رکھ دینا، ۱۲- کلی پیر چھینا، ۱۳- اپنا اسان ظاہر کرنا۔  
 منہ پر رونق آجانا - ۱۱- عمارہ (چہرہ پر روشنی ہونا۔  
 منہ پر زردی پھر جانا - ۱۱- عمارہ (منہ پر زردی لگنے جانا، ۱۲- عمارہ (چہرہ پیلا پڑ جانا۔  
 منہ پر چہرے کا سفید ہونا - ۱۱- عمارہ (مروتی چھان جانا۔  
 منہ پر سخن آنا - ۱۱- عمارہ (بات زبان پر آنا۔  
 منہ پر شرمی ہونا - ۱۱- عمارہ (بشاش ہونا۔ صحت مند ہونا۔  
 منہ پر سیدھی چھیرنا - ۱۱- عمارہ (حق - مص - صاف گوئی سے کام لینا۔ روبرو لونا۔  
 منہ پر شفق چھو لونا - ۱۱- عمارہ (مار سے خوشی کے چہرہ مریخ ہونا۔  
 منہ پر صاف صاف کہنا - ۱۱- عمارہ (کھری کھری سنانا۔ لگی لپٹی نہ کرنا۔

منہ پر فاختہ اڑھانا - ۱۱- عمارہ (چہرے کا رنگ اڑنے لگنے۔ منہ کا فنی ہونا۔  
 منہ پر قفل لگ جانا - ۱۱- عمارہ (منہ بند ہونا۔ خاموشی چھان جانا۔  
 منہ پر کچھ پٹھہ پر کچھ - ۱۱- عمارہ (منہ پر اور پٹھہ پٹھہ اور - ۱۱- نسل (ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔ یہ ظاہر دوست ہے باطن دوست۔  
 منہ پر کچھ نہ بولنا (کہنا) - ۱۱- عمارہ (روبرو کچھ نہ کہنا۔ سانسے اگر خاموش رہنا۔  
 منہ پر کوسنا - ۱۱- عمارہ (سانسے برا بھلا کہنا۔  
 منہ پر کہہ بیٹھنا - ۱۱- عمارہ (سانسے کہہ دینا۔ آسنے سانسے کہنا۔  
 منہ پر کہنا خوشامد ہے - ۱۱- نسل (یعنی ہم آپ کے سانسے جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ خوشامد میں حقیقت ہے۔  
 منہ پر کہنے کو مٹھ کا بال - ۱۱- نسل (مردی ہے جو صحیح بات منہ پر کہہ دے۔  
 منہ پر کھانا - ۱۱- عمارہ (سانسے زخم کھانا۔ بہادری سے مقابلہ کرنا۔  
 منہ پر کھری کھری کہنا - ۱۱- عمارہ (کسی کی بڑائی اس کے سانسے کہہ دینا۔  
 منہ پر کئی ساری باتیں ہیں - ۱۱- نسل (سانسے تو صحبت اور پیٹھ پیچھے عداوت ہے۔  
 منہ پر لانا - ۱۱- عمارہ (کہنا۔ بیان کرنا۔ ظاہر کرنا۔  
 منہ پر لکھا ہونا - ۱۱- عمارہ (چہرے سے صاف ظاہر ہونا۔  
 منہ پر لکاسے جانا - ۱۱- عمارہ (کسی خطرناک چیز کے سانسے تک پہنچنا۔  
 منہ پر مروتی پھرنانا (چھاننا) - ۱۱- عمارہ (منہ پر مروتی چھاننا۔ دیکھے منہ پر زردی پھر جانا۔  
 منہ پر متاب چھٹنا - ۱۱- عمارہ (منہ پر جانا۔ چہرہ سفید پڑ جانا۔ چہرے کا رنگ پھیکا پھینکا۔  
 منہ پر مہر کر دینا - ۱۱- عمارہ (منہ پر مہر کرنا۔ بات کرنے سے باز رکھنا۔  
 منہ پر مہر لگنا - ۱۱- عمارہ (منہ پر مہر لگنا۔ ۱۲- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔ ۱۳- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔ ۱۴- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔ ۱۵- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔ ۱۶- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔ ۱۷- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔ ۱۸- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔ ۱۹- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔ ۲۰- عمارہ (منہ پر قفل لگنا۔  
 منہ پر مٹھا ہونا - ۱۱- عمارہ (سانسے شرم میں کلام اور دل میں کوٹ۔  
 منہ پر ناک نہ ہونا - ۱۱- عمارہ (شرم و حیا نہ ہونا۔ غیرت نہ ہونا۔ اپنی عزت داؤد کا خیال نہ ہونا۔  
 منہ پر ٹمک ہونا - ۱۱- عمارہ (بہرے پر طاعت ہونا۔ خوبصورتی ہونا۔  
 منہ پر لونا ہونا - ۱۱- عمارہ (چہرے پر رونق نہ ہونا۔ چہرہ بے رونق ہونا۔  
 منہ پر نہ تھو لگنا - ۱۱- عمارہ (مخاطب کا نظر سے دیکھنا۔  
 منہ پر نہ رکھنا - ۱۱- عمارہ (زبان پر نہ رکھنا۔ مذاکرہ چھیننا۔ سانسے نہ کہنا۔  
 روبرو زبان پر دلانا۔

مُنہ پھینا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ موڑ دینا۔ دُرخ پھیر دینا، ۲۲۔ جی پھیر دینا۔  
طبیعت سیر کر دینا، ۳۰۔ لپسا کر دینا۔ جھگڑانا۔ مغلوب کر دینا۔  
مُنہ پھیلانا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ کھولنا، ۲۲۔ زیادہ مانگنا بہت لالچ کرنا، ۳۰۔ مول  
بڑھانا۔ زیادہ قیمت مانگنا۔

مُنہ پھیلانے پٹھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) غفلت رہنا۔ مانگنے اور لینے کے  
لیے آمادہ رہنا۔

مُنہ پیٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نہایت غصہ یا غم کی حالت میں اپنے منہ پر سے  
پر تھپڑ لگانا۔

مُنہ پیل پڑ جانا۔ مُنہ پر زوری چھانا۔

مُنہ تک آنا۔ ۱۷۔ محاورہ) لپ تک آنا۔ زبان تک آنا، ۲۰۔ کناروں تک جھرجانا  
پر لہنے پھرنے پھرجانا۔

مُنہ تک جگر آنا۔ ۱۷۔ محاورہ) جی گھبرانا۔ طبیعت بہت پریشان ہونا۔  
مُنہ تک کے رہ جانا۔ ۱۱۔ محاورہ) حیرانی سے خاموش رہ جانا۔

مُنہ تھکنا۔ مُنہ کی طرف دیکھنا۔ چہرے کی طرف نگاہ کرنا، ۲۰۔ جواب کا منظوریہ۔  
۳۰۔ حسرت اور یاس کی نگاہوں سے دیکھنا، ۴۰۔ حیران و شہد ہو کر رہ جانا

۵۱، لا جواب ہونا، ۶۰۔ تعجب سے دیکھنا۔

مُنہ تھمتھانا۔ ۱۷۔ محاورہ) چہرہ سُرخ ہو جانا۔

مُنہ تھنگ کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نہ بولنا۔

مُنہ توڑنا۔ ۱۰۔ ۱۔ مُنہ بھرائی۔ رشوت۔

مُنہ توڑ دیکھو۔ مُنہ توڑ دیکھو۔ ۱۱۔ محاورہ) اس قابل تو ہو جاؤ۔ اتنی  
لیاقت تو پیدا کرو، ۲۰۔ تمہاری کیا حقیقت ہے۔ کیا مجال ہے

تم سے اورے کام۔

مُنہ توڑ کے جواب دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) صاف جواب دینا۔ یہاں  
سے جواب دینا۔

مُنہ توڑنا۔ ۱۱۔ محاورہ) مُنہ پر ضرب لگانا۔ لا جواب کرنا۔ شرمندہ کرنا۔

مُنہ تھمتھانا۔ دیکھتے مُنہ چھلانا۔

مُنہ ٹوٹ جانا۔ مُنہ ٹوٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ پر چوٹ آنا۔

مُنہ ٹوٹ جائے۔ راز۔ بددعا، مُنہ پر چوٹ آئے

مُنہ ٹیڑھا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نفرت و آزدگی سے مُنہ بگاڑنا۔

مُنہ ٹیڑھا ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ پھرجانا، ۲۰۔ توری پڑھنا۔ خُشکی کی

صحت بنتا۔

مُنہ جھڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) اکانا چھوسی کرنا۔ دُکراؤ کار کرنا، ۲۰۔ خبیثت کرنا۔

بدرگئی کرنا

مُنہ جھٹلانا۔ ۱۷۔ محاورہ) برائے نام کھانا۔ نام کھانے کو کھانا۔ یوں ہی ذرا

ساکھ لینا۔

مُنہ جھٹک جانا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ اُتر جانا۔ چہرہ سُست ہو جانا

دُکلا ہو جانا۔

مُنہ جھلسنا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ کو لگ لگانا۔ مُنہ کو جلا کر سیاہ کرنا، ۲۰۔ اُصنت چھیننا

۳۰۔ رشوت دینا، ۴۰۔ قرضہ ادا کرنا۔ دے دلا کر فارغ ہونا۔

مُنہ جھوٹا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) دیکھتے مُنہ جھٹلانا۔

مُنہ پر ہاتھ پھیرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بدل لینے کا اشارہ کرنا، ۲۰۔ گالوں پر ہاتھ لگانا، ۳۰۔ کسی  
کام کے پورا کرنے کا اظہار کرنا۔

مُنہ پر ہاتھ رکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بولنے سے روکنا۔ بات نہ کرنے دینا  
مُنہ بند کرنا۔

مُنہ پر ہوا نیاں اڑانا۔ مُنہ پر ہوا نیاں چھوٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ فق ہونا۔ حواس  
باختم ہونا۔ گھبرا جانا۔ چہرے کا رنگ غائب ہو جانا۔

مُنہ پڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) حوصلہ پڑنا۔ جرأت ہونا، ۲۰۔ افواہ ہونا۔ چچا ہونا۔ شہور ہونا۔  
۳۰۔ مُنہ میں جانا۔ کھانے میں آنا۔

مُنہ پڑی۔ ۱۷۔ صفت مشہور خاص و عام۔ زبان زدِ خلائق۔

مُنہ پسار کر رہ جانا۔ ۱۷۔ محاورہ) حیران رہ جانا۔ ہکا بکا رہ جانا۔ شرمندہ  
ہونا۔

مُنہ پسارنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی چیز کے کھانے یا لینے کو مُنہ پڑھانا، ۲۰۔ حرم  
کرنا۔ لالچ کرنا۔

مُنہ پکڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بولنے نہ دینا۔ بات کرنے سے روکنا۔

مُنہ پھلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) چلا کر گھبنا۔

مُنہ پھلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ کھولنا۔ بولنا، ۲۰۔ مُنہ پھیلانا۔ مُنہ بنانا۔ اپنی بیوقوفی  
پر ہنسنا، ۳۰۔ زبان درازی کرنا۔

مُنہ پھٹنا۔ ۱۷۔ صفت مشہور۔ زبان دراز۔ بدل لالچ۔ بدل زبان، ۲۰۔ موقع  
بے موقع بولنے والا۔

مُنہ پھرا۔ ۱۷۔ محاورہ) اے رُخی کرنا۔ صورت سے بیزار ہونا۔

مُنہ پھیر جانا۔ مُنہ کا ٹیڑھا ہو جانا۔ دیکھنے وغیرہ کی ضرب سے، ۲۰۔ لغو سے  
کام مٹنا ہو جانا، ۳۰۔ مُنہ سامنے سے مٹ جانا۔ دُرخ پھرجانا۔

سُست لگ جانا۔ جھاک جانا، ۴۰۔ خوب سیر ہو جانا۔ جی پھرجانا۔  
اُگنا جانا، ۵۰۔ دھار کا ٹھٹھانا۔ لوک ٹیڑھی ہو جانا، ۶۰۔ توجہ نہ بہتھیل

دوسری طرف لگ جانا۔

مُنہ جھلکا کر بیٹھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ناراض ہو کر بیٹھنا۔ مُنہ تھمتھا کر بیٹھنا۔ خُشکی  
کی علامت ظاہر کرنا۔

مُنہ جھلانا۔ ۱۷۔ محاورہ) ناراض ہونا۔ خفا ہونا۔ مُنہ صُجھانا۔

مُنہ چھوڑ کر۔ ۱۷۔ تابع فعل) بے شرم ہو کر۔ بے عزت بن کر۔ آزدانہ۔  
بیباکانہ۔

مُنہ چھوڑ کر گھبنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بے عزتی سے کہنا۔ بے شرم ہو کر گھبنا۔

مُنہ چھوڑ کر مانگنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بے شرم بن کے طلب کرنا۔ بے حیائی  
کر کے مانگنا۔

مُنہ چھوٹنا۔ ۱۷۔ محاورہ) آزدہ ہونا۔ خفا ہونا۔

مُنہ پھیر دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) مُنہ موڑ دینا۔ دُرخ پھیر دینا، ۲۰۔ جی پھیر دینا۔ طبیعت سیر  
کر دینا، ۳۰۔ لپسا کر دینا۔ جھگڑانا۔ مغلوب کر دینا۔

مُنہ پھیر کے چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نفرت ظاہر کرنا۔

مُنہ پھیر کے کہنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ناؤ دادا سے کئی بات مُنہ دوسری طرف  
مُنہ پھیر کر نہ دیکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بے توجہی کرنا۔ پروا نہ کرنا۔

مُنہ چھٹانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، پیار کرنا۔ چمکانا ۲، خوشامد کرنا، ناز برداری کرنا  
مُنہ چا پیسے۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، ہمت و حوصلہ کی ضرورت ہے۔ دل گردہ چاہیے  
قابلیت و درکار ہے۔

مُنہ چٹو ل۔ ۱۷۔ مٹا ہوا چائے۔ پیار و محبت ۲، بک بک۔ بکواس۔  
مُنہ چھٹانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، صورت نہ دکھانا، سامنے نہ آنا۔ گونز کرنا۔  
مُنہ چرخا ہوجانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، دیکھیے مُنہ پھرجانا۔  
مُنہ چڑھانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، کسی کو کھانے کے لیے مُنہ ٹیرھا کر کے دکھانا  
کسی دوسرے کے مُنہ کی نقل بد نمائی کے ساتھ کرنا ۲، جھوٹی  
نقل کرنا

مُنہ چڑھا۔ ۱۷۔ صفت ۱، مُنہ لگا گستاخ لیے ادب۔ جندی۔  
مُنہ چڑھانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنگ لانا۔ عزت و مَنگ دینا ۲، گستاخ بنانا ۳، بے ادب کرنا۔  
۳، مصاحب بنانا، محراب بنانا، نام کی جھوں چڑھانا۔ مَنہ بنانا۔ توری پڑھانا  
نا پسندیدگی کی علامت ظاہر کرنا۔

مُنہ چڑھنا۔ مصاحب بنانا۔ مَنگ لگنا ۲، توری چڑھنا ۳، گستاخ ہونا۔  
۴، مقابل ہونا۔ سامنے آنا۔ برابری کرنا ۵، چہرے پر نمایاں  
ہونا۔ زبان پر چڑھنا ۶، پیچھے پڑنا۔ سر ہونا۔ درپے ہونا۔  
محبت کرنا۔ محبت کرنا ۷، مقابلہ کرنا ۸، ہمسری اور برابری  
کا دعویٰ کرنا۔

مُنہ چکنا۔ پیسٹ خالی۔ ۱۷۔ مَنہ ۱، ظاہر میں بڑی ٹیپ ٹاپ باطن میں خاز خراب۔  
مُنہ چلانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مذکورہ حرکت دینا ۲، کھانا چھانا ۳، چکانی کرنا ۴، گھومنے کا  
کاشا۔ مَنہ سے پلٹنا ۵، بد زبانی کرنا۔ گالیاں دینا۔

مُنہ چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ کا متحرک ہونا ۲، کھاتے رہنا ۳، زبان چلنا ۴، بک کیے  
جانا ۵، چپ نہ بیٹھنا۔

مُنہ چلے ستر ہلا گئے۔ ۱۷۔ مثل ۱، تمام طاقت کھانے پینے ہی سے ہے۔  
مُنہ چنگ۔ ۱۷۔ مذا ۱، ایک باجا جو مَنہ سے بجایا جاتا ہے۔

مُنہ چور۔ ۱۷۔ صفت ۱، بہت حیا دار۔ بڑی شرم والا۔ وہ شخص جو شرم و حجاب کی وجہ  
سے کسی کے سامنے مَنہ نہ کرے۔

مُنہ چومتے ہی کال کاتا۔ ۱۷۔ مثل ۱، شروع میں ہی نقصان پہنچایا۔  
مُنہ چوم کے چھوڑ دینا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، ذلیل و شرمندہ کر کے چھوڑ دینا ۲، کام نکال  
کے دھت بنا دینا۔

مُنہ چوم لینا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، بوسہ لینا ۲، بہت تعریف کرنا۔ خوش گفتاری کا قابل ہو  
جانا۔ وا دینا۔

مُنہ چھپانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، سامنے نہ آنا۔ پردہ کرنا ۲، چہرے پر پردہ ڈالنا ۳، شرمندہ  
ہونا۔ شرمسار ہونا۔ حیا ہونا۔ شرمانا ۴، کنارہ کرنا۔ بھونچ کرنا ۵،  
انکھ چھپانا۔ نظر چھپانا۔

مُنہ چھٹ۔ ۱۷۔ صفت ۱، مَنہ چھٹ ۲، بے لگام۔  
مُنہ چھوٹا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، برائے نام بچو لینا۔ اُوپر سے دل سے کبنا ۲، جھوٹی خاطر  
کرنا ۳، ظاہر داری کی تواریخ کرنا۔

مُنہ چھوٹا اور بڑی بابت۔ ۱۷۔ مثل ۱، ادنیٰ آدمی کا حوصلے سے بڑھ کر بات کرنا  
تھوڑی کا۔ جی بگھارنا۔

مُنہ چھوٹا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، اُوپر سے دل سے کبنا ۲، ذرا بات کرنا  
ذرا بولنا۔

مُنہ چھتتا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، تھپتھپانا۔ مَنہ کو کھانے مار کر زخمی کرنا۔  
مُنہ خاتم کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ بند کرنا۔ آٹے یا مٹی سے کسی چیز کا سوراخ بند کرنا  
مٹی کی محبت کرنا۔ کھردلی کرنا۔

مُنہ خدا کی طرف ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ پر مہر دوسہ کرنا۔  
مُنہ خراب کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ بگاڑنا۔ مَنہ کا مزہ بگاڑنا۔ ۲،  
گالیاں دینا۔

مُنہ خراب ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، مَنہ بگاڑنا۔ بد زبانی ہونا۔ زبان گندی ہونا۔  
۲، مَنہ بد مزہ ہونا۔

مُنہ خشک ہوجانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، اگر بیا پیاس کی شدت سے زبان سوک جانا  
خوف چھاجانا، چہرہ زرد پڑنا۔ مَنہ خن ہوجانا۔ گھبرانا۔

مُنہ در مَنہ۔ ۱۷۔ تابع لعل، رو برو۔ آتے سامنے۔  
مَنہ در مَنہ خالہ نالی پیٹھ پیچھے دھس جانی۔ ۱۷۔ مثل ۱، ظاہر میں خوشامد کی  
باتیں دہر پردہ دہنتی۔

مَنہ در مَنہ کبنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، سامنے کبنا۔ مَنہ پر کبنا۔ رو برو کبنا۔  
بے جھجک کبنا۔

مُنہ دکھانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، سامنے آنا۔ ملاقات کرنا۔ رو برو ہونا۔  
مُنہ دکھانا مشکل ہے۔ مَنہ دکھانا مشکل ہو گیا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، بہت ہی مدامت  
ہے جس کے سبب سامنے نہیں ہو سکتا۔

مُنہ دکھانے کی جگہ (باقی) نہیں۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، نہایت شرمندگی کے باعث  
سامنے نہیں جا سکتا۔

مُنہ دکھانے کی صورت نہ رہنا۔ شرمندگی کے باعث ملنے کا موقع  
نہ رہنا۔

مُنہ دکھانے کے قابل نہ رہنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، نہایت شرمندگی کے باعث سامنے  
آنے کے لائق نہ رہنا۔

مُنہ دکھائی۔ مَنہ دکھلائی۔ ۱۷۔ مثل ۱، رونمائی۔ وہ نقدی جو پیسے پہل دہن کا مَنہ  
دیکھ کر سسرال دلے دستے ہیں۔

مُنہ دکھائی دینا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، کسی جگہ اور چیز، شیشہ اور پانی وغیرہ میں  
اپنا عکس نظر آنا۔

مُنہ دھوانا، ہوجانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، چہرے پر بھوٹیاں اُٹھنا۔  
مُنہ دھواؤ۔ مَنہ دھو رکھو۔ مَنہ دھو ڈالو۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، کام کی امید نہ رکھو۔ تم ای کام  
کے قابل نہیں۔

مُنہ دسے کربات کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، متوجہ ہو کر بات چیت کرنا۔  
مُنہ دیکھ۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، لیاقت پیدا کر۔  
مُنہ دیکھا۔ ۱۷۔ صفت ۱، مَنہ دیکھنے والا۔ حلقہ بگوش۔ فرماں بردار۔ مطیع۔

مُنہ دیکھا کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، حیرت سے چہرہ تنکنا ۲، کسی بات کا منتظر ہونا۔  
مُنہ دیکھتے رہ جانا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، حیران و ششدر رہ جانا ۲، امید  
رہ جانا۔

مُنہ دیکھتے رہنا۔ ۱۷۔ محاورہ ۱، رُعب و دہرہ میں اگر کچھ کہہ نہ سکتا۔



منہ دیکھ کر اٹھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) سوتے ہوئے اٹھ کر کسی کی صورت دیکھنا۔ یعنی لوگ خیال کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کر اگر کسی جہدک انسان کی صورت دیکھی جائے تو سارا دن خوشی میں بسر ہوتا ہے۔ اور اگر متوس سامنے آجائے، تو رنج و غم میں دن تمام ہوتا ہے۔

منہ دیکھ کر بات کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) سامنے خوشامد کی باتیں کرنا۔

منہ دیکھ کر رہ جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ دکھتا رہ جانا۔ ٹائیس ہو کر رہ جانا۔

نا امید ہو جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) حیران ہو جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) لا جواب ہو کر رہ جانا۔

منہ دیکھ کے تھپڑ لگایا جاتا ہے۔ (۱۱۔ مثل) حیثیت دیکھ کر تباہ کیا جاتا ہے۔

منہ دیکھا کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) حیرت سے منہ نکال کرنا۔ چہرے کو گھورا کرنا۔ کسی بات کے سننے کا منظر ہونا۔

منہ دیکھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) صورت دیکھنا۔ چہرہ دیکھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) اپنے میں شکل دیکھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) حیران سے منہ دیکھنا۔ حسرت سے منہ نکالنا۔ تعجب سے نظر آنا۔ (۱۱۔ محاورہ) حیرت سے منہ دیکھنا۔

منہ دیکھو۔ (۱۱۔ محاورہ) ذہان کی لیاقت پر نظر کر دیکھا حوصلہ ہے۔

منہ دیکھی۔ (۱۱۔ محاورہ) سامنے کی۔ منہ پر کی۔ خوشامد کی۔

منہ دیکھی کہنا۔ طرف داری کی بات کہنا۔

منہ دیکھی۔ (۱۱۔ محاورہ) بائیں، آدھی۔ (۱۱۔ محاورہ) دکھا دے کی۔ خوشامد کی نمائندگی۔

منہ دیکھی کی آغوش (چاہ۔ پریت۔ محبت)۔ (۱۱۔ محاورہ) آغوش ہری محبت دیکھا دے کا بہار۔ نمائندگی اخلاص۔ جھوٹی محبت۔

منہ دیکھی کی باتیں۔ (۱۱۔ محاورہ) آدھی باتیں۔ خواہ برداری کی باتیں۔ دکھا دے کی باتیں۔

منہ دیکھی کی سب کہتے ہیں خدا لگتی کوئی نہیں کہتا۔ (۱۱۔ مثل) انصاف کی بات کوئی نہیں کہتا۔ سب خوشامد اور طرفداری کی باتیں کہتے ہیں۔

منہ دینا۔ (۱۱۔ محاورہ) برتن میں جالور وغیرہ کا منہ ڈال دینا۔ (۱۱۔ محاورہ) دینا۔ متوجہ ہونا۔

منہ ڈالنا۔ (۱۱۔ محاورہ) کسی جالور کا کسی چیز میں منہ داخل کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) عمل کرنا۔

منہ ڈھانپ ڈھانپ کر رونا۔ (۱۱۔ محاورہ) ہنریت رونا بیٹھا۔ بہت ہی گریہ و زاری کرنا۔

منہ ڈھانپنا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ پر کڑا ڈالنا۔ رونا۔ فخر کرنا۔

منہ ڈھانک کر رونا۔ (۱۱۔ محاورہ) آزار نہ رونا۔ منہ پر کڑا رکھ کر رونا۔

منہ ڈھانکن۔ منہ ڈھانکن۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ چھپانا۔ چہرے پر پردہ ڈالنا۔ (۱۱۔ محاورہ) ماتم کرنا۔

منہ ڈھانکن آنا۔ (۱۱۔ محاورہ) چہرے کا ڈھانکنا اور کر دیکھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) نہایت لاشرف اور ناگوار ہونا۔

منہ رکھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) پاس رکھنا۔ لگا رکھنا۔ توجہ رکھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) نگاہ رکھنا۔

منہ روشن ہونا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ پر رونق ہونا۔

منہ نہ زبانی۔ (۱۱۔ محاورہ) (۱۱۔ محاورہ) زبانی۔ بے لکھے۔ بلا تحریر (۱۱۔ محاورہ) لوگ زبان۔ حفظ بر زبان۔

منہ زرد ہو جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) چہرہ کا رنگ پیلا پڑ جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) اُداس ہو جانا۔

منہ زور۔ (۱۱۔ محاورہ) بدگام۔ منہ بچھٹ۔ (۱۱۔ محاورہ) بُرا خیال رکھنے والا۔ (۱۱۔ محاورہ) بگواسی۔ پچھپ نہ رہنے والا۔ (۱۱۔ محاورہ) شرر گھوٹا۔ وہ گھوٹا جو گام نہ مانے وہ تیز گھوٹا جو روکے نہ روکے۔

منہ زوری۔ (۱۱۔ محاورہ) بد زبانی۔ بد لگامی۔ سخت کلامی۔ بیہودہ گوئی۔ (۱۱۔ محاورہ) شرارت۔ شوخی۔ سرکشی۔

منہ زوری کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) بد زبانی کرنا۔ بد لگامی کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) شرارت کرنا۔ شرارت کرنا۔

منہ زہر ہو جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ کا مزہ تلخ ہو جانا۔

منہ سامنے نہ ہونا۔ (۱۱۔ محاورہ) محاب یا خرم سے سامنے نہ آنا۔

منہ سخت جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ کا ڈھلا ہو جانا۔

منہ سنبھانا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ سنبھالنا۔ اُداس ہونا۔ ناراض ہونا۔ ٹھیکسی ہونا۔ (۱۱۔ محاورہ) تھپڑوں سے منہ لال کرنا۔

منہ سُرخ ہو جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) غضب ناک ہو جانا۔ غصے سے چہرہ لال ہو جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) جلال یافتہ میں منہ تھمنا۔

منہ سے آہ نہ کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) شکوہ نہ کرنا۔ ظلم و ستم پر پھجپ نہ کرنا۔

منہ سفید پڑ جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) سفید ہو جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) خوف چھانا۔ سخت حیرت میں پڑ جانا۔ رنگ اڑ جانا۔ چہرہ فق ہو جانا۔

منہ سسکنا۔ (۱۱۔ محاورہ) چہرے پر ڈھلا ہٹ چھا جانا۔ منہ کی رونق نہ رہنا۔

منہ سسکوڑنا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ سسکنا۔ (۱۱۔ محاورہ) ناک میوں پڑ جانا۔ منہ نہا نہیں بھیجنا۔ ترش زبون۔ نماستی ظاہر کرنا۔

منہ سلونا کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) کوئی ٹھیک نہیں لگھانا۔ خصوصاً پیشی چیز کے بعد۔

منہ سنبھالنا۔ (۱۱۔ محاورہ) زبان کو تباہ نہیں کرنا۔ زبان کو گام نہ دینا۔

منہ سنبھالو۔ (۱۱۔ محاورہ) زبان کو روکو۔ سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ زبان درازی مت کرو۔

منہ سو جا رہنا۔ (۱۱۔ محاورہ) غصے یا بد مزاجی سے منہ چھو لارنا۔

منہ سوکھ جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ خشک ہونا۔ پیاس یا غم کے باعث منہ پر خشکی آ جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ اڑ جانا۔ (۱۱۔ محاورہ) ڈھلا ہونا۔

منہ سھوٹی بیٹ گھوٹی۔ (۱۱۔ محاورہ) ذرا سامنے اور اتنا بڑا پیٹ۔ (۱۱۔ محاورہ) بد نام اور بچ زیادہ۔ کھاؤ نہ دو۔

منہ سے آہ نہ کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) شکوہ نہ کرنا۔

منہ سے آہ لینا۔ (۱۱۔ محاورہ) وعدہ لینا۔ اہمال کرنا۔

منہ سے اگھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) منہ سے نکلنا۔ منہ سے باہر لانا۔ کہنا۔ دل کی بندھ جانا۔

بات زبان پر لانا۔

منہ سے بات (ایجنک) چھیننا سے لینا۔ لینا، پکینا۔ ۱۶۔ محاورہ (جہرات دوسرا لکھنے لگا کر وہ اس سے پہلے کہہ دیتا۔

منہ سے بات نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ (کہا جانا۔ بات زبان پر لانا۔

منہ سے بات نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ (غصے یا دہشت کے سبب بول نہ سکتا۔

منہ سے باتیں نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ (۱۱) بدعا دینا۔ کوسنا کر، کسی کے متعلق باتیں کرنا۔

منہ سے بس کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ (زبان سے انکار کرنا۔ منہ سے روکنا۔ کافی سمجھنا۔

منہ سے بولنا۔ ۱۶۔ محاورہ (زبان سے بات کرنا۔ جواب دینا۔

منہ سے بولو سر سے کھیلو۔ ۱۱۔ مثل (بات چیت کر۔ خاموش نہ رہو۔

منہ سے بولے نہ سر سے کھیلے۔ ۱۱۔ مثل (بالکل خاموش ہے۔ بات کرتا ہے نہ اشارہ۔

منہ سے پھوٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ (بولنا۔ جواب دینا۔ زبان سے کچھ کہنا۔

منہ سے پھول جھڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ (نہایت خوش گفتار اور فصیح بولنا۔ شیریں کلام بولنا۔ طنز یا بد زبانی بولنا۔

منہ سے بولو (چوڑو)۔ ۱۶۔ محاورہ (کچھ بولو۔ جواب تو دو۔ ہاں یا نہیں کو۔ منہ سے بولو۔ ۱۶۔ محاورہ (بات تو کرو۔ زبان تو لگاؤ۔

منہ سے دودھ پکینا۔ ۱۶۔ محاورہ (آدان اور ناسا سمجھ بولنا۔ تجربہ کار بولنا۔ منہ سے دودھ کی بول آنا۔ ۱۶۔ محاورہ (۱۱) آدان بچہ بولنا کر، کم عقل اور بوقت بولنا۔

منہ سے رال چھکی پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ (نہایت الجھانا۔ اذہد خواہش بولنا۔

منہ سے سنا چاہتے ہو۔ ۱۶۔ محاورہ (گالیاں کمانے دہننے، کوئی چاہتا ہے۔ منہ سے سیاہی دھونا۔ ۱۶۔ محاورہ (بدنامی مٹانا۔ سیاہی دور کرنا۔

منہ سے کلیجہ نکل پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ (دم اٹھ جانا۔ دل گھبرا جانا۔ جی اگٹنا۔ گھبرا کر رزم نکل جانا۔

منہ سے کچھ کچھ نکھلنا۔ ۱۶۔ محاورہ (کہنا کچھ جہاننا زبان سے اُس کے خلات نکھلنا۔

منہ سے کیا پھول جھڑتے ہیں۔ ۱۶۔ محاورہ (کیا بڑ لطف باتیں کرتے ہیں (۲) طنز آنا کر باتوں پر بھی کہتے ہیں۔

منہ سے لام کاف مست نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ (بد زبانی ذکر۔ خاموش رہو۔

منہ سے لعل اگھلنا۔ ۱۶۔ محاورہ (نہایت خوش کلام اور خوش گفتار بولنا۔ نصیحت اور تہنیتی زبانی سے کلام کرنا۔

منہ سے لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ (پینے کے لیے کوئی ظرف منہ سے لگانا۔ لب آکشا کرنا۔ ۱۶۔ دوسرے کے منہ سے کوئی ظرف لگانا کر، ۱۳۔ پیلنے والا سا منہ سے لگانا۔

منہ سے منہ ملانا۔ ۱۶۔ محاورہ (جو مچا چائی کرنا۔ بوس و کنار کرنا۔ ۱۶۔ ہم کلام بولنا۔

زبان سے زبان ملانا (۳) گستاخانہ بات چیت کرنا۔

منہ سے مہا ماہی۔ ۱۶۔ مثل (خاطر سے خاطر اور محبت سے۔

منہ سے نام نکالنا۔ ۱۶۔ محاورہ (کسی چیز کو تذکرہ کرنا، ۱۴۔ دعویٰ کرنا، ۲۱۔ کسی بات کا سہو سے ذکر کرنا۔

منہ سے نکل جانا (نکھلنا)۔ ۱۶۔ محاورہ (یہ ساختہ کوئی بات زبان سے نکل جانا۔

منہ سے نکلی کوٹھوں چڑھ سی۔ ۱۶۔ مثل (بات زبان سے کہتے ہی مشہور ہو جاتی ہے۔

منہ سے نکل ہوئی پرانی بات۔ ۱۶۔ مثل (کوئی بات کہہ ڈالنے کے بعد راز نہیں رہتی۔

منہ سے نیک و بد نہ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ (بڑا سمجھا کہنا۔

منہ سے سیا جانا۔ خاموش کیا جانا۔ منہ پر نمبر لگا جانا۔

منہ سیاہ کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ (منہ کالا کرنا۔ بدنام کرنا۔ گلے کا مچکا لگانا اور خضاب لگانا۔

منہ سیدھا کر دینا۔ خوب مارنا۔

منہ سہی دینا۔ ۱۶۔ محاورہ (خاموش کر دینا۔ منہ بند کر دینا۔

منہ سینا۔ ۱۶۔ محاورہ (خاموش کرنا۔ چُپ کرنا، ۲۱۔ خاموش ہونا۔ چُپ کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ (خوش خبری سنانے کے عوض میں منہ شکر سے بھر دینا۔ ۱۶۔ محاورہ (خوش خبری سنانے کے عوض میں منہ بیٹھا کرنا۔

منہ فنی ہو جانا۔ منہ فنی ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ (منہ سفید پڑ جانا۔ اوسان چلتے رہنا۔ گھبرا جانا۔ ڈر جانا۔ رعب میں آ جانا۔ خوفزدہ ہو جانا۔

منہ قبیلہ کی طرف مڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ (مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرتے وقت نیک آدمی کا منہ قبیلے کی طرف ہو جاتا ہے۔

منہ کا پھو بڑھنا۔ ۱۶۔ صفت (بد زبان۔ بد لگام۔ منہ سمجھت۔

منہ کا ٹھو بڑھنا۔ ۱۶۔ محاورہ (بٹ جانا۔ مارا کھا کر منہ سوچ جانا۔

منہ کا روغن اڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ (چہرے کی آب جاتی رہنا۔

منہ کا سہا۔ ۱۶۔ صفت (بوجھ سے کاٹنا۔

منہ کا کھٹا۔ ۱۶۔ صفت (وہ کھوڑا جو کھٹ کے جھیلے کو نہ بہا سکے۔ نرم منہ کا گھوڑا۔ ۱۶۔ اصل مرغ ۱۳۱ وہ آدمی جس کی بات ناقابل اعتبار ہو۔

منہ کا کڑوا۔ ۱۶۔ محاورہ (منہ زور، مضبوط دھاگا۔

منہ کا کہا ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ (منہ سے نکلی ہوئی بات کا ہو جانا۔ کبے کے مطابق ہونا۔

منہ کالا۔ ۱۶۔ صفت (بدنام۔ رسوا (۲) بد افعال۔ بد کردار (بد دعا، خدا غارت کرے۔

منہ کا لاجات اُجالا۔ ۱۶۔ مثل (شریوں کی اولاد مگر عمل بُرے۔

منہ کالا کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ (چہرے پر سیاہی مٹانا، ۲۱۔ رسوا کرنا۔ بدنام کرنا، ۲۱۔ زنا کرنا۔ بد فعلی کرنا۔

منہ کا منہ میں ہاتھ کا ہاتھ میں نوالہ رو گیا۔ ۱۶۔ مثل (اس موقع پر بولتے ہیں جب انسان کوئی حد سے کسی خبر کو فریاد کھانا چھوڑ دے۔

مُنہ کا بیٹھا۔ ۱۷۔ صف، خلیق، شیریں گفتار۔

مُنہ کا بیٹھا پیٹ کا کھوٹا۔ ۱۶۔ مثل، باتیں دوستوں کی سی مگر دل میں عداوت۔

مُنہ کا لوالہ۔ ۱۵۔ مذاق لغز دین، نہایت سہل اور آسان کام۔

مُنہ کا لوالہ نہیں۔ ۱۶۔ مثل، آسان کام نہیں ہے۔

مُنہ کا لوالہ سمجھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، ادنیٰ اور آسان سمجھ لینا۔

مُنہ کا لوالہ ہو جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، مزہ میں چلا جانا، سہل اور آسان ہو جانا۔

مُنہ کا لوالہ اڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، جبرے کی آب و تاب جاتی رہنا۔

مُنہ سے روپ ہو جانا۔

مُنہ کی کسی طرح بیٹھونا۔ ۱۶۔ محاورہ، کناہ ہے۔ کمال غصہ اور نفلی سے بہت خفا ہونا۔

مُنہ کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، سوراخ کرنا، چھید کرنا، زخم یا چھوڑے کا سوراخ ظاہر ہونا۔

مُنہ ٹٹا۔ ۱۶۔ محاورہ، پاس کناہ، مہنہ سامنے کرنا، لاہج کرنا۔

مُنہ کس کا ہے۔ ۱۶۔ محاورہ، کسی کی مجال میں کسی کا وصلہ نہیں۔

مُنہ کھٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، کسی کے خلاف بگھنے سے زبان بند ہونا۔

مُنہ کو آگ لگانا، مُنہ کو جھلسا لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ، ملامت ترک کرنا۔ پٹنا چلنا، چھوڑ کر دینا، کو سستا۔

مُنہ کو نہ سوانا۔ ۱۶۔ محاورہ، اپنے آپ کو کسی کام کے لائق کرنا۔ قابلیت پیدا کرنا۔

مُنہ کو بھر لینا۔ ۱۶۔ محاورہ، دکھی کرنا، دگر دانی کرنا، انکار کرنا۔

مُنہ کو جگر آنا، دیکھو مُنہ کو کلیجہ آنا، جگر بھرا لانا، ضبط نہ ہو سکتا۔

مُنہ کو خون لکنا۔ ۱۶۔ محاورہ، خون کی چاٹ لکنا، خون کا مزہ پڑ جانا، رشوت کا عادی ہونا۔

مُنہ دکھانہ سکتا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ سامنے نہ کر سکتا۔ سامنے جاتے ہوئے شرم آنا۔

مُنہ کو سنبھالنا۔ ۱۶۔ محاورہ، بدزبانی سے باز آنا۔ دیہودہ باتیں کرنے سے پرکنا۔

مُنہ کو سات لوؤں کی کالک لگ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، سخت بدنامی ہونا۔ رسوائی ہونا۔

مُنہ کو قفل دینا۔ مَنہ کو قفل لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ، خاموش، چھپلے تقریباً کرنا، کھانے پینے سے رکنا۔

مُنہ کو کالک لگانا۔ ۱۶۔ محاورہ، بدنام کرنا، رسوا کرنا، کھٹک کا ٹپیکا لگانا۔

مُنہ کو کلیجہ آنا۔ ۱۶۔ محاورہ، دم اٹھنا۔ غم و غصہ برداشت نہ ہو سکتا، دل نہایت بیزار ہونا، بہت جی گھرا لانا۔

مُنہ کو لگام دو۔ ۱۶۔ محاورہ، بدزبانی نہ کرو، زبان سنبھال کر بات کرو۔

مُنہ کو لگام نہیں۔ ۱۶۔ مثل، چُپ نہیں رہتا۔ بے سوچے سمجھے بول اٹھتا ہے۔

مُنہ کو لگا ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، چسکا پڑنا، چسکا پڑنا۔ زبان کو چاٹ پڑنا، مَنہ کو لکنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مزہ پڑنا، چسکا پڑنا۔

خوش ذائقہ معلوم ہونا۔

مُنہ کو کولر لگے۔ (بندھا، چھوڑا) مجلس جائے۔ تیار ہو جائے۔ برہان ہو جائے۔

مُنہ کو لہو لکنا۔ مَنہ کو خون لکنا۔ (محاورہ) خون کی چاٹ پڑ جانا، شکر کا مزہ پڑنا، رشوت کا عادی ہو جانا، مال مفت کمانے کی عادت پڑ جانا۔

مُنہ کو مزہ لگا دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، چھوڑا بنا دینا۔ زبان کو چاٹ ڈال دینا۔

مُنہ کو موٹہ نہلا۔ محاورہ، ہنہ بھرنے۔ بے رغبتی کرنا۔ بے مروتی کرنا۔

مُنہ کہاں ہے۔ ۱۶۔ محاورہ، کیا ناب حکایت ہے کیا مجال ہے۔

مُنہ کھائے آنکھ لجاٹے۔ ۱۶۔ مثل، احسان کرنے والے کے ساتھ مروت کرنا یہی پڑتی ہے۔

مُنہ کھل جاتا۔ ۱۶۔ محاورہ، دہن کشا دہ ہو جانا، ہنہ چھٹ ہو جانا، بیزبان ہو جانا، گتہ ہو جانا، ۱۳۔ گتہ کھل جانا، چھلے دھیرے دھیرے کھل جانا، دم چھہرہ سے نقاب ہو جانا، ۱۵۔ ازالہ بکر ہو جانا۔

مُنہ کھٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، دہن فرخ، فرخ نہ ہونا، ۱۵۔ بد زبان ہونا، ۱۳۔ بیان کرنے یا کہنے پر کلمہ ہونا، چھہرہ سے نقاب ہو جانا۔

مُنہ کھلوانا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ فرخ کرنا، ۱۲۔ ہلنے پر مجبور کرنا، زبان کھلوانا، رسوا کرنا۔

مُنہ کے آدب کرنا۔ بات کرنے کی جرأت دلانا۔ زبان سے کھلوانا، ۱۳۔ سوال کرنا۔

مُنہ کھول کر رہ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، کچے کچتے کہتے خاموش ہو جانا، ۱۲۔ مشتاق رہ جانا۔

مُنہ کھولنا۔ ۱۱۔ محاورہ، زبان کھولنا، بات کرنا، کبر کرنا، ۲۔ کالیوں پر اترنا، ۳۔ باہمی ستانا، زبان چلا کر، نقاب اٹھانا، گنو گھٹ پٹنا۔

مُنہ کی آنا۔ ۱۶۔ محاورہ، روم رو چوٹ کرنا۔ سامنے غصے کی بات کہنا۔

مُنہ کی آوٹ کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، پردہ کھٹنے کے لیے کوئی چیز چھہرے کے سامنے کرنا۔ آگ بلا صوب کا گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چیز بیچ لینا لانا۔

مُنہ کی بات چھین لینا۔ ۱۶۔ محاورہ، دوسرے کے دل کی بات کھنڈنا۔

مُنہ کی چپچی۔ (۱۔ صف) وہ تلوار جس کی باٹھ نہ ٹھٹھے۔ ۲۱۔ ودھے کی چپکی عورت۔

مُنہ کی کھانا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ پر چوٹ کھانا، اوندھے منڈر، سب کے بل کرنا، ۲۱۔ تھپتھر کھانا، طباخ کھانا، ۳۱۔ مزا پانا، مار کھانا، ۴۱۔ شرمنہ ہونا، سخت اٹھانا، ۵۱۔ صاف دھو کا کھانا، کسی کے محل میں آ کر، ۶۱۔ جانا، نکت کھانا، اپنے منہ سے آپ نقل ہونا، ۸۱۔ نقصان اٹھانا۔

مُنہ کی کھلوانا (کھلوانا)۔ ۱۶۔ محاورہ، شرمنہ کرنا، نام نانا۔

مُنہ کی گئی ہو لونی تو کیا کرے گا کوئی۔ ۱۱۔ مثل، اس موقع پر ہلستے ہی جب کوئی شخص جان بوجھ کر بے شرمی اختیار کرتا ہے۔

مُنہ کی لونی جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، بے شرم ہونا، بے غیرتی چھا جانا، شرم و عیا جانی رہنا۔

مُنہ کی مکھی نہ اڑا سکتا۔ ۱۶۔ محاورہ، بہت کمزور و ناتواں ہو جانا۔

مُنہ کی میٹھی یا تھہ کی چھوٹی۔ ۱۶۔ مثل، میٹھی ہاتھیں تو کرتی ہے مگر دیکھ دلائی جاتی نہیں۔

مُنہ کے آگے تہنق نہیں۔ بڑا بکواسی ہے۔

مُنہ کے بل (بھیل) آنا۔ مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، اہل مراتب کا

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

مُنہ کے بل (بھیل) کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مَنہ کے بل (بھیل) کرنا۔

سے کہا تھا۔

منہ مانگا بربایا (۱۷۔ مثل) دل کے موافق شوہر ملا، حسب دلخواہ کام ہوا جو چاہا سزا ہوا۔

منہ مانگنا۔ ۱۷۔ عمارہ (۱۷) فریاد کرنا۔

منہ مانگی مراد۔ ۱۷۔ مثل (دل خواہش) دل تئا۔

منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ ۱۷۔ مقولہ اپنا چاہا نہیں ہوتا ہے۔ جو خواہتا ہوتے وہ ہی ہوتا ہے۔

منہ مانگی موت نہیں ملتی۔ ۱۷۔ مثل (جو آدمی چاہتا ہے۔ وہ نہیں ہوتا خدا کا چاہا ہوتا ہے۔

منہ مانگے دام۔ ۱۷۔ منہ سے طلب کی ہوئی قیمت۔

منہ مہکھوڑنا۔ ۱۷۔ عمارہ (دیکھئے منہ مہکھوڑنا۔

منہ کو مسل ڈالنا۔ ۱۷۔ عمارہ (منہ کو ہاتھ سے رگڑ ڈالنا، ۲۰۔ رکنائے دندان شکن جواب دینا۔

منہ ملاحظہ۔ ۱۷۔ مثل (ملاحظہ پاسداری۔

منہ موڑنا۔ ۱۷۔ عمارہ (منہ پٹانا شوگرداں ہونا۔ کسی کے شریک حال نہ ہونا۔ پہلو تھی کرنا، ۱۷۔ منہ ڈرنا۔ توجہ نہ کرنا، ۲۰۔ باقی ہونا دم، پوری کرنا۔ باز رہنا ۲۰۔ انکار کرنا، ۲۰۔ شکست کھانا۔ پسا ہونا، ۲۰۔ بے وفائی کرنا۔ ٹھانا

بے مروتی کرنا۔

منہ میٹھا کرنا۔ ۱۷۔ عمارہ (۱۷۔ میٹھا کھانا، ۲۰۔ میٹھا کھانا، ۲۰۔ عنایت فرمانا۔ دینا۔ بخشنا، ۲۰۔ نذرانہ دینا، ۲۰۔ رشوت دینا، ۲۰۔ نسبت کرنا۔ منگنی کرنا۔

منہ میں آنا۔ ۱۷۔ عمارہ (تہان پر آنا۔ زبان سے نکلنا۔

منہ میں آیا سو بک دیا۔ ۱۷۔ عمارہ (بے سوچے سمجھے بات کرنے والے کی نسبت کہتے ہیں۔

منہ میں بات کرنا۔ ۱۷۔ عمارہ (منہ میں بولنا۔ اس طرح بولنا کہ سمجھ میں نہ آئے بہت بچکے بچکے بات کرنا۔

منہ میں پانی بھر آنا۔ ۱۷۔ عمارہ (ترشی کے خیال یا کسی عمدہ چیز کی خواہش کرنا۔ منہ میں لعاب آجانا، ۲۰۔ جی لپٹانا۔ طبیعت کا نہایت خواہش کرنا۔ مزہ یاد آنا۔ شوق پیدا ہونا۔

منہ میں پانی ڈسکھانا، جو آنا۔ ۱۷۔ عمارہ (مرتے وقت منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانا۔ اخیر وقت کام آنا۔

منہ میں پڑنا۔ ۱۷۔ عمارہ (کھانے میں آنا۔ منہ میں جانا، ۲۰۔ مشہور ہونا۔ زبان زد ہونا۔

منہ میں پڑھنا۔ ۱۷۔ عمارہ (چپکے چپکے پڑھنا۔ ایسا، ۲۰۔ سستہ پڑھنا کہ دوسرے کی سمجھ میں نہ آئے۔

منہ میں تنکا لیتنا۔ ۱۷۔ عمارہ (دانتوں میں تنکا دبانا، ۲۰۔ عاجزی کرنا، ہاتھ پھڑکانا ہاڈوں پڑنا۔

منہ میں تھوک بولنا۔ ۱۷۔ عمارہ (دوسرے اور بے معنی باتیں کرنا۔

منہ میں خاک۔ ۱۷۔ عمارہ (بڑا چاہنے والے کی بات پر کہا جاتا ہے وہ ہاتھ نہ دھوئے کلام کے جواب میں۔

کچرہ زمین پر لگے۔ زلت اٹھانا۔ ذلیل ہونا۔

منہ کے کوسے اڑ جانا۔ ۱۷۔ عمارہ (چہرہ سفید پڑ جانا۔

منہ کے لائق نہیں۔ ۱۷۔ عمارہ (اس قابل نہیں کہ اس سے بات کی جائے۔

منہ کے لیٹن جھڑنا۔ ۱۷۔ عمارہ (شرم دھما جاتی رہنا۔ بے غیرت ہو جانا۔

منہ کیا ہے۔ ۱۷۔ عمارہ (کیا وصل ہے۔ کیا مجال ہے۔

منہ کیل دینا۔ منہ کیلنا۔ ۱۷۔ عمارہ (عمارہ یا منتر سے منہ بند کرنا، ۲۰۔ زہریلے جانور کے منہ کو کاٹنے کے قابل نہ دیکھنا، ۲۰۔ خاموش کر دینا، ۲۰۔ رشوت سے

کراہنے خلاف جانے سے باز رکھنا۔

منہ گڑھیا میں دھو رکھو۔ ۱۷۔ مثل (اس بات کی امداد نہ رکھو۔

منہ لال کرنا۔ ۱۷۔ عمارہ (منہ پر تھپڑ مار کر چہرہ سرخ کر دینا، ۲۰۔ پانی وغیرہ سے منہ سرخ کرنا۔

منہ لال، جو جانا۔ ۱۷۔ عمارہ (بھٹے سے چہرہ سرخ ہو جانا، ۲۰۔ ناموری حاصل ہونا۔ کما میاب ہونا۔ تھپڑ لگنے سے چہرہ سرخ ہو جانا۔

منہ لپیٹ کر پڑا رہنا، پڑنا، ۱۷۔ عمارہ (مخلمین اور آدمی کو پڑا رہنا۔ غم کے مارے منہ پر کپڑا ڈال کر لیٹ رہنا۔

منہ لٹکانا۔ ۱۷۔ عمارہ (غصہ ہونا۔ ناراض ہونا، ۲۰۔ شرمندگی سے منہ جھکانا، ۲۰۔ کئی دو اہل کاروبار چلنے کے لیے منہ کی جے کی طرف کرنا۔

منہ لگا۔ ۱۷۔ صفت (سر پڑھا۔ موت کے لیے منہ لگی۔

منہ لگانا۔ ۱۷۔ عمارہ (منہ سے جھڑنا، ۲۰۔ منہ سے جھڑکانا، ۲۰۔ جھٹلانا، ۲۰۔ کھانا بچھٹنا۔ زبان پر رکھنا، ۲۰۔ گستاخ بنانا، بے ادب کرنا، سر پڑھانا (۲۰۔ یاد بنانا۔ مصاحب بنانا، ۲۰۔ عزت دینا۔ توجہ کرنا۔ مہربانی سے پیش آنا، ۲۰۔ حمایت کرنا۔

منہ لگائی ڈومنی گا دے تال بے تال۔ منہ لگائی ڈومنی آئی

نیکوں سمیت۔ ۱۷۔ مثل (اس وقت کہتے ہیں۔ جب ذرا سی مہربانی سے کوئی سر پڑھنے لگے۔

منہ لگنا۔ ۱۷۔ عمارہ (منہ سے جھوٹا جانا، ۲۰۔ مصاحب بننا۔ یاد بنانا، ۲۰۔ عزت سے پیش آنا، ۲۰۔ سر پڑھنا، ۲۰۔ گستاخ ہونا، ۲۰۔ مقابل بننا۔ برابری کرنا، ۲۰۔ چپکا پڑنا۔

منہ لے کے آنا۔ ۱۷۔ عمارہ (صورت دکھانا۔

منہ لے کے پھرتا۔ ۱۷۔ عمارہ (بے التفاتی کے سبب محروم جانا، بھروسے کے خلاف مایوس ہو کر واپس ہونا۔

منہ لے کے رہ جانا۔ ۱۷۔ عمارہ (شرمندہ ہونا۔

منہ مارا (ماری)۔ ۱۷۔ صفت (مذ۔ مثل (دعو، اس کے متعلق کہتی ہیں جو لہذا فیروزوں کے کھانے سے پرہیز کرے۔

منہ مارنا۔ ۱۷۔ عمارہ (را کٹنا۔ ڈسٹا۔ ڈنگ مارنا، ۲۰۔ شکار کو منہ سے پکڑنا، ۲۰۔ چوچ مارنا۔ منہ بند کر دینا۔ خاموش کرنا، ۲۰۔ جل پل

کھانا، ۲۰۔ طعنے کرنا۔

منہ مانگا۔ ۱۷۔ صفت (حسب منشاء۔ خواہش کے مطابق۔ جیسا منہ

منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت - 13۔ مثل، ایسا بڑھا ہے کہ  
 نہ منہ میں دانت رہے ہیں نہ ہاتھ کے لیے پیٹ میں آنتریاں -  
 بہت ہی بڑھا۔  
 منہ میں دانت جانا - 14۔ محاورہ کچھ تھوڑا سا کھانا  
 منہ میں روٹی سر پر جوتی - 15۔ مثل، بہت بے عزتی سے روٹی ملنے  
 پر ملتے ہیں۔  
 منہ میں زبان حلال ہے - 16۔ مثل، منہ میں زبان پنج بات کبھی کے لیے ہے  
 حلال ایک واسطے کہا کہ کوئی حلال چیز کو منہ میں لے جاتا ہے۔  
 منہ میں زبان رکھنا - منہ میں زبان ہوتا - 17۔ محاورہ، گوبائی کی طاقت  
 رکھنا۔ بات کرنا۔  
 منہ میں زبان نہ ہونا - 18۔ محاورہ، گوگنا ہونا۔ یوں نہ سکرنا، خاموش رہنا۔  
 بات نہ کرنا۔  
 منہ میں زبان نہیں - 19۔ محاورہ، نہایت غریب طبیعت اور خاموش  
 آدمی ہے۔  
 منہ میں زبان ہے - 20۔ مقولہ، کہتے اور بولنے کی طاقت ہے۔ بات  
 کرنے کی جرات ہے۔  
 منہ میں سب کچھ دل میں خاک نہیں - 21۔ مثل، محض ظاہر داری  
 ہی ظاہر داری۔  
 منہ میں صالون کھلا ہوتا - 22۔ محاورہ، منہ چمکا اور پرمزہ ہونا۔  
 منہ میں فضل لگ جانا - 23۔ محاورہ، خاموش ہو جانا۔  
 منہ میں کالک لگ جانا - 24۔ محاورہ، بدنامی ہونا۔ رسوائی ہونا۔  
 منہ میں کئے دانت ہیں - 25۔ مثل، تم کون ہو۔ کیا حالات ہیں، کیا  
 طاقت ہے، کیا کر سکتے ہو۔  
 منہ میں لگنا ہوتا - 26۔ محاورہ، اہستہ، استہکانا۔  
 منہ میں گھسنا بھرا بھرا - 27۔ محاورہ، چپ ہو کر بیٹھنا۔  
 خاموشی اختیار کرنا۔  
 منہ میں کھسکنا بھری ہوتا - 28۔ محاورہ، خاموش رہنا۔  
 منہ میں کھی ٹنکر - 29۔ مثل، اس موقع پر کہتے ہیں جب کوئی خوشخبری سنے  
 منہ میں تک جانا - 30۔ محاورہ، خاموشی ہونا۔  
 منہ میں لگام نہ ہونا - 31۔ محاورہ، زبان دراز ہونا۔  
 منہ میں لو کا دینا - 32۔ محاورہ، منہ جھلسنا، کوئی بیہودہ بات کہے  
 تو کہتے ہیں۔  
 منہ میں مٹوٹنا - 33۔ محاورہ، ذلیل کرنا، خفیہ کرنا۔  
 منہ میں ہنر لگانا - 34۔ محاورہ، خاموشی اختیار کرنا، سادھنا۔  
 منہ میں نام بھرنے - 35۔ محاورہ، کسی کا نام معلوم ہونا، گریبانہ آنا۔  
 منہ میں پڑنا - 36۔ مثل، کائنات کی طرح ہنسنا، حجاب نہین پڑنا۔  
 منہ نکل آنا - 37۔ دیکھنے لاضر ہو جانا، چہرہ کھڑ ہو جانا۔  
 منہ نکلی دو ٹھوں چڑھی - 38۔ مثل، کسی بات کے کہتے ہی اس کا مشہور  
 ہو جانا۔  
 منہ نہ پھیرنا - 39۔ محاورہ، دلیری سے مقابلے پر کھڑا رہنا، حق سے ڈسنا۔

منہ نہ پھرنے لیتا - 40۔ محاورہ، چہرہ یا خون سے کھڑے ٹانگے۔  
 منہ نہ پڑنا - 41۔ محاورہ، حوصلہ نہ ہونا، کہنے کی جرات نہ ہونا۔  
 منہ نہ رکھنا - 42۔ محاورہ، شرم کے باعث روپوش ہو جانا۔  
 منہ نہ دیکھنا - 43۔ محاورہ، صورت سے بیزار ہونا، از حد بیزار ہونا۔  
 منہ نہ کھلاؤ - 44۔ زبان نہ کھلاؤ - رہتے دو - بس چپ - ورنہ کچھ کھول  
 کے نکھ دیا جائے گا۔  
 منہ نہ لگانا - 45۔ محاورہ، منہ کے پاس نہ لانا، توجہ نہ کرنا، اس لیے توجہ  
 سمجھ کر بات نہ کرنا، دوست نہ بنانا۔  
 منہ نہیں - 46۔ روزمرہ، حوصلہ نہیں، جرات نہیں۔  
 منہ ہونا - 47۔ محاورہ، سوراخ ہونا، پاس دلچا ہونا، حوصلہ ہونا۔  
 مجال ہونا۔  
 منہ کیا ہے - 48۔ محاورہ، کیا مجال ہے۔  
 منہ ہی منہ مارے اور لوہے کو پیکار سے - 49۔ مثل، اپنا اہم مظلوم  
 کر کے پوچھے خود ہی سزا دے اور خود ہی بنا دے۔  
 منہ ہی منہ میں - 50۔ مثل، منہ، چپکے چپکے ہونٹوں ہونٹوں میں۔  
 منہ ہی منہ میں کہتا - 51۔ محاورہ، اچھے چپکے کہتا - اس طرح اہستہ اہستہ  
 بولنا کہ دوسرا نہ سمجھ سکے۔  
 منہ ہے - 52۔ مثل، شرم، پاس ہے۔ لاط ہے۔ مروّت ہے (۲، طنز)،  
 طاقت نہیں، مجال نہیں۔  
 منہ - 53۔ مثل، با، ج، ظن۔  
 منہ ٹھوڑا - 54۔ مثل، ٹھوڑا، ات، طعنہ، تشنیہ۔  
 منہ بنا - 55۔ مثل، 1۔ 2۔ 3۔ 4۔ 5۔ 6۔ 7۔ 8۔ 9۔ 10۔ 11۔ 12۔ 13۔ 14۔ 15۔ 16۔ 17۔ 18۔ 19۔ 20۔ 21۔ 22۔ 23۔ 24۔ 25۔ 26۔ 27۔ 28۔ 29۔ 30۔ 31۔ 32۔ 33۔ 34۔ 35۔ 36۔ 37۔ 38۔ 39۔ 40۔ 41۔ 42۔ 43۔ 44۔ 45۔ 46۔ 47۔ 48۔ 49۔ 50۔ 51۔ 52۔ 53۔ 54۔ 55۔ 56۔ 57۔ 58۔ 59۔ 60۔ 61۔ 62۔ 63۔ 64۔ 65۔ 66۔ 67۔ 68۔ 69۔ 70۔ 71۔ 72۔ 73۔ 74۔ 75۔ 76۔ 77۔ 78۔ 79۔ 80۔ 81۔ 82۔ 83۔ 84۔ 85۔ 86۔ 87۔ 88۔ 89۔ 90۔ 91۔ 92۔ 93۔ 94۔ 95۔ 96۔ 97۔ 98۔ 99۔ 100۔ 101۔ 102۔ 103۔ 104۔ 105۔ 106۔ 107۔ 108۔ 109۔ 110۔ 111۔ 112۔ 113۔ 114۔ 115۔ 116۔ 117۔ 118۔ 119۔ 120۔ 121۔ 122۔ 123۔ 124۔ 125۔ 126۔ 127۔ 128۔ 129۔ 130۔ 131۔ 132۔ 133۔ 134۔ 135۔ 136۔ 137۔ 138۔ 139۔ 140۔ 141۔ 142۔ 143۔ 144۔ 145۔ 146۔ 147۔ 148۔ 149۔ 150۔ 151۔ 152۔ 153۔ 154۔ 155۔ 156۔ 157۔ 158۔ 159۔ 160۔ 161۔ 162۔ 163۔ 164۔ 165۔ 166۔ 167۔ 168۔ 169۔ 170۔ 171۔ 172۔ 173۔ 174۔ 175۔ 176۔ 177۔ 178۔ 179۔ 180۔ 181۔ 182۔ 183۔ 184۔ 185۔ 186۔ 187۔ 188۔ 189۔ 190۔ 191۔ 192۔ 193۔ 194۔ 195۔ 196۔ 197۔ 198۔ 199۔ 200۔ 201۔ 202۔ 203۔ 204۔ 205۔ 206۔ 207۔ 208۔ 209۔ 210۔ 211۔ 212۔ 213۔ 214۔ 215۔ 216۔ 217۔ 218۔ 219۔ 220۔ 221۔ 222۔ 223۔ 224۔ 225۔ 226۔ 227۔ 228۔ 229۔ 230۔ 231۔ 232۔ 233۔ 234۔ 235۔ 236۔ 237۔ 238۔ 239۔ 240۔ 241۔ 242۔ 243۔ 244۔ 245۔ 246۔ 247۔ 248۔ 249۔ 250۔ 251۔ 252۔ 253۔ 254۔ 255۔ 256۔ 257۔ 258۔ 259۔ 260۔ 261۔ 262۔ 263۔ 264۔ 265۔ 266۔ 267۔ 268۔ 269۔ 270۔ 271۔ 272۔ 273۔ 274۔ 275۔ 276۔ 277۔ 278۔ 279۔ 280۔ 281۔ 282۔ 283۔ 284۔ 285۔ 286۔ 287۔ 288۔ 289۔ 290۔ 291۔ 292۔ 293۔ 294۔ 295۔ 296۔ 297۔ 298۔ 299۔ 300۔ 301۔ 302۔ 303۔ 304۔ 305۔ 306۔ 307۔ 308۔ 309۔ 310۔ 311۔ 312۔ 313۔ 314۔ 315۔ 316۔ 317۔ 318۔ 319۔ 320۔ 321۔ 322۔ 323۔ 324۔ 325۔ 326۔ 327۔ 328۔ 329۔ 330۔ 331۔ 332۔ 333۔ 334۔ 335۔ 336۔ 337۔ 338۔ 339۔ 340۔ 341۔ 342۔ 343۔ 344۔ 345۔ 346۔ 347۔ 348۔ 349۔ 350۔ 351۔ 352۔ 353۔ 354۔ 355۔ 356۔ 357۔ 358۔ 359۔ 360۔ 361۔ 362۔ 363۔ 364۔ 365۔ 366۔ 367۔ 368۔ 369۔ 370۔ 371۔ 372۔ 373۔ 374۔ 375۔ 376۔ 377۔ 378۔ 379۔ 380۔ 381۔ 382۔ 383۔ 384۔ 385۔ 386۔ 387۔ 388۔ 389۔ 390۔ 391۔ 392۔ 393۔ 394۔ 395۔ 396۔ 397۔ 398۔ 399۔ 400۔ 401۔ 402۔ 403۔ 404۔ 405۔ 406۔ 407۔ 408۔ 409۔ 410۔ 411۔ 412۔ 413۔ 414۔ 415۔ 416۔ 417۔ 418۔ 419۔ 420۔ 421۔ 422۔ 423۔ 424۔ 425۔ 426۔ 427۔ 428۔ 429۔ 430۔ 431۔ 432۔ 433۔ 434۔ 435۔ 436۔ 437۔ 438۔ 439۔ 440۔ 441۔ 442۔ 443۔ 444۔ 445۔ 446۔ 447۔ 448۔ 449۔ 450۔ 451۔ 452۔ 453۔ 454۔ 455۔ 456۔ 457۔ 458۔ 459۔ 460۔ 461۔ 462۔ 463۔ 464۔ 465۔ 466۔ 467۔ 468۔ 469۔ 470۔ 471۔ 472۔ 473۔ 474۔ 475۔ 476۔ 477۔ 478۔ 479۔ 480۔ 481۔ 482۔ 483۔ 484۔ 485۔ 486۔ 487۔ 488۔ 489۔ 490۔ 491۔ 492۔ 493۔ 494۔ 495۔ 496۔ 497۔ 498۔ 499۔ 500۔ 501۔ 502۔ 503۔ 504۔ 505۔ 506۔ 507۔ 508۔ 509۔ 510۔ 511۔ 512۔ 513۔ 514۔ 515۔ 516۔ 517۔ 518۔ 519۔ 520۔ 521۔ 522۔ 523۔ 524۔ 525۔ 526۔ 527۔ 528۔ 529۔ 530۔ 531۔ 532۔ 533۔ 534۔ 535۔ 536۔ 537۔ 538۔ 539۔ 540۔ 541۔ 542۔ 543۔ 544۔ 545۔ 546۔ 547۔ 548۔ 549۔ 550۔ 551۔ 552۔ 553۔ 554۔ 555۔ 556۔ 557۔ 558۔ 559۔ 560۔ 561۔ 562۔ 563۔ 564۔ 565۔ 566۔ 567۔ 568۔ 569۔ 570۔ 571۔ 572۔ 573۔ 574۔ 575۔ 576۔ 577۔ 578۔ 579۔ 580۔ 581۔ 582۔ 583۔ 584۔ 585۔ 586۔ 587۔ 588۔ 589۔ 590۔ 591۔ 592۔ 593۔ 594۔ 595۔ 596۔ 597۔ 598۔ 599۔ 600۔ 601۔ 602۔ 603۔ 604۔ 605۔ 606۔ 607۔ 608۔ 609۔ 610۔ 611۔ 612۔ 613۔ 614۔ 615۔ 616۔ 617۔ 618۔ 619۔ 620۔ 621۔ 622۔ 623۔ 624۔ 625۔ 626۔ 627۔ 628۔ 629۔ 630۔ 631۔ 632۔ 633۔ 634۔ 635۔ 636۔ 637۔ 638۔ 639۔ 640۔ 641۔ 642۔ 643۔ 644۔ 645۔ 646۔ 647۔ 648۔ 649۔ 650۔ 651۔ 652۔ 653۔ 654۔ 655۔ 656۔ 657۔ 658۔ 659۔ 660۔ 661۔ 662۔ 663۔ 664۔ 665۔ 666۔ 667۔ 668۔ 669۔ 670۔ 671۔ 672۔ 673۔ 674۔ 675۔ 676۔ 677۔ 678۔ 679۔ 680۔ 681۔ 682۔ 683۔ 684۔ 685۔ 686۔ 687۔ 688۔ 689۔ 690۔ 691۔ 692۔ 693۔ 694۔ 695۔ 696۔ 697۔ 698۔ 699۔ 700۔ 701۔ 702۔ 703۔ 704۔ 705۔ 706۔ 707۔ 708۔ 709۔ 710۔ 711۔ 712۔ 713۔ 714۔ 715۔ 716۔ 717۔ 718۔ 719۔ 720۔ 721۔ 722۔ 723۔ 724۔ 725۔ 726۔ 727۔ 728۔ 729۔ 730۔ 731۔ 732۔ 733۔ 734۔ 735۔ 736۔ 737۔ 738۔ 739۔ 740۔ 741۔ 742۔ 743۔ 744۔ 745۔ 746۔ 747۔ 748۔ 749۔ 750۔ 751۔ 752۔ 753۔ 754۔ 755۔ 756۔ 757۔ 758۔ 759۔ 760۔ 761۔ 762۔ 763۔ 764۔ 765۔ 766۔ 767۔ 768۔ 769۔ 770۔ 771۔ 772۔ 773۔ 774۔ 775۔ 776۔ 777۔ 778۔ 779۔ 780۔ 781۔ 782۔ 783۔ 784۔ 785۔ 786۔ 787۔ 788۔ 789۔ 790۔ 791۔ 792۔ 793۔ 794۔ 795۔ 796۔ 797۔ 798۔ 799۔ 800۔ 801۔ 802۔ 803۔ 804۔ 805۔ 806۔ 807۔ 808۔ 809۔ 810۔ 811۔ 812۔ 813۔ 814۔ 815۔ 816۔ 817۔ 818۔ 819۔ 820۔ 821۔ 822۔ 823۔ 824۔ 825۔ 826۔ 827۔ 828۔ 829۔ 830۔ 831۔ 832۔ 833۔ 834۔ 835۔ 836۔ 837۔ 838۔ 839۔ 840۔ 841۔ 842۔ 843۔ 844۔ 845۔ 846۔ 847۔ 848۔ 849۔ 850۔ 851۔ 852۔ 853۔ 854۔ 855۔ 856۔ 857۔ 858۔ 859۔ 860۔ 861۔ 862۔ 863۔ 864۔ 865۔ 866۔ 867۔ 868۔ 869۔ 870۔ 871۔ 872۔ 873۔ 874۔ 875۔ 876۔ 877۔ 878۔ 879۔ 880۔ 881۔ 882۔ 883۔ 884۔ 885۔ 886۔ 887۔ 888۔ 889۔ 890۔ 891۔ 892۔ 893۔ 894۔ 895۔ 896۔ 897۔ 898۔ 899۔ 900۔ 901۔ 902۔ 903۔ 904۔ 905۔ 906۔ 907۔ 908۔ 909۔ 910۔ 911۔ 912۔ 913۔ 914۔ 915۔ 916۔ 917۔ 918۔ 919۔ 920۔ 921۔ 922۔ 923۔ 924۔ 925۔ 926۔ 927۔ 928۔ 929۔ 930۔ 931۔ 932۔ 933۔ 934۔ 935۔ 936۔ 937۔ 938۔ 939۔ 940۔ 941۔ 942۔ 943۔ 944۔ 945۔ 946۔ 947۔ 948۔ 949۔ 950۔ 951۔ 952۔ 953۔ 954۔ 955۔ 956۔ 957۔ 958۔ 959۔ 960۔ 961۔ 962۔ 963۔ 964۔ 965۔ 966۔ 967۔ 968۔ 969۔ 970۔ 971۔ 972۔ 973۔ 974۔ 975۔ 976۔ 977۔ 978۔ 979۔ 980۔ 981۔ 982۔ 983۔ 984۔ 985۔ 986۔ 987۔ 988۔ 989۔ 990۔ 991۔ 992۔ 993۔ 994۔ 995۔ 996۔ 997۔ 998۔ 999۔ 1000۔









موتی اُگلنا - ۱۶۔ عمارہ موتی منسے باہر نکالنا (۲) تیرس کلائی کرنا۔  
 موتی برسنا (۱۶۔ عمارہ) موتی لٹانا، گہری کرنا، ۱۲۔ اعلیٰ قسم کی گھنگوڑا۔  
 موتی پندھنا - ۱۶۔ عمارہ) موتی میں سوراخ ہونا۔  
 موتی پاک - (۱۶۔ مذ) ایک قسم کی مٹھائی، جس پر گھنگیوں کے موتی سے  
 آنچرے ہوتے ہیں۔  
 موتی پرونا - ۱۶۔ عمارہ) مزیوں کی لڑی بنانا، ۱۲۔ کٹائی، دل آویزیا میں کرنا، ۱۲۔  
 گھنٹا، ۱۲۔ عمدہ مضمون لکھنا، ۵۔ لگانا، ۵۔  
 موتی ٹھنڈے ہونا - (۱۶۔ عمارہ) موتی ٹوٹ جانا، ۲۔ صبح ہوتے وقت  
 موتی ٹھنڈے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس سے صبح ہونے کی علامت  
 سمجھی جاتی ہے۔  
 موتی جھرا - (۱۶۔ مذ) ایک بیماری جو عام طور پر بچوں کو ہوتی ہے۔ جس میں پیٹھ پر ایک  
 باریک سُرخی دانے نکلتے ہیں۔  
 موتی جھیل - ۱۶۔ مذ) ایک خوبصورت تالاب کا نام جو لکھنؤ کے پیش  
 باغ میں بنا ہوا ہے۔  
 موتی چکنا - ۱۶۔ عمارہ) موتی کھانا، لوگوں کا خیال ہے کہ ہنس موتی کھاتا ہے  
 (۲) دولت مند ہونا۔  
 موتی چوڑ - (۱۶۔ صفت) چمکیلا۔ موتیوں کے جوہر کی طرح چمکدار، ۲۲۔ آنکھوں کی  
 نوریت میں مستعمل ہے۔ چمکدار، آب دار، ۲۲۔ ایک قسم کی مٹھائی جس میں گل  
 نکلیں، ہوتی ہیں، ۱۲۔ ایک قسم کے کاپی کی تکرار چمکدار نکلیں۔  
 موتی چکر کے لڑو - (۱۶۔ مذ) ایک قسم کے لڑو جس کے دانے موتی کے برابر  
 ہوتے ہیں۔  
 موتی چوڑ کی زنجیر - (۱۶۔ مذ) ایک قسم کی خاص زنجیر۔  
 موتی خندا - (۱۶۔ عمارہ) ۱۱۔ موتی میں سوراخ کرنا، ۱۲۔ ازالہ بکارت کرنا۔  
 موتی خالت میں رو لٹنا - (۱۶۔ عمارہ) اچھی چوڑی کے بعد تھری کرنا۔  
 موتی رو لٹنا - (۱۶۔ عمارہ) موتیوں کو سمیٹ کر جمع کرنا، ۲۲۔ خوب روپیہ کمانا۔ دولت  
 گھنٹنا، صفت کا مال اٹھانا۔  
 موتی سی آبرو - ۱۶۔ مذ) وہ آبرو جو بے عیب ہو  
 موتی سی آبرو پر پانی پھر جانا۔ موتی سی آبرو پر پانی پھرنا۔ ۱۶۔ عمارہ) عزت  
 دار ادا کرنے کی عزت ہوجانا۔  
 موتی سے مانگ بھرنا - ۱۶۔ عمارہ) مانگ کے بالوں میں موتی پرونا۔  
 موتی کا ٹھنڈا ہونا - ۱۶۔ عمارہ) موتی ٹوٹ جانے یا خراب ہوجانے کیلئے  
 استعمال ہوتا ہے۔  
 موتی کا چرنا - ۱۶۔ مذ) چلے ہوئے موتیوں کا سونف یا امیر لوگ پان میں بلور پونے  
 کے استعمال کرتے ہیں۔  
 موتی کوٹ کوٹ کر بھرنا - ۱۶۔ عمارہ) نہایت خوبصورت بنانا۔  
 موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں - (۱۶۔ عمارہ) نہایت چمکدار اور  
 خوبصورت آنکھیں ہیں۔  
 موتی کی آب - ۱۶۔ مذ) موتی کی چمک۔  
 موتی کی سی آب اتر جانا - ۱۶۔ عمارہ) عزت جاتی رہنا۔  
 موتی کی سی آبرو - ۱۶۔ مذ) اعلیٰ درجہ کی آبرو۔

موتی کی سی آب ہے - ۱۶۔ عمارہ) عزت بہت ہانک تیز ہے۔  
 موتی کی سیسی - ۱۶۔ مذ) وہ سپی جس میں موتی پیدا ہوتا ہے۔  
 موتی کی لڑی - (۱۶۔ مذ) موتی کی مالا۔ موتی کا ہار۔ سنگ مرمر، ۱۲۔ کٹائی،  
 چمک دار موتیوں کی قطار۔  
 موتی کے ساتھ تولنا - ۱۶۔ عمارہ) موتی کے ہم وزن اور ہم پیمانہ بڑی  
 قدر اور عزت کرنا۔  
 موتی گرتنا - (۱۶۔ عمارہ) موتی گرے ہوئے ہونا۔ موتی کا تڑکانا۔  
 موتی محل - (۱۶۔ مذ) موتی کا بنا ہوا محل، ۱۲۔ ایک خوبصورت محل جلالا قلعہ دہلی  
 میں سنگ مرمر اور سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔  
 موتی مسجد - ۱۱۔ مذ) سنگ مرمر کی خوبصورت مسجد۔ اس قسم کی مسجدیں لاہور  
 آگرہ اور دہلی کے قلعوں میں ہیں۔  
 موتیوں سے منہ بھرنا - (۱۶۔ عمارہ) خوش گنتی یا خوش تیری کے انعام میں  
 منہ موتیوں سے بھر دینا، یہ لکھے یا شاہی کا دستور تھا، ۲۲۔ مالا مال کر  
 دینا۔ بخشش سے نہال کر دینا۔  
 موتیوں کا جھالا - (۱۶۔ مذ) کان کا ایک ذریعہ جس میں کثرت سے موتی ہوتے ہیں  
 موتیوں کا منہ برسنا - (۱۶۔ عمارہ) موتیوں کی انراط۔  
 موتیوں کا نوالہ - (۱۶۔ مذ) تریل۔ نہایت عمدہ غذا۔  
 موتیوں میں تولنا - (۱۶۔ عمارہ) موتیوں کا ہم وزن کھانا۔ نہایت آبرو دار جاننا۔  
 موتیوں میں لٹنا - (۱۶۔ عمارہ) موتیوں کا ذریعہ کثرت سے پہننے ہونا۔  
 موتیا - (۱۶۔ صفت) ۱۱۔ صفت) موتی کی مانند، ۲۲۔ ۱۶۔ مذ) صفت ایسے  
 کی ایک عمدہ قسم، ۲۲۔ ایک قسم کی چمک، جس میں بڑی سُرخی چمکیں  
 لٹک آتی ہیں۔  
 موتیا بند - (۱۶۔ مذ) آنکھ میں پانی اترانے کا مرض جس سے بینائی جاتی  
 رہتی ہے۔  
 موتیا دانست - (۱۶۔ مذ) نہایت خوش فادانست۔  
 موتی - (۱۶۔ صفت) ۱۱۔ موتی دانست۔  
 موتی - (۱۶۔ صفت) ایک عمدہ، ۲۲۔ گھڑی۔ پٹلی۔ بستہ۔ پتلی، ۲۲۔ پتلی  
 جوڑے کا بڑا ڈول۔  
 موٹا - (۱۶۔ صفت) ۱۱۔ عظیم و عظیم فرہ۔ توند۔ تیار، ۲۲۔ گاڑھا۔ عظیم، ۲۲۔  
 دوسرے کا، سخت نگار، خوش، ۵۰۔ مہبوطی، کٹا، ۲۲۔ جلی، ۲۲۔ جلی کا تھین۔  
 موٹا ناچ - (۱۶۔ مذ) جوار۔ اجرا۔ مٹکا، ۲۲۔ غریبوں کے کھانے کا  
 سستا ناچ۔  
 موٹا پن - (۱۶۔ صفت) ۱۱۔ توندی۔  
 موٹا تازہ - (۱۶۔ صفت) ۱۱۔ عظیم و عظیم تندرست توانا۔ تازہ۔  
 موٹا چھوٹا - (۱۶۔ مذ) ادنیٰ قسم کا کھانا۔  
 موٹا چھوٹا ہونا - (۱۶۔ مذ) غریبانہ گزارہ کرنا۔  
 موٹا دکھائی دینا - (۱۶۔ عمارہ) کم نظر آنا۔ صاف دکھائی دینا۔  
 موٹا سا طوفان - (۱۶۔ مذ) بڑا صیاری الازام۔ بہتان عظیم۔  
 موٹا قلم - (۱۶۔ مذ) بلی خط۔ بڑے بڑے عزت، ۱۱۔ بلی قلم۔ وہ قلم جس سے موٹے  
 اکرٹ لکھے جائیں۔

















مونگ مونگ میں چھوٹا بڑا کون۔ ۱۱۔ منس (برادری میں سب برابر ہیں۔  
 مونگا۔ مونگ، گا، (۵۔ ۱۰) منس (برادری میں سب برابر ہیں۔  
 کی کثرت سے لڑے اور سے جڑ سے بن جاتے ہیں۔  
 مونگی۔ مونگری۔ مونگوری۔ (مونگ۔ چن)۔ مونگ (ری، روم)۔ گڑ۔  
 ری، (۱۔ منس) ایک قسم کا کانا جو مونگ سے بنایا جاتا ہے مونگ  
 کی بیجی۔

مونگیا۔ (مونگ۔ گب) یا (۵۔ صفت) سیاہ یا مائل سبز رنگ۔  
 مونگہ۔ (۵۔ ۱۰) اور دیکھیے منہ۔  
 مونگہاں۔ (مونگ۔ ہاں) (۵۔ ۱۰) منڈ گھوڑے کا ایک مرض جس سے منہ میں

چھالے پڑ جاتے ہیں۔  
 مونگہا موہی ہونا۔ ۱۷۔ عمارہ (دو دو جھگڑا ہونا (۲۰) یا ہم آرزوگی۔ ریش۔  
 مونگی۔ (مونگی۔ ۱۷۔ صفت) چپ چاپ آدمی۔ جو کونک کا ایک فرقہ جو خاموش  
 رہتا ہے (۲۰) ٹوگری۔

موندیز۔ (Moves) (مونڈ۔ ونڈ) ایک صفت) سینما۔ یا سیکوپ۔  
 موہ۔ (۳۔ ۱۔ منس) بیار۔ جبت (۲۰) لاڈ۔ ناز۔ عشق۔ فریبگی دم۔ خواہش۔ لوجہ  
 لالچ (۵) جاو۔ ٹونا۔ منتر۔

موہ جانا۔ ۱۳۔ عمارہ (عاشق ہوجانا۔ فریفتہ ہوجانا۔  
 موہ روٹی۔ (۱۔ صفت) دھوکے میں لٹنے والا۔ فریب دینے والا (۲۰) دلفریب  
 صورت دیکر لہجہ لینے والا۔

موہ کرنا۔ ۱۶۔ عمارہ (لہجہ عاشق بنانا (۲۰) پار کرنا۔ محبت کرنا۔  
 موہ لینا۔ (۱۶۔ عمارہ) فریفتہ کر لینا۔ عاشق بنانا۔ لہجہ لینا۔

موہ میں آنا۔ ۱۶۔ عمارہ (عاشق کے بس میں ہونا۔ فریفتہ ہوجانا۔ حیرت زدہ ہوجانا۔  
 سکرت میں آجانا۔

موہ بہت۔ (رم سؤ بہت) (۳۔ ۱۰)۔ سٹشے والا۔ دینے والا خیر خیرات  
 کرنے والا۔

موہ بہت۔ (رم۔ بہت) (۳۔ ۱۰)۔ سٹشے خیرات۔ جمع۔ موہ بہت۔  
 موہ بہت۔ (رم۔ بہت) (۳۔ ۱۰)۔ سٹشے نذر۔ عیب۔ پیش کش۔

موہ بہت عظمیٰ۔ (۳۔ ۱۰)۔ سٹشے بہت بڑی نعمت۔ بہت بڑی بخشش۔  
 موہ بہت۔ (رم۔ بہت) (۳۔ ۱۰)۔ صفت (عمارہ) بولنا عاشق۔ شیدا (۲۰)

موہ ہوش غش۔ متعیر۔  
 موہ ہم۔ (رم۔ ہم) (۳۔ ۱۰)۔ صفت (دوم میں ڈالنے والا۔

موہ بن۔ (موہ بن) (۳۔ ۱۰)۔ صفت (موہ لینے والا۔ فریفتہ کرنے والا (۲۰) دلفریب دلنا  
 نہایت خوبصورت (۲۰) کرشن جی کا لقب۔

موہ بن مہوگ۔ (۵۔ ۱۰)۔ صفت (ایک قسم کی مٹھالی۔ طوطہ۔ سیاہ۔ عیب (۲۰) دین، گڑا (۲۰)

ایک قسم کا کام۔  
 موہ بن لانا۔ (۵۔ ۱۰)۔ صفت (ایک قسم کا لہجہ یا حسی کی بابت مہوہ سے کہ اس میں فریفتہ  
 کرنے کی خاصیت ہے۔

موہ بن مالہ۔ (۵۔ ۱۰)۔ صفت (ایک قسم کا گلے کا پار۔  
 موہ بننا۔ (موہ بن) (۳۔ ۱۰)۔ صفت (فریفتہ کرنا۔ عاشق بنانا (۲۰) نسیر کرنا۔ جاو کرنا۔  
 موہ بنی۔ (موہ بن) (۳۔ ۱۰)۔ صفت (موہ بننے والی۔ دلربا۔ نہایت خوبصورت عورت۔

مونچہ۔ (۵۔ ۱۰)۔ صفت (دیکھتے ہوئے۔  
 مونڈنا۔ (مونڈنا) (۳۔ ۱۰)۔ صفت (بڈھ کرنا۔ ڈھانپنا۔ معمور کرنا۔  
 مونڈ۔ (۵۔ ۱۰)۔ صفت (سٹشے۔ میں۔ ساتھ۔ منسک (۲۰) مونڈنا کا امر۔  
 مونڈ کرکھانا۔ (۱۰) عمارہ (لوگوں کی حاسمت بنا کر روزی کمانا (۲۰) لوٹ کر کھانا۔ دھوکا  
 دے کر مال لینا۔

مونڈ مارنا۔ ۱۶۔ عمارہ (گردن مارنا۔ سر کاٹنا۔ قتل کرنا (۲۰) سر سے مارنا۔ داپس کرنا  
 بچھرنا۔ جیسے پیارے کے ہی مونڈ مارو۔

مونڈ منڈنا۔ (۱۰) عمارہ (سٹشے۔ سر سے سر کے بال صاف کرنا۔  
 مونڈنا۔ (مونڈنا) (۵) (صفت) مونڈنا کی (۲۰) صفت (منڈنا ہوا۔ ستر سے سے  
 صاف کیا ہوا۔

مونڈن۔ (مونڈن) (۵۔ ۱۰)۔ صفت (ایک رسم جس میں مسلمان ساتویں دن بچے کے  
 بال منڈتے ہیں۔ عقیدہ (۲۰) منڈن کی ایک رسم جس میں پہلے یہل کسی  
 دلہن کے مندر میں لڑکے کے بال منڈائے جاتے ہیں۔

مونڈنا۔ (مونڈنا) (۳) (صفت) بالوں کو ستر سے صاف کرنا (۲۰) چیلنا بنانا (۲۰)  
 دھوکا دے کر مال ماننا۔

مونڈھا۔ (مونڈھا) (۵)۔ صفت (کندھا۔ شان۔ دوش (۲۰) سر کھڈوں اور  
 مونگ کی بیجی ہونی گڑھی۔

مونڈھوں کے فرشتے۔ (۱۰)۔ صفت (کراما کا تبین۔ کتاب اعمال انسانی۔  
 اعمال کیتے واسے فرشتے۔

مونڈھے پر سٹھانا۔ ۱۶۔ عمارہ (کسب کرنا۔  
 مونڈھے والی۔ (۱۶۔ منس) زبڑی کسی پیشہ کرنے والی۔

مونڈی۔ (مونڈی) (۵)۔ صفت (منڈی ہونی (ستر سے صاف کی ہونی (۲۰) سر۔  
 مونڈی بھڑ۔ (۱۶۔ منس) وہ بھڑ جس کے بال کٹے ہوتے ہوں (۲۰) منس۔ تلاش۔

مونڈی کانا۔ (۱۳۔ صفت) (مہو، دھا، سٹشے۔ بن سراد (۲۰) واجب القتل۔ مونڈ۔  
 مونڈس۔ (مونڈس) (۳)۔ صفت (آسن رکھنے والا۔ آرام دینے والا۔ ساتھی۔

دوست۔ پار۔  
 مونڈس تنہائی۔ تنہائی کا دوست۔ غم ٹٹنے والا۔ خلوت کا ساتھی۔

مونڈس۔ (Monsoon) (۳)۔ صفت (بارش لانے  
 والی ہوتی ہیں۔

مونگ۔ (۵۔ ۱۰)۔ صفت (ماش کی قسم کا ایک نلہ۔ ایک مشہور وال۔

مونگ بلاؤ۔ (۱۶)۔ صفت (مونگ اور چاولوں کی چھوٹی۔  
 مونگ پھلی۔ (۱۶)۔ صفت (ایک قسم کا میوہ جس کی پھلیوں میں سے مادام  
 کی طرح دانے نکلے ہیں۔

مونگ جھاتی پڑلنا۔ (۱۶)۔ عمارہ (دیکھتے جھاتی پر مونگ دلنا۔  
 مونگ کی پھلیاں۔ مونگ (غلہ کی پھلیاں باریک ہوتی ہیں۔ لہذا نازک اور تلی  
 انگلیوں کے لیے ہوتے ہیں۔

مونگ کی دال۔ (۱۶)۔ صفت (دالے ہوئے مونگ۔  
 مونگ کی دال کھانے والا۔ (۱۶)۔ صفت (مجازاً) دال، بینا۔ بقال (۲۰)

کڑور۔ ڈولوک۔  
 مونگ مانگتے پھرتا۔ (۱۶)۔ عمارہ (فراڈ کرتے پھرتا۔

موجودہ دم ساری ہند (ع ۱-۱۸) آٹا بند کرنے والا۔ مدر دینے والا۔ قوت دینے والا۔  
 مددگار۔ معاون۔ عملاتی۔ جمع۔ نویدین۔  
 موجودہ۔ دعووی۔ پیز (ع ۱-۱۸) آٹا بند کرنے والا۔ مددگار۔ حمایت کیا گیا۔  
 موجودہ۔ دم۔ دیز (ع ۱-۱۸) آٹا بند کرنے والے کو کہتے ہیں۔ منقاد۔  
 موثر منفق (ع ۱-۱۸) ہندی نکال کر صاف کیے ہوئے بٹے انگوڑے۔  
 مویشی۔ دم۔ روسے۔ شی، ڈاز (ع ۱-۱۸) دیکھیں۔ مویشی۔  
 مویشی آوارہ ہونا۔ (۱-۱۷) محاورہ [مویشی کا اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر ادھر ادھر  
 چلا جانا۔  
 مویشی خانہ۔ (۱-۱۷) مذم وہ جگہ جہاں ڈھوڑ بگڑ رکھے جائیں۔

## م - ۵

مہ۔ ۱ ف ۱-۱۔ مذ (ماہ کا تخفیف، چاند، قمر، چند لڑک، میدان، مرکب دیکھنے  
 ماہ کے ماتحت۔  
 مہ نوروزی قشاند و سنگ ہانگ می زند۔ (۱ ف) مثل (جانڈ زبرد ستا  
 ہے اور کتا بھونکتا ہے۔ حامد اور بدخواہ غل پچاتے ہیں محرک کام کرنے  
 واسے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔  
 مہ لومی شورو ماہ تمام آہستہ آہستہ۔ (۱ ف) مثل (جانڈ آہستہ آہستہ پورا چاند  
 ہو جاتا ہے۔ کمال رفتہ رفتہ حاصل ہوتا ہے۔  
 مہر۔ (۱ ف) صفت (بڑا۔ کماں۔ بزرگ۔ سردار۔  
 مہما۔ دم۔ (۱۷) اس صفت (بڑا۔ بزرگ۔ اعلیٰ۔ معزز۔ اہل۔ اسکان۔ عظیم۔ دم)  
 خاندانی۔ شریف۔  
 مہما اودت۔ (۱ ف) صفت (نہایت بوقوت۔  
 مہما یونمن۔ (۱-۱۷) مذ (بڑا یونمن۔ مردوں کی کرکم کسنے والا۔  
 مہما یلی۔ (۱ ف) صفت (بڑا طاقت ور۔ نہایت زبردست۔ شہ زور۔  
 مہما بھارت۔ (۱ ف) لڑائی۔ جنگ۔ عظیم، (۱۷) وہ لڑائی جو کوردوں اور پانڈوں  
 کے درمیان گودک شمشیر کے میدان میں اٹھارہ روز تک جاری رہی  
 (۱۷) وہ کتاب جس میں کوردوں اور پانڈوں کی لڑائی کا حال لکھا ہے۔  
 مہما بھاگ۔ (۱-۱۷) مذ (بڑا خوش نصیب۔ بلند اقبال، (۱۷) خوش قسمتی۔  
 مہما میر۔ (۱-۱۷) مذ (بڑا بہادر۔ ہونمان کا خطاب۔  
 مہما پاپ۔ (۱-۱۷) مذ (بڑا بھاری گناہ۔  
 مہما پانی۔ (۱-۱۷) مذ (بہت بڑا کھنگار سنا سقو فاجر۔  
 مہما پترشش۔ (۱-۱۷) مذ (بڑا آدمی۔ ہما۔ مہما۔ مقدس۔ معصوم (مجازاً) شہر۔  
 عیار بد معاشرہ۔  
 مہما پر شاو۔ (۱-۱۷) مذ (بڑا۔ تیز۔ جھوک۔ جگن ناتھ کا شاو۔  
 مہما چیرے۔ (۱-۱۷) مذ (قیامت۔ دنیا کے فنا ہونے کا دن (مہندوں کے عقیدے  
 کے مطابق ۴۳۔ اب میں کر ڈر برس کے بعد ہوتا ہے۔  
 مہما کوشی۔ (۱-۱۷) مذ (کو۔ مخمدر۔ یوم۔  
 مہما کورا۔ (۱-۱۷) صفت (سب کٹوں میں جالاک۔ پانچوں عیب والا۔

۱۷، پیاری۔ پیار دلانے والی (۱۷) در بانی مدبری۔ دلچسپی (۱۷) ماز  
 جلودگرتی۔  
 موہوب۔ (ع ۱-۱۸) صفت کیا گیا۔ روایا گیا جنتا گیا۔ نہایت کیا گیا۔  
 موہوب المیر۔ (ع ۱-۱۸) مذ (اس کے نام پر پیدا کیا گیا ہو۔  
 موہوب سوم۔ (ع ۱-۱۸) مذ (ہوہم کیا گیا۔ وہی۔ قیاسی۔ فرضی۔  
 موہوبی۔ (ع ۱-۱۸) مذ (صفت ادبی خیالی۔ تصویر۔ فرضی۔  
 موہوبے۔ (۱-۱۷) جن، بچھے۔ بچھو کو۔  
 موہوبے اور نہ بچھے ظہور۔ (۱-۱۷) مثل (بچھے تیرے بغیر اور نہ بچھے تیرے  
 بغیر چین آتا ہے۔  
 موہوبی۔ (۱-۱۷) مذ (مرہ ہوئی۔ مردہ (۱۷) بد نصیب۔ اچھی۔  
 موہوبی (بچھا ہوا من کو دان (۱-۱۷) مثل (اس وقت کہتے ہیں جب کوئی بڑی چیز بھلا  
 کے نام دی جائے۔  
 موہوبی جوان سسنت قدم کمال وجود (۱۷) نہایت غریب۔  
 موہوبی کیوں کہ سانس نہ آیا۔ (۱-۱۷) مثل (انسان کی زندگی سانس چلنے تک ہے۔  
 جہاں سانس بند ہوئی آدمی رخصت ہوا۔  
 موہوبی مانی کوئی سگائی۔ (۱-۱۷) مثل (جہاں ماں مری سانسے تعلقات اور نئے نئے  
 ہو گئے۔ بزرگی ہی کے دم سے جوڑوں میں تعلقات قائم رہتے ہیں۔  
 موہوبی مٹی۔ (۱-۱۷) مذ (میت، نفس لاش (۱۷) مراد۔ مردہ۔  
 موہوبی کی نشانی۔ (۱-۱۷) مذ (مرے ہوئے آدمی کی یادگار۔ مرے ہوئے  
 عزیز کی اولاد۔  
 موہوبے۔ (۱-۱۷) مذ (صفت) ہوا کی جھ۔ مرے ہوئے (۱۷) بد نصیب۔ کجبت  
 خاندان۔ (۱۷) مذ (صفت) خا ہو گئے۔  
 موہوبے بیل کی بڑی بڑی آنکھیں۔ (۱-۱۷) مثل (اس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی کسی  
 مرے ہوئے کی زیادہ تعریف کرے۔  
 موہوبے پر تین دن بھاروی۔ (۱-۱۷) مثل (مسلمانوں کے عقیدے میں مرے سے  
 تین دن تک اعمال کی بخشش ہوتی رہتی ہے۔  
 موہوبے پر سوڑے۔ (۱-۱۷) مثل (آنت ذرہ پر آنت، نصیب کے ماسے ہوئے پر  
 اور نصیب مرنے کے بعد بھی مزاکے قابل، مرے کو مایں شاہ ہار۔  
 موہوبے جان ہار۔ (۱-۱۷) مذ (گور، بزماری اور شہر کے موقع پر کہتے ہیں۔  
 موہوبے جیتے۔ (۱-۱۷) مذ (مردہ اور زندہ۔  
 موہوبے جیتے اگھاڑو لٹا۔ (۱-۱۷) محاورہ (مرے ہوؤں اور زندوں کے  
 عیب نکالنا۔  
 موہوبے قہر سے جیتی ملی بھلی۔ (۱-۱۷) مثل (نور اور مردے کو زور زندہ بہتر ہے۔  
 موہوبے کا کوئی نام نہیں جیتے کا سب کوئی۔ (۱-۱۷) مثل (زندہ کی سب خوش آمد  
 کرتے ہیں مرے کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔  
 موہوبے کی قبر اور جیتے کا گھر۔ (۱-۱۷) مثل (مردے کو قبر میں اور زندوں کو اپنے گوش  
 آرام جتا ہے۔ بر نفس اپنے ہی مقام پر خوش رہتا ہے۔  
 موہوبے۔ (ع ۱-۱۸) مذ (دیکھئے۔  
 موہوبیا۔ (ع ۱-۱۸) مذ (سوت کا بھوڑا کچھا۔ سوت کی آٹی۔  
 موہوبیا سا پیٹ۔ (ع ۱-۱۸) مذ (نہایت نرم اور نازک پیٹ۔





تصدیق کرنا۔ گواہی دینا۔

مہر کین (۱۷ بند) مہر کھونے والا۔

مہر نامہ۔ مہر جو اعتبار کے لیے کاغذ کی پیشانی پر کرتے ہیں۔

مہر جوت۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، نقش جوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تھا۔

مہر وصل۔ (۱۷ بند) مٹا مہر جو اعتبار کے لیے بڑے کاغذوں پر مقام وصل یعنی جوڑوں پر کرتے ہیں۔

مہر پوجانا (پونا)۔ (۱۷ بند) تصدیق پوجانا۔

مہر کی لکھی کوٹلوں پر مہر۔ (۱۷ بند) مثل اس موقع پر کہتے ہیں جہاں جہاں بڑی قیمتیں خرچ کردی جائیں لیکن فرازا سے خرچ پر گنجی بڑی جاتی۔

مہر رادہ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، رادہ، ڈولی یا پانچ اٹھانے والا رکھ بادل کا انسر۔

مہر رادہ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، وہ شخص جو زنا ڈیسا پسندے اور زانی بولی ہو۔

مہر آکا۔ (۱۷ بند) مٹا، آکا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہر آکا۔ (۱۷ بند) مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہر سے پر رکھنا۔ (۱۷ بند) مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہر اوردہ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، عورت - جو درد - بیوی۔

مہر آنہ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، وہ رقم جو کاغذ پر سرکاری مہر لگانے کے ضمنی جاتے۔

مہر ڈالان۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مہر یاں۔

مہر ہ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، کاغذ وغیرہ گھونٹنے کا آلہ، شطرنج کا مہرہ۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ بازی۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ بازی۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ لینا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرہ ہار۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرے آنا۔ (۱۷ بند) مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہر فرسٹ۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرک۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرک جانا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔

مہرکا۔ (۱۷ بند) - مع۔ ۱۔ مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا، مٹا۔



مے گول - ۱۶ - صفت شراب کے رنگ کا۔ مرض۔ لال۔  
 مے ناب - ۱۷ - صفت شراب۔  
 مے وصل مئے وصلت - ۱۸ - صفت آکنہ سے بہاشرت سے۔  
 رمیا - ۱۹ - صفت بنی محبت۔  
 رمیا - ۲۰ - صفت امان کی تصویر۔ امانت و امانت۔  
 مینا باد امرگتے نامہ ہی دہریا کر گئے۔ (۱۷ - صفت امانت سے سمجھتی کہ ہمزاج  
 کے ساتھ بیاہ دینا۔  
 مینا - ۲۱ - صفت بنی امانت و محبت۔

رمیان - ۲۲ - صفت امان، امانت، امانت، وسط۔ درمیان، کرہ، ۲، کرہ، ۳، نیاں، ہمزاج  
 وغیرہ رکھنے کا خانہ۔  
 میان بالاء - ۲۳ - صفت امانت و درمیان کی میل کا آدمی۔  
 میان ہنسی - ۲۴ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 کی تہ ہو۔

میان دواپ - ۲۵ - صفت دودھیوں کے بیچ کی زمین۔ دواپ۔  
 میان سے باہر ہونا۔ (۲۶ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 سبب آگے سے باہر ہو جائے آپے میں ذریعہ۔  
 میان سے ٹھینچنا۔ (۲۷ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 ہزار میان سے اہم کر لینا۔

میان میں کرنا۔ (۲۸ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 سے باز آنا۔

میاں - ۲۹ - صفت امان، امانت، امانت، وسط۔ درمیان، کرہ، ۲، کرہ، ۳، نیاں، ہمزاج  
 خزانہ۔ مالک۔ سرکار۔ حضور۔ حاکم۔ سردار۔ ۲، صاحبزادہ۔ پشاور، ۱، خاندان  
 شہر، ۲، جسم، ۳، جناب، ۴، جناب عالی، ۵، بار، دوست۔ بھائی، ۶، استاد، ۷، سلم۔  
 مدرس۔ پڑھانے والا، ۸، شہزادہ۔ صاحب، عالم۔ امیرزادہ۔ کنور، ۹، پڑوسی  
 راجاؤں کے خاندان کے لوگ۔

میاں آدمی - ۳۰ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 میاں بھائی - ۳۱ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 وقت استعمال کرتے ہیں۔

میاں بیوی - ۳۲ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی - ۳۳ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 دوسرا کس طرح دخل در متولات ہو سکتا ہے۔

میاں پھول لال گل لال بیوی کے بڑے احوال - ۳۴ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 بھرتے ہی گھر میں بیوی کے پاس کیے نہیں۔

میاں جی - ۳۵ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 میاں جی کھڑی - ۳۶ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 (۳۷ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی)

میاں صاحب - ۳۸ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 (۳۹ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی)

میاں کا دم اور گواڑ کی جوڑی - ۴۰ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 بھرتے ہیں۔

مشاہرہ - ۴۱ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 ہمینا دار - ۴۲ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 ہمینے سے ہونا - ۴۳ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 ہمینے سے ہونا - ۴۴ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 ہمینے کے ہمینے - ۴۵ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 کے چاند - ۴۶ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 ہمینندی - ۴۷ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

۲۰۰

مئی - ۴۸ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 مئی (May) - ۴۹ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 آئیں دن کا ہوتا ہے۔

۲۰۱

مے - ۵۰ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی  
 بنت العنب - ۵۱ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آتشیں - ۵۲ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آشیام - ۵۳ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آرنانا - ۵۴ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگوری - ۵۵ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگال - ۵۶ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۵۷ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۵۸ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۵۹ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۰ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۱ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۲ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۳ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۴ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۵ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۶ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۷ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی

مے آگورنگالی - ۶۸ - صفت امانت و درمیان کے اسم سے لیا گیا ہے جو بیچ میں رہتی





میٹھا بولنا - ۱۱- محاورہ شیریں کلامی سے لگنگو کرنا۔ نرمی سے بات چیت کرنا۔  
غش اخلاقی سے پیش آنا۔

میٹھا بانی - ۱۱- مذ (۱) آب شیریں، لیمونڈ۔

میٹھا توٹیا - ۱۱- مذ (۱) گھوڑے کی ہلکی جال جو بہت تیز، بو اور نہ بہت سست۔

میٹھا تھپا کو - ۱۱- مذ (۱) پینے کا تمباکو جس میں گڑ زیادہ ڈالتے ہیں۔

میٹھا تیل - ۱۱- مذ (۱) آٹوں کا تیل۔

میٹھا تیلیا - ۱۱- مذ (۱) ایک اور بس کی بڑ زہری ہوتی ہے۔ سنگھیا۔

میٹھا چھک - ۱۱- مذ (۱) میٹھی میٹھی باتیں کر کے چھکنے والا۔ جھوٹا دوست۔

غوشلدی دوست -

میٹھا درد - ۱۱- مذ (۱) ہلکا ہلکا درد۔ دھیما درد۔

میٹھا زہر - ۱۱- مذ (۱) ایک قسم کا زہر۔

میٹھا منہ - ۱۱- مذ (۱) تلوار یا چھری کی کندھار (۲)، کسی میٹھی چیز کا منہ میں ڈالنا

(۳) چھکنی کی رسم۔

میٹھا منہ کرنا - ۱۱- محاورہ (۱) میٹھا کی گھانا کرنا، (۲) شکوہ اور تہمت دینا۔

میٹھا منہ کرنا - ۱۱- محاورہ (۱) میٹھا کی گھانا کرنا، نسبت کرنا۔ سنگنی کرنا۔

میٹھا میٹھا - ۱۱- صفت (۱) کم کم۔ تھوڑا تھوڑا۔ ہلکا ہلکا۔

میٹھا میٹھا، سب کچھ اور کچھ - ۱۱- مثل (۱) اچھی اچھی چیز لے لینا اور

بڑی سے پرہیز کرنا۔

میٹھے سے مرنے تو زہر کیوں دے - ۱۱- مثل (۱) اگر نرمی سے کام نکل سکتا

ہو تو سختی کیوں کی جائے۔

میٹھے کھنے کو جی چاہتا ہے کھٹے میٹھے کو جی چاہتا ہے - ۱۱- محاورہ (۱) اجامت کی

رہیت ہونا۔ اہمتری کی خواہش ہونا۔

میٹھے کے لاتاخ میں جھومنا کھاتے ہیں - ۱۱- مثل (۱) لاش کی طین میں سخت کلائی

اور سختی برداشت کرتے ہیں۔

میٹھے کے واسطے نہ سلونے کے واسطے - ۱۱- مثل (۱) بڑی کسی طمعے۔

میٹھے میں سلونا طمانا - ۱۱- محاورہ (۱) بدمزگی پیدا کرنا۔

میٹھے والے - ۱۱- مذ (۱) وہ تنگ جو مسافروں کو میٹھا تیلیا کھلا کر مار

ڈالتے تھے۔

میٹھی - ۱۱- صفت (۱) میٹھا کی تہمت۔ شیریں۔

میٹھی آنکھوں سے دیکھنا - ۱۱- محاورہ (۱) محبت بھری نگاہ سے دیکھنا۔

میٹھی بات - ۱۱- صفت (۱) طمان بات۔ نرم بات مدحیہ لگنگو۔

میٹھی باتیں کرنا - ۱۱- محاورہ (۱) نرمی سے بولنا۔ مزے کی باتیں کرنا۔

میٹھی ہاتھ - ۱۱- صفت (۱) کم تیز اور کندھار۔ موٹی دھار۔

میٹھی ٹولی - ۱۱- صفت (۱) شیریں زبانی۔ طمان اور نرم لگنگو۔

میٹھی جڑی (کلائی) - ۱۱- صفت (۱) میٹھی۔ اصل الشوس۔

میٹھی تون - ۱۱- صفت (۱) بیماری بیماری نظر۔

میٹھی چھری - ۱۱- صفت (۱) جو شخص بہ ظاہر دوست اور بہ باطن دشمن ہو۔ دوست

نار دکن، ہار استین۔

میٹھی چھری زہر کی بھٹی - ۱۱- مثل (۱) ظاہر میں نرم کلام، دل میں دشمنی۔

میٹھی عید - ۱۱- مذ (۱) عید الفطر۔

میٹھی گالی - ۱۱- صفت (۱) وہ گالی جو تلخ زنگدے۔ مشتوق کی گالی۔

میٹھی مار - ۱۱- صفت (۱) باطنی تکلیف۔ دردہ مار سے نشان ظاہر نہ ہو سکتا مار۔

میٹھی مار دینا - ۱۱- محاورہ (۱) اندرونی طور سے مارنا۔ اس طرح مارنا کہ چوٹ

ظاہر نہ ہو۔

میٹھی مراد - ۱۱- صفت (۱) اچھی مراد۔

میٹھی میٹھی باتیں کرنا - ۱۱- محاورہ (۱) دیکھے میٹھی باتیں کرنا۔

میٹھی میٹھی بھوار - ۱۱- صفت (۱) ہلکی ہلکی بھوار۔

میٹھی نظر (نگاہ) - ۱۱- صفت (۱) محبت کی نظر، عاشقانہ نظر۔

میٹھی نظریں - ۱۱- صفت (۱) میٹھی نظریں۔ (نگاہیں) - ۱۱- صفت (۱) محبت والفت

کی نگاہیں، (۲) عاشقانہ نگاہیں۔

میٹھی نیند - ۱۱- صفت (۱) خواب راحت۔ خواب خوشی۔ ٹھوکی نیند۔

میٹھی - ۱۱- صفت (۱) شاق، (۲) ع۔ (۱) قول و قرار۔ وعدہ دیکھاں۔ معاہدہ۔ جینا۔ موافقت۔

میجر - (Major) (۱) نئے بڑے، (۲) ایک (۱) ایک فوجی عہدہ جو کپتان سے اوپر

اور لٹیننٹ کرنل کے نیچے ہوتا ہے۔

میجسٹی - (Majesty) (۱) نئے، (۲) جتن، (۳) ایک (۱) شان و شوکت، جاہ و

جلال، ودیہ۔ رعب داب۔ کردفر، (۲) منصب شاہی۔

میجک - (Magic) (۱) جت، (۲) ایک (۱) صفت (۱) علم تسویر۔ جادو، ٹونا، جھوٹوں۔

میجک لیٹرن - (۱) ایک (۱) صفت (۱) وہ لائٹن جس سے اندھیرے میں چلتی چھری

تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔

میجننا - میجننا - ریختی، ریختی، نا، ریختی، نا، (۱) صفت (۱) ہاتھ سے ملنا۔ مسنا، (۲) ملانا۔ آمیزش

کرنا، (۳) ریختی، صحت کرنا، (۴) گوندنا۔

میجیشن - (Magician) (۱) جت، (۲) ایک (۱) جادوگر۔ ساحر۔ افسانہ۔

میچ (Match) (۱) ایک (۱) صفت (۱) مقابلہ جریلت، (۲) تمیل، (۳) جواب، (۴) ہمزہ، (۵) ہمزہ، (۶) ہمزہ،

مقابلہ، مقابلہ کار، (۷) جڑا دو لٹاؤ لٹاؤ۔

میچ بکس - ۱۱- مذ (۱) دیاسلائی کی ٹی بی۔

میچ کرنا رکھ لینا - ۱۱- محاورہ (۱) کسی عمل میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔

میچنا - ۱۱- صفت (۱) اچھے بند کرنا۔

میخ - ۱۱- صفت (۱) کیل۔ پیگ، (۲) کھوٹی کھوٹا۔ چوب۔

میخ اکھاڑنا - ۱۱- محاورہ (۱) کھوٹا اکھاڑنا۔ سواروں کا ایک کڑب جس میں وہ گھوڑا اور کتا

بوسے گڑی میخ کو اکھاڑے جاتے ہیں۔

میخ ٹھونکنا - ۱۱- محاورہ (۱) کیل جڑا، (۲) دانا۔ مغلوب کرنا، (۳) ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکنا۔

صلیب پر چڑھانا، ایسی سزا میں پہلے زمانے میں دی جاتی تھی۔

میخ چور۔ میخ چھوٹے کواکر۔ موکری۔

میخ دی میخ نہیں دیا - ۱۱- مثل (۱) اس موقع پر بولنے میں سب کوئی شخص بڑے وصلے

سے ہدایت قیمتی چیزیں دے دے لیکن لینے والا کوئی تقیر ہی نئے نئے نلے پر

تکلیف کرے۔

میخ مارنا - ۱۱- محاورہ (۱) کیل ٹھونکنا، کھوٹی گارڈ، (۲) مغلوب کرنا، (۳) شکست دینا۔

بھانجی مارنا، (۴) نقب لگانا۔

میدان - ۱۱- صفت (۱) دان بلاف - ۱۱- صفت (۱) وسیع سطح زمین۔ چٹیل زمین کا، بھار۔

زمین (۲)، (۳) لڑائی، (۴) مقابلہ، جنگ، (۵) جہریلوں کی اصطلاح میں جواہر



ہتھم ملیخ، درخان سامان - بکاول -

میر شکار - (ت - ۱ - مذ) وہ ملازم شاہی ہے شکاری جانوروں کی نگہانی سپرد ہو۔

میر عرب - (ت - ۱ - مذ) مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -

میر عرض - (ت - ۱ - مذ) بادشاہی ملازم جو لوگوں کو عرض و معروض پیش کرے - عرض نیکی -

میر عمارت - (ت - ۱ - مذ) ہتھم تعمیرات - انجینئر -

میر فرس - (ت - ۱ - مذ) وہ فرس جو پتھر کو دبلنے کے لیے چاروں کولنز پر رکھے جلتے ہیں۔

میر قنار کارواں - (ت - ۱ - مذ) قافلے کا سردار -

میر کلام - (ت - ۱ - مذ) ہدایت اچھا مترز - جادو بیان شطیب -

میر مجلس مرحفل - (ت - ۱ - مذ) صدر جلسہ - صدر نشین جزم - پریسیڈنٹ -

میر ٹکڑے - (ت - ۱ - مذ) حصے یا سٹکے کا انفر -

میر ٹکڑے - ٹکڑے کا چھوڑی - کسی کو بے کار سردار -

میر مشاعرہ - (ت - ۱ - مذ) محفل مشاعرہ کا صدر -

میر مطبخ - (ت - ۱ - مذ) باورچی خانے کا ہتھم -

میر منزل - (ت - ۱ - مذ) وہ شخص جو شکر کے گائے کے چل کر پڑا کا انتظام کرتا ہے -

میر منس - (ت - ۱ - مذ) نازک مزاج -

میر منشی - (ت - ۱ - مذ) سر شرف دار - پیشکار اعلیٰ - صدر دفتر -

میر میدان - (ت - ۱ - مذ) چھارو - دلاور - شہانہ -

میرا - (ت - ۱ - مذ) زمین کا وہ قسم جس میں چھنی مٹی اور ریت ملی ہوتی ہے -

میرا - (ت - ۱ - مذ) اپنا ذات کو خدا کا -

میرا باب سخی تھا پر بسے جو سے آنا دکھتا تھا - (ت - ۱ - مذ) سخی غصے کی بات

بولتے ہیں آپ کو کسی قابل ہو کر جو لوگوں کی باتوں پر گھنڈ کرنا چھوے

میرا بس چلے تو تجھے کیا چھا جاؤں - (ت - ۱ - مذ) سنت غصے کی حالت میں کہتے ہیں۔

میرا بھائی ہے - (ت - ۱ - مذ) اپنا عزیز ہے - میرا پیارا ہے -

میرا لیل مشق نہیں پڑھا ہوا - (ت - ۱ - مذ) ایسے سادے آدمی اپنے کام سے غرضی

رکتے ہیں۔ فضول جھگڑوں میں نہیں ہستے۔

میرا تیرا - (ت - ۱ - مذ) کل میرا اہمیت اور بیگانگی ظاہر کرنے کے موقع پر کہتے ہیں۔

میرا جی - (ت - ۱ - مذ) خوشی - (ت - ۱ - مذ) کسی کا ٹھہر کر کیا زور ہے جو میری خوشی

کودہ کرنا ہوں -

میرا حلوہ کھائے - میرا ماتم کرے - میرا مردہ دیکھے - میرا مردہ دیکھے

(ت - ۱ - مذ) تم، اگر میرا ماننے تو مجھے مرانا دیکھے -

میرا ذمہ - میں اس بات کا ذمہ دار ہوں -

میرا اسلام ہے - (ت - ۱ - مذ) عاودہ میں باذآیا - مجھے منکر نہیں - خدا بچائے -

میرا شہر - (ت - ۱ - مذ) سورا - (ت - ۱ - مذ) کبھی دل بڑھانے کے لیے اور

کبھی طنز کہتے ہیں -

میرا کام آپ کا نام - میرا مطلب مل ہو جائیگا اور آپ کی ناموری ہوگی -

میرا کیا گیا - (ت - ۱ - مذ) سوز مرہ - میرا کیا نقصان ہوا - ہمارا کیا بچھا -

میرا کیا نہ اپنا کیا - (ت - ۱ - مذ) میرے کام کا رکھا دینے کا نام کا -

میرا ہو پیے - (ت - ۱ - مذ) سخت تم، میرا خون ہلانے کے قتل کرے۔

میرا ماتھا - (ت - ۱ - مذ) جھپٹھا تھا - (ت - ۱ - مذ) عاودہ | مجھے اسی وقت اندیشہ ہوا تھا۔ میں پہلے ہی تازگی تھا۔

میرا مردہ اب بھی تیرے زندے پر بھاری ہے - (ت - ۱ - مذ) میں مجبوری میں بھی تجھ سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔

میرا مُنہ نہیں - (ت - ۱ - مذ) عاودہ، میرا حوصلہ نہیں - مجھے طاقت نہیں - میری زبان میں اتنی طاقت نہیں۔

میرا ٹوپہ - (ت - ۱ - مذ) مقولہ | میں بیزار ہوں - میں باذآیا -

میرا جوتی سے - (ت - ۱ - مذ) مقولہ | میری بلا سے -

میرا طرف سے - میرا جانب سے، میرے نزدیک -

میرے آگے نام نہ لو - (ت - ۱ - مذ) روزمرہ | میں اتنا متنفر ہوں کہ نام بھی نہیں سنا جاتا۔

میرے لوت کی لپی لپی ہا نہیں - (ت - ۱ - مذ) لٹل، لٹل بڑ کر ہر ایک مرہا تہا میرے پھول کرے - (ت - ۱ - مذ) تانہ لٹل، لٹل میرا مردہ دیکھے۔

میرے دونوں بیٹے - (ت - ۱ - مذ) روزمرہ | میرا ہر طرف فائدہ ہے (ت - ۱ - مذ) بچے دونوں عزیز ہیں۔

میرے ساتھ ضرر ہے - (ت - ۱ - مذ) روزمرہ | ہمیشہ میرے خلاف کام کرتا ہے۔

میرے سامنے آسکتے ہیں، مجھ سے آنکھیں ملا سکتے ہیں - (ت - ۱ - مذ) روزمرہ | کیا طاقت ہے، کیا مجال ہے جو میرے رو برو ہوں۔

میرے لال کے سوسو یار - (ت - ۱ - مذ) صلیب - (ت - ۱ - مذ) لال اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جس کی دوستی معمولی لوگوں کے ساتھ ہو۔

میرے لڈر لال کی اٹھی ریت - (ت - ۱ - مذ) سادان ماس اٹھاویں بھیت - (ت - ۱ - مذ) اٹھنے سے ریت کے باہت کہتے ہیں جو بے موقع کام کرے۔

میرے منہ سے - (ت - ۱ - مذ) تانہ لٹل، لٹل میرا غلظت سے میرے فعل سے - میری وجہ سے -

میرے اسی سے آگ لائی نام رکھا - (ت - ۱ - مذ) لٹل، لٹل اس شخص کی باہت شمال کرتے ہیں جو کسی کام لیکر کوئی چیز حاصل کرے اور پھر اسی سے چھپائے۔

میرے سے سورا جاکے نہیں اور راہ میرا سنگتا - (ت - ۱ - مذ) لٹل، لٹل خرس کی نسبت کہتے ہیں جو اپنی کپڑی پر گھنڈ کرے۔

میرا ت - (ت - ۱ - مذ) سات، (ت - ۱ - مذ) مت اور ت - (ت - ۱ - مذ) جہاں مدافیر جو مرے واسے لکا طرف سے حصاروں کو ملے۔

میرا تین - (ت - ۱ - مذ) سات، (ت - ۱ - مذ) سات لگانے والی ڈومنی - (ت - ۱ - مذ) میرا تین کی ہوئی۔

میرا تین - (ت - ۱ - مذ) سات، (ت - ۱ - مذ) سات لگانے والی ایک قوم۔

میرا تین - (ت - ۱ - مذ) سات، (ت - ۱ - مذ) سات لگانے والی ایک قوم۔

میرا تین - (ت - ۱ - مذ) سات، (ت - ۱ - مذ) سات لگانے والی ایک قوم۔

میرا تین - (ت - ۱ - مذ) سات، (ت - ۱ - مذ) سات لگانے والی ایک قوم۔

میرا تین - (ت - ۱ - مذ) سات، (ت - ۱ - مذ) سات لگانے والی ایک قوم۔

میرا تین - (ت - ۱ - مذ) سات، (ت - ۱ - مذ) سات لگانے والی ایک قوم۔



میکے والیاں - (۱۰) منہ ڈالنے کی رشتہ دار عورتیں۔

میک اپ (Makeup) - میک اپ، (انگ) - (۱) منہ اچھے کی آرائش کرنے کا پادھر۔ لب اسٹک وغیرہ لگانا۔

میکانی مشینیں - (۱) میکانی، (۲) دھمکتی، (۳) (آرٹیفی) مشینوں اور مکوں کے متعلق۔ (Mechanical)

میکانیات - (۱) میکانک، (۲) یات، (۳) (۱) منہ، (۲) مشین اور مکوں کا علم (Mechanics)

میکانیزم - (۱) میکانک، (۲) یات، (۳) (۱) منہ، (۲) مشینوں اور مکوں کا علم۔ (Mechanism)

میکٹائیل - (۱) میکانک، (۲) (۱) منہ، (۲) فرشتہ جو مخلوق کی روزی رسائی پر مقرر ہے۔

میکو - (۱) منہ، (۲) سینڈھا، (۳) میچڑا، (۴) ایک رُوح کا نام جو پہلے آسمان پر ہے اور اپنے ستاروں کی ہیئت سے میٹھے کی شکل کا معلوم ہوتا ہے۔ جس روز آفتاب اس رُوح میں آتا ہے یہی نوردوز کہلاتا ہے۔ یہ مارچ کا مہینہ ہوتا ہے۔ ایران میں موسم بہار کا آغاز اور ہندوستان میں اہتمام انھیں دلوں میں ہوتا ہے۔

میکینک (Mechanic) - (۱) میکانک، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کارگر، دستکار، اہل حوزہ، مشین بنانے والا، مشین چلانے والا، مستری۔

میکنگڈ میگزین - (۱) میگزین، (۲) (۱) منہ، (۲) ایک قسم کی ٹی ٹی ماری جو باقی پرکھی جاتی ہے (۳) ایک قسم کا دست اور ٹانہ۔

میگزین (Magazine) - (۱) میگزین، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) خزانہ، گنجینہ، مخزن، گودام (۳) ہارور خانہ، (۴) متفرق، مضافی کارسار۔

میگنا کارٹا - (۱) میگنا چارٹا - (Magnacharta) (۱) میگانا کارٹا، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) مشورہ آزادی، مشورہ عظیم، ایک مشورہ (۳) مشورہ انگریزوں نے بادشاہ جان سے لیا تھا جس کی رو سے انگریزوں کو خصوصی اور سیاسی آزادی ملی تھی۔

میگنٹ (Magnet) - (۱) میگنٹ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) مقناطیس۔ آہن ٹہا (۳) دیکش چیز۔

میگنیشیا (Magnesia) - (۱) میگنٹ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) ایک کڑواہ انگریزی دعا جو ہل میں کام آتی ہے۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) بادل، بدلی، ہر گھٹا، (۳) میٹھ، (۴) بارش، (۵) ایک ہندی راگ (۶) ایک راجس کا نام۔

میگنڈی - (۱) منہ، (۲) باروں کا لڑتا، پانی برسائے والا دیوتا۔

میگنڈ راگ - (۱) منہ، (۲) ایک ہندی راگ جو ساون سھادوں میں گایا جاتا ہے۔

میگنڈ ناو - (۱) منہ، (۲) ایک سی آواز والا۔ لوکل آواز والا، (۳) لوک۔ گرج۔

میگنڈ کھام - (۱) منہ، (۲) کھام، (۳) (۱) منہ، (۲) بادل کی گرمی، (۳) منہ۔ وہ جس پر ایک باعث ہو جاتا ہے۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) جھکاؤ، خمیدگی، (۳) رغبت، (۴) رحمان، (۵) میلان، (۶) توجہ، (۷) رجوع، خواہش (۸) رعایت، (۹) پاسداری، جانب داری۔

میگنڈ خاطر - (۱) منہ، (۲) (۱) منہ، (۲) رغبت، (۳) الفت۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) چھپرہ، (۳) چھپرہ، (۴) فضلہ، (۵) گلاب، (۶) رنگ مورچہ، (۷) مکدورت، (۸) رُوح جو دل میں کسی کی طرف سے آجاتے (۹) ایک کھڑکی جس سے فیلیان باقی کھلتے ہیں۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ بیٹھنا - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ خورا - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

میگنڈ - (۱) منہ، (۲) (انگ) - (۱) منہ، (۲) کدورت پیدا ہونا، (۳) منہ ہونا۔

پر مقررہ نادوں میں لوگوں کا اجتماع کسی جگہ کے خاص موسم میں جانوروں اور  
 دوسری پیشہ کاروں کو فروخت کے لیے جمع ہوتا۔  
**میل پھیللا** - (۱۷) سیر و قاشا - بھیر پھاڑ۔  
**میل پھیللا** (گنگا) - (۱۱) محاورہ کسی خاص مقام پر بہت سے لوگوں کا بلور سیر و قاشا  
 جمع ہونا بھیر پھاڑ گنگا - اندھ ہوجانا ٹھٹھٹ گنگا۔  
**میل لگا رہنا** - (۱۱) محاورہ جمع ہونا - نجوم ہونا۔  
**میلے میں بھجیللا ہی ہوا کرتا ہے** - (۱) مثل (جہاں بہت سے لوگ جمع ہوں  
 وہاں اکثر جھگڑا ہوجاتا ہے۔  
**میللا** - (۷) لا، (۵) صف، گدلا، غنار، کورہ، گھڈر، حاک، دھول میں بھرا ہوا  
 چکیت۔ ٹنگا۔ بے آب (۲) مورچ لگا ہوا۔ زنگ آکر وہ زنگ خورہ  
 (۳) غلیظ کیفیت۔ جس دم، سفد، گیند، رزیل، کورٹا، کرکٹ، کچرا، (۴)  
 بد چلن۔ بد صنع۔ ادا باش، گنگار، ناسق، خامرہ، اچکا، اٹھالی گیز۔  
 (۹) فضل۔ پنجاب۔ پاخانہ۔  
**میل لین** - (۱۷) کدورت۔ نہاست۔ غلاقت۔  
**میل چکیت** - (۱) بہت میلہ۔ وہ کچرا جس میں بہت میل ہونے سے  
 چپ۔ چاہٹ آجائے۔  
**میل پھر ہونا** - (۱۷) محاورہ (محض سے ہونا۔ محض کے دن۔  
**میل پھیللا** - (۱۱) محاورہ حاک دھول میں بھرا ہوا چکیت۔  
**میل کرنا** - (۱۷) محاورہ (۱) گدلا کرنا بے آب کرنا، (۲) پاخانہ پھرنے، (۳) گندہ  
 کرنا۔ غلیظ کرنا۔  
**میلے سر سے ہونا** - (۱۷) محاورہ (۱) آم سے ہونا۔ کپڑوں سے ہونا۔ محض  
 سے ہونا۔  
**میلے کا بھائی تو شادور** - (۱) مثل (دولان برابر ہیں۔ جیسا یہ ویسا وہ دولان  
 گندے ہیں۔  
**میللا** - (۷) لا، (۵) صف، گدلا، غنار، کورہ، گھڈر، حاک، دھول میں بھرا ہوا  
**میللا** - (۱۱) محاورہ (۱) گدلا کرنا بے آب کرنا، (۲) پاخانہ پھرنے، (۳) گندہ  
 کرنا۔ غلیظ کرنا۔  
**میلے سر سے ہونا** - (۱۷) محاورہ (۱) آم سے ہونا۔ کپڑوں سے ہونا۔ محض  
 سے ہونا۔  
**میلے کا بھائی تو شادور** - (۱) مثل (دولان برابر ہیں۔ جیسا یہ ویسا وہ دولان  
 گندے ہیں۔  
**میللا** - (۷) لا، (۵) صف، گدلا، غنار، کورہ، گھڈر، حاک، دھول میں بھرا ہوا  
**میللا** - (۱۱) محاورہ (۱) گدلا کرنا بے آب کرنا، (۲) پاخانہ پھرنے، (۳) گندہ  
 کرنا۔ غلیظ کرنا۔  
**میلے سر سے ہونا** - (۱۷) محاورہ (۱) آم سے ہونا۔ کپڑوں سے ہونا۔ محض  
 سے ہونا۔  
**میلے کا بھائی تو شادور** - (۱) مثل (دولان برابر ہیں۔ جیسا یہ ویسا وہ دولان  
 گندے ہیں۔

**میموریل** - (Memorial) - دستے۔ موریل، انگ۔ اصحت، یادگار، دستکم  
 یادگار (۲) یادداشت، عرضداشت، مجوزہ، روٹادہ۔ وقائع۔ سوانح۔  
**میموں** - دستے، (۱) اصحت، مبارک، نعت۔ مسعود، محمود، نیک نعت۔  
 بھگوان (۲) ات سا اندر۔  
 میں (۱۵) اندر۔ بھیر (۱۲) دست، بگری کی آواز۔  
 میں (۱۷) صن اپنی ذات خود آپ (۲) عزیز۔ بگیز۔  
**میں بھول سکر کے میرے بھرے مستقا** - (۱) مثل (جو شخص اور دن کا کام خود  
 کرے اور اپنا کام دوسروں پر ڈالے ان کے متعلق کہتے ہیں۔  
**میں بھی رانی تو بھی رانی کون ڈالے سر پر پانی** - (۱) کون بھرے  
 پتھکھٹ پر پانی - (۱) مثل (کابوں کی نسبت کہتے ہیں۔ جو کام کرنے  
 سے جی ہڑاتے ہیں۔  
**میں جب جاؤں** - (۱) مقولہ مجھے اس وقت یقین آئے۔  
**میں جانوں** - (۱) روزمرہ (۱) میں دستے داروں (۲) گئے گمان ہوتا ہے مجھے  
 خیال کرتا ہے۔  
**میں خوب سمجھتا ہوں** - (۱) مقولہ سب کچھ خوب جانتا ہوں۔  
**میں ڈالی ڈالی تو بات بات** - (۱) محاورہ (تو مجھے بھی زیادہ چالاک ہے۔  
**میں خوش میرا خدا خوش** - (۱) مثل (میں راضی ہوں۔ میری بی خوشی ہے۔ میں مدد  
 دل سے منظور کرتا ہوں۔  
**میں کچھ نہیں کہتا** - (۱) روزمرہ (۱) میں ٹھوہ نہیں کرتا۔  
**میں کون تو کون** - (۱) تالیق مثل (میرا تیرا کیا واسطہ - میں کیا جانوں تو کون ہے  
**میں کہاں تم کہاں** - (۱) روزمرہ (۱) ایک دوسرے میں کوئی مبالغت نہیں۔  
**میں کیا میری اوقات کیا** - (۱) روزمرہ (۱) میری حیثیت کیا ہے میں بہت  
 کم درجہ کا ہوں۔  
**میں کیا تیری کوئی تنے کی ہوں** - (۱) مثل (میں تجھ سے کم درجہ کی نہیں ہوں  
**میں کی گردن (گئے) پر بھری** - (۱) مثل (میں بگری کی آواز میں خودی کو بھی کہتے  
 ہیں لہذا معنی ہونے کے جس طرح میں کہنے والی بگری ذبح کی جاتی ہے اس طرح مغز  
 بھی ایک دن برباد اور ہلاک ہوجاتا ہے۔  
**میں نہیں** - (۱) کلمہ (۱) غرور و نخوت کا کلمہ - انا تیت۔ خود ستائی، بگری  
 کی آواز۔ بگری۔  
**میں نہیں تو تو** - (۱) محاورہ (بگیز۔ گلی گلوچ۔  
**میں میں کرنا** - (۱) محاورہ (بگری کا پلونا۔  
**میں نہ کہتا تھا** - (۱) مثل (جو میں کہتا تھا وہی ہوا۔  
**میں نہ مالوں** - (۱) بول چال، میں یقین نہ کروں مجھے اختیار نہیں۔  
**میں نے کہا نہیں ملاو یا تھا** - (۱) مثل (میں نے کہا یہی بات تھی۔  
**میں نے کہا تمہاری گدی چرائی ہے** - (۱) مثل (میں نے تمہارا کون سا قصور  
 کیا ہے جو تمہارا کمرہ ہے اور۔  
**میں نے مانا** - (۱) مثل (فرین کر لو۔ تسلیم کر لو۔ مان لو۔  
**میں ہارا تم جیتے** - (۱) محاورہ (بغت میں عاجزی ظاہر کرنے پر کہتے ہیں۔  
**میں ہوں یا خدا کی ذات ہے** - (۱) مثل (تمہارا اوسبے کسی کے  
 اظہار پر کہتے ہیں۔



ماہر موسیقی۔ گانے بجانے کا ماہر۔

میوزیکل (Musical)۔ میوزی۔ ذی۔ نکل، (گنگ۔ صفت) موسیقی۔ گانے بجانے کا  
میوزیم (Museum)۔ میوز۔ زیم۔ (گنگ۔ ا۔ نڈ) گاہک گھر۔ جمائے خانہ۔  
میوٹل (۱-۱-۵)۔ مسٹ (دیکھیے میاؤٹ)۔

میوٹل بلانی (۱-۱-۱۶)۔ مسٹ (جی ۲)۔ بے زبان۔ عزیز۔

میونسپل (Municipal)۔ سو۔ ن۔ س۔ پل، (گنگ۔ صفت) شہری۔ قصباتی۔

میونسپل کمشنر (گنگ۔ ا۔ نڈ) میونسپل کمیٹی کا ممبر۔ مکن بلدیہ۔

میونسپلٹی (Municipality)۔ میو۔ ن۔ سی۔ پے۔ بل۔ ٹی، (گنگ۔ ا۔ نڈ) شہری  
لوگوں کی جماعت جو شہر کی صفائی، پانی، روشنی وغیرہ کا انتظام کرتی ہے۔ بلدیہ۔

میوٹہ۔ (سے۔ وہ) ۱۶۔ نڈ) پھل۔ ثمر۔ جیسے انگور، مانار، سیب، کیش۔ بادام وغیرہ۔

میوٹہ دار۔ ۱۶۔ نڈ) صفت (پھل دار۔

میہمان۔ (میر۔ مان، ۱۶۔ نڈ) دیکھیے مہمان۔

مینیا (Mania) (سے۔ ن۔ یا، ۱۶۔ نڈ) غمظ۔ عالی قولیا۔

اُپرانا بڑا سوراخ جس میں سے آدی گزر سکے۔  
مینینج (Manager) (سے۔ نے۔ رز۔ گنگ۔ ا۔ نڈ) مہتمم۔ منتظم۔

مینیفیسٹو (Manifesto) (سے۔ نی۔ نیس۔ ٹی، ۱۶۔ نڈ) اعلان۔  
میںشور۔ مہنر۔

میوٹہ (۱-۱-۵)۔ نڈ) مسلمان راجپوتوں کی ایک قوم جو میوات میں آباد ہے۔

میوات۔ (سے۔ وار۔ ت) (ا۔ نڈ) اوار کے قریب کا ایک علاقہ جس  
میں میوٹوگ آباد تھے۔

میواتی۔ (سے۔ وائی، ۱۶۔ نڈ) میوات کا بھتہ والا۔ دیکھیے میو۔

میوچل (Mutual)۔ میو۔ چل، (گنگ۔ صفت) طرفین کا جانبدار۔ باہمی۔

آپس کا ایک دوسرے کا مشترکہ۔

میوزک (Music)۔ میو۔ زک، (گنگ۔ صفت) موسیقی۔ راگ۔ نغمہ۔ مرود۔

(۲) علم موسیقی، کوئی خوش گوار آواز۔

میوزیشن (Musician)۔ میو۔ زی۔ شن، (گنگ۔ صفت) مطرب۔ منشی



# ن

ن (نون) (ذ۔ مذکر) اُردو کا تیسواں، فارسی کا آنتیسواں، عربی کا چونتیسواں اور ہندی کا بیسواں حرف۔ ایکچ میں اس کے پچاس عدد مقرر ہیں۔  
 (۱) یہ حرف ہندی الفاظ کے شروع میں نغی کے واسطے آتا ہے اور ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ جیسے نڈر (۲) ہندی اور فارسی میں الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت بھی ہے جیسے کردن، مرون، الجین، ہائینٹھن وغیرہ (۳) کبھی لفظ کے آخر میں اگر نسبت کا فائدہ دیتا ہے جیسے سہاگن۔ ناگن۔ (۴) کبھی تائیدت ظاہر کرتا ہے جیسے مالن، دھوبن (۵) ٹونٹ الفاظ میں بن کے آخر میں یا ہو۔ جمع کے واسطے آتا ہے جیسے گریاں، پڑیاں۔ (۶) کسی لفظ میں پ، مچھ، ب، بھ سے پیشتر آنے پر اس کی آواز میں سے بدل جاتی ہے۔ جیسے منبر، سنبل، صوتی اعتبار سے نون کی دو قسمیں ہیں، نون غنہ اور نون اعلانیہ، نون غنہ ناک میں بولا جاتا ہے۔ مادر اس میں کئی حرکت نہیں ہوتی۔ جیسے جینٹھی، (۷) عربی الفاظ میں بن کے آخر میں نون ہو اور نون سے پہلے حرف علت ہو اور حرف علت کے ماقبل کی حرکت موافق ہو تو نون غنہ آئے گا۔ جیسے قاروں۔ علیحدہ کلمے میں بھی لفظ نہیں دیتے، جیسے دشمن جان (۸) عربی تقسیم کے مطابق یہ قسمی حرف ہے۔ اس سے پہلے اگر "ال" آجائے تو لام اپنی آواز نہیں دے گا۔ جیسے "النظر" (۹) الف کے ساتھ آئے تو جمع بنا دیتا ہے، جیسے مردان (۱۰) ہندی الفاظ کے آخر میں اگر کن کو حاصل مصدر بنا دیتا ہے۔ جیسے الجین (۱۱) فعل اور اسم سے پہلے مفتوح آئے تو نغی کے معنی دیتا ہے۔

## ن - ۱

ناہر۔ (ن صفت) عذر کرنے والا۔ انکار کرنے والا۔  
 ناہیکار۔ (ن صفت) (۱) کھتا۔ بے فائدہ۔ بے کار (۲) بد ذات۔ نالائق۔ شریر۔  
 ناہکار (۳) نازیبا۔ خراب۔ بے ہودہ۔  
 ناہلد۔ (ن صفت) استبان۔ ناواقف۔ نا آشنا۔  
 ناہلدی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ ناواقفیت۔  
 ناہلو۔ (ن صفت) (۱) نعمت۔ معدوم۔ فانی۔ ناپید۔  
 ناہینا۔ (ن صفت) اندھا۔ گور۔  
 ناہناک۔ (ن صفت) (۱) پلید۔ نجس۔ گندہ۔ میلا۔ (۲) دشمن جس پر نہانا فرض ہو۔  
 ناہناک ہونا۔ (۱) محاورہ [پلید ہونا۔ گندہ ہونا۔ غسل واجب ہونا۔  
 ناہنائی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ ستمناست۔ گندگی۔  
 ناہنائی آہارنا۔ (۱) محاورہ (۲) سبب۔ ازالہ۔ اختتام وغیرہ کے بعد نہانا (۳) جین و نفاس سے فارع ہو کر غسل کرنا۔  
 ناہنا سیدار۔ (ن صفت) کھزر۔ بے ثبات۔ فانی۔ بودا۔  
 ناہنا سیداری۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ کھردری۔ بے ثباتی۔ بوداپن۔  
 ناہنچتہ کار۔ (ن صفت) نا تجربہ کار۔  
 ناہنید۔ (ن صفت) (۱) جو ظاہر نہ ہو (۲) پوشیدہ۔ غائب۔ چھپا ہوا۔ مخفی۔  
 ناہنرسال۔ (ن صفت) بے پرواہ۔ نہ پوچھنے والا۔  
 ناہنر سیرگار۔ (ن صفت) گنہگار۔ بے عصمت۔ بدکار۔  
 ناہنشد۔ (ن صفت) ناگوار۔ بوجھا نہ گئے۔  
 ناہنشد کرنا۔ (۱) محاورہ [مانظور کرنا۔ قبول نہ کرنا۔ اچھا نہ لگنا۔ بڑا لگنا۔  
 ناہنشدیدہ۔ (ن صفت) ناگوار۔ نامشور۔ بار خاطر۔  
 ناہنشد۔ (ن صفت) (۱) معدوم۔ فنا۔ نیست۔ (۲) غائب۔ گم۔  
 ناہنشد کرنا۔ (۱) محاورہ [برابر کرنا۔ کھونا۔ اچھا کرنا۔ فنا کرنا۔  
 ناہنشد ہونا۔ (۱) محاورہ [بچنا۔ گم ہونا۔ تباہ و برباد ہونا (۲) قتل ہونا۔ کمی ہونا۔  
 منتقا ہونا۔  
 ناہنشد۔ (ن صفت) غائب۔ چھپا ہوا۔

نا۔ (ن صفت) (۱) نہ۔ نہیں (۲) علامت نغی (۳) ہندی اُردو مصدر کی علامت جو کہ آخر میں آتی ہے (۴) اثبات و نفی کی تاکید کے لیے۔ جیسے یہ بچتا ہے نا۔ (اثبات)۔ ناہا، ہمارا اور ہی سے سلام ہے (نفی) (۵) زمانہ سخن کلام کے لیے جیسے چلونا۔ اڈونا۔ (۶) استفسار کے لیے جیسے آخر کو ہے نا۔  
 نا اڑ موڈہ۔ (ن صفت) (۱) نا تجربہ کار۔ نا اڑی۔ (۲) بغیر آزمائش۔ بغیر دیکھے بجائے۔  
 نا اڑ موڈہ کار۔ (ن صفت) اٹاری۔ نا تجربہ کار۔ ناپختہ کار (۳) ناواقف۔  
 نا آشنا۔ (ن صفت)۔ ناواقف۔ اجنبی۔ جس سے جان پہچان نہ ہو۔ سنا عمر۔  
 نا آشنائی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ جان پہچان نہ ہونا۔ ناواقفیت۔  
 نا آشنائے محض۔ (ن صفت) بالکل ناواقف۔  
 نا آگاہ۔ ناواقف۔  
 نا آلتافی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ بیوقوف۔ بے لگاؤ۔ عداوت۔ دشمنی۔  
 نا آلتافی۔ (ن صفت) بے پروائی۔ بے اعتنائی۔  
 نا آسید۔ (ن صفت) مایوس۔ ناکام۔ بے آس۔ نراس۔  
 نا آسید ہونا۔ (۱) محاورہ [مایوس ہونا۔ آس لاشنا۔  
 نا آسیدگی۔ (ن صفت) (۱) مایوس۔ ناکامی۔  
 نا آندیش۔ (ن صفت) نہ سوچنے والا۔ بات جس میں سوچنے کی ضرورت نہ ہو۔  
 نا انصاف۔ (ن صفت) وہ شخص جو انصاف نہ کرے۔  
 نا انصافی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ بے انصافی۔ ظلم۔ اندھیر۔  
 نا ابل۔ (ن صفت) نالائق۔ ناموزوں۔ ناشائستہ۔  
 نا ابل۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ نالائقی۔  
 نا ابلج۔ (ن صفت) (۱) گم بہن جو بول نہ پہنچا ہو۔  
 نا ابلجی۔ (ن صفت) (۱) مشا۔ گستی۔ خورد سالی۔ صغر سنی۔

ناید اکنار۔ (ف۔ صف) سمندر یا دریا جس کا کنارہ اگھائی نہ سے۔  
 ناخبر بہ کار۔ (ف۔ صف)۔ انجان۔ ناواقف۔ انامی۔ ناواقف۔ جس کو کام کا تجربہ نہ ہو۔  
 نا تراش۔ نا تراشیدہ۔ (ف۔ صف) (۱) نا ہموار۔ (۲) بے ادب (۳) کینہ سفلہ۔  
 نا تربیت یافتہ۔ (ف۔ صف) غیر مہذب۔ بد مہذب۔  
 نا ترس۔ (ف۔ صف) جسے ڈر نہ ہو۔ بے رحم۔ سنگ دل۔  
 نا تمام۔ (ف۔ صف) نامکمل۔ اُدھورا۔ ناقص۔  
 نا توان۔ (ف۔ صف) کمزور۔ نا طاقت۔ بولدا۔ لاغیر ضعیف۔  
 نا توانی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) کمزوری۔ نا طاقتی۔ نقاہت۔  
 نا جانز۔ (ف۔ ع۔ صف) (۱) جو درست نہ ہو (۲) شرع یا قانون کے خلاف۔  
 نا جانز حال۔ (ف۔ ع۔ ۱۔ مذ) وہ مال جس کا لینا قانوناً یا شرعاً جائز نہ ہو۔  
 نا جنس۔ (ف۔ صف) (۱) غیر جنس۔ ناموافق۔ سائن میل۔ (۲) کینہ سفلہ (۳) بے لوب۔  
 ناچار۔ (ف۔ صف) (۱) عاجز۔ مجبور۔ بیچارہ۔ (۲) بالضرور۔ (۳) مطلق۔ محتاج۔  
 ناچار (م) مایوس۔ نا امید (۵) مجبوراً۔ بارک۔  
 ناچار کر دینا۔ (۱) مجبور کر دینا۔ عاجز کرنا۔  
 ناچارگی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) بے چارگی۔ بے بسی۔ مجبوری۔  
 نا حاقی۔ (ف۔ صف) (۱) علیل۔ بد مزہ (۳) ڈبلا۔ کمزور۔  
 نا چاقی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) (۱) عیالیت (۲) بد مزگی۔ (۳) اُن بن۔ بگاڑ۔  
 نا چیز۔ (ف۔ صف) (۱) بیچ (۲) ناکارہ شے۔ ناقابلِ حقیر۔ اولیٰ۔ ذلیل۔  
 نا حق۔ (ف۔ صف) (۱) بے انصافی سے۔ حق کے خلاف۔ (۲) بے جا۔ نامناسب۔ بے فائدہ۔  
 نا حق شناس۔ (ف۔ صف) بے انصاف۔ بے وفا۔ سچائی کو نہ پہچاننے والا۔ ظالم۔  
 نا حق شناسی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) بے انصافی۔ ظلم۔  
 نا حق کا۔ (۱) صف) فضول۔ بے فائدہ۔  
 نا حق کرنا۔ (۱) مجاورہ) حق کے خلاف۔ نا انصافی کرنا۔ بے جا کرنا۔  
 نا حق کو۔ (۱) تابع فعل) بے سبب۔ بے فائدہ۔  
 نا حق گوش۔ (ف۔ صف) نا حق بات کی گوش کرنے والا۔  
 نا حق کہنا۔ (۱) مجاورہ) حق کے خلاف کہنا (۲) جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کہنا۔  
 نا خدا ترس۔ (ف۔ صف) (۱) بے رحم۔ ظالم (۲) خدا کا خوف نہ کرنے والا۔  
 نا خلف۔ (ف۔ صف) (۱) نالائق بیٹا (۲) والدین کی اطاعت نہ کرنے والا۔  
 نا خواست۔ (ف۔ صف) بے اختیار۔ بے طلب۔ بے تلاش۔ بغیر چاہے۔  
 ناخواندہ۔ (ف۔ صف) (۱) اُن پڑھ بے علم۔ جاہل (۲) بغیر پلایا ہوا۔ بن پلایا ہوا۔  
 ناخواندہ جہان۔ (ف۔ ۱) (۱) بن پلایا جہان (۲) طفیل جو بن پلایے کسی مدعو کے ساتھ آئے۔  
 نا خوش۔ (ف۔ صف) (۱) ناراض۔ جو راضی نہ ہو۔ (۲) بیزار۔ نفرت کرنے والے (۳) بیمار۔ مریض۔  
 نا خوش گواری۔ (ف۔ صف) نا پسندیدہ۔ جو برا معلوم ہو۔  
 نا خوشی ہونا۔ (۱) مجاورہ) ناراض ہونا۔ بیزار ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔  
 نا خوشی۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) خشکی۔ ناراضگی۔ بے زاری۔ رنجش۔

ناقابلیت - (ف - ا. مٹ) نالائقی - بے قدری - کم استعدادی -  
 ناقدر - ناقدر ا - (ف - صفت) کسی کی قدر نہ پہنچانے والا - (۲) احسان فراموش  
 بے مروت -

ناقدری - (ف - ا. مٹ) (۱) بے قدری ہے وقری (۲) قدر نہ کرنے والی عورت -  
 ناکارہ - (ف - صفت) (۱) ناکارے کے کارہ، بڑا خراب (۳) سست - اچانچ -  
 ناکام - (ف - صفت) (۱) محروم - ناکامیاب (۲) نامراد -  
 ناکامی - (ف - ا. مٹ) (۱) ناکامی - (۲) ناکامیابی - محرومی -  
 ناکامیاب - (ف - صفت) ناکام - نامراد - قیل ہو جانے والا -  
 ناکامیابی - (ف - ا. مٹ) (۱) ناکامی (۲) کسی کام کا حسب منشا نہ ہونا -  
 امتحان میں قیل ہو جانا -

ناکتھار - ناکد خدا - (ف - صفت) بن بیا با - جس کی شادی نہ ہوئی ہو کنوارا  
 کنواری -

ناکردنی - (ف - ا. مٹ) جو بات کرنے کے لائق نہ ہو -  
 ناکردہ - (ف - صفت) نہ کیا ہوا - اکیلا استعمال نہیں ہوتا -  
 ناکردہ (جرم) گناہ - (ف - صفت) بیگناہ - بے قصور - بے خطا -  
 ناکردہ کار - (ف - صفت) ناتجربہ کار - ناچختہ کار - کچا - خام - آناڑی -

ناکرنا - (۱) محاورہ) نئی میں جواب دینا -  
 ناگزندہ برائی تو بھی کسی پہو جانی - (۱) نخل (۲) بدی کا نتیجہ بڑا ہوتا ہے -  
 ناکس - (ف - صفت) (۱) بیخ - کینہ - سفند - پاجی (۲) نالائق -  
 ناکسی - (ف - ا. مٹ) (۱) کم ظرفی - کینہ پن - پاجی بن (۲) نالائق -  
 ناکندہ - (ف - ا. مٹ) (۱) وہ بھیرا جس کے اچھی دودھ کے دانت ہوں -  
 (۲) ناسمجھ - ناتجربہ کار -

ناگاہ - (ف - تابع فعل) اچانک - یکایک -  
 ناگزیر - (ف - صفت) ضروری - لازم - واجب جس سے صفر نہ ہو -  
 ناگھنتی - (ف - صفت) وہ بات جو کہنے کے قابل نہ ہو -  
 ناگھنتہ یہ - (ف - صفت) (۱) جس کا نہ کہنا بہتر ہو (۲) شرم ناک -  
 ناگہنی - (۵ - صفت - مٹ) احسان فراموش عورت - ناشکری -  
 ناگوار - (ف - صفت) (۱) ناپسند - مکروہ - ناخوش (۲) وہ کھانا جو ہضم نہ ہو سکے  
 (۳) بد ذائقہ - بے لطف -

ناگوارا - (ف - صفت) ناپسند - خلاف طبع -  
 ناگوار گزرتا - (۱) محاورہ) بڑا گنا - اچھا معلوم نہ ہونا - خلاف طبع ہونا -  
 ناگہ (ناگہاں) - (ف - تابع فعل) (۱) اچانک - دفعۃً - یکایک - (۲)  
 بے خبری میں (۳) اچانک - دفعتاً -  
 ناگہانی - (ف - صفت) اتفاقیہ - اچانک -  
 نالائق - (ف - ع - صفت) (۱) ناقابل - ناہیل - سفند - کینہ (۲) بیجا - نامناسب -  
 نالائق پن - (۱) مٹ - کینگی - سفند پن -

نالائقی - (ف - ع - ا. مٹ) (۱) کینہ پن (۲) ناقابلیت -  
 نامانوس - (ف - ع - ا. مٹ) (۱) نا اشنا - اجنبی - بے گانہ -  
 نامبارک - (ف - ع - ا. مٹ) (۱) ناموس - بدشگون - جس - بد - بڑا -  
 ناقصانہی - (ف - ع - صفت) لا محدود - لا ہوتا - بے حد - بے تھاہ

ناسیاس - (ف - صفت) ناشکر گزار - ناشکر -  
 ناسیاسی - (ف - ا. مٹ) (۱) نیک حرامی - احسان نہ ماننا -  
 ناستوودہ - (ف - صفت) ناپسندیدہ - بے جودہ - نالائق -  
 ناسرہ - (ف - صفت) غیر خالص - کھوٹ لایا ہوا -  
 ناسرنا - (ف - صفت) (۱) نازیبا - نامناسب - بے جا - غلط - (۲) سفند - کینہ  
 (۳) نالائق - بیوقوف -  
 ناسرناوار - (ف - صفت) منوس - نامبارک -

ناسفتہ - (ف - صفت) (۱) جس میں سوراخ نہ ہو - آن بندھا (۲) کٹھنیتہ دوشیزہ - کنواری -  
 ناسمجھ - (ف - ا. مٹ) (۱) بے وقوف - احمق - نادان (۲) گند ذہن - جبی  
 (۳) بڑے کم عمر - کم سن -  
 ناسمجھی - (ف - ا. مٹ) (۱) بے وقوفی - نادانی - نا فہمی - بھولاپن -  
 ناشاد - (ف - صفت) (۱) رنجیدہ - تلکین (۲) بد قسمت -  
 ناشادو جانا - (۱) محاورہ) نامراد جانا - مایوس جانا -  
 ناشادو نامراد - (ف - صفت) بد نصیب - بد قسمت -  
 ناشادو نامرادو جاتے - (۱) بد دکھا (۲) ارمان بے کمر جاتے - دنیا سے بے اس  
 اولاد مر جاتے -

ناشائستگی - (ف - ا. مٹ) بد تمیزی - بد اسلوبی - گستاخی - نالائق -  
 ناشائستہ - (ف - صفت) (۱) نالائق (۲) بد تمیز - بد اخلاق (۳) نازیبا -  
 ناشائستی - (ف - صفت) (۱) ناگن - محال (۲) ناخلف - بد کینت - بد نصیب -  
 ناشکر - (۱) احسان نہ ماننے والا - شکر نہ کرنے والا -  
 ناشکری - (ف - ا. مٹ) (۱) احسان نہ ماننا - (۲) نیک حرامی -  
 ناشکری کرنا - (۱) محاورہ) احسان نہ ماننا - نیک حرامی کرنا (۲) کفران نعمت کرنا -

ناشکریب - (ف - صفت) بے صبر - بے قرار -  
 ناشکیبائی - (ف - ا. مٹ) بے صبری - بے قراری -  
 ناشکنتہ - (ف - صفت) (۱) بے لہلی (۲) ناخوش - اُداس - رنجیدہ -  
 ناشیاس - (ف - صفت) جو نہ پہچانتا ہو - نہ پہچاننے والا -  
 ناشنوا - ناشنوا (ف - صفت) جو کسی کا پرسان حال نہ ہو - نہ سننے والا - غافل - بے توجہ -

ناصاف - (ف - صفت) جو پاک و صاف نہ ہو -  
 ناصبور - (ف - ع - صفت) بے صبر - بے قرار - مضطرب -  
 ناصواب - (ف - ع - صفت) غلط - نادرست -

ناطاقیت - (ف - ع - صفت) کمزور - ضعیف -  
 ناطاقتی - (ف - ا. مٹ) کمزوری - ناقوانی - لاعزمی - ضعیف -  
 ناعاقبت اندیش - (ف - صفت) انجام نہ سوچنے والا - انجام کی فکر نہ کرنے والا -  
 نافر جام - (ف - صفت) ناعاقبت - نا اندیش - بداصل - بد انجام -  
 نافرمان - نافرمانہ سردار - (ف - صفت) (۱) حکم نہ ماننے والا - سرکش - (۲)  
 ایک پھول کا نام -

نافرمانی - (ف - ا. مٹ) حکم عدولی - سرکشی - حکم نہ ماننا -  
 نا فرجم - (ف - صفت) نادان - بے سمجھ - کم عقل - بے وقوف -  
 ناقابل - (ف - صفت) نالائق - جناب - ان پر جو ناموزوں -  
 ناقابل برداشت - (ف - صفت) برداشت کے لائق نہ ہونا -





نارائین - نارائین (س - ا - مذ) ۱۱، قدیم (۲)، ہمیشہ رہنے والا خدا -  
(۳) وشنو کا لقب -

نارائین تیل - (س - ا - مذ) ۱۱، ایک قسم کا روغن جو بڑیوں سے نکالا جاتا ہے  
(۲) مومیائی -

نارائینی - (نارائینی - ن - مذ) ۱، (مشت) لچھی - درگا دیوی -

ناراجیل - (ناراجیل، ن - مذ) ۱، ناریل کی پھول کی -

ناراجیل دریا - (ن - مذ) ۱، سمندر کے کنارے آگے والا ناریل - ایک دو -

نارو - (ن - مذ) ۱، پتھر کوٹوں کو پڑھتے ہیں (۲) کجوس - تیل -

نارول - (نارول، ن - مذ) ۱، ناریل -

نارول (NORMAL) - (نارول، ن - مذ) ۱، (انگ صفت) ٹھیک - درست - مناسب  
کے مطابق -

نارول اسکول - تعلیم کے اصول سکھانے والا مدرسہ - پڑھانے کی تعلیم دینے  
والا مدرسہ -

نارنج - (نارنج، ن - مذ) ۱، نارنگ کا معرب - سنگترہ -

نارنجی - (نارنجی، ج - مذ) ۱، (نارنجی کے رنگ کا) (۲) سرخ مائل ترس -

نارنجی - (نارنجی، ج - مذ) ۱، (نارنجی کے رنگ کا) (۲) سرخ مائل ترس -

نارو - نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) ایک بیماری جس میں انسان کے بدن سے  
تاگسا نکلتا ہے - ہنرو -

ناری - (ناری، ن - مذ) ۱، (ناری) عورت (۳) بیوی (۳) استری -

ناری - (ناری، ن - مذ) ۱، (ناری) عورت (۳) بیوی (۳) استری -

ناریل - (ناریل، ن - مذ) ۱، (ناریل) کھوپڑا - کڑی - (۲) ناریل کا درخت -  
(۳) حقہ جو کھولنے ناریل میں درخ کر کے بناتے ہیں (۴) ایک  
قسم کی آتش بازی -

نار - (نار، ن - مذ) ۱، (نار) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارنجی - (نارنجی، ن - مذ) ۱، (نارنجی) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

نارو - (نارو، ن - مذ) ۱، (نارو) عورت (۲) بیوی (۳) استری -

ناخن کا نٹلا ہوجانا -  
ناخنوں میں لکھ رکھنا - (۱) (مخارہ) (کٹینا) خیال میں رکھنا - یاد رکھنا -

ناخنوں میں ہونا - (۱) (مخارہ) چالاکوں اور شرارتوں سے خوب واقف ہونا -  
ناخنہ - (نا - خ - ن - مذ) ۱، (مخارہ) مضرب - ستار بمانے کا مڑا ہوا تار (۲) -

آنکھ کی ایک بیماری جس میں سفیدی مائل گوشت آنکھ کے گوشے میں پیدا  
ہو جاتا ہے (۳) گھڑوں کی آنکھ کے سرخ ڈورے -

ناخون - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) ناخن -

ناخونہ - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) ناخنہ -

ناد - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) دعوت - عزیمت (۲) بلا - (۳) منادی (۴) ڈپٹی -

ناد علی - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) را، لفظی معنی علی کو ملا دیا ان سے مدد طلب کرو (۲) ایک  
دعا (۳) وہ پتھر جس پر دعائے ناد علی کندہ ہوتی ہے -

ناد - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) گوج - شور (۲) گانا -

ناد بجانا - (۱) (مخارہ) سینک کی پونجی بجانا - سرنگھا پھونکنا -

ناد کرنا - (۱) (مخارہ) گانا (۲) شیر کا گرجنا -

ناد - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) مانند -

نادور - (نا - و - مذ) ۱، (مخارہ) کم باب - (۲) عمده - تحفہ عجیب - جمع -  
نادرات - نادر -

نادوریاٹ - (س - ا - مذ) ۱، ایک قسم کا کپڑا جو بڑے عرض کا ہوتا ہے -

نادوریشاہی - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) نادشاہ کے وقت جیسی بدستغالی ظلم - اندھی -  
نادیر کار - (۱) (مخارہ) کار کا مخف - (۲) وہ جس سے عجیب و غریب کام  
سرزد ہوں -

نادورہ - (نا - و - مذ) ۱، (مخارہ) کم باب - عجیب - اولھا - عجوبہ -

نادوری - (نا - و - مذ) ۱، (مخارہ) نادور کا - نادر سے منسوب (۲) -  
ایک قسم کی صدی -

نادوری چڑھانا - (۱) (مخارہ) کھینچنے میں شرم ناک مات دینا -

نادوری حکم - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) سنہ اور جاہلانہ حکم -

نادوم - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) شرمندہ پیشیمان - جمل - شرمسار - جمع نادین -

نادھنا - (نا - و - مذ) ۱، (مخارہ) بیوں کو جوتنا - یا جوڑنا - (۲) شروع کرنا -  
(۳) غلام بنانا -

نادیا - (نا - و - مذ) ۱، (مخارہ) وہ میل جس کو کوئی معذور زیادہ ہو -

نار - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) ناری کا مخف عورت - بیوی -

نار - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) ناری کا مخف - مرکبات میں - جیسے گنار -

نارپستان - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) ناری جس کی چھتیاں ابھی لگی ہوئی نہ ہوں  
(۲) ناریوں کی چھتیاں -

نار - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) آگ -

نار غلیل - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) وہ آگ جس میں کافروں نے حضرت ابراہیم کو پھینک  
دیا تھا اور وہ خدا کی قدرت سے گلزار بن گئی تھی -

نار سقر - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) دوزخ کی آگ -

نار سعیر - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) دوزخ کی آگ -

نار - (ن - مذ) ۱، (مخارہ) ناری کا مخف (۲) عورت (۳) بیوی (۴) جلاہوں کا ایک آلہ -



ناطق - (ع۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) بولنے والا۔ گو بار (۲) صاحب عقل (۳) مستحکم۔ مضبوط۔  
(۴) دوسرے کو عاجز اور خاموش کر دینے والا۔

ناطقہ - (نا۔ ط۔ قد) (ع۔ صفت) (۱۱) بولنے کی قوت۔ طاقت گو یائی۔  
ناطقہ بند کر دینا - (۱) محاورہ (۱) بولنے کی طاقت بند کر دینا - (۲) لاجواب کر  
دینا۔ تنگ کرنا۔

ناظر - (ع۔ ۱۰۔ مذ۔ ۱۱) دیکھنے والا (۲) نگہبان۔ محافظ (۳) محروں کا افسر۔ سپہ  
محرم (۴) میر سامان (۵) خواجہ سرا۔

ناظرہ - (نا۔ ظ۔ ذہ) (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) دیکھنے کی قوت (۲) دیکھ کر پڑھنا۔

ناظرہ خواں - وہ جو حافظ قرآن توڑ توڑ کر دیکھ کر پڑھ سکتا ہو۔

ناظرہ پڑھنا۔ کلام پاک دیکھ کر پڑھنا۔

ناظرین - (نا۔ ظ۔ ین) (ع۔ ۱۰۔ مذ) ناظر کی جمع - (۱) دیکھنے والے (۲) پڑھنے والے  
مطالعہ کرنے والے۔

ناظر - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) پردے والا۔ بڑی ہنساتے والا (۲) انتظام کرنے والا۔  
انتظم کارکن۔ سربراہ (۳) نظم کئے والا۔ شاعر (۴) سیکرٹری (۵) گورنر۔ سربراہ  
جمع افظا۔ ناظران۔

ناظم تعلیم - (ع۔ ۱۰۔ مذ) وہ افسر جو تعلیم کو انتظم ہو۔ ڈائریکٹر تعلیم۔

ناظرہ - (نا۔ ظورہ) (ع۔ صفت) (۱) محبوبہ (۲) مانوں کا سردار۔

ناظم - (ع۔ ۱۰۔ مذ) نرم۔ نازک (۲) آسان - (۳) نرم مزاج - (۴) خیر کا  
ایک قلعہ۔

ناعورہ - (ع۔ ۱۰۔ مذ) پین پکنا یا ہوا پکنا - (۲) وہ رگ جس سے خون بہتا ہو (۳)  
پانی کا کھڑا بہتین۔

ناعول - (نا۔ عول) (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) چھوٹی گوٹھری جو زینے کے نیچے بنتا ہے۔  
ناعہ - (ناعہ) (ع۔ صفت) (۱) خالی بیکار (۲) تعطیل۔ غیر حاضری۔

ناعہ کرنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) تعطیل کرنا۔ غیر حاضری۔

ناعہ ہونا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) غیر حاضری یا تعطیل ہونا۔

ناعہ نویس - (ع۔ ۱۰۔ مذ) عہدہ دار جو ملازموں کی حاضری لیتا اور غیر حاضری  
درج کرتا ہے۔

ناف - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) پیٹ کے درمیان وہ سوراخ جہاں رحم مادر میں  
بچے کی آئول چڑھی ہوتی ہے - (۲) وسیلہ - درمیان - بیچل فرج -  
مرکز۔

ناف ارض - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) زمیں کا مرکز - کعبہ شریف - مکہ معظمہ۔

ناف آلا - پیٹ تنگ - (ع۔ ۱۰)

ناف ٹالنا - ناف ٹل جانا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) ناف کا بے جگہ ہوجانا۔ دھن ٹلنا۔  
ناف زمین - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) دیکھنے ناف ارض۔

ناف سنب - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) آدھی رات - رات کا درمیان۔

نافذ - (نا۔ فذ) (ع۔ صفت) (۱) جاری ہونے والا - (۲) جاری - مؤثر۔ لاگو۔ نافذ  
ہونے والا۔

نافذ کرنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) جاری کرنا۔ صادر کرنا۔

نافذہ - (نا۔ فذ) (ع۔ صفت) (۱) جاری شدہ۔

نافر - (ع۔ صفت) (۱) نفرت کرنے والا۔ کبھی کبھار والا (۲) جھگڑنے والا۔

ناسا - (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) بڑی تاک - (۲) ایک قسم کی چھنی جو تاک میں  
بوتلی ہے۔

ناسپاتی - ناشپاتی - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) پاشا - (۲) سبب کی قسم کا گھر  
سے کم درجہ کا ایک پھل۔

ناس پال - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) ناس پالنے والا (۲) کچا ناس - (۳) ایک  
قسم کی آتش بازی۔

ناسپالی رنگ - (ع۔ ۱۰۔ مذ) زردی مائل سبز رنگ سواری رنگ - انار  
کے پھلے کا رنگ۔

ناضحک - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) شکر سے دیں۔ طہر۔

ناسخ - (نا۔ سخ) (ع۔ صفت) (۱) کھنڈے والا۔ کاتب (۲) مٹانے والا۔ منسوخ کرنے  
والا (۳) شیخ امام بخش لکھنوی کا تخلص۔

ناسک - (نا۔ سک) (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) دیوار۔

ناسک - (نا۔ سک) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) خدا پرست - عبادت گزار - (۲) نیک۔  
باعصمت۔

ناسک - (نا۔ سک) (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) ناک - ہاتھی کی سونڈ۔

ناسوت - (نا۔ سوت) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) عالم اجسام - دنیا - (۲) شریعت  
ظاہری عبادت۔

ناسور - (نا۔ سور) (ع۔ ۱۰۔ مذ) وہ زخم جو ہمیشہ رستا رہتا ہے۔ اور چھانپ  
ہوتا (۲) جسم میں گہرا سوراخ۔

ناسور بھرنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) پڑانے زخم کا چھانپنا۔

ناسور پڑنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) (۱) ہمیشہ جاری رہنے والا زخم ہونا (۲) بہت  
ایذا یا تکلیف پہنچنا۔

ناسور ڈالنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) (۱) زخم ڈالنا۔ گھاؤ ڈالنا (۲) سچ پہنچانا۔ تکلیف دینا۔  
ناسی - (نا۔ سی) (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) ناس کرنے والا۔

ناشپاتی - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) دیکھنے ناسپاتی یا ناشپاتی

ناشپا - (ناش۔ پا) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) ہناری - صبح کا تھوڑا سا کھانا - (۲) خالی  
پیٹ۔ بھوکا۔

ناشپا کرنا - (ع۔ ۱۰۔ محاورہ) ہناری کرنا۔ صبح کا کھانا تناول کرنا۔

ناشر - (ع۔ ۱۰۔ مذ) نشر و اشاعت کرنا والا۔ پبلشر۔ کتابوں کو چھاپ کر بیچنے  
والا (۲) بکھرنے والا۔ فاش کرنے والا۔

ناشرین - (نا۔ ش۔ ین) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) ناشر کی جمع (۲) اشاعت کرنے والے۔

ناستی - (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) پیدا ہونے والا (۲) شروع ہونے والا - (۳) ظاہر ہونے  
والا۔ ظاہر۔ واضح۔

ناصب - (ع۔ ۱۰۔ مذ) کھڑا کرنے والا۔ قائم کرنے والا۔ نصب کرنے والا۔

ناصب - (ع۔ ۱۰۔ مذ) نصیب کرنے والا۔ صلاح کار۔ جمع ناصبین۔

ناصب - (ع۔ ۱۰۔ مذ) حد کرنے والا۔ معاون۔ حامی۔ جمع - انصار۔

ناصبہ - (نا۔ ص۔ یہ) (ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) پیشانی کے بال (۲) ماتھا۔ پیشانی۔

ناصبہ سار - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) زین پر پیشانی رکھنے والا (۲) عاجز۔ چارہ۔ ناچیز۔

ناصبہ سائی (فرسائی) - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) ماتھا رکھنا۔ خوشامد۔

ناصبہ فرسادت - (ع۔ ۱۰۔ صفت) (۱) ماتھا رکھنے والا۔



تاغ - (۱۰) تاغ (۱۱) صنف (۱۲) مفید - فائدہ مند - نفع دینے والا (۱۳) خدا کا ایک صفاتی نام - (۱۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام جسے آپ نے آزاد کر دیا تھا - (۱۵) حضرت علی کا بڑا بھائی ایک قید خانہ -  
 ناظر - (۱۶) ناظر (۱۷) مد (۱۸) وہ فعل یا عبادت جو فرض نہ ہو، بلکہ برائے حصول ثواب کی جاتے - جمع - ناظر -  
 ناظرہ مشرق - (۱۹) مد (۲۰) طلوع آفتاب کے بعد کی نماز -  
 ناظرہ - (۲۱) مد (۲۲) مشک کی تھیلی - ایک خاص ہرن کے پیٹ کی تھیلی جو خوشبو ہوتی ہے - نان سے مشتق ہے -  
 نافہ آہو - تاتاری ہرن کے پیٹ کی تھیلی -  
 نانی - (۲۳) صنف، انکار کرنے والا - نئی کرنے والا -  
 ناقد - (۲۴) صنف، (۲۵) پرکھنے والا - تنقید کرنے والا -  
 ناقص - (۲۶) صنف، (۲۷) اوصوراً غیر مکمل - (۲۸) عیب دار - خراب (۲۹) غیر خاص کھانا - جمع - ناقص -  
 ناقص الحلقہ - (۳۰) صنف، جس کا کوئی عضو پیدا نشی طور پر خراب ہو -  
 ناقص العقل - (۳۱) صنف، کم عقل - بے وقوف -  
 ناقص عیار - (۳۲) محاورہ، غیر میاری - جو میار پر پورا نہ آتے -  
 ناقص کرنا - (۳۳) محاورہ، بگاڑنا، خراب کرنا، کھوٹ ملانا -  
 ناقصات العقل - (۳۴) صنف، کم عقل عورتیں -  
 ناقص - (۳۵) صنف، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا (۳۶) نقل کرنے والا - بیان کرنے والا (۳۷) راوی - جمع - ناقلان -  
 ناقوس - (۳۸) ناقوس، (۳۹) مد - سنسکرت جو ہندو پوجا کرتے وقت بجاتے ہیں -  
 ناقوس ٹھونکنا - (۴۰) صنف، مرکب، سنسکرت بھانا -  
 ناقہ - (۴۱) صنف، (۴۲) اومٹی - سناٹائی -  
 ناگ - (۴۳) صنف، (۴۴) ماہیچرے کا وہ دو سوراخوں والا لباسا عضو جس سے سانس لیتے ہیں (۴۵) غیرت - شرم - لحاظ (۴۶) نمودی چیز (۴۷) غیرت - اُکرو - شان (۴۸) آرائش - (۴۹) کوئی چیز جو باعث فخر ہو، (۵۰) مسکرتا ہوا انسان -  
 ناگ - (۵۱) صنف، (۵۲) بھرا ہوا (۵۳) منسوب (۵۴) کلمہ نسبت اسماء کے ساتھ مل کر صفت بناتا ہے جیسے افسوسناک، غمناک -  
 ناگ آنا - (۵۵) محاورہ، ناگ سے آلاش کرنا -  
 ناگ اُڑا دینا - (۵۶) محاورہ، (۵۷) ناگ کاٹنا، بے عزت کرنا -  
 ناگ اُڑی ہونا - (۵۸) محاورہ، عزت جھنڈا - سرخوشی ہونا - بول بالا ہونا -  
 ناگ بند - کھوٹے کی پوزی -  
 ناگ جھنڈا - (۵۹) محاورہ، ناگ سے آلاش کا نکلنا -  
 ناگ بھونوں چھٹھانا، (۶۰) سکھانا، (۶۱) محاورہ، (۶۲) تیزی چھٹھانا، (۶۳) ناراض ہونا، خفا ہونا، (۶۴) سزا ہونا، نفرت ظاہر کرنا -  
 ناگ بیٹھ جانا، بیٹھنا، (۶۵) محاورہ، چوٹ یا مڑی کی وجہ سے ناگ کا چپٹا ہونا -  
 ناگ بندھنا، (۶۶) محاورہ، ناگ میں سوراخ کرنا، ناگ چھیننا -  
 ناگ بیک کرنا - (۶۷) محاورہ، ناگ صاف کرنا -  
 ناگ بچھ کرنا - (۶۸) محاورہ، ناگ بیٹھ جانا -  
 ناگ پڑا ہنگی رکھ کر بات کرنا - (۶۹) محاورہ، عورتوں یا زرخوں کی طرح

باتیں کرنا -  
 ناگ پر سپہا بھر جانا - (۷۰) محاورہ، ناگ کا چپٹا ہونا - ناگ کا بیٹھ جانا -  
 ناگ پڑنا، (۷۱) رکھ دینا - (۷۲) محاورہ، قیمت یا اجرت فوراً ادا کر دینا -  
 ناگ پر غصہ ہونا - (۷۳) محاورہ، ڈرا ڈرا سی بات پر ناراض ہونا - بہت جلد بخانا -  
 ناگ پر کی مکتی تنگ نہ اُڑانا - (۷۴) محاورہ، بہت سست یا کامل ہونا -  
 ناگ پر مکتی نہ بیٹھنے دینا - (۷۵) محاورہ، کسی کا ذرا احسان نہ اٹھانا، کسی کا شرمندہ احسان نہ ہونا، غیرت کو داغ نہ لگانے دینا -  
 ناگ کھڑے دم رکھنا - (۷۶) محاورہ، نہایت کمزور ہونا - نہایت لاغر ہونا -  
 ناگ کھٹلانا، (۷۷) محاورہ، غرور یا غصے سے ناگ کو چوکھڑ لینا -  
 ناگ چھٹھانا - (۷۸) محاورہ، (۷۹) تیزی چھٹھانا، (۸۰) ناراض ہونا، غرور سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا - نفرت سے خاطر میں نہ لانا -  
 ناگ چڑھی رہنا - (۸۱) محاورہ، (۸۲) تیزی چڑھی رہنا - بد مزاج بنا رہنا - ہر وقت ناراض رہنا -  
 ناگ تھنے چھوٹنا - (۸۳) محاورہ، ناگ میں دم کرنا - بہت ستانا، عاجز کر دینا -  
 ناگ چوٹی - عزت اُکرو -  
 ناگ چوٹی پر آفت آنا - (۸۴) محاورہ، عزت اُکرو پر آفت آنا -  
 ناگ چوٹی کاٹنا - (۸۵) محاورہ، ذلیل و رسوا کرنا - بے آبرو کرنا -  
 ناگ چوٹی کا ڈر ہونا - (۸۶) محاورہ، بے عزتی کا خوف ہونا -  
 ناگ چوٹی میں گرفتار رہنا، (۸۷) محاورہ، (۸۸) عزت سنبھالنے اور زیت میں مصروف رہنا -  
 ناگ چوٹی ہاتھ ہونا - (۸۹) محاورہ، عزت اُکرو کسی کے اختیار ہونا -  
 ناگ چھٹی جانا - (۹۰) محاورہ، تھوڑے وقتہ ڈھلنے کا سوراخ بڑا ہو جانا -  
 ناگ رکھ لینا، (۹۱) رکھنا، (۹۲) محاورہ، عزت رکھ لینا، بات رکھ لینا -  
 ناگ رکھنا، (۹۳) محاورہ، (۹۴) زمین پر ناگ گھسانا، (۹۵) نہایت منت و زاری کرنا، عجز و انکساری کرنا -  
 ناگ رکڑے کا پتھر - (۹۶) محاورہ، وہ پتھر جو بہت سی دعاؤں سے نہیں مان کر پیدا ہوا ہو - اللہ آمین کا پتھر -  
 ناگ ساکھ رکھنا، (۹۷) محاورہ، اپنی عزت بچانا، نیک نامی حاصل کرنا -  
 ناگ سٹکنا، (۹۸) محاورہ، ناگ صاف کرنا، ناگ کی ریش نکالنا -  
 ناگ سٹوڑنا، سٹوڑنا، (۹۹) محاورہ، (۱۰۰) ناگ چھٹھانا، (۱۰۱) نفرت کرنا -  
 ناگ سے لکیریں کھینچنا، (۱۰۲) محاورہ، کسی بات سے توبہ کرنا - اپنا قصور مان کر اُتھدے کے لیے توبہ کرنا -  
 ناگ تلہ ہونا، (۱۰۳) محاورہ، (۱۰۴) ناگ کاٹ جانا، (۱۰۵) بے عزتی ہو جانا -  
 ناگ کا باہل - (۱۰۶) صنف، نہایت عزیز اور معزز -  
 ناگ کا ہانسا - (۱۰۷) محاورہ، دونوں تھنوں کے درمیان کی ہڈی یا اولیاد -  
 ناگ کا ہانسا پھرنا - (۱۰۸) محاورہ، دونوں تھنوں کے درمیان کی ہڈی کا طیر پھارنا، جانا جو موت کی نشانی ہے -  
 ناگ کاٹ چھڑوں تلے رکھنا، (۱۰۹) محاورہ، بے غیرتی اختیار کرنا - جیسا خرم اُٹھ جانا -

ناکابند کرنا۔ (۱۔ محاورہ) حد بندی کرنا (۲) راستہ روکنا۔ راستے میں پھیرہ بٹھانا پانی کے بہاؤ کو روکنا۔

ناکابند ہونا۔ (۱) راستہ ٹک جانا۔ (۲) جبراً کرنا۔

ناکابندی۔ (۱۔ مٹ) حد بندی۔ (۲) راستہ روکنا۔

ناکاروگنا۔ (۱۔ محاورہ) راستے پر پھیرہ بٹھانا۔ راستہ روکنا۔

ناکاسنبھالنا۔ (۱۔ محاورہ) راستہ روکنا۔ راستہ پر پھیرہ ہونا۔

ناکے وار۔ (۱۔ مذ) ناکادار۔ شوراج وار۔

ناکے میں سے نکالنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) سونے کے شوراج میں سے نکالنا (۳) بقی کرنا۔ ستانا (۴) مجبور کرنا (۵) سیدھا کرنا۔ درست کرنا۔

ناکج۔ (ع۔ صفت) نکاج کرنے والا۔

ناکگڑا۔ ناک، گڑا، (ہ۔ مذ) بڑی ناک۔

ناکگو۔ (ہ۔ مذ) مٹھہ۔ گھڑیاں۔ ہتنگ۔

ناکھنا۔ (نا۔ گھ۔ نا، ذ) (ع۔ ص) رکھنا۔

ناک۔ (س۔ ا۔ مذ) (۱) سانپ (۲) پھن وار سیاہ سانپ۔

ناک بیل۔ (۱۔ ہ۔ مٹ) (۲) پان کی بیل۔ (۳) خیال ہے کہ سانپ اس کے پیچھے رہتا ہے اس لیے اسے ناک بیل کہتے ہیں۔

ناک بچی۔ ہندوؤں کا ایک تہوار جو پانچ سادہ سدی کو ہوتا ہے۔

ناک بھینسی۔ تھوڑی ایک قسم جس کے بطن کی شکل سانپ کے پیٹن کی طرح ہوتی ہے۔

ناک ذمت۔ (ہ۔ مذ) ہاتھی دانت۔

ناک دون۔ (ہ۔ مذ) ایک لہواریں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی گڑھی گھر میں ہوتو سانپ نہیں آتا۔

ناک گلھانا۔ (۱۔ محاورہ) جان جو کھوں کا کام کرنا (۲) خطرے میں پڑنا (۳) بد مزاج حاکم کی طاقت میں ہونا۔

ناک گلا۔ (ہ۔ مذ) ایک قوم جو آسام کے پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے (۲) اس فرقہ کا ایک فرد (۳) ہندو سادھو جو نکلے رہتے ہیں۔

ناگڑ۔ (ہ۔ صفت) (۱) قصبہ یا شہر کے متعلق (۲) شہری یا شہر کا رہنے والا۔ (۳) چالاک۔ پوشیار (۴) بُرائی بڑھانوں کی ایک قوم (۵) بڑی آبادی۔ (۶) ذق۔ (۱۔ مذ) اہل (۲) ایک گھاس

ناگڑیل۔ (۱۔ مٹ) پان کی بیل

ناگڑ پان۔ (۱۔ ہ۔ مذ) بہترین قسم کا پان (۲) عمدہ اور بڑا پان۔

ناگڑ مٹھا۔ (ہ۔ مٹ) ایک قسم کی خوشبودار گھاس کی جڑ۔

ناگڑی۔ (ہ۔ مٹ) (۱) ہندی زبان کا رسم الخط۔ (۲) چالاک عورت (۳) ایک لہواریں۔

ناگڑیل۔ (۱۔ مذ) اہل۔ (۲) قبیلہ (۳) جوئے کی رسم جس سے بیل جوڑتے ہیں۔

ناگڑن۔ (ہ۔ مٹ) (۱) ناک کی مادہ (۲) گدھے کے بالوں جھونری۔

ناگن سوگھ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ناک کا کٹنا۔

ناگنی۔ (ہ۔ مٹ) (۱) بڑے سانپ کی مادہ (۲) حسین عورت۔

ناگوری۔ (نا۔ گو۔ ری) (۱) شہر ناگور واقع مارواڑ سے منسوب ہے۔

جہاں کے بیل بہت مشہور ہیں (۲) ایک قسم کا جوتا۔

ناک کاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بے عزت کرنا۔ ذلیل کرنا۔ بدنام کرنا۔ (۲) کسی تیز دھار آئے یا دانتوں سے ناک کاٹ دینا۔ مرد بدچلین عورتوں کی ناک کاٹ دیتے ہیں۔

ناک کا کچرا۔ ناک کا چھڑا۔ (۱۔ مذ) وہ ریش جو ناک میں جم کر سخت ہو جاتی ہے۔

ناک کا ٹٹھا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) نکٹھا اور لپوچا بتانا (۳) ذلیل و خوار کرنا۔

ناک کٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بدنام ہونا۔ رسوا ہونا۔

ناک کٹ جانا۔ (۱۔ محاورہ) عزت و بڑو خفاک میں مل جانا۔

ناک کٹی۔ (۱۔ مٹ) بدنامی۔ رسوائی بے عزتی۔

ناک کٹی ہو نا۔ (۱۔ محاورہ) رسوائی ہونا۔

ناک کٹے۔ (۱) بددعا، بدنام ہو۔ رسوا ہو۔ اس کی عزت جائے۔

ناک کی بھینسی۔ (۱۔ مٹ) ناک کی نوک۔

ناک کی سیدھ۔ (۱۔ مٹ) ٹھیک سامنے۔ سیدھے خط میں۔ بخند مستقیم۔

ناک کی کیل۔ (۱۔ مٹ) وہ کیل جو عورتیں ناک میں لگاتی ہیں۔

ناک کے پھیرے سے بیان کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بات کو طوالت سے بیان کرنا۔

ناک کے رستے نکل جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) سختی کر کر رہی ہو جاتا۔

ناک گھسنی۔ (۱۔ مٹ) عاجزی۔ منت سماجت کرنا۔

ناک میں لولٹنا۔ (۱۔ محاورہ) منمنانا۔

ناک میں تیر دینا۔ (۱۔ محاورہ) بہت تنگ کرنا۔

ناک میں ڈم آنا۔ (۱۔ محاورہ) بہت تنگ ہونا۔ سخت پریشان ہونا۔

ناک میں ڈم آنے لگنا۔ (۱۔ محاورہ) جی گھبرانے لگنا۔ ڈم آنے لگنا۔

ناک میں ڈم کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ستانا۔ (۲) حق کرنا۔ حیران کرنا۔

ناک نقشہ۔ (۱۔ مذ) چہرے کے خدو خال۔

ناک نڈی جانا۔ (۱۔ محاورہ) سخت بڑبڑ ہونا۔

ناک نہ رہنا۔ (۱۔ محاورہ) (۲) غیرت جاتی رہنا (۳) بے عزت ہو جانا۔

ناک نہ کان تھہہ ہابیوں کا ارمان۔ (۱۔ مثل) حیثیت کچھ نہیں بگر حوصلے اُٹھنے۔

ناک والا۔ (۱۔ صفت) (۲) عزت والا۔ غیرت والا۔

ناک ہو تو نقصیلا سوئے۔ (۱۔ مثل) اصل چیز ہوئی چاہیے۔ فروعات لبیدیں بھی مہیا ہو سکتی ہیں

ناک آؤٹ (Knockout) (ہ۔ مٹ) (۱) ناکے بازی میں حریف کو مار کر کھڑے سے باہر نکال دینا۔

ناکوں ناک۔ (۱۔ صفت) لبالب۔ لبریز۔ ہٹنا مٹنا۔

ناکوں ناک بھرو دینا۔ (۱۔ محاورہ) لبالب بھرو دینا۔

ناکا۔ (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) سڑک کا اخیر۔ راستے کی حد۔ (۲) مہرا۔ سرا۔ (۳)

راہ۔ راستہ۔ (۴) گلی کو بے کار دروازہ (۵) شہر کا دروازہ (۶)

چنگی کی چوکی (۷) سونی کا چھید (۸) حد۔ کنارہ (۹) پانی کے

گذرنے کی جگہ (۱۰) پولیس کا چھوٹا تھانہ یا چوکی (۱۱) سڑک یا

روسے میں داخل ہونے کی جگہ (۱۲) ایک دریائی جانور۔ مگرچہ (۱۳)

مگرچہ کی قسم کا ایک دریائی جانور۔

نالگنسر - دناگے - سبز (۱-۵) - مذکر) ایک قسم کا خوشبودار پھول اور اس کا پودا۔

نال - (۱-۵) - مذکر) (۱) قریب - نزدیک (۲) وہ آنت جو کہ رحم مادر میں بچے کے پیٹ سے چلی ہوئی ہے اور جسے پیدائش پر کاٹ کے مٹا کر دیتے ہیں (۳) بندوق یا پتیلے کی نالی (۴) دم لوبے یا پتھر کا آلہ جسے پہلو ان درزش کے وقت اٹھاتے ہیں (۵) (۴) ق) ساتھ - مانند۔

نال اٹھانا - (۱) - محاورہ) پتھر یا ٹکڑی کا بنا، ٹکا کندہ - برائے درزش اٹھانا۔

نال کاٹنا - (۱) - مص مرکب) بچہ کی پیدائش کے وقت ناف کی نالی کاٹنا۔

نال کشائی - (۱) - مٹ) دالی کا وہ حق جو نال کاٹنے پر دیا جاتا ہے۔

نال کرنا - (۱) - محاورہ) (۱) بچے کی ناف سے نال کاٹ کر زمین میں چا دینا۔ دعوے اور استحقاق ہونا (۲) نالین ہونا (۳) آزاد لہم ہونا (۴) مسکن ہونا۔

نال نکالنا - (۱) - محاورہ) ہر داؤں پر مالک قمار خانہ کا حصہ الگ کرنا۔

نال - (۱) - مذکر) وہ دریش جو ظلم تراشتے وقت نکلتا ہے (۲) نئے - فرس جوا نذر سے خالی ہو۔

نالہ - (۱) - مذکر) (۱) رنگینی گنڈے دار موت (۲) انار بند (۳) چھوٹی ندی - چھوٹا دریا۔ برساتی نہر۔

نالان - (نا - لا، ن) (۱) - صفت) (۱) روتا ہوا - نالہ کرتا ہوا (۲) شاک کی فریادی۔

داؤں لاکرنے والا (۳) عاجز - تنگ۔

نالش - (نا - ش) (۱) - مٹ) (۱) رونا گرہ و زاری (۲) فریاد دہانی شکایت (۳) دعوے - حاکم کے سامنے چارہ جوی۔

نالش استر داؤ دعوے - (۱) - مٹ) (۱) دعویٰ واپس لینے کی عرضی۔

نالش استقر ارتقی - (۱) - مٹ) حق پر قرار کرنے کی نالش۔

نالش داغ دینا - (۱) - محاورہ) (۱) عدالت میں دعوے دائر کرنا (۲) فریاد کرنا۔

نالش منقلبی - (۱) - مٹ) وہ نالش جس میں منقلب ہونے کے باعث نام حصول ڈگری عدالت کے رسوم ادا نہ کرنا پڑیں۔

نالشا نالشتی - (۱) - مذکر) (۱) مٹ) باہمی جھگڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے پر دعوے دائر کرنا۔

نالشتی - (نا - ل، ش) (۱) - صفت) (۱) دعویدار (۲) فریادی - شکایت کرنے والا۔

نالکی - (نا - ل، کی) (۱) - مٹ) (۱) ایک قسم کی کھلی پانکی - تام جھام۔

نالشا - (نا - ل، ش) (۱) - مٹ) (۱) رونا پینا۔ فریاد کرنا۔

نالہ - (۱) - مذکر) (۱) فریاد - داؤں لاکرنا، شور - غل - غصاں۔

نالہ ولی - (۱) - مذکر) آہ - آہ سرور۔

نالہ سر کرنا - (۱) - محاورہ) فریاد کرنا - آہ کہینا۔

نالہ سوزناں - (۱) - صفت) (۱) جلا دینے والی آہ۔

نالہ شکر - (۱) - صفت) (۱) رات کے وقت کی آہ و فغاں

نالہ کرنا - (۱) - مص - مرکب) فریاد کرنا - آہ و فغاں کرنا۔

نالہ گس و فرسا - (۱) - صفت) فریاد کرنے والا۔

نالہ کھیننا - (۱) - محاورہ) فغاں کرنا۔

نالہ گز - (۱) - صفت) فغاں و لاکر کرنے والا۔

نالہ گرم - (۱) - صفت) وہ نالہ جو کمال جوش سے نکلے۔

نالہ مرغ سحر - (۱) - مذکر) صبح کے وقت مرغ کی ہانگ۔

نالہ نیکنا - (۱) - محاورہ) فریاد ہونا

نالہ و شیون - (۱) - مذکر) رونا - پینا۔ آہ و زاری۔

نالی - (۱) - مذکر) (۱) ٹوٹا ہوا - پانی نکلنے کا راستہ۔

نام - (۱) - مذکر) (۱) وہ لفظ جس سے کوئی شخص یا چیز پہچانی جائے۔ (۲)

اسم - (۱) - مذکر) (۱) لقب - کیفیت - خطاب - عرف - تخلص - (۲) شہرت -

ناموس - (۱) - مذکر) (۱) عزت - آبرو - (۲) نسل - اولاد - خاندان - (۳) تہمت -

الزام - (۱) - مذکر) (۱) یادگار - (۲) متعلق - مرکبات کے آخر میں استعمال ہونے والے

جیسے گناہ - جہاد - جراسانا۔

نام آسمان پر ہونا - (۱) - محاورہ) بڑی شہرت ہونا - بڑی نیک نامی ہونا۔

نام کور - (۱) - صفت) مشہور - معروف۔

نام آوری - (۱) - مٹ) (۱) شہرت۔

نام رٹھ جانا، اٹھنا - (۱) - محاورہ) نام نہ رہنا - نام مٹ جانا۔

نام کھیننا - (۱) - محاورہ) (۱) بڑائی کی وجہ سے مشہور ہونا - بدنامی ہونا - رسوائی ہونا۔

نام اڑ جانا - (۱) - محاورہ) نشان تک باقی نہ رہنا - نیست و نابود ہوجانا۔

نام بازار تک جانا - (۱) - محاورہ) لوگوں میں بدنامی ہونا - رسوائی ہونا۔

نام باقی نہ رہنا - (۱) - محاورہ) (۱) مرنے کے بعد نام لیا جانا (۲) شہرت رہ جانا - (۳)

یادگار باقی رہ جانا (۴) نام کے سوا کچھ باقی نہ رہنا۔

نام تمانا - (۱) - محاورہ) (۱) نام ظاہر کرنا (۲) اپنی شخصیت کو متعارف کرانا۔

نام بدنام کرنا - (۱) - محاورہ) (۱) رسوا ہونا - بدنام ہونا (۲) عیب لگانا - الزام دھرنا۔

نام بڑوہ - (۱) - محاورہ) وہ جس کا اور نام لیا جا چکا ہے۔

نام بڑا اور درخشن چھوٹے - (۱) - مثل) (۱) جتنا نام ہے اتنا کام نہیں۔ نام کے

مطابق سامان نہیں۔

نام بڑا اونچا کالوں سے بوجھا - (۱) - مثل) (۱) خاندان کی بدنامی کا باعث ہے۔

نام بڑا ہونا - (۱) - محاورہ) (۱) کسی اچھی بات کے لیے مشہور ہونا - (۲) اعلیٰ

خانہ ہونا۔

نام بڑا داؤم - (۱) - مثل) (۱) نیک نامی دولت سے بہتر ہے۔

نام کینا - (۱) - محاورہ) نام کی شہرت سے چیز کینا - نام کی قدر ہونا۔

نام رنگاڑنا - (۱) - محاورہ) (۱) نام بدنام کرنا - (۲) نام کو اصل حالت پر نہ رکھنا۔

نام بلند بہ از بام بلند - (۱) - مثل) (۱) نیک نامی عالی شان عمارتوں والی جائیداد سے

اور مال و دولت سے بہتر ہے۔

نام بنام - (۱) - مٹ) (۱) فعل) نام دار - ہر ایک کو ایک ایک کو نام لے لے کر۔

نام بھی نہ لینا - (۱) - محاورہ) (۱) سخت نفرت کرنا - بہت بیزار ہونا (۲) مطلق

یاد نہ رہنا۔

نام بھی نہیں - (۱) - محاورہ) نام نہیں کچھ نہیں - ذرا بھی نہیں۔

نام پانا - (۱) - محاورہ) مشہور ہونا - نیک نامی حاصل کرنا - شہرت ہونا

نام پر - (۱) - مٹ) (۱) فعل) (۱) نام کے لیے فیصل میں واسطے (۲) شہرت کے لیے (۳)

کسی کے نام کی تعظیم کے لیے۔

نام پر بیٹھنا - (۱) - محاورہ) (۱) بھروسا کرنا - متوکل رہنا - (۲) نام کا پاس اور لحاظ

کر کے مستقل رہنا۔

نام پر پاپوش (بیزار ہارنا۔ ۱۶۔ محاورہ) کسی سے بے حد عزیز ہونا۔  
 نام پر جاننا۔ ۱۷۔ محاورہ) رعایت کرنا۔ لانا کرنا۔  
 نام پر جان دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت حاصل کرنے کی بے حد کوشش کرنا۔  
 نام پر گرفت آنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بدنام ہونا۔ رُسوا ہونا۔  
 نام پر کھوڑا لانا پھیرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) چور سلوم کرنے کے لیے دو آدمی کھوڑے یا  
 لٹے کو انکھوں سے پکڑتے ہیں اور مشتہر اشخاص کے نام کی پرچیاں لٹے  
 میں ڈالتے ہیں۔ اور کچھ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب مزوم کے نام کی پرچی لٹال  
 جاتی ہے تو کھوڑا یا لٹا سلوم ہاتا ہے۔  
 نام پر گالیاں پڑنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱۔ آدمی جس کا ذکر آتے ہی لوگ گالیاں دینے  
 لگیں۔ ۱۲۔ نام لے کر گالیاں دینا۔  
 نام پر لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کی خاطر کوئی چیز خیرات کر کے لٹا دینا۔  
 نام پیر (بھٹنا، مرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت کے لیے بے حد کوشش کرنا۔ شہرت کا  
 بہت زیادہ طالب ہونا  
 نام پر ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کے متعلق ہونا کسی کی حکایت میں ہونا۔ نامزد ہونا۔  
 نام پر لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی نام سے مشہور ہونا۔ عزت یا لقب ہو جانا  
 نام پر لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام لے کر آواز دینا۔ ۲۰۔ نام سے بلانا۔ ۲۱۔ حاضر ہونا۔  
 نام پر لگانا۔ ۱۷۔ محاورہ) خواہ مخواہ نام لینا۔  
 نام پیر کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت حاصل کرنا۔  
 نام پیروں کا کھائیں محاورہ۔ ۱۷۔ مثل، دوسرے کے نام سے اپنا کام نکالنا۔  
 نام پیش کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کام یا مہم پر کیلئے کسی کے نام کو تجویز کرنا۔  
 نام سنجو کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام پیش کرنا، بچے کا نام رکھنا۔  
 نام سبک کاروا دار نہ ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) بیکند ناراض اور بیزار ہونا۔ نام لینے  
 کی بھی اجازت نہ ہونا۔  
 نام سبک سے واقف نہ ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام بھی نہ جانتا۔ بالکل نہ جانتا۔  
 نام دیکھ لینا، ٹھہرانا۔ ۱۷۔ محاورہ) کوئی نام رکھ لینا۔ نام مقرر کر لینا۔  
 نام جاننا۔ ۱۷۔ محاورہ) دوبارہ مشہور ہونا۔ شہرت کا کم ہو جانے کے بعد پھر زور ہونا۔  
 نام پھینکا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کا ہر وقت ذکر کرنا۔ یاد کرنا۔  
 نام چھینڈنے پر چڑھانا۔ ۱۷۔ محاورہ) بدنام کرنا۔ رُسوا کرنا۔  
 نام چار کو۔ ۱۷۔ تاہن فعل برائے نام۔ بہت چھوڑا۔  
 نام (چھڑھنا، چھٹھانا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام پر مزین درج ہونا۔ نام دفتر میں لکھنا۔  
 نام چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کی یادگار باقی رہنا۔ نام قائم رہنا۔  
 نام چٹھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت پانا۔  
 نام حاصل کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت پانا۔ مشہور ہونا۔  
 نام خارج کر دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) تشریح یا تفسیر سے نام کاٹ دینا۔ قلمزد کر دینا۔  
 نام خاک میں مل جانا۔ ۱۷۔ محاورہ) سخت بدنام ہونے وقت ہو جانا۔  
 نام خدا (کھڑکھا، ۱۷۔ محاورہ) تعظیم و تکریم کے لیے اور خدا کی قسم کی سہانے متعلق  
 ہے، برکت اور نذر بد سے محفوظ رہنے کا کلمہ۔ چشم بد دور ماشا اللہ  
 ۲۳۔ حسین و آفرین کا کلمہ طنزاً بھی کہا جاتا ہے۔  
 نام خدا اتوار پینڈا ہے۔ ۱۷۔ محاورہ) بھلاؤ چشم بد دور ابھی کٹوری ہے۔  
 نام خراب کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بدنام کرنا۔

نام داخل یا درج ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) لکھنا۔ ریشتر وغیرہ میں تحریر کرنا۔  
 نام دار۔ (ن صفت، مشہور نامی۔  
 نام وینا سے اڑے۔ (بددعا، مرجائے۔ مٹ جائے۔ کوئی نام  
 یوں باقی نہ رہے۔  
 نام دھرتا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱۔ عیب لگانا۔ نکتہ چینی کرنا۔ بڑا کبنا۔ ۲۰۔ قیمت  
 مقرر کرنا۔  
 نام دینا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام رکھنا۔ مشہور کرنا۔  
 نام ڈوبنا۔ ۱۷۔ محاورہ) خاندان کو بٹا لگانا۔ بزرگوں کا نام بدنام کرنا۔  
 نام ڈوبنا۔ ۱۷۔ محاورہ) رسوائی ہونا۔ بدنامی ہونا۔ عزت جانا۔  
 نام رکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱۔ بچے کا کوئی نام تجویز کرنا، بڑا کبنا۔  
 نام روشن کرنا، ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱۔ شہرت ہونا، ۲۱۔ طنزاً) رُسوا ہونا۔  
 بدنام ہونا۔  
 نام روک لینا۔ ۱۷۔ محاورہ) ترقی وغیرہ کے لیے نام نہ بھیجنا۔  
 نام تران پر پھیرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کا نام ذہنی سے آرجانا۔ کسی کا نام پوری  
 طرح یاد نہ آنا۔  
 نام زور۔ ۱۷۔ صفت) ۱۱۔ مشہور۔ معروف۔ ۲۰۔ مقدر۔ ۲۱۔ کسی کام کیلئے تجویز  
 کیا گیا دم، محبوب لڑکی جس کی منگنی ہو چکی ہو۔  
 نام زد کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) ۱۱۔ کسی کام کے لیے مقرر کرنا۔ مقدری کرنا۔ ۲۰۔ نام سبب کرنا  
 نام ساکھ۔ ۱۷۔ تاہن فعل) نام کا اعتبار اور شہرت۔  
 نام زندہ کرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) نام روشن کرنا۔ یاد تازہ کرنا۔  
 نام سننے سے روکنے کے لیے ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی سے بہت ڈرنا۔  
 نام سے۔ ۱۷۔ تاہن فعل) ۱۱۔ نام لے کر۔ نام پر ۲۰۔ نام کی بدولت ۲۱۔ نام  
 نکلنے سے۔ نام کے ساتھ ۲۰۔ ہلانے سے۔  
 نام سے آشنا ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) معمولی واقفیت ہونا۔  
 نام سے کبنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی چیز کا لینے نام کی وجہ سے کلمہ  
 نام سے بھگانا۔ ۱۷۔ محاورہ) سنت منظر ہونا۔ نام سبب سنا کر اراہ کرنا۔  
 نام سے چڑھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی سے بہت ڈرنا۔ بیکند خائف ہونا۔  
 نام سے چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) اہتمامی دشمنی اور نفرت ہونا  
 نام سے چٹھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کا نام سن کر ناراض ہو جانا۔ سنت نفرت کرنا۔  
 نام سے چھڑھنا۔ نام سننا پسند نہ کرنا۔  
 نام سے دم لکھنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بہت ڈرنا۔ بیکند خوف کھانا۔  
 نام سے کان پھڑکانا۔ ۱۷۔ محاورہ) کسی کی آستادی یا کمال کا قائل ہونا۔  
 نام سے کانپنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بہت ڈرنا۔ بیکند خائف ہونا۔  
 نام سے کانوں پر ہاتھ دھرنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بیکند نفرت کرنا۔ سخت بیزار ہونا۔  
 نام سے مطلب۔ ۱۷۔ محاورہ) شہرت سے غرض۔  
 نام سے نفرت ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) بہت نفرت ہونا۔ نام سے چٹھنا۔  
 نام کا ایک۔ ۱۷۔ صفت) ۱۱۔ آفت کا پرکالا۔ بہت چالاک ۲۰۔ ہندی ۲۱۔ دھبے کا پکلا۔  
 نام کا پاس۔ ۱۷۔ صفت) عزت کا خیال۔  
 نام کا دشمن ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ) بیکند نفرت اور بیزاری ہونا۔  
 نام کا سبک جاری ہونا چلنا۔ ۱۷۔ محاورہ) بے حد عزت اور ناموری حاصل

ہونا (۳) کسی مقدس کتاب سے اخذ کر کے بچہ کا نام رکھا جانا (۴) عمل کے ذریعے جو رکنا نام دریافت کرنا۔

نام نکل جانا۔ (۱) محاورہ (۲) مشہور ہو جانا (۳) نام بڑھانا۔

نام نمود۔ (ف۔ ا۔ مذ) عزت۔ طیب ثاب۔ ظاہری ٹھسا طھ۔ نمائش دکھاوا۔

نام نہادا۔ (ف۔ ص) صفا (۱) موسم نامزد (۲) گنتے کو۔ نام کو۔ برائے نام۔

نام نہ رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) مٹ جانا۔ یادگار باقی نہ رہنا۔

نام نہ لو۔ (۱) بول چال، ذکر نہ کرو۔ نفرت کے موقع پر کہتے ہیں۔

نام نہ لینا۔ (۱) محاورہ (۲) سماعت میرزا ہونا۔ (۳) بالکل کوئی کام نہ کرنا۔ نام زبان پر نہ لانا۔

نام نہ ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) وجود نہ ہونا (۳) شہرت نہ ہونا۔

نام نہیں۔ (۱) محاورہ (۲) پتہ نہیں۔ سراغ نہیں۔ بے نشان ہے (۳) وجود نہیں (۴) تذکرہ نہیں۔

نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تا بناشد نام نیکت، بائیدار۔ (ف۔ مثل) جو لوگ مر چکے ہیں۔ ان کے نیک ناموں کو ضائع نہ کرنا تیسرا نام بھی نیکی سے زندہ رہے۔

نام ڈر۔ (ف۔ ص) نام آدرک کا مخفف۔ نامی۔ مشہور و معروف۔

نام وری۔ (ف۔ ا۔ مذ) شہرت۔ نیک نامی۔ نام آدری کا مخفف۔

نام و نشان۔ (۱) مذ (۲) آما پتہ۔ مظلوم ٹھکانہ (۳) یادگار۔ آثار۔

نام و نشان باقی نہ رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) نیست و نابود ہو جانا۔ فنا ہو جانا۔ مٹ جانا۔

نام و نشانگ۔ (ف۔ ا۔ مذ) عزت۔ ابرو۔ ناموس۔

نام ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) اسم ہونا۔ لقب ہونا (۳) شہرت ہونا (۴) تہمت لگانا (۵) ذمے پڑنا۔ سر پڑنا (۶) شرکت کرنا۔

نام ہی نام ہے۔ (۱) محاورہ (۲) حقیقت کچھ نہیں صرف کہنے کو ہے۔

نام ہے۔ (۱) محاورہ (۲) شہرت ہے (۳) برائے نام ہے (۴) فی الحقیقت ہے۔ دراصل یہ ہے۔

نامخ۔ (ذنا۔ تم۔ ذق)۔ (۱) مذ (۲) میکا جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں۔

ناموس۔ (ذنا۔ مؤس)۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ) (۱) ابرو۔ شہرت۔ عزت۔ (۲) صاحب دازر (۳) (۴) حضرت جبرائیل کا لقب۔ فرشتہ۔ (۳) احکام الہی۔ (۵) اہل خانہ۔ (۶) حرم سرا۔ زنان خانہ۔ تنگ۔ شرم۔ ناموس اکبر۔ (ع۔ ا۔ ص) (۱) حضرت جبرائیل کا لقب۔ (۲) شریعت۔ قاعدہ۔ دستور بزرگ۔

ناموس لگا کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) بے آبروی کرنا۔ عزت اور پرہیزگاری۔

ناموس۔ (ذنا۔ مؤس)۔ (ع۔ ا۔ مذ) (۱) بے عزتی۔ بدنامی۔ رسوائی۔ شرم۔ لحاظ۔

نامہ۔ (ذنا۔ مذ)۔ (ف۔ ا۔ مذ) (۱) خط۔ چھٹی۔ تحریر (۲) رسالہ۔ کتاب (۳) دفتر۔ ریٹائر (۴) ہر کتابت میں جیسے اقرار نامہ۔

نامہ اعمال۔ (ع۔ ا۔ مذ) وہ کتاب جس میں اعمال درج ہوں۔ وہ کتاب جس پر تکمیل برآئی کے اعمال لکھتے ہیں۔

نامہ اعمال دھویا جانا۔ (۱) محاورہ (۲) گناہوں کا بخشا جانا۔

ہونا۔ لوگوں پر دھاک بیٹھنا۔

نام کا گئی نہ پائنا۔ (۱) محاورہ (۲) نیکد میرزا ہونا۔

نام کا وظیفہ۔ (۱) مذ کسی کو بہت یاد کرنا۔

نام کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) شہرت حاصل کرنا۔ نیک نامی پیدا کرنا (۳) الام دھرتا (۴) کسی کے ذمے ڈالنا۔ کسی کے لیے مخصوص کرنا۔

نام کندہ کرنا۔ (۱) محاورہ (۲) نام کھودنا۔

نام کو۔ (۱) تابع فعل (۲) بہت کم ذرا سا۔ برائے نام۔ کہنے کو۔

نام کو آگ لگانا۔ (۱) محاورہ (۲) نام نہ لینا۔ قریبے جانا

نام کو بٹا دھبنا، لگانا۔ (۱) محاورہ (۲) بدنام کرنا۔ عیب لگانا۔

نام کو مرنا۔ (۱) محاورہ (۲) نام کے لیے جان دے دینا۔

نام کو نہ چھوڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) سب کچھ لے لینا (۳) کچھ باقی نہ چھوڑنا۔ خاتمہ کر دینا۔ صفایا کرنا۔

نام کو نہ رکھنا۔ (۱) محاورہ (۲) کچھ نہ رہنے دینا۔ بالکل مٹا دینا۔

نام کو نہ رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) بالکل نہ رہنا۔ کچھ نہ رہنا۔ سب کچھ ختم ہو جانا۔

نام کو نہیں۔ (۱) محاورہ (۲) بالکل نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔

نام کی چیز۔ (۱) مذ (۲) وہ چیز جو کسی کے لیے ملگانی جائے۔ (۳) وہ چیز جو کسی کے لیے مخصوص ہو جانے یا نام زد کر دی جائے۔

نام کی رٹ۔ (۱) مذ (۲) کسی کے نام کا ورد۔ ہر وقت کسی کو یاد کرنا۔

نام کی تربت بجانا۔ (۱) محاورہ (۲) اپنے نام کو مشہور کرنا۔

نام کی تیج پڑھنا۔ (۱) محاورہ (۲) نام رٹے جانا۔ ہر وقت نام لینا۔

نام کے لیے مرنا۔ (۱) محاورہ (۲) نام وری کی خواہش میں جان و مال کی پرواہ نہ کرنا۔ نام وری کی تیج خواہش ہونا۔

نام لگانا۔ نام لگنا یا نام لگ جانا۔ (۱) محاورہ (۲) الام عائد کرنا۔ کوئی قصور ذمہ لگنا (۳) تہمت لگانا۔

نام للہ۔ (۱) مذ (۲) اللہ کے نام پر۔

نام کے بیٹھنا۔ (۱) محاورہ (۲) سوچے کسی پر الام عائد کرنا

نام لے دینا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی پر الام دینا۔ (۳) کسی قصور میں کسی کا نام بتا دینا۔

نام لے کر۔ (۱) تابع فعل (۲) نام سے۔ نام کی بدولت۔

نام لے کر مانگ کھانا۔ (۱) محاورہ (۲) کسی بزرگ کے نام پر خیرات مانگ کر گزارا کرنا۔

نام لینا۔ (۱) محاورہ (۲) نام زبان پر لانا (۳) نام لٹنا۔ نام چنا (۴) تعریف کرنا

گن گنا (۵) کسی کا ذکر کرنا (۶) واسطہ دینا۔

نام لیوا۔ (۱) ص (۲) یادگار۔ (۳) بیٹا۔ وارث۔ (۴) یاد کرنے والا۔ نام پر فرزند کرنے والا۔

نام لیوا نہ پائی دوا۔ (۱) مثل (۲) سب مر گئے کوئی باقی نہ رہا۔

نام میرا گناؤں تیسرا۔ (۱) مثل (۲) گناہوں کوئی اڑائے کوئی۔ خود لے لینا اور دوسرے کو کچھ نہ دینا۔

نام ناجی۔ (۱) مذ (۲) مشہور و معروف نام۔ عزت کا کلمہ۔

نام نکالنا۔ (۱) محاورہ (۲) شہرت پانا (۳) (طنزاً) بدنامی مول لینا۔ رسوائی

رہنما - ہنسنا -

ناندھنا۔ (۵۔ مص) شروع کرنا (۲)، بیان کرنا (۳)، اختیار کرنا (۴) چہرے کو گردش دینا (۵)، جالی بننے کا کام شروع کرنا۔

ناندھیا (ناندھیا بیل)۔ (۵۔ ۱۔ مذ) نمائش میں جسے جگہ جگہ پھراتے ہیں اور اسے مالک کا کہا جانے کی تربیت دی جاتی ہے۔

ٹانگ۔ (۵۔ ۱۔ مذ) سکھ مذہب کے بانی اور پہلے گورو (۲) وہ گھوڑا جس کے جسم پر دھرتی تک سفیدی ہو۔

ٹانگ پتیسی۔ (۲۔ نانگ) پتی، (۵۔ صف) گورو ٹانگ کے پیرو ایک۔

ٹانگ شاہی۔ (۲۔ نانگ) شاہی، (۵۔ مذ) فقیروں کا ایک گروہ۔ ایک قسم کا موٹا پیسہ جس کا اب چلنی نہیں ہے۔

ٹانگ ننھا، بولر ہو جیسے ننھی ڈوب، پیڑ بڑے گر جائیں گے دھوب خوب کی خوب۔ (۱۳۔ مقلول) اکسادی بہتر ہے

ٹانگ بڑیاں لگا۔ (۵۔ صف) (۱۱۔ ننگ) (۱۱۔ مذ) (۲) سادھوؤں کا ایک گروہ جو خشکے بستے ہیں۔

ٹانگ نانا۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ نانا۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) چھانڈنا۔ اس چیز سے گذرنا جو راستہ میں چلی ہو۔ چھانڈنا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔

ٹانگ۔ (۲۔ نانگ) (۲۔ صف) آئل چلانا۔







نتھنے چھلانا۔ اکنیتا، تیوری چٹھانا۔ رامن ہونا  
نتھنی۔ نتھ۔ ٹی، (۵۔ ۱۔ مٹ) ۱۱، چھوٹی سی نتھ (۲) تلوار کے قبضہ کی لڑی۔  
(۳) بیل کے ناک کی رسی۔

نتھنی اٹرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) اکنیتا، کیسیوں کی اصطلاح میں ازارہ بکر کرنا۔  
نتھنی اترنا۔ (۱۱۔ محاورہ) ۱۱، خاندانہ کامر جانا۔ عورت کا بیوہ بوجانا (۳) کیسیوں کی  
اصطلاح میں کسی پیشہ ور لڑکی کا کنوارا بن دور ہونا۔  
نتھنی۔ رنتھ۔ ٹھی (۱۱۔ مٹ) ۱۱، کاغذ ٹانگنے کی ڈور (۲) وہ سب کاغذ جو

بیکھی ایک دھاغے میں پروئے ہوئے ہوں (۳) شامل مٹل۔  
نتھنی کرنا۔ (۱۱۔ مص مرکب) ۱۱، ٹھنک کرنا (۲) کاغذ میں ڈوری ڈال کر دوسرے  
کاغذوں میں شامل کرنا (۳) شامل کرنا۔

نتھنی ہونا۔ (۱۱۔ محاورہ) کسی کے ساتھ زبردستی شامل ہونا۔ خواہ خواہ کا ساتھ۔  
نتھییا۔ رنتھ۔ یا (۱۱۔ مٹ) چھوٹی سی نتھ۔ نتھ کی تصغیر۔

نتیجہ۔ (ن۔ ٹی۔ جی) ۱۱، (ع۔ ۱۱) حاصل انجام۔ خاتمہ۔ انتہا (۲) غرض مطلب۔  
(۳) نکلانگیا دم، حاصل (۵) کسی قیقت یا کہانی کا حاصل (۶) امتحان کا  
فیصلہ۔ ٹیل یا پاس (۷) پھل (۸) شمر (۹) بدلہ۔ سزا (۹) اصلاح منطق میں  
وہ قول جو سفری گیرے کو طراک لفظ مکرر (حد واسط) کے نکال دینے  
سے حاصل ہوتا ہے۔

نتیجہ دیکھنا۔ (۱۱۔ محاورہ) شمرہ پانا۔ کیے کی سزا پانا۔  
نتیجہ نکالنا۔ (۱۱۔ محاورہ) حاصل نکالنا۔ خلاصہ اور لب لباب نکالنا۔  
نتیجہ نکالنا۔ (۱۱۔ محاورہ) انجام معلوم ہونا۔ امتحان کا فیصلہ شائع ہونا۔

## ن۔ ٹ

نٹ۔ (۱۱۔ مٹ) ۱۱، بازی گر۔ شیعہ باز۔ وہ لوگ جو ڈھول بجا کر اور رسی  
پر چڑھ کر کرتب دکھاتے ہیں۔ (۲) ایک بیج قوم (۳) ایک راگنی (۴)  
دغا باز فریب کار۔

نٹ بڑھنا۔ (۱۱۔ مٹ) شیعہ گری۔ نٹ کا ہنر۔  
نٹ کا تما شہ۔ (۱۱۔ مٹ) وہ کھیل جو نٹ دکھاتے ہیں۔  
نٹ کا بچہ کلا بازی ہی کرے گا۔ (۱۱۔ مٹ) جس کا ہم پیشہ ہے۔ وہی اس  
کام کو اچھی طرح کر سکتا ہے۔

نٹ کھٹ۔ (۱۱۔ مٹ) ۱۱، فتنہ پر داز۔ شریر۔ شوخ (۲) دغا باز۔ عیار۔ مکار۔ چرباک  
(۳) بھٹو جو کماؤ دے۔

نٹ کھٹی۔ (۱۱۔ مٹ) ۱۱، عیاری۔ شوخی۔ چالاک۔ فریب (۲) دغا بازی۔ بدصالحی۔  
(۳) ڈنگا۔ شرارت۔

نٹ کھٹی کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) ۱۱، ڈنگا کرنا۔ فساد کرنا۔ چالاک کرنا (۳) بدصالحی  
کرنا۔ عیاری کرنا۔

نٹ نارائن۔ (۱۱۔ مٹ) ۱۱، ایک راگ یا راگنی۔  
نٹڑ۔ (۱۱۔ مٹ) غریب۔ پڑنا۔ گسسا ہونا (۲) وہ زمین جس پر بہت مرتبہ کاشت  
ہو چکی ہو۔

نہوتی۔ (ن۔ پ۔ ٹی) (۵۔ ۱۔ مٹ) بے اولادی۔ بد بخت عورت۔ گوی۔  
نہوتی رووے پوتوں کو، سپوتی رووے لڑکوں کو۔ (۵۔ مٹ) دنیا میں  
کوئی خوش نہیں، بے اولاد، اولاد کے لیے روتی ہے، اور اولاد وال  
گھڑوں کی محتاج ہے۔

نہوتے کا گھڑونا۔ مورکھ کا ہر دا سونا۔ دلداری کا سب کچھ سونا (۵۔ مٹ)  
بے اولاد کا گھر خالی۔ بے وقوف کا دل خالی۔ اور بد قسمت کا سب  
کچھ خالی ہوتا ہے۔

## ن۔ ت

نت۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) ڈور۔ رسی۔

نت۔ (۱۱۔ صف) ہمیشہ۔ سدا۔ دائم۔ ہر روز۔

نت اٹھ۔ (۱۱۔ تابع فعل) ہمیشہ اٹھ کر۔ ہمیشہ۔ ہر روز۔

نت چلکی ترو بار کونگی۔ (۵۔ مٹ) چلکی کے موقع پر کہتے ہیں۔

نت کنوین کھونا نت پاتی پینا۔ (۱۱۔ مٹ) روز گمانا اور کھانا۔ جس قدر گمانا  
اسی قدر ہر روز خرچ کر گمانا

نت نئی چال چلانا۔ (۱۱۔ محاورہ) ہر روز نئی تدبیر میں چلنا۔

نت کی بیوی پدنی اوروں کو دوش۔ (۱۱۔ مٹ) جو اپنا الزام دوسروں  
پر تھوپے اس کے متعلق کہتے ہیں۔ (۲) چڑانے والے کی نسبت  
کہتے ہیں۔

نت۔ (۱۱۔ صف) ہمیشہ۔ سدا۔

نت نیا۔ (۱۱۔ تابع فعل) ۱۱، تازہ تازہ۔ تو بہ تو بہ۔

نتا، (ن۔ ت۔ جی) ۱۱، (ع۔ ۱۱) نتیجہ کی جمع۔ انجام۔

نتھ۔ (۱۱۔ مٹ) ناک میں پیشہ کا ایک نر پور (۲) سہاگ۔ (۳) جانوروں  
کے ناک کی رسی۔

نتھ بڑھانا۔ (۱۱۔ محاورہ) نتھ کو اتار کر رکھنا۔

نتھ جوڑی برقرار رہے۔ (۱۱۔ محاورہ) سہاگ قائم رہے۔ شوہر زندہ ہے۔

نتھارنا۔ نتھارنا۔ (ن۔ نتھارنا، ن۔ تازہ) (۱۱۔ مٹ) پانی کو صاف کرنا۔

پانی یا کسی دیرینے سے میل کھیل دور کرنا۔

نتھا ہوا۔ (۱۱۔ صف) جس کی ناک میں رسی پڑی ہو۔ (۲) جو دوسروں کے قابو  
میں ہو۔

نتھرا۔ (نتھرا، ۱۱۔ صف) صاف۔ میل کھیل صاف کیا ہوا۔

نتھرا۔ (ن۔ نتھرا، نا، ۱۱۔ مٹ) صاف ہونا۔ میل کھیل سے پاک ہونا۔

نتھنا۔ (نتھنا، نا، ۱۱۔ مٹ) ناک کا سوراخ (۲) قالو کرنا (۳) بڑی نتھ۔

نتھنوں کی پھیلاؤ۔ (۱۱۔ محاورہ) نتھنے کا بار بار حرکت کرنا۔

نتھنوں میں تیر دینا۔ (۱۱۔ محاورہ) بے حد تنگ کرنا۔ ناک پتنے چھوڑنا۔  
ہنایت دق کرنا۔

نتھنوں میں دم آجانا۔ (۱۱۔ محاورہ) پریشان ہوجانا۔

نتھنوں میں دم کرنا۔ (۱۱۔ محاورہ) ستانا۔ ہنایت تنگ کرنا۔ ناک میں دم کرنا۔

نجاناست - دن۔ جارست، (ع۔ ا۔ مٹا) گندگی۔ ناپاک۔ خلافت۔ بول و  
 برائے۔ پانخانہ۔  
 نجانستی - (ع۔ ا۔ مذ) پندرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عیسا کی بیانی پانٹا  
 (۲) البرالمسین احمد۔  
 نجاننا۔ دن۔ جاننا، (ق۔ مٹ) صفا ہونا (۲) رنج ہونا (۳) پچانا۔  
 نجانے۔ (۱)۔ تاج۔ فعل، نہ جانتے کا مخفف (۲) میں نہیں جانتا۔ معلوم نہیں۔ کیے  
 خیر (۳) شاید۔ اب کیا جائے۔  
 نجانا۔ دن۔ ج۔ با، (ع۔ ا۔ مذ) نجیب کی جمع۔ شرفاد۔ شریف لوگ۔  
 نجانہ کی (ع۔ ص) عرب کا علاقہ نجد کا رہنے والا (۲) عبدالوہاب نجدی کا  
 پیروکار۔ وہابی۔  
 نجانہ۔ دن۔ جس، (ع۔ ص) گندہ۔ ناپاک۔ پلید۔  
 نجس العین۔ وہ چیز جو کیفیت نجس ہو۔ جس کا کھانا پینا۔ چھونا۔ لگانا۔ منوع اور  
 ناجائز ہو۔

نٹنا - (نٹ۔ نا،) (ق۔ مٹ) انکار کرنا۔ منکر ہونا۔ (۲) نٹوں کا پیشہ کرنا۔  
 (۳) نجانا۔ ایک کرنا۔  
 نٹنگ - (Knitting) دن۔ نٹنگ، (انگ۔ ا۔ مذ) نٹنا۔  
 نٹنی - (نٹ۔ نٹی) (ع۔ ا۔ مٹ) نٹ کی جو رو۔ وہ عورت جو شعبہ باز  
 ہو چلاک اور عیار عورت۔  
 نٹنی بانس پر چڑھی تو کھوکھٹ کیسا۔ (۱)۔ نٹل، بے پردہ ہونے پر کھوکھٹ  
 اور عزت باقی نہیں رہتی۔  
 نٹوا۔ (نٹ۔ وا،) (ق۔ ا۔ مذ) نٹنا۔ نٹنے والا۔ نٹال۔  
 نٹھلا۔ (نٹ۔ نٹھلا،) (ع۔ ا۔ مذ) نٹا۔ خالی۔ بیکار۔ بے شغل۔ بالفتح چھوٹے  
 قد کا بیل۔  
 نٹھورا۔ دن۔ نٹھورا، (ق۔ مٹ) جھگڑنا۔  
 نٹیا۔ (ع۔ مذ) چھوٹی قسم کا بیل (۲) چھوٹے قد کا آدمی۔ ناٹا۔

## ن۔ ث

نجانسی - (رنج۔ سی،) (ق۔ ا۔ مٹ) نجاست۔  
 رنجسی - (رنج۔ سی،) (ق۔ مٹ) نجوس۔  
 نجف - (ع۔ ا۔ مذ) اُدبئی زمین پہل پانی نہ چڑھتا ہوا (۲) دریا کے درمیان اُدبئی  
 جگہ (۳) عراق کا شہر اور شہر جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مزار ہے۔  
 نطنیا نجف انٹرن بکتے ہیں۔  
 نجم - (ع۔ ا۔ مذ) ستارہ۔ ستارہ۔ تاراج۔ جمع۔ نجوم۔  
 نجم الساقب - (ع۔ ا۔ مذ) چمکتا ہوا ستارہ۔ روشن ستارہ۔  
 نجوم - (ن۔ نجوم،) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نجوم کی جمع ستارے۔ ستارے (۲) ستاروں  
 کا علم۔  
 نجومی - (ن۔ نجومی،) (ع۔ ا۔ مذ) علم نجوم کا ماہر۔ جوتشی۔  
 نجاننا۔ دن۔ جاننا، (ق۔ مٹ) خورد سے دیکھنا۔  
 نجانول - (ن۔ جانول،) (ع۔ ص) (۱) وہ چال جس میں سوار کو دھکا محسوس نہ ہو۔  
 (۲) وہ چیز جس میں جھول نہ ہو۔

نشار - (ن۔ نثار،) (ع۔ ا۔ مذ) صدقے۔ قربان۔ واری۔ فریفتہ۔  
 نشار کرنا۔ (۱)۔ عمارہ) نچا اور کرنا۔ صحتے کرنا۔  
 نثار ہونا۔ (۱) عمارہ (۲) عمارت (۳) عمارت ہونا۔ فریفتہ  
 نثار۔ (ن۔ نثار،) (ع۔ ا۔ مذ) اُدبئی نثر کہنے والا۔ مصنف۔  
 نثر - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) پرگندہ۔ بکھرا ہوا۔ تیز بہتر۔ (۲) وہ عمارت جو منظوم  
 نہ ہو۔  
 نثر عاری - (ع۔ ا۔ مٹ) عام سادہ عمارت جو مقفی نہ ہو۔  
 نثر مہرچہ - وہ عمارت جو قافیہ دار ہو۔ مقفی و نثر عمارت۔  
 نثری - (ن۔ نثری،) (ق۔ مٹ) نثر سے متعلق۔

## ن۔ ج

نجانسی - (ن۔ جسی،) (ق۔ مٹ) ذاتی۔  
 نجانسی حساب - (ع۔ ا۔ مذ) ذاتی حساب۔ گھر کا حساب۔ ذاتی لین دین۔  
 نجانسی لوکر - (ع۔ ا۔ مذ) ذاتی ملازم۔  
 نجانسیب - (ن۔ جیب،) (ع۔ ا۔ مذ) بزرگ۔ شریف۔ بھلا مانس۔  
 نجانسیب اطرفین - (ع۔ ا۔ مذ) جرم اور باپ دونوں کی طرف سے صحیح النسب  
 ہوا (۲) اصیل۔ خاندانی۔

نجانسی - (ن۔ جسی،) (ق۔ مٹ) ذاتی خاص (۲) گھر لوی۔ خانگی۔  
 نجانسی کالوکر - (ع۔ ا۔ مذ) ذاتی ملازم۔  
 نجانسیبت - (ن۔ جابت،) (ع۔ ا۔ مٹ) خرافت۔ اصالت۔ عالی خاندان۔  
 نجانسیبت - (ن۔ جابت،) (ع۔ ا۔ مٹ) (۱) حلقہ۔ رہائی۔ گناہ معاف ہونا  
 چھٹکارا (۲) نروان  
 نجانسیبتا - (ع۔ ا۔ مذ) چھٹکارا ملنا (۲) گناہوں کی معافی ہونا (۳)  
 نجانسیبت ہونا۔ نجانسیبت ہونا۔ (۲) مصیبت وغیرہ سے چھوٹنا۔ (۵) پچنا۔  
 (۶) مرجانا۔

## ن۔ ج

نجانسیبتا - (ع۔ ا۔ مذ) نجانسیبت ہونا۔  
 نجانسیبتا - (ن۔ جابت،) (ع۔ ا۔ مذ) نجانسیبت ہونا۔  
 نجانسیبتا - (ن۔ جابت،) (ع۔ ا۔ مذ) نجانسیبت ہونا۔

نجانسیبت ہونا۔ (ع۔ ا۔ مذ) نجانسیبت ہونا۔  
 نجانسیبت ہونا۔ (ع۔ ا۔ مذ) نجانسیبت ہونا۔  
 نجانسیبت ہونا۔ (ع۔ ا۔ مذ) نجانسیبت ہونا۔

نچکان - رن - چنان (۱۰) - امت (۱۱) - پستی - نشیب - آبار - ڈھلان -  
 نچانا - رن - چنان (۱۱) - مادورہ (۱۱) - رقص کرنا - تاج کرنا - (۲) - ناک میں دم  
 کرنا - ستانا -  
 نچڑنا - رن - چڑنا (۱۱) - مص (۱۱) - پکنا - قطرہ قطرہ کرنا (۲) - دبانے یا بھینچنے سے  
 عرق نکلنا (۳) - ڈبلا اور کمزور ہوجانا -  
 نچلا - رنچ - نا (۱۱) - صفت (۱۱) - نیچے (۲) - خاموش - چپ چاپ - ساکت -  
 نچلا - بٹھانا - (۱) - محاورہ (۱) - سکون سے بیٹھنا - شرارت دکھنا -  
 نچلا رہنا - (۱) - محاورہ (۱) - انسانیت سے رہنا - شائستگی سے بیٹھنا - حرکات  
 ناشائستہ نہ کرنا -  
 نچلا نہ بیٹھنا - (۱) - محاورہ (۱) - ایک حالت پر قائم نہ رہنا - چپ نہ رہنا - کچھ نہ  
 کچھ کیے جانا -  
 نچنا - رنچ - نا (۱۰) - مص (۱) - لڑا جانا - کھسٹنا جانا (۲) - کپڑے کا پھٹ جانا -  
 نکنت - رن - پنت (۱) - صفت (۱) - بے نگر - بے پروا - فارغ - مطمئن -  
 نکنت ہونا - (۱) - محاورہ (۱) - مطمئن ہونا - یہ نیک ہونا -  
 نکینا - رن - پین - یا (۱) - صفت (۱) - مٹا جانے والا - لگا - بھانڈا - رقص - زنا نہ نہنا  
 نکوانا - رنچ - نا (۱۰) - مص (۱) - لپٹنے کے لیے آمادہ کرنا -  
 نکوانی - رنچ - نا (۱۰) - مص (۱) - مٹا جانے کی اجرت -  
 نکوڑ - رن - چوڑ (۱) - صفت (۱) - رس (۱) - آفتورہ (۲) - لب لباب - مست - عطر -  
 جو ہر (۳) - خلاصہ - حاصل - نتیجہ -  
 نکوڑ لینا - (۱) - مص مرکب (۱) - دبا کر عرق نکال لینا (۲) - مجلس بنا دینا (۳) - پی  
 لینا - جس لینا (۲) - خشک کر دینا (۵) - دھلے ہوئے کپڑوں کو دبا کر ان  
 کا پانی نکال دینا (۶) - لاغر کر دینا -  
 نکوڑنا - رن - چوڑنا (۱) - صفت (۱) - دہانا - سوتنا (۲) - دبا کر عرق یا پانی  
 نکالنا (۳) - جس لینا - خون پینا (۴) - لاغر کر دینا - خشک کر دینا - (۵)  
 کچھ باقی نہ چھوڑنا - مجلس کر دینا -  
 نکوڑنا - رنچ - نوی - یا (۱) - صفت (۱) - مٹانے والا - مرد -  
 نکھاور - رن - بھا - ڈر (۱) - صفت (۱) - مذمہ نثار - آمار - وہ نقدی یا جنس جو کسی  
 کے اوپر سے بطور صدقہ بکھیری جائے  
 نکھاور کرنا - (۱) - محاورہ (۱) - صدقہ اتارنا - دانا - بکھیرنا - نثار کرنا -  
 نکھتر - رن - جھت (تر) - صفت (۱) - مذمہ اطلاع (۲) - اس کا حصہ -  
 نکھتری - رن - جھت - ت - رن (۱) - صفت (۱) - اچھے نکھتر کی پیدائش -  
 نکھرا گوان خوش نصیب - نیک - مہارک -  
 نکھل - رن - بھل (ق) - صفت (۱) - صاف - خاص -

## ن - خ

نخ - رن - مٹ (۱) - مٹا کر شرم - رشیم کا تار یا سوت سے تنگ کی ڈور (۲) - ایک  
 قسم کا قالین جس پر بڑھتی ہے (۳) - کا پتہ کی چوٹی (۴) - چند چیزیں -  
 نخاس - رنچ - خاس (۱) - صفت (۱) - بازار - منڈی - بازار -  
 نخاس پر بیٹھنا - (۱) - محاورہ (۱) - بازار دکھانا - بیچنے کے لیے بازار بیٹھنا -  
 نخاس چڑھنا - (۱) - محاورہ (۱) - بازار میں بیٹھنے یا بیٹھنے سے کہے لیے جانا - رسوائے عام  
 ہونا - بیحد بدنامی ہونا -  
 نخاس کی کھوڑی - (۱) - مٹ (۱) - عام بگاڑ کھوڑی (۲) - کسی - رنڈی -  
 فاحشہ - قہرہ -  
 نخاس والی - (۱) - مٹ (۱) - بازاری عورت - میوا - رنڈی - کسی -  
 نخالص - رن - خالص (ق) - صفت (۱) - فارغ -  
 نخالص - رن - خالص (ق) - صفت (۱) - جو خاص نہ ہو - ملاوٹ والا (۲) -  
 خالص - ملاوٹ -  
 نخالص - رن - خالص - صاف - بے میل - جس میں ملاوٹ نہ ہو  
 نخچر - رنچ - خچر (ق) - صفت (۱) - منگوار - صید - شکار کیا ہوا جانور -  
 نخچر گاہ - (ق) - مٹ (۱) - شکار گاہ -  
 نخرا - رنچ - خرا (ق) - صفت (۱) - عشوہ - عزمہ - ادا - ناز - کرشمہ -  
 نخرا - رنچ - خرا (ق) - صفت (۱) - عشوہ - کرشمہ - پر ناز - نخزہ - کنے والا -  
 نخرا - رنچ - خرا (ق) - صفت (۱) - مٹ (۱) - عشوہ - گرمی - لاڈ - بچھلنا - ناز و ادا -  
 نخرا بکھارنا - (۱) - محاورہ (۱) - جو تھپکے کرنا - ناز و ادا نہ دکھانا - اتارنا (۲) -  
 میلہ کرنا - بہانہ کرنا -  
 نخرا - رنچ - خرا (ق) - صفت (۱) - مٹ (۱) - عشوہ - کرشمہ -  
 نخرا نکالنا - (۱) - محاورہ (۱) - عشوہ کے کرنا - مثال - مٹول کرنا -  
 نخزے - رنچ - خزی (ق) - صفت (۱) - مٹ (۱) - عشوہ - مفرد عورت -  
 نخزے میں آجانا - (۱) - محاورہ (۱) - مفرد ہوجانا - ادا میں دکھانے لگنا -  
 اکثر نون دکھانا -

## ن - ح

نحاس - رن - حاس (ق) - صفت (۱) - مذمہ - تانہ - بس -  
 نحافت - رن - حافت (ق) - صفت (۱) - کمزوری - لاغری - دلاہن -  
 نحس - رن - حس (ق) - صفت (۱) - مذمہ (۱) - آؤٹ کا ذبح کرنا (۲) - ذبح کرنا - قربانی کرنا -

ن - د

نخستین - (ن - نخست) (ف - ۱ - مذ) ابتدا - شروع - اول (صفت) پہلا -  
نخستنی (ن - نخست - گ) (ف - ۱ - مثن) پہلا پھل (۲) قدامت پہل

نخستین - (ن - نخست - تین) (ف - صفت) پہلا - شروع کا - ابتدائی - شروع  
میں پہلے پہل -

نخشب - (ن - شب) (ف - ۱ - مذ) ترکستان کے ایک شہر کا نام - جہاں  
کہتے ہیں کہ حکیم ابن مقفع نے کنوئیں سے ایک چاند بنا کر نکالا تھا، اس  
کی روشنی چار فرسنگ تک پہنچتی تھی -

نخستی (۱) - (صفت) جس عورت کا خاوند نہ ہو - عورتیں عموماً حقیر اور سری  
عورتوں کو کہتی ہیں -

نخل - (ع - ۱ - مذ) ۱) کھجور کا درخت (۲) عام درخت -  
نخل امید - (ع - ۱ - مذ) امید کے نخل سے استعارہ کرتے ہیں -

نخل امید بارور ہونا - (۱ - محاورہ) مجازاً بیشاپیدا ہونا -  
نخل آئین - آئین کا وہ درخت جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے  
تجلی الہی ظاہر ہوئی تھی - نخل طور -

نخل بند - (ع - ف - صفت) ۱) باغبان - مالی - چمن بندی کرنے والا (۲)  
موم کے درخت بنانے والا -

نخل بند کاف و نون - (ع - ف - ۱ - مذ) خدا تعالیٰ سے مراد ہے -  
نخل تابوت - (ع - ۱ - مذ) وہ ہری شاخ جو امرامرگ کے تابوت کے سرے  
باندھی جاتی ہے -

نخل حیات - (ع - ۱ - مذ) زندگی کا درخت - مراد زندگی -  
نخل کھور - (ع - ۱ - مذ) کوہ طور کا وہ درخت جس پر حضرت موسیٰ کو  
تجلی الہی نظر آئی تھی -

نخل قائم - (ع - ۱ - مذ) ۱) بیری (۲) نخل تابوت -  
نخل مریم - (ع - ۱ - مذ) کھجور کا وہ سوسکا درخت جس کے نیچے حضرت مریم  
علیہا السلام کی تولید کے وقت بیٹھی تھیں اور ان کی برکت سے وہ درخت  
سرسبز ہو گیا تھا -

نخل ہستی - (ف - ۱ - مذ) زندگی کا درخت - مجازاً زندگی -  
نخلستان - (ع - ل - ت - ن) (ف - ۱ - مذ) کھجور کے درختوں کا جھنڈ - گیتان  
میں سرسبز و شاداب قطعہ -

نخوت - (ن - خ) (ع - ۱ - مثن) گھنٹہ - غرور - خود بینی - تکبر - اہمیت  
اردو میں بفتح نون استعمال ہے -

نخوت سے بھرا ہوا - (۱ - مثن) پُر از غرور و تکبر ہونا -  
نخوت کی ہوا ابھرنا - (۱ - محاورہ) بہت مغرور ہونا -  
نخوت سمانا - (۱ - محاورہ) غرور ہونا - گھنٹہ ہونا -

نخود - (ن - خ) (ف - ۱ - مذ) چنا -  
نخود آب - (ف - ۱ - مذ) ایک قسم کا شوربہ جو گوشت اور پنے کی دال  
سے تیار کیا جاتا ہے -

نخیل - (ع - ۱ - مذ) درخت - کھجور کا درخت -  
نخیلین - (ن - خ) (ف - ۱ - مثن) کپڑے یا لاکھ کی باریک چوڑیاں -

نڈ - (س - ۱ - مذ) دریا - ندی - نالہ -  
نڈا - (ع - ۱ - مثن) آواز - صدا - بکار - (ف) وہ حرف جو بلائے کے لیے

استعمال ہوتا ہے جیسے اے - او - بے -  
نڈا دینا - (۱ - محاورہ) بلانا - آواز دینا -  
نڈا رو - (ن - ۱ - مذ) (ف - صفت) ۱) کورا - خالی - نہیں (۲) نیست  
غیر حاضر -

نڈا رو کرنا - (۱ - مصل مرکب) ۱) کسی حق کو چھوڑ دینا (۲) کسی چیز کو  
نیست و نابود کر دینا -  
نڈا رو ہونا - (۱ - محاورہ) غائب ہونا - مٹ جانا - نیست و نابود ہونا -  
غیر حاضر ہونا -

نڈا ف - (نڈ - ف) (ع - ۱ - مذ) روئی دھکنے والا - دھنیا -  
نڈا شیر - (ع - ۱ - مذ) وہ جگہ جس میں ندا کا حرف آئے -  
نڈائی - (نڈ - ن) (ع - ۱ - مثن) روئی دھکنے کا پیشہ -

ندامت - (ن - ۱ - مثن) (ع - ۱ - مثن) شرمندگی - انفعال - ہیشمانی -  
نجات دیکھنا - (ع - ۱ - مثن) نجات -  
ندامت اٹھانا - (۱ - محاورہ) شرمندگی ہونا - نجات ہونا -  
ندامت زودہ - (ع - ۱ - مثن) پشیمان - شرمندہ -

نڈرا - (نڈ - ن) (ع - ۱ - مثن) نیشہ -  
نڈرت - (نڈ - ن) (ع - ۱ - مثن) عسکر - انوکھا پن - نادار پن - کیا بی -  
نڈھا - (ن - ۱ - مذ) ۱) مذہب کی بیخ - مصاحب لوگ - مجلس -  
نڈولا - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -

نڈوہ - (نڈ - ۱ - مذ) مجلس - اجتماع - سبھا -  
نڈھڑ - (ن - ۱ - مذ) ناقص - بے کار -  
نڈھڑک - (۱ - مثن) بے خوف - بے خطر -

نڈی - (نڈ - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی کو کھول کر پھرائی میں تو پہلے ہی پاؤں نہیں دھرتا - (۱ - مثن)  
ہم کیوں گھبراتے ہو میں تو پہلے ہی ہمارے پاس نہیں آتا -

نڈی کا اترنا - (۱ - محاورہ) نڈی کا پانی کم ہونا -  
نڈی کا چڑھنا - (۱ - محاورہ) نڈی کا پانی معمول سے بڑھ جانا -  
نڈی میں جانا پیاسے آنا - (۱ - محاورہ) ناکام لوٹنا -

نڈیدہ - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -

نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -

نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -

نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -  
نڈی - (ن - ۱ - مذ) ۱) نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ - نڈھولہ -

## ن۔ ڈ۔

نڈر۔ (۵۔ صفت) ۱) بے خوف۔ دلیر۔ بہادر۔ شجاع۔ جبری (۲) بد لحاظ۔  
نڈر کن۔ (۵۔ صفت) ۱) بے خوفی۔ بے ہنگامی (۲) دلیری۔ جرات۔  
نڈری آنکھیں۔ (۱۶۔ صفت) دیدہ دلیر آنکھیں۔ جن آنکھوں میں ڈر نہ ہو۔  
نڈھال۔ (رن۔ ڈھال) ۵۔ صفت) سست۔ تھکا ہوا۔ ضعیف و ناتواں۔

## ن۔ ڈ۔

نڈر۔ (۵۔ صفت) ۱) رات۔ منت۔ عمدہ۔ قربانی۔ بھینٹ۔ چڑھاوا (۲) نیاز۔ خاکہ  
تھقہ (۳) اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لینا۔  
نڈرانا۔ (۱۔ ع۔ ف۔ ا۔ صفت) تھقہ۔ ہدے۔ بھینٹ۔ پیش کش۔  
نڈر کرنا۔ ہدیتا دینا۔ تھقتا دینا۔ پیش کش کرنا۔  
نڈر پیش کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) نڈر دکھانا۔ نقدی ہاتھ یا رومال پر رکھ کر وقت  
ملاقات کسی حاکم یا رئیس کے رو برو پیش کرنا۔  
نڈر چڑھانا۔ (۱۶۔ محاورہ) قہریا تمغے پر کوئی چیز بطور منت چڑھانا۔  
نڈر دکھانا (دکھلانا)۔ (۱۶۔ محاورہ) ہاتھ پر نقدی رقم رکھ کر حاکم یا رئیس کے پیش  
کرنا۔ وہ ہاتھ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں۔  
نڈر دینا۔ (۱۶۔ محاورہ) کسی بڑے کے سامنے کوئی چیز یا نقدی بطور تحفہ پیش  
کرنا (۲) رشوت دینا (۳) خاکہ کرنا۔  
نڈر کا پنجم چڑھانا۔ (۱۶۔ محاورہ) منت پوری ہونے پر امام بارگاہ کے علم  
پر چاندی یا سونے کا پنجم چڑھانا۔  
نڈر کرنا۔ (کرنا۔ گزارنا)۔ (۱۶۔ محاورہ) ۱) بھینٹ چڑھانا۔ پیش  
کرنا۔ (۲) رشوت دینا۔ پوجنا (۳) حوالہ کرنا۔ سپرد کرنا۔ کسی کے  
سامنے نقدی پیش کرنا۔  
نڈر ماننا۔ (۱۶۔ محاورہ) منت کرنا۔ کسی بات یا عہد کو اپنے اوپر واجب  
کر لینا۔  
نڈر سے۔ (۱۶۔ محاورہ) حاضر ہے موجود ہے۔  
نڈر یں گذرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) حاکم کے سامنے تھقہ اور نقدی پیش کرنا۔  
نڈیر۔ (رن۔ ڈیر) ۱۔ مذم۔ ڈرانے والا۔ خدا کا خوف دلانے والا۔ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب۔

## ن۔ ر۔

نر۔ (۵۔ مذم۔ مرد) مذکر۔ مادہ کا مقابل۔  
نر گاؤ۔ ف۔ بیل گائے کا نر۔  
نر مادہ۔ (نر مادین)۔ (۵۔ مذم۔ صفت) ۱) مرد اور عورت (۲)

بیلہ کا دایاں اور بائیاں۔  
نریش۔ (۵۔ مذم) مینڈا۔ چھترا۔

نر۔ (۵۔ مذم) نہیں۔ مرکبات میں بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے۔  
نر اور۔ (۵۔ صفت) بے عزت (۲) ذلیل خوار (۲) خوار و ذلت۔ رسوائی۔  
نر ادھار۔ (۵۔ مذم) بے وسیلہ۔ بے سہارا۔ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔  
نراس۔ (۵۔ مذم) مایوسی۔ نا اُمیدگی۔  
نراسا۔ (۵۔ صفت) مایوس۔ نا اُمید۔  
نرانکار۔ (۵۔ مذم) جس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو۔ بے روپ (۲) بشر نما۔  
نر بدھ۔ (۵۔ صفت) اجہتی۔ بیوقوف۔ کم عقل۔ نادان۔ بد سمجھ۔  
نر بیل۔ (۵۔ صفت) کمزور۔ ناتواں۔

نر بندھ۔ (۵۔ مذم) کسی بات پر زور دینا (۲) ثابت قدمی۔ استقامت۔  
(۳) اصرار۔ بند۔ ہٹ (۴) ارادہ۔ قصد۔  
نر بندھ کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) اصرار کرنا۔ عہد کرنا۔  
نر بھانگی۔ (۵۔ صفت) بد نصیب عورت۔ بد قسمت۔  
نر بھنے۔ (۵۔ صفت) بے خوف۔ بیباک۔ نڈر۔  
نر پھیل۔ (۵۔ صفت) بغیر پھیل کا۔ بے غم سے فائدہ۔ اکارت۔ بے حصول۔  
نر چل۔ (۵۔ صفت) بے آب و گیاہ۔ خشک ریگستان۔  
نر جلا۔ (۵۔ صفت) جس میں پانی بھی نہیں سما جاتا۔  
نر جلا (کا دوشی)۔ (۵۔ مذم) ہندوؤں کا ایک جوار جو گیاریوں سے سدھی جیٹھ  
کو ہوا کرتا ہے۔

نر دوش۔ (۵۔ صفت) نردوکہ۔ بے خطاب۔ بے تصور۔ معصوم۔  
نر دوش ٹھہرانا۔ (۵۔ محاورہ) بے تصور ٹھہرانا۔ راکرنا۔ چھوڑنا۔  
نر دھن۔ (۵۔ صفت) مفلس۔ نادار۔ رنگال۔  
نر دنی۔ (۵۔ صفت) سنگدل۔ ظالم۔  
نر نسا۔ (۵۔ صفت) غراب۔ جرم۔ طاعت والا  
نر گن۔ (۱۱) بے سلیقہ۔ بے ہنر (۲) ذات جو صفات انسانی سے متبرا  
ہو سے (۳) صفات رہتی۔  
نر گینا۔ (۵۔ مذم) ۱) موحد۔ دیداسی۔ صرف ذات حق کو ملنے والا (۲) جاہل۔  
ناسمجھ۔ بے وقوف۔

نر لاج۔ (۵۔ صفت) بے شرم۔ بے حیا۔ بیباک۔  
نر ل (نر ل)۔ (۵۔ صفت) صاف شفاف۔ پاکیزہ۔ تھرا ہوا۔ بے داغ۔ خالص۔  
نر ملی۔ (۵۔ صفت) ایک قسم کا بیج جس سے گدلا پانی صاف ہو جاتا ہے۔  
نر مول۔ (۱۱) بے اصل۔ بے بنیاد (۲) (ق) ۱) نمل۔  
نر موہی۔ (۵۔ صفت) سنگدل۔ بے رحم۔

نر واد۔ (۵۔ مذم) ۱) فنا۔ نیستی (۲) نجات۔ کشتی۔  
نر وید۔ (۵۔ مذم) دید کو نہ ماننے والا۔  
نر و۔ (رن۔ و) ۵۔ صفت) ۱) صرف۔ بعض۔ اکیلا (۲) سراسر۔ بالکل (۳)  
صاف۔ نرل (۲) فقط۔ بعض۔

نر و اس گئی کا ٹھہرے سے۔ (۱۶۔ محاورہ) بڑا شرارتی ہے (۲) غصیلا۔  
نر و جون پور کا قاضی ہے۔ (۱۶۔ محاورہ) بڑا بیوقوف ہے۔



# ن - ز

نزہ - (ع - صف) چست چالاک - بھرتیلا (۲) ذبیحہ - ہوشیار - (۳) ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ کر جانے والا - (۴) چشمہ - سوتا - (۵) شتر مرغ -

نزار - (ن - ناز) (ن - ا - صف) ڈبلا پتلا کمزور (۲) مغلس - تلاش -

نزارع - (ن - نازع) (ع - ا - ۱ - صف) جھگڑا - فساد - ٹھکارہ - تنازعہ - جمع - نزاعات -

نزارع لفظی - نباتی بحث و ٹھکارہ -

نزارکت - (ن - نزارکت) (ن - ا - ۱ - صف) ۱۱) پارچی - پاکیزگی - نازک مزاجی - نازک مزاجی کا اظہار (۲) خوبی - لطافت - نفاست (۳) کمزوری - ناتوانی -

نزارہست - (ن - ا - ۱ - صف) ۱۱) ماتحت - نازکی (۲) دھیما پن - (۳) پاک ہونا -

نزرد - (ن - تابع فعل) (ن - ا - ۱ - صف) ۱) آگے - پیش -

نزردیک - (ن - نزردیک) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) اقرب - پاس (۲) رائے میں - سمجھ میں -

نزردیک پہنچنا - (ن - ا - ۱ - صف) پاس کی چیز دیکھنے والا -

نزردیک مہنگنا - (ن - ا - ۱ - صف) ۱) محاورہ (۲) قریب آنا -

نزردیک - (ن - ا - ۱ - صف) (۱) اقرب - قرب (۲) مباشرت -

نزرد - (ن - ا - ۱ - صف) (۱) متجاہد - کئی - دم ٹھنڈا -

نزردہ - (ن - ا - ۱ - صف) (۱) ایک مرتضیٰ جس کی رطوبت کا اثر خلق - ہیکھوں - داخل اور ہاتوں پر ہوتا ہے -

نزردہ پر عضو ضعیف سے ریزو - (ن - ا - ۱ - صف) ۱) مصیبت - ہمیشہ کمزور پر ہی آتی ہے - کمزور اور عزیز کی ہر جگہ غرابی ہے -

نزردہ گرنا - (ن - ا - ۱ - صف) (۱) محاورہ (۲) نزلہ کا کسی عضو پر حملہ کرنا (۲) (کنایتاً) آفت آنا - شامت آنا -

نزردول - (ن - نزلول) (ع - ا - ۱ - صف) (۱) نازل ہونا - فرود کش ہونا (۲) وہی کا نازل ہونا (۳) آنکھوں سے متواتر پانی بہنا - نزلول الماء (ن - ا - ۱ - صف) سرکاری زمین - ضبط کی کوئی زمین -

نزردول اجلال - کسی جگہ مرتبہ والے شخص کا آنا -

نزردول وحی - پیغمبر پر احکام الہی کا نازل ہونا - وحی آنا -

نزردولی - (ن - نزلولی) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) شاہی فوج اور لشکر کا پٹرا (۲) وہ چیز جو ضبط ہو جائے (۳) نزلول کا ٹکڑا -

نزردہست - (ن - نزلہست) (ع - ا - ۱ - صف) پاکیزگی - نزلوتنگی - بے عیب اور فرزت بخش -

نزردہست افزا - (ع - ا - ۱ - صف) خوشبو زیادہ کرنے والا - شاداب کرنے والا -

نزردہست اکتھا - (ع - ا - ۱ - صف) خوشبو سے بچانا ہوا - ہلکا ہوا - خوشبو دار -

نرم زبان - (ن - صف) ملائم باتیں کرنے والا آدمی -

نرم کرنا - (ن - ا - ۱ - صف) ۱) محاورہ (۲) دھیما کرنا - کسی کا غصہ فرو کرنا -

نرم کوس - (ن - ا - ۱ - صف) دو میل سے کم کچھ فاصلہ -

نرم گرم - (ن - صف) سخت شست - بڑا پھیلا - اختلاف زمانہ -

نرم گرم اٹھانا - (ن - محاورہ) برقی بجلی بات کو برداشت کرنا (۲) تجربہ کار ہونا -

نرم لکھام - (ن - صف) کھوٹا جو پاک کے اشارہ پر پھلے - قربانبردار کھوٹا - اشارہ سمجھنے والا -

نرم لگائی - (ن - نرم لگائی) (ن - ا - ۱ - صف) نرمی -

نرم لگانا - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) نرم کرنا - دھیما کرنا - ملائم کرنا -

نرم نرئی - (ن - ا - ۱ - صف) نرمی (ن - ا - ۱ - صف) کسی معاملہ میں آہستگی -

نرم ہاست - (ن - نرم ہاست) (ن - ا - ۱ - صف) نرمی - ملائمت -

نرمہ - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) کان کی کوڑا - ایک قسم کا کپڑا - ایک قسم کی کپاس -

نرمی - (ن - نرمی) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) ماتحت - نازکی (۲) دھیما پن - (۳) مہربانی - نرم دلی (۴) آہستگی (۵) پھیلا پن (۵) لطافت (۶) آسانی (۷) بروداری - برداشت -

نرمین - (ن - نرمین) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) بے عیب - بے داغ (۲) خدا - ایشور -

نروا - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) ٹیل -

نروال - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) الگ بھدا -

نروان - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) ۱) نجات دادا گوٹن - رہائی -

نروپ - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) کئی کئی شکل نہ ہوود - بد شکل - بد نما (۲) جس کا کوئی جسم نہ ہو - ایشور -

نروگی - (ن - ا - ۱ - صف) بیماری سے بچا ہوا - تندرست -

نرودہ - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) بعدہ (۲) غلیظ (۳) (ن - ا - ۱ - صف) آٹھ تناسل (۴) درخت کا تنہا (۵) بیجوڑا -

نرئی - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) کھاس جو تالابوں میں آگتی ہے (۲) وہ شاخ جو گھوں یا جو کی بالی کے ساتھ ہوتی ہے -

نرئی - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) بکری یا بھیر کے گردنگا ہوا چوڑا -

نریش - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) بادشاہ -

نرینہ - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) نر -

# ن - ط

نر - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) وہ قوم جو چوڑیاں بناتی ہے -

نرا - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) اندر کا صفت - صفت جو قابل استعمال نہیں ہوتا - گاجر کی ہڈی -

نرطی - (ن - ا - ۱ - صف) (ن - ا - ۱ - صف) (۱) ایک قسم کی آتش بازی (۲) مجھے کیئے (۳) ایک آبی پزندہ -





نشا خاطر۔ دل کی تسلی۔ دل جی۔ دلینان۔ نشاۃ۔ (نش۔ آت۔) (ع۔ م۔ مٹ)۔ پیدائش۔ نئی پیدائش۔ نئی زندگی شروع ہونا۔ نوجوان ہونا۔

نشاۃ ثانیہ۔ کسی قوم یا ملک کا از سر نرتقی کرنا۔ دوبارہ عروج پانا (انگ) (Renaissance)

نشا تین۔ (نش۔ ا۔ تین) (ع۔ ا۔ مذ)۔ دولز جہان۔ دنیا اور عقیقہ۔ نشاستہ۔ (نش۔ شاس۔) (ع۔ ا۔ مذ)۔ (۱)۔ کیوں کاست۔ مغز گندم (۲)۔ کھٹ۔ ماندی بیج (۳)۔ جمایا ہوا۔ بیٹھا ہوا۔

نشاط۔ (ن۔ نشاط) (ع۔ ا۔ مٹ)۔ خوشی۔ شادمانی۔ فرحت۔ مزہ۔ نشاط افزا (انگیز)۔ (ع۔ ف۔ صفت)۔ فرحت بڑھانے والا۔ خوشی زیادہ کرنے والا۔

نشاط کار۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مذ)۔ کام کرنے کی اُٹھک۔ کار گذاری کا شوق۔ نشاۃ۔ (نش۔ نشاط) (ع۔ صفت)۔ جذب کرنے والا۔ جاذب۔

نشان۔ (ن۔ نشان) (ع۔ ا۔ مذ)۔ (۱)۔ آثار (۲)۔ کھوج۔ پتہ۔ سراغ۔ (۳)۔ چھپا۔ چھاپا (۴)۔ یا نگار (۵)۔ جھنڈا۔ علم (۶)۔ مقام۔ پتہ (۷)۔ داغ۔ دھبہ (۸)۔ بادشاہ کا فرمان (۹)۔ تمغہ (۱۰)۔ اثر۔ علامت (۱۱)۔ کارخانے کی مہر۔ گریڈ مارک (۱۲)۔ کھرا۔ کھوج (۱۳)۔ پھوٹے یا زخم کا داغ (۱۴)۔ بدھ۔ رشتہ (۱۵)۔ کسی جماعت کی علامت۔

نشان بانی نہ چھوڑنا (انگیز)۔ (۱)۔ محاورہ)۔ نیست و نابود کرنا۔ برباد کرنا۔ نشان بردار۔ (ع۔ ف۔ صفت)۔ علم بردار۔ جھنڈے کے چلنے والا۔

نشان یا۔ (ن۔ ا۔ مذ)۔ قدم کا نشان جو چلنے میں زمین پر بن جاتا ہے۔ نشان پانا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ پتہ پالینا۔ سراغ پانا۔

نشان پر سہرا چڑھانا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ منت پوری ہونے کے بعد تعزینے کے علم پر پھولوں کے سہرے چڑھانا۔

نشان پڑنا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ دھبہ پڑنا۔ چوٹ کی علامت پانی رہنا۔ نشان چڑھنا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ منگنی یا ساجین کے روز انگوٹھی چھلا وغیرہ دوہن کو پہنانا۔

نشان دہی۔ (ع۔ مٹ)۔ سراغ رسانی۔ پتہ دینا۔ ٹھکانا پانا۔ نشان رہ جانا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ علامت یا یا نگار پانی رہ جانا۔

نشان سے گزر جانا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ نام دہی حاصل کرنے کی خواہش پانی نہ رہنا۔

نشان کرنا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ (۱)۔ دھبہ ڈالنا (۲)۔ نمبر ڈالنا۔ صحیح کرنا۔ نشان کاڑنا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ جھنڈا کاڑنا۔

نشان مٹنا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ نام و نشان باقی نہ رہنا۔ کوئی یادگار یا پتہ چھوڑنا۔ نشان مٹنا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ سراغ مٹنا۔

نشان نہ رکھنا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ نیست و نابود کر دینا۔ تباہ و برباد کر دینا۔ نشا چھی۔ (ن۔ نشان) (ع۔ ا۔ ت)۔ (۱)۔ مذ)۔ (۱)۔ عمدہ نشاۃ لگانے والا (۲)۔ جھنڈا بردار۔

نشاۃ۔ (ن۔ نشاۃ) (ع۔ ا۔ ت)۔ (۱)۔ مذ)۔ (۱)۔ مدھ)۔ وہ علامت جو گولی یا تیر کی مشق کے لیے بنائی جائے۔ گولی یا تیر مارنے کی جگہ۔ شہت۔ زور۔

نش جسم والا۔ محبوب۔ نش طور۔ (نش۔ طوہ) (ع۔ ا۔ مذ)۔ آتش پرستوں کا پیشوا۔ پیر دانا۔ نشتی۔ (ن۔ نشتی) (ع۔ ا۔ مذ)۔ قاعدہ۔ دستور (۲)۔ بندوبست۔ انتظام۔ نش کل۔ (ن۔ نش کل) (ع۔ ا۔ مذ)۔ لاچار۔ محتاج۔ نشل۔ (ع۔ ا۔ مٹ)۔ (۱)۔ آکل۔ اولاد۔ بال بچے۔ قبیلہ۔ خاندان۔ نشل بڑھانا۔ (۱)۔ محاورہ)۔ اولاد زیادہ کرنا۔ پور بڑھانا۔ نشل پدیری۔ (ع۔ ا۔ مٹ)۔ (۱)۔ مٹ)۔ باپ کا خاندان۔ جدی خاندان۔ نشل دار۔ (ع۔ ف۔ ا۔ مٹ)۔ (۱)۔ مٹ)۔ اچھی ذلت کا۔ اچھے خاندان کا۔ عال نسب۔

نسل بعد نسل۔ (نش۔ ن۔ ن)۔ بعد نش۔ (ن۔ ن)۔ تالیق نسل، پشت در پشت۔ نسل۔ (نش۔ ن)۔ (ع۔ صفت)۔ نسل سے متعلق۔ اچھی نسل کا۔

نسناس۔ (ن۔ ن)۔ (ع۔ مٹ)۔ غائب کرنا۔ بھگانا۔ چلا جانا۔ نش ناس۔ (نش۔ ناس) (ع۔ ا۔ مذ)۔ مٹ)۔ مٹ)۔ ایک قسم کا شیطان۔

نش ناس ہندی۔ (ع۔ ا۔ مذ)۔ ہندوستانی ہندیا بھگور۔ نش دار۔ (نش۔ دار) (ع۔ ا۔ مٹ)۔ سونگنے کا پسا ہوا کجا بھلا۔ ناس۔

نشوان۔ (نش۔ وان) (ع۔ ا۔ مٹ)۔ عورتیں۔ عورتوں سے متعلق۔ مستورات۔ بیویاں۔ نشوانی۔ (نش۔ وان) (ع۔ صفت)۔ عورتوں سے متعلق۔ عورتوں سے منسوب۔

نشوت۔ (ن۔ نشوت) (ع۔ صفت)۔ (۱)۔ خاص۔ صاف۔ شہرا بکار (۲)۔ بیتر ملاوٹ کا (۳)۔ ایک پودے کا نام۔

نشیا نشیا۔ (نش۔ ییم۔ بن۔ سی)۔ یا۔ (ع۔ صفت)۔ ذہن سے آراہا۔ بھولا ہوا۔ فراموش شدہ۔

نشیان۔ (نش۔ یان) (ع۔ ا۔ مذ)۔ (۱)۔ بھول۔ چوک۔ فراموشی والا ایک مرض جس میں انسان کے ذہن سے گذشتہ واقعات کو بھولتے ہیں۔

نشیاتی۔ (نش۔ یاتی) (ع۔ صفت)۔ بھول جانے والا۔ یاد نہ رکھنے والا۔

نشیلا۔ (ن۔ سی)۔ (۱)۔ (ع۔ صفت)۔ مضبوط۔ ریشے دار۔ نشیم۔ (ن۔ نشیم) (ع۔ ا۔ مٹ)۔ کچھلی رات کی نرم و معطر ہوا۔ صبح کی

نشیم سحر سحری۔ (ع۔ ا۔ مٹ)۔ صبح کی ہوا۔ ہلی خوشبودار ہوا۔ نشیمی۔ (ن۔ سی)۔ (۱)۔ مٹ)۔ کلاہ کی سیڑھی۔

نشیمہ۔ (نش۔ یم) (ع۔ ا۔ مذ)۔ قرظ۔ اُدھار۔ (۲)۔ تاخیر۔ دیر۔ موقع (۳)۔ بھری کوئی چیز۔ بے فائدہ چیز۔

## ن۔ش۔

نشا۔ (نش۔ ا) (ع۔ ا۔ مذ)۔ پیداکرنا (۲)۔ دنیا جہاں۔ نشا۔ (ن۔ نشا) (ع۔ ا۔ مذ)۔ اعتبار۔ یقین۔ نشابل۔ (ن۔ ا۔ مذ)۔ ذیل کے بروج کا مجموعی نام۔ ثور۔ جوزا۔ سرطان۔ قوس۔ اور جدی۔

نشاندہ اُردوینا (اُردوینا) - نشاندہ کا ہدف پر بیٹھنا۔ گولی یا تیر مار کر ہدف کا نشان اُردوینا۔

نشاندہ انداز - (نصف) ٹھیک نشاندہ باندھنے والا۔ نشانی۔

نشاندہ باندھنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشاندہ تاننا۔

نشاندہ بنانا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - ہدف بنانا (۲) - ہدف طاعت بنانا۔

نشاندہ بچھنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشاندہ خطا بچھنا۔

نشاندہ بننا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - گولی یا تیر وغیرہ مارنے کی جگہ بتانا (۲) - ہدف طاعت بننا۔

نشاندہ بیٹھنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - گولی یا تیر صحیح نشانے یا ہدف پر لگانا۔

نشاندہ پرٹ پڑنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشاندہ خطا ہونا۔

نشاندہ (نشاندے) پر بیٹھنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - گولی یا تیر صحیح نشانے پر لگانا مقصد برآ کر (۲) - بات کا اثر ہونا۔

نشاندہ پر تیر پڑنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - زور پر تیر لگنا (۲) - تدبیر کارگر کو نکلنا (۳) - مقصد برآ کر۔

نشاندہ تاننا (جور تانا) - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشاندہ تاننا۔ نشاندہ باندھنا۔

نشاندہ چوکن - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشاندہ کا ہدف پر نہ پڑنا۔ نشاندہ خطا ہونا۔

نشاندہ خطا کرنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشاندہ چوک جانا۔ نشاندہ ہدف پر نہ بیٹھنا۔

نشاندہ خالی نہ جانا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - وار خالی نہ جانا۔ شست بر لگنا۔

نشاندہ کرنا (لگانا، مارنا) - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - شست باندھ کر گولی یا تیر نشانے پر مارنا (۲) - شکا کرنا (۳) - چاند مہی کرنا۔

نشاندہ ہونا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - گولی یا تیر سے مارا جانا۔ مرجانا۔

نشانی - (ن - شانی) - (ن - ا - م - ش) - (۱) - یادگار (۲) - پیمانہ - شناخت علامت (۳) - اکل - اولاد - نسل - خاندان (۴) - انگوٹھی یا زیورہ شکنی کے روز دہن کو مینا تے ہیں۔

نشانی دینا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - کوئی چیز بطور یادگار دینا۔

نشانی رکھنا - یادداشت کے واسطے کتاب میں کوئی چیز رکھنا۔

نشانی کرنا - ناخاندہ شخص کا دستخط کی جگہ کوئی کرنا۔

نشانی کا پھلنا - (۱) - (ن - ا - م - ش) - ۱۱ - وہ پھلا جو بطور یادگار کسی کو دیا جائے۔

نشتر - (ن - ش - ر) - (ن - ا - م - ش) - ۱۱ - نشتر کا مختلف قسم چینے کا اوزار۔

نشتر دینا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشتر لگانا۔ نشتر سے چیرنا۔

نشتر زدن - (ن - ش - ر) - (ن - ا - م - ش) - ۱۱ - نشتر دینے والا۔ قصا۔

نشتر کھانا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - تکلف اٹھانا۔ صدمہ اٹھانا۔

نشتر لگانا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - کسی عضو میں نشتر چھیننا۔

نشتر مارنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشتر سے کام لینا۔ نشتر کو بے ساختہ چھو دینا۔

نشٹ - (س - ا - م - ش) - (س - ا - م - ش) - ۱۱ - خالص شدہ (صفت) گھویا ہوا۔ پتھان۔ گشہ۔

نشچت - (س - صفت) - معلوم کیا ہوا۔ تحقیق کیا ہوا (۲) - فیصلہ شدہ (۳) - (ن - ا - م - ش) - ۱۱ - یقین (۴) - فیصلہ نتیجہ (۵) - یقینی طور پر۔

نشچمنت - (س - ا - م - ش) - ۱۱ - بے فکر ہے۔ پروا ہے۔ کوئی کام نہ سمجھتا۔

نشچے - (ن - ش - چے) - (س - ا - م - ش) - ۱۱ - اہمیت۔ تحقیقات (۲) - پکی رائے۔

یقین - ایمان (۳) - ارادہ - منشا۔

نشچی کرنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - یقین کرنا۔ دریافت کرنا (۲) - ارادہ کرنا (۳) - اطمینان کرنا (۴) - منہ سے لینا۔

نشکر - (ع - ا - م - ش) - (۱) - زندہ کرنا۔ زندہ ہونا (۲) - اشاعت۔ پھیلاؤ (۳) - بکھیرنا۔ (۴) - خبر شہور کرنا۔

نشکر الصوت - اکوا پھیلاؤ۔ براؤ کا سٹ کرنا۔

نشکریات - (ن - ش - ر) - (ن - ا - م - ش) - (ع - ا - م - ش) - ۱۱ - لاسکی کے ذریعہ نشر کرنے کا سلسلہ۔ براؤ کا سٹنگ۔

نشکر یہ - (ع - ا - م - ش) - (۱) - وہ بات جو ریڈیو پر اعلان کی جائے۔

نشست - (ن - ش - م - ت) - (ن - ا - م - ش) - (۱) - بیٹھنا۔ کرسی۔ (۲) - موزونیت (۳) - محبت (۴) - ہم نشینی (۵) - بیٹھنے کی جگہ (۶) - اجلاس۔ (۷) - بارے کا بیٹھ جانا۔

نشست برخواست - (ن - ا - م - ش) - (۱) - اٹھنا۔ بیٹھنا (۲) - اٹھنے بیٹھنے کی تمیز۔ دو آپ مجلس۔

نشست ٹھہرانا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - بیٹھنے کی جگہ مقرر کرنا۔

نشست گاہ - (ن - ا - م - ش) - (۱) - بیٹھنا۔ دوکان خانہ۔ بیٹھنے کی جگہ۔

نشور - (ع - ا - م - ش) - (۱) - بالیدگی۔ روئیدگی۔ نو۔ پیداوار (۲) - اگنا۔ پیدا ہونا۔ پھلنا۔ پھولنا۔

نشور نما - (۱) - بالیدگی۔ روئیدگی۔ پھولنا۔ پھولنا۔ پرورش پانا (۲) - روئنے۔ پھولنے۔ ترقی۔

نشور و نما پانا - (ع - ا - م - ش) - (۱) - نو ہونا۔ پرورش پانا۔ سرسبز شاداب ہونا۔ ترقی پانا۔

نشور پورن - (ع - ا - م - ش) - (۱) - مردے کا روزِ حشر اٹھنا۔ حشر قیامت۔

نشور - (ن - ش - م - ت) - (ن - ا - م - ش) - (۱) - سستی۔ سردی۔ ٹھنڈی۔

نشور خوراب - فیون وغیرہ کے استعمال کے بعد پیدا ہوتی ہے (۲) - غرور۔ ٹھنڈ (۳) - دولا۔ جزئی۔

نشور آنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - سرد ہونا۔ نش چڑھنا (۲) - مزہ آنا۔ ٹھنڈ آنا۔

نشور آ کرنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - بوٹھ میں آنا۔ خار جانا۔

نشور آس نے پیما، خمار ہمیں چڑھا - (۱) - شل - امیر آدمی کے شرابوں کو خمر کریں تو ہمارا جانا ہے۔

نشور باز - (ن - ش - م - ت) - (ن - ا - م - ش) - ۱۱ - نشور کا ہادی۔ نشور کو رکھنے والا۔ شرابی۔

نشور بودا ہونا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - ایسا نشور ہونا جس سے جرأت اور دلیری جاتی رہے۔

نشور پانی - (۱) - (ن - ا - م - ش) - ۱۱ - نشور کی چیز کھانا۔

نشور پانی کرنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشور پانا۔ نشور کی چیز کھانے پینے کو دینا۔ (۲) - رشوت دینا۔

نشور پیدا ہونا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشور کی چیز کھانے سے سستی کی حالت ہونا۔

نشور چھنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشور پیدا ہونا۔ نشور کا پھیلنا۔

نشور خوان ہونا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - نشور کا تیزی پر ہونا۔

نشور چڑھنا - (۱) - (مجاورہ) - ۱۱ - سرور ہونا۔ مست ہونا۔ غمور ہونا۔



(۳) حاصل - میسر (م) جس کے مقدر میں کوئی بات ہو۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے مرغان نصیب اور خوش نصیب۔  
نصیب آزمانا - (۱۶) محاورہ (۱۶) خوش کرنا اور نتیجہ کو قسمت پر چھوڑ دینا  
نصیب اعداء - دشمنوں کا گھر، دشمنوں کو نصیب ہو۔ دشمن کو میسر ہو۔  
نصیب اللہ (یا بگڑنا) - (۱۶) محاورہ قسمت کا پٹا کھانا حالات کا بگڑ جانا۔  
نصیب پانا - (۱۶) محاورہ اپنی قسمت کا کھانا حاصل کرنا۔ اپنا حصہ لینا۔  
مقدر کا کھانا سناے آنا۔

نصیب پلٹنا - (۱۶) محاورہ حالات میں انقلاب ردوفا ہونا حالات کا بہتر ہو جانا۔

نصیب بھرنانا - (۱۶) محاورہ اچھے دن آنا حالات کا سازگار ہونا۔  
نصیب (پچھوٹنا) پچھوٹ جانا - (۱۶) محاورہ قسمت بگڑ جانا۔  
منصبت آنا۔

نصیب اڑھا ہونا - (۱۶) محاورہ بد قسمت ہونا۔  
نصیب جاگھنا - (۱۶) محاورہ قسمت کھلنا۔ حالات کا سازگار ہونا۔  
نصیب چمکنا - (۱۶) محاورہ تقدیر چمکانا۔ حالات کا سازگار ہو جانا۔  
نصیب خفتہ - (ع) - (۱۶) مذ) سویا ہوا نصیب بد قسمتی (۲) بد قسمت بد نصیب۔  
نصیب دشمنوں کا کلڑوٹنا، دشمنوں کو نصیب ہو۔ دشمن کو میسر ہو۔  
نصیب سو جانا - (۱۶) محاورہ بد قسمتی کا زمانہ ہونا۔  
نصیب سے - (۱) تالیق فعل (قسمت سے - خوش قسمتی اور بد قسمتی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔

نصیب سپدھا ہونا - (۱۶) محاورہ قسمت یاد نصیب کا کھانا - (۱۶) مذ) مقدر - مقوم - نوشتہ۔  
نصیب رکھل جانا، کھلنا - (۱۶) محاورہ قسمت اچھی ہونا حالات کا بہتر ہونا۔

نصیب کی شامت - (۱۶) مذ) بد قسمتی بد قسمتی۔  
نصیب کی قسم کھانا - (۱۶) محاورہ کسی کی خوش قسمتی کی قسم کھانا۔  
نصیب کہا دکھانا ہے - (۱۶) محاورہ آئندہ کہا پیش آتا ہے۔  
نصیب لڑانا - (۱۶) محاورہ قسمت آزمائی کرنا کرشمہ کرنا۔  
نصیب لڑنا - (۱۶) محاورہ تقدیر یاد اور ہونا۔ حالات بہتر ہونا۔  
نصیب میں لکھا ہونا - (۱۶) محاورہ قسمت میں ہونا۔ نوشتہ تقدیر ہونا۔

نصیب نہ ہونا - (۱۶) محاورہ حاصل نہ ہونا نتیجہ نہ ہونا۔  
نصیب ہونا - (۱۶) محاورہ حاصل ہونا میسر ہونا۔ دستیاب ہونا۔  
نصیب یاد اور ہونا - (۱۶) محاورہ خوش قسمت ہونا۔  
نصیبوں پر پتھر پڑنا - (۱۶) محاورہ مقدر خراب ہو جانا قسمت بگڑ جانا۔  
نصیبوں خلا - (۱۶) صف) بد قسمت۔ بد طالع۔ بد قسمت۔  
نصیبوں جلی - (۱۶) مذ) بد قسمت گورت۔ بد نصیب عورت۔  
نصیبوں سے - (۱) تالیق فعل (قسمت سے - نصیب سے۔

نصیبوں کا ستارہ چمکنا - (۱۶) محاورہ اقبال کا زمانہ ہونا حالات بہتر ہونا۔  
نصیبوں کو دعا دو - (۱۶) محاورہ تقدیر کا احسان مانو۔ قسمت کے

شکر گزار ہو۔ قسمت کا کھانا پورا ہونا۔  
نصیبوں کو روٹنا - (۱۶) محاورہ بد قسمتی کی شکایت ہونا۔  
نصیبوں کی خوبی - (۱۶) مذ) (ظننا) بد نصیبی۔ بد قسمت۔ شامت۔  
نصیبوں کے بدلہ رکائی کھیر ہو گیا دلہا - (۱۶) محاورہ قسمت کی بد نصیبی کا کھانا پورا ہونا۔

نصیبوں میں ہونا - (۱۶) محاورہ تقدیر میں ہونا۔  
نصیبہ (ن) صی - (ع) - (۱) مذ) قسمت۔ نصیب۔ تقدیر۔

نصیبہ بچ جانا - (۱۶) محاورہ تقدیر اچھی ہونا۔ اچھے دن آنا بد قسمت آنا۔  
نصیبہ سو جانا - (۱۶) محاورہ قسمت بگڑ جانا۔

نصیب کا دشمنی - (۱۶) مذ) خوش قسمت۔ بلند اقبال۔  
نصیب کا سکندر - (۱۶) مذ) کمال بلند اقبال۔ بخت اور بید۔  
خوش قسمت۔

نصیبہ ور - (۱۶) ن - (۱) مذ) قسمت والا۔ بھاگوان خوش قسمت۔  
نصیبت - (ن) صی - (ع) - (۱) مذ) منٹ، پند۔ اچھی صلاح نیک مشورہ۔ اچھی بات۔

نصیحت آمیز - (ع) ن - (۱) صف) وہ بات جس میں نیک مشورہ شامل ہو۔  
نصیحت بلقمان آموختن - (ع) ن - (۱) صف) شل، جانتے دلے کو کوئی بات بتانا۔

نصیحت پانا - (۱۶) محاورہ نصیحت حاصل کرنا۔ عبرت پکڑنا۔ ہدایت پانا۔ سزا پانا۔ پاداش ملنا۔  
نصیحت پزیر - (ع) ن - (۱) صف) نصیحت قبول کرنے والا۔ نیک مشورے کو مان لینے والا۔

نصیحت دینا - (۱۶) محاورہ (۱) سمجھانا نیک بات بتانا (۲) تنبیہ کرنا۔  
گوشمال کیے نا۔ عبرت دینا۔

نصیحت قبول کرنا - (۱۶) محاورہ کسی کی اچھی بات کو مان لینا۔  
نصیحت نامہ - (ع) ن - (۱) مذ) وہ تحریر جس میں پند و نصائح تحریر ہوں۔

نصیحت ہونا - (۱۶) محاورہ بھلائی کی بات حاصل ہونا (۲) تنبیہ ہونا۔ کان ہونا۔ عبرت ہونا۔  
نصیر - (ن) صی (ع) - (۱) مذ) مدد کرنے والا۔ معاون (۲) دوست۔  
جمع - انصار۔

نصیری - (ن) صی (ع) - (۱) صف) حضرت علیؑ کو خدا ماننے والا (۲) شیدائی۔ جان نثار۔

## ن - جن

نصیارت - (ن) صی (ع) - (۱) مذ) آواز کی۔ آب داری چمک دکھ۔  
نصیح - (ع) - (۱) مذ) میوے کی پتلی (۲) اطباء کی اصطلاح میں خلیفہ

کا رتیب یا علیظ ہو کر نکلتا۔  
نصیر۔ (ع۔ ف۔ آب دار۔ تازہ ۲)۔ سونا۔ زر۔

## ن۔ ط

نطق۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) چڑے کا بچھونا (۲) چڑے کا دسترخواں (۳) چڑے کا چڑھا۔

نطقہ۔ (نطقہ۔ ف۔ ع۔ ۱۔ مرث) ۱) صاف شفاف پانی (۲) منی (۳) اولاد۔  
نطقہ سے، نا تحقیق (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) حرامی وہ شخص جس کی نسبت یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے (۲) بدھل۔ بد ذات۔ بیدار شریعتی۔  
نطقہ (نطقہ) قرار پانا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) محل ہونا۔ پیٹ میں بچہ پڑنا۔  
نطقہ محرظم۔ (ع۔ ۱۔ صفت) شرارتی۔ حرامی۔  
نطقی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) گویائی۔ بولنے کی قوت (۲) بات۔ گفتگو۔  
نطاق۔ (ع۔ ۱۔ مذ) کر کا پڑنا۔

نطول۔ (ن۔ ط۔ ۱۔ مذ) ۱) دھار مارنے یا چھڑکنے کا پانی۔ دواؤں کا کوش دیا، جو پانی جس سے دھارتے ہیں۔

## ن۔ ظ

نظار۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) نظر کرنے والے۔ دیکھنے والے۔  
نظارت۔ (ن۔ ظ۔ ۱۔ مذ) ۱) دیکھنا (۲) محافظت۔ نیکمانی (۳) ناظر کا حکم اور دفتر۔

نظارت پیشہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ۱) نگہبان۔ ناظر (۲) خواجہ سرا۔  
نظاری۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) نظارہ۔ دیدار۔ نظارہ بازی۔ تماشائی۔

نظارہ۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) دیکھنا۔ نظر ڈالنا (۲) نظریاتی۔ دیدار۔ حدیثیں (۳) نظر۔ جہول۔

نظارہ بازی۔ (ع۔ ۱۔ صفت) نظر بازی کرنے والا۔ تارنے والا۔

نظارہ بازی۔ (ع۔ ۱۔ صفت) نظر بازی گھوڑا گھادی۔

نظارہ کرنا۔ (ع۔ ۱۔ صفت) دیکھنا۔

نظارہ مازنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دیکھنا۔ گھورنا۔ تاکن جھانکنا۔

نظافت۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) دیکھنا۔ بائیکاٹ۔ صفائی۔

نظام۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) مرتبوں کی لڑی (۲) چلنیاد (۳) سلسلہ ترتیب (۴) بندوبست۔ انتظام (۵) آراستگی (۶) نواب دکن کا موروثی خطاب (۷) طریقہ (۸) صلاح کار (۹) ترتیب۔

نظام الاوقات۔ (ع۔ ۱۔ مذ) بروگرام۔

نظام بطلیموس۔ (ع۔ ۱۔ مذ) حکم بطلیموس کا نظام جس میں زمین کو مرکز قرار دیا گیا ہے اور اس کے گرد سورج۔ چاند۔ ستاروں کو

شک گردش کرتے مانا گیا ہے۔

نظام شمسی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) سورج کے گرد سیاروں کی گردش کا طریقہ۔

نظامت۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) ناظم کا عہدہ۔ ناظم کا کام (۲) انتظام۔ بندوبست (۳) محکمہ۔ دفتر ڈائریکٹوریٹ (Directorate)

نظامی۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) سلسلہ نظامیہ کا مرید جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے منسوب ہے (۲) نظام الملک وزیر سے منسوب (۳) فارسی کے مشہور شاعر نظامی گنجوی۔

نظامیہ۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ صفت) ۱) بندگی کا قدیم یونیورسٹی (۲) جنگی فوج (۳) تصوف کا ایک سلسلہ جو حضرت نظام الدین اولیاء سے منسوب ہے۔

نظار۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) نظیر کی جمع۔ سرداران قوم جن کے لوگ دست نگریوں (۲) ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے۔ اردو میں بطور نظیر کی جمع کے مستعمل ہے (۳) مثالیں۔

نظر۔ (نظ۔ ع۔ ۱۔ مذ) ۱) بغور دیکھنا (۲) نگاہ۔ آنکھ (۳) بصارت (۴) غور۔ تامل (۵) نگرانی۔ دیکھ۔ بھال (۶) تمیز۔ جانچ پرکھ (۷) توجہ۔ مہربانی (۸) معاینہ۔ تجزیہ (۹) امید۔ توقع (۱۰) سمجھوت پریت کا اثر۔ آسیب (۱۱) تمیز۔ شناخت۔ جانچ۔ پرکھ (۱۲) توجہ۔ مہربانی (۱۳) معاینہ (۱۴) اندازہ۔ تجزیہ (۱۵) امید۔ توقع (۱۶) سمجھوت پریت کا اثر۔ آسیب۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر آنا۔ (ع۔ ۱۔ محاورہ) دکھائی دینا۔ سوجھنا (۲) دھیان میں آنا۔

نظر بند (ع۔ ف۔ ۱۔ مت) وہ شخص جسے عدالت میں مقدمہ چلانے اور مزادینے بغیر قید میں رکھا جائے یا اس کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی جائے۔

نظر بند کرنا (۱۲۔ ص مرکب) حراست میں رکھنا۔ قید کرنا۔

نظر بندی (ن۔ ۱۔ مت) (۱) قید (۲) حراست (۳) شہیدہ۔ جادوگری۔

نظر بھر کر دیکھنا (۱۲۔ محاورہ) خوب غور سے دیکھنا۔ سیر ہو کر دیکھنا۔

نظر بچھ میں اثر کرتی ہے (۱۔ ۱۔ مثل) نظر کا اثر بچھ جیسی سخت چیز پر بھی ہو جاتا ہے۔

نظر پتھرا جانا (۱۲۔ محاورہ) بیٹائی جاتی رہنا۔ مرتے وقت آنکھوں کا بے جان ہونا۔ نگاہ کا ایک ہی جگہ ٹھہر جانا۔

نظر (نظر وں) پر چڑھنا (۱۲۔ محاورہ) دل کو بھانا پسند آنا۔ وقت پانا (۲) ذیل ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ دشمنی کی نظر سے دیکھا جانا (۳) چھپنا۔ اندازہ کیا جانا۔ نگاہ میں ٹھہرنا (۴) نظر لگ جانا۔

نظر لڑنا (پڑ جانا) (۱۲۔ محاورہ) (۱) دیکھنے میں آنا (۲) دکھائی دینا۔

نظر بچھ جانا (بچھنا) (۱۲۔ محاورہ) (۱) ناراض ہو جانا (۲) بے ترتیب ہونا۔

نظر پھسنا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ نہ ٹھہرنا۔ کسی چیز کا نہایت صاف و شفاف ہونا۔

نظر پھانسا (۱۲۔ محاورہ) غور سے شناخت کر لینا۔

نظر پھیر لینا (۱۲۔ محاورہ) بے توجہی کرنا۔ بے مروتی کرنا (۲) ادھر ادھر نگاہ دوڑانا۔

نظر پھینکنا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ ڈالنا۔ دیکھنا۔

نظر پیدا کرنا (۱۲۔ محاورہ) چاقی کی صلاحیت حاصل کرنا۔ قابلیت پیدا کرنا۔ ملک حاصل کرنا۔

نظر تازہ لینا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ سے بچان لینا۔ نظر سے اندازہ کر لینا۔

نظر تیز پڑنا (۱۲۔ محاورہ) غصہ سے دیکھا جانا۔

نظر ٹھہرنا (۱۲۔ محاورہ) نظر جتنا۔ نگاہ قائم ہونا۔

نظر ثانی (ف۔ ۱۔ مت) دوبارہ دیکھنا۔ ترمیم یا تصحیح کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔

نظر ثانی کرنا (۱۲۔ ص مرکب) (۱) پڑھنا (۲) نظر دیکھنا (۳) ترمیم و تصحیح کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔

نظر جلانا (۱۲۔ محاورہ) نظر بد کا دفعیہ۔ کپڑے کو تھپے کی سیاہی مل کر اوتھیل میں بیگو کر پھار کے سامنے چلاتے ہیں۔

نظر جتنا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ ٹھہرنا۔ بغور دیکھنے جانا۔

نظر جھانڈنا (۱۲۔ محاورہ) افسوس یا دعا پڑھ کر نظر بد کے دفعیہ کا عمل کرنا۔

نظر جھینکا (۱۲۔ محاورہ) کسی چمکدار چیز کو دیکھ کر آنکھوں کا چمکنا۔

نظر چار سو ہونا (۱۲۔ محاورہ) چاروں طرف نگاہ رکھنا۔ ہوشیار رہنا۔ چوڑھا ہونا۔

نظر خرابا (۱۲۔ محاورہ) (۱) نظر بچانا۔ کترانا۔ نظر ملا کر نہ دیکھنا (۲) کام سے پہلو ہتی کرنا۔

نظر چڑھنا (۱۲۔ محاورہ) (۱) خیال میں آنا۔ قدر پانا (۲) پرکھا جانا (۳) پسند آنا۔ دل کو بھانا (۴) نظر بد لگنا (۵) ٹھیک ہونا۔ وقت پانا۔

نظر خدایا ہونا (۱۲۔ محاورہ) مایوسی کا عالم ہونا۔

نظر خیر ہونا (۱۲۔ محاورہ) (۱) درشن اور جھلسی چیز دیکھ کر نگاہ پتھرا ہونا۔

نظر دروست ہونا (۱۲۔ محاورہ) تھورا بچھ ہونا۔

نظر دو چار ہونا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ نگاہ کے سامنے ہونا۔ آنسو سامنے ہونا۔

نظر دوڑانا (۱۲۔ محاورہ) (۱) تلاش کرنا۔ چاروں طرف دیکھنا۔ ادھر ادھر دیکھنا (۲) غور کرنا۔ دیکھنا۔ جائزہ لینا۔

نظر دوڑنا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ کا تیزی سے دیکھنا۔

نظر گولسا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ کرنا۔ دیکھنا۔ معائنہ کرنا۔ سرسری نظر سے دیکھنا۔

نظر رکھنا (۱۲۔ محاورہ) توجہ رکھنا۔ محبت کی نظر سے دیکھنا۔ عاشقانہ نگاہ ڈالنا (۲) خبر رکھنا۔ نگرانی کرنا (۳) ارادہ کرنا۔ نیت رکھنا۔

نظر سے (۴) شناخت رکھنا۔ توجہ رکھنا (۵) امید رکھنا۔ توقع رکھنا۔

نظر سے (۱۲۔ تالیف نقل) (۱) طاق کے خیالی کر کے۔

نظر سے اترنا (اگرنا) (۱۲۔ محاورہ) غضب ہونا۔ بے وقت ہونا۔ ذلیل ہونا۔ بے عزت ہونا۔

نظر سے اُدھل جانا (۱۲۔ محاورہ) سامنے نہ ہونا۔ سامنے سے ہٹنا۔

نظر سے ٹپکنا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ سے ظاہر ہونا۔

نظر سے گزرنے (۱۲۔ محاورہ) ذیل دے تدر ہونا۔ حقیر سمجھا جانا۔

نظر سے گزرنے (۱۲۔ محاورہ) تجربہ ہونا (۲) دکھا جانا۔

نظر سے نظر ملنا (۱۲۔ محاورہ) رُوبرُو ہونا۔ آنکھیں چار ہونا۔ آنکھوں سے آنکھ ملنا۔

نظر سے نکل جانا (نکلنا) (۱۲۔ محاورہ) (۱) دیکھنے میں آنا۔ آنکھوں کے سامنے سے گذرنا (۲) نظر سے غائب ہونا۔

نظر سیدھی ہونا (۱۲۔ محاورہ) مہربانی کی نظر ہونا۔

نظر غلط اندازہ (ف۔ ص) ایسی نگاہ سے دیکھنا کہ معلوم نہ ہو سکے کہ دیکھ رہا ہے۔ عاشق کو دھوکا دینے والی مستحق کی نگاہ۔

نظر فریب (ع۔ ف۔ ۱۔ ص) نظر کو دھوکا دینے والا (۲) لہجانے والی نظر۔

نظر کا کھانا (۱۲۔ محاورہ) (۱) نظر لگ جانا۔ بد نظری سے ضرر پہنچنا۔

نظر کرنا (۱۲۔ محاورہ) (۱) اشارہ کرنا (۲) توجہ کرنا۔

نظر کے سامنے رکھنا (۱۲۔ محاورہ) آنکھوں سے دور نہ ہونے دینا۔

نظر کیسیا اتر (ف۔ ۱۔ مت) فیض پہنچانے والی نگاہ۔

نظر گاہ (ف۔ ۱۔ مت) تماشا گاہ۔ سیر گاہ۔

نظر گزر (ف۔ ۱۔ مت) (۱) نظر بد کا اثر۔ بھگوت پرست کا سایہ (۲) وہ چیز

نظر بند (ع۔ ف۔ ۱۔ مت) وہ شخص جسے عدالت میں مقدمہ چلانے اور مزادینے بغیر قید میں رکھا جائے یا اس کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی جائے۔

نظر بند کرنا (۱۲۔ ص مرکب) حراست میں رکھنا۔ قید کرنا۔

نظر بندی (ن۔ ۱۔ مت) (۱) قید (۲) حراست (۳) شہیدہ۔ جادوگری۔

نظر بھر کر دیکھنا (۱۲۔ محاورہ) خوب غور سے دیکھنا۔ سیر ہو کر دیکھنا۔

نظر بچھ میں اثر کرتی ہے (۱۔ ۱۔ مثل) نظر کا اثر بچھ جیسی سخت چیز پر بھی ہو جاتا ہے۔

نظر پتھرا جانا (۱۲۔ محاورہ) بیٹائی جاتی رہنا۔ مرتے وقت آنکھوں کا بے جان ہونا۔ نگاہ کا ایک ہی جگہ ٹھہر جانا۔

نظر (نظر وں) پر چڑھنا (۱۲۔ محاورہ) دل کو بھانا پسند آنا۔ وقت پانا (۲) ذیل ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ دشمنی کی نظر سے دیکھا جانا (۳) چھپنا۔ اندازہ کیا جانا۔ نگاہ میں ٹھہرنا (۴) نظر لگ جانا۔

نظر لڑنا (پڑ جانا) (۱۲۔ محاورہ) (۱) دیکھنے میں آنا (۲) دکھائی دینا۔

نظر بچھ جانا (بچھنا) (۱۲۔ محاورہ) (۱) ناراض ہو جانا (۲) بے ترتیب ہونا۔

نظر پھسنا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ نہ ٹھہرنا۔ کسی چیز کا نہایت صاف و شفاف ہونا۔

نظر پھانسا (۱۲۔ محاورہ) غور سے شناخت کر لینا۔

نظر پھیر لینا (۱۲۔ محاورہ) بے توجہی کرنا۔ بے مروتی کرنا (۲) ادھر ادھر نگاہ دوڑانا۔

نظر پھینکنا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ ڈالنا۔ دیکھنا۔

نظر پیدا کرنا (۱۲۔ محاورہ) چاقی کی صلاحیت حاصل کرنا۔ قابلیت پیدا کرنا۔ ملک حاصل کرنا۔

نظر تازہ لینا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ سے بچان لینا۔ نظر سے اندازہ کر لینا۔

نظر تیز پڑنا (۱۲۔ محاورہ) غصہ سے دیکھا جانا۔

نظر ٹھہرنا (۱۲۔ محاورہ) نظر جتنا۔ نگاہ قائم ہونا۔

نظر ثانی (ف۔ ۱۔ مت) دوبارہ دیکھنا۔ ترمیم یا تصحیح کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔

نظر ثانی کرنا (۱۲۔ ص مرکب) (۱) پڑھنا (۲) نظر دیکھنا (۳) ترمیم و تصحیح کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔

نظر جلانا (۱۲۔ محاورہ) نظر بد کا دفعیہ۔ کپڑے کو تھپے کی سیاہی مل کر اوتھیل میں بیگو کر پھار کے سامنے چلاتے ہیں۔

نظر جتنا (۱۲۔ محاورہ) نگاہ ٹھہرنا۔ بغور دیکھنے جانا۔

نظر جھانڈنا (۱۲۔ محاورہ) افسوس یا دعا پڑھ کر نظر بد کے دفعیہ کا عمل کرنا۔

نظر جھینکا (۱۲۔ محاورہ) کسی چمکدار چیز کو دیکھ کر آنکھوں کا چمکنا۔

نظر چار سو ہونا (۱۲۔ محاورہ) چاروں طرف نگاہ رکھنا۔ ہوشیار رہنا۔ چوڑھا ہونا۔

نظر گزرا کا اثر زائل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔  
 نظر گزرا کا ٹریکا - ۱۶ - (۱۷ - محاورہ) کاہل کا ٹریکا جو عورتیں نظر بد کے دفعیہ کے لیے بچوں کے ماتھے پر لگاتی ہیں۔  
 نظر گرنا - ۱۷ - محاورہ) نگاہ کا کسی جگہ مرکوز ہوجانا۔  
 نظر لڑ جانا - ۱۷ - محاورہ) آگنا سانا ہوجانا - عشق ہوجانا۔  
 نظر لگا - (۱۷ - صفت) جو شخص یا چیز جس پر نظر بد کا اثر ہو  
 نظر لگانا - (۱۷ - محاورہ) بڑی نظر کا اثر ہونا۔  
 نظر (لگ جانا) لگنا - (۱۷ - محاورہ) بڑی نظر کا اثر ہوجانا - بھرت  
 پیرت کا سایہ ہونا۔  
 نظر مارنا - (۱۷ - محاورہ) آنکھ مارنا - اشارہ کرنا۔  
 نظر ملانا - (۱۷ - محاورہ) آنکھ سامنے کرنا - آنکھ ملانا۔  
 نظریں - (۱۷ - تالیف فعل) (۱) نگاہ میں - (۲) آنکھ میں (۳) تیز میں (۴) دیکھنے کی  
 دھیان میں - خیال میں (۳) شناخت میں - تیز میں (۴) دیکھنے کی  
 نظریں آنا - (۱۷ - محاورہ) (۱) معلوم ہونا - بھائی دینا (۲) دھیان میں آنا - خیال  
 میں آنا (۳) ٹوک میں آنا - نظر بد کا اثر ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں بھانپنا - (۱۷ - محاورہ) نگاہوں میں تاز لینا۔  
 نظر (نظروں) میں بھرت ہونا - باوقفت ہونا۔  
 نظریں بھی جانا (پھرنا) - (۱۷ - محاورہ) باعزت ہونا - وقفت ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں تاز لینا - (۱۷ - محاورہ) نگاہ سے بھانپ لینا۔  
 نظریں ملنا - (۱۷ - محاورہ) نگاہ میں جانچا جانا - دھیان میں ہونا۔  
 نظریں ٹوٹنا - (۱۷ - محاورہ) نگاہ سے جانچ لینا - اندازہ کرنا۔  
 نظریں ٹھہرنا - (۱۷ - محاورہ) کسی کا نگاہ میں چب جانا - پسند کر لینا۔  
 نظر (نظروں) میں جانچ لینا - (۱۷ - محاورہ) اندازہ کر لینا۔  
 نظریں جھنکا - (۱۷ - محاورہ) پسند آنا - بھلا معلوم ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں جھنکا - (۱۷ - محاورہ) باوقفت ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں جہان اندھیرا ہونا - (۱۷ - محاورہ) بہت  
 زیادہ غم یا مصیبت ہونا۔  
 نظریں چبھنا - (۱۷ - محاورہ) برا معلوم ہونا - برا لگانا۔  
 نظر (نظروں) میں چڑھنا - (۱۷ - محاورہ) بہت پسند آنا۔  
 نظر (نظروں) میں خفیہ ہونا - (۱۷ - محاورہ) دل سے اتر جانا - قدر  
 کو چھیننا - بے وقفت ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں خار ہونا - (۱۷ - محاورہ) برا لگانا ناگوار ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں رکھنا - (۱۷ - محاورہ) زیر نگرانی رکھنا - دھیان  
 میں رکھنا - نگاہ میں رکھنا۔  
 نظریں رہنا - (۱۷ - محاورہ) سامنے رہنا - خیال یا دھیان میں رہنا۔  
 نظر (نظروں) میں سبک ہونا - (۱۷ - محاورہ) بے وقفت ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں سمانا - (۱۷ - محاورہ) پیارا لگانا - مقبول ہونا۔  
 صاحبِ وقفت ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں کھنکا - (۱۷ - محاورہ) اچھا لگانا - پسند آنا۔

نظر (نظروں) میں کھنکا - (۱۷ - محاورہ) برا معلوم ہونا ناگوار ہونا۔  
 ناقابل برداشت ہونا۔  
 نظر (نظروں) میں ہونا - (۱۷ - محاورہ) خیال میں ہونا - یاد ہونا۔  
 ذہنی میں ہونا۔  
 نظر نہ آنا - (۱۷ - محاورہ) دکھائی نہ دینا - ناپید ہونا۔  
 نظر نہ ٹھہرنا - (۱۷ - محاورہ) کسی چیز کی آب و تاب کی وجہ سے نظر قائم نہ  
 رہنا - بچا چھوڑنا۔  
 نظر نہ چڑھنا - (۱۷ - محاورہ) پسند نہ آنا - بھلا نہ لگنا - اچھا معلوم نہ ہونا۔  
 نظر نہ ملنا - (۱۷ - محاورہ) آنکھ سامنے نہ ہونا - شرم کی وجہ سے آنکھ اٹھا  
 کربات نہ کر سکتا۔  
 نظر نہ ہونا - (۱۷ - محاورہ) توجہ نہ ہونا - پردہ نہ ہونا۔  
 نظر والا - (۱۷ - محاورہ) (۱) وہ جس کو نظر کی بھر (۲) اہل نظر صاحبِ پیش  
 نظر پایا - (۱۷ - صفت) وہ شخص جس کی نظر سے نقصان پہنچے - ندیدہ۔  
 نظر پائی - (۱۷ - صفت) مست (۱) وہ عورت جس کی نظر سے نقصان پہنچے۔  
 (۲) نظر لگانے والی - ندیدی۔  
 نظر ہو جانا - (۱۷ - محاورہ) نظریہ کا اثر ہوجانا - نظر لگ جانا - جی پری کا سایہ  
 ہوجانا - کسیب کا اثر ہونا۔  
 نظر ہونا - (۱۷ - محاورہ) (۱) بچپان ہونا - تمیز ہونا پرکھ ہونا - جانچ ہونا (۲) نظر  
 لگنا (۳) توجہ ہونا - خیال ہونا - دھیان ہونا (۴) علم نجوم میں ایک ستارے  
 کا دوسرے ستارے پر اثر انداز ہونا (۵) وقوع ہونا۔  
 نظر اچانا (نظر ایا جانا) - (۱۷ - محاورہ) بڑی نظر کا اثر ہونا - (۲)  
 نظر لگ جانا  
 نظروں میں غائب ہوجانا - (۱۷ - محاورہ) آنکھوں کے سامنے کسی  
 چیز کا جاتے رہنا - دیکھتے ہی دیکھتے کسی چیز کا گم ہوجانا۔  
 نظروں میں کھنکا - (۱۷ - محاورہ) حق ہونا بے قدر ہونا - وقفت نہ ہونا۔  
 نظروں (نظروں) میں (۱۷ - تالیف فعل) نگاہوں کے سامنے آنکھوں میں۔  
 آنکھوں کے سامنے۔  
 نظروں میں غبار چھا جانا - (۱۷ - محاورہ) دھندلا نظر آنا۔  
 نظروں (نظروں) میں کھائے جانا - (۱۷ - محاورہ) آنکھوں سے غصہ اور  
 نفی کا اظہار کرنا - لال پھیل آنکھیں دکھانا (۲) مشوق کا اس طرح دیکھنا  
 کہ عاشق کے دل پر خاص اثر ہو۔  
 نظریں چھا کر دیکھنا - (۱۷ - محاورہ) نگاہ بچا کر دیکھنا چھپ چھپ کر دیکھنا  
 کٹھنوں سے دیکھنا۔  
 نظریں چرانا - (۱۷ - محاورہ) نظریں بچانا - اغماض رہنا۔  
 نظری - (۱) نظر - (۲) صفت (۳) اہل بیہوشی کا مقابلہ - ناپسند - نا منظور۔  
 (۴) ابا مال بے وقفت نظر سے گرا ہوا - ناقص (۵) خیالی - قیاسی (۶)  
 وہ علم جس میں موجودات کے تصور سے بحث کی جاتی ہے  
 نظریے - (۱) نظر سے (۲) ف ایک نگاہ۔  
 نظریے خوش گزریے - (۱) صفت؛ جلدی سے گزر جانے والی نگاہ  
 اڑتی ہوئی نظر - سرسری نظر۔





نعوذ - (ن - عوذ) (ع - مضارع) ہم پناہ مانگتے ہیں۔  
 نعوذ بالحد - (ع - حکم پناہ) ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ خدا کی پناہ۔ خدا  
 پناہ سے اللہ عزوجل رکھے۔ اللہ امان میں رکھے۔  
 نعوظ - (ع - ۱) مذ - شہوت۔ عضو تناسل کا کھلا ہونا۔ استادگی۔ انتشار  
 نعیم - (ن - عیم) (ع - ۱) مذ - نعمت۔ مال (۲) نیکی (۳) پیغمبر۔ رسائی  
 (۴) لاڈ۔ پیار۔ ناز (۵) انعام میں ملی ہوئی چیز (۶) صاحب  
 نعمت۔ نعمت والا۔

ن - ع

نعیم - (ن - صفت) خوب عمدہ۔ اچھا۔ اعلیٰ۔ افضل۔ فائق۔  
 نعیم گفتار - (ن - ۱) صفت (خوش کلام) جس کی گفتگو عمدہ اور پاکیزہ ہو۔  
 نعیر کوئی - (ع - ۱) ن - ۱ - صفت عمدہ اسلوب بیان۔  
 نعت - (ن - ۱) نعت (ماث) (ع - ۱) صفت نغمہ کی جمع۔ سُریلی آوازیں۔  
 نغمہ - (ن - ۱) ن - ۱ - صفت نغمہ کی کیفیت۔  
 نغمہ - (ن - ۱) ن - ۱ - صفت نغمہ تراژڈی۔ سُریلی آواز تراژڈی۔  
 نغمہ پرداز - نغمہ ریزہ۔ نغمہ زن۔ نغمہ سنج۔ نغمہ طراز۔  
 نغمہ تراژڈی - (ع - ۱) ن - ۱ - صفت اچھا گانے والا۔  
 نغمہ سرا - (ع - ۱) ن - ۱ - صفت گانے والا۔  
 نغمہ (سمرانی) - (ع - ۱) ن - ۱ - صفت گانا۔ گیت گانا۔ تراژڈی۔

ن - ف

نفاق - (ن - ف) (ع - ۱) صفت چھوٹک ماسنے والا۔ جھلانے والا (۲)  
 نفاق پیدا کرنے والا۔ پیٹ میں بھرا کرنے والا۔ بادی۔  
 نفاختا - (ع - ۱) صفت (دعو) منافق۔ مکار۔ چالباز۔ ددغلا۔  
 نفاختی - (ن - ف) (ع - ۱) صفت ایسے وقت۔ حقیر۔ ذلیل۔  
 نفاذ - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - جاری ہونے۔ صدور۔ ایک چیز کا دوسری چیز  
 سے نکلنا۔ عالم ہونا۔ لاگو ہونا۔  
 نفاذ - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - وہ خون جو عورت کو بچہ کی پیدائش  
 کے بعد زیادہ سے زیادہ چالیس روز تک نکلتا ہے۔  
 نفاست - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 صفا - پاکیزگی۔  
 نفاق - (ن - ف) (ع - ۱) مذ - (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 دشتی (۲) بگاڑ۔ نا اتفاقی۔  
 نفاق پڑنا - (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)

نفاق ڈالنا - (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفاق رکھنا - (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفائس - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفقت - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفقا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفی - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفخ - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفور - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 اثر سے تمام دنیا نیست و نابود ہو جانے گی۔

نفر - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 لازم - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفع رانی - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت آنا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت انگیز - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت بڑھانا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت رکھنا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت زدہ - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت کرنا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)

نفرت کٹی - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت کھانا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفرت ہونا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفری - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفی میں سخن کرنا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفی - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفیرین - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفیرین اٹھانا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفیرین کرنا - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفیس - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفیس بازپس (واپس) - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفیس سروسر - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)  
 نفیس تنگ - (ن - ف) (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱) صفت (ع - ۱)

نفسی نفسی پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) اپنی اپنی فکر کرنا اور دوسرے کی پردہ نہ ہونا۔

نفسی نفسی کا دن۔ (۱۔ مذ) روز قیامت ہر ایک کو اپنی اپنی بڑی ہوگی۔

نفسیات۔ (لفظ۔ سی۔یات) (ع۔ ۱۔ مذ) نفس سے متعلق باتیں (۲، علم النفس۔ انسان کے تحت الشعور اور لاشعور کی تحقیق کا علم (انگ) (Psychology)

نفسیاتی۔ (لفظ۔ سی۔اتی) (ف۔ صفت) تحت الشعور کے متعلق۔

نفسیات سے منسوب۔

نفسیاتی تجزیہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) انسان کے ذہنی تحرکات اور اعمال کی

بجائج پڑنا۔

نفسیاتی جنگ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) سرد جنگ (انگ) (Cold War)

نفع۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) نفع۔ حاصل۔ نتیجہ۔ پھل۔ ثمرہ (۲) منافع۔ سود۔ آمد۔

نفع میں کی ذریعہ سے بولا جاتا ہے۔

نفع اٹھانا۔ (۱۔ محاورہ) فائدہ حاصل کرنا۔

نفع رسانی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) فائدہ پہنچانا۔

نفع نقصان۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) فائدہ اور ٹوٹا (۲) بُرائی۔ بھلائی

نفع اور نقصان معلوم کیا جاتا ہے۔

نفعہ۔ (ن۔ ف۔ قہ) (ع۔ ۱۔ مذ) بال بچوں کا فخر۔ گزارہ۔ کفالت۔

نیکی کے روٹی کپڑے کا فخر جو شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اردو

میں بر سکون و متشکل ہے۔

نفل۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ عبادت جو فرض نہ ہو۔ وہ نماز جو

فرض واجب اور سنت کے علاوہ پڑھی جائے۔ نوافل عبادت

جو شکرانہ کے طور پر ادا کی جائے (۲) نوافل عظیمہ۔ جمع۔

نوافل۔

نقود۔ (ن۔ ف۔ ذ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) سرائت کرنا۔ اندر گھٹنا۔ گڑنا۔ جاری

ہونا۔ اتر کرنا۔

نقود کرنا۔ (۱۔ محاورہ) سرائت کرنا۔ جاری ہونا۔ اتر کرنا۔ اندر گھٹنا۔

نقود۔ (ن۔ ف۔ ذ) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) نفرت کرنے والا (۲) بغض اول۔ بھگانا

نفرت کرنا۔

نفوس۔ (ن۔ ف۔ ن) (ع۔ ۱۔ مذ) نفوس کی جمع۔ روہیں۔ ہستیاں۔

نفوس قدسیہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) پاک روہیں (۲) بزرگانِ دین۔

(۳) پیغمبر اور فرشتے۔ (۴) نیک مخلوق۔ نیک لوگ۔ نیک

ہستیاں۔

نفسی۔ (ن۔ ف۔ ن) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) اثبات کی ضد۔ کسی چیز کے وجود

سے انکار۔

نفسی میں جواب دینا۔ (۱۔ محاورہ) انکار کرنا۔ نامنظور کرنا۔ نہیں کرنا۔

نفسی اثبات۔ انکار و اقرار۔

نفسیہ۔ (ن۔ ف۔ ن) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) نفرت کرنے والا۔ متنفّر (۲) وہ لوگ

جو کسی کام کے لیے آگے آگے جائیں۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) آواز

نفس سرد۔ (ع۔ ۱۔ مذ) ٹھنڈی آہ۔ آہ سرد۔

نفس شماری۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) نزع کا وقت۔ جب سانس

گئے جائیں۔

نفس گرم۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) گرم آہ۔ جلے دل کی فریاد۔

نفس۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) جان۔ روح (۲) ذات۔ وجود۔ ہستی (۳) حقیقت

اصلیت (۴) اصل شے۔ ہست (۵) لقب باب (۶) حضورناہل

(۷) خواہش نفسانی جمع۔ نفوس۔

نفس الامر۔ (ع۔ ۱۔ مذ) حقیقت۔ درحقیقت مصل مدعا۔ واقعی بات۔

نفس الامری۔ (ع۔ ۱۔ مذ) نفس الامر سے منسوب۔ وہ حالات واقعی

جنہیں دوست دشمن سب نے مانا ہے۔

نفس آمارہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) بہت حکم کرنے والا (۲) انسان کی خواہش

جو برائی کی طرف مائل کرے۔

نفس بہیمی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) جنسی خواہش۔ بدمی کی رغبت۔ گناہ

کی طرف میلان۔

نفس پرست۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) شہوت پرست۔ عیاش۔

نفس پرستی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خواہشات کے بکنے پھلنا۔

شہوت پرستی۔ عیاشی۔ خود غرضی۔

نفس ربا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) وہ کلام جس کا اثر بھلا آسانی ہو۔

نفس کش۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) نفسانی خواہشات کو پھینکنے والا (۲)

نفس زیادہ پرہیزگار۔

نفس کشی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) دنیاوی خواہشات کو پھینکانا۔ پارسائی۔

پاکدامنی۔

نفس نوا۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) گناہ سرزد ہونے کے بعد اپنے آپ کو لعنت سلامت

کرنے والا نفس۔

نفس مارنا۔ (۱۔ محاورہ) دنیاوی خواہشات کو پھینکنا۔ دل کو مارنا طبیعت

پر قابو پانا۔ پاک دامن رہنا۔

نفس مطلب (مضمون)۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) منشا۔ اصل مدعا۔ اصل

مطلب۔ اصل مقصد۔ مدعا۔

نفس مطمئنہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) حکم الہی پر چلنے والا نفس جو بڑی باتوں سے

پاک صاف رہے۔ مطمئن۔ مطمئنہ۔

نفس ناطقہ۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) انسانی روح (۲) وہ شخص جو کسی دوسرے

کی ناک کا بال بنا ہو۔

نفس نفیس۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خدا کی ذات پاک۔ ذات خاص۔ خود

بدولت۔ اپنے آپ۔

نفسا نفسی۔ (لفظ۔ سا۔ نف۔ سی) (۱) اے نفس! خود غرضی۔ اپنا دھالی۔

نفسانی۔ (لفظ۔ سا۔ فی) (ع۔ ۱۔ صفت) نفس سے منسوب۔ نفس کا۔

نفسانیت۔ (لفظ۔ سا۔ فی۔ نیت) (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) خود غرضی۔

(۲) عزو۔ نخوت۔

نفسی۔ (لفظ۔ سی) (ع۔ ۱۔ صفت) نفس سے منسوب۔ ذاتی۔

نفسی نفسی۔ (ع۔ ۱۔ مذ) (۱) اپنی ذات کی خود غرضی۔ اپنا دھالی۔

جو سونے کی حالت میں نکلتی ہے ۱۶۱ نفیری - شہنائی ترقی  
(۱۳) نالہ - فریاد چیخ پکار - واویلا -  
نفیری - (ان تیر چنی) (ن صفت) نفیری بجانے والا -  
تفسیر عام - (ع - ۱ - مذ) عام لوگوں کا بغاوت یا چڑھائی کرنا (۲) امر کے  
نام حکم کردہ اپنے لشکر کے کمانڈر ہوں -  
نفیری - (ان - لی - سی ۱ - ف - ۱ - مٹ) شہنائی ترقی - الغوزہ -  
نفیس - (ان - نینس) (ع - صفت) (۱) عمدہ - (۲) اعلیٰ درجہ کی قیمتی - پیش بہا (۳)  
لطیف - پاکیزہ - پاک و صاف -

## ن - ق

نقاب - (ع - ۱ - مذ) نقب لگانے والا - سوراخ کرنے والا - سُرنگ  
کھودنے والا -  
نقاب - (ن - قاب) (ع - ۱ - مذ) مٹ - گھونگٹ - برقع - چہرے  
پر ڈالنے کا پردہ -  
نقاب (انٹھانا) (انٹھانا - ۱۶ - محاورہ) گھونگٹ کھولنا - پردہ ہٹانا -  
پرسے پردہ سڑکانا -  
نقاب پوش - (ع - ن - صفت) جس نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہو -  
نقاب چھوڑنا - (۱ - محاورہ) منہ پر پردہ ڈال لینا چہرہ چھپا لینا -  
نقاب دار - (ع - ن - صفت) نقاب پہننے والا -  
نقاد - (نق - قاد) (ع - ۱ - مذ) دیکھنے والا - کھوٹا کھرا دیکھنے والا (۲)  
اچھائی برائی ظاہر کرنے والا (۳) تنقید اور تبصرہ کرنے والا -  
نقارچی - (نق - قار - چی) (ن - ۱ - مذ) نقارہ بجانے والا - نوبت  
بجانے والا -  
نقار خانہ - (نق - قار - خانہ) (ن - ۱ - مذ) نوبت بجانے  
کی جگہ - نوبت خانہ -  
نقار خانے میں طوطی کی آواز - (۱۶ - مثل) بہت شور وغل میں گزرد  
آواز کو کوئی نہیں سن سکتا (۲) بڑے آدمیوں کی رائے کے مقابلہ  
میں چھوٹوں کی آواز ان سنی ہو کر رہ جاتی ہے -  
نقارہ - (نق - قارہ) (ن - ۱ - مذ) نوبت - طبل -  
نقارہ بجاتے پھرنا - (۱ - محاورہ) مشہر کرنا - منادی کرنا -  
نقارہ بجا کے - (۱) تابع فعل کا کلمہ کھلا - علانیہ -  
نقارے باج دہانے باج گئے - (۱۶ - مثل) بڑی نمودار  
شہرت ہوئی - دھوم مچ گئی -  
نقارہ پر خوب (چوٹ) پڑنا - (۱ - محاورہ) نقارہ بجانا - طبل بجانا -  
نقارے کی چوٹ - (۱ - مٹ) کھلے بندوں - علانیہ -  
نقاش - (نق - قاش) (ع - ۱ - مذ) نقش و نگار بنانے والا - مصور -  
نقاش اول - (ع - ۱ - مذ) اولیٰ (۱) کئی -  
نقاشی - (نق - قاش) (ع - ۱ - مٹ) نقش و نگار بنانے کا پیشہ -

مصوری - نگکاری - صنعت کاری -  
نقراط - (نق - قاط) (ع - ۱ - مذ) نقطہ کی جمع - نقطہ -  
نقار - (نق - قار) (ع - ۱ - مذ) نقاب لگانے والا - جھانڈ - بہرہ و پیا - مسخرا -  
نقار - (نق - قار) (لی - ۱ - مذ) نقاب لگانے والا - جھانڈ -  
نقاہت - (نق - قات) (ع - ۱ - مٹ) ضعف - کمزوری - نفاذاتی  
ناتوانی -  
نقاہت - (نق - قات) (ع - ۱ - مٹ) نقاب لگانے والا - جھانڈ - بہرہ و پیا - مسخرا -  
نقب - (ع - ۱ - مٹ) سیندھ - سرنگ - شنگاف - دیوار میں  
بڑا سوراخ -

نقب زن - (ع - ۱ - مذ) نقب لگانے والا - سیندھ لگانے والا -  
نقب زنی - (ع - ۱ - مٹ) سیندھ لگانا - دیوار توڑنا - سرنگ  
کھودنا - چوری -  
نقب لگانا - (۱۶ - محاورہ) دیوار یا نفیل میں سوراخ کرنا - سیندھ لگانا  
دیوار سنی کرنا -  
نقد - (ع - ۱ - مٹ) (۱) آمادہ کرنا (۲) سکا سکا کھرا کھوٹا پرکھنا (مذ)  
(۳) سونے یا چاندی کا سکہ (۴) وہ رقم جو فوراً ادا کی جائے (۵)  
پونجی - سرمایہ -  
نقد جان - (نقد - دل) (ع - ۱ - مذ) جان اور دل جو سب سے بڑی  
دولت ہیں -  
نقدوم - (ع - صفت) اکیلا - تنہا - مجرؤ -  
نقد مال - (ع - ۱ - مذ) نعمت - ترماں - عمدہ مال -  
نقد نامہ - (ع - ن - ۱ - مذ) نقد ادائیگی کا سرٹیفکیٹ  
نقد و تبصرہ - (ع - ۱ - مذ) کسی کتاب کی مبرائی مصلحتی کو پرکھنا اور  
اس کے متعلق رائے دینا -  
نقد و جنس - مال اسباب - روپیہ - پیشہ - مال و دولت -  
نقد و وقت - (ع - ۱ - مذ) ہر دست - اچھی - اس وقت -  
نقد نقد - (۱) تابع فعل یا متعلق ہاتھ - دست بدست - ایک ہاتھ  
لینا دوسرے ہاتھ دینا - کسی وقت ادا کرنا - فوراً قیمت دینا - ادھار  
نکرنے - نقد و حزمہ (ع) معقول نقد لینے دینے میں بڑی عزت ہے -  
نقدی - (نق - ذی) (مٹ) (۱) مال و زر - دولت - رقم -  
نقدی بنانا - (۱ - محاورہ) نقد رقم حاصل کرنا - روپیہ پیدا کرنا -  
نقد رس - (نق - رس) (ع - ۱ - مذ) ایک قسم کا گنٹھیا (۲) وہ درد و چاؤں  
کے انگوٹھے میں کوئی ہے - پاؤں کے انگوٹھے کا گنٹھیا -  
نقرہ - (نق - قرہ) (ع - ۱ - مٹ) (۱) چاندی (۲) ہر وہ چیز جو سفید ہو -  
(۳) سفید گھوڑا -  
نقرونی - (نق - ر) (ع - ۱ - مٹ) نقرو سے متعلق - چاندی کا چاندی  
کابنا - (۱ - مٹ) چاندی جیسا سفید -  
نقش - (ع - ۱ - مذ) (۱) نگار - صورت - شبیہ - صورت - مورق - تصویر -  
(۲) پھول بوٹوں کا کام - منت کاری - بیل بوٹے - کندہ کاری (۳)  
چھاپ - بہرہ - چھاپا (۴) زندگی باری میں جیت کا داؤں - ایک قسم

نقش کا لجر ہو جانا - (ع ۱۔ مذ) پتھر کی کبیر۔ پتھر کے نشان کی مانند۔ نشتے والا۔

نقش کرنا - (ع ۱۷۔ مص مرکب) چھاننا۔ بیل بوٹے بنانا یا کھودنا۔

نقش کندہ کرنا - (ع ۱۷۔ مص مرکب) نقش کھودنا۔

نقش کی مجال - (ع ۱۷۔ ص ۱۷۔ مذ) فانی۔ جلد مٹ جانے والا۔ بے ثبات۔

نقش کھولنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش کا سطح سے اُٹھانا، کھولنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) عامل کا تعویذ لکھنا۔

نقش مٹانا - (ع ۱۷۔ محاورہ) کسی قسم کے نشانوں کو نواہ وہ تحریر سے متعلق ہوں یا تصویر سے دھوڑا لٹا یا بگاڑ دینا۔

نقش مٹا دینا - (ع ۱۷۔ مذ) مقصد۔ اُڑنا۔

نقش و نگار - (ع ۱۷۔ مذ) بیل بوٹے۔ پھول تہی۔

نقش رہو جانا، ہونا - (ع ۱۷۔ محاورہ) دل نشین ہو جانا (۲)، کندہ ہونا۔

نقش لکھا جانا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

نقش لکھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش لکھنا۔

کا بجا (۵) تعویذ (۶) نشان - کھوج - علامت دے، خیال تصور (۸) تاثیر - اثر (۹) جاؤ - ٹوٹا - منتشر - انہوں (۱۰) لکھا ہوا - منقوش - لکھا ہوا - جمع - نقوش۔

نقش آب - (بر آب) - (ع ۱۷۔ مذ) فانی۔ جلد مٹ جانے والا۔ بے ثبات۔

نقش اُٹھانا - (ع ۱۷۔ محاورہ) نقوش کا سطح سے اُٹھنا، کھولنا۔

نقش اول - (ع ۱۷۔ مذ) پہلی تحریر۔ مسودہ۔

نقش باطل - (ع ۱۷۔ مذ) نقوش جو مٹا دینے کے قابل ہو۔ فانی۔

نقش بھاننا - (ع ۱۷۔ محاورہ) رعب جمانا۔ رسوخ پیدا کرنا۔

نقش بند - (ع ۱۷۔ مذ) نقاش - مصور۔ گل کار۔

نقش بندی - (ع ۱۷۔ ص ۱۷۔ مذ) نقاشی۔ مصوری (۲) حضرت خواجہ بہاؤ الدین کے مگرید۔

نقش بندی - (ع ۱۷۔ ص ۱۷۔ مذ) نقاشی۔ مصوری (۲) حضرت خواجہ بہاؤ الدین سے چلا ہے۔

نقش بردوار - (ع ۱۷۔ مذ) حیران۔ ششدر۔

نقش بھرنے - (ع ۱۷۔ محاورہ) تعویذ کے خانوں کو پورا کرنا۔

نقش بیٹھنا - (ع ۱۷۔ محاورہ) قائم ہو جانا (۲) کسی کے دل میں کسی کی جگہ ہو جانا (۳) نشان بن جانا۔

نقش پاؤں کا نشان - (ع ۱۷۔ مذ) پاؤں کا نشان۔ سراخ۔ کھوج۔

نقش پر دار - (ع ۱۷۔ مذ) مصور۔ نقاش۔

نقش شیر - (ع ۱۷۔ مذ) محبوب کو قابو کرنے والا تعویذ۔

نقش ثانی - (ع ۱۷۔ مذ) دوسرا نقوش جو پہلے نقوش یا تحریر سے بہتر ہوتا ہے۔

نقش جمانا - (ع ۱۷۔ محاورہ) رعب بٹھانا۔ متاثر کرنا۔ رسوخ پیدا کرنا۔

نقش جمانا - (ع ۱۷۔ محاورہ) رعب بٹھانا۔ متاثر کرنا۔ رسوخ پیدا کرنا۔

نقش جمانا - (ع ۱۷۔ محاورہ) رعب بٹھانا۔ متاثر کرنا۔ رسوخ پیدا کرنا۔

حاصل کرنا۔ تصویر جمانا (۳)۔ تہ تبرک کرنا۔ موقع نکلنا۔

نقشہ جمع کرنا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ اشریہ یا ہر گھٹ جانا۔

نقشہ جمانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ بات بنانا۔ رسائی ہونا۔ اعتبار ہونا۔ روشن ہونا۔ مطلب حاصل ہونا (۲)۔ تصویر قائم ہونا۔ خیال بندھنا۔

نقشہ حدود و وسعت (۱)۔ مذ (۱)۔ وہ نقشہ جس میں کمیوں کی حد بندی کر دیج ہو۔ پیمائش وسیع کی فہرست۔

نقشہ پینچ جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ تصویر سامنے آجانا۔ آنکھوں کے سامنے منظر بندھ جانا۔

نقشہ نکالنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ الزام لگا کر بدنام کرنا۔

نقشہ نکالنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ بدنامی ہونا۔ سزا ہونا۔

نقشہ نویسی (۱)۔ ف (صفت) (۱)۔ نقشہ بنانے والا۔ مصور۔ نقاش (۲)۔ بعض عدالتوں میں ایک عہدے کا نام

نقشی۔ نقاشیں۔ (نق)۔ (نق)۔ (نق)۔ نقاشیں (۱)۔ صفت (منقش)۔ جس پر نقش بنے ہوں۔

نقص (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ کم کرنا۔ کمی ہونا (۲)۔ کمی۔ کوتاہی۔ کسر (۳)۔ عیب۔ بُرائی۔ کھوٹ۔ بیع۔ نقصان۔

نقص نکالنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ عیب نکالنا۔ اعتراض کرنا۔

نقصان (۱)۔ (نق)۔ صان (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ کمی۔ کوتاہی۔ قباحت۔ ہرج۔ بھڑبھڑا گانا۔ بیع۔ نقصانات۔

نقصان اٹھانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ سہارہ برداشت کرنا

نقصان بھرنانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ گولیا بھرنانا۔ خسار اچرا کرنا۔ گھمانا۔

نقصان پہنچانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ ضرر پہنچانا۔ ایذا دینا۔

نقصان رسائی (۱)۔ (۱)۔ صفت (نقصان پہنچانے والا)۔

نقصان رسائی (۱)۔ (۱)۔ صفت (نقصان پہنچانے والا)۔

نقصان کرنا (۱)۔ (۱)۔ صفت (نقصان پہنچانا) (۲)۔ ضائع کرنا۔ کھونا۔ خراب کرنا۔

نقص (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ ٹوٹ پھوٹ۔ توڑنا۔ چھوڑنا۔ بگاڑنا۔

نقص امن (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ امن شکنی۔ فساد۔ جھگڑا۔

نقص عہد (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ وعدہ خلافی۔

نقطہ (۱)۔ (نق)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ پندی۔ صفر (۲)۔ مرکز۔ جہہ۔ نقاط۔

نقطہ اشتعال (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ گرمی اور کھولاؤ کا وہ درجہ جس پر آگ بھڑک اٹھے۔

نقطہ انتخاب (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ وہ نقطہ جو کسی کتاب کے حاشیہ پر یا کسی عبارت یا شعر پر اظہار پسندیدگی کے طور پر لکھا جائے۔

نقطہ اور شوشے کا فرق (۱)۔ صفت (نقصیت سافری)۔

نقطہ معروج (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ کمال۔ انتہا۔ انتہائی بلندی۔

نقطہ کافری نہ ہونا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ ذرا بھی فرق نہ ہونا۔

نقطہ گاہ (۱)۔ (۱)۔ صفت (۱)۔ دائرہ کار مرکز (۲)۔ مکہ مکرمہ جیسے مرکز زمین کا جاتا ہے۔

نقطہ لگانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ عیب لگانا۔ دھبہ لگانا۔

نقطہ مقابل (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ ہمسرہ۔ حریت۔

نقطہ مہوہووم (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ فرضی نقطہ (۲)۔ مجازاً (۱)۔ دہی محبوب۔

نقطہ نظر نگاہ (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ مرکز نگاہ۔ انداز نظر۔ دیکھنے یا سوچنے کا انداز یا ڈھنگ۔

نقطہ لوگریز (۱)۔ (۱)۔ ف (۱)۔ مذ (۱)۔ روشنائی (۲)۔ سیاہی، کمی وہ بوند جو قلم کی نوک سے کاغذ پر ٹپک چلے۔

نقطہ دائرہ (۱)۔ (۱)۔ ف (۱)۔ مذ (۱)۔ مرکز زمین (۲)۔ گناہتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

نقل (۱)۔ (۱)۔ صفت (۱)۔ تبدیلی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ (۲)۔ جرہ۔ ہستی۔ (۳)۔ نمونہ۔ نظیر (۴)۔ لطیف۔ چمکلا (۵)۔ روایت۔ کہانی (۶)۔ روپ۔ سوانگ (۷)۔ ایک طرف کی حرکت دوسرے طرف کو دینا۔

نقل آٹا کرنا، اڑانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ کسی تحریر کا نقل کرنا (۲)۔ کسی کی صورت سے اپنی صورت مشابہ کرنے کی کوشش کرنا۔ طرز آڈانا۔

نقل آٹا کرنا۔

نقل انقل (نقل و نقل) (۱)۔ (۱)۔ صفت (نقل کی نقل)۔ نقل راجہ عقل (۱)۔ (۱)۔ نقل کرنے کے واسطے زیادہ نقل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نقل کرنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ کسی کھلی ہوئی چیز کو بگنہ دوسری چیز پر آڑانا (۲)۔ سوانگ کرنا۔ روپ بھرنانا (۳)۔ بیان کرنا۔ حکایت کرنا (۴)۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا (۵)۔ دوسروں کی صورت اور انداز کی شکل بنانا۔ اور تسوکرنا۔

نقل کفر، کفر نشا شد (۱)۔ (۱)۔ نقل کرنے سے ناقبل کافر نہیں ہو جاتا۔

نقل لینا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ نقل حاصل کرنا۔ منٹے لینا۔

نقل مکان (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ ایک مقام سے دوسری جگہ جانا۔ مکان تبدیل کرنا۔

نقل نویسی (۱)۔ (۱)۔ ف (۱)۔ صفت (نقل کرنے والے کا)۔ نقل کی نقل کرنے والے کا۔

نقل نویسی (۱)۔ (۱)۔ ف (۱)۔ صفت (نقل کرنے والے کا)۔ نقل کی نقل کرنے والے کا۔

نقل و حمل (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ اٹھانا اور لیجانا (۲)۔ ایسا دیل جس سے اٹھانے اور لیجانے کا کام لیا جائے۔ ٹرانسپورٹ۔

نقل سہی (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ روزمرہ کہتے ہیں۔ منقول ہے۔ روایت ہے (۲)۔ روایتی سماجی۔ روایتی۔ زمانہ۔

نقل (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ وہ چیز جو کسی نشہ آور چیز کے بعد تبدیل ذائقہ کے لیے کھائیں (۲)۔ ایک قسم کی مٹھائی۔

نقل فروش (۱)۔ (۱)۔ صفت (نقل بیچنے والا)۔

نقل کرنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ ناشہ کرنا۔ نقل کی طرح کھانا۔ ٹوٹنا۔

نقل نام (۱)۔ (۱)۔ مذ (۱)۔ وہ نقل جو مجلس یا موت میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

نقل (مجلس، محفل) - (۱۔ منہ) مسخرہ جس کی ذات سے محفل کی تفریح ہو۔

نقلی - (۱۔ نقلی) (۲۔ صفت) جھوٹا۔ مصنوعی۔ جعلی۔ کھوٹا۔ ظریف (۳) وہ چیز جو ہم صحبت لوگ کھائیں۔

نقلیا - (۱۔ صفت) (۲۔ تعال) بھانڈ۔ نقلین کرنا - (۱۷۔ محاورہ) کسی کے افعال و حرکات کی نقل کرنا۔ بقوہ - (۱۔ نون) (۲۔ قوہ) (۳۔ ح) (۴۔ منہ) نقد کی جمع درمیں۔ نقوش - (۱۔ نون) (۲۔ قوش) (۳۔ ح) (۴۔ منہ) نقش کی جمع۔ تصویریں۔ گل۔ لمبے۔ کندہ کی ہوئی چیزیں۔

نقوع - (۱۔ ع) (۲۔ منہ) بھیگی ہوئی دوا یا میوہ (۳) بھیگی ہوئی دوا کا پانی۔ نقی - (۱۔ نون) (۲۔ تی) (۳۔ ع) (۴۔ صفت) (۵۔ منہ) (۶) پاک۔ صاف۔ خالص (۷) دکوین امام حضرت علی بن محمد کا لقب۔

نقیب - (۱۔ نون) (۲۔ قیب) (۳۔ ع) (۴۔ منہ) لوگوں کے خاندان اور ذاتی حالات سے واقفیت رکھنے والا۔ (۵) تشریح کرنے والا۔ (۶) خودیے والا۔ (۷) مدح خواں (۸) بادشاہوں کی سواری کے آگے آگے آواز لگانے والا۔ (۹) بار بار یا فیہانت میں آنے والوں کی تبرین پیمانے والا۔ (۱۰) ہر کارہ۔ (۱۱) بچہ دار۔

نقیض - (۱۔ نون) (۲۔ قیض) (۳۔ ع) (۴۔ صفت) (۵) مخالف۔ (۶) اٹل۔ (۷) برعکس۔ (۸) ضد۔ (۹) عداوت۔

نقیہ - (۱۔ نون) (۲۔ قیہ) (۳۔ ع) (۴۔ صفت) ناتواں۔ کمزور۔ ضعیف۔ نا طاقت۔

# ن - ک

نکت - (۱۔ اُر) (۲۔ منہ) (۳) ناک کا ٹھنک۔

نکت بابل - (۱۷۔ منہ) ناک کا بال۔

نکت بہننا - (۱۷۔ صفت) جس کی ناک بہتی ہے۔

نکت ٹوڑا - (۱۳۔ منہ) (۱۱) ناز۔ (۱۲) نخڑہ۔ (۱۳) غزور۔ (۱۴) نخوت (۱۵) طنز۔ (۱۶) میزبات جو ناک بڑھا کر کہی جائے۔

نکت توڑے اٹھانا - (۱۷۔ محاورہ) خنزیر برداشت کرنا۔ ناز اٹھانا۔

نکت بڑھا - (۱۷۔ صفت) بد دماغ۔ مزاج دار۔ مغزور۔

نکت چھکتی - (۱۔ منہ) ایک گونجی جیسے سونگھنے سے چھینکیں آتی ہیں۔

نکت دم - (۱۷۔ منہ) ناک میں دم۔ حیران۔ پریشان۔

نکت مسک سے ڈرست - (۱۷۔ صفت) ہر طرح بے عیب اور بے نقص خوبصورت اور موزوں ناک نقشہ۔

نکت کٹا - (۱۷۔ منہ) کٹی ہوئی ناک والا بے غیرت۔

نکت کٹی - (۱۷۔ منہ) کٹی ہوئی ناک والی عورت (۲) بے عزت اور بے غیرت عورت۔

نکت کٹی ہونا - (۱۷۔ محاورہ) بے عزتی ہونا۔ تحقیر ہونا۔ بدنامی ہونا۔

نکت کھستی - (۱۷۔ منہ) ناک رگڑنا۔ منت سماجت۔ عاجزی۔ نکت کھستی کرنا - (۱۷۔ محاورہ) ناک رگڑنا۔ منت سماجت کرنا۔ عاجزی کرنا۔

نکت - (۱۷۔ منہ) (۱۱) ناخن (۲) وضع قطع۔ نکتا - (۱۷۔ منہ) (۱۱) کورٹی۔ چھوٹا۔ سٹکھ۔ خرچہ۔ (۲) واڑ۔ پانسہ۔

نکتا - (۱۷۔ منہ) (۱۱) چھوٹا۔ (۲) ننھا۔ (۳) مختصر۔ کم۔ (۴) ناقص۔ (۵) نازک۔ (۶) باریک (۷) ناقص۔ (۸) اُدھورا۔ (۹) ٹھنکا۔

نکتا - (۱۷۔ منہ) (۱۱) ناک دار چیز کی نوک (۲) کھیل۔ (۳) ایک قسم کا گھڑی کا کھیل۔

نکتا ٹوٹی - (۱۷۔ منہ) (۱۱) ٹوٹی۔ (۲) ٹوٹی جس کو اُدنیہ کے سر پر رکھیں۔ نکتا لگانا - (۱۷۔ محاورہ) (۱۱) گھڑی مارنا (۲) ناک پہنچانا (۳) ضرب لگانا (۴) صدر پہنچانا۔

نکات - (۱۷۔ نکات) (۱۷۔ صفت) خراب۔ بیکار۔ بگم۔ نکات - (۱۷۔ نکات) (۱۷۔ منہ) نکتہ کی جمع (۲) باریکیاں (۳) وہ بلیغ کلام جو ہر ایک کی سمجھ میں نہ آسکے۔

نکاح - (۱۷۔ نکاح) (۱۷۔ منہ) (۱۱) معاہدہ۔ معاشرت۔ عقدہ۔ بیاہ۔ شادی۔ نکاح باندھنا - (۱۷۔ محاورہ) نکاح پڑھنا۔ بیاہ کرنا۔

نکاح بڑھانا (کرنا) - (۱۷۔ محاورہ) عقدہ کرنا۔ شادی کرنا۔ قاضی کا عورت اور مرد کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا۔

نکاح بڑھانی - (۱۷۔ منہ) نکاح پڑھانے کی اجرت۔

نکاح ثانی - (۱۷۔ منہ) دوسرا نکاح۔

نکاح کرنا - (۱۷۔ منہ) صر مرکب، شادی کرنا۔

نکاح کی سہی شرطیں کرنا - (۱۷۔ محاورہ) کٹ چٹی کرنا۔

نکاح متعہ - (۱۷۔ منہ) عارضی نکاح۔

نکاح موقت - (۱۷۔ منہ) متعہ جو صرف کسی خاص مدت کے لیے ہو۔

نکاح نامہ - (۱۷۔ منہ) کاغذ جس پر شادی کی تفصیلات درج ہوں۔

نکاح ہونا - (۱۷۔ منہ) صر مرکب، عقدہ ہونا۔ شادی، بیاہ ہونا۔

نکاحی - (۱۷۔ منہ) (۱۷۔ صفت) نکاح کے لاتی ہوئی، بیاہی عورت و عورت جس کا نکاح ہو چکا ہو۔ منکوحہ۔

نکاحی بیاہی - (۱۷۔ منہ) وہ عورت جسے رسم نکاح ادا کر کے برات کے ساتھ لایا جائے عزت و اُبر دے بیاہ کر لائی ہوئی عورت (۲) شادی شدہ عورت۔

نکاحی نہ بیاہی نہ ہو کہاں سے آئی - (۱۷۔ منہ) اُس شخص کی نسبت کہتے ہیں جو خواہ خواہ رشتہ دار بن بیٹھے۔

نکار - (۱۷۔ منہ) (۱۷۔ صفت) جھٹکارا۔

نکارا - (۱۷۔ منہ) (۱۷۔ صفت) ناکارہ۔

نکارنا - (۱۷۔ منہ) (۱۷۔ صفت) نکان۔

نکاس - (۱۷۔ منہ) (۱۷۔ صفت) نکاس۔

نکاس - (۱۷۔ منہ) (۱۷۔ صفت) نکاس۔



نیک فاسفک (Nickel) (رن - کلن) (17 انگ - 1 مذ) ایک قسم کی سفیدھات  
کاسٹورخ -  
نیکوٹین (Nicotine) (رن - کوٹین) (1 انگ - 1 مذ) آمیت (تمباکو  
کازبر -  
نیکوسٹاڈہ (مص) دانت نکانن جالاردوں کی طرح دانت نکانن -  
نیکوہش (رن - کوہش) (ف - 1 مذ) (1) طامت - سرزنش (2)  
دھکی - پھنکار -  
نیکو سیدہ (ف - صف) خراب (بڑا - مذ) طامت کیا گیا -  
نیکوئی (رن - کوئی) (ف - 1 مذ) طامت، نیک ساسٹی -  
نیکوئی بیدال کردن چنیاں است کہ بدر کردن بجائے نیک  
مرداں (ف - شل) بد کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے -  
جیسے نیکیوں کے ساتھ بُرائی کرنا -  
نیکھ (1 - 5) (مذ) (1) ناش (2) ایک خوشبو دار جڑ (3) -  
کچا ابریشم -  
نیکھ سکھ سے درست (1 - صف) سر سے پاؤں تک خوبصورت  
بے عیب -  
نیکھ سے سکھ تک (17 - تابع فعل) اڑی سے چوٹی تک - اول سے آخر  
تک - تمام دکال - (استرنا) -  
نیکھاد (رن - کھاد) (5 - مذ) ایک بلند اور اونچا سر - ہندی موسیقی کا  
ساتواں سر - جس کا اختصار (رن) ہے -  
نیکھار (رن - کھار) (1 - مذ) (1) صفائی - اُجلا پن - زیب و زینت -  
آرائش خوبصورتی -  
نیکھارنا (رن - کھارنا) (1 - مص) میل صاف کرنا - میل کاٹنا -  
اُجلا کرنا -  
نیکھت (رن - کھت) (ف - 1 مذ) ہر مہینے کے پندرہ روز جن کے ذریعے بارش  
کا حساب کرتے ہیں -  
نیکھتر (رن - کھت) (تر - 5 - صف) (1) ناچیز (2) بد مزہ - ناقص -  
نیکھتور (رن - کھت) (ف - 1 صف) (1) ناکارہ (2) نکما (3) وہ شخص جو  
کچھ نہ کہائے (3) مسست - احمدی (4) اتم - یوٹوف (5)  
مفلس - تنگ دست -  
نیکھو آئے لڑتا - کھاؤ آئے ڈرتا - (1 - شل) ناکارہ آدمی ہر وقت بوی  
سے لڑتا رہتا ہے اور کانے والا بوی سے ڈرتا ہے -  
نیکھو کی جو رو سدا نکلی (1 - شل) کابل اور بے کار کے گھر ہمیشہ مفلس  
رہتی ہے -  
نیکھو (رن - کھو) (5 - صف) بہت ہی بُرا - نکما -  
نیکھو (رن - کھو) (1) صف، خوبصورت صاف -  
نیکھو ہوا (1 - صف) (1) صاف ستھرا - پاکیزہ (2) جو بن پر آیا ہوا -  
آراستہ -  
نیکھو نا (رن - کھو نا) (1 - مص) (1) صاف ہونا - اُجلا ہونا - میل کٹنا (2) چمکنا -

نیکھیر چھوڑنا (1 - محاورہ) ناک سے خون بہنا -  
نیکل (Nickel) (رن - کلن) (17 انگ - 1 مذ) ایک قسم کی سفیدھات  
جس کی جلادوسری دھاتوں کے سامان برکی جاتی ہے -  
نیکل آنا (1 - مص) باہر آنا - ظاہر ہونا (2) پیدا ہونا (3) زمین سے  
باہر آنا - چھوڑنا -  
نیکل بھگانا (1 - مص) چل دینا - فرار ہو جانا (2) قابو سے چلا جانا (3)  
بیخ کر چلا جانا -  
نیکل پڑنا (1 - مص) ظاہر ہو جانا - سامنے آ جانا (2) باہر آ جانا (3) گر جانا -  
نیکل پڑنا (1 - مص) ٹپک جانا (5) اُگل دینا -  
نیکلتے بیٹھے دن (1 - مذ) موسم کے تبدیل ہونے کا زمانہ -  
نیکل جانا (1 - محاورہ) چلا جانا، بھاگ جانا (2) دور ہو جانا (3) جانا رہنا -  
زائل ہو جانا (4) سبقت لے جانا (5) گے گے بڑھ جانا (6) کپڑے کا پھٹ  
جانا - رفاقت ترک کر دینا -  
نیکل چلنا (1 - محاورہ) (1) اپنی قیمت اور بساط سے بڑھ جانا (2) اترنا -  
مفرود ہو جانا (3) گستاخ ہو جانا (4) بیباک ہو جانا -  
نیکل کھڑا ہونا (1 - محاورہ) چل دینا - رخصت ہونا - باہر جانا - سفر پر  
رعانہ ہونا -  
نیکلنا (رن - کلن) (1 - مص) (1) اُگل - پھوڑنا - اُور آنا (2) بہنا -  
جاری ہونا (3) پیدا ہونا (4) ظاہر ہونا - سامنے آنا - باہر چلا جانا -  
برآمد ہونا - طلوع ہونا (5) بلند ہونا - اُٹھنا (6) ثابت ہونا (7)  
زائد ہونا (8) چلا جانا - بھاگنا (9) خانہ ہونا (10) سبقت لے  
جانا (11) پھٹ جانا (12) حاصل ہونا -  
نیکلنا بیٹھنا (1 - محاورہ) اُدور رفت رکھنا -  
نیکلی، خوشوں چھٹی کو نکھوں (1 - شل) بات منہ سے نکلے تو مشہور  
ہو جاتی ہے -  
نیکلیس (Necklace) (رنک - نیس) (1 انگ - 1 مذ) گوبند -  
بچھا لگی کینٹھا - مالا -  
نیکما (رن - کم) (5 - صف) بے کار - ناکارہ - بے مصرف (2) خالی  
مغفل (3) بڑا خراب (4) ناچیز - حقیر -  
نیکما کر دینا (1 - محاورہ) خراب کر دینا - بیکار کر دینا -  
نیکما ہو جانا (1 - محاورہ) (1) بے کار ہو جانا (2) کام کے قابل  
نہ رہنا -  
نیکو (رن - کو) (ق) نہیں -  
نیکو (رنک - کو) (5 - صف) (1) بدنام - مسما (2) مطعون (3) بڑی ناک  
والا - لمبی ناک والا -  
نیکو بنانا (1 - محاورہ) بدنام کرنا - مسما کرنا -  
نیکو بننا (1 - محاورہ) بدنام اور مسما ہونا - انگشت نما ہونا -  
نیکو (رن - کو) (ف - صف) نیکو کا ضعف - خوب اچھا -  
نیکو کار (ف - 1 - مذ) نیک - ایسے افعال کا مالک -  
نیکو تام (ف - صف) (1) اچھی شہرت والا - نیک نام -



آراستہ ۲، مشقوق - محبوب - ننگالی - (ننگالی، ۱-۵) - مٹ، مٹ کے کادہ ہر جس میں ہنساں ہوتے ہیں (۲، نیچا پنا سے کی نے (۲، چھوٹا بیچوال -

ننگاہ - (ننگاہ، ۱-۶) - مٹ، (۱۱، نظر، چتون (۲، تیور - بصارت (۳، اکھ (۴، شناخت، پرکھ، مدخلت (۵، توجہ - عنایت، مہربانی (۶، نظارہ (۷، نگرانی - رکھوالی - چوکسی - نظر بندی (۸، امید بھر و سہ - خیال - توقع -

ننگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا - (۱۶، عمارہ، خیال میں نہ لانا - مغرور ہونا، بات نہ پوچھنا - بے رخی کرنا -

ننگاہ اچھکی ہونا - (۱۶، عمارہ بلند خیال ہونا - عالی حوصلہ ہونا - ننگاہ بلند ہونا -

ننگاہ ایک سی ہونا - (۱۶، عمارہ) سب کو ایک نظر سے دیکھنا، برابر ایک سے برابر کا سلوک کرنا -

ننگاہ بان (نہبان) - (۱۶، صفت، چوکیدار - محافظ -

ننگاہ بان (نہبان) - (۱۶، مٹ، حفاظت - پاسبانی - نگرانی چوکیداری -

ننگاہ بد کرنا - (۱۶، عمارہ، بُری نظر سے دیکھنا -

ننگاہ بدلنا - (۱۶، عمارہ) ناخوش ہونا، بے توجہ ہونا -

ننگاہ بدلی ہونا - (۱۶، عمارہ) بے توجہی ہونا، شکل پیدا ہونا -

ننگاہ بلند ہونا - (۱۶، عمارہ) عالی خیال اور عالی حوصلہ ہونا -

ننگاہ بھر کے دیکھنا - (۱۶، عمارہ) غور سے دیکھنا -

ننگاہ بھر چڑھنا - (۱۶، عمارہ) نظر میں کھینا - نظروں میں بچھنا -

بادقیقت ہونا

ننگاہ پرورش - (۱۶، صفت، عنایت اور مہربانی کی نگاہ -

ننگاہ پڑنا - (۱۶، عمارہ) دیکھا جانا دیکھنے میں آنا -

ننگاہ دکھائیں (دکھائیں) - (۱۶، عمارہ) لا پرواہ ہو جانا - توجہ نہ دینا -

ننگاہ پہچانتا - (۱۶، عمارہ) نور پہچانا، صورت دیکھ کر مزاج کی کیفیت معلوم کرنے لگنا - خیالات کا اندازہ کرنا - واقف ہونا -

ننگاہ بھیرنا - (۱۶، عمارہ) توجہ نہ رہنا - التفات نہ رہنا، ادھر ادھر نظر ڈالنا - گرد و پیش دیکھنا -

ننگاہ (نگاہیں) بھسلنا - (۱۶، عمارہ) زیادہ صاف چیز پر نگاہ نہ ٹھہرنا -

ننگاہ (بھیر لینا) بھیرنا - (۱۶، عمارہ) توجہ بٹا لینا - کسی چیز سے روگردانی کرنا -

ننگاہ بھیر جانا - (۱۶، عمارہ) کسی چیز میں نگاہ کا سرایت کر جانا -

ننگاہ جھیڑنا - (۱۶، عمارہ) آنکھوں سے غصہ ظاہر ہونا -

ننگاہ کھڑکی ہونا - (۱۶، عمارہ) ناخوش ہونا - خفا ہونا -

ننگاہ (نگاہیں) چارہ ہونا - (۱۶، عمارہ) آسنا سامنا ہونا -

ننگاہ چڑانا - (۱۶، عمارہ) نظر سامنے نہ کرنا - آنکھ سے آنکھ نہ ملانا -

ننگاہ چڑھنا - (۱۶، عمارہ) پسند آنا - نظر میں سمانا -

ننگاہ شہرت آلود - (۱۶، مٹ) شہرت بھری ہوئی نگاہ -

(۱۶، مٹ) روق آنا (۴، مٹ) ہنسا - سورتا - سٹکھا رکنا -

ننگھری - (ننگھری، ۱-۵) - صفت، تروتازہ - صاف - بکھر کی تانیث -

ننگھنڈ - (ننگھنڈ، ۱-۵) - صفت، آدھا (۲، ٹھیک عین -

ننگھور - (ننگھور، ۱-۵) - مٹ، تلخی -

ننگھوڑا - (ننگھوڑا، ۱-۵) - صفت، بے مروت -

ننگت - (ننگت، ۱-۵) - مٹ، ناک میں لہنے والا (۲، جوئے کی کوڑی بجے کا ایک داؤ، ایک قسم کا جوڑا -

ننگیر - (ننگیر، ۱-۵) - مٹ، قبر میں سوال جواب کرنے والا فرشتہ -

ننگیرین - (ننگیرین، ۱-۵) - مٹ، مُردے سے سوال و جواب کرنے والے دو فرشتے - ٹنگر ننگیر -

ننگیل - (ننگیل، ۱-۵) - مٹ، اونٹ کی جہاز - اونٹ کے ناک کی رسی -

ننگیل ہاتھ میں ہونا - (۱۶، عمارہ) قابو میں ہونا - قبضہ میں ہونا، (۱۶، مٹ) ہاتھ میں ہونا -

ننگیلا - (ننگیلا، ۱-۵) - صفت، لاؤ گدار - گاؤڈوم - مخرومی (۲، بالکا - طرح دار -

ننگیلا پیس - (۱۶، مٹ، خوش دھنی - بانگین (۲، نوک کی تیزی -

ننگیلی - (ننگیلی، ۱-۵) - مٹ، لاؤ گدار - مخرومی (۲، وضع دار - طرح دار - خوش وضع - (ننگیلا کی تانیث)

## ن - گ

ننگ - (۱-۵) - مٹ، گیند - قیمتی پتھر یا شیشہ جو زیور میں جڑا جائے -

ننگ جڑنا - (۱۶، عمارہ) گیند چھپا کر کرنا - ننگیں بچھانا -

ننگ کی جوڑیاں - (۱۶، مٹ) ایک قسم کی جوڑیاں جن میں چھوٹے ننگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں -

ننگار - (ننگار، ۱-۵) - مٹ، (۱۶، تصویر (۲، مٹ، مورقی (۳، خوبصورت مشوق - محبوب (۴، وہ شکل جو عورتیں اپنے ہاتھ پر بندی سے بناتی ہیں (۵، زیبائش - آرائش - زینت - ننگاشن (نگاریدن) کا صیغہ امر جو کسی اسم کے بعد لگنے سے اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے اور لکھتے والے کے معنی دیتا ہے جیسے افسانہ نگار -

ننگار آدمی - (۱۶، مٹ) فریادی محبوبہ تیسری مراد -

ننگار بندی - (۱۶، مٹ) مہندی لگانا - جنانندی - مہندی سے نقش بنانا -

ننگار بندہ - (۱۶، مٹ) لکھنے والا -

ننگار خانہ - (۱۶، مٹ) تصویر خانہ - پتھر گیلری - آرٹ گیلری -

ننگارستان - (۱۶، مٹ) نگار خانہ - تصویر خانہ -

ننگار عالم - (۱۶، مٹ) بہت حسین - بے حد خوبصورت -

ننگارش - (ننگارش، ۱-۵) - مٹ، (۱۶، مٹ) تبحر - لکھا ہوا -

ننگاریں - (ننگاریں، ۱-۵) - مٹ، (۱۶، مٹ) را، مہندی لگا ہوا -

نظر نہ چھتا۔

نگاہ نہ ملانا۔ (۱۶۔ محاورہ) متوجہ نہ ہونا۔ بے رخی اختیار کرنا۔

نگاہ نہ سنجی کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) شرم و حیا سے آنکھ نہ سنجی کرنا۔

نگاہ (نگہ) واپسین۔ (ف۔ ۱۔ مٹ) مرتے وقت کی نگاہ جو آخری وقت ڈالی جائے۔

نگاہوں میں باتیں کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) آنکھوں کے اشاروں سے مطلب کی بات سمجھانا۔

نگاہوں میں تو لٹا۔ (۱۶۔ محاورہ) دیکھ کر مزاج کی کیفیت معلوم کرنا۔ نگاہوں سے منشا دریافت کرنا۔

نگاہوں میں ٹھہرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) پسند آنا۔

نگاہوں میں کہنا۔ (۱۶۔ محاورہ) آنکھ کے اشارہ سے دلی مدعا ظاہر کرنا۔ آنکھ کے اشارہ سے بات سمجھانا

نگاہوں میں ہلکا ہونا۔ (۱۶۔ صفت) حقیر ہونا۔

نگاہیں جا رہی ہونا۔ (۱۶۔ محاورہ) آسنا سامنا ہونا۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگہ۔ (ن۔ مگر) (۵۶۔ ۱۔ مذ) تہہ۔ بلکہ۔ قصبہ۔

نگاہ (نگہ) وار۔ (ن۔ صفت) نگہبان۔ پاسبان۔ محافظ۔

نگاہ (نگہ) داشت۔ (ن۔ صفت) حفاظت۔ نگرانی۔ جو کسی۔

نگاہ دوڑانا۔ (۱۶۔ محاورہ) آنکھوں سے تلاش کرنا۔ خیال کرنا۔

نگاہ دیکھنا۔ (۱۶۔ محاورہ) خود سے خیالات کا اندازہ کرنا۔ نظروں سے مزاج کی کیفیت معلوم کرنا۔

نگاہ ڈالنا۔ (۱۶۔ محاورہ) دیکھنا۔

نگاہ رکھنا۔ (۱۶۔ محاورہ) نظر رکھنا۔ توجہ رکھنا۔ خیال رکھنا۔ دیکھنا۔ نگرانی کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) رعیت کی صلاحیت ہونا۔

نگاہ رو بردو۔ (۱۶۔ محاورہ) نگاہ (نگہ) جب کسی شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے تو نگاہ رو بردو کہا کرتے تھے۔

نگاہ سے راز کرنا، کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) بے وقت ہو جانا۔

نگاہ شوق۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) خواہش بھر پوری نگاہ۔

نگاہ غلط انداز۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) اچھتی بونی نگاہ۔ ایسی نظر سے دیکھنا کہ تینوں کوکس طرف دیکھا جا رہا ہے۔

نگاہ کا کام کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) نظر پہنچنا۔

نگاہ کا مارا۔ (۱۶۔ مذ) عاشق۔ چاہنے والا۔

نگاہ کج۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) ترمیمی نظر۔ غصہ کی نظر۔

نگاہ گرم۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) مہربانی کی نظر۔

نگاہ کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) (۱۶۔ مٹ) سوچنا۔ خیال کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) (۱۶۔ مٹ) سوچنا۔ خیال کرنا۔

نگاہ گرم۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) تیز نگاہ۔ غصہ کی نگاہ۔

نگاہ لڑانا۔ (۱۶۔ محاورہ) آنکھیں لڑانا۔ نظر بازی کرنا۔ آنکھ سے آنکھ ملانا۔

نگاہ لڑانا۔ (۱۶۔ محاورہ) آنکھ سے آنکھ ملنا۔ عاشق ہونا۔

نگاہ ملانا۔ (۱۶۔ محاورہ) آنکھیں چا کر کرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) مقابل ہونا۔

نگاہ (نگاہیں) ملنا۔ (۱۶۔ محاورہ) آنکھیں چا رہی ہونا۔ رو بردو ہونا۔ توجہ ہونا۔

نگاہ میلی ہونا۔ (۱۶۔ محاورہ) کدورت آجانا۔ رنجش ہونا۔

نگاہ (نگاہوں) میں۔ (۱۶۔ محاورہ) نظر میں۔ خیال میں۔

نگاہ میں آنا۔ (۱۶۔ محاورہ) چھٹا۔ اندازہ ہونا۔

نگاہ میں پھرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) دھیان میں آنا۔ خیال میں آنا۔ یاد آنا۔

نگاہ میں چھٹنا۔ (۱۶۔ محاورہ) پسند آنا۔

نگاہ میں خوار ہونا۔ (۱۶۔ محاورہ) نظر کو برا لگنا۔ پسند نہ آنا۔

نگاہ میں رکھنا۔ (۱۶۔ محاورہ) خیال رکھنا۔ نگہبانی کرنا۔ متوجہ رہنا۔

نگاہ میں سبک ہونا۔ (۱۶۔ محاورہ) بے وقعت اور بے قدر ہونا۔

نگاہ میں سامنا۔ (۱۶۔ محاورہ) پسند ہونا۔

نگاہ کھینا۔ (۱۶۔ محاورہ) پسند ہونا۔ مرغوب ہونا۔

نگاہ میں ہونا۔ (۱۶۔ محاورہ) دھیان میں ہونا۔ خیال رہنا۔

نگاہ ناز۔ (ن۔ ۱۔ مٹ) ناز و انداز کی نظر۔ معشوقانہ نظر۔

نگاہ نہ ٹھہرنا۔ (۱۶۔ محاورہ) کسی چیز کی چمک کے باعث اس پر

نگوڑا ناٹھّا۔ ۵۔ ۱۔ صف ۱۱، لا مارث بے اولاد ۲۱، وہ شخص جس کے کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔

نگوڑسی۔ (رن۔ گور۔ تری، ۵۔ صف ۱۱، سیکس عورت۔ بد نصیب۔ بے وارث۔ نگوڑا کی تائینت۔

نگوڑ۔ (رن۔ گول) ۱۱، صف ۲، آئینہ ۲، آئندھا۔ اٹا۔

نگوڑ۔ (رن۔ پخت۔ ۱۱۔ صف ۱۱، بد نصیب۔ بد قسمت۔

نگوڑ سار۔ (رن۔ صف ۱۱، آئندھا ۲، شرم سے سر جھکائے ہوئے۔

نگوڑ بہمت۔ (رن۔ صف ۱۱، کم حوصلہ۔ کمزور۔

نگو۔ (رن۔ گ۔ ۱۱۔ صف ۱۱، نگاہ کا مخفف دیکھیے مرکبات نگاہ کے ذیل ہیں۔

نگ۔ (رن۔ بہت۔ ۱۱۔ صف ۱۱، دیکھیے نہکت خوشبو جو ملک۔

نگ۔ (رن۔ گھ۔ ۱۱، صف ۱۱، بے گھر خانہ بدوس۔ بے خانہ۔

نگھ گھٹ۔ (رن۔ گھ۔ گھٹ، ارق۔ صف ۱۱، شوخ چشم۔

نگیکانی۔ (رن۔ گ۔ یا۔ ۱۱، صاف، ایلے احتیاط ۲، دل کا بودا ۳، بے عقل۔

نگیکس۔ (رن۔ کیس۔ ۱۱۔ صف ۱۱، نگینہ۔ نگ۔ جواہر۔

نگینہ۔ (رن۔ گ۔ ۱۱، صف ۱۱، نگ۔ جواہر قیمتی پتھر۔

نگینہ جڑنا۔ ۱۱۔ صف ۱۱، زلیو میں نگ نصب کرنا۔

نگینہ ساز۔ (رن۔ صف ۱۱، جواہر تراشنے والا۔

نگینہ کی چوڑیاں۔ ۱۱۔ صف ۱۱، چوڑیاں جن میں نگ جڑے ہوں۔

و غیر رکھنے کیلئے مین یادداشت کا نمل۔

نلوٹا۔ (رن۔ ۱۱۔ صف ۱۱، مھ، گھاس چھوس سے کھیت کی صفائی کرنا۔

نلوٹا۔ (رن۔ ۱۱۔ صف ۱۱، مھ، گھاس چھوس سے کھیت کی صفائی کرنا۔

نلوہ۔ (رن۔ ۱۱۔ صف ۱۱، بے لوث۔ خالص۔ صاف ۲، کھر سے ۳، مفت میں ترانفخ ۲، بے مشقت ۵، وہ کام جو بے اعانت اور بلا شرکت غیرے کیا جائے ۶، وہ روپیہ جو بلا محنت مل جائے۔

نلوہ اگ، جو جانا۔ ۱۱۔ صف ۱۱، کورا پنج جانا۔ بغیر کسی گزند کے بچ کر نکل جانا۔

نلوہ چلا جانا۔ ۱۱۔ صف ۱۱، صاف چلا جانا۔ لے لاگ چلا جانا۔

نلی۔ (رن۔ ۱۱۔ صف ۱۱، مھ، نال۔ پٹنڈی کی پٹی ۲، جو لاسے کی نالی ۳، ہندو کی نالی ۴، نرک جو اندر سے خالی ہو۔

نلیا۔ (رن۔ ۱۱۔ صف ۱۱، مھ، ۱۱، جڑی مار۔ جھینڈا ۲، ۵۔ ۱۔ صف ۱۱، نال کی تصغیر۔ جھوٹی نلی۔ جھوٹی نالی۔

# ن-م

نم۔ (رن۔ صف ۱۱، گیلا پن۔ رطوبت۔ سیل۔ تری ۲، تر۔ گیلا۔ مرطوب ۳، طراوت۔

نم خوردہ (ویدہ۔ رسیدہ ۲، صف ۱۱، سیلا، ٹوا۔ مرطوب۔

نم لکڑ۔ (رن۔ صف ۱۱، نمی جذب کر لینے والا۔

نم چھو۔ (رن۔ صف ۱۱، وہ پتھر جو اس کی نمی جذب کر لینے کیلئے پلنگ پر چھت گیری کی طرح ڈال دیتے ہیں۔ شامیانہ۔ سامیان۔

نم ناک۔ (رن۔ صف ۱۱، تر۔ گیلا، جھیکا، ہوا۔ مرطوب۔

نم۔ (رن۔ ۱۱۔ صف ۱۱، نڈی۔ نم۔

نما۔ (رن۔ صا، ۱۱، صف ۱۱، دکھانے والا۔ ظاہر کرنے والا ۲، مرکبات میں لاقحہ کے طور پر استعمال، ہوتا ہے جیسے قیلہ نما۔

نماز۔ (رن۔ ما، ۱۱۔ صف ۱۱، بندگی۔ پرستش ۲، نیاز۔ عاجزی آنکسار ۳، اہل اسلام کی عبادت۔

نماز آنا۔ ۱۱۔ صف ۱۱، نماز کی ترکیب معلوم ہونا۔ نماز پڑھنے کا سلیقہ، ہونا۔

نماز ادا ہونا۔ ۱۱۔ صف ۱۱، نماز پڑھا جانا۔ وقت مقررہ پر نماز پڑھا جانا۔ نماز استقامت۔ ع۔ ۱۱۔ صف ۱۱، وہ نماز جس میں بارش کے واسطے دعا کی جاتی ہے۔

نماز باجماعت۔ (رن۔ ع۔ ۱۱، صف ۱۱، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جانا۔

نماز پڑھنا۔ ۱۱۔ صف ۱۱، نماز پڑھنا شروع کرنا ۲، نماز ادا کرنے کے واسطے کھڑا ہونا۔

# ن-ل

نل۔ (رن۔ ۱۱۔ صف ۱۱، مٹی ۲، اندر سے کوکھلی گول اور لمبی چیز ۳) نال (۳) نال (۳) نال کا ٹوڑا، نرکل۔ سرکنڈا۔

نل گوال۔ (رن۔ صف ۱۱، وہ گوال جس سے نل کے ذریعے پانی نکالا جائے۔

نل کھونچا۔ (رن۔ صف ۱۱، مٹی سریش لگا کر چڑیاں بچوڑنے کی بڑی سی چھڑ۔

نلا۔ (رن۔ لا، ۱۱۔ صف ۱۱، پیشاب کی نالی ۲، ناف کی مانند ایک پٹھا۔

نلا۔ (رن۔ پاؤں کی بڑی رن، ارق، نل۔

نلا ل جانا۔ ۱۱۔ صف ۱۱، نلے کا اپنی جگہ سے سرک جانا۔

نلا نا۔ (رن۔ لا، ۱۱۔ صف ۱۱، مھ، کھیت سے گھاس چھوس صاف کرنا۔

نلا ہٹ۔ (رن۔ لا، ۱۱، صف ۱۱، نلی رنگت۔

نلائی۔ (رن۔ لا، ۱۱۔ صف ۱۱، مھ، کھیت نلانے کی اجرت ۲، نلانے کا کام۔

نلا۔ (رن۔ لا، ۱۱، صف ۱۱، مھ، معلوم۔

نلا۔ (رن۔ ع۔ ۱۱، صف ۱۱، بے غیبت۔

نلا۔ (رن۔ ع۔ ۱۱، صف ۱۱، مھ، بھینٹا نل، مہینہ نل۔

نلا۔ (رن۔ ع۔ ۱۱، صف ۱۱، مھ، چھوٹا سا نل ۲، کاغذ۔

نماز پنج گانہ - (ن-۱)۔ مدت پانچوں وقت کی نماز۔  
 نماز پیشین - (ن-۱)۔ مدت پانچ کی نماز۔  
 نماز جاننا - (ن-۱)۔ محاورہ نماز کا قضا ہونا۔ بروقت نماز ادا نہ کر سکرنا۔  
 نماز جنازہ - (ن-۱)۔ ع-۱۔ مدت وہ نماز جو مردے کی لاش پر کھڑے  
 ہی کھڑے پڑھتے ہیں۔  
 نماز جاہلیت - (ن-۱)۔ مدت طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد جو نماز  
 پڑھی جاتی ہے۔  
 نماز خسوف - (ن-۱)۔ ع-۱۔ مذ-۱۔ وہ نماز جو چاند گرہن کے وقت  
 پڑھتے ہیں۔  
 نماز شام - (ن-۱)۔ مدت مغرب کی نماز جو آفتاب غروب ہونے  
 بعد پڑھی جاتی ہے۔  
 نماز شکر - (ن-۱)۔ ع-۱۔ مدت شکر کرنے کی نماز۔  
 نماز ظہر - (ن-۱)۔ ع-۱۔ مدت وہ نماز جو دوپہر ڈھلے پڑھی جاتی ہے۔  
 نماز عصر - (ن-۱)۔ ع-۱۔ مدت تیسرے پہر کی نماز جو غروب آفتاب سے  
 کچھ دیر پہلے پڑھی جاتی ہے۔  
 نماز عشاء - (ن-۱)۔ ع-۱۔ مدت وہ نماز جو مغرب کے بعد پڑھی  
 جاتی ہے۔ رات کی نماز۔  
 نماز عید - (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو عید کے دن عید گاہ میں  
 ادا کی جاتی ہے۔  
 نماز فجر - (ن-۱)۔ مدت صبح کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے  
 پہلے پڑھی جاتی ہے۔  
 نماز قصر - (ن-۱)۔ مدت وہ مختصر نماز جو حالت سفر میں کم  
 کر کے پڑھی جاتی ہے۔  
 نماز قضا - (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو وقت پر نہ پڑھی جاسکی ہو اور  
 بعد میں قضا کر کے پڑھی جائے۔  
 نماز قضا کرنا - (ن-۱)۔ محاورہ وقت مینہ پر نماز نہ پڑھنا۔  
 نماز کسوف - (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو سورج گہن کے وقت  
 پڑھی جاتی ہے۔  
 نماز کو چھڑانے کے روزے گلے بڑے - (ن-۱)۔ مثل ایک کام سے  
 ہتھیار چھڑانے کی کوشش میں دوسری ہم ذمے پڑھنی۔  
 نماز گزار - (ن-۱)۔ صفت نماز ادا کرنے والا نماز۔ یا بند نماز۔  
 نماز وتر - (ن-۱)۔ مدت عشاء کی نماز میں جو تین رکعت نماز  
 پڑھی جاتی ہے۔  
 نماز وحشت - (ن-۱)۔ صفت وہ نماز جو کسی شخص کی موت کے  
 بعد پہلی رات کو پڑھی جاتی ہے۔  
 نمازی - (ن-۱)۔ مذ-۱۔ صفت نماز پڑھنے والا۔ نماز کا پابند۔  
 نمازی کا لگاؤ - (ن-۱)۔ مذ-۱۔ مذی کا بدلہ۔ فعل بد کی سزا۔ وہ بات جس کی نماز  
 کسی نے کسی موقع پر نہ پڑھی ہو۔  
 نمازی کھڑے - (ن-۱)۔ مذ-۱۔ مذ-۱۔ پاک لباس ایسے کپڑے جن سے نماز  
 پڑھی جاسکے۔

نماز شام - (ن-۱)۔ ع-۱۔ شام، (ن-۱)۔ شام۔  
 تمام - (ن-۱)۔ تمام بارے صفت پختل خورد۔ ادھر کی ادھر کہنے والا۔ سزا  
 نمازنا - (ن-۱)۔ ما-نا، (ن-۱)۔ صفت جھکانا یا فروخت کرنا۔  
 سادہ -  
 نمازش - (ن-۱)۔ ما-نا، (ن-۱)۔ مدت وہ نماز جو (ن-۱)۔ نمود (ن-۱)۔ ظہور (ن-۱)۔  
 زرعی پیداوار، مصنوعات یا دوسری مفید اور دلچسپ چیزوں کو کسی  
 خاص پتھر پر لوگوں کو دکھانا یا فروخت کرنا۔  
 نمازش گاہ - (ن-۱)۔ مدت وہ مقام جہاں نماز منعقد ہو۔  
 نمازشی - (ن-۱)۔ ع-اشی، (ن-۱)۔ صفت دکھاوے کا۔ ظاہر میں اچھا۔  
 نماز سڈگی - (ن-۱)۔ ما-اندگی، (ن-۱)۔ مدت قائم مقامی کسی کی جگہ پر  
 موجود ہونا۔ کسی تقریب میں کسی ملک۔ نظریہ جماعت یا گروہ کے توجہ  
 کی حیثیت سے شریک ہونا۔  
 نماز سہ - (ن-۱)۔ ع-ان، (ن-۱)۔ مذ-۱، (ن-۱)۔ دکھانے والا۔ قائم مقام  
 ترجمان جمع۔ نماز سڈگان۔  
 نمازی - (ن-۱)۔ ع-ای، (ن-۱)۔ مدت اظہار ظہور۔ اعلان۔ اشاعت۔ برکات  
 میں مستعمل ہے جیسے خوشنمازی۔ خود نمازی۔  
 نمازیوں - (ن-۱)۔ ما-یوں، (ن-۱)۔ صفت اظہار عیال۔ علانیہ۔ ایشکارا (ن-۱)۔  
 مشہور۔ نامور (ن-۱)۔ نکلا۔ اچھا۔ اچھا۔  
 نمبر - (Number) (ن-۱)۔ بزرگ۔ انگ۔ مذ-۱، (ن-۱)۔ تعداد (ن-۱)۔ درجہ  
 رس۔ باری۔ نوبت۔  
 نمبر بڑھ جانا - (ن-۱)۔ محاورہ سبقت لے جانا۔  
 نمبر چھیننا - (ن-۱)۔ محاورہ ایک کا دوسرے پر سبقت لے جانا۔  
 نمبر دار - (ن-۱)۔ صفت وہ شخص جو کسی گاؤں یا اس کے کسی حصہ کی سرکاری  
 مال گذاری وصول کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرتا ہے۔  
 نمبر دینا - (ن-۱)۔ محاورہ امتحان میں تمہیں کا مفروضہ نمبروں میں سے نمبر دینا  
 پڑھنا۔ معیار مقرر کرنا۔  
 نمبر ڈالنا - (ن-۱)۔ محاورہ نمبر کے لیے نشان ڈالنا۔  
 نمبر لگانا - (ن-۱)۔ محاورہ ترتیب سے نمبر کے نشان ڈالنا۔  
 نمبر سنی - (ن-۱)۔ ب-ری، (ن-۱)۔ صفت (ن-۱)۔ نمبر سے نسبت رکھنے والا (ن-۱)۔  
 مشہور۔ بدنام۔ جیسے نمبر سنی بدعاش۔  
 نمبر سنی نالاش - (ن-۱)۔ مدت باقاعدہ نالاش۔ عدالت مال کی نالاش۔  
 نمبٹانا - (ن-۱)۔ ع-نا، (ن-۱)۔ مص-۱، (ن-۱)۔ جھکتنا۔ چکانا۔ سبے بان کرنا۔  
 (ن-۱)۔ ختم کر دینا۔  
 نمٹا ہوا - (ن-۱)۔ صفت (ن-۱)۔ جھکتا ہوا (ن-۱)۔ تجسہ بہ کار۔ جہاں دیدہ۔  
 سیانا۔  
 نمٹنا - (ن-۱)۔ صفت (ن-۱)۔ صفت جھکتا۔ چکانا۔ بے باقی کرنا۔ نارغ  
 ہونا۔ ختم کرنا۔  
 نمند - (ن-۱)۔ مذ-۱، (ن-۱)۔ مذ-۱۔ نمند۔ اُون یا چشم کا بستر۔ ملائم بالوں  
 کا بستری۔  
 نمند پوش - (ن-۱)۔ صفت کٹ پوش۔ وہ شخص جو پوسٹین یا پٹو کا لباس

نمک چکھنا - (۱۷- محاورہ) کھانے کو اس عرض سے چکھنا کہ نمک کی کمی بیشی کا پتہ چل جائے۔

نمک چھڑکنا - (۱۷- محاورہ) ستانا، تکلیف میں اضافہ کرنا۔  
نمک حرام - (۱۷- مع- صفت) ناشکر۔ وہ ملازم جو اپنے آقا کا بند خواہ ہو۔

نمک حرامی - (۱۷- مع- صفت) ناشکر۔ آقا سے بے وفائی۔  
نمک حلال - (۱۷- مع- صفت) احسان مند۔ شکر گزار۔ حق شناس۔ اپنے آقا کا خیر خواہ۔

نمک حلالی - (۱۷- مع- صفت) خیر خواہی، شکر گزاری، حق شناسی۔  
نمک حلالی کرنا - (۱۷- مع- صفت) اپنے ملک کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنا۔

نمک خوار - (۱۷- مع- صفت) خادم، ملازم، گھر میں پرورش کیا ہوا۔  
نمک خوردن و کھلوان - (۱۷- مع- صفت) محسن کشی کرنا۔ احسان فراموشی اور ناشکر گزار ہونا۔

نمکدان - (۱۷- مع- صفت) نمک رکھنے کا برتن۔  
نمک نزار - (۱۷- مع- صفت) نمک پیدا ہونے والی جگہ۔  
نمک کی کان۔

نمک زہر کر دینا - (۱۷- محاورہ) بہت سا نمک ڈال دینا۔  
نمک زہر ہو جانا - (۱۷- محاورہ) کھانے میں نمک بہت زیادہ بڑھانا۔

نمک سنگ - (۱۷- مع- صفت) نمک کا ٹکڑا۔  
نمک شیر ہونا - (۱۷- محاورہ) کھلنے میں نمک تیز ہونا۔  
نمک کا اثر - (۱۷- مع- صفت) وہ اثر جو کسی کی دی ہوئی روزی کھانے سے ہو۔

نمک کا پاس - (۱۷- مع- صفت) کسی کی دی ہوئی روزی کھانے کا لحاظ۔  
نمک کا بیج ادا کرنا - (۱۷- محاورہ) وفاداری کرنا۔ نمک حلالی کرنا۔ ملک کی خیر خواہی کرنا۔

نمک کا سہارا - (۱۷- مع- صفت) تھوڑا سا سہارا۔ رزق کا تھوڑا سا سہارا۔  
نمک کھانا - (۱۷- محاورہ) کسی کی ذمہ داری کرنا۔ کسی کی دی ہوئی روزی کھانا۔  
نمک کی قسم - (۱۷- مع- صفت) وفاداری ظاہر کرنے کو نمک کی قسم کھاتے ہیں۔

نمک کی کٹنگری کا سہارا - (۱۷- مع- صفت) تھوڑے سے رزق کا سہارا۔  
تھوڑا سا سہارا۔

نمک کی کٹنگری حرام ہونا - (۱۷- محاورہ) بالکل ناقص ہونا۔  
نمک کی مار ٹرنا - (۱۷- محاورہ) نمک حرامی کی سزا دینا۔  
نمک مریج چھڑکنا - (۱۷- محاورہ) بہت دکھ دینا۔ کمال ایذا دینا۔

نمک مریج نکالنا - (۱۷- محاورہ) (۱) مسالے دار نانا خوش ذائقہ بنانا (۲) مبالغہ کرنا۔ بات بڑھا کر بیان کرنا (۳) چھڑکانا۔ اگسنانا۔

نمک مریج نکالنا - (۱۷- مع- صفت) (۱) نمک کی کٹنگری کے ذریعے نمک کی کٹنگری نکالنا۔ (۲) نمک کی کٹنگری کے ذریعے نمک کی کٹنگری نکالنا۔ (۳) نمک کی کٹنگری کے ذریعے نمک کی کٹنگری نکالنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔  
نمک پھینکنا - (۱۷- مع- صفت) نمک پھینکنا۔

## ن۔ ن

نن۔ (Nun) انگ ۱۔ مٹ، دنیا چھوڑ دینے والی عورت۔

راہبہ۔ وہ عورت جو اپنی زندگی عبادت و ریاضت کے لیے وقف کر دیتی ہے۔

ننا۔ نن، نا، آر، صفت ۱۱، جو بنا، ٹھکانا (۲)، کچھ، نا سمجھ۔

ننا کاتنا۔ (۱) مجاورہ، باریک سوت کاتنا (۲) بے حد کفایت چاہنا (۳) ٹھکانا اور گنجوںس ہونا۔

نناٹنا۔ (۱) صفت بہت چھوٹا۔

نناٹوے۔ (نن۔ نن۔ نان۔)۔ سے ۱۵۔ صفت ایک کم سو۔ ۹۹۔

نناٹوے کا پھیر۔ (۱) مذ۔ دولت جمع کرنے کا لالچ۔ دولت بڑھانے کی فکر۔

نناٹوے کے پھیر میں پڑنا۔ (۱) مجاورہ، (۲) روپیہ جمع کرنے کی فکر میں پڑنا (۳) لالچ میں پھنسنا۔

ننا وال۔ (نن۔ نا۔ وال۔)۔ صفت ۱۱، وہ جس کا نام لینا منجوس ہو (۲) بہت بڑا، منہ کا چھاللا۔

نن پن۔ (نن۔ پن۔)۔ صفت ۱۱، ننھیاں۔

ننڈ۔ (۱) صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی بہن۔

ننڈا۔ (نن۔ ننڈا۔)۔ صفت ۱۱، الزام، قصور (۲) تنبیہ (۳) گالی۔ دشنام۔ (۴) بے عزتی (۵) نفرت۔ سخاوت۔

ننڈاسا۔ (نن۔ نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا میں بھرا ہوا خواب آلودہ ننڈو سی۔ ننڈوئی۔ (نن۔ نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈو، ننڈو سی (۲) ننڈو، ننڈو سی (۳) ننڈو کا خاندان۔

ننڈولا۔ (نن۔ ننڈولا۔)۔ صفت ۱۱، ننڈولا، ننڈولا کی تصغیر۔ چھوٹی ننڈا۔

ننڈیا۔ (ننڈیا۔)۔ صفت ۱۱، ننڈیا، ننڈیا کی تصغیر۔ ننڈیا۔

ننگ۔ (نن۔ نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ آدم۔ (نن۔ صفت)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ آنا۔ (۱) مجاورہ، شرم آنا۔ غیرت آنا۔

ننگ خاندان۔ (نن۔ صفت)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ خلائق۔ (نن۔ صفت)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ ونام۔ (نن۔ صفت)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ وناموس۔ (نن۔ صفت)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ وناموس کوخیر یا دکھنا۔ (۱) مجاورہ، عزت کو روکنا۔

ننگ وناموس میں رخصت ڈالنا۔ (۱) مجاورہ، عزت میں فرق ڈالنا۔ بے عزت کرنا۔

ننگ ہونا۔ (۱) مجاورہ، عار ہونا، غیرت ہونا۔ (۲) شہدا، بیجا۔ بے عزت۔

ننگ۔ (۱) صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔ (۲) ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ۔ (۱) صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔ (۲) ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ دھڑنگ۔ (۱) صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔ (۲) ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگ (۳) کھاری۔

ننگینی۔ (نم۔ کی۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعل نعل۔ (نم۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمن۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

نعمو۔ (نن۔)۔ صفت ۱۱، ننڈا، ننڈا کی تصغیر۔ ننڈا۔

ننگا - (۱۱۔ صفت) را، برہنہ۔ عریاں (۲۱)۔ بے جیا۔ بے شرم۔ بے عزت (۳۱)۔ لجا۔ شہیدا (۳۱)۔ مفلس۔ قلاش۔  
 ننگا لوجا - (۱۷۔ محاورہ) مفلس۔ قلاش۔  
 ننگا بونجا سب سے اونچا - (۱۷۔ مثل) مجرود اور بے سرمایہ بالکل بے فکر ہوتا ہے۔  
 ننگا بھوکا - (۱۷۔ صفت) جس کے پاس نہ پینے کو کپڑا ہو نہ کھانے کو روٹی۔  
 ننگا جھوڑی - (۱۷۔ صفت) بالکل ننگا کر کے تماشی لینا۔  
 ننگا دھڑنگا - (۱۷۔ صفت) بالکل ننگا۔ عریاں۔ برہنہ۔  
 ننگا ساٹھ روپے کاے میس پیسے کھائے - (۱۷۔ مثل) جس کے پوی نیچے نہ ہوں۔ بہت کم خرچ کرتا ہے۔  
 ننگا سب سے چنگا - (۱۷۔ مثل) بے حیا کسی کا لیا ظاہر نہیں ہوتا۔  
 ننگا کر دینا - (۱۷۔ محاورہ) ۱۔ کپڑے اتار لینا۔ برہنہ کر دینا (۲)۔ لوٹ لینا (۳)۔ زیور اتار لینا (۴)۔ کچھ نہ چھوڑنا۔  
 ننگا کھڑا اُچھاڑ میں ہے کوئی کپڑے لے - (۱۷۔ مثل) عزیز اور مفلس سے کسی نے کیا لینا ہے۔  
 ننگا کھلا - (۱۷۔ صفت) بالکل ننگا۔  
 ننگا لجا - (۱۷۔ صفت) مفلس۔ بد معاش۔  
 ننگا ماڈر زاد - (۱۷۔ صفت) ایسا ننگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

ننگا بھولا - (۱۷۔ صفت) نادان۔ کم عقل۔  
 ننگا سا جیوڑا - (۱۷۔ صفت) چھوٹا بچہ۔  
 ننگا سا کلیجہ - (۱۷۔ مذ) چھوٹا سا کلیجہ۔ بچے کا کلیجہ۔  
 ننگا سا منہ نہ بھری زبان - (۱۷۔ مثل) چھوٹی حیثیت مگر بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا۔  
 ننگا منٹا - (۱۷۔ صفت) بہت چھوٹا سا۔  
 ننگا ننگا - (۱۷۔ صفت) ننگہ۔ یال۔ دن۔ ن۔ ن۔ ہال، ۵۶۔ ۱۔ منٹ، نانا کا گھر۔ نانا کا خاندان۔  
 ننگی - (۱۷۔ صفت) ننگی۔ (۱۷۔ صفت) ننگی کی تانیت۔ چھوٹی بچی۔ چھوٹی عورت۔  
 ننگی کا - (۱۷۔ مذ) (۱) ننگی عورت کا جینا، بوا (۲)۔ بیوقوف۔ احمق۔ نادان۔  
 ننگی بھولا - (۱۷۔ صفت) سادہ۔  
 ننگی بھیا - (۱۷۔ صفت) یا، (ن۔ ن۔ یا) (۵۶)۔ صفت، نانا کا۔ نانا یا نانی سے متعلق۔  
 ننگی (ننگی) ساس - (۱۷۔ مذ) زوجہ یا شوہر کی نانی۔  
 ننگی (ننگی) سسر - (۱۷۔ مذ) زوجہ یا شوہر کا نانا۔  
 ننگی (ننگی) نانا - (۱۷۔ صفت) منٹ کرنا۔ عاجزی کرنا۔

## ن۔و

ننگوں کو بھوکوں نے لوٹ لیا - (۱۷۔ مثل) بد معاشوں نے بد معاشوں کے ساتھ بد سلوکی کی۔  
 ننگوں کی بستی - (۱۷۔ صفت) وہ مقام جہاں کوئی قاعدہ قانون نہ ہو۔  
 ننگے پاؤں ننگے سر - (۱۷۔ مثل) حیران پریشان۔ گھبرایا ہوا۔  
 مصیبت زدہ۔  
 ننگے پاؤں ہونا - (۱۷۔ محاورہ) غصے میں آنا۔  
 ننگا نا - (۱۷۔ صفت) (۱) مص۔ حق، خوب ٹوٹنا۔  
 ننگائی - (۱۷۔ صفت) (۱) ننگائی۔ (۲) ننگائی۔ (۳) ننگائی۔  
 ننگی - (۱۷۔ صفت) (۱) ننگی کی تانیت (۲)۔ بغیر زیور کی جس کے پاس زیور نہ ہو۔ برہنہ۔  
 ننگی تلوار - (۱۷۔ صفت) (۱) میان سے نکلنے والی تلوار (۲)۔ صاف گو آدمی (۳)۔ بے خوف۔  
 ننگی کیا ہلے گی کیا چوڑے گی - (۱۷۔ مثل) مفلس اگر وصل والا بھی ہو تو کیا خرچ کرے گا بے سرمایہ کی کچھ حقیقت نہیں۔  
 ننگی ناچنا - (۱۷۔ محاورہ) عورت، بوکر لچا پن کرنا۔  
 ننگی نہ - (۱۷۔ صفت) چھین لینا۔ ہلک کر جانا۔  
 ننگا - (۱۷۔ صفت) (۱) چھوٹا سا (۲)۔ نادان۔ نامسمجھ (۳)۔ لاڈلا۔ پیارا (۴)۔ چھوٹا بچہ۔  
 ننگا بننا - (۱۷۔ محاورہ) جان بوجھ کر نادان یا ناداقت بننا۔  
 انجان بننا۔

نوسو - (۱۷۔ صفت) را، اکٹھ اور ایک۔ ایک کم دس۔ ۹۔  
 نوال - (۱۷۔ صفت) عدد، ترتیب میں آٹھ کے بعد کا درجہ۔  
 نوزوری - (۱۷۔ صفت) ایک قسم کا جوار جو پانسوں سے کھیلنا ہے۔  
 نوزیرہ بالیس تبادینا - (۱۷۔ محاورہ) شمال مغرب کرنا۔ جیلے حوالے کرنا۔  
 لیت وصل کرنا۔  
 نوزج - (۱۷۔ صفت) نوزجہرات۔ موتی۔ ہیرا۔ زمرود۔ لعل۔ نیلم۔ پھراچ۔  
 نوزنگا - (۱۷۔ صفت) نوزجہرات اور یاقوت (۲)۔ قابل آدمیوں کی کونسل۔  
 اکبر اور بکر ماجیت کے نوزجہرات مشہور ہیں (۳)۔ ایک قسم کا زرد جوار یا زردل پر پہنا جاتا ہے۔ (۴)۔ ایک خاص قسم کی چٹنی۔  
 نوسو - (۱۷۔ صفت) مرکب (۱)۔ نو سیکڑے (۲)۔ بہت۔ بہت سے۔ بے انتہا۔  
 نوسو چہے کھا کے ملی جگ کوچلی - (۱۷۔ مثل) بہت سے گناہ کر کے بڑھاپا ہونے کی کوشش کرنا۔  
 نوسو - (۱۷۔ صفت) ایک کھیل جس میں زمین پر چند غلے بنا کر ۹ ٹھیکریوں یا ٹوپوں سے کھیلتے ہیں۔  
 نوزکرہ - (۱۷۔ مذ) زراعت میں نوسو کی گردش ان کا اثر اور نام نوزکرہ (۱۷۔ صفت) یا نوزکرہ کا ایک زیور۔ پہنچے جس میں نوزنگ یا جوارہات چڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نوزکرہ۔  
 نوزکھا - (۱۷۔ صفت) لڑاکا۔ کا۔ نہایت قیمتی۔

لوگھا ہار - (۱۶- مذ) لڑاکھ روپے کا ہار - ہماہیت قیمتی اور بڑھیا ہار -  
 نو ماسہ - (۱۶- مذ) ایک رسم جو محل کے نوں میں منائی جاتی ہے -  
 نو نقد نہ تیرہ اودھار - (۱۶- مذ) قرض کے تیرہ سے نقد لانا ہے جو سردست مل جائے وہ بہتر ہے -  
 لونگا - (۱۰- مذ) بانوؤں کا ایک زیور جس میں نو ٹینگنے جڑے ہوتے ہیں -  
 لونیزے پانی چڑھنا - (۱۰- محاورہ) لڑائی جھگڑے میں طوالت ہونا -  
 لونہن - صفت، نیا جدید تازہ - ابھی کا -  
 نو آباد - (۱۰- صفت) وہ حال ہی میں بسایا ہوا تازہ آباد کیا ہوا (۲) وہ زمین جس میں پہلی دفعہ بل چلایا گیا ہو -  
 نو آباد کار - (۱۰- صفت) کسی نئی آباد جگہ پر نیا نیا آباد کرنے والا -  
 نو آبادی - (۱۰- مذ) نیا آباد کیا ہوا علاقہ - کالونی -  
 نو آبادیات - (۱۰- مذ) نو آبادی کی جمع مقبوضات -  
 نو آموز - (۱۰- صفت) جس نے ابھی سیکھنا شروع کیا ہو (۲) نا تجربہ کار - مبتدی -  
 نو ایجاد - (۱۰- صفت) نیا ایجاد کیا ہوا - حال میں ایجاد کیا ہوا -  
 نو بادہ - (۱۰- مذ) بہر نئی اور تازہ چیز خصوصاً میوہ رہی نیا پودا نو بڑوہ - (۱۰- مذ) نیا خرید ہوا غلام -  
 نو بہ نو - (۱۰- صفت) تازہ بناؤ - نیا نیا -  
 نو بہار - (۱۰- صفت) (۱) موسم بہار کا شروع (۲) موسم بہار (۳) وہ چیز جس پر نئی رونق ہو -  
 نو توڑ - (۱۰- صفت) (۱) مٹا، (۲) وہ زمین جو حال ہی میں قابل کاشت بنائی گئی ہو - (غلط ترکیب) -  
 نو جوان - (۱۰- صفت) جس کی جوانی کا ابھی آغاز ہوا ہو - نوخیز نو عمر - گھوڑو -  
 نو جوانی - (۱۰- صفت) شباب - جوانی - بلوغ -  
 نو خندی (۱) نئے چاند سے منسوب - نئے چاند کی پہلی جھلک -  
 نو خاستہ - (۱۰- صفت) نو جوان (۲) تازہ آگیا ہوا (۳) نا تجربہ کار -  
 نو خط - (۱۰- صفت) وہ نو جوان جس کی سسلیں بھیگ رہی ہوں - سبزہ آغاز -  
 نوخیز - (۱۰- صفت) نو جوان (۲) تازہ آگیا ہوا (۳) نا تجربہ کار -  
 نوخیزی - (۱۰- صفت) کسی چیز کا بھونٹا نیا آگیا -  
 نو دولت (دولت دار) - (۱۰- صفت) وہ شخص جسے مفلسی کے بعد دولت ملی ہو جو خاندانی طور پر دولت مند نہ ہو - اودھار - دولت پر بھند کرنے والا -  
 نو رس - (۱۰- صفت) (۱) نیا پینچا ہوا (۲) نیا تازہ دمیوہ (۳) نوخیز - نو جوان -  
 نو روزہ - (۱۰- صفت) (۱) سال کا پہلا دن - ایرانیوں کا توہنی منہ نو شاہ - نو شہر - (۱۰- مذ) (۱) دو لہار (۲) نو جوان بادشاہ -

مزنا غالب کا لقب -  
 نو عرو سالن چین - (۱۰- مذ) تازہ کلیاں - تازے پھول -  
 نو عمر - (۱۰- مذ) خود سال - کم سن -  
 نو عمری - (۱۰- مذ) کم سنی - بچپن -  
 نو گرفتار - (۱۰- صفت) تازہ گرفتار - نیا پکڑا ہوا (۲) تازہ تازہ یا تازہ (۳) نیا عاشق -  
 نو مسلم - (۱۰- صفت) وہ شخص جو حال ہی میں مسلمان ہوا ہو -  
 نو مشق - (۱۰- صفت) نیا آموز - نا تجربہ کار - اناٹھی -  
 نو بہال - (۱۰- مذ) نیا درخت (۲) کم عمر بچہ -  
 نو وارد - (۱۰- صفت) اجنبی - مسافر - تازہ وارد -  
 نو آ - (۱۰- مذ) (۱) مٹا، (۲) آواز - صدا (۳) کوک - چھپا (۴) سڑ - راگ - نغمہ (۵) موسیقی کے بارہ مقامات میں سے ایک مقام (۶) ساز و سامان - نو شہر - روزی - خوراک (۷) تو نگری - خوش حالی -  
 نو اپرداز - (۱۰- صفت) سزا - سنج - گہر - (۱۰- صفت) مطرب گونیا لگانے والا -  
 نو اسلخ ترمزی زین جو ذوق نغمہ کیانی - (۱۰- صفت) جب لاگ کا لطف کم ہوتا دیکھو تو آواز میں اور اتر پیدا کرو -  
 نو آ - (۱۰- صفت) نیا -  
 نو آ - (۱۰- صفت) نیا -  
 نو اب - (۱۰- صفت) (۱) مٹا، (۲) نیا بت کرنے والا - کسی شہر یا علاقے کا حاکم - سردار - صوبہ دار - ناظم - عہد منگیلے کا ایک خطاب -  
 نو اب بنانا - (۱۰- محاورہ) نو اب کا خطاب ملنا کسی علاقے کا حاکم ہو جانا مغرور ہو جانا - اپنے برابر کسی کو نہ سمجھنا -  
 نو اب لے ملک - (۱۰- مذ) وہ جو امیری کی شیخی مارے اور پاس کچھ نہ ہو -  
 نو اب زادہ - نو اب زادی - (۱۰- مذ) نو اب کی اولاد بیٹا اور بیٹی -  
 نو ابی - (۱۰- صفت) (۱) مٹا، (۲) نو اب ہونے کی حالت - نو اب پن - (۱۰- صفت) (۱) قائم مقامی - نظامت (۲) حکومت - ریاست (۳) امیری - دولت مندی (۴) فضول خرچی - عیاشی -  
 نو ابی دھٹکاٹھ (کار خانہ) - (۱۰- مذ) امیری کا روبرار - رئیسانہ ساز و سامان -  
 نو ابی کرنا - (۱۰- محاورہ) امیرانہ ٹھاٹھ سے رہنا -  
 نو ابی - (۱۰- صفت) (۱) مٹا، (۲) مضافات - ارد گرد کا علاقہ -  
 نو ابی - (۱۰- صفت) (۱) مٹا، (۲) مضافات - اس پاس -  
 نو ابی - (۱۰- صفت) (۱) مٹا، (۲) مضافات - اس پاس -  
 نو ابی - (۱۰- صفت) (۱) مٹا، (۲) مضافات - اس پاس -





نوٹ لگایا جائے  
 نوٹس جاری ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، سرکاری ادارہ کی طرف سے اطلاع  
 نوٹ نامہ جاری ہونا۔  
 نوٹین کی۔ نوٹین کی، ۵۱۔ ۱۔ منٹ، ایک قسم کا ناچ۔ ڈرامہ۔ ٹانگ۔  
 نوٹیشن۔ (Notation) نوٹ۔ طے۔ نشن، ۱۶، ٹانگ۔ ۱۔ منڈ، آواز یا اعداد  
 نوٹس کے ناموں سے ظاہر کرنا۔ علامت بندی۔  
 نوٹس ٹیکیشن۔ (Notification) ٹانگ۔ ۱۔ منڈ، نمبر  
 کا اعلان۔  
 نوچ۔ ۱۶۔ اُڑ۔ کھڑ پناہ، خدا نہ کرے۔ خدا نخواستہ، ۲، نہ۔ نہیں۔  
 نوچ دور، دود پار۔ خدا نہ کرے ایسا ہو۔  
 نوچ۔ ۵۱۔ ۱۔ منٹ، خراش۔  
 نوچ کھانا۔ ۱۶۔ محاورہ، ناخنوں سے بوٹیاں توڑ لینا۔ بہت تنگ کرنا۔ ایذا  
 دینا۔ آٹسے ہاتھوں لینا۔  
 نوچ کھسوط۔ ۱۶۔ منٹ، ۱۱، ٹوٹ مار۔ غارت گری، ۲، مال کی  
 زبردستی وصولی۔  
 نوچ ناپ۔ ۱۶۔ منڈ، نوچنا۔ پریشان کرنا۔  
 نوچ نوچ کر کھانا۔ ۱۶۔ محاورہ، بیچوں یا ناخنوں سے گوشت کو جھڑا  
 کر کے کھا جانا۔  
 نوچناچی۔ ۵۱۔ ۱۔ منٹ، چھینا چھٹی۔  
 نوچنا۔ نوچنا، ۱۶۔ مص، ناخن مارنا۔ بیچ مارنا۔ کھڑنا۔ چھکی  
 لینا، ۲، بال کھینچ لینا۔ بال اکھاڑنا، ۳، دانت سے کھسوطا، ۴،  
 ٹوٹ لینا، ۵، شاخ سے پتیاں توڑنا، ۶، بھاڑ کھانا، ۷،  
 تھکاری پرند کا چوچ یا ناخنوں سے گوشت اکھاڑنا، ۸، آڑسے  
 ہاتھوں لینا۔  
 نوچنا کھسوطا۔ ۱۶۔ محاورہ، ۱۱، جھنگل مارنا۔ بیچ مارنا، ۲، چھینا چھٹی  
 کرنا۔ لوٹنا مارنا۔  
 نوچی۔ (نوچی، ۵۱۔ ۱۔ منٹ،) لوجوان لڑکی جس سے طوائفیں پیشہ  
 کرتی ہیں۔ تسکین دینے والا، ۲، ایک مشہور نئی کا نام۔  
 نوچ کا طوفان۔ ۱۶۔ منڈ، وہ طوفان جو حضرت نوچ کے زمانہ  
 میں آیا تھا۔  
 نوچ کی کشتی۔ ۱۶۔ منٹ، وہ کشتی جو حضرت نوچ نے طوفان آب سے  
 محفوظ رہنے کیلئے تیار کی تھی، ۲، نجات کا ذریعہ۔  
 نوچہ۔ (نوچہ، ۱۶۔ ۱۔ منڈ،) رونا۔ گریہ زاری، ۲، ماتم کرنا۔ لاش پر  
 جھلکے رونا۔  
 نوچہ خواں۔ نوچہ کر، ۱۶۔ منٹ، ماتم کرنے والا، مُردے کے حالات  
 بیان کر کے رونے اور کُلائے والا۔  
 نوچہ خوانی (گری،)۔ (نوچہ، ۱۶۔ ۱۔ منٹ،) ماتم۔ گریہ زاری۔  
 رونایشتنا۔  
 نوچہ کرنا۔ ۱۶۔ مص مرکب، رونا۔ بیٹنا۔ گریہ زاری کرنا۔ ۱۶۔ زاری کرنا۔

نوٹ کو پہنچنا۔ (۱۔ منڈ،) نوٹ پہنچنا، ۲، حالت کو پہنچنا، ۳، ہونا  
 نوٹ کی نگور۔ ۱۱۔ منٹ، نوٹ یا ڈنٹے کی آواز۔  
 نوٹ کا گاہ۔ ۱۶۔ منٹ، نقارخانہ، ۲، قید خانہ، ۳، پہرے  
 کی جگہ۔  
 نوٹ گزرتا۔ موقع جاتا رہتا۔  
 نوٹ نشان۔ (نوچہ، ۱۶۔ منٹ،) نقارہ اور جھنڈا۔ یہ دونوں عزت  
 کے نشان سمجھے جاتے ہیں۔  
 نوٹ تراز۔ ۱۶۔ منٹ، نوٹ بجانے والا۔ تقارچ۔  
 نوٹ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، ۱۱، باری ہونا، ۲، حالت ہونا۔ (۳)  
 نقارہ بجانا۔  
 نوٹی۔ (نوٹی، ۱۶۔ منٹ،) باری کا، ۲، چوکیدار، ۳، نقارچی، ۴،  
 کوزل گھوڑا، ۵، بڑا خیمہ، ۶، شاہی دربان۔  
 نوئل۔ (نوئل، ۱۶۔ منٹ،) (Noble) ٹانگ۔ ۱۱، شریفیت، ۲،  
 عالی خاندان، ۳، امیر، رئیس۔  
 نوئل پرائز۔ (Noble Prize) سویڈن کے کیمیا دان نوئل کے  
 وصیت کردہ سالانہ انعامات۔  
 نوٹا۔ (نوٹا، ۵۱۔ ۱۔ منڈ،) نوٹا۔ وہ نقدی جو بیاہ شادی میں صاحب خانہ  
 کو بطور رسم دی جاتی ہے، ۲، بلاوایلی۔  
 نوٹنا۔ (نوٹ، ۱۶۔ منٹ،) مص، بیوتادینا۔ کھانا۔  
 نوٹ۔ (Note) ٹانگ۔ ۱۔ منڈ، کاغذی سکہ، ۲، تمسک، دستاویز  
 سند، ۳، یادداشت، ۴، پرچہ، چھٹی، ۵، حاشیہ۔ جو کسی کتاب پر  
 لکھا جائے۔ تفسیر تشریح۔  
 نوٹ بک۔ (Note-Book) وہ چھوٹی کتاب جس میں  
 یادداشت لکھیں۔  
 نوٹ پیپر۔ (Note-Paper) چھٹی کھینے کا کاغذ۔  
 نوٹ جاری ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، حکومت کی طرف سے نوٹوں  
 کا اجرا۔  
 نوٹ کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، یادداشت لکھنا، ۲، خاص طور پر  
 خیال رکھنا۔  
 نوٹ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، یادداشت لکھوانا، ۲، استاد کا کسی اہم مسئلہ  
 یا عبارت کی تشریح تحریر کرنا۔  
 نوٹ لکھنا۔ ۱۶۔ محاورہ، تشریح لکھنا۔ تفسیر لکھنا۔  
 نوٹ لینا۔ ۱۶۔ محاورہ، یادداشت لکھ لینا۔  
 نوٹ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، خاص طور پر یاد ہونا، لکھا ہوا ہونا۔  
 نوٹری۔ (Notary) نوٹ۔ ری، ٹانگ۔ ۱۰۔ منڈ، ناظم۔ رجسٹر۔  
 نوٹری پبلک۔ (Notary Public) حکومت کی طرف سے وہ  
 مقرر کردہ شخص جو دستاویزات کی تصدیق کرتا ہے۔  
 نوٹس۔ (Notice) نوٹس، ٹانگ۔ ۱۰۔ منڈ، اطلاع۔ یادداشت، ۲،  
 نوٹ عدالت کی طرف سے جاری شدہ اطلاع نامہ۔  
 نوٹس بورڈ۔ (نوٹس، ۱۶۔ منڈ) وہ تختہ جس پر اطلاع نامہ یا نوٹس

نور (۶-۱- مذ) روشنی۔ تجلی۔ اجمالاً جھک (۲) رونق۔ رُوب۔  
 (۳) کلام پاک کی ایک صورت کا نام، ہم، صوفیوں کی اصطلاح میں  
 خدا کا ایک صفاتی نام جمع۔ انوار۔  
 نور آجانا۔ ۱۶۔ محاورہ، روشنی پیدا ہو جانا (۲) رونق آجانا۔  
 نور آئیں۔ (۶) صفت، پر نور۔ نور سے بھرا ہوا۔ روشن۔  
 نور آڑ جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، رونق جاتی رہنا۔ بے رونق ہونا  
 نور افزا۔ (۶) ف۔ صفت، روشنی بڑھانے والا۔  
 نور افشال (باش)۔ (۶) ف۔ صفت، روشنی چھوڑنے والا منور  
 کرنے والا۔  
 نور العین۔ نور عین۔ (۶) ف۔ ۱۔ مذ (۱۱)، آنکھوں کی روشنی۔  
 (۲) بیٹا۔  
 نور الہی۔ (۶) ع۔ ۱۔ مذ، اللہ کا نور۔  
 نورانی۔ (۶) صفت، منور۔  
 نورانی چہرہ۔ (۶) ع۔ ۱۔ صفت، وہ چہرہ جس پر نور برستا ہو کسی  
 بزرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔  
 نور ایمان۔ (۶) ع۔ ۱۔ مذ، وہ نور جو ایمان دار شخص کے دل میں  
 اور چہرے پر ہوتا ہے۔  
 نور یاف۔ (۶) ف۔ ۱۔ مذ، جو لاپا۔  
 نور بانی۔ (۶) ن۔ ۱۔ صفت، کوڑا بننے کا کام یا پیشہ۔  
 نور بخش۔ (۶) ن۔ صفت، روشنی دینے والا۔  
 نور برسنا۔ ۱۶۔ محاورہ، (۱) روشنی کی فراوانی ہونا۔ (۲) رونق  
 ہونا۔ چمکنا۔  
 نور چھلکنا۔ ۱۶۔ محاورہ، چمکنا۔ روشنی دینا۔  
 نور چشم۔ (۱) آنکھوں کا نور (۲) اولاد۔ بیٹا۔  
 نور چمکنا۔ ۱۶۔ محاورہ، روشنی چھلکنا۔ رونق بڑھانا۔  
 نور چھایا جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، چاروں طرف روشنی ہونا۔ ہر طرف  
 روشنی ہونا۔  
 نور چھلکنا۔ ۱۶۔ محاورہ، نور چھلکنا۔  
 نور چھٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، پردے یا درختوں کے پتوں یا بادلوں  
 سے روشنی کا تھوڑا تھوڑا کر کے باہر آنا۔ سوراخ دار شے سے  
 روشنی نکلنا۔  
 نور دیدہ۔ بصیرت۔ (۶) ف۔ صفت، آنکھوں کا نور (۲)  
 (عجازاً) اولاد۔ بیٹا۔  
 نور ظہور کا وقت۔ ۱۶۔ مذ، علی الصبح صبح صادق کا وقت۔  
 نور علی نور۔ (۶) ع۔ صفت، (۱) نور۔ نور (۲) ایک سے ایک بڑھ کر  
 (۳) بہتر۔ علی (۲) سبحان اللہ۔ صل علی (۵) یہ محاورہ طنزاً  
 بھی استعمال ہوتا ہے۔  
 نور کا۔ ۱۶۔ صفت، جھکدار۔ حسین (۲) بہت عمدہ۔ پاکیزہ۔  
 نور کا ستلا۔ ۱۶۔ صفت، حسین جو بصورت۔ نورانی صورت۔  
 نور کا تڑکا۔ ۱۶۔ مذ، صبح صادق پوچھنے کا سماں۔

نور کا دریا۔ ۱۶۔ صفت، سراپا نور۔ مجسم نور۔  
 نور کا گلا (نورانی کلا)۔ (۱) مذ، نہایت وسیلی اور مٹھلی آواز۔  
 نور کا مینہ۔ ۱۶۔ مذ، روشنی کی کثرت۔  
 نور کی آواز۔ ۱۶۔ صفت، شیریں آواز۔  
 نور کی باتیں۔ ۱۶۔ صفت، پیشی پیشی باتیں۔ شیریں گفتگو۔  
 نور کی بزم۔ ۱۶۔ صفت، مسینوں کا مجمع  
 نور کی تانیں۔ ۱۶۔ صفت، مٹھلی تانیں۔  
 نور کی چادر۔ ۱۶۔ صفت، روشنی کی کثرت۔ روشنی کا اکٹھا ایک  
 جگہ بٹھانا۔  
 نور کے بول۔ ۱۶۔ مذ، دل بھانے والی باتیں۔  
 نور کے سانچے میں ڈھلنا۔ ۱۶۔ محاورہ، خوبصورت اور حسین  
 ہونا سرتا پانور ہونا۔  
 نور مٹھلی۔ ۱۶۔ مذ، ایک قسم کا کھانا۔  
 نور نظر۔ آنکھوں کی روشنی۔ دکھاتا، بیٹا۔  
 نور۔ نورہ۔ (نور، ۱) مذ، بال ڈرانے کا سفوف۔ جو چمے اور  
 بڑھانے کا مرکب ہوتا ہے۔  
 نور الکن۔ ۱۶۔ محاورہ، بال ڈرانے کا پاؤ ڈرگنا (۲) کسی کے قریب جیتے  
 سے نقصان ہونا۔  
 نورانا۔ (نور، رانا، ۱) ف۔ صفت، روشن کرنا۔  
 نورانی۔ (نور، رانی، ۱) ع۔ ف۔ صفت، روشن۔ منور۔ چمکیلا  
 درخشاں۔  
 نور زرت۔ (نور، زرت، ۱) ق۔ ۱۔ صفت، بہار کا موسم۔  
 نور۔ دن۔ نور۔ (۱) ف۔ صفت، ہلے کرنے والا۔ لپٹنے والا مرکبات  
 میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے صحرانورد۔  
 نور دی۔ (۶) ف۔ صفت، سفر کرنا۔ بطور لائق استعمال ہوتا ہے جیسے  
 صحرانوردی۔  
 نور دی۔ (نور، دی، ۱) ق۔ چوٹنا۔  
 نور دی۔ (نور، دی، ۱) ع۔ صفت، نور کا۔ نور سے منسوب ہونا (۲) نور کا  
 بنا ہوا (۳) چمکدار۔ نورانی۔  
 نورنا۔ (نور، نا، ۱) ق۔ صفت، چمکنا۔  
 نور ہانا۔ (نور، ہانا، ۱) ع۔ صفت، چمکنا۔  
 نور وہ۔ (نور، وہ، ۱) ن۔ صفت، اسیس۔  
 نور ساگر۔ (نور، ساگر، ۱) ق۔ ۱۔ مذ، نور ساگر۔  
 نور سہاڑ۔ ۱۶۔ صفت، دھوکے باز۔  
 نورش۔ (۶) ن۔ ۱۔ مذ، خوش گواری چیز (۲) آب حیات۔ امرت (۳) شہد  
 (۴) تریاق (۵) صفت، پینے والا۔ مرکبات کے آخر میں بطور لائق  
 بھی استعمال ہوتا ہے جیسے بادہ نوش۔  
 نورش بے پیش حاصل نمی شود۔ (۶) ن۔ مثل، شہد ڈنگ کھائے  
 بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز بے محنت نہیں ملتی۔  
 نورش جان کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، کھانا کھانا۔

نوش جان ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، خوش گواری سے کھلایا جانا۔  
 نوش دارو۔ ۱۷۔ صفت، تریاق، ۱۲، شراب، ۱۳، ایک قسم کی عجون جو خوش ذائقہ اور فرحت بخش ہوتی ہے۔  
 نوشابہ۔ ۱۸۔ مذ، آب حیات، امرت جل۔  
 نوشادور۔ ۱۹۔ شادور، ۲۰، مذ، ایک مرکب جو ایونیم اور کلورین سے بنتا ہے۔  
 نوشادور بریکانی۔ اعلیٰ درجے کا نوشادور جس کی قلمیں ہوں۔  
 نوشا نوش۔ ۲۱۔ صفت، پے درپے پینا۔  
 نوشست۔ ۲۲۔ دشت، ۲۳، مذ، تحریر، کھائی، کتابت۔  
 نوشست وخواند۔ ۲۴۔ صفت، لکھنا، پڑھنا۔  
 نوشتہ۔ ۲۵۔ نوشت، ۲۶، صفت، لکھا، ۲۷، مذ، تحریری سند و ستادیز، ۲۸، تقدیر، قیمت۔  
 نوشتہ تقدیر۔ ۲۹۔ مذ، قسمت کا لکھا، نصیباً۔  
 نوشتہ دین۔ ۳۰۔ محاورہ، تحریری سند دینا۔  
 نوشتہ لینا۔ ۳۱۔ محاورہ، تحریری اقرار لینا۔  
 نوشتہ ہو جانا۔ ۳۲۔ محاورہ، اقرار نام لکھا جانا۔  
 نوشتو۔ نوشتو، ۳۳، مذ، نوشتہ، ڈولہا۔  
 نوشی۔ نوشی، ۳۴، مذ، پینا، شراب پینا، مرکبات کے آخر میں بطور لائقہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بادہ نوشی۔  
 نوشین۔ نوشین، ۳۵، صفت، شیری میٹھا، خوش ذائقہ۔  
 نوشاس برین۔ نوش، ۳۶، طاس، برین، ۳۷، مذ، ہارمہ، شرب۔  
 نوش۔ نوش، ۳۸، صفت، جس (۳۹)، وضع، طور، ڈھنگ (۴۰)، ذات (۴۱)، شکل، صورت، جمع، انواع۔  
 نوح انسان۔ ۴۲۔ مذ، بنی آدم۔  
 نوح وگرا دیکر۔ ۴۳۔ صفت، دوسری طرح کا، مختلف قسم کا۔  
 بدلایا (۴۴)، بگڑا ہوا، شراب۔  
 نوحیت۔ نوحی، بیت، ۴۵، صفت، ۴۶، صفت، خصوصیت۔  
 نوک۔ ۴۷۔ صفت، کسی چیز کا لاریک، سرا، آبی (۴۸)، چرخ، منقار (۴۹)، ڈھنگ (۵۰)، آن، او، انداز (۵۱)، بانگین، وضع داری (۵۲)۔ صفت، ڈینگ (۵۳)، عزت، آبرو (۵۴)، چھپر چھاڑ (۵۵)۔  
 نیش زنی (۵۶)، کونہ، زراویہ۔  
 نوک اڑنا۔ ۵۷۔ محاورہ، آبی کا چھینا۔  
 نوک بان۔ ۵۸۔ صفت، جوتی کی خوبصورتی اور بناؤ وغیرہ۔  
 نوک پلک۔ ۵۹۔ صفت، آنکھ ناک کی موزونیت، خوبصورتی (۶۰)، کتا، کتا کے حروف کی موزونیت۔  
 نوک پلک ہونا۔ ۶۱۔ محاورہ، دیکھنے میں موزون، خوبصورت اور دیدہ زیب ہونا۔  
 نوک پلک سے دُر سمت۔ ۶۲۔ صفت، ہر طرح سے عمدہ (۶۳)، موزون۔  
 نوک جھوک۔ ۶۴۔ صفت، لعن طعن کی باتیں تکرار۔

نوک دم جھکانا۔ ۱۔ محاورہ، سے تماشہ جھکانا۔ دم دکھا کر جھکانا۔  
 نوک رکھ لینا۔ ۲۔ محاورہ، آبرو چھلینا، عزت رکھ لینا۔  
 نوک رہ جانا۔ ۳۔ محاورہ، آبرو بیچ جانا، عزت یا بات رہ جانا۔  
 نوک زبان۔ ۴۔ صفت، زبان کی نوک پر (۵)، زبانی حفظ، ازبر۔  
 نوک زبان ہونا۔ ۶۔ محاورہ، حفظ ہونا۔ ازبر ہونا۔  
 نوک کلمہ نہر آنا۔ ۷۔ محاورہ، لکھا جانا، تحریر ہونا۔  
 نوک کا۔ ۸۔ وضع، کان بان کا۔ بانگین کا۔  
 نوک کی باتیں۔ ۹۔ صفت، طعن و طنز کی باتیں۔  
 نوک کی لینا۔ ۱۰۔ محاورہ، ڈینگ مارنا، قابلِ فخر یا بڑھ کر کام کرنا (۱۱) وضع داری، ناپہنا۔  
 نوک نشتر ہونا۔ ۱۲۔ محاورہ، ۱۳، نشتر کی نوک کی طرح چھینا، سخت تکلیف دہ ہونا۔  
 نوکا۔ ۱۴۔ نوکا، ۱۵، صفت، کشتی، دجرا، چھوٹا، جہاز۔  
 نوکا دوڑ۔ ۱۶۔ صفت، کشتیوں کی دوڑ۔  
 نوکا جھوکی۔ ۱۷۔ صفت، ۱۸، جھپٹ چھاڑ، طعن و طنز۔ (۱۹) شوشی و شرارت۔  
 نوکر۔ نوکر، ۲۰۔ مذ، لازم خدمت کار، خادم۔  
 نوکر چاکر۔ ۲۱۔ مذ، ملازمان۔  
 نوکر کے آگے چاکر۔ چاکر کے آگے کوکر۔ کوکر کے آگے پیش کار۔ چار یا چاروں بے کار۔ ۲۲، مثل، اس موقع پر بولتے ہیں۔ جب کسی امر کی بد انتظامی دور کرنے کے لیے نوکر رکھتے ہیں۔ لیکن بد انتظامی کی اصلاح ہونے کے بعد نوکر پہلے سے بھی زیادہ خرابی اور ابتری پھیل جاتے۔  
 نوکر ہونا۔ ۲۳۔ صفت، ملازم، ہونا، ملازمت اختیار کرنا۔  
 نوکرانی۔ نوکر، ۲۴، مذ، نوکر کی تائیت، ملازم، خادم، امیل۔  
 نوکری۔ نوکر، ۲۵، صفت، ملازمت (۲۶)، خدمت گزار، ۲۷، نوکر کا کام یا پیشہ، تم، تنخواہ، مشاہیرہ، وہ کام جس پر کوئی آدمی تعینات کیا جاتے۔  
 نوکری اور مذ کی جڑ ہے۔ ۲۸، مثل، نوکری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔  
 انڈ کی جڑ پڑی کزور ہوتی ہے۔  
 نوکری بانٹنا۔ ۲۹۔ محاورہ، خدمت مقرر کرنا۔ کام پر تعینات کرنا۔  
 ۳۰، تنخواہ تقسیم کرنا۔  
 نوکری بھانا۔ ۳۱۔ محاورہ، خدمت انجام دینا۔  
 نوکری برطرف، روزی بہر طرف۔ ۳۲۔ مثل، ملازمت چھوٹ جانے پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔  
 نوکری پیشہ۔ ۳۳۔ مذ، وہ جس کا پیشہ ملازمت ہو۔ نوکری نوکری کے کمانے والا۔  
 نوکری چھوٹ جانا۔ ۳۴۔ محاورہ، ملازمت سے برطرف ہونا۔

لوگریاں - (لو، یاں) 1ق۔ صفت، لوزی کی جمع - نئی۔  
 لویدر - (رن، لویدر، 1ق۔ 1۔ صفت) خوشخبری، شرمہ - بشارت، کسی  
 تقریب میں شرکت کے لیے طلب کرنے کا پیغام۔  
 لوبیدن - (رن، وے، دن، 1ق۔ 1۔ مذ) سپاس نامہ، نوٹس، درخواست  
 اعلان۔  
 لوئیس - (رن، لوئیس) 1ق۔ صفت، لکھنے والا۔ تحریر کرنے والا۔ مرکبات میں  
 لاکھنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے خوشنویس۔  
 لوئسندہ - (ان، وی، پن، وہ، 1ق۔ 1۔ صفت) لکھنے والا۔ محرز، جمع۔ 1۔  
 لوئسندگان۔  
 لوئسی - (رن، وی، سی، 1ق۔ 1۔ صفت) لکھنے کا کام، محرز۔ مرکبات کے  
 اخیر میں مستعمل ہے۔ جیسے خوش نویسی۔  
 لویلا - (رن، وے، لا، 1ق۔ 1۔ صفت) نیا، تازہ، جدید، 1۔ لکھا، البیلا  
 بانگا، 1۔ عجیب، فرالا۔ ممتاز۔ مرکبات میں مستعمل ہے جیسے نیا لویلا۔  
 لویلی - (رن، وے، لی، 1ق۔ 1۔ صفت) لویلا کی تائید، لکھی، نرالی، البیلا  
 بانگی، 1۔ اچھوتی، سکھاری، خوشخیز۔  
 لوئس - (رن، ویس، 1ق۔ 1۔ صفت) نئی تازہ، جدید۔  
 لوئس - (رن، ویس، 1ق۔ 1۔ صفت) ترتیب میں نو نمبر پر۔

لوگری خالہ جی کا گھڑ نہیں۔ 17۔ مثل، لوگری آسان کام نہیں۔  
 لوگری دینا۔ 17۔ محاورہ، ملازم رکھنا، 1۔ کا متعلق بجالانا۔  
 لوگری سے لگ جانا۔ 13۔ محاورہ، ملازمت پانا۔ لوگر ہو جانا۔  
 لوگری کرنا۔ 17۔ محاورہ، ملازمت کرنا۔  
 لوگری کی بر زبان پر ہے۔ (1۔ مثل) لوگری کا کوئی اعتبار نہیں۔  
 مالک جب چاہنے بڑی کا حکم دے۔  
 لوگھنڈ - (لو، گھنڈ، 1ق۔ 1۔ صفت) دنیا۔  
 لوگھیں کرنا۔ لوگھیں کرنا، 1ق۔ 1۔ صفت) چشمک کرنا۔  
 لوگری - (رن، وہ، 1ق۔ 1۔ مذ) ہاتھوں کا ایک زبور۔  
 لوگری - (رن، وی، 1ق۔ 1۔ مذ) ڈیرہ وغیرہ۔  
 لول - (رن، ع، 1ق۔ 1۔ صفت) عطا، بخشش۔  
 لول - (رن، لول، 1ق۔ 1۔ صفت) بے مثل، نادر، نیا۔  
 لولاسی - (رن، لاسی، 1ق۔ 1۔ صفت) نازک، تازہ، نرم۔  
 لوم - (رن، 1ق۔ 1۔ صفت) نیند، خواب۔  
 نومبر - (November) (رن، وم، بز، انگ، 1۔ صفت) انگریزی  
 سال کا گیارواں مہینہ۔

ن۔ن۔و۔ن۔و۔ن۔و۔

نہ - (رن، حرف نفی، نہیں، نا، صفت) حرف انکار۔  
 نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ - 17۔ مذ) بغیر سوچے سمجھے کام کرنے کے موقع پر  
 کہا جاتا ہے۔  
 نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے - 13۔ مثل) دوسروں  
 کی پابندی ہے۔  
 نہ ادھر کا نہ ادھر کا - 17۔ صفت) 1۔ کسی طرف شامل نہیں، 1۔ بیکار  
 کسی کام کا نہیں۔ نہ ابی اللہی نہ اولی اللہی 17۔ صفت) ناکارہ  
 بے معارف۔ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔  
 نہ اسٹھ سوکھے نہ ساون ہرے - 17۔ مثل) ہر وقت ایک  
 جیسی حالت۔  
 نہ انکاری نہ تم نہ ایں کاری گم - (رن، مثل) کام سے بھاری نہیں  
 مگر کرنا بھی نہیں۔  
 نہ ایک ہنستا بھلا نہ ایک روتا - 13۔ مثل) تنہائی کسی حالت  
 میں ابھی نہیں۔  
 نہ اینٹ ڈالے نہ چھینٹ کھاٹے - 17۔ مثل) نہ بڑا  
 کہو۔ نہ بڑا ستو۔  
 نہ باسی بچے نہ گنا کھائے - 13۔ مثل) نہ زیادہ ہو۔ نہ ضائع  
 ہوگا۔  
 نہ بچنا - 13۔ محاورہ، محفوظ نہ رہنا، 1۔ جاں بر نہ ہونا، 1۔ باقی کچھ

نومی - (رن، سی، 1ق۔ 1۔ صفت) ہندی بیٹے کی نویں تاریخ۔  
 نو مید - (رن، مید، 1ق۔ 1۔ صفت) مایوس، نا امید۔  
 نو میتدانہ - (رن، می، 1ق۔ 1۔ صفت) مایوسی سے۔  
 نو میدی - (رن، می، 1ق۔ 1۔ صفت) مایوسی، نا امید۔  
 لون - (رن، 1ق۔ 1۔ مذ) نمک۔  
 لون پانی ٹھیک ہونا - 13۔ محاورہ، ذاتی طور پر سبب ہونا۔  
 لون سئل - 17۔ مذ) ضروریات زندگی، کھانے پینے کی چیزیں۔  
 لون عنقہ - (رن، عنق، 1ق۔ 1۔ مذ) وہ لون ہونا کہ جس کو لولا جائے۔  
 اور صاف نہ پڑھا جائے۔  
 لون قطنی - (رن، قطنی، 1ق۔ 1۔ صفت) وہ چھوٹا جوہریں میں ساکن یا شہد  
 حریف سے پہلے توین والے حرف پر لکھا جاتا ہے۔  
 لون معلنہ - (رن، 1ق۔ 1۔ صفت) وہ لون جو ظاہر کر کے پڑھا جائے۔  
 لون اعلانیہ۔  
 لونہ - (رن، نا، 1ق۔ 1۔ صفت) مٹی جو کھار کے سبب دیواروں سے جھڑنے لگتی  
 ہو ہے۔ شور، کھار۔  
 لونچا - (رن، چا، 1ق۔ 1۔ صفت) کھاری، زمین جس میں نمک یا کھار بہت  
 ہو۔ زیادہ ہو۔  
 لونچی - (رن، چی، 1ق۔ 1۔ صفت) کھار۔  
 لونٹی - (رن، ٹی، 1ق۔ 1۔ صفت) بکوں کا عضو تناسل۔  
 لونٹی - (رن، ٹی، 1ق۔ 1۔ صفت) کھار، مسک، 1۔ کھار، وہ مٹی جو  
 کھار کے باعث دیوار سے جھڑنے لگتی ہے۔  
 لونیا - (رن، یا، 1ق۔ 1۔ صفت) 1۔ نمک بنانے والا۔ نمک پینے والا، 1۔  
 ایک قسم کا ساگ۔  
 لوی - (رن، وی، 1ق۔ 1۔ صفت) نئی تازہ۔

نہ گوہ میں اینٹ ڈالو نہ چھینٹیں پڑیں۔ ۱۶۔ مثل، نہ بڑوں کو  
منہ نکاڈ نہ کالیاں سنو۔

نہ لینا نہ دینا۔ ۱۷۔ محاورہ، کچھ حاصل نہ وصول۔  
نہ مارے مرے نہ کاٹے کٹے۔ ۱۸۔ مثل، وہ مصیبت جو  
کسی صورت میں حل نہ ہو۔

نہ معلوم۔ ۱۹۔ تابع فعل، خدا جانے۔  
نہ منہ سے بولے نہ سر سے کھیلے۔ ۲۰۔ مثل، بالکل چپ اور  
خاموش آدمی کی نسبت کہتے ہیں۔

نہ منہ میں دانٹ نہ بیٹ میں آنت۔ ۲۱۔ مثل، بہت بوڑھا۔  
نہ میں کہوں تیری نہ تو کہہ میری۔ ۲۲۔ مثل، نہ دوسروں پر الزام دھرو۔  
نہ وہ تم پر الزام دھریں۔

نہ نام لپو نہ پانی دیوا۔ ۲۳۔ مثل، وہ شخص جس کا دنیا میں کوئی نہ  
ہو۔ ایلی جان۔  
نہ لگاتے بھتی نہ اگلے۔ ۲۴۔ مثل، ہر طرح مصیبت ہے۔

نہ تو من تیل ہو گا نہ رادھا تا جسے گی۔ ۲۵۔ مثل، نہ اتنا سامان  
ہو سکے گا نہ یہ کام ہو سکے گا۔ سخت شرطوں کی وجہ سے کام  
نہ ہو سکنا۔

نہ بھر بھر نہ کھڑ کھڑ۔ ۲۶۔ مقولہ، کوئی جھگڑا بکھڑا نہیں۔  
نہ ہلدی لکے نہ چھٹکری رنگ پوکھا آئے۔ ۲۷۔ مثل، کچھ خرچ  
نہ کرنا پڑے اور فائدہ خوب ہو۔

نہ ہو نہ ہو۔ شہ اور احتمال ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں ۱۲۲ نہیں یا  
نہیں ہے کی جگہ بھی بولا جاتا ہے۔  
نہ ہوا پر نہ ہوا۔ ۲۸۔ مثل، کسی طرح نہ ہوا۔ برگزہ ہوا۔

نہ نہ ۱۔ نہ ۲۔ نہ ۳۔ نہ ۴۔ نہ ۵۔ نہ ۶۔ نہ ۷۔ نہ ۸۔ نہ ۹۔ نہ ۱۰۔ نہ ۱۱۔ نہ ۱۲۔ نہ ۱۳۔ نہ ۱۴۔ نہ ۱۵۔ نہ ۱۶۔ نہ ۱۷۔ نہ ۱۸۔ نہ ۱۹۔ نہ ۲۰۔ نہ ۲۱۔ نہ ۲۲۔ نہ ۲۳۔ نہ ۲۴۔ نہ ۲۵۔ نہ ۲۶۔ نہ ۲۷۔ نہ ۲۸۔ نہ ۲۹۔ نہ ۳۰۔ نہ ۳۱۔ نہ ۳۲۔ نہ ۳۳۔ نہ ۳۴۔ نہ ۳۵۔ نہ ۳۶۔ نہ ۳۷۔ نہ ۳۸۔ نہ ۳۹۔ نہ ۴۰۔ نہ ۴۱۔ نہ ۴۲۔ نہ ۴۳۔ نہ ۴۴۔ نہ ۴۵۔ نہ ۴۶۔ نہ ۴۷۔ نہ ۴۸۔ نہ ۴۹۔ نہ ۵۰۔ نہ ۵۱۔ نہ ۵۲۔ نہ ۵۳۔ نہ ۵۴۔ نہ ۵۵۔ نہ ۵۶۔ نہ ۵۷۔ نہ ۵۸۔ نہ ۵۹۔ نہ ۶۰۔ نہ ۶۱۔ نہ ۶۲۔ نہ ۶۳۔ نہ ۶۴۔ نہ ۶۵۔ نہ ۶۶۔ نہ ۶۷۔ نہ ۶۸۔ نہ ۶۹۔ نہ ۷۰۔ نہ ۷۱۔ نہ ۷۲۔ نہ ۷۳۔ نہ ۷۴۔ نہ ۷۵۔ نہ ۷۶۔ نہ ۷۷۔ نہ ۷۸۔ نہ ۷۹۔ نہ ۸۰۔ نہ ۸۱۔ نہ ۸۲۔ نہ ۸۳۔ نہ ۸۴۔ نہ ۸۵۔ نہ ۸۶۔ نہ ۸۷۔ نہ ۸۸۔ نہ ۸۹۔ نہ ۹۰۔ نہ ۹۱۔ نہ ۹۲۔ نہ ۹۳۔ نہ ۹۴۔ نہ ۹۵۔ نہ ۹۶۔ نہ ۹۷۔ نہ ۹۸۔ نہ ۹۹۔ نہ ۱۰۰۔

نہ ہاگہر۔ ۱۔ نہ ۲۔ نہ ۳۔ نہ ۴۔ نہ ۵۔ نہ ۶۔ نہ ۷۔ نہ ۸۔ نہ ۹۔ نہ ۱۰۔ نہ ۱۱۔ نہ ۱۲۔ نہ ۱۳۔ نہ ۱۴۔ نہ ۱۵۔ نہ ۱۶۔ نہ ۱۷۔ نہ ۱۸۔ نہ ۱۹۔ نہ ۲۰۔ نہ ۲۱۔ نہ ۲۲۔ نہ ۲۳۔ نہ ۲۴۔ نہ ۲۵۔ نہ ۲۶۔ نہ ۲۷۔ نہ ۲۸۔ نہ ۲۹۔ نہ ۳۰۔ نہ ۳۱۔ نہ ۳۲۔ نہ ۳۳۔ نہ ۳۴۔ نہ ۳۵۔ نہ ۳۶۔ نہ ۳۷۔ نہ ۳۸۔ نہ ۳۹۔ نہ ۴۰۔ نہ ۴۱۔ نہ ۴۲۔ نہ ۴۳۔ نہ ۴۴۔ نہ ۴۵۔ نہ ۴۶۔ نہ ۴۷۔ نہ ۴۸۔ نہ ۴۹۔ نہ ۵۰۔ نہ ۵۱۔ نہ ۵۲۔ نہ ۵۳۔ نہ ۵۴۔ نہ ۵۵۔ نہ ۵۶۔ نہ ۵۷۔ نہ ۵۸۔ نہ ۵۹۔ نہ ۶۰۔ نہ ۶۱۔ نہ ۶۲۔ نہ ۶۳۔ نہ ۶۴۔ نہ ۶۵۔ نہ ۶۶۔ نہ ۶۷۔ نہ ۶۸۔ نہ ۶۹۔ نہ ۷۰۔ نہ ۷۱۔ نہ ۷۲۔ نہ ۷۳۔ نہ ۷۴۔ نہ ۷۵۔ نہ ۷۶۔ نہ ۷۷۔ نہ ۷۸۔ نہ ۷۹۔ نہ ۸۰۔ نہ ۸۱۔ نہ ۸۲۔ نہ ۸۳۔ نہ ۸۴۔ نہ ۸۵۔ نہ ۸۶۔ نہ ۸۷۔ نہ ۸۸۔ نہ ۸۹۔ نہ ۹۰۔ نہ ۹۱۔ نہ ۹۲۔ نہ ۹۳۔ نہ ۹۴۔ نہ ۹۵۔ نہ ۹۶۔ نہ ۹۷۔ نہ ۹۸۔ نہ ۹۹۔ نہ ۱۰۰۔

نہ ہاگہر۔ ۱۔ نہ ۲۔ نہ ۳۔ نہ ۴۔ نہ ۵۔ نہ ۶۔ نہ ۷۔ نہ ۸۔ نہ ۹۔ نہ ۱۰۔ نہ ۱۱۔ نہ ۱۲۔ نہ ۱۳۔ نہ ۱۴۔ نہ ۱۵۔ نہ ۱۶۔ نہ ۱۷۔ نہ ۱۸۔ نہ ۱۹۔ نہ ۲۰۔ نہ ۲۱۔ نہ ۲۲۔ نہ ۲۳۔ نہ ۲۴۔ نہ ۲۵۔ نہ ۲۶۔ نہ ۲۷۔ نہ ۲۸۔ نہ ۲۹۔ نہ ۳۰۔ نہ ۳۱۔ نہ ۳۲۔ نہ ۳۳۔ نہ ۳۴۔ نہ ۳۵۔ نہ ۳۶۔ نہ ۳۷۔ نہ ۳۸۔ نہ ۳۹۔ نہ ۴۰۔ نہ ۴۱۔ نہ ۴۲۔ نہ ۴۳۔ نہ ۴۴۔ نہ ۴۵۔ نہ ۴۶۔ نہ ۴۷۔ نہ ۴۸۔ نہ ۴۹۔ نہ ۵۰۔ نہ ۵۱۔ نہ ۵۲۔ نہ ۵۳۔ نہ ۵۴۔ نہ ۵۵۔ نہ ۵۶۔ نہ ۵۷۔ نہ ۵۸۔ نہ ۵۹۔ نہ ۶۰۔ نہ ۶۱۔ نہ ۶۲۔ نہ ۶۳۔ نہ ۶۴۔ نہ ۶۵۔ نہ ۶۶۔ نہ ۶۷۔ نہ ۶۸۔ نہ ۶۹۔ نہ ۷۰۔ نہ ۷۱۔ نہ ۷۲۔ نہ ۷۳۔ نہ ۷۴۔ نہ ۷۵۔ نہ ۷۶۔ نہ ۷۷۔ نہ ۷۸۔ نہ ۷۹۔ نہ ۸۰۔ نہ ۸۱۔ نہ ۸۲۔ نہ ۸۳۔ نہ ۸۴۔ نہ ۸۵۔ نہ ۸۶۔ نہ ۸۷۔ نہ ۸۸۔ نہ ۸۹۔ نہ ۹۰۔ نہ ۹۱۔ نہ ۹۲۔ نہ ۹۳۔ نہ ۹۴۔ نہ ۹۵۔ نہ ۹۶۔ نہ ۹۷۔ نہ ۹۸۔ نہ ۹۹۔ نہ ۱۰۰۔

نہ ہاگہر۔ ۱۔ نہ ۲۔ نہ ۳۔ نہ ۴۔ نہ ۵۔ نہ ۶۔ نہ ۷۔ نہ ۸۔ نہ ۹۔ نہ ۱۰۔ نہ ۱۱۔ نہ ۱۲۔ نہ ۱۳۔ نہ ۱۴۔ نہ ۱۵۔ نہ ۱۶۔ نہ ۱۷۔ نہ ۱۸۔ نہ ۱۹۔ نہ ۲۰۔ نہ ۲۱۔ نہ ۲۲۔ نہ ۲۳۔ نہ ۲۴۔ نہ ۲۵۔ نہ ۲۶۔ نہ ۲۷۔ نہ ۲۸۔ نہ ۲۹۔ نہ ۳۰۔ نہ ۳۱۔ نہ ۳۲۔ نہ ۳۳۔ نہ ۳۴۔ نہ ۳۵۔ نہ ۳۶۔ نہ ۳۷۔ نہ ۳۸۔ نہ ۳۹۔ نہ ۴۰۔ نہ ۴۱۔ نہ ۴۲۔ نہ ۴۳۔ نہ ۴۴۔ نہ ۴۵۔ نہ ۴۶۔ نہ ۴۷۔ نہ ۴۸۔ نہ ۴۹۔ نہ ۵۰۔ نہ ۵۱۔ نہ ۵۲۔ نہ ۵۳۔ نہ ۵۴۔ نہ ۵۵۔ نہ ۵۶۔ نہ ۵۷۔ نہ ۵۸۔ نہ ۵۹۔ نہ ۶۰۔ نہ ۶۱۔ نہ ۶۲۔ نہ ۶۳۔ نہ ۶۴۔ نہ ۶۵۔ نہ ۶۶۔ نہ ۶۷۔ نہ ۶۸۔ نہ ۶۹۔ نہ ۷۰۔ نہ ۷۱۔ نہ ۷۲۔ نہ ۷۳۔ نہ ۷۴۔ نہ ۷۵۔ نہ ۷۶۔ نہ ۷۷۔ نہ ۷۸۔ نہ ۷۹۔ نہ ۸۰۔ نہ ۸۱۔ نہ ۸۲۔ نہ ۸۳۔ نہ ۸۴۔ نہ ۸۵۔ نہ ۸۶۔ نہ ۸۷۔ نہ ۸۸۔ نہ ۸۹۔ نہ ۹۰۔ نہ ۹۱۔ نہ ۹۲۔ نہ ۹۳۔ نہ ۹۴۔ نہ ۹۵۔ نہ ۹۶۔ نہ ۹۷۔ نہ ۹۸۔ نہ ۹۹۔ نہ ۱۰۰۔

نہ ہاگہر۔ ۱۔ نہ ۲۔ نہ ۳۔ نہ ۴۔ نہ ۵۔ نہ ۶۔ نہ ۷۔ نہ ۸۔ نہ ۹۔ نہ ۱۰۔ نہ ۱۱۔ نہ ۱۲۔ نہ ۱۳۔ نہ ۱۴۔ نہ ۱۵۔ نہ ۱۶۔ نہ ۱۷۔ نہ ۱۸۔ نہ ۱۹۔ نہ ۲۰۔ نہ ۲۱۔ نہ ۲۲۔ نہ ۲۳۔ نہ ۲۴۔ نہ ۲۵۔ نہ ۲۶۔ نہ ۲۷۔ نہ ۲۸۔ نہ ۲۹۔ نہ ۳۰۔ نہ ۳۱۔ نہ ۳۲۔ نہ ۳۳۔ نہ ۳۴۔ نہ ۳۵۔ نہ ۳۶۔ نہ ۳۷۔ نہ ۳۸۔ نہ ۳۹۔ نہ ۴۰۔ نہ ۴۱۔ نہ ۴۲۔ نہ ۴۳۔ نہ ۴۴۔ نہ ۴۵۔ نہ ۴۶۔ نہ ۴۷۔ نہ ۴۸۔ نہ ۴۹۔ نہ ۵۰۔ نہ ۵۱۔ نہ ۵۲۔ نہ ۵۳۔ نہ ۵۴۔ نہ ۵۵۔ نہ ۵۶۔ نہ ۵۷۔ نہ ۵۸۔ نہ ۵۹۔ نہ ۶۰۔ نہ ۶۱۔ نہ ۶۲۔ نہ ۶۳۔ نہ ۶۴۔ نہ ۶۵۔ نہ ۶۶۔ نہ ۶۷۔ نہ ۶۸۔ نہ ۶۹۔ نہ ۷۰۔ نہ ۷۱۔ نہ ۷۲۔ نہ ۷۳۔ نہ ۷۴۔ نہ ۷۵۔ نہ ۷۶۔ نہ ۷۷۔ نہ ۷۸۔ نہ ۷۹۔ نہ ۸۰۔ نہ ۸۱۔ نہ ۸۲۔ نہ ۸۳۔ نہ ۸۴۔ نہ ۸۵۔ نہ ۸۶۔ نہ ۸۷۔ نہ ۸۸۔ نہ ۸۹۔ نہ ۹۰۔ نہ ۹۱۔ نہ ۹۲۔ نہ ۹۳۔ نہ ۹۴۔ نہ ۹۵۔ نہ ۹۶۔ نہ ۹۷۔ نہ ۹۸۔ نہ ۹۹۔ نہ ۱۰۰۔

نہ ہاگہر۔ ۱۔ نہ ۲۔ نہ ۳۔ نہ ۴۔ نہ ۵۔ نہ ۶۔ نہ ۷۔ نہ ۸۔ نہ ۹۔ نہ ۱۰۔ نہ ۱۱۔ نہ ۱۲۔ نہ ۱۳۔ نہ ۱۴۔ نہ ۱۵۔ نہ ۱۶۔ نہ ۱۷۔ نہ ۱۸۔ نہ ۱۹۔ نہ ۲۰۔ نہ ۲۱۔ نہ ۲۲۔ نہ ۲۳۔ نہ ۲۴۔ نہ ۲۵۔ نہ ۲۶۔ نہ ۲۷۔ نہ ۲۸۔ نہ ۲۹۔ نہ ۳۰۔ نہ ۳۱۔ نہ ۳۲۔ نہ ۳۳۔ نہ ۳۴۔ نہ ۳۵۔ نہ ۳۶۔ نہ ۳۷۔ نہ ۳۸۔ نہ ۳۹۔ نہ ۴۰۔ نہ ۴۱۔ نہ ۴۲۔ نہ ۴۳۔ نہ ۴۴۔ نہ ۴۵۔ نہ ۴۶۔ نہ ۴۷۔ نہ ۴۸۔ نہ ۴۹۔ نہ ۵۰۔ نہ ۵۱۔ نہ ۵۲۔ نہ ۵۳۔ نہ ۵۴۔ نہ ۵۵۔ نہ ۵۶۔ نہ ۵۷۔ نہ ۵۸۔ نہ ۵۹۔ نہ ۶۰۔ نہ ۶۱۔ نہ ۶۲۔ نہ ۶۳۔ نہ ۶۴۔ نہ ۶۵۔ نہ ۶۶۔ نہ ۶۷۔ نہ ۶۸۔ نہ ۶۹۔ نہ ۷۰۔ نہ ۷۱۔ نہ ۷۲۔ نہ ۷۳۔ نہ ۷۴۔ نہ ۷۵۔ نہ ۷۶۔ نہ ۷۷۔ نہ ۷۸۔ نہ ۷۹۔ نہ ۸۰۔ نہ ۸۱۔ نہ ۸۲۔ نہ ۸۳۔ نہ ۸۴۔ نہ ۸۵۔ نہ ۸۶۔ نہ ۸۷۔ نہ ۸۸۔ نہ ۸۹۔ نہ ۹۰۔ نہ ۹۱۔ نہ ۹۲۔ نہ ۹۳۔ نہ ۹۴۔ نہ ۹۵۔ نہ ۹۶۔ نہ ۹۷۔ نہ ۹۸۔ نہ ۹۹۔ نہ ۱۰۰۔

نہ رہنا۔  
نہ بننا۔ ۱۔ محاورہ، نہ ہو سکنا۔ ممکن نہ ہونا، سلوک نہ ہونا۔  
نہ بولی نہ بولی، بولی تو پتھر کھینچ مارا۔ ۱۱۔ مثل، مغرور اور بد مزاج  
عورت کے متعلق کہا جاتا ہے۔

نہ بننا۔ ممکن نہ ہونا۔ نہ ہو سکنا، سلوک نہ کرنا۔  
نہ پانا۔ ۱۲۔ محاورہ، کسی کی عسری نہ کر سکا۔  
نہ پانی کے اوپر، نہ پانی کے نیچے۔ ۱۳۔ مثل، الٹی کھوپڑی دلے  
کے متعلق کہا جاتا ہے۔

نہ پائے رفیق نہ جائے ماندن۔ نہ جائے ماندن  
نہ پائے رفیق۔ ۱۴۔ مثل، مجبوری ظاہر کرنے کے لیے کہ کسی  
طرح بات نہیں بنتی۔

نہ پوچھنا۔ ۱۵۔ محاورہ، پرواہ نہ کرنا۔ بے قدری کرنا۔  
نہ پوچھو۔ ۱۶۔ روز مرہ، بیان سے باہر ہے۔ قابل بیان نہیں، کیا  
کچھ مدح و ذم دونوں کے واسطے کہا جاتا ہے۔

نہ جانے۔ ۱۷۔ تابع فعل، ۱۱، معلوم نہیں۔ مجھے علم نہیں، شاید۔  
نہ جھنی نہ ڈھول بجاتا۔ ۱۸۔ مثل، اتالیقی بیٹے کے متعلق کہتے ہیں۔  
نہ چینی کی خوشی نہ مرنے کا غم۔ ۱۹۔ مثل، کوئی آہنگ باقی نہیں۔  
نہ چڑھے گا نہ فرے گا۔ ۲۰۔ مثل، وہ کام کیوں کیا جائے جس  
میں نقصان کا خطرہ ہو۔

نہ خدا کا دیدار نہ خدا کی شفاعت۔ ۲۱۔ مثل، کنایتاً اور بنداری  
کا تذکرہ نہ ہونا، بددعا بھی ہے۔  
نہ روئے مرداں نہ روئے زناں۔ ۲۲۔ مثل، جس سے کسی  
کام کی توقع نہ ہو۔ کام چوڑ۔

نہ دیکھ سکتا۔ ۲۳۔ محاورہ، کسی کے فروغ کو دیکھ کر گڑھنا۔ حسد کرنا۔  
نہ رہا جانا۔ ۲۴۔ محاورہ، ۱۱، چین نہ پڑنا، صبر نہ ہونا۔ برداشت  
نہ ہونا۔

نہ رہے پائش نہ بچے ہانسری۔ ۲۵۔ مثل، جھگڑنے والی چیز ہی  
نہ ہو تو جھگڑا کیسا۔  
نہ سادوں سوکھے نہ بھا دوں ہرے۔ ۲۶۔ مثل، ہمیشہ ایک  
جیسے متوکل۔

نہ سہی۔ ۲۷۔ تابع فعل، کوئی مضائقہ نہیں۔  
نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غریب۔ ۲۸۔ مقولہ، عاشق  
کے دل میں صبر نہیں ہوتا۔ جس طرح چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا۔  
نہ کارے نہ مٹھے۔ ۲۹۔ مثل، بیکار نہ ہونا۔  
نہ گتا دیکھے نہ جھونکے۔ ۳۰۔ مثل، دشمن کے سامنے نہ جائیں  
گتے۔ نہ ایسے سے کچھ نہیں گتے۔

نہ گائے کے گھن نہ گائے کے بھانڈ۔ ۳۱۔ مثل، نہ کچھ پاس  
ہے نہ اس کے رکنے کا سامان۔  
نہ گندی چلی جائے نہ گتا کٹے۔ ۳۲۔ مثل، نہ بڑوں کی صحبت میں  
بچھے نہ نہ نامی ہو۔

بہار گھنٹہ - ۱۶۔ مذ: وہ شخص جس نے صبح سے کچھ نہ کھلایا ہو۔ ناشتہ کے بغیر۔

بہار گھنٹہ نام نہ لینا - ۱۷۔ محاورہ: بے کھائے نام نہ لینا۔ منحوس آدمی کی طرف اشارہ۔

بہاری - دن - ۴۔ رسی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، بہار۔ تھوڑا سا کھانا جو صبح کے وقت کھاتے ہیں۔ ناشتہ ۲، ایک قسم کا شور یا دار سالن۔ ۳، کھوٹے کو صبح کے وقت کھلانے کا مالیدہ۔

بہاری کھانا - ۱۷۔ محاورہ: صبح کا ناشتہ کرنا۔

بہال - دن - ۱۔ ہال، ۱۶۔ ۱۔ مذ: تازہ لگایا ہوا لودا، ۲، توٹک۔ بستہ۔ گدا، ۳، شکار، صید، ۴، مالا مال، خوش حال۔ کامیاب بے فکر۔ خوش و خرم۔

بہال کر دینا - ۱۷۔ محاورہ: مالا مال کر دینا، ۲، خوش کر دینا، مراد کو پہنچانا کامیاب ہونا، ۳، میراب کر دینا۔ سرسبز کرنا۔

بہال ہو جانا - ۱۷۔ محاورہ: مالدار ہو جانا، ۲، خوش و خرم ہو جانا۔ کامیاب ہونا۔ مراد پانا۔

بہالچہ - دن - ہال، ۱۶۔ ۱۔ مذ: بیکے کا بستہ چھوٹی توٹک۔

بہالی - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، ۱، توٹک، ۲، خالیچہ، ۳، لحاف۔ رضائی۔

بہال - دن - ہال، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، چھپا ہوا۔ پوشیدہ۔

بہال خانہ - دن - ۱۔ مذ: پوشیدہ گھر۔ بہ خانہ چھپا ہوا۔

بہال رکھنا - ۱۷۔ محاورہ: پوشیدہ رکھنا۔ چھپائے رکھنا۔

بہالی - دن - ہالی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، منسوب بہ بہال۔ مخفی۔ پوشیدہ۔

بہان - دن - ہان، ۱۶۔ ۱۔ مذ: غسل۔ استنان۔

بہانا - دن - ہانا، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، جسم کو پانی سے دھونا۔ غسل کرنا۔ استنان کرنا۔

بہانی - دن - ہانی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، ہنسنے کی ضرورت۔ احتلام۔

بہانی دھونی پھسل پڑی - ۱۶۔ ۱۔ شل، تیار ہو کر رہ جانے۔ بیکتے ہیں۔

بہانی ہونا - ۱۶۔ محاورہ: ہنسنے کی حاجت ہونا۔ احتلام ہونا۔ کپڑے آنا۔

بہانی - دن - ہانی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، وہ اذرا جس پر لوہار کہہ کر کھٹتے ہیں۔ اجرن۔ سندان۔

بہایت - دن - ہایت، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، حمد، تمنا، انجام۔ آخر، بے انتہا۔ بہت۔ بکثرت۔

بہایت نہ رکھنا - ۱۶۔ محاورہ: انتہا نہ رکھنا۔ بچد ہونا۔

بہتیا - بہتیا - دن - بہت، تا، دن، نتیجہ، تھا، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، جس کے پاس ہتھیار نہ ہو۔ حالی یا تھکے بغیر مسلح۔

بہتیا - دن - بہت، تا، ۱۶۔ ۱۔ مذ: ناخن کا نشان۔ کھانے سے جوشن چڑھتا ہے۔

بہٹی - دن - بہٹی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، ناخن گیر۔ ناخن کاٹنے کا آلہ۔

بہج - (ع۔ ۱۔ مذ) ۱۱۔ روشن اور کشادہ راستہ۔ ۲، طرد۔ طریقہ۔ ڈھنگ۔ قاعدہ۔

بہر - (ع۔ ۱۔ مٹ) دریا کی شاخ۔ آبِ حجاز پانی کی بڑی نالی جو آبِ پاشی کے لیے کھودی جلتے و جمع ہوتی ہے۔

بہر بندی - (ع۔ ۱۔ مٹ) بہر کا پانی بند کر دینا۔ لوگوں کو بہر سے پانی نہ لینے دینا۔

بہر توڑنا - ۱۶۔ محاورہ: بہر کا کنارہ توڑ کر پانی ضائع کر دینا۔

بہر کا گھٹنا - ۱۶۔ محاورہ: دریا یا جھیل سے شاخ کاٹ کر نکالنا۔

بہرنا - دن - بہرنا، ۱۶۔ ۱۔ مذ: ناخن گیر۔ ناخن تراشنے کا آلہ۔

بہرنی - دن - بہرنی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، چھوٹا ناخن گیر۔ ناخن تراشنے کا چھوٹا سا آلہ۔

بہر و - (ع۔ ۱۔ بہر، ۱۱، ۱۶۔ ۱۔ مذ) رشتہ کی بیماری۔ وہ گول تاگ سا جو بدن میں سے نکلتا ہے۔

بہری - (ع۔ ۱۔ بہری، ۱۶۔ ۱۔ مٹ) بہر سے مشوب ۲، وہ زمین جو بہر کے پانی سے میراب کی جائے۔

بہرنا - دن - بہرنا، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، بھگنا۔ خمیدہ ہونا۔ تعظیم بجالانا۔ کوع کی حالت میں ہونا۔

بہرنت - (ع۔ ۱۔ مٹ) ۱، اٹھنا۔ رخصت ہونا۔ کوچ۔ روانگی۔ رخصت۔

بہرنت کرنا - ۱۶۔ مٹ، رکب، سفر کرنا۔ روانہ ہونا۔ کوچ کرنا۔

بہرنتگی - دن - بہرنت، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، پوشیدگی چھپانا۔

بہرنتہ - دن - بہرنت، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، پوشیدہ خفیہ چھپا ہوا۔ مخفی۔

بہرلا - دن - ہلا، ۱۶۔ ۱۔ مذ: تاش یا گھوڑے کا وہ پتہ جس پر نو بندیاں ہوتی ہیں۔

بہرلانا - دن - ہلانا، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، غسل دینا، ۲، ٹپو دینا، ۳، مردے کو غسل دینا۔

بہرلانا دھلانا - ۱۶۔ ۱۔ مٹ، اچھی طرح غسل کر دینا۔

بہرلانی - دن - ہلانی، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، غسل کرانی، ہنسلانے کی اجرت۔

بہرلوانا - دن - ہل، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، ہنسلانا۔

بہرہ - دن - بہرہ، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، نواں۔ نواں چیز۔ نواں درجہ۔

بہرین - دن - بہرن، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، بہن۔

بہرنگ - دن - بہنگ، ۱۶۔ ۱۔ مذ: مگرچھ کھڑکی۔

بہرنگ اجل - دن - بہرنگ، ۱۶۔ ۱۔ مٹ، موت کا فرشتہ۔ ملک الموت۔

بہرنگ اجل کا شکار ہونا - ۱۶۔ محاورہ: مر جانا۔ موت کی تندر تہ ہو جانا۔

بہرنگ - دن - بہنگ، ۱۶۔ ۱۔ مذ: سکھیل کا ایک فرقہ جو بیت اُدنی پڑوسی بانڈھتا ہے۔ اور زرور کپڑے پہنتا ہے (۲) بہنگ۔ برہنہ۔ آزاد لاپرواہ (۳) بے حیا۔ بے شرم۔

بہرنگ لاؤلا - ناز پروردہ۔ بھولا بھالا۔ بھلا بھلا۔ لاپرواہ۔ بالکل اتر۔

بہرنگ ہے - ۱۶۔ ۱۔ بول، مجال، امن، تمنا ہے۔ کچھ نہیں رکھتا۔

نئی جو کچھ کاٹھکی مندری ۱۶- مثل، نئے نئے شوقین کی ہر بات اور ہر چیز زرا لی ہوتی ہے۔  
 نئی چال چلنا ۱۶- محاورہ، شرارت کی بات ۲، نئی رسم کرنا۔  
 نئی چیز ۱۶- مثل، نیا کیت۔ نئی بات۔ جدید چیز نئے شہر۔  
 نئی دنیا ۱۶- مثل، امریکہ جو ۱۹۲۴ء میں دریافت ہوا، نئی آبادی۔ نیا عالم۔ انوکھی کیفیت۔  
 نئی دنیا دیکھنا ۱۶- محاورہ، نئی نئی باتیں دیکھنا۔ نئے حالات میں سے گزرتا۔  
 نئی رُوح پھونکنا ۱۶- محاورہ، نیا شوق اور نئی اُمٹگیں پیدا کر دینا جو شوق و زوروش پیدا کرنا۔  
 نئی روشنی ۱۶- مثل، نئی تہذیب۔ جدید طرز تمدن۔ زمانہ حال کی شان و شوکت۔ نئے علم و فنون۔ نئی ایجادات اور ان کا تجربہ۔  
 نئی سوجھی ۱۶- روزمرہ، انوکھی بات سمجھ میں آنا۔  
 نئی شاخ لگانا ۱۶- محاورہ، نیا رشتہ جوڑنا۔ نیا پیوند لگانا۔ نیا تعلق پیدا کرنا۔  
 نئی کہانی گزرتے سے مٹھی ۱۶- مثل، نئی بات ہمیشہ دل پسند اور مرغوب ہوتی ہے۔  
 نئی کہی ۱۶- روزمرہ، انوکھی بات کہی۔ زرا لی بات سنائی۔  
 نئی کھد ۱۶- مثل، نیا مال ۲، توخیز۔ نوچیاں۔  
 نئی نائن بانس کی پہرہ ۱۶- مثل، نئے شوقین کی ہر بات زرا لی۔  
 نئی ٹولہ ۱۶- صفت، چند روز کی بیابانی ہوئی دہس ۲، انوکھی زرا لی۔  
 جدید۔ جدید گانہ سر۔  
 نئی ہوئی ۱۶- محاورہ، انوکھی اور انہونی بات ہوئی۔  
 نئے روزہ ۱۶- صفت، جدید ۲، اٹکے۔ زرا لے۔ نیا کی جمع۔  
 نئے بکڑے ۱۶- مقولہ، وہ جہول نے ابھی ابھی عیاشی شروع کی ہو۔  
 نئے بیچ ۱۶- مذ، جوان گھوڑا۔ وہ گھوڑا جس کو پانچواں سال شروع ہو۔  
 نئے رنگ دکھانا ۱۶- محاورہ، نئی نئی باتیں ظاہر کرنا۔ قسم قسم کے روپ دکھانا۔  
 نئے سرے سے ۱۶- متبادل فعل، از سر نو۔ شروع سے۔ پھر سے۔ دوبارہ۔  
 نئے سرے سے جرم پانا ۱۶- محاورہ، دوبارہ زندگی پانا۔ بیماری یا عادت خطے سے اچانک ہونا۔ مرتے مرتے ہونا۔  
 نئے سواگت لانا ۱۶- محاورہ، نئے نئے روپ بدل کر سامنے آنا۔  
 نئی نئی شکلوں میں ظاہر ہونا۔  
 نئے نواب آسمان بردار ۱۶- مثل، نیا دولت مند مغرور ہوتا ہے۔  
 نئے نو دام بڑانے چھ دوام ۱۶- مثل، نئی چیز کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔

بے سرو سامان ہے۔  
 نہو۔ دن۔ بچو ۱۶- مذ، ناخن۔  
 نہوت۔ دن۔ بچو ۱۶- مذ، لاجاری۔ منطقی۔ تنگدستی۔ بچی۔ غویب۔  
 نہورا۔ دن۔ بچو ۱۶- مذ، منت۔ خوشامد ۲، احسان رکھنا۔  
 منت خوشامد کرنا۔  
 نہورا ماننا ۱۶- محاورہ، احسان ماننا۔ ممتون ہونا۔ بیکر گزار ہونا۔  
 نہوسی۔ دن۔ بچو ۱۶- مذ، سوسا، قی، نہوگا۔  
 نہوسی۔ دن۔ سی، ۱۶- مذ، اردک۔ مخالفت۔ منج کرنا ۲، وہ حکم جو کسی کو کوئی کام کرنے کے واسطے دیں۔ جمع نہوای۔  
 نہسی عین المنکر ۱۶- مذ، ان چیزوں سے روکنا جن کی شرعاً مخالفت ہے۔  
 نہیب۔ دن۔ نہیب، ۱۶- مذ، ڈر۔ خوف۔ ہیبت ۲، لوٹ مار مال ہیبت۔ لوٹ مار کا مال۔  
 نہیب۔ دن۔ نہیب، ۱۶- مذ، نہیں۔  
 نہیب۔ دن۔ نہیب، ۱۶- مذ، حرف، ۱۱، کلمہ دفعی۔ انکار ۲، حرف شرط۔ ورنہ۔ وگرنہ۔  
 نہیب تو ۱۶- متبادل فعل، ورنہ کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ وگرنہ۔  
 نہیب سہی ۱۶- متبادل فعل، کیا مضائقہ ہے۔ کیا ڈر ہے۔ کچھ پروا نہیں۔  
 نہیب کرنا ۱۶- محاورہ، انکار کرنا۔ ناکرنا۔ نفی میں جواب دینا۔  
 نہیب نہیں ۱۶- حرف، نہی، ہرگز نہیں۔ بالکل نہیں۔ نہیں کی تاکید۔  
 نہیب نہیں کرنا ۱۶- محاورہ، متواتر انکار کرنا۔ بار بار انکار کرنا۔  
 نہیب ہونا ۱۶- محاورہ، انکار ہونا۔

ن - ۶

نئی۔ دن۔ اسی ۱۶- صفت، نیا کی تائید۔ جدید۔ تازہ۔  
 نئی اوستھا ۱۶- مثل، نو عمری۔ کم سنٹی۔ صغر سنی۔ نابالغی۔  
 نئی بات ۱۶- مثل، عجیب بات۔ انوکھی بات۔  
 نئی بات کرنا ۱۶- محاورہ، عجیب بات کرنا۔ زرا لیا کام کرنا۔  
 نئی بات کہنا ۱۶- محاورہ، لطیف کہنا۔ انوکھی بات کہنا۔  
 نئی بات لگانا ۱۶- محاورہ، انوکھی بات پیدا کرنا۔ جدت طرازی کرنا ۲، انوکھی وضع اختیار کرنا۔  
 نئی بود ۱۶- مثل، نئی وضع اختیار کرنے والا۔ نوجوان طبقہ۔  
 نئی جوانی ۱۶- مثل، جوانی کی ابتدا۔ آغاز شباب۔  
 نئی جوانی اور پانچا ڈھیللا ۱۶- مثل، جوانی میں کم ہمتی اور ناتوانی۔  
 نئی جوانی حماقت کی نشانی ۱۶- مثل، جوانی میں اکثر بے وقوفی کے کام ہوجاتے ہیں۔  
 نئی ہوتی بہت ۱۶- محاورہ، نئی شادی کرنا۔



## ن-سی

نی- (۱-۵۷-مٹ) یہ کلمہ اسامہ ہندی کے آخر میں ملتی ہو کر تائید اسم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اوشنی۔ مٹنی۔

نی- (۱-۵۸-مٹ) حرف عطف (اور)۔

نے- (۱-۵۹-مٹ) نرکل (۲)، بانسری (۳)، حقہ کی نگالی۔ نی۔  
نے سوار۔ (۱-۶۰-مٹ) وہ کم سن لڑکا جو کھڑی یا بانس کو گھوڑا قرار دیکر اس پر سوار ہو کر بھاگے۔

نیستان۔ (۱-۶۱-مٹ) وہ جگہ جہاں نرکل یا سرکنڈے کے درخت بکثرت ہوں۔

نے شکر نیشکر۔ (۱-۶۲-مٹ) گنا۔ اکیہ۔ بونڈا۔

نے نواز۔ (۱-۶۳-مٹ) بانسری بجانے والا۔  
نے نوازش۔ (۱-۶۴-مٹ) عیش و طرب۔ بزم نشاط۔ جہاں نغمہ و خرا کا اہتمام ہو۔ دیکھیے نائے۔

نے۔ (۱-۶۵-مٹ) نہیں۔ نہ۔

نے غم و زردی کے غم کالا۔ (۱-۶۶-مٹ) کسی بات کی پرواہ نہ ہونا۔ دنیا کے سرد و گرم کے قطعاً بے خبر ہونا۔

نے ۱۰، فعل متعدی کی علامت جیسے میں نے خط پڑھا۔  
نیا۔ دن۔ (۱-۶۷-مٹ) صید تازہ (۲)، لوکھا۔ نرالا۔ عجیب۔ طرفہ (۳)،

زنجی یا زنجان دم۔ ابھی کا۔

نیا یا نکاتا۔ (۱-۶۸-مٹ) شل چھنے سے جو صیقل والے کی سب باتیں نرالی ہوتی ہیں (۲)، کم ظرف اپنا ظرف دکھانے بغیر نہیں رہ سکتا۔

نیا بگڑا۔ (۱-۶۹-مٹ) وہ جس نے حال ہی میں اپنی وضع تبدیل کی ہو۔ نیا تماش میں۔

نیا پڑانا ہونا۔ (۱-۷۰-مٹ) تازہ نہ رہنا۔ کسی کو آئے بھٹے رات گزارنا (۲)،  
سننے بہن کی خوشی اور لذت ماند پڑ جانا۔

نیا پھل۔ (۱-۷۱-مٹ) تازہ پھل۔ وہ پھل جو درخت سے پہلے پہل آکر ہو۔  
وہ پھل جو ابھی ابھی چلا ہو۔

نیا پھل دانست ملے و دشمن پاؤں تلے۔ (۱-۷۲-مٹ) شل، پھل کھاتے وقت عورتیں بے فخر ہوتی ہیں۔

نیا پھل کرنا۔ (۱-۷۳-مٹ) موسم کا کوئی پھل پہلے پہل کھانا۔  
نیا حکیم دیوے ایتم (۱-۷۴-مٹ) نا تجربہ کار سے نقصان ہی پہنچتا ہے نیم حکیم خطرہ جان۔

نیا خریدار۔ (۱-۷۵-مٹ) نیا کاپک۔ تازہ خریدار۔  
نیا داد۔ (۱-۷۶-مٹ) مسافرت کے واسطے استعمال ہوتا ہے

کر پھر روزے مقام پر نئی غذا میسر آتی ہے۔  
نیا ڈھنگ۔ (۱-۷۷-مٹ) نیا طریقہ۔

نیاراگ لانا۔ (۱-۷۸-مٹ) تازہ جھگڑا کھڑا کرنا۔ نیا فتنہ اٹھانا (۲)، کوئی انوکھی اور عجیب بات نکلانا۔

نیارنگ دکھانا۔ (۱-۷۹-مٹ) عجیب عالم دکھانا۔ غیر معمولی طرز عمل دکھانا۔  
نیارنگ لانا۔ (۱-۸۰-مٹ) مجاورہ کسی انوکھی اور عجیب بات کا مجبور پذیر ہونا۔

نیی بات ہونا (۲)، نیا فساد پیدا کرنا۔  
نیاروب۔ (۱-۸۱-مٹ) نئی شکل۔ نیا جسم۔

نیاشکورت چھوڑنا۔ (۱-۸۲-مٹ) مجاورہ) فساد پیدا کرنا۔  
نیاشکورت کھلنا۔ (۱-۸۳-مٹ) مجاورہ) عجیب طرح امر کا ظاہر ہونا۔

نیافتنہ اٹھانا۔ (۱-۸۴-مٹ) مجاورہ) نیا جھگڑا اٹھانا۔ تازہ قیامت برپا کرنا۔

نیاکام۔ (۱-۸۵-مٹ) لوکھا کام۔ مجدد کام۔  
نیاکرنا۔ (۱-۸۶-مٹ) مجاورہ) نئی سبزی۔ پھل یا غلہ کھانا۔ موسم کی چیز پہلے پھل کھانا۔

نیاشکل کھلانا۔ (۱-۸۷-مٹ) تازہ فتنہ اٹھانا۔ انوکھی اور عجیب خبر لانا  
نیامسلمان قصائی کی دوکان۔ (۱-۸۸-مٹ) شل، جب کوئی شخص نیا مذہب اختیار کرتا ہے تو ظواہر میں بڑا کٹر ہوتا ہے

نیاملا مسجد کو دوڑ دوڑ جائے۔ (۱-۸۹-مٹ) شل، جب کوئی نئی بات سیکتا ہے تو ہر وقت اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔

نیانودن۔ (۱-۹۰-مٹ) چرانا سودن (۲) شل، نئی چیز کی بھڑک چند دن ہوتی ہے۔  
اور پرائی چیز مدت تک رہتی ہے (۲)، سننے کی بجائے پڑانا قابل اعتماد ہوتا ہے۔

نیانویلا۔ (۱-۹۱-مٹ) نا تجربہ کار (۲)، (نوریز۔ نومبر (۳) بانکا ترچھا جوان (۴)،  
لوکھا آدمی۔

نیاراج ڈھب ڈھب باج۔ (۱-۹۲-مٹ) شل، نئی نئی حکومت اچھا کام کرتی ہے  
نیا ہونا۔ (۱-۹۳-مٹ) مجاورہ) نا واقف ہونا۔ ابھی ہونا۔

نیایکت دن۔ (۱-۹۴-مٹ) ایک دن۔ (۱-۹۵-مٹ) مقامی سفارت۔ نائب ہونا۔  
(۲) منیسی۔ سبکدوشی۔

نیاز۔ دن۔ (۱-۹۶-مٹ) گھاس پات۔ چوپایوں کا چارہ۔ پولی۔  
جرسی۔

نیارا۔ دن۔ (۱-۹۷-مٹ) صفت (۱) حیدر گانہ۔ (۲) لالا۔ مختلف لوکھا  
(۲) منتخب۔ چھانٹا ہوا۔ انتخاب کیا ہوا۔ (۳) علاوہ۔  
بجز۔ ماسوا۔

نیارسی۔ دن۔ (۱-۹۸-مٹ) صفت (۱) گوشہ گیر (۲) عجیب۔ نادار۔  
نیاریا۔ دن۔ (۱-۹۹-مٹ) یاد۔ (۲) آڈر۔ (۳) ستاروں کی دوکان کے گورنار کرٹ

سے سوتے چاندی کے ڈبے کھانے والا (۲)، جہاں بین کرنے  
والا۔ بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی۔

نیارہ۔ دن۔ (۱-۱۰۰-مٹ) حاجت، حاجت۔ (۲) احتیاج۔ آرزو۔  
تھنا (۲) میل۔ خواہش۔ اظہار محبت (۳) آگسار۔ عاجزی۔  
مسکینی (۴) پریشاد۔ تیرک۔ محضہ درویشاں (۵) نذر بیھشت

چراغ دار (۶) منت۔ (۷) اتھار، ملاقات، واقفیت، مدد شناسی۔

جان بہیمان -

نیاز پیدا کرنا - ۱۶۔ محاورہ، راہ درسم پیدا کرنا۔  
نیاز حاصل کرنا - ۱۷۔ محاورہ، ملاقات کرنا۔ بزرگوں کی ملاقات کرنا  
۲۔ واقفیت بہیم بہیمان۔

نیاز دلوانا - ۱۸۔ محاورہ، فاتحہ دلوانا۔ درود فاتحہ دلوانا۔

نیاز کرنا - ۱۹۔ محاورہ، نیاز دلانا۔ فاتحہ دلوانا کسی بزرگ کے نام کا  
کھانا کرنا، نذر کرنا۔ بھینٹ کرنا۔ نذر چڑھانا۔ نذر پکڑانا۔ قرآن کرنا  
صدر کرنا۔ نذر کرنا۔ دینا۔ خواہ کرنا۔

نیاز کش - ۲۰۔ صف، عاجزی جس کی عادت ہو۔ اہلبار اکلکار  
کاکلمہ۔

نیاز مند - ۲۱۔ صف، حاجت والا۔ خواہش رکھنے والا۔ محتاج (۲۲) تواضع  
اور فروشی کرنے والا (۲۳) عاجزی اور اکلکار کا اہلبار۔

نیاز مندی - ۲۴۔ (۱۔ مٹ، حاجت (۲) آرزو (۳) اکلکاری (۴) ہم،  
اطاعت۔ فرما برداری۔

نیاز نامہ - ۲۵۔ صف، اکلکاری اور عاجزی کی تحریر۔ خط۔  
نیاز می - ۲۶۔ (۱) یا زنی (۲) اہم عرض کرنے والا۔ درخواست  
کرنے والا (۳) عاشق۔ دوست۔ محبوب (۴) پٹھانوں

کا ایک قبیلہ۔

نیازگان - ۲۷۔ (۱) یا۔ گان (۲) ۱۔ مذہب بزرگ۔ والدین۔ اجداد۔  
نیام - ۲۸۔ (۱) یا۔ م، ۱۔ مذہب توار۔ فخر وغیرہ کامیان۔  
نیام سے توار لینا - ۲۹۔ محاورہ، غلاف سے توار نکالنا۔

نیام کرنا - ۳۰۔ محاورہ، توار کو غلاف میں رکھنا۔  
نیائش - ۳۱۔ (۱) یا۔ اش (۲) ۱۔ مٹ، تعریف۔ دعا۔ آفرین (۳)  
عاجزی۔ گریہ۔ وزاری۔

نیالک - ۳۲۔ (۱) یا۔ لک، ۱۔ صف، منطقی۔ معقول۔

نیاف - ۳۳۔ (۱) یا۔ ف، ۱۔ مذہب انصاف۔ عدل۔ فیصلہ۔ تصفیہ۔  
نیاد چکانا - ۳۴۔ محاورہ، انصاف کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ جھگڑا چکانا۔

نیاد سبھا - ۳۵۔ (۱) مٹ، عدالت۔ کچہری۔

نیاد کرنا - ۳۶۔ انصاف کرنا۔ جھگڑا چکانا۔ فیصلہ کرنا۔

نیائے - ۳۷۔ (۱) یا۔ اے، ۱۔ مذہب علم منطبق۔ علم مناظرہ۔

علم دلیل (۲) طریقہ۔ قاعدہ۔ اصول (۳) انصاف۔ سچائی  
قانون (۴) فیصلہ۔ نبوت۔

نیائے شاستر - ۳۸۔ (۱) مذہب ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب  
کاتنام۔

نییب - ۳۹۔ (۱) مٹ، نیم ایک تاج پتوں والا درخت۔

نیبو - ۴۰۔ (۱) بو، ۱۔ مذہب ایک ترش پھل اور اس کے پودے  
کاتنام۔ نیبول۔

نیبو چوڑ - ۴۱۔ (۱) صف، نیبو چوڑنے والا (۲) بن بلایا بہمان۔ طفیلی  
مفت خوردہ۔

نیپالی - ۴۲۔ (۱) یا۔ لی، ۱۔ صف، ملک نیپال کا رہنے والا (۲) چینی

کی ایک قسم (۳) لال سنگھیا۔

نیت - ۴۳۔ (۱) مذہب اخلاق۔ نیک چلتی (۲) پیش بینی (۳) رہنمائی۔  
نیت - ۴۴۔ (۱) بیت، ۱۔ ع - ۱۔ مٹ، دلی ارادہ۔ دلی منشا۔ اصل مقصد  
۲۔ منصوبہ مراد۔ عہد (۳) خیال۔ دھیان۔

نیت باتھنا کرنا - ۴۵۔ محاورہ، ارادہ کرنا۔ منصوبہ باتھنا (۲) احرام  
باتھنا۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔

نیت بیکر، لونا - ۴۶۔ محاورہ، کسی کا بیکر کا دلی ارادہ کرنا۔ کوئی کام کرتے  
وقت دل میں بڑا خیال نہ ہونا۔ اچھی نیت سے کوئی کام کرنا۔

نیت بد کرنا - ۴۷۔ محاورہ، بُرائی کا ارادہ کرنا۔

نیت بدل جانا - ۴۸۔ محاورہ، ارادہ بدل جانا۔ عہد سے بچھڑانا۔  
نیت بد ہو جانا۔

نیت بد ہونا - نیت میں فرق آنا۔ ارادہ فاسد ہونا۔

نیت بھٹکتا - ۴۹۔ محاورہ، نیت کا ڈانٹوں ڈول ہونا۔ طبیعت کا  
قائم نہ رہنا۔ ایمان متزلزل ہو جانا۔

نیت بھرجانا - ۵۰۔ محاورہ، دل بھرجانا۔ طبیعت سیر ہو جانا۔  
جی بھرجانا۔

نیت بھرنی رکھنا - ۵۱۔ محاورہ، نیت کو ڈانٹوں ڈول نہ کرنا۔ ایمان کو  
متزلزل نہ ہونے دینا۔

نیت بندھنا - ۵۲۔ محاورہ، مصمم ارادہ کرنا (۲) نازکی نیت کرنا۔

نیت پلٹ جانا - ۵۳۔ محاورہ، نیت بھرجانا۔ ارادہ بدل جانا۔  
بد نیت ہو جانا۔

نیت پھرنانا - ۵۴۔ محاورہ، ارادہ بدل جانا۔

نیت ثابت رکھنا - ۵۵۔ محاورہ، اپنے ارادہ پر مستقل اور وعدہ پرقائم  
رہنا (۲) ایمان قائم رکھنا۔

نیت ڈانٹوں ڈول کرنا - ۵۶۔ محاورہ، بد نیت ہو جانا۔

نیت سیر ہونا - ۵۷۔ محاورہ، نیت بھری رہنا۔

نیت شب بچھڑا کرنا - ۵۸۔ مثل، رات کو ارادہ کرنا درست نہیں۔  
نیت کرنا - ۵۹۔ محاورہ، دل میں ٹھنٹھانا۔ ارادہ کرنا۔

نیت لگی رہنا - ۶۰۔ محاورہ، خیال رہنا۔ دھیان رہنا۔

نیت میں خلل و فرق آنا - ۶۱۔ محاورہ، نیت بگڑنا۔

نیت میں فرق آنا - ۶۲۔ محاورہ، نیت بگڑنا۔ ناجائز طریقے سے  
فائدہ اٹھانے کو جی چاہنا۔

نیٹیا - ۶۳۔ (۱) مٹ، ۱۔ مذہب رہنما۔ لیڈر۔ آقا۔

نیٹیر - ۶۴۔ (۱) مٹ، ۱۔ نہیں تو۔ ورنہ۔

نیٹ (Net) - ۶۵۔ ایک ایسٹ۔ جال۔

نیٹ - ۶۶۔ (۱) مذہب، ۱۔ ٹھیک۔ صاف۔ سیدھا (۲) ۱۱۔ مذہب  
استقلال۔ ہمت۔

نیٹو - ۶۷۔ (Native) (۱) مٹ، ۱۔ ایک صف، ایسی جگہ یا شہر۔

نیٹو - ۶۸۔ صف، کینہ۔ روئیل۔ سفلہ۔

نیٹو - ۶۹۔ (۱) مٹ، ۱۔ اوچھی نیچی سطح۔ تشیب و فراز۔ بُرائی بھلائی۔

نیچے پن ۲۰ صفت، گھٹیا پن، اوجھی حرکت۔  
 نیچے نہ چھوڑے نہجانی، نیکم نہ چھوڑے ستائی، ۱۶۔ مثل، کوئی  
 نہ اپنے اصل کو نہیں چھوڑتی۔  
 نیچا، ۱۔ ذی، جا، ۱۵۔ صفت، ۱۱۔ تشبیب، گہرا، اوجھاو، ۲۰۔ کم، اونٹ  
 ۳، مدغم، دھیما۔  
 نیچا اوتھا، ۱۶۔ مذ، تشبیب و فراز، آثار چٹھاؤ۔  
 نیچا پڑنا، ۱۶۔ محاورہ، مغلوب ہونا، عاجز ہونا، مطیع ہونا، ۲۰۔ دنیا، اوجھاو  
 کم ہونا، بیچنا، کرنا۔  
 نیچا دکھانا، ۱۶۔ محاورہ، ۱۱۔ مغلوب کرنا، ذلیل کرنا، ۲۰۔ شرمندہ کرنا۔  
 عزت دھانا۔  
 نیچا دکھنا، ۱۶۔ محاورہ، شرمندگی اٹھانا، شرمندہ ہونا، شکست  
 کھانا، ذلیل ہونا۔  
 نیچر۔ (Nature) (سنے، چڑ، انگ، ۱۔ مٹ، ۱۱۔ فطرت  
 عظمت، پیدائش، ۲، دنیا، عالم، موجودات، ۳، قدرت  
 قانون قدرت۔  
 نیچرل۔ (Natural) (سنے، پُج، دل، انگ، صفت، قدرتی فطرتی۔  
 نیچر می، ۱۰۔ پتھ، ری، ۱۱۔ صفت، نیچر کا ماننے والا، قانون فطرت اور قدرت  
 پر چلنے والا۔ سرسید احمد خاں کا مقلد۔  
 نیچنا۔ (سنے، پُج، ذی، صفت، جھاڑنا۔  
 نیچہ۔ (سنے، جا، ۱۰۔ مذ، حق کی نئے، حق کی نیماں۔  
 نیچہ بسانا، ۱۶۔ محاورہ، نیچے میں کوئی خوشبودار عرق ڈال کر اس کے  
 دو طرف کے سوراخوں کو بند کر دینا۔  
 نیچہ بند، ۱۰۔ مذ، نیچہ باندھنے والا، حق کے نیچے بنانے والا۔  
 نیچہ بند ہی، ۱۰۔ مذ، مٹ، نیچہ بنانے کا پیشہ۔  
 نیچہ تازہ کرنا، ۱۶۔ محاورہ، نیچے میں تازہ پانی ڈالنا۔  
 نیچی، ۱۰۔ ذی، ۱۱۔ صفت، نسبت، تشبیب، ۲۰۔ اونٹ، ذیل، اوجھی۔  
 کینی، گھٹیا، ۳، نیچے کی، زیرین، نیچے کی تائیت۔  
 نیچی آواز، ۱۰۔ مذ، ۱۱۔ صفت، اونچی آواز کی ضد، ذلی آواز، دھیمی آواز۔  
 نیچی نظر، ۱۰۔ مذ، شرم دھیا سے نیچے کی ہونی، نگاہ۔ وہ نظر جو نیچے  
 کی طرف مائل ہو۔  
 نیچی نظر کرنا، ۱۶۔ محاورہ، شرم دھیا سے آنکھیں اُپر نہ اٹھانا، ۲۰،  
 کسی سے زنا، شرم سار ہونا۔  
 نیچی نظر ہونا، ۱۶۔ محاورہ، شرمندہ ہونا، ۲۰، احسان مند ہونا۔ بار  
 احسان سے آنکھیں نہ اٹھا سکتا۔  
 نیچی نیچی نظروں سے دیکھنا، ۱۶۔ محاورہ، نظر چرا کے دیکھنا۔  
 شرمائی ہونی، نگاہوں سے دیکھنا۔  
 نیچے، ۱۰۔ ذی، ۱۱۔ صفت، تشبیب میں، پستی میں، ۲۰، ماتحت، زیر فرمان  
 نائب مددگار، ۳، مدغم، دھیما، کم، گھٹیا، اونٹ۔  
 نیچے اُپر، ۱۰۔ ذی، فعل، اُپر تلے، ایک پر ایک، ایک نیچے ایک

اُپر، الٹ پلٹ، اُتھل، پھل۔  
 نیچے اُپر ہو جانا، ۱۰۔ محاورہ، تہ و بالا ہو جانا، الٹ پلٹ ہو جانا۔  
 اُتھل پھل ہو جانا۔  
 نیچے سے، ۱۶۔ ذی، فعل، اتلے سے، نیچا دے۔  
 نیچے سے اُپر تک، ۱۶۔ ذی، فعل، سر سے پاؤں تک، ماڈل  
 سے آخر تک۔  
 نیچے کا پاٹ بھاری ہے، ۱۰۔ مذ، یوی زبردست ہے۔  
 نیچے کا دھڑکا، بنیم کا زیرین حصہ۔  
 نیچے کی سانس نیچے، اُپر کی سانس اُپر رہ جانا، ۱۶۔ مثل،  
 بسا بکارہ جانا، حیران اور دم بخوردہ رہ جانا۔  
 نیچے لانا، ۱۶۔ محاورہ، پہلوؤں کی اصطلاح میں قابو کر لینا، کشتی میں دُبا  
 لینا، پچھاڑنا، چیت کرنا۔  
 نیچواہ، ۱۰۔ ذی، خواہ، ۱۱۔ صفت، نیک خواہ۔  
 نیچوی بنا، ۱۰۔ ذی، جوئی، پ، نا، ۱۱۔ صفت، نیک خواری۔  
 نیچر، ۱۰۔ مذ، غسل صحت۔  
 نیچر اس، ۱۰۔ مذ، پانی، جل، ۲۰، دریا، سمندر، ۳، آسنو۔  
 نیچر بہانا، ۱۶۔ محاورہ، آسنو بہانا، دونا، برستا۔  
 نیچر، ۱۰۔ ذی، تیر، ۱۰۔ صفت، نہایت چمکدار ستارہ۔  
 نیچر اصغر، چاند۔  
 نیچر اعظم، نیچر ناماں، ۱۰۔ صفت، سب سے بڑا اور سب سے  
 روشن جسم، فلکی، سورج۔  
 نیچر، ۱۰۔ ذی، را، ۱۱۔ صفت، بد معاش، ۲۰، ۱۶۔ مٹ، ایسی سیندھی جو  
 طلوع آفتاب سے قبل کی ہو۔  
 نیچرنگ، ۱۰۔ ذی، رنگ، ۱۰۔ صفت، را، مکر، فریب، ۲۰، شعیبہ  
 جادو، ۳، چالاک، ۱۰۔ اصل نونگ یعنی بدید رنگ ہے۔  
 نیچرنگ زمانہ، ۱۰۔ مذ، زمانہ کا شعیبہ، زمانہ کی انہوں گری  
 ۲۰، انقلاب روزگار، تغیر زمانہ۔  
 نیچرنگ ساز، ۱۰۔ صفت، جادوگر، شعیبہ باز، بازیگر  
 روزگار۔  
 نیچرنگی، ۱۰۔ ذی، رنگی، ۱۰۔ صفت، جادوگری، فریب، شعیبہ بازی۔  
 نیچرو، ۱۰۔ ذی، ۱۱۔ صفت، ۱۰۔ مٹ، ۱۱، قوت، طاقت، ۲۰، زور آزمائی۔  
 نیچر، ۱۰۔ ذی، ۱۱، ذی، نزدیک۔  
 نیچرنا، ۱۰۔ ذی، ۱۱، ذی، مص، ختم ہونا۔  
 نیچرے، ۱۰۔ ذی، ۱۱، ذی، نزدیک۔  
 نیچر، ۱۰۔ صفت، عطف، ۲۰، دیگر، اور ابھی۔  
 نیچرہ، ۱۰۔ ذی، ۱۱، ذی، ۱۰۔ مذ، ۲۰، برہمی، جھالا، ۲۰، کلک  
 سنے، ایک قسم کا نرسل جس سے قلم بناتے ہیں، قلم کی چھوڑ۔  
 نیچرہ باز، ۱۰۔ صفت، ہم بردار، بھالے کے کرب جاننے والا۔  
 نیچرہ بازی، ۱۰۔ صفت، نیچرہ کے کرب اور داؤ، بیچ۔  
 نیچرہ بردار، ۱۰۔ صفت، نیچرہ سے کرب جاننے والا۔

نیزوں پانی پر ٹھہر جاتا۔ 17۔ محاورہ، لطیفی آنا۔ لڑائی بڑھ جانا۔  
 نیسان۔ دسے نیسان، دن۔ 1۔ مذ، قدیم شام کا ساتواں مہینہ اور اس  
 مہینہ کی بارش۔ بیساکھ یا اپریل مئی کا موسم۔  
 نیست۔ 7۔ دن۔ 1۔ مذ، خالی ۲، عدم، نابود۔ مدوم۔ فنا۔  
 نیست کرنا۔ 17۔ محاورہ، برباد کرنا۔ اچھا کرنا۔  
 نیست و نابود کرنا۔ 17۔ محاورہ، تیغ و بنیاد سے کھودنا۔ بالکل  
 فنا کر دینا۔  
 نیست و نابود کرنا۔ 17۔ محاورہ، مٹ جانا، خاک میں ملنا۔ فنا ہونا۔  
 ناپید ہونا، نام و نشان نہ رہنا۔  
 نیستان۔ 1۔ ان۔ یس۔ تان، 7۔ دن۔ 1۔ مذ، سرکنڈوں کا کھیت۔ بانسوں  
 کا جنگل۔  
 نیستی۔ 2۔ نیس۔ قی، 7۔ دن۔ 1۔ مذ، ہستی کا مقابل (۲)، ناپید ہونا۔ فنا۔  
 عدم (۲)، بطلان، ناس (۳)، نخوست۔ بد نصیبی۔ بد اقبال (۴)، تنگ دستی  
 مفلسی۔ ناداری۔ بد حالی۔  
 نیستی چھانا۔ 17۔ محاورہ، گھوسٹ چھانا۔  
 نیستی کا مارا۔ 17۔ مذ، بد نصیب۔ بد اقبال۔ منحوس۔  
 نیستی میں برخور داری۔ 17۔ مثل، مفلسی میں اولاد پیدا ہونا۔ جو  
 فرج کا باعث ہے۔  
 نیش۔ 7۔ دن۔ 1۔ مذ، نوک کی تیزی۔ نوک کی آبی (۲)، ڈنگ۔ خار۔ کانٹا۔  
 (۳)، کھٹنے کی نوک (۴)، زہر۔  
 نیش زنی۔ 7۔ دن۔ 1۔ مذ، ڈنگ مارنا (۲)، بُرائی کرنا۔ کسی کے حق میں  
 نقصان دہ کارروائی کرنا۔  
 نیش عقرب۔ 7۔ دن۔ 1۔ مذ، چھو کا ڈنگ۔ کنٹا، دشمنوں کی شرارت۔  
 نیش عقرب نہ اڑنے کے کہیں اس وقت مقتضائے طبیعتش  
 این است۔ اس شخص کی نسبت کہا جاتا ہے۔ جس کی فطرت میں  
 شرارت ہو۔  
 نیشتر۔ 7۔ دن۔ 1۔ مذ، نیشتر۔ زخم کھولنے کا اوزار۔  
 نیشتر لگانا۔ 17۔ محاورہ، 11۔ نیشتر مارنا (۲)، نوک چھبھوتا (۳)،  
 صدمہ پہنچانا۔  
 نیشکر۔ 7۔ دن۔ 1۔ مذ، گنا۔ بونڈا۔ اکھ۔  
 نیشن۔ (Nation) (دئے، شے، ڈنگ، 1۔ مذ، قوم، وطنی۔  
 نیشنل۔ (National) (نیش۔ نل، ڈنگ، صفت) قومی۔  
 قومی۔ وطنی۔  
 نیشنل ازم (Nationalism) (ڈنگ، مذ) قوم پرستی۔  
 وطن پرستی۔  
 نیشنل اسمبلی (National Assembly) (ڈنگ، 1۔ مذ، قومی  
 مجلس قانون ساز۔ مجلس ملی۔  
 نیشنلسٹ۔ (Nationalist) (دئے، شے۔ ن۔ یسٹ، ڈنگ  
 1۔ مذ، قوم پرست۔ وطن پرست۔  
 نیشنلٹی۔ (Nationality) (دئے، شے۔ نل، ڈنگ، 1۔ مذ،

قومیت۔ وطنیت۔  
 نیفہ۔ 7۔ دن۔ 1۔ مذ، پا جانے کے گھیرے کا وہ حصہ  
 جس میں ازار بند ڈالتے ہیں (۲)، حاشیہ جو کپڑے کو دوہرا کر کے  
 سی دیتے ہیں۔  
 نیفہ میں اڑ سنا۔ 17۔ محاورہ، نقدی یا کسی چیز کو نیفہ میں لکھ لینا۔  
 نیک۔ 7۔ صفت، مھلا۔ اچھا۔ عمدہ (۲)، سعید۔ پرہیزگار۔ عابد۔ پاکیزہ  
 (۳)، رحمت (۴)، شریف۔ بہتر۔ مھلا مانس۔ نیک چلن۔  
 نیک اختر۔ 7۔ صفت، نیک بخت۔ سعید۔ مبارک۔  
 نیک انجام۔ 7۔ صفت، وہ جس کا انجام اچھا ہو۔  
 نیک اندر بد۔ بد اندر نیک۔ 17۔ مثل، اچھے کے ہاں بُرے اور بُرے  
 کے ہاں اچھے کی جگہ ہوتے ہیں۔  
 نیک اندیش۔ 7۔ صفت، مھلائی سوچنے والا۔ نیک نیت۔  
 نیک بخت۔ 7۔ صفت، خوش نصیب۔ اقبال بلند۔ نصیبے والا (۲)،  
 مھلا مانس۔ مھلا۔ مھلا۔ سیدھا۔ سادھا۔  
 نیک بختی۔ 7۔ دن۔ 1۔ صفت، سعادت مندی۔ پرہیزگاری۔  
 پارسائی۔ مھلائی۔  
 نیک بختی آنا۔ 17۔ محاورہ، شامت آنا۔ کم ہمتی کی جگہ طنز۔  
 نیک چلن۔ 7۔ دن۔ 1۔ صفت، وہ شخص جس کا رویہ اچھا ہو۔ اچھے  
 کردار کا آدمی۔  
 نیک چلنی۔ 7۔ دن۔ 1۔ صفت، اچھا چال چلن۔ نیک کردار۔ اعلیٰ اطوار۔  
 نیک خصلت۔ 7۔ صفت، پاک سیرت۔ خوش اطوار۔  
 نیک خواہ۔ 7۔ صفت، اچھائی اور بہتری چاہنے والا۔ دفا دار۔  
 نیک حلال۔  
 نیک دل۔ اچھائی کی نیت رکھنے والا۔ پاکیزہ خیالات رکھنے والا۔  
 نیک دل۔ 7۔ صفت، دل کا صاف ہونا۔  
 نیک راہ پر لگانا۔ 17۔ محاورہ، اچھی وضع رکھنا۔ نیکی کی تلقین کرنا۔  
 نیک ساعت آنا۔ 17۔ محاورہ، اچھی گھڑی آنا، اقبال کا وقت آنا۔  
 نیک سرقت۔ 7۔ صفت، نیک طبیعت۔ خوش اتصال۔  
 نیک صلاح کا کیا پوچھنا، کہنا۔ 17۔ مثل، نیک کام فوراً کر لینا چاہیے۔  
 نیک فال۔ 7۔ صفت، اچھا شگون۔ مبارک فال۔  
 نیک فرجام۔ 7۔ صفت، نیک انجام۔  
 نیک قدم۔ 17۔ مذ، مبارک قدم۔ جس کا آنا مبارک ہو۔  
 نیک کافی۔ 7۔ دن۔ 1۔ صفت، اچھی اور حلال کھائی۔  
 نیک گھڑی آنا۔ 17۔ محاورہ، اچھی ساعت، ہونا۔ اچھا وقت آنا۔  
 نیک محضر۔ 7۔ صفت، وہ شخص جو ہمیشہ دوسروں کو حاضر و  
 غائب نیکی سے یاد کرے۔  
 نیک مجلس۔ 7۔ صفت، اچھی خصلت کا۔  
 نیک منظر۔ 7۔ دن۔ 1۔ مذ، نیک خوبصورت۔  
 نیک نام۔ 7۔ صفت، وہ شخص جس کا نام مھلائی کے ساتھ ہشور ہو۔  
 نیک نامی۔ 7۔ صفت، شہرت۔ ناموری۔



نیل (دنی، لی، دف، صف، نیلے رنگ کی چیز۔ نیل گوں۔ آبی، آسمانی نیلا کی تائینت۔  
نیل سیلی آنکھیں کرنا۔ ۱۶۔ عمارہ، بے مد غضب ناک ہونا۔ بہت غصہ کرنا۔

نیل فام۔ دف، صف، نیلے رنگ کا۔ نیلگوں۔ کبود (۲)، آسمان۔

نیم (دق، ۱۔ مذ، القا، مذہبی پابندی۔

نیم ۵۰۔ ۱۔ مذ، ایک پھتتا اور درخت۔ جس کے پتے اچھال اور رس بہت گڑھے ہوتے ہیں۔

نیم کی مہنی بلانا۔ ۱۶۔ عمارہ، کنایہ ہے مرض آتشک میں مبتلا ہونے سے۔  
نیم کی مہنی نیم کی مہنی ہل کر مکیاں اڑاتا رہتا ہے۔

نیم کی بولی۔ ۱۳۔ صفت، نیم کو ملی نیم کا پھل۔

نیم ۶۔ دف، صف، نصف، آدھا۔

نیم آستین۔ ۱۔ صفت، ایک قسم کا کرتا جس کی آستین آدھی ہوتی ہے۔

نیم اشارہ۔ ۶۔ ۱۔ مذ، ہم اشارہ۔

نیم باز۔ ۱۔ صفت، آدھا کھلا آدھا بند۔

نیم برشت۔ ۱۔ صفت، آدھا پکا۔ آدھا بنا ہوا۔

نیم بسمل۔ ۱۔ صفت، آدھا داغ کیا ہوا، گھائل، مجروح، آدھا ہوا۔

نیم تباہ۔ ۱۔ صفت، آدھا لٹا ہوا۔

نیم گڑ۔ ۱۔ صفت، کچھ پوہی سا پڑھا ہوا، حرف شناس۔ جیسے پوری تعلیم نہ دی جائے۔

نیم جبال۔ ۱۔ صفت، آدھا مڑا۔ نیم مردہ۔ قریب المرگ، مکرور یا مکر

نیم خوش۔ ۱۔ صفت، آدھا خوش دیا ہوا۔ ہلکا ہلکا ہوا۔ آدھا پکا ہوا۔

نیم حکیم۔ ۱۔ صفت، آدھا تجربہ کار حکیم۔ آن پڑھا اور عطائی حکیم۔

نیم خطہ۔ ۱۔ صفت، نیم ملاحظہ ایمان۔ ۱۱۔ مثل، نا تجربہ کار سے کام لیا جائے کا خطہ لگا رہتا ہے۔

نیم خواب۔ ۱۔ صفت، کچی نیند۔ جاگنے سونے کی کیفیت۔

نیم خوردہ۔ ۱۔ صفت، چھوٹا پس خوردہ۔

نیم راضی۔ ۱۔ صفت، چھوٹا رضامند۔

نیم کرخ۔ ۱۔ صفت، ایک رخی تصویر۔

نیم رس۔ ۱۔ صفت، جو چیز ابھی پوری تیار نہ ہوئی ہو۔

نیم رضا۔ ۱۔ صفت، کسی قدر رضامندی۔

نیم روز۔ ۱۔ صفت، دوپہر۔

نیم شفقت۔ ۱۔ صفت، نا کام۔ آدھا بندھا ہوا۔

نیم سوختہ۔ ۱۔ صفت، آدھا جلا ہوا۔

نیم سیر۔ ۱۔ صفت، آدھا پیٹ بھرا ہوا۔

نیم شب۔ ۱۔ صفت، آدھی رات۔

نیم کش۔ ۱۔ صفت، آدھا کھینچی ہوا۔ آدھا اندر آدھا باہر۔

نیم کشتہ۔ ۱۔ صفت، گھائل، زخمی۔

نیم گرم۔ ۱۔ صفت، شہ گرم۔ وہ پانی جو پوری طرح گرم نہ ہو۔ چھوٹا گرم۔ لگتا۔

نیل کٹھی۔ ۱۳۔ صفت، ایک بولی جس کا رنگ نیلا ہٹ پر ہوتا ہے۔

نیل کی سلاسیاں آنکھوں میں پھیرنا۔ ۱۶۔ عمارہ، اندھا کرنا۔

نیل کی کوسھی۔ نیل بنانے کا کارخانہ۔

نیل گاڈ۔ نیل گائے۔ ۱۶۔ صفت، بہن کی قسم کا چھوٹی گائے

کے برابر بھگتی ہو پایہ۔

نیل گر۔ ۱۔ صفت، نیل بنانے والا۔ نیل کا کام کتنے والا۔

نیل گوں۔ نیلگوں۔ ۱۰۔ صفت، نیلے رنگ کا۔ آسمانی رنگ کا نیلا۔

نیل گھونٹنا۔ ۱۶۔ عمارہ، نیل کو باریک کرنا۔ نیل پانی میں ڈال کر ہلانا۔

(۲، لڑائی ڈالنا۔ کہرام مچانا۔

نیل (دنی، لا، ۱۶۔ صفت، ۱۔ مذ، نیلے رنگ کا۔ نیل گوں۔ آبی۔ آسمانی۔

کبود (۲)، ایک قسم کا کبود۔

نیل پڑ جانا۔ ۱۱۔ عمارہ، نیلے رنگ کا بھجانا۔ کالا پڑ جانا

نیل پینا ہونا۔ ۱۶۔ عمارہ، غصے ہونا۔ خفا ہونا۔ قہر و غضب سے

پہرے کا رنگ متغیر ہونا۔

نیل گھنٹھا۔ ۱۶۔ مذ، کو تیا۔ ایک دو ہوتا ہے سے تیار کی جاتی ہے۔

نیل ڈورا باندھنا۔ گنڈا پہناتنا۔ ۱۶۔ عمارہ، بڑی نظر سے بچانے

کے لیے نیلے رنگ کا ڈورا باندھنا۔

نیل کر دینا۔ ۱۶۔ عمارہ، نیلا رنگ دینا، حد سے زیادہ مارنا۔

انتا مارنا کہ بدن پر نیلے نشان پڑ جائیں۔

نیل کورنا۔ ۱۶۔ عمارہ، سونپوں سے ہتھ پاؤں گود کر ان میں نیل بھرنا۔

نیلاب۔ (دنی، لاب، ۱۶۔ صفت، بے شرم۔ بے حیا۔

نیل جا۔ (دنی، لا، ۱۶۔ صفت، بے شرم۔ بے حیا۔

نیلام۔ (دنی، لام، ۱۶۔ صفت، بولی بول کر بچنا۔ بولیوں کے ذریعے

قیمت بڑھاتے جانا۔

نیلام پڑھنا۔ ۱۶۔ عمارہ، نیلام کیا جانا۔ نیلام کر کے بیچ دینا۔

نیلام کا مال۔ ۱۶۔ مذ، کم وقت مال۔ ناقص اور حقیر چیز۔

نیلام کرنا۔ ۱۶۔ عمارہ، بولی بول کر بچنا۔

نیلام گھر۔ ۱۶۔ مذ، وہ مقام جہاں بولی دے کر چیزیں فروخت

ہوتی ہیں۔

نیلامی۔ (دنی، لام، ۱۶۔ صفت، نیلام کرنے والا۔

نیلامی۔ (دنی، لام، ۱۶۔ صفت، نیلام سے متعلق۔

نیل ہٹ۔ (دنی، لا، ہٹ، ۱۵۔ صفت، نیلا پن۔ نیل جھلک۔

نیلک۔ (دنی، لک، ۱۶۔ صفت، ہل دار کرنا۔ بوٹے دار جامہ۔

نیلک۔ (دنی، لک، ۱۶۔ صفت، نیلے رنگ کا قیمتی پتھر۔

نیل پوری۔ ۱۶۔ صفت، ایک فرنی پوری۔

نیلوفر۔ (دنی، لو، فر، ۱۶۔ صفت، ایک قسم کے نیلے پھول کا نام جو پانی

میں پیدا ہوتا اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کنول۔

نیلوفر۔ (دنی، لو، فر، ۱۶۔ صفت، نیلوفر کے رنگ

کی نیلگوں۔

نیم گھنٹہ - 3 دن - نصف ناقص العلم - معمولی پڑھا لکھا مولوی -

نیم گھنٹہ - 3 دن - نصف اٹھ کھیسوں سے دیکھنا -

نیم گھنٹہ - 3 دن - نصف آدھا کھلا ہوا -

نیم گھنٹہ - 3 دن - نصف چھوٹی ٹواری -

نیم گھنٹہ - 3 دن - نصف ماری سے لیے نیم اٹھانا -

نیم گھنٹہ - 3 دن - نصف (۱) من، (۵) نصف مضبوط گٹھیلے - زور آوری (۲) دریا -

نیم گھنٹہ - 3 دن - نصف (۱) من، (۳) بھاری - کھوس -

نیم گھنٹہ - 3 دن - نصف (۱) من، (۲) ایک قسم کا اود پچا پاجامہ

(۳) جانب - طرف (۴) برقع (۵) زمانہ استعمال کا اندر دینی

لباس - محرم -

نیم آستین - (3 دن - 1) من، ایک قسم کا کرمانا - جس کی آستینیں آدھی

ہوتی ہیں -

نیم بدلی - (3 دن - 1) من، (۱) مینا ندر - پاکدامن - پارسا - پرہیزگار

(۲) پابند قاعدہ - پابند اوقات (۳) دیانت دار (۴) خدا

ترس - صاف باطن -

نیچے دروں نیچے بروں - 3 دن - مثل آدھا اندر - آدھا باہر -

میں - (3 دن - 1) من -

نیم - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نظر - نگاہ

نیم شکوہ - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) ایک قسم کا عمدہ باریک کپڑا - خاصہ -

نیم گھنٹہ - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) ادھا ہونا، محتاج ہونا -

نیم گھنٹہ - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) بات پر رو دینے والا - زور دینے والا -

نیم گھنٹہ - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) چڑچڑسی - زور دینے والا - بات پر رو دینے

والی - ہر بات پر زور دہ اور ناراض ہونے والی -

نیٹیاں - سنے - ناں، (3 دن - 1) من، (۲) آنکھیں -

نیند - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) خواب - سونے کی کیفیت - جاگنے کی ضد -

نیند آجانا، آنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) سوجانا - سونے کی خواہش ہونا -

نیند دھونڈنا، ڈھونڈنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نیند کا جلتے رہنا -

آنکھ کھل جانا - جاگ پڑنا -

نیند اڑنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نیند نہ آنا -

نیند اڑنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نیند نہ آنا -

نیند بھر جانا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) سونے کی خواہش نہ رہنا -

نیند بھر کر سونا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) بے فکری سے سونا - جی بھر کر سونا -

نیند بھری آنکھیں - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) وہ آنکھیں جن میں نیند کا شمار ہو -

نیند بھری ہونا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) آنکھوں میں نیند کا شمار ہونا -

نیند پڑنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نیند نہ آنا - سوجانا -

نیند جانا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نیند نہ آنا -

نیند حرام کرنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) سوتے میں تنگ کرنا - سونے نہ دینا - سوتے

سے جگا دینا -

نیند کا فور ہونا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نیند اڑ جانا -

نیند کا مانا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) خواب آلود - نیند بھرا ہوا -

نیند کھو دینا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) سونے نہ دینا - نیند اڑا دینا -

نیند کی چھتھی - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) مٹا، مٹوٹی - ذرا سی دیر آنکھ چھینکنا -

نیند کے مارے بڑھنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) بڑے زور کی نیند

آنا - شدت کی نیند آنا

نیند میں قفل (فتور) آنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نیند بھر کر سونے نہ پانا -

نیند - (3 دن - 1) من، (۱) من، (۲) ایک قسم کا سوتلی باریک کپڑا جس

پر آنکھ کی مانند تارے تارے سے بٹے ہوتے ہیں - پھول

دار کپڑا -

نیو - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) بنیاد - دیوار کی جڑ بنا -

نیو جانا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) مضبوط کرنا -

نیو ڈالنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) کسی مکان کی بنیاد رکھنا (۳) کسی بات کی تہدید

اٹھانا (۴) شروع کرنا -

نیو سے بیٹھنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) کسی تعمیر کا بنیاد سے بیٹھ جانا -

نیو کھو دنا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) بنیاد کھو دنا - جڑ کھو دنا -

نیو - (3 دن - 1) من، (۱) من، (۲) پڑ سکون - سنجیدہ - مطمئن -

نیوٹا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) شادی بیاہ کی تقریبول میں نقدی

دینے لینے کی رسم -

نیوٹا بھیجنا، دینا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) شادی میں طلب کرنا - تقریب میں

مدد کرنا - دعوت دینا -

نیوٹا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) مصد، بلا داد بھیجنا - دعوت دینا -

نیوز - (News) 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) خبر - اخبار -

نیوز ڈیپارٹمنٹ - (News Agent) 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) اخبار

نیوز ایجنٹ - (News Agent) 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) اخبار

فروش اخبار رساں -

نیوز ایجنسی - (News Agency) 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) اطلاع رسائی - محکمہ

خبر رساں -

نیوز پریسٹ - (Newsprint) 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) اخبار چھاپنے

کا معمولی کاغذ -

نیوز پیپر - (News Paper) 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) اخبار -

نیوز لیٹر - (News Letter) 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) اخبار نامہ - اخباری

مراسلہ - جس میں خبریں یا خبروں پر مختصر درج ہو -

نیوش - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) نصف، نشنا - سننے والا - بطور لاحقہ

استعمال ہوتا ہے - جیسے حق نیوش -

نیوشندہ - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) سننے والا -

نیوگ - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) ہندوؤں میں اولاد حاصل کرنے کے

لیے ایک خاص رسم -

نیولا - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) چوہے کی قسم کا ایک جانور جو سانپ

کا دشمن ہے -

نیولی - 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) روپے رکھنے کی لمبی سی تھیل - بیہانی

نیون - (Neon) 3 دن - 1 من، (۱) من، (۲) ایک قدرتی گیس جو تھوڑا سا عرصہ گزرا

نہیہم - (۵۱-۱) خدا پیار - محبت - عشق -  
 نہیہم لگانا - (۱۶-۵) محاورہ، آگے لگانا - عشق لگانا - محبت کرنا -  
 نہیہمی - (۵) صفت، محبت کرنے والا -

۱۸۹۸ء دریافت ہوئی ہے۔ یہ گیس روشنی کے کام آتی ہے۔  
 نیوی (Navy) رتے۔ وی، ۱۶ انگ ۱۱۔ مٹ، بکری توج۔  
 جنگی جہازوں کا بیڑا۔ جنگی بیڑا۔





۱ (واؤ) دغ۔ ۱۔ مذ و مٹ، اردو کا تینتیسواں۔ فارسی کا تیسواں۔ عربی کا چھبیسواں اور ہندی کا اسیسواں حرف۔ حساب الجمد میں اس کے چھ عدد مقرر ہیں۔ واؤ کی چار قسمیں ہیں، ۱۱، معروف۔ جس واؤ کے پہلے پیش ہو اور خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے جیسے دُور، مَور، مَول، جس واؤ کے پہلے پیش تو ہو مگر ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے جیسے بوش۔ زور، رس، موقوف۔ یہ واؤ ان اردو ہندی اسما کے آخر میں آتا ہے۔ جن میں واؤ کے پہلے الف ہو۔ جیسے بھاؤ، تاؤ، دم، مدول۔ یہ واؤ لکھا جاتا ہے۔ مگر بولا نہیں جاتا۔ جیسے ٹوش۔ خود پہچان کے لیے اس کے نیچے چھوٹی سی لکیر لگا دیتے ہیں۔ واؤ لین وہ واؤ ہے۔ جس کے حرف ماقبل بر ختم ہو اور آواز کو نرم اور تر چھی کر کے تلفظ کیا جائے جیسے قوم۔ شوق وغیرہ ہیں۔

اس کے علاوہ یہ حرف اردو اور فارسی میں متعدد ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ۱۱، داومیت۔ یعنی ایک کے ساتھ دوسرے کا لازم ہونا جیسے پری و صد عیب۔ یہ واؤ صرف عربی فارسی الفاظ کے درمیان آتا ہے۔ ۲، واؤ قسم۔ جیسے والدہ (خدا کی قسم)، واؤ زائد جیسے دیک۔ دیکن۔ دولے (م)، واؤ نسبت جیسے ہندو، ۵، واؤ عطف، مرکبات فارسی و عربی میں اس کا استعمال جائز ہے۔ اردو اور ہندی میں نہیں۔ اس کا تلفظ "او" ہے۔ جیسے زید و مکر شام و سحر۔ یہ تہری حرف ہے اس کے اگر "ال" آئے گا تو لام بولا جائے گا۔ جیسے الواحد۔

بے خود۔ بے خبر۔  
 ۱۔ دغ۔ ۱۔ مذ و مٹ، اردو کا تیسواں۔ عربی کا چھبیسواں اور ہندی کا اسیسواں حرف۔ حساب الجمد میں اس کے چھ عدد مقرر ہیں۔ واؤ کی چار قسمیں ہیں، ۱۱، معروف۔ جس واؤ کے پہلے پیش ہو اور خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے جیسے دُور، مَور، مَول، جس واؤ کے پہلے پیش تو ہو مگر ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے جیسے بوش۔ زور، رس، موقوف۔ یہ واؤ ان اردو ہندی اسما کے آخر میں آتا ہے۔ جن میں واؤ کے پہلے الف ہو۔ جیسے بھاؤ، تاؤ، دم، مدول۔ یہ واؤ لکھا جاتا ہے۔ مگر بولا نہیں جاتا۔ جیسے ٹوش۔ خود پہچان کے لیے اس کے نیچے چھوٹی سی لکیر لگا دیتے ہیں۔ واؤ لین وہ واؤ ہے۔ جس کے حرف ماقبل بر ختم ہو اور آواز کو نرم اور تر چھی کر کے تلفظ کیا جائے جیسے قوم۔ شوق وغیرہ ہیں۔

اس کے علاوہ یہ حرف اردو اور فارسی میں متعدد ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ۱۱، داومیت۔ یعنی ایک کے ساتھ دوسرے کا لازم ہونا جیسے پری و صد عیب۔ یہ واؤ صرف عربی فارسی الفاظ کے درمیان آتا ہے۔ ۲، واؤ قسم۔ جیسے والدہ (خدا کی قسم)، واؤ زائد جیسے دیک۔ دیکن۔ دولے (م)، واؤ نسبت جیسے ہندو، ۵، واؤ عطف، مرکبات فارسی و عربی میں اس کا استعمال جائز ہے۔ اردو اور ہندی میں نہیں۔ اس کا تلفظ "او" ہے۔ جیسے زید و مکر شام و سحر۔ یہ تہری حرف ہے اس کے اگر "ال" آئے گا تو لام بولا جائے گا۔ جیسے الواحد۔

۱-۹

۱۔ دغ۔ ۱۔ مذ و مٹ، اردو کا تیسواں۔ عربی کا چھبیسواں اور ہندی کا اسیسواں حرف۔ حساب الجمد میں اس کے چھ عدد مقرر ہیں۔ واؤ کی چار قسمیں ہیں، ۱۱، معروف۔ جس واؤ کے پہلے پیش ہو اور خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے جیسے دُور، مَور، مَول، جس واؤ کے پہلے پیش تو ہو مگر ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے جیسے بوش۔ زور، رس، موقوف۔ یہ واؤ ان اردو ہندی اسما کے آخر میں آتا ہے۔ جن میں واؤ کے پہلے الف ہو۔ جیسے بھاؤ، تاؤ، دم، مدول۔ یہ واؤ لکھا جاتا ہے۔ مگر بولا نہیں جاتا۔ جیسے ٹوش۔ خود پہچان کے لیے اس کے نیچے چھوٹی سی لکیر لگا دیتے ہیں۔ واؤ لین وہ واؤ ہے۔ جس کے حرف ماقبل بر ختم ہو اور آواز کو نرم اور تر چھی کر کے تلفظ کیا جائے جیسے قوم۔ شوق وغیرہ ہیں۔

اس کے علاوہ یہ حرف اردو اور فارسی میں متعدد ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ۱۱، داومیت۔ یعنی ایک کے ساتھ دوسرے کا لازم ہونا جیسے پری و صد عیب۔ یہ واؤ صرف عربی فارسی الفاظ کے درمیان آتا ہے۔ ۲، واؤ قسم۔ جیسے والدہ (خدا کی قسم)، واؤ زائد جیسے دیک۔ دیکن۔ دولے (م)، واؤ نسبت جیسے ہندو، ۵، واؤ عطف، مرکبات فارسی و عربی میں اس کا استعمال جائز ہے۔ اردو اور ہندی میں نہیں۔ اس کا تلفظ "او" ہے۔ جیسے زید و مکر شام و سحر۔ یہ تہری حرف ہے اس کے اگر "ال" آئے گا تو لام بولا جائے گا۔ جیسے الواحد۔

واٹ - (Watt) (انگ ۱۔ منڈ) برقی قوت کا پیمانہ۔  
 واٹر - (Water) (واٹر، انگ ۱۔ منڈ) پانی، جبل۔ آب۔  
 واٹر پروف - (Water Proof) (انگ ۱۔ منڈ) صاف، یہی ردک۔  
 جس پر پانی اثر نہ کرے رہا س وغیرہ۔  
 واٹر پولو - (Water Polo) (انگ ۱۔ منڈ) پانی پولو۔ ایک کھیل  
 جو تیراک کھیلتے ہیں۔  
 واٹر سپلائی - (Water Supply) (انگ ۱۔ منڈ) پینے کا پانی  
 فراہم کرنے کا انتظام۔ آب رسانی۔  
 واٹر کالر - (Water Colour) (انگ ۱۔ منڈ) آب رنگ۔ پانی  
 کے رنگ جو تیل کے بجائے پانی میں حل کیے جائیں، آب رنگ  
 تصویریں، آب رنگ مصوری۔  
 واٹر ورکس - (Water Works) (انگ ۱۔ منڈ) کارخانہ  
 آب رسانی۔  
 واٹر مارک - (Water Mark) (انگ ۱۔ منڈ) کاغذ کے اندرونی  
 نشانات جن میں نپانے والا کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔  
 والٹی - (والٹی، ڈی۔ سی) مضبوط۔ پکا۔ مستحکم۔ پختہ۔ مستقل۔  
 واجب - (واجب، جی۔ سی) صاف، ضروری۔ لازم۔ مناسب۔ ٹھیک  
 لائق۔ سزاوار۔ قابل۔ ۲۔ جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج  
 نہ ہو۔ خدا کے تعالیٰ ۳۔ ہمیشہ دائم ہم، فرق میں، وہ کہن دین  
 جس کو بغیر عذر ادا نہ کرنے والا کہہ گا۔ ۵۔ (علم ریاضی میں)  
 وہ مسووم جس کی کسر کا عدد منخرج کے عدد سے چھوٹا ہو (۶) خواہ  
 مشاہرہ۔ ماہانہ۔ ماہ وار جمعہ واجبات۔  
 واجب انا۔ ۱۷۔ عمارت، لازم انا ضروری ہو جانا، ۲، ذتے نکلتا۔  
 واجب الاتباع۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، جس کی پیروی ضروری ہو۔  
 واجب الادا۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ ایسی رقم جو  
 کسی کے ذتے نکلتی ہو۔  
 واجب الماذعان۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، جس کی تعمیل ضروری ہو۔  
 واجب الاظہار۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، جس کا ظاہر کرنا یا بیان کرنا  
 ضروری ہو۔  
 واجب التسلیم۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، جس کا ماننا ضروری ہو۔  
 واجب التعزیر۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، قابل سزا۔ وہ فعل جو جرم کی حد میں  
 یا قانون کی زد میں آئے۔  
 واجب التعمیم۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، تعظیم کرنے کے لائق۔ بزرگ۔ محترم۔  
 واجب التعمیل۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، جس پر عمل کرنا لازمی ہو۔  
 واجب الزحم۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، جس کا کھانے یا رقم کرنے کے لائق۔  
 واجب الرعايت۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، قابل معافی۔ رعایت کا مستحق۔  
 واجب الطلب۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، جس کا طلب یا وصول کرنا  
 ضروری ہو۔  
 واجب العرض۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، بنانے یا بیان کرنے کے قابل، ۲،  
 عرضی دعوے۔ تحریری معروضہ، ۳، وہ شرائط جو قانونی

بند ولست کے ماتھے پر مالکوں اور کاشتکاروں کے درمیان کاشت  
 وغیرہ کیے بارے میں لکھی جائیں  
 واجب القتل۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، قتل کرنے کے قابل۔ گردن زنی۔  
 واجب القتل۔ ۱۰۔ ع۔ ۱۔ صفت، کاٹ دینے کے قابل۔  
 واجب الوجود۔ (ع۔ صفت) جس کی ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج  
 نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ۔  
 واجب الوصول۔ (ع۔ صفت) جس کا وصول کرنا واجب ہو۔ یافتنی  
 واجب جاننا۔ واجب سمجھنا۔ ۱۷۔ عمارت، لازم سمجھنا ضروری  
 جاننا۔ فرض سمجھنا۔ لازم قرار دینا۔  
 واجب ہونا۔ ۱۷۔ عمارت، ضروری ہونا، ۲، ذتے نکلتا۔  
 واجبات۔ (واجب، بات، ع۔ ۱۔ منڈ) واجب کی جمع۔ لازمی۔  
 یا ضروری چیزیں۔ لوازمات، ۲، رقم واجب الوصول۔  
 چڑھی ہوئی  
 واجبی۔ ۱۰۔ واجب، بی۔ ۱۰۔ صفت، ضروری۔ لازمی، ۲، بجا۔ درست۔  
 ٹھیک۔ معقول، ۲، تھوڑی کسی قدر۔  
 واجبی بات۔ ۱۰۔ منٹ، درست بات، ٹھیک بات۔  
 واجبی خرچ۔ ۱۰۔ منڈ، متوسط خرچ۔ لازمی خرچ۔  
 واجبی سب۔ ۱۰۔ منٹ، تابع نسل، تھوڑا سا ذرا سا تھیل مقدار میں۔  
 واجبی قیمت۔ ۱۰۔ منٹ، مناسب قیمت۔ وہ قیمت جو نہ  
 زیادہ ہو نہ کم ہو۔  
 واجد۔ ۱۰۔ واجد، (ع۔ صفت) وجود دینے والا، ۲، پانے والا، ۳، بات لگانے  
 والا، ۴، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔  
 وایچ۔ (Watch) (انگ ۱۔ منٹ) جھپی گھڑی۔  
 وایچ میکر۔ (Watch Maker) (انگ ۱۔ منڈ) گھڑی درست  
 کرنے والا گھڑی ساز۔  
 واجد۔ (واجب، ع۔ صفت) ایک۔ مفرد۔ فرد، ۲، یگانہ  
 یکتا۔ اکیلا، ۳، نرا۔ تنہا۔ صرف۔ تخص۔ فقط، ۴، خدا کے تعالیٰ  
 کا ایک صفاتی نام۔  
 واحد العین۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، ایک آنکھ کا۔ یگانہ۔ یک چشم۔  
 واحد حقیقی۔ ۱۰۔ ع۔ صفت، اصلی یکتا۔ خدا کے تعالیٰ۔  
 واحد شائد۔ (ع۔ صفت) واقف۔ باخبر، ۲، پانے والا۔  
 واحدیت۔ (واجب، دی، بیت، ع۔ ۱۰۔ منٹ) ایک ہونا۔ یکتائی۔  
 وادی۔ (وادی، دی، ع۔ ۱۰۔ منٹ) پہلی زمین، گھاٹی، ۲، دو پہاڑوں کے  
 درمیان کی زمین، ۳، نالے یا دریا کے سیلابی پانی کی نذر گاہ، ۴،  
 انڈیا جنگل صحرا بیابان۔  
 وادی القرا۔ ۱۰۔ ع۔ منٹ، مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی۔  
 وادی ایمن۔ ۱۰۔ ع۔ ف۔ ۱۔ منڈ، وہ جنگل جہاں حضرت موسیٰ اپنی  
 بیوی کو دروزہ میں مبتلا چھوڑ کر آگ کی تپش میں نکلے تو ایک  
 درخت پر خدا کی تپکی نظر آئی۔ یہ مقام کوہ طور کے دائیں جانب تھا۔  
 اس لیے وادی ایمن مشہور ہوا۔



وارنٹ - (Warrant) دو اور رٹ (انگ) ۱۔ مذکر قرار کرنے کا تحریری حکم نامہ ۲۔ طلب نامہ حکم نامہ۔  
 وارنٹ تلاشی لانگ ۱۔ مذکر تلاشی لینے کا تحریری حکم نامہ۔  
 وارنٹ جاری کرنا ۱۶۔ مصلح مرکب کسی کی گرفتاری کا تحریری حکم دینا۔  
 وارنٹ رہا کرنا ۱۷۔ انگ ۱۔ مذکر رہا کرنے کا تحریری حکم۔  
 وارنٹ گرفتاری ۱۸۔ انگ ۱۔ مذکر گرفتار کرنے کا حکم نامہ۔  
 وارنش - (Varnish) دو اور - نش، وانگ ۱۔ مذکر رال ملا ہوا گاڑھا سیاہ مادہ جسے فرنیچر وغیرہ چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ۲۔ روغن رنگ۔ ملج۔ قلعی۔  
 وارننگ - (Warning) دو اور - بنگ ۱۔ انگ ۱۔ مذکر تنبیہ۔ اقباء۔  
 واری - (۱۶۔ ری) ۱۔ مذکر عورتوں کا نیکو کلام۔ صدقے۔ قربان تصدق۔ نثار۔  
 واری جانا ۱۷۔ محاورہ قربان۔ صدقے ہونا۔  
 واری جاؤں ۱۸۔ بول چال، صدقے جاؤں قربان ہوں۔  
 واڑ - ۱۔ ۵۶۔ مذکر، محالہ ۲۔ جگہ جس کے گرد باڑھ لگی ہو ۳۔ مقام رہنے کی جگہ۔  
 واڑا ۱۹۔ (۱۶۔ رٹ) ۱۔ مذکر محلہ، ٹولہ، کوچہ، گلی ۲۔ علاقہ۔ ملک سلطنت ۳۔ گنے کا ڈپر کا حصہ جو پھیکا ہوتا ہے ۴۔ باقی۔  
 واڑی ۲۰۔ (۱۶۔ رٹ) ۱۔ مذکر، باغ چین۔ باڑی۔  
 واڑگول ۲۱۔ واڑوں ۲۲۔ واڑگوٹ، واڑتروں ۲۳۔ صف ۲۴۔ اندھا۔  
 واڑا ۲۵۔ نموس۔ نامبارک۔  
 واڑوں بخت ۲۶۔ ۱۔ مذکر بد نصیب۔ بد بخت۔  
 واسطہ ۲۷۔ (۱۶۔ رٹ) ۱۔ مذکر درمیانی چیز یا شخص۔ اہلی نمانت بچوال۔ بیچ کا قاصد ۲۸۔ ربط۔ لگاؤ۔ تعلق۔ نسبت ۳۰۔ کام۔ سرکار۔ عرض۔ مطلب ۳۱۔ سبب۔ باعث ۳۲۔ وسیلہ ذریعہ ۳۳۔ اظہار۔ سیدقہ ۳۴۔ دوستی۔ آشنائی۔ رشتہ داری۔ محبت۔  
 واسطہ عقد ۳۵۔ وہ بیش قیمت اور بڑا موقی جو موتیوں کی لڑی کے وسط میں پرویا جائے۔  
 واسطہ پڑنا ۳۶۔ محاورہ کام پڑنا۔ سرکار ہونا۔  
 واسطہ پیدا کرنا ۳۷۔ محاورہ وسیلہ و حوصلہ لینا۔ ذریعہ پیداکرنا۔  
 واسطہ دار ۳۸۔ رٹ۔ صف، رشتہ دار ۳۹۔ کسی قسم کا تعلق رکھنے والا۔  
 واسطہ دینا ۴۰۔ محاورہ بیچ میں ڈالنا۔ کسی کے نام کی دہائی دینا۔  
 واسطہ ڈالنا ۴۱۔ محاورہ پایا ڈالنا کام ڈالنا۔  
 واسطہ رکھنا ۴۲۔ محاورہ تعلق رکھنا۔ علاقہ رکھنا۔ عرض رکھنا۔  
 واسطہ ہونا ۴۳۔ محاورہ لگاؤ ہونا۔ تعلق ہونا۔  
 واسطی ۴۴۔ (۱۶۔ رٹ) ۱۔ مذکر شہر واسط سے تعلق رکھنے والا۔ ایک قسم کا عمدہ قلم جو واسط سے آتا ہے۔  
 واسطے ۴۵۔ (۱۶۔ رٹ) ۱۔ مذکر واسط کی اردو جمع۔ تعلقات۔

ذریعے۔ وسیلے۔ لگاؤ۔ مطلب ۲۔ لینے ۳۔ بسبب۔  
 واسع ۴۶۔ (۱۶۔ رٹ) ۱۔ وسیع ۲۔ پھیلنے والا۔ وسیع ۳۔ خدائے تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔  
 واسکت - (Waist Coat) دو اس کٹ، انگ ۱۔ مذکر بے آستینوں کی فتوحی۔ صدی سگری۔  
 واشٹر - (Washer) دو اور - شر، انگ ۱۔ مذکر وہ پھیلا جو ڈھیری کے ساتھ کس دیتے ہیں۔  
 واشنگ فیکٹری - (Washing Factory) دو - شنگ۔  
 نیک - (ری) ۱۔ انگ ۱۔ مذکر کپڑے دھونے کا کارخانہ۔ دھوبی کی دکان۔  
 واصف ۲۔ (۱۶۔ صف) ۱۔ وصف، تعریف کرنے والا۔ وصف یا خوبی بیان کرنے والا۔  
 واصل ۳۔ (۱۶۔ صیل) ۱۔ وصف، طے والا ۲۔ ملا ہوا جزا ہوا ۳۔ حاصل ہونے والا۔ قابل وصول جمع، واصیلین۔  
 واصل باقی ۴۔ (۱۶۔ ص) ۱۔ مذکر وہ حساب جس سے یہ معلوم کیا جاسکے کہ کل واجب رقم میں سے کتنی وصول ہوگئی اور کتنی باقی ہے۔  
 واصل باقی نویس ۵۔ (۱۶۔ ص) ۱۔ مذکر تحصیل کا وہ عہدہ دار جو واصل باقی کا رجسٹر رکھتا ہے۔  
 واصل باقی کرنا ۱۷۔ محاورہ حساب بتانا۔ میزان نکال کر بتانا کہ واجب رقم میں سے کتنی جمع ہوگئی اور کتنی باقی ہے۔  
 واصل بخت ۱۸۔ ہونا۔ ۱۹۔ محاورہ خدا سے جاننا۔ مرعانا۔ فوت ہو جانا۔  
 واصل چہنم کرنا ۲۰۔ محاورہ دشمن کو قتل کرنا۔  
 واصلات ۲۱۔ (۱۶۔ ص) ۱۔ مذکر اصل وصول شدہ۔ حاصل کی برآمد میزان۔ وصول شدہ رقم کی میزان۔  
 واضح ۲۲۔ (۱۶۔ ص) ۱۔ صاف، ظاہر، عیاں۔ آشکارا ۲۳۔ مفصل شرح کے ساتھ ۲۴۔ صاف، جس کے پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو ۲۵۔ جلی قلم سے لکھا ہوا۔  
 واضح کرے ۲۶۔ روزمرہ، جان بول سمجھ لو۔ پوشیدہ نہ رہے۔  
 واضح کرنا ۲۷۔ محاورہ ظاہر کرنا ۲۸۔ تفصیل سے بتانا۔  
 واضح لکھنا ۲۹۔ محاورہ جلی قلم سے لکھنا۔ صاف لکھنا۔ ایسا لکھنا جو پڑھا جاسکے۔  
 واضح ہونا ۳۰۔ محاورہ ظاہر ہونا۔ صاف معلوم ہونا۔  
 واضح ہے ۳۱۔ مقولہ، صاف ظاہر ہے۔  
 واضح ۳۲۔ (۱۶۔ ص) ۱۔ صاف، بنانے والا۔ وضع کرنے والا۔ جمع واصعیین۔ واضعان۔  
 واضح قانون ۳۳۔ (۱۶۔ مذکر) قانون بنانے والا۔  
 واضحظ ۳۴۔ (۱۶۔ ص) ۱۔ صاف، وضاحت دینے والا۔ نصیحت کرنے والا۔ جمع : واصعیین۔  
 واضر ۳۵۔ (۱۶۔ ص) ۱۔ صاف، بہت کثرت سے۔ افراط سے ۲۔ علم و عروض

واک آؤٹ - (Walkout) (انگ - ۱۔ نڈ، احتجاج کے طور پر اٹھ کر چلے جانا۔

واگن - (واگن، گن، ۱۔ ق، ۱۔ مٹ) شیرینی (۲) جھگڑا اور موت۔

وال - (۱۔ صفت) والا کا مختلف۔

والا - (۱۔ ۱۔ لا، ۱۔ ۵) مرکبات میں مختلف معنوں میں آتا ہے (۱) اسم کے بعد آنے کو کہیں نہیچنے والے۔ کام کرنے والے یا پیشہ کرنے والے کے معنی دیتا ہے۔ جیسے برت والا۔ دودھ والا۔ ٹھیلے والا اور کبھی مالک کے جیسے نانو والا۔ گھر والا ۱۲۶۔ مصدر کے ساتھ آنے کو مصدر کا الف بے سے بدل جاتا ہے اور مرکب داخل کے معنی دیتا ہے جیسے پڑھنے والا۔ کرنے والا ۱۳۲۔ کبھی اکھ کے ساتھ آکر صفت بناتا ہے جیسے گھاس والا دم، کبھی نسبت کے معنی دیتا ہے جیسے لاہور والا۔ کراچی والا۔

والا - (۱۔ لا، ۱۔ فن، صفت) (۱) بلند۔ عالی۔ اونچا ۱۲۷۔ ذی عزت۔ جنگ۔ والا تبار۔ فن، صفت، عالی خاندان۔

والا جاہ - والا شان۔ والا قدر۔ والا کھر۔ فن، صفت، بلند مرتبے والا۔ بڑی شان والا۔ بلند عہدے یا نسبتے والا بڑے گھرانے کا۔ عالی خاندان۔

والا نامہ۔ دن - (۱۔ نڈ، بلند مرتبہ آدمی کا خط۔ والا نثر۔ دن - ۱۔ نڈ، اونچے گھرانے والا۔

والا نگاہ۔ دن - ۱۔ نڈ، بلند نظر رکھنے والا۔ عالی خیال۔

والا ہمت۔ دن - ۱۔ نڈ، بلند ہمت۔ حوصلہ مند۔

والد۔ (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، باپ۔ پورا۔ پتا۔

والد بزرگ وار۔ (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، قابل احترام باپ۔ پورا بزرگ۔

والدہ۔ (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، ماں۔ ماں۔ ملاز۔ ماما۔

والدین۔ (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، ماں باپ۔ ماور و پورا۔

وال ریس - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، ریس) (انگ - ۱۔ نڈ، قطب شمالی کا ایک جائز جس کے دائرہ بہت لمبے ہوتے ہیں گلفڈریٹی والی سلام۔ (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، اور سلام پہنچے۔

والنٹیر - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، خدائی قسم، ۱۔ نڈ، وہ شخص جو اپنی خوشی اور رضا سے بلا تنخواہ کوئی خدمت انجام دینے کا ذمہ لے۔ رضا کار۔

والنٹیر کور (Volunteer Corps) (انگ - ۱۔ نڈ، رضا کاروں کی ٹیم یا رسلار۔

والنڈ - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، خدائی قسم، ۱۔ نڈ، بے شک۔ یقیناً (۳) پہنچ۔ حقیقت۔

والنڈ بالنڈ - قسم میں زور پیدا کرنے کیلئے بولتے ہیں۔ دوسری قسم۔

والنڈ اعلم - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، علم، ۱۔ نڈ، تالیف فعل، خدا زیادہ جانتا ہے مجھ خبر نہیں۔ کچھ پتہ نہیں خدا جانتے خدا معلوم۔ واؤصف کا ہے۔

میں ایک بحر کا نام۔

وانی - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، پورا۔ مکمل (۲) بہت سارا۔ خاطر خواہ (۳) پُر غلوں۔ مخلص۔

واقع - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت) ہونے والا۔ پیش آنے والا۔

واقع میں - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، تالیف فعل، اصل میں۔ حقیقت میں۔

واقع ہونا - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، پیش آنا (۲) نمودار ہونا۔ برپا ہونا۔ بروئے کار آنا۔

واقعات - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، واقع کی جمع۔ حادثے واقعے۔

واقعات غیر مشتبہ - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، ایسے واقعات جن کے بارے میں شبہ دیکھا جاسکے۔ ثابت شدہ واقعات۔

واقعات نفس الامری - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، ایسی باتیں جو سچ بچ بچری ہوں اور ان میں بناوٹ نہ ہو۔

واقفہ - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، حادثہ۔ وقوعہ۔ سانحہ۔ وار دات (۲) خبر (۳) حال۔ ماجرا۔ سرگزشت۔ گہگ۔ بیٹی۔ آپ بیتی (۴) لڑائی جنگ۔ ٹڈ بھیر (۵) موت۔ انتقال (۶) وفات (۷) سختی۔ آفت۔

واقفہ دیدہ - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، وہ جس نے حادثے۔ وقوعے اور سامنے دیکھے ہوں۔ تجربہ کار آدمی۔ جنگ آزمودہ۔

واقفہ کرنا - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، وار دات کرنا۔

واقفہ نویس - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، خبریں لکھنے والا۔ حکومت کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھنے والا۔ رپورٹر۔

واقفہ نویسی - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، واقعات کا اندراج کرنا، حکومت کیلئے حالات حاضرہ کی رپورٹ تیار کرنا۔ رپورٹ نویسی۔

واقفہ ہونا - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، حادثہ پیش آنا۔ وار دات ہونا، موت ہونا۔

واقفی - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، درست۔ ٹھیک۔ پہنچ (۲) تالیف فعل) دراصل۔ حقیقت میں۔

واقفی میں - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، تالیف فعل) پہنچ رہے ہیں۔ حقیقت میں۔

واقفہ - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، شناسا۔ جان پہچان والا (۲) جاننے والا (۳) مطلع (۴) ماہر۔ تجربہ کار۔ چابک دست۔

واقفہ الحال - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، حال جاننے والا۔ راز دار۔ ہم راز۔

واقفہ کار - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، کام جاننے والا۔ تجربہ کار۔ جس کو کسی چیز سے آگاہی ہو (۲) شناسا۔ جان پہچان والا۔

واقفہ کاری - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، جان پہچان (۲) تجربہ کاری (۳) پہنچ۔ پرکھ۔ شناخت۔

واقفیت - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، حقیقت۔ حقیقت میں۔ شناسائی (۲) علم۔ آگاہی۔ خبر (۳) تجربہ کاری۔ مہارت۔ چابکدستی (۴) پہنچ۔ پرکھ۔ شناخت۔

واقفیت پیدا کرنا - (۱۔ ۱۔ لہ، ۱۔ نڈ، صفت، جان پہچان بڑھانا (۲) علم یا تجربہ حاصل کرنا۔ دسترس حاصل کرنا۔

کے لیے کہا جاتا ہے۔  
 واہ میاں کالے، خوب رنگ نکالے۔ (۱۶۔ مثل) کسی کا کردار  
 قریب ظاہر ہونے پر کہتے ہیں۔  
 واہ وا۔ واہ۔ واہ۔ (۱۷۔ کلوز تحسین) سبحان اللہ۔ شاباش۔ مرزا، ہریت  
 تعجب اور طنز کے موقع پر بھی بولتے ہیں۔  
 واہ واہ کرنا۔ (۱۸۔ محاورہ) تعریف کرنا۔ داد دینا۔ سراہنا۔  
 واہ واہ کرکٹ کا کچھ نانا شاہ (۱۹۔ مثل) اپنی یا معمولی آدمی کے  
 خرابے دکھانے کے وقت کہتے ہیں۔  
 واہ واہ مچنا (ہونا، ۱۱۔ محاورہ) نام ہونا۔ تعریف ہونا۔ دھوم مچنا۔  
 واہ واہ میاں بانگے، تیرے گلے میں سمو سوٹا گلے۔ (۱۱۔ مثل)  
 اس غریب شخص پر طنز کرتے وقت کہتے ہیں جو بے سرد سامانی میں  
 بھی پھیلا بیٹنے کی کوشش کرے۔  
 واہیب (واہیب) (۱۲۔ صفت) بخشنے والا۔ دینے والا۔ بہہ کرنے والا  
 (۱۳۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔  
 واہیب الحاحات (۱۴۔ صفت) حاجتیں پوری کرنے والا۔ مراد  
 خدائے تعالیٰ۔  
 واہیب العطا یا (۱۵۔ صفت) عطا دینے والا۔ خدائے تعالیٰ۔  
 واہیب بے منت (۱۶۔ صفت) بغیر احسان بتائے دینے والا۔  
 واہیمہ (۱۷۔ واہیمہ) (۱۸۔ واہیمہ) (۱۹۔ واہیمہ) (۲۰۔ واہیمہ) (۲۱۔ واہیمہ)  
 ایسی باریکیاں اور جزئیات معلوم ہوتی ہیں۔ جن کا تعلق محسوسات  
 سے ہے۔  
 واہی (۲۲۔ واہی) (۲۳۔ صفت) بے بودہ۔ لغو۔ بے مغز۔ فضول (۲۴)  
 آوارہ۔ ناکارہ۔ گمراہ (۲۵۔ بودا۔ کم نور۔ ناتواں۔ ضعیف۔ ناپاقت  
 دم۔ سست۔ کابل وجود۔  
 واہی تباہی (۲۶۔ صفت) فضول۔ لغو۔ بے بودہ۔ بگاڑا، آوارہ۔ دبدبہ  
 (۲۷۔ فخرت حال۔ پریشان حال دم، لپا۔ بد معاش۔ لنگھا۔  
 واہی تباہی بکنا (۲۸۔ محاورہ) بیبودہ باتیں کرنا۔ گالیاں دینا۔ فضول  
 باتیں کرنا۔  
 واہی تباہی پھرنے (۲۹۔ محاورہ) آوارہ پھرنے۔ خراب ہونے اور  
 پریشان حال پھرنے۔  
 واہی بھجنا (۳۰۔ محاورہ) لغو جانا۔  
 واہی ہو جانا (۳۱۔ محاورہ) بگڑ جانا۔ آوارگی اختیار کر لینا۔ برگرداں پھرنے  
 (۳۲۔ پاگل ہو جانا۔  
 واہی ہے (۳۳۔ بول چال) بے وقوف ہے۔ جاہل ہے۔ سوداگی ہے  
 باگل ہے۔  
 واہستات (۳۴۔ ہی۔ یا۔ ت۔ ع۔ صفت) واہی کی جمع) بے بودہ اور لغو  
 باتیں فضول باتیں، ادباشی خرافات۔  
 واٹ پاپیر (Whitepaper) (واٹ پاپیر) (۳۵۔ انگ۔ ۱۔ واٹ)  
 قریباً آبیض۔ وہ اعلان جو حکومت یا جماعت کی طرف سے اطلاع عام  
 کے لیے شائع کیا جائے۔

والد اللہ اعلم بالصواب (۳۶۔ ۱۔ مذ) خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ خدا کو  
 خوب معلوم ہے۔  
 والہ (۳۷۔ واہل) (۳۸۔ صفت) شیدا۔ فریفتہ۔ معنون۔ عاشق غارسی والوں نے  
 لام کی تیر سے بروزن لالہ استعمال کیا۔  
 والہ و شیدا (۳۹۔ ف۔ صفت) حد سے زیادہ فریفتہ بہت زیادہ شیدا۔  
 والہانہ (۴۰۔ واہل) (۴۱۔ صفت) شیطانی کے انداز سے عاشقانہ  
 انداز سے۔  
 والی (۴۲۔ واسی) (۴۳۔ صفت) والائی تائیت۔  
 والی (۴۴۔ لی) (۴۵۔ مذ) مالک۔ آقا۔ سردار۔ حاکم۔ بادشاہ (۴۶۔ دوست  
 شہتہ دار۔ حمایتی۔ مددگار (۴۷۔ مرتبی۔ سرپرست دم) محافظ۔ نگہبان۔  
 (۴۸۔ گورنر صوبے دار۔ حاکم صوبہ۔ جمع) والیان۔  
 والی ملک (۴۹۔ مذ) ملک کا حکمران۔ بادشاہ۔  
 والی وارث (۵۰۔ مذ) حمایتی مددگار (۵۱۔ پشت پناہ۔ سرپرست۔  
 وام (۵۲۔ مذ) قرض۔ ادھار۔  
 والحق (۵۳۔ جی) (۵۴۔ مذ) عرب کی معشوقہ عذرا کے عاشق کا نام۔  
 وان (۵۵۔ لاحق) (۵۶۔ صفت) صاحب۔ مالک۔ جیسے بھاگ  
 وان کوچ دان۔  
 وان (۵۷۔ لاحق) (۵۸۔ اعداد کے بعد نسبت ظاہر کرنے کیلئے جیسے پانچواں  
 آنچھواں (۵۹۔ وہاں کا مختص۔  
 وانر (۶۰۔ وانر) (۶۱۔ مذ) بند۔  
 واننی (۶۲۔ ونی) (۶۳۔ اس) (۶۴۔ وا) (۶۵۔ وا) (۶۶۔ بول۔ زبان۔ گفتگو  
 بانی (۶۷۔ تعریف ستائش  
 واؤچر (Voucher) (۶۸۔ واؤچر) (۶۹۔ انگ) (۷۰۔ بیچک فرد حساب۔  
 (۷۱۔ تصدیق ادائیگی رسید۔  
 واہی (۷۲۔ واہی) (۷۳۔ واہی) (۷۴۔ واہی) (۷۵۔ واہی) (۷۶۔ واہی)  
 یار دایمہ لفظی کے اظہار کے لیے آتے ہیں۔ ”واہی“ (انگ)  
 (Inverted Commas)  
 واہ (۷۷۔ واہ) (۷۸۔ واہ) (۷۹۔ واہ) (۸۰۔ واہ) (۸۱۔ واہ) (۸۲۔ واہ)  
 شاباش! مرحبا! کیا بات ہے! (۸۳۔ بے شک دم) طنز! کیا خوب  
 چیز خوش و حیرت یا تعجب، اسے ایسے (۸۴۔ فانسوس) ہائے (۸۵)  
 کسی کام سے انکار، کیوں؟  
 واہ پیر علیا، پکائی تھی کھیر ہو گیا دلیا (۸۶۔ مثل) بنا بنا یا کام بگڑ  
 گیا اس موقع پر کہتے ہیں جب کسی کی بددعا کی وجہ سے کام بنتے  
 بنتے بگڑ جائے۔  
 واہ رے (۸۷۔ کلمہ تعجب، تعجب۔ تعریف۔ طنز۔ نفرت اور  
 اخبار افسوس کا کلمہ۔  
 واہ رے میں (۸۸۔ کلوز تحسین) اپنے کسی فعل پر فخر کرنا۔ میرا کیا کہنا۔ میں  
 بھی بڑی چیز ہوں۔ میری کیا بات ہے۔  
 واہ کرنا (۸۹۔ محاورہ) تعریف کرنا۔  
 واہ کیا بات ہے (۹۰۔ کلمہ تعجب) واہ کیا کہنا۔ طنز اور زور صیغ







وحی مُنْتَرِل - وح ۱۔۱۔ منٹ، وہ وحی جو نازل کی گئی - مُراد  
قرآن شریف -  
وَحید - وحید، وح ۱۔۱۔ صفت، یگانہ - یکتا لسانی -  
وحید العصر (زماں) - وح ۱۔۱۔ صفت، یکتا، زمانہ - جس کا اپنے زمانے  
میں کوئی ثانی نہ ہو -

وحیدت الوجود - وحدت وجود - وح ۱۔۱۔ منٹ، دھونیوں کی اصطلاح  
میں، تمام موجودات کو خدائے تعالیٰ کا ایک وجود ماننا اور  
ماسوا کے وجود کو محض اعتباری سمجھنا -  
وحیدہ - وح ۱۔۱۔ نون، ۱۷۔ وہ اکیلا ہے - تنہا ہے -  
وحیدہ لا شریک لہ - وح ۱۔۱۔ مقلو، خدائے تعالیٰ اکیلا ہے - اس کا  
کوئی شریک نہیں -  
وحش - وح ۱۔۱۔ مذ، جنگلی جانور - جمع، وحوش -  
وحش و طیر - وح ۱۔۱۔ مذ، چوپائے اور پرندے -  
وحشت - وح ۱۔۱۔ منٹ، گھبراہٹ - سودا خفقان - دیوانگی  
جنون (۲)، حیوانیت (۳)، بدک - بھڑکنا - نامانوس ہونا - نفرت  
دہ، آواز (۱)، آواز (۲)، خوف - ڈر - ہیبت -  
وحشت اثر - وح ۱۔۱۔ ف، صفت، جس سے وحشت پیدا ہو - جو دل میں  
وحشت پیدا کرے -  
وحشت اچھلنا - ۱۷۔ مجاورہ، سودا ہونا - خفقان ہونا - جنون کا زور ہونا  
جویش جنون ہونا -  
وحشت اکیلیز - ۱۷۔ مجاورہ، وحشت پیدا کرنے والا - ڈرانا - بولناک  
بھیانک - خوفناک -  
وحشت برستا - ۱۷۔ مجاورہ، آداسی چھانا، دیوانی برستا، جنون کا اثر  
نمایاں ہونا -  
وحشت خیز - ۱۷۔ ف، صفت، وحشت بڑھانے والا - ڈرانے والا - مہیب  
وحشت زدہ - وح ۱۔۱۔ ف، صفت، (۱) گھبرایا ہوا (۲)، شبلی - جنونی -  
۱۷۔ آداس -

## د - د

دَوَاد - دو، وار، وح ۱۔۱۔ منٹ، چاہت - اُلفت - دوستی - اُفس -  
دَوَاع - دو، وار، وح ۱۔۱۔ منٹ، رخصت - روانگی (۲)، دلہن کی رخصتی  
کی رسم یا تقریب - اُردو اور فارسی والے عموماً بکسر اقل  
بولتے ہیں -  
دَوَاعی - دوا، دوا، وح ۱۔۱۔ صفت، دوا سے متعلق - رخصتی - آنری  
چلنے وقت -  
دَوْدَان - دو، دان، وح ۱۔۱۔ صفت، عالم - عقل مند - اعلیٰ  
دماغ - ذہین -  
دَوْدُو - دو، دو، وح ۱۔۱۔ صفت، دوست - چاہنے والا - شفیق (۲)، بیک بندوں  
کو دوست رکھنے والا - خدائے تعالیٰ کا ایک صفاتی نام -  
دَوْدُو - دو، دو، وح ۱۔۱۔ منٹ، بیوہ - رانڈ -  
دَوْدِیَا - دو، یا، وح ۱۔۱۔ منٹ، علم، فن، ہنر - سائنس - فلسفہ (۲)، درگا  
دیوی کا صفاتی نام -  
دَوْدِیْس - دو، دوش، وح ۱۔۱۔ مذ، بدیس - غیر ملک -  
دَوْدِیْس - دو، دوسے، شی، اس صفت - وا - مذ، بدیس - غیر ملک -  
دَوْدِیْس - دو، دی، عفت، وح ۱۔۱۔ منٹ، امانت - سُپرڈی جمع، دوا -  
دَوْدِیْس - دو، وح ۱۔۱۔ منٹ، خدا کی امانت (زندگی و جان یا  
صلاحیت -

وحشت کرنا - ۱۷۔ مجاورہ، جانوروں کی طرح بھڑکنا - دور بھاگنا -  
وحشت کی لینا - ۱۷۔ مجاورہ، وحشت کی باتیں کرنا -  
وحشت ناگ - وح ۱۔۱۔ ف، صفت، جس میں وحشت بھری ہو - خوفناک  
گھبرانے والا -  
وحشت ہوونا - ۱۷۔ مجاورہ، پریشان ہونا - گھبرانا - خفقان ہونا (۲)،  
جنون ہونا - سودا ہونا -  
وحشی - وح ۱۔۱۔ ہشی، وح ۱۔۱۔ صفت، جسے انسانوں سے وحشت ہوتی ہے  
غیر مانوس - بھڑکنے والا - مصرانی - جنگلی (۲)، غیر مہذب -  
ناتراشیدہ - اجڈ -  
وحشیانہ - وح ۱۔۱۔ صفت، وحشیوں کی طرح -  
دَوْحِش - دو، وحش، وح ۱۔۱۔ مذ، وحش کی جمع - جنگلی جانور - وحشی  
کی جمع الجمع -

## ط - ط

دَوْدِیْرَا - دو، وح ۱۔۱۔ مذ، جاگیر دار - بڑا زمیندار -

## ر - ر

دَر - دو، وح ۱۔۱۔ صفت، زبرد غالب - برتر - فائق -  
دَر رہنا - ۱۷۔ مجاورہ، زبرد رہنا - جیت جانا - بازی لے جانا -  
دَر ہونا - ۱۷۔ مجاورہ، برتر یا فائق ہونا -  
دَر - دو، وح ۱۔۱۔ صفت، آدرک کا مُتَقَف - والا - صاحب - خداوند - رکھنے والا - قبضے

دَوْحِی - دو، وحی، وح ۱۔۱۔ منٹ، خدائی پیغام - خدا کے وہ احکام یا پیغام  
جو نبیوں پر آتے تھے - کتاب الہی - عربی میں سکون دوم  
اردو میں بکسر متصل ہے -  
دَوْحِی آنا - وحی نازل ہونا - ۱۷۔ مجاورہ، خدا کے مقرب  
فرشتے جبریل کا نبیوں کے پاس خدا کے احکام اور پیغام  
لے کر آنا -

میں رکھنے والا (۲)۔ حرث ربط، واگر کا محقق۔  
 ۱۱۔ ورائے - نو۔ زراؤ۔ ورا سے، ۱۱۔ تابع فعل، پیچھے۔ پرے  
 ۱۲۔ دوسری جانب، پس پشت، دوسری طرف پیچھے کے رخ، سوا۔ ماسوا۔  
 ورا اور الورا۔ ۱۱۔ صفت، پیچھے سے پیچھے۔ دور سے دور۔ پرے سے پرے۔  
 وراثت - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ وراثت - میراث - ترکہ۔  
 وراثت نامہ - ۱۱۔ اند کسی کے وارث ہونے کی تحریر یا سند۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ وارث کے طور پر۔ بطور  
 وراثت۔  
 وراثتہ پہنچنا - (۱۱۔ محاورہ) وارث ہونے کی وجہ سے ملنا۔  
 وراثتی - (Variety) (و۔ کرا۔ اے۔ بی۔ ۱۱۔ انگ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ تنوع  
 گونا گویا۔ قسم قسم کا ہونا۔  
 وراثتی شو - (Variety Show) (انگ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ ایسا تماشہ  
 جس میں نواح گلشن کے علاوہ ورزشی کتب بھی دکھائے جائیں۔  
 رنگا رنگ پروگرام۔  
 وراثتہ اور وراثتہ - (۱۱۔ مٹ)۔ وارث کی جمع۔ وراثتہ ہونے والے۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ وارث کے لئے کا مال - ترکہ - میراث۔  
 وراثتہ پانا - (۱۱۔ محاورہ) ترکہ بطور حق حاصل کرنا۔  
 وراثتہ دار - (۱۱۔ مٹ)۔ وارث۔  
 وراثتہ میں آنا - (۱۱۔ محاورہ) ترکے میں آنا۔ مرنے والے سے حق پہنچنا۔  
 وراثتہ - (۱۱۔ مٹ)۔ گلاب کا بھول۔  
 وراثتہ - (۱۱۔ مٹ)۔ وہ کام جو درملانا نہ کیا جائے۔ معمول (۱۲)۔ وظیفہ (۱۳)۔ قرآن  
 شریف کی بار بار تلاوت۔ جمع و اعداد۔  
 وراثتہ زبان - (۱۱۔ مٹ)۔ زبان پر چڑھا ہوا۔ ازب۔  
 وراثتہ زبان ہونا - (۱۱۔ محاورہ) زبان پر چڑھا ہونا۔ ازب ہونا۔ یاد ہونا۔  
 وراثتہ کرنا - (۱۱۔ محاورہ) دہرانا۔ ازب کرنا۔ یاد کرنا۔  
 وراثتہ ہونا - (۱۱۔ محاورہ) وظیفہ ہونا۔ بروقت رہنا جاننا۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ فوجی لباس۔ یونیفارم (۱۲)۔ ڈریس۔  
 پریڈر برٹلی کے لیے بجا یا جانے والا فوجی بیگل (۱۳)۔ وہ باجا جو فوجی  
 ہارکون میں رات کے دس بجے سوجانے کے حکم کے طور پر اور صبح چار  
 بجے بگانے کے لیے جبتا ہے۔  
 وراثتہ بجانا - (۱۱۔ محاورہ) فوجی کیسپ یا شاہی عمل پر مقررہ اوقات  
 میں فزیت یا بیگل بجانا۔  
 وراثتہ بولنا - (۱۱۔ محاورہ) کسی واقعے کی خبر دینا۔ رپورٹ کرنا (۱۲)۔ تجزیوں کا  
 کوئی خاص خبر دینا۔  
 وراثتہ میجر - (انگ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ فوج کو احکام سنانے اور نوکری تقسیم  
 کرنے والا افسر۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ کسرت۔ ریاضت۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ وارث سے متعلق۔ کسرتی۔ وراثت  
 سے بنا ہوا ہدین، -  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ سپاہیوں کی قواعد (پریڈر،

۱۲)۔ وراثتہ (۱۱۔ مٹ)۔ ہلاکت کا مقام۔ ایسی زمیں جہاں راستہ نہ ہو۔  
 (۱۲)۔ وراثتہ (۱۱۔ مٹ)۔ پانی کا پتھر۔ مینور۔ گرداب۔ بھول بھلیاں۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ مٹ، پریشانی گاری۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔  
 بھولکانا (۱۲)۔ انگوٹھا (۱۳)۔ دھوکا دینا۔ ٹھگنا۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ غ۔ ۱۱۔ مٹ)۔ (۱)۔ کاغذ کا ٹکڑا یا پرچہ (۱۲)۔ وراثت  
 کا پتہ (۱۳)۔ بھول کی پتی (۱۴)۔ چاندی یا سونے کا باریک کوٹا ہوا  
 ٹکڑا (۱۵)۔ باریک اور چوڑی تراشی، کوئی کوئی چیز (۱۶)۔ تاش  
 کا پتہ - جمع، اوراق۔  
 وراثتہ آٹا کرنا - (۱۱۔ محاورہ) کسی چیز کا پتلا اور باریک تراشا کرنا۔  
 وراثتہ اتارنا - (۱۱۔ محاورہ) بن کلا غری سے وراثت برابر گھٹنا (۱۲)۔ وراثت کی  
 طرح پتلا گھٹانا یا تراشنا۔  
 وراثتہ وراثتہ - (۱۱۔ محاورہ) کاغذ کا رخ ایک رخ سے دوسرے  
 رخ کرنا (۱۲)۔ کٹنا، تیار کرنا، تبدیل کرنا۔  
 وراثتہ الخیال - (۱۱۔ مٹ)۔ بھنگ۔  
 وراثتہ پھرنانا - (۱۱۔ محاورہ) کتاب کے اوراق کا پریشان ہونا (۱۲)۔ کٹنا،  
 پھوٹ پڑنا۔ تتر بتر ہونا۔ برباد ہونا۔  
 وراثتہ داغ - (۱۱۔ مٹ)۔ وہ ہندسہ جو صفحوں کے شمار کے  
 لیے لکھے ہیں۔  
 وراثتہ ساز - (۱۱۔ مٹ)۔ صفت، چاندی یا سونے کے وراثتہ کو کام کرنے  
 والا۔ زرکوب۔  
 وراثتہ کائنات - (۱۱۔ مٹ)۔ دنیا، عالم موجودات۔  
 وراثتہ کے وراثتہ سیاہ کرنا - (۱۱۔ محاورہ) بہت زیادہ لکھنا۔  
 وراثتہ گردانی کرنا - (۱۱۔ مٹ)۔ مٹ، پرے سے بغیر وراثتہ الٹنا۔  
 پڑھنے کے نام پر وقت ضائع کرنا (۱۲)۔ کسی کتاب یا رسالے کو سرسری  
 طور پر دیکھنا۔  
 وراثتہ کل - (۱۱۔ مٹ)۔ مٹ، بھول کی پتی۔ پتھکڑی۔  
 وراثتہ لپٹنا - (۱۱۔ محاورہ) پان کی گھوڑی وغیرہ پر سونے یا چاندی کے  
 وراثتہ مٹھنا۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ مٹ)۔ کتاب کا وراثتہ (۱۲)۔ پتا (۱۳)۔ (۱)۔ وراثتہ میں بھگون  
 راستہ ہے،  
 وراثتہ سند صحیح - (۱۱۔ مٹ)۔ تصدیق ادائی رسید۔ فرد حساب۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ مٹ)۔ وراثتہ سے منسوب۔ پرت دار (۱)۔ وراثتہ عموماً  
 بھگون راستہ ہے، -  
 وراثتہ - (۱۱۔ مٹ)۔ چھڑ۔ کولہا۔ سرین۔  
 وراثتہ شاپ - (Workshop) (و۔ کرا۔ ۱۱۔ مٹ)۔ شاپ، (انگ  
 - ۱۱۔ مٹ)۔ کارخانہ۔  
 وراثتہ کمیٹی - (Working Committee)  
 مجلس عاملہ۔  
 وراثتہ - (و۔ راثت، ۱۱۔ مٹ)۔ دھوکا دینا، اس کے لئے۔ اس رخ کا۔

وزنی۔ اوزنی، ۱۶ ف۔ صفت، ۱۱، بھاری۔ بوجھل، ۲، سنجیدہ، محسوس۔  
۳، با وقعت۔

وزیر۔ اوزیر، ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، دیوان۔ مدارالمہام، منتزی، ۲، شطرنج کا ایک  
نمبر۔ جمع، اوزراد۔

وزیر اعظم۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، مرکزی حکومت کا سب سے بڑا وزیر۔ پردھان منتری  
پرائمینسٹر۔

وزیر اعلیٰ۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، صوبائی حکومت کا سب سے بڑا وزیر۔ چیف منسٹر۔

وزیر سے پیش شہر یار سے جہاں۔ ۱۷ ف۔ مثل، جیسے وزیر ویسے بادشاہ۔  
انسر اور ماتحت دونوں نالائق۔

وزیری۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ ذی، ۱۱، ان، ۱۔ صفت، وزیر کا عہدہ۔ وزارت، ۱۱، (مذ)  
پٹھانوں کے ایک قبیلے کا نام۔

وزنا کیولر۔ (Vernacular) اوزنا۔ ک۔ یو۔ ل۔ انگ۔ ۱۔ صفت،  
دلیسی، ملکی، مقامی، ۱۲، (مذ) دلیسی زبان۔

ورم۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، بیماری یا چوٹ سے جسم کے کسی حصے کا پھل  
جانا۔ سوجن۔ آنا۔

ورم آنا۔ ورم کر جانا۔ ورم ہو جانا۔ ۱۷۔ محاورہ، سوچ جانا۔ سوجن  
سب چڑھ جانا۔

ورم آ کر جانا۔ ۱۷۔ محاورہ، ورم جانا رہنا۔ سوجن جاتی رہنا۔

ورن۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، رنگ، نسل، ۱۳، لباس، ۱۱، صورت، ۱۵، قسم۔  
ورنہ۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، حرف شرط، ۱۷، اور نہیں تو۔

ورود۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، آنا۔ اندر آنا۔ وارد ہونا۔ پہنچنا۔  
ورود پانا۔ ۱۷۔ محاورہ، پہنچنا۔

ورودھ۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، مخالفت، ۱۱، مزاحمت، ۱۱، رکاوٹ، ۱۱، دشمنی  
عداوت، جھگڑا، جنگ، ۱۳، احتجاج۔

ورودھی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، ۱۱، صفت۔ ۱۱، مخالفت، دشمن۔ حریف۔  
۱۱، جھگڑا والا، ۱۳، احتجاج کرنے والا۔

ورسے۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، ۱۱، اس طرف، ۱۲، بائیں، نزدیک، قویب۔  
ورید۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، ۱۱، (مذ) گردن کی موٹی رگ۔ شہ رگ۔ جو  
رگ دھڑکتی نہ ہو۔

## وس

وسادہ۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، یکہ مسند جمع، ۱۱، وسائد۔  
وسار۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، پھیرنا، ۱۱، سانبان، ۱۱، آسانا۔

وساطت۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، وسیلہ، ذریعہ، واسطہ۔  
وساوس۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، وسواس کی جمع، ۱۱، دوسرے اندیشے۔

وسائد۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، وسائد کی جمع، ۱۱، مسندیں۔  
وسائط۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، واسطہ کی جمع، ۱۱، واسطے، ۱۲،

تعلقات، ۱۲، ذریعے۔  
وسائل۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، وسیلہ کی جمع، ۱۱، واسطے۔

وسط۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، بیچ، درمیان، قلب، مرکز، ۱۲، وہ چیز جو جسمت یا  
درجے میں درمیان ہو، ۱۳، کسی چیز کا ٹھیک بیچ جو اسے برابر کے  
دو حصوں میں تقسیم کرے، جمع، ۱۱، واسطہ۔

وسطانی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، درمیان، ۱۲، مثل کی جماعتیں۔  
وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، بیچ کا، درمیان کا، درمیانی۔

وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، اوسط کا موٹ۔ میانہ۔ اوسط درجے کا۔  
بیچ کا، ۱۱، بیچ کی انگلی۔

وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، بیچ کا، درمیان کا، درمیانی۔  
وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، اوسط کا موٹ۔ میانہ۔ اوسط درجے کا۔

وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، بیچ کا، درمیان کا، درمیانی۔  
وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، اوسط کا موٹ۔ میانہ۔ اوسط درجے کا۔

وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، بیچ کا، درمیان کا، درمیانی۔  
وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، اوسط کا موٹ۔ میانہ۔ اوسط درجے کا۔

وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، بیچ کا، درمیان کا، درمیانی۔  
وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، اوسط کا موٹ۔ میانہ۔ اوسط درجے کا۔

وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، بیچ کا، درمیان کا، درمیانی۔  
وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، اوسط کا موٹ۔ میانہ۔ اوسط درجے کا۔

وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، بیچ کا، درمیان کا، درمیانی۔  
وسطی۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، اوسط کا موٹ۔ میانہ۔ اوسط درجے کا۔

## وز

وزارت۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، وزیر کا عہدہ۔ مدارالمہامی، ۱۲،  
وزیر کا کام، ۱۳، وزیر کا دفتر، بفتح اول زیل نیکسٹر آبل۔

وزیر۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، وہ شخص جو ملاقات یا  
مہمانی کے لیے آئے۔

وزیر نوبک (Visitors Book) انگ، ۱۱، صفت، وہ چیز جس میں آنے  
والوں یا مہمانوں کے ناموں سے دستخط لگاتے ہیں۔

وزیرنگ کارڈ۔ (Vistingcard) ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، کارڈ،  
انگ، ۱۰، صفت، وہ کارڈ جس پر ملاقات کرنے والے کا نام درج  
ہوتا ہے۔

وزیر۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، وزیر کی جمع۔  
وزن۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، وزن، ۱۱، مذ، تول، ۱۱، جانچ، ۱۱، انمازہ، ۱۲، عزت، ۱۲، قدر، ۱۲،

۱۳، بوجھ، ۱۳، بار، ۱۳، مقدار، ۱۳، ۱۵، علم و عروض میں شعر کی جگہ۔  
۱۶، سنجیدگی، ۱۶، ستانت، جمع، ۱۱، اوزان۔

وزن دار۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ صفت، بوجھل، بھاری، ۱۲، با وقعت۔  
وزن رکھنا۔ وزن ہونا۔ ۱۷۔ محاورہ، ۱۱، بھاری ہونا، ۱۱، با وقعت ہونا

وزن کرنا۔ ۱۰۔ مص مرکب، تولنا، جانچنا۔  
وزنہ۔ ۱۷ ج۔ ۱۔ مذ، لوسے یا پتھر کی جی ہوئی وہ چیز جو کاغذ کو  
دبانے کے لیے اس پر رکھی جائے، پیپر ویٹ (Paper Weight)



و طیفقہ - رُو - ظنی - مذ - ج ۱ - ۱۰ - ا - مذ - روزینہ - پنشن - تنخواہ - در ماہ ۲۰  
 وہ رقم جو نادار طالب علم کو اس کے تعلیمی اخراجات کے لیے دیا  
 جائے ۲۰، مس خدمات کے سلسلے میں عطا کی ہوئی جاگہ وغیرہ وہم کوئی  
 دُعا جو روزانہ پڑھی جائے ۵۱، کسی بات کی رٹ ۲۰، وہ کام جو روزانہ  
 پابندی سے کیا جائے۔  
 و طیفقہ بھانسا - ۱ - تختہ ۱ - و طیفقہ پڑھنا -  
 و طیفقہ خوار - ۱ - ج ۱ - ف - مذ - و طیفقہ لینے والا ۲۰، پنشن پانے والا -  
 و طیفقہ کرنا - ۱۱ - محاورہ، و طیفقہ پڑھنا -

وضع داری - ۱ - ج ۱ - ف - مذ - ۱ - ۱۰ - ا - مذ - ایک دفعہ اختیار کی ہوئی وضع کو مرتے دم  
 تک نبھانا ۲۰، بائیں طرح داری جو صورتی (۳) سلیقہ - ڈھنگ - طریقہ -  
 وضع قوانین - ۱ - ج ۱ - مذ - قانون بنانا - قانون سازی کرنا -  
 وضع قطع - ۱ - ج ۱ - مذ - شکل و صورت -  
 وضع کرنا - ۱۶ - محاورہ - جو لے لینا - نبھانا کر دینا - کاٹ لینا - حساب میں  
 لکھ لینا ۲۰، اختراع کرنا - ایجاد کرنا -  
 وضع ملنا - ۱۶ - محاورہ - انداز ملنا - طرز ملنا -  
 وضع میں فرق آنا - ۱۶ - محاورہ - انداز اور عادت میں فرق آنا -  
 وضع نبھانا - ۱۶ - محاورہ - انداز اور طرز میں فرق نہ آنے دینا -  
 وضع ہونا - ۱ - محاورہ - مجرا ہونا - کٹنا - نبھانا ہونا - حساب میں لگنا - ایجاد  
 ہونا - لگنا -

و - ع

وعدہ - ۱ - و - ع - مذ - ۱ - ۱۰ - ا - مذ - اقرار - قول و قرار - عہد و پیمانہ ۲۰، ملاقات  
 کا نتیجہ ۲۰، رقم کی ادائیگی کے لیے ایک مدت مقرر کرنا ۵۰، مرنے کا  
 دن - موت کا وقت -  
 وعدہ آج پہنچنا - وعدہ آج مانا - ۱۶ - محاورہ - موت کا وقت آج مانا نہ لگا  
 ختم ہونا -  
 وعدہ ہونا کرنا - ۱۶ - محاورہ - وعدہ پورا کرنا - قول پورا کرنا -  
 وعدہ برابر آنا دہ کرنا - ۱۶ - محاورہ - زندگی کی گھٹیاں پوری ہونا - موت آنا -  
 وعدہ پر قائم رہنا - ۱۶ - محاورہ - قول پر قائم رہنا - جو کتنا اس پر قائم رہنا -  
 وعدہ ٹانٹنا - وعدہ پورا کرنے سے بچنا - چیلے حوالے کرنا -  
 وعدہ ملنا - ۱۶ - محاورہ - وعدہ پورا نہ ہونا - وعدے کی مدت گزر جانا -  
 وعدہ ٹھہرنا - ۱۶ - محاورہ - قول و قرار ہونا -  
 وعدہ خلاف دشمنی - ۱ - ج ۱ - ف - صف - جو وعدہ پورا نہ کرے  
 جو وعدے سے بچتا ہے -  
 وعدہ خلافی ، وعدہ شکنی - ۱ - ج ۱ - ف - ۱ - مذ - وعدہ نہ نبھانا - قول و  
 قرار سے بچنا -

و وضو - ۱ - و - ع - مذ - نماز کے لیے جسم کے خاص خاص اعضاء کو پانی سے دھونا -  
 وضو تازہ کرنا - ۱۶ - محاورہ - بارہنو ہوتے ہوئے بھی دوبارہ وضو کرنا -  
 وضو ٹوٹنا - ۱۶ - محاورہ - وضو چھوڑ دینا - جہالت قائم نہ کرنا -  
 وضو ٹھنڈے ہونا - وضو ڈھیلے ہونا - ۱۶ - محاورہ - بہت بہت  
 ہونا - نیت بدل جانا -  
 وضو ج - ۱ - و - ع - ج ۱ - ۱ - مذ - وضاحت - صفائی ۲۰، خوب گواہی  
 (۳) اظہار - ظہور -  
 وضیح - ۱ - و - ع - صف - کہنے - بیچ - فرومایہ -  
 وضیح و شریف - ۱ - ج ۱ - صف - ادنیٰ اور اعلیٰ کہنے اور شریف -  
 وضیہ - ۱ - و - ع - مذ - ۱ - ۱۰ - مذ - ماکی ضیافت - گئی کا کھانا (دلیہ  
 کی ضد)

و - ط

و وطن - ۱ - و - ع - مذ - پیدا ہونے اور رہنے کی جگہ ۲۰، دیس - اپنا ملک  
 جنم بھومی - جمع اوطان -  
 وطن اختیار کرنا - ۱۶ - محل مرکب، کسی ملک کا شہری بننا ۲۰، اپنے شہر کو  
 چھوڑ کر کسی اور شہر میں مستقل طور پر رہنے لگنا -  
 وطن چھوڑنا - ۱۶ - محاورہ - عزیز الوطن ہونا -  
 وطن مآلوف - ۱ - ج ۱ - ف - ۱ - مذ - وہ جگہ جہاں رہنے بسنے کی عادت ہو -  
 وہ جگہ جس سے لگاؤ اور انس ہو -  
 وطنی - ۱ - و - ع - ج ۱ - صف - ہم وطن - ایک دیس کا رہنے والا - وطن سے منسوب -  
 وطنی - ۱ - و - ع - ج ۱ - مذ - ۱ - ۱۰ - مذ - عورت سے صحبت کرنا - جماع کرنا -

و وطن - ۱ - و - ع - مذ - ۱ - ۱۰ - ا - مذ - ایک دفعہ اختیار کی ہوئی وضع کو مرتے دم  
 تک نبھانا ۲۰، بائیں طرح داری جو صورتی (۳) سلیقہ - ڈھنگ - طریقہ -  
 وضع قوانین - ۱ - ج ۱ - مذ - قانون بنانا - قانون سازی کرنا -  
 وضع قطع - ۱ - ج ۱ - مذ - شکل و صورت -  
 وضع کرنا - ۱۶ - محاورہ - جو لے لینا - نبھانا کر دینا - کاٹ لینا - حساب میں  
 لکھ لینا ۲۰، اختراع کرنا - ایجاد کرنا -  
 وضع ملنا - ۱۶ - محاورہ - انداز ملنا - طرز ملنا -  
 وضع میں فرق آنا - ۱۶ - محاورہ - انداز اور عادت میں فرق آنا -  
 وضع نبھانا - ۱۶ - محاورہ - انداز اور طرز میں فرق نہ آنے دینا -  
 وضع ہونا - ۱ - محاورہ - مجرا ہونا - کٹنا - نبھانا ہونا - حساب میں لگنا - ایجاد  
 ہونا - لگنا -

و - ظ

وظائف - رُو - ظا - بُف - ۱ - ج ۱ - ۱ - مذ - و طیفقہ کی جمع -

وَقُود - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔  
 وَقُور - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔  
 وَقِيَات - (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) وقیات ہوتے ہیں۔

## و-ق

وَقَار - (ع. ۱۔ صفت) نہایت روشن بہت چمکیلا۔  
 وَقَار - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔  
 (۱۲) قدر و منزلت۔ جاہ جلال۔

وَقَارِع - (ع. ۱۔ صفت) حملہ دھاوا۔ جنگ۔  
 وَقَالِح - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔  
 وقیح یعنی لڑائی کی خبر، کی جمع۔ جنگ  
 کی خیر۔ واقعات۔ حالات۔  
 وَقَالِح لِنَاكَ (تو نہیں)۔ (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) جنگی نامہ نگار۔ جنگی مخبر۔  
 (۲) نامہ نگار۔ اخبار نویس۔

وَقَالِح لِنَاكَ (تو نہیں)۔ (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) نامہ نگار۔ جنگی مخبر۔  
 وَقْت - (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) ساعت۔ دم۔ عرصہ۔ مدت۔ ميعاد۔ وقفہ۔  
 (۲) زمانہ۔ عہد۔ دور۔ جگ (۳) موقع۔ بہنگام (۴) موسم۔ فصل۔  
 (۵) فرصت۔ مہلت (۶) باری۔ نسبت۔ فند۔ بارہ۔ حالت۔  
 (۷) گت (۸) عمر۔ زندگی۔ حیات (۹) موت کی گھڑی (۱۰) مصیبت (۱۱)  
 وقت و دشواری جمع اوقات۔

وقت آپہنچنا۔ (۱۲) عہدہ کا وقت آجانا۔ عہدہ آپہنچنا۔  
 وقت آجانا۔ (۱۳) عہدہ کا موسم آجانا۔ وقت آجانا۔ (۱۴) مصیبت آپہنچنا۔  
 موت کا وقت آپہنچنا۔

وقت آنا۔ (۱۵) عہدہ کا وقت آجانا۔ عہدہ آپہنچنا۔  
 وقت آنا۔ (۱۶) عہدہ کا موسم آجانا۔ وقت آجانا۔ (۱۷) مصیبت آپہنچنا۔  
 موت کا وقت آپہنچنا۔

وقت بے وقت۔ (۱۸) عہدہ کا وقت آجانا۔ عہدہ آپہنچنا۔  
 وقت بے وقت۔ (۱۹) عہدہ کا موسم آجانا۔ وقت آجانا۔ (۲۰) مصیبت آپہنچنا۔  
 موت کا وقت آپہنچنا۔

وقت بے وقت۔ (۲۱) عہدہ کا وقت آجانا۔ عہدہ آپہنچنا۔  
 وقت بے وقت۔ (۲۲) عہدہ کا موسم آجانا۔ وقت آجانا۔ (۲۳) مصیبت آپہنچنا۔  
 موت کا وقت آپہنچنا۔

وقت بے وقت۔ (۲۴) عہدہ کا وقت آجانا۔ عہدہ آپہنچنا۔  
 وقت بے وقت۔ (۲۵) عہدہ کا موسم آجانا۔ وقت آجانا۔ (۲۶) مصیبت آپہنچنا۔  
 موت کا وقت آپہنچنا۔

وقت بے وقت۔ (۲۷) عہدہ کا وقت آجانا۔ عہدہ آپہنچنا۔  
 وقت بے وقت۔ (۲۸) عہدہ کا موسم آجانا۔ وقت آجانا۔ (۲۹) مصیبت آپہنچنا۔  
 موت کا وقت آپہنچنا۔

وقت بے وقت۔ (۳۰) عہدہ کا وقت آجانا۔ عہدہ آپہنچنا۔  
 وقت بے وقت۔ (۳۱) عہدہ کا موسم آجانا۔ وقت آجانا۔ (۳۲) مصیبت آپہنچنا۔  
 موت کا وقت آپہنچنا۔

نہیں مل سکتا۔  
 وعظ - (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) نصیحت جو زبان کی جائے۔ مذہبی تقریر۔ مذہبی  
 باتوں کا بیان۔

وعظ کرنا۔ (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) نصیحت کرنا۔  
 وعظ کرنا۔ (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) نصیحت کرنا۔  
 وعظ کرنا۔ (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) نصیحت کرنا۔

وعظ کرنا۔ (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) نصیحت کرنا۔  
 وعظ کرنا۔ (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) نصیحت کرنا۔  
 وعظ کرنا۔ (ع. ۱۔ مذم و فند کی جمع) نصیحت کرنا۔

## و-ع

وغا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ شور و غل۔  
 وغا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ شور و غل۔  
 وغا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ شور و غل۔

وغیرہ۔ (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ شور و غل۔  
 وغیرہ۔ (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ شور و غل۔  
 وغیرہ۔ (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ شور و غل۔

## و-ف

وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔

وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔

وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔

وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔

وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔

وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔

وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔  
 وفا - (و.ع. وق) ۱۔ مذم و فند کی جمع۔ وفا۔

وقت کی خوبی ہے۔ ۱۳۔ نسل، برسے دن آجانے کی وجہ سے پریشانی اٹھانے پڑتی ہے۔

وقت کے باوشاہ نہیں۔ ۱۶۔ نسل، بہت وسیع اختیارات کے مالک ہیں۔ ۲۱۔ (طنزاً) لا بدہا ہیں۔ بے فکرے ہیں۔

وقت کے وقت۔ ۱۶۔ تابع نسل، عین موقع پر۔ بروقت۔ ٹھیک اس وقت جب ضرورت ہو۔

وقت گزار دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، شکائے رکھنا (۲)، کام وقت پر نہ کرنا، ۳، موقع نکال دینا۔

وقت گزار جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، موقع مل جانا۔ وقت جانا رہنا۔

وقت گزار گیا بات رہ گئی۔ ۱۱۔ نسل، (وقت تو چھوڑا گیا مگر شکیبائی رہ گئی۔)

وقت گزارے پیچھے عقل آتی ہے۔ ۱۶۔ نسل، کام بگڑنے کے بعد یہی تدبیر سمجھتی ہے۔

وقت گنونا۔ ۱۱۔ مص مرکب، وقت ضائع کرنا۔ وقت کا خون کرنا۔ وقت برباد کرنا۔

وقت ملنا۔ ۱۶۔ محاورہ، فرصت ہونا، ۲، موقع ہاتھ آنا۔

وقت نازک ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، حالات اچھے نہ ہونا۔ ایسی حالت ہونا جس میں دیکھ بھال کر لینا چاہیے۔

وقت ناوقت۔ ۱۱۔ تابع نسل، بے قاعدگی سے بروقت۔ موقع بے موقع۔ وقت مقرر کیے بغیر۔ کبھی کبھی۔ گاہ بگاہ۔

وقت نکالنا۔ ۱۶۔ محاورہ، فرصت نکالنا، ۲، مصیبت یا پریشانی کے زمانے میں زندگی بچانے کی کوشش۔

وقت نکل جاتا ہے بات رہ جاتی ہے۔ وقت نہیں رہتا بات رہ جاتی ہے۔ ۱۱۔ نسل، کام تو کسی نہ کسی طرح نکل ہی جاتا ہے البتہ جو ضرورت یا مصیبت میں ساتھ نہ دے اس کی بدسلوکی یاد رہتی ہے۔

وقت نکل جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، ضرورت پوری ہو جانا۔ مصیبت حل جانا، ۲، موقع ہاتھ سے جانا رہنا۔

وقت نہ رہنا۔ ۱۶۔ محاورہ، موقع نکل جانا۔ وقت گزار جانا۔

وقت والپیس۔ ۱۱۔ ف۔ ۱۱۔ مذ، آخر وقت۔ نزع کا وقت۔ جان کنی کے لیے۔ مرتے وقت۔

وقت کاراگ اچھا ہوتا ہے۔ ۱۶۔ نسل، ہر چیز اپنے موقع و محل پر اچھی ہوتی ہے۔

وقت کاراگ ہے۔ ۱۶۔ نسل، بروقت کی ایک انگ راگنی ہے جیسا موقع ہو دیکھی بات کرنی چاہیے۔

وقت ہاتھ سے جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، موقع نکل جانا۔

وقت ہاتھ سے نہ دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، موقع نہ گنونا۔ وقت ضائع نہ کرنا۔

وقت ہو جانا ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، وقت پورا ہو جانا، ۲، موقع ہونا۔

وقتاً وقتاً۔ ۱۱۔ ف۔ ۱۱۔ مذ، وقتاً، ۲، تابع نسل، کبھی کبھی۔ گاہ بگاہ۔

وقتاً۔ ۱۱۔ ف۔ ۱۱۔ مذ، وقت کا۔ زمانے کا، ۲، عارضی۔

جانا۔ ٹھیک موقع پر آنا۔

وقت پر صاف جواب دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، ضرورت کے وقت کام نہ آنا۔ وقت پڑنے پر منہ موڑ لینا۔ موقع پر بیٹھ دیکھا جانا۔

وقت پر صاف نکل جانا۔ ۱۶۔ محاورہ، عین موقع پر قول سے پھر جانا۔

وقت پر کام آنا۔ ۱۶۔ محاورہ، ضرورت کے وقت مفید ثابت ہونا۔ وقت پڑنے پر سنا سنا دینا۔

وقت پر کھین نہ آنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مصیبت پڑنے پر کوئی تجویز کارگر نہ ہونا۔ وقت پر فنی کام نہیں آتا۔ ۱۶۔ نسل، مصیبت میں کوئی مدد نہیں کرتا۔

وقت پر گولی بجانا۔ ۱۶۔ محاورہ، موقع پر دغا دے جانا۔ مل جانا۔ حالات کی زد سے بچ جانا۔

وقت پیری شباب کی باتیں۔ ۱۶۔ نسل، بڑھاپے میں جوانی کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں، یوں معلوم دیتی ہیں جیسے کوئی خواب دیکھا تھا۔

وقت پڑنا۔ ۱۶۔ محاورہ، مصیبت پڑنا، ۲، وقت یا دشواری ہونا، ۳، ضرورت مند ہونا۔

وقت پڑنے پر کدھے کو باب بناتے ہیں۔ ۱۱۔ نسل، ضرورت یا لاچارگی کی حالت میں ادنیٰ ذبحہ کے لوگوں کی مجب خوش مدد کرنی پڑتی ہے۔

وقت پڑنے پر جانے کو میری کو مصیبت۔ ۱۶۔ نسل، یہ بات مصیبت کے موقع پر ہی معلوم ہوتی ہے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست دوست۔ دشمن کی آزمائش مصیبت کے وقت ہوتی ہے۔

وقت تاکنا (دیکھنا)۔ ۱۶۔ محاورہ، موقع کے تلاش میں رہنا۔

وقت تنگ ہونا۔ ۱۶۔ محاورہ، کوئی کام جس وقت کرنا ہو اس میں تھوڑا وقفہ رہ جانا۔

وقت ٹالنا۔ ۱۶۔ محاورہ، وقت گزاری کرنا۔ موقع ٹالنا۔

وقت ٹھیک کرنا۔ ۱۶۔ محاورہ، گھڑی کا وقت درست کرنا۔

وقت جا کر نہیں آتا۔ ۱۶۔ مقولہ، جو لمحہ گزر جاتا ہے۔ وہ پھر واپس نہیں آتا۔

وقت دینا۔ ۱۶۔ محاورہ، ملاقات یا کسی کام کے لیے وقت مقرر کرنا۔

وقت سب کچھ کرا لیتا ہے۔ ۱۶۔ مقولہ، موقع اور ضرورت کے وقت انسان کام کر لیتا ہے جو اس سے عام حالات میں نہیں ہوتا۔

وقت ضائع کرنا۔ ۱۶۔ مص مرکب، بیکار مشغلوں میں وقت برباد کرنا۔

وقت فضیلت۔ ۱۱۔ ف۔ ۱۱۔ مذ، وہ وقت جب غار پھینا نسل ہو۔

وقت کا۔ ۱۶۔ ص، زمانے کا عہد کا۔

وقت کا ہند۔ ۱۶۔ مذ، ٹھیک وقت پر کام کرنے والا۔

وقت کاٹنا۔ ۱۶۔ محاورہ، وقت گزارنا، ۲، دن پورے کرنا، ۳، دل پہلانا۔

وقت کار و نایے وقت کی سہسی سے اچھا۔ ۱۶۔ نسل، سہریات اور ہر کام اپنے موقع پر اچھا معلوم ہوتا ہے۔

وقت کو علمیت جانے۔ ۱۱۔ مقولہ، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

وقت کی بات۔ ۱۶۔ مذ، اتفاقی بات۔ شدنی امر۔

وقر - ۶-۱- (بند) پڑائی، عظمت - زندگی، عزت، کمرو - قدر و منزلت (۳)، رتبہ، مرتبہ - درجہ، پایہ - منصب، رتبہ، حلقہ، تہکنکت -  
 وقر اٹھ جاننا - ۱۶- (محاورہ) وقعت نہ رہنا، عزت جاتی رہنا۔  
 وقر پانا - ۱۶- (محاورہ) عزت حاصل کرنا - اُچھڑ پانا۔  
 وقر کھونا - ۱۶- (محاورہ) عزت گھوننا ہے، اُچھڑنا۔  
 ورس علی ہذا - (ذوق، جس - خ - تا - ہا - ذ - ا - و - ج - تابع نعل) اور اسی پر  
 قیاس کرلو۔

وقعت - (ذوق، عت، ہا - ا - مٹ، عزت، ۱- اعتبار، ساکھ -  
 وقعت کھونا - ۱۶- (محاورہ) عزت نہ رکھنا، اعتبار یا ساکھ برباد کرنا۔  
 وقف - (ع - ا - بند، ٹھہراؤ، توقف، ۲- خدا کے نام پر چھوڑی، کوئی چیز  
 جس کا کوئی مالک نہ بنایا گیا ہو - روانہ، کام کی چیز جسے ہر شخص استعمال  
 کر سکتا ہو، ۳- مسکن حروف کے بعد غیر متحرک حروف آنا جیسے "پیارا"  
 میں "ر" (۲- ۱- محض) اتنا زیادہ معروف و مشغول کہ دوسری طرف  
 توجہ نہ دے سکے، جمع، اوقاف -

وقف اولاد - وقف علی الاموال (ع - ف - ا - مذ) (وقف کی اصطلاح) وہ  
 چیز جو مالک اپنی اولاد کے لیے وقف کرے۔  
 وقف کرنا - ۱۶- (محاورہ) خدا کے نام پر چھوڑنا - روانہ، عام کے لیے چھوڑنا۔  
 وقف نامہ - (ع - ف - ا - مذ) وہ دستاویز جو وقف مال کی بابت  
 لکھی جائے۔

وقف ہونا - ۱۶- (محاورہ) خدا کے نام پر چھوڑنا، جاننا - کسی کی ملکیت نہ ہونا  
 (۲) کسی کام میں اس قدر مصروف ہونا کہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو سکتا۔  
 ہو کام کرنا کسی کا ہو جاننا۔  
 وقفہ - (ذوق، ف - ہا - مذ) ۱- مذمہ، جہلت - تھوڑی سی دیر (۲) قرآن مجید کی تلاوت  
 میں اوقاف پر رکنا۔

وقفہ دینا - ۱۶- (محاورہ) جہلت دینا، موقع دینا، فرصت دینا۔  
 وقوع - (ذوق، ع - ہا - مذ) واقع ہونا، ظہور - اظہار۔  
 وقوع جرم - (ع - ا - مذ) جرم کیا جاننا، جرم ہونا، جرم کا ارتکاب۔  
 وقوع میں آنا - (ع - ا - مذ) واقع ہونا، ظاہر ہونا، سرزد ہونا۔  
 وقوعہ - (ذوق، ہا - ہا - مذ) واقعہ، حادثہ، سانحہ، واردات، صدیہ  
 (۲) ہنگامہ (۳) ڈنگا، فساد۔

وقوف - (ذوق، ف - ہا - مذ) (بند) جاننا، علم، آگاہی - فہم، سمجھ، واقفیت  
 (۲) شعور، تمیز - سلیقہ، ۳) تجربہ - مہارت (کم) ٹھہرنا۔  
 (حاجیوں کا مقام عرفات میں)۔

وقوف پکڑنا - ۱۶- (محاورہ) عقل سیکھنا، تمیز سیکھنا، شعور پیدا کرنا۔  
 وقوف پیدا کرنا - ۱۶- (محاورہ) ہنرمند بنانا، ۲) لیاقت حاصل کرنا۔  
 وقوف دار - (ع - ف - ہا - مذ) ہنرمند، جانتے والا - سمجھنے والا، تجربہ کار۔  
 وقتنا رہنا عذاب اللہ - اے ہمارے رب ہم کو دوزخ کی آگ  
 سے بچا لے گی کی شدت سے پریشانی ظاہر کرنے کے لیے  
 قیام کہتے ہیں۔  
 وقیع - (ذوق، قیام، ۶- ع - صف، ۱- وقعت رکھنے والا - معزز، عزت دار - ذی

# ویک

عزت (۲) بلند مرتبہ - ذی وقار -  
 وقیعہ (وقیعہ) - (ع - ا - مٹ، فحاشی، دہس لڑائی - کارزار۔

وکالت - (ذوق، کالت، ۶- ع - ا - مٹ) وکیل کا کام۔ وکیل کا پیشہ۔ وکیل ہوندا  
 (۲) نیابت۔ قائم مقامی۔ کسی کا معاہدہ اس کے نمائندے کی حیثیت سے  
 پیش کرنا (۳) کسی کی طرف سے پیروی کرنا۔  
 وکالت کرنا - (۱- مص مرکب) وکیل کا پیشہ کرنا۔ وکیل کا کام کرنا کسی کی طرف  
 سے پیروی کرنا کسی کی حمایت کرنا۔  
 وکالت نامہ - (ع - ف - ا - مذ) وکیل مقرر کرنے کا تحریری اقرار نامہ، وکالت  
 کے لیے مختار نامہ۔  
 وکالت نامہ تصدیق ہونا - (۱- مص مرکب) وکالت نامے پر متعلقہ تمام  
 عدالت کے دستخط ہونا۔

وکالتا - (ذوق، کال، جن، ۱- مٹ، تابع فعل) وکیل کے ذریعے - وکیل کی معرفت  
 اصالتا کی ضد۔  
 ویکٹ - (ویکٹ، ۱- اٹنگ) وکٹ کرکٹ کے کھیل میں  
 وہ تین ڈنڈے جن کے آگے کھڑا ہو اگلاڑی بیٹے کے ذریعے اس  
 گیند کو روکتا ہے جو مخالف ٹیم کا باؤمر سامنے سے وکٹ پر مارنے  
 کے لیے پھینکتا۔

ویکٹ کیپر - (ویکٹ کیپر) - (۱- مذ) وکٹ کے پیچھے کھڑے ہو  
 کر گیند روکنے والا۔  
 وکٹ گرانا - (۱- محاورہ) وکٹ پر گیند مار کر کھلاڑی کو آؤٹ کر دینا۔  
 ویکٹوریہ - (Victoria) وکٹ، ڈوریا، (اینگ - ا - مٹ) ایک  
 قسم کی کھوڑا گاڑی۔

ویکلا - (وکلا، ۱- مذ) وکیل کی جمع۔  
 وکیل - (ذوق، کیل، ۱- ع - ا - مذ) مختار، قائم مقام، نائب۔ وہ شخص جس کے سپرد  
 اپنا کام کیا جائے (۲) سفید فاقہ والے دان (جو عدالت میں کسی ذوق کی طرف  
 سے مقدمے کی پیروی کرے اور جس کا کامی پیشہ ہو)۔

وکیل سرکار - (ع - ا - مذ) حکومت کی طرف سے مقدمے کی پیروی کرنے  
 والا وکیل۔  
 وکیل عام - (ع - ا - مذ) ایسا کارندہ جسے ہر بات کا پورا پورا اختیار  
 ہو۔ مختار عام۔  
 وکیل کرنا (کھڑا کرنا) - (۱- محاورہ) مقدمے کی پیروی کے لیے کسی  
 وکیل کو مقرر کرنا۔



## وگ

دوگ (Wig) دوگ - امت، مصنوعی بالوں کی ٹوپی۔  
 دوگر - دو گز، اف، حرف عطف، اور اگر۔  
 دوگرنا - دو گز، اف، تابع فعل، ورنہ اور اگر نہیں۔

## ول

ولا (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، محبت، الفت - دوستی۔

ولا (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، وقت - عرصہ۔

ولا (Villa) (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - گھر، دیہاتی محل یا مکان - بنگلو۔

ولادوت (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، بچ پیدا ہونا، جنم - پیدائش۔

ولایت (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، ملک، تسلیم - سلطنت - مملکت  
 بادشاہت، مملوک حکموں کے باشندوں کے لیے وہ ملک جہاں  
 کا بادشاہ ہو، کسی کام کی ذمہ داری، کفالت، مہم، ولی ہونا، سرپرست  
 ہونا، ولی کا مرتبہ۔

ولایت پانا، ۱۶، جمادہ، ولی بنا۔ ولی کا مرتبہ حاصل کرنا۔

ولایت ترا، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، وہ جس کی پیدائش ولایت میں ہوئی ہو۔

ولایت میں کیا گدھے نہیں ہوتے، ۱۶، شل، بیوقوف عقل مندوں اور  
 دانوں کے دوس میں بھی پائے جاتے ہیں۔

ولایتیہ، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، تابع فعل، از روئے ولایت - ولی ہونے کی  
 بنا پر، والی وارث ہونے کی حیثیت میں۔

ولایتی (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - ولایت کا رہنے والا (۲)، ولایت  
 کا بنا ہوا، ۱۳، جنگلی، وحش - انجان - بولی نہ سمجھنے والا (امت)  
 تلوار - شمشیر۔

ولد (و۔ لہ، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، لڑکا، فرزند، پسر، پوتہ، جمع اولاد۔

ولد الحرام (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، حرامی، حرام کا بنا۔

ولد الملک (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، حلالی، حلال کا بنا۔

ولد الرزق (و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، حرام زادہ۔

ولدیت (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، باپ کا نام، حسب نسب  
 اصل - نسل - خاندان

ولندیز (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، نیدر لینڈ، ہالینڈ، یورپ  
 کا ایک ملک۔

ولندیزی (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، نڈی، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - نیدر سے متعلق (۲)،  
 ۱۶، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - نڈی کا باشندہ۔

ولندیزی گفتگو (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، نڈی، نڈی کا باشندہ۔

ولندیزی لقمے چلتے ہیں - ۱۶، شل، لا، ابالی یا ڈپرٹی باتیں  
 کرتے ہیں۔

ولوکم (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، خوش، امنگ، بہت زیادہ شوق۔  
 ولوکم اٹھنا (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، خوش پیدا ہونا، امنگ پیدا ہونا۔  
 ولی (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، ایسا انسان جو خدا کے قریب ہو، سرپرست -  
 محافظ، مرنے، متولی، بیچ آویزا۔

ولی اللہ (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، خدا رسیدہ - مقرب بارگاہ الہی، بزرگ دین  
 ولی جائز (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، وہ شخص جسے کسی نابالغ لڑکے یا لڑکی کا ولی مقرر  
 کیا گیا ہو۔

ولی کھنکر (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، صفت، حمایتی - مددگار، سرپرست  
 ۱۶، بنا، ولی - خود سائنہ پر دست

ولی را ولی می شناسد (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، کسی آدمی کی اہلیت کو دیکھ کر شخص  
 تارا ہے جو خود اسی جیسا ہو۔

ولی عہد (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، بادشاہ وقت کا ہونے والا جانشین - وارث  
 تخت، تاج۔

ولی عہد سی (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، ولی عہد کا مرتبہ، ولی عہد رہنے کا زمانہ۔

ولی قریب (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، سرپرست۔

ولی کے گھر شیطاں (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، لائق آدمی کا نالائق بیٹا - اچھوتوں  
 کی بڑی اولاد۔

ولی نعمت (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، پرورش کرنے والا - آقا - مرنے - سرپرست۔  
 ولی نے کیا کام شیطاں کا (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، شریف آدمی نے بد سائل  
 جیسی حرکت کی۔

ولے (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، حرف استعارہ، دلیک کا مخفف - یکسی - مگر۔  
 ولے بزدلش (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، مجبوری سے کوئی کام کرنے کے موافقہ پر  
 کہتے ہیں۔

ولیک (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، کن، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - دلیک، دلیک کا مخفف اور  
 دلیک عربی دلیک اور مگر اور دلیک کا لگا ہے - لیکن - مگر۔

ولیم (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، شہادی کی ضیافت، میاہ کی دعوت، نکاح  
 کے بعد کی دعوت جو دلہا کی طرف سے دی جاتی ہے۔

ولین (Villian) (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، بد سائنش، ۲، ٹھامے میں  
 بد کردار شخص، سیر دی ضد۔

ولیتہ (و۔ ل، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، ولی عورت، وہ خاتون جو کسی نابالغ کی  
 سرپرست مقرر کی جائے۔

## ون

ون (و۔ ن، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، جمع ون۔

ونیت (و۔ ن، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، صاحب، والا - مالک، جیسے دھن و نت و دلستند،

ونڈرائنگ (Vandyke) (و۔ ن، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، ایک  
 خاص طریقہ کتابت و طبعت۔

ونڈر کمانڈر (Wing Commander) (و۔ ن، و۔ لا، و۔ لا، و۔ لا) - امت، برائی

فوج کا افسر  
وہ نہیں۔ (دون - ۱۰ میں، ۱۶، ۱۷، ان کو۔)

و - و

ووٹ - (Vote) (انگ - ۱)۔ رائے، کسی معاملے کے لیے رائے دینا، عوامی نمائندوں کے انتخاب کے لیے تحریری اظہار رائے کی پرجی رقم، رائے دہی۔  
ووٹ پڑنا (ڈالنا) - (۱۶ - محاورہ) نامزدگی کے کاغذ پر دستخط کر کے ڈالنا ڈالنا جانا،  
ووٹ دینا - (۱۶ - محاورہ) رائے دینا، کسی تجویز کے خلاف یا موافقت میں رائے دینا۔  
ووٹر - (Voter) (انگ - ۱)۔ مذم ووٹ دینے والا۔ رائے دینے والا۔  
ووٹنگ - (Voting) (ووٹنگ، انگ - ۱)۔ رائے، رائے شماری۔ رائے دہی۔

ووولٹ - (Volt) (انگ - ۱)۔ برقی قوت کی اکائی۔  
وول - (۱۶ - تابع فعل) اس طرح۔  
وول سا - (۱۶ - تابع فعل) ایسا ہی۔ اسی طرح کا رجحان سا کے مقابل استعمال ہوا کرتا تھا،  
وول کا - (۱۶ - تابع فعل) دونوں جوں کا توں۔ ویسا ہی۔  
وول ہی - (۱۶ - تابع فعل) فوراً اسی وقت۔  
وولنی - (وو - ۱)۔ کلمہ تعجب، واہ! اونی! (عورتیں کہتی ہیں)

و - و

وہ - (۱۶ - کلمہ تحسین) واہ! شاباش! (۱۶ - کلمہ افسوس) ہائے! (۱۶ - کلمہ نفرت) بوجہ۔  
وہ - (۱۶ - فن) غائب یا بید کی طرف اشارہ (۱۶) اس قدر آنا (۱۶) ایسا اس قسم کا اس درجے کا (۱۶) پہلا سا (۱۶) اچھے مرتبے کا (۱۶) پوشیدہ بر بات کی طرف اشارہ (۱۶) لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔  
وہ آٹھویں نہیں رہیں - (۱۶ - مثل) وہ پہلی سی سورت اور محبت نہیں رہی۔ وہ اندازہ طور طریقے چلتے رہے۔  
وہ اپنی خوشی کا ہے - (۱۶ - مثل) وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا۔  
وہ بات - (۱۶ - مثل) وہ مرتبہ یا عزت و احترام (۱۶) وہ کام (۱۶) وہ وقت۔  
وہ بات، ہو گئی - (۱۶ - بول چال) وہ کام ہو گیا۔ مقصد حاصل ہو گیا۔  
وہ بال کھینچوں کہ جس کی جڑ دوڑ ہو - (۱۶ - مثل) سارے عیب ظاہر کر دوں۔ جس سے کام عالیہ میں رسوائی ہو۔  
وہ جھلا مالش کیسا جس کے پاس نہیں پیسا - (۱۶ - مثل) اریسے

سے انسان شریف بن جاتا ہے۔  
وہ بھی دن ہو گا دکھڑی ہوگی (۱۶ - کلمہ تمنا) کوئی ایسا وقت بھی لے گا جب اپنا ارمان پورا ہو گا۔  
وہ بھی نہ کوزا - (۱۶ - بول چال) وہ بات بھی نہ ہوئی۔ وہ مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔

وہ بانی ملتان ہو گیا - (۱۶ - مثل) وہ موقع جاتا رہا۔  
وہ فوجی ہے - (۱۶ - بول چال) قیمت یہ ہے کہ۔  
وہ جانے اور اس کا ایمان جانے - (۱۶ - مثل) کسی چیز کو کسی کے ایمان اور نیت پر چھوڑ دینے کے موقع پر کہتے ہیں  
وہ جانے اور اس کا کام جانے - (۱۶ - مثل) کام سے سیکھ دوش ہونے یا بری الذمہ ہونے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔  
وہ جو کہا ہے - (۱۶ - تابع فعل) جیسا کہ کہا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے۔  
وہ ڈر رہا ہی چل گیا - (۱۶ - مثل) وہ معاملہ ہی ٹھنڈا پڑ گیا یا ختم ہو گیا۔  
وہ دفتر کا ڈنڈو خورد ہو گیا - (۱۶ - مثل) وہ کام ختم ہو گیا۔  
وہ دل ہی نہیں رہا - (۱۶ - محاورہ) وہ حوصلہ نہیں رہا۔ وہ طبیعت نہیں رہی۔  
وہ دن - (۱۶ - مذم) وہ وقت، وہ زمانہ۔ وہ بڑا وقت۔

وہ دن اور آج کا دن - (۱۶ - تابع فعل) اس دن سے لے کر آج تک۔  
وہ دن ڈبنا جو کھوڑی چڑھا لیتا - (۱۶ - مثل) جس دن یہ عیب دار (گنہگار) درہا بنے گا۔ وہ دن غارت ہو جائے گا۔  
وہ دن کیا تھے - (۱۶ - مقولہ) کیا اچھا زمانہ تھا۔  
وہ دن کہاں - (۱۶ - مقولہ) وہ وقت اب پیسہ نہیں۔  
وہ دن گئے - (۱۶ - مقولہ) وہ زمانہ نہیں رہا۔  
وہ دن گئے جب غلیل خاں فاتحہ اڑایا کرتے تھے - (۱۶ - مثل) اچھے دن گزر گئے۔ اب اور وقت ہے۔

وہ دن یاد کرو - (۱۶ - مقولہ) اپنی کچھ حالت کو نہ بھولو۔  
وہ دوپٹے منجھڑھا رہن پر بھاری بوجھ - (۱۶ - مثل) اپنے پیچھے زیادہ جھگڑے نہ لگاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔

وہ کاٹا - (۱۶ - کلمہ تحسین) تنگ کانٹے پر بولا جاتا ہے۔  
وہ کچھ - (۱۶ - تابع فعل) دکھنا، بہت کچھ۔  
وہ کچھ چکا - (۱۶ - مقولہ) اس سے یہ کام نہ ہو گا۔ وہ نہیں کرے گا۔  
وہ کچھ نہیں - (۱۶ - محاورہ) بہت کچھ برا بھلا کہا۔  
وہ کئی ہی نہیں جس میں تہ بندھتے تھے - (۱۶ - مثل) اب وہ بات ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوتے تھے۔

وہ کو رووں دے کر پڑھا ہے - (۱۶ - مثل) لکھنا پڑھنا بالکل ہی نہیں جانتا۔ استاد کی اچھی خدمت نہیں کی۔ اس لیے ٹھیک سے پڑھنا ہی نہیں آتا۔

وہ کون سی کشمکش ہے جس میں تیرکا نہیں - (۱۶ - مثل) ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔

وہ کیا کسی کا خدا ہے - (۱۶ - مقولہ) یعنی اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔  
وہ کیسیا گر کیسیا جو مانگے پیسا - (۱۶ - مثل) ہر منہ کو اپنا کام دوسروں

سے نہیں کروانا چاہیے (۲) دولت مند ہو کر مفلسوں کی سی حرکتیں نہیں کرنی چاہئیں۔  
 دہ مارا - ۱۱ بھڑکتھیں کسی کام میں اچانک کامیابی وقوع حاصل ہونے کے موقع پر کہتے ہیں۔  
 دہ نہیں تو اس کا بھائی اور ہسی - ۱۱ شل (کسی خاص آدمی کے دیکھنے سے کام نہ لگنا نہیں رہتا۔  
 دہ دہ - ۱۱ تابع فعل (ایسا ایسا۔

دہ باب - ۱۱ دہ - باب (ع صفت بہت بخشنے والا۔ خدائے تعالیٰ کا ایک صفاتی نام۔  
 دہ بانی - ۱۱ دہ - بانی (ع صفت ۱۱) مذ ف شیخ عبدالوہاب کے فرتے سے تعلق رکھنے والا۔ اردو میں بغیر تشدید یا مستعمل ہے۔  
 دہ تاج - ۱۱ دہ - تاج (ع صفت بہت چمکتا ہوا۔  
 دہ ارف - (Wharf) ۱۱ انگ - ۱۱ مذ (گھاٹ۔  
 دہاں - ۱۱ دہ - ہاں (۱۱) تابع فعل (میں جگہ اس مقام پر - ادھر کسی کے یہاں۔

دہاں تک گذر کر ایسے جہاں تک دوسرا رو نہ دے۔  
 دہاں تک ہنسنا ہے جو رو نہ دے (۱۱) شل ہنسی مذاق اتنا ہی لہجہ ہے جتنا ناگوار گذرے اور باعث تکلیف نہ ہو۔  
 دہاں فرشتوں کے پر چلتے ہیں - ۱۱ شل (دہاں کوئی نہیں جاسکتا دہاں جانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔  
 دہاں گردن مارے جہاں پانی نہ ملے - ۱۱ شل ایسے کو تو سنگین سزا دینا چاہیے۔ اذیت سے مارنا چاہیے۔  
 دہ سب (ع ۱۱) مذ (بخشنش - عطا - سخاوت۔  
 دہ ہسی - ۱۱ دہ - ہی (ع ۱۱) صفت (قدرت کی طرف سے دیا گیا - بخشنا ہوا۔ کسی کی ضد۔

دہ سب - (Whip) ۱۱ انگ - ۱۱ مذ (پارلیمنٹ کی کسی پارٹی کا وہ صدر جو اس کے اراکین میں تالی میل رکھتا ہے۔  
 دہلا - ۱۱ دہلا - ۱۱ دہ - لا (ع ۱۱) مذ (مرد دھاوا دار، لوثت - باری۔  
 دہلم بڑا - ۱۱ دہ - لم (ع ۱۱) مذ (مرد اور چیلے آؤ کھینچتے ہوئے۔  
 دہم (ع ۱۱) مذ (شک - گمان - احتمال - بے اعتباری (۲) دماغ کی وہ قوت جو فاسد خیالات پیدا کرتی ہے۔ جمع : دہام۔

دہم بندھنا - ۱۱ دہ - ہم (ع ۱۱) مذ (شک گزنا کسی چیز میں کوئی کمی یا خامی سمجھنا۔  
 دہم کا پتلا - ۱۱ دہ - ہم (ع ۱۱) مذ (وہ انسان جو ہر بات میں دہم کرے۔  
 دہم کرنا - ۱۱ دہ - ہم (ع ۱۱) مذ (وہ محاورہ ہے بنیاد خیال قائم کرنا۔ دوسواں کرنا۔  
 دہم کا دائرہ تو لقمان کے پاس بھی نہیں - ۱۱ شل (دہم دور کرنے کی کوئی تدبیر ممکن نہیں۔ دہم کا کوئی علاج نہیں۔  
 دہم لانا - ۱۱ دہ - ہم (ع ۱۱) مذ (وہ میں شک گزنا۔ بدگمان کرنا۔

دہمی - ۱۱ دہ - می (ع ۱۱) صفت (جو ہر بات میں دہم کرے (۲) دہم سے تعلق رکھنے والی بات۔ قیاسی خیالی میوم۔  
 دہم بھرا - ۱۱ دہ - ہم (ع ۱۱) مذ (تابع فعل) اور دہ یہ ہے اور

دہ یوں ہے۔  
 دہی - ۱۱ دہ - ہی (ع ۱۱) مذ (تابع فعل) دہ ہی (۲) اسی طرح - شل - سابق پہلے ہی جیسے طریقے سے۔  
 دہی اپنا جانے کام آئے - ۱۱ شل (جس سے فائدہ یا فیض پہنچنے اسی کو اپنا سمجھنا چاہیے۔  
 دہی بات - ۱۱ دہ - ہی (ع ۱۱) مذ (مرث) گناہ جماعت سے۔  
 دہی بات کھڑے کی لات - ۱۱ شل (بے بنیاد بات کے بارے میں کہتے ہیں۔

دہی لوگوں - ۱۱ دہ - ہی (ع ۱۱) مذ (تابع فعل) مجھے خود ہی خیال آتا ہے۔  
 دہی یں بیسی، دہی ساٹھ - ۱۱ شل (بات ایک ہی ہے چاہے جیسے کہہ لو۔  
 دہی ڈھاک کے مین بات - ۱۱ شل (مسائل جن کا ٹوں ہے معمولی مقررہ رقم سے پرکتے ہیں۔  
 دہی راگ گانا - ۱۱ دہ - ہی (ع ۱۱) مذ (مرث) گناہ جماعت سے۔  
 دہی کا سہ دہی آتش - ۱۱ شل (پہلی حالت تبدیل نہ ہونے پر کہتے ہیں دہی کتیا جس کے ابلق بال - ۱۱ شل (ناممکن اور تعجب انگیز بات۔

دہی سرے کی ایک ٹانگہ - ۱۱ شل (ایک ہی بات کی پہچ کیے جانا اپنی ہی رٹ لگانا۔  
 دہی من ہو ہی چالیس سیر - ۱۱ شل (مطلب ایک ہی ہے چاہے جیسے سمجھ لو۔  
 دہی میاں دربار کو دہی چولھا چھوکنے کو - ۱۱ شل (وہ شخص جس کو اپنے سارے چھوٹے بڑے کام خود ہی کرنے پڑیں۔  
 دہی وہ - ۱۱ دہ - ہی (ع ۱۱) مذ (تابع فعل) مختصر کے لیے مستعمل ہے۔  
 دہی ہم دہی تم - ۱۱ دہ - ہی (ع ۱۱) مذ (مرث) گناہ جماعت سے۔  
 دھیل - (Whale) ۱۱ انگ - ۱۱ مذ (مرث) گناہ جماعت سے۔  
 بہت جلد دریائی جانور۔

دہیں - ۱۱ دہ - یں (ع ۱۱) مذ (تابع فعل) اسی جگہ - اسی مقام پر (۲) اسی وقت کسی دم - اسی لمحے - فوراً۔  
 دہیں کا ہور ہونا - ۱۱ دہ - یں (ع ۱۱) مذ (مرث) گناہ جماعت سے۔  
 دیر لگانا - کہیں جا کر بیٹھ رہنا۔  
 دہیں مر رہا - ۱۱ دہ - یں (ع ۱۱) مذ (مرث) گناہ جماعت سے۔  
 کسی کے انتہار میں کہتے ہیں

دے

دے - ۱۱ دے (ع ۱۱) مذ (جمع) اب اردو میں "دہ" واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (ق)  
 دے - ۱۱ دے (ع ۱۱) مذ (جمع) اب اردو میں "دہ" واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (ق)  
 دے کو دے بدل کر "پا" سے نسبت بڑھاتے ہیں - جیسے دہلی سے دہلی۔

ویرتا۔ (ویرتا، اس - اہم) بہادری۔ شجاعت۔ جوانمردی۔  
 ویرتا۔ (ویرتا، اس - اہم) ہل کا وہ لوبا جو ہل چلتے میں زمین کھودتا ہے  
 بھالی (مص) بھالی سے کھیت کی زمین جو تباہ ہو۔  
 ویروار۔ (ویروار، اس - اہم) جمعات۔ پینشنڈ۔  
 ویزا (Visa) وی۔ (زا، انگ - اہم) پروانہ / راہداری۔  
 ویزلین (Vaseline) (انگ - اہم) ایک قسم کی چکنی نرم چیز  
 جو گرمی میں استعمال ہوتی ہے اور اعضا میں نرمی پیدا کرنے کیلئے لگاتے ہیں  
 موسمِ روغن۔

وِیسیا۔ (وِیسیا، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔ اس جیسا۔ اس قسم کا  
 اس ڈھنگ کا۔

وِیسیا کا ویسیا۔ (وِیسیا، اس - اہم) جیسا پہلے تھا۔ ویسیا ہی۔ جس کا توں۔  
 ویسیا ہی۔ (وِیسیا، اس - اہم) خاص اس قسم کا۔ اس جیسا۔ ٹھیک اسی طرح کا۔  
 ویسٹ کوٹ (Waist Coat) (انگ - اہم) کرکٹ کھیلنے والے کا  
 وائسٹ۔ (وِیسیا، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیسے لو۔ (وِیسے لو، اس - اہم) عام طور سے۔ اور لحاظ سے۔ دوسرے پہلوؤں سے۔  
 وِیسے کا ویسیا۔ (وِیسے، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیسے ہی۔ (وِیسے ہی، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔ بغیر کسی خاص مطلب یا غرض کے۔ بلاوجہ  
 وِیسے ہی۔ (وِیسے ہی، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیسی۔ (وِیسی، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔ ویسیا کی تائید۔  
 وِیش۔ (وِیش، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیشو۔ (وِیشو، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیشو۔ (وِیشو، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیشیا۔ (وِیشیا، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیکسین (Vaccine) (انگ - اہم) ایک ذہنی مادہ  
 جس کا ٹیکہ لگانے سے انسان جینک سے محفوظ رہتا ہے۔

وِیکینسی۔ (Vacancy) (انگ - اہم) (وِیکینسی، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 خالی جگہ۔ عہدہ۔ یا آسامی۔

وِیک۔ (وِیک، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیک۔ (وِیک، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیک آنا۔ (وِیک آنا، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیکن۔ (Wagon) (انگ - اہم) (وِیکن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیلر۔ (وِیلر، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیلر۔ (وِیلر، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیلر۔ (وِیلر، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیلر۔ (وِیلر، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیلکم۔ (Welcome) (انگ - اہم) (وِیلکم، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیلکم۔ (Welcome) (انگ - اہم) (وِیلکم، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیمپ۔ (Vamp) (انگ - اہم) (وِیمپ، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیمپ۔ (Vamp) (انگ - اہم) (وِیمپ، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔  
 وِیباگرن۔ (اس - اہم) (وِیباگرن، اس - اہم) صفت، اسی طرح کا۔

۵۔ (ہے) (ع۔ ا۔ مومث) اردو کا چوتیسواں۔ فارسی کا اکتیسواں۔ عربی کا سنا بیسواں اور ہندی کا نینتیسواں حرف۔ اسے ہائے تختی اور ہائے ہوز بھی کہتے ہیں۔ حساب الجبر میں اس کے پانچ عدد مقرر ہیں۔ عربی زبان کے مطابق ہر قمری حرف جس کے پہلے "ال" آئے گا تو "لام" پڑھا جائے گا جیسے الہادی۔

۱-۵

با۔ (ف۔ ا۔ سٹ) (۱) حرف کا تلفظ۔ (۲) فارسی اسموں میں علامت جمع جیسے درخت با۔ افسانہ با۔  
 ہائے تعین۔ (ف) وہ وہ وجود کا تعین ظاہر کرتی ہے جیسے دو ماہ۔  
 ہائے دویشمی (ف) وہ ہائے ہوز جس میں دو آنکھیں بنا دیتے ہیں (ح)  
 ہائے تختی (ف) وہ ہائے ہوز جو کھل کر نہ پڑھی جائے اور حرف تاج کی حرکت کو ظاہر کرے جیسے دیوانہ۔ افسانہ۔  
 ہائے موقوف (ف) وہ ہائے ہوز جو خوب کھل کر پڑھی جائے جیسے گاہ۔ راہ۔  
 با۔ (۱) کلمہ تانسف (۱) افسوس۔ حیف۔ دریغ۔ (۲) کسی امر کے روکنے اور منع کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔  
 با بوزرا۔ (با۔ بو۔ ٹرا) (۱-۵) مذ [ ایک ٹوٹ مار کرنے والی قوم۔  
 لیٹرا۔ قزاق۔ رہزن۔ بٹ مار۔  
 با بیل۔ (با۔ بیل) (ع۔ ا۔ مذ) حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے اس کے بھائی قابیل نے مار ڈالا تھا۔  
 با پیر۔ (۱-۵) مذ) پیٹو۔ بہت کھانے والا۔ (۲) کما دکا ذخیرہ۔  
 با پس۔ (۱-۵) مذ) بڑے بڑے پینکے لگانا۔  
 با ت۔ (۱-۵) مذ) عموماً نظر میں متعل ہے۔  
 با تفت۔ (با۔ تفت) (ع۔ ا۔ مذ) غیب کی آواز۔ نوائے سروش۔  
 غیب کی آواز دینے والا فرشتہ۔  
 با تفت غیب۔ با تفت غیبی۔ (ع۔ ا۔ مذ) غیب کی آواز دینے والا فرشتہ۔ سروش۔  
 با تفت۔ (۱-۵) مذ) (۱) دست۔ پنجہ۔ (۲) ہتھیلی۔ کف۔ (۳) آدھ گز کی مقدار۔ سر انگشت سے لے کر کسی تنگ کا حصہ (۴) بس۔ قابو۔ اختیار۔ قبضہ۔ (۵) باعث۔ طینل۔ وسیلہ (۶) حفاظت۔ حمایت۔ مدد (۷) وار۔ حملہ۔ چوٹ (۸) داؤل (۹) قدرت۔ طاقت۔ قوت (۱۰) معرفت۔ ذریعہ۔ (۱۱) دھوکہ۔ شرارت۔ (۱۲) تاش کے پتے جو کسی کے حصے میں آئیں۔ بازی۔

با تفت (آجانا) آنا (۱) محاورہ (۱) میسر آنا۔ دستیاب ہونا۔ ملنا۔ حاصل (۲) قبضہ ہونا۔ قابو میں آنا۔ (۳) جاننا۔ معلوم ہونا۔ دریافت ہونا  
 با تفت آنکھوں سے لگانا۔ (۱) صناعتی اور دستکاری کی تعریف کے لیے کاربرد کے ہاتھ آنکھوں سے ملنا۔ (۲) کمال تنظیم کا گمانہ۔  
 با تفت آنر جانا (آنرنا) (۱) محاورہ (۲) ہاتھ کا جوڑ لینی جگہ سے ہٹ جانا۔  
 با تفت اٹھا کر دیا دینا (۱) محاورہ (۲) پورے خلوص کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے دعا کرنا۔  
 با تفت اٹھا بیٹھنا (۱) محاورہ (۲) مار بیٹھنا۔ دست درازی کرنا۔ (۲) دست بردار ہونا۔ باز آنا۔ عمد کر لینا۔ توبہ کرنا۔  
 با تفت اٹھا اٹھا کر کوسنا۔ با تفت اٹھا کر کوسنا (۱) محاورہ (۲) آسمان کی طرف ہاتھ بڑھلے کر دعا کرنا۔ بہت بد دعائیں دینا۔  
 با تفت اٹھا کے دینا۔ (۱) محاورہ (۲) اپنی خوشی سے کوئی چیز دینا۔  
 با تفت اٹھا لینا۔ (۱) محاورہ (۲) کام چھوڑ دینا۔ دست بردار ہونا۔ (۲) کسی کی حمایت چھوڑ دینا۔  
 با تفت اٹھانا۔ (۱) ہاتھ اٹھانا کرنا۔ ہاتھ بند کرنا۔ (۲) سلام کرنا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ (۳) بڑی طرح کوسنا۔ بد دعا دینا۔ (۴) دعا دینا۔ (۵) دس مانگنا۔ (۶) ہاتھ پھینکا۔ دعا سے خیر کرنا۔ (۷) دست بردار ہونا۔ کنارہ کش ہونا۔ (۸) مارنا۔ پیٹنا۔ (۹) مایوس ہونا۔ نا امید ہونا۔  
 با تفت اُدھار۔ (۱) مذ) قرض۔ دست گرداں۔ بغیر تحریک کے قرض۔  
 با تفت اٹھانا۔ (۱) محاورہ (۲) ہاتھ کا جوڑ سے جدا کرنا۔  
 با تفت اوپر کے تلے ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) گرفتار ہونا۔ فشکیں کسی جاننا۔  
 با تفت اوٹ لینا۔ (۱) محاورہ (۲) دونوں ہاتھ اکٹھے پھینکا کوئی چیز لینا۔  
 با تفت اوچھا پڑنا۔ (۱) محاورہ (۲) پورا وار نہ بیٹھنا۔ پورا ہاتھ نہ پڑنا۔  
 با تفت اُوچھا رہنا۔ (۱) محاورہ (۲) دست بند رہنا۔ (۳) بول بالا رہنا۔ (۴) دینے کے قابل رہنا۔  
 با تفت کا اُوچھا ہونا۔ (۱) محاورہ (۲) سخی ہونا۔ آسودہ حال ہونا۔  
 با تفت اُلٹھنا۔ (۱) محاورہ (۲) ہاتھوں کا پیر پھا جو جانا۔ (۲) ہاتھ مروڑنا۔  
 با تفت باندھنا (۱) محاورہ (۲) ہاتھ بکڑنا۔ دونوں ہاتھوں کو بلا کر کسنا۔ (۲) ہاتھ جوڑنا۔ منت سماجت کرنا۔ (۳) تعظیم کے واسطے سینہ پر ہاتھ رکھنا۔  
 نمازی نیت کے ہاتھوں کو باندھ لینا۔  
 با تفت باندھنے۔ (۱) تابع فعل) دست بستہ۔ کمال مطیع و فرمانبردار۔

ہاتھ پاؤں پڑنا۔ (۱- محاورہ) منت سماجت کرنا۔ ہاتھوں کو چومنا اور قدموں پر گرنا۔

ہاتھ پاؤں (پھول جانا) پھولنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ پاؤں سوج جانا۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہنا۔ (۲) حواس باختہ ہونا۔ گھبرا جانا۔ ہکا بکا رہ جانا۔

ہاتھ پاؤں پھیلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کام بڑھانا۔ کام کو طول دینا۔ (۲) ترقی کرنا۔ (۳) غلبہ حاصل کرنا۔

ہاتھ پاؤں سپینا۔ (۱- محاورہ) بے فائدہ کوشش کرنا۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں کو شدید ضرب پہنچا کر بیکار اور نکتا کر دینا۔ (۲) حالت نزع میں ہونا۔ (۳) ڈھل پلینا (۴) خوب محنت کرنا۔ (۵) کابلی سے کام نہ کرنا۔

ہاتھ پاؤں تھکانا۔ (۱- محاورہ) بہت مشقت کرنا۔

ہاتھ پاؤں تھک کے سخت ہونا۔ (۱- محاورہ) بہت مشقت کرنے سے ہاتھ پاؤں کا شکل ہو جانا۔

ہاتھ پاؤں تھیلنا۔ (۱- محاورہ) کسی کو اتنا مارنا کہ بیکار ہو جائے۔

ہاتھ پاؤں تیار ہونا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں ٹکڑے اور فریہ ہونا۔

ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں میں درد ہونا۔ اعضا ٹکنی ہونا۔ (۲) ہاتھ پاؤں کا شکستہ ہونا۔

ہاتھ پاؤں ٹھنڈے سے پڑ جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں سرد پڑ جانا (بیماہی نامحسوس)۔

ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں میں گرمی نہ رہنا۔ مرنے کا وقت قریب ہونا۔ غشی کا عالم ہونا۔

ہاتھ پاؤں جھوٹے پڑ جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں کا بیکار ہو کر کام نہ کرنا۔

ہاتھ پاؤں چلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ پاؤں کا کام کرنا۔ کام کا ج کے قابل ہونا۔ (۲) ہاتھ پاؤں کا پھلنا نہ رہنا۔ پٹے بازی میں پھرتی کرنا (۴) کشتی یا شناوری میں تیزی کرنا۔

ہاتھ پاؤں چومنا۔ (۱- محاورہ) نہایت تعظیم و تکریم کرنا۔ ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا۔

ہاتھ پاؤں دابنا۔ (۱- محاورہ) چپٹی کرنا۔ مشقت مالی کرنا۔ خدمت گزار۔ ہاتھ پاؤں دھو کے چڑھ بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) بیکار یا بیکار ہونا۔ (۲) عورت کی آبرو لینا۔

ہاتھ پاؤں دیا سلائی بات کرنے کو فضل الہی۔ (۱- مثل) ہاتھ پاؤں میں توڑ و زریں نگر زبان خوب چلتی ہے۔

ہاتھ پاؤں رانگلا نکلا ہو جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں شل ہو کر سرد ہو جانا۔

ہاتھ پاؤں رہ جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں کلبے جس ہو جانا۔ فالج ہو جانا۔ ادھر تک ہو جانا۔

ہاتھ پاؤں سرد ہونا۔ (۱- محاورہ) بیماری، خوف یا شدت درد سے ہاتھ پاؤں کا کام نہ کرنا۔

ہاتھ باندھے کھڑا رہنا۔ (۱- محاورہ) حکم کا منتظر اور اطاعت کی واسطے تیار رہنا۔

ہاتھ بٹانا۔ (۱- محاورہ) کسی کام میں شریک ہونا۔ بل کر کام کرنا۔ مدد دینا۔ ہاتھ بٹھانا۔ (۱- محاورہ) اترے ہوئے ہاتھ کو درست کرنا۔ ہڈی کو ٹھیک جگہ پر جانا۔

ہاتھ بچانا۔ (۱- محاورہ) وار بچانا۔ ضرب نہ لگنے دینا۔

ہاتھ بڑھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ آگے کرنا۔ (۲) حد سے بڑھنا۔ (۳) ہمتوں سے زیادہ لینا۔ (۴) دخل بڑھانا۔ (۵) سوال کرنا۔ مانگنا۔ (۶) دست درازی کرنا۔

ہاتھ بکنا۔ ہاتھوں بکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کے ہاتھ فروخت ہونا۔ غلام بننا۔ (۲) بائع ہونا یا بیع ہونا۔ نوکر ہونا۔

ہاتھ بند کرنا۔ (۱- محاورہ) دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔

ہاتھ بندھ جانا۔ (۱- محاورہ) مجبور ہو جانا۔

ہاتھ بندھ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ تنگ ہونا۔ منفس ہونا۔ تنگ دست ہونا۔ (۲) ہاتھ رکا ہوا ہونا۔

ہاتھ بھر۔ (۵- صفت) (۱) ایک ہاتھ کے برابر۔ دو بالشت۔ آدھ گز۔ (۲) رکتا پتھو سا۔

ہاتھ بھر پور پڑنا۔ (۱- محاورہ) پورا وار پڑنا۔

ہاتھ بھر جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ تھک جانا۔ ہاتھ میں نمون آنا۔ ہاتھ سن ہو جانا۔ (۲) ہاتھ لہر جانا۔

ہاتھ بھر کا (دل) کلیجا ہو جانا۔ (۱- محاورہ) دل بڑھ جانا۔ ہمت بڑھ جانا۔

ہاتھ بھر کی زبان ہونا۔ (۱- محاورہ) زبان دراز اور گستاخ ہونا۔ ہاتھ بھکنا۔ (۱- محاورہ) نشانہ چوکنا۔ نشانہ خطا جانا۔

ہاتھ بھیننا۔ (۱- محاورہ) کسی کے ذریعے بھیننا۔

ہاتھ بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ جمنے۔ خوب متنی ہونا۔ (۲) کاری زخم لگنا۔ (۳) ہاتھ کے جوڑ کا ٹھیک بیٹھنا۔

ہاتھ بیچے ہیں مجھ ذات نہیں سچی۔ (۱- مثل) لوکری کی ہے۔ بڑا اجلا اور گالی گلوچ نہیں میں سنے۔

ہاتھ پانی لینا۔ (۱- محاورہ) طہارت کرنا۔ آب دست کرنا۔ پاخانہ پھرنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونا۔

ہاتھ پاؤں۔ (۱- مذ) (۱) دست و پا۔ (۲) بہت کام کرنا۔ احوال ملازم۔

ہاتھ پاؤں باندھنا۔ (۱- محاورہ) مجبور کر دینا۔ لے لے کر دینا۔

ہاتھ پاؤں بچانا۔ (۱- محاورہ) احتیاط اور ہوشیاری سے کوئی کام کرنا۔ (۲) کسی الزام یا بدنامی سے بچا رہنا۔ (۳) اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔

ہاتھ پاؤں چپائے موڈی کو (ٹرخائے) ٹر کا تھے۔ (۱- مثل) حکمت عملی سے کام لے کر دشمن کو ایذا رسانی کا موقع نہ دینا چاہئے۔

ہاتھ پاؤں بے قابو ہونا۔ (۱- محاورہ) کمزوری یا ضعف کے سبب ہاتھ پاؤں کا کام نہ کرنا۔

ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جانا۔  
 ہاتھ پاؤں سنبھالنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں نکلانا۔ خوب لٹوٹا اور  
 قدر آور ہونا۔ (۲) ہاتھ پاؤں قابو میں کرنا۔ ہاتھ پاؤں روکنا۔  
 ہاتھ پاؤں سنسانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں میں سنسانہٹ ہونا۔  
 مضمحل ہونا۔  
 ہاتھ پاؤں سے چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) جھننے سے فراغت پانا۔ جن کر  
 ندرست ہو جانا۔ نیرتیت سے بچ جانا۔  
 ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے۔ (۱- محاورہ) لبرٹ کر تھکاوٹ کو  
 دور کرنا۔  
 ہاتھ پاؤں شل ہو جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پاؤں کا تھک کر مضمحل  
 ہو جانا۔  
 ہاتھ پاؤں کا جواب دینا۔ (۱- محاورہ) بیماری یا بڑھاپے کے سبب  
 ہاتھ پاؤں کا کام نہ کرنا۔  
 ہاتھ پاؤں کہنے میں نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) ضعف کی وجہ سے ہاتھ  
 پاؤں قابو میں نہ ہونا۔  
 ہاتھ پاؤں میں کابلی اور موچھیں منہ میں جا نہیں۔ (۱- مثل) ایسے  
 سست آدمی کی نسبت بولتے ہیں جسے اپنے ہونٹوں پر سے موچھیا  
 کا بٹنا بھی بار معلوم ہو۔ ایسی سستی جس سے اپنی جان بھی سنبھالی  
 جاتے۔  
 ہاتھ پاؤں مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ پاؤں چلانا۔ (۲) مضطرب اور  
 بے قرار ہونا (۳) نزع کی حالت میں ہونا۔ جان کنی کے عالم  
 میں ہونا۔ (۴) جان فشانی کرنا۔ جان توڑ کر کوئی کام کرنا۔ کوشش  
 کرنا۔ دوڑ دھوپ کرنا۔ (۵) کسی کام میں کابل فکر کرنا۔ (۶)  
 تیزنا۔ شناورمی کرنا۔  
 ہاتھ پاؤں میں سینچر ہونا۔ (۱- محاورہ) کوشش اور محنت لایا جانا۔  
 ہاتھ پاؤں میں سینچر سے۔ (۱- محاورہ) جس کے پاس روپ پیسہ  
 نہ ٹھہرے اور جس کے پاؤں میں پھیر ہواؤں کی نسبت کہتے ہیں۔  
 ہاتھ پاؤں نکلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) تہمند ہونا۔ جوان اور موٹا ہونا۔  
 (۲) حد سے بڑھ جانا۔ شرارت شروع کرنا۔ گستاخ ہونا۔  
 ہاتھ پاؤں مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہنا۔ (۲)  
 ہمت ہارنا۔  
 ہاتھ پاؤں ہلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا (۲) کوشش  
 کرنا۔ (۳) محنت و مشقت کرنا۔  
 ہاتھ پھرتلے آنا۔ ہاتھ پھرتلے دینا۔ (۱- محاورہ) نہایت مشکل  
 اور مصیبت میں پھینسا۔ بے بس ہونا۔ مجبور و ناچار ہونا۔  
 ہاتھ پھرتلے پر نہ رکھنے دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) کھوڑے کا سوار کو پاس  
 نہ کرنے دینا۔ (۲) کسی بات پر راضی نہ ہونا۔ نہایت چالاک و شوخ  
 ہونا۔  
 ہاتھ پر۔ (۱- تابع فعل) ہاتھ کے اوپر۔ (۲) فوراً۔ اسی وقت۔

ہاتھ پر دھرا ہوا ہونا۔ (د- محاورہ) کسی چیز کا تیار اور موجود ہونا۔ ہر وقت  
 پاس رہنا۔  
 ہاتھ پر سانپ کھلانا۔ (۱- محاورہ) جان جوکھوں کا کام کرنا۔ جان کو  
 خطرے میں ڈالنا۔  
 ہاتھ پر سونا اچھالنا۔ (۱- محاورہ) امن و امان ہونا۔  
 ہاتھ پر سرسوں چھانا۔ (۱- محاورہ) مشکل کام کو فوراً انجام دینا (۲) ہلسم  
 اور شعبہ بازی کر کے دکھانا۔  
 ہاتھ پر طوطا پالنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ پر پھوٹے بھنسی یا زخم کے سبب  
 کام چھوڑ دینا۔ زخم اچھا نہ ہونے دینا۔ (۲) اپنا ہاتھ زخمی کر دینا۔  
 ہاتھ پر قرآن (دھرنا) رکھنا۔ (۱- محاورہ) قرآن کی قسم کھانا۔ حلف  
 اٹھانا۔  
 ہاتھ پر گرم پیسہ رکھنا۔ (۱- محاورہ) پہلے زمانے کی سزا۔ پیسا گرم  
 کر کے ملزم کے ہاتھ پر رکھا جاتا تھا۔  
 ہاتھ پر گنگا جلی رکھنا۔ (۱- محاورہ) گنگا کا پانی ہاتھ میں رکھ کر قسم کھانا۔  
 ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بیچارہ محض پھرنے کا بیٹھ  
 رہنا۔ (۲) بائوس اور نا امید ہو کر بیٹھنا۔  
 ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو ہاتھ سے مس کرنا۔ (۲) قول دینا۔  
 قول و قرار کرنا۔ (۳) شرط لگانا۔ بازی دینا۔  
 ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شرط پڑنا۔ (۲) قول دینا۔ عہد و  
 پیمان کرنا۔ (۳) دھوکے سے کوئی چیز ہتھیالینا۔  
 ہاتھ پڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مفت یا بے کوشش ہاتھ آنا۔ (۲) ہاتھ  
 کی ضرب لگنا۔ (۳) داؤں پڑنا۔ (۴) بس میں آنا۔ حاصل ہونا۔  
 (۵) مٹھی میں آنا۔ گرفت میں آنا۔ (۶) ہاتھ پڑنا۔ داؤں پڑنا۔  
 (۷) ہاتھ کا دفعہ مس ہونا۔  
 ہاتھ پیسہ مارنا۔ (۱- محاورہ) مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ گدائی کرنا۔  
 ہاتھ پیسہ سے جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ پیسہ سے ہوتے جانا۔ (۲)  
 دینا سے خالی ہاتھ جانا۔  
 ہاتھ پکڑا دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کو کسی کی حفاظت میں دے  
 دینا۔ (۲) کسی عورت کی شادی کر دینا۔  
 ہاتھ پکڑ کے پہنچا پکڑنا۔ (۱- محاورہ) تنخواہ ساسا سہارا پا کر زیادہ کا  
 طالب ہونا۔  
 ہاتھ پکڑنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ تھامنا۔ ہاتھ میں ہاتھ لینا۔ (۲)  
 دست گیری کرنا۔ مدد کرنا۔  
 ہاتھ پکڑ کے لے جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) گرفتار کر کے لے جانا۔ مانوڈ  
 کر کے لے جانا۔ (۲) ہاتھ تھام کے لے جانا۔ (۳) رہنمائی کرنا۔  
 ہاتھ پکڑے کی لاج ہونا۔ (۱- محاورہ) ایک دفعہ جس کی مدد کرنا  
 ہمیشہ اس کی مدد کرتے جانا۔ ہمیشہ مہربانی کرتے جانا۔  
 ہاتھ پورا پڑنا۔ (۱- محاورہ) بھر پور ہاتھ بیٹھنا۔ کاری ضرب پڑنا۔  
 زور کا ہاتھ بیٹھنا۔

ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) دست رس ہونا۔ رسائی ہونا۔  
ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) سردی کی شدت سے ہاتھوں میں شکاف پڑ جانا۔  
ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) ۱) دست مالی کرنا۔ چمکانا۔ پیار کرنا۔ (۲) ٹوٹنا۔ ٹھگنا۔ ٹوسنا۔ (۳) مساس کرنا۔ بوس و کنار۔  
ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) قرض۔ (۲) قرض دینا۔  
ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) دست سوال دراز کرنا۔ مانگنا۔  
ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) ۱) ہاتھ چلانا۔ ہاتھوں کا وار کرنا۔ (۲) ہاتھوں کو گردش دینا۔ پیکر دینا۔ (۳) ٹوٹنا۔ ٹوسنا۔ ہاتھ مارنا۔ (۴) جلد جلد کھانا بڑے بڑے نوالے اُتارنا۔ (۵) اپنے بازی کرنا۔ تلوار اور پتے کے ہاتھ ہلانا۔  
ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) غریبوں کی طرح بیاہ کر دینا۔  
ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) کسی کا محتاج ہونا۔ دست نگر ہونا۔  
ہاتھ پھینچنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو گرم پیل میں ڈال کر تزل دینا۔ اگلے زلزلے کی ایک سیدیں سنا۔  
ہاتھ تلے۔ (تابع فعل)۔ (۱) ماتحت۔ (۲) قبضے میں۔ قابو میں۔ (۳) قریب۔ نزدیک۔ پاس۔  
ہاتھ تنگ ہونا۔ (۱- محاورہ) مفلس ہونا۔ ناوار ہونا۔  
ہاتھ توڑ توڑ کے کھانا۔ (۱- محاورہ) مزید اچیز کو کھا کر ہاتھوں کو چاٹنا۔  
ہاتھ تھامنا۔ (۱- محاورہ) گرتے ہوئے کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ (۲) ہاتھ میں ہاتھ لینا۔  
ہاتھ تھمنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ چھونا۔ (۲) ہاتھ کا پینا۔  
ہاتھ تھمنا۔ (۱- محاورہ) ۱) ہاتھوں کی طرح ہاتھوں کو حرکت دینے رہنا۔  
ہاتھ تھمنا۔ (۱- محاورہ) بے بس ہونا۔ مجبور ہونا۔ ناچار ہونا۔  
ہاتھ ٹوٹیں۔ (ذماتے بد) خدا کرے ہاتھ کام کے نہ رہیں۔  
ہاتھ ٹھنڈی میں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) خوشامد کرنا۔  
ہاتھ ٹھنڈا۔ (۱- محاورہ) سردی کی وجہ سے ہاتھوں کا سخت سرد ہوجانا۔  
ہاتھ ٹھنڈا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ روکنا۔  
ہاتھ ٹھنڈا۔ (۱- محاورہ) کسی کام کی مشق ہونا۔  
ہاتھ ٹھیک کے اٹھنا۔ (۱- محاورہ) ضعف یا بڑھاپے کے باعث ہاتھوں پر زور دے کے کھڑے ہونا۔  
ہاتھ چڑھنا۔ (۱- محاورہ) ۱) وار کرنا۔ (۲) عقیدہ ماننا۔ دھب رسید کرنا۔  
ہاتھ (جگ) دل پر رکھنا۔ (۱- محاورہ) کمال بے قراری کا اظہار۔  
ہاتھ چرنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ بیٹھنا۔ مشق ہوجانا۔  
ہاتھ چوڑ دینا۔ (۱- محاورہ) ہر مان لینا۔ معافی مانگنا۔  
ہاتھ چوڑ کر کھڑا ہوجانا۔ (۱- محاورہ) دست بستہ کھڑا ہوجانا۔

ہاتھ چوڑ کر کہنا۔ (۱- محاورہ) منت و سماجت سے کہنا۔ نہایت ادب اور تعظیم سے گزارش کرنا۔  
ہاتھ چوڑنا۔ (۱- محاورہ) منت و سماجت کرنا۔ التجا کرنا۔ (۲) معافی مانگنا۔ توبہ کرنا۔ (۳) دور سے ہی سلام کرنا۔ پناہ مانگنا۔  
ہاتھ چھوڑاٹھنے۔ (۱- محاورہ) سب کچھ ہار کر اٹھ کھڑے ہونے۔ مفلس و نادار ہونے۔  
ہاتھ چھوڑنے کے جانا۔ (۱- محاورہ) خالی ہاتھ جانا۔  
ہاتھ چھوڑنے کے کھڑے ہوجانا۔ (۱- محاورہ) اپنے پاس کچھ باقی نہ رکھنا۔ سب کچھ خرچ کر ڈالنا۔  
ہاتھ چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) ۱) ہاتھ کو جھٹکا دینا۔ (۲) ہاتھ خالی کرنا۔ (۳) ہاتھ مارنا۔ ضرب لگانا۔ وار کرنا۔ (۴) دست بردار ہونا۔ چھوڑنا۔  
ہاتھ چھٹکنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو جھٹکا دینا۔ کسی کے ہاتھ کو اپنے جسم سے جھینکے کے ساتھ ہٹانا۔ پھیرانا۔  
ہاتھ چھلانے آنا۔ (۱- محاورہ) خالی ہاتھ آنا۔ کچھ نہ لانا۔  
ہاتھ چھلانا۔ (۱- محاورہ) چلنے میں ہاتھ ہلانا۔ ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔  
ہاتھ چھلانی۔ (۱- صفت) ۱) وہ روپیہ جو راہزن لوگ اپنی سرحد سے گزرنے کے لیے مسافروں سے لیتے تھے۔ (۲) وہ نقدی جو کہ زمیندار یا ملازمان سرکار راہ میں مسافروں سے لیتے تھے۔  
ہاتھ چھوٹا پڑنا۔ (۱- محاورہ) وار خالی جانا۔ نشانے پر نہ بیٹھنا۔  
ہاتھ چھوٹا کرنا۔ (۱- محاورہ) کسی قدر کھانا۔ منہ چھٹالنا۔ اٹس کرنا۔ (۲) ایسا وار کرنا جو کافی نہ ہو۔  
ہاتھ چھوٹا ہوجانا۔ (۱- محاورہ) ۱) ہاتھ بیکار ہوجانا۔ کسی صدمے سے ہاتھ کا زور نہ کھا سنا۔ (۲) ہاتھ سُن ہو کر کام کے لائق نہ رہنا۔  
ہاتھ چھوٹا جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ لٹک پڑنا۔ ہاتھ کا جوڑے جدا ہونے لگنے لگنا۔  
ہاتھ چالاک۔ (۱- صفت) ۱) تیز دست۔ پھرنیلا۔ چابک دست۔ (۲) چور۔ اچکا۔ وہ شخص جسے چوری کا لپکا ہو۔  
ہاتھ چالاکھی۔ (۱- صفت) ۱) پھرنی۔ تیز دستی۔ چابک دستی۔ (۲) چوری کی عادت چوری۔  
ہاتھ چڑھا ہونا۔ (۱- محاورہ) خوب مشق ہونا۔ ہاتھ رواں ہونا۔  
ہاتھ چڑھنا۔ (۱- محاورہ) دست یاب ہونا۔ ہاتھ لگنا۔ ہلنا۔  
ہاتھ چھلانا۔ (۱- محاورہ) ۱) دست درازی کرنا۔ مارنے کو ہاتھ بڑھانا۔ (۲) چوری کرنا۔ چڑانا۔ (۳) ہاتھ ہلائے جانا۔ ہاتھ پھیلنا نہ رکھنا (۴) ہاتھ سے جلدی جلدی کام کرنا۔ (۵) وار کرنا۔  
ہاتھ چیلنا۔ (۱- محاورہ) ۱) خاطر خواہ آمدنی ہونا۔ فراغ مالی ہونا۔ (۲) ہاتھ کا مشاق ہونا۔ (۳) دست درازی ہونا۔ مارنے کو ہاتھ اٹھانا (۴) ہاتھ کا بھلا نہ رہنا۔  
ہاتھ چھوٹا ہوجانا۔ (۱- محاورہ) بے دھوک مار بیٹھنے کی عادت ہونا۔



ہاتھ دے دے مارنا۔ (۱۔ محاورہ) غصہ یا مزاج کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو متواتر ٹپکنا۔  
ہاتھ دیکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نبض دیکھنا۔ (۲) دست نگر ہونا۔ کسی کی جستجو کا منظر ہونا۔ (۳) کسی کی قسمت کا حال ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتانا۔

ہاتھ دینا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) مصافحہ کرنا۔ ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ (۲) داد دینا۔ (۳) قول دینا۔ (۴) زبان دینا۔ (۵) گل کرنا۔ بگھپنا۔ (۶) مدد دینا۔ سہارا دینا۔ (۷) دکاندار کا نعلے کو اوپر نیچے کر دینا۔ (۸) کسی چیز کو قبول کرنا۔ (۹) چمپک کے دانوں کا مہربا جانا۔ (۱۰) چابک سوار کا پڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر سودا کرنا۔ (۱۱) دکان داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنا۔ (۱۲) چالاکی کرنا۔ (۱۳) حوالے کرنا۔

ہاتھ ڈالنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز میں ہاتھ ڈالنا۔ ہاتھ داخل کرنا۔ (۲) دخل دینا۔ کام میں پڑنا۔ کوئی کام اپنے ذمے لینا۔ (۳) دست درازی کرنا۔ پھیلنا۔ (۴) ٹوٹنا۔ غارتگری کرنا۔ (۵) ہاتھ لگانا۔ پس کرنا۔ (۶) کسی کام کو شروع کرنا۔ (۷) پڑنا۔ پکڑنے کا ارادہ کرنا۔ ہاتھ ڈالو گڑھ نکالو۔ (۱۔ امثال) محنت کرو مرنے سے بچنا۔

ہاتھ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی کام کے کرنے سے بچنا۔ (۲) وار بچنا۔ ہاتھ رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ دھرنا۔ (۲) ہاتھ سے کسی چیز کا منہ بند رکھنا۔ روکنا۔ ختمنا۔ (۳) قسم کھانا کسی عزیز سے ہاتھ رکھ کر۔ (۴) مدد کرنا۔ سہارا دینا۔ (۵) ہاتھ سے چھوٹنا۔ (۶) بچانا۔ حفاظت کرنا۔ (۷) تسلی دینا۔ (۸) سلام کرنا۔ (۹) چمپ کرنا۔ بات نہ کرنے دینا۔ (۱۰) تعظیم کرنا (چھاتی پر)

ہاتھ لگنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھوں میں ہندی لگانا۔ کسی شے سے ہاتھوں کو رنگین کرنا۔ (۲) مال مارنا۔ رشوت لینا۔ مٹھی گرم کرنا۔ ہاتھ رواں کرنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کسی کام کی ہاتھ سے مشق کرنا۔ ہاتھ صاف کرنا۔ (۲) مارنا۔ قتل کرنا۔

ہاتھ رواں ہونا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ کا مشتاق ہونا۔ خوب ہاتھ چلنا۔ ہاتھ روکنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) کفایت شعاری کرنا۔ کم خرچ کرنا۔ (۲) باز رہنا۔ دست کش ہونا۔ (۳) وار روکنا۔ وار بچانا۔ ہاتھ رہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ تھک جانا۔ ہاتھ شل ہو جانا۔ ہاتھ زیر زخم زراں رہنا۔ (۱۔ محاورہ) ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رہنا۔ سوچ میں رہنا۔

ہاتھ سادھنا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ صاف کرنا۔ مشق کرنا۔ ہاتھ سناٹا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ بھڑنا۔ ہاتھ آلودہ کرنا۔ ہاتھ سر پر پھیرنا۔ (۱۔ محاورہ) شفقت سے کہت دست کسی کے سر پر پھیرنا۔

ہاتھ سر پر دھر کے رونا۔ (۱۔ محاورہ) سر پکڑ کے رونا۔ بہت افسوس کرنا۔ بہت پھپھانا۔

ہاتھ چلے نہ ہتیاں بٹھیا دے گتیاں۔ (۱۔ امثال) کام کاج ہو یا نہ ہو خدا ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔ خدا اپا بچوں کو گھر بیٹھے رزق پہنچاتا ہے۔ ہاتھ چمکانا۔ (۱) عورتوں کا ہاتھ چمکانا نہیں کرنا۔ طعن و تشنیع کے وقت ہاتھ مٹکانا۔ سرکہ جھنگ میں تلوار کا ہلانا۔

ہاتھ چومنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) تعظیم یا پیار سے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ دست بوس ہونا۔ (۲) کمال یا ہنرمندی داد دینا۔ ہاتھ چھوٹا ہونا۔ (۱۔ محاورہ) بے دھڑک مار دینے کی عادت ہو جانا۔ ہاتھ حمال رکھنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز کو ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھنا کہ ہاتھ اتر دگر وہیں۔

ہاتھ خالی جانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) وار خالی جانا۔ نشانہ نہ بیٹھنا۔ (۲) پاس نہ پڑنا۔ (۳) حساب مراد نہ پڑنا۔ (۳) دینا سے نامراد جانا۔ ہاتھ خالی دینا۔ (۱۔ محاورہ) حریت کی ضرب کو پڑنے نہ دینا۔ دشمن کا وار نہ کر دینا۔

ہاتھ خالی رہنا۔ (۱۔ محاورہ) روپیہ پیسہ پاس نہ ہونا۔ ہاتھ خرچ سے تنگ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) خرچ پاس نہ ہونا۔ ہاتھ خالی نہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) فرصت نہ ہونا۔

ہاتھ خشک ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ کا سٹوٹھ جانا۔ ایک عارضہ جس سے ہاتھ خشک ہو کر بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔

ہاتھ دانستوں سے کاٹنا۔ (۱۔ محاورہ) بے حد پھینکانا۔ اپنی غلطی پر رنج غصہ کرنا۔

ہاتھ دراڑ کرنا۔ (۱۔ محاورہ) ہاتھ بڑھانا۔ ہاتھ آگے کرنا۔ ہاتھ پھیلانا۔

دست درازی کرنا۔ مارنا۔ پٹینا۔ ہاتھ دکھانا۔ (۱۔ محاورہ) نبض دکھانا۔ (۲) بخومی کو ہاتھ دکھا کر آئندہ کا حال دریافت کرنا۔ (۳) سپہ گری کے کزنب دکھانا۔

ہاتھ دوڑانا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) ہاتھ پھلانا۔ کام میں تیزی اور چستی دکھانا۔ (۲) ہاتھ بڑھانا۔ پکڑنے کی کوشش کرنا۔

ہاتھ دھرنا۔ (۱۔ محاورہ) کسی چیز پر ہاتھ رکھنا۔ (۲) روکنا۔ پکڑنا۔ قابو کرنا۔ (۳) کسی کی حمایت یا مدد کرنا۔ (۴) منع کرنا۔ خاموش کرنا۔ ہاتھ دھلانا۔ (۱۔ محاورہ) کسی دوسرے کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا۔ (۲) شادی کے روز رسم کے طور پر دو لہما یا دلہن کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا۔

ہاتھ دھلانی۔ (۱۔ مرث) ہاتھ دھلانے کا انعام جو دو لہما سے لیا جاتا ہے۔

ہاتھ دھو بیٹھنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) نا اُمید ہونا۔ مایوس ہو جانا۔ کھو بیٹھنا۔ چھوڑ دینا۔ (۲) قطع تعلق کر دینا۔ دست بردار ہونا۔

ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) سارے کام چھوڑ کر ایک کام کے سر ہونا۔ (۲) درپے آزار ہونا۔

ہاتھ دھونا۔ (۱۔ محاورہ) (۱) پانی سے ہاتھ صاف کرنا۔ (۲) طہارت کرنا۔ (۳) آس توڑ بیٹھنا۔

ہاتھ سر پر رکھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حمایت کرنا۔ مرتی بننا۔ مددگار بننا۔  
(۲) پیار کرنا (۳) کسی کے سر کی قسم کھانا۔ (۴) سدام کرنا۔ ہاتھ پر  
ہاتھ رکھنا۔

ہاتھ سر کاٹنا (۱- محاورہ) آہستہ سے ہاتھ ہٹانا۔  
ہاتھ سپیشا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ کبیرنا۔ ہاتھ بند کرنا۔ (۲) دینے سے  
ہاتھ روکنا۔ بخشش بند کرنا۔  
ہاتھ سن ہو جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کا کام نہ دے سکا۔ ہاتھ میں خون کی  
روانی بند ہو جانا۔

ہاتھ سے۔ (تابع فعل) (۱) ذریعے سے۔ (۲) سبب سے (۳) ذات  
سے۔ دم سے۔ (۴) قابو سے۔ گرفت سے۔  
ہاتھ سے بچنا۔ (۱- محاورہ) سلامت رہنا۔ زندہ رہنا۔  
ہاتھ سے ہینگ آنا۔ (۱- محاورہ) کسی کے افعال اور شرارتوں سے  
عاجز آنا۔

ہاتھ سے جانا رہنا۔ (۱- محاورہ) (۱) قابو سے نکل جانا۔ بس میں نہ رہنا۔  
(۲) آپے سے باہر ہو جانا۔ خود رفتہ ہو جانا۔ (۳) مرجانا۔ انتقال  
کر جانا۔

ہاتھ سے چھوٹنا۔ (۱- محاورہ) قابو سے نکل جانا۔ گرفت سے نکلنا۔  
ہاتھ سے دل چھیلنا (جانا) (۱- محاورہ) عاشق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔  
ہاتھ سے دے بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کھو بیٹھنا۔ گنوا دینا۔ ضائع  
کرنا۔ (۲) قابو میں نہ رکھنا۔ قبضہ چھوڑ بیٹھنا۔  
ہاتھ سے دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) بخشنا۔ دینا۔ عطا کرنا۔ (۲) چھوڑنا۔ ترک  
کرنا۔ قبضہ چھوڑنا۔ (۳) ضائع کرنا۔ کھونا۔  
ہاتھ سے سلام لہینا۔ (۱- محاورہ) سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے  
سے دینا۔

ہاتھ سے کام نکلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کام کا تجربہ ہونا۔ کوئی کام ہاتھ  
سے کیا جانا۔ (۲) کسی کام کا قبضہ سے نکلنا۔ (۳) کسی کے ذریعے سے  
کوئی کام پورا ہونا۔

ہاتھ سے کھونا۔ (۱- محاورہ) کسی چیز کا اپنے پاس سے نکل جانا (۲) ہمتی  
چیز نہ لینا۔

ہاتھ سے نالان ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی سے بہت تنگ ہونا  
ہاتھ سے نکلنا۔ (۱- محاورہ) قابو سے باہر ہونا۔

ہاتھ سے نہ دینا۔ (۱- محاورہ) قابو سے نہ نکلنے دینا۔  
ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ (۱- محاورہ) مصافحہ کرنا۔ (۲) پتھر کشتی کرنا۔ ہاتھ  
سے ہاتھ پکڑ کر زور دینا۔ (۳) پہلو انوں کا کشتی سے پہلے آپس  
میں ہاتھ ملانا۔

ہاتھ سے ہاتھ ملنا۔ (۱- محاورہ) افسوس کرنا۔ پچھتانا۔  
ہاتھ سیدھا مارنا۔ (۱- محاورہ) سیدھا وار کرنا۔

ہاتھ شغل ہو جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ تنگ جانا۔ ہاتھ کا کام کرنے  
کے قابل نہ رہنا۔

ہاتھ صاف کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) مشق کرنا۔ ہاتھ سے کوئی کام نکلنا  
ہاتھ رواں کرنا۔ (۲) خط سنوارنا۔ مشق کرنا۔ (۳) ہاتھ دھونا۔ ہاتھ  
پاک کرنا۔ (۴) ہاتھ مارنا۔ قتل کرنا۔ ہلاک کرنا۔ (۵) غارت کرنا۔  
ٹوٹنا۔ (۶) تخریب کرنا۔ اڑانا۔

ہاتھ طوق کمر ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالنا۔  
ہاتھ طوق کلو کرنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ میں گلے میں ڈالنا۔  
ہاتھ قبضے پر ڈالنا۔ (۱- محاورہ) تلوار سونقنا۔ تلوار کھینچنا۔ قتل کرنے کا  
ارادہ کرنا۔ آمادہ قتل ہونا۔

ہاتھ قلم کرنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کاٹنا۔ ہاتھ اڑانا۔  
ہاتھ کا۔ (۱- صفت) (۱) اپنا۔ خود کا (۲) ہاتھ کا دیا ہوا۔ ہاتھ کا بنا ہوا۔  
ہاتھ کا لکھا ہوا۔

ہاتھ کاٹ دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ قلم کر دینا (۲) تخریبی اقرار لے لینا۔  
دستاویز لے لینا۔ (۳) بے اختیار کر دینا۔

ہاتھ کاٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ قلم کرنا (۲) افسوس کرنا۔ پچھتانا۔ (۳)  
نہایت غصے میں اپنے ہاتھوں کو دانٹوں میں پکڑنا۔  
ہاتھ کا چھوٹنا۔ (۱- صفت) (۱) دہندہ۔ جو لے کر نہ دے۔ بد معاملہ۔ خائن۔

ہاتھ کا چالاک ہونا۔ (۱- محاورہ) دست دراز ہونا۔ مشاق ہونا۔

ہاتھ کا چوبہا بل میں بیٹھنا۔ (۱- مثل) جو پاس تھا وہ بھی گنوا دیا۔  
ہاتھ کا دینا پیر بسانا۔ (۱- محاورہ) فرض سے کہ دشمنی پیدا کرنا۔

ہاتھ کا دیا۔ (۱- مذ) وان۔ پن۔ نیہارت۔ سخاوت۔ بخشش۔  
ہاتھ کا دیا آڑے آوے۔ (۱- مثل) کسی وقت کی نیہارت کام آ  
جاتی ہے۔ نیہارت ہی مصیبت کی روک تھام کرتی ہے۔

ہاتھ کا دیا سا ہاتھ چلے گا۔ (۱- مثل) فقیروں کی صدائے نیہارت گن ہوں گی  
بخشش کا سبب بنے گی۔

ہاتھ کا دیا سا ہاتھ کھانے لگا۔ (۱- مثل) کینے آدمی بھی برابر ہی آدمی  
کرنے لگے۔

ہاتھ کا سٹیجا۔ (۱- صفت) دیانت دار خوش معاملہ۔ ساکھ والا۔ لیسن

ہاتھ کا کھرا۔ (۱- مذ) (۱) بیل کھیل جو ہاتھ سے اترے (۲) بے اصل  
ہاتھ کا بیل۔ (۳) مجازاً روپیہ پیسہ۔ مال و زر۔

ہاتھ کا کھانے سے نکلنا۔ (۱- صفت) جس کے پاس کوئی زیور نہ ہو۔ جس  
نے کوئی زیور نہ پہنا ہوا ہو۔

ہاتھ کا پینا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ میں رعشہ آنا۔ ہاتھ تھرا نا۔  
ہاتھ کا نول پر رکھنا۔ (۱- محاورہ) بالکل لاعلمی نظر ہر کرنا۔ نا آشنائی اور  
ناواقفیت نظر ہر کرنا۔

ہاتھ کٹ جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ میں زخم آ جانا (۲) ہاتھ قلم ہو جانا۔  
(۳) اپنے ہاتھ کی تھری دے دینا

ہاتھ کٹ چلے۔ (۱- محاورہ) اپنے ہاتھ کی تھری دے بیٹھے۔  
ہاتھ کٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ کاٹنا جانا۔ (۲) تھری دی جانا۔

ہاتھ کھٹے ہونا۔ (۱- محاورہ) تحریر دے جانے کی وجہ سے مجبور ہونا۔  
 ہاتھ کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حملہ کرنا۔ وار کرنا۔ (۲) دھوکہ دینا۔  
 ہاتھ کمر بند رکھنے ہونا۔ (۱- محاورہ) بیکار رکھتے پھرنا۔  
 ہاتھ کشیدہ آسمان دیدہ۔ (۱- شش) برعواس۔ وہ آدمی جس کا خیال  
 نہیں اور ہوا اور ہاتھ کچھ اور کر رہا ہو۔  
 ہاتھ کمر میں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) لڑنا جھگڑنا۔  
 ہاتھ ننگن کو آبرسی کیا۔ (۱- شش) جو کچھ ظاہر و عیاں ہے۔ اس کے  
 بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا۔  
 ہاتھ کو ہاتھ پچھانتا ہے۔ (۱- شش) جس سے بیٹے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔  
 ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا۔ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دیتا۔ (۱- محاورہ)  
 اندھیرا تھپ ہے۔ بہت سخت اندھیر ہے۔  
 ہاتھ کھانا۔ (۱- محاورہ) تلوار کے وار کھانا۔  
 ہاتھ کھیلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ میں غارش ہونا۔ (۲) مارنے پیلنے کو  
 جی چاہنا۔ کچھ طے کی امید ہونا۔  
 ہاتھ کھلارہنا۔ (۱- محاورہ) عیاضی کی عادت ہونا۔ داود شش میں  
 مشاقی ہونا۔  
 ہاتھ کھل جانا۔ کھلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ چلنا۔ ہاتھ کا کام کرنے لگنا۔  
 (۲) تنگی نہ رہنا۔ روپیہ پیسہ ہاتھ میں آنا۔ (۳) مار بیٹھنے کی عادت  
 پڑ جانا۔  
 ہاتھ کھینچ لینا۔ ہاتھ کھینچنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دست بردار ہونا۔ باز آنا۔  
 ہاتھ اٹھانا۔ (۲) کسی کام سے ہاتھ روک لینا۔  
 ہاتھ کی آبی بھی نہی۔ (۱- محاورہ) قابو میں آتی ہوئی چیز بھی گئی۔  
 ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) بیکار ہونا۔ کوئی شغل  
 نہ ہونا۔  
 ہاتھ کے برہنہ کھانا۔ (۱- محاورہ) کسی سے سخت نفرت کرنا۔  
 ہاتھ کی پٹیہ دانٹوں سے کاٹنا۔ (۱- محاورہ) کسی چیز کے نسلنے پر  
 سخت افسوس کرنا۔  
 ہاتھ کی چھڑی۔ (۱- مصنف) ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی۔  
 ہاتھ کی روٹی۔ (۱- مش) توڑے پر پکائی ہوئی روٹی۔  
 ہاتھ کی صفائی۔ ہاتھوں کی صفائی۔ (۱- صفت) (۱) وار کرنے میں  
 ہاتھوں کا مشاق ہونا۔ (۲) بازیگر یا شہدہ باز کے ہاتھ کا کرتب۔  
 ہاتھوں کے طوطے اٹھانا۔ (۱- محاورہ) عواس باختہ ہو جانا۔ کوئی  
 چیز دیکھ کر یا سن کر بے عواس ہو جانا۔  
 ہاتھ (ہاتھوں) کی لکیریں۔ (۱- مش) (۱) وہ گھرے نقوش جو انسان  
 کی ہتھیلی میں ہوتے ہیں۔ قسمت کی لکیریں۔ (۲) عریز۔ یگانے۔  
 قرابتی۔  
 ہاتھ کی لکیریں ٹھنا۔ (۱- محاورہ) محبت جاتی رہنا۔ قرابت یا رشتہ کا  
 محاذ ٹھنا۔ اپنائیت اور عزیز داری کا محاذ نہ ہونا۔ (۲) نقتیر  
 کا کھنا ٹھنا۔

ہاتھ کی مچھلی۔ (۱- مش) انگوٹھے سے نیسہ ہتھیلی کا اچھا ہوا گوشت۔  
 ہاتھ کے میسے آنا۔ (۱- محاورہ) ہتھے چڑھنا۔ قابو میں آنا۔ قبضہ ہو  
 جانا۔ دخل ہو جانا۔  
 ہاتھ کے ہاتھ۔ (۱- تابع فعل) فوراً۔ اسی وقت۔  
 ہاتھ گاڑی۔ (۱- مش) رکشا۔ ٹھیلہ۔ وہ گاڑی جسے ہاتھ سے کھینچ کر  
 چلاتے ہیں۔  
 ہاتھ گردن میں ڈالنا۔ ہاتھ گلے میں ڈالنا۔ (۱- محاورہ) گلے میں ہاتھ  
 ڈالنا۔ پیار کرنا۔ اختلاط کرنا۔  
 ہاتھ گریبان تھک جانا۔ (۱- محاورہ) گریبان پھاڑ ڈالنا۔ وحشت کا دور  
 پکڑنا۔  
 ہاتھ گلنا۔ (۱- مع مرکب) (۱) نہایت سردی کے باعث ہاتھ کے گوشت  
 کا ٹھہرنا۔ (۲) پھوڑوں یا زخموں سے ہاتھ کے گوشت کا ٹھہر جانا۔  
 ہاتھ گھسانا۔ (۱- محاورہ) بے فائدہ محنت کرنا۔ لا حاصل کام کرنا۔  
 ہاتھ گھسانی۔ (۱- مش) وہ محنت جس سے کچھ حاصل نہ ہو۔  
 ہاتھ گھس جانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھوں سے اٹنا کام لینا کہ انہیں ضرر پہنچے۔  
 ہاتھ گھسکھون۔ (۱- محاورہ) پانی کے طرف میں ہاتھ ڈال کر پانی کو  
 حرکت دینا۔  
 ہاتھ لا۔ ہاتھ لانا۔ (کلمہ تعریف) واہ وا۔ کیا کہنہ ہے۔ آفرین ہے۔  
 مرجبا۔ شتاباش۔ (۲) داو دینے کے موقع پر بھی کہتے ہیں۔  
 ہاتھ لال کرنا۔ (۱- محاورہ) کنڈیشہ الزام لینا تیش کرنا۔  
 ہاتھ لیک۔ (۱- صفت) چور۔ اچکا۔ اٹھائی گیا۔  
 ہاتھ لپکانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ بڑھانا۔  
 ہاتھ لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) پھونانا مس کرنا۔ ہاتھ پھیرنا (۲) پھیرنا۔ دست  
 درازی کرنا۔ (۳) مدد کرنا۔ سہارا دینا (۴) کام شروع کرنا۔ (۵)  
 ہاتھ مارنا۔ ضرب لگانا۔ مارنا۔ پٹینا۔ (۶) بازی لگانا۔ شرط بدنا۔  
 (۷) تول دینا۔ (۸) تیرنے میں ہاتھ چلانا۔  
 ہاتھ لگائے کھلانا۔ (۱- محاورہ) نہایت نازک ہونا۔  
 ہاتھ لگائے (لگے) ٹھیلنا ہونا۔ (۱- شش) نہایت سفید۔ اُجلا۔ آبدار  
 ہونا۔ نہایت لطیف اور پاکیزہ ہونا۔  
 ہاتھ لگنا۔ (۱) چھو اٹھانا۔ مس ہونا۔ (۲) ملنا۔ حاصل ہونا۔ دستیاب ہونا۔  
 (۳) قابو چڑھنا۔ بس میں آنا۔ (۴) سہارا ملنا (۵) کام شروع ہونا۔  
 (۶) بازی بڑھانا۔ شرط ہونا۔  
 ہاتھ لیا کاٹنا تو بھیک کا کیا سانس۔ (۱- مش) جب گدائی اختیار  
 کر لی تو پھر ملنے میں کیا شرم۔  
 ہاتھ لینا۔ (۱- محاورہ) ٹھانا۔ روکنا۔ پکڑنا۔  
 ہاتھ مارنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ لگانا۔ ضرب لگانا۔ (۲) جلد جلد نوالے  
 کھانا۔ (۳) فین کرنا۔ مال اڑانا (۴) شرط لگانا (۵) رشوت لینا۔  
 (۶) قبضہ کر لینا۔ قابض ہونا (۷) قتل کرنا۔ ذبح کرنا۔ ہاتھ صاف  
 کرنا۔ (۸) اقرار کرنا۔ قول دینا۔

ہاتھ ماں نہ گات ماں میں دھنونی جات ماں (۱- مثل) نہ میسے  
ہاتھ میں ہنر ہے نہ بدن میں جو ہر میں تو اپنی اعلیٰ ذات کے  
سبب امیر ہوں۔ بے سلیقہ کا اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا۔  
ہاتھ مروڑنا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کو بیچ دینا۔ ہاتھ کو بل دینا۔  
ہاتھ ملانا۔ (۱- محاورہ) مصافحہ کرنا۔ ہتھیار لڑنا۔ ہاتھ سے ہاتھ کچڑ کر زور کرنا۔  
ہاتھ کلتے رہ جانا۔ (۱- محاورہ) پھینچتے رہ جانا۔ افسوس کرنے رہ جانا۔  
ہاتھ ملنا۔ (۱- محاورہ) افسوس کرنا۔ پھینچنا۔  
ہاتھ منہ پر رکھ دینا۔ (۱- محاورہ) بولنے نہ دینا۔ خاموش کر دینا۔  
ہاتھ منہ پر سے نہیں اترے۔ (۱- مثل) ابھی نئی ڈاہن ہے۔ شرم و حیا  
کے دن ہیں۔ ابھی گھونگھٹ کا زمانہ ہے۔  
ہاتھ منہ دھلانا۔ (۱- محاورہ) خدمت گار کا کام کرنا۔  
ہاتھ میں۔ (۱- تابع فعل) (۱) قبضے میں۔ اختیار میں۔ (۲) ہاتھ کے  
اند۔ منٹھی میں۔  
ہاتھ میں آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) حاصل ہونا۔ ہاتھ لگنا (۲) قبضہ میں آنا قابو  
میں آنا۔ (۳) دستیاب ہونا۔ بہم پہنچنا۔  
ہاتھ میں پڑ جانا۔ (۱- محاورہ) قابو میں آجانا۔ ہاتھ میں آجانا۔  
ہاتھ میں ٹھیکرا دینا۔ (۱- محاورہ) ہیکے ٹھیکرا دینا۔ مفلس کر دینا۔  
ہاتھ میں جو ہر ہونا۔ (۱- محاورہ) صاحب کمال ہونا۔ ہنر مند ہونا۔  
ہاتھ میں دل رکھنا۔ (۱- محاورہ) کسی کی ہر طرح و جگہ  
کرنا۔ خاطر واری کرنا۔ دلداری کرنا۔  
ہاتھ میں دے روئی اور سر پر مارے جو جوتی۔ (۱- مثل) ایسے کم ظرف  
کی نسبت بولتے ہیں جو احسان کر کے بار بار جیتائے۔  
ہاتھ میں سرمئی بغل میں کھرتی۔ (۱- مثل) نظاں میں نیک اور باطن  
میں دغا باز۔  
ہاتھ میں سیخچہ ہونا۔ (۱- محاورہ) ہر وقت چیزوں کو توڑتے پھوڑتے  
رہنا۔ (۲) تنگ دست ہونا۔ غریب ہو جانا۔  
ہاتھ میں گھسیاں ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی کے ظلم کا فریادی ہونا۔  
نظاں فریاد پانے کا کنیا ہے۔  
ہاتھ میں لانا یا بات میں گھسانا۔ (۱- مثل) جو کمانا سوکھا لینا۔ ایب  
مفلس ہونا کہ گھر میں برتن تک نہ رہنا۔  
ہاتھ میں لیا کا نسا تو بھیک کا کیا سانس۔ (۱- مثل) دیکھیے ہاتھ  
لیا کا نسا۔  
ہاتھ میں لینا۔ (۱- محاورہ) کوئی کام اپنے ذمے لینا۔  
ہاتھ میں لیے پھرتا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ میں دبائے پھرتا۔ (۲) فتنہ  
میں سخت بیٹاب ہونا۔  
ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کو کسی کے بہرہ و کرنا (۲) بیبا  
دینا۔ عورت کا مرد سے نکاح کر دینا (۳) ہاتھ ملانا۔ مصافحہ کرنا۔  
ہاتھ میں ہاتھ ہونا۔ (۱- محاورہ) ساتھ ساتھ ہونا۔  
ہاتھ میں ہونا۔ (۱- محاورہ) قبضے میں ہونا۔ اختیار میں ہونا۔ (۲) سونچ  
نہ

ہاتھ بھانا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ مڑکا مڑکا کر باتیں کرنا یا لڑنا۔  
ہاتھ بھنگنا ہونا۔ (۱- محاورہ) ہاتھ کاٹنے باری میں مشاق ہونا۔  
ہاتھ نہ آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کپڑا نہ جانا۔ (۲) قابو میں نہ آنا۔ (۳) حاصل  
نہ ہونا۔ کسی چیز کا نہ ملنا۔  
ہاتھ نہ پڑنا۔ (۱- محاورہ) کام نہ ہو سکا۔ کامیابی نہ ہونا۔  
ہاتھ نہ پہنچنا۔ (۱- محاورہ) کام میں کامیاب نہ ہو سکا۔ (۲) کسی جگہ ہاتھ نہ  
جاسکا۔  
ہاتھ نہ رکھنے) دھرنے دینا۔ (۱- محاورہ) پاس نہ آنے دینا۔ ہاتھ  
نہ لگانے دینا۔ (۳) پروا نہ کرنا۔ خاطر میں نہ لانا۔ (۴) قابو میں نہ  
آنا۔ (۵) بزمناج ہونا۔ روکھا ہونا۔  
ہاتھ نہ لگانے میں پیار کے ڈالے۔ (۱- مثل) کم ظرف اور ذرا  
سی بات پر اڑانے والے کی نسبت عورتیں بولتی ہیں۔  
ہاتھ نہ لگانا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاتھ سے نہ چھوٹنا۔ احتراز کرنا۔ (۲) مارنے سے  
باز رہنا۔ (۳) بچے کو تنبیہ نہ کرنا۔ (۴) خاطر میں نہ لانا۔ بات نہ کرنا۔  
ہاتھ نہ لگانے دینا۔ (۱- محاورہ) چھوٹے نہ دینا۔ عورت کا مرد کو پاس  
نہ آنے دینا۔  
ہاتھ نہ منٹھی لیلانی منٹھی۔ (۱- مثل) پاس کو ٹھی نہیں ہوصد دکھانے  
میں بڑی گرم جوشی۔  
ہاتھ ہلانے آنا۔ (۱- محاورہ) (۱) خالی ہاتھ آنا۔ (۲) کچھ کما کر نہ لانا۔  
ہاتھ ہلنا۔ ہاتھ میں جنبش ہونا۔ ہاتھ میں رعشہ ہونا  
ہاتھ ہونا۔ (۱- محاورہ) اتفاق ہونا۔ دخل ہونا۔  
ہاتھ ہے۔ (۱- محاورہ) اختیار میں ہے۔  
ہاتھوں۔ (۱- مذ) (۱) سبب۔ باعث۔ کارن۔ (۲) ہاتھ سے۔ ہاتھوں  
سے۔ (۳) وسیلے سے۔ ذریعے سے۔ توسط سے۔  
ہاتھوں اچکنا۔ (۱- محاورہ) (۱) آدمی یا جانور یا کسی چیز کا بہت اوجھا  
اچھلنا۔  
ہاتھوں اچھلنا۔ (۱- محاورہ) (۱) بہت تڑپنا۔ بہت زیادہ بے قرار  
ہونا۔ (۲) نہایت کو دنا۔ بہت اچھلنا۔  
ہاتھوں بڑھ جانا۔ (۱- محاورہ) بہت بڑھ جانا۔  
ہاتھوں پر سانس بکھلانا۔ (۱- محاورہ) (۱) خطرناک کام کرنا (۲) بزمناج  
آدمی کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔  
ہاتھوں چھاؤں رکھنا (کرنا) (۱- محاورہ) نہایت حفاظت کیساتھ  
رکھنا۔  
ہاتھوں دل بڑھانا۔ (۱- محاورہ) بہت بہت بڑھانا۔ بڑا حوصلہ دلانا۔  
ہاتھوں سے۔ (۱- تابع فعل) (۱) فعلوں سے۔ (۲) ڈھنگوں سے  
(۳) ذریعہ۔ وسالت سے۔  
ہاتھوں سے کھلے تو دانت کیوں لگائے۔ (۱- مثل) جو کام آسانی  
سے ہو سکے اس میں دقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔  
ہاتھوں فلم ہونا۔ (۱- محاورہ) بڑا ہی بھلائی کسی کے اختیار میں ہونا۔

ہاتھی کا بھتیجہ: بگھاڑ۔ (۱- مذ) ایک قسم کا درخت۔  
 ہاتھی خانہ۔ (۱- مذ) ہاتھیوں کا طویلیر۔ فیل خانہ۔  
 ہاتھی دانٹ۔ (۱- مذ) ہاتھی کا دانٹ جس سے کئی چیزیں بنتی ہیں۔  
 ہاتھی دانٹ کا چوڑا۔ (۱- مذ) ہاتھی کے دانٹ کی بنی ہوئی چوڑیاں۔  
 ہاتھی سے گئے کھانا۔ (۱- محاورہ) زبردست سے مقابلہ کرنا۔ طاقت دے  
 کوئی چیز لے لینا۔  
 ہاتھی کا بوجھ ہاتھی اٹھاتا ہے۔ (۱- مثل) بڑے کام بڑے حوصلے والا ہی  
 کرتا ہے۔  
 ہاتھی کا پٹھا۔ (۱- محاورہ) جوان ہاتھی۔ ہاتھی کا نر بچہ۔  
 ہاتھی کا پیرا نکس۔ (۱- مثل) ہاتھی کا استاد آنکس ہے۔ ہتھیار سے  
 زبردست بھی قابو میں جاتا ہے۔  
 ہاتھی کا جگ سا ہتھی۔ کیڑی پاپن پیرٹی۔ (۱- مثل) زبردست کے  
 سب سا ہتھی ہوتے ہیں اور کوزور کے سب دشمن۔  
 ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ (۱- مثل) بڑے آدمی کے سب  
 میٹھے ہوتے ہیں۔ (۲- معنی کے مال میں سب کا حصہ ہے (۳) امیروں  
 سے غریبوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔  
 ہاتھی کی ٹکر ہاتھی ہی سنبھالے۔ (۱- مثل) بڑے کا مقابلہ بڑا ہی کر  
 سکتا ہے۔  
 ہاتھی کے دانٹ۔ (۱- مذ) خاص کر بڑے دو دانٹ جو آگے کو نکلے  
 ہوتے ہیں۔  
 ہاتھی کے دانٹ بٹھانا۔ (۱- محاورہ) (۱) نامنک بات کرنا۔ (۲) بوڑھے  
 طوطے کو بٹھانا۔  
 ہاتھی کے دانٹ دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ (۱- مثل)  
 دکھانے کی چیز اور ہوتی ہے کھانے کی اور۔ دنیا کے لوگ ظاہر  
 ہیں کچھ اور باطن میں کچھ۔  
 ہاتھی کے ساتھ گئے چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) زبردست کے مف بلہ  
 میں آنا۔  
 ہاتھی کے منہ میں کلڑی پکڑاتے ہیں۔ (۱- مثل) زبردست کر مال  
 دے کر واپس لینا چاہتے ہیں۔  
 ہاتھی گھوڑے بھاگ گئے گدھا پوچھے کتنا پانی۔ (۱- مثل) بڑے  
 بڑے ہمت ہار گئے۔ ادنیٰ کو ابھی حوصلہ ہے۔  
 ہاتھی نال۔ (۱- مثل) ایک قسم کی نوپ جسے ہاتھی ٹھینتے تھے۔  
 ہاتھی نہیں گیا دم اچی رہ گئی۔ (۱- مثل) سارا کام ہو گیا خنور اس  
 بانی رہ گیا۔  
 ہاتھی وان۔ (۱- مذ) فیل بان۔ مساوت۔ ہاتھی چلانے والا۔  
 ہاتھی ہزار لٹے پھر بھی سوا لاکھ ٹکے کا۔ (۱- مثل) امیر کیسا ہی غریب  
 کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کی قدر باقی رہتی ہے۔  
 ہاٹ۔ (۱- ۵) [مث] (۱) دکان۔ سودا بیچنے کی جگہ (۲) سودا بیچنے کی  
 منڈی۔ بازار۔

ہاتھی کیجا اچھٹا۔ (۱- محاورہ) (۱) کمال اضطراب ہونا۔ (۲) نہایت دل  
 ڈھونڈنا۔  
 ہاتھی مہندی پاؤں مہندی اپنے لپٹے اور دل دیندی۔ (۱- مثل)  
 (۱) آپ مہندی کا عذر کر کے کام سے بچنا اور دوسروں کو کام سونپنا۔  
 (۲) اپنا عیب دوسروں کے سر تھوپنا۔  
 ہاتھیوں میں لے لینا۔ (۱- محاورہ) سنبھالنا۔  
 ہاتھیوں ہاتھ۔ (۱- متابع فعل) (۱) دست بدست۔ (۲) بالا ہی بالا۔  
 اوپر ہی اوپر۔ (۳) فوراً۔ شتاب۔ جلد۔ تڑت۔  
 ہاتھیوں ہاتھ اڑا کر اٹھا کر لے جانا۔ (۱- محاورہ) فوراً لے جانا۔۔۔  
 دست بدست لے جانا۔  
 ہاتھیوں ہاتھ اڑ جانا۔ (۱- محاورہ) بہت جلد صوف ہونا۔ فوراً خرچ ہو جانا۔  
 ہاتھیوں ہاتھ تک جانا۔ (۱- محاورہ) کسی چیز کا فوراً تک جانا۔  
 ہاتھیوں ہاتھ لانا۔ (۱- محاورہ) نہایت عزت و احترام سے لانا۔  
 ہاتھیوں ہاتھ لے جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) فوراً لے جانا۔ (۲) دیر نہ کرنا۔ (۳)  
 نہایت قدر و منزلت سے لے جانا۔  
 ہاتھیوں ہاتھ لینا۔ (۱- محاورہ) (۱) دست بدست لینا۔ (۲) فوراً لینا۔  
 جھٹ پٹ لینا۔ (۳) توفیر کرنا۔ (۴) اوپر ہی اوپر لے جانا۔  
 ہاتھیوں ہاتھ لے جانا۔ (۱- محاورہ) بے حد عزت کرنا۔  
 ہاتھی بانی۔ (۱- ہاتھ۔ پان۔ ای) (۱) [آر۔ ۱- مٹ] مار کٹائی۔ مگائی۔۔۔  
 گھوسم گھوسا۔ دھول دھتیا۔ مار دھاڑ۔ مار پٹائی۔ لڑائی بھڑائی۔  
 ہاتھی بانی کی لینا۔ (۱- محاورہ) مار کٹائی اختیار کرنا۔ لپاڑگی پر اتر آنا۔  
 کشتہ کشتا ہو جانا۔ دھینکا مشتتی پر آ جانا۔  
 ہاتھی چھانٹلی۔ [آر۔ ۱- مٹ] (۱) بد معاملی۔ دغا بازی۔ بددیانتی۔  
 (۲) نمین۔ غور و برد۔ چوری۔  
 ہاتھی ہاتھی۔ [۱- مٹ] ہاتھ سے ہاتھ لگ جانا۔ ایک کا دوسرے کو دینا  
 دست بدستی۔  
 ہاتھی۔ (۱- ہاتھی) (۱- ۵) [مذ] فیل۔ پیل۔  
 ہاتھی پاؤں۔ [۱- مٹ] ایک مرض جس سے پاؤں نہایت موٹا ہو  
 جاتا ہے۔ فیل پا۔  
 ہاتھی پھیرنے کاؤں کاؤں جسکا ہاتھی اُس کا ناؤں۔ (۱- مثل)  
 جس کی چیز ہو اسی کا نام ہوتا ہے۔ اصل شے مالک کی ہو کرتی ہے  
 ہاتھی جھولنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دروازے پر ہاتھی بندھا ہونا۔ (۲) کت بیٹہ  
 بہت دولت مند ہونا۔  
 ہاتھی جھومنا۔ (۱- محاورہ) (۱) کسی کے پاس ہاتھی ہونا۔ (۲) گھر میں کنواری  
 لڑکی کا شادی کے لائق ہونا۔  
 ہاتھی چڑھے کنا کاٹے۔ (۱- مثل) قسمتی ہوتو اچھے کام میں بھی نقصان  
 ہو جاتا ہے۔  
 ہاتھی چک۔ (۱- مذ) (۱) ایک خار دار پودا جس کی جڑ بیکار کھاتے ہیں۔  
 (۲) ایک قسم کی گھاس جو ہاتھی کھاتے ہیں۔

ہاٹ کرنا۔ ہاٹ کھولنا۔ (۱- محاورہ) دکان کرنا۔  
ہاجرہ۔ (۱- راج۔ ۲) (ع- ۱- مرث) (۱) نہایت گرم دوپہر کا وقت۔  
گئی کی دوپہر۔ (۲) حضرت اسماعیلؑ کی والدہ کا نام۔  
ہاجی۔ (۱- ہجری) (ع- صفت) ہجو کرنے والا۔ نقال۔ منہ بولنے والا۔  
ہاؤم۔ (۱- ہا۔ ۲) (ع- صفت) منہدم کرنے والا۔ عمارت کا ڈھانے  
والا۔ گرانے والا۔

ہاؤم اللذات۔ (۱) لذتوں کا ڈھلے والا۔ کنایت موت۔  
ہاؤمی۔ (۱- ہا۔ ۲) (ع- صفت) ہدایت کرنے والا۔ رہنما۔ پیشوا۔  
ہار۔ (۱- ۵) (مٹ) (۱) شکست۔ ہزیمت۔ مات۔ (۲) تنگان۔ ماندگی۔  
ہار بیٹھنا۔ (۱- محاورہ) تھک جانا۔ عاجز ہوجانا۔ تنگ ہوجانا۔ شکست  
کھا جانا۔

ہار جانا۔ (۱- محاورہ) (۱) مات ہوجانا۔ شکست کھا جانا۔ مغلوب ہوجانا۔ (۲)  
عاجز ہونا۔ ناک میں دم ہونا۔ تنگ ہونا۔

ہار جیت۔ (۱- مرث) شکست و فتح۔ نفع و نقصان۔  
ہار دینا۔ (۱- محاورہ) بازی لگا کر مات ہوجانا۔ بازی میں دے دینا۔  
ہار کر۔ (۱- تابع فعل) تھک کر۔ مجبور ہو کر۔ آخر کار۔  
ہار کر بیٹھ رہنا۔ (۱- محاورہ) مجبور ہو کر بیٹھ جانا۔ عاجز آ کر کچھ نہ کرنا۔  
تنگ آ کر بیٹھ رہنا۔

ہار کے جھک مارے۔ (۱- تابع فعل) ناچار ہو کر۔ عاجز آ کر۔  
ہار ماننا۔ (۱- محاورہ) شکست تسلیم کرنا۔  
ہار۔ (۱- ۵) (مٹ) (۱) پھولوں یا موتیوں کی مالا (۲) تیسرے۔ سمرن۔ مالا  
(۳) جواہرات کا گونبد۔ کتھیا۔

ہار چڑھانا۔ (۱- محاورہ) مقدس بزرگوں کی قبروں یا دیوتاؤں پر پھول  
چڑھانا۔

ہار ڈالنا۔ (۱- محاورہ) ہار پھینانا۔ مالا گھے میں ڈالنا۔  
ہار۔ ہار (۵- صفت) مرکبات میں بطور لاحقہ کے مستعمل ہے۔ یعنی (۱)  
والا۔ صاحب۔ مالک جیسے ہونہار۔ جانہار (۲) کرنے والا جیسے  
کرن ہار۔ لکڑ ہار۔  
ہار مانی جھگڑا جینا۔ (۱- مثل) جس آدمی نے مقدمہ بازی نہ کی وہ جینا۔  
ہار۔ (۱- ۲) (ع- ۵) (صفت) تھکا ہوا۔ تھکا ماندہ۔ (۲) کمزور ضعیف۔  
ناتوان۔ (۳) ہار ہوا۔ مات کھایا ہوا۔

ہار جوارسی پگڑی رکھے۔ (۱- مثل) مجبوری میں شرم و حیا بھی نہیں رہتی۔  
ہار تھک مارا سارا جنگل ہٹا رہا۔ (۱- مثل) لوگوں کا ایک کھیل۔ جب  
کوئی لڑکا ہار جائے تو اس سے یہ نفرہ کہلاتے ہیں۔  
ہارنا۔ (۱- ایص) مغلوب ہونا۔ شکست کھانا۔ ناکام رہنا۔ تھکا ماندہ ہونا۔  
(۲) ناچار ہونا۔ عاجز ہونا۔ (۳) کسی سے طاقت میں کمزور ہونا۔  
(۴) تنگ ہوجانا۔ (۵) شرط ہار جانا۔

ہار سے بھی ہار اوائے بھیجتے بھی ہاروے۔ (۱- مثل) اس شخص  
کی نسبت بولتے ہیں جو ہر طرح اپنی ہی بات کے لیے قائل

کے ہیجےت بھی میری پرٹ بھی میری۔  
ہارے کو ہتھیار۔ (۱- مثل) جب آدمی بالکل عاجز آجاتا ہے تو مجبوراً  
ہتھیار اٹھالیتا ہے۔

ہار بند (نا۔ رب) (ع- صفت) جھگنے والا۔  
ہار بندر۔ (Harbour) (ہار بندر) (انگ۔ ۱- ۱) بندرگاہ۔ بندرگاہ۔ بندرگاہ۔  
میں ساحل کے قریب وہ جگہ جہاں جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔

ہار پون۔ (Harpoon) (ہار۔ پون) (انگ۔ ۱- ۱) ہار پون  
کی شکل کا وہ تھمدار کانٹا جس سے بڑی مچھلیوں کو ٹسکا کرتے ہیں۔

ہار ڈویور۔ (Hardware) (ہار ڈو۔ و۔ یر) (انگ۔ ۱- ۱) مذ  
ظروف آہنی۔ لوہے کے برتن۔

ہار س پاؤر (Horse Power)۔ (ہار س۔ پا۔ ۱- ۱) (انگ۔ ۱- ۱)  
مرث (۱) ایسی طاقت۔ اتنی طاقت جس سے ۵۰ پونڈ وزن  
ایک سیکنڈ میں ایک فٹ اٹھا جا سکے۔

ہار سنگاڑ۔ (ہار۔ سینگاڑ) (۵- ۱- ۱) (مٹ) ایک درخت جس کے پھول  
کی ڈنڈیوں سے زرور و سرسری رنگ نکالتے ہیں۔

ہارمونیم۔ (Harmonium) (ہار۔ مون۔ ین۔ یم) (انگ۔ ۱- ۱) مذ  
ایک قسم کا انگریزی باجا۔

ہارن (انگ) (۱- ۱) (مٹ) نرسنگ۔ قرنا۔ ایک قسم کا باجا۔ (انگ)  
(Horn)

ہارنا۔ (ہارنا۔ ۱- ۱) (مص) (۱) بازی میں دے دینا۔ جوئے میں  
شرط دینا۔ (۲) شکست ہانا۔ شکست کھانا۔ (۳) تھکانا۔ ماتم  
ہونا۔ (۴) عاجز ہونا۔ مغلوب ہونا۔ (۵) تنگ ہونا۔ بقی ہونا۔  
ہارو۔ (ہا۔ ۱) (صفت) وہ شخص جو اکثر ہار جائے۔

ہاروت (ہا۔ روت) (ع- ۱- ۱) مذ (مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق  
ان دو فرشتوں میں سے ایک جو دنیا میں آ کر زہر و نامی ایک  
عورت پر عاشق ہونے اور لوگوں کو جادو سکھانے تلے۔ اب  
چاہے باہل میں لٹکے ہوئے عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔

ہارون (ہا۔ رون) (ع- ۱- ۱) مذ (۱) شرم و سزش کھوڑا۔ (۲) حضرت  
موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام۔ (۳) سردار۔ سالار قوم۔ (۴)  
عباسی خلیفہ کا نام۔

ہارونی۔ (ہا۔ رونی) (ع- ۱- ۱) مذ (صفت) نافرمان۔ کشر۔ ڈھیٹ (۱- ۱)  
مٹ) پاسبانی۔ چوکیداری۔

ہاٹ۔ (ہاٹ۔ ۱- ۵) (مٹ) (۱) ہڑی۔ استخوان (۲) دھانچ۔ ڈھنچ۔ بجنجرت  
ہاٹ چھوڑا۔ (۵- صفت) (۱) فنی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا (۲) ایک بودا۔  
ہاٹنا۔ (ہاٹنا۔ ۵- ۵) (مص) (۱) ایک ہاٹ سے دوسرا ہاٹ توں کر  
بنانا۔ (۲) وزن سے وزن برابر کرنا۔ وزن کا مقابلہ کرنا۔ امتحان کرنا۔  
اندازہ کرنا۔

ہاسا۔ (ہا۔ ۱- ۱) (مٹ) ہنسی۔  
ہاشم۔ (ہا۔ ہشم) (ع- ۱- ۱) مذ (جناب پنیر اسلام کے پو دادا کا نام۔

باشمبی - (باش - می) [ع - صفت] باشم کی طرف نسبت رکھنے والا۔  
 باشم کی اولاد۔  
 باضم - (با - اضم) [ع - صفت] (۱) باضم کرنے والا۔ پچانے والا۔ (۲) تسلیل  
 کھانے والا۔ بلین۔  
 باضمہ - (با - مض - مز) [ع - ۱ - مرث] باضم کرنے کی قوت۔  
 ہاف - (Half) [انگ - صفت] نصف۔ آواہ۔  
 ہاک - (قی - ۱ - مرث) [انگ - آواز۔  
 ہاکر - (Hawker) (ہا - کر) [انگ - ۱ - مذ] پھیری والا۔ خوآنچے والا۔  
 گھوم پھر کر انجانہ بیچنے والا۔  
 ہاکی - (Hockey) [انگ - ۱ - مرث] ایک کھیل جس میں گینداور  
 خمیدہ لٹری سے کھیلنے ہیں۔  
 ہال - (ہا - ۱ - مرث) (۱) حرکت۔ جنبش (۲) جھٹکا چال۔ زنتار۔ گردش  
 (۳) [مذ] لوسے کا وہ چکر چھپتے کے گرداگرد چڑھایا جاتا ہے۔  
 (۴) عربی حال کا بگڑا ہوا۔ انجی۔ تزلزل۔  
 ہال - (ہا - ۱ - مذ) [انگ - ۱ - مذ] بڑا کمرہ۔ ہال کمرہ (۲) بڑا کمرہ  
 جس میں جلے وغیرہ ہوتے ہیں۔  
 ہالا - (ہا - لا) [ہا - ۱ - مذ] وہ ٹیکس جو بل پر لگایا جاتا ہے۔  
 ہالا - (ہا - لا) [س - ۱ - مرث] شراب۔  
 ہالا ڈولا - (ہا - لا - ڈو - لا) [ہا - ۱ - مذ] جھونچال۔ زلزلہ۔  
 ہالٹ - (Halt) [انگ - ۱ - مذ] (۱) پڑاؤ۔ منزل۔ مقام۔ ٹھہر۔  
 (۲) رُکنے کا حکم۔  
 ہالٹا - (ہا - نا) [ہا - مص] ہلنا۔ جنبش کرنا۔ حرکت کرنا۔  
 ہالڈ - (ہا - لڈ) [ف - ۱ - مذ] (۱) دائرہ۔ کنڈل (۲) چاند کا کنڈل  
 جو بخارات ارضی سے چاند کے گرد چڑھتا ہے۔  
 ہالی - (ہا - لی) [ہا - ۱ - مذ] ہل چلانے والا۔ ہل چڑھنا۔  
 ہالی موالی - (ہا - لی - م - وا - لی) [آر - ۱ - مذ] متعلقین۔ آس پاس  
 والے۔ ارد گرد کے لوگ (صحیح الہالی موالی)  
 ہامول - (ہا - مول) [ف - ۱ - مذ] میدان۔ بیان۔ جنگل۔ صحرا۔  
 ہامی - (ہا - می) [ہا - ۱ - مرث] ہال۔ اقرار۔ اثبات۔  
 ہامی بھرتنا - (۱) محاورہ) ہال کرنا۔ اقرار کرنا۔ وعدہ کرنا۔ زبان دینا۔  
 ہان - ہانی (ہان - ہا - نی) [و - ۱ - مرث] (۱) نقصان۔ ٹوٹا۔ خسارہ۔  
 ضرر۔ زیان (۲) مصیبت۔ ہتانا۔ (۳) کشت و خون۔ خونریزی۔  
 ہال - [ہا - ۱ - مرث] (۱) اچھا۔ ہوں۔ بھلا (۲) ضرور۔ ٹھیک۔ بیشک  
 البتہ۔ (۳) [مرث] اقرار حکم کا اشارہ۔ تاکید۔ تمبیہ۔ (۴) [تابع  
 فعل] واقعی وہاں یا یہاں کا اعتقاد۔  
 ہال اور - [تابع فعل] ابھی زیادہ ہونا چاہیے کی جگہ۔  
 ہال جی - [تابع فعل] تعظیم کے موقع پر بے شک۔ بجا ہے۔  
 ہال جی کو کمرہ ہونا - (۱) محاورہ) ہال میں ہال بلانے سے غرض رکھنا۔  
 ہال جی ہال جی کرنا۔ (۱) محاورہ) ہال میں ہال بلانا۔

ہال جی ہال جی سب کچھ کر سیتے اپنے من کی۔ (۱) مثل) ہر ایک  
 سے مشورہ کرنا چاہئے منگواہی دہی کرنا چاہئے سہول کو پسند آئے۔  
 ہال کرنا۔ (۱) محاورہ) اقرار کرنا۔ اقبال کرنا منظور کرنا۔  
 ہال میں ہال بلانا۔ (۱) محاورہ) ہال جی ہال جی کرنا۔ کورانہ تقلید کرنا۔  
 بے سمجھے بوجھے مان لینا۔  
 ہال نا کا جواب - (۱) مذ) صاف جواب۔ اقرار یا انکار۔  
 ہال ہال - (۱) تابع فعل (۱) وعدہ۔ اقرار (۲) منظوری۔ قبولیت۔ (۳)  
 ہرگز (۴) بیشک البتہ (۵) ہرگز نہ۔ نہ نہ۔  
 ہال ہوں - (۱) مرث) کلمہ ایجاب و قبول۔ اقبال۔ اقرار۔  
 ہال ہوں کرنا۔ (۱) محاورہ) اقبال کرنا یا انکار کرنا۔  
 ہانڈیا - (ہا - نا) [ہا - مص] [جلد جلد سانس لینا۔ دم توڑنا۔ سانس اٹھنا۔  
 ہانڈیا۔ (ہا - ڈا) [ہا - ۱ - مرث] پھرنے والا۔ آوارہ گرد۔  
 ہانڈیا۔ (ہا - ڈا) [ہا - ۱ - مص] آوارہ پھرنا۔ بے کار پھرنا۔ آوارہ گرد ہونا۔  
 ہانڈی - (ہا - ڈی) [ہا - ۱ - مرث] (۱) کھانا پکانے کا مٹی کا برتن (۲)  
 شیشے کی ہانڈی جس میں روشنی کرتے ہیں۔ میپ کا گلوب۔ (۳)  
 [صفت] پھرنے والی۔ آوارہ گرد۔  
 ہانڈی اٹلنا۔ (۱) محاورہ) (۱) ہانڈی کا جوش کھاکر پانی باہر نکل پڑنا۔ (۲)  
 [کنایت] بساط سے بڑھ کر کام کرنا۔  
 ہانڈی پکنا۔ (۱) محاورہ) (۱) وال سالن پکنا۔ کھانا پکنا۔ (۲) [کنایت] پچکے  
 پچکے صلاح مشورہ ہونا۔ کچھڑی پکنا۔  
 ہانڈی پھوڑنا۔ (۱) محاورہ) ہانڈی پھوڑنا۔ افشائے راز کرنا۔  
 ہانڈی چاٹی ہوگی۔ (۱) مثل) کسی کے شادی کے موقع پر مینہ برسے تو  
 نیا قاتلے ہیں۔  
 ہانڈی چڑھانا۔ (۱) محاورہ) پکانے کے لیے ہانڈی کا چھلے پر رکھنا۔  
 ہانڈی کا سا بال۔ (۱) مثل) (۱) شوق جو جلدی پیدا ہوا اور جلدی ختم  
 ہو جائے۔  
 ہانڈی گرم کرنا۔ (۱) محاورہ) رشوت دلانا۔ فائدہ دلانا۔  
 ہانڈی گرم کرنا۔ (۱) محاورہ) (۱) مفت کا مال لینا۔ بے ایمانی سے  
 کوئی چیز حاصل کرنا۔ رشوت لینا۔  
 ہانڈی میں جو گا سو ڈونی میں نکلے گا۔ (۱) مثل) جو دل میں ہوتا  
 ہے وہی زبان پر آتا ہے۔  
 ہانڈی نہ ڈونی سب پت کھوئی۔ (۱) مثل) غریبی سے عزت  
 بھی جاتی رہتی ہے۔  
 ہانڈی وال۔ (۱) صفت) (۱) کھانے کا ترکیب۔ سا جھی۔ حصہ دار (۲)  
 رقیب۔ ایک عورت سے تعلق رکھنے والے کسی مرد۔  
 ہانس - (ہا - ۱ - مذ) [ہا - ۱ - مرث] (۱) سینے سے اوپر اور گردن کے نیچے کی ہڈی۔  
 ہنسی۔ (۲) ایک آبی پرندہ۔ ہنس۔  
 ہانسی - (ہا - سی) [ہا - ۱ - مرث] ہنسی۔ مذاق۔ دل لگی۔  
 ہانسی کے گل چھانسی۔ (۱) مثل) ہنسی دل لگی کی ہانسی کرتے کرتے

فساد ہو جاتا ہے۔

ہانگ - (۱-۵) [مرث] (۱) آواز - پکار - (۲) جلاہٹ - غل شور۔

ہانگ پکار - (۱-مرث) آدمیوں کا شور و غل - غل غبارہ۔

ہانگ پکار کے کہنا - (۱-محاورہ) بہ آواز بلند کہنا۔ علی الاعلان کہنا۔

ہانگ مارتا - پکارنا۔ آواز دینا۔ زور سے چیخ کر پکارنا۔

ہانگا - (ہاں - کا) (۱-۵) [مذ] ہانکنے کا فعل - شکار کے لیے جھاڑیوں میں

سے جانوروں کو ہانک کر باہر نکلانے کا عمل۔

ہانکا ہانک ہانکا ہانکی - (۱-تابع فعل) متواتر ہانکنے یا بھگانے کا عمل۔

ہانکنا - (ہانک - نا) (۱-۵) [مض] (۱) چٹانا۔ دوڑانا۔ تیز رفتار کرنا۔ (۲) بے

سوچے سمجھے کوئی بات زبان سے نکالنا۔ (۳) بڑھانا۔ ریلنا۔ پیلنا۔

ہانکے پکارے۔ (ہاں - کے۔ پت - کار - رے) [۱-تابع فعل] غلابیہ۔

سب کے ڈوبو۔ فٹنکے کی چوٹ۔ گلہ کھلا۔

ہانگا - (ہاں - گا) (۱-۵) [مذ] زور۔ قوت۔ طاقت۔

ہانگا چھوٹنا۔ (۱-محاورہ) طاقت نہ رہنا۔ جیسا قوت میں فرق آتا۔

ہانگی - (ہاں - گی) (۱-۵) [مرث] اکہڑے کی چھلنی۔ میدہ چھاننے کی

باریک چھلنی۔

ہاؤن - (ہاؤن - ف) (۱-مذ) اوکھلی - کھول۔

ہاؤن دہنتہ - (ہاؤن - ف) (۱-مذ) اوکھلی اور موصل۔ دو ایسے کونٹے کا ایک

ظرف اور موصل۔

ہاؤنہو - (۱-۵) [مرث] (۱) شور و غوغا (۲) آہ آہ۔ ہائے ہائے۔ درو

اور کراہنے کی آواز۔

ہاؤنیہ - (ہاؤنیہ - ی) (۱-۵) [ع] (۱) دوزخ کا سب سے مجھے کا طبقہ۔

(۲) اندھیرا غار۔ (۳) [مرث] وہ عورت جس کے بچے مرنے لگے ہوں۔

ہاؤ - (ہاؤ - اؤ) [اؤ - اؤ] (۱-مذ) [۱] چوکرنے والا۔ (۲) بچوں کو ڈرانے کا

کاغذی چہرہ (۳) بچوں کو ڈرانے کا ایک فرضی نام۔

ہاؤ ہاؤ - (ہاؤ - ہاؤ - ہاؤ) (۱-۵) [مرث] (۱) جلدی - گھبراہٹ۔ ہائے۔

پکار۔ واویلا (۲) مانگ۔ طلب۔ تقاضا۔ (۳) نمی۔ ٹوڑا۔

ہاؤ ہاؤ کرنا۔ (۱-محاورہ) جلدی کرنا۔

ہاؤ ہاؤ - (۱-۵) [مرث] (۱) ہی ہی - ہنسی بھٹکے کی آواز (۲) افسوس جیت۔

چاپوسی۔ خوشامد (۳) عجز۔ انکار (۴) التجا۔ درخواست۔

اسندھا۔

ہا ہا بھئی بھئی - (۱-مرث) ہنسی۔ ٹھٹھا۔

ہا ہا کار - (۱-مض) (۱) شور و غل۔ واویلا۔

ہا ہا کرنا۔ (۱-محاورہ) منت سماجت کرنا۔ خوشامد کرنا۔

ہا ہا ہو ہو۔ بیوہ ہنسی اور مذاق۔ ہنسی بھٹھا۔

ہا ہا ہی ہی - (۱-مض) (۱) بیوہ ہنسی۔ نغمہ۔ بھٹھا۔

ہا ہا ہی ہی کرنا۔ (۱-محاورہ) ہنسی بھٹھا کرنا۔ نغمہ لگانا۔

ہا ہو کرنا۔ شور کرنا۔

ہا ہل - (ہا - ہل) [ع] (۱) ہولناک۔ مہیب۔ ڈراؤنا۔

جھانک (۲) سخت۔ شدید۔

ہا بلبہ - (ہا - لب) [ع] (۱) ہا ہل کی تائینٹ۔

ہاؤس - (House) (ہا - اس) [انگ] (۱) گھر۔ خانہ۔

ہاؤس بوٹ (House Boat) ایک کشتی جس میں رہتے بھی ہیں۔

ہاؤس سرجن (House Surgeon) (انگ) (۱) مذ) وہ ڈاکٹر جرنلج

جو شفا خانے میں سب سے طبیب مقیم شفا خانہ۔

ہائی - (ہا - ای) (۱-۵) [مرث] (۱) حالت۔ طور۔ وضع۔ ڈھنگ۔ کیفیت۔

(۲) بذاتی۔ رسوائی۔

ہائی - (High) (ہا - ای) [انگ] (۱) صاف بلند۔ اونچا۔ بالا۔ (۲) بڑا۔

اعلیٰ۔ اونچے درجے کا۔

ہائی اسکول - (High School) (انگ) (۱) مذ) مدرسہ فوقانی۔ بڑا

مدرسہ۔ وہ اسکول جس میں دسویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہو۔

ہائی جمپ (High Jump) (انگ) (۱) مذ) اونچی چھلانگ۔

ہائی کمان (High Command) (انگ) (۱) مرث) اعلیٰ قیادت

سالار اعلیٰ اور اس کا منصب۔

ہائی کمشنر - (انگ) (۱) مذ) سفیر۔ نمائندہ حکومت۔

ہائی کورٹ - (انگ) (۱) مذ) عدالت عالیہ۔

ہائے - (ہائے - اے) (۱) [مرث] (۱) افسوس۔ دریغ (۲) آہ۔ فریاد۔

(۳) بیماری یا کھچ کی حالت کی آواز۔ ماتم۔

ہائے اللہ - (۱) کلمہ نمازیہ) اے خدا۔ یا اللہ۔

ہائے رنے - (۱) کلمہ ناست و درو۔

ہائے غضب - (۱) کلمہ نمازیہ) کیا ستم جو اربا غضب ہوا۔

ہائے وہ بھی کیا زمانہ تھا - (۱) مقولہ) گذشتہ زمانے کو افسوس کے

ساتھ یاد کرنے کا زمانہ۔

ہائے ہائے - (۱) تابع فعل) کلمہ ناست، آہ آہ۔ واویلا۔ آہ وزاری۔

(۲) پکار۔ مانگ۔ طلب۔

ہائے ہائے کرنا۔ (۱-محاورہ) (۱) کراہنا۔ آہیں بھرنانا (۲) واویلا کرنا۔ نل

مجانا۔ (۳) بڑی محنت کرنا (۴) کسی کام میں جان مارنا کسی چیز کے نہ

ہونے کی پکار چجانا۔

ہائے ہو - (ہاؤ - ہاؤ) (۱) واویلا۔ غل شور۔ آہ و نالہ۔ چیخو دھاڑ۔

ہائیڈرو - (Hydro) (ہاؤ - رو) (انگ) (۱) سابقہ) پانی کا پانی سے

متعلق۔

ہائیڈرو الیکٹرک - (Hydro-Electric) (انگ) (۱) مذ) پانی

سے بجلی پیدا کرنے والا۔

ہائیڈروفوبیا - (Hydrophobia) (انگ) (۱) مذ) پانی کا خوف

جو کتے کے کالے کی علامت ہے۔ (۲) جنوں سگر۔ گزیدگی

کی ہیرک

ہائیڈروگرافی - (Hydrography) (انگ) (۱) مرث) علم

بحار و انہار۔





ہنٹھ چھٹ - (۵ - مٹ) وہ جو ذرا سی چھید چھار پر بے دھڑک مار بیٹھے۔  
وہ جس کا ہاتھ مارنے میں بہت لمبے دھڑک جیتا ہو۔

ہنٹھ کٹی - (۵ - مٹ) جتنی زنی - مٹھو لے بازی۔  
ہنٹھ کٹی - (۵ - مٹ) وہ ضرب جو چھیکت حریت کے ہاتھ پر مارا ہے تاکہ ہاتھ بیکار ہو جائے۔

ہنٹھ کڑا رکھنا - (۱ - محاورہ) کسی سے زبردستی کام کرانا۔ بگاڑ لینا۔  
ہنٹھ کڑی - وہ آہنی کڑیاں جو مجرم کے ہاتھ میں ڈالی جاتی ہے۔  
ہنٹھ کھل - (۱ - مٹ) (۱ - دست) - کھٹکا۔ کواڑکی دستی یا موٹھ (۳) دروازے کی بنی۔

ہنٹھ کھنڈا - (۱ - مٹ) ہاتھ کا کرنب۔ ہانڈھ کی چالاک - (۲) چال - فریب چالاک - عیاری - (۳) ہڈی کی عادت - (۴) داؤل - بیچ - گھات۔

ہنٹھ کھنڈا بنا دینا - (۱ - محاورہ) لٹکا بنا دینا۔ طریق بنا دینا۔  
ہنٹھ کھنڈے رواں ہونا - (۱ - محاورہ) کسی کام پر مشاق ہونا۔  
ہنٹھ گاڑی - (۱ - مٹ) ہاتھ سے چلانے والی گاڑی۔  
ہنٹھ لیوا - (۱ - مٹ) ہندوؤں کی ایک رسم جس میں دولہا دلہن کے ہاتھ ملا دیتے ہیں۔

ہنٹھ - (۱ - مٹ) ہاتھ کا مخفف۔  
ہنٹھ نامک - (۱ - مٹ) ہاتھ کی چالاک بیعیدہ بازی۔  
ہنٹھ نال - (۱ - مٹ) ایک قسم کی چھوٹی توپ جسے ہاتھ کی پیٹھ پر لادتے ہیں۔

ہنٹھنی - (۱ - مٹ) ہاتھ کی (۱) ہاتھ کی مادہ - (۲) کناٹیہ بہت فریب انداز عورت۔  
ہنٹھنی - (۱ - مٹ) ہاتھ کی (۱) دستی - موٹھ - (۲) گھوڑا صاف کرنے کا برش۔

ہنٹھنیا - (۱ - مٹ) ہاتھ (۲) دستہ (۳) برسات کے چند روز جن میں خوب بارش ہوتی ہے۔ وہ بارش جو بہ شدت ہوتی ہے۔

(۲) ماہ اسوج کے شروع کی بھڑکی  
ہنٹھیار - (ہنٹھ - یار) [اسلمہ - سامان جنگ - (۳) اوزار - کام کرنے کا آذر - راجھ۔

ہنٹھیار بائدھنا - (۱ - محاورہ) - ہنٹھیار کا جسم پر آراستہ کرنا۔  
ہنٹھیار بند - (۱ - مٹ) ہنٹھیار لگائے ہوئے مسلح۔

ہنٹھیار چلانا - (۱ - محاورہ) ہنٹھیار کا وار کرنا۔ ہنٹھیار کی ضرب لگانا۔ جنگ کرنا۔

ہنٹھیار ڈال دینا - ہنٹھیار رکھ دینا - (۱ - محاورہ) اپنے آپ کو دشمن کے حملے کر دینا۔ ہار ماننا۔ شکست تسلیم کرنا۔

ہنٹھیار کھولنا - (۱ - محاورہ) کناٹیہ لڑائی سے دست بردار ہونا۔ ہار مان لینا۔  
ہنٹھیار گھر - ہنٹھیار خانہ - (۱ - مٹ) ہنٹھیاروں کے رکھنے کا مکان۔

ہنٹے (ہنٹے) پر چڑھنا - (۱ - محاورہ) (۱) ہاتھ لگنا۔ داؤں پر چڑھنا۔ کسی کے قابو میں آجانا۔ (۲) مشق کرنا۔ بہارت ہونا۔

ہنٹے (ہنٹے) سے اکھڑنا - (۱ - محاورہ) پینک کا ہاتھ پر سے ٹوٹنا۔ (۲) جڑ سے جانا۔ (۳) بالکل الگ ہو جانا۔ ابتدا ہی سے قابو سے باہر ہو جانا۔

ہنٹے (ہنٹے) سے بڑھنا - (۱ - محاورہ) بغیر چھڑائی لیے ہوئے پینک کا ہاتھوں سے بڑھنا۔

ہنٹک - (ع - ۱ - مٹ) پردہ دری - رسوائی - بے نرمی - بے عزتی - (اردو میں بیشتر بفتح اول و دوم متصل ہے)۔

ہنٹک آمیز - (ر - صفت) بے عزتی سے بھرا ہوا۔ گستاخانہ۔  
ہنٹک عزت - (ع - ف - صفت) کسی کی عزت میں بڑھ لگانا کسی کو رسوا و بدنام کرنا۔

ہنٹو - (۵ - تو) (۱ - مٹ) محبت - ہوا خواہ - یہی خواہ - بیخواہ۔  
ہنٹو اس - (ہت - وان - سا) [محص - ۱] ہاتھ میں لینا - (۲) قبضے پر ہاتھ رکھ کر تلوار ہاتھ میں لینا۔

ہنٹوٹی - ہنٹوٹی - (۵ - تو - ٹی) - (۵ - ٹھو - ٹی) [مٹ] دستکائی۔  
چالاک - عیاری۔

ہنٹوٹا - ہنٹوٹا - (۵ - تو - ٹا) - (۵ - ٹھو - ٹا) [مٹ] لوہاروں کا ایک اوزار - کومنے کا آلہ - مار تول۔

ہنٹوڑی - ہنٹوڑی - (۵ - تو - ٹی) - (۵ - ٹھو - ٹی) [مٹ]۔  
چھوٹا ہنٹوٹا۔

ہنٹھ - (۱ - مٹ) ہاتھ کا مخفف۔  
ہنٹھ اڈھار - (۱ - مٹ) وہ قرض جو گرو رکھے بغیر دیا جائے۔ دست گرداں قرض۔

ہنٹھ اڈھار دینا - (۱ - محاورہ) دست گرداں قرض دینا۔ بغیر کچھ گروی رکھے روپیہ دینا۔

ہنٹھ پھول - (۱ - مٹ) ایک قسم کی آتش بازی جس سے پھول جھڑنے ہیں اور جسے ہاتھ میں لے کر چھوڑتے ہیں۔

ہنٹھ پھیر - (۱ - مٹ) ہاتھ کی چالاک۔  
ہنٹھ پھیرکی - (۱ - مٹ) دست مالی - مساس مشتوق کے بدن پر ہاتھ پھیرنا - (۲) غبن - صفایا۔ دست برد - (۳) شہیدہ بازی - ہانڈھ چالاک۔

ہنٹھ پھیرنی کرنا - (۱ - محاورہ) - (۱) دست مالی کرنا۔ مساس کرنا۔ ہانڈھ پھیرنا - (۲) کمزور فریب سے کسی کا مال لے لینا۔ فریب سے کسی کو اپنے دام میں لانا۔

ہنٹھ چوڑی - (۵ - مٹ) پہلوانوں کا نشئی کا معاہدہ کرنے کی غرض سے ہاتھ ملانا۔ (۲) ایک قسم کی گھاس جو دو داؤں میں کام آتی ہے۔

ہنٹھ چلا - (۱ - مٹ) - ہاتھ کا چالاک - عیار۔

۵ - ط

اسلمہ خانہ

ہتھیار لگانا - (۱- محاورہ) ہتھیار باندھنا - مسلح ہونا۔  
 ہتھیالینا - (ہتھ - یا - لے - نا) - [۱- مص] آقبضہ کر لینا، مار لینا۔ مال کو  
 و بار کھنا۔  
 ہتھیانا - ہتھیانا - (ہتھ - یا - نا) - (ہت - یا - نا) - (۱- محاورہ) ہاتھ میں لے  
 لینا۔ قبضہ کرنا۔ غضب کرنا۔  
 ہتھیلی ہتھیلی - (ہ - ہتھیلی - لی) - (ہ - تے - لی) - [۱- مرث] ہاتھ کا  
 اندرونی حصہ جو انگلیوں سے نیچے ہوتا ہے۔ کف دست۔  
 ہتھیلی بجانا - (۱- محاورہ) تالی بجانا۔  
 ہتھیلی پر جان لیے پھرنا - (۱- محاورہ) جان کی پرواہ نہ کرنا۔ نڈر ہونا۔  
 ہتھیلی پر سر رکھ لینا (رکھنا) - (۱- محاورہ) مرنے کو آمادہ ہونا۔ سر سے  
 کفن باندھ لینا۔ سر بچھت ہونا۔  
 ہتھیلی پر سر سول جمانا - (۱- محاورہ) کوئی کام اس طرح آنا فنا کرنا  
 جس سے عقل حیران رہ جائے۔ مشکل کام کو نہایت پھرتی سے  
 کر دینا۔  
 ہتھیلی پر سر لیے پھرنا - (۱- محاورہ) مرنے کو پھرنا۔ جان دینے کو پھرنا۔  
 ہر وقت مرنے پر آمادہ ہونا۔  
 ہتھیلی پر لیے پھرنا - (۱- محاورہ) عورت کا شہوت سے منسوب ہونا۔  
 ہتھیلی پر ہونا - (۱- محاورہ) ہتھیلی پر رکھ کر پیش کیا جانا۔  
 ہتھیلی پٹینا - (۱- محاورہ) تالی بجانا۔  
 ہتھیلی ٹیک - (ہ - صفت) بولسیا - گانڈو۔  
 ہتھیلی جینا - (۱- محاورہ) انتہائی غصے کا اظہار کرنا۔  
 ہتھیلی دینا - (۱- محاورہ) سہانا دینا۔  
 ہتھیلی سٹلانا - ہتھیلی میں ہلکی ہلکی خارش ہونا۔ (رو پیٹنے کا شگون)  
 ہتھیلی سے ماتھا کوٹنا - (۱- محاورہ) حیرت یا حسرت ظاہر کرنا۔  
 ہتھیلی کا پھپھولا (پھوڑا) - (۱- مذ) - (۱۱- ہتھیلی کا پھالا - (۲) نازک چیز  
 جو ذرا سے صدمے سے ٹوٹ جائے۔ (۳) کوئی امر جو باعث رنج و  
 تکلیف ہو۔  
 ہتھیلی کھچانا - ہتھیلی کھچلانا - (۱- محاورہ) (۱) ہتھیلی میں کھلی ہونا۔ (۲)  
 روپے ہاتھ آنے کا شگون۔ (۳) تھپتھپانے کو بھی چاہنا۔  
 ہتھیلی کی مچھلی - (۱- مرث) انگوٹھے کے نیچے کا ابھرا ہوا گوشت۔  
 ہتھیلی میں چور پٹنا - (۱- محاورہ) ہندی کے رنگ میں دھبہ رہ جانا۔  
 ہتھیلی میں سفیدی رہ جانا۔ ہندی کیسا نہ لگنا۔  
 ہتھیلیا - (ہتھ - یا - س) - [۱- مرث] (۱) قتل - خون - (۲) پاپ - گناہ۔  
 جرم - (۳) ڈکھ - مذاب۔  
 ہتھیلی باندھنا - (۱- محاورہ) عذاب نول لینا۔ پاپ - تکلیف وہ چیز لینا۔  
 ہتھیلیا - (ہتھ - یا - لا) - (۱- صفت) (۱) ہتھیلیا کرنے والا - نحوی - قاتل -  
 ہتھیلیا جلاؤ - (۲) پاپی - سفاک ظالم۔  
 ہتھیلیا کرنا - (۱- محاورہ) مارنا۔ قتل - (۲) گناہ کرنا۔

ہٹ - (۱- مرث) (۱) ہند - اصرار - اڑ - (۲) ہٹ کا محقق۔  
 ہٹ اٹھانا - (۱- محاورہ) ہند پر داشت کرنا۔ ناز اٹھانا۔  
 ہٹ پر آجانا - (۱- محاورہ) ہند پر آجانا۔ ناز اٹھانا۔  
 ہٹ جانا - (۱- محاورہ) ہند چھوڑ دینا۔ (۲) الگ ہو جانا۔  
 ہٹ دھرم - (ہ - صفت) حق ناشناس۔ نامصنّف - بے ایمان - بد معاش۔  
 سخن پرورد - ہندی۔  
 ہٹ دھرمی - (۱- صفت) بے انصافی - بے ایمانی - بد معاشگی۔  
 ہٹ رکھنا - اپنی ہند پروری کرنا۔  
 ہٹ کا پورا - (۱- مرث) ہٹ پر قائم رہنے والا۔ پکا ہندی۔  
 ہٹ کرنا - (۱- محاورہ) ہند کرنا۔ اصرار کرنا۔ اڑنا۔  
 ہٹا - (ہٹ - ٹا) - [س - ۱- مذ] جس فروخت کرنے کا بازار۔  
 ہٹا کٹا - (ہٹ - ٹا) - [کٹ - ٹا] [صفت] موٹا نازہ۔ مشتعل۔ جوان۔  
 نندرسنت - مضبوط انسان۔  
 ہٹانا - (ہ - ٹا - نا) - [۱- مص] (۱) ہر گانا۔ پر سے کرنا۔ کھسکانا۔ (۲)  
 واپس کرنا۔ پھیرنا۔ لوٹنا۔ (۳) علیحدہ کرنا۔ الگ کرنا۔ (۴) پسپا  
 کرنا۔ شکست دینا۔  
 ہٹ پٹانا - (ہٹ - پ - ٹا - نا) - [۱- مص] کسی کام کے لیے مضطر  
 ہونا۔  
 ہٹ نال - (ہٹ - نال) - [۱- مرث] (۱) ہٹ (بازار) تالی (فعل)  
 دوکان میں فعل لگانا۔ دوکانوں کو بند کر دینا۔ بازار بند کرنا۔  
 ہڑتال۔  
 ہڑی - (۱- مرث) بچوں کا کھلونا۔ بچے دیوالی میں پھولوں کی  
 شاخوں سے مکان کی شکل بنا کر اور اس میں دیار رکھ کر کھیلتے  
 ہیں۔  
 ہٹکنا - (ہ - ٹک - نا) - [۱- مص] (۱) روکنا (۲) بھجکنا۔ (۳) ہچکچانا۔  
 ہٹنا - (ہٹ - نا) - [۱- مص] (۱) ہر کرنا۔ پر سے ہونا۔ کھسکانا۔ (۲)  
 فنکست کھانا۔ پسپا ہونا۔ (۳) لوٹنا۔ واپس ہونا۔ پھیرنا۔ (۴) گانے  
 بھینس کا دودھ سے رہ جانا۔ (۵) ہتھی ہونا۔ (۶) ہند کرنا۔  
 ہٹوا - (ہٹ - وا) - [۱- مذ] (۱) دکاندار (۲) ہٹ بازار میں نقد  
 وغیرہ تولنے والا۔  
 ہٹوان - ہٹوانیا - (ہٹ - وان - ہٹ - وا - ن - یا) - [۱- مذ]  
 دکاندار۔  
 ہٹی - (ہٹ - ٹی) - [۱- مرث] (۱) دکان۔ ہٹ - بازار۔ (۲)  
 [صفت] ہندی۔ ہٹیللا۔  
 ہٹی کٹی (ہٹ - ٹی - کٹ - ٹی) - [۱- صفت] ہٹا کٹی تانیش۔  
 موٹی تازی عورت۔

ہٹیللا - (۵- فی - لا) [۵- صفت] ضدی - چلا - اڑیل - بات کی تہج کرنے والا۔  
 ہٹیلانی - (۵- فی - بی) [۵- صفت] ہٹیللا کی تائینت - ضدی عورت۔

۵ - ج

تہج جانا - (تہج - جانا) [آر - مص] دیکھیے جینا۔  
 تہج مچھڑ - (۵ - چمڑ - م - چمڑ) [۵-۱- مٹ] [۱] پس و پیش - مال مٹول۔  
 تہجنا - (۲) جھجکا - جھجکا ہٹ - (۳) پکڑو وھکڑو - جھجکا (۴) رکاز۔

۵ - ج

ہجا - (۵- جا) [ع - ۱- مذ] حرف کا اعراب سے ظاہر کرنا۔  
 ہجدرہ - (ف - ۱- عدد) اٹھارہ (۱۸)۔  
 ہجدرم - (ف - عدد) اٹھارواں۔  
 ہجدرہ ہزار عالم - (ف - ۱- مذ) مسلمانوں کا نینال ہے کہ انٹرن ہزارہا عالم باجیان پیدا کیے۔  
 ہجر - (ع - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] جہاڑی - مفارقت - علیحدگی - (ج) صبح بالغت ہے اور وہیں بالکشم متعل ہے۔

تہج مچھڑ کرنا - (۱- مص - مرکب) پس و پیش کرنا - شش و پنج کرنا - تامل۔  
 تہجکٹ - (۵- چکٹ) [۵-۱- مٹ] [۱] دھکا - جھٹکا - (۲) تامل - رکائٹ۔  
 (۳) جھجکا - جھجکا ہٹ۔

ہجران - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] جہاڑی - مفارقت۔  
 ہجران نصیب - (ع - ف - صفت) وہ آدمی جس کی قسمت میں دولت یا عزیز سے ہمدار ہونا لکھا ہو۔

تہجکٹ - (۲) جھجکا - (۳) جھجکا ہٹ۔  
 تہجکٹا - (۱- مص) [ع - ۱- مذ] [۱] ڈور کی چرخی - (۲) دھکا - ہچکولا - جھٹکا۔  
 تہجکا نا - (۱- مص) [ع - ۱- مذ] [۱] چھین لینا - زبردستی لے لینا۔ (۲) جھٹکا دینا۔ دھکا دینا۔ (۳) روکنا۔

ہجرت - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا۔  
 (۲) پیغمبر صلعم کا مکہ سے مدینہ جانا۔  
 ہجرتی - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] مسوہ ہجرت (۲) وہ سن جو حضرت پیغمبر اسلام کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے شروع ہوتا ہے۔

تہجکا ہٹ - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] کب - چاہٹ - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] مٹ۔  
 تہجکنا - (۵- چکٹ) [ع - ۱- مذ] [۱] تامل کرنا - (۲) ہمانہ کرنا۔

ہجرتا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] دیکھیے ہجرتا۔  
 ہجرتا - (ع - ۱- مٹ) [۱] مذمت - برائی - بدگوئی بظلم میں کسی کی برائی کرنا۔  
 ہجرتا کرنا - (۱- محاورہ) مذمت کرنا - بدگوئی کرنا۔  
 ہجرتا گھنا - (۱- محاورہ) کسی کی جھوٹیں شہر کرنا۔

تہجکولا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] دھکا - جھٹکا - جھٹکا۔  
 تہجکی - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] وہ ہوا جو آواز کے ساتھ لگے سے لگ کر نکلتی ہے۔ (۲) وہ حالت جو جان کنی کے وقت ہوتی ہے۔

ہجرتا کو - (ع - ف - صفت) جھوٹے والا۔  
 ہجرتا مچ - وہ جہاڑی میں بظاہر مدح ہو لیکن اصل میں جھوٹے۔  
 ہجرتا مچ - (۵- جوم) [ع - ۱- مذ] [۱] بھیر بھیرا - انہوہ کثیر - جمع - ازدحام۔  
 ہجرتا کرنا - (۱- محاورہ) [۱] بھیر کرنا - ازدحام - (۲) ہنگامہ کرنا۔

تہجکی آنا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] آواز کے ساتھ سانس رگ رگ نکلنا۔ (۲) دم ٹوٹنا۔ جان کنی کا وقت ہونا۔

ہجرتا - (۵- جوم) [ع - ۱- مذ] [۱] بھیر کرنا - ازدحام۔ (۲) ہنگامہ کرنا۔

تہجکی لہنا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] لگانا - ہجرتا کرنا۔  
 تہجکی لہنا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] لگانا - ہجرتا کرنا۔  
 تہجکی لہنا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] لگانا - ہجرتا کرنا۔

ہجرتا - (۵- جوم) [ع - ۱- مذ] [۱] بھیر کرنا - ازدحام۔ (۲) ہنگامہ کرنا۔  
 ہجرتا - (۵- جوم) [ع - ۱- مذ] [۱] بھیر کرنا - ازدحام۔ (۲) ہنگامہ کرنا۔  
 ہجرتا - (۵- جوم) [ع - ۱- مذ] [۱] بھیر کرنا - ازدحام۔ (۲) ہنگامہ کرنا۔

تہجکی لہنا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] لگانا - ہجرتا کرنا۔  
 تہجکی لہنا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] لگانا - ہجرتا کرنا۔  
 تہجکی لہنا - (ج - ۱- مذ) [ع - ۱- مذ] [۱] لگانا - ہجرتا کرنا۔

ہجرتا - (۵- جوم) [ع - ۱- مذ] [۱] بھیر کرنا - ازدحام۔ (۲) ہنگامہ کرنا۔  
 ہجرتا - (۵- جوم) [ع - ۱- مذ] [۱] بھیر کرنا - ازدحام۔ (۲) ہنگامہ کرنا۔  
 ہجرتا - (۵- جوم) [ع - ۱- مذ] [۱] بھیر کرنا - ازدحام۔ (۲) ہنگامہ کرنا۔

۵ - د

ہڈا - (۵- ڈا) [ع - ۱- مذ] [۱] ہڈا ہڈیت - سیدھا راستہ۔  
 ہڈا ہڈا - (۵- ڈا - یا) [ع - ۱- مذ] [۱] ہڈا ہڈی کی جمع - تختے - نڈریں - نڈرانے۔  
 ہڈا ہڈی - (۵- ڈا - یا) [ع - ۱- مذ] [۱] ہڈا ہڈی کی جمع - تختے - نڈریں - نڈرانے۔

ہڈا ہڈیت - (۵- ڈا - یا) [ع - ۱- مذ] [۱] ہڈا ہڈی کی جمع - تختے - نڈریں - نڈرانے۔  
 ہڈا ہڈیت - (۵- ڈا - یا) [ع - ۱- مذ] [۱] ہڈا ہڈی کی جمع - تختے - نڈریں - نڈرانے۔  
 ہڈا ہڈیت - (۵- ڈا - یا) [ع - ۱- مذ] [۱] ہڈا ہڈی کی جمع - تختے - نڈریں - نڈرانے۔

ہدایت کار - (ع - ف - صفت) دیکھیے ڈائریکٹر۔  
 ہدایت کرنا - (۱- محاورہ) رہنمائی کرنا۔ سمجھنا۔ طریقہ بتانا۔ سکھانا۔  
 ہدایت نامہ - (ع - ۱- مذ) دستور العمل۔ قانون۔ وہ رسالہ یا کتاب  
 جس میں کسی امر کی بابت تمام طریقے لکھے ہوں۔  
 ہڈر - (۵- ڈ) [ع - ۱- مذ] کسی کے خون کو مباح قرار دینا۔  
 ہڈف - (۵- ڈف) [ع - ۱- مذ] نشانہ۔ زد۔ مار۔  
 ہڈف آفت - (ع - ۱- مذ) آفت کا نشانہ۔ آفت میں مبتلا۔  
 ہڈف بنانا - (۱- محاورہ) نشانہ بنانا۔  
 ہڈف بننا - (۱- محاورہ) نشانہ بننا۔ زد پر آنا۔ زد پر ہونا۔  
 ہڈف مارنا - (۱- محاورہ) (۱) نشانہ مارنا۔ نشانے پر تیر مارنا۔ (۲) کوئی  
 بڑا کام کرنا۔  
 ہڈف ملامت - (ع - صفت) وہ شخص جس پر ہر طرف سے لعنت  
 طارت ہو۔  
 ہڈم - (ع - صفت) تباہی۔ بربادی۔ انہدام۔  
 ہڈم - (ع - صفت) برباد کرنے والا۔ تباہ کرنے والا۔  
 ہڈ پلہ - (ہڈ - ہڈ) [ع - ۱- مذ] ایک مشہور خوبصورت پرند جس کے سر پر تاج  
 ہوتا ہے۔ کھڑی۔  
 ہڈی - (۵- ڈی) [ع - ۱- مرث] قربانی کا جانور جو حاجی مکہ معظمہ میں لے  
 جاتے ہیں۔  
 ہڈیہ - (۵- ڈی - پی) [ع - ۱- مذ] (۱) تحفہ۔ نذرانہ۔ نذر۔ پیش کش۔ (۲)  
 کلام اللہ کی قیمت دقاری اور اردو میں "و" کے سیزم کے ساتھ  
 اور بلا تشدید "یا" بھی متعلق ہے۔ جمع، ہدایا۔  
 ہڈیہ پیش کرنا (۱- محاورہ) - تحفہ یا نذرانہ دینا۔  
 ہڈیہ کرنا - (۱- محاورہ) قرآن شریف فروخت کرنا۔ کوئی منبرک چیز بیچنا۔

اس کے تمام برے آتا۔  
 ہڈی لسی ایک گروینا - (۱- محاورہ) بڑی سختی سے بھینچنا۔ (۲) بہت  
 ہڈی لسی توڑنا - (۱- محاورہ) خوب مارنا۔ سخت زد کو کوب کرنا  
 ہڈی (ہڈیاں) چھڑ کرنا - (۱- محاورہ) مار مار کر بھگس نکال دینا۔  
 ہڈی کھلنا - (۱- محاورہ) تپ کہنے و امراض مہک میں ہڈی کا کھوکھلا  
 ہوجانا۔  
 ہڈی میں ہڈی - سپونڈر میں سپونڈر ملنا - (۱- محاورہ) نسل میں نسل  
 اور قوم میں قوم ملنا۔ میاں بیوی کا اچھی نسل سے ہونا۔  
 ہڈی ہڈی توڑنا - (۱- محاورہ) خوب زد کو کوب کرنا۔ بہت مارنا۔  
 ہڈیاں بولنا - (۱- محاورہ) - بھینچنے سے ہڈیوں کا آواز دینا۔ اٹھنے بیٹھنے  
 میں ہڈیوں سے آواز نکلنا۔  
 ہڈیاں توڑنا - (۱- محاورہ) خوب پینا یا مار کر بھگس نکال دینا۔  
 ہڈیاں چھوڑنا - (۱- محاورہ) (دکنایت) (۱) ناقص چیز کو چھوڑنا۔ ناقص چیز  
 کے پیچھے پڑنا۔ (۲) باندھے ہوئے مضمون کو باندھنا۔  
 ہڈیاں خاک میں سوہنا - (۱- محاورہ) نعتش دفن کرنا۔  
 ہڈیاں سر سر ہو جانا - (۱- محاورہ) ہڈیوں کا چور چور ہوجانا۔  
 ہڈیاں پچلنا - (۱- محاورہ) خوب مارنا۔ ضرب شدید پہنچانا۔  
 ہڈیاں بکن لینا - (۱- محاورہ) - (دکنایت) لاغری کے باعث ہڈیاں  
 صاف دکھائی دینا۔  
 ہڈیاں نکل آنا - (۱- محاورہ) کمال لاغر ہونا۔  
 ہڈیاں کی مالا ہوجانا - (۱- محاورہ) سوکھ کر چھڑ نکل آنا۔ سوکھ کر کاٹا  
 ہوجانا۔  
 ہڈیلا - (۵- ڈی - لا) [ع - صفت] ہڈی دار۔

۵- ڈ

ہڈ - (Hood) (۱) ٹنگ - (۱- مذ) (۱) سر اور گردن کی پوشش۔ کلاہ۔  
 (۲) ٹانگے وغیرہ کی کپڑے کی حیرت یا سائبان۔ (۳) بوہن پور سٹی [۲]  
 وہ پٹی جو گون وغیرہ کے ساتھ پہنی جاتی ہے اور جس کے رنگ  
 سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہننے والے نے کونسی سند حاصل کی ہے۔  
 ہڈا - (ہڈ - ڈا) [ع - ۱- مذ] (۱) بڑی ہڈی۔ (۲) وہ ہڈی جو گھوڑے کے  
 پچھلے پاؤں کے گھٹنوں میں جوڑے کے پاس بڑھ جاتی ہے اور گھوڑا  
 نکل کرنے لگتا ہے۔  
 ہڈرا - (ہڈ - را) [ع - ۱- مذ] ہڈی گت۔ براؤریہ۔ برا حال  
 ہڈرا کرنا - (۱- مص - مرکب) برا حال کرنا۔ بڑا دوجہ کرنا۔  
 ہڈرمنی - (ہڈ - ڈی) [ع - ۱- مرث] (۱) استخوان۔ (۲) گاجر کے اندر کی  
 سخت چیز۔ (۳) دکنایت، اصل - نسل۔  
 ہڈی بٹھانا - (۱- محاورہ) جو ہڈی اپنی اصلی جگہ سے بہرک گئی ہو اسے

۵- ڈ

لہذا - (ہا - ڈا) [ع - اسم اشارہ] یہ - ایں  
 ہڈر - (ع - ۱- مذ) کبواں - بہت بولنا۔ بک بک کرنا۔ (۳) ہڈیاں  
 ہڈیاں - (ہڈ - یان) [ع - ۱- مذ] (۱) ہڈر۔ بیہودہ گوئی۔ (۲)  
 شدت بخار کی حالت میں بے معنی گفتگو۔ (صحیح) بقیع اول و دوم ہے۔  
 فارسیوں نے سکون دوم استعمال کیا ہے۔ اردو میں بیشتر بکیر  
 اول متعلق ہے۔  
 ہڈیاں بکنا - (۱- محاورہ) بے ہودہ باتیں کرنا۔

۵- ل

ہڈر - [ع - ۱- ۵- مذ] (۱) دشمن۔ کرشن۔ مہاویو۔ (۲) خدا۔ پریشور۔ بھگوان۔  
 (۳) ریل۔ قلبہ۔ (۴) ہڈر۔ بلبہ۔

ہر بھجن - (۵-۱-سٹ) دشو کی عبادت۔ مہادیو کا بھجن۔  
 ہر بھجننا - (۱-محاورہ) خدا کا نام لینا۔ مالا بھینا۔  
 ہر بھجنکت - (۵-۱-صفت) دشو کی عبادت کرنے والا۔  
 ہر کو بھیجے سو ہر کا ہوتے۔ ذات پات تو پوچھے کوئے۔ (ایشل)  
 جو شخص خدا کی بندگی کرتا ہے وہی اس کا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کے  
 نزدیک ذات پات کی کوئی قدر نہیں۔  
 ہر لگا کرنا۔ (۱-محاورہ) نہانے وقت خدا کا نام لینا۔  
 ہر - (ف) (۱) ایک۔ ایک۔ (۲) تمام۔ سب۔ یہ لفظ مجموعہ افراد  
 یا اشیاء میں سے فرداً فرداً ذکر کرنے کے واسطے بولا جاتا ہے جمع  
 کے ساتھ استعمال درست نہیں۔  
 ہر آن - (۱-تابع فعل) (۱) ہر لمحہ۔ ہر گھڑی۔ (۲) ہر دفعہ۔  
 ہر آنچہ - (ف) تابع فعل (جو بچھہ۔  
 ہر آنکھ - (ف) تابع فعل (جو غص۔  
 ہر آہنہ - (ف) صفت) بے شک۔ ضرور۔ البتہ۔ بہ حال۔ بہ حال میں۔  
 ہر ایک - (۱-تابع فعل) ہر شخص۔ ایک ایک۔ ہر پتھر۔  
 ہر بانی - (ف) صفت) دروازے پر جانے والا۔ ہر جانی۔  
 ہر بار - (ف) تابع فعل) ہر دفعہ۔ ہر بار۔ گھڑی گھڑی۔  
 ہر بیشہ گماں ہر کھالی سستے قیاد کہ پلنگ حقیقتہ باشد۔ (ف) (ش)  
 ہر جنگل کو خالی مت سمجھو شاید اس میں چھینا سورا ہو یعنی کسی  
 مقام پر بھی آدمی کو اپنے دشمن سے غافل نہ رہنا چاہئے۔  
 ہر ہلو سے - (۱-تابع فعل) ہر طرح سے۔ ہر بات کے متعلق۔  
 ہر جانی - (ف) صفت) (۱) آوارہ گرد۔ ایک جگہ قرار نہ پکڑنے والا (۲)  
 کسی ایک کا ہو کر نہ رہنے والا۔ بے مروت۔ بے وفا۔  
 ہر جانی پن - ہر جانی پنا۔ (۱-مذ) بے مروتی۔ بے وفائی۔ ہر ایک  
 سے تعلق رکھنا ایک کا پابند ہو کر نہ رہنا۔  
 ہر جیسے تو جیسا۔ (ایشل) جیسا کوئی ہوتا ہے ویسا ہی اُسے مل جاتا ہے۔  
 ہر چند - (ف) تابع فعل) کتنا ہی کیسا ہی۔ بہتیرا۔ (اس کے آگے  
 کہ زیادہ بھی لگا دیتے ہیں)۔  
 ہر چہ - (ف) تابع فعل)۔ ہر چیز۔ جو بچھہ۔  
 ہر چہ از (دوست) عجیب می رسد نیکو سست - (ف) مقولہ) عالم  
 غیب (دوست) سے اچھا برا جو کچھ بھی ملے وہ اچھا ہے۔  
 ہر چہ باوا باو - (ف) مقولہ) کچھ ہی کیوں نہ ہو جو ہو سو ہو۔ کچھ ہی ہو۔  
 ہر چہ باوا باو ماکشتی درآب (اندلسیتیم) آگندہ ایم)۔ (ف) (ش)  
 جو کچھ بھی جو تم نے تو کشتی پانی میں ڈال دی اس وقت بولنے  
 ہیں جب کوئی شخص انجام کی پرواہ کیے بغیر کوئی اہم کام شروع  
 کرتے۔  
 ہر چہ باشد - (ف) مقولہ) کوئی چیز کیوں نہ ہو۔  
 ہر چہ بخود نہ پسندیں ہر دیگر ان پسند - (ف) (ش) جو تو اپنے  
 لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر۔

ہر چہ وانا کند، کند ناواں - ایک بعد از خرابی بسیار وقت۔  
 (ش)۔ نادان آخر وہی کرتا ہے جو عقائد کرتا ہے لیکن بڑی ذلت  
 اور تکلیف اٹھانے کے بعد۔  
 ہر چہ دردیک است بچھہ سے آید - (ف) (ش) جو دیک میں  
 ہے وہی بچھہ میں آتا ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر آتا  
 ہے۔  
 ہر چہ در کان نمک رفت نمک شد - (ف) (ش) جو چیز نمک  
 کی کان میں پڑی نمک ہوگئی۔ یہ شل تاثر صحبت کے اظہار  
 میں بولی جاتی ہے۔  
 ہر چہ گیر بد مختصر گیر بد - (ف) (ش) جو کچھ لوٹھو ڈالو۔ ٹھوڑی چیز پر  
 قناعت کرو۔ زیادہ کی ہوس نہ کرو۔  
 ہر حال میں - (۱) متعلق فعل) ہر حالت میں۔ ہر طرح۔ بہ حال۔ بہر  
 حیث۔  
 ہر دفعہ - (ف) متعلق فعل) ہر بار ہر موقع پر۔ ہمیشہ۔  
 ہر دفعہ کھڑے بیٹھا ہی بیٹھا۔ (۱) (ش) گڑھ کو جب دیکھو بیٹھا ہی ہو  
 گا۔ اچھے کی ہمیشہ اچھی نکلتی ہے۔  
 ہر دل عوز - (۱) تابع فعل) سب کا پیارا۔ عام پسند مقبول عام۔  
 ہر دم - (متعلق فعل) ہر وقت۔ ہر گھڑی۔ ہر لمحہ۔  
 ہر دو - (ف) تابع فعل)۔ دونوں۔ دونوں کے دونوں۔  
 ہر دو بچی بچھہ - (۱) صفت) (۱) ہر جانی۔ ہر شخص کے پاس آنے جانے  
 والا۔ (۲) طفیل۔ مفت خورا۔ رکابی مذہب۔  
 ہر روز - (ف) تابع فعل) روزمرہ۔ بلاناغہ۔ ہمیشہ۔ سارا۔  
 ہر روز عید میست کہ حلو انجور دکھے۔ (۱) (ش) ہمیشہ زمانہ نیکیاں نہیں  
 رہتا۔ روز روز اچھا موقع نہیں ملتا۔  
 ہر روز نیا کھو دانا پانی پینا۔ (ایشل) (کنا پتہ) روزگنا۔ روز  
 کھانا۔  
 ہر زماں - (ف) تابع فعل) ہر وقت۔ ہر گھڑی۔  
 ہر کن موقع (ف) متعلق فعل) ہر ممکنہ موقع (مکان) دارو۔ (ف)  
 (ش)۔ ہر بات کا کوئی موقع عمل ہوا کرتا ہے۔  
 ہر سو - ہر طرف - (۱) تابع فعل) ہر جانب۔ ہر سمت۔ ہر طرف۔  
 ہر شب شب برات ہے ہر روز روز عید - (ف) (ش) زندگی  
 منرت کے گزرتی ہے۔  
 ہر صورت - (۱) تابع فعل)۔ ہر طرح۔ ہر حالت میں۔  
 ہر عیب کہ سلطان بہ پسند و ہمز است - (ف) (ش) حاکم بری  
 بات بھی پسند کرے تو لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں۔  
 ہر فرعونے راموسی - (ف) (ش) ایک پر ایک غالب ہے۔ بہ ظلم  
 کی سرکوبی کے لئے کوئی نیک بندہ پیدا ہوتا ہے۔  
 ہر فن مولا - (۱) مذ) ہر فن جاننے والا۔ ہر کام میں طاق۔  
 ہر کارہ - (ف) صفت) (۱) ہر کام کرنے والا (۲) چھٹی رساں۔ قاسد۔



جو مخوں سمجھی جاتی ہے۔

ہرزہ - (ہرزہ) [فت - صفت] بیہودہ لغو نامعقول۔

ہرزہ سرا - (فت - صفت) - بیہودہ گو۔ یادہ گو۔

ہرزہ سرانی - (فت - صفت) - بیہودہ گوئی۔ یادہ گوئی۔

ہرزہ کار - وہ جو بیہودہ باتوں کا خوش گو ہو۔

ہرزہ گردو - (فت - صفت) بے مقصد مار مارا پھرنے والا۔ آوارہ گرد۔

ہرزہ گردی - (فت - صفت) - آوارہ گردی۔

ہرزہ گو۔ یادہ گو۔ بیہودہ گو۔ بکواس کرنے والا۔

ہرس - (ہرز - سن) [فت - صفت] ہل کی پھیالی۔

ہرسا - (ہرز - سا) [فت - صفت] ہل کی پھیالی۔

ہرکھ - (ہرز - کھ) [فت - صفت] ہل کی پھیالی۔

ہرگز - (ہرز - گز) [فت - صفت] ہل کی پھیالی۔

ہرگز ہرگز - کبھی نہیں۔ بالکل نہیں کسی طرح نہیں۔

ہر مجسٹی - (Her Majesty) (ہرز - م - جن - بی) [انگ]۔

مکہ معظمہ - بادشاہ کی خطاب۔

ہرمز - (ہرز - مز) [فت - صفت] - ہرمزسی سینے کا پہلا دن جس میں سفر کرنا، نیا کپڑا پہننا اور قرض دینا بڑا خیال کیا جاتا ہے (۲) ایلان

کے ایک بادشاہ کا نام۔

ہرمزی - (ہرز - می) [فت - صفت] ایک قسم کی سرخ مٹی۔

ہرمزی - (ہرز - می) [فت - صفت] ایک قسم کا رنگ۔

ہرمسائے پھل - (ہرز - س) [فت - صفت] ہر کام میں شامل ہوجانے والا۔

ہرمسائے - (ہرز - س) [فت - صفت] ہر کام میں شامل ہوجانے والا۔

ہرن - (ہرز - ن) [فت - صفت] ہرن کا گوشت۔

ہرن کا چوڑی بھرن - (ہرز - ن) [فت - صفت] ہرن کا چاروں ٹانگیں اٹھا کر

فلانیں مارنا ہرن کا زیندگانا۔

ہرن کا چوڑی بھول جانا - (ہرز - ن) [فت - صفت] گھبرانے یا خوف کے

سبب ہرن کا پھرتی کو بھول جانا۔ حواس باختہ ہوجانا۔

ہرن کا کالا ہونا - (ہرز - ن) [فت - صفت] نہایت شدت کا دھوپ پڑنا مشہور

ہرن کا دھوپ کی شدت سے ہرن کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔

ہرن کھرنی - (ہرز - ن) [فت - صفت] ایک قسم کی بل جو برسات میں پیدا ہوتی ہے

اس کے پتے ہرن کے کھرنے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ عمدہ قسم کا

ہرن کی شاخ - (ہرز - ن) [فت - صفت] ہرن کا سینگ۔

ہرن ہوجانا - (ہرز - ن) [فت - صفت] ہرن کی طرح بھاگ جانا۔ فرار ہوجانا۔ رفو

چکر ہوجانا۔ کافر ہوجانا۔

ہرن - (ہرز - ن) [فت - صفت] کھنی کا گلا اٹھرا ہوا حصہ (۲) جسے میں

کسی چیز کا ہارنا - (ہرز - ن) [فت - صفت] ہارنا۔

ہرن - (ہرز - ن) [فت - صفت] ہارنا۔ (۲) ہارنے والا۔

ہرانا - (ہرز - نا) [فت - صفت] ہارنا۔ مات کرنا۔ (۲) شکست

دینا۔ منگولب کرنا۔ (۳) ٹھکانا مضاعف کرنا۔

ہراند - (ہرز - اند) [فت - صفت] ہارنا۔ (۲) ہارنا۔

ہرانی جتانی - (ہرز - نی - ج - تانی) [فت - صفت] حیران کرنے

والی یا عاجز کرنے والی۔ (بات)۔

ہراول - (ہرز - اول) [فت - صفت] وہ تھوڑی فوج جو لشکر کے

آگے آگے جیسے لشکر کا پیش خیمہ (۲) آگے کی فوج کا سردار۔

ہر ہرن جانا - (ہرز - ن) [فت - صفت] ہرن فریق نہ کرنا۔ قوت نیز سے

بے بہرہ ہونا۔

ہر لونگ - (ہرز - لونگ) [فت - صفت] اندھیر۔ بظنی۔ ہنگامہ۔

ہر لونگ پھیلنا - (ہرز - لونگ) [فت - صفت] ہر لونگ پھیلنا۔

ہر لونگ مچانا - (ہرز - لونگ) [فت - صفت] ہر لونگ مچانا۔ ہنگامہ کرنا۔

ہر لونگ ہونا - (ہرز - لونگ) [فت - صفت] ہر لونگ ہونا۔ شور مچا

ہونا۔ بظنی ہونا۔

ہر فواری - (ہرز - فواری) [فت - صفت] ہر فواری۔ ریو۔ ریو۔ ریو۔

ریو - (ہرز - فواری) [فت - صفت] ہر فواری۔ ریو۔ ریو۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔

ہر پھر کر - (ہرز - پھر کر) [فت - صفت] ہر پھر کر۔



ہر نوٹہ - (ہر - نوٹا) [۵-۱- مذ] ہرن کا بچہ  
 ہر سچ - (۵-۱- مذ) ایک قسم کا باریک چاول -  
 ہر سنی - (ہر - نی) [۵-۱- مذ] ہرن کی مادہ -  
 ہر واپا - (ہر - واپا) [۵-۱- مذ] ہل والا وہ شخص جو زمین کو زراعت  
 کے لیے تیار کرے -  
 ہر وئی - (۵-۱- مذ) [۵-۱- مذ] ایک قسم کے بانس کی لکڑی جو نہایت  
 عمدہ اور ٹھوس ہوتی ہے -  
 ہر وول - (ہر - وول) [۵-۱- مذ] لڑتے والی جوں جو تھنے والوں کو بلا  
 سوتو دیا جاتے -  
 ہر ہرانا - (ہر - ہرانا) [۵-۱- مذ] ڈرنا - کانپنا - (۲) غرانا (۳) دریا  
 کا شور کرنا -  
 ہر ہرے - (ہر - ہرے) [۵-۱- مذ] ہل چلانے والا ہیل (۲) شہزادی ہیل -  
 (۳) آوارہ ہیل - (۴) بکری - گائے - جھینس -  
 ہر ہری - (۵-۱- مذ] ہر کا بگاڑ - خدا - پریشور - بھگوان - سرسری  
 ہری - بلوانا - (۱) خدا کا نام بلوانا (۲) لبروستی مار ڈالنا (۳) زندہ درگور کرنا  
 ہری بولنا - (۱) محاورہ (۲) مرتے وقت خدا کا نام لینا - (۲) چیس بولنا  
 ہرجانا -  
 ہر ہری - (۵-۱- صف] ہر کی تازیانہ - سبز - کاہی رنگ کی -  
 (۲) سرسبز - ترقواڑہ - شاداب -  
 ہری پھری - (۱-۱- صف] سرسبز و شاداب - ترقواڑہ -  
 ہری چمک - ہری گھاس کھانے والا - دولت کا ساتھی - بے وفا -  
 ہری چائی -  
 ہری چھیننی چٹا چھین گائے، منہ بڑے جو بھائی جاتے  
 (۱-۱- صف] جب تک ہری چمک نہ جائے چٹا چھین گائے بچہ نہ ملے  
 تب تک ان کا بھروسہ نہیں - جب کوئی کام انجام کو پہنچ جائے  
 تب ہی اطمینان ہوتا ہے -  
 ہری کین ( Hurricane Lantern ) (انگ - ۱- صف]  
 لالین - ہوا میں نہ بھینکنے والا چراغ -  
 ہریا - (ہر - یا) [۵-۱- صف] سرسبز شاداب - (۲) سبز - ہرا ہرا -  
 (۳) شاہی جنگل کا نگبان - (۴) جنگلی - وحشی -  
 ہریا باہتھی حاکم چور - دونوں کے بگڑے اور نہ مٹھور - (اش]  
 جنگلی باہتھی اور نہ ہدایت حاکم کے بگڑ جانے سے کہیں ٹھکانا نہیں ملتا -  
 ہریا لہ - (ہر - یا - لا) [۵-۱- صف] سرسبز و شاداب - (۲) نوجوان -  
 خوبصورت -  
 ہریا لہنا - نوجوان اور خوبصورت ڈولہا -  
 ہریالی - (ہر - یالی) [۵-۱- صف] سبزی - تازگی - (۲) سبز و تر و  
 تازہ گھاس - دوب - سبزہ ناز -  
 ہریالے - (ہر - یالے) [۵-۱- صف] ایک قسم کے گیت جو شادی  
 میں گائے جاتے ہیں -

ہریمانا - (ہر - یا - نا) [۵-۱- صف] سرسبز ہونا - ہرا ہرا ہونا (۲) [۵-۱- صف]  
 اچھی زمین -  
 ہریا وول - (ہر - یا - وول) [۵-۱- صف] (۱) ہریالی - سبزی - سبزہ -  
 طراوت - تازگی - (۲) سبزہ ناز - چراگاہ - مرغزار -  
 ہریالی - (ہر - یا - یالی) [۵-۱- صف] ہریا وول -  
 ہرے پھرے - (۵-۱- صف] ہرے - پھرے - (۵-۱- صف] ہرے پھرے -  
 پھر پھر کر - آخر کار -  
 ہرے لہنے - (۵-۱- صف] ہرے لہنے - (۱) ایک قسم کا کھانا جو گیہوں کے  
 آٹے، گوشت کی میننی اور دو دھسے پکاتے ہیں - (۲) [صف]  
 نہایت گلا ہوا - گھٹا ہوا -  
 ہرے لہلہ - (ہر - یالے) [۵-۱- صف] ایک قسم کا سبز رنگ کا پرندہ جو جنگلی  
 چمبوتر کے مانند ہوتا ہے -  
 ہرے لہوا - (۵-۱- صف] ایک قسم کا خوش آواز پرندہ -

۵ - ط

ہرے - (۵-۱- صف] ایک قسم کا سیلا پھل - (۲) ایک قسم کی لمبی  
 گھنٹی جو بڑے مشابہ ہوتی ہے اور گولے کے ہاروں یا ازار بند  
 پر لگائی جاتی ہے (۳) باز کا صفت - ہڈی - استخوان -  
 ہرے پھرے - (۱-۱- صف] قدیم دشمنی - پرانا نیر -  
 ہرے پھونکنے - (۱-۱- صف] ہڈیوں کا درد -  
 ہرے چوڑا - (۱-۱- صف] ایک بوڑھے کا نام جس سے ہڈی چوڑی جاتی ہے -  
 ہرے واڑ - (۱-۱- صف] خاندانی قبرستان - وہ جگہ جہاں اپنے کنبہ کے  
 لوگ دفن ہوں -  
 ہرے - (۵-۱- صف] بے وقوف - نادان - سادہ لوح - چڑھیوں کو بھگانے  
 کی آواز -  
 ہرے بڑانا - (ہرے - ب - بڑانا) [۱-۱- صف] بھولنا - بے قرار ہونا بمضطرب  
 ہونا -  
 ہرے بڑھی - (ہرے - ب - بڑھی) [۵-۱- صف] گھبراہٹ - بے قراری -  
 اضطراب - (۲) بھاگڑ - بل چل - اذاتگیری -  
 ہرے بڑیا - (ہرے - بڑ - یا) [۵-۱- صف] بے چین - گھرایا ہوا - (۲) جلد باز  
 ہرے بونگ - (ہرے - بونگ) [۵-۱- صف] مذکر - (۱) دیکھنے پر ہونگ -  
 ہرے بونگ - (۵-۱- صف] بے چارے - بغیر چیلنے نکل جانا - ایک ہی  
 دفعہ نوالہ آنا روینا -  
 ہرے پٹ کر جانا - (۱-۱- صف] نکل جانا - کھا جانا - (۲) نین کر لینا -  
 ہرے پٹیا - (۵-۱- صف] پاؤں - (۱) کسی چیز کا ایک ہی دفعہ منہ میں ڈال  
 کر حلق سے اتار جانا -  
 ہرے پٹیا - (۵-۱- صف] ہرے پٹیا - (۱) نکلنا - نین کرنا -  
 ہرے پٹیاں - (ہرے - پٹیاں) [۵-۱- صف] ہتال - کسی ماتم یا حاکم کے





ہنسی - (ہنس - لی) [۱-۵] مرث [دیکھیے ہنسی - ہنسیا - (ہنس یا) [۱-۵] مذ [دیکھیے ہنسیا -

## ۵- ش

ہنرش - [اُر - ۱- مرث] [۱۱] گئے کو دھنکارنے کی آواز - (۲) اُونٹ کو بھانے  
ہنرش کی آواز - (۳) پرندوں کے اُڑانے کی آواز -  
ہنشاش - (ہنرش - شاش) [ع - صف] شاداں - فرجاں - خوشش -

ہنشاش ہنرش - (ع - صف) بہت خوش - خوش و خرم - باغ باغ -  
ہنشت - (ف - صف) آٹھ -

ہنشت ہنشت - (ع - ۱- مذ) آٹھ ہشتیں - (۱۱) خلد (۲) دارالسلام (۳)  
دارالقرار (۴) جنت عدن - (۵) جنت المادوی - (۶) جنت النعیم -  
(۷) علقین - (۸) فردوس -  
ہنشت پہلو - (ف - صف) آٹھ پہلو کا - آٹھ کونیا -

ہنشت ۵۵ - (ف - ۱- عدد) اٹھارہ ۱۸ -  
ہنشت صفات - (ف - ع - ۱- مرث) آٹھ خوبیاں - شکر نعمت -  
علم - خدا کی معرفت - راہنی برضا رہنا - (۵) مصیبت میں صبر  
(۶) اخلاق اللہ سے محبت (۷) تعظیم حکم خدا - (۸) عفت -

ہنشت گنج - (ف - ۱- مذ) خمر و پرویز بادشاہ ایران کے آٹھ خزانے -  
ہنشت منظر - (ف - ۱- مذ) [۱۱] آٹھ آسمان (۲) منطقۃ البروج اور آٹھ  
ستاروں کے گردش کے راستے -

ہنشت - [اُر] یہ کلمہ اکثر لغت ظاہر کرتے کسی امر سے روکنے یا بھڑکنے  
کے واسطے بولا جاتا ہے -  
ہنشت - (ف - ۱- گئے) کو دھنکارنے کی آواز -

ہنشت مرث - لات گھرنے کی لڑائی - مار کٹائی - دھنکا ہنشتی -  
ہنشت مرث ہونا - مار کٹائی ہونا - دھنکا ہنشتی ہونا  
ہنشتاؤ - (ہنرش - ہنشاؤ) (ف - صف) آبسی - (۸۰)  
ہنشتہ - (ہنرش - ہنرش) (ف - صف) آٹھواں - آٹھویں -

ہنشتا کرنا - (ہنرش - کار - نا) [اُر - مص] [۱۱] گئے کو کسی طرف بھرنے کی  
قریب دینا - (۲) کسی کو اشتعال دے کر کسی بات پر راجب کرنا -  
ہنشتا کرنا - (ہنرش - کارنا) [اُر - مص] اشتعال دینا -

ہنشتیار - (ہنرش - یار) (ف - صف) ہوشیار کا مخف -  
ہنشتیار کرنا - (۱- محاورہ) خبردار کرنا - غافل نہ رہنے دینا -  
ہنشتیاری - (ہنرش - یاری) (ف - ۱- مرث) ہوشیاری کا مخف -

## ۵- ض

ہنضم - (ع - ۱- مذ) [۱۱] پچاؤ - تخلیل - معدے میں کھانا پچانا - (۲) غبن -

ہنضم - (ع - ۱- مذ) [۱۱] پچاؤ - تخلیل کرنا - (۲) مال مارنا - داب ہنٹنا  
اڈکار مار جانا -  
ہنضم ہونا - (۱- محاورہ) [۱۱] غذا کا تخلیل ہونا - (۲) مال کا مارا جانا - غبن کا کھانا  
کرنا -

## ۵- ف

ہفت - (ف - صف) سات [۷]  
ہفت آسیا - (ف - ۱- مذ) سات ستاروں کی گردش کے دائرے -  
ہفت اقلیم - (ف - ۱- مذ) سات ولائیں - کل دنیا -  
ہفت آواز - (ف - ۱- مذ) مختلف قسم کے لذت کھانے -  
ہفت امام - (ف - ۱- مذ) سات امام - (۱) امام اعظم ابوحنیفہ - (۲) امام  
شافعی - (۳) امام مالک - (۴) امام احمد بن حنبل - (۵) امام ابو یوسف - (۶) امام محمد -  
امام زکریا -

ہفت اہرام - (ف - ۱- مذ) ایک رگ کا نام جس کے فصد سے سر  
سینہ - پشت اور ہاتھ پاؤں کا خون نکلتا ہے -  
ہفت پر وہ چشم - (ف - ۱- مذ) آنکھ کے سات پردے -  
ہفت پشت - سات پیرھی - سات نسلیں -

ہفت پیکر - (ف - ۱- مذ) سات ستارے - سات آسمان -  
ہفت جوتش - (ف - ۱- مذ) وہ چیز جو سات دھائیں ہلا کر  
بنائی جاتے - وہ دھائیں یہ ہیں - سونا - چاندی - تانبا - جست -  
لوا - سیسہ - رانگا -

ہفت چشمہ بہشت - (ف - ۱- مذ) بہشت کے سات چشمے - (۱)  
کوثر (۲) کافر (۳) سلیل (۴) تسنیم (۵) معین (۶) زنجیل (۷) مہیم -  
ہفت حرف آبی - (ف - مذ - مرث) ح - ذ - س - ظ - ق -

ہفت حرف آتش - (ف - ۱- مرث) ا - ذ - ش - ط - ف -  
م - ہ -  
ہفت حرف استعلا - (ف - ۱- مذ) ح - ص - ض - ط - ظ - ع -

ہفت حرف خاکی - (ف - ۱- مذ) ح - خ - د - ر - ع - ج - ن -  
ہفت حرف ہوائی - (ف - ۱- مذ) ب - ت - م - ص - ن -  
و - ی -

ہفت حکایات - (ف - ۱- مرث) سات کمائیاں جو بہرام گور کو  
سات لڑکیوں نے سنائی تھیں -  
ہفت خراس - (ف - ۱- مذ) سات آسمان -  
ہفت خطوط - (ف - ۱- مذ) سات کیریں جو جمشید کے پیلے میں  
تھیں -

**ہفت خوانِ رستم** - (ف ۱۔ مذ) کی کاوس کی رہائی کے واسطے اژدہا تک رستم نے جو راستہ سرت دن میں طے کیا اسے ہفت خوانِ رستم کہتے ہیں۔ (کنایت) نہایت ٹھنیں اور مشکل کام۔

**ہفت دانہ** (۱۔ مذ) ایک قسم کی مٹھائی ہیں جس میں سات قسم کے میوے پختہ نہیں ہونے کے دن ایران میں تقسیم کی جاتی ہے۔

**ہفت دوزخ** - دوزخ کے سات طبقے۔ سفر۔ سبیر۔ نظمی جملہ۔ حجیم جہنم۔ ہادیہ۔

**ہفت رنگ** - (ف ۱۔ مذ) ساتوں رنگوں کا۔ سیاہ۔ سفید۔ سرخ۔ سبز۔ پیلا۔ قرمزی۔ کبود۔

**ہفت رنگی** - (ف ۱۔ صفت) مختلف رنگوں کا۔ (۲) مکار۔

**ہفت روزہ** (۱) سات دن والا۔ (۲) وہ کاغذ جس میں ہفتے کی کارگزاری یا حالات واقعات درج ہوں۔ (۳) ہفتے میں ایک بار شائع ہونے والا اخبار۔

**ہفت زبان** - (ف ۱۔ صفت) سات زبانیں جاننے والا۔

**ہفت زبان ہونا** - (۱۔ محاورہ) بہت سی زبانیں جاننا۔

**ہفت طبق** - (ف ۱۔ مذ) آسمان کے سات طبق۔

**ہفت قرار** - (ف ۱۔ مذ) قرآن پڑھانے والے سات قاری۔ (۱) نافع مدنی۔ (۲) عبداللہ بن کثیر مکی۔ (۳) ابو عمر مصری۔ (۴) ابن عامر شامی۔ (۵) عالم کوئی۔ (۶) حمزہ کوئی۔ (۷) علی کوئی الملقب بہ کسائی۔

**ہفت قلزم** - (ف ۱۔ مذ) ہفت دریا۔ سات سمندر۔

**ہفت قلم** - (ف ۱۔ مذ) وہ جو سات طرح کے خط لکھتا جانتا ہو۔ اعلیٰ درجے کا خوشنویس۔ سات مشہور خط۔ (۱) ثلث (۲) عقیق (۳) تویق (۴) ریحان۔ (۵) رقاع (۶) نسخ (۷) کستلیق۔

**ہفت کشور** - (ف ۱۔ مذ) ہفت اقلیم۔ سات ولایتیں۔ ساری دنیا۔

**ہفت گردوں** - (ف ۱۔ مذ) سات آسمان۔

**ہفت گنت** - (ف ۱۔ مذ) مسلمانوں کے زیادہ مشہور سات فرقے۔ (۱) اہل سنت والجماعت۔ (۲) رافضیہ۔ (۳) خارجیہ۔ (۴) جبریہ۔ (۵) قدریہ (۶) جہمیہ۔ (۷) مرتبیہ۔

**ہفت منزل** - (ف ۱۔ مذ) قرآن مجید کی سات منزلیں۔

**ہفتیں** - (ف ۱۔ صفت) ساتواں۔

**ہفت میوہ** - (ف ۱۔ مذ) سات قسم کے میوے کیشش۔ انجیر۔ شفتالو۔ خرمالہ۔ آو بخارا۔ سیب۔ انگور۔

**ہفت ہزاری** - (ف ۱۔ مذ) عبدالمغلی ہیں ایک اعلیٰ منصب۔

**ہفت ہیکل** - (ف ۱۔ صفت) سات سلامتی کے لیے سات دعائیں۔

**ہفتاد** - (ہفت۔ تا۔) (ف ۱۔ صفت) ستر۔ ۷۰۔

**ہفتاد و پست** - (ف ۱۔ صفت) ستر پیدھیاں۔ ستر نیلیں۔

**ہفتاد و دو دولت** - (ف ۱۔ صفت) اسلام کے بہتر فرقے۔

**ہفتش** - (ہفت۔ تش۔) (ف ۱۔ صفت) مکار۔ بگشت۔

**ہفت قسم** - (ہفت۔ تم۔) (ف ۱۔ صفت) ساتواں۔

**ہفت تنگ** - (ہفت۔ تنگ۔) (ف ۱۔ مذ) سات دن کی مدت۔ سات دن۔ [ارد] پیچہ شنبہ (۲) ساتواں دن۔

**ہفت دوست** - (ف ۱۔ صفت) چند روزہ دوست۔ تھوڑے دنوں کا یار۔ وقتی یار۔

**ہفت عشرہ** - (ف ۱۔ مذ) (۱) آٹھ دس روز کا زمانہ۔ (۲) چند روز۔

**ہفتے کا ٹھٹھا** - [ارد] مص [پہلو انوں کی اصطلاح] حریت کی بغلوں میں سے اپنے ہاتھ نکال کر اس کی گردن کو بگڑ دینا۔

**ہفت نظر** - (ف ۱۔ صفت) (۱) نظر [پہنم بد دور۔] ماشاء اللہ۔

**ہفت وات** - (ہفت۔ وات۔) (ف ۱۔ صفت) سات۔

**ہفتی** - (ہفت۔ امی۔) (ف ۱۔ صفت) (۱) بے حد تھکنا۔ نہایت چالاک۔ (۲) ایک قسم کا نہایت زہریلا سانپ۔ (۳) انہی۔

## ۵۔ ک

**کھک** - (Hook) [انگ۔ ۱۔ مذ] (۱) آہنی میخ۔ وہ محمد اکبر کی جو دیوار میں کاڑھے ہیں۔ (۲) اچن میں گھنڈی کی جگہ گانے کا آنکھڑا ہر کا لگا۔ (ک۔ ک۔ ک۔ ک۔) [صفت] متیز۔ گھبرا ہوا۔ سرسبز۔

**کھک** - حواس باختہ۔

**کھک لگا رہنا** - کھک لگا ہونا۔ متیز ہونا۔ حیران رہ جانا۔

**کھک دک** - (۱۔ صفت) (۲) پس پوشش۔ [صفت] متعجب حیران کتنے کے عالم میں۔

**کھک دک رہ جانا** - (۱۔ محاورہ) کتنے کے عالم میں رہ جانا۔ حیرت زدہ ہو جانا۔

**کھک نہ دک** - (۱۔ صفت) بے سان و گمان۔ اچانک۔ (۲) بے سوچے سمجھے گھبرا کر۔ (۳) متعجب ہو کر۔

**کھکڑا** - (کھک۔ ک۔) (ف ۱۔ صفت) [صفت] اسی طرح۔

**کھکڑا کھکڑا کرنا** - (کھکڑا۔ کھکڑا۔) (ف ۱۔ صفت) [صفت] اسی طرح۔

**کھکڑا کھکڑا کرنا** - (کھکڑا۔ کھکڑا۔) (ف ۱۔ صفت) [صفت] اسی طرح۔

**کھکڑا کھکڑا کرنا** - (کھکڑا۔ کھکڑا۔) (ف ۱۔ صفت) [صفت] اسی طرح۔

**کھکڑا کھکڑا کرنا** - (کھکڑا۔ کھکڑا۔) (ف ۱۔ صفت) [صفت] اسی طرح۔

## ۵۔ گ

**گ** - (۱۔ صفت) [مذ] پاختا۔ برا۔





ہل مل کر رہنا۔ (۱- محاورہ) میل جول کے ساتھ رہنا۔

ہل من مہارز۔ (ع- بول چال) میدان جنگ میں حریت کو لانے کے لیے بناو میدان میں پکارتے ہیں کون ہے لڑنے والا۔

ہل من مہر نہ۔ (دہل- ہم- ہم- ہم- زمبید) (ع- بول چال) [قرآن شریف کا ایک جملہ۔ جب سب دوزخی دوزخ میں جاچکیں گے تو دوزخ پکار پکار کر کہے گا۔ کچھ اور بھی ہوتو لاؤ۔

ہلنا۔ (ہل-نا) [مض] متحرک ہونا۔ لڑنا۔ کانپنا۔ تھرتھانا۔ جنبش کرنا۔ (۲) مانوس ہو جانا۔ پرچنا۔

ہلنے کو جی نہ چاہنا۔ (۱- محاورہ) بہت زیادہ سخت ہونا۔

ہلو۔ (Hallo) (انگ-۱- مرآ) دیکھیے ہیلو۔

ہلورا۔ (ہ-لو-را) (۱-۵- مرآ موج- لہر۔

ہلورے لینا۔ ہلوریں لینا۔ (۱- محاورہ) موجیں مارنا۔ لہر لینا۔

ہلہل۔ (ہل-ہل) [مرآ] ایک پودا جو لوہا پر کے لیے مفید ہے۔

ہلہلا۔ (ہل-ہ-لا) (۱-۵- مرآ) شکوفہ کوئی عجیب یا توکھی بات۔

ہلہلا شوق۔ (۲) شوق۔ (۳) ہنسان۔ جھوٹی بات۔ بے سرو پا بات۔

ہلہلا اٹھنا۔ (۱- محاورہ) (۱) جھکتا کھڑا کرنا۔ شکوفہ چھوٹنا۔ کسی کام کے لئے وقت و دل چاہنا شوق چرانا۔

ہلہلا کر بخار چھٹنا۔ (۱- محاورہ) ایسا بخار چھٹنا کہ بیمار کانپنے لگے۔

ہلہلانا۔ (ہل-ہ-لا-نا) [مض] کانپنا۔ تھرانا۔ بخار کی شدت سے تھرانا۔

ہلبیلہ۔ (ہ-لے-لے) [ف-۱- مذ] ہلڑ۔ ایک دوکان نام۔

## ۵- م

ہم۔ [م] (۱) (فیہ جمع منکلم) میں اور میرے ساتھی۔ (۲) کلمہ تعظیم جو اپنی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ہم بھی کوئی ہیں۔ (۱- محاورہ) (۱) ہم سے بھی کوئی رشتہ اور خصوصیت ہے۔

ہماری بی بیٹا متبہ ہے۔

ہم بھی کیا یاد کریں گے۔ (۱- مثل) کسی کی بے توجہی اور بے پروائی کے شکوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں۔ (۱- مثل) چھوٹا ہو کر اپنے آپ کو بڑوں میں شمار کرنا۔

ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ (۱- مثل) ہمارا اور ان کا مقابلہ ہے۔ دیکھیں کون بڑھتا ہے۔

ہم پھپھل پڑے۔ (۱- مثل) ہمیں پر غصہ اتارا۔ زبردست کچھ نہ کہا۔ ہم نے ناحق خفا ہو گئے۔

ہم جا میں یا تم جاؤ۔ (۱- مثل) ہمارے تمہارے سوا کوئی دوسرا

ہم خوش ہمارا خدا خوش۔ (۱- مثل) کمال رضامندی ظاہر کرنے کے

لیے متعلق ہے۔ ہم سے اڑتے ہو۔ (۱- مثل) ہم سے چالیں چلتے ہو۔ ہمیں فریب دیتے ہو۔

ہم سے کب چل سکتے ہو۔ (۱- مثل) ہم تمہارے فریب میں نہیں آسکتے۔

ہم کس باغ کی مولیٰ ہیں۔ (۱- مثل) ہمارا کیا زور ہے۔ ہماری کون کنتا ہے۔

ہم کو اپنی ذات کو۔

ہم کو پیٹیں۔ ہم کو گالیں۔ ہماری بھتیگی کھائے۔ ہم کو ہے ہے کرے۔ (۱- کلمہ رقم) عورتوں کی سخت قسمیں۔ ہمارا ماتم کرے۔ ہمیں روئے۔

ہم کون ہیں۔ (۱- مقولہ) ہم اس لائق نہیں۔ ہمیں اس میں کچھ بھی دخل نہیں۔

ہم کہاں۔ (۱- مقولہ) ہم نہ ہوں گے۔

ہم نہ کہتے تھے۔ (۱- مقولہ) دیکھا جو کچھ ہم نے کہا وہی ہونا۔ ہم نے نہ کہا تھا۔

ہم۔ (ع- ۱- مرآ) (۱) اندیشہ۔ فکر۔ طلال۔ غم۔ (۲) قصد۔ ارادہ۔

ہم۔ [ف- حرف عطف] (۱) نیز بھی۔ بلکہ۔ اس کے علاوہ۔ (۲) کسی کام میں شرکت ظاہر کرنے کے لیے۔

ہم آغوش۔ (ف- صفت) بغل گیر۔ ہم کنار۔ باہم گلے ملنے والا۔

ہم آغوش ہونا۔ (۱- محاورہ) بغل گیر ہونا۔ ہم کنار ہونا۔ گلے لگنا۔

ہم آغوشی۔ (ف- ۱- مرث) بغل گیری۔ ہم کناری۔

ہم آواز۔ ہم آہنگ۔ (ف- صفت) ٹھیک ٹھیک میں شریک (۲) ساتھی۔

ہم آہنگ۔ (ف- صفت) محفل میں شریک۔ ہم مجلس۔

ہم بستہ۔ ایک ہی بستہ پر سونے والا۔ ساتھ سونے والا۔

ہم بستہ ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) ساتھ سونا۔ ایک ہی بستہ پر سونا۔ (۲) صحبت کرنا۔ مجامعت کرنا۔

ہم بستری۔ (ف- ۱- مرث) جماع۔ مجامعت۔

ہم بغل۔ (ف- صفت) ہم آغوش۔ ہم کنار۔

ہم پایہ۔ (ف- صفت) ہم مرتبہ۔ ہم مرتبہ۔ ہم سر۔

ہم بلکہ۔ (ف- صفت) برابر کی ٹھکر کا۔ برابر کی جوڑ کا۔ ہم زنبہ۔ برابر کی مار کا۔ برابر فالصے کا۔

ہم پہلو۔ (ف- صفت) (۱) پہلو کے برابر۔ پہلو پہلو۔ برابر۔ (۲) ساتھی۔

رشتہ۔

ہم پیالہ۔ (ف- لوالہ) (۱) ایک پیالے میں کھانے والا۔ ہم کاسہ۔ ہم طعام۔ گرا دوست۔

ہم پیشہ۔ (ف- صفت) ایک ہی پیشہ اور ایک ہی کام کرنے والا۔

ہم تڑا۔ (ف- صفت) ہم پلہ۔ ہم وزن۔ ہم مرتبہ۔

ہم طلیس۔ (ف- ع- صفت) ہم نشین۔ پاس بیٹھنے والے۔



ہم رنگ - (ف. صفت) ایک رنگ کا۔ ایک طرح کا۔ یکساں۔  
یک رنگ۔

ہم رنگی - (ف. ۱۔ مثن) ایک رنگ یا وضع کا ہونا۔

ہم رو - (ف. صفت) (۱) ہم راہ۔ ہم سفر۔ (۲) وہ گھوٹا جو پانچ سال کا ہو گیا ہو اور اس کے سب مانت لنگل آئے ہوں۔

ہم زاوہ - (ف. صفت) (۱) جو ساتھ پیدا ہوا ہو (۲) وہ روایتی شیطان یا جن جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ (۳) سایہ۔

ہم زانوہ - (ف. صفت) پاس بیٹھے والا۔ پیلوشین۔ برابر کا۔

ہم زبان - (ف. صفت) (۱) ہم قول متفق۔ (۲) ہم کلام۔

ہم زلف - (ف. صفت) ساڑھو۔ سالی کا خاندنہ۔

ہم زمال - (ف. صفت) ہم عصر۔ ایک زمانے کے لوگ۔

ہم ساز - (ف. صفت) (۱) ہم دم۔ (۲) سازگار۔ موافق۔

ہم سال - (ف. صفت) ہم عمر۔ عمر میں برابر۔

ہم سالی - (۱۔ مثن) پڑوس۔

ہم سالیگی - (ف. ۱۔ مثن) پڑوس۔ مکان کا قرب۔ (۲) پاس کا مکان۔

ہم سایہ - (ف. صفت) پڑوسی۔

ہم سایہ وھوئیں کا شریک - (۱۔ مثن) پڑوسی سے ہمدردی ہونا ضروری ہے۔

ہم سایہ ہونا - (۱۔ محاورہ) (۱) پڑوسی ہونا۔ (۲) لگائیہ ہم رنگ ہونا۔

ہم سبق - (ف. صفت) ساتھ سبق پڑھنے والا۔ ہم درس۔ ہم جماعت۔

ہم سخن - (ف. صفت) ہم زبان۔ ہم کلام۔ ساتھی۔

ہم سخن کرنا - (۱۔ محاورہ) مقابلہ ہو کر بولنا۔ مقابلہ کرنا۔

ہم نمر - (ف. صفت) برابر کا۔ ہم رتبہ۔ ہم چشم۔

ہم نمری - (ف. ۱۔ مثن) برابر۔ ہم چشمی۔ مساوات۔

ہم نمری کرنا - (۱۔ محاورہ) برابر کرنا۔ مساوات کا دعویٰ کرنا۔

ہم سفر - (ف. صفت) ساتھ سفر کرنے والا۔ سفر کا ساتھی۔ رفیق راہ۔

ہم ہلک - (ف. صفت) (۱) سمجھی جن کے لڑکی لڑکے ساتھ بیاہے ہوں۔ (۲) ساتھ تھنی کیا ہوا۔

ہم سن - (ف. صفت) ہم عمر۔ بھولی۔

ہم سنگ - (ف. صفت) ہم وزن۔ رتبے میں برابر۔

ہم سوانا - (۱۔ صفت) وہ مقامات جن کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں۔

ہم شان - (ف. صفت) برابر کی شان کا۔ ہم رتبہ۔

ہم شکل - (ف. صفت) ایک شکل کا۔ ہم صورت۔

ہم ریشہ - (ف. ۱۔ مذ) دودھ شریک بھائی یا بہن۔ (۲) حقیقی بھائی یا بہن۔ لیکن ریفظ عموماً بہن کے لیے مستعمل ہے۔

ہم شیر زاوہ - ہم شیر زاوہ - (ف. ۱۔ مذ) بھانجا۔ خواہر زاوہ۔

ہم جماعت - (ف. صفت) ہم سبق جماعت کا یا ہر ہم مکتب۔ کلاس فیلو۔  
ہم جنس - (ف. صفت) ایک جنس کا۔ ہم ذات۔ ایک نمونے کا۔ ہم مرتبہ۔  
ہم پیشہ۔

ہم جوار - (ف. صفت) ہمسایہ۔ ایک ہی بستی کا۔  
ہم جولی - (۱۔ صفت) ہم عمر۔ ساتھ کھیلا ہوا۔ لنگوٹیا۔ ہم سن۔ (۲) وہ کم سن جو ساتھ چلنے میں اکثر تھریک رہے۔

ہم چشم - (ف. صفت) برابر والا۔ ہم مرتبہ۔

ہم چشمی - (ف. ۱۔ مثن) برابر۔ ہم سری۔

ہم چشمی کرنا - (۱۔ محاورہ) برابری کا دعویٰ کرنا۔ ہم سری کرنا۔

ہم چومین (ما) دیگر کے نیست - (ف. مثن) میرے یا ہمارے مثل دوسرا نہیں خود ستانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ہم خرم او ہم ثواب - (ف. مثن) وہ فعل جس میں لذت بھی ہو اور کارِ نیر بھی۔ وہ کام جس میں دوہرا فائدہ ہو۔

ہم خواب ہونا - (۱۔ محاورہ) ساتھ سونا۔ ہم بستر ہونا۔ مجامعت۔

ہم داستان - (ف. صفت) ہم کلام۔ ہم صحبت۔ ہم راہ۔

ہم دامال - (ف. صفت) بیوی کی بہن کا شوہر۔ ہم زلف۔ ساڑھو۔

ہم ڈالستان - (ف. صفت) ہم مکتب۔ ہم مدرسہ۔

ہم دروہ - (ف. صفت) دکھ درد کا ساتھی۔ ہم دم۔ درمند۔ غم خوار۔

ہم دروی - (ف. ۱۔ مثن) غم خوار۔ درومندی۔

ہم درس - (ف. صفت) ہم سبق۔

ہم دست - (ف. صفت) (۱) ہمراہ۔ ساتھ۔ (۲) شریک۔ متفق۔

ہم دست ہونا - (۱۔ محاورہ) ملنا۔ حاصل ہونا۔

ہم دگر - (ف. صفت) باہم۔ آپس میں۔ دونوں ایک دوسرے میں۔

ہم دم - (ف. صفت) رفیق۔ یار۔ دوست۔

ہم دوش - (ف. صفت) (۱) برابر بیٹھے والا۔ (۲) برابر کا۔ ہمسرہ۔ برابر کی فکر کا۔

ہم دیوار - (ف. صفت) پڑوسی۔ ہمسایہ۔

ہم ذات - (ف. صفت) ایک ذات کا۔ ہم قوم۔

ہم راہ - (ف. صفت) راہ دان۔ بھیدی۔ محرم راہ۔

ہم راہ - (ف. صفت) (۱) ساتھ چلنے والا۔ رفیق راہ۔ ساتھی۔ ہمرنگ۔ (۲) ساتھ سنگ۔

ہم راہ گرشتاب کند ہمراہ تو نیست - (ف. مثن) ساتھی اگر جلدی کرے تو وہ تیرا سپار رفیق نہیں ہے۔

ہم راہ ہولینا - (۱۔ محاورہ) ساتھ ہولینا۔

ہم راہی - (ف. صفت) ساتھی۔ ساتھ چلنے والا۔ (۲) یار۔ رفیق۔ (۳) ساتھ۔

معبیت۔

ہم رتبہ - (ف. ۱۔ صفت) ایک ہی رتبہ کا۔ ہمسرہ۔

ہم رشتہ - (ف. صفت) جو رشتہ میں برابر ہو۔

ہم رکاب - (ف. صفت) (۱) ہم سفر۔ ہم راہ۔ (۲) سواری کے ساتھ۔

ہم بشیرہ - (۱) دودھ شریک بن - (۲) خواہر بگی بن -  
 ہم بشیرہ اخیانی - (۱) صفت) مال کی طرف سے بن -  
 ہم بشیرہ رضاعی - (۱) صفت) دودھ شریک بن - بچہ کی بن نہ ہو -  
 بلکہ ایک ہی عورت کا دودھ پینے میں شریک رہی ہو -  
 ہم مشیرہ غلامی - (۱) صفت) باپ کی طرف سے بن -  
 ہم صحبت - (۱) صفت) ساتھی ہم نشین - پاس اٹھنے بیٹھنے والے -  
 ہم صغیر - (۱) صفت) ہم آواز - وہ پرنڈے جو ایک قسم کی بولی بولتے  
 ہیں - (۲) ہم دم - ساتھی - دوست -  
 ہم طالع - (۱) صفت) یکساں منصب والا -  
 ہم طرح - (۱) صفت) وہ غزل یا قصیدہ جو ایک ہی طرح یا ایک ہی  
 زمین میں لکھے جائیں - (۲) مقابل - ہم نژدہ -  
 ہم عصر - (۱) صفت) ہم عہد - ہم زمانہ - ایک وقت کا -  
 ہم عمر - (۱) صفت) ہم سن - برابر کی عمر کا - ہم سال -  
 ہم عثمان - (۱) صفت) ہم کاب - ہمراہ - (۲) ساتھی - رفیق -  
 ہم عہد - (۱) صفت) ہم عصر - ہم زمانہ -  
 ہم آقد - (۱) صفت) برابر قدم کا -  
 ہم قدم - (۱) صفت) ساتھی - رفیق - ہم راہی - ہم سفر -  
 ہم قرآن - (۱) صفت) ہم قرین - بار - مصاحب -  
 ہم کلم - (۱) صفت) ہم نژدہ - وہ لوگ جو ایک ہی خدمت پر مامور  
 ہوں -  
 ہم قوم - (۱) صفت) ایک قوم کا - ایک ذات کا -  
 ہم لغو - (۱) صفت) ایک ہی نازان کا - ایک ہی کہنے کا -  
 ہم کلام - (۱) صفت) ہم سن - بل کر بات کرنے والا -  
 ہم کلام ہونا - (۱) محاورہ) ہم سن ہونا کسی سے بات کرنا -  
 ہم کلامی - (۱) صفت) باہم بات چیت -  
 ہم کفار - (۱) صفت) ہم آغوش - بغل گیر -  
 ہم کمرود - (۱) صفت) ساتھ پھرنے والا -  
 ہم مہربب - (۱) صفت) ایک ہی مہربب کا - ایک ہی ملت کا -  
 ہم مرکز - (۱) صفت) وہ دائرے جن کا ایک مرکز ہو -  
 ہم مشرب - (۱) صفت) ایک ہی طریقے کا - ایک ہی مسلک کا -  
 ہم معنی - (۱) صفت) وہ الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہوں - ایک  
 دوسرے کے مرادف الفاظ -  
 ہم مکتب - (۱) صفت) ہم مدرسہ - ایک ہی مکتب کے پڑھے ہوئے  
 ایک ہی مکتب کے پڑھنے والے  
 ہم نام - (۱) صفت) ایک ہی نام کا - ہم اسم -  
 ہم نژدہ - (۱) صفت) مقابل - حریف -  
 ہم نشین - (۱) صفت) ہم صحبت - مصاحب -  
 ہم نظر - (۱) صفت) مقابل - ہم پایہ -  
 ہم نفس - (۱) صفت) دوست - آشنا - رفیق -

ہم نوا - (۱) صفت) ہم آہنگ - ہم آواز - ہم صغیر -  
 ہم نوالہ - (۱) صفت) ساتھ کھانے پینے والا -  
 ہم وطن - (۱) صفت) ایک دیں کا - ایک ملک کا - ایک شہر کا -  
 ہم وقت - (۱) صفت) ہم عصر - ہم زمانہ - ہم عہد -  
 ہما - (۱) صفت) ا - مذکر) ایک شہزادہ کی پرنڈے کی نسبت کہا جاتا  
 ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جائے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے -  
 ہما بازی شتابازی پیروں سے دغا بازی - (۱) مثل) استاد کے  
 آگے شاگرد کی نہیں چلتی  
 ہمام - ہمامی - (۱) صفت) مثل) ۱) مقابلہ - بلبری - (۲) رقابت -  
 ہمارا - (۱) صفت) ۱) ہم سب کا - تمام کا - (۲) میرا - میری ذات کا -  
 ہمارا بھی خدا ہے - (۱) مثل) کسی سے مایوس ہو جانے کے وقت بولتے  
 ہیں -  
 ہمارا تمہارا خدا بادشاہ - (۱) مثل) فتنہ کو کسی بادشاہ کا قفقہ شروع کرنے  
 وقت یہ فقہ کہتے ہیں -  
 ہمارا جنازہ دیکھو (دیکھو) - (۱) محاورہ) تمہیں جو اکثر عورتیں کی زبان  
 پر آتی ہیں -  
 ہمارا ذمہ - (۱) صفت) ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں -  
 ہمارا سلام ہے - (۱) محاورہ) بیزاری ظاہر کرنے کے لینے کہتے ہیں  
 ہمارا کیا ہے - (۱) محاورہ) ہمارا کیا بگڑتا ہے - ہمارا کیا نقصان ہے -  
 ہمارا لہو پیٹے - ہمارا اعلوہ کھائے - (۱) محاورہ) عورتوں کی تسیں - ہم  
 کو کھائے ہم کو پیٹے - ہمارا مردہ دیکھو - ہماری بھتی کھائے -  
 ہمارے بڑے بڑے آزاد کرتے تھے - (۱) مثل) بزرگوں  
 نے کام کیا - ہم نام جانتے ہیں - جو شخص خود کو نہ ہو مگر باپ دادا کے نام  
 پر اترائے اس کی نسبت بولتے ہیں پر دم سلطان بود -  
 ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں - (۱) مثل) ہم مطلق بے خبر ہیں ہیں  
 ذرا بھی اطلاع نہیں -  
 ہمارے گھر آؤ گے کیا لاؤ گے - تمہارے گھر آئیں تو کیا کھلاؤ گے  
 - (۱) مثل) نہایت خود غرضی کے موقع پر کہتے ہیں -  
 ہمارے منہ میں بھی زبان ہے - (۱) محاورہ) ہم بھی اس سوال کو جواب  
 دے سکتے ہیں - ہم بھی بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں -  
 ہمارے ہال سے آگ لانی نام رکھا بسیندر - (۱) مثل) پرانی چیز  
 پر اترنے والے کی نسبت بولتے ہیں - ہماری چیز اور ہیں سے دریغ -  
 ہماری - (۱) صفت) ۱) ہا - ری) ۱) ض اپنی - ذاتی - سچ کی -  
 ہماری بی بی مہی سے میاؤں - (۱) مثل) ہمارا ہی کھائے اور ہمیں پڑھنا ہے  
 ہماری بندگی سمجھو - (۱) مثل) ۱) ہمارا سلام پہنچے - ہم سلام کرتے ہیں -  
 (۲) ہم باز آئے نہیں معاف رکھیں -  
 ہماری دادی نے گھی کھایا ہمارا ہاتھ سو گھو - (۱) مثل) کام کوئی گے  
 داد کوئی مانگے -  
 ہما سنا - (۱) صفت) ۱) ماس - نا) - (۲) مہ - کسی زونی چیز کو اس کے نیچے کوئی چیز

ہمک (۵- فعل) ہمکن مصدر سے مینہ امر -  
ہمک ہمک کر چلنا - (۱- محاورہ) شک مک کر چلنا - اچک اچک کر چلنا -

ہمکارا - (ہم - کا - را) [ع- ۱- مذ] ہوں - ہاں کسی بات کے اقرار و اقبال کی آواز - ہنکارا -

ہمکارا بھرننا - (۱- محاورہ) اقرار کرنا - اقبال کرنا -

ہمکاری - (ہم - کا - ری) [ع- ۱- مثن] دیکھتے ہیں ہمکارا -  
ہمکننا - (۵- مک - نا) [ع- ۱- مثن] بچے کا ہاتھ پاؤں مار کر ایک کی گود سے دوسرے کی گود میں جانے کا ارادہ ظاہر کرنا -

ہمکنگی - ہمکنگن - (۵- م - گی - ۵- م - گین) [ع- ۱- مثن] گل - تمام سب کے سب -

ہمکنہ - (۵- م - گ) [ع- ۱- مثن] جمع ہمتیں - جوصلے -

ہمن - (۵- م - ن) [ع- ۱- مثن] جمع ہمتیں - جوصلے -

ہمننا - (ہم - نا) [ع- ۱- مثن] جمع ہمتیں - جوصلے -

ہموار - (ہم - وار) [ع- ۱- مثن] صاف - سوا -

ہموار کرنا - (۱- زمین کو یکساں کرنا - (۲) کسی کو اپنے موافق بنا لینا -

ہمہ - (۵- مہ - ) [ع- ۱- مثن] صاف - سارا - جملہ - تمام -

ہمہ از اوست - (۵- مہ - از) [ع- ۱- مثن] تمام چیزیں خدا سے ہیں - کوئی چیز بذات خود موجود نہیں بلکہ ہر شے اپنی آہستی کے لیے اللہ تعالیٰ کی منتناج ہے -

ہمہ اوست - سب کچھ خدا ہے - صوفیوں کا قول ہے کہ خدا کے سوا کسی شے کا وجود نہیں - یہ خدا ہی ہے جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہے -

ہمکن - (۵- م - کن) [ع- ۱- مثن] سزا - سزا - سب کا سب - بالکل - تمام -

ہمکن گوش ہونا - (۱- محاورہ) پوری توجہ سے سنا -

ہمہ دان - (۵- مہ - دان) [ع- ۱- مثن] ہر بات سے واقف - ہر علم و ہنر جاننے والا -

ہرفن ہولا -

ہمہ دانی - (۵- مہ - دانی) [ع- ۱- مثن] ہر کام کی واقفیت -

ہمہ صفت موصوف - (۵- مہ - صفت) [ع- ۱- مثن] ساری خوبیوں کا مالک -

ہمہ نعت - (۵- مہ - نعت) [ع- ۱- مثن] تمام نعمتیں - تمام عمدہ چیزیں - ہر قسم کی عمدہ چیزیں -

ہمہ وقت - (۵- مہ - وقت) [ع- ۱- مثن] ہر وقت -

ہمہ ہصہ - (ہم - ہ - صہ) [ع- ۱- مثن] شیر - گھوڑے - بیل - نشتر وغیرہ کی بھاری آواز -

ہمہ مانی - (ہم - ما - نی) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] روپیہ پسیر رکھنے کی تہی تہلی خصوصاً وہ نقلی جو حالت سفر میں کر کے باندھی جاتی ہے - (۲) یہ لفظ عربی ہیمنان کا ماورد ہے اور ہیمنان فارسی لفظ ہیمنان بالفتح کا معرب ہے -

ہمہ پیش - (ہم - پیش) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] ہمیشہ -

ہمہ پیشگی - (ہم - پیش - گی) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] دوام - مداہی - قدامت -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

ہمہ سنا - (ہم - م - نا) [ع- ۱- مثن] [ع- ۱- مثن] کسی چیز کا جگہ چھوڑنا -

**ہندووانہ** - (ہزن - ڈ - وا - نہ) [فت - ۱ - مذ] تریوز - (۲) ہندو کی مہیا طریقہ۔  
**ہندووانی** - (ہزن - ڈ - وا - نی) [فت - صفت] ہندوؤں کا۔ ہندوؤں سے منسوب۔  
**ہندوستان** - (ہزن - ڈو - س - ننان) [فت - ۱ - مذ] ملک ہند۔ بھارت۔  
**ہندوستانی** - (ہزن - ڈو - س - نا - نی) [فت - ۱ - مذ] ہند سے منسوب (۲) [مذ] ہندوستان کا باشندہ۔ (۳) [مشت] ہندوستان کی زبان۔ آسان ہندی۔  
**ہندوئے حیرت** - ہندوئے فلک - [فت - ۱ - مذ] سیارہ مریخ جو سیاہ رنگ کا ہے۔  
**ہندی** - (ہزن - ڈی) [فت - صفت] (۱) ہند سے نسبت رکھنے والا۔ (۲) [مذ] ہندوستانی۔ ہند کا رہنے والا (۳) ہند کی زبان۔ (۴) ہندوستان کی تلوار۔  
**ہندی کی چندی کرنا** - (۱) محاورہ (۲) خوب سمجھنا۔ آسان کو اور آسان کرنا۔ (۳) خوب چھان بین کرنا۔ کھو دکھو کر پوچھنا۔  
**ہندی کی چندی نکالنا** - (۱) محاورہ (۲) بال کی کھال نکالنا۔ بہت محبت کرنا۔  
**ہندی تڑاؤ** - (فت - صفت) ہندی النسل۔ ہندوستان کا باشندہ۔  
**ہنڈا** - (ہزن - ڈا) [فت - ۱ - مذ] بڑی ہانڈی۔ مٹی کا برتن۔ مشکا۔ (۲) ہانڈی کی شکل کا بڑا فانوس۔ (۳) ایک قسم کی گھاس جو پانی کے کنارے ہوتی ہے۔  
**ہنڈا پھوڑنا** - (۱) محاورہ (۲) داز فاش کرنا۔  
**ہنڈا کرنا** - (۱) محاورہ (۲) کسی دیوتا پر مٹھائیوں کے ہنڈے چڑھانا۔ (۳) کسی جات سے واپس آ کر ضیافت کرنا۔  
**ہنڈار** - (ہزن - ڈار) [فت - ۱ - مذ] گرگ۔ بھیر ہا۔  
**ہنڈانا** - (ہزن - ڈا - نا) [فت - ۱ - مذ] شہریدہ کرنا۔ جلاوطن کرنا۔ (۲) گشت کرنا۔ پھرنا۔ تشہیر کرنا۔  
**ہنڈاؤن** - (ہزن - ڈا - ون) [فت - ۱ - مذ] ہنڈی بھیجنے کا مشن۔  
**ہنڈی** - (ہزن - ڈی) [فت - ۱ - مذ] ہندوستان بھارت۔  
**ہنڈی کی ہانڈی جو گھیا یا پھولے سے برتن میں پکاتے ہیں**۔ بچوں کے کھانا پکھنے کا مہیل۔  
**ہنڈنا** - (ہنڈ - نا) [فت - ۱ - مذ] ہنڈے سے پھرتا تشہیر ہونا۔  
**ہنڈول** - (ہزن - ڈول) [فت - ۱ - مذ] ہندی راگوں کا پانچواں راگ۔ صبح کا ایک راگ۔  
**ہنڈولا** - (ہزن - ڈولا) [فت - ۱ - مذ] پالنا گوارہ۔ جھولا۔ بنگھوٹا۔ (۲) برسات کا گیت جو جھولے پر گایا جاتا ہے۔  
**ہنڈولا جھولنا** - (۱) [مشت] جھولا جھولنا۔ ہنڈولے میں جھولنا۔  
**ہنڈولی** - (ہنڈ - ڈی) [فت - ۱ - مذ] ہنڈولے سے پکائی ہوئی۔

**قیام** - بقا۔  
**ہمیشہ** - (ہ - سے - شہ) [فت - صفت] دائم۔ مدام۔ آئے دن۔ سدا۔ نت۔ ہمیشہ روتے ہی جھڑکنا۔ (۱) متولد (۲) سدا مصیبت ہی میں مبتلا ہے۔ ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ (۱) مفرد (۲) پلانا چلنا ہے۔ قدیم رسم ہے۔  
**ہمیل** - (ہ - ۱ - مذ) روپیوں کی جی ہونی جو کھلے میں ڈالتے ہیں۔  
**ہمیں** - (ہ - میں) [فت - مض] ہم سب کو۔ ہم تمام آدمیوں کو (۲) مجھ کو۔ مجھے۔ میرے تئیں۔  
**ہمیں پیٹے** - (۱) مثل، سخت قسم جو کسی عزیز کو دی جاتی ہے۔ ہمارا نام کرے۔ ہمیں روتے۔  
**ہمیں چوگاں** - ہمیں میداں (ہمیں گو ہمیں چوگاں) [فت - مثل] ہمیں نقلی کی جگہ ہے ہمیں آزمائش ہو جائے۔  
**ہمیں پچھ کام نہیں** - (۱) تابع فعل، ہمیں پچھ غرض نہیں۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں۔  
**ہمیں کیا** - (۱) تابع فعل، ہم کو کیا مطلب۔ ہم کو کیا فائدہ۔  
**ہمیں** - (ہ - میں) [فت - ض] منکر، ہم ہی کا مخفف۔  
**ہمیں پر کیا ہے** - (۱) محاورہ، ہم ہی پر کیا موقوف ہے۔ ہماری ہی ذات پر منحصر نہیں ہے۔  
**ہمیں ہم** - صرف ہم۔ تنہا ہم۔  
**ہمیں** - (ہ - میں) [فت - تابع فعل] ایسی۔

ن - ہ

**ہگن** - (ہ - ۱ - مذ) [فت - ۱ - مذ] دکن کے ایک قدیم سکے کا نام (۲) دولت باغ۔  
**ہگن برسا** - (۱) محاورہ (۲) دولت برسا۔ خوب آمدنی ہونا۔  
**ہگن پرہن برسا** - (۱) محاورہ (۲) دولت کی فراوانی ہونا۔  
**ہنٹر** - (Hunter) ہن - (خر) [فت - ۱ - مذ] کوڑا۔ چابک۔ (۲) شکاری۔  
**ہنچار** - (ہزن - جار) [فت - ۱ - مذ] راہ۔ راستہ۔ [مجازاً] طرز۔ روش۔ قاعدہ۔  
**ہنڈ** - [فت - ۱ - مذ] ہندوستان بھارت۔  
**ہنڈرہ** - (ہزن - ڈرہ) [فت - ۱ - مذ] شکل۔ عدد۔ رقم۔ (۳) اقلیدس۔  
**ہنڈرہ دان** - (رج - فت - صفت) علم ہنڈرہ کا عالم۔ اقلیدس کا عالم۔  
**ہندی** - (ہزن - ڈی) [فت - ۱ - مذ] ہندوستان کا باشندہ۔ ہندی۔  
**ہندی** - (ہزن - ڈی) [فت - ۱ - مذ] ہندوستان کا باشندہ۔ ہندی۔  
**ہندی** - (ہزن - ڈی) [فت - ۱ - مذ] ہندوستان کا باشندہ۔ ہندی۔  
**ہندی** - (ہزن - ڈی) [فت - ۱ - مذ] ہندوستان کا باشندہ۔ ہندی۔  
**ہندی** - (ہزن - ڈی) [فت - ۱ - مذ] ہندوستان کا باشندہ۔ ہندی۔  
**ہندی** - (ہزن - ڈی) [فت - ۱ - مذ] ہندوستان کا باشندہ۔ ہندی۔

ہنسنا مارنا۔ (۱- محاورہ) بہت ہنسنا۔  
ہنسنا نا۔ (ہنسنا نا) (۵- مص) [۱۱] ہنسی دلانا۔ خندہ دلانا۔ (۲) خوش کرنا۔  
محفوظ کرنا۔

ہنسائی۔ [ہنسائی] (۱- مرث) تعجبک ٹھٹھا۔ ہنسی۔  
ہنس بول کر لہر کرنا۔ (۲- مص) خوش دلی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔  
ہنس بول لینا۔ (۳- مص) ہنسی خوشی سے بات چیت کرنا۔  
ہنس پڑنا ہنس دینا۔ (۴- مص) [۱۱] دفعہ ہنسنے لگنا۔

ہنسنا۔ (ہنسنا) (۵- صفت) ہنسنا ہوا۔  
ہنسنا پھول بستنی کلی۔ (۱- مرث) نازک اور خوش مزاج آدمی جو اکثر مسکراتا  
اور ہنسنا رہے مگر جسے ذرا بھی خلاف طبع بات گوارا نہ ہو۔

ہنسنا پھل۔ (۱- صفت) دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے والا  
ہنسنے بولنے۔ (۱- صفت) مذاق کرنے کرتے۔ (۲) باتوں باتوں میں۔  
آسانی سے۔ (۳) خوش دلی سے گفتگو کرتے۔

ہنسنے ٹھا کر کھانسنے جو ران دو ٹولوں کا آنا اور۔ (۱- مرث) حساکم کی  
تسوائہ ہنسی اور جو ران کی کھانسی خرابی کا باعث ہوتی ہے۔

ہنسنے ہنسنے۔ (۱- تابع فعل) ہنسی ہنسی میں۔ مذاق میں (۲) نہایت  
ہنسنے۔

ہنسنے ہنسنے سر پٹ میں مل پڑ جانا۔ (۱- محاورہ) نہایت ہنسنا۔  
ہنسنے ہنسنے ٹوٹ جانا۔ (۱- محاورہ) ہنسی کے مارے غلط ہو جانا۔ ہنسی  
کے مارے ٹوٹ ٹوٹ ہو جانا۔

ہنسنے ہی گھر لیتے ہیں۔ (۱- مرث) ہنسی ہنسی میں کام بنتے ہیں۔ باتوں  
باتوں میں مطلب نکل آیا کرتا ہے۔

ہنسنے۔ (ہنسنے) (۱- صفت) ہنستی ہوتی۔ ہنست کی تائید۔  
ہنستی پیشانی۔ (۱- مرث) خندہ رونی۔ خندہ پیشانی۔

ہنسنے خلق۔ (۱- مص) خوش خلق۔ ہنس مکھ۔ ہنسار۔  
ہنسنے۔ (ہنسنے) (۱- مرث) وہ ہڈی جو گردن کے نیچے ہوتی ہے۔

ہنسنے ایک قسم کا زیور جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔  
ہنسنے اتر جانا۔ (۱- محاورہ) شیرخوار بچے کے گلے کی ہڈی کا اپنی جگہ سے  
کھسک کر تلے اوپر ہو جانا۔

ہنسنے دجانا (جاتی رہنا)۔ (۱- محاورہ) ہنسی اتر جانا۔  
ہنس مکھ۔ (۵- صفت) خوش مزاج۔ خوش طبع۔ خوش خلق۔ شکستہ زو۔

ہنسنے۔ (ہنسنے) (۱- مص) [۱۱] خندہ کرنا۔ کھکھلانا۔ کھنکھنا (۲) مذاق  
کرنا۔ دل لگی کرنا۔ چھیر خانی کرنا۔ (۳) ہنسی اڈانا تعجبک کرنا۔

ہنسنے بولنا۔ (۱- محاورہ) (۱) طرفت سے دل بہلانا۔ دل لگی کرنا۔ مذاق  
کرنا۔ خوش دلی سے بات چیت کرنا۔

ہنسنے سوانا۔ (ہنسنا) (۱- مص) [۱۱] کسی پر ہنسنے کے لیے دوسرے کو  
تحرک کرنا۔

ہنسنے سوز۔ (۱- صفت) خوش طبع خوش مزاج۔  
ہنس ہنس کھانسنے چھو ہڑ کا مال۔ (۱- مرث) بیوقوف کی دولت

کاغذ زر۔ روپیہ کا رقم۔ وہ رقم جو ساہوکار ایک جگہ سے دوسری جگہ  
روپیہ وصول کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کا

ہنڈی بھینچنا۔ (۱- محاورہ) مہاجن کے ذریعہ روپیہ بھینچنا۔ ساہوکار سے  
روپیے کا پرچہ لے کر روانہ کرنا۔

ہنڈی ہینٹا۔ (۱- محاورہ) ہنڈی کاروبار وصول ہونا۔  
ہنڈی سکارنا (دسکھا رانا)۔ (۱- محاورہ) ہنڈی کاروبار ادا کرنا۔

ہنڈی سیاہ جوگ۔ (۵- مرث) ہنڈی جس کا روپیہ پھر دیر بعد ملے  
ہنڈی کرنا۔ (۱- محاورہ) ساہوکار کے ذریعہ سے ایک جگہ سے دوسری  
جگہ روپیہ بھینچنا۔

ہنڈی کھڑی رکھنا۔ (۱- محاورہ) ہنڈی کو کسی جگہ سے ملتی رکھنا۔  
ہنڈی یا۔ (ہنڈی) (۱- مرث) ہنڈی کی تصغیر۔ (۱) مٹی کی دیچی۔

(۲) لکناٹھ [ترکاری۔ سالن]۔  
ہنڈیا پکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سالن پکانا۔ ترکاری پکانا (۲) سازش  
ہونا۔ پھرمی پکانا۔

ہنڈیا پکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سالن پکانا۔ ترکاری پکانا (۲) سازش  
ہونا۔ پھرمی پکانا۔

ہنڈیا پکانا۔ (۱- محاورہ) (۱) سالن پکانا۔ ترکاری پکانا (۲) سازش  
ہونا۔ پھرمی پکانا۔

ہنڈیا پچھڑھارنا۔ (۱- محاورہ) ہنڈیا چولہے پر رکھنا۔ دال۔ ساگ  
ترکاری پچھڑھارنا۔

ہنڈیا ڈوٹی۔ (۱- مرث) (۱) کھانے پکانے کا سامان۔ باورچی خانے  
کے برتن۔ (۲) گھر کا اسباب۔ اثاثہ البیت۔

ہنڈی۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

حکمت۔ دانائی۔  
ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

ہنڈی بچھڑھارنا۔ (۱- مرث) (۱) فن۔ کام۔ کاریگری۔ حرفت۔ کمال۔  
جوہر۔ صفت۔ (۲) کرتب۔ وصف۔ خوبی (۳) اندازہ۔ سلیقہ۔

اسے مسخرہ بنا کر کھانی چاہئے۔

**ہنسی** - (ہن - ہنی) (۱-۵) - مٹھا (۱) خندہ - قفقہہ (۲) خوش طبعی - مزاج کھل - سنسر (۳) تصحیح - فصیحی (۴) چھیل - نہایت آسان کام۔  
**ہنسی اڑانا** - (۱-۵) مجاورہ - تصحیح کرنا۔ کسی پر ہنسنا۔  
**ہنسی اڑنا** - (۱-۵) مجاورہ - ذلت ہونا۔ مذاق بنایا جانا۔  
**ہنسی بٹھٹھا** - (۱) ہنسی - مذاق - دل لگی - (۲) ذراسی بات - کھیل - تماشا۔

**آسان کام**  
**ہنسی خوشی** - (۱-۵) مذاق خوشی سے خوش ہو کر خوشی کے ساتھ - (۲) خوش خوش - غیریت کے ساتھ - بیخبریت تمام۔  
**ہنسی خوشی سے** - (۱-۵) تابع فعل - رضا مندی سے۔  
**ہنسی خوشی کا سوا** - (۱-۵) مذاق رضا مندی کی معاملہ۔  
**ہنسی سے کہنا** - (۱-۵) مجاورہ - مذاق کوئی بات کہنا۔  
**ہنسی سے لوٹنا** - (۱-۵) مجاورہ - ہنسی سے بیتاب ہو کر غلطیاں ہونا۔

**بے مہر ہنسنا**  
**ہنسی ضبط کرنا** - (۱-۵) مصل - مرکب - ہنسی روک لینا۔  
**ہنسی کرنا** - (۱) مذاق کرنا - دل لگی کرنا۔ (۲) رسوائی کرنا - بدنامی کرنا۔  
**تصحیح کرنا**

**ہنسی چھیل** - (۱-۵) مذاق (۱) ہنسی بٹھٹھا (۲) ذراسی بات - آسان کام۔  
**ہنسی کی بات** - (۱-۵) مذاق (۱) مذاق کی بات - غیر سنجیدہ بات۔  
**ہنسی ماننا** - (۱-۵) مجاورہ - کھیل بھجھنا۔

**ہنسی میں اڑا دینا** - (۱-۵) مذاق (۱) - (۲) مجاورہ - کسی بات کو مذاق میں ٹال دینا۔ بات پر توجہ نہ دینا۔  
**ہنسی میں پھول چھڑنا** - (۱-۵) مجاورہ - کسی کا ہنسنا اچھا معلوم ہونا۔  
**ہنسی میں ٹالنا** - (۱-۵) مجاورہ - کسی کی ناگوار بات کو مذاق میں لا کر

**آنی لگی کر دینا**  
**ہنسی میں کھنسی ہو جانا** - (۱-۵) مجاورہ - ہنسی میں بگاڑ ہو جانا۔ مذاق میں بھجنانا۔

**ہنسی چھیلنا**  
**ہنسی ہنسی میں** - (۱-۵) تابع فعل - (۱) دل لگی میں - مذاق میں - مذاق (۲) بلا وجہ - بلا سبب - بیخوبی باتوں باتوں میں -

**ہنسی ہونا** - (۱-۵) مجاورہ (۱) مذاق ہونا - دل لگی - (۲) ذلت ہونا۔  
**تصحیح ہونا**

**ہنسیا** - (ہنسی - یا) (۱-۵) مذاق گھاس اور کھیتی وغیرہ کاٹنے کا اوزار۔  
**چہنگار** - (۱-۵) مٹھا (۱) ہال کی آواز (۲) پستی - حمایت۔  
**چہنگارا** - (۱-۵) ہنسی (۱) ہنسی - کار - (۲) ہنسی - (۳) مٹھا (۱) ہال - ہنسی - ہنگارا - ہنگارا۔

**ہنگارا بھرنے** - ہنگارے بھرنے - (۱-۵) مجاورہ (۱) ہال کرنا - ہانی بھرنا۔  
**اشارہ بھگانا** - (۲) اشارہ بھگانا - ہنگارے بھگانا۔

**ہنگارنا** - (ہنسی - نا) (۱-۵) (۱) ہنگارا بھرنے - ہول کرنا - (۲) اشارہ کرنا - بھگانا۔

**ہنگارنا** - (تی - مصل) [ہنسی] ہنگارنا - نکال دینا۔  
**ہنگارنا** - (۱-۵) مصل (۱) پاس سے دور کرنا۔ (۲) کھڈرنا - بھگانا۔  
**ہنگاریا جانا** - (۱-۵) مجاورہ (۱) جانوروں کی طرح نتقا تب کیا جانا۔ (۲) دور کرنا جانا - بھگانا۔  
**ہنگرا** - (ہنسی - را) (۱-۵) مذاق جانوروں کو ہنگارے شکاری کے بیٹھنے کی جگہ پر لانا۔

**ہنگ** - (ت - ا) [مذاق] (۱) بھاری بھر کم پن - نگیں - وقار - (۲) ارادہ - قصد - (۳) زور - قوت - بل - (۴) ضعف [دانا] - لیرک - قاتل - (۵) لشکر - سپاہ۔

**ہنگام** - (ت - ا) [مذاق] وقت - زمانہ - موقع۔  
**ہنگامہ** - (ہنگ - مہ) [ت - ا] [مذاق] مجمع - بھیرٹا - ازدحام - انومہ - (۲) ہنگامہ میدان (۳) شورش - دنگہ - فساد - گڑبڑ - (۴) شور - عوفنا - ہاتے ہو - (۵) زور - شور۔

**ہنگامہ آرا** - (ت - صفت) (۱) صفت آرا - جنگ برپا کرنے والا۔ (۲) فتنہ برپا کرنے والا۔

**ہنگامہ برپا کرنا** - (۱-۵) مجاورہ - فساد برپا کرنا - بھگڑا کھڑا کرنا۔  
**ہنگامہ بردار** - (ت - صفت) ہنگامہ کرنے والا - فساد -

**ہنگامہ بردار** - (ت - صفت) ہنگامہ کرنے والا - فساد - (۲) ہنگامہ بردار - (۱) فساد - (۲) ہنگامہ کرنے والا - فساد۔  
**فساد اٹھانا** - (۱) فساد اٹھانا - بھگڑا کھڑا کرنا۔

**ہنگامہ کرنا** - (۱-۵) مجاورہ (۱) فتنہ و فساد اٹھانا - شور و عوفنا کرنا۔  
**ہنگامہ گرم رہنا** - (۱-۵) مجاورہ (۱) فتنہ و فساد اور شور و عوفنا ہوتا رہنا۔  
**ہنگامہ محشر** - (ت - ا) [مذاق] قیامت کے دن کا شور و عوفنا - ہجوم۔

**ہنگامہ ہونا** - (۱-۵) مجاورہ (۱) بھگڑنا ہونا - فساد ہونا۔ (۲) ادوم ہونا (۳) زور شور ہونا۔

**ہنگامی** - (ہنگامی - ت) [ت - صفت] چند روز کا - خاص وقت تک کا۔  
**ہنگون** - (ہن - گن) (تی - ا) [مٹھا] (۱) ایک قسم کی آتشبازی - (۲) ایک قسم کا جگلی چیل۔

**ہنو** - (ہ - نو) [ت - ا] [مذاق] ہندو کی جمع۔  
**ہنوز** - (ہ - نو) [ت - ا] [مذاق] ہنوز - (۱) ہنوز - اب تک۔  
**اس وقت تک** - ابھی۔

**ہنوز دنی دُور ہے** - (ت - نسیل) ابھی منزل بہت دُور ہے۔ ابھی مطلب پورا ہونے میں بہت دیر ہے۔  
**ہنوز روز آوے** - (ت - نسیل) ابھی وہی ابتدا والا معاملہ ہے۔  
**ابھی تک** - پھر ترقی نہیں کی ہے۔

**ہنومان** - (ہ - نو) [منا] (۱-۵) [مذاق] ہندوؤں کا ایک دیوتا۔ ہندوؤں کا ایک روایتی سردار جس نے سینا جی کی بازیابی میں رام چندر جی کی مدد کی تھی۔ (۲) بندر - بوڑھے۔

**ہنہنا نا** - (ہن - نا) (۱-۵) [مصل] گھوڑے کا بولنا۔  
**ہنہنا ہٹ** - (ہن - نا) (۱-۵) [مٹھا] (۱) گھوڑے کی آواز۔

ہفتی مومن - (Honey Moon) (دہ رنی - مومن) [انگ - ۱- بند]  
شاوی کا پہلا مہینہ جس میں دولہا و دلہن باہر سیر کو تفریح کو چلے جاتے  
ہیں - ماہ غسل - ماہ نویس۔

## ۵- و

ہو - (۵- ۱- مرث) (۱) پکارنے یا بلانے کی آواز - (۲) بعض جنگلی جانوروں  
کی آواز - (۳) [اُر] پیر و امین کی جگہ (۴) اگر ہو سکے کی جگہ -  
ہو - (۱- مرث) (۱) مذ [اُر] عربی صیغہ ہو (۲) کا بگاڑ (۳) صوفیوں کی اصطلاح  
میں ذات باری تعالیٰ (۳) غل - ہنگامہ - حالت مستی میں منہ سے  
نکلنے والی آہ (۴) لکنا یا خوف - ڈر -  
ہو ہو ہو - (۱) صفت - بے بند - بالکل ٹھیک ٹھیک - عربی میں ہو ہو ہو  
دیہ و بی سے - تھا - فارسی والوں نے ہو ہو بنا لیا -  
ہو سو حق - (۱- مرث) (۱) وجد یا مستی کی حالت میں منہ سے نکلنے  
والا نغمہ - (۲) شور و غل -  
ہو سو حق کرنا - (۱- محاورہ) (۱) خدا کا نام لینا - اللہ اللہ کرنا (۲) شور و غل  
مچانا -

ہو سو حق ہو جانا - (۱- محاورہ) (۱) فنا ہو جانا - مرث جانا - ناپید ہو جانا - (۲)  
فنا فی اللہ ہو جانا -  
ہو کا عالم - ہو کا مقام - ہو کا مکان - ہو کا میدان - (۱- ۱) (۱) عالم  
لاہوت (۲) اجاڑ - ڈیرا نہ - سنان جگہ - جہاں آدمی کو دہشت معلوم  
ہو -

ہو کرنا - (۱- محاورہ) ڈر کر چینیا - چینیا - چیخ کر بھاگنا -  
ہو ہو جانا - (۱- محاورہ) دیرا نہ ہو جانا - سناٹا چھا جانا -  
ہو - (۱- ۱) (۱) [ع] صیغہ مذکر غائب - وہ -  
ہو الا اول والاخر - (ع - مقولہ) وہ (خدا) سب سے اول اور  
سب سے آخر ہے -

ہو اللسانی - (ع - کلمہ دعائیر) خدا تعالیٰ شفا دینے والا ہے -  
و طبیب نفل کی ابتدا میں لکھا کرتے ہیں -  
ہو العفور - (ع - صفت) وہ (خدا تعالیٰ) بخشش کرنے والا ہے -  
ہو آنا - [اُر] میں [کیں] جا کر واپس آ جانا - لوٹ آنا - پلٹ آنا -  
ہو - (۱- ۱) (۱) [ع] (۱) مرث [اُر] خلا اور زمین کے درمیان کی فضا  
(۲) باد - پون - زرخ - (۳) حرص - ہوس - لالچ - (۴) آرزو -  
ارمان - تمنا - اشتیاق - خواہش نفس - (۵) دوستی - خیر خواہی -  
(۶) [اُر] سانس - دم نفس - (۷) و یا (۸) ادنیٰ مناسبت -  
خفیف نسبت - (۹) اسکا - اثر (۱۰) زرخ - میلان - انداز - وضع -  
(۱۱) چرچا - شہرت - (۱۲) فنا - نیست - معدوم -

ہو آنا - (۱- محاورہ) ہو کی رسائی ہونا -  
ہو آڑ جانا - (۱- محاورہ) (۱) بھم بھم لکھ جانا - ساکھ جاتی رہنا - (۲) تہنیر

ہونا - چرچا ہونا -

ہوا اکھڑ جانا - (۱- محاورہ) عزت میں فرق ہونا - ساکھ جاتی رہنا -  
ہوا اور ہو جانا - ہوا اور کچھ ہو جانا - (۱- محاورہ) انداز بدل جانا -  
انقلاب ہو جانا - پہلا سا انداز نہ رہنا -

ہوا باز - (۱) صفت - ہوا بی جہاز چلانے والا - طیارہ لان -

ہوا بازی - (۱- ۱) (۱) صفت - طیارہ رانی - ہوا باز کا کام -  
ہوا با تھنا - (۱- محاورہ) (۱) جھوٹ نوٹ نام یا عزت فاقم کرنا (۲)  
رعب جانا - (۳) زور و کڑھانا - (۴) ڈرنا - (۵) سماں باندھنا -

ہوا بتانا - (۱) بتلانا (۲) محاورہ) ٹال دینا -

ہوا بد لٹنا - (۱- محاورہ) (۱) ہوا کا رخ بدلنا (۲) زمانہ کا رخ بدلنا - حالت  
بدلنا - ڈھنگ بدلنا - (۳) زمانے کے موافق ہونا (۴) رت بدلنا - یوم  
پلٹنا - (۵) آب و ہوا تبدیل کرنا -

ہوا برخلاف ہونا - (۱- محاورہ) زمانہ ناموافق ہونا -

ہوا بگڑ جانا - (۱) بگڑنا (۲) محاورہ) (۱) ہوا میں غمناک آنا - ہوا میں فساد  
ہو جانا - ہوا کا زہر ملا ہو جانا - (۲) زمانے کا ناموافق ہو جانا - زمانہ پھر جانا -  
(۳) اعتبار اٹھ جانا - بات بگڑ جانا -

ہوا بندھنا - (۱- محاورہ) (۱) دھاک بندھنا - شہرت ہو جانا - (۲) ساکھ  
ہو جانا - رعب جانا - (۳) سماں بندھنا -

ہوا بچھ جانا - (۱- محاورہ) (۱) ہوا سے پھول جانا - (۲) کسی چیز میں ہوا  
کا سما جانا - (۳) دھن سمانا - (۴) مغرور ہو جانا - اترانا -

ہوا بچھرنا - (۱- محاورہ) جوت دار چیز میں منہ یا دھونکی سے ہوا  
پھینکانا - تاکہ وہ پھول جائے -

ہوا بھرانا - (۱- محاورہ) کبوتر یا فاختہ اپنے بچوں کو چونچ سے ہوا  
دیتے ہیں تاکہ وہ انا کھالے سکے -

ہوا بھی نہ دینا - (۱- محاورہ) (۱) ذرا بھی نہ دکھانا - خبر تک نہ دینا -  
بالکل پتہ نہ دینا -

ہوا پیر اڑنا - (۱- محاورہ) مغرور ہونا - اترانا -

ہوا پیر چڑھا دینا - (۱- محاورہ) مغرور کر دینا -

ہوا پیر چٹھنا - (۱- محاورہ) مغرور ہونا -

ہوا پیر دماغ ہونا - (۱- محاورہ) متکبر ہونا -

ہوا پیر رہنا - (۱- محاورہ) غور میں بھرا رہنا

ہوا پرست - (۱) صفت - (۱) عیاش - بے ہودہ - ظاہر پرست  
(۲) ہوا کے رخ پر چلنے والا - زمانہ ساز مطلب پرست -

ہوا پر سوار ہونا - (۱- محاورہ) جلد باز ہونا - جانے میں جلدی کرنا -  
ہوا پر گرہ لگانا - (۱- محاورہ) (۱) کمال چلا کی کرنا - عیاری دکھانا - (۲)  
ناممکن کام کرنا -

ہوا پر ہونا - (۱- محاورہ) (۱) اترانا - فخر کرنا - گھمنہ کرنا - (۲) تیزی پر ہونا -  
(۳) ظاہری ٹیپ ٹاپ کرنا -

ہوا پلٹا دینا - (۱- محاورہ) (۱) ہوا کا رخ بدل دینا - (۲) زمانہ کا رنگ

پاس نہ پھینکا۔

ہوا سے لڑنا۔ (۱- محاورہ) خواہ مخواہ لڑنا۔ راہ چلتوں سے لڑنا۔ نہایت بد مزاج اور تند خو ہونا۔

ہوا فرقی چلنا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا تیزی سے چلنا۔  
ہوا کا اڑنے جانا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا سبک اشنا کو بلندی پر لے جانا۔  
ہوا کا تھپتھپانا۔ (۱- مذ) ہوا کا زور کا جھونکا۔  
ہوا کا تیز ہونا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا سخت ناگوار ہونا۔  
ہوا کا جھونکا۔ (۱- مذ) ہوا کی زور سے جنبش۔

ہوا کا رخ نینا۔ (۱- محاورہ) د، ٹانسا چلتا کرنا۔ منہ نہ لگانا۔ (۲) کسی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا۔

ہوا کا رخ پھرننا۔ (۱- محاورہ) د، ہوا کا دوسری طرف چلنے لگنا۔ (۲) دکنیہ زمانے کا رنگ بدلنا۔

ہوا کا رخ دیکھنا۔ (۱- محاورہ) زمانے کے موافق کام کرنا۔ زمانے کی رفتار دیکھنا۔

ہوا کا کارخانہ۔ (۱- مذ) ناپائیدار کام۔

ہوا کا گزرتہ ہونا۔ (۱- محاورہ) رسائی نہ ہونا۔

ہوا کرنا۔ (۱- محاورہ) ٹیکھے سے ہوا دینا۔ پیکھا جھلنا۔

ہوا کو گرہ دینا۔ ہوا کو گرہ میں باندھنا۔ (۱- محاورہ) د، ناممکن کام کرنے کی کوشش کرنا۔ نہایت مشکل کام کرنا۔

ہوا کھانا۔ (۱- محاورہ) د، کھلی جگہ سیر کرنا۔ ہوا خوری کرنا (۲) زحمت تنہا چلے جانا۔

ہوا کھاؤ۔ (۱- محاورہ) چلتے بنو۔ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ دفع ہو۔ دفائی ہو جوا کھلانا۔ (۱- محاورہ) دکنیہ آؤں بزم باج دکھانا۔ (۲) سیر کرنا۔

ہوا کھونا۔ (۱- محاورہ) دقت مٹانا۔ ساکھ گنونا۔

ہوا کی چال۔ (۱- مٹ) نہایت تیز چلنا۔

ہوا کی زوٹی۔ (۱- مٹ) نان ہوا۔ ایک قسم کی نہایت تپتی روٹی۔

ہوا کی طرح چلنا۔ (۱- محاورہ) د، تیز چلنا۔ (۲) سبک چلنا۔

ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا۔ (۱- محاورہ) د، نہایت تیز و تند اور جست و چالاک ہونا۔ جلد باز ہونا۔ (۲) مستکیر اور مغرور ہونا۔

ہوا گرم ہونا۔ (۱- محاورہ) ہوا میں حرارت ہونا۔ دکنیہ گرم بازاری ہونا۔

ہوا لگنا۔ لگ جانا۔ (۱- محاورہ) د، ہوا کا جسم سے چھو جانا۔ ہوا عموس ہونا۔ (۲) ہوا کے اثر سے جسم کا اڑ جانا۔ (۳) پیر پرانے نکلنا (۴) صحبت کا اثر ہونا۔ مطلق اثر ہونا۔

ہوا لینا۔ (۱- محاورہ) ہوا کھانا۔

ہوا مٹھی میں بند کرنا۔ (۱- محاورہ) ایسا کام کرنا جو ناممکن ہو۔ بے فائدہ محنت کرنا۔

ہوا مخالف ہونا۔ (۱- محاورہ) د، ہوا کا مخالف سمت میں چلنا۔ (۲) دکنیہ زمانے کا ناسازگار ہونا۔

ہوا میں آجانا۔ (۱- محاورہ) اترنا۔ ڈینگ کی لینا۔

بدل دینا۔

ہوا پلٹ جانا۔ (پلٹنا)۔ (۱- محاورہ) انقلاب ہونا۔ رنگ و رنگ ہونا۔ (۲) موسم بدل جانا۔ (۳) لیسے بے کار گشتہ ہو جانا۔

ہوا پھانکنا۔ ہوا پھانک کے رہنا۔ (۱- محاورہ) فائقے سے رہنا۔

جھول کر رہنا۔ صرف ہوا کے سہارے جینا۔ بغیر کھائے زندہ رہنا۔

ہوا پھیر جانا۔ (پھیرنا)۔ (۱- محاورہ) ہوا کا رخ بدل جانا۔ ہوا پلٹ جانا۔ (۲) زمانہ پلٹ جانا۔ بھلے دن آنا۔ اقبال کا یا اور ہونا

ہوا پھلنا۔ (۱- محاورہ) دکنیہ زمانہ کا موافق ہونا۔ اقبال یا اور ہونا۔

ہوا پھلنا۔ (۱- محاورہ) د، ہوا کا جنبش میں آنا۔ (۲) کسی امر کا رواج پانا۔

ہوا چھوڑنا۔ (۱- محاورہ) گوز خارج کرنا۔ یاد مانا۔

ہوا جھلس ہونا۔ (۱- محاورہ) ہوا بند ہونا۔

ہوا خلاف ہونا۔ (۱- محاورہ) د، با د مخالف کا چلنا۔ (۲) زمانے کا ناموافق ہونا۔

ہوا خواہ۔ (دقت) صفت) خیر خواہ۔ بھلائی چاہنے والا۔

ہوا خواہی۔ (دقت) صفت) خیر خواہی۔ خیر خواہی۔ خیر اندیشی۔

ہوا خوری۔ (دقت) صفت) کھلی ہوا میں جا کر سیر و تفریح کرنا۔

ہوا دار۔ (دقت) صفت) طالب خواہ۔ طالب خواہش مند (۲) کشادہ جگہ جس میں اچھی طرح ہوا کا گزر ہو۔ (۳) ایک قسم کی سواری جسے کھار اٹھاتے ہیں۔ تمام بھام۔

ہوا داری۔ (دقت) صفت) خواہش مندی۔ خیر خواہی۔ دوستداری۔

ہوا دیکھنا۔ (۱- محاورہ) د، زمانہ کا تشدید و فراز دیکھنا۔ (۲) انجام اور وضع کی جانچ کرنا۔

ہوا دینا۔ (۱- محاورہ) د، ٹیکھے یا دامن سے ہوا دینا۔ (۲) ہوا میں رکھنا۔ کسی چیز کو ہوا کھلانا۔ (۳) آگ کو ہوا سے سلگانا۔ آگ کو پھیر کرنا۔ (۴) اشتعال دینا۔ آگسنانا۔

ہوا لاس نہ آنا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا ناموافق ہونا۔

ہوا زوٹی۔ (دقت) صفت) لگام سردی۔ نزلہ۔

ہوا سا۔ (۱- تابع فعل) د، ذرا سا تخفیف سا (۲) ہوا کی مانند۔

ہوا سبک۔

ہوا سر میں ہونا۔ (۱- محاورہ) دھن ہونا۔ سودا ہونا۔

ہوا سمانا۔ (۱- محاورہ) دھن لگنا۔

ہوا سکننا۔ (۱- محاورہ) ہوا کا آہستہ آہستہ چلنا۔

ہوا سے آگے جانا۔ (۱- محاورہ) نہایت تیز جانا۔

ہوا سے اڑ جانا۔ (۱- محاورہ) نہایت لاغر اور ناتواں ہونا۔

ہوا سے بائیں کرنا۔ (۱- محاورہ) د، نہایت تیز رفتار ہونا۔ نہایت پھرتلا ہونا۔ (۲) کمال اختیار اور چالاک ہونا۔ (۳) بہت اونچا ہونا۔ (۴) مغرور ہونا۔

ہوا سے بچ کر نکلنا۔ (۱- محاورہ) کمال نفرت کرنا۔ کسی سے دور بھاگنا۔



ہوائی فائر (۱- مٹ) توپ - بندوق یا رائل وغیرہ کی وہ گولی جو بغیر نشانہ کے ہوا میں چلائی جائے۔

ہوایساں اگنا - (دھپھوٹنا) (۱- محاورہ) چہرہ کا رنگ فق ہونا۔ منہ سفید پڑ جانا۔ بے حواس ہوجانا۔ شرمندگی سے رنگ اڑ جانا۔

ہوہٹھینا - (۱- محاورہ) [ار- مص] (۱) ہوجانا۔ بن جانا۔ (۲) محافل ہونا۔ کچروں سے ہوجانا۔ ہو پور جانا - (۱- محاورہ) ہنخوار ہوجانا۔

ہوت - (۱- ۵- مٹ) (۱) مقدور۔ پونجی - فراغ بالی - ثروت بحیثیت (۲) [مذ] پکارنے کا کلمہ۔

ہوت جوت والا - (۱- صفت) صاحب ثروت - صاحب مقدور۔ ہوت کا باپ ان ہوت کی مال - (۱- مثل) باپ روپے کا سامتی اور ماں نفی کی۔

ہوت کی جوت ہے - (۱- مثل) ساری رونق روپے کی ہے۔ ہوتنا - (ہو- تا) [ہ] [و] ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا تھا کی جگہ (۲) ہونے والا - (۳) [مذ] [کڑ] رشتے دار - قرابت دار - (۴) دولت - ثروت - مقدر۔

ہوتنا آیا ہے - ہوتنا چلا آیا ہے - (۱- مثل) زمانہ قدیم سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہوتنا سوتنا - (۱- تابع فعل) مرنا۔ جیتنا۔ سماجتی - عزیز - رشتہ دار - ہوتے ساتھ - (۱- تابع فعل) ہوتے ہوئے - پاس ہوتے ہوئے -

ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے - ہوتے سوتے - (۱- تابع فعل) عمریش واقارب جو زندہ ہوں یا مر گئے ہوں - سماجتی - ہوتے ہوئے - (۱- تابع فعل) رفتہ رفتہ - آہستہ آہستہ - سچ سچ - دھیرے دھیرے۔

ہوتے ہوئے - ہووگی میں نہ ہوتے ہی نہ ہوا جو کفن تھوڑا لگتا - (۱- مثل) ایسے شخص کی نسبت بولتے ہیں جس سے محنت نفرت ہو۔ ہوتے ہی ہوگا - (۱- محاورہ) آہستہ آہستہ ہوگا۔ بتدریج ہوگا۔ رفتہ رفتہ ہوگا۔

ہوتی - (ہو- تی) [ہ] ہوتی کی تائینٹ ہوتی آتی ہے - (۱- مثل) قدیم رقم ہے۔ پہلے ہی سے چلی آتی ہے۔

ہوٹ - (ہوٹ) [ہ] کارخانہ وغیرہ کی سیٹی لگگمو۔ ہوٹل - (Hotel) (ہو- ٹل) [اگم- ۱- مذ] وہ جگہ جہاں کھانے اور سکونت کا انتظام ہو۔ مسافر خانہ۔ ہوٹلنگ - (اگم- ۱- مذ) شور وغل (۲) کسی تقریر وغیرہ پر ناپسندیدگی کا شوق۔

ہو جانا - (۱- مص) [و] کام بن جانا۔ کام پورا ہوجانا (۲) اگر چلے جانا۔ (۳) مل جانا۔ (۴) حتم ہوجانا۔ تمام ہوجانا۔ (۵) آسیب کا اثر ہوجانا۔ (۶)

ہوایا میں گرہ دینا - ہوا میں گرہ لگانا - (۱- محاورہ) دیکھے ہوا گرہ دینا۔ ہوا میں ہونا - (۱- محاورہ) مغرور ہونا۔ خیال باطل میں مبتلا ہونا۔ ہوانا موافق ہونا - (۱- محاورہ) ہوانا ساز ہونا۔ زمانہ خلاف ہونا۔ ہوانا نکلنا - (۱- محاورہ) [و] غرور ڈھیننا۔ ترکی تمام ہونا۔ (۲) دم نکلنا۔ پھونک نکلنا۔ (۳) گوز نکلنا۔ ریاح خارج ہونا۔ ہوانا آسکنا - (۱- محاورہ) (کنایت) کسی کا کردار نہ ہو سکتا۔ کسی کی رسائی نہ ہونا۔

ہوانا چھوٹنا - (۱- محاورہ) خنیف سا اثر بھی نہ ہونا۔ ہوانا دینا - (۱- محاورہ) خبر نہ کرنا۔ پتہ تک نہ دینا۔ ہوانا نہ رہنا - (۱- محاورہ) رونق نہ رہنا۔ بیمار نہ رہنا۔ ہوانا لگنا - (۱- محاورہ) ذرا سا اثر بھی نہ ہونا۔ ہوانا چھوٹنا۔ ہوا ہووس - (ف- ۱- مٹ) (۱) حرص اور لالچ (۲) عیاشی - شہوت پرستی۔

ہوا ہوتنا - (۱- محاورہ) [و] ہوا کی مانند تیز رفتار ہونا۔ کافر ہونا - (۲) دھار کا تیز ہونا - (۳) فنا ہونا۔ نابود ہونا۔ ہوا - (ہو- آ) [ہ- ۱- فعل] (۱) ہوجکا۔ ہو گیا۔ گزر گیا - (۲) آدہ ہوا - مستعد ہوا۔

ہوا چاہتا ہے - (۱- بول چال) جلد ہونے والا ہے۔ ضرور ہوگا۔ ہوا سو ہوا - (۱- مثل) ہر کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ جانے دو خیال نہ کرو۔ ہوا کرے - (۱- مثل) کچھ پرواہ نہیں۔ بلا سے۔ ہمیں کیا۔ ہوانا نہ ہو - (۱- مقولہ) ناب تک ہوانا آئندہ ہوگا۔ ہوا ہو - (۱- بول چال) دیر نہ کرو۔ بھاگ جاؤ۔ جلدی کرو۔

ہوا - (ہو- ۱- ۱- مذ) [و] بچوں کو ڈرانے کی فریضی صورت - (۲) مہیب صورت۔ ہوا - (۱- ۵- ۱- مذ) [و] حوصلہ - ہمت - دلیری - مرواگی۔

ہوا - (۱- ۵- ۱- مذ) [و] حوصلہ - ہمت - دلیری - مرواگی۔ (۲) زور - طاقت - (۳) محاب - پردہ۔ ہوائی - (۱- ۵- ۱- امی) [ف- صفت] (۱) منسوب بہوا - آسمانی - (۲) بادی - پرجی - (۳) چالاک - تیز رفتار - تیز رو [آر] آوارہ - واپسی - (۵) [آر- مٹ] ایک قسم کی آتش بازی - (۶) لغوبات - بیوودہ بات - (۷) افواہ - (۸) پتے اور بادام کا بائیک مغز۔

ہوائی اڈانا - (۱- محاورہ) افواہ اڈانا - جھوٹی خبر مشہور ہونا۔ (۲) منہ فق ہونا۔ چہرے کا رنگ متغیر ہونا۔ ہوائی تیز - (۱) وہ تیز جو ہوائے رخ چلایا جائے اور جس کا کوئی نشانہ نہ ہو۔

ہوائی چھوڑنا - چھیننا - (۱- محاورہ) [و] آتش بازی چلانا - (۲) جھوٹی خبر مشہور کرنا۔ بے بنیاد بات کہنا۔ گپ مارنا۔ ہوائی خبر - (۱- مٹ) [و] بازار کی گپ - افواہ - بے سرو پا بات - ہوائی دیدہ - (۱- صفت) شوخ - چشتم - بے مروت - (کنایت) مستخف ڈھیت۔

ہوا چاہتا ہے - (۱- بول چال) جلد ہونے والا ہے۔ ضرور ہوگا۔ ہوا سو ہوا - (۱- مثل) ہر کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ جانے دو خیال نہ کرو۔ ہوا کرے - (۱- مثل) کچھ پرواہ نہیں۔ بلا سے۔ ہمیں کیا۔ ہوانا نہ ہو - (۱- مقولہ) ناب تک ہوانا آئندہ ہوگا۔ ہوا ہو - (۱- بول چال) دیر نہ کرو۔ بھاگ جاؤ۔ جلدی کرو۔

ہوا - (ہو- ۱- ۱- مذ) [و] بچوں کو ڈرانے کی فریضی صورت - (۲) مہیب صورت۔ ہوا - (۱- ۵- ۱- مذ) [و] حوصلہ - ہمت - دلیری - مرواگی۔ (۲) زور - طاقت - (۳) محاب - پردہ۔ ہوائی - (۱- ۵- ۱- امی) [ف- صفت] (۱) منسوب بہوا - آسمانی - (۲) بادی - پرجی - (۳) چالاک - تیز رفتار - تیز رو [آر] آوارہ - واپسی - (۵) [آر- مٹ] ایک قسم کی آتش بازی - (۶) لغوبات - بیوودہ بات - (۷) افواہ - (۸) پتے اور بادام کا بائیک مغز۔

ہوائی اڈانا - (۱- محاورہ) افواہ اڈانا - جھوٹی خبر مشہور ہونا۔ (۲) منہ فق ہونا۔ چہرے کا رنگ متغیر ہونا۔ ہوائی تیز - (۱) وہ تیز جو ہوائے رخ چلایا جائے اور جس کا کوئی نشانہ نہ ہو۔

ہوائی چھوڑنا - چھیننا - (۱- محاورہ) [و] آتش بازی چلانا - (۲) جھوٹی خبر مشہور کرنا۔ بے بنیاد بات کہنا۔ گپ مارنا۔ ہوائی خبر - (۱- مٹ) [و] بازار کی گپ - افواہ - بے سرو پا بات - ہوائی دیدہ - (۱- صفت) شوخ - چشتم - بے مروت - (کنایت) مستخف ڈھیت۔

ہوا چاہتا ہے - (۱- بول چال) جلد ہونے والا ہے۔ ضرور ہوگا۔ ہوا سو ہوا - (۱- مثل) ہر کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ جانے دو خیال نہ کرو۔ ہوا کرے - (۱- مثل) کچھ پرواہ نہیں۔ بلا سے۔ ہمیں کیا۔ ہوانا نہ ہو - (۱- مقولہ) ناب تک ہوانا آئندہ ہوگا۔ ہوا ہو - (۱- بول چال) دیر نہ کرو۔ بھاگ جاؤ۔ جلدی کرو۔

ہوا - (ہو- ۱- ۱- مذ) [و] بچوں کو ڈرانے کی فریضی صورت - (۲) مہیب صورت۔ ہوا - (۱- ۵- ۱- مذ) [و] حوصلہ - ہمت - دلیری - مرواگی۔ (۲) زور - طاقت - (۳) محاب - پردہ۔ ہوائی - (۱- ۵- ۱- امی) [ف- صفت] (۱) منسوب بہوا - آسمانی - (۲) بادی - پرجی - (۳) چالاک - تیز رفتار - تیز رو [آر] آوارہ - واپسی - (۵) [آر- مٹ] ایک قسم کی آتش بازی - (۶) لغوبات - بیوودہ بات - (۷) افواہ - (۸) پتے اور بادام کا بائیک مغز۔

ہوائی اڈانا - (۱- محاورہ) افواہ اڈانا - جھوٹی خبر مشہور ہونا۔ (۲) منہ فق ہونا۔ چہرے کا رنگ متغیر ہونا۔ ہوائی تیز - (۱) وہ تیز جو ہوائے رخ چلایا جائے اور جس کا کوئی نشانہ نہ ہو۔

ہوائی چھوڑنا - چھیننا - (۱- محاورہ) [و] آتش بازی چلانا - (۲) جھوٹی خبر مشہور کرنا۔ بے بنیاد بات کہنا۔ گپ مارنا۔ ہوائی خبر - (۱- مٹ) [و] بازار کی گپ - افواہ - بے سرو پا بات - ہوائی دیدہ - (۱- صفت) شوخ - چشتم - بے مروت - (کنایت) مستخف ڈھیت۔

ہوا چاہتا ہے - (۱- بول چال) جلد ہونے والا ہے۔ ضرور ہوگا۔ ہوا سو ہوا - (۱- مثل) ہر کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ جانے دو خیال نہ کرو۔ ہوا کرے - (۱- مثل) کچھ پرواہ نہیں۔ بلا سے۔ ہمیں کیا۔ ہوانا نہ ہو - (۱- مقولہ) ناب تک ہوانا آئندہ ہوگا۔ ہوا ہو - (۱- بول چال) دیر نہ کرو۔ بھاگ جاؤ۔ جلدی کرو۔

ہوسکتا۔ (ہوسکتا۔ سکت) [۱-۵]۔ مٹ [موت] عورتوں کا ایک مریض جس میں سب اعضاء حمل کے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً حمل نہیں ہوتا۔

ہوسکتنا۔ [۱-۱]۔ مص [۱]۔ ممکن ہونا [۲]۔ امکان میں ہونا۔

ہوسو ہوسو۔ [۱]۔ تابع فعل، جہاں سے جو کچھ ہو۔

ہوش۔ [۱]۔ ذہن [۲]۔ عقل۔ دانش۔ دانائی۔ فہم۔ سمجھ۔ شعور۔ [۲]۔ غم۔ واقفیت۔ آگاہی۔ سدھ۔ [۳]۔ روح۔ دل۔ جان۔ [۴]۔ حواس۔ قوتِ مدرکہ۔ حافظہ۔ حس۔ یاد۔

ہوش آنا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوشیار ہونا۔ سنبھلنا۔ آپہ میں آنا۔ [۲]۔ عقل آنا۔ غفلت دور ہونا [۳]۔ سبانا ہونا۔

ہوش اڑا دینا۔ [اڑنا]۔ [۱]۔ محاورہ) گھبرا دینا۔ بے اوسان کر دینا [۲]۔ باختہ کر دینا۔ [۲]۔ تیز کر دینا۔ جیرت میں ڈال دینا۔ بے خود کر دینا۔

ہوش اٹھانا [اڑنا]۔ [۱]۔ محاورہ) حواس باختہ ہو جانا۔ گھبرا جانا [عقل ٹھکانے نہ رہنا۔ جیرت میں آ جانا۔

ہوش باختہ ہو جانا۔ [۱]۔ محاورہ) گھبرا جانا۔

ہوش بجا رکھنا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوش قائم رکھنا۔

ہوش بجا رہنا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوش قائم رہنا۔

ہوش بچھنا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوش پراگندہ ہونا۔

ہوش پراگندہ ہونا۔ [۱]۔ محاورہ) حواس باختہ ہو جانا۔ ہوش بچھنا۔

ہوش پڑنا [پڑنا]۔ [۱]۔ محاورہ) ہوش قائم نہ رہنا۔ [اڑ جانا]۔ گھبرا جانا۔

ہوش پکڑنا۔ [۱]۔ محاورہ) [۱]۔ عقل حاصل کرنا۔ شعور پکڑنا۔ ہوشیار ہونا۔ [۲]۔ سبانا ہونا۔ سن تمیز کو پہنچنا۔

ہوش پکڑو۔ [۱]۔ محاورہ) سنبھلو۔ تمیز سیکھو۔ عقل کے ناخن لو۔

ہوش ٹھکانے رہنا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوش و حواس درست ہونا۔

ہوش جانا۔ ہوش جاتے رہنا۔ [۱]۔ محاورہ) عقل گم ہونا۔ بے اوسان ہو جانا۔

ہوش جمع ہونا [۱]۔ محاورہ) ہوش ٹھکانے ہونا۔

ہوش ربا۔ [۱]۔ صفت) ہوش لے جانے والا۔ ہوش اڑا دینے والا۔

ہوش لے اوسان کر دینے والا۔

ہوش رکھنا۔ [۱]۔ محاورہ) صاحب ہوش ہونا۔ خبردار رہنا۔

ہوش سنبھلنا۔ [۱]۔ محاورہ) [۱]۔ سبانا ہونا۔ بالغ ہونا۔ [۲]۔ تمیز سیکھنا۔ عقل حاصل کرنا۔

ہوش سے باہر ہونا۔ [۱]۔ محاورہ) بے خود ہونا۔ ہوش گم کرنا۔

ہوش کا فور ہونا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوش جاتے رہنا۔

ہوش کھونا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوش سے باہر ہونا۔

ہوش کی بناؤ [تیز ہو۔ دو آ کرو۔ کی لو۔ کے ناخن لو۔ میں آؤ۔

[۱]۔ محاورہ) سنبھلو۔ عقل کرو۔ سمجھو۔ اس موقع پر بولتے ہیں جب کسی عقل کے خلاف بات کرے۔

ہوش کی لینا۔ [۱]۔ محاورہ) سمجھ کی بات کرنا۔

فرد چڑھ جانا۔ [۱]۔ طلوع ہونا چاند کا۔ [۲]۔ انزال ہونا۔

ہوجیو۔ [۱]۔ (ہو۔ جیو)۔ [۱]۔ کلہ دوما) خدا کرے کہ ہو جائے۔

ہو چکا۔ [۱]۔ محاورہ [۱]۔ نہیں ہونے کا ممبر کرو۔ چھوڑ دو۔ [۲]۔ تمام ہو گیا۔ ختم ہو چکا۔ [۳]۔ گزر گیا۔ مر گیا۔

ہو چکنا۔ [۱]۔ مص [۱]۔ ختم ہو جانا۔ تمام ہو جانا۔ [۲]۔ خرچ ہو جانا۔ ضرورت ہو جانا۔ [۳]۔ مرجانا۔ دم نکل جانا۔ [۴]۔ ہو جانا۔ ہونا۔ [۵]۔ لڑائی ہونا۔

ہو درج۔ [۱]۔ (ہو۔ درج) [۱]۔ [۲]۔ ہودہ۔ [۳]۔ عماری۔ [۴]۔ اونٹ کا کجاوہ۔ عمل۔

ہودہ۔ [۱]۔ (ہو۔ ڈہ) [۱]۔ [۲]۔ عماری جو اٹھنی کی پیٹی پر بیٹھنے کی واسطے رکھتے ہیں۔

ہودہ۔ [۱]۔ (ہو۔ ڈہ) [۱]۔ صفت) ٹھیک۔ بجا۔ درست۔ سچی۔۔۔ (اُرو میں بے ہودہ متعلق ہے)۔

ہور۔ [۱]۔ اور۔

ہور رہنا۔ [۱]۔ مص [۱]۔ کہیں رہ پڑنا۔ گھبرنا لینا۔ [۲]۔ کسی کا ہوجانا۔ مستقل طور پر طرف دار ہوجانا۔ [۳]۔ کسی قابل ہو جانا۔ پھٹنا۔

ہوجانا۔

ہوری۔ [۱]۔ (ہو۔ ری) [۱]۔ مٹ [موت] ہندوؤں کا ایک بتوار۔ ہولی۔

ہوڑ۔ [۱]۔ مٹ [۱]۔ شرط بازی۔ [۲]۔ داؤ۔ بیچ۔ گھات [۳]۔ قول۔ عمدہ۔ پچن۔ [۴]۔ بحث۔ تکرار۔ [۵]۔ مقابلہ۔ برابری۔ سامنا۔

ہوڑا۔ ہوڑی۔ [۱]۔ (ہو۔ ڈی) [۱]۔ مٹ [۱]۔ بحث۔ تکرار۔ [۲]۔ مقابلہ۔ برابری۔ سامنا۔

ہوزری۔ (Hosiery)۔ [۱]۔ (ہوڑ۔ ری) [۱]۔ انگ۔ [۱]۔ مٹ [۱]۔ موزہ۔

بیان وغیرہ کی تجارت کی دکان۔

ہوس۔ [۱]۔ (ہو۔ سن) [۱]۔ مٹ [۱]۔ [۲]۔ مایوگلیا۔ جبٹ۔ [۳]۔ شوق۔ اشتیاق۔ آرزو۔ نمنا۔ خواہش۔ [۴]۔ جھوٹا عشق۔ [۵]۔ لالچ۔ آرز۔ حرص۔ [۶]۔ شہوتِ نفسانی۔ خواہش۔ [۷]۔ حوصلہ۔ انگ۔

ہوس اڑا دینا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوس چھوڑ دینا۔

ہوس بچھنا۔ [۱]۔ محاورہ) ہوس جاتی رہنا۔ خواہش پوری ہونا۔

ہوس پرورد۔ ہوس پیشہ۔ [۱]۔ صفت) بہت زیادہ حرص رکھنے والا۔

لاچی آدمی۔

ہوس پیشہ۔ [۱]۔ صفت) وہ شخص جس کا دین و مذہب ہی حرص و آرزو ہوس کرنے والا۔

ہوس ناک۔ [۱]۔ صفت) [۱]۔ لالچی حرصی۔ ہوس کا پھر ہوا۔ [۲]۔ پڑشور۔ ہوس ناک بڑھیا پیشانی کا لنگ۔ [۱]۔ [۲]۔ شوقین مزاج گریز۔

ہوس نکالنا۔ [۱]۔ محاورہ) ارمان نکالنا۔ خواہش پوری کرنا۔ حوصلہ نکالنا۔

ہوس نکالنا۔ آرزو پوری ہونا۔ ارمان نکالنا۔ دل کا حوصلہ نکالنا۔

ہوسٹل۔ (Hostel)۔ [۱]۔ ہوس۔ [۱]۔ [۲]۔ انگ۔ [۱]۔ [۲]۔ دارالافتاء۔ طلبہ کے رہنے کی جگہ۔ بورڈنگ ہاؤس۔

ہوش گم ہونا۔ (۱- محاورہ) ہوش اڑنا  
 ہوش کوٹ۔ (ف صفت) ہوشیاری عقل سمجھ۔ دانائی۔  
 ہوش مند۔ (ف صفت) ہوش والا۔ عقل مند۔ ذی شعور۔  
 ہوش میں آنا۔ (۱- محاورہ) ہوشیار ہونا۔ تیز سیکھنا۔ (۲) آپسے میں آنا۔  
 سنبھلنا۔ (۳) عبرت پکڑنا۔  
 ہوش میں آؤ۔ (۱- محاورہ) عقل سیکھو۔ تیز حاصل کرو۔ عقل سے بات کرو۔  
 ہوش نہ رہنا۔ (۱- محاورہ) بدحواسی طاری ہونا۔ خبر نہ ہونا۔  
 ہوش نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) حواس درست نہ ہونا۔ سدھ نہ ہونا۔  
 ہوش والا۔ (ف صفت) ہوش مند۔ ہوشیار۔ سبانا۔ باخبر۔  
 ہوش و حواس۔ (ف صفت) عقل و تیز۔  
 ہوش و حواس اڑ جانا۔ (۱- محاورہ) عقل ٹھکانے نہ رہنا۔ اوسان جاتے  
 رہنا۔  
 ہوش بہن ہوجانا (ہوا ہونا)۔ (۱- محاورہ) ہوش اڑ جانا۔ گھبرا جانا۔  
 ہوش ہونا۔ (۱- محاورہ) سدھ ہونا۔ غیر ہونا۔ حواس درست ہونا۔  
 ہوشیار۔ (ف صفت) (۱) نیم۔ (۲) غافل۔ (۳) غیور۔ (۴) عیار۔  
 چالاک۔ (۵) جاگتا۔ بیاد۔ چوک۔  
 ہوشیار کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) آگاہ کرنا۔ خبردار کرنا۔ جتنا نا۔ منہ نہ کرنا۔ (۲)  
 جگانا۔ بیاد کرنا۔ (۳) غفلت سے ہوش میں لانا۔  
 ہوشیار ہوجانا۔ (ہونا) (۱- محاورہ) (۱) ہوش میں آ جانا۔ (۲) بیاد ہوجانا۔  
 (۳) چوک ہوجانا۔ (۴) بڑا ہوجانا۔ سبانا ہوجانا۔ جوان ہوجانا۔  
 ہوشیاری۔ (ف صفت) (۱) ہوشیاری۔ (۲) خبرداری۔ چوکسی۔  
 (۳) دورانیشی۔ (۴) عیاری۔ چترائی۔ (۵) احتیاط۔  
 ہوک۔ (۱-۱-۱) (۱) ہوش مند۔ (۲) ہوش مند۔ (۳) ہوش مند۔ (۴) ہوش مند۔  
 اٹھے۔ (۲) گراہ۔  
 ہوک اٹھنا۔ (۱- محاورہ) درد ہونا۔ پہلو میں درد اٹھنا۔  
 ہوگا۔ (ہو۔ کا) (۱- ۵) (۱) کھانے کی بے انتہا حرص۔ (۲) لالچ۔ کسی چیز کی  
 بے انتہا خواہش۔  
 ہوگا کرنا۔ (۱- محاورہ) بہت لالچ کرنا۔  
 ہوگا لگت۔ (۱- محاورہ) بہت سی ہوس کرنا۔  
 ہو کر۔ ہو کے۔ (۱) تابع فعل [۱] پاس سے۔ نزدیک۔ (۲) درمیان سے۔  
 (۳) ہوتے ہوئے۔ گزرے ہوئے۔ (۴) ضرور۔ لا بُد۔  
 ہوگا۔ (۱) تابع فعل [۱] شاید۔ (۲) شک کے مقام پر بولتے ہیں  
 ہوگزرنا۔ (۱) (۲) گزرے ہوئے زمانے میں ہونا۔ (۳) واقع ہونا۔  
 (۴) ختم ہونا۔  
 ہوں۔ (۱- ۱) (۱) خوف۔ ڈر۔ خطر۔ اندیشہ۔ (۲) اضطراب۔ گھبراہٹ۔  
 ہوں آنا۔ (۱- محاورہ) دہشت سما جانا۔ ڈرنا۔  
 ہوں اٹھنا۔ (۱- محاورہ) خوف پیدا ہونا۔ دہشت سے گھبرا جانا۔  
 ہوں بیٹھ جانا۔ (۱- محاورہ) ڈر بیٹھ جانا۔ خوف چھا جانا۔ خوف سما جانا۔  
 ہوں پڑنا۔ (۱- محاورہ) خوف پڑنا۔ دہشت ہونا۔ (۲) اضطراب ہونا۔

گھبراہٹ ہونا۔  
 ہوں پکار۔ (۱- ۱) (۱) ہوش۔ شور و غوغا۔  
 ہوں بھول۔ (۱- ۱) (۱) ہوش۔ گھبراہٹ۔ اضطراب۔ جلدی۔  
 ہوں دل۔ (ع۔ ف۔ ۱- ۱) (۱) دل کی دھڑکن۔ اختلاج قلب۔  
 خفقان۔  
 ہوں دل ہونا۔ (۱- ۱) (۱) دھڑکن ہونا۔ دل دھڑکنا۔  
 ہوں دلا۔ (۱- ۱) (۱) ہوش۔ نامرد۔ ڈر پوک۔  
 ہوں دلی۔ (۱- ۱) (۱) گلے میں ڈانٹنے کی ایک چیز جس سے دل کا  
 خوف دور ہوجاتا ہے۔ (۲) گھبراہٹ (۳) بزدلی۔  
 ہوں رہنا۔ (۱- ۱) (۱) خوف اور گھبراہٹ رہنا۔  
 ہوں زدہ۔ (ع۔ ف۔ ۱) (۱) خوف زدہ۔ دہشت کا مارا ہوا۔  
 ہوں سما۔ (۱- ۱) (۱) دہشت سما۔ خوف سما۔  
 ہوں کھانا۔ (۱- ۱) (۱) ڈرنا۔ ڈر جانا۔ دہشت میں رہنا۔  
 ہوں ناک۔ (ع۔ ف۔ ۱) (۱) بھیانک۔ ڈراؤنا۔ مہیب۔ خوفناک۔  
 تہیبت ناک۔  
 ہوں۔ (۱- ۱) (۱) ہوش۔ ہمد۔ ضرب کسی دھار والے آلے  
 کا چھوٹنا۔  
 ہوں چلنا۔ (۱- ۱) (۱) گھونپنا جانا۔ ہول مارنے لگنا۔  
 ہوں ڈینا۔ (۱- ۱) (۱) ہول مارنا۔ (۲) کنایتاً کسی کام کے لیے  
 اشتعال دینا۔  
 ہوں لا۔ (ہو۔ لا) (۱- ۱) (۱) گھبرا ہوا۔ بوکھلایا ہوا۔  
 ہوں لاجمی۔ (۱- ۱) (۱) گھبراہٹ۔ اضطراب۔ بے تابی (۲) بھاگنا۔  
 افراتفری۔  
 ہوں لاجبٹا۔ (۱- ۱) (۱) بدحواس۔  
 ہوں لا۔ (ہو۔ لا) (۱- ۱) (۱) ہوش۔ ہوشے ہوشے ہونے۔  
 ہوں لکھانے منہ ہاتھ دونوں کالے۔ (۱) ہوش۔ (۲) بڑے کام میں ہر  
 طرح کی بدنامی ہوتی ہے۔  
 ہوں لا۔ (ہو۔ لا) (۱- ۱) (۱) ہوش۔ ہوشے ہوشے ہونے کی نوک کا صدمہ۔  
 ہوں لٹا۔ (ہوں۔ لٹا) (۱- ۱) (۱) آئین لگانا۔ (۲) قیل باتوں کا باطنی کو  
 چلانا۔ (۳) دھکیلنا۔ ریلنا۔  
 ہوں لو۔ (ہو۔ لو) (۱- ۱) (۱) ہوش۔ (۲) ہوش۔ (۳) ہوش۔ (۴) ہوش۔  
 ہوں لی۔ (ہو۔ لی) (۱- ۱) (۱) ہوش۔ (۲) ہوش۔ (۳) ہوش۔ (۴) ہوش۔  
 منایا جاتا ہے۔  
 ہوں جلتا۔ (۱- ۱) (۱) محاورہ) ہولی کے دن کڑیوں کا ڈھیر چلانا۔  
 ہوں کا بھڑوا۔ (۱- ۱) (۱) ہوش۔ (۲) ہوش۔ (۳) ہوش۔ (۴) ہوش۔  
 ڈال کر سٹھو بنایا جائے۔  
 ہوں کھیلنا۔ (۱- ۱) (۱) ہولی کے دن ایک دوسرے پر رنگ چھڑکنا۔  
 خوشیاں منانا۔  
 ہوں۔ (ہو۔ لے) (۱) (۱) تابع فعل [۱] سچ۔ آہستہ۔ تدریج۔

ہوئے سے۔ (۱- تابع فعل) آہستہ سے۔ بلکے سے۔  
 ہوئے ہوئے۔ (۱- تابع فعل) آہستہ آہستہ۔ ٹھہر ٹھہر کر۔ سبج۔  
 ہو لینا۔ (ہو۔ لے۔ نا) [۱- موص] (۱۱) ہو چلنا۔ ہو جانا۔ (۲) پورا ہونا۔ تمام ہونا۔  
 کسی طرف کا راستہ اختیار کرنا۔ (۳) ساتھ چلنا۔ (۵) لڑائی ہونا۔  
 ہوم۔ (۱- م) [۱- مذ] ہون۔ ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم جس میں منتر پڑھتے  
 ہوئے آگ میں گھی ڈالتے جلتے ہیں۔  
 ہوم۔ (Home) (انگ۔ ۱- مذ) گھر۔ مکان۔ وطن۔  
 ہوم ڈیپارٹمنٹ۔ (Home Department) (انگ۔ ۱- مذ)  
 محکمہ امور داخلہ۔  
 ہوم رول۔ (Home Rule) (انگ۔ ۱- مذ) حکومت خود اختیاری۔  
 ہوم سیکرٹری۔ (Home Secretary) (انگ۔ ۱- مذ) محکمہ امور  
 داخلہ کا سیکرٹری۔  
 ہوم منسٹر۔ (Home Minister) (انگ۔ ۱- مذ) وزیر داخلہ۔  
 ہومیوپیتھ۔ (Homoeopath) (ہوم۔ یو۔ پیتھ) (انگ۔ ۱- مذ)  
 علاج بائٹل کا ڈاکٹر۔  
 ہومیوپیتھک۔ (Homoeopathic) (ہوم۔ م۔ یو۔ پے۔ تھک)  
 [انگ۔ صفت] علاج بائٹل سے متعلق۔ ہومیوپیتھی کا۔  
 ہومیوپیتھی۔ (Homoeopathy) (انگ۔ ۱- م) [۱- مذ] علاج بائٹل۔  
 گرمی کا گرمی اور سردی کا سردی سے علاج۔  
 ہون۔ (۲- و) [۱- م] (۱- مذ) [۱- م] دیکھے ہوم۔  
 ہون۔ [۱- فعل ناقص] ہاں۔ بلے۔ کلمہ اقبال واقرا یا اجازت۔  
 ہوں کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) زبان سے ہاں کہنا۔ رضامندی ظاہر کرنا۔  
 (۲) ٹوٹنا۔ روکنا۔  
 ہوں ہاں کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) صاف جواب نہ دینا۔ ٹال مٹول کرنا۔  
 آڑے بلے کرنا۔ (۳) بچھ کا پیلے پہل بولنے لگنا۔  
 ہوں ہاں نہ کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) دم نہ مارتا۔ چپ رہنا۔  
 ہوں ہوں۔ [۱- کلمہ ایجاب و انکار] (۱) کلمہ جس سے انکار و اقرار  
 دونوں بائیں ثابت ہوتی ہیں۔ (۲) کسی بات کو روکنے کا کلمہ۔  
 ہوں ہوں کرنا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہاں ہاں کرنا۔ منہ سے ہوں ہوں  
 کی آواز نہ لگنا۔ (۲) ٹالنا۔ مٹول کرنا۔ (۳) روکنا۔ ٹوٹنا۔  
 ہونا۔ (ہو۔ نا) [۱- موص] (۱) پیدا ہونا۔ جنم لینا۔ (۲) ظاہر ہونا۔ (۳) واقع  
 ہونا۔ وارد ہونا۔ پیش ہونا۔ (۴) موجود ہونا۔ رہنا۔ (۵) بچ پیدا ہونا۔  
 تولد ہونا۔ (۶) انزال ہونا۔ چھڑنا۔ (۷) حاصل ہونا۔ ملنا۔ ہم پہنچنا۔  
 (۸) معلوم ہونا۔ (۹) ٹھہرنا۔ قرار پانا۔ تسلیم کیا جانا۔ (۱۰) گزرتا۔ گزرتا۔  
 ہونا نہ ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) ہست و نیست۔ عدم وجود۔ (۲) موجودگی  
 عدم موجودگی۔  
 ہونا ہونا۔ (۱- محاورہ) کسی فعل کا سرد ہونا۔ (۲) نقصان ہونا۔ ضرر پہنچنا۔  
 کسی فعل کا بااثر ہونا۔  
 ہونے دو۔ (۱- م) [۱- م] (۱) ہو لینے دو۔ ہو جانے دو۔ (۲) مت روکو مت

نہ کرو۔ (۳) کیا پروا ہے۔ کچھ ڈرنہیں۔  
 ہونے کے دن۔ (۱- مذ) جین کا زمانہ۔  
 ہونے والا۔ (۱- صفت) (۱) ہونہار۔ ہونے جوگ۔ (۲) پیش آنے والا۔  
 ممکن۔  
 ہونٹ۔ (۱- مذ) لب۔ منہ کے اوپر اور نیچے کا حصہ۔  
 ہونٹ پیرانا۔ (۱- محاورہ) لبوں کا تشکی یا تشکی کے سبب نہایت  
 خشک ہونا۔ پیر پیری بند ہونا۔  
 ہونٹ پھٹ جانا۔ (۱- محاورہ) ہونٹ میں شدت سردی سے  
 خشک پڑ جانا۔  
 ہونٹ تنک نہ لینا۔ (۱- محاورہ) منہ سے بات تک نہ لگنا۔ منہ  
 سے اشارہ تک نہ ہوسکتا۔  
 ہونٹ چائنا۔ (۱- محاورہ) (۱) شیریں چیز کھانے کے بعد ہونٹوں پر  
 زبان پھیرنا۔ (۲) مزے دار سپر کا ذائقہ یاد رکھنا۔  
 ہونٹ چائنے سے پیاس نہیں بجھتی۔ (۱- م) [۱- م] [۱- م] [۱- م] [۱- م]  
 کا کچھ فائدہ نہیں۔  
 ہونٹ چائنا۔ (۱- محاورہ) غصے کی حالت میں ہونٹوں کو دانتوں  
 سے کاٹنا۔  
 ہونٹ چکینا۔ (۱- محاورہ) مٹھاس کے باعث لب بند ہونا۔  
 ہونٹ چوسنا۔ (۱- محاورہ) مساس کی ایک حرکت۔  
 ہونٹ خشک ہونا۔ (۱- محاورہ) (۱) منہ نوکھنا (۲) ندامت یا غلبہ  
 تشکی سے ہونٹ سوکھنا  
 ہونٹ سہی دینا۔ (۱- محاورہ) منہ بند کر دینا۔ خاموش کر دینا۔ چپ  
 لگا دینا۔  
 ہونٹ سہی لینا۔ (۱- محاورہ) چپ ہونا۔ خاموش ہونا۔  
 ہونٹ سے ہونٹ ہلانا۔ (۱- محاورہ) لب بر لب ہونا۔  
 ہونٹ کاٹنا۔ (۱- محاورہ) (۱) افسوس ظاہر کرنا۔ (۲) جلنا۔ جسد کرنا۔  
 (۳) ہونٹ چائنا۔  
 ہونٹ کٹا۔ (۱- صفت) کٹے ہوئے ہونٹ والا۔  
 ہونٹ ملنا۔ (۱- صفت) زبان درازی کی مزادینا۔  
 ہونٹ کول تو دو دھنکل پڑے۔ (۱- م) [۱- م] [۱- م] [۱- م] [۱- م]  
 ہو۔ ذرا زور کر دوں تو سپا ہوا دو دھنکل پڑے۔  
 ہونٹ نیلے ہونا۔ (۱- محاورہ) زیادہ سردی یا چوٹ لگنے یا زہر کے  
 اثر سے ہونٹ نیلے ہونا۔  
 ہونٹ ہلانا۔ (۱- محاورہ) ہونٹ کو حرکت دینا۔ بولنا۔ بات کرنا۔  
 ہونٹوں پر سپریاں چرنا۔ (۱- محاورہ) تشکی یا حدت سے لبوں پر سپریاں  
 بند ہونا۔  
 ہونٹوں پر چھٹی کا دودھ یاد آجانا۔ (۱- محاورہ) شدید مصیبت میں  
 ہونٹوں پر زبان پھیرنا۔ (۱- محاورہ) ذائقہ لینا۔ گھلہ سٹ میں بھی ایسا

ہونما بردے کے جگنے جگنے بات - (۱) شل) ہونما بچے کے  
 آتار پہلے ہی اچھے نظر آتے ہیں -  
 ہونما طرقتی نہیں ہمووے بکے نہیں - (۱) شل) شدنی ہو کر رہتے  
 ہیں -

ہونہ ہو - (۵) بان فعل (۱) غالباً - (۲) یقیناً -  
 ہونی - (ہو - نی) (۵) - (۱) مٹ) شدنی قسمت کا لکھا -  
 ہونے والی - ہونے والی بات - (۵) - (۱) مٹ) شدنی - ہونی -  
 پیش آنے والی - قسمت کا لکھا -  
 ہوا - (ہو - ہا) (۵) - (۱) مٹ) غل - شور - (۲) ہنسی ٹھٹھے کی آواز -  
 ہوا - (۳) کبوتروں کے اڑنے کی آواز -  
 ہوا کرنا - (۱) محاورہ (۱) غل چمانا - شور مچانا - (۲) تعقدہ لگانا - (۳) کبوتر لگانا  
 ہوا چکنا - (۱) مٹ) ہوا چکنا بہتر ہو جانا -  
 ہونی ہے نہ ہونی - (۱) مقولہ مکان نہیں - ہرگز نہیں ہو سکتی - یہ بات  
 کبھی نہ ہونی ہے نہ آئے ہو سکے گی -  
 ہویدا - (۵) - (۱) ف) صفت ظاہر عیاں - آشکارا واضح  
 صاف - صریح -

کہا جاتا ہے -  
 ہونٹوں پر سنسی ہونا - (۱) محاورہ) مسکراہٹ ہونا -  
 ہونٹوں سے بائیں کرنا - (۱) محاورہ) اس طرح بات کرنا کہ لب  
 نہیں مگر آواز نہ آئے ہونٹوں سے ابھی دودھ کی  
 لوانی ہے - (۱) شل) ابھی پیٹ خوار بچے ہو - ابھی نادان ہو - ابھی  
 دودھ پینا چھوڑا ہے - نا تجربہ کار ہو نہ آتا کرنا -  
 ہونٹوں سے لگانا - (۱) محاورہ) لب آشنا کرنا -  
 ہونٹوں کا ہنا - (۱) محاورہ) آہستہ بات کرنا -  
 ہونٹوں کی مٹی پونچھو - (۱) شل) بات کرنے کا سلیقہ سیکھو - سلیقے سے  
 بات کرو -  
 ہونٹوں میں مسکرانا - (۱) محاورہ) اس طرح مسکرانا کہ دانت نہ نکلیں  
 اور ہونٹ ہی بل کر رہ جائیں - خندہ زیر لب -  
 ہونٹوں ہونٹوں میں - (۱) تابع فعل) ہونٹوں کے اشارے سے -  
 ہونٹ - ہونٹ - (۱) ہون - ہون - (۱) مٹ) (۵) - (۱) صفت) بڑے  
 بڑے اور بڑے بڑے ہونٹوں والا -

## ہ - می

ہمی - (۱) ایک کلمہ جو کلمات کے آخر میں آتا ہے (۱) فقط - صرف - اکیلا -  
 تنہا - محض - (۲) بالکل - ذرا - تھوڑا - (۳) ضرور - (۴) فوراً - ذریعہ - وجہ  
 سے - (۵) تخصیص تاکید کا حرف -  
 ہے - (۱) تابع فعل) ہونا سے مشتق - حاضر - موجود -  
 ہے تو (یہ) یوں - (۱) بول چال) اصل بات یہ ہے -  
 ہے - (۱) حرف نداء) ہائے کا مخفف) افسوس - ہائے - تنبیہ -  
 تین اور نداء کے لیے آتا ہے -  
 ہے ظالم - (۱) کلمہ تاسف) ہائے ظالم - ہائے کم بخت - ہائے افسوس -  
 ہے غضب - (۱) کلمہ تاسف) غضب ہوا - ستم ہوا -  
 ہے ہے - (۱) کلمہ تاسف) ہائے - ہائے افسوس -  
 ہے کے کے پینا - (۱) محاورہ) (۱) نوحہ کر کے رونا - (۲) کسی کے  
 مرنے کی آرزو کرنا -  
 ہے ہے نہ کھکھے - (۱) شل) جھگڑا نہ لٹا - جھک جھک نہ کبکب -  
 ہمایا - (۵) - (۱) یا) (۵) - (۱) دل - من - چپت - کلیجہ - جگر - قلب - (۲) ہوش  
 حواس - جرات - دلیری - حوصلہ -  
 ہمایا - (۵) - (۱) یا) (۵) - (۱) مذ) حوصلہ - ہمت - جرات -  
 ہمایا و پڑنا - (۱) محاورہ) بہت بڑنا -  
 ہمایا و نفل جانا - (۱) محاورہ) دل کا ڈر جانا رہنا - جھک مٹ جانا -  
 ہیدیت - (۱) ہے - بت) (ع - (۱) مٹ) [دہشت - رعب - ڈر -  
 ہیدیت چھانا - (۱) محاورہ) ڈر جانا - گھبرانا - رعب میں آجانا -

ہونٹھ - (۱) - (۱) مذ) دیکھیے ہونٹھ -  
 ہونٹھی - (ہون - ٹھی) (۵) - (۱) مٹ) (۱) گھوڑے کا دہانہ - (۲) دہانے  
 کی زنجیر -  
 ہونس - (۵) - (۱) مٹ) (۱) نظر بد - ٹوک - (۲) رشک - حسد - جلن - (۳)  
 عداوت - بیرغبت -  
 ہونس سے ریش تھلی - (۱) شل) حسد سے رشک اچھا - عداوت  
 سے رشک اچھا ہے -  
 ہونس کا کھا جانا - (۱) محاورہ) نظر بد کا اثر ہو جانا -  
 ہونس لگانا - (۱) محاورہ) نظر بد لگانا -  
 ہونس لگ جانا - (۱) محاورہ) نظر لگ جانا - ٹوک میں آجانا -  
 ہونسا - (ہوں - سا) - (۵) - (۱) صفت) حاسد -  
 ہونسا سو ہونسا - (۱) شل) حاسد آپ اپنا ہی نقصان کرتا ہے -  
 ہونسا - (ہونس نا) - (۱) مص) (۱) نظر بد لگانا - ٹوکنا - (۲) جلنا -  
 حسد کرنا - (۳) بڑائی چاہنا -  
 ہونق - (۵) - (۱) ون - نق) (۱) عربی بیدق کا مودہ - صفت) [احق -  
 بے وقوف - جاگنو - جوشی -  
 ہونکننا - (ہونک نا) (۱) مٹ) (۱) بانہنا - سانس پھولنا - (۲) شیر  
 کا بولنا -  
 ہونگے لوت تو لوبجیوں کے جھوت - (۱) شل) (۱) اولاد کی امید  
 پر جھوت پر ریش کی پرستش بھی منظور ہے - کچھ نفع ہو تو  
 خدمت بھی کریں -  
 ہونما - (ہون - ہا) (۵) - (۱) صفت) ہونے والا - (۲) وہ جس میں  
 لیاقت اور قابلیت کے آثار ملتے جائیں -

ہیبیت زدہ - (ع۔ ف۔ صفت) ڈرا ہوا، خوفزدہ، سہا ہوا۔  
ہیبیت سلطانی - (ف۔ ا۔ صفت) شاہی رعب و دہرہ۔  
ہیبیت ناک - (ع۔ ف۔ ا۔ صفت) خوف ناک، ہیب - ڈراؤنا،  
خطرناک، پرخطر۔

ہیبیس کالپس - (Habeas Corpus) (سہ۔ ب۔ یس۔ کار۔ پس۔) (انگ۔ ا۔ مٹ) [مٹوں پر مقدمہ چلانے کے لیے ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم نامہ۔ پروانہ مصافحہ میٹرم۔  
ہیبیت - (ہ۔ ا۔ مذ۔) بیائے مجموعہ مٹ) (ا، سبب۔ باعث۔ کارن۔ (۲) لکن۔ لوتعلق عشق۔ محبت۔

ہیبس ماری - (ف۔ ا۔ مٹ) بے طمی۔ نادانی۔ بے ہنری۔  
ہیبس میز - (ف۔ صفت) بے قیمت۔ ناچیز۔  
ہیبس ڈیویج - (ف۔ صفت) (۱) بے ہنر۔ (۲) لغو۔ بیہودہ۔ فضول۔ بیکار۔  
ناکارہ - (۳) گھٹیا ناقص۔ بہت معمولی۔  
ہیبس (Head) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) سر۔ (۲) سرگروہ۔ سرور۔ پیشوا۔ (۳) صدر۔

ہیبس آفس - (Head Office) (انگ۔ ا۔ مذ) صدر دفتر۔  
ہیبس فون - (Headphone) (انگ۔ ا۔ مذ) لاسکی یا ٹیلیفون کا سننے کا آلہ جسے دونوں کانوں میں لٹکا دیتے ہیں۔

ہیبس کانستبل - (Head Constable) (انگ۔ ا۔ مذ) سپاہیوں کا افسر۔

ہیبس کلرک - (Head Clerk) (انگ۔ ا۔ مذ) میٹرنٹی صدر محرر۔ کلرکوں کا افسر۔

ہیبس کوارٹر - (Headquarter) (انگ۔ ا۔ مذ) (۱) صدر مقام۔ (۲) فوجی مرکز۔ سپر سالار کی فرو گاہ۔

ہیبس ماسٹر - (Head Master) (انگ۔ ا۔ مذ) صدر مدرس۔ مدرس اعلیٰ۔

ہیبس ماسٹر - (انگ۔ ا۔ مٹ) دیکھیے ہیبس ماسٹر جس کی یہ تائینٹ ہے۔

ہیبس راء - (ہیبس۔ راء) (ہ۔ ا۔ مذ) حال۔ درجہ سہولت۔  
ہیبس - (۱۰۵۔ مونٹ) (۱) خلاصہ۔ جوہر۔ سکنت۔ مغز (۲) لالچھاکی معشوقہ کا نام۔ (۳) جڑ۔ اصل۔ (۵) طاقت۔ زور (۶) [صفت] صاف۔ شفاف۔خالص۔

ہیبس راء - (ہی۔ راء) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) الماس۔ ایک بیش قیمت سخت پتھر۔ (۲) کٹائی [عمدہ نقیص۔ کھرا۔ نہایت شریف۔

ہیبس آدمی - (۱۔ مذ) سچا آدمی۔ کھرا آدمی۔  
ہیبس کھانا - (۱۔ محاورہ) خودکشی کی نیت سے الماس کھانا۔ (کنایتاً) رشک سے جان و بنا۔

ہیبس امن - (ہ۔ ا۔ مذ) طوطا۔ مہتو۔  
ہیبس ہینک - (ہ۔ ا۔ مذ) عمدہ قسم کی ہینک۔

ہیبس کی پرکھ جوہری جانے۔ (۱) [مٹ] اہل ہنر کو قدر دان ہی پہچانتا ہے۔

ہیبس کی کٹی کھانا - (۱۔ محاورہ) (۱) ریزہ الماس کھانا۔ (۲) کٹائی خودکشی کرنا۔

ہیبس بھیری - (سہ۔ لا۔ ہی۔ ری) (ہ۔ ا۔ مٹ) کسی سودے کو لانا اور پھر بھیرے کو جانا۔ بار بار آنا جانا۔ (۲) ہینک۔ ہنر و فریب۔

ہیبس (Hat) (انگ۔ ا۔ مذ) انگریزی ٹوپی۔

ہیبس - (ہ۔ تابع فعل) (۱) بیچے۔ تلے۔ زیر (۲) [صفت] پست نیچا۔ (۳) کینڈہ۔ سفلیہ۔ (۴) ذلیل۔ خراب۔

ہیبس - (سہ۔ ٹا) [۱۔ صفت] (۱) چھوٹا۔ گھٹیا۔ ناقص۔ (۲) کینڈہ۔ سفلیہ۔ پست بہت۔ کمزور۔ بزدل۔ ڈر لوک۔ (۳) ادنیٰ۔ کم درجہ کا کم ترہ۔ (۴) بودا۔

ہیبس (Heater) (ہی۔ ٹر) (انگ۔ ا۔ مذ) گرم کرنے کا ٹول یا گھٹی۔  
ہیبس - (سہ۔ ٹی) (۱۰۵۔ مٹ) [ذلت۔ شکی۔ بدنامی۔ رسوائی۔ بقیڈی۔

ہیبس کرنا - (۱۔ محاورہ) رسوائی کرنا۔ بے عزتی کرنا۔  
ہیبس ہونا - (۱۔ محاورہ) ذلت ہونا۔ سبکی ہونا۔ نمک کٹی ہونا۔ رسوائی ہونا۔

ہیبس - (سہ۔ جبا) (ع۔ ا۔ مٹ) جنگ۔ لڑائی۔ زرم۔

ہیبس جان - (سہ۔ جان) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) جوش۔ آبال۔ تیزی۔ شدت۔ زور۔ غلبہ۔

ہیبس چڑا - (ہینج۔ چڑا) (ہ۔ ا۔ مذ) (۱) وہ شخص جس کے خبیث اور عضو تناسل کاٹ ڈالے گئے ہوں۔ مخنت۔ خواجہ سرا۔ (۲) [صفت] نامرد۔

زمانہ زرخا۔ بودا۔  
ہیبس چڑا بنانا - (۱۔ محاورہ) (۱) نامرد بنانا۔ زرخ بنانا۔ عضو تناسل کاٹ کر مخنت بنانا۔

ہیبس چڑے کا اللہ میاں نے اٹھنی کا اعتبار نہیں کیا۔ (۱) [مٹ] ہیبس کا بالکل اعتبار نہیں ہے۔

ہیبس چڑے کے گھر بیٹا ہوا۔ (۱) [مٹ] ناممکن بات ہوگی۔ اچنبھے کی بات ہوگی۔

ہینج - (ف۔ صفت) (۱) معدوم کچھ نہیں۔ (۲) کم قلیل۔ (۳) نکما۔ ناکارہ۔ (۴) قابل نفرت۔ زبون۔ (۵) پوچ۔

ہینج آفت نہ رسد گوشہ تنہائی لا۔ (۱) [مٹ] جو سب سے الگ ہو گیا وہ سچ و غم سے نجات پا گیا۔

ہینج بھنا - (۱۔ محاورہ) ناچیز بھنا۔ حقیر جانا۔

ہینج کارہ - (ف۔ صفت) (۱) نالائق۔ ناکارہ۔ (۲) بے فائدہ۔

سکرتھی۔ (۲) شیخی۔ کسرتھی۔ (۲) شیخی۔ کسرتھی۔  
ہیکٹری جیتانا۔ ہیکٹری کسرتا۔ (۱) محاورہ (۱) زبردستی کرنا۔ زور دکھانا۔  
(۲) ایٹھنا۔ آکڑوں کرنا۔ (۳) دھکی دینا۔

ہیکٹری سے۔ (۱) تابع فعل (۲) زبردستی سے۔  
ہینک (ہے۔ کل) (۱) مٹا۔ (۲) صورت یا بابت جو کسی سیارے کے نام پر بنا یا جائے۔ (۳) [مماز] سیارے کا مندر (۳) بڑے حجم کا گھوڑا۔ (۴) نبت تھانے کا بڑا مکان (۵) شان و شوکت عظمت۔  
مخکوہ (۶) تصویر جتنڑ سماں (۷) صورت شکل۔ نقشہ۔ (۸) علامت۔  
نشان (۹) عدد۔ ہندسہ۔ (۱۰) تصویر۔ ہیئت۔ (۱۱) وضع قطع۔ (۱۲) جسم۔ بدن۔ قدر۔ قامت۔ جمع جہاں ک۔

ہیراگا۔ (ہے۔ گا) (۱) فعل ناقص (قی) ہے۔ موجود ہے۔ حاضر ہے۔  
ہیل (ہے۔ ا) (۱) مٹا۔ (۲) بھری ہوئی ٹوکری یا ٹوکرا۔  
ہیل (ف) (۱) مٹا۔ (۲) سفید لالچی۔ چھوٹی لالچی۔  
ہیل (Heel) (انگ۔ ا) (۱) مٹا۔ (۲) ایری (۳) وہ حصہ جو ایری پر آئے۔

ہیلہ (ہے۔ لا) (۱) مٹا۔ (۲) دھکیں۔ دھکا۔ ٹھیلنا۔ (۳) کام۔ کاج۔ (۴) بار۔ وار۔ دفعہ۔ مرتبہ۔ (۵) ٹوکرا۔ ٹوکری۔ (۵) آواز۔ ہانک۔  
ہیلا دینا۔ (مازا)۔ (۱) دھکیانا۔ رلیانا۔ پلینا۔ دھکا دینا۔ (۲) ہانک مازنا۔ پکارنا۔

ہیلتھ آفیسر (ہے۔ آفیسر) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیلتھ آفیسر (Health Officer) (انگ۔ ا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ (Health Department) (انگ۔ ا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیل میل (ہے۔ میل) (۱) میل بول۔ ربط ضبط۔ راہ رسم۔ (۲) موافقت۔ ارتباط۔ پیار۔  
ہیلٹنا۔ (ہیل۔ نا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیلو (Halo) (ہے۔ لو) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیلو (Helicopter) (انگ۔ ا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیمینڈ (ہی۔ منڈ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیمینڈ (ہی۔ منڈ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیمینڈ (ہی۔ منڈ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیمینڈ (ہی۔ منڈ) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہینٹنا۔ (ہی۔ نا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیر پھیر۔ (ہیر پھیر) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیر بدل۔ مال دے کر مال لینا۔ (۳) راستے کا ٹھوس پتہ۔ (۴) مقصود۔  
کی۔ کتابی۔ (۵) بیچ بیچ کر و فریب۔

ہیر پھیر کی پائیں۔ (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیر ڈریسر (Hair Dresser) (انگ۔ ا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیر کٹنگ سالون (Hair Cutting Saloon) (انگ۔ ا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیر نا۔ (ہیر نا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیر نا۔ (ہیر نا) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیرو (Hero) (ہی۔ رو) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیرو بہادر۔ (ہیرو) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیرو۔ (ہیرو) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیرو۔ (ہیرو) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیرو۔ (ہیرو) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیرو۔ (ہیرو) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیروین (Heroin) (ہی۔ ون) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔  
ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

ہیروین۔ (ہیروین) (۱) مٹا۔ (۲) مٹا۔ (۳) مٹا۔ (۴) مٹا۔ (۵) مٹا۔ (۶) مٹا۔ (۷) مٹا۔ (۸) مٹا۔ (۹) مٹا۔ (۱۰) مٹا۔ (۱۱) مٹا۔ (۱۲) مٹا۔

(۲) ڈھیر - نوہ - اہنار - (۳) لو تھرا - مصغہ - بیڈول جسم - (۴) ڈول ٹھانج  
 - خاکہ - (۵) [صفت] آناشائستہ - غیر منڈب - (۶) لاغر - اضعیف - (۷)  
 منلوآن مزاج -  
 بیہولائے اول - (رع - ا - مذ) جوہر اول عقل اول - حضرت بجز علیہ السلام  
 جیومی - (Heavy) (سہے - وی) [انگ - صفت] [مباری - جوہل  
 وزنی - گراں -  
 جیومی ویٹ - (Heavy Weight) (لنگا باز سپروان جس کا وزن  
 دو گن سے زیادہ ہو -  
 بیہنات - (سہے - بات) [رع - ا - مذ] افسوں کا کلمہ - (۲) افسوس -  
 بلے ہائے -  
 بیہنات بیہنات - (رع - کلر تاسف) (۱) غضب ہوا - افسوس افسوس  
 سہے ہے - (۲) جیف - صد جیف - وائے - دریغ - (۳) رونے پینے  
 کی آواز - ہائے ہائے - واویلا -  
 ہی ہی - (دینی - ہی) (۵ - ا - مذ) [صفت] [سننے کی آواز - کھل کھل  
 ہی ہی ٹھی ٹھی - (۵ - ا - مذ) [صفت] بیہودہ تھی -  
 ہیہینٹ - (سہے - اٹ) [رع - ا - مذ] وہ علاج میں اجرام فلکی زمین  
 کی گردش اور شش وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے - (۲) بناوٹ - سائنٹ  
 (۳) صورت فیکل - (۴) حالت کیفیت - طور - طریق -  
 ہیہینٹ اصلی - (۱ - محاورہ) حقیقی شکل -  
 ہیہینٹ بدلنا - (۱ - محاورہ) شکل بدلنا -  
 ہیہینٹ پھڑنا - (۱ - محاورہ) صورت اختیار کرنا -  
 ہیہینٹ وال - (رع - ف - صفت) علم ہیہینٹ جاننے والا - نجومی -  
 ہیہینٹ کنزانی - (رع - ف - ا - مذ) [صفت] موجودہ حالت جسمی کے حالت  
 ہیہینٹ مجموعی - (رع - ا - مذ) مجموعی حالت - عام حالت -  
 ہیہینٹ - (رع - صفت) جمع ہیہینٹ صورت فیکل - اجرام فلکی کا کلمہ -  
 ہیہینے کا اندھا - (۱ - صفت) کور باطن - عاقبت نا اندیش - بے وقوف -  
 احمق -  
 ہیہینے کی پھوٹنا - (۱ - محاورہ) بے وقوف ہونا - مورکھ ہونا -

ناقص - ناقص - ادھورا - (۳) کھوٹا - (۴) خالی - تہی - (۵) مسوخ - باطل -  
 (۶) پر - ٹرا - بیٹھا - ہیٹی - (۷) خراب - نکمیا -  
 ہیٹنا - (ہین - نا) [۱ - ۵] - مٹا [کی کیفیت - گھٹت - کوٹی -  
 ہیٹنڈ - (Hand) [انگ - ا - مذ] ہاتھ دست -  
 ہیٹنڈ تراپ (Hands Up) ہاتھ اٹھاؤ - (اور بے حس حرکت  
 کھڑے رہو -)  
 ہیٹنڈ بک (Hand Book) [انگ - ا - مذ] (۱) دستی بک - (۲) -  
 (۲) دستور العمل -  
 ہیٹنڈ بل - (Hand Bill) [انگ - ا - مذ] چھوٹے چھوٹے  
 اشتہار ہاتھ سے ہائے جائیں - دستی اشتہار -  
 ہیٹنڈ بگ - (Hand Bag) [انگ - ا - مذ] دستی بگ -  
 چھوٹا بگس -  
 ہیٹنڈل (Handle) (ہین - ڈل) [انگ - ا - مذ] دستہ -  
 موٹھ - قبضہ -  
 ہیٹنڈا - (ہین - نا) [۱ - مص] - گھوڑے کا ہینڈا - گدھے کا ہینڈا -  
 ہیٹنگ - (۱ - ۵) [صفت] ایک درخت کا بادل دار گوند جو اکثر امراض  
 میں کام آتا ہے -  
 ہیٹنگ آئی تو باٹ لگائی - (۱) [صفت] موقع کھویا -  
 ہیٹنگ لگا کر کھو - (۱) [صفت] ہوانہ لگنے دو - بجا کر کھو -  
 ہیٹنگ لگانا - (۱ - محاورہ) (۱) کسی چیز کو ہیٹنگ لگانا - (۲) رک دینا -  
 ہڑانا - بچا دکھانا - ذلیل کرنا - (۳) سٹو آنا - بنانا -  
 ہیٹنگ لگانا - (۱ - محاورہ) (۱) پیش کے مرض میں مبتلا ہونا - (۲) بیمار  
 پڑا رہنا - (۳) نہایت کمزور اور ناتواں ہونا -  
 ہیٹنگا - (ہین - گا) [۱ - ۵] [صفت] ہیٹنگ میں پھیرنے کا پیڑا - سہاگہ -  
 ہیٹنگ - (Hanger) [انگ - ا - مذ] کپڑے وغیرہ لگانے کی ٹھوٹی -  
 (۲) ہوائی جہازوں کا ہیٹنگ -  
 ہیٹو - (ہی - او) [۱ - ۵] [صفت] گائے وغیرہ بٹانے کی آواز -  
 ہیٹو لا - جیومی - (۵ - یو - لا) [رع - ا - مذ] (۱) ہر چیز کا مادہ - ماہیت - اصل -



# ی

یا۔ یے [ع] اُردو کا پینتیبیواں۔ فارسی کا تیبیواں۔ عربی کا اٹھائیسواں اور ہندی کا چھبیسواں حرف۔ حساب ابجد میں اس کے دس عدد فرض کیے گئے ہیں۔ می دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک یائے معروف دوسری یائے مجهول۔ یائے معروف وہ می ہے جس سے پہلے کے حرف پر زیر ہوا اور جسے خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے۔ جیسے عید۔ فقیر۔ امیر۔ یائے مجهول وہ می ہے جس سے پہلے کے حرف کی زیر خاص نہ ہو اور جسے خوب ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے۔ مثلاً دلیر۔ سیر۔ ویر۔ یائے لین وہ می جس سے پہلے حرف پر فتح ہو۔ آواز نوزم اور ترچھا کر کے پڑھا جائے۔ جیسے پیر۔ یائے معروف کی متعدد قسمیں ہیں مثلاً (۱) یائے نسبتی جیسے پاکستانی۔ طلالی۔ بخاری۔ شرمی۔ موسوی۔ بنگالی۔ خانگی۔ ربانی جنفی۔ مدنی وغیرہ۔ (۲) یائے خطاب جیسے شفقتی۔ بکرمی۔ (۳) یائے مصدری جو اسم صفت کے بعد آتی ہے جیسے دانائی۔ چوڑائی۔ بزرگی۔ (۴) یائے لیاقت جو مصدر کے آخر میں آکر صلاحیت کا اظہار کرتی ہے جیسے کشتی۔ دیدنی۔ خوردنی۔ (۵) یائے متکلم جیسے الہی۔ قیدہ گاہی (۶) یائے فاعلی جیسے کسی۔ شہابی۔ بخکاری۔ (۷) یائے مفعولی جیسے تحریری۔ بعلتی۔ (۸) اُردو میں یائے معروف لاحقہ تائید بھی کہتے ہیں جیسے لڑکا سے لڑکی۔ عربی تقسیم کے مطابق یہ تفریق حرف بنا۔ اس سے پہلے اکرال آئے تو لام اپنی آواز دے گا جیسے "ایوم"۔

## ی - ۱

نیک آدمی کو کامیابی دے۔  
یا خدا تو دے نہ میں دوں۔ (۱۔ مثل) نہایت نیکل نہ خود دیتا ہے  
اور نہ خدا کا دنیا گوارا کرتا ہے۔

یارب۔ (۱۔ دعا) اے پروردگار۔ اے اللہ۔  
یا سکھ نیتہ سو ویا مالاجچو۔ (۲۔ مثل) ایک وقت میں ایک کام  
ہونا چاہیے۔ ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے۔  
یا مساکر میں کرم پر دوہان۔ (۳۔ مثل) دنیا میں قسمت سب سے  
زبردست ہے۔

یا سوئے جوگی ابدھوت یا سووے راجہ کا کُوت۔ (۱۔ مثل) امیر  
کا بیٹا اور فقیر دونوں بے فکر ہوتے ہیں اس لئے سکھ کی نیت نہ  
سوتے ہیں۔

یا سلین۔ لیٹین۔ لیس۔ (۱۔ مع۔ مذ۔ مٹ) یا سید۔ سید البشر۔ (۲)  
قرآن شریف کی ایک سورت جو زرع کے وقت مرنے والے کو  
سنائی جاتی ہے۔

یا سلین سنانا۔ (۱۔ محاورہ) مرنے والے کے سر ہانے سورت سلین پڑھنا۔  
یا علی۔ (۱۔ کلمہ نما) اہل بیع مشکل کے وقت طلب امداد کیلئے کہتے ہیں۔  
یا قسمت یا نصیب۔ (۱۔ کلمہ حیرت) حسرت اور افسوس کے موقع  
پر کہتے ہیں۔ بدقسمتی کا کلمہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ قسمت  
آزمائی کے موقع پر بھی کہتے ہیں۔

یا کرے او پاس یا کھاوے ماس۔ (۱۔ مثل) زکام میں نافع کرنا  
چاہئے یا گوشت کھانا چاہئے۔

یا کرے دردمند یا کرے غرضمند۔ (۱۔ مثل) یا تو وہ کرتا ہے جس  
پر کوئی غرض ہوتی ہے یا کوئی درد دل رکھنے والا۔

یا کسی کو کر رہے یا کسی کا ہو رہے۔ (۱۔ مثل) یا کسی کو دوست بنا  
لے یا کسی کا دوست بن جا۔ لوگوں سے الگ شخصیات نہیں رہنا چاہئے۔

یا۔ [ع۔ ح۔ حرف نما یا حرف مناجات] اے۔ اہی۔ ارے۔  
یا دف۔ حرف تروید یا حرف عطف [خواہ۔ چاہو تو۔ دو خوروں کو  
جمع ہونے سے روکنے یا دو میں سے ایک کو مخصوص کرنے کا کلمہ۔  
جیسے زہرا چاہے یا بڑا۔ یہ کو یا وہ۔

یا اللہ۔ یا الہی۔ (۱۔ روزمرہ) اے خدا یا۔ اے خدا یا۔ دعا مانگنے یا  
جبرت اور سب کے اظہار کا کلمہ۔

یا باں شور و شر (شور و شور) یا باں بے زلمی۔ (۱۔ مثل) یا تو  
اتنا اخلص تھا یا اب اس قدر بے اقتنائی۔

یا بے گوجرہ یا رے او جڑو۔ (۱۔ مثل) یا تو اس میں گوجرہ نوم آباد  
ہوگی یا ویران رہے گا۔ خود غرضی کی مثال کہ اگر کسی چیز سے خود نافرمان نہ  
اٹھائے تو وہ مردوں کو بھی مستفید نہ ہونے دے۔

یا جینسا جینسوں میں یا قصائی کے کھونٹے پر۔ (۱۔ مثل)۔ یا  
کامیاب ہوگے یا جان بھی۔ تخت یا تختہ۔ (۱۔ مثل) مناسب کام کرنا  
یا بھرا تک سیندور یا نیت ہو راند۔ (۱۔ مثل) مناسب کام کرنا  
چاہئے نامناسب نہیں۔

یا پر۔ (۱۔ تابع فعل) اس پر۔  
یا تخت یا تختہ۔ (۱۔ مثل) کامیاب ہوں گا یا جان دے دیں گے  
یا تن رسد جانماں یا جان ترن برآید۔ (۱۔ مثل) حصولی مقصد  
کے لیے جان توڑ کوشش کرنا۔

یا تو ہنسنا موتی بھگے یا لنگن ہی کر جائے۔ (۱۔ مثل) شریف آدمی  
اگر کھائے گا تو غوث کی روٹی کھائے گا ورنہ بھوکا رہے گا۔

یا جائے ہزاری یا جائے بازار می۔ (۱۔ مثل) میلوں بھیلوں میں  
امیر لوگ جاتے ہیں یا بازاری لوگ۔  
یا خدا خیر کر، خیر کا بیڑا پار کر۔ (۱۔ دعا) اے خدا مہربانی کر اور

یا لڑے سورما یا لڑے ان بھول۔ (۵) مثل، بہادر یا بے وقوف آدمی ہی بچھا لڑ سکتا ہے۔

یا للعجب۔ کلمہ استعجابیہ۔

یا لیت۔ (رع) منقولہ۔ اسے کاش کہ۔ سر کاش کہ۔ (۱) مثل، شراکت یا مارے ساجھے کا کام یا مارے بھادوں کی گھام۔ (۲) مثل، شراکت کا کاروبار اور بھادوں کی گزری دونوں ہی نقصان دیتے ہیں۔

یا لمن یا بیل باناں دوستی یا بنا کر کن خانہ درخو پیل۔ (د) مثل، یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام نہ کرو یا اس کے لیے سامان مہیا کرو۔

یا میرے اللہ۔ (۱) حیرت و تعجب، حیرت و تعجب یا تکلیف کے موقع پر کہتے ہیں جو کوئی بے شکئی بات کہے یا بے شکا کام کہے تو بھی کہا جاتا ہے۔

یا وحشت۔ طنز یا تمسخر کا کلمہ۔

یا بھو۔ (۱) مذ (۱) اے اللہ۔ (۲) کمونر کی ایک قسم ہے۔

یا ب۔ (د) لائقہ یا فین کا امر۔ پانا۔ اسم کے آخر میں اگر فعل کے معنی دیتا ہے جیسے کامیاب یعنی یا ب۔

یا بس۔ (رع) صفت خشک یعنی کرنے والا۔ سوکھا ہوا۔

یا بندہ۔ (یا۔ بن۔ وہ) (د) صفت [وہ] اپنے والا۔ حاصل کرنے والا۔

یا بولہ۔ (د) ۱۔ مذ۔ ٹٹو۔ چھوٹا گھوٹا۔

یا بی۔ (د) پانا۔ مرکبات میں مصدوری معنی دیتا ہے جیسے کیابی۔

یا ترا۔ (بات۔ را) اس۔ ۱۔ مٹا [جاتا]۔ مذہبی سفر۔ مقدس مقامات کی زیارت۔

یا تری۔ (س) صفت مذہبی سفر کرنے والا۔ زائر۔

یا بوج ماجوج۔ (رع) ۱۔ مذ (۱) دو مسند تو ہیں جن کا ذکر قرآن اور انجیل میں آیا ہے جو قرب قیامت میں خروج کریں گے۔ (۲) مسند اور جھگڑا لوگ۔ فقہ پر داڑ۔

یا و۔ (د) ۱۔ مٹا [حافظہ] ذہن۔ خیال۔ (۲) تبسح۔ (۳) یادداشت۔

یا و آنا یا بڑنا۔ یاد ہونا۔ (۱) محاورہ خیال میں آنا۔ ذہن میں آنا۔ ذہن نشین ہونا۔ معلوم ہونا۔ ازبر ہونا۔ حفظ ہونا۔

یا و آوری۔ (۱) محاورہ یاد کرنا۔ مزاج پر سی کرنا۔

یا واللہ۔ (۱) مٹا [رسی ملاقات شناسائی] صاحب سلامت و تقویت۔ یاد آنا یا یاد آنا۔ (۲) مٹا [رسی ملاقات شناسائی] صاحب سلامت و تقویت۔ یاد آنا یا یاد آنا۔ (۳) مٹا [رسی ملاقات شناسائی] صاحب سلامت و تقویت۔ یاد آنا یا یاد آنا۔

یا و آوری۔ (۱) محاورہ یاد کرنا۔ مزاج پر سی کرنا۔

یا و رکھنا۔ (۱) محاورہ خیال رکھنا۔ دھیان رکھنا۔ بھول نہ جانا۔ یاد رکھنا۔ بات کو جو سے تم میں کچھ گیان۔ سائیں جاگو ہو گیان و کانگر گیان۔ (۱) مثل جس طرف خدا ہے سارا جہاں اس کی طقت ہوتا ہے۔

یا و رہنا۔ (۱) محاورہ حافظے میں رہنا۔ ذہن میں رہنا۔

یا و رہے۔ (۱) کلمہ تاکید بھول نہ جانا، آگاہ کر دینا ہوں کہ اس کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ (۲) ضروری۔ شرطی۔ یقیناً۔ بے شک۔ دعویٰ سے۔

یا وں بخیر۔ (د) منقولہ دعائیہ کلمہ۔ اس کی یاد خیر کے ساتھ۔ اس کی خیر ہوگی۔

یا و فراموش۔ (۱) مٹا (۱) بھول جانے والا ایک کھیل۔ جس میں کسی کو بھڑواں پھل دے کر کہتے ہیں۔ فراموش اگر وہ جواب میں یاد نہ

کئے تو پھر اسے منہ مانگی تعداد میں بطور جرمانہ وہی پھل دینے پڑتے ہیں۔ یاد کرنا۔ (۲) فرنانا (۱) میس۔ مرکب (۱) بلانا۔ طلب کرنا۔ (۲) حفظ کرنا۔ ذہن نشین کرنا۔ (۳) بار بار نام لینا۔ (۴) بھولی ہوئی چیز کو خیال میں لانا سوچنا۔

یا و کرو گے۔ (۱) مثل پچھتاؤ گے۔ ہانڈھ لو گے۔

یا و کرے۔ (۱) منقولہ تمہی نہ بھولے۔ افسوس کرے، پچھتائے۔ یاد کیا ہے۔ (۱) منقولہ بگایا ہے۔

یا و کار۔ نشانی، آثار۔ علامت۔ پرائی عمارت۔ (۲) اولاد۔ بیٹا۔ وہ چیز جو کوئی دوست دوسرے دوست کو بطور نشانی دیتا ہے۔

یا و کار زمانہ۔ یاد رہنے والی چیز۔ عمدہ چیز۔ یاد کر گدانا۔ (۱) محاورہ کسی کا بار بار یاد آنا۔

یا و لگی ہونا۔ (۱) محاورہ ہر وقت کسی کا دھیان ہونا۔ یاد میں فرو ہونا۔ (۱) محاورہ کسی کے خیال میں رہنا۔

یا و میں رہنا۔ (۱) محاورہ کسی کو اکثر یاد کرنا۔ یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ (۱) منقولہ معلوم نہیں یاد ہے یا بھول گئے ہو۔ یاد ہو ہونا۔ (۱) محاورہ حفظ ہونا۔ ازبر ہونا۔ دھیان ہونا۔

یا و ہے۔ (۱) منقولہ بخوبی معلوم ہے۔ خوب جانتے ہیں (۲) سوالیہ انداز میں تم بھول تو نہیں گئے۔

یار۔ (د) ۱۔ مذکر [دوست۔ مددگار۔ پیارا۔ چہیتا۔ ساتھی۔ رفیق۔ معنوق۔ محبوب (۲) مرکبات میں جیسے شہ پار۔

یار باز۔ (د) صفت آوارہ۔ بد بطن عورت۔

یار باش۔ (د) صفت (۱) ہمتیار۔ دوست دار۔ یاروں کا یار (۲) زندہ دل۔ خوش مزاج۔ (۳) عیاش۔ تماش بین۔

یار باشی۔ (د) مٹا [دوستی]۔

یار بنانا۔ (۱) محاورہ دوست بنانا۔ اپنے طلب کار لینا۔ ڈھب پر لانا۔ یار جانی۔ (د) صفت نہایت پیارا۔ دلی دوست۔ یار و رخا نہ و من گد چننا می گد دم۔ (د) مثل لڑکا بن میں ڈھنڈورا شہر میں۔

یار زندہ صحبت باقی۔ (۱۔ مثل) اب نہیں تو پھر سہی۔ زندگی ہے تو ملاقات ہوگی۔

یار شاط۔ (فت ۱۔ مذ) ۱) چالاک دوست۔ عقلمند دوست (۲) شرطیخ کا ساتھی۔

یار شاطر باید نہ بار خاطر۔ (فت ۱۔ مثل) دوست ہو شیار ہونا چاہئے نہ کہ دل کا بوجھ۔

یار عزیز۔ (فت ۱۔ صفت) پیارا دوست۔

یار غار۔ (فت ۱۔ مذ) غار کا دوست۔ سچا دوست۔ گمراہ دوست۔ پتکا دوست۔ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے جو تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار ثور میں رہے۔)

یار فروشی۔ (فت ۱۔ مثن) جھوٹی تقریب۔ خوشامد۔

یار کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دوست بنانا۔ آشنائی کرنا۔

یار کو کرول پیار، جسم کو کرول بھسم، لڑکے کو کرول چٹنی۔ (۱۔ مثل) بچپن عورت کے متعلق کہتے ہیں۔

یار کی یاری سے کام اس کے فعلوں سے کیا کام۔ (۱۔ مثل) دوست کی دوستی سے غرض ہے اس کے فعلوں سے کیا تعلق۔

یار لوگ۔ (۱۔ مذ) ۱) چالاک دوست (۲) دوست آشنا۔ (۳) ہم لوگ۔

یار مار۔ (۱۔ صفت) دوست سے دغا کرنے والا۔

یار مار بائیا، پیمان مار چور۔ (۱۔ مثل) بنیا دوست کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتا۔ اور چور مال دار جان کر ٹوٹتا ہے۔

یار ماری۔ (۱۔ مثن) دوست کے ساتھ دغا بازی۔

یار ماری کرنا۔ (۱۔ محاورہ) دوست بن کر دغا دینا۔

یار وفا دار۔ (فت ۱۔ صفت) سچا دوست۔

یار وہی جو بھٹھیر میں کام آئے۔ (۱۔ مقولہ) دوست وہی ہے جو کہ مصیبت میں کام آئے۔

یارا۔ (فت ۱۔ مذ) قوت۔ توانائی جو صلہ طاقت۔ منفور۔

یاراں۔ (یا۔ راں) (فت ۱۔ مذ) یار کی جمع کئی دوست۔

یاراں چوری نہ پیراں دغا بازی۔ (۱۔ مثل) کسی سے دغا نہ کرنا۔ ہر شخص سے یکساں معاملہ صاف رکھنا۔ دوستوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھنی چاہئے۔ اور پیروں سے دھوکا نہ کرنا چاہئے۔

یاران رفتہ۔ (یاران عدم)۔ (فت ۱۔ مذ) مرے ہوئے لوگ۔ وہ دوست جن کا انتقال ہو چکا ہو۔

یاران سربل۔ (فت ۱۔ مذ) بے تکلف دوست۔ آشنائے محفل۔

یاران نجد۔ (فت ۱۔ مذ) ہم مشرب دوست۔ بے تکلف دوست۔

گروہ عاشقان۔

یاران طریقت۔ (فت ۱۔ مذ) ہم مشرب۔ یار دوست۔

یارانہ۔ (یا۔ را۔ نہ) (فت ۱۔ مذ) دوستی۔ آشنائی۔ محبت۔

یارانہ ہونا۔ (۱۔ محاورہ) دوستی ہونا۔ میل ملاپ ہونا۔

یارانی۔ (فت ۱۔ جارہ) علاج۔ مدد۔

یارو۔ (Yard) (انگ ۱۔ مذ) ۱) صحن۔ چوک (۲) گز پیارو۔ (یا۔ رو) (۱۔ مذ) ۱۔ مذ] یار کی جمع بحالت نڈا۔ دوستو۔

یاروں کا بار۔ (۱۔ صفت) دوستوں کا ساتھی۔ بڑا یار باش۔ ہر دل عزیز۔ یاروں کی ہر بات میں شریک ہونے والا۔

یاروں کی توفیق موچیں ہی موچیں ہیں۔ (۱۔ مثل)۔ ہمارے پاس کچھ نہیں۔

یارہ۔ (فت ۱۔ مذ) ۱) کنگن۔ کلائی۔ (۲) ایک مہل کی دو۔ (۳) محصول لگان۔ (۴) زخم۔

یاری۔ (یا۔ ری) (فت ۱۔ مثن) دوستی۔ رفاقت۔ مدد۔ معاونت۔

یاری جوڑنا۔ (۱۔ محاورہ) باہم دوستی کرنا۔ یارانہ کرنا۔

یاری دینا۔ (۱۔ محاورہ) مدد دینا۔ دستگیری کرنا۔

یاری کر کے مبادوے اور کر کے چھوڑیں کوٹھ۔ یا توڑ نیما سے یا رہیں اس سے دور۔ (۱۔ مثل) دل لگانا پانچل پن ہے۔ گردل لگا کر چھوڑ دینا حماقت ہے۔ یا دوستی کر کے نہا ہنی چاہئے۔ ورنہ اس کے قریب ہی نہ جانا چاہئے۔

یاری کٹ (کھٹ) کرنا۔ (۱۔ محاورہ) بچوں کا ایک دوسرے سے دوستی قطع کرنا۔

یاروہ۔ (ریازہ) (فت ۱۔ صفت) گیارہ۔ دس اور ایک۔

یاروہم۔ (ریازہ) (فت ۱۔ صفت) گیارہواں۔

یاروہ۔ (ریازہ) (فت ۱۔ مذ) ۱) لڑوہ۔ (۲) جمالی۔ (۳) انگڑائی۔

یاس۔ (یع ۱۔ مثن) ۱) ناامیدی۔ مراث۔ مایوسی۔ (۲) خوف۔ دھڑکا۔

یاس کلی۔ کامل ناامیدی۔

یاس ہو جانا۔ یاس تہ جانا۔ (۱۔ محاورہ) ناامید ہو جانا۔ ہمت ٹوٹ جانا۔

یاسا۔ (ت ۱۔ مذ) ماتم قتل۔ قانون بنگلوں کے قانون کی کتاب۔

یاسمن۔ یاسمین۔ (فت ۱۔ مثن) ۱) پتیلی کی پھول۔ چنبیلی کا درخت۔

یاسیت۔ (یع ۱۔ مذ) مایوس ہونے کی کیفیت۔

یافت۔ (ت ۱۔ مثن) ۱) آمدنی۔ کمائی۔ نفع۔ (۲) بالائی آمدنی۔

یافتی۔ (یافت۔ ت ۱۔ مثن) (فت ۱۔ مثن) پانے کے لائق۔ قابل وصول۔

یافتہ۔ (یافت۔ تہ) (فت ۱۔ صفت) پایا ہوا۔ حاصل کیا ہوا۔

یاقوت۔ (یا۔ قوٹ) (یع ۱۔ مذ) ۱) لعل۔ ایک قیمتی پتھر جو سرخ۔ نیلا۔ زرد یا سفید ہوتا ہے۔ (۲) سرخ رنگ کا پلاؤ۔

یاقوت احمد۔ (یع ۱۔ مذ) سرخ یاقوت۔

یاقوت جگری۔ (یع ۱۔ مذ) گہرا سرخ یاقوت۔

یاقوت زنیانی۔ (یع ۱۔ مذ) انار کے ہرنگ یاقوت۔

یاقوت لب۔ (فت ۱۔ صفت) جس کے ہونٹ یاقوت کے رنگ کے ہوں۔

ی۔ ث

یخترت - (بیشہ زب) [ع۔ ۱۰۔ مذ] مزینہ منورہ کا قدیم نام۔ (لفظی معنی) خارزار۔ دیرانہ۔

ی۔ ج

یوچر وید - (ی۔ یو۔ وید) [ہندوؤں کے چاروں ویدوں میں سے دوسرا وید جس میں قربانی کے رسوم و آداب صج ہیں۔

ی۔ ح

یوچینی - (یو۔ چ۔ یا) [ع۔ ۱۰۔ مذ] لغوی معنی جینا ہے۔ ایک بیخبر کا نام ہے۔

ی۔ ح

یوچ - [ع۔ ۱۰۔ مذ] برت جما ہوا پالا۔ بہت ٹھنڈا۔  
 یوچ بستہ - [ع۔ ۱۰۔ مذ] سردی سے برت کی طرح جما ہوا۔  
 یوچنی - [ع۔ ۱۰۔ مذ] شوربا۔ ابلے ہوئے گوشت کا پانی۔  
 یوچنی پلاؤ - وہ پلاؤ جس میں یوچنی ڈالے ہیں۔

ی۔ د

یڈ - [ع۔ ۱۰۔ مذ] ہاتھ۔ مدد۔ حفاظت۔ طاقنت۔  
 یڈ اللہ - [ع۔ ۱۰۔ مذ] خدا کا ہاتھ۔ کنایتاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔  
 یڈ بھینا - [ع۔ ۱۰۔ مذ] روشن اور چمکدار ہاتھ۔ سفید ہاتھ (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نما ہاتھ۔ (۳) معجزہ خرق عبادت۔  
 یڈ سفلی - [ع۔ ۱۰۔ صفت] پچلا ہاتھ۔ شکنے والا ہاتھ۔ درت سوال۔  
 یڈ طولی - [ع۔ ۱۰۔ مذ] بڑا لمبا ہاتھ (۲) مہارت کمال۔ اچھی درتیں۔ کمال ہنرمندی۔  
 یڈ طولی رکھنا - (۱) محاورہ) بڑی مہارت رکھنا۔ زبردست حکم ہونا۔ کسی کام میں کمال رکھنا۔  
 یڈ چلیا - [ع۔ ۱۰۔ صفت] اُوپر کا ہاتھ بخشش کرنے والا ہاتھ۔  
 یڈ قدرت - [ع۔ ۱۰۔ مذ] خدا کی قدرت۔  
 یڈھ - [ع۔ ۱۰۔ صفت] لڑائی۔ جنگ۔  
 یڈھان - (۱) مہارت۔ سورا۔ لسنے والا سپاہی۔ سورا۔  
 یڈنی - [ع۔ ۱۰۔ صفت] لڑائی۔ جنگ۔  
 یڈنے - [ع۔ ۱۰۔ صفت] لڑائی۔ جنگ۔

یاقوتی - (یا۔ تو۔ تی) یاقوت سے نسبت رکھنے والا۔ (۲) ایک مجون (۳) ایک مٹھائی (Yak) [انگ۔ ۱۰۔ مذ] تبت کا ایک سیل جس کے بال لمبے اور پیٹھ پر کھان ہوتا ہے۔  
 یال - [ع۔ ۱۰۔ صفت] جانوروں کی گردن کے بڑے بڑے بال۔ یا بال (۲) گردن۔ گلا۔  
 یال - [ع۔ ۱۰۔ صفت] یہاں کا صفت۔ اس جگہ۔  
 یالنا - [ع۔ ۱۰۔ صفت] کم سن۔ چھوٹی عمر کا۔  
 یانچی - (Yankee) [یان۔ کی] [انگ۔ ۱۰۔ مذ] امریکی۔ امریکہ کا باشندہ۔

یادگار - [ع۔ ۱۰۔ مذ] یادگار۔ عمارتی۔ دست گیر۔  
 یادوری - (یا۔ و۔ ری) [ع۔ ۱۰۔ صفت] مدد۔ دستگیری۔ حمایت۔ سہا۔ امانت۔  
 یاوہ - [ع۔ ۱۰۔ صفت] بے ہودہ۔ لغو۔ ناممقول۔ فضول۔ بے معنی۔  
 یاوہ پوچ - [ع۔ ۱۰۔ صفت] پھر یا فضول باتیں کرنے والا۔  
 یاوہ گوئی - [ع۔ ۱۰۔ صفت] بیہودہ باتیں کرنا۔ بکواس۔  
 یائے تختانی - [ع۔ ۱۰۔ صفت] چھوٹی یا، یائے معروف۔  
 یائے معکوس - [ع۔ ۱۰۔ صفت] بڑی سے یائے معکول۔

ی۔ ب

یابش - [ع۔ ۱۰۔ مذ] خشکی۔ سوکھاپاں۔  
 یابوشرت - (ی۔ بو۔ شرت) [ع۔ ۱۰۔ صفت] سوکھاپاں۔ رُوکھاپاں۔

ی۔ ت

یتا - [ع۔ ۱۰۔ صفت] تابع فعل) اتنا۔  
 یتامی - (ی۔ تا۔ ما) [ع۔ ۱۰۔ مذ] یتیم کی جمع۔ بن باپ کے۔  
 یتین - [ع۔ ۱۰۔ مذ] جن۔ گوشش۔  
 یتنی - [ع۔ ۱۰۔ صفت] اتنی۔  
 یتیم - (تی۔ یتیم) [ع۔ ۱۰۔ مذ] جس کا باپ مر گیا ہو۔ بن ماں باپ کا۔  
 یتیم (۲) نہایت یتیمی خواہر۔ بڑا موتی۔ جمع یتیمانی۔  
 یتیم الطریقین - [ع۔ ۱۰۔ مذ] جس کے ماں باپ دونوں مر چکے ہوں۔  
 یتیم خانہ - [ع۔ ۱۰۔ مذ] یتیم بچوں کے رہنے کی جگہ۔  
 یتیم ہونا - (۱) محاورہ) ماں یا باپ کا مر جانا۔  
 یتیمی - (تی۔ تی۔ می) [ع۔ ۱۰۔ صفت] بے پردی کا عالم۔

پیرین (دی - وین) [ع - ا مذ] دونوں ہاتھ۔

یسال (دی - سال) [ت - ا مذ] فوج کا پہلا

## ی - ر

یراق (دی - راق) [ت - ا مذ] لڑائی کا سامان بہتیار۔ (۳) اسباب سامان۔

یساول (دی - سال) [ت - ا مذ] نقیب۔ چوہدار۔ ہرکارہ۔ قاصد۔

یسر (ع - ا مرث) [آسانی - خوشحالی - دولت مندی - خوشگرمی۔

یسوع (عبرانی - ا مذ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

یسیر (دی - یزید) [ع - صفت] (۱) آسان۔ سہل۔ (۲) غصہ اور قلیل چھوٹا۔ (۳) اردو میں یشیر کے ساتھ اس بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی ماں مرگئی ہو۔ یسر ماں باپ کے۔

یرغا (یر - غا) [ت - ا مذ] (۱) تیز رفتار گھوڑا۔ (۲) پلغار۔ یرغمال (یرغ - مال) [ت - ا مذ] کنیل۔ وہ فرد یا افراد جو شہر اٹوکی پابندی کی ضمانت میں دشمن کے حوالے کیے جاتے ہیں۔

یرقان (یر - قان) [ع - ا مذ] ایک مرض جس میں آنکھیں اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ عربی میں ترکی لیر ہے فارسی والوں کے سکون کے سے استعمال کیا ہے۔

یرقانی (یر - قانی) [ع - ف - صفت] (۱) یرقان کا مرض۔ (۲) زرد۔

یرمعان (یر - عم - عم - عان) [ع - ا مذ] نمغہ۔ بدبہ۔ ازمنان۔

یرمیاہ (یر - م - یاہ) [ع - ا مذ] انبی کے خدائے سرفراز کیا۔

یرشلیم فلسطین کا دارالسلطنت۔ ایک بہت پرانا شہر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا دارالسلطنت۔ (۲) بیت المقدس۔

## ی - ش

یشب (ی - شب) [ت - ا مذ] ایک قیمتی پتھر جو سبزی ماٹا ہوتا ہے۔

## ی - ع

یعبوب (ع - ا مذ) تیز رفتار گھوڑا۔

یعسوب (یرغ - سوب) [ع - ا مذ] شہد کی مکھیلوں کا بادشاہ۔ (ملکہ) قوم کا قائد۔

یعقوب (یرغ - قوب) [ع - ا مذ] (۱) اڑنکھارنے والا۔ تعاقب کرنے والا۔ (۲) حضرت یوسف کے والد کا نام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔

یعنی (یرغ - نی) [ع - مضارع] (۱) مراد یہ ہے۔ مطلب یہ ہے (۲) کیونکہ۔ اس لیے کہ۔

یعوقب (ع - ا مذ) قوم نوح اور عربوں کا ایک قبیلہ۔

## ی - ز

یزد (ع - ا مذ) خدا تعالیٰ (۲) ایران کے مشرق میں ایک شہر۔

یزدان (یز - دان) [ت - ا مذ] خدائی اور خیر کا خالق۔

یزدواں پرست (ع - صفت) خدا پرست۔ آتش پرست۔ پالسی۔

یزدوی (ع - صفت) شہر یزد کا رہنے والا۔ یزد کی بنی ہوئی شے۔ ایران کے شہر یزدت منسوب۔

یزید (دی - زید) [ع - ا - مذ] (۱) امیر معاویہ کے بیٹے کا نام جس کے عہد میں سائے کرا ہوا۔ (۲) سنگ دل۔ ظالم۔ (۳) دولت میں بڑھنے والا۔

یزیدی (ع - صفت) کردوں کا ایک فرقہ جس کے اصول مختلف مذہبوں سے لیے گئے ہیں۔

یزیدیت (ع - ا مرث) سفاکی۔ بے رحمی۔

## ی - ع

یغما (یرغ - مان) [ت - ا مرث] لوٹ کا مال۔ مال غیرت۔

یغمانی (یرغ - مانی) [ت - ا مذ] لیرا۔ غارتگر۔ قزاق۔

## ی - ف

یفاع (ی - فاع) [ع - ا مرث] اُچھی زمین۔ خزانہ بیلہ۔

## ی - س

یسل (ع - ا مؤنث) دیکھیے یاسین۔

یسار (دی - سار) [ع - ا مذ] (۱) بایاں ہاتھ۔ بایں جانب (۲) دولتمندی۔

یسارت (دی - سارت) [ع - ا مرث] بد قسمت۔ (ف) فراوانی۔

یساروکیاں (ع - ا مذ) بایاں اور وایاں۔

## ی - ق

یقظہ (ی - ق - ظہ) [ع - ا مرث] بیلاری سونے والے کا جاک اٹھنا۔

یقین (ی - قین) [ع - ا مذ] (۱) اکتیار۔ اعتماد۔ بھروسا۔ اطمینان۔ (۲) گمان۔ (۳) بے شبہ۔ بلاشبک۔ ضرور۔

**یک چہرہ** - (دفعہ) متفقہ متحدہ موافقہ۔  
**یک جہتی** - (دفعہ) امتداد، اتفاق، دوستی۔  
**یک چشم** - (دفعہ) صفت) کاننا، ایک آنکھ والا۔  
**یک چشمی** - (دفعہ) صفت) نیک و بد یا ہر کس ذات کو یکساں سمجھنا۔  
**یک چند** - (دفعہ) تباہ فعل) فراسی دیر - ہرے ہرے ٹھوڑا سا، بعض وقت۔  
**یک چوبہ** - (دفعہ) ۱۔ مذہب جو ایک بائس پر رکھ لیا ہو۔  
**یک درخیز و محکم گیر** - (دفعہ) مثل) ایک ہی جگہ انتقال سے کام کرنا چاہیے۔  
**یک دست** - (دفعہ) صفت) یکساں، سہوار - تباہ فعل) بالکل۔  
**یک دستی** - (دفعہ) امتداد، ایک ہاتھ کا، (دفعہ) کشتی کا ایک داؤ۔  
**یک دگر** - (دفعہ) صفت) ایک دوسرا، دونوں مل کر - باہم دگر۔  
**یک دل** - (دفعہ) صفت) ہونوس - ہرم - ہمزاز - ہمزگ - ہمزبان۔  
**یک دلا** - (دفعہ) صفت) (دفعہ) متفقہ متحدہ (۲) شجاع - بہادر۔  
**یک دلی** - (دفعہ) امتداد، اتفاق، اتحاد۔  
**یک ذات** - (دفعہ) صفت) ایک ہی ذات کے۔  
**یک ران** - (دفعہ) عمدہ اور مفید گھوٹا۔ (۲) وہ گھوڑا جس کا رنگ سرخ اور دم سفید ہو۔  
**یک رخی** - (دفعہ) صفت) دونوں طرف سے ایک ہی شکل کا، ایک طرفینہ۔  
**یک رنگ** - (دفعہ) صفت) (۱) یکساں - اندر باہر سے ایک جیسا (۲) صاف دل، نیک باطن، صادق، مخلص، درست۔  
**یک رنگی** - (دفعہ) امتداد، ایک طرح کا ہونا (۲) محبت، دوستی۔  
**یک رُو** - (دفعہ) صفت) دوست، صادق، سچا بار۔  
**یک روزہ** - (دفعہ) صفت) ایک دن کا، ایک دن کے لیے۔  
**یک روئی** - یک جہتی - بے ریا ہونا۔  
**یک زبان** - (دفعہ) صفت) نہایت قدم، بات کا پکا متفق۔  
**یک زبان ہونا** - (دفعہ) متفق ہونا۔  
**یکسالہ** - (دفعہ) صفت) ایک سال کا۔  
**یکساں** - (دفعہ) ایک سا، سہوار، مسطح، برابر (۲) مانند، منسا ہوا، ہم شکل۔  
**یکسانی** - یکسانیت - (دفعہ) امتداد، مشابہت، ایک جیسا ہونا۔  
**یکسر** - (دفعہ) صفت) نام، بالکل، سر سے پاؤں تک، اول سے آخر تک۔  
**یک سر ہزار سو دا** - (دفعہ) مثل) شدید مصروفیت، بہت سے کاموں میں بچھسا ہونا، ذمہ داریوں کی وجہ سے کمزورتی۔  
**یکسو** - (دفعہ) صفت) (۱) ایک طرف، ایک جانب (۲) ساکن، ٹھہرا ہوا۔  
**یک سوئی** - (دفعہ) امتداد، اطمینان، دلجمعی، فرصت۔  
**یک شنبہ** - (دفعہ) ۱۔ مذہب انوار کا دن۔  
**یک ضربی** - (دفعہ) صفت) ایک نامی نندوقی پاستول جس میں ایک کارتوس چل سکے، ایک ضرب لگانے والا۔

**یقین آنا** - (۱) محاورہ) اعتبار آنا۔  
**یقین پڑا** - (۱) محاورہ) یقین ہو کر انسان کا مادی حاصل کر لینا۔  
**یقین جاننا** - (۱) محاورہ) اعتبار کرنا، سچ جاننا، یاد کرنا۔  
**یقین جانو** - (۱) محاورہ) سچ سمجھو۔  
**یقین کرنا** - (۱) مص - مرکب) اعتبار کرنا، سچ جاننا، صحیح مان لینا۔  
**یقین لانا** - (۱) محاورہ) یاد کرنا، اعتبار کرنا، سچ جاننا، تسلیم کرنا، مان لینا۔  
**یقین مانو** - (۱) محاورہ) سچ جانو، درست سمجھو۔  
**یقین نہ کرنا** - (۱) محاورہ) اعتبار نہ کرنا، سچ نہ جاننا، شبہ کرنا۔  
**یقین ہونا** - (۱) محاورہ) یاد ہونا۔  
**یقینا** - (ی - بی - بن) (دفعہ) تباہ فعل) ضرور، بیشک، بلاشبہ۔  
**یقینی** - (ی - بی - نی) (دفعہ) یقین کیا ہوا، گمان و شک سے مبرا، بلاشبہ، لازمی، ضروری۔

## ی - ک

**یک** - (دفعہ) صفت) ایک، اکیلا، واحد، تنہا۔  
**یک اسپہ** - (دفعہ) مذہب) ایک گھوڑے کا مالک، (۲) سورج۔  
**یک اثار و صد بیمار** - (دفعہ) مثل) چہرہ ایک مگر خواہش مند سینکڑوں۔  
**یک انور و صد زبور** - (دفعہ) مثل) کسی چیز کو حاصل کرنے میں سینکڑوں دشواریاں۔  
**یک بار** - (دفعہ) صفت) ایک دفعہ، ایک بار، ایک مرتبہ۔  
**یک بارگی** - یک بیک - (دفعہ) تباہ فعل) دفعہ، یک ایک، پچاس۔  
**یک ہام و دو ہوا** - (دفعہ) مثل) بے قاعدگی، بے اصولی۔  
**یک پارہ** - (دفعہ) ۱۔ مذہب) ایک ٹکڑا، ایک حصہ (صفت) مھوس، پچا۔  
**یک متعلق فعل** - فوراً، ایک دفعہ۔  
**یک پشتہ** - (دفعہ) صفت) ایک طرف چھپا ہوا کاغذ۔  
**یک پیری و صد عیب** - (دفعہ) مثل) بڑھاپا سو بیماریوں کے برابر ہے۔  
**یک تار** - (دفعہ) ۱۔ مذہب) ایک تار کا ستار، اکتارا، (۲) مرث، ایک قسم کی ایک محل۔  
**یکسانی** - (دفعہ) امتداد) اکیلا ہونا، بے نظیر ہونا۔  
**یک تلبے زمانہ** - (عصر) بے مثل، لا جواب۔  
**یک تہی** - (دفعہ) امتداد) اکرا کپڑا، جو دوہرا نہ ہو۔  
**یک جا** - (دفعہ) صفت) ایک جگہ، اٹھنے، ملے جلے۔  
**یک جان** - (دفعہ) صفت) ایک دل، خوب ملے ہوئے۔  
**یک جان و دو قالب** - (دفعہ) مثل) نہایت گہرے دوست، چکھے دوست۔  
**یک جان و دو قالب ہونا** - (۱) محاورہ) نہایت گہرے دوست ہونا، بچھے پارینا۔  
**یک جتنی** - (دفعہ) صفت) ایک دادا کی اولاد، اجدادی موروثی۔



## م - م

عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کا نام۔  
**میوچی** - (ریو۔ جا) [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] ایک سانپ جس کی بابت مشورہ ہے کہ ہزار سال کا ہونے پر خوش چاہے اعتبار کر سکتا ہے۔  
**میوڑاں** [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] قلی عمد - شہزادہ۔  
**میوڑپ** - (انگ۔ ۱۔ مذ) براعظم ایشیا کے مغرب میں واقع ایک بڑا عظیم حصہ میں تقریباً ۳۰ ملک شامل ہیں۔  
**میورپی** - (یور۔ پی) [یورپین (European)] کامورو۔ صف [۱۵] یورپ سے تعلق رکھنے والا۔ [۲] [مذ] یورپ کا باشندہ۔  
**یورپین** - (European) - یورپ۔ پی۔ آن [انگ] صف [بڑا عظیم و بڑا وسیع] یورپ کا رہنے والا۔ یورپ سے منسوب۔  
**یورپس** - (یور۔ رٹ) [ت۔ ۱۔ مٹ] [۱] حملہ۔ دھاوا۔ چرٹھائی۔ یلغار۔ [۲] فساد۔ ہنگامہ۔ بلوہ۔  
**یوریشین** - (انگ۔ ۱۔ مذ) یورپین نسل کا وہ آدمی جو ایشیا میں پیدا ہوا ہو۔  
**یوریم** - (Uranium) [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک سفید دھاتی عنصر۔  
**یوز** - [ت۔ ۱۔ مذ] نٹو کا عدد۔ [۲] جیتا تیندوا۔  
**یوز بائشی** - ایک تھوسا ہیول کا سردار۔  
**یوسٹ** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] [۱] حضرت یسوع کے بیٹے جو حن میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ [۲] نہایت خوبصورت۔ نہایت حسین۔  
**یوسٹ بے کارواں** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] جس کا کوئی ساختی یا دوست نہ ہو۔  
**یوسٹ ثانی** - حضرت یوسٹ کی طرح بے حد بین۔  
**یوسٹ جمال** - [ت۔ ۱۔ صف] خوبصورت۔ یوسٹ جیسا حسین۔  
**یوکلیپٹس** - (Euclayptus) [یو۔ یک۔ ٹپ۔ ٹس] [انگ۔ ۱۔ مذ] ایک درخت جس کا عرق دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔  
**یوگ** - یوگا۔ [س۔ ۱۔ مذ] مراقبہ۔ مذہبی رازش۔ درزش۔  
**یوگ شکتی** - [دس صف] معجزہ۔ اعجاز۔ کرشمہ۔  
**یوگوم** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] روز۔ دن۔ تاریخ۔ جمع۔ ایام۔  
**یوگم حساب** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] قیامت کا دن۔ جب لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا۔  
**یوگم الدین** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] قیامت کا دن۔  
**یوگم اللہیت** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] ہفتہ کا دن۔  
**یوگم العرفہ** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] ذوالحجہ کی نویں تاریخ۔  
**یوگم العاشورہ** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] محرم کی دسویں تاریخ جس دن حضرت امام حسینؑ شہید ہوئے۔  
**یوگم الفطر** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] ماہ شوال کی پہلی تاریخ۔ چھوٹی عید کا دن۔  
**یوگم القیامت** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] قیامت کا دن۔ روزِ محشر۔  
**یوگم القشور** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] دوبارہ زندہ ہونے کا دن۔ روزِ قیامت۔  
**یوگم قیوگا** - [یو۔ یمن۔ ف۔ یو۔ یمن] [ر۔ ع۔ تابع فعل] روز بروز آئے دن۔  
**یوگمیبہ** - [یو۔ بی۔ بیہ] [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] روزانہ۔ [۲] روز کی مزدوری۔ دن بھر

بیم۔ [س۔ ۱۔ مذ] موت کا فرشتہ۔ مورا بیل۔  
**یونگ** - [ت۔ ۱۔ مذ] [۱] بڑا دریا۔ سمندر۔ [۲] جانب۔ حصہ۔  
**یونگام** - (بی۔ مام) [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] جنگلی کبوتر۔  
**یونان** - [یونانی] - [ر۔ ع۔ صف] ملکین کا باشندہ۔ یمن سے منسوب۔  
**یونروت** - [س۔ ۱۔ مذ] یونگ کا قاصد جو رعوں کو یونگ کے پاس لے جاتا ہے۔  
**یونگ** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] جزیرہ تکتے عرب کے جنوب مشرق میں ایک ملک جہاں کائنات حقیق اور چادریں بہت شہور ہیں۔  
**یونگ** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] برکت۔ سعادت۔ اقبال مندی۔ کامیابی۔  
**یونگنی** - (بی۔ م۔ نی) [ر۔ ع۔ صف] ملکین سے نسبت رکھنے والا۔ یمن کا رہنے والا۔  
**یونگین** - (بی۔ یمن) [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] [۱] سیدھا ہاتھ۔ دایاں ہاتھ۔ [۲] بائیں طرف۔ [۳] قسم جلف۔ [۴] قوت۔ طاقت۔ توانائی۔  
**یونگ الدولہ** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] رکن سلطنت۔ ایک معزز خطاب جو امر اکو بادشاہوں کی طرف سے ملتا تھا۔  
**یونگین ویسار** - [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] دایاں بائیں۔ چپ و راست۔ فوج کا دایاں اور بائیں بازو۔

## ی - ن

**یون** - [جاپانی] - [۱۔ مذ] جاپانی سکے جو تقریباً ڈیڑھ روپیہ کے برابر ہوتے ہیں۔  
**یونیا** - (بی۔ نایس) [ر۔ ع۔ ۱۔ مذ] چنے۔ بیج کی جمع۔  
**یونگ** - (Young) [انگ۔ صف] جوان۔ نو عمر۔ نوخیز۔  
**یونگنی** - [۱۔ ۵۔ مٹ] جوان عورت

## ی - و

**یو** - ایرن۔ او۔ [انگ۔ ۱۔ مذ] مجلس اقوام متحدہ۔  
**یو** - (United Nations Organisation) کا مخفف۔  
**یو بھٹ** - (Youth) [انگ۔ ۱۔ مذ] [۱] نوجوان۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں [۲] نوجوانی۔ عنوان شباب۔  
**یوٹوپیا** - (Utopia) [یو۔ پ۔ یا] [انگ۔ ۱۔ مذ] [۱] مٹاؤں زدگی مشہور کتاب جس میں ایک ایسے فرضی جزیرے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں مثالی حکومت قائم تھی۔ [۲] خیالی حکومت۔ مثالی مقام یا معاشرت۔  
**یوٹوچنا** - [ق۔ ۱۔ مٹ] متاثر۔ تعریف۔  
**یوٹوچنا** - [یو۔ یمن۔ نا] [ع۔ ۱۔ مذ] [۱] خدا کا فضل۔ [۲] حضرت



**یونین** - (Union) (یو۔ن۔ین) [انگ۔ ا۔ مرث] (۱) اتحاد۔ ایک  
 اتصال (۲) متحدہ چیز۔ (ادارہ، اجمن وغیرہ)  
**یونیورسٹی** - (University) (یو۔نی۔وز۔س۔ٹی) [انگ۔ ا۔  
 مرث] جامعہ تعلیم گاہ جس میں طلبہ کے لیے جدید علوم یا اکثر علوم کی اعلیٰ  
 تعلیم یا امتحان یا دونوں کا انتظام ہو۔

## کی۔ہ

یہ۔ (ہ۔ ا۔ اشارہ) [قرب کا اشارہ۔ اس۔ سامنے کا حاضر۔ قریب (۲)  
 رسی۔ اس طرح کی۔  
 یہ آپ کے فرمانے کی بات ہے۔ (ایش) کوئی غلط یا ناجائز بات  
 کہنے تو بطور تنبیہ کہتے ہیں۔  
 یہ آزما کر وہ آزما کر۔ (تابع فعل) (۱) اچھی طرح جانچ پڑتال کی۔  
 یہ اپنا ہی راک الاپتا (گاتا) ہے۔ (ایش) یہ اپنے ہی منہ کی بات  
 کہتا ہے۔  
 یہ اور بات ہے۔ (ا۔ بول چال) یہ انگ بات ہے۔  
 یہ اس سے بیس ہے۔ (ایش) یہ اسی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔  
 یہ اور ہوئی۔ (تابع فعل) یہ مزید بات ہوئی۔ اس پر طوق ہے۔  
 یہ بات وہ بات ٹکا دھر میرے ہاتھ۔ (ایش) اس خود غرض شخص  
 کی نسبت بولتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا مطلب نکالتا ہے۔  
 یہ بات ہی کیا ہے۔ (ایش) کوئی مشکل کام نہیں یہ معمولی بات ہے۔  
 یہ بات سے۔ (ایش) یہ خصوصیت ہے۔ بطور کلمہ تعجب بھی متل ہے۔  
 یہ بیس کی گانٹھ ہے۔ (ایش) بہت شریار اور رڑا آئی ہے۔  
 یہ پوچھ نہیں اٹھتا۔ (ایش) اس بات کی ذمہ داری نہیں لی جاسکتی۔  
 یہ بھی اپنے وقت کے حاکم ہیں۔ (ایش) بہت فیاض ہیں۔ طنز بھی  
 کہتے ہیں۔  
 یہ بھی کسی نے نہ پوچھا تیرے منہ میں کے دانٹ ہیں۔ (ایش) جہاں  
 کسی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہاں کہتے ہیں۔  
 یہ بھی کوئی بات ہے۔ (ایش) عمل بات ہے۔ بے موقع بات ہے۔  
 یہ بھی میرا وہ بھی میرا۔ (ایش) جو بے اضافی سے ہر چیز پر ہاتھ مارے  
 اس کے متعلق کہتے ہیں۔  
 یہ بھی نہ ہوا وہ بھی نہ ہوا۔ (ایش) کوئی کام نہ ہوا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔  
 یہ بیل منڈھے چڑھتی نظر نہیں آتی۔ (ایش) یہ کام پورا ہونا نظر  
 نہیں آتا۔  
 یہ پٹی نہیں پڑھے۔ (ایش) فقر و مل میں نہیں آتے۔ یہ کام کرنا نہیں  
 چاہتے۔ انکار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔  
 یہ تو کچھ بھی کہہ گئے ہیں۔ (ایش) یہ تو مانی ہوئی بات ہے۔  
 یہ تو کچھ بات نہیں۔ (ایش) یہ غلط ہے۔ درست نہیں۔  
 یہ تین کالے اور یہ پو بارہ۔ (ایش) ایک بڑھمت ہے۔ ایک

کی اجرت۔  
**یوں**۔ (۱) تابع فعل [اس طرح۔ ایسا۔ اس طرح سے۔ اس  
 ڈھنگ سے۔  
 یوں بھی دیکھاؤں بھی دیکھ۔ (ایش) خوشی دیکھی لی۔ اب غم بھی دیکھ۔  
 نیزگی زمانہ۔  
**یوں بھی سہی**۔ (۱) محاورہ [اس طرح بھی منظور ہے۔  
**یوں بھی واہ واہوں بھی واہ واہ**۔ (ایش) دونوں طرح سے  
 خوب ہے۔ ہر طرح خوش۔  
**یوں تو**۔ (ہ۔ ا۔ مرث) (۱) اس طرح تو۔ اس ڈھنگ سے تو۔ (۲) دہرہ  
 دکر نہ۔ (۳) کہنے کو تو۔ دراصل تو۔ برائے نام  
**یوں توں کرنا**۔ (۱) محاورہ [بذرا بی کرنا۔ گال گلوچ کرنا۔  
**یوں ہی**۔ یونینس۔ (۱) تابع فعل۔ (۱) اسی طرح۔ اسی طریقہ سے۔  
 اسی ڈھنگ سے۔ (۲) بلاسوچے سمجھے۔ (۳) بے فائدہ۔ ناحق جلاؤ۔  
 (۴) اتنا۔ بلا مادہ۔ (۵) ہنکا۔ بیکار۔ خالی۔ (۶) آسانی سے چھٹ پٹا۔  
**یوں ہی ٹرھا دیا**۔ (۱) متقولہ [خالی غولی ٹال دیا۔ ناکامیاً بے نصرت کیا۔  
**یوں ہی سا**۔ (۱) صفت [ذرا سا۔ تھوڑا سا۔ برائے نام۔  
**یوں ہی سہی**۔ (۱) بول چال [اس طرح بھی منظور ہے۔ ہم یوں  
 بھی خوش ہیں۔  
**یوں ہی ہے**۔ (۱) اسی طرح ہے۔ (۲) قابل اعتبار نہیں ہے۔ (۳)  
 فضول ہے۔ بے کار ہے۔  
**یونانی**۔ (ع۔ صفت) (۱) ملک یونان کا رہنے والا۔ (۲) یونان سے منسوب۔  
**یونٹ**۔ (Unit) (یو۔نٹ) [انگ۔ ا۔ مرث] (۱) اکائی۔ وحدت  
 (۲) ایک چیز جو خاص یا مجموعہ واحد اور مکمل بالذات سمجھا جائے۔ یا شمار  
 یا ناپ کے پیمانے کا نام ہے۔  
**یونٹی**۔ (Unity) (یو۔نی۔ٹی) [انگ۔ ا۔ مرث] اتحاد۔ اتفاق۔  
**یونس**۔ (یونس)۔ (ع۔ ا۔ مرث) (۱) ستون۔ رکن۔ (۲) کارکن۔ (۳) ایک  
 پیغمبر جو قوم بنی اسرائیل سے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مچھلی نے  
 انہیں اپنے پیٹ میں چالیس روز تک کریم صحت سلامت اگل دیا تھا۔  
 (۴) ایک ستیاریہ۔  
**یونیسکو**۔ (U.N.E.S.C.O.) (یو۔نیس۔کو) [انگ۔ ا۔ مرث]۔  
 اقوام متحدہ کا ادارہ تعلیم و سائنس اور ثقافت۔ (United  
 Nations Educational Scientific and Cultural  
 Organisation) کا مخفف۔  
**یونی سیف**۔ (U.N.I.C.E.F.) (یو۔نی۔سیف) [انگ۔ ا۔  
 مرث] اقوام متحدہ کا بچوں کی امداد کا ادارہ۔  
 (United Nations International Children's  
 Educational Fund) کا مخفف۔  
**یونیفارم**۔ (Uniform) (یو۔نی۔فارم) [انگ۔ ا۔ مرث]۔  
 وردی۔

